

القرآن الكريم


وترجمته معانيه إلى  
اللغة الكشميرية

PDFBOOKSFREE.PK

القرآن الكريم  
وترجمة معانيه إلى  
اللغة الكشميرية


Translation of the Meanings of  
**THE NOBLE QURAN**  
in the Kashmiri Language

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



خادم الحرمين الشريفين شاهنورد بن عبد العزيز آل سعود، يم ملكت سعودی  
عزمت بادشاہ محمد، تمکر قرآن مجید، تفسیر کجھا پات کجھ سعادت حاصل .

تذکرہ بالاسرطبات معہ هذا الصحف الشريف و ترجمہ معانیہ  
خلایق و صیغہ اللغویہ فی التالیف و تالیف اللغویہ  
ملک الملک العربیۃ السعودیۃ




مَجْمَعُ الْمَلَلِكِ وَأَمِيرِ الْجَبَابِقِ وَالصَّخْفِ الشَّرِيفِي



ترجمہ و تفسیر  
میر واعظ محمد یوسف شاہ

مجمع شاہ فہم برائے طباعت قرآن مجید

هَذَا الْمُصْحَفُ الشَّرِيفُ وَتَرْجَمَةُ مَعَانِيهِ  
هَدِيَّةٌ مِنْ خَادِمِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ الْمَلِكِ فَهْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ آلِ سَعُودٍ



یہ قرآن مجید تائیک تفسیر چھ خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبد العزیز آل سعود سندھ طرف ذاکھ ہدیہ

قرآن مجید  
تمیک کا شُر تفسیر

مجمع شاہ فہد برائے طباعت قرآن مجید  
مدینہ منورہ مملکت سعودی عرب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## مقدمة

بقلم معالي الشيخ: صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ  
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  
المشرف العام على المجمع

الحمد لله رب العالمين ، القائل في كتابه الكريم :

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد ، القائل :  
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه» .

أما بعد :

فإنفاذاً لتوجيهات خدام الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ، حفظه الله ،  
بالعناية بكتاب الله ، والعمل على تيسير نشره ، وتوزيعه بين المسلمين ، في مشارق الأرض  
ومغاربها ، وتفسيره ، وترجمة معانيه إلى مختلف لغات العالم .

وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ،  
بأهمية ترجمة معاني القرآن الكريم ، إلى جميع لغات العالم المهمة ، تسهيلاً لفهمه على المسلمين  
الناطقين بغير العربية ، وتحقيقاً للبلاغ المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم «بلغوا عني ولو آية» .  
وخدمة لإخواننا الناطقين باللغة الكشميرية ، يطيب لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  
بالمدينة المنورة ، أن يقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة الكشميرية ، التي قام بها الشيخ ميرواعظ  
محمد يوسف شاه ، رحمه الله ، وراجعها من قبل المجمع كل من : الشيخ عبد اللطيف شيخ  
عبدالرشيد ، والشيخ عبداللطيف غلام الكشميري .

ونحمد الله سبحانه وتعالى ، أن وفق لإنجاز هذا العمل العظيم ، الذي نرجو أن يكون خالصاً  
لوجهه الكريم ، وأن ينفع به الناس .

إننا لنندرك أن ترجمة معاني القرآن الكريم - مهما بلغت دقتها - ستكون قاصرة عن أداء المعاني  
العظيمة التي يدل عليها النص القرآني المعجز ، وأن المعاني التي تؤديها الترجمة إنما هي حصيلة  
ما بلغه علم المترجم في فهم كتاب الله الكريم ، وأنه يعتربها ما يعترى عمل البشر كله من خطأ  
ونقص .

ومن ثم نرجو من كل قارئ لهذه الترجمة أن يوافي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  
بالمدينة النبوية ، بما قد يجده فيها من خطأ ، أو نقص أو زيادة ، للإفادة من الاستدراكات في  
الطبعات القادمة إن شاء الله .

والله الموفق ، وهو الهادي إلى سواء السبيل ، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم .



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

بقلم جناب عزت مآب فضیلۃ الشیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل الشیخ وزیر برائے مذہبی امور،  
اوقاف، دعوت و ارشاد و نگران اعلیٰ مجمع  
ساری تعریف شو بن اللہ تعالیٰ اُس، اُس کا نائک رب ہُو، اِیْم ذاتن پند پاک کتاب (قرآن مجید س)  
منز فر موی: ”توہودوت اللہ تعالیٰ سبہ طرفہ نور و واضح کتاب۔“  
بیر اُن درود ن سلام بر ذات مقدس جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اِیْم ساری پیغمبرن ن مرسلین کھو ن  
افضل ن بر تر چھ، بیہد ارشاد گرامی ہُو، ”توہہ منز چھ بہتر سو انسان اِیْم قرآن مجید زون ن بیہ لوکھ زائر اُون۔“  
اُمابعد!

خادم الحرمين الشريفين شاه فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظ الله سند تعلیمات چھ کہ قرآن شریح  
خدمت، نشر و اشاعت رُوے زیتکین، مشرقہ ن مغربہ کین مسلمانن منز اُچ تقسیم، ن اُچ تفسیر ن دنیاء چن  
مختلف زبانن منز گوہ اک ترجمہ من کرن۔

بیر چھ مملکت سعودی عرب وزارت برائے مذہبی امور، اوقاف، دعوت و ارشاد بی کتھ ہند یقین  
تھاوان کہ قرآن مجید کین معانین ہند دنیاء چن مختلف زبانن منز ترجمہ کرن کوتاہ اہم چھ، تاکہ کین مسلمان  
پیٹھ سبہ قرآنک فہم آسان اِیْم عربی زبان چھن ہیکان بو کتھ، بیہ بیچہ سہ تبلیغ حاصل سپد تھ سمیوک حکم نبی کریم  
صلی اللہ علیہ وسلم ہندس تھ ارشاد پاکس منز چھ امت دنہ ”بلغوا علی و لو آیتہ“ میانہ طرفہ واتا دو لوکن تام  
سو آستن اکی کہیہ

شاه فهد سند مجمع برائے طباعت قرآن شریف اُس مدینہ منورس منز ہُو، تھ چھ پنہ نین کاشر زبان  
لوکن والین باین ہندہ خطیرہ قرآن مجید کہ یہ کاشر ترجمہ پیش کرنہ سیتھ خوشی سپدان۔  
بیر ترجمہ ہُو جناب میر واعظ محمد یوسف شاہ صین کورنت، ن آتھ چھ مجتہد طرفہ نظر ثانی جناب  
عبد اللطیف شیخ عبدالرشید صین ن جناب عبداللطیف غلام کشمیری صین کر مژ۔  
اُس چھ اللہ تعالیٰ سند سیٹھاہ تعریف کران کہ تم دژا سہ یہ عظیم کام عمل کر چ توفیق۔ آتھ منز چھ اُس  
بیر امید تھاوان کہ یہ کہہ خالص رب کریم سندرہ رضا خطیرہ، بیہ چھ یہ امید کہ آمد سیت وائز لوکن فائدہ۔

اُسہ ہُو چھ بیہ تھ ہند احساس کہ ترجمہ قرآن کر اُس منز کاژاہ ن وقت بیہ تن مد نظر تھاوند، تو ن چھو آسان  
سو ترجمہ تمن عظیم معانین ہنز او ایگی لغہ قاصر، بین پیٹھ قرآن کریمک معجزانہ آیات کہ بیہ چھ دلالت  
کران، بیہ بین معانین ن ترجمہ چھ ظاہر کران، یہ ہُو کتاب اللہ کس فہم منز مترجم سند مبلغ علیک نتیجہ، آتھ  
ترجمس منز بیچہ کانہ غلطی، نقص پیش تھ، بس غلطی بشرہ سزیمندہ ن کانہ منز چھ پیش یوان۔

لہذا چھ اُس پر چھ خمس شخص نشہ یہ امید تھاوان اُس یہ ترجمہ پرہ کہ اگر سو سیتھ ترجمس منز کانہ غلطی  
نقص یا زیادتی لبہ، خمس پڑہ مجمع الملک فهد برائے طباعت قرآن شریف مدینہ منورس اُچ خبر دن، تاکہ انہ  
والین ایٹیشنن منز بیہ بین ملاحظاتن نشہ استفادہ کرنہ۔ ان شاء اللہ  
اللہ تعالیٰ ہُو توفیق دنہ وول، بیہ ہُو سوی سینر و تھ ہاون وول۔ دعا چھ اے اللہ ژہ کسان یہ کوشش  
قبول، بے شک چھو کہ ژئی سوزی بوزہ و ن سوزی زانہ و ن

## سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ  
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ  
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ گوڈ مٹھس بوکران خدایہ سہہ تاوہ سیت ئس سیٹھاہ رحم کرہون مٹھ۔ ئس  
سیٹھاہ مہربان مٹھ۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ ساری تعریف تہ مدح تہ تاپزن تس ذات پاکس ئسند تاوہ مٹھو اللہ۔ کیا زہ پر مٹھہ چیزہ تہ پر مٹھہ  
نعمتھاہ پیدہ کرہون تہ مٹھو سؤی عطا کرہون تہ مٹھو سؤی۔ لہذا شؤبن حمد و ثنا س یوت۔ رَبِّ الْعَالَمِينَ ئس  
مالک تہ پرورش کرہون مٹھو سارنی عالم ہند۔ مخلوقا تن ہند اکھ اکھ جنس مٹھو گنر رنہ یوان اکھ اکھ عالم۔ مثلاً  
عالم ملایکہ۔ عالم انسان۔ عالم جن۔ عالم جمادات۔ عالم نباتات۔ عالم وحوش و طیور۔ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
ئس سارنی رحم کرہون مٹھو دُنیا س اندر۔ ئس بن رحمت جاری تھاوہون مٹھو با ایمان پیٹھ آخر تس اندر  
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ئس مالک تہ اختیارہ و ول مٹھو جزاء ک دُہ کو قیامتک دوہ۔ سمہ دہہ رئن  
پنہ نین عملن ہند بدلہ۔ تم مٹھہ کورمت آسہ سوتلہ تیو مٹھہ پھل إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ چانی باژ  
چھہ آس ہندگی تہ پرستش کران بیہ نہ کانسہ ہنز بیہ چھہ آس ژئی یوت یاری تہ مدد منگان بیہ نہ کانسہ۔ بیہ مٹھو  
بندن ہندہ مٹھہ سزہ در گاہہ اندر التجا بیہ پچھہ ناؤ اللہ تعالیٰ ان بن بندہ ہندہ س دربارس اندر کتھہ پاٹھ  
گڑھ حاضر سدن۔ کتھہ پاٹھ گڑھ سوال کران۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بیہ ہاؤسمہ سیزو تھہ و دتھ۔  
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ و تھہ تمن لوکن ہنز تمن ژئیہ نعمو عطا کر مٹھہ یعنی نبوتچ نعمت رسالت  
نعمت۔ صدیق نعمت۔ بیہ شہادتچ نعمت صلاح نعمت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ تہنز و تھہ  
نہ تمن پیٹھ چان ژکھ مٹھہ۔ تمن پیٹھ ژہ بیزار مٹھو کہ تہنز ہنا فرمانی سبہ۔ بیہ نہ تہنز و تھہ تم گمراہ سید، و تہ نشہ  
ڈل۔ تم گے یو دو نصاریٰ بیہ ساری باطل فرقہ تم افراط و تفریطس منز بتلا سید

## سُورَةُ الْبَقَرَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ  
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ  
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ وَالْآخِرَةُ لَهُمْ يُوقُونَ ۗ

سورہ بقرہ مجہودنی زہ ہت تہ شیعہ شیعہ آیہ کریمہ

الْعَزِيمِ گے حروف مقطعات یمن ہند معنی زلہ پانہ پروردگار ذَلِكِ الْكِتَابِ یہ بد کتاب یعنی قرآن مجید نُس مجہو لَارِيْبٍ فِيْهِ کا نہ شک جہونہ اتھ اندر۔ اِمْكَسْ کلام الہی آسَس اندر هُدًى لِلْمُتَّقِيْنَ یہ مجہو بوڈ ہدایت خدا نُس کھوڑہ ون ہندہ خیطرہ۔ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ تم خدایس کھوڑہ ون بندہ گے تمے تم پڑھہ تہ یقین جھہ کران تمن چیزن تم نہ تمود پھہتی جھہ۔ یعنی یم چیز تہند یو حواسو تہ عقلہ نشہ پو شیدہ جھہ۔ صرف جھہ خدا و پیغمبر خدایہ سندہ فرمانہ سیت تمن چیزن پڑھہ کران تہ تمن صحیح تہ درست مانان۔ تم چیز گے خدا۔ ملائک۔ قیامت۔ جنت تہ جہنم۔ یعنی یم لو کہ خدایس کھوڑان جھہ تمن چھو یہ قرآن مجید و تمہ ہاوان۔ کیا زہ نُس اکھاہ پنہ نُس خدایس کھوڑان آسہ تمں چھ فخر تہ تلاش آسان تمن کامین ہنزیمہ کامہ خدایس پسند جھہ۔ بیہ یمن کامین پیٹھہ سُو بزار چھو تمں چھ فکر آسان خدای سز طاعت کرہ نچ۔ تہمدہ معصیت و نافرمانی نشہ پتھہ روزہ نچ۔ یمن نافرمان ہندن دلن اندر خدایہ سُنْد خوف آسہ نہ تمن جھونہ طاعت و معصیتک کہنیہ اندیشہ تہ فکر۔ امہ اندرہ سُنْد معلوم تم لو کہہ یمن پو شیدہ چیزن پڑھہ آسن نہ کران تم جھہ ہدلیہ نشہ محروم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ بیہ گے خدایس کھوڑہ ون تم لو کہہ تم برپا تہ قائم جھہ تھوان ہمیشہ نمازہ پانڑھہ۔ تمہ کیو حقو تہ شرطو تہ آد ابوسان۔ و تہچہ پابندی سان وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بیہ گے خدایس کھوڑہ ون تم لو کہہ تم تمہ مالہ اندرہ نُس اسی تمن عطا کورمٹ چھو آسن خرچ کران۔ اہل و عیالس تہ آشیانوں تہ ہمساین تہ مستحقن پٹھہ۔ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ بیہ گے خدایس کھوڑہ ون تمے لو کہہ تم

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ  
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۶﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ  
 أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۷﴾ وَمِنَ النَّاسِ  
 مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۸﴾

پڑھ چھ کر ان تھے کتابہ یوسہ توبہ کن نازل آئیہ کرنہ۔ یہ تم کتابن پیٹھ یہ توبہ بروئھ نازل آئیہ کر نہ بروئھن پیٹھن کر۔ ایمان چھ ونان پورگنزر نس۔ یہ کتابہ اللہ تعالیٰ ان حضرات مرسلمین پیٹھ نازل کرہ مژہ چھ۔ توریت وانجیل وزبور و صحف تمہ سارے کتابہ چھ پڑہ۔ تم کتابن ہنز پڑہ آسن چھ شرط ایمان۔ چھ روز عمل کرن سوچھہ صرف قرآن مجیدس پیٹھ کرن۔ کیا زہ تمہ سارے کتابہ چھ قرآن مجیدہ سیت منسوخ تہ ناقابل عمل قرار دنہ آ مژہ۔ **وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ مِّنَ الْأُولَىٰ** یہ تم آخرت تہ چھ پور پڑہ کران۔ یہ دنیا چھو ختم گڑھ ون۔ امہ پتہ چھو بیا کھ عالمہ۔ چھہ عالمس آخرت ونان چھ۔ تمہہ عالمس اندر کرہ اللہ تعالیٰ بدکارن، نافرمان عذابس تہ سزاس گرفتار۔ تمہہ عالمس اندر ایہہ با ایمان جنت تہ چھتہ نعمہ عطا کرنہ۔ **أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ** تے لوک چھہ پنہ نس پروردگار سزہ۔ تمہہ وتہ پیٹھ یوسہ تم تہندہ طرفہ ہاونہ آئیہ **وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** یہ چھہ تے لوکہ رستگار تہ کامیاب (تم ڈور آئیہ کریمہ چھہ با ایمان ہندس مدحس اندر بیان کرنہ آمت)۔ تمہو زیوہ سیت تہ دلہ سیت قرآن مجیدس تہ دین اسلامس ایمان اون۔ امہ پتہ چھو بیان تم لوکن ہند تمہو بدل وزبان انکار کور **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا** بے شک تمہو لوکو انکار کور **سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ** **لَا يُؤْمِنُونَ** توہہ کرو یمن بیم یانہ کر لوکہ تم زانہہ ایمان ان نہ کیا زہ **خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ** خداین چھہ مہر کر مژہ ہندین دن ہندین کنن پیٹھ **وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ** یہ چھو ہنز ان چھن پیٹھ ٹھور تمہ کن چھنہ پڑہ تھہ تم کن فہرہ تران۔ **وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ**

يُخِذُ عُونََ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخِذُ عُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ  
 وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا  
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠﴾ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١١﴾ وَإِذَا قِيلَ  
 لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١٢﴾  
 إِلَّا أَنَّهُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا

تہندہ خیطرہ چُہو بوڈ عذاب۔ سوگو نار جنم۔ امہ پتہ چُہو اللہ تعالیٰ فرماوان ترواہ آیات کریمہ منافقن  
 ہندس مذقس اندر یکن ہند ظاہر کھہ آسہ باطن بیاکھ۔ تمن ہنز زیواکھ آسہ دل بیاکھ۔ کیاہہ تمن ہند شتر  
 چُہو سیٹھاہ زیادہ بین ہندہ خوتہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بِهِ جَهْمَ كَيْفَ نَه لَوْ كَه يَم  
 زیوہ سیت دنان چہہ آسہ کر پڑہ خدا لیس بیہ پتمس دوہس یعنی قیامتس وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ ہرگز  
 چہنہ تم پڑہ کرہ ون دلہ سیت خدا لیس نہ قیامتس دوہس يُخِذُ عُونََ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا پتہ خیالہ چہہ  
 تم دھو کہ بازی کران خدا لیس تہ با ایمان سیت وَمَا يُخِذُ عُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن  
 در حقیقت چہنہ تم دھو کہ دوان مگر پان پانس۔ مگر باسان تہ ژینان چہنہ تم۔ امیک شعور چہنہ تمن  
 فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا تہندن دلن اندر چُہو ہڈ مرض۔ نفاق مرض۔ دین اسلامہ  
 نشہ نفر تک مرض حسدک مرض بیہ عبادک مرض۔ سیم مرض آس تمن برو نطھی۔ دوان سپڈ  
 قرآن مجید نازل۔ اسلامس ڈیت اللہ تعالیٰ ان عزت و شوکت۔ بیہ سپز روز بروز اہل اسلامن ترقی۔  
 سیم چیز و چہتہ سپز تہندس مرضس اندر زیادتی۔ پس کر کہ اللہ تعالیٰ ان زیادتی تہہ مرضس اندر  
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بیہ چُہو تہندوی خیطرہ آخرتس اندر کڈر عذاب بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ای موکہ  
 کہ تم آس اپزونان۔ بل ونان آمانا باللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ یلہ وننہ چُہو یوان  
 تمن فسادہ تلیو منافقت تہ تا فرمانی کر نہ سیت قَالُوا آدپان چہہ تم کہہ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اس چہنہ  
 مگر معاملتن سبالہ ون تہ اصلاح کرہ ون پتہہ حالات در ست گزہن۔ اللہ تعالیٰ چُہو فرماوان إِلَّا أَنَّهُمْ

قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْتُمْ كَمَا آمَنَ  
 السُّفَهَاءُ ۗ إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾  
 وَإِذْ الْقَوَّالَتَانِ امْنُوا قَالُوا آمَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ  
 شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۴﴾  
 اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۵﴾

ہمُ الْمُسْتَهْزِءُونَ وارہ بوزوای بوزوینوتے جہہ فی الحقیقت تباہی تہ فساد کرہون۔ ولکن لایسْعُرُونَ لیکن تم چھنہ تمیک شعور۔ واذ قیل لہم امْنوا کما امْن الناس تنہہ پانھ پیلہ ومنہ پچھو یوان تمہن منافقن ایمان اون۔ پڑھ کر و خدا و پیغمبر خدا ئس تنہہ پانھ تنہہ پانھ ساروی لو کو ایمان اون تہ پڑھ کر قَالُوا أَنْتُمْ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ د پنہ چھہ لگان کہ سبھاہ اس انوہ ایمان تنہہ پانھ تنہہ پانھ تنہہ پانھ سبھو بے عقلو ایمان اون۔ اللہ تعالیٰ پچھو فرماوان إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ خبر دار روزوارہ بوزوای بوزہ دینو۔ پڑ پانھ تنہہ جہہ فی الحقیقت بے عقل تہ بے وقوف۔ مگر تمہن چھنہ پن بے وقوفی زانن تگان واذ القوالتان امنوا قالوا آمنا۔ سبہ یلہ تم منافق چھہ سمسحان، ملاقات کران با ایمان سیت تمہن چھہ ونان بل زیوہ سیت آسہ اون ایمان۔ واذ خلو الی شیطانیہم قالوا انما معکم تمہ پتہ یلہ واتان چھہ خلوتس اندر پنہ نین شیطان نش یعنی پنہ نین شریر سرداران تہ زتنھن نش تمہن چھہ ونان بیشک اس چھہ تو ہی سیت دلہ کن إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ اس چھنہ مگر با ایمان آمانونہ سیت اکھ ٹھٹھاہ تہ مخلوہ کران۔ اللہ تعالیٰ پچھو فرماوان اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہ تعالیٰ تہ پچھو تمہن ٹھٹھے کران۔ تہ گوا ی زہ ڈجر چھٹھہ تراوان۔ مہلت بھٹھہ دو ان تم چھہ پنہ سرکش اندر انین ہند پانھ تھہ دو ان۔ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اسْتَرَدَّ الصَّلَاةَ يَأْتِيهِمْ هُدًى لِّمِمْ گے تہ سبھو مثل ہتر گمر اہی ہدایتس۔ فَمَا بَحَّتْ بِجَارِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ بس کانہہ نفع تہ فائدہ دیت نہ تہند تجارتس۔ سبہ آس نہ تم و تھہ لہ ون۔ ہزس کن آس نہ تمہن کانہہ اتھاہ و تھاہ۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الصَّلَاةَ بِالْهُدَىٰ فَبَاعْتُمْ تِجَارَتَهُمْ  
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۹﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا  
فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي  
ظُلْمٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۲۰﴾ ضُضُّ بِكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۲۱﴾ أَوْ  
كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ  
أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ

تہنہ، مثال ہتھ تہ شخصہ سزہش تہم زول تہ پرزہ وداکھ نارہ فلکما اضآءت ما حولہ اڈہ یدلہ تم نارن روشن کوریتہ تہ تھ لہر پک اوس ذہب اللہ بنورہم ڈھتہ کور اللہ تعالیٰ ان تہمد نور تہ روشنی و ترکہم فی ظلمت لا یبصرون بیہ تراون تم تم امس نار زالہ وئس سیت آس نہ گنن اندر کہ بوزنہ اوسکھ نہ یووان یکہمنہ۔ تھہ پاٹھہ یہ شخص بیہ یم تہ سیت آس روشنی حاصل سپد تھ لہر گتہ منزر گر فاقر سپد مت تھہ پاٹھ سپد منافق پوزواض تہ روشن سپد نہ پتہ ضلالت و گمراہی ہنزہ تاریکی منزر گر فاقر۔ تھہ پاٹھ تہنہ اچھہ تہ کن تہ زیو بیکار سپد۔ تھہ پاٹھ سپز یکن منافقن ہنزہ حالت ضض بکم عمی فہم لا یرجعون زہر ہتھہ تم پوز بوزنہ لٹہ۔ کل چھہ تم پز اس اقرار کرنہ لٹہ۔ ان چھہ تم پوز وچھنہ لٹہ۔ پس پھیرن تہ رجوع کرن نہ تم تہمو حال تو نغیر اؤ کصیب من السماء فیہ ظلمت و رعد و برق نتہ چھہ تہمن منافقن ہنزہ مثال تمہ رودج ئس آس لٹہ طرفہ یوان آسہ۔ تھہ اندر آسن اڈہ گتہ تہ گمراہی تہ و زملہ۔ تھہ زودس منز آسہ پکان لوکن ہنزہ اکھ جماعتہاہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت تہ لوکھ آسن پنہ اوجگتہ زورہ و اتناوان پنہ نین کنن اندر ترٹن ہندہ موکھ موسیخہ بیمہ واللہ محیط بالکفرین تم ہتھہ پنہ خیالہ مو تہ لٹہ چہ تک تدبیر کران۔ مگر اللہ تعالیٰ کو ت چھڈہ تمن۔ اللہ تعالیٰ چھو کافر ان تہ نافرمان پرتھہ طرفہ احاطہ کر تھ۔ تہ لٹہ ہکن نہ تم کن گتہ تھہ۔ یکاڈ البرق یحطف ابصارہم وزہ ملکن تہنہز ہتھہ یہ حالت کہ خیال چھو گتہ ہان تمن و زملن ہندہ گاشہ سیت ما پیہ انیو تہنزن اچھن کلکما

بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ  
 مَشْوَاهُ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ  
 بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يَا أَيُّهَا  
 النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً

اَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَاهُ فِيهِ سیمہ سیمہ ساتہ وز لمن ہنز روشنی تمن پیٹھ پیوان جھہ تم جھہ تمہ کس گاش  
 منز پن ہیوان۔ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا نو پتہ یلہ تم پیٹھ تاریکی تہ لہ گمہ جھہ سپدان و دہہ جھہ  
 روز تھ گوهان وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اللہ تعالیٰ ہر گاہ یڑھہ ہاکائن کرہ ہاتھدہ  
 بو زنگ طاقت۔ بیہ و جھنک طاقت نہ روزہ ہنکھ گن کمنہ نہ روزہ ہنکھ لہ جھہ کمنہ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
 قَدِيرٌ بیشک اللہ تعالیٰ اس جھہ پر ہتھہ کمنہ چیزس پیٹھہ قدرت۔ تم لو کہ اتھہ رودہ گمہ کارس منز یکہ  
 ون آس۔ ہتھہ پاٹھہ گرہہ پکان آس۔ گرہہ روز تھہ گوهان آس۔ ہتھہ پاٹھہ جھہ تم منافع لہہ ساتہ یلہ  
 وچھان جھہ نور اسلامک ظہور روز بروز ترقی۔ تم جھہ لوکن مائل سپدان یڑھان۔ تمہ ساتہ خود غرضین  
 ہنز تاریکی حائل سپدان جھنکھ۔ آتی جھنکھ ٹھوٹھہ لگان پزس گن لہہ نشہہ جھہ ہتھہ ژلان۔ اوتان سپد  
 ترشون جماعتن ہند حال بیان۔ امہہ پتہ چہو ساری لوکن خطاب کر تھہ بیان یوان کر نہ سو مضمون سیمہ  
 خیطرہ بیہ مقدس کتاب قرآن مجید نازل آو کر نہ یَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ  
 قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ہالو کو! عبادت تہ پرستش کرو پنہ نس نس پروردگار سنز تم ٹوہ پیدہ کروہ۔ بیہ تم  
 پیدہ کر تم ساری لو کہ تم توبہہ بروٹھہ آس۔ ہتھہ ٹوہہ پچوتہ محفوظ روزد جھنکھ عذابہ نش سو گو سوی  
 پروردگار۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ہم تھدہ خیطرہ کور زمین و ٹھہ ناہ بیہ گرن  
 آسمان امہہ زمینک پشاہ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بیہ تم پروردگارن آسماکھہ طرفہ تراو اتھہ زمینس پیٹھہ  
 زوداہ فَاَخْرَجَ مِنْهَا الشَّعْبَ رِزْقًا لَكُمْ توپتہ کھارن امہہ زمینہ منزہ امہہ آبہ سیت میوہ جات تھدہ



وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ مَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۳﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۲۴﴾ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا

کہینہ خاطرہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون پس مہ نھر او توہ اے لو کو معبود برحقس مقابل کنیہ قسمک شریک زانتھہ کر تھہ یعنی یہ کتھہ زانتھہ کہ سیمہ کامہ کرہ ون چھونہ نس وراى کانہہ تہ وان کنتم فی ریب ممانزلنا علی عبدنا ون ہر گاہ توہہ شک وشبہ چھوتھہ کتابہ اندر یوسنہ اسہ نازل کمر پتہ نس بندہ خاص پیٹھہ۔ یعنی حضرت محمد امین پیٹھہ۔ یہ ماچھو تمویا نے نھر وومت فأتوا بسورۃ من مثیلہ تلہ اتوچہہ تہ کانہہ سورہ تیار کر تھہ تنھسی کانہہ شھس ریشہ نس امی آسہ۔ تم نہ کینہہ تہ پورمت آسہ وادعوا شھدآءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ بیہ دی تو تہہ نادھن ساری یم تہہ مددگاری خیطرہ سمہ نوہ یا مکتو پتہ نین معبودان باطلن معبود برحقس وراى چھوے توہ پوز ونہ ون تھہ تھہ اندر کہہ یہ کیاہ چھو کلام بشر فان لکم تفعلوا پس ہر گاہ چھہ بیھونہ اتھہ قرآن مجیدس ہو کلاماہ پیش کمر تھہ ولن تفعلوا بیھونہ زانہہ پیش کمر تھہ قیاس تام۔ از تام تہ از کہہ پیٹھہ قیاس تام ہو کہ نہ کانہہ اک اتھہ قرآن مجیدس ہو فصاحت وبلا نھس اندر اکھ یازہ آیہ تہ پیش کر تھہ۔ یوسے چھو بوڈ معجزہ قرآن مجیدک۔ فاتقوا النار الٹی وقودھا الناس والحجارۃ کس کھوڑو تہ بچا وھن پان تمہ نارہ ریشہ سمہ نارچہ خرشہ بھہ سمویسیت تھہ شکھ دنہ خیطرہ تہ ہر ہینہ خاطرہ بھہ کافر لوکھہ۔ بیہ تمہ کتھہ سکن کینن تیار کر تھہ تہ کر تھہ کافر پرستش چھہ کران۔ تھہ کتھہ دزن نار چھتمس اندر تھہ پاتھہ گندک کتھہ ریلہ ہندین انجیل اندر دزان بھہ اعدات للکفرین سوی نار چھو تیار کر نہ امت تمن کافر

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا  
 رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ  
 وَأَنْتُمْ فِيهَا مُتَسَابِهَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ ﴿۱۵﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا  
 فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا

ہندہ خیطرہ تم قرآن مجید سب سے نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُپر کفر۔ ران چھہ۔ یہ اوس  
 وعیدہ شدید معجزان ہندہ خیطرہ امہ پتہ چھہ فرماوان بشارت باایمان تسلیم سے اقرار کر وہ نین ہندہ خیطرہ  
 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِمَا لَهُمْ مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ  
 سے پڑھ کر خدا جس سے تمہیں پیغمبر س۔ یہ قرآن مجید س۔ یہ کہیہ رزہ عملہ أَنَّ لَهُمْ جَدَّتِ تَجْرِي  
 بشارت کہ بیشک تمہیں خیطرہ چھہ تم جنت تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سے جو یہ مختلف جو یہ آسن  
 پکان۔ آب زلالیہ جو یہ، شراب طہور چہ جو یہ، صاف وشفاف مانچھ چہ جو یہ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا يَلْبَسُونَ  
 کرنے آسہ یوان تم سے منہا من ثَمَرَةٍ رِزْقًا امہ جنک کانہ میواہ کھینہ خاطرہ قَالَ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا  
 مِنْ قَبْلُ وَهِيَ تَمْرٌ يَبْسُوتُ فِيهَا مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ لَبَنٍ طَيِّبٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا مُتَسَابِهَةٌ وَأَنْتُمْ فِيهَا  
 آمت تم سے میوہ دوشون لئن بس اگہ اس ہیو صورت کن آسہ۔ مگر لذت کن سے مزہ کن آسہ مختلف  
 وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ یہ چھہ ہندہ خیطرہ تم جن جن اندر پاک و پاکیزہ زنانہ یہ دنیا چہ آلایشو سے  
 ناپاکیوں سے محفوظ آسن وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ روزن تم جنتی تم جن جن اندر ہمیشہ۔ بعض مخالفو کو  
 اعتراض کہ ہر گاہ یہ قرآن مجید کلام الہی آسہ اتلہ آسن نہ اتھ اندر حقیر و ذلیل جانورن۔ چھن۔  
 زلرین سے مہن ہند ناو۔ اتھ کور اللہ تعالیٰ ان رد۔ فرمویں إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ  
 اللہ تعالیٰ چھنہ مند چھان سو کیاہ کرہ ہایمان کانہ مثالاہ بَعُوضَةٌ فَمَا فَوْقَهَا سُو آسن اوہ مہہ سنز  
 یا تمس کھوتہ کانہہ بس جانورہ سنز چھہ ہنزیاز لر سنز فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

الَّذِينَ كَفَرُوا قِيْلُوا مَاذَا ارَادَ اللهُ بِهَذَا امْتَلَامٍ يُضِلُّ  
 بِهِ كَثِيْرًا وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهٖ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ﴿۳۷﴾  
 الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ  
 مَاۤ اَمَرَ اللهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ  
 هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۳۸﴾ كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا

پس تمہو لو کو ایمان اون تہ پڑھہ کر تم ہجھہ یقینہ پاھہ زمانا کہ یمہ مثالہ ہجھہ بیان کرنہ آمرہ عین موقس  
 پیٹھہ تھندس پروردگارہ سندہ طرفہ **وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوا قِيْلُوا مَاذَا ارَادَ اللهُ بِهَذَا امْتَلَامًا** وون تمہو  
 لو کو کفر وانکار کور تمہن چہو سنی وُن کہ یمہ حقیر مثالہ بیان کرنہ اندرہ کیاہ سناہجہو مقصد خدایہ سُنَدُ **يُضِلُّ**  
**بِهِ كَثِيْرًا** اللہ تعالیٰ چہو ک فرماوان کہ گراہ چہو کران اللہ تعالیٰ یمہ مثالہ بیان کرنہ سیت وار یمہن  
 لوکن۔ یمہ نہ سمن مثالن اندر غور و تامل چہہ کران۔ **تِه وَيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا** بیہ چہو سو ہدایت کران تہ  
 وتھہ ہادان پنہ فضلہ سیت وار یمہن لوکن سمن مثالن اندر سنتھہ تامل و تفکر چہہ کران **وَمَا يُضِلُّ بِهٖ**  
**اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ** گراہ چہو نہ کران اللہ تعالیٰ لمہ مثالہ سیت مگر بدکارن تہ نافرمانن تم عدول کھی کران  
 چہہ **الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ** فاسق گئے تھے یم پھڑ اووان چہہ سو معاہدہ سُنَدُ تمہو  
 خدایس سیت کور مت چہو سو عمد مضبوط کرنہ پتہ **ذِكْرُ اللهِ** تعالیٰ ان چہہ ہمیس آہ کر تمس اندر  
 فرماوڑ۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام سندہ پشتہ منزہ کڈ اللہ تعالیٰ ان تھمز ساری ذریت تھے کہ ناوان پنہ رُب  
 آسک اقرار **وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ** بیہ چھو ژمان سو چیز سمجھہ ملانا ٹک اللہ تعالیٰ ان حکم  
 کور یعنی آشنائی۔ حکم خدا چہو صلہ رحم گرن مگر تم چہہ تھہ بدل آشنائی ژمان **وَيُفْسِدُوْنَ فِي**  
**الْاَرْضِ** بیہ چہہ تھے فساد تہ تباہی کران زمینس اندر اکھ اکس پیٹھہ ظلم کرنہ سیت، کفر کرنہ سیت۔  
 حضرت رسول کریم ﷺ سیت حسد و عداوت تھو نہ سیت۔ مسلمان سبہو دتہ نغیر دین اسلامہ نغیر ڈالہ  
 سیت۔ **اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ** تھے لوک چہہ تاوان زد دنیا س اندر تہ آخرتس اندر تہ یمہ اللہ تعالیٰ

فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۳۸﴾  
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَبِيَعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى  
 السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۳۹﴾  
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا  
 أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

سند مرئی آسن۔ خالق تہ رزاق آسن ثابت سپد کِیْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ  
 يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اے لوگو تمہے کھد پانھہ چہوہ ادہ خدایہ سندس معبود بر حق  
 آسنس انکار کران تمسدا احسانات مثر او ان تمس ورا ی بین ہندس معبود آسنس اقرار کران۔ حالانکہ  
 تمہے آسوہ محض بے جان۔ پس کر نوہ تمی تمہے زندہ بدن منزر روح واتاوندہ سیت۔ تو پتہ ماروہ سئی سمہ  
 ساتہ تمہزہ عمرہ ہند مدت وورہ تہ ختم ہوشہ۔ تو پتہ کروہ سئی توہہ بیہ زندہ قیامتک دوہ۔ تو پتہ ایو تمہے  
 تس گن واپس اند۔ یعنی قیامتک دوہ ایو محشر کس میدانس اندر حسابہ خیطرہ تہندسی اجلاس اندر حاضر  
 کرنہ۔ امہ پتہ چہوہ اللہ تعالیٰ پنہ نین نغمن ہنز ذکر کران هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ جَبِيَعًا سُو  
 سُو پروردگار یم پیدہ کور تہ سوزی یہ ہتھہ ز مینس اندر موجود چہوہ تہندہ فائدہ خیطرہ۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ  
 إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تو پتہ سپد سوتوجہ آسمان گن۔ پس کران تم  
 درست ستھہ آسمان۔ سو چہوہ پر ہتھہ چیز او پور زانہ ون۔ اوتان آہ بیان کرنہ صوری نعمت۔ امہ پتہ چہوہ  
 بیان کران اللہ تعالیٰ معنوی نعمت۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً بیہ پاووسو  
 وقت یادیلہ تمہند پروردگارن ارشاد فر موو ملائکن کہ مہ چہوہ پیدہ کرن ہتھہ ز مینس اندر پن اھہ خلیفہ  
 یعنی نایابہ۔ ئس میان احکام شرعیہ نافذ کرہ تہ واتاوہ میانین بدن قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا  
 وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ملائک لگ پدپنہ کیاہ ژہ کرہنہ پیدہ اتھہ ز مینس اندر سُو مخلوق ئس فتنہ تہ فساد کرہ جن  
 ہند پانھہ اتھہ ز مینس اندر بیہ کرہ واریاہ تہ سٹھاہ خوزریزی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اس چھہ

بِحَمْدِكَ وَنَقَدِسُ لَكَ قَالِ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ وَعَلَّمَ  
 أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي  
 بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَعَلَّمَنَا  
 إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۳۲﴾ قَالَ يَا أَدَمُ أَنْبِئْهُمْ

پاکی چان یاد کران۔ چان حمد و ثنا پان۔ بے چھتھہ اس زانان منزہ تہ پاک ساروی عیبو تہ نقصانوشہ۔ لہذا ہر گاہ یہ کام اسی پشراوندیہ ہا۔ اس کرہ ہو یہ کام پورہ دل و جانہ سان تمکن اندر آسن اؤ مُفسد، اؤ ظالم تہ اؤ نافرمان۔ ساری نیک آسن نہ۔ یلہ محض کام کرہ وین موجود تہ تیار آسن نو مخلوق پیدہ کرنچی کیاہ ضرورت آس۔ یہ کورنہ ملائحو بطور اعتراض پیش۔ نہ۔ یہ کور تمبو پئن استحقاق پیش۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ فَرَمُودَ كَه **إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ** بیشک بو چہوس زانان تمہہ تھہ سمہ نہ تہبہ زانان چہوہ۔ کس چیز تو ہہ نش بنی آدم تہ انسان پیدہ کرہ ٹک مانع چہوسوی چیز چہومہ نش پیدہ کرہ ٹک سبب تہ باعث۔ یعنی تمبو اندرہ بعضین ہند مُفسد تہ خوزیز آسن یوہے چہو باعث تمکن ہندہ پیدہ کرہ ٹک۔ کیا زہ احکام بن تیل جاری کرنہ یلہ کئہ قسمہ بے اعتدالی واقع سپدہ انتظام بیہ تل کرنہ یلہ کانہہ بد نظمی واقع سپدہ۔ توہہ فرمانبردارن ہندس جماعتس اندر ہیجہ نہ یہ امر واقع زانہہ تہ سپدہ تہ بہر حال آؤ انسان امہ کامہ خیطرہ مخصوص کرنہ۔ آؤ پیدہ کرنہ حضرت آدم علیہ السلام **وَعَلَّمَ أَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا** توپتہ زانرو چہوہو واللہ تعالیٰ ان آدم علیہ السلام تمام روي زمینہ کین چیزن ہند ناو۔ بڈین چیزن ہند تہ لو کئین چیزن ہند تہ۔ یعنی آدم علیہ السلام آؤ پچھہ ناوند گوڈنی علم لغت۔ یعنی پریتھہ چیزک ناوتہ پریتھہ چیزک خاصیت تہ فائدہ۔ **ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ** توپتہ تراون تم چیز ملاکن برو تھہ کن **فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** پس فرمو اللہ تعالیٰ ان ملاکن اے ملا کئو تہہ و نوہمہ تمکن چیزن ہند ناوتہ خاصیت ہر گاہ تہبہ پوزوندون چہوہ تھہ اندر کہہ اس آس اصلاح طبائع تہ انتظام شرائع تہ تبلیغ احکامن ہنز خدمت انجام دنہ خاطرہ مستحق۔ خلیفہ خداوند کس گزہن سارنی چیزن ہند ناوتہ خواص تہ فوائد معلوم آسن۔ ادہ ہیجہ سو مقوضہ کام انجام دتھہ۔ تہہ و نتو یکن چیزن ہند ناوتہ خاصیت کیاہ کیاہ چھہ **قَالُوا سُبْحَانَكَ**

يَا سُبَّانِيْمُ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِيْمُ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ  
 غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿۳۳﴾  
 وَاذْقُنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدًا وَاِلٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْرٰهِيْمَ ط اَبِيْ وَ  
 اسْتَكْبَرُوْا وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۴﴾ وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ  
 وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

لَعَلَّكُمْ لَنَا اِلٰهًا اِلَّا مَا عَلَّمْنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ملائکو دوپ پروردگار اثره پہنوک منزہ تہ پاک اَس  
 زانوی نہ کینہہ مگر تی یہ ژہ اَس بھناوتھہ۔ بیشک ژہ پہنوکھ سوڑی زانہ ون۔ ژہ ہٹھکھ سیٹھاہ جمتہ وول  
 قَالَ يٰ اٰدَمُ اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِيْمُ اللہ تعالیٰ ان فرموو حکم آدم علیہ السلام سُن اے آدم پیچھ ناوکھ ژہ  
 یم ملائک یمن چیزن ہنداؤ۔ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاَسْمَائِيْمُ ادہ یلہ آدم علیہ السلامن تین چیزن ہندا  
 ملائک بیان کر قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ اللہ  
 تعالیٰ ان فرموو ملائک مہ فرماویوہ تا توہہ کہہ بہ ہٹھس زانان تہ سوڑی یہ آسان تہ زمین منز پوشیدہ  
 پہنہو۔ بیہ ہٹھس بوزانان تمہہ سارے کتھہ یمہ ٹہہ ظاہر کران تہ نزاوان چھوہ۔ بیہ تمہہ کتھہ سیمہ ٹہہ  
 پوشیدہ تہ کتھٹھہ تھاوان آسوہ وَاذْقُنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدًا وَاِلٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْرٰهِيْمَ ط اَبِيْ وَاسْتَكْبَرُوْا  
 وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ بیہ پہنوسووقت ژٹس پاونس قابل سیمہ وقتہ اسہ حکم کور سارنی ملائک بیہ سیم جنو  
 اندرہ ملائک سیت روزان اَس سجدہ دیو آدم علیہ السلام تنظیمک سجدہ پس دیت ساروی ملائکو  
 سجدہ ابلیس ورانے۔ سُوْرود پتھہ سجدہ دنہ نشہ۔ تمہ زون پن پان بوڈتہ مغرور سپد۔ اوس سوا بلیس خدایہ  
 سندس علمس اندر کافر تہ نافرمانوی اندرہ۔ امہ ساتہ کرن عدول حکمی۔ خدایہ سندس حکم کورن نہ  
 تعمیل وَقُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ تَوْبِتہ کور اسہ حکم آدم علیہ السلام اے آدم ٹہہ  
 بسوپانہ بیہ پنن جو رہو علیہا السلام پتھہ جنس اندر۔ یوسہ حوالہ اللہ تعالیٰ اَن آدم علیہ السلامہ سنزہ لرہ  
 کانہ پیٹھہ اکہ مادہ نشہ پیدہ کر وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا تویپتہ کھوی ٹہہ دوشوے امہ جنتہ منزہ یڈ

هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾ فَازْكُمَا الشَّيْطَانُ  
عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ  
لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۶﴾ فَتَلَقَىٰ  
آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۳۷﴾  
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّا يَا آدَمُ ابْتِئْنَاكَ مِنِّي هَدَىٰ فَمَنْ تَبِعَ  
هُدَايَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

برتھ۔ بتھ جابہ خوش کردہ تھ جابہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ مگر کھنڈیہ نہ تھ کس یعنی سمہ کلیک  
پھل کھنڈیہ زہ نہ۔ ہر گاہ امہ کلیک پھل کھنڈیہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پس سپد و تہہ دوشوے پاس  
نقصان و تونیواندرہ۔ اللہ تعالیٰ سی چھو معلوم سوکیاہ کل اوس فَازْكُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا  
مِمَّا كَانَا فِيهِ پس ڈال تم دوشوے شیطان امہ کلہ سبت۔ تو پتہ کڈن تم تمہ عیش و آرامہ منزہ تھ  
منز تم آس۔ یام تموتہ تمہ کلیک پھل کھنڈیہ تام سپد تم حکم جنتہ منزہ نیر نیرہ نک۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا  
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ تو پتہ دون امہ تم سارنی بون و سوامہ جنتہ منزہ ز مینس پٹھ۔ بتھ حاس اندر کہ  
تہہ آسو اڈاؤین ہند دشمن وَاللَّكُم فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ون تھ تہہ خیطہ ز مینس پٹھ  
قرار کرہ نچ بیہ تمنع نہ فاندہ تلخ جائے۔ اس ”وقس“ تام۔ یعنی ز مینس پٹھ چھونہ توبہ ہمیشہ روزن۔  
کینہہ کالاہ گزہ جتھ چھو توبہ سوگرہ نہ تراون۔ تمہ گرہ منزہ نہ انتقال گرن فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ  
فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پس کر حاصل آدم علیہ السلامن پنہ نس پروردگارس نشہ توبہ  
کرہ نک کینہہ کلمات۔ تو پتہ پر تم تم کلمات نہ کوزن توبہ۔ پس کور اللہ تعالیٰ ان تہند توبہ قبول بیشک  
سو چھو سیٹھ توبہ قبول کرہ ون سیٹھارہ حم کرہ ون۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا حکم فر موواسہ و سوامہ  
جنتہ منزہ تہہ ساری ز مینس پٹھ۔ فَإِنَّا يَا آدَمُ ابْتِئْنَاكَ مِنِّي هَدَىٰ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ پس ہر گاہ اولتہ توبہ نش میون حکم پیغمبر نہ کتاب۔ پس بس اکھاہ پیروی کرہ نہ پچہ میانہ ہدایتہ

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۶﴾  
 يَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكَرُوا بِنِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا  
 بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ ۖ وَآيَاتِي فَارْهَبُونَ ﴿۳۷﴾ وَامِنُوا بِمَا  
 أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِيهِ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا

موجب۔ پس چھٹھ تیس کا نہ خوفہ۔ نہ سپدن تم پیروی کروں غمگین۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
 أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وون سبکو لوگو انکار کو رہیہ زانچھ لہر سان آیات تم لو کھ چھ  
 نارس اندروانہ ون۔ تھہ نارس اندر روزن ہمیشہ دزان۔ یوتان آیہ بیان کرنہ نعمت معنویہ۔ یتھہ منز  
 بیان آؤ کرنہ آدم علیہ السلامہ سزہ پیدائشہ ہند قہصہ۔ وون چھو یوان بیان کرنہ خاص نعمتک یوسہ عطا  
 آیہ کرنہ بنی اسرائیلن حسب ونسب وغیرہ سیمہ سیت تمن امتیازی شان حاصل آس۔ یتھہ تہندہ ایمان  
 اندہ سیت تمام لوکن پیٹھہ اثر پیہہ یَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكَرُوا بِنِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ اے یعقوب علیہ  
 السلامہ سند یو فرزندو! اسرائیل گو عبداللہ۔ یواوس حضرت یعقوبہ سنداو۔ بنی اسرائیل گے حضرت  
 یعقوبہ سندا اولاد تمنی چھو اللہ تعالیٰ فرماوان اے حضرت یعقوبہ سندا اولادو اثر تیس پاوونہہ تمہہ نعمہ سیمہ  
 مہ توہم عطا کرہ وہ۔ یتھہ نعمتین ہند حق ادا کرن توہم آسان سپدہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي بیہ کروتمہ وفا  
 میانس تھہ عہدس تیس توہم مہ سیت کورہہ حضرت محمد نبی آخر الزمانس متعلق اُوفٍ بِعَهْدِكُمْ بوہ  
 کرہ وفا تہندس عہدس تیس میہ کورمت چھو توہم سیت وَآيَاتِي فَارْهَبُونَ بیہہ کھو ژو مے یوت عمد  
 پھڑاونس اندر۔ پنہ نین عوام معتقد نین مہ کھو ژو کہ تمن ماروزہ نہ سون اعتقاد۔ تم یوسہ نذروہ نیازہ  
 سیت خدمت کران چھہ سو ماگرہہ ہند۔ وَامِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِيهِ  
 بیہہ کرو پڑھ تھہ کتابہ یوسہ میہ نازل کر۔ یعنی قرآن مجیدس۔ توہم پڑہ نہ تمہہ سیت وحشت گڑھن۔  
 کیا زہ سو کتاب کر میہ نازل در حالیتیہ سو چھہ تصدیق کرہ ون تھہ کتابہ یوسہ توہم سیت چھہ یعنی  
 توراتس۔ بیہہ مہ سپد ونہہہ گو ڈنک منکر امہ قرآن مجیدک۔ یعنی جہہ یلہ منکر سپد ونہہہ وچھتھہ کرن باقی



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَانٍ مُّسْتَضَاءٍ وَلَا تَكَلِّمُوا النَّاسَ بِالْبِزْيَانِ  
وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۳۲ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝۳۳ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ  
أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝۳۴ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

لو کہ تیرے انکار تم سارکی ذمہ دار سپرد و ہنہہ قیاس تان۔ ہم انکار کرن تہند وبال بیہ تہندس نامہ اعمالس  
لیکھنہ **وَلَا تَقْرَبُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَانٍ مُّسْتَضَاءٍ** بیہ مہ رٹومیائین آیاتن بدل حقیرتہ کم معاوضہ **وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**  
بیہ کھوڑوے یوت ہنن احکام پس پشت تراوتھہ یاتمن تغیر و تبدیل کر تھہ۔ یاتتم کھٹھہ تہ پوشیدہ تھاوتھہ  
مہ کرو عام لوکن نغیر مال دُنیا ئیس حقیر و ذلیل ہٹھو، حاصل **وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَالْبِزْيَانِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ**  
**تَعْلَمُونَ** بیہ مہ حملہ ناو پوز اپزس سیت۔ بیہ مہ تھاو پوز پوشیدہ تہ کھٹھہ زانتھہ کسر تھہ **وَأَقِيمُوا**  
**الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ** بیہ تھاو ٹوہہ نماز برپا۔ بیہ گیہ عبادت بدنی۔ بیہ دیویمالج زکوٰۃ  
۔ بیہ گیہ عبادت مالی۔ بیہ آسو نمان خدا ئیس بروٹھہ کنہ یئن نمَن واکین سیت۔ یعنی نماز آسو پران  
باجاماعت۔ اسلامہ بروٹھہ چھنہ بیہ کُنہ دئیس اندر نماز باجماعت آسمو۔ بیہ باجماعت نماز پران چھہ  
اسلامہ کیو خصوصیا تو منزہ۔ رکوع کرن تہ ہٹھو اسلامہ کیو خصوصیا تو اندرہ۔ یهودن ہنزہ نمازہ منز اس  
نہ رکوع کرہ ٹگ حکم۔ خلاصہ ہٹھو ای زہ ہم امور بیان آئی کر نہ یمنی یوت اندر چھنہ نجات۔ بلکہ  
گوتھن ساری اصول و فروع بجاان حضرت پیغمبر آخر الزمانہ سنزہ پیروی اندر نماز تہ گوتھہ تہندی  
طریقہ پران باجماعت رکوعہ سان۔ بعضے علماء یہود آس لوکن ونان کہ بیہ دین اسلام ہٹھو پوز دین۔ رُت  
دین مگر پانہ آس نہ مسلمان سپدان کینہہ تمنی ہٹھو اللہ تعالیٰ فرماوان۔ **أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ**  
**وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ** کیاہ تہہ چھوہ بین لوکن حکم کران نیکی تہ رتہ  
کامہ کرہ ٹگ۔ یعنی رسول مقبول پیغمبر آخر الزمانس ایمان انہ ٹگ۔ ہنن پان چھو کھہ مشراوان تہ نظر  
انداز کران حالانکہ تہہ چھوہ ہنن کتاب تورات پران۔ تھہ منز چھوہ تہہ پران کہ عالم بے عملس نسبت

وَالصَّلَاةَ وَآتَاهَا الْكَبِيرَةَ الْأَعْلَى الْخَشِيعِينَ ﴿۵﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ  
 أَنَّهُمْ مُلْقَوَاتُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۶﴾ يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ  
 اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۷﴾  
 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ  
 مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ۗ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۸﴾

کاٹراہ مذمت پچھ کر نہ آئیں۔ لہذا کو نہ چھوہ نہہ عقل کران کیا زہ چھوہ نہہ تم نذ متن ہند مصداق بنان  
 امہ اندرہ سپد ثابت کہ واعظئس آسہ تمسند گڑھنہ بے عمل آسُن بلکہ گڑھنہ تہنہز تمہہ موجب گوڈہ پانہ تہ  
 عمل کرن یہ سولوکن پران آسہ **وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** بیہ ژھانڈو مدد صبر کرنہ سیت بیہ نماز ادا  
 کرنہ سیت۔ صبرہ سیت گڑھوہ حُب مال کم۔ نمازہ سیت گڑھوہ حُب جاہ کم تہ زہ چیز چھوہ توہہ ایمان انہ  
 نس تہ پڑھ کر نس مانع سپدان **وَأَتَاهَا الْكَبِيرَةَ الْأَعْلَى الْخَشِيعِينَ** بیشک یہ نماز چھہ دشوار مگر چھہ دشوار  
 تم ن لوکن پیٹھہ یم خدائیس کھوژون چھہ **الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوَاتُ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** تم ن  
 یقین تہ پور پڑھہ چھہ کہ تم چھہ ملاقات کرہ ون پنہ نس پروردگار سیت بیہ چھہ تم پڑاٹھہ تس گُن  
 واندون تہ رجوع کرہ ون **يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ** اے یعقوب علیہ السلام  
 سند یو فرزندو ژیتیس پاووسو نعمت یوسہ میہ توہہ عطا کر موہ پیٹھہ نہہ شکر گذاری تہ اطاعت و  
 فرمانبرداری کرو **وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ** بیہ پاووتس یہ کتھہ تہ کہ میہ دیت وہ توہہ یعنی تمہدین آباؤ  
 اجدادون فضیلت تمہہ وقتہ کین سارنی لوکن پیٹھہ لہذا پڑہ ہا توہہ مکمل اطاعت و فرمانبرداری کرن  
**وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ** بیہ کھوژوٹھہ تھہ دوہس سیمہ  
 دوہہ نہ کانہہ کفایتاہ کرہ کانہہ شخصہ کانہہ شخصس یعنی کاہنہ اکھاہ کانہہ آگس کتھہ چیزہ سیت نہ بیہ قبول  
 کرنہ کانہہ آسندہ طرفہ کانہہ شفاعت تہ سفارش، یوتان نہ تس شخصس اندر ایمان آسہ نہ لیس شفاعت یا  
 سفارش کران آسہ **وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ۗ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** بیہ بیہ نہ رٹنہ کانہہ ہندہ طرفہ کانہہ بدلہ

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ  
يَدَّبْحُونَ آبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ  
رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۹۹﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ  
فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَإِذْ أَوْعَدْنَا مِوَسَىٰ الْأَرْبَعِينَ لَيْلَةً  
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۰۱﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا

تہ کا نامہ عوضا نہ یہیہ تمہن یاری کر نہ کیا زہ تمہہ دوہہ بیچہ نہ کا نہہ کا نہہ یاری کر تھہ نہ بیچہ تمہہ دوہہ کا نہہ  
ہنز طرفداری چلتھہ امر پتہ ہٹھو بیان یوان کر نہ بین نقمن ہند سیمہ بنی اسرائیلن عطا کر نہ آیہ وَاذْ  
نَجَّيْنَاكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اے بنی اسرائیلویہ پاوڑتس یلہ اسمہ توہہ نجات  
دیئت فرعونہ سندہ قومہ نشہ ایم توہہ واتاوان آس سخت عذاب سمن صرف فکر آس توہہ تکلیف تہ ایذا  
واتاویجْ يَدَّبْحُونَ آبْنَاءَكُمْ یم کھش کران آس تھندین نجوین وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ زندہ آس تھاوان  
کورین تھنزن تھہ تمہہ جہ واتتہ پتہ تمہن خدس بکارین وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اتھہ اندر  
آس تھنز بد آزمائش تہ امتحان تھندس پروردگار سیدہ طرفہ کتتان شخصن آس فرعونس نش پیش گوئی  
کر مڑ کہ بنی اسرائیلن اندر سپدہ پیدہ اکھ لو کتاہہ سمسندہ سببہ چان سلطنت تہ پادشاہت ختم سپدہ۔ تمہہ  
موکھ ہت تم بنی اسرائیلن لوکت زیوہ ونوی مارن کورین ہند اوس نہ امرہ قسمک کا نہہ خطرہ۔ تمہی موکھ  
اوس کورین زندہ تھاوان تمہن اوس نہ مارن کینہہ یہہہ اوس کورین اندریہ فاندہ کہ تمہن اوس بالغ سپد تھہ  
خد قس لاگان وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ بیہ ہٹھو سو واقعہ تہ  
یاد کرنس قابل یلہ جد اکر اسمہ تھندہ سیت دریای قلم۔ یلہ تہہ ژلان آسوہ فرعونس نغہ تھہہ آو توہہ  
دریای قلم۔ یلہ دیئت اسمہ توہہ نجات۔ دریاس سپد تھندہ خیطرہ باہ کوچہ۔ تھہہ و تھوہہ سمبئی کوچن  
اندر۔ توپتہ واتوہ تھہہ اپور۔ فرعون تہ فرعونہ سنز لشکر یم توہہ پتہ دوران آس رٹنہ خیطرہ تم تہ و تھہ  
یمبئی کوچن اندر۔ توپتہ واتوہ تھہہ اپور۔ فرعون تہ فرعونہ سنز لشکر یم توہہ پتہ دوران آس رٹنہ خیطرہ

عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۱﴾ وَإِذْ اتَيْنَا مُوسَى  
 الْكُتُبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۲﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ  
 يَقَوْمِ إِنِّي ظَلَمْتُكُمْ أَنفُسَكُمْ بَاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا  
 إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ  
 بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۳﴾ وَإِذْ

تم تہ و تھے یعنی کوچن اندر۔ یا تمہ جہند یتیم پارہ بٹھہ کھوت فرعونین ہند یتیم شخص دریاوس اندر دو تھے۔  
 آس سید حکم پتھہ۔ تھی سیت کراسہ غرق اتھہ دریاوس اندر ساری فرعونی۔ تہہ آسوہ پارہ پٹھس پٹھہ  
 تہندہ پھٹک تہ غرق سید تک تماشہ و جھان۔ **وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَلْبَعِينَ لَئِن آتَيْنَاهُ آيَةً** بیہ پاو ورتس یلہ آسہ اورہ  
 وعدہ کور موسیٰ علیہ السلا مس سیت اسہ کور وعدہ تس سیت توریت عطا کرہ نگ۔ تم کور وعدہ آسہ سیت  
 کوہ طورس پٹھہ ینگ۔ تو پتہ ژ تچہن ۴۰ راتن تہ دوہن کوہ طورس پٹھہ روز نگ بطور اعتکاف **ثُمَّ**  
**اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ۙ** تو پتہ بنو و ان توہہ سونہ سندا ورتھہ۔ تسزنی ہمیروہ توہہ پرستش کرن  
 موسیٰ علیہ السلا مس پتہ۔ تم آس کوہ طورس پٹھہ اعتکاف کران **وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ** تہہ آسوہ مغبود  
 برحقس ورا ی پانے تیار کر مٹس تہ گر مٹس ورتھہ سنز عبادت تہ پرستش کرنہ سیت صریح ظلم کرہ وین۔  
**ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** تو پتہ تہ کور اسہ اتھہ بڈس جرمس عفو تہ در گذر تہندہ  
 توبہ کرنہ پتہ یتھہ تہہ شکر گذاری کرو۔ پانس پٹھہ مانوسون بوڈ احسان **وَإِذْ اتَيْنَا مُوسَىٰ الْكُتُبَ**  
**وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** بیہ پاو ورتس یلہ آسہ عطا کر موسیٰ علیہ السلا مس کتاب سمیک اسہ تمس  
 سیت وعدہ کور مت اوس یعنی توریت۔ بیہ تم معجزہ یموسیت پزس تہ پزس منز فرق سدا ان آس یتھہ  
 توبہ و تھہ بیہ راہ راستس کن **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِنِّي ظَلَمْتُكُمْ أَنفُسَكُمْ بَاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ**  
**فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ** بیہ پاو ورتس یلہ موسیٰ علیہ السلا مس فر موو پتہ نس قومس اے قوم توبہ کور وہ  
 ظلم پان پانس کیا زہ توبہ کور و ان مقرر بے جان وورتھہ پین مغبود۔ پس کرو تہہ توبہ تہ رجوع پتہ نس

قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّيْحَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۱﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۲﴾ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۵۳﴾

پیدہ کر وہ نوسن۔ تم لگ بپہنہ وون کیاہ گزواس۔ موسیٰ علیہ السلام فرمود کہ فَاخَذْنَا أَنْفُسَكُمْ پس مارو نہ قتل کرو تہہ بہن پان سمو وژہہ سز عبادت نہ پرستش کر مژہہ چہنہ تم کرن قتل تم سمو وژہہ سز عبادت کر مژہہہ ذَلِكُمْ حَيْدُ لَكُمْ عِنْدَ بَارِكِكُمْ اى طريقہ مرن چھو تہندہ خپترہ بہتر تہندس خالقس نشہ یعنی اللہ تعالیٰ اس نشہ۔ پس مارتمو بہن پان۔ کوز کہ توبہ۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس کور تہند توبہ اللہ تعالیٰ ان قبول اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ بزپاٹھہ سو چھو گنکارن ہند توبہ قبول کر وہ دن۔ سو چھو تم پٹھہ مہربان نہ رحمتہ وول وَاذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً بیہ پاو وژتس اے بنی اسرا نیلویلہ توبہہ دوپوہ موسیٰ علیہ السلام اسہ نیو پانس سیت کورہ طورس پٹھہ کلام خدا بوزا ونہ خپترہ توبہہ بوزوہ توبہہ کلام خدا توریت مگر دپہنہ لگوہ تہہہ اسہ کیاہ چھہ خبر یہ کلام کس چھو فرماوان۔ یوت تام نہ اس کلام فرماوہ ون وارہ وچھون توت تام تھہہ پاٹھہ ہمہ اسہ یعنی اعتماد بیہ اسہ یہ کیاہ چھو کلام خدا فَاخَذَتْكُمُ الصَّيْحَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ پس رٹوہ تہہہ امہ گستاخی سبہہ وچھان وچھان اکہ ترٹہہ سمہ ترٹہہ ساری یکدم ماروہ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہہ پتہ کروہہ اس تہہہ بیہ زندہ امہ ترٹہہ سیت مرنہ پتہ موسیٰ علیہ السلام سندرہ دعا کرنہ پتہ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تہہہ تہہہ بیہ زندہ کرج نعمت محسوس کر تہہہ شکر گذاری کرو وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰ وَالسَّلْوَىٰ بیہ ترو اسہ توبہہ پٹھہ ابرک سایہ یلہ تہہہ میدان تہہہس منز تا پتہ سیت دزان آسوہ بیہ واتتو اسہ توبہہ نش غیبی خزانہ منزہ اکہ چیز اہ تہہہ ترنجبین ونان چھہہ لیس ویرہہ ہانٹھک پاٹھہ کلین ہندین برگن پٹھہ آسان چھو۔

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ  
رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ  
خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۸﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا  
غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا  
مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۵۹﴾ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ

بہ بائرن ہند ماہ کُلُوا مِنْ طَبِئَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ اسمہ دوپ تہہ کھیو بمو نفیس چیز واندرہ تم اسمہ توہہ  
عطا کر وہ۔ مگر اتھ اندر تہہ کر کہ نا فرمانی یہہ سیت تمہن پانس سخت نقصان ووت وَمَا ظَلَمْتُمْ  
وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ تمہو واتونہ اسمہ کا نہہ تکلیف تہہ نقصان بلکہ آس واتانوان تم  
نقصان پنہ نین پانن وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ بیہ پاور و شتس یلہ  
اسمہ دوپ بنی اسرا نیلن اتر و تہہ ہتھہ بستنی اندر پس کھیو اسمہ بستنی اندرہ ہتھہ ہتھہ جالیہ توہہ خوش کرہ اسمہ  
شہر کیو چیز واندرہ یوت توہہ خوش کرہ توت۔ یعنی یڈ بر ہتھہ۔ وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ  
نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ سیتی کوز کہ اسمہ حکم کہ یلہ تہہ اسمہ شہر کہہ دروازہ کن اتھہ  
شہر س منز اتر و۔ اتران اتران تہوزہ تہہ کلہ بون کن یعنی کلہ نومر تھہ اتر زہ عاجزی سان بیہ گتھہ تہند چرن لفظہ  
حطہ۔ تمیک معنی پتھو آس ہتھہ توہہ کران۔ تمہہ سیت کتر و آس تہند بن برو تظہین گنہن مغفرت بیہ کتر و آس زیادہ  
ثواب عطا ترہہ عملہ کرہ و نین فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پس بدل و و تو ظالمو سو  
لفظ تھہ لفظس سیت یس نہ تمہن ونہہ آمت اوس۔ تم و دوپ حبیتہ فی شہرہ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا  
رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پس کور اسمہ نازل تمہن ظالمن پیٹھہ آسمانجہ طرفہ آتھہ عذاباہ۔  
کیازہ تم آس کران سان نا فرمانی تہہ عدول حکمی۔ نارہ آتھہ گو پیڈہ آسمانجہ طرفہ تمہن نارن اکی ساتہ ترہہ  
ساس ۲۳۰۰۰ انسان۔ بیہ روایتہ موجب ۴۰۰۰ (تھتھہ ساس) انسان زاتھہ ترا و بعضی مفسر و فرما و کہ  
سو عذاب اوس طاغون ہمہہ سیت اؤس دوہس اندر ستھہ ساس لوک مو و وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ  
 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُفُورًا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ  
 اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۶۰﴾ وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَى  
 لَنْ نُصِيبَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا  
 تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَ  
 بَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ

بہ پاووترس لیے موسیٰ کلیمُ اللمن طلب باران کورینہ قومہ خیرہ آب مویکھ اللہ تعالیٰ اس اللہ تعالیٰ  
 چھو فرمادان فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ پس فرموا سے موسیٰ کلیمُ اللمس ژنڈ دیو پنہ لورہ سیت  
 ہتھ کنہ یوسہ توہہ بروٹھ کنہ چھہ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا پس جاری سپد تمہہ کنہ منزہ باہ ناگہ  
 راد تین بنی اسرائیل ہندن قبیلن ہنزہ گرز۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آس باہ فرزند آکس آکس  
 فرزندہ سند اولاد آسوا کہ آہ قبیلہ۔ تمہی قبیلن ہندہ تعدادہ ۱۲ شمارہ موجب درای تمہہ کنہ منزہ باہ  
 ناگ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ چنانچہ معلوم سپد پریتھہ آکس شخصس پنہ پنہ آب چنچ تہ آب  
 حاصل کر نچ جائے چنانچہ ونہ آہہ كُفُورًا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اے  
 بنی اسرائیلو کھو یہ من و سلوئی بیہ چیو تمہن چشم ہند آب۔ بیہ مہ پھیروز مینس اندر فساد تہ فتنہ تھان  
 یعنی میانین احکامن ہنزہ نافرمانی کران وَإِذْ قُلْنَا يَا مُوسَى لَنْ نُصِيبَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ بیہ پاووترس  
 اے بنی اسرائیلو بیہ توہہ درخواست کورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اے موسیٰ اَسْ حَضْ بَیْکُونہ  
 صبر تہ برداشت کر تھہ اکی قسمہ کی کھینہ چیزس پیٹھہ اس آسے پریتھہ دو ہنہ من و سلوئی کھوان کھوان کھوان سخت  
 عاجز فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا  
 پس منگو حَضْ سانہ خیطرہ پنہ نس خدایس کہ سُوکھارہ سانہ خیطرہ تم تم چیز تم زینہ منزہ کھسان چھہ تچہ  
 ترکارہ ہٹھ۔ لار تمک بہ ککھہ تمک۔ بیہ روہن تمک بہ۔ مُرُ تَمِیک۔ بیہ پران تمیک قَالَ

خَيْرٌ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَآسَا لَنْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ  
 الذَّلٰلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءٌ وَّبِعْضٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ  
 كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ  
 بَعِيْرَ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۶۱﴾

اَسْتَبِيْلُوْنَ الَّذِي هُوَ اَدْنٰى يٰ اَكْذٰبِي هُوَ خَيْرٌ حضرت موسیٰ ان فرموا کہ کیا ہے تمہارے چھوہڑھانڈان  
 تم چیزیں پست تہ بونمہ درجہ تھہہ تھہہ چیزیں بدل لیں اعلیٰ درجہ چیز چھو یعنی من و سلویٰ اس بدل  
 لیں تو بہہ منمت و مشقتہ و رای حاصل سپدان چھو۔ کاڑا ہ چھہ ٹھہز عقل تہ ہمت پست اِهْبِطُوا مِصْرًا  
 فَاِنَّ لَكُمْ مَآسَا لَنْتُمْ یلہ تو بہہ عزتکس رُو ز لیس سیت کھر چھہ ادہ اڑو ٹھہہ شر و اندرہ ٹھہہ شہرس اندر تھہہ  
 بن تو بہہ تم چیزیں تم ٹھہہ منگان چھوہ۔ زمین کھر حاصل۔ تو پتہ لاگو سو۔ تھہہ منزل و و تم تم چیز تہ کھہیو  
 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلٰلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ یڑھے یڑھے گستاخی کھر نہ خیطرہ آیہ تراونہ تمن پڑھہ ذلت تہ  
 خواری تہ پستی لوکن ہنرہ نظرہ اندر روزنہ تمن کانہہ وقعت تہ کانہہ قدر نہ رُو ز تھہہ بن طبعین اندر  
 ٹھہہ قسمہ اولو العزمی تہ بلند ہمتی باقی وَبَاءٌ وَّبِعْضٍ مِّنَ اللّٰهِ بیہ سپد تم مستحق خدایہ سزہہ بیزاریہ  
 ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بَعِيْرَ الْحَقِّ اتھہ ذلت و  
 خواری و بیزاری گئے تم گرفتاری موکھہ کہ تم آس انکار تہ نافرمانی کران پروردگارہ سندین احکامین بیہ  
 آس پیغمبرن قتل کران تہ ماران ناحق تہ بے گناہ ٹھہہ قسمہہ مجرمہ و رای ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا  
 يَعْتَدُوْنَ اتھہ ذلت و خواری گئے تم گرفتاری موکھہ کہ تم آس انکار تہ نافرمانی کران پروردگارہ  
 سندین احکامین تمن بہودن ہند یہ حال بیان کھر تھہہ اوس ممکن کانہہ شخصس ماگہہ یا خیال کہ ہر گاہ کانہہ  
 شخصہہ یو وواندرہ یا بیہ لو کو اندرہ توبہ و استغفار کھر تھہہ ایمان لہہ تس ما کھر نہ اللہ تعالیٰ بخشایش تھہہ ایمان تہ  
 توبہ و استغفار ما کھر نہ قبول۔ سو خیال دُور کھر نہ خیطرہ فرموا اللہ تعالیٰ ان لمرہ پتہ عام آھ قانونانہ تہ قاعدہ  
 کلیہہ آھ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصْرٰى وَالصَّبِيْهِيْنَ بيشک با ایمان بیہ یسود بیہ نصاریٰ



إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ  
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ  
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۹۶﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا  
 مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ  
 اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۹۷﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
 فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۹۸﴾

یہ صابین یعنی سو فرقہ میں نہ مستقل کانہ دینا پھٹو۔ پریتھہ دینہ منزہ پھو تمبو حسب خواہش اکھ اکھ  
 چیزہ اختیار کورمت یوساروی فرقواندرہ مَن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ  
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ایس شخصہ پڑھہ تہ یقین کرہ معبود برحقہ سندس  
 ذات پاکس تہ تہمدین صفاتن بیہ کرہ پڑھہ پتمس دوہس یعنی قیامس بیہ کرہ رثہ عملہ تمہہ شریعت  
 محمد لیس موافق آسن تہمین لوکن ہندہ خیطرہ چھہ مزور تہمز تہمدس پروردگار نشہ یوسہ تمن عطا کرنہ  
 بیہ تس نش واتھہ بیہ آسہ نہ تمن کانہہ خوفاہ بیہ سپدن نہ تم نمکین تہ پریشان یہ قانون بیان کر تھہ پھو  
 بیہ بیان سپدان بنی اسرائیلن ہند حالات و معاملات اسہ کیاہور توو تمن سیت تمبو کیاہ معاملہ کوراسہ سیت  
 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بیہ یادو ژتس اے بنی اسرائیلولہ اسہ ٹہہ عمد کرناویہ۔ توہہ  
 نشہ روٹ اسہ قول و قرار توریتس پیٹھہ عمل کرنہ خیطرہ تل اسہ کوہ طورک اکھ حصاہ توہہ پیٹھہ تروانہ  
 خیطرہ۔ فرموداسہ توہہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تمہہ ساتہ فرموداسہ  
 ٹہہ کر و قبول سو کتاب یوسہ اسہ توہہ عطا کر پورہ طاقتہ تہ مضبوطی سیت تہ تراووہ آس یہ کوہ تہمدین  
 کلن پیٹھہ وارہ تھا وویاد تم احکام یم اتھہ کتابہ منز چھہ۔ دیوہ ٹہہ متقی تہ پرہیز گار بنو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ  
 بَعْدِ ذَلِكَ اسہ قول و قرارہ پتہ تہ پھیروہ ٹہہ پوت یعنی اتھہ عمدس پیٹھہ رُودونہ ٹہہ قائم فَلَوْلَا فَضْلُ  
 اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ پس ہر گاہ نے توہہ پیٹھہ خدا یہ سُد فضل و رحمت آسما امہ

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ  
 كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۶۵﴾ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّالْبَابِينَ يَدَّيْهَا  
 وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۶۶﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ  
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذُبُّوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا

عہد شکنی سبب سے آسہو ہتھ ہلاک سے برباد سپد و نیواندرہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ  
 فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ بیہ چھوہ توہہ معلومی تمہن لوکن ہند حال ہم توہہ اندرہ حدہ ڈل بیہ  
 وارہ ہندس معاملس اندر اسہ اوس تمہن منع کورمت بیہ وارہ دوہ گاڈہ شکار کرنہ نشہ مگر تمہو کراتہہ خمس  
 مخالفت پس فر مواسہہ تمہن ذلیل و اندر بیہو۔ چنانچہ بنے یہ تمہن و اندرن ہنز شکل مسخ صورت سپد کہ  
 وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّالْبَابِينَ يَدَّيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ بیہ کوراسہہ یہ واقعہ اکہ عبرتھاہ تمہن  
 لوکن ہندہ خیطرہ ہم تم وقتہ موجود آس بیہ تمہن لوکن ہندہ خیطرہ ہم تمہن پتہ آئے۔ بیہ کوراسہہ یہ  
 واقعہ بوڈو وعظتہ نصیحت خدا پس کھوڑوہ و نین ہندہ خیطرہ۔ بنی اسرا ییلن منز اوس اکہ شخصہہ تس اوس ناو  
 عامل۔ تس آس کور۔ بیا کہ شخصہہ ہم کراس کورہ ہندس مالس خواستگاری امس کورہ سیت نکاح کرنہ  
 خیطرہ مگر تم کور تمس یہ گوردنہ نش انکار تمس سپد آمدن انکار گرن سیٹھاہ نا گواریم مو کہ تم کور سو شخص  
 پوشیدہ پاٹھہ قتل تو پتہ تروون اکس جابہ۔ لو کو یلہ سو تھہہ جابہ مارنہ آمت وچہ۔ تم لگ دریافت کرنہ  
 کہ یہ شخص کم سنا پٹھو مورمت تم آے حضرت موسیٰ کلیم اللہس نش عرض کورہ بھہہ اسہ حض گوٹھہ  
 معلوم سپدن تمس شخصہہ سندا قاتل گس چھو تمہو فر موو بھہہ بھکم خداہہ تہہہ ماریون اکہ گاواہ تمسندی کنہ  
 تانہ سیت دیواس مقتلو س ژنڈ سو سپدہ زندہ سوونہ پانے میون قاتل گس چھو۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ  
 یوہے قصہ بیان فرماون وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذُبُّوا بَقَرَةً بیہ پاوو سو وقت  
 ژتس یلہہ حضرت موسیٰ علیہ السلامن پتہ نس قومس فر موو۔ یلہہ تموا گس مقتول شخصہہ سندا قاتل تمہن  
 نشہ دریافت کرن ہیوت کہ پہر پاٹھہ اللہ تعالیٰ چھو توہہ حکم کران کہ تہہہ کرو ذبح اگس گاواہ تمسندہ ہنہ تانہ

قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۷۷﴾ قَالُوْا اَدْعُ لَنَا  
 رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا  
 فَاْرِضُ وَلَا يَكْرَهُوْنَ اَبِيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَاَفْعَلُوْا مَا تُوْمَرُوْنَ ﴿۷۸﴾  
 قَالُوْا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْ نَهَا قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ  
 اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقْعُوْا لَوْ نَهَا سُرَّ النَّظِيْرِيْنَ ﴿۷۹﴾  
 قَالُوْا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقْرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا

سیت دیوامس مقتولس ژنڈ سوسپدہ تمہہ ژنجہ سیت زندہ سوندہ پانے پتہ نس قاتلہ سندا ناو۔ قَالُوْا  
 اَتَّخِذُنَا هٰٓؤُلَاءِ اٰتِمَ لَبٍ دِپنہ کیا حض تجہہ جھوہ اسہ مسخرہ بناوان اسہ سیت ٹھہہ کران۔ تہ کتہ حض  
 جھوہ یوزمت از تال کہ گاوہ ہندہ تنہ سیت ژنڈ دنہ سیت کیا سپدہ مردہ زندہ قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ  
 مِنَ الْجٰهِلِيْنَ موسیٰ علیہ السلا من فر موؤکھ بہ چھس اللہ تعالیٰ اس پناہ منگان کہ بہ کیاہ ہندہ جاہلو  
 اندرہ۔ احکام خداوندین منز تمسخر کرن چھہ جاہلن ہنز کوم قَالُوْا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ تمبو  
 دوپ حضرت موسیٰ اس تہہہ کروحض سانہ خیطرہ پنے نس پروردگار س عرض کہ سوکرہ بیان کہ اس  
 گاوہ ہند صفت کم کم گدھن آسن قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا فَاْرِضُ وَلَا يَكْرَهُوْنَ اَبِيْنَ ذٰلِكَ  
 فَاَفْعَلُوْا مَا تُوْمَرُوْنَ تمبو فر موؤکھ بیشک اللہ تعالیٰ جھوہ فرماوان سونگاؤ گدھنہ آسن بڈہ نہ گدھہ آسن  
 بالکل لوکت و ژھر ہش بلکہ گدھہ آسن یمن دون حالن در میان۔ وؤن مہ کمر و زیادہ پر ژھہہ پر ژھہہ۔  
 وؤن گرو سو کام سمیک توہہ حکم کرنہ یوان جھوہ۔ قَالُوْا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْ نَهَا تم گدھہ پنے  
 تہہہ پر ژھو حض سانہ خیطرہ پنے نس پروردگار س بیان اسہ تمس گاوہ ہند رنگ کیاہ گدھہ آسن۔  
 قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقْعُوْا لَوْ نَهَا سُرَّ النَّظِيْرِيْنَ حضرت موسیٰ ان فر موؤکھ بیشک  
 اللہ تعالیٰ جھوہ فرماوان تمس گاوہ ہند رنگ گدھہ زرد آسن سوی گدھہ آسن شوخ زرد نیس دل پھولرا وہ  
 وجھہ وین۔ یعنی نیس وجھہ وینن فرحت و سرور بخشہ قَالُوْا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقْرَ تَشْبَهُ

وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَنَهْتَدُونَ ﴿۴۱﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا  
ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا  
قَالُوا لئن جِئْتِ بِالْحَقِّ فَدِّبْ بِجُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿۴۲﴾ وَ  
إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ  
تَكْتُمُونَ ﴿۴۳﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضَهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى

عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَنَهْتَدُونَ دینہ لگ بیہ پر ژھو حض پنہ نس پروردگار سنانہ خیرہ کہ سوکرہ بیان سانہ خیرہ وارہ وضاحتہ سان سوگاؤ کرژھہ گڑھہ آسن تسمند خاص علامت تہ نشانہ چھاکینہ۔ پیشک سوگاؤ تسمندہ سیت اسمہ قاتلہ سُد پتہ لکھ سوچھہ اسمہ نشیہ مشتبہ۔ ہرگاہ اللہ تعالیٰ نضر اوتھہ بیان فرماوہ تھہ صورتس اندر لکھ اسمہ ضرور پتاہ یوژھے خداین قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا موسیٰ علیہ السلا من فرموؤکھ اللہ تعالیٰ پھوہ فرماوان سوگاؤ گڑھہ آسن محنت کش یوسہ الہ بانہ سیت زمین تلہ ون اسمہ۔ بیہ اسمہ نہ ارٹس لاکھہ زمینس زراعتس سگ دوہ ون سالم اسمہ عیبونشہ۔ کانہ داغاہ اسمہ نہ تس۔ بیاکھہ رنگاہ آسین نہ یعنی ٹپہ ہار اسمہ نہ بلکہ اسمہ اکی رنگہ قَالُوا لئن جِئْتِ بِالْحَقِّ یہ یوزتھہ دوپ تمبو موسیٰ علیہ السلا مس وون کیا حض آوہ تہہ صاف وشتہ تھہ پتھہ۔ امہ پتہ کور تموتلاش اسس گاوہ ہند۔ توپتہ لبجھہ امہ قسگ گاؤ اکس جو انس نش بس پنہ ماجہ ہند اوس سخت فرمانبردار۔ تسمی نشیہ بنیئر کھہ یہ گاؤ سمل تیتس سونس سیمہ سونہ سیت تسمند مسلمہ تہ دالہ برنہ بیہ ہا فَدِّبْ بِجُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ پس کور تمبوتس گاوہ کھش۔ درحالیجہ آس نہ ہم یہ کام کرہ ون یہ تہند یوسوالا تو سیت ظاہر سپدان اوس مگر چارہ لوگھہ نہ کینہہ تہ۔ امہ پتہ پھو اللہ تعالیٰ فرماوان اتھہ قصص متعلق مزید بیان وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُمُ فِيهَا یہ پاووتہہ ژتس سُو وقت یلہ توہہ اندرہ کتام شخصن موراکھ شخصاہ توپتہ ہیو توہ توہہ اندرہ پریتھہ اک پن پان بری ہاونہ خیرہ اکھہ اکس ہانژھہ لاگن یعنی چھاؤن داسی ہنہ وہ کرن وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ تعالیٰ اس اوس

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ  
 بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ  
 لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَشْقَى فَيَخْرُجُ مِنْهُ  
 الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

نتر اون منظورتہ یہ تہہ کھٹان تہ پوشیدہ تھاوان آسوہ۔ تھی موکھہ یلہ اسہ توہہ گاؤن ذکرہ نیک حکم کور  
 فَقَلْنَا اَصْرًا يَوْمًا بِبَعْضِهَا پس فر موواسہ دیوژنڈا اس مردس اسس مقتول شخص اسس مذبوحد گاوہ ہندہ  
 کنبہ تانہ سیت توپتہ دژتمواسس گاوہ ہندہ زیوہ سیت یارانہ سیت ژنڈا اسس مقتولس۔ چنانچہ سو مقتول  
 گوزندہ۔ تم دون پنے نس قاتلہ سندا ناؤ۔ سواوس پنے نیو دو یو پترو با یو یا پتھر و مالکہ طمعہ یا نتھر نہ دنہ  
 موکو مورمت۔ اللہ تعالیٰ پھو فرماوان امہ پتہ قیامتہ کین مکران سم مر نہ پتہ بیہ زندہ گزہہ نس انکار  
 چھہ کران کذلک یعنی اللہ الموتی پتھہ پاتھہ کیاہ کرہ اللہ تعالیٰ قیامتک دوہ مردن بیہ زندہ پتھہ پاتھہ یہ  
 مقتول بیہ زندہ کوزن ویریکم آیتہ لعلکم تعقلون اللہ تعالیٰ پھوہ تمہ پنے قدرتک نشانہ ہاوان پنے  
 قدرتہ سیت دیوہ تہہ عقلہ کام ہیو پتھہ تہہ امہ سیت زانو کہ نس خدا یس یہ اکھ مردہ توگ زندہ کران تس  
 نشہ کیاہ عجائب پھو ساری مردہ قیامتک دوہ بیہ زندہ کران۔ حدیث شریفس منز پھو آمت کہ ہر گاہ بنی  
 اسرائیل پر ژہہ پر ژہہ کرہ ہن نہ گوڈنی مار ہن کانہہ گاواہ مقصد سپد پھہہ حاصل امہ پتہ پھو اللہ تعالیٰ  
 فرماوان کہ تم بنی اسرائیل سندنہ سم واقعات و پھتھہ کانہہ اثراہ۔ یہند دل سپد سٹھاہ سخت ٹھو قست  
 قلوبکم من بعد ذلك فیہی کالحجارة اوشد قسوة سمو تھہو واقعاتو پتہ گزہہ تہند دل نرم گزہہن  
 خدا یہ سندرہ قدرتک بڈبڈ نشانہ و پھتھہ مگر تھہ بدل سپد تہند دل سٹھاہ سخت پس سپد تہند دل کنہ ہشہ۔  
 بلکہ پھہہ تہند دل کینو خون تہ زیادہ سخت سمہ وجہہ کہ و ان من الحجارة لمایتفجر منه الانهار بیشک  
 کینو اندرہ پھہہ بعضے کنہ سمو اندرہ دریا چھہ جاری سپدان و ان منها لیسق فیخرج منه الماء  
 بیشک بیہ پھہہ کینو اندرہ بعضے کنہ سمہ پھشان پھہہ نس پھو تمواندرہ تہ آب جاری سپدان و ان منها لایا

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۴۵﴾ أَفَتَطْعَمُونَ أَنْ يُوْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ  
فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ  
مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۴۶﴾ وَإِذْ الْقُرْآنُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا  
أَمْثَلُ وَإِذَا أَخْلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُوهُمْ بِمَا  
فَتَمَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۴۷﴾

یہیظ من حسیۃ اللہ بیشک بپہ ہتھ بعضے کنہ سیمہ تھز رہ پیٹھ بون دستھ پوان تہ ڈلہ گوشاں ہتھ خدایہ  
سدہ خوفہ سیت مگر تھندین دلن ہتھہنہ کنہ قسمہ اثر گوشاں تھند دل چھہ قساوتن ولت تہی قساوتہ سببہ  
چھوہ تہہ یمہ یمہ ہتھہ کامہ کران۔ وَاللَّهُ بِعَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ ہتھنہ تہنز و تمو ہتھہ کامیو  
نشہ بے خبر۔ سُود یہ توہہ جلدی تمیک سزا۔ یہودن ہندیم حالات بیان کر تھہ ہتھو اللہ تعالیٰ امہ پتہ تمین  
مسلمانن تم کو شش کران چھہ یم یہود گوشہ ایمان ان تہی خیلرہ ہتھہ تم غم کھیوان فرماوان کہ  
أَفَتَطْعَمُونَ أَنْ يُوْمِنُوا لَكُمْ اے مسلمانو! کیاہ تم ایت قصہ بوز تھہ چھوہ تہہ توقع کہ تہنزہ گوشہ  
سیت کیا ان تم یہود ایمان حالانکہ تمو ساروی قصو علاوہ ہتھہ بہنز بیاکھ اکھ عجیب کتھاہ کہ وَقَدْ كَانَ  
فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ پڑھاہہ یواندرہ  
ہتھہ اکھ جماعتہ گذر تمہہ بوزان آس خدایہ سند کلام تو پتہ آس تھہ تغیر و تبدیل کران تحریف  
لفظی تہ کران تحریف معنوی تہ کران زانتھہ کر تھہ دیدہ ودانستہ۔ بیہ آس تم زمانان یہ کتھہ کہ آس ہتھہ یہ  
ہتھہ کام کران۔ مگر اغراض نفسانی آسجھہ یہ ہتھہ کام کرنس پیٹھہ آمادہ کران وَإِذْ الْقُرْآنُ الَّذِينَ آمَنُوا  
قَالُوا أَمْثَلُ بیلہ تم منافق یہود مسلمانن سیت ملاقات آس کران تمین آس ونان اسہ تہ اون ایمان  
وَإِذَا أَخْلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُوهُمْ بِمَا فَتَمَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ  
تمہہ پتہ بیلہ تمو منافق یہود و اندرہ بعضے بین خالص یہودن نش و اتان آس تمین آس دپان آس چھہ توہی  
سیت متفق تم خالص یہود آسجھہ ونان ادہ کیاہہ چھوہ تہہ یمن مسلمانن تمہہ باوان سیمہ تمین مفید

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۴۷﴾  
 مِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا  
 يَظُنُّونَ ﴿۴۸﴾ قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ  
 يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ  
 لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿۴۹﴾ وَقَالُوا

مطلب چہ آسان یہ تھے اللہ تعالیٰ ان توہمہ نغمہ ظاہر بہ منکشف چہ کر مژہ تور اتس اندر۔ اس چہ  
 تمہ تھے مصلحتا پوشیدہ تھاوان تہہ چہوہ تمہہ تہہ نر او ان۔ امیک نتیجہ چہو کہ پگاہ قیامتک دودہ خدا یس  
 برو تھہ کنہ کر نوہ تم توہہ لاجواب یہ تھہ چھنا توہہ فکرہ تران۔ اَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ  
 وَمَا يُعْلِنُونَ کیاہ تمہن چھنا معلوم کہ اللہ تعالیٰ چہو نہ سوڑی زانان یہ تم پوشیدہ تھاوان چہہ۔ یہہ نہ  
 سوڑی یہ تم نزادان چہہ سو چھو با ایمان تہزہ ہسمہ سارے تھہ باوان۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ عام یہودن  
 ہند حال ظاہر کران وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ سمو یہود واند  
 چہہ اکثر ناخواندہ تہ ان ہر۔ تمہن چہہ خبری تور اتس منز کیاہ چھو لیکھتہ۔ مگر زانن تم دلس خوش کرہ  
 ونہ کینہہ ایزہ کھتہ یہہ تمو بوز مژہ چہہ پنہ نین غیر متدین عالمن نغمہ۔ مثلاً جنٹس منزواتن نہ یہودن  
 ورا ی کا نہ تہہ بیہ گرہ نادن تہہ مال ہڈبب تمہن ساری گونہن بخشائیش۔ سم آس تہہ خیالات باکل  
 بے دلیل تہہ بے سند۔ تمہہ فی الحقیقت کینہہ تہ زانان بل چہہ تم خیالی پلا ورتان۔ عوامن ہنزہ امہ تو  
 ہم پرستی ہند سبب چھو تہہ دین علماء ان ہنز خیانت قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ  
 يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا لہذا مہہ ہڈہ خرابی تہہ بر بادی ویل تہہ افسوس تمہن  
 عالمن ہندہ خیرہ ہم لیکھان چہہ کتاب یعنی توریت اورک یور تہہ اول بدل کر تھہ۔ بیہ چھس جملہ ناوان  
 پنہ طرفہ تہہ یہہ خوش چھہ کران تہہ تو پتہ چہہ ونان لوکن یہ چھو خدا یہہ سندہ طرفہ تھہ تمہہ سمیت تم  
 حاصل کرن تہہ زمین تمہن نغمہ مولاہ تہہ قیمتہ سٹھاہ کم قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۗ قُلْ أَتَّخَذُ ثُمَّ عِنْدَ  
 اللَّهُ عَهْدًا ۖ قُلْنَ يَخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَكُمْ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا  
 لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۱﴾ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَةُ  
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۲﴾ وَالَّذِينَ

يَكْسِبُونَ نہیں چھو تہمہرہ خیطرہ بوڈوئل تہ افسوس تمہ سببہ یہ تمویلوکھہ پنہ نیواتھو تغیر و تبدیل کر تھہ۔  
 بیہ چھو تہمدی خیطرہ وویل تہ افسوس تمہ موکھہ یہ تم امہ سیت زینان تہ حاصل کران آس۔ یود آس  
 دعویٰ کران کہ دین موسوی چھو نہ منسوخ نہ دین عیسوی سیت نہ دین اسلامہ سیت لہذا چھہ تم  
 بدستور مومن حضرت عیسیٰ سندس نبوتس یا حضرت محمد ﷺ سندس نبوتس انکار کرنہ سیت۔ تم کافر  
 چھنہ وون ہر گاہ تم بعضی گنہو سببہ جہنم منزواتن تہ آسہ کم کینہہ مدتہ خیطرہ۔ تو پتہ یین تم تمہ منزہ  
 کڈنہ یہ اوس یہودن ہند خیال۔ اتھہ خیالس تہمدس چھو اللہ تعالیٰ رد کران وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا  
 أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۗ وناں آس یہود پنہ خیالہ کہ اسہ لاکھ نہ نار جہنم اتھہ تہ مگر کینہونے ددہن زیادہ خوتہ  
 زیادہ تین دوہن اتین دوہن تہمد یو آباؤ اجداد وگوسالہ پرستی یعنی وژہ سنز عبادتھہ کر مژہ چھہ  
 قُلْ أَتَّخَذُ ثُمَّ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا ۖ قُلْنَ يَخْلِفُ اللَّهُ عَهْدَكُمْ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ جہہ فرما  
 ویو کہ حض یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے یہود و جہہ چھوہ اتھہ متعلق اللہ تعالیٰ اس نغیرہ کا نہہ تہتھہ  
 عمدہ روٹتہ تہ حاصل کورمت تہتھہ نہ سُو خلاف بیجہ کر تھہ۔ کنہ جہہ چھوہ خدا یس نسبت سوکھہ لاگان  
 صحیح نہ تو بہہ نش کا نہہ دلیلہاہ تہ ثبوتہاہ چھو۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان اکھ ضابطہاہ اکھ سیمہ سیت یم  
 لوکھ نارس اندر ابدال آباد روزہ وون آس بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَةُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ یہ تھہ چھنہ ہر گز صحیح یہ جہہ وناں چھوہ بلکہ چھوہ اسہ نشہ نارس اندر ہمیشہ  
 روزنہ خیطرہ اکھ ضابطہاہ تہ قاعدہ کلیہاہ مقررہ۔ سُو گواہی زہہ لیس شخصہاہ گناہ کرہ تو پتہ یین ولنہ تس پن گناہ  
 پر ہتھہ طرفہ۔ کا نہہ طرفہ آس یس نہ خالی گنہو نشہ تا یینکہ دل آس یس خالی ایمانہ تہ تصدیقہ نشہ یعنی بے



امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۲﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
 لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تَوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَذِي  
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ  
 حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ  
 تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۵۳﴾

ایمان نہ کافر آسہ جس تھی قسمک لوکھ چھ نار جہنم اندروانہ ون۔ تم روزن تھہ منز ہمیشہ لہذا آباد  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ دون سمولو کو پڑھ کر  
 خدا ایس بیہ ہندس پیغمبرس بیہ کرکھ ہندی حکمہ موجب رزہ رزہ کامہ امی قسمک لوکھ چھ جنتی تھے  
 روزن اتھہ منز ہمیشہ لہذا آباد۔ لہذا امہ قاعدہ کلیہ سیت سپردو یہودن ہندس باطل دعویٰ اس لیس تمو  
 کریاو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ بیہ پاوڑتس سو وقت یلہ مہ  
 تورا تس اندر بنی اسرائیلن نشہ عمد و پیمان روٹ۔ تھہ تھہ پٹھہ کہ عبادت نہ بندگی کرزنہ معبود برحقس  
 وراکی کانہہ ہنز۔ کیا زہ سنی یوت چھو عبادتس سزاوار ویا لوالدین احسانا و ذی القربى  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا بیہ کرہ ناو تم اسہ عمد ماس ماجہ کرزہ آشدان  
 نہ رشتہ وارن نسبت احسان بیہ کرزہ مسکین غریبن محتاجن نسبت احسان بیہ آسزہ عام لوکن سیت  
 رت پاتھ خوش خلقی سان تھہ کران وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ بیہ تھاوہ نماز برپا۔  
 پابندی سان آسو نمازاداکران۔ بیہ آسو ماچ زکوٰۃ دون ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ  
 وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ تو پتہ پھیردہ تہہ امہ عمدہ نغیر عمد شکنی کرہ توہہ کیشن لوکن ورا ی تم گئے  
 تھے یمو تورا تس پٹھہ پور پابند روز تھہ شریعت محمدیہ قبول کور۔ اے یہودو جہند عادتھے چھو عمد شکنی

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَاسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ  
 أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۸۲﴾  
 ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ  
 مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ

کرن۔ اقرار کرتے ہوئے پھر، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَاسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، یہ پاؤں سو وقت سے زلزلے میں اسے توبہ نشہ عمد روٹ سے کہتے ہند کہ تمہیں تہہ خانہ جنگی کرتے تھے، اگہ اک سُد خون ہارو۔ یہ تمہیں کڈ لو کہہ پن پان یعنی پانہ وان لو کہہ پنہ نیوشہ واندرہ تو پتہ کورہ توبہ اتھ پیٹھ پورا اقرار ضمنی اقرار نہ بلکہ صریح اقرار زن تہہ صحیح شہادت سے گواہی دو ان چھوہ، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تو پتہ تم تہہ موجودہ و قس منز بہود چھوہ تہہ تہ چھوہ تہہ صریح عمدہ پینس خلاف کرتے تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ پانہ وان چھوہ قتل و قال کر ان یہ چھون پن کہہ جماعت تہند یوشہ واندرہ نیر کڈ ان ترک وطن کر نس پیٹھ چھو کہہ تم مجبور کر ان یہ طریقہ کہ تہند پن مخالفن گناہہ سیت سے ظلمہ سیت۔ اتھ متعلق آس تم پیٹھ ترہ حکم واجب سپد مت کہہ حکم اوسکھ پانہ وان مہ آسو قتل و قال کر ان بیا کہہ حکم اوسکھ لو کہہ مہ آسیو کہ شہرہ منزہ نیر کڈ ان جلاء وطن کر ان تریم حکم اوسکھ کہ ہر گاہ تہہ پنہ قوم منزہ کا نہہ شخصہ بین نشہ گرفتار کرنہ اُمت و چھون سو آسزن ہارہ و تہہ موکلا و تہہ انان۔ سَمَوْتَرِيُو حَمُو منزہ آس نہ تم دون حکمن پیٹھ کا نہہ عمل کر ان صرف آس ترئیس حکمس پیٹھ عمل کر ان۔ صحیح صورتہ آس تہہ پانہ کہ مدینہ شریفنس منزہ آس کافرن ہند زہ قبیلہ کہہ اوس سے بیا کہ خُزْرَجِ سَمْنِ دُونَ اَوْسِ سَخْتِ عِدَاوَتِ حُنَيْنِيَةٍ وَقَتَهُ آسِ سَمْنِ جَنْجِ وَجِدَالِ وَقَتِ وَقَالِجِ لُؤَبِتِ وَاتَمَانَ۔ مدینہ شریفنس لہد پک آس بہودن ہند سے زہ قوم بسان بنی قریظہ و بنی نصیر۔ اوس سے بنی قریظہ آس پانہ وان دوست۔ تہہ پانہ آس خُزْرَجِ سے بنی النصیر پانہ وان کہہ اسعد دوست۔ یلہ کافرن ہند پن دون قبیلن

يَأْتُوَكُمْ أَسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُمْ مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ أَخْرَجَهُمْ  
أَفْتَوْمُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ

اوس بن خزر جن پانہ وان لڑائی و تھان آس یسودن ہندزہ قبیلہ بنی قریظہ بنی النخیر آس تمہ ساتہ پنہ  
نین پنہ نین دوستن مدد کران۔ بنی قریظہ آس قبیلہ اوس مدد کران بنی النخیر آس قبیلہ خزر جس مدد  
کران۔ یہ تھہ چھہ ظاہر کہ بنی قریظہ قتل و اخراج کران پیوان بنی النخیر س پیٹھہ۔ بنی النخیر کہ قتل  
و اخراج کران پیوان بنی قریظہ س پیٹھہ۔ البتہ ہر گاہ یسودن ہندیو سمودوشوی جماعتو اندرہ کانہ  
شخصہ جنگس اندر گرفتار سپدہ ہاتمہ ساتہ آس یہودی پنہ نین دوستن مال دتھہ راضی کران تس گرفتار۔  
سپد قس شخصس آس موکلاوتھہ انان۔ ہر گاہ کانہ شخصہ تمن اتھہ متعلق اعتراض کرہ ہاتس آس ونان  
کہ اسہ پیٹھہ چھو قیدی رہا کرہ ناون واجب۔ ہر گاہ کانہ شخصہ اعتراض اوس تمن کران کہ قتل و  
اخراج تے توبہ ناجائز اوس جہہ کیازہ چھوہ یمن دون چیزن اندر پہلو تہی کران دیان آس اسہ چھو پنہ  
نین دوستن اعانت و مدد کرنس پیٹھہ عاریوان۔ اللہ تعالیٰ چھو یمن یسودن ہنزاچی شکایت کران۔ پنہ  
نین لوکن مقابلہ تھندین دشمن مدد کرنہ اندرہ چھو مراد قبیلہ اوس و خزر جن۔ اللہ تعالیٰ ان فرمو گناہ و  
ظلمہ سیت آس تمن امداد کران۔ لمہ اندرہ چھو مراد کہ تم آس لمہ سیت زہ حق ضائع کران۔ اکھ خدایہ  
سند حق۔ کیازہ تھندس کھمس آس نہ تعمیل کران۔ بیہ اوس حق العبادتہ ضائع کران۔ کیازہ بین آزار  
وانتہ ناوان۔ تی چھو فرماوان اللہ تعالیٰ **وَإِنْ يَأْتُوَكُمْ أَسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُمْ مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ أَخْرَجَهُمْ**  
بیہ ہر گہ تمو لو کو اندرہ کیہ نہ لوکھ لڑایہ اندر گرفتار سپد تھہ توبہ نہ نش و اتان چھہ تم چھو کھ مال وندیہ دتھہ  
موکلاوان حالانکہ تم پنہ وطنہ منزہ کڈن تہ اوس توبہ پیٹھہ حرام۔ تھہ پاٹھہ تم قتل کرن تہ اوس تہہ  
پیٹھہ حرام مگر تمن دون کھن ہند چھنہ کانہ پرواہ کران ترسمہ کتھہ ہند یعنی ندیہ دتھہ قید موکلاوتھہ انہ  
نک چھو خیال کران **أَفْتَوْمُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ** لمہ اندرہ چھو ننان کہ تہہ چھوہ  
تورانہ کین اڈین کھن پڑھہ کران اڈین کھن انکار کران۔ **فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ**  
**فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** پس و نتو تھی کہ بس شخص توبہ اندر امہ صح کام کرہ تس ماشوبہ سزاؤ نیاچہ خواری تہ  
رسوائی و رای کنبہ تہ۔ چنانچہ تی او بمعمل بنی قریظہ آس قتل کرنہ۔ بنی النخیر آسے کبمال خواری جلاء وطن

مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْآخِرُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا  
 تَعْمَلُونَ ﴿۸۵﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ  
 فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۸۶﴾ وَ  
 لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

کرنہ مسلمان ہندہ ذریعہ و یوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب امہ علاوہ گوکھ کہ تہ من قیامتہ دوہہ  
 بیہ تراونہ سخت عذاب اندر و ما اللہ بغافل عما تعملون اللہ تعالیٰ جھنہ کیہنہ بیخبر تہنہ و چھہ کامیو  
 نشہ اولیک الذین اشتروا حیوۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون  
 امہ سزاک وجہ چھوای زہ تم لوکھ ہجہ تہ سمسو سائین حکمن ہنز مخالفت کرتھ مول ہنزہ دنیاچ حقیر  
 زندگی آخرتچہ پائیدار زندگی بدل سیمک ذریعہ اطاعت و فرمانبرداری اوس۔ پس بیہ نہ کم کرنہ تہندس  
 عذاب اندر۔ نہ بیہ تمن کانسہ وکیلہ سدہ طرفہ یادوست رشتہ دارہ سدہ طرفہ کئہ قسمہ مددنیاری کرنہ  
 و لقد اتینا موسیٰ الکتاب و قفینا من بعدہ بالرسل بیہ کراسہ اے بنی اسرائیلو جہندہ ہدایتہ  
 خیطرہ بروٹھہ پیٹھہ بندہ بڑ سامانہ مہیا۔ ساروی بروٹھہ کراسہ موسیٰ علیہ السلام کتاب توریث عطا۔  
 تمن پتہ سوزاسہ اکھ اگس پتہ بیہ پیغمبر۔ تم گئے حضرت یوشع علیہ السلام حضرت شمویل علیہ السلام۔  
 حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت ارینا  
 علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔  
 حضرت الیسع علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ  
 السلام۔ تم ساری پیغمبر اس لوکن نادووان دین موسولیس کن و اتینا عیسیٰ ابن مریم البیت  
 و اتینا ہرور القدس امہ خاندانہ کس اخیرس کوراسہ عطا حضرت عیسیٰ ابن مریمس نبوتچہ واضح  
 دلیلہ انجیل تہ بے بے معجزات۔ بیہ کوراسہ تمن تائید پاک روح یعنی جبریل امینہ سدہ سیت۔ سؤ

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ط  
 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ  
 فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿۸۵﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط  
 بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۶﴾

جبریل امین اوس پر تھہ وقتہ تمن سیت سیت آسان باوجود آل زودوہ تہہ سرکشی کران **أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ** کیا یہ پھنا نچ کتھہ کہ یلہ یلہ کانہہ پیغمبر اہ توہہ نشہ آو تم احکام پیٹھہ تم نہ تھند دل یرھان آس تمی کوروہ توہہ تمن پیغمبرن ہنز اطاعت قبول کرنہ نشہ تبکر کران شروع **فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ** توے آسوہ تمو پیغمبر واندرہ اڈین پیغمبرن نعوذ باللہ اپزیر زانان۔ اڈ پیغمبر کروکھ شہید۔ رُوح القدس چھوونہ آمت قرآن وحدیث شریفس منز اکثر جبریل امینس۔ جبریل امینہ سند موید آسن حضرت عیسیٰ علیہ السلامن چھووار یسوطریقو۔ اول ولادتکہ وقتہ یمہ سیت تمن شیطانہ سندہ اتھہ لاگنہ نشہ حفاظت سہنز۔ دو تم دیت جبریل امینن حضرت مرتس پھوکھ۔ تمی سیت سید استقرار حمل عیسوی تھند س شکم مبارکس اندر تو پتہ آس یسود بکثرت تھند ڈشمن۔ جبریل امین اوس تمن سیت سیت حفاظتہ خیطرہ چنانچہ بالآخر آی تم آسانس پیٹھہ کھارنہ بذریعہ جبریل امین یسود وکور حضرت عیسیٰ سندس نبوتس انکار۔ بیہ کرکھ حضرت سحلی بیہ حضرت ذکریا شہید **وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ** بیہ تھہ ومان یسود تھنہ پاتھہ کہ سان دل چھہ تھہ محفوظ کہ تمن پیٹھہ بھنہ مخالفت کانہہ دین اثری کتر تھہ۔ یعنی آس چھہ پنہ نس دینس پیٹھہ پنہتہ تہ مضبوط۔ اللہ تعالیٰ چھو تھندس یہ کتھہ ونہ نس رد کران۔ فرماوان چھو یہ بہنز پوختہ گی دینس پیٹھہ چھنہ۔ بلکہ چھہ اللہ تعالیٰ ان تمن لعنت کر مژ تھندہ کفرہ سببہ تمی چھہ تم دین تھہ اسلامہ نشہ دور نزلان تہ منسوخ دینس پیٹھہ قائم روزان پس سیٹھہ کم چھو تھند ایمان سو کم ایمان قابل قبول بھنہ آتھہ لہذا چھہ تم بدستور کافر **وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ**

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ  
 وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا  
 جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۸۵﴾  
 بِسْمِهَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِهَا أَنزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا  
 أَنْ يُنَزَّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

تو پتہ یلہ تم نل سولکتاب واثر خدایہ سده طرفہ یوسہ کتاب تھے کتابہ تہ آس تصدیق کران یوسہ  
 بروٹھے تم نل آس یعنی تورایت وکانونا من قبل یستفتیحون علی الذین کفروا حالانکہ تم آس  
 امہ بروٹھے فتح و نصرت مکان خدایس کافرن تہ عربہ کین مشرکین پٹھے۔ یلہ تم یمن پٹھے غالب  
 سپدان آس۔ چنانچہ تمہ وقتہ آس دعا کران اللہم ابعت هذا النبى الذى نحدہ مکتوباً فی التوراة  
 عندنا حتى نعدب المشرکین ونقاتلہم یعنی یا اللہ سوزن تہ یہ پیغمبر یسند نعت تہ صفت چھہ آس  
 پران تورائس اندر۔ تاکہ تم سیت اتفاق کر تھہ کرہ ہو آس یکہ و تہ کافرن سیت جنگ۔ اللہ تعالیٰ چھو  
 فرماوان فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به پس یلہ آو تم نلش سو صاحب یس تم پرزہ ناوان آس  
 صفتو سیت تس صاحبس کو رکھ انکار عمد او قصد کیا زہ کہہ اوس تم پیغمبر ان انکار کران عاد تھی۔ دو سہم  
 اوس تم گمانہ کہ پیغمبر آخر الزمان آسہ بنی اسرائیل قومہ منزہ۔ خداین کوریہ ہندس خیالس بدل۔ تمی  
 گو یمن آس پیغمبر برحقہ سند حسد تہ عناد فلعنة اللہ علی الکفرین پس لعنت بوین یمن کافرن یعنی  
 یہودن پٹھے۔ نبو پزس انکار کوریدہ و دانستہ بسمها اشتروا به انفسهم ان یكفروا بها انزل اللہ بعیا  
 ان یُنزَلَ اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ سو حالت چھہ سیٹھاہ خراب تہ چھہ یوسہ سمو  
 اختیار کر تھہ پتہ گمانہ پنہ نین پان تم آخر چھہ عذابہ نشہ موکلاون یٹھان چھو۔ سہ حالت گہ کفروا انکار  
 کرن تھہ چیزس بس اللہ تعالیٰ ان آس پیغمبر برحقس پٹھے نازل فرمو یعنی قرآن مجید۔ سو انکار تہ  
 چھہ کران تم محض سرکشی تہ ضد کریمہ سببہ کہ اللہ تعالیٰ کیاہ چھو نازل کران پن فضل پنہ نبو بند

فَبَاءٌ وَيَعْصِبُ عَلَى غَضَبٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۹۰﴾ وَإِذْ أُقْبِلَ لَهُمُ الْوُجُوهُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيُكْفَرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۹۱﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ

واندرہ بس بندس پٹھے یرھان چھو۔ یعنی حضرت محمدس پٹھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امہ حسدوسر کشی سببہ فَبَاءٌ وَيَعْصِبُ عَلَى غَضَبٍ پس آے زیتھہ یم یہود اکس بیزاری پٹھے بیاکھ بیزاری۔ انکار نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرنہ سببہ اکھ بیزاری۔ انکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنہ سببہ بیاکھ بیزاری یا کفرہ سببہ اکھ بیزاری حسدہ سببہ بیاکھ بیزاری وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ یمن کافر ن آسہ آخر تس اندر سومی عذاب یتھہ اندر ذلت نہ خواری آسہ۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان یمن یہودن ہندہ کفر حسد چ دلیل۔ وَإِذْ أُقْبِلَ لَهُمُ الْوُجُوهُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيُكْفَرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۚ یلمہ تم ن یہودن و نہ چھو یوان کہ تہبہ انوا ایمان تمن ساری کتابن پٹھے یسہ کتابہ اللہ تعالیٰ ان نازل کرہ وار یمن پیغمبرن پٹھے تمہہ سائہ چھہ دپان اس کر پڑھہ تھہ کتابہ یوسہ اسہ پٹھے بواسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نازل کرنہ آیہ یعنی تورایت تمہہ علاوہ، ہمہ کتابہ چھہ تمن چھہ کران انکار۔ یعنی انجیلس نہ قرآن مجیدس۔ تمن دوشون چھہ کران تم انکار و ہُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ حالانکہ تمہہ کتابہ نہ چھہ درذات خود پڑہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر مرثہ۔ تمہہ علاوہ چھہ تمہہ دوشوے کتابہ تصدیق کران تھہ کتابہ یوسہ تمن نشہ چھہ یعنی توراتس قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ تہہ فرما یو کہ یارسول اللہ تلہ کیاہہ آسہ کہ تہہ قتل کران خدایہ سد پیغمبراز کہ بروٹھہ ہر گاہ تہہ توراتس ایمان اندہ ون نہ پڑھہ کرہ ون آسہ۔ لہذا چھہ تہہ س کا فر آسہ اندر شکی کا نہ۔ تمہہ علاوہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ

مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَنْتُمْ  
ظَالِمُونَ ﴿۹۱﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ  
الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا قَالُوا سَمِعْنَا  
وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ  
قُلْ بِسْمَايَا مُرْكُم بِهِ آيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۹۲﴾

بَعْدِهَا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بے آویشک توبہ نش حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید و رسالت صحیحہ صاف صاف  
دلایلہ بیٹھے۔ سگو عوا۔ ید بیضا۔ دریاوس شق کر تھے اُپور ترن۔ تم معجزات آس تہندس نبی برحق  
آس پٹھے دلالت کران۔ مگر توتہ زُون توبہ گو سالہ یعنی ووژھ سونہ سُنہ پُن معبود حضرت موسیٰ  
سندہ کوہ طورس پٹھے گشہنہ پتہ آسوہ تہہ ووژھ معبود تجویز کرنس اندر ظلم و ستم کرہون تہہ چھوہ دعویٰ  
کران تور اتس پٹھے ایمانک مگر یہ کام پٹھے صریح شرک سمعہ سیت لازم چھو یوان بصراحت حضرت  
موسیٰ اس تکذیب کرن۔ لہذا تھہ پاٹھ ہکن تم با ایمان آتھہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا  
فَوْقَكُمُ الطُّورَ بے چھو سو وقت تہ ژیتس پاونس لایق یلہ اسہ توبہ نشہ عمد و بیان رتھہ کوہ طور  
تجووسی تھاو یواسہ تہندس کلن پٹھے ہکن۔ تو پتہ فرماو یواسہ توبہ حکم۔ خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ جلد  
کمز و قبول تور اتک تم احکام تم اسہ توبہ دت عمل کرنہ خیطرہ ہمت و چنگلی سان تہ تراو و آس یہ کوہ  
طور توبہ پٹھے وَاسْمِعُوا بے بوزو احکام وارہ دلو سیت۔ تمہ پتہ کور تم کوہ طورہ پٹھے پنہ کہہ خوفہ قالوا  
سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا دؤ پٹھے بوزاسہ قبول کورنہ اسہ۔ بوزاسہ کتو سیت مگر عملا کرو اس نافرمانی۔ امہ  
تہنہزہ بد عملی ہندو جہ اوس کہ وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ تہند دل آس چاونہ آمت و ژھہ سُنہ  
تہ و ژھس پرستش کرنک حجت بِكُفْرِهِمْ تہندہ برو ٹھمہ کُفرہ سب۔ یلہ تمودریا وہ غیرہ عبور کر تھہ اُپور  
واتھہ آکھ بت پرست قوم و چھتھہ درخواست کور حضرت موسیٰ اس اجْعَلْ لَنَا آيَاتًا كَمَا آتَيْتَنَا بِالْحَقِّ  
سانہ خیطرہ کریون حض مقرر آکھ جسم معبودہ اتھہ پاٹھہ یمن لوکن چھہ قُلْ بِسْمَايَا مُرْكُم بِهِ



قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۷﴾ وَ لَنْ يَتَمَتَّوْهُ أَبَدًا إِلَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۹۸﴾ وَ لَتَجِدَنَّ أَهْرَاصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوَاتِهِمْ مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

ایماناً کہ اگر تم مؤمنین تھے فرما دو تم نے یہودوں سے ایمانک دعویٰ چھوڑے یہود و چھوڑتے تھے تمہارا ایمان کہہ کہ کفر چہ کلمہ چھوڑتے کہہ کرناومت تمہارے کلمہ کاڑھا چھوڑتے۔ تم نے کایں ہند تجویز تو بہ کورمت چھوڑتے ایمان اگر تمہارے ہند نے خیالہ با ایمان چھوڑے۔ بعض یہود آس دعویٰ کران زہ آخرتہ تمہارے چھوڑے خالص سانی خیطرہ۔ اللہ تعالیٰ ان فرمودہ تمہارے یہ دعویٰ چھوڑے باطل۔ فرمودوں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اے پیغمبر برحق تمہارے فرما دو تم نے یہودوں ہر گاہ تمہارے ہونہ موجب عالم آخرت محض تمہاری خیطرہ خاص چھوڑے یولوگو ورا ی پس کر تو تمہارے موٹک تمنا چھوڑے پزیرا تمہارے دعویٰ اس اندر۔ اس چھوڑے سنی و نان کہ و لَنْ يَتَمَتَّوْهُ أَبَدًا إِلَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ تم یہ دعویٰ کہہ و ن یہود کران نہ ہر گز موٹک تمنا کیا زہ تم چھوڑے خبری تم چھوڑے کایں ہند سزا چھوڑے تم ضرور کھیون۔ لہذا تمہارے پاٹھ کران تم موٹک تمنا۔ اللہ تعالیٰ اس چھوڑے پور خبر تم نے ظالمین ہندین حالات ہنز و لَتَجِدَنَّ أَهْرَاصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوَاتِهِمْ تم لو کہ کیاہ کران موٹک تمنا البتہ لمیو کہ تم ساروی لو کو اندرہ پڑ حریص زندگی پیٹھ و من اَلَّذِينَ أَشْرَكُوا بے لیمو کہ تمہارے تم مٹر کن ہندہ کھوڑے زیادہ طامع نہ حریص زندگی ہند۔ یَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ آرزو نہ خواہش چھوڑے کران تموا اندرہ پر تمہارے اکھاہ ہر گے تس و انس نہ عمریہ ہس و نہ اکھ ساس و رہ تمہارے سیت چہ ہاسو عذابہ نشہ و مَا هُوَ بِمُزْحَضٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ حالانکہ تس بیچہ نہ عذاب نشہ دور تھا و تمہارے نہ بجا و تمہارے زہ تمہارے عمر حاصل سپدن وَاللَّهُ بَصِيرٌ لِّمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ

وَمَا هُوَ بِزَحْرَجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعْتَكِرُوا اللَّهَ بِصِيرِيهَا  
 يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ  
 عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى  
 وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۸﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَ  
 رُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۹﴾

چھو پورو چھن دول تهنرہ سارے پیچھ کامہ تمکن پیٹھہ تمن عذاب کرنہ بیہ۔ یہود آس وانان کہ جبریل امین چھو وحی بیتھہ یوان بنی کر تمس نشیہ صلی اللہ علیہ وسلم سو چھو سون دشمن ہر گاہ آس ور اکی بیہ کانہہ ملکہا وحی بیتھہ یوان آسہ ہاتلہ انہ ہو اس تہ ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھو تمن رد کران فرماوان چھو قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فرماو وحض یمن یار رسول اللہ لیس اکھاہ جبریل امین سند دشمن آسہ آستن۔ اتھہ تھہ چھنہ کانہہ دخل قرآن مجید نہ مانہ نس سیت کیا زہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ پس بیشک جبریل امین وول یہ قرآن مجید تہ واتون تھنہ دلس اندر خدایہ سند ی حکمہ۔ اتھہ منز چھنہ جبریل امینہ سند کانہہ دخل۔ تمہ علاوہ چھو یہ قرآن مجید مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ تصدیق کران تمن آسمانی کتابن تمہ امہ بروٹھہ نازل سپز مژہ چھہ۔ اتھہ ونس کن کیاہ چھو وچھن پانہ قرآن مجید س کن پزہ وچھن تہ حقیقت چھہ کہ سو چھو وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ رہنمائی کرہ ون ضروری مصلحتن کن تمہ سیت خیر دارین حاصل سپدہ بیہ چھو سو خوشخبری دودہ ون باایمان۔ آسمانی کتابن ہنز چھہ شان بیہ آسان۔ ہر حال یہ قرآن مجید چھہ آسمانی کتاب قابل اتباع و پیروی جبریل امینہ سندہ عداوتہ سببہ یہ قرآن مجید نہ مان گیہ سخت حماقت پس رود جبریل امینہ سندہ عداوتک مسئلہ تھہ متعلق چھو قانون کہ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ لیس شخصہہ دشمن آسہ خدایہ سند بیہ تھنہ ین ملاکن ہند بیہ تھنہ ین پیغمبرن ہند بیہ جبریل امینہ سند بیہ میکا مکہ سند آدہ آستن پس پز پاتھہ اللہ تعالیٰ تہ چھو دشمن چھن کافرن

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْبَيِّنَاتِ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا  
 الْفَاسِقُونَ ﴿۹۹﴾ أَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدٍ وَعَهْدٍ ابْتَدَاهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ  
 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ  
 اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ بَدَّ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

ہند سم جہندین سخن خاص ہند ہند دشمن آسن یہود آس وان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلم توہم پٹھہ کونہ چھہ تڑھہ کاہنہ واضح دلیلہ نازل سپدان کج آسہ کاہنہ زان پچھان آسہ ہا تمحسی  
 جو اہل اندر چھو اللہ تعالیٰ فرماوان کہ ہمہ دلیلہ ہنز کیاہ کھی چھہ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْبَيِّنَاتِ وَمَا  
 يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ بیٹک آسہ کرہ نازل توہم پٹھہ یار رسول اللہ واریاہ واضح دلیلہ بین دلیلن  
 ہنز بین یہودن پور خبر چھہ۔ مگر تم چھہ تمن دلیلن انکار کران بے خبری سبب۔ بلکہ چھہ ہم انکار کران  
 عدول کھی ہند عادت آسہ سبب کیاہ قاعدہ گلیہ چھو کہ انکار چھونہ کران واضح دلیلن مگر سوئی نیس  
 عدول کھی ہند عادت آسہ تھے گئے فاسق۔ بعضے یہودن یلہ سو عمد ژتس آو پاونہ نیس عمد تمن نشہ  
 ہینہ اوس آمت توراتس اندر پیغمبر آخر الزما نس پٹھہ ایمان اندہ نس تہ پڑھ کرہ نس متعلق۔ تمہو کرو تھہ  
 عمدہ سی کیفیت انکار۔ لہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ اتھہ متعلق ارشاد فرماوان أَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدٍ وَعَهْدٍ ابْتَدَاهُ  
 فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کیاہ یہ عمد ہمیں چھا تمن انکار۔ ہنز حالت چھہ ہمہ کج  
 کہ تمہو چھونہ تسلیم کرنہ آمت عمد زاہ تہ پورہ کورمت۔ بلکہ یلہ یلہ سو عمد نیس متعلق کاہنہ عمد کورمت  
 چھو سو چھو ضرور تمہو آندرہ اک جماعتن چھہ رودمت۔ بلکہ تعمیل و ایفای عمد نہ کرہ و آندرہ نیر اکثر تھے  
 بین نہ تمہہ عمدک یقینی چھو تعمیل و ایفای عمد نہ کرن اوس فسق۔ مگر تھہ عمدس کلہ پٹھے انکار کرن  
 گو صورت کفر یتس فرمو کہ کہ اکی جماعتن یہود و آندرہ چھہ رود سو عمد۔ کیاہ بعضے یہود رود قائم تھہ  
 عمدس پٹھہ بدستور۔ چنانچہ تمہو اوان ایمان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امہ پتہ چھو اللہ  
 تعالیٰ فرماوان جہندہ ہمہ خاص عمد شکنی ہنز ذکر وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

الْكِتَابُ كَتَبَ اللَّهُ وَرَأَى ظُهُورَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾  
 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ؕ وَمَا  
 كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا وَيَعْلَمُونَ النَّاسَ  
 السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

بِنَدَىٰ فَرِيقٍ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وَرَأَى ظُهُورَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. بے یلہ آؤ تم  
 عن اکہ عظیم الشان تہ جلیل القدر پیغمبر خدا یہ سہ طرفہ یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم  
 اُس صاحب پیغمبر برحق آتھہ تصدیق تہ کران اوس تھہ کتابہ یوسہ تمن نش موجود آس یعنی توراتس  
 کیا زہ تھہ کتابہ منز آس تہمدہ نبوتی خبر۔ تھہ عن نظر کر تھہ اوس تمن نسبت ایمان ان تہ پڑھ کران عین  
 توراتس پڑھہ عمل کران۔ توراہمہ کتاب اللہ آس آس تم تہ پڑھ کران۔ تھہ آس تم خدایہ سنز  
 کتاب مانان تہ تسلیم کران مگر باوجود اکل تر و اہل بتاؤ یعنی یہود و اندرہ اک جماعتن یہ کتاب اللہ یعنی  
 توریت پس پُشت تہ پڑھ پڑھہ کہ زن نہ تمن امہ کتاب اللہ آج خبری آس تمہ بدل کوزکہ بیاکھ چیزہ  
 اختیار وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمٍ ؕ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا  
 يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ سمہ آیہ کہ سمہ ترجمہ و تشریح بیان کرنہ بردنھہ یوزونہہ یہ کتھہ کہ  
 بردنھہ وقتہ اوس دنیاس اندر خاص کر تھہ شہر بابلس اندر سحرک تہ جاڈیک سیٹھہ زور و شور تہ چرچہ  
 جادک تہ سحرک عجائبات و جھتھہ اوس جاہل لوکن اشتباہ تہ ترڈ سپد مت کہ حضرت انبیائن ہندین  
 معجزاتن ہنز حقیقت تہ ما آسہ امی کج چنانچہ بعضی ساحرن آس لوکھ مقدس نظرہ و جھتھہ واجب  
 الاتباع زانان بیہ آس بعضی لوکھ سحرس رزکام زاتھہ سو پچھہ نچ کوشش کر تھہ تھہ پڑھہ عمل کران  
 یرشہان۔ اللہ تعالیٰ ان یو تھہ یہ غلط خیال گوہہ لوکن نشہ دور سپدن۔ تم سوز شہر بابلس اندر زہ ملک  
 آکس اوس نادہاروت بیس اوس نادماروت می کامہ خیطرہ کہ تم تارن لوکن فکرہ سحر ج حقیقت تائیکہ تم  
 روزن سحرس پڑھہ عمل کرنہ نشہ پتھہ بیہ گزان نہ سائرن ہنز پیر وی تہ متابعت اللہ تعالیٰ جھو فرماوان

وَمَا يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا

کہ بیہ چہجہ یہود تمہے بے عقل کہ تمہو کرنے خدا یہ سزہ کتابہ ہنز متابعت بلکہ کر تمہو متابعت تمہے سحرچ سیمیک چرچہ کران آس شیطان یعنی خبیث جن حضرت سلیمان سدس عمد حکومت اندر بیہ آس بعضے بیوقوف حضرت سلیمان پٹھہ سحر زانہ نگ خیال کران بس محض غلطی لغو اوس کیا زہ سحرک اعتقاد تھاوان یا تمہے پٹھہ عمل کرن پٹھہ بالکل ٹھہ حضرت سلیمان علیہ السلام پٹھہ زانہ تہ ثعود باللہ سحرچ کانہہ کو ماہ کر مژ لیکن شیطان یعنی خبیث جن آس بے شک کفر چہ تمہے، کفر چہ کامہ یعنی سحر کران۔ پانہ سو کو مہ کر تہہ آس لوکن تہ سحر پٹھہ ناوان سوی سحر و تاز تام۔ تمی سحرچ چہ تمہے، ہم یہود پیروی کران وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَيِّنَاتٍ هَادِيَاتٍ وَمُلَوَّنَاتٍ۔ بیہ چہ تم یہود تمہے سحرچ پیروی کران بس سحر دون ملکن پٹھہ نازل کرنہ اول کلمہ خاص حمیتہ موکھ یم شہر بابلس اندر روزان آس یمن دون ملکن ناوانس ہاروت و ماروت وَمَا يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ تم زہ ملک آس نہ سحر پٹھہ ناوان کانہہ آگس یوت تان نہ احتیاطا گوڈہ تس و نان آس سون وجود تہ پٹھہ مخلوقن بندہ خاطرہ آزمائش تہ امتحان خدا یہ سدہ طرفہ پٹھہ لوکن متعلق سائہ ذریعہ سحرس پٹھہ مطلع سہدت ظاہر سہدہ کہ سہہ پٹھہ تمہے اندر پٹھہ گمراہ سپدان۔ سہہ پٹھہ ہن پان بجاوان۔ لہذا اتھنہ ژہ سحرس پٹھہ مطلع سہد تہ کافر سپد کہ یعنی سحرس اندر پٹھہ سہہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ پس آس بعضی لوکھ پٹھہ تان ملکن نشہ تمہے قسمک سحریمہ سیت تم دون باژن اندر جدائی کران آس وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ یم ساجر آسنہ ہیکان کانہہ آگس گنہ قسمہ ضرر واتاوتھ امہ سحرہ سیت مگر خدا یہ سندی حکم تقدیرہ سیت۔ یعنی سمسدہ حقہ تم کانہہ ضرر تکلیفہ

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ تَبَوَّأَتْ لِمَنْ  
 مَآشِرَ وَايَةٍ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ  
 آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا  
 يَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَ

یہ تھمت آسہ ہا۔ وَيَتَعَلَّبُونَ مَا بَدَحُوا وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ بیہ آس پھنجان تم تمہ قسمک سحر نیس تمن  
 گناہ آسنہ موکھ مفر اوس۔ بیہ اوسنہ تہمدہ خیطرہ کانہہ خاص نفع واتاودن چیزاہ۔ تم یہود چھہ تھہ  
 سحر س متابعت کر تھہ سخت نقصانس نہ ضرر س اندر گرفتار۔ یہ تھہ چھہ آس یوت دان۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا  
 لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ بلکہ یہ تحقیق تم یہود تہ چھہ یہ تھہ ضرور زمانا کہ یس  
 شخص کتاب اللہس بدل سحر چھو اختیار کران تس شخص چھو نہ آخر تس اندر کانہہ حصہ باقی روزان  
 وَلَيْسَ مَآشِرَ وَايَةٍ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ بیہ کوتاہ تھہ چھو سوجیز یعنی سحر نہ تقر تھہ تمو  
 کن تہ فروخت کر بن پان کاش تے زمانا آسن۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ  
 خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ بیہ ہر گاہ تم لوکھ کفرہ تہ سحرہ بدل ایمان انہ بن۔ پرہیز گاری تہ تقویٰ  
 اختیار کرہ بن تھہ صور تس اندر اوس خدایہ سدا جرتہ ثواب تہ معاوضہ سیٹھاہ بہتر امہ کفرہ تہ سحرہ نیشہ  
 کاش تے کینہہ زمانا آسن۔ بعضی یہود و کور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنزہ مجلسہ اندر  
 محض شرارتہ کن لفظ راعنا دن شروع۔ یہ لفظ چھو عربی تہ عبرانی تہ۔ عربی لفظ آتھہ چھو امیک معنی  
 سون کر تو حض رعایت۔ یعنی یہ مضمون نیس تہہ بیان آسہہ کران سو فرما و تو حض بیہ دوبارہ۔ اسہ حض  
 تور نہ یہ وارہ فکرہ عبرانی لفظ آتھہ چھو امیک معنی تھہ نہ خراب۔ تم یہود آس تمی معنیہ تمن برو تھہ  
 کنہ یہ لفظ استعمال کران عبرانی پاٹھہ چھو امہ لفظک معنی اے احمق۔ عرب دان صحابہ صیب آس نہ اتھہ  
 یہودن ہندس شرارتس واقف سپد مت تم تہ آس یہ لفظ امیک زت معنی بوزت استعمال کران۔  
 حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن خطاب کر تھہ یہ لفظ استعمال کران تمہہ سیت آس تمن

قُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۰۴﴾  
 مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ  
 أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ  
 بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۰۵﴾

شرارت کرہ نچ بیہ ہن گنجائش تہ موقعہ حاصل سپدان اللہ تعالیٰ ان تھاونہ تمس ان گنجائش عنہ قسمہ باقی۔ تمہو فرمو و مسلمانن یہ لفظ استعمال کرنہ نغیرہ ممانعت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا اے باایمانو تہمہ مہ آسہو و نان لفظ راعنا بلکہ آسہو و نان یلہ توبہ امہ قسمک مطلب ظاہر کرنچ ضرورت پیوان آسہ انظُرْنَا امہ لفظک معنی تہ چھو سانس حاس گن کر تو ہنر نظر۔ اسہ نہ حض تور نہ پورہ پاٹھ فکڑہ تہند کلام شریف **وَاسْمَعُوا** بیہ بو زوالے باایمانو وارہ یہ حکم یاد تھاو کہ **وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ** یمن کافرن ہندہ خیطرہ چھو کڈر عذاب۔ پیغمبر برحق نسبت امہ قسح گستاخی گرن اکھ پانہ بیہ کرہ ناون دو چھہ دتھہ بین لوکن اتھہ تہ امہ قسح گستاخی پنہنہ چالا کی سیت۔ بعضی یہودی آس بعضے مسلمان قسم ہاوتھہ و نان کہ اس چھہ تہند دلی خیرہ خواہ۔ بیہ چھہ آس یرٹھان کہ تو بہ گتھہ دینی احکام خدایہ سہہ طرفہ سانہ خودتہ رت عنایت سپدن تم احکام آس تہ قبول کر ہو۔ مگر کیاہ بنہ تہند دینی احکام چھنہ سانیو دینی احکامو خودتہ زیادہ رت کینہہ تہ اللہ تعالیٰ چھو بہندس اتھہ خیر خواہی ہندس دعویٰ اس تر دید و تکذیب کران فرماوان چھو **مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ** ہرگز چھونہ پسند کران کافر لوکھہ اوہ تم اہل کتابو اندرہ آستن یا مشرکو اندرہ آستن ہتھہ تھہ کہ تہندس پروردگار سہہ طرفہ کیاہ سپدہ توبہ پیٹھہ نازل کانہہ رٹکھہ۔ یعنی تم چھنہ ہیکان زرتھن توبہ کانہہ خیر و ائن حسد و عداوتہ کن بل چھوہ تم زیوہ سیت ظاہر کران۔ دل چھنہ تہندہ حسدہ سیت برتھہ۔ مگر تہندہ امہ حسدہ سیت بنہ کینہہ **وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ** کیا زہ اللہ تعالیٰ چھونہ رحمت و عنایت سیت خاص کران یس یرٹھان چھو تس

مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِمَّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۶۷﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّالِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۶۸﴾ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ نَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ بُوذُ فَضْلٍ عَطَا كَرَنِ وِوَل۔ بہودو کر یو و اعراض قبلک حکم بدلس پیٹھ۔ تھہ پاٹھ کر یو بعضے مشرکوتہ اعتراض بعضی حکمن ہندس منسوخ سپدلس پیٹھ۔ تھہ اعتراض پیٹھ اللہ تعالیٰ رد فرماوان **مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِمَّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا** اسے سُنہ آیہ کریمک حکم منسوخ کران چھہ۔ یا چھن سو آیہ کریم ذہنوشہ مشر وان یہ چھنہ اعتراض کرہ نچ کا نہہ محلی کیا زہ تھہ بدل چھہ آس تمہ خوتہ رت یا تھہ ہویا کھ حکماہ جاری کران۔ اتھہ منزہ چھہ آسان بجرہ بجرہ حکمہ تہ مصلحت۔ اے اعتراض کرہ ونہ شخصہ **أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** کیا زہ چھوی نامعلوم کہ اللہ تعالیٰ ہُوہو پر تھہ چیزس پیٹھ قدرتہ وول۔ **أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** بیہ چھوی نا زہ معلوم کہ اللہ تعالیٰ اسی چھہ خاص سلطنت آسان تہ زمین ہنزلس چھہ کلی اختیارات سارنی کا مین ہندیلہ نہ لس اتھہ قدرت و سلطنتس منز کا نہہ اکھاہ شریک تہ حصہ دار چُوہو۔ لہذا تمن مصلحتن ہند رعایت کر تھہ دو ستم حکم جاری کرنس اندر گس اکھاہ بیجہ لس مزاحت تہ گانگل کھر تھہ لس چُوہونہ دو ستم حکم جاری کرنس اندر کا نہہ ہتھہ رتہ ون۔ نہ چھوس کوڈنیک حکم برقرار تھا ونہ نشہ کا نہہ اکھاہ ہتھہ رتہ ون۔ یہ تھہ تہ بوز زہ واره کہ **وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّالِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ** بیہ چھونہ کا نہہ اکھاہ اللہ تعالیٰ اس ورا ی ہتھنہ دوست تہ نہ یار مددگار وون یلہ سو ی ہتھن یار چُوہو سو کریا کا نہہ کومہ مصلحتہ ورا ی۔ بیہ یلہ سو ہتھن مددگار چُوہو ہتہ یلہ ہتھن حکمن پیٹھ عمل کرو۔ سور چھہ توہہ مخالفن ہندہ مزاحتہ شرہ نشہ۔ حکم ثانی بہتر یا تھہ ہو آسن ہجہ باعتبار ثواب تہ آتھہ۔ سُنہ ہجہ باعتبار آسانی تہ آتھہ یعنی دو ستم حکم آسہ گوڈبجہ حکمہ خوتہ آسان۔ یہ تہ ہجہ ہتھہ کہ دو ستم حکم آسہ گوڈبجہ کچھ معانی ہند حکم۔ دو ستم حکم



سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ  
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۰۸﴾ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  
لَوْ يَرُودُ وَنُكْمٌ مِّنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ لَقَارَأْتُمْ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ  
أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا

جاری کرنس اندر چھہ سمہ تھہ ضروری کہ سُدوسم حکم جاری کرنس اندر چھہ ضرور کہہ نہ کہانہ  
مصلحت بیہ چھو سُو حکم قادر مطلق۔ بیہ چھو حاکم محکوم من بند خیر خواہ۔ ہر گہ کانہ اکھاہ محکو من ہنز  
مزاہمت کرہ سُو چھو تمن محکو من مدد کران۔ بعضی چھو قانون بدلاونہ یوان۔ سمہ وجہہ کہہ قانون  
بناون والس چھہ کنہ کانہ غلطی آسان تھہ منز گمہ۔ امہ قسح تبدیلی یا نسخ چھو احکام الہین منز حال کیاہہ  
اللہ تعالیٰ چھو غلطی گزہنہ نش منزہ تہ پاک۔ بعضی چھہ حکم بدلاونہ یوان محکو من ہنز حالت بدل سپدنہ  
خیطرہ تھہ پاٹھہ مریضہ سز حالت بدلنہ موکہ چھو نسخہ تہ علاج بدلاونہ یوان۔ تھہ ہیو نسخ چھو جائز تھہ  
منز چھونہ کانہ اشکال عقلی یا نقلی۔ بعضی یہود و کور عناد اعرض در خدمت صلی اللہ علیہ وسلم  
کہ تھہ پاٹھہ ہز حضرت موسیٰ علیہ السلام پٹھہ توریت نازل سپدیکہ ونہ۔ تھہ پاٹھہ ہز گوٹھہ قرآن  
مجید تہ توہہ پٹھہ نازل سپدن۔ اتھہ متعلق چھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماون **أَمْ تَرْيَدُونَ أَنْ نَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ**  
**كَمَا سَأَلْنَا مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ** اے یہود و کیاہہ تہ چھو ہر شان پنہ نس موجودہ پیغمبرس تمہ قسمک  
سوال کرن تہ درخواست کرن۔ سمہ قسمک درخواست تمہدین مالین تہ بدین ہندہ ذریعہ چھہ ازہہ بروٹھہ  
حضرت موسیٰ اس کرنہ آمت۔ مثلاً لہہ ہاویون حض اللہ تعالیٰ وارہ کارہ ن پاٹھہ۔ لہہ قسمک درخواست  
سمہ منزہ صرف پیغمبرس پٹھہ اعتراض گزہنہ خدایہ سزنا مصلحتن ہنز مزاہمت کرن مقصود آہہ تمہ تہ  
آسنہ ایمان آنہ نک تہ پڑھ کرہ نک کانہ ارادہ یمہ گنیہ صریح کفر چہ تھہ **وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ**  
**فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ** بس شخص ایمان انہ بدل کفر چہ تھہ کرہ پس پڑ پاٹھہ سُو شخص ڈول سیزہ وتہ  
نش امہ قسمک سوال تہ درخواست کرن آس۔ سمہ موکہ لغوتہ بے کار کہ خدایہ سزنا سارنی کاین اندر

وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۱﴾ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا

چھ جہ جہ حکمہ کا نہ بندس چھونہ حق چون وچرا کرنگ۔ بعضے یہود آس شب و روز یہیہ کوشش کران کہ عکسہ پانھ گروہہ مسلمان اسلامہ نشہ پھیرن دوستی لاکھہ خیر خواہی ظاہر کر تھہ۔ پر تھہ کنہ قسمک تدبیر بعمل آتھہ آس باوجود ناکامی پر تھہ وقتہ آتھہ خیالس آسان۔ اللہ تعالیٰ ان کر با ایمان خبر دار یہ بندہ امہ خیالہ سیت۔ فرعون و کثیریون من اهل الکذب لویز و نکم من بعد ایملککم لکافرا اہل کتاب یعنی یہود و اندرہ چھہ اکثر لوکھ یرشاک کہ توہہ پھہرہ بن تم ایمان آتھہ بیہ کفرس کن تہند یڑھن چھونہ تہزہ خیر خواہی پٹھہ مبنی یہ تم ظاہر کران آس بلکہ حسداً من عند انفسہم محض تہندہ حسد کہ وجہہ بس حسد تہندین دلن منز پھٹ پھٹ نیران چھو۔ بیہ نہ سیمہ وجہہ کہ یمن نش کیاہ چھو پوز کھٹتھہ بلکہ من بعد ما تبین لھم الحق تمن نشیر پر وارہ ظاہر سپندہ پتہ۔ وون اوس ممکن یہ تہزہ خباثت بوز تھہ سپدان مسلمان تمن پٹھہ غضبناک۔ اللہ تعالیٰ ان فرموکھ فاعفوا واصفحوا اے مسلمانو تہہ کرو تمن معاف۔ تہہ کرو تہندس آتھہ شرارتس در گذر حتیٰ یأتی اللہ یأمرہ یوت تان اللہ تعالیٰ تھہ معاملس متعلق بن حکم نو قانون جاری فرماوہ ان اللہ علیٰ کل شیء قدید اللہ تعالیٰ چھو پیشک پر تھہ چیزس پٹھہ قدرتہ وول۔ یوتان جہاؤک عالس اندر امن و امان قائم تھو نگ حکم تہ دشمنان اسلامن سیت قتل و قاتلک حکم نافذ کرنہ بیہ توتان روز تہہ تہندین بین حکمن پٹھہ مستقیم۔ و اقیمو الصلوة و اتوا الزکوة تہہ ہر و سردست نمازہ پابندی سان بیہ یمن پٹھہ زکوة فرض چھہ تم دیو زکوة۔ و ما تقدیموا لانفسکم من خیر یجدوہ عند اللہ بیہ یوسہ رزگوماہ پتہ بہتری خیطہ تہہ سوزو برو تھہ کن سولہو تہہ ضرور پورہ پورہ اللہ تعالیٰ اس نشیرہ ان اللہ بہا تھلون بصیر کیاہ اللہ تعالیٰ چھو تہزہ

أَوْ نَصْرِي تِلْكَ أَمَانِيهِمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱۱﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾  
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ

سارے کام و چھان تہ ژر ژان۔ تمو کامیو اندرہ گوشہ نہ آکس ذرس برابر تہ تہمز کانہ کوماہ ضائع وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِي یہود تہ نصاریٰ چھہ ونان جتس اندر ازن نہ مگر تہ تم یہودی آسن یہ آس ونان یہودی تم نصاریٰ آسن یہ آس ونان نصاریٰ اللہ تعالیٰ چھہ تمن دوشونی رد کران فرماوان چھک تِلْكَ أَمَانِيهِمْ تم چھہ تہمد خام خیالات دس تسلی دنہ چہ تھہ بمن ہنز حقیقت نہ کینی چھہ سمہ چھہ تمن رایہ گوشہان قُلْ تہہ فرماو و حض یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن ہَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اے یہود و تہہ کرو اتھہ پیٹھہ پن دلیل پیش گر تہہ اتھہ دعویٰ اس اندر پوزونہ ون چھہ۔ سو دلیل میکن نہ تم پیشی کر تھہ کیاہہ تمن نشہ چھہ اچ کانہہ دلیل اتھہ بدل چھہ اس فرماوان کہ بَلَىٰ کہ ضرور اتن جتس منز مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سو شخص بس پن تھہ نومراوہ معبود بر حقس یعنی فرمانبرداری کرہ عقائدن تہ عملن اندر بکمال اخلاص۔ دلہ کن آسہ فرمانبرداری مصلحتہ و رای تہ عنہ ظاہر داری و رای بتھس شخصہ سندہ خیطرہ چھو امہ فرمانبرداری ہند عوض تہ مزور تہمد س پروردگار س نشہ حاصل سپدہ ون بتھن لوکن آسیہ نہ قیامتک دوہ کانہہ خوفناک واقعہ پیش یک خوفانہ آسین تم لوکھہ تمہہ دہہ غمگین سپدہ ون کیاہہ ملائک آسن تمن بشارت بوزہ ناوتھہ بے فکر تھاوان منسوخ سپد تہس کھمس پیٹھہ عمل کرہ ونس و نبتہ کتہ صورتس اندر فرمانبرداری۔ لہذا چھہ یہود نصاریٰ فرمانبرداری آسین سزوار بلکہ حکم ثانی یعنی دو تہس کھمس پیٹھہ عمل کرہ ونی ن شمار کرنہ فرمانبرداری تہ مطع۔ یہ شان چھو نہ مسلمان و رای بیہ کانہہ ہند کیاہہ تمو کور نبوت و شریعت محمدیہ قبول اتھہ کن نظر کر تھہ سپد ثابت کہ تہ چھہ جتس منز

لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكُتُبَ كَذَلِكَ قَالَ  
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ قَالَ اللَّهُ يُحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳۰﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ  
مَتَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهِ ۗ

واتس سزاوار وهو محسن یعنی مخلص آواتھ شرط تھاوندہ مجھ امہ سیت منافق الگ سپدن کیاہہ تم  
چھہ کافر ناس سزاوار کہہ پھرہ سمیای کینہہ یہود تہ نصاریٰ تموی ہوت پانہ وان مذہبی بحث کمرن۔  
یہودہ چھہ پتہ اعتقادہ موجب نصاریٰ ان ہندس ونیس باطل زمانان تم ہجھہ حضرت عیسیٰ علیہ السلامہ  
سندس رسالتس تہ انجیلہ کس کتاب اللہ آسئس پڑھ کران۔ نصاریٰ تہ چھہ یہودیتس منسوخ زاتھہ  
باطل قرار دو ان تم تہ چھہ حضرت موسیٰ علیہ السلامہ سندس پیغمبر آسئس انکار کران۔ یہہہ چھہ تم  
تورایتس کتاب اللہ مانان دوشوے فریق چھہ کمال تعصب کن اکھ اگس انکار ان ہی چھو اللہ تعالیٰ بیان  
فرماوان وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ يَهُود لَگ  
ونہہ نصاریٰ ان ہند مذہب چھو نہ کنہ بنیادس پیٹھہ قائم یعنی سوچھو بے بنیاد تہ غلط مذہباہ۔ تھہہ پاتھہ چھہ  
وانان نصاریٰ کہ یہودن ہند مذہب چھو بے بنیاد تہ غلط مذہب وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكُتُبَ حالانکہ تم  
دوشوے فریق چھہ پن پن آسانی کتاب پر ان یعنی یہود چھہ توریت پر ان نصاریٰ چھہ انجیل پر ان تہ  
وچھان دوشون کتابن اندر چھو دوشون پیغمبرون تہ دوشون کتابن ہند تصدیق موجود یوسہ دوشون  
مذہبن ہنز بنیاد چھہ اگرچہ قرآن مجید نازل سپدنہ موکھہ چھہ تم روزہ مرثہ قابل عمل بلکہ چھہ تم  
دوشوے کتابہ منسوخ سپر مرثہ یہودو نصاریٰ آس یہ چھاؤن داسی کرانی تہ مشرکن تہ بت پرستن تہ آو  
جوش كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تھہہ پاتھہ تم لو کہ سم محض بے علم چھہ یعنی مشرک  
تہ بت پرست لگ امی تسچہ کتھہ ونہہ۔ تمودو پ یہودن نصاریٰ ان ہند مذہب چھو بے بنیاد آس چھہ  
پرس پیٹھہ۔ سم کمر تن اکھ اگس اچار كَاللّٰهُ يُحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ وَيَخْتَلِفُونَ پس

أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي  
الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۳۰﴾ وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ  
وَالْمَغْرِبُ فَأَيُّ مِمَّا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ

اللہ تعالیٰ کرہ پانہ قیامتہ دوہہ یمن سارنی معاملن ۲۲ مقد من منز فیصلہ تمن منز سم لو کھہ پانہ وان  
اختلاف آسن کران تحقیقسن اندر جھہ سم تر شوے فریق یظ ظالم اے مخاطب ژہ ونہ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ  
مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا وون گہہ اکھاہ چھہ یظ ظالم تس  
شخصہ سندھ خوتہ نس منع ۲۲ بندش کمرہ خدایہ سزنا مسجدن اندر ذکر و عبادت کرنہ نشہ۔ تہند ناہنیہ  
نشہ۔ بیہ کرہ کوشش تمن مسجدن ہنزہ ویرانی اندر۔ بیہ کام چھہ کر مژہ سمو تر شوی فریقو۔ یہود وکر قبلک  
حکم بدل سپنہ کس موقس پیٹھہ لوکن اندر تمہہ قسمک شھکہ ۲۲ شہمات پیش یموسیت لوکھ انکار رسالت  
کر تھہ ترک صلوة یعنی نماز تراونس پیٹھہ آمادہ سپنہ۔ نمازہ تراونہ سیت سپنہ مسجدہ غیر آباد کیاہہ  
مسجدن ہنز آبادی چھہ نمازہ سیتی گویا یہود وکرے یہ شھاہ کوشش مسجد نبولیس اندر گوژھنہ کانہہ ۲۲ نماز  
پرنہ اٹھن نصاریٰ او اندرہ بعضہ رومک پادشاہ تمن پیٹھہ یلہ یہود وچڑا ہی کر تھہ بیت المقدس پیٹھہ حملہ  
کور۔ بعضہ جاہل نصرانین ہندہ اتھہ واژ سخت بے حرمتی مسجد اقصیٰ اس بد امنی ہندہ وجہہ آیہ نہ تھہ  
منزہ نمازی ہرنہ کیمہنس کالس۔ امہ اعتبارہ سپنہ نصاریٰ ۲۲ مرتکب اتھہ جرمس جناب سرور کائنات صلی  
اللہ علیہ وسلم تمویلہ فتح مکہ کرنہ بروٹھہ بارادہ عمرہ مکہ شریفسن کن تشریف انیوو۔ مشرکین مکودت نہ  
تمن مکہ شریفسن اندر اٹھنک عمرہ کرنک اجازت۔ چنانچہ تمن پیو تمہہ درہہ واپس تشریف ٹین۔ امہ  
اعتبارہ سپنہ مشرک ۲۲ مرتکب امہ جرمک لہذا چھہ سم تر شوے فریق بند ظالم اُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ  
يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ یم لو کھہ گئے تے یمن نہ تمن مسجدن اندر تھہ لدن ۲۲ پڑہ ہا خوف وہیبتہ وراکی  
توہہ آسہ یمہ مسجدہ با عظمت و حرمت یمنی مسجدن بے حرمتی کرن لوکن نہ یمن مسجدن اندر اٹھنہ  
دیون یاد خدا ۲۲ عبادت کرنہ خیطرہ اتھہ برابر چھونہ کانہہ ظلم لھم فی الدنیا خزی و لھم فی الآخرة  
عذاب عظیم یعنی لوکن ہندہ خیطرہ چھو دنیاں اندر بڈر سوائی بیہ چھو یعنی ہندہ خیطرہ دک ۲۲ دود  
تلہ و ن عذاب یشہہ یشہہ پیچھہ کامہ کر تھہ چھو تمن خیال پھرس پیٹھہ آسک بیہ جتنس واتک دعویٰ۔

عَلَيْهِمْ ﴿۱۵۶﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ  
وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قٰنِیْنٌ ﴿۱۵۷﴾ بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط  
اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فِیْكُوْنُ ﴿۱۵۸﴾ وَقَالَ الَّذِیْنَ

یہود و کریوہ تحویل قبلہ پس نہایت پیٹھے اعتراض کہ مسلمان کیا زہ پھیرا کہ جہتہ نشہ میں جہتس کن اللہ تعالیٰ ان فرمود تمہن جواب **وَاللّٰهُ الشَّرِیْفُ الْمَعْرُوْبُ** معبود برحقہ سندی چہ ساری طرف تہ جت مشرق تہ مغرب تہ پریتھہ طرفاہ چھو تہندی مملوک تہ مخلوق تہہ طرفس چھو نہ تہند مکان سو چھو مکان آسنہ نشہ منزہ تہ پاک۔ سو یلہ پریتھہ طرف مالک چھو۔ لہذا تہہ طرفس سو قبلہ پریتھہ تہہ طرفس کرہ مقرر۔ کیا زہ قبلہ مقرر کر نس اندر چہہ چہہ جمت کہ عبادت کرہ و نمین بدن، نماز گذارن سپدہ امہ سیت اتفاق تہ اجتماع خاطر حاصل۔ یعنی دل روز کیہ ڈنجر۔ یلہ یہ حقیقت چہہ **قَابِ مَاتُوْنًا فَاَتَمَّ وَجْهَ اللّٰهِ لَكَ اللّٰهُ وَاَسَعُ عَلَیْكُمْ** پس تہہ طرف کن تہہ پھیرو تہہ طرفس کن چھو معبود برحقہ سندہ ذات پاکک رخ۔ پزپا تھہ اللہ تعالیٰ چھو سارنی طرفن احاطہ کرہ ون۔ لیکن باوجود آل کور تم جت عبادت یعنی عبادتک طرف معین کیا زہ سو چھو سٹھاہ زان وول تس چھو معلوم تہہ چیزس اندر کیاہ سیاہ مصلحت چہہ چونکہ تہندس علیس اندر آس قبلہ معین کر نس اندر مصلحت۔ لہذا کورن قبلہ معین۔ بعض یہود چہہ حضرت عزیر علیہ السلامس خدایہ سندنچو ونان۔ بیہ آس نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلامس خدایہ سندنچو ونان۔ مشرک آس ملائکن خدایہ سزہ کورہ ونان۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ کن بہترن سارنی لغو کنن رد کران تہ فرماوان چھو **وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ** بیہ چہہ ونان تم یہود تہ نصاریٰ تہ مشرک خدائس چہہ اولاد گبر تہ کورہ۔ کیواہ لغو تہ مہمل چہہ یمہ تہہ۔ سو چھو سمو تھو نشہ منزہ تہ پاک **بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** بلکہ چھو تس معبود برحقہ سندی تہ ساروی یہ آسمان تہ زمین اندر چھو۔ موجود اتواندرہ **كُلٌّ لَّهُ قٰنِیْنٌ** تم ساری چہہ خدایہ سندہ مملوک آسچہ علاوہ تسد محکوم تہ فرمانبردار۔ حکیا زہ تہندن تصرفات قدرتن نشہ چھہ کانہ اکھاہ تمو اندرہ کلہ ہکان پھرت تم گئے مارن۔ پیدہ کرن۔ بیمار پاون۔ بلراون **بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** سوئی چھو آسمان تہ زمین ہند موجود تہ گوڈہ پیدہ کرہ ون تسنز قدرت چہہ تہہ عجیب کہ **وَ اِذَا قَضٰی**

لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ  
 قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ  
 قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۱۸﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ۔ يلمہ سُوکائہ کو ماہ کرن یرشہان پھو۔ مثلاً کانہہ چیزاہ پیدہ کرن یرشہان  
 پھو سُوچھو نہ کینہہ تہہ کران۔ فقط پھو تھہ چیز س مَن حکم کران کہ سپد۔ آتی چھو سپدان، بنان از عدم  
 بوجود یوان تس چھو نہ سُوچیز پیدہ کرنہ خیطرہ آلاتن تہہ اوزارن تہہ سامانن ہنز ضرورت پیوان  
 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ۔ بیہ چھہ بعضی جاہلن تہہ نادانن یہود تہہ نصاریٰ  
 بیہ مُشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقابل بیہ تھہہ ونان کہ اللہ تعالیٰ کونہ پھو پائے اسہ سیت تھہہ  
 کران ملائکن ہندہ وساطتہ وراہی تھہہ پاٹھہ سُو ملائکن سیت تھہہ کران پھو۔ یا ملائکن ہندہ واسطہ۔ یا تھہہ  
 پاٹھہ ملائیک پیغمبرن سیت بطور وحی اللہ تعالیٰ کلام پھو کران۔ تھہہ کلامس منز کونہ پھو اسہ ہن احکام  
 بیان فرماوان۔ تا کہہ اسہ روزہ ہانہ نہیں کانہہ پیغمبرہ سنز ضرور تھی۔ یا کونہ پھو اسہ کم از کم بیہ تھہہ پانہ  
 فرماوان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھو پیشک سون پیغمبر۔ تا اینکه اس کرہ ہو تَمَن پڑھہ کر تھہہ ہنز  
 اطاعت و فرمانبرداری۔ یا ہر گاہ کلام فرماونہ توتہہ کونہ پھو کانہہ دلیلہ اسہ مَن سوزان تہہہ س پیغمبر  
 آسنس پیٹھہ۔ اللہ تعالیٰ پھو بہنن تھہہن رد کران گوڈنی پھو فرماوان کہ سمہ تھہہ بہننہ چھہ جاہلانہ تھہہ  
 كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ يَشَاءُ رَبُّ هَذِهِ قَوْمٌ مُّسْتَكْبِرُونَ۔ تَمَن تہہہ آس بہننرے ہشہہ جاہلانہ تھہہ ونان۔ معلوم سپد کہ سمہ تھہہ چھنہ کنہی تہہہ  
 وقعت تھوان بلکہ چھہ تم محض برو تھہہنن جاہلن ہنز پیروی کران امیک وجہ پھو کہ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ  
 تَمَن ہتہنن برو تھہہنن جاہلن ہندول چھہ کج فہمی اندر۔ اگھہ آس ہو۔ تھی موکہ چھہ بہ ہند بود لو اندرہ اکی قسمیہ  
 تھہہ نیران۔ چوچھہ امہ قسمہ جاہلانہ تھہہ چھہ بالکل باطل لہذا آونہ تَمَن جاہلانہ تھہہن ہندہ جو ابک کانہہ  
 خیال کرنہ۔ پس روزیہ تھہہ کہ اسہ نشہ کونہ چھہ واتان کانہہ تڑھہہ دلیلہ سمہ سیت ثابت سپدہ ہار سالت  
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھہہ متعلق پھو اللہ تعالیٰ فرماوان کہ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ  
 اکہ دلیلہ ہنز کیاہ چھہ کھی اسہ کرہ واریاہ دلیلہ بیان وضاحتہ سان سمہ نافع تہہہ کافی چھہ تَمَن لو کن ہندہ

بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۱۹﴾  
 وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ  
 قُلْ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ  
 الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاٍيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۲۰﴾

خیطرہ یم یقین تہ اطمینان حاصل کرن یشھان چھہ۔ پتھہ رُو داعتراض کرہ ون لوکھ تمن مند مقصد چھو خواہ مخواہ ضد کرن۔ تمن تسلی سپد نگ بیچہ نہ کانہہ ذمہ دار سپد تھہ۔ یتس اوس مُمکن کہ یہود و نصاریٰ ان ہندہ امہ جمالتہ و عنادہ سیت ماسپدہ ہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندول مبارک آزدہ۔ بیہ سپد ہن تم غمگین۔ تم دپہ ہن تہندہ اسلام انہ نچ کوسہ صورتھہ بیچہ پادہ سپد تھہ۔ اللہ تعالیٰ ان کور۔ بیان امہ پتہ آیہ کر تمس منز تمن تسلی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ای پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیشک اسہ حض سوزہ تہہ پوزدین پتھہ لکن گن۔ پڑھہ کرہ ونین ہندہ خیطرہ خوشخبری بوزہ ناوہ ون بیہ نہ مانہ ونین ہندہ خیطرہ سزاو عذابک یم کرہ ون۔ توہہ نہز بیچہ نہ باز پرس کرنہ تمن لوکن ہندہ ہم نار جہنم اندرو اتہ ون آسن کہ تمو کونہ کوردین اسلام قبول۔ تم کیا زہ وات نار جہنم۔ تہہ رُو زوئین کوم کران۔ کانہہ ہندہ مانہ نگ یانہ مانہ نگ مہ بیو غم نہ مہ کھیو فکر وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ بیہ تمکن نہ ہر گز یہود تہ نصاریٰ زانہہ تہ خوش گڑھتھہ توہہ نشہ یوت تام نہ تہہ تہندہ مند بچ پورہ پیروی کرو۔ یہ کتھہ چھہ حال۔ لہذا چھو تہندہ توہہ نشہ راضی سپدن تہ حال۔ لہذا ہر گہ گنہ وقتہ تہندہ زبان امہ قسمہ کانہہ کتھہہ بوزیا کانہہ اشارہہ لہو قُلْ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ تہندہ گڑھہ تمن صاف فرماؤن کہ ہمہ کتھہ تراوہ۔ حقیقتس اندر چھو ہدایت سنی پتھہ اللہ تعالیٰ ان ہدایت فرمووہ۔ سو ہدایت گو اسلام۔ تی چھو ثابتہ بچود لیلو سیت وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاٍيٍّ وَلَا نَصِيرٍ تہندہ تہندہ مذہبک پیروئین چھو حال تہ ناممکن سمہ موکھہ کہ امہ سیت چھو لازم یوان آکھہ حال تہ ناممکن



الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكُتُبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ  
 بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۲۱﴾ يٰۤاَيُّهَا  
 اِسْرَآءِیْلُ اَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاِنِّیْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ﴿۱۲۲﴾  
 وَاَتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا

کتھاہ کیا زہ ہر گاہ تہہ پیروی کرنہ لگو تہہ سدس غلط ملط مذہبس لیس محض تہہ دین خواہشاتن ہند اکھ مجموعہ  
 چھو۔ تی کروہ ہتہ (نعوذ باللہ) توبہ نشہ علم قطعی واتنہ پتہ۔ اتھ صورتس اندر ہیجہ نہ توبہ بجاو تھ اللہ  
 تعالیٰ اس نش کا نہہ دوستانہ نہ کا نہہ مدد گارہ بلکہ پیہ لازم کہ تہہ سپدو خدلیہ سدس پنجہ قہرس اندر گرفتار  
 تہ ماخوذ۔ چوہجہ پیہ چھو محال کیا زہ دل لائل قطعوی سیت چھو ثابت کہ اللہ تعالیٰ چھو توبہ نشہ ہمیشہ راضی۔  
 پس تہہ غصہناک سپدن توبہ پیٹھ اتہ چھو محال۔ لہذا پیروی کرن تہہ سدس باطل مذہبس تہ تہ چھو محال۔  
 لہذا تمن بہودو نصارے ان ہند توبہ نشہ خوش سپدن تہہ محال لہذا چھہ تہہ اسلام انہ نچ صورتھی  
 کا نہہ۔ لہذا کریون دل مبارک چن امہ فخرہ نشہ خالی۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان تمن اہل کتابن ہند  
 تذکرہ سہم قرآن مجیدس پڑھ کر۔ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكُتُبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ یمن بہودو نصاریٰ ان  
 اسہ عطا کر کتب یعنی تورایت وانجیل تے آسن تھہ کتابہ تھہ پانچہ پران تھہ پانچہ ہزن شوہ یعنی تمک  
 مضامین وارہ فخرہ تاران۔ پرنس پیروی کرہ ٹک پورہ ارادہ کران اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بہہ تھھی لوکھ چھہ  
 بیشک تھہ دین حقس ایمان اتان تہ پڑھ کران۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ سہم لوکھ اتھہ  
 دین حقس انکار کرن تمن چھو تمیک نقصان تہ تاوان پنہ نس پانس۔ تم سپدن ایمانہ کیو فاندو تہ منافعو  
 نشہ محروم۔ يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْلُ اَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ اے حضرت یعقوبہ سند یو پچو یو  
 ژتس پاوو میانہ تمہ نمش سہمہ میہ توبہ عطا کر موہ وَاِنِّیْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ بیہ دتموہ فضیلت توبہ  
 وار سہن لوکن پیٹھ وار سہن کھن اندر۔ دوبارہ آویان کرنہ وارہ تاکیدہ خیطرہ وَاَتَّقُوا یَوْمًا کھو ژو تہ چو  
 تمہہ دوہہ کہ عذابہ نشہ لَا تَجْزِیْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا سہمہ دوہہ نہ کا نہہ کھایت ہیجہ کر تھہ کا نہہ اکھاہ

عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعَهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۳۳﴾ وَإِذِ ابْتَلَىٰ  
 إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا  
 قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ط قَالَ لَأَيُّنَا لُ عَهْدِي الطَّالِبِينَ ﴿۱۳۴﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا  
 الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا  
 إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ

کانسہ آس کئی چیز ک۔ کانسہ اکھاہیہ نہ کانسہ آس بار وَلَا یُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ  
 نہ دیہ کانسہ فائدہ نہ نفع کانسہ آس کانسہ اک سز شفاعت نہ سفارش۔ تم صاحن وراي تمَن اللہ تعالیٰ  
 شفاعت کرہ نلک اجازت دیہ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نہ بیہ تمَن یاری نہ مدد کرنہ کانسہ نہ بجاوہ نہ تمَن پنہ  
 نیوزوروسیت۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ثلث پادویلیہ آزمائش کر حضرت ابراہیمس پن پروردگارن  
 بِكَلِمَاتٍ پنہ نیواکامو اندرہ کئیو حکومت کَاتَمَّهُنَّ پس ان بجاتم تم حکم وارہ پانہ۔ قَالَ إِنِّي  
 جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ تعالیٰ ان فرموس تمہ ساسہ راضی گڑھتہ بہ کر تھ ژہ اتھ بدل نبوت نہ  
 پیغمبر عطا کر تھ لوکن ہند امام نہ پیشوا قَالَ حضرت ابراہیمس دوپ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي پروردگار ایمانہ  
 ذریئہ منزہ نہ کرتہ کانسہ یہ مہربانی عطا۔ قَالَ اللہ تعالیٰ اَن فرموس لَأَيُّنَا لُ عَهْدِي الطَّالِبِينَ  
 شامل سپدہ نہ میانہ طرفہ یہ عمدہ نبوت چاند ذریئہ چاند منزہ ظالم۔ یعنی تم مشرک آسن تمو اندرہ تمَن  
 بیجہ نہ یہ مہربانی حاصل سپد تھ وَاذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا سووقت نہ چھٹنا قابل ذکر سہ  
 وقتہ اسہ خانہ کعبہ کور لوکن ہندہ سنج، جمع سپد نج بیہ ائج جائے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى  
 کوراسہ حکم بالایمان۔ اے با ایمانو مقام ابراہیم بناویون سُنَّہ سُنَّہ وقتہ نماز پر نچ جائے سنج  
 برکت حاصل کر نہ خیطرہ۔ مقام ابراہیم گئیہ سوکن تھہ پیٹھ دودنہ روز تھہ حضرت  
 ابراہیم خانہ گعبک دیوار آس بنا کر ان۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ بیہ کوراسہ حکم حضرت  
 ابراہیمس نہ حضرت اسمعیلس اَن طَهِّرَا بَيْتِيَ کہ سیٹھاہ پاک تھویون یہ میون گرہ لِّلطَّائِفِينَ

السُّجُودِ ﴿۱۶۵﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ  
 أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ  
 كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۶۶﴾  
 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا  
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۶۷﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ

وَالْعَاقِبِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ طواف کرہ دین ہندہ خیطرہ۔ بیہ اعتکاف کرہ دین ہندہ خیطرہ۔ یا تھ  
 شہرس منزسہ دین ہندہ خیطرہ یا تھیر میں لوکن ہندہ خیطرہ۔ بیہ نمازہ پرہ دین ہندہ خیطرہ۔ وَإِذْ قَالَ  
 إِبْرَاهِيمُ بیہ پاوڈرٹس سیمہ وقتہ حضرت ابراہیم دعا کور رَبِّ اجْعَلْ هَذَا دوہن اے میانہ پروردگار  
 مگرن یہ علاقہ تھہ منزاسہ بَلَدًا آمِنًا شہراہ امن دوہون یا محفوظ پریتھہ فسکو آفتوتہ بلا یونشہ وَإِذْ  
 أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ بیہ کر عطالتہ کین لوکن میوہ تہ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اتہ کیو لو کو آندرہ  
 تمنی سمو ایمان اولن معبود برحقس بیہ یقتس دوہس یعنی قیامنس قَالَ اللہ تعالیٰ فرمودہ وَمَنْ كَفَرَ  
 کافرن تہ کرہ بہ عطارزق میوہ جاتوسیت کیاہ زہر زکک معاملہ چھو عام کافرن تہ مسلمانن فَاُمَتِّعُهُ قَلِيلًا  
 ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ دون نُس کافر ی روزہ پس تمتع تملہ ناؤن سو کم کہینہ کاکس۔ تویپہ و اتناول سو  
 مجبور سپد تھہ نارہ کس عذابس منز یعنی ناچار ولتہ سو تھہ منز۔ کیاہہ بیہ آسہ نہ تس سزاوار کانہہ جایاہ۔  
 وَبِئْسَ الْمَصِيرُ کاژاہ تھہ جای چھہ سونار چھنم۔ تھہ منز تم واآن وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ  
 بیہ پاوڈرٹس یلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کچھہ لہ تہ دیوار کھاران آس فَاِسْمَاعِيلُ سیت آسکھ حضرت  
 اسماعیل فرزند پنن تعمیر چہ کلمہ منز یا آسکھ تم کتہ تہ رب پلہ ناوان تہ تم آس پانہ تمو کینو سیت دیوار  
 بلند کران۔ یہ کوم کران کران آس مزگان یا یلہ امہ تعمیر چہ کلمہ نشہ دو شوے صاحب فارغ سپد اتی  
 لگ بیہ دعا کر نہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اے سانہ پروردگار بیہ کر قبول ژہ بیہ خدمت  
 سان۔ چہر پاٹھہ ژی چھکھہ بوزہون سون دُعَاژِی پھچھہ پورہ خبر سانن نینن مقاصدن تہ ارادن ہنز رَبَّنَا

وَمَنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرْنَا مَا سَكَنَّا وَتُبَّ عَلَيْنَا  
 إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۸﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا  
 مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ  
 يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۲۹﴾ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ  
 إِبْرَاهِيمَ الْأَمْنُ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا  
 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۰﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ

وَجَعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ اے سائے پروردگار بے کراسہ دوشون پن زیادہ زیادہ تابعدار تہ فرمانبردار  
 وَمَنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ بے گرن سائے اولاد اونداندرہ تہ اکھ جماعتھا پنہ نین فرمانبرارن ہنز  
 وَأَرْنَا مَا سَكَنَّا بے ہاوسہ تم ساری چیز موسیت اسہ چان عبادت چھہ گرن۔ احکام حج وغیرہ وَتُبَّ  
 عَلَيْنَا بے کراسہ گن توجہ۔ توبہ سون کر قبول إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پڑھا تھی چھو کہ فی الحقیقت  
 اسہ گن توجہ کرہ ون سیٹھاہ توبہ قبول کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ اے سائے  
 پروردگار بے سوز تم سائین اولاد ان گن یلہ تہند تعداد بدہ تہ بکثرت سپدہ۔ رَسُولًا مِنْهُمْ پیغمبر  
 عظیم الشان تموی آندرہ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ نُس پران آسہ تم پنٹھ نُس بوزہ ناوان آسہ تم چان  
 آیات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بے آسکھ، پچھناوان سو کتاب یوسہ تم پنٹھ نازل بے کرہ وَالْحِكْمَةَ بے  
 آسکھ پچھ ناوان تمہ کتابہ ہند مقاصد وَيُزَكِّيهِمْ بے آسہ تہند نفوس پاک کران إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ  
 الْحَكِيمُ پڑھا تھی چھو کہ طاقتہ وول، چانی قدرت چھہ غالب۔ تھی چھو کہ حمہ وول۔ وَمَنْ  
 يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الْأَمْنُ سَفِهَ نَفْسَهُ بے گس کرہ روگردانی حضرت ابراہیمہ سندہ ملتہ نشہ  
 مگر کرہ سنی نُس ذاتی نادان تہ احق آسہ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا پڑھا تھی توراہ سو حضرت  
 ابراہیم ذنیماہس اندر عمدہ رسالتہ خیرہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ بے چھو سو پڑھا تھی آخر

قَالَ اسَلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۱﴾ وَوَضَىٰ بِهَا اِبْرَاهِمَ بَنِيهِ وَ  
 يَعْقُوبَ طِبْنِي اِنَ اللّٰهُ اصْطَفٰ لَكُمْ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا  
 وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۳۲﴾ اَمْرُكُمْ شُهَدَاءُ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ  
 الْمَوْتَ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ  
 الْهٰكِ وَالِاهَ اَبَائِكَ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ الْهٰٓءِ اٰجِدًا  
 وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۳۳﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ

تس اندر نیکو کاری قابل مخصوصاً ندره همدہ خیرہ سوڑی کہنہ چھو۔ لاذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت  
 لرب العالمین یلہ فرمودہ تس پن پروردگارن اسلام ان، فرمانبرداری مطیع سپد، عرض کوڑن اسلام  
 اولن مہ فرمانبرداری تہ اطاعت کرمہ اختیار عالین ہمدس پروردگارہ سنز۔ ووضی بہا ابراہم بنیہ  
 امی کتھ ہنز وصیت کمر حضرت ابراہیم پنہ نین فرزندن و یعقوب بیہ اچی وصیت حضرت یعقوب  
 پنہ نین فرزندن، فرمودہ کہ یبکی ان اللہ اصطفی لکم الدین ای میانو فرزندو پرناٹھہ اللہ تعالیٰ ان  
 کور برگزیدہ ہمدہ خیرہ یہ دین اسلام فلا تموتنن الا وانتم مسلمون کس کتھنہ منر و تہہ سمہ  
 دینہ ورا ای گنہ دینس پیٹھہ۔ منس تان روز زیوہ تہہ اتھہ دینس پیٹھہ امرکم شہدآء اذ حضر  
 یعقوب الموت کیاہ تہہ آسوہ موجود سمہ وقتہ ووت حضرت یعقوبس مرگ تہ یہ عالمہ گونہ ک  
 وقت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی یہ ساتہ تم ہر تھہ پنہ نین پنچوین تہہ کمسنز عبادت کمر و میہ  
 پنہ قالوا نعبد الهک والیہ اباک ابراہم و اسمعیل و اسحاق تمودوپ عبادت کرو اس چانس خدایہ  
 سنز یہ چانین بزرگ مالین ہمدس خدایہ سنز۔ تم گے حضرت ابراہیم۔ حضرت اسماعیل، حضرت  
 اسحاق۔ الہا و اجدًا نس خدائنی چھو لا شریک و نحن لہ مسلمون اس ساری جھہ تس گردن دارہ  
 ون یعنی تہندی مطیع تہ فرمانبردار تیلک ائمہ قَدْ خَلَتْ یعنی حضرت ابراہیم تہ

وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۲﴾  
 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ  
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۳﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ  
 إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ  
 الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ  
 رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۴﴾ فَإِنْ

تہمد فرزند حضرت یعقوب سے تہمد فرزند (بیشک یوسہ گزرے ہے۔ لہا ما کسبتکم تہمدہ نفعہ خاطرہ  
 چھوڑتے ہے تمہو کرو یعنی تمہن بیکارتے ہے تمہو کور و لکم ما کسبتکم تہمدہ خیطرہ چھوڑتے ہے تہمہ کور یعنی  
 توہمہ بیکارتے ہے تہمہ کور و لکم ما کسبتکم تہمدہ خیطرہ چھوڑتے ہے، تہمہ و عملہ ہند بیکارتے  
 چھوڑتے تھی۔ معلوم سپد بزرگن سے محبوبان الہین کن خالی نسبت گرن تہمز متابعت کرنے و رای اتھہ چھوڑنے  
 کانہہ فائدہ سے نفع و قالوا کونوا ہودا اوت ناصری تہمدوا و نان چھہ یہود اہل اسلامن۔ تہمہ بنو یہود۔  
 نصاریٰ چھہ و نان تہمہ بنو نصاریٰ تھی سیت لبو تہمہ ستر و تہمہ۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا تہمہ فرمو  
 یوکھ ہرگز بنو نہ اس یہود سے نصاریٰ بلکہ کمر اسہ اختیار حضرت ابراہیم علیہ السلامہ ستر و تہمہ یوسہ  
 ستر و تہمہ چھہ۔ و ما کان من المشرکین اوس نہ حضرت ابراہیم ہرگز مشرک اوندہ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ  
 اے مسلمانو و بو تہمہ تفصیلاً کہ ایمان اون اسہ کنس خدا اس و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراہیم و اسماعیل  
 و اسحاق و یعقوب و الاسباط بیکارتے تہمہ کتابہ یوسہ لہ کن کہ سوزنہ تہمہ کتابہ یوسہ حضرت ابراہیم علیہ  
 السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام تہمدین ولولادن کن کہ سوزنہ  
 و ما اوتی موسیٰ و عیسیٰ بیکارتے یوسہ کتاب عطا کرنے آہ حضرت موسیٰ اس حضرت عیسیٰ اس و ما  
 اوتی النبیین من ربہم بیکارتے یوسہ کتاب عطا کرنے آہ بین پیغمبران پنہ نس پروردگار سندہ طرف۔  
 لا نفرق بین احد منهم اس چھہ تمہو اوندارہ کانہہ اس منفرق کران و نحن لہ مسلمون اس

اَمْوَابِئِلٍ مَا اَمْنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ۗ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا  
 هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۷۵﴾  
 صِبْغَةَ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحْنُ لَهٗ  
 عِبْدٌ وَّ ن ﴿۱۷۶﴾ قُلْ اَتَحَابُّوْنَ اِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ؕ وَلَنَا  
 اَعْمَالُنَا وَلكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُونَ ﴿۱۷۷﴾ اَمْ تَقُولُوْنَ  
 اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاْلْاَسْبَاطَ كَانُوْا

چھ تہندی فرمانبردار قان اَمْوَابِئِلٍ مَا اَمْنْتُمْ بِهِ پس ہر گاہ تم ہو دوو تہ نصاریٰ او پڑھہ کمر پتھہ پاٹھہ  
 توہہ پڑھہ کمر وہ فَقَدْ اهْتَدَوْا ۗ پس تھیق و تھہ لب تمو ۗ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ہر گاہ تم  
 اعراضی کرن توہہ سیت ، یمن کھن اندر موافقت کرن نہ۔ کس چھہ تم مگر چھہ نسی مخالفس پٹھہ۔  
 مگر تہہ مہ بر و تہہہ مخالفک کانہ پروا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ تہہ چھو بس اللہ تعالیٰ سو کرہ پانے  
 عنقریب توہہ تھہ تھہ شردور ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سنی چھو سوری بوزہ ون سورے زانہ ون تہہہ  
 تھہ۔ تہہہ تھہ چھو بوزان۔ تہہہ حال چھو ہوزانان۔ سو انز اوہ نیاسے پائے۔ تہہہ مہ بر و کانہ فکری۔  
 اے مسلمانو تہہہ دپو اس روز دینہ کس تھہ حالتس پٹھہ مضبوط لیس حالتس پٹھہ اس اللہ تعالیٰ ان رنگت  
 چھہ صِبْغَةَ اللّٰهِ اس چھہ رنگت آمت خدایہ سہہ رنگ سیت لیس نہ زانہ ذلہ تہہ تغیر سہہ۔ وَمَنْ  
 اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً خدایہ سہہ خوتہ کس بیہہ رت رنگ دتھہ۔ وَنَحْنُ لَهٗ عِبْدٌ وَّ ن اس چھہ  
 تہہہ ی یا تہہہ گدی کران قُلْ اَتَحَابُّوْنَ اِي اللّٰهِ فرما یو کھ تہہہ یار رسول اللہ اے یہو دوو تہہ نصاریٰ او تہہہ  
 چھوہ اسہ سیت خدایہ سہہ س معاملس اندر ہر کران وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حال اچھہ سو چھو سون پرورد گارتہ  
 تہہہ پرورد گارتہ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلكُمْ اَعْمَالُكُمْ اسہ یں بکار پتھہ عملہ۔ توہہ یں بکار پتھہ عملہ۔ ہر ہی تھہ  
 پٹھہ چھہ لاکن وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُونَ اس چھہ تہہہ دی رضا خیطہ سارے عملہ کران۔ اسہ منز چھو  
 اخلاص اعتقاد تہہ اخلاص عمل تہہ۔ اَمْ تَقُولُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاْلْاَسْبَاطَ

هُودًا اَوْ نَصْرًا قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُوْا اَمَّا اللّٰهُ ط وَمَنْ اَظْلَمُ  
 مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَا مِنْ اللّٰهِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ  
 عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۱﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ  
 مَا كَسَبْتُمْ ؕ وَلَا تَسْعَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۲﴾  
 سَيَقُوْلُ السُّفَهَاۗءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلٰهُمُ عَن قِبَلِهِمْ  
 الَّذِي كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ

گانو ہودا اَوْ نَصْرًا کیا ہے چھوہ ونان کہ حضرت ابراہیمؑ سے حضرت اسمعیلؑ۔ حضرت اسحاقؑ سے  
 حضرت یعقوبؑ سے تہم اولاد تم کیا آس یہودی نصرانی قُلْ فرمادیا کہ تمہے یا رسول اللہ مختصر پاٹھ  
 ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُوْا اَمَّا اللّٰهُ اکی یہود و نصرانی اوتوہہ چھو خبر زیادہ کنہ اللہ تعالیٰ اس۔ یہ چھہ ظاہر تھہ کہ  
 زیادہ خبر چھہ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ تم حضرات انبیاء آس ملت اسلام میں پیٹھہ توہہ  
 نہ چھوہ ایچ خبر مگر تمہہ چھوہ سو خبر کھان و مَن اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَا مِنْ اللّٰهِ یہ کس  
 اکھاہ چھوہ یژ ظالم تس شخصہ سندہ کھوتہ ہم کھٹ سو حقیقت حال یوسہ تس خدایہ سندہ طرفہ معلوم سپز  
 مژ آس وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ توپتہ چھوہ نہ اللہ تعالیٰ تہم یو کر توتو نیشہ بے خبر تِلْكَ  
 اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ آس بزرگن ہنزا کہ جماعتھاہ یوسہ گذرے یہ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ  
 تمن یہہ بکارتہ یہ تمو کور توہہ یہہ بکارتہ یہ توہہ کور وہ وَلَا تَسْعَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ توہہ  
 یہہ نہ پر ژھنہ تہ تمیک یہہ تم کران آس۔ تمہہ آہہ کریمہ سیت سپد معلوم کہ تم لو کہ پن پان منسوب  
 کرن کئے تھدس خاندانس کن مگر اعمال و افعال آسکھ نہ تمہہ خاندانس موافق تہ مناسب تمن دیہ نہ  
 کانہہ فاندہ سنو ظاہری نسبت۔ کنعانس ڈیت نہ کانہی فاندہ پیئمیر زادہ آسنن۔ سَيَقُوْلُ السُّفَهَاۗءُ  
 مِنَ النَّاسِ مَا وَلٰهُمُ عَن قِبَلِهِمْ الَّذِي كَانُوْا عَلَيْهَا وون ون ضرور بے وقوف لکھ کم چیزن پھر تم  
 مسلمان تمہہ قبلہ نیشہ چھہ کن تم کو کھتام آس نماز پر ان یعنی بیت المقدس۔ قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ



إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۲۲﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ  
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي  
كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ  
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ  
لِيُضَيِعَ آيَاتِنَا إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۲۳﴾ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ  
وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

فرما دیجھ تہہ یارسول اللہ خدایہ سندوی چھو مشرق تہ مغرب تہ پریتھ طرفاہ سؤی چھو سارنی طرفن ہند  
مالک۔ کانسہ اگس چھونہ حق واتان چون وچرا کرنگ۔ یوہے اعتقاد آسن شریعتین حکمن متعلق گوراہ  
راست یھدی مَن یثابہ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سؤ چھو تھہ ہاوان لیس یرشان چھو تہ تس اتھہ سیزہ وتہ  
گن۔ یعنی سؤ چھونہ ونان احکام اسلام اندر، ہو کیا زہ تہ یہ کونہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا  
بہتر قبلہ تہہ پانھہ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا کمرودہ اسہ توه جماعتھہ درمیانہ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلٰی النَّاسِ جتھہ  
یوہ تہہ گواہ حضرات انبیاء ان ہمدہ خیطرہ تھندین امتن پتھہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا بیہ سپدن  
پیغمبر برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھند گواہ صفائی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا بیہ کورنہ  
اسہ مقرر سؤ طرف قبلہ۔ جتھہ گن توه وکلام نماز پران آسودہ یعنی بیت المقدس اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ  
الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ مگر یہ تھہ نراونہ خیطرہ کہ گس اکھاہ کرہ متابعت تہ پیروی پیغمبر کریمہ  
سنز۔ بیہ گس پھیر جتھہ متابعتہ نشہ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً پز پانھہ یہ قبلہ بدلاون گذریو سیٹھاہ دشوار  
ضعیف الايمان لکن پتھہ اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر تمین کو کہ نہ یمن ہدایت کور، وتھہ ہاواللہ تعالیٰ  
آن۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِعَ آيَاتِنَا اللَّهُ تعالیٰ چھونہ تیتھہ سؤ کیاہ کرہ تھند ایمان یعنی نماز ضائع۔ یوسہ  
توہہ بیت المقدس گن جتھہ کمر تھہ پردہ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ پز پانھہ اللہ تعالیٰ چھو تھین  
لوکن ہمدہ خیطرہ سیٹھاہ شفیق تہ مہربان۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ پز پانھہ آس چھہ وچھان تھند

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ  
 أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا  
 يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۷﴾ وَلَئِنِ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا  
 قِبَلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَةَ بَعْضٍ  
 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ

بھر پھر دھن آسانس کن تحویل قبلک حکم کرنا سپدہ نازل فَلَئِن لَّيُنَبِّئُكَ قِبَلَتَهُ تَرُضُّهَا پس پھر وہ اسے  
 تہہ تنہہ قبلس کن ئس توبہ پسند چھو قَوْلٌ وَمَنْعٌ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وِن چھہ حکم کران آس توبہ کہ  
 پھر وبتھ پئن نماز پر چھہ وقتہ مسجد حرامس کن۔ یعنی کعبہ شریفس کن۔ یہ واقعہ تحویل قبلہ چھو سپد مت  
 ژندر دووارہ دوہہ در میان ماہ رجب ہجر ہجہ دو سیمہ درہہ در مسجد نبوی۔ خانہ کعبس کن آید دگر نماز پر نہ  
 (بخاری و مسلم) امہ تحویلہ قبلہ خیر سیمہ ساعتہ بنی سلمہ چہ مسجد والن واثر تم آس دگر نماز ہنز دویمہ  
 رکوعہ منزاک صاحبین فرماؤ بہ چھس گواہی دون کہ میہ پئر نماز بنی کر تمس صلی اللہ علیہ وسلم سیت مکہ  
 ہس کن۔ یم صحابہ صیب سپند خانہ کعبس کن نماز منزی متوجہ توی پیو اتھ مسجد قبلتین ناو  
 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ یہ چھونہ توبہ یوت حکم خصوصی یہ چھو یہ حکم توبہ تہ تہندین  
 ائستین تہ۔ تہہ ساری تہ آبو پر تہہ جلیہ کمر و پئن تہہ نمازہ اندر مسجد حرامس کن۔ ئس مسجد احرام کعبہ  
 شریفس آید لہہ چھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ پز پانٹھ اہل کتاب چھہ یقینا  
 زانان کہ یہ حکم چھو پوز حکم تہندس خدایہ سندی طرفہ کیازہ تمو چھو پورمت توراتس اندر کہ پیغمبر  
 آخر الزمان پر ہ نماز دون قبلن کن وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ یہ چھونہ اللہ تعالیٰ بے خبر بہودن  
 ہنز دکا میونسہ سم انکار قبلہ کران چھہ وَلَئِنِ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَتَّبِعُوا قِبَلَتَكَ قسم  
 ہاوت چھوس بو فرماوان کہ ہر گاہ تہہ تین بہودن اہل کتابن سارے دلیلہ فرماو یو توتہ کرن نہ سم  
 تہندس قبلس خانہ کعبس قبول۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتَهُمْ تہہ تہہ بیكونہ اختیار تہ قبول کمر تھ تہندس

إِذَ الْبَيْنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۸﴾ الَّذِينَ اتَّبَعَهُمُ الْكُتُبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ  
 أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۹﴾  
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ  
 مَوْلِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ آيِنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللهُ جَمِيعًا  
 إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۴۱﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

قبلس وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قَوْلَهُ بَعْضٍ تمہن چھو تو پتہ پاندوان تہ اختلاف یہود تہ ہجھنہ کران تسلیم نصاران  
 ہندس قبلس یس مشرقس کن چھو۔ نصاریٰ ہجھنہ کران تسلیم یہودن ہندس قبلس یس مغربس کن  
 چھو۔ سکن دون جمع سپدن چھو سیمہادہ شوار وَلَکِنِ اتَّبَعْتَ اَهُوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اگر  
 وکن تہہ تہ ہندین یکن نفسانی خواہش تہ خیالاتن اختیار کرو۔ توہہ نشہ علم قطعی وحی الہی واتھہ لَاتُک  
 إِذَ الْبَيْنَ الظَّالِمِينَ یقینا آیوتھہ صورتس اندر توہہ تہ شمار کرنہ حکم عدولی کرو نیواندرہ سمہ اندرہ چھو  
 مطلب اقس وکن۔ اگرچہ خطاب آو کرنہ بنی کر تمس کن الَّذِينَ اتَّبَعَهُمُ الْكُتُبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ  
 أَبْنَاءَهُمْ تم لو کہ یکن اسہ عطا کر کتاب یعنی تورایت وانجیل تم چھہ پرزہ ناوان اسس پیغمبر برحقس  
 تھہہ پائھہ تھہہ پائھہ پرزہ ناوان چھہ پنہ نین پچوین تمو بشار تو موجب سمہہ بیان آمرہ ہجھہ کرنہ تمہزن  
 کتابن اندر وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ باوجود آں چھہ تمواندرہ اکہ جماعتھہ ضرور  
 پوز کھٹان زانت کمر تھہ۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ یہ پوز حکم تحویل قبلس متعلق چھو  
 تھہندس پروردگار سندنہ طرفہ۔ پس مہ آسورتد کروہ دنیواندرہ۔ یکن امورن ہند پوز آسن چھو ثابت  
 تھہندس پروردگار سندنہ طرفہ۔ لہذا چھو پرت آگس وندنہ یوان کہ ہرگز مہ آس شک وشبہ کروہ نیواندرہ۔  
 وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا پریتھہ آگس دیندازس چھو او سمت اکھہ اکھہ طرفاہ قبلہ خیطرہ تھہ کن سو  
 پھیران اوس۔ دین محمدی تہ چھو اکھہ مستقل دیناہ۔ اتھہ تہ کور اللہ تعالیٰ ان مستقل اکھہ قبلہ مقرر۔  
 مقصد چھو عبادت تہ رزہ کامہ کرنہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس کمر و تھہہ اے مسلمانو نیکن منبر پر تھہہ کوہج

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا  
تَعْمَلُونَ ﴿۱۹۹﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ  
حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأَنَّ  
نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۲۰۰﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ

کوشش کیا ہے۔ اِن مَّا كُنُوْا اَيَاتٍ بِكُمْ اللهُ جَمِيْعًا تمہارے آسمان سے، ساری اے وہ سو نہرت کہ وہ اللہ تعالیٰ بن فیصلہ بوزن و نوحہ خیرہ قیامتہ دوہہ نیو کارن دیہ رت جزا بد کارن دیہ سخت سزا اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اِس پز پائٹ اللہ تعالیٰ چھو پریتھہ چیزس پیٹھہ قدرتہ وول وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مکرر چھو بیہ وندہ یوان سہمہ طرفہ تہہ نیرہ وسفرس مغربہ طرفہ یا مشرقہ کہ طرفہ یا شمالہ کہ طرفہ یا جنوبہ طرفہ۔ پریتھہ جاپہ پیٹھہ گڑھ نمازہ منزہ ہتھہ گرن مسجد حرامس یعنی کعبہ شریفس اِنَّ وَآئِنَهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ بیشک یہ حکم چھو پز پائٹ تہندس پروردگار سہدہ طرفہ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بیہ چھونہ اللہ تعالیٰ بے خبر تہنز وکا میولتہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بیہ چھو بیہ حکم بیان یوان کرنہ کہ یہ طرفہ تہہ نیرہ وسفرس، پریتھہ جاپہ پیٹھہ گڑھ نمازہ منزہ ہتھہ گرن مسجد حرامس یعنی کعبہ شریفس اِنَّ۔ یہ حکم چھنہ تو ہی بوت بلکہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اے لگو تہہ تہ تہ آسمان سے پیٹھہ کمر و تہہ بن ہتھہ اٹھہ مسجد حرامس اِنَّ یہ حکم چھوس بو فرماوان لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تہ تہہ تہہ قسمہ تہہ کرکک اعتراض کرکک موقعہ روزوہ لوکن یعنی یہودن یہ مشرکن اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوای تہن لوکن سیموپان پانس ظلم کمر تہواندرہ تہند عنادتہ بعض تھاونہ سیت۔ تم کرہ نی طعنہ زنی بہر حال مگر فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي تہن مہ کھو ترو تہزن پانس ہندمہ بروکانہ پرواء کھو تزان آسہ میانس حکمس خلاف کرنس وَلِأَنَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بیہ چھوس بو یہ حکم فرماوان تہہ پورا کمر و تہن نعمت توہ پیٹھہ بیہ تہہ تہہ دینہ کین

يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا  
لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۵۱﴾ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا ۗ ﴿۱۵۲﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۳﴾  
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا  
تَشْعُرُونَ ﴿۱۵۴﴾ وَكُنُوبُكُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّن

احکام من کُن و تھہ لبو اسلامس پٹھہ مضبوطی سان قائم روزو۔ چونکہ قبلک معاملہ اوس نہایت مہتم  
بالشان مخالفو اوس اتھہ پٹھہ سیٹھاہ شور ٹمٹت بید اوس امہ کین بعضی جزئیاتن اندر ترد و سپد نگ احتمال  
لہذا آویہ حکم مکرر بیان کرنے امیہ کنین سارنی پہلوون ہند لحاظ تھاوت امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان کعبہ  
شریفہ کہ مقبولیتک و عاکوراسہ قبول۔ سو بنوواسہ اہل اسلامن ہند قبلہ ہتھہ پاٹ اسہ حضرت ابراہیمہ  
سند بیاکھ دعادر حق بعثت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم قبول کور کَمَا أَسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولَنَا لَمْ  
کعبہ شریف بنوواسہ اہل اسلامن ہندہ خیطرہ قبلہ ہتھہ پاٹھہ اسہ سوز توہیہ کُن عظیم الشان پیغمبرہ توہی  
منزہ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا کس سان آیات پتر پتر توہہ بوزہ ناوان چھو وَيُزَكِّيكُمْ بید چھوہ توہہ پاک  
وصاف کران شریکچہ تہ گوئمن ہنزہ ناپاکی نغہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بید چھو توہیہ پچھناوان قرآن مجید  
گاٹ جارچہ تھہ تہ طریق عمل وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بید چھوہ پچھناوان تم علوم تہ تم اسرار تم نہ تھہ  
تھہ پچھہ ہو۔ امہ امہ قسچہ نمردہ کرہ موہ میہ عطا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کسر و تھہ میون یاد۔ بو کرہ تھہ یاد  
وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا میانین نعمن ہنز شکر گذاری کسر و میان حکم مانہ سیت۔ کفران نعمت مہ کسر و  
میان نافرمانی کرنے سیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمانو اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یاری تہ مدد ڈھاڈ  
واکھ صبر کرنے سیت کیازہ صبر چھو پر ہتھہ کامیابی ہنز کو نزہیہ نمازہ پر نہ سیت کیازہ نماز چھہ افضل  
عبادات اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو صبر کروئین سیت۔ نماز پر وہ نین سیت گو آتھی وَلَا  
تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بید مہ و نو تھن کو کس ہم مانہ نین تہ شہیدین کرنے خدایہ سزہ و تہ

الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَاتِ وَيَسِّرِ الصَّبِيرِينَ ﴿۱۵۵﴾ الَّذِينَ إِذَا  
 أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱۵۶﴾  
 أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿۱۵۷﴾  
 إِنَّ الصَّفَا وَالرِّوَاةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَبَّ الْبَيْتَ أُوَاعْتَمَرَ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ

اندر یعنی دینہ خیطرہ تم چھ مردہ بَلْ أَحْيَاؤُكُمْ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ بلکہ چھہ تم اہم مخصوص حیاتہ سیت  
 زندے۔ مگر چھہ بیكونہ تہمز زندگی محسوس کتر تھہ کیا زہ سو چھہ سمہ زندگی خوتہ تھمز زندگی وَلَكِن تَلْبَسُوا لَكُمْ  
 يَسْمَعُونَ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَاتِ بیہ آزماوہ آس چھہ ضرور۔ کیوہ ہاہ  
 خوف سیت بیہ بو چھہ سیت۔ بیہ مال و جان تہ میون ہندہ نقصانہ سیت۔ و چھو صبر کم کرن تہ بے صبری کم  
 کرن وَيَسِّرِ الصَّبِيرِينَ بشارت فرماو بو چھہ صبر کرہ و نین یم بڈین مصیبتن پوٹھہ تہ صبر کرن لو کٹین  
 مصیبتن پوٹھہ تہ صبر کرن۔ بیہند عادت چھو الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ تَمْنَىٰ يَلَهُ كَأَنَّهُمْ مُصِيبَاهُ وَإِنَّمَا  
 چھو قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمہہ ساتہ چہ تم دپان آس چھہ مال و جانہ تہ اولادن سان خدا بیہ  
 سندی ملک۔ بیہ چھہ آس تس گن پتولا کہ رجوع کرہ و ن اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ تہ  
 لو کہ تم تکالیف و مصیبتن پوٹھہ صبر کرہ و ن تہ مصیبتہ کہ وقتہ آیہ استرجاع یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پرہ  
 و ن آس تمنی پوٹھہ چھہ خدا بیہ سندہ طرفہ بیشار مہربانی بیہ بڈ رحمت اُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ بیہ چھہ تہ  
 لو کہ تہمو پزناٹ راہ راست لوب۔ برو ٹھہین آیات کریمن منز آس ذکر خانہ کعبہ کہ سُوچھو قبولہ اندرہ  
 بہتر قبلہ عبادت تو اندرہ بہتر عبادتس یعنی نمازہ اندر کمر و بٹھہ پُتھہ خانہ کعبہس گن و ن چھہ اللہ تعالیٰ فرما و ن  
 اتھہ متعلق بیہ لمحہ بڈہ عبادت ذکر سو گنیہ عبادت حج اِنَّ الصَّفَا وَالرِّوَاةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ پزناٹ صفا مردہ  
 یم زہ کوہ بیہ یمن منز سع یعنی دورہ دور کرن چھہ پروردگارہ سندہ دینہ کیو یادگاروتہ نشانو اندرہ فَمَنْ  
 حَبَّ الْبَيْتَ أُوَاعْتَمَرَ پس تمہ شخص حج ادا کر نہ خیطرہ احرام گونڈمت آہہ یا عمرہ کر نہ خیطرہ فَلَا

شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ ۝۱۵۱ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى  
 مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ  
 يَلْعَنُهُمُ اللّٰعُنُوْنَ ۝۱۵۲ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاصْلَحُوْا وَبَيَّنُّوْا  
 فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝۱۵۳ اِنَّ الَّذِيْنَ  
 كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرًاۗ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ

جَنّٰهٍ عَلَيْهِمْ اَنْ يَّظَلُوْنَ فِيْهَا ۝۱۵۴ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى  
 ستر پھر ہتھ سے وناں چھہ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۝۱۵۵ بِيْهٖ لَيْسَ اَكْهٰهٖ بِمَنْعَةٍ خَوْشٰى سِيْتٍ كَانَتْ رِثْكَامًا كَرِهَ ۝۱۵۶  
 اللّٰهُ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ پس پڑیا اللہ تعالیٰ جھوٹکین ہنز قدر کرہ ون سوزی زانہ ون کم کوسہ کام کہہ نیٹہ  
 کسر اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْكُرُوْنَ يَزِيْدُهُمْ اَمْوَالًا وَمِنْ لَدُنْهُ سُوْرٌ مِّنْ دُوْنِ ذٰلِكَ ۝۱۵۷ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ  
 نازل کرنیو دلیو آندره تہ ہدایہ اندرہ مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ وارہ پاٹھہ لوکن ہندہ خیطرہ  
 تورات وانجیلس منز وضاحتہ سان بیان کرنہ پتہ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰعُنُوْنَ اٰمٰنٰی لوکن  
 پیٹھہ جھو اللہ تعالیٰ لعنت کران پڑکھٹہ خیطرہ بیہ چھہ اٰمٰنٰی بیہ لعنت کرہ ون تہ لعنت کران۔ کیا زہ بیہندہ  
 پڑکھٹہ سیت ووت نہ خدایہ سُنْد نور لوکن نغہہ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاصْلَحُوْا وَبَيَّنُّوْا مگر سیم لوکھ توبہ کرن  
 سمو کامیو نشہ پھیرن۔ بیہ سنبھالن پتہ کلمہ دین اسلام قبول کرنہ سیت بیہ کرن وضاحت تمن چھن ہنز  
 سمہ پوشیدہ تہ کھٹت تھاوان آسِ فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ پس سیم لوکھ سیم چھہ یمن ہند توبہ کرہ بو  
 قبول وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ بوی جھوس سیٹھاہ توبہ قبول کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ کانہہ توبہ کرہ  
 وناہ گھڑہہ اَسْنِ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرًاۗ پڑپاٹھہ سیم کفر سی پیٹھہ روڈ سمو یہود و آندره  
 بیہ مُود کفر سی پیٹھہ۔ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ تمن لوکن پیٹھہ چھہ بد ستور  
 خدایہ سز۔ لعنت۔ بیہ ملائکین ہنز لعنت۔ بیہ سارنی لوکن ہنز لعنت خُلِدِيْنَ فِيْهَا تھہہ لعنتس منز روزان  
 ہمیشہ۔ سو گوناہ جہنم لیس لعنتک گھرہ چھو لِيَجْزِفَنَّ عَنْهُمْ الْعَذَابَ لوژ روانہ تہ کم بیہ نہ کرن تمن نشہ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳۱﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يَخْفَىٰ عَنْهُمْ الْعَذَابُ  
 وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَاللَّهُمُّ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ  
 الرَّحِيمُ ﴿۱۳۳﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ  
 وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ  
 اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  
 وَبَكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ

عذاب وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ نہ بیہ تمن مہلت نہ وَاللَّهُمُّ إِلَهُ وَاحِدٌ بیہ چھو معبود تہند کوی معبود اوہ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کانہ معبود اوہ تہونہ تس وراہی۔ کانہہ چیز اوہ چھونہ سزاوار عبادتس، تس اگس ذاتس وراکی  
 کیاہ تہند صفت چھو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ عام رحمتہ وول، خاص رحمتہ وول۔ لیس منز تم زہ صفت آسن  
 سوہی چھو معبود آسنس سزاوار۔ یلہ بیہ آیہ کریمہ وَاللَّهُمُّ إِلَهُ وَاحِدٌ نازل سپد۔ کافر لگ ونہ آج دلیل  
 کیا چھہ اتی سپد نازل إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ پڑپاک آسمان ہندس تہ زمین ہندس پیدہ کرنس  
 اندر وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ راتہ کس تہ دوہہ کس انس تہ گڑھنس اندر۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بیہ  
 تمن ناوون تہ جہازن اندر تم سمندر تہ دریاون اندر پکان چھہ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ تم چیز تہ سامانہ ہیبت  
 سمہہ سیت لوکن نفع تہ فائدہ و اتان چھو۔ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ بیہ تھہ آسنس منز لیس  
 اللہ تعالیٰ چھو آسمانہ طرفہ ابرہ منزہ نازل کران فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لیس چھو تہی سیت  
 مردہ ز مینس زندہ کران وَبَكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ بیہ چھو چھکر اوان اتھہ زمینس اندر پریتھہ  
 قسمک جاندار وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ بیہ اوون ہندس اورہ یور کرنس اندر وَالسَّحَابِ السَّحَابِ السَّحَابِ  
 وَالْأَرْضِ بیہ تھہ ابرس منز لیس رام تابع تہ فرمانبردار چھو لیس ووند چھو آسمانس تہ زمینس در میان  
 لَا يَتِي الْقَوْمَ يَعْقِلُونَ پڑپاک نبڈن نشانہ چھہ یمن ستن چیزن اندر عقلہ والین ہندہ خیترہ۔ پریتھہ  
 چیز اوہ چھو دلالت کران تہندس خالق مطلق تہ معبود برحق آسنس پٹھہ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَكْفُرُ بِمَا



الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۴۶﴾  
 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ  
 اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ  
 يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿۱۴۷﴾  
 إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ

دُونِ اللَّهِ اُنْدَادًا بے چہرہ لو کو اندرہ بعضے لو کہ ہم ٹھہراوان چہرہ خدا لیس ورا کی بین خدا بے سندہ ہم پلہ تہ برابر تُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ تہندی محبت چہرہ تھوان خدا بے سندہ ہو محبت۔ تمنی چہرہ عبادتس اندر، اطاعتس اندر خدا بے سندہ شریک تھوان۔ خیال چھو کہ ہم چہرہ ذریعہ تہ واسطہ، سفارش کرہون خدا لیس نشہ یمن تہ چھو اندرونی طاقت قدرتس اندر یا کانہہ دخلہ خدا بے سزنا کا میں اندر وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ مگر تمہو لو کو پڑھ کمر خدا بے سندس کن آسئس تمن چھو ساری ہندہ خوتہ خدا بے سندوی سخت محبت کیا زہ تمن چھو یقین کہ سوی چھو سوڑی عطا کرہون تہ بے نہ کانہہ۔ تم چھنہ منگان کس ورا کی بے کانہہ۔ تم چھنہ کھو ژان کس ورا کی بے کانہہ سوڑی چھو ساری فقک تہ نقصانک مالک بے نہ کانہہ۔ تمن بٹھہ محبت چھو خدا بے سندہ بٹھہ نہ بے کانہہ ہند خدا بے سندہ رضا خیلہ چہرہ تم خدا بے سندہ رتین ہندن۔ انبیاء تہ اولیاء ہند محبت تھوان۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ہر گہ زانہ ہن تم ظالم تمہو خدا لیس شریک ٹھہرا سو کھ یوسہ زانہ بھہ تمن تمہہ ساتہ إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ سمہ ساتہ تم عذاب و چھن سنو گویہ بے کھہ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کہ پڑا پھہ سوڑی قوت چھو خدا بے سیوت وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ بے چھو اللہ تعالیٰ کڈر عذاب کرہون۔ تلہ ٹھہراو ہن نہ خدا لیس شریک إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا یلہ لوب ہن تہ بے تعلقی ظاہر کرن آخرتس اندر تم لو کھہ ہنہز متابعت تہ پیروی کرنہ یوان آس، تمن لو کن نشہ ہم پیروی کران آسکھہ وَرَأَوُا الْعَذَابَ بے و چھن دوشوے عذاب نیو آچھو وَتَفَقَّطَتْ بِهِمُ الرَّسَابُ ژھین تمن برو ٹھہم ساری تعلقات وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ ﴿۳۶﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَن لَنَا كَرَّةٌ  
فَنَتَّبَرَأَ مِنْهُمُ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ  
حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِبُخْرِيٍّ مِنَ النَّارِ ﴿۳۷﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا  
مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۳۸﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنَّ

بیہ وزن تمہے وقت تم لوگھے یم پیروی کران آس ہر گاہ اسہ دوبارہ بیہ اکہ لہر دنیا ہس کُن گڑھنک موقعہ ہنہ  
بَا فَنَتَّبَرَأَ مِنْهُمُ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا اُس تہ روزہ ہو تمن نشہ الگ ہتھہ پاٹھہ تم اسہ نشہ لوب تہ الگ رُوو  
كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسْرَتٍ عَلَيْهِمْ ہتھہ پاٹھہ کیا ہاوہ اللہ تعالیٰ تمن پندہ عملہ سمہ تمہو خدا ہس  
وراک یئن ہندہ خیطرہ کرہ مژہ آسن ندامت تہ پیشمانی وَتَاهُمْ بِبُخْرِيٍّ مِنَ النَّارِ بیہ آسن نہ تم نارجمتہ  
منزہ نیرہ ون بلکہ چھو تمن تھہ منز ہمیشہ روزن۔ مشرکن عرب آس پوتلین ہندن ناون پیٹھہ بعضہ  
جانورن نامزد کتر تھہ تھاوان۔ تمہ پتہ آس تم تمن جانورن سیٹھہ تعظیم و تکریم کران۔ تمن جانورن  
نشہ آس نہ کانہہ نفع تہ فائدہ تھان۔ خیال آس کران یہ چھو کُھم خدا۔ امہ سیت سپدہ اسہ نشہ  
خدا راضی۔ امہ سیت کرہ سواسہ پن قُرب عطا۔ اللہ تعالیٰ چھو تھہ تھہندس خیال س رد کران۔ فرماوان  
چھو يَا أَيُّهَا النَّاسُ اے لوکو كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا کھو تم چیزیمز مینس اندر شرعہ موجب  
حلال تہ پاک چھہ۔ پانے مہ کتر و پانس پیٹھہ کانہہ چیز حرام۔ حلال گو تہ یہ خداین حلال کور حرام گو تہ یہ  
خداین حرام کور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ پتہ مہ پکو شیطان سندین پدین یعنی تہنز متابعت مہ  
کتر۔ یوگن سو پکناو وہ توکن مہ پکو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ کیاہزہ پٹاٹھہ سو چھو تھہند نون دشمن  
إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنَّ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ سو چھو نہ توہہ امر کران مگر گوہن  
ہند۔ بیہ تھہہ کاٹین ہند۔ بیہ امگوی کہ تھہ نور اوو خدا ہس پیٹھہ تے تھہ یمہ نہ توہہ معلوم چھہ۔ حرام  
کتر و حلال چیز۔ حلال زانو حرام چیز وَاذِاقِيلَ لَهُمْ یلہ وننہ یوان چھو تمن مشرکن ہم شیطان سنز پیروی

تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۶۹﴾ وَإِذِ قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا  
 أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْبِعُ مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ  
 آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۷۰﴾ وَمِثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 كَمِثْلِ الَّذِينَ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّوا بِكُمْ  
 عُمًى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۷۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ  
 مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِرِيسَالِهِ تَعْبُدُونَ ﴿۱۷۲﴾

کران چھہ اَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ اے لو کو تمہ حمہ موجب پکوںس نازل کور اللہ تعالیٰ اَن پیغمبر برحقس  
 پیٹھ یعنی قرآن۔ مجید قَالُوا جواب چھہ تم دپان بَلْ نَنْبِعُ مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا بلکہ پکوا اَس تھہ  
 طریقس پیٹھ پیٹھ طریقس پیٹھ لب اسہ ہن مال تہ بدبب اُولُو كَانَ اَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا  
 يَهْتَدُونَ کیاہ تم لوکھ کرنہ پنہ نین مالین ہنز پیروی ہر حالتس اندر۔ تلہ تہ یلہ نہ تم کنہ تہ زانان  
 آسن بیہ نہ کنہ صحیح وتہ پیٹھ آسن۔ یہ گنیہ تلہ کمال بے وقوفی وَمِثْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمِثْلِ الَّذِينَ  
 يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ مین کافر ن ہنز مٹال چھہ تس جانور سنز مٹال اُس نہ مضمون کلام بوزان چھو  
 اِلَادُعَاءً وَنِدَاءً مگر ناداہ تہ اَلُوا صُمُّوا بِكُمْ عُمًى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ سم کافر چھہ زر کل اِن۔ اُس چھہ  
 تم زانان کنہ تہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بالیمانو پھو پڑھ کمر وہ کُنس خدا اُس بیہ تہندس پیغمبرس  
 كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھو تم پاک چیز سم اسہ توہہ عطا کمر مت چھہ۔ تلو تین چیزن ہند متع پیٹھ  
 دنیاچہ زندگی منز۔ پانہ مے آرمیہ ورانے کانہہ ہندہ خطرہ ہانس پیٹھ کانہہ نعمت حرام کران تہ ترا  
 وَاِنَّ اشْكُرُوا لِلَّهِ شکر دیو تس خدا ایس سم بے شمار نعمد عطا کروہ اِنَّ كُنتُمْ لِرِيسَالِهِ تَعْبُدُونَ چھوے  
 تس یوت معبود زانبت عبادت کران اَلْمَاخُومَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ تم کور نہ توہہ پیٹھ کنہ تہ حرام مگر کران  
 سو جانور اُس پانے مو مت آسہ وَالذَّمَّ بیہ کران حرام خون وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ بیہ کران حرام سورہ ماز

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ  
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶۳﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ  
وَيُسْتَرُونَ بِهِ تَسَاءَلِ بِلَا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا  
التَّارَ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
أَلِيمٌ ﴿۱۶۴﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرُوا الصَّلَاةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابُ

وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ یہ کوزن حرام یہ کیڑھاہ خدالمس وراکی یہ کانسہ ہند قرب تہ رضا حاصل کرنہ  
خیطرہ کانسہ ہندہ ناوہ تھاوہ نہ آمت آسہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ کس کس شخصہ  
لاچار تہ مضطر سپدہ کانسہ چیزہ نہیں نہ تہمو چیز ووراکے۔ سوی تہمو چیز واندہ نافرمانی کرنہ وراکی، لذت  
تھاڈنڈنہ وراکی تہ حدہ نشہ ڈالنے وراکی تہبہنہ کھیہ تہس تہجوہنہ کانسہ گوانہ۔ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ پڑپاٹھ  
اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کروون، سیٹھاہ رحم کروون، إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ  
پیشک تہم لوکھ کھٹان چھہ تہم مضمون تہمہ کتابہ ہند یوسہ نازل کمر اللہ تعالیٰ ان وِیُسْتَرُونَ بِهِ تَسَاءَلِ بِلَا  
بہ چھہ حاصل کران تہمہ بدل قیمتھاہ سیٹھاہ کم اُولَئِكَ تہم لوکھ تہم کھٹان چھہ پڑہ تہمہ بدل چھہ بارہ  
تہ دیار حاصل کمرت کھیوان تہ چیوان مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا التَّارَ چھہ تہم کھیہ کھیہ نڈان منز  
واتاوان مگرناہ تیونگل۔ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ کرہ نہ یمن سیت قیامتہ دوہہ تہمہ تہ۔  
وَلَا يُزَكِّيهِمْ بہ کرہ تہمہ نہ پاک گناہ معاف کرنہ سیت وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بہ چھو تہندی خیطرہ  
دگ تہ دودتله ون عذاب اُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَرُوا الصَّلَاةَ بِالْهُدَى یم لوکھ گئے تہ تہمو مگر اہی میل  
بہ ہڈ ہدایتس وَالْعَذَابُ بِالْمُعْتَصِفَةِ بہہ ہیوتھہ عذاب مل مغفرتس فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى التَّارِ کاتیاہ ٹیڈ کرہ  
ون چھہ تہم نارس پیٹھہ یعنی بے پروائی سان چھہ کامہ کران تہمو سیت نارس گرفتار سپدن ذَلِكِ يَأْتِ  
اللَّهُ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ یہ سوڑی چھو تہن سمہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ ان کمر نازل ہن کتاب پڑ

بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ۝ ذَلِكِ يَأْتِيَنَّ اللَّهُ نَزْلًا  
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ  
 بَعِيدٍ ۝ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ  
 الْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
 وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ وَالسَّائِلِينَ وَفِي

ہیت۔ سمو کور تہہ منز اختلاف۔ اؤس کر کہ پڑھ۔ اؤس کو زکھ انکار۔ اوڈ تھو دکھ کھٹھہ اوڈنتر دوکھ۔  
 ذَلِكِ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ پڑھاہہ سمو اختلاف کوراہہ کتابہ اندر لیکن توراتس  
 اندر اؤس پڑھ تہ اؤس انکار کرنہ سیت تم چھہ زٹھس اختلافس اندر ہمیت پٹھنہ زانہہ واٹھ لیجھہ۔  
 یلہ برو ٹھمن آیاتن اندر پنہ نہ پٹھہ کامہ تہ تخن ہندسز ابو زکھ یود تہ نصاری لگت ونہہ اسہ کیاہہ آسہ  
 ہایہ سز اسہ ہجھہ نمازہ اندر پنہ نس پنہ نس قہلس گن پٹھہ کمر تھہ نماز پران۔ اللہ تعالیٰ ان کو زکھ تھہ  
 خیالس رد لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب نیکی چھنہ ایڑی یا اثر کہ تہہ  
 پھر و نمازہ اندر پٹھہ مشرقس گن اے نصاراو یا مغربس گن اے یہودو ولکن البر لیکن نیوکار گے  
 گوڈہ تہے من امن بالله والیوم الآخر سمو ایمان اون۔ پڑھ کمر کہ اکس خدا نس بیہ تھندس گن آسٹس  
 بیہ قیامتس دوہس والملائکة بیہ ملائکن ہندس و جودس والکتاب بیہ سارنی آسانی کتابن والنبین  
 بیہ سارنی پیغمبرن و آتی المال علی حبه تو پتہ دن مال پٹن خدا یہ سندی محبتہ سؤ مال ٹوٹھہ آتھہ  
 ذوی القربی پنہ نین محتاج آشناون والیتیمی بیہ نادار تیمین یمن مول مودمت آسہ  
 والمسکین بیہ عام مسکین تہ محتاجن وابن السبیل بیہ بے خرچ مسافرن والسائلین بیہ معھ  
 دنین۔ و فی الزکات بیہ گردنہ آزاد کرنس اندر۔ مقروض تہ غلامن ہنزہ گردنہ آزاد کرنس اندر  
 واقام الصلوة بیہ تھاون برپا نماز و آتی الزکوة بیہ آس ادا کرن ما لچ زکوة والنوفون بھدیوم اذا

الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ  
 إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ  
 الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۷۷﴾  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرُّ  
 بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ  
 شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ

عَهْدُهُمْ بِسِ آسن پنہ نس عمدس وفا کرهون یلیر پانہ وان معاہدہ کران آسن وَالصَّابِرِينَ بسِہ آسن صبر  
 کرهون فِي الْبِئْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ بسِہ خنی اندر، تکفین اندر بسِہ لڑایہ اندر کارن  
 سیت جسکہ وقتہ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا بسِہ لوکھ کیاہ گے پز یار۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ بسِہ لوکھ  
 کیاہ گے پر ہزگار خدا بسِہ کھوڑہون۔ مھتو فرماو کمالات انسانی۔ اگرچہ تم چھہ واریاہ چیز مگر اجمالاً چھہ تم  
 منحصر ترین چیزن اندر صحت اعتقاد، حسن معاشرت۔ تہذیب نفس۔ صحت اعتقاد گوڑہ کرن معبود  
 برحق بسِہ پڑہ کرن تمہن چیزن تمہن پڑہہ کرن لازم چھہ۔ حسن معاشرت گو پرت حقدارس ہن حق  
 واتان۔ تہذیب نفس گو نماز پرن، زکوٰۃ دن عمدس وفا کرن تہ صبر کرن۔ تم ساری چیز چھہ جمع  
 ہتھہ آسِہ کر تمس اندر۔ بسِہ آسِہ کریمہ چھو انسانی کمالاتن جمع کرہون بسِہ گے اصول بر۔ یعنی نیکن  
 ہند اصول۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماون فروع بر یعنی نیکن ہند شاخ تہ اقسام۔ گوڈنیک قسم گو قانون  
 قِصَاص يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے با ایمانو کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ مقرر آو کرنہ توہیہ پڑھہ  
 قانون قِصَاص یعنی مساوات مقتولن ہندہ حقہ الْحُرُّ بِالْحُرِّ آزاد شخص بسِہ قتل کرنہ آزاد شخص  
 بَدَلُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ غلام بسِہ قتل کرنہ غلام بَدَلُ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى زنانہ بسِہ قتل کرنہ زنانہ بَدَلُ یعنی  
 شریف تہ کمینہ آسج یادولت مند تہ فقیر آسج چھہ نہ فرق فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ بسِہ قتل کرنہ  
 عفو آو کرنہ پنہ نس بلے سہہ طرفہ کا نہہ چیزاہ یعنی مقتولہ سند یوار تواندرہ ہر گاہ کا نہہ اکھاہ عفو تہ

رَّيِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنْ اُعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم<sup>(۱۴)</sup> و  
 لَكُمْ فِي الْفِصَاصِ حَيوةٌ يَا اُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۴﴾  
 كِتَبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِّوَصِيَّةٍ  
 لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۱۵﴾ فَمَنْ  
 بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِي يَبْدِلُ لَوْنَهُ  
 اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۶﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُمُوصٍ جَنَفًا وَاَوْثَانًا

درگذر کره **فَاتَّبَعُوا بِالْمَعْرُوفِ** پس شوبه باقی وارثن دیتک مطالبه کرن سختی وراکی **وَأَذَاءً لَّيْسَ بِإِحْسَانٍ**  
 بیه شوبه قاتلس سودیت ادا کرن مقتولہ سندین وارثن گن تارنہ درگی کرنہ ورا ای **ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ**  
**رَّيِّكُمْ وَرَحْمَةٌ** یہ قانون دیت و عفو چھو بند آسانی بذرحمت تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ **فَمَنْ اُعتدى**  
**بعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيمٌ** پس کس اکھاہ حدہ ڈلہ امہ عفو کرنہ پتہ یعنی دیتس پیٹھہ تصفیہ سپدجہ باوجود  
 کرہ مقتولہ سند یوارثواندرہ کانہ قاتلن نشہ انتقام نہ قصاص پنچ کوشش۔ تسدہ خیطرہ چھو آخرتس اندر  
 دودوہون عذاب۔ **وَلَكُمْ فِي الْفِصَاصِ حَيوةٌ يَا اُولِي الْاَلْبَابِ** تہندہ خیطرہ چھہ ہتھہ قصاصہ  
 کس کھمس اندر بڈ زندگی اے عقلہ والیو کیا زہیلہ کانہ اک سندہ قتل کرنک ارادہ کرن وول یہ زانہ کہ  
 میہ پیہ امیک قصاص ہینہ سوروزہ پانے قتلہ نشہ ہتھہ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ہتھہ تہہ قتلہ نشہ پتہ روزو قصاصہ  
 کہ بیمہ **كِتَبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ** فرض آو کرنہ توہہ پیٹھہ ای باایمانویلہ حاضر آسہ سپدان  
 توہہ اندر کانہ موت یعنی مر نک وقت آسہ واتان موتک علامات آسن ظاہر سپدان **اِنْ تَرَكَ خَيْرًا**  
 ہرگاہ ہے سوتر اوہ ہتھہ گن کانہ مالہہ **لِلْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَصِيَّتَ كَرْن** اتھہ ماس اندر ماس ماجہ ہندہ  
 خیطرہ **وَالْاَقْرَبِينَ** بیہ آشناون ہندہ خیطرہ **بِالْمَعْرُوفِ** انصافہ موجب نہ حسب دستور **حَقًّا عَلَى**  
**الْمُتَّقِينَ** یہ چھو لازم پرہیز گارن ہندہ خیطرہ **فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ** پس ہم اک تبدیل کور  
 اتھہ وصیتس بوزنہ نہ معلوم سپد نہ پتہ **فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِي يَبْدِلُ لَوْنَهُ** پس چھونہ امیک گناہ مگر

فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا تُتَمَّ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸۲﴾ يَا أَيُّهَا  
 الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ أَيَا مَا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ  
 مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى  
 الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا  
 فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۴﴾

تعمنی پیٹھ سم اتھ تبدیل کرن اِنَّ اللّٰهَ سَبِيْعٌ عَلِيْمٌ اللّٰه تعالیٰ جھو سوزی بوزہ ون سوزی زانہ ون یہ  
 حکم اوس ابتدائی اسلامس اندر پتہ سپڑیہ حکم منسوخ آیہ میرا نہ سیت فَمَنْ خَانَ مِنْ قَوْمٍ جَنَاقًا وَ  
 اٰثْمًا پَسْ لَيْسَ كُفُوُذِهِ وِصِيَّتْ كَرِهَ اِنَّ اللّٰهَ طَرَفَهُ لَمِنَ الْقِسْمِ بے انصافی یا حق تلفی فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ پَسْ کرہ  
 وارثن منزاتھ و وصیتس کینبہ اصلاح فَلَا تُتَمَّ عَلَيْهِ لَسْ جھونہ کانہہ گناہ اِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ رَحِيْمٌ بیشک  
 اللّٰه تعالیٰ جھو مغفرت کرہ ون رُحْم کرہ ون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے بالیمانو كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ  
 فرض آیہ کر نہ توہہ پیٹھ روزہ داری کَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ جتھ ہاٹھ فرض آمرش آس  
 کر نہ تمن لو کن پیٹھ یم توہہ بروٹھ آس لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جتھ ہٹھ متقی تہ پرہیز گار بنو۔ اَيَّامًا  
 مَعْدُودَاتٍ کیندن دوہن سم دوہ گزرنہ آمت چھہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ  
 أَيَّامٍ أُخَرَ تمہہ پتے توہہ اندرہ کانہہ بیمار پیہ یا سفرس نیرہ تمن دوہن اندر تمس جھو اجازت تمن  
 دوہن افطار کمر تھہ تم دوہ پورہ کرن ہلکتھ یا سفرہ نغہ واپس جتھ۔ بیاکھ آسانی جھہ وَعَلَى الَّذِينَ  
 يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ بیہ گزھہ تمن لو کن ہند یمن طاقت آہہ روزہ دار روز نگ مگر روزن  
 نہ۔ فدیہ دیون اگس محتاجس اکہ دوہہ بدل دون وقتن برابر کھین دیون یہ حکم چھہ آمت منسوخ کر نہ  
 فمن شہد معکم الشهر فليصمه سیت مریض تہ مسافرن چھہ استثناء فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ پَسْ  
 لیس نیکی کرہ یعنی محتاجس زیادہ پن دیہ تہ جھو تہندہ خیطرہ بہتر وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
 تَعْلَمُونَ توپتے توہہ روزی داری ہند ثواب تہ فضیلت معلوم آہہ ہاتلہ اوس تہندہ خیطرہ روزہ دار



شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ  
بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ  
فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲۰﴾ وَإِذَا  
سَأَلْتُمْ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

روز نوبی بہتر شہرِ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ماہ رمضان گو سوریتھہ ہتھہ ریتس منز پورہ قرآن  
مجید نازل آؤ کر نہ لوح محفوظ پیٹھہ بیت المعمور س گن ہدی لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ لیس قرآن مجید بوڈ ہدایت چھو لوکن ہندہ خیطرہ ہتھہ منز ہدایت نہ دلیلہ چھہ سمہ دلیلہ  
ہوس نہ لہوس منز فرق کرہ و نہ چھہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ لیس اکھاہ توبہ اندرہ اتھہ  
ریتس لہ سوروزن اتھہ ریتس روزہ دار وَ مَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ بیہ لیس توبہ اندرہ تمہ قسمہ بیمار  
آہہ ہتھہ روزہ درتھہ مضر سپد لیس یا مسافر آہہ اتھہ ریتس اندر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ تلہ چھہ تمس تم  
بیماری ہندوہ یا مسافر تک دوہ بین دوہین اندر درن لازم یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ  
تعالیٰ چھو یشھان ٹھہندہ خیطرہ آسانی سو چھونہ یشھن تھہندہ خیطرہ سختی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ بیہ  
چھو یشھان اللہ تعالیٰ کہ پورہ کتر و تہہ روزہ داری ہندوہ ہتھہ ثوابس اندر کی روزہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ بیہ  
ہتھہ تہہ اللہ تعالیٰ بزرگ نہ بوڈ زانیون۔ بوڈ زانتھہ آہو تھہ یاد کران۔ پر ان آہو اللہ اکبر علیٰ ما  
هَدَاكُمْ ہتھہ تھہ پیٹھہ کہ اللہ تعالیٰ ان کیاہ کورہ توبہ ہدایت، تم کیاہ ہاوہ توبہ و تھہ رتھہ کامہ کرنس گن  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یو تھہ تہہ پروردگار سنزن مہربانین پیٹھہ شکر گزاری کتر و۔ نبی کریم صلی اللہ  
علیہ وسلم نفعہ آہہ اکھہ جماعتھاہ، تموی ہڑ تھہ یار رسول اللہ خدا چھا اسمہ نفعہ نزدیک تلہ مجھ ہوس لو تہ  
لو تہ کترہ سو چھو ڈور تلہ مجھ ہوس ہڈ ہڈہ۔ آئی سپد نازل یہ آہہ کریمہ۔ وَإِذَا سَأَلْتُمْ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي

دَعَانِ فَلَيْسَتْ جَبِيْبُوَالِيْ وَلِيُوْمِنُوَالِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿۸۱﴾  
 اِحْلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ اِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ  
 لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ  
 تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ  
 بَاشِرُوْهُنَّ وَاَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَاَكْلُوا وَاَشْرَبُوا حَتَّىٰ

قَرِيْبٍ بِيه يَلِيهِ تَوَهُّدٌ بِرِثْمٍ مِيَانِ بِنْدَه كِه بُو چھوسه تمَن نزدِيك كِنَه دُوْر فرمادِيُو كِه مِيَانِه طرفه كِه بُو  
 چھوسه نزدِيك اِحْبِيْبٌ دَعُوْهُ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ اجابت ته قبول چھوس كر ان پر تھه مگه ون  
 سِدَس مگه نس۔ پر تھه در خواست كره ون سِدَس در خواست كر نس يله سُو آسه مناسب ته قابل  
 قبول يله سُو عاجزى سان مے يُوْت مگه ته مے يُوْت زانه حاجت روا فَلَيْسَتْ جَبِيْبُوَالِيْ پس مان تم ته  
 مِيَان كُحْم۔ ميه نَشَه كَرْن طلب اجابت وَلِيُوْمِنُوَالِيْ بيه كَرْن پڑه ميه مِيَانِه نزدِيك آسَك تهاون  
 يَتِيْن لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ تھه تمَن تهمه سِيْت ميه نَشَه وان تھه بِيَه اِحْلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثِ  
 اِلَى نِسَائِكُمْ حلال آيه كرنه تھنْدِه خِيَطْرَه اے با ايمان ووزن هنزن راتن اندر پنہ نين منكوحه  
 زنانن نشَه نَشَج خواہش پوره كرنه خِيَطْرَه نزدِيك سِپْدَن هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ  
 تهمه ہھه تھنْد لباس۔ تھه چھوه تھنْد لباس كھه اك سِدَس بدنس سِيْت متصل ميلتھه لباسك  
 پاٹھه ياكھه اك سِدَس سَرَس سرپوش ته ستر۔ تھه پاٹھه لباس چھو بدنس سَنز كر ان بدنك عيب پوشيده  
 تھوان عَلِمَ اللهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ اللهُ تَعَالَى اَسْ اَسْ خَبْرے كِه تھه كَمْر و خِيانت پنہ  
 نين پانن يئننِ خدایه سِدَس كُحْمَس مخالفت كرنه سِيْت كر يوكه كَنگَار بِن پان۔ توپته سپد و نادم ته پشيمان۔  
 پنہن معذرت كمر و پيش۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس اللهُ تَعَالَى ان كور توبه تھنْد، معذرت تھنْد قبول وَعَفَا  
 عَنْكُمْ تھنْد ين گونسن كوزن عَفُو فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ پس وون كمر و نزدِيكي پنہ نين زنانن سِيْت ماه  
 رمضان چن راتن اندر بِلَا تَرَدِّد وَاَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ تھانْدِه و ته حاصل كمر و تَبِيَه اللهُ تَعَالَى ان ازله

يَتَّبِعْنَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  
 ثُمَّ آتَتُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ  
 عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَّاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۵﴾

تمہدہ خیطہ لیو کھمت آسہ یعنی اولاد۔ امہ اندرہ در او کہ زنانہ نشہ نزدیکی کرنہ اندرہ گرهہ اسن قصد بقائی نسلک محض۔ نفع خواہش پورہ کرنی یوت نہ امی چھہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہ وقتہ بن امت تم دعا پچھہ ناؤ مژتم اتھہ مقصد س مناسب چھہ بسم اللہ۔ اَللّٰهُمَّ حَبِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَحَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا۔ متفق علیہ اللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانَ فِيمَا رَزَقْتَنَا نَصِيْبًا (مصنف عبدالرزاق بحوالہ فتح الباری)۔ امیوک معنی گو پروردگار اسہ دوشون باژن تھاوشیطانس نشہ دور۔ بیہ بیہ ژبیہ اسہ عطا کرت اولاد تس تبغہ تھاون شیطان دور۔ پروردگاریہ ژبیہ اسہ عطا کرت تھ یعنی اولاد۔ تھہ منزہ تھاوشیطانہ سند کا نہ حصہ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا بیہ کھیوتہ چہ ماہ رمضانہ کین شبن اندر حَتَّى يَكْبِتَ لَكُمْ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ توتان یوتان مشرقہ کہ طرفہ ظاہر آسہ سپدان توبہ صبح صادق سفید دھاو کہ بہنہ دھاوہ نشہ یعنی شبہ چہ تاریکی نشہ آسہ صبح صادق سفیدی ننان ثُمَّ آتُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ تویتہ آسوروزہ داری پورہ کران شامس تان نیس ابتدای شب چھو ولا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ بیہ مہ آسوپنہ نین زنانہ نزدیک سپدان نفع خواہش پورہ کرنہ خیطہ ہاشموت معافقہ کران۔ تھس ژپنہ ہیوان یا مونہ بیٹھہ کران یلہ تمہ مسجدہ اندر اعکافس روزان آسوادہ سواعکاف ماہ رمضان اسن اندر آسن یا بین ریتن اندر آستن تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ تم چھہ نغانہ خدلیہ سد مقرر کرمت فَلَا تَقْرُبُوهَا پس مہ سپدو یمن نشانہ حدن نزدیک۔ سمودو نشہ ڈنچ چھنہ کتھہ کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَّاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تھہ پاٹھہ چھو اللہ تعالیٰ نر او تھہ بیان کران آیات بن لوکن ہندہ اصلاح خیطہ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تھہ تم خدلیہ سنزونا فرمانیو نشہ کین۔ تہ تھہ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا  
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِةِ  
قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ  
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ

روزن۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ یہ منہ کھینچو مال اکھ اسد ناحق تہ حرام طریقہ  
ژور، خیانت، غصب کرنہ سیت زار گند نہ سیت یا عقود فاسدہ کرنہ سیت یعنی تم معاملہ کرنہ سیت تم  
شر عس اندر ناجزہ چھہ۔ تم گے پھلیہ اندرے ٹھیکہ کرن ہی چیز۔ پیدہ سپدہ نہ بروٹھے خرید و فروخت  
کرن ہیو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ یہ منہ آسو آپز مقدمہ نوان حاکمن نشہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ہتھہ حاکمن نشہ مقدمہ زینت لوکن ہند مال کھیوان آسو بظلم وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ  
زانتھہ کمر تھہ یعنی توہہ آسہ خبری پنہ اپزہ دعویٰ آج۔ تہ اپزہ مقدمہ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِةِ  
پر ژشان چھہ توہہ لوکھ ہلالن ہند تم کیا زہ چھہ یک آسان تو پتہ بدان بدان ذون سپدان تو پتہ بیہ پنہ  
نس حالس پیٹھہ واتان۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ہتھہ فرماؤ کھ توہہ کیاہ چھو یمن کھن  
سیت۔ ہتھہ بوزو سوکھہ ہتھہ سیت توہہ تعلق چھو۔ ہم ہلال چھہ نشانہ لوکن ہندین معاملاتن ہندہ  
خیطرہ۔ مثلاً مزورن ہنزہ مزورہ۔ زنانن ہندہ عدتک حساب مدت حملک حساب۔ مدت رضاع و فصال  
یعنی دوو چھکے تہ ژٹنک حساب۔ روزہ داری۔ زکوٰۃ بیہ جگ وقت معلوم سپدہ خیطرہ نون تہ صاف  
حساب قمری حساب ئس ہلاو سیت معلوم سپدان چھو۔ کفار مکہ آس احرام کھنڈت گرن اندر کئیہ ضرورتکہ  
وقتہ دروازوکن اژن گناہ زمانن لہذا آس گرن ہندیو پشوکن دیوار ژٹھہ یاد یوار کن گرن منز اژان۔ اتھہ کور  
اللہ تعالیٰ ان ردّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا یہ چھنہ نیکی ہتھہ کیاہ ایو گرن  
منز گرن ہندیو پشوکن بلکہ چھہ یہ زمانہ جالپتھہ طریق وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ بلکہ نیکیو کار گوسوی ئس

وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۸۹﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۹۰﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُوهُمْ وَآخِرُ جُورِهِمْ مَنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ

خدائس کھوڑہ وَاَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا بلکہ ایوگرن منز گرن ہندیو دروازو کن۔ پانے پتہ خیالہ کانہ کتھاہ گوناہ زانن یہ پھو خلاف اسلام۔ نیکی گنیہ سوی سمیک حکم خداین تہ پیغمبر خداین کورمت آسہ بدی گنیہ سوی سمہ زعمہ تمبو ممانعت کمر مژ آسہ وَاَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کھوڑو خدائس تہی سیت سپد و تمہہ رشتکار تہ کامیاب دون عالمن منز و قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَنگ تیاری کمر و خدا یہ سزہ و تہ منز تمہد دین بلند کرنہ خیطرہ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ تمن سیت تم توہہ سیت جنگ کران ہجہ، جَنگ تیاری کران ہجہ وَلَا تَعْتَدُوا حَدِّمْ ذَلُو کانسہ پٹھہ مہ کمر و زیادتی، لوکت، زانانہ تہ بدہ مہ مارو کہ قصد سبز گل مہ ڈیو کہ، زراعت مہ کمر و تباہ تہ بر باد عمد ٹکنی مہ کمر و اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ پزپٹ اللہ تعالیٰ پھونہ پسند کران حدہ ڈلہ و نین وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقَفْتُوهُمْ ہر گاہ توہہ تمن سیت کانہہ عمد و پیمان آسہ نہ تلہ یتنس تہہ تم لیو کہہ تیتس مارو کہہ وَاَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُمْ نینہر کڈیو کہہ تم تمہہ شہرہ اندرہ بیمہ شہرہ منزہ تمبو تہہ نینہر کڈیوہہ پرولمہہ بروکھنہ کیاہہ تم ہجہ فتنہ و فساد کران۔ کٹس خدائس شریک ٹھہراوان وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ فتنہ و فساد تہ شرک پھو قتلہ خونہ زیادہ مشکل وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ تہہ مہ کرو جَنگ تمن سیت مسجد حرامس نزدیک یوتان نہ تہ تورہ جَنگ

فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمْ مَنْ قَاتَلْتُمْ فَكَيْفَ تَكُونُ جَزَاءُ  
 الْكُفْرَيْنِ ﴿۱۹۱﴾ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۹۲﴾  
 وَقَتَلْتُمْ مَنْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ  
 بِاللَّهِ فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۱۹۳﴾  
 الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ  
 اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

کرنس ابتدا کرن مسجد حرامس منز فَإِنْ قَتَلْتُمْ مَنْ قَاتَلْتُمْ هر گاه جنگ کرنس اندر تموی شروع کور  
 قَاتَلْتُمْ تیلہ مار یوکھ نہہ تہہ کذالک جَزَاءُ الْكُفْرَيْنِ کیا زہ یوہے چھو سزا کافر ن ہند۔  
 فَإِنْ أَنْتَهَوْا ہر گاہ تم لمہ پتہ شرک و کفر ہنغہ ہتھہ روزتھہ مسلمان سپدن تہ توبہ کرن فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
 رَحِيمٌ پس بخشہ اللہ تعالیٰ تم کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ بخشہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون وَقَتَلْتُمْ حَتَّى  
 لَا تَكُونَ فِتْنَةً بیہ کرو تم سیت جنگ تو تان کہ فتنہ تہ فساد روزہ نہ کنہ۔ شرک سپدہ معدوم  
 وَيَكُونَ الدِّينُ بِاللَّهِ پرستش تہ اطاعت بیہ کرنہ خدایہ سنزی یاثر فَإِنْ أَنْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ  
 إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ پس اگر تم ہتھہ روزن شرکہ ہنغہ فتنہ و فسادہ ہنغہ۔ پس چھنہ زیادتی کرن جائز  
 ظالمن و رانی کانسہ پیٹھہ۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ تعظیمک رت چھو مقابل تعظیم کس رتس  
 وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ تعظیمک چیز چھہ اولہ بدلہ۔ یعنی برو تھمہ ورہہ یلہ ہتھہ آئے وہ عمرہ کرنہ خیطرہ  
 ماہ ذی القعدس اندر سمو کافر و رتوہ ہتھہ ہتھہ عمرہ کرنہ ہنغہ۔ حد بیہ ہنغہ دیت ہوہ نہ برو تھہ پجنہ۔ ہتھہ  
 موقعس پیٹھہ اوہ صلح حد بیہ سپد۔ پتہ آوہ ہتھہ دو سمہ ورہہ عمرہ القضا کرنہ خیطرہ اتھہ ماہ ذی القعدس  
 اندر مگر ہتھہ چھوہ اندیغہ کران ماہ ذی القعدس اندر جنگ کرنس اندر۔ ہتھہ متعلق چھو اللہ تعالیٰ احکام  
 فرماوان۔ ہر گاہ تم توبہ تعظیم کین ریتن اندر تعظیم کین جاین اندر اوہ مقابلہ کرنہ خیطرہ ہین ہتھہ مہ  
 برو کانہہ پروا۔ تمہ تہ کرو تم سیت خوب مقابلہ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹۷﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۸﴾ وَاتَّبُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ

عَلَيْكُمْ ۖ لَيْسَ حُدُودُهُ لِتُؤْمِرُوا بِهَا نَفْسَ نَفْسٍ تَهْتِكُهَا مِنْ دُونِهَا ۗ وَاللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹۹﴾

وَاتَّقُوا اللَّهَ تہم کھوڑو خدا سے ڈالو کہ پڑاٹھ اللہ تعالیٰ تھو کھوڑوہ وین سیت یاری تہ مدد کرنہ خیطرہ ﴿۱۹۷﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بپہ کرو خرچ مال پئن خدایہ سبزہ دوتہ اندر دشمن سیت مقابلہ کرنہ خیطرہ پپو مثل جنگ سامان۔ ڈھروے اتھومہ آسو جماد کرنہ نیران۔ سو گویان پئن پائے ہلاکس منز تراوان ﴿۱۹۸﴾ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ مہ آسو پئن پان پنے نیو اتھو ہلاکس منز تراوان مال خرچ نہ کرنہ سیت۔ ماس اندر تھین موقعن پٹھہ نخل کر تک انجام چھو ہلاکت تہ تباہی وَأَحْسِنُوا کام آسو محنت تہ مضبوط کران ﴿۱۹۸﴾ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ پڑپاٹ اللہ تعالیٰ اس چھہ پسندرت کام تہ پختہ کام کرہون ﴿۱۹۸﴾ وَاتَّبُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ پورہ کروچ تہ عمرہ خدایہ سدہ خیطرہ یعنی یلہ حج یا عمرک احرام گنڈان آسو سو آسو با تمام واتناوان منزے مہ آسو احرامہ نشہ نیران بلا وجہ ﴿۱۹۸﴾ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ہر گاہ تہ بند ایو کرنہ، پتھہ ایورنہ، کانہہ دشمن یا بیماری رطہ تہ تہہ ﴿۱۹۸﴾ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پس چھو لازم تہہ قربانک جانور لیس تہہ میسر سپہ ذبح کرنہ خیطرہ سوزن ﴿۱۹۸﴾ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۖ بپہ مہ کاسو کلن مس یعنی احرامہ منزہ مہ نیرو توتان یوت تان نہ قربانک جانور پنے جایہ واتہ ﴿۱۹۸﴾ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا پس اگر تہہ منزہ کانہہ بیمار آسہ اویہ آذی مِّن رَأْسِهِ یا آسیس کس کینہہ تکلیف بپہ سبہ مس پئس کاسن سو کاسن مس تہ دین فدیہ ﴿۱۹۸﴾ فِدْيَةٌ مِّن

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۶۷﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا

صیاماً أو صدقة أو نسك پس چھوٹس پیٹھ فدیہ دین، ترین دوہن روزہ دار روزن یا صدقہ کزن شین مسکین کھین دین یا ٹھہ یا تھاول ذبح کزن فاذا آمنتم پس یلہ توہم تمو چیز ونشہ امن والمان سپہه فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ پس ایس اکھاہ عمرہ چوکا میونشہ فارغ سپدت حجک احرام کنڈہ یعنی تمتع کرہه فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ پس چھوٹس پیٹھ لازم ذبح کزن پس جانور میتر سپد پس فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ پس ایس اکس نہ جانور میتر سپدہ تس چھوٹہ ترین دوہن روزہ دار روزن حجہ کین دوہن اندر وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ بیہ ستن دوہن حجہ پتہ یلہ وانس یسویئن تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ سبے گے پورہ ذہ دوہ۔ ذَلِكْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بیہ حکم گوتمن یم نہ کی آسن بلکہ آسن آفاتی وَاتَّقُوا اللَّهَ بیہ کھو ژوخد ایس بیٹھ نہ تھندین کھن خلاف کرو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بیہ زانو کہ بے شک اللہ تعالیٰ چھو سخت عذاب کرہ ون احکامن ہنز مخالفت کرہ ونین الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ حجک موقعہ چھو یکہنہ ریٹھہ ہم مقرر چھہ شوال ذی قعدہ تہ ذی الحجک ذہ دوہه فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ پس ایس اکھاہ یمن رتین حج کر نہ خیطرہ احرام کنڈہه قَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ پس گڑھہ نہ زنان سیت نزدیکی کرن یا تھہ متعلق تھہ ہاتھہ کرن نہ گڑھہہ بدکاری تہ خلاف شرع کا نہہ کام کرن۔ نہ گڑھہہ پانہ وان ہرہ ہر تہ لایہ لای کرن اتھہ حجہ کس زمانس اندر۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ یوسہ خیر حج کا ماہ تہہ کران چھوہہ بدنی عباداتو اندرہ یا مالی عباداتو اندرہ تہ سوزی



فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَالتَّقْوَىٰ يَأْتِي مِنَ الْأَلْبَابِ ﴿۱۰۰﴾  
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ  
 فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ  
 الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ ۖ وَإِنْ  
 كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَيِّنَ الصَّالِينَ ﴿۱۰۱﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا مِمَّنْ  
 حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَابُوا إِلَى اللَّهِ

چھوڑانا ان اللہ تعالیٰ وَتَزَكُّوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ بیہ آسوونہ خرچ ملان سیت۔ پچھان پچھان  
 مہ آسوچ کر نہ نیران۔ بیشک رت و تہ خرچ گو تقویٰ لیس میں اتھہ دارنہ نعمہ بجاوہ۔ وَالتَّقْوَىٰ يَأْتِي مِنَ  
 الْأَلْبَابِ مے پوت کھوڑو اے عقلہ والیومہ کرو میانین حکمن ہنز مخالفت لیسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ  
 تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ تو بہ چھو نہ کانہ گوناہ ہر گاہے ہتھہ ججس موقس پیٹھہ کسب کر تھہ، مزدور  
 محنت کر تھہ یا تجارت تہ کاروبار کر تھہ تلاش کرو معاش پین پنہ نس پروردگارہ سدہ فضلہ اندرہ۔ عام  
 خیال نئس لوکن ہند چھو کہ سفر جس اندر گرہنہ کئہ قسمہ کسب و کاریا تجارت تہ کاروبار کرن اتھہ خیال  
 چھو اللہ تعالیٰ صریح طور رد کران فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ  
 الْحَرَامِ ادہ یلہ ہتھہ میدان عرفاتہ نعمہ واپس پیٹوں نئس کرو خدایہ سندیاد میدان مزدلفس نزدیک  
 تھہ راتس یعنی عید ہندس شمس روزو میدان مزدلفس اندر خدایہ سندیاد کران (مشتر حرام چھو میدان  
 مزدلفس اندس پیٹھہ اکہ کوبک ناو) وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ خدایہ سندیاد کرو پیٹھہ پاٹھہ تم بیان  
 کورنو یعنی لبیک لبیک پر والہ الا اللہ پرود عاکرو۔ یا گو معنی خدایہ سندیاد کرو کیاہہ تم کوروہ ہدایت،  
 تم ہادوہ و تھہ ججمن احکامن کن وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَيِّنَ الصَّالِينَ ورنہ آسو نا توہ تمسیدو تھہ  
 ہاونہ بروٹھہ گمر ہواندرہ، و تہ ذلیو اندرہ۔ یا گو معنی پڑ پاٹھہ آسو جہہ امس رہبر کامل حضرت محمد صلی اللہ  
 علیہ وسلم سدہ تشریف ائہ بروٹھہ و تہ ذلیو اندرہ ثُمَّ أَفِيضُوا مِمَّنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ تو پتہ بیو

عَفُورٌ سَرَّحِيمٌ ﴿۱۹﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فِئِنَّ  
النَّاسَ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اتِّنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا  
لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿۲۰﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ  
رَبَّنَا اتِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

واپس تمی جایہ پیٹھہ سہمہ جایہ پیٹھہ ساری لوکھ واپس آئے یعنی میدان عرفات پیٹھہ، قریش ہند پاتھہ مہ  
آسو عرفاتس منز ساری لوکن سیت سمن تو پتہ تی پیٹھہ ساری لوکن سیت واپس سن عاز زانان۔ تم  
قریش آس پن پان تھودز اتھہ مزدلفہ پیٹھہ واپس یوان۔ تمہ نچہ فرماو اللہ تعالیٰ ان ممانعت۔  
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ سَرَّحِيمٌ ججین حکمن اندر جالیٹکین رسمن پیٹھہ عمل کرنس  
پیٹھہ منگو خدایس مغفرت پز پاتھ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ زحم کرہ ون قَاذَا  
قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ ادہ یلہ ٹہہ موکلاوان آسو پنہ حجہ کامہ یعنی وڈر ہندکنہ پھل تراوتھہ،  
مَسِ كَاتھہ، طواف زیارت کرت آسو موکلان قَاذِكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا پس  
آسو خدایہ سُدیاد کران۔ تھہ پاتھہ تہہ مالین بڈین ہندیاد کران آسوہ بلکہ تمہ خوتہ زیادہ آسو خدایہ سندوی یاد  
کران۔ اتھہ موقعس پیٹھہ چھونہ کانہ ہندیاد کرن لازم خدایہ سدہ یادہ وراہی۔ مالین بڈین ہندہ سیت فخر  
کزان چھو بے سُودتہ بے فائیدہ۔ پدرم سلطان بادونہ نکت جواب چھو ٹراچہ۔ قبرہ منزہ لیہ نہ پر ٹھنہ  
پدرت کیست۔ نتیجہ پر ٹھنہ عملت جیست فِئِنَّ النَّاسَ مَنْ يَقُولُ چھہ لو کو اندرہ بعضے مَنْ يَقُولُ  
رَبَّنَا اتِّنَا فِي الدُّنْيَا تم وناں چھہ اسی سانہ پروردگارہ اسہ کر عطا دنیاس اندر رتوی تم چھہ  
ٹھانڈان فقط دنیا کوئی مطلب وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ تھندہ خیلرہ چھونہ آخرتس اندر  
کانہ حصاہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لو کو اندرہ چھہ بالیمان تم دپان چھہ، منگان چھہ رَبَّنَا اتِّنَا فِي  
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اسی سانہ پروردگارہ اسہ کر عطا دنیاس اندر رتہ رتوی آخرتس

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۹۰﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا  
 وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۹۱﴾ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي  
 أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ  
 عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ  
 اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۹۲﴾

اندر تیر توی و قننا عذاب النار بچاواسه عذابہ نشہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تمن نشہ چھو نقل کرنے آمت کہ تمہو فرمود حسنه دنیا کیہ نیک زنانہ حسنه آخرت گیہ حور عین۔ عذاب نارگو خراب زنانہ۔ بدخوی۔ بد شکل و صورت تیز کلام کرہ ون اُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ایے لوکھ گے تم تمن مندہ خیطرہ بوڈھہ چھو تمن نیکن مند سمہ تمہو حاصل کرہ تمنی نیکن مند ثواب کریکھہ عطاڈرہ ذرہ حساب بوزتھہ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب بوزہ ون۔  
 وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ بیہ کر واللہ تعالیٰ مند یادگزرارونہ آمتین دوہن اندر۔ تمہو اندرہ چھہ مراد ایام تشریق قربان کرنک دوہ۔ تمن دوہن اندر آسو تکبیرات پران اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد، فرض نمازہ پتہ بیہ تمنہ ورا ای تہ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ایے گواہ جلدی گرہ منی منزہ واپس پیش اندر۔ دوئی دوہ پتہ واپس تس چھو نہ کانہ تصور وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ایے گواہ تس خدایس کھوڑہ ڈھک نہ پھل تہ تراوتھہ واپس پتہ تس تہ نہ کانہ تصور لِمَنِ اتَّقَىٰ ایے گواہ تس خدایس کھوڑہ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بیہ کھوڑہ ہمیشہ ای مسلمانو اللہ تعالیٰ اس یقین تھاو کہ بیشک نہہ ساری ایوتس نشہ جمع کرنے تہ سوہراونہ قیامتہ دوہہ محشر کس میدانس اندر وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَوْ كَانُوا إِلَّا رُءُوسًا يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَٰئِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَّبِعُنَا وَمِنَ الْغَايِبِينَ يُنَادُونَ بِأَن يُنَزَّلِ عَلَيْنَا سُلْطَانٌ مُّبِينٌ وَمِنَ الْغَايِبِينَ يُنَادُونَ بِأَن يُنَزَّلِ عَلَيْنَا سُلْطَانٌ مُّبِينٌ وَمِنَ الْغَايِبِينَ يُنَادُونَ بِأَن يُنَزَّلِ عَلَيْنَا سُلْطَانٌ مُّبِينٌ  
 اکھ دل چھو بیاکھ۔ بروٹھ کنہ چھہ اکھ بٹھ پتہ کنہ چھہ بیہ بٹھ۔ اکھ قسم گولوکن ہند سم دنیا ژہانڈان،

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ  
 اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿۴۳﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى  
 فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ  
 لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿۴۴﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ  
 الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿۴۵﴾ وَمِنَ

آخروج چھکنہ کا نہ فکر۔ بیاکھہ قسم گو تم دنیا تہ چھہ ژھانڈان آخرت تہ چھہ ژھانڈان ترسم قسم گو تم  
 ظاہرہ پاٹھہ چھہ نمر او ان دنیا شہہ بیزاری تہ آخر تک خیال۔ بہنزه چھہ کتھہ توہ یار رسول اللہ عجائب چھہ  
 بوزنہ یوان دنیا چہ زندگی متعلق۔ چنانچہ اخس بن شریق ثقفی منافق اوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 نغمہ یوان تو پتہ پچھہ تہ مدرہ کتھہ کر کر تم ہن سچائی ہناونچ کوشش کران **وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ**  
 خدایس اوس گواہ پیش کران پتہ دلہ کس حاکس پیٹھہ۔ اللہ تعالیٰ اس آس خبرے تہند حال کیاہ چھو۔ سو چھو  
 فرماوان **وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ** حقیقت چھہ یہ کہ سو چھو تہند سخت دشمن۔ تہندین پیرون ہند سخت دشمن۔  
**وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ** امہ پتہ بلہ توہہ نغمہ نیران چھو،  
 کوشش چھو کران شہرس منز فساد کرنچہ۔ یہ تباہ کران زراعت تہ چارواوی لوکن ہند۔ چنانچہ یوہے منافق  
 اخس بن شریق یلہ اسمہ دوہہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشہ کہنہ کالاہ کتھہ کرت دراؤ۔ نیمبر نیر تھہ  
 دین نار غریب مسلمان ہند زراعتس بیہ مارن تہند چارواوی تہ گہن **وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ** اللہ  
 تعالیٰ اس چھو نہ پسند فساد **وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ** تو پتہ یلہ تہس ونہ چھو یوان خدایس کھو ژ لوکن مہ  
 واتاوا نقصان **أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ** آمادہ چھو تہس کران سبخر تہ نخوت زیادہ گناہ کر تہس پیٹھہ  
**فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ** تسدہ حقہ چھو بس نار جہنم تھہ منزواتھہ ہمہ تہس سو سبخر تہ عر و رک نار **وَلَبِئْسَ**  
**الْبِهَادُ** کاژہ چھہ جای آراج چھہ سو جہنم **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ كَيْتُرِي نَفْسَهُ** بیہ چھو لو کو اندرہ  
 ژورسم قسم یم ہن پان کنان چھہ **ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ** خدیہ سندر ضاژھانڈنہ خیرہ **وَاللَّهُ**

التَّاسِ مَنْ كَثُرَتْ نَفْسُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ  
 اللَّهُ رَأَوْفٌ بِالْعِبَادِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ  
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ

سَأَوْفٌ بِالْعِبَادِ وَاللَّهُ تَعَالَى يَجُودُ بِكُمْ بِنَدَنِ يَهْتَمُّ سَيِّئًا مَهْرَبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا  
 فِي السِّلْمِ كَآفَّةً اے باایمانو داخل سپد و اسلامس اندر پور پور۔ اسلامک ساری حکم انو بجاؤ حکم  
 مانہ تہ اڈین حکم پیٹھ نہ عمل کرن یہ چھہ یہودن ہنز طریق مسلمان گو سؤی بس سارنی حکم گردن  
 دارہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ پتہ پتہ مہ چکو شیطانہ سندین پدین دورنگی تہ نفاق تراوہ۔  
 اسلامہ کین حکم سیت مہ ملہ ناو پتہ خیالہ یا شیطانہ سندہ و سوسہ سیت بدل احکام اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  
 مُبِينٌ پزپاٹ شیطان چھو ہند نون دشمن۔ ہتھہ آہہ کر تمس منز چھو اللہ تعالیٰ بدعتہ چین کا میں رد  
 کران پتہس آہہ کر تمس اندر آس مخلص بدن ہنز تعریف۔ بعضہ وقت چھو مخلص بندہ تہ افراطس  
 گرفتار سپدان۔ سو چھو پتہ خیالہ کانہہ رز کا ماہ کران مگر سو چھہ شریعتس تہ سنتس موافق آسان۔ یوسہ  
 کام نہ سنتس موافق آہہ تھہ چھہ و نان بدعت۔ یہودی دینس منز آس ہنہ وار اکھہ تعظیمک دوہا۔ چنانچہ  
 حضرت عبداللہ بن سلام ہم یہودن ہند یو عالمہ اندرہ آس تم آس اسلام اتھہ تہ اتھہ دوہس تعظیم چہ  
 نظرہ و چھان۔ بیہ اوس یہود تمس منز و ونہ ماز حرام تہ حضرت عبداللہ بن سلام آس نہ اسلام اتھہ تہ  
 و ونہ ماز کھیوان اتھہ منز آس زانان پتہ خیالہ خدیہ سز اطاعت۔ اللہ تعالیٰ ان کور اتھہ خیالس اصلاح  
 فرموان اے باایمانو اسلامک ساری احکام انو بجا۔ ہمہ آہہ کر ہمک معنی تہ تفسیرہ سیت چھو ظاہر  
 سپدان کہ بدعتہ چین تہ خلاف شرع کا میں کہہ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ مذمت تہ رد فرماوان حدیث شریفین  
 منز چھو وضاحتہ سان بدعتہ چین، خلاف شرع تہ خلاف سنت کا میں ہنز مذمت بیان کر تھہ سخت و عید  
 بیان کرنہ آمت حقیقتس اندر چھو بدعت سیٹھاہ مذموم چیز۔ کیا زہ بدعت گو غیر شریعتس شریعت

بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
 حَكِيمٌ ﴿۶۵﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي  
 ظُلْمٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ  
 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۶۶﴾ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ

بنیوں۔ شریعت گوئی یہ خدایہ سندہ طرف آسہ۔ یہ حضرت شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدایہ  
 سندہ طرفہ اوٹمت آسہ۔ وون بس شخصہ پنے طرفہ کانہ چیزہ انور اوہ بس نہ شر عس تہ سٹس منز آمت  
 آسہ تہ گو خدایس پیٹھہ افتراء کرن اپز نوراون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا نَسِيَ خدایس  
 پیٹھہ اپز نور اوہ تس برابر چھونہ ظالم کانہ۔ زیادہ مشکل چھوہ کہ اس بد چچ کام کردس چھونہ توبہ  
 کر تک توفیق تہ بنان کیا زہ اس چھونہ امہ کامہ ہندہ گناہ آسک احساسی سپدان زانہ سو چھو زانان  
 بو چھوس یہ کام رثر کران۔ حالبحہ یہ چھہ سر اسر نافرمانی تہ گناچ کام قَانُ زَلَلْتُمْ پس ہر گاہ جہند قدم  
 ڈلہ تہ ثابت زودنہ اسلامس پیٹھہ یعنی جہہ کرو نہ اسلامہ کین سارنی احکاس پیٹھہ عمل مِّنْ بَعْدِ مَا  
 جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ توبہ اسلامہ مذہب حق آسپہ نہ دلیلہ واتنہ پتہ ادہ تمیوک نقصان چھونہ کانہ  
 اس دمو خلاف اسلام کامہ کردہ وین ضرور سزا فاعلموا ان الله عزیز حکیم جہند گڑھہ زانن وارہ  
 پاٹھہ کہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو زبردست حمتہ وول هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْمٍ مِّنَ  
 الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ چھہ پراران تم مگر اتھہ تھہ کہ اللہ تعالیٰ تہ جہند ملائک گڑھہ واتن تمن نشہ  
 سفید ابرہ کین ساسانن منز تمن سزا نہ خیطرہ وَقُضِيَ الْأَمْرُ بِیہ گوڑھہ قصی ختمین کرنہ۔ یعنی  
 جزاء و سزا ک قصہ بس قیامتہ دوہہ طے کرنہ پتہ۔ سو گڑھہ دنیا سی منز طے کرنہ بن۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ  
 الْأُمُورُ اللہ تعالیٰ سی گن بن سارے کامہ واتاونہ۔ ساری مقدمات پیش کرنہ۔ سو ی گڑھہ پائے سارنی  
 امرن ہند فیصلہ بانبران کیا زہ چھہ ہم۔ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ اتَيْنَهُمُ مِنَ آيَةٍ بَيِّنَةٍ  
 پرٹھو جہہ بنی اسرائیلن اسہ کاٹراہ نہ دلیلہ کردہ تمن پیش ہدلیتہ چہ، سمہ جہندہ خیطرہ جہ نعمہ آسہ مگر

اتَيْنُهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ  
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱﴾  
 زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ  
 مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۲﴾ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً قَدْ

تموزان نہ تمن نعمن ہنز قدر تموبدلاوہ تمہہ نعمو کرس سیت وَا مَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ  
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ وَنَ لَس ا کھاہ بدلاوہ خدا یہ سز نعمت کرا ان نفس سیت سو نعمت واتھہ  
 فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ادہ اللہ تعالیٰ تہ چھو سخت عذاب کرہ و ان تس سو سزاییہ دنہ تس  
 دنیا س اندر یا آخر تس اندر زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا دنیا چ زندگی چھہ کافر  
 مزین تہ خوبصورت بوز نہ یوان وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا توے چھہ تم مسکین تہ فقیر  
 با ایمان تسہ کران تہ ٹھہہ کران وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حالانکہ ہم لوکھہ  
 خدا بس کھوڑ تہ شر کہ نشہہ پتھہ رُود تم آسن قیامتہ دوہہ تمن پٹھہ کنبہ سیٹھاہ تھدین مرتین اندر  
 اعلیٰ علیس اندر۔ انسانس پڑہ نہ مال و دولتہ سیت مغرور سپدن کیا زہ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ  
 حِسَابٍ اللہ تعالیٰ چھو رزق عطا کران یمن یڑھان چھو حسابہ روستوی۔ امیک دار و مدار چھو  
 قسقس پٹھہ۔ امیک دار و مدار چھو نہ کما س تہ مقبولیتس پٹھہ۔ یعنی یہ چھو نہ ضروری کہ بس مال و  
 دولتس اندر بوڈ آسہ سؤی چھو اللہ تعالیٰ اس نشہہ مقبول تہ مقرے۔ بدکتھہ چھہ خدا بس نشہہ  
 مقبول آسن تھہ چھو نہ ماس سیت تعلق کنبہ تہ سو چھو کنبہ وقتہ فقیرس مالدار بناوان تہ کنہ وقتہ  
 مالدارس فقیر تہ محتاج بناوان۔ چنانچہ یے فقیر صحابہ صیب یمن ہم کافر مالدار ٹھہہ کران  
 آس بناو اللہ تعالیٰ ان بنی قریظہ تہ بنی نضیر کہ مال و دولتک، بیہ روم تہ فار سکین بجن بجن سلطنتن  
 ہند مالک کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً اکھہ زمانہ اوس ساری لوکھہ آس اکسی دینس پٹھہ۔

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ مُنذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ  
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْ مَا اَخْتَلَفُوْا  
 فِيْهِ وَاِذَا اَخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اَوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا  
 جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا  
 لِمَا اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِ اللَّهِ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ  
 اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۱۳۱﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَ

کیا زہ گوڈنی آے دنیاں منز حضرت آدم بہ ہند باڑ حضرت حوا یمن تم اولاد از اے تمن آس  
 حضرت آدم علیہ السلام دین حج تعلیم ووان تم آس تمہہ تعلیمہ موجب عمل کران، اکس مدلس  
 تال رُود یہ سلسلہ تھے پاٹھ پکان تو پتہ پیو طبیعتن منز اختلاف تمہہ سیت پیواغراضن اندر تہ اختلاف  
 تو پتہ پیو وکنہ کالاه گڑھتھہ عملن تہ اعتقادن منز تہ اختلاف فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيْنَ مُبَشِّرِيْنَ  
 وَ مُنذِرِيْنَ سو اختلاف دور کر نہ خیطرہ سوز اللہ تعالیٰ ان تمن گن پیغمبر بشارت وده ون پڑتھہ  
 مانو نین بیم کرہ ون پڑس انکار کرہ ورن وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بیہ سوزہ تم تمن سیت پتہ  
 کتابہ یمن منز پوز اوس لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْ مَا اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ سوتھہ سوتھہ کتابن تہ پیغمبران  
 ہندہ ذریعہ فیصلہ کرہ تمن معاملن ہند یمن منز یمن لوکن اختلاف اوس وَاِذَا اَخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ  
 اَوْتُوْهُ اختلاف پوونہ تھہ اندر مگر تموی یمن سو کتاب دنہ آس امرہ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ  
 الْبَيِّنَاتُ نن تہ واضح احکام تمن نشہ واتتہ پتہ بَغْيًا بَيْنَهُمْ پانہ وان اکھ اکس پیٹھہ سر کشی کر نہ  
 سبہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا پس کور ہدایت اللہ تعالیٰ ان با ایمان لِمَا اَخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ  
 بِاِذْنِ اللَّهِ تھہ پڑہ تھہ کن تھہ منز تمن اختلاف اوس پتہ حمتہ سیت وَاللَّهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ  
 مُّسْتَقِيْمٍ اللہ تعالیٰ چھو و تھہ ہوان یمن یرشھان چھو سیزہ وتہ گن۔ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَ  
 لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ای مسلمانو کیاہ تو بہہ چھوہ گمانہ تھہ کیا اثر و جنس



لَهَا يَا نِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُ  
 الْبِاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَرُزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ نَصُرَ اللَّهُ  
 قَرِيبٌ ۖ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ  
 خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
 السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

مختہ وراى۔ حالانکہ وہ وات نہ توہم تہہ تکلیف تہہ تکلیف بروٹھین مسلمانن واتمت چہہ  
 مَسْتَهْمُ الْبِاسَاءِ وَالضَّرَاءِ رٹ تنگی تہ فقرن بیاریوتہ سختی۔ وَرُزِلُوا بلا یوتہ مصیبتو سیت آی  
 تم دونوتہ الراونہ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ یوت پیٹھہ واژنوبت کہ تمہہ  
 وقتک پیٹھہ تہ بیہ تم تمن سیت با ایمان آس ساری لگ ونہہ۔ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ کرسناواتہ مدد خدا  
 سمیک اسیہ وعدہ چھو آمت کرنہ الْآرَاقَ نَصُرَ اللَّهُ قَرِيبٌ جواب آکھ دنہ خبردار روزیاری تہ  
 مدد خدا چھو نزدیک واتہون یَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ پرژھان چھہ توہم یارسول اللہ با ایمان خرچ  
 کیاہ کرو کوتاہہ کرو۔ کس پیٹھہ کرو قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فرما یوکھہ یہ کینہہ ہاہ ہتہہ خرچ کرو مالہ اندرہ  
 کم یا زیادہ فَلِلَّوَالِدَيْنِ پس گوہہ گوڈہ دین ماس ماجہ یلہ تم محتاج آسن وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى  
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ بیہ آشناون بیہ یتیمن تمن نہ مول آسہ بیہ مسکینن بیہ مسافرنن وَمَا  
 تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ توپتہ یوسہ نیکیاہ کرو ہتہہ پس بیشک اللہ تعالیٰ آس چھہ کج  
 پورہ خبر کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ اے مسلمانو فرض آو کرنہ توہم پیٹھہ جہاد ہمیشہ خیطرہ۔  
 اگرچہ سو چھو توہمہ ناپسندی مگر توہمہ چھنہ چیزن ہنزنن حیقتن پیٹھہ نظر وَعَلَى أَنْ تَكُونُوا سَيِّئًا وَهُوَ  
 خَيْرٌ لَكُمْ بسا اوقات بہہ توہمہ بس چیز ناپسند آسہ سو آسہ تہمدہ خیطرہ رت تہ بہتر وَعَلَى أَنْ تَكُونُوا  
 سَيِّئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ کونہ وقتہ بہہ توہمہ آسہ کانہہ چیز پسند مگر سو آسہ تہمدہ خیطرہ چھہ، خراب تہ مضر

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
 وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ  
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ  
 قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ  
 كُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ

واللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ ای چھو سو روی زانان ہتھہ چھوہ نہ زانان۔ جہاد کرنس اندر اگرچہ توہمہ آستن ناپسندی، چھو پر ہتھہ حالس اندر فاسیدے فاندہ۔ کامیابی۔ مال غنیمت یا شہادت تہ بدمزور۔ جہاد نہ کرنس اندر اگرچہ توہمہ آستن پسندی چھہ بھہ خرابیہ آکھہ ذلت تہ فقر بیہ ثوابہ نشہ محرومی۔ جہادس اندر چھہ کلمہ اسلاج بلندی۔ مسلمان ہند عزت تہ سطوت۔ لہذا آسو خدلیہ سندس کھمس تقیل کرنس اندر جلدی کران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوزاکھہ لوکٹ لشکرہ جہاد کرنہ خطیرہ۔ تمیگ امیر لشکر کوزکھہ حضرت عبد اللہ بن تحش پٹن پو پھتر برادر تمو کور مشرکن سیت جہاد ہتھہ منز مور تمو عمر بن عبد اللہ حضری آکھہ کافرہ۔ ماہ جمادی الثانی کہ ہتھہ دوہہ ہتھہ منز احتمال اوس ماہ۔ رجبکہ غرہ آسنگ۔ آکھہ پیٹھہ کور کافر و اعتراض کہ مسلمان چھہ تعظیم کین رتین منز تہ جہاد جاری تھوان۔ مسلمان سپد تردد پیدہ تمو پر ژھہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ۔ ائی سپدیہ آئیہ کریمہ نازل یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ پر ژھان چھہ توہمہ با ایمان تعظیم کس رتیس اندر جنگ کرنس متعلق قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ہتھہ فرما یو کھہ واقعی تعظیم کس رتیس اندر جنگ کرن چھو بوڈ گوناہ یلہ قصد ازانہہ کرت واقعی سپدہ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مگر لوکھہ خدلیہ سزہ وتہ نشہ یعنی دین اسلامہ نشہ ہتھہ رٹن۔ خدلیہ سندس کھن آسس انکار کردن مسجد حرامس منز کفر تہ شرک جاری تھوان تہ پوتل تھاون تہن ہنز پر ستش کرن بیہ تنگ لوکھہ جلا، وطن کرن تمہہ شہرہ منزہ کڈن یہ چھو زیادہ

اللَّهُ وَالْفِتْنَةَ الْكَبْرَىٰ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ  
 حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ وَمَنْ يَرْتَدِدْ  
 مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ ۖ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ  
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ  
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا  
 وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۗ

بوڈ گناہ خدا کی نشہ و الفتنۃ الکبریٰ من القتل زیادہ بوڈ گوناہ گودین حقس اندر با ایمان ہندین دلن اندر شبہ تراوتھہ تم لمہ دینہ نشہ پھر۔ بیہ تمس پیٹھہ ظلم و تشدد کرن۔ بیہ کنس خدا کی شریک ٹھہراون۔ بیہ چہو زیادہ مشکل کا نہہ شخص مارنہ خوتہ تعظیم کین رتین اندر وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا بیہ چھولمہ خوتہ مشکل کہ تم مشرک چھہ ہمیشہ توہیہ سیت جنگ کرنگ ارادہ تھاوان پنہ گمانہ۔ توتان یوتان توہیہ واپس پھرہ نوہ دین اسلامہ نشہ کس دین توہیہ اختیار کورمت چھوہ۔ گرس گن، ہر گاہ یکن پلہ ہا۔ ون یلہ یہند ارادہ امہ قسمک چھہ لہذا چھو توہیہ لازم سارنی رتین اندر یمن سیت جمادہ خیطرہ تیار روزن۔ تعظیمک ریتھہ آسنگ نہ کا نہہ پرواہ کرن۔ لہ گروہہ وارہ ہتھد خیال کرن کہ۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ کس اکھاہ توہیہ اندرہ کافرن ہنزہ کوشہ سیت امہ پنہ دینہ، دین اسلامہ نشہ پھیرہ تمہ منزہ نیرہ یعنی مرتد سپدہ العیاذ باللہ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ توپتہ مرہ گرس پیٹھہ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کس تم لوکھہ تم چھہ تہنزہ سارے عملہ گروہن ضائع دنیا و آخرتس اندر وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تمے آسن نارس منزواتن والیواندر ریتھہ نارس اندر تم ہمیشہ روزن دزان ہاں ہر گاہ کا نہہ مرتد سپدہ تھہ دوبارہ مسلمان سپدہ آسند اسلام چھو قبول۔ تسنز رتہ عملہ تہ دین دوبارہ اسلام اتھہ قبول کرنہ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیشک سمولوکو

## وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۱۸﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

ایمان بخدا الون بیه سمو ہجرت کریمہ سمو جہاد خدایہ سزہ و تہ اندر کرز اولیک یزجون رحمت اللہ تم لوکھہ چھہ امیدوار پروردگارہ سدرس رحمت واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ تہ چھو تہہہ حقہ مغفرت کرہ ون رحم کرہ ون۔ میو صحابہ صیو اتھہ مذکورہ جہادس اندر شمولیت کر مژ آس تمن اوس ترؤد کہ خبر چھاسہ ما آسہ گناہ کھو تمت تنظیمہ کس رحمتیں اندر جہاد کر نہ سیت۔ سو ترؤد کو رکھہ اللہ تعالیٰ ان سمہہ آیہ کریمہ سیت دور یسئلونک عن الخمر والمیسر پر ژھان چھہ توبہ یار رسول اللہ بایمان شرابس تہ زارس متعلق قل فیہما اشک کبیر و متافع للکابین تہہ فرماویکھہ یمن منز چھو بوڈ گناہ اگر چہ نفع تہ چھو کینہہ یمن منز لوکن ہندہ خیلرہ ورائہما اکبر من نفعہما مگر گناہ تمن ہندوی چھو زیادہ یمن ہندہ نفعہ خوتہ۔ یہ چھو گوڈ نیک آیہ کریمہ ئیس شرابس تہ زارس متعلق نازل کر نہ آو۔ یتھہ منز بیان کر نہ آو کہ سمو دو یو چیز ویجئے شرابہ تہ زارہ سیت چھو شخص وار یمن گونن منز گرفتار سپدان۔ کیا زہ شراب چینہ سیت چھنہ عقل ڈنجہ روزان۔ یوسہ عقل انسان گنہہ کر نہ نشہ یتھہ رٹان چھہ۔ یلہ عقلہ اندر فتور یوان چھو، انسان چھو گنہن تہ نافرمانین منز دروؤ دوان۔ عقل چھہ ونان یتھہ رزہ یمہ سیت چارواکی سزرن زلگن گنڈ (ڈنگ) چھو کر نہ یوان ادہ چھونہ سو مالکس نشہ ژلٹھہ ہیکان۔ یتھہ ڈنگ ونان چھہ۔ یتھہ پاٹھہ چھہ عقل انسانس گنہو تہ نافرمانیو نشہ یتھہ رٹان۔ زارہ سیت چھو مال و دولتک حرص تہ طمع پیدہ سپدان سمہہ حرصہ تہ طمعہ موکھہ چھو شخص تھہ دوان تہ ژورہ کران۔ لوکن ہندس حقس پیٹھہ ناجائز طریقہ پاٹھہ قبضہ کران۔ امی طریقہ چھو سو وار یمن گنہن گرفتار سپدان۔ یمن دون چیزن شرابک تہ زارک نفع تہ فایدہ چھو عارضی لذتہ حاصل سپدن کم کینہہ و قس تان۔ بیہ مال حاصل سپدن زار گندت۔ سو تہ چھو عارضی پاٹھی آسان۔ کیا زہ سو چھو بے برکت جلدی ختم گروھان۔ لہذا چھو نہ یمن دوشون چیزن ہند نفع تہ فائدہ یمن ہندس نقصانس تہ ضررس مقابل کنی۔ لہذا ایوت یمن منز نقصان چھو تیوت چھو نہ نفع تہ فایدہ۔ نفع تمن دون چیزن ہند چھو عارضی تہ وقتی۔ ذاتی تہ انفرادی۔ مگر ضرر یمن دون ہند چھو دائمی متعدی تہ عام۔ بعضے صحابہ صیو ترؤد شراب چون تہ زار گنڈن فوراً امی آیہ کریمہ کہ نازل سپدنہ سیت۔ مگر بعضی روادیمہ کیو مضر تو نشہ بچنہ خاطرہ احتیاطی

## قُلْ فِيهَا اشْرَابٌ كَثِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرٌ

تدابیر اختیار کرتے بدستور استعمال کران۔ پتہ یلہ سپد بیاکھ آئے کریم لیس سُوْرہ مایدس منز چھو نازل۔ یکدم رُودساری صحابہ صیب شراب چہ نہ نشہ تہ زارگند نہ نشہ ہتھ۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْاَنصَابُ وَالْاَذْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ اِی بایمانو شراب چون، زارگندن، پوتلین پرستش کرن تہ تیروسیت ماز تقسیم کرن تم ژوشوے چیز چھ مردار نجس تہ ناپاک۔ سَمُوْچیز و نشہ روز و ہتھ۔ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُوَفِّعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ تَنْتَهُوْنَ شیطانہ چھونہ یڑھان مگر توہہ منز عداوت تہ دشمنی تراوان۔ شراب چلیہ سیت تہ زارگند نانہ سیت۔ بیہ چھو شیطانہ سند غرض سَمُوْچیز و یو چیز و سیت ہتھ ہتھ رن خدایہ سندہ یادہ نشہ۔ خصوصاً نماز پر نہ نشہ۔ کیا زہ شراب چیتھ چھو شخص بیہوش تہ مست سپدان۔ اتھ حاکس منز تھہ پاٹھہ بیہہ خدایہ سند یاد کرت۔ یا نماز ہرت۔ زارگند تھ چھو زینہ دن شخص خوش سپدان۔ اتھ خوشی منز چھونہ تس خدا ژتیس پیوان۔ لیس شخص ہاران چھو سَمُوْچیز و غمگین تہ آزرده سپدان۔ تمہ علاوہ چھو سَمُوْچیز فکرہ آسان کہ بیس بازس منز تھہ پاٹھہ زینہ بو۔ امہ فکرہ سببہ چھنہ تس خدایہ سنزیاد کرنس گن یا نماز پر نس گن اتھ و تھ پیوان۔ شیطانہ سنز چھہ کام بنان۔ اصل مقصود اوس ہتھ آئے کہ تمس منز شراب تہ زار حرام آسن بیان کرن۔ مگر سیت آئی بیان کرنہ بیہ زہ چیز۔ ازلام تہ انصاب۔ ازلام چھو زارہ کیوی قسمواندرہ اکھ قسم۔ ہتھہ پاٹھہ کہ پانژھہ شہ زن آس سمت چندہ کرت مول ہیوان وونٹھہ یا کانہہ جانورہ تو پتہ آس تس کھش کران تہ ماران تو پتہ آسنہ رقمہ موجب تسندس مازس تقسیم کران، تم بٹ رقم کوڈمت آسہاتس دہن تیوت حصہ نہ بلکہ آس کہہنہ تیر اتان یمن تیرن علامات تہ نشانہ آس آسان تھوانہ آمت تہ تیر آس اکس تھلیس منز تراوان تو پتہ تھیلہ منزہ اکھ تیرا کڈان۔ تمی موجب اکس زنس مازدوان امہ سیت اوس اکس کم تہ اکس زیادہ حصہ و اتان۔ انصاب گیہ بت پرستی۔ امہ اندرہ چھو مطلب شراب چھنچ تہ زارگند چ پور مذمت کرن۔ یا فرماو کھہ شراب چون تہ زارگندن چھو اتھ سزاوار کہ تم گڑھن بت پرستی سیت ذکر کرنہ ین کیا زہ تم زہ چیز چھہ خدایہ سندہ یادہ نشہ خصوصاً نمازہ نشہ (یوسہ نماز اسلامہ کیوتہ ایمانہ کیوشعائیر و تہ نغانواندرہ بوڈ نشانہ چھو) ہتھہ رٹان یلہ امہ موجب ایمانہ نش شخص دور پیو دویمہ طرفہ چھو اوس گُرس تہ بت پرستی سیت واطھ

مِنْ تَفْعِيهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُ قُلِ الْعَفْوَ  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱۹﴾  
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ  
 لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ  
 مِنَ الْمَصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۲۰﴾

لگان۔ امی مناسبہ آو شراب چھینس، زارگندس تہ بت سستی منع کرنہ۔ وارہ گزھہ عقلہ والین ہند غور  
 کرن کہ کوتاہ پچھہ چھو شراب چون تہ زارگندن۔ اسلا مس اندر چھو شرابک تاؤأم الخبائث بیہ راس  
 الاثام یعنی سارنی پچھہ کا مین ہنز موج تہ سارنی گنہن ہند منع تہ اصل چھو شراب چون وَيَسْأَلُونَكَ  
 مَاذَا يُنْفِقُونَ بیہ پچھہ تم پر ژھان توہہ کیا کرن خرچ کوتاہ کرن خرچ قُلِ الْعَفْوَ تہہ فرماو یوکھ  
 بیہ پنہ نیو تہ پنہ عیالہ کیو ذالی اخراجا تو نشہ بچان آسوہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ  
 تَتَفَكَّرُونَ \* فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کیاہ چھو اللہ تعالیٰ واضح کران تہ نہ راوان تہندہ خیطرہ پنہ احکام بیہ  
 تہہ وارہ فکر کران آسودنیو آخر تہ کین معاملاتن اندر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى بیہ چھو تم پر ژھان  
 توہہ تیمن متعلق قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ تہہ فرماو یوکھ پر تہہہ کا ماہ تہنز سنبھال تہ درست کرن  
 چھہ بہتر وان تَخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ ہر گاہ تہہہ تم پانس سیت کھینس چھینس اندر، تجارتس اندر ملہ  
 تاو یوکھ کا نہہ حرج چھونہ۔ پن چھوہ بابی وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ مگر اللہ تعالیٰ چھو زانان  
 توہہ اندرہ بدنیت کس چھو۔ نیک نیت تہ کوم سنبھالہ ون کس چھو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ہر گاہ اللہ  
 تعالیٰ یرھہ ہاسخت تہ دشوار احکام نازل کرت کرہ ہیوہ مشتقس گرفتار مگر تم یو ژھہ نہ تہ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ  
 حَكِيمٌ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو زبردست حکمتہ وول۔ صحابہ صیواندرہ اکھ صاحبہ یمن تاواوس مرئید  
 بن ابی مرئید۔ تمن آس خواہش اکس مشرک زنانہ سیت نکاح کرنچ بروٹھ پیٹھے۔ تہہ متعلق آیوہ  
 سُو صاحب اجازت پنہ نبی کر تمس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ان کور نازل بیہ آیہ کریمہ

وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَا أَلَمَةَ الْمُؤْمِنَةِ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكَةٍ وَلَا وَاعِبَتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا  
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ أُولَٰئِكَ  
 يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ  
 بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۶۳﴾ وَ  
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ لَا فَاعِلٌ لِّلنِّسَاءِ فِي

وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا اے باایمانو نکاح مہ کرو مشرک زنان سیت یوتان نہ تمہہ ایمان  
 ان وَاَلَمَةَ الْمُؤْمِنَةِ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا وَاعِبَتِكُمْ پڑپاٹ مسلمان باایمان کنیزی جھہ بہتر مشرک آزاد  
 زنانہ ہندہ خوتہ اگرچہ سو آستن حسن وجمالکہ لحاظ توہہ پسندی وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا  
 مسلمان باایمان زنان مہ کرو نکاح مشرک مردن سیت یوتان نہ تم نہ ایمان انن وَلَا عِبَابُكُمْ  
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ پڑپاٹ باایمان غلامی جھہ بہتر مشرک آزاد مردہ سہہ خوتہ اگرچہ  
 سو آستن بیہ سئہ اعتبارہ پسندی أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ کیاہہ تم مشرک جھہ نادووان  
 نارس کن وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ اللہ تعالیٰ جھو نادووان بواسطہ حضرات  
 انبیاء علیہم السلام جنس تہ مغفرتس کن پنہہ حکمہ سیت وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ  
 بیہ جھو اللہ تعالیٰ بین احکام تراوت بیان کران لوکن۔ یتھہ تم نصیحت حاصل کرن وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ  
 الْمَحِيضِ بیہ جھہ پڑژھان توہہ لکھہ حیض متعلق۔ یلہ زنان سو وقت یوان آسہ تنھس حالتس  
 منز چھامن نزدیک گڑھن جائزہ نہ قُلْ هُوَ أَذَىٰ جہہ فرما یوکھہ سو جھہ ناپاکی فَاعِلٌ لِّلنِّسَاءِ فِي  
 الْمَحِيضِ پس آسو الگ روزان زنان رشہ حیضہ کس حالتس اندر۔ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ  
 نزدیک مہ آسو سپدان نفع خواہش پورہ کرنہ خیطرہ توتان یوتان نہ تمہہ پاک آسن سپدان۔ بلکہ  
 گڑھنہ مردہ سہہ حیضہ کین دوہن اندر تونہ پڑٹھہ کوٹھہ آگن تان، نہ اتھہ لاگن نہ توکن نظر دن۔

الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ  
 مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ  
 الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٧٣﴾ نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ سِئْتُمْ

ہر گاہ کا نہ شخص حیضہ کین دوہن اندری نزدیکی کرت نفع خواہش پورہ کرتس پڑہ توبہ کرن، استغفار پرن کیا زہ یہ سپد سخت گنہس گرفتار۔ امہ علاوہ چھو افس مردس جرمانہ تہ دین سو گو یکہ نہ رقم گزہ خیرات کرن **فَاذَاتَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ** یلہ تمہ پاک آسن سپدان۔ بس آسو تمن نزدیک یوان نفع خواہش پورہ کرنہ خیترہ۔ مگر تمی جایہ کن سمہ جایہ کن ینک تجویز اللہ تعالیٰ ان کورہ۔ سوگیہ سوی جای سمہ نشہ دور روز نک حکم کور نوہ حیضہ کین دوہن اندر۔ سوگیہ برو نطمہہ طرفی جائے۔ امہ جایہ نشہ گزہ نہ ذکن زاہ تہ بیس جایہ گن تہ چھو حرام تہ ناجایز ہمیشہ یتھہ پاٹھہ حیض کین دوہن اندر برو نطمہہ طرفی جای استعمال کرن حرام تہ ناجایز چھو۔ کیا زہ یمن دوہن چھہ آسان سو جای ملوث تہ ناپاک حیضک خون جاری آسنہ موکھہ۔ پتہ چھہ سو جای حیضک دوہ ختم گزہ تھہ پاک سپدان۔ مگر پاکھہ و تھہ ہتمہ طرفی نوسہ ہتمہ سو چھہ ہمیشہ آسان ناپاکھہ۔ مردن ہنز تہ زنانہ ہنز تہ لہذا گزہ ہمیشہ تمہہ جایہ نشہ دور روزن۔ بیہ چھو حیضکس حالتس اندر نفع خواہش پورہ کرنہ خیترہ زنانہ نشہ گزہ ہنس منز یہ خطرہ کہ مردس چھو ستر چہہ جایہ تمہہ سیت ورم کھسان تہ نار گندان۔ زنانہ چھو بچہ دانہ اندر تیتھہ قصور پیدہ سپدان سمہ سیت سہ بانٹھہ تہ لے اولاد چھہ سپدان **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ** بیشک اللہ تعالیٰ اس چھہ ٹاٹھہ توبہ کرہون بندہ **وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ** بیہ چھس ٹاٹھہ صاف و پاک پاٹھہ روزن وال بندہ۔ یہود آس ونان یلہ زنانہ نشہ مرد بیہ برو نطمہہ جائے استعمال کرنہ خیترہ مگر پشتہ کہ طرفہ تیلہ چھو اولاد یعنی شر دولہ اچھہ کرتھہ زیوان۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یسودن ہندیہ خیال چھو بالکل غلط **نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ سِئْتُمْ** زنانہ تمہزہ چھہ زراعت تہند۔ پس بیو زراعتس پنہ نس۔ پار خوش کردہ مگر جای گزہہ آسن سوی یتھہ منز بیول تراوتھہ کل کھسہ۔ ادہ سہ جای یتھہ پاٹھہ استعمال میں کو کرتھہ یتھہ پاٹھہ۔ ذتن کرتو پشتہ کن کرتو۔ لرہ روز تھہ کرتو۔ بہتھہ کرتو۔ ووتھہ دنہ کرتو تمیک چھوہ توبہ اختیار۔ مگر جای گزہہ آسن



وَقَدْ مُؤَاظَمْتُمْ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنكُمْ مُلْقُوا وَ  
بَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۳۲﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ  
تَبْرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصَدِّقُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۳۳﴾  
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ  
بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۲۳۴﴾ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ

سوی یوسہ امہ خیطرہ مخصوص چھہ سوگیہ بروئھہ طرح جائے۔ وَقَدْ مُؤَاظَمْتُمْ بروئھہ کُن  
سوزوپنہ طرفہ کانہہ رثعملاہ۔ یعنی زنانہ نشہ نزدیک سپدنہ اندرہ آسونیت تھوان اولاد حاصل  
کرچ محض نہ نفیج خواہش پورہ کرنہ خیطرہ۔ بلکہ آسوامیدوارروزان کہ دیوہ اللہ تعالیٰ ونہ کنہ کی وقتہ  
اسہ اولاد عطا کرہ۔ کیازہ اولاد صالح یتہ پھور رثعمل۔ باقیات الصالحانہ اندرہ اکھہ چیزہ وَاعْتَقُوا اللَّهَ  
بیہ کھوژواللہ تعالیٰ اس تھمدین کھن مخالفت کرنہ نشہ۔ وَاعْلَمُوا أَنكُمْ مُلْقُوا بیہ تھادولیقین بیتک  
چھوہہ ہتہ خدائس بروئھہ کُن واتہ ون تس سیت ملاقات کرہ ون۔ سارنی عملن ہند حساب دنہ خیطرہ  
وَ بَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بیہ دیوہ بشارت خدائس کھوژہ ونین باایمان کھت یتہ دیدارچ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ  
عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اے باایمانوہہ کرو خدایہ سندنام پاک ٹھورپنہ نین قسمن منزرژہ کامہ کرنہ نشہ  
یعنی خدایہ سندن قسم مہ آسواوان أَنْ تَبْرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصَدِّقُوا بَيْنَ النَّاسِ نیکیونشہ پتھہ روزنہ  
خیطرہ۔ پرہیزگاری نہ کرنہ خیطرہ۔ لوکن منزر صلح نہ کرنہ خیطرہ۔ مثلاً کانہہ باوہ ہاتسم خدایہ سندن قسم  
نمازنہ پرنس پٹھہ۔ یاکانہہ رثکام نہ کرنس پٹھہ۔ کھم چھو تھم سندن گڑھہ سو قسم پھڑاون کھت کفارت  
دن۔ سہ رثکام گڑھہ ضرور کرن وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو سو رے بوزہ ون۔ سو رے زانہ  
وَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ اللہ تعالیٰ رثہ نہ توہہ لغوتہ بیہودہ قسمن پٹھہ وَلَكِنْ  
يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لیکن سو رتوہہ توہہ تمن قسمن پٹھہ یمن متعلق  
دلہ سیت اُپرونہ تک قصد کورمت آسوہ۔ اللہ تعالیٰ چھو مغفرت کرہ ون تمن تم اپزہ نشہ توہہ

مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۷۶﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ  
 عَلِيمٌ ﴿۷۷﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا  
 يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ  
 يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي

کرن۔ اللہ تعالیٰ چھو تحمل سے زیادہ کرہ و ان لِّلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تمن لو کن ہمدہ خیرہ چھو  
 حکم تم قسم باون زنانن نزدیک گوہنس پیٹھہ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ بیان گزہہہہ ہمدہ ژون ریتن  
 فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پس اگر یمن ژون ریتن اندر اندر تمومردو قسم پھڑاوت زنانن  
 نشہ نزدیک کر پس اللہ تعالیٰ چھو رحم کرہ و ان مغفرت کرہ و ان تہمدہ حقہ۔ تمن چھو نہ کانہہ باز  
 خواست وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ہر گاہ تمومامہ اندرہ طلاقہ کوی قصد کور اتمہ مدتس اندر رجوع  
 کور کھنہ زنانن نشہ نزدیک سپدہ سیت فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پس چھو اللہ تعالیٰ سوڑی بوزہ و ان  
 سے سوڑی زانہ و ان۔ تلہ گوہسوی طلاق ادہ پڑہ نہ مردس زنانہ نزدیک گزہٹن نوو نکاح کرنہ و رای۔  
 ایجاب و قبول سے فاتحہ خیر نوو پرنہ و رای وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ طلاق دنہ  
 آموہ زنانہ پیارہ ناون پنہ نین پانن یعنی نکاح مہ کرن ترین عذر ن یعنی حیض تان وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ  
 أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ تمن طلاقہ واجین زنانن چھو جائیز کہ تمہہ کیاہ کھٹن تمہہ یہ  
 اللہ تعالیٰ ان آسہ پادہ کور مت تہمدین رحمن چہہ دانین اندر اولاد یا خون حیض کیاہہ عدت تک حساب  
 چھو تمی موجب کرنہ یوان إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ہر گاہ تمن پور پڑہہ چھہ خدایہ سزہ سے  
 کامل یقین چھو کہ ہتمہ دوہک۔ پتم دوہ گو قیامتک دوہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ  
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا یمن مطلقہ زنانن ہند رین، خاوند چھہ زیادہ حقدار یمن گن رجوع کرنس سے یمن بیہ  
 واپس پنہ نس نکاحس منز تھونس منز اتھہ انتظار کس مدتس اندر اندر نو نکاح کرنہ و رای۔ ہر گاہ تم

ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّيْجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
 حَكِيمٌ ۝ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ  
 تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

تمہ اندر نیک نیتی ہند ارادہ تھاوان آسن۔ یہ حکم اصلاح آویبان کرنہ سمہ خیطرہ کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ  
 الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ زنانہ ہند بہ چھہ تنہی حق مردن پیٹھہ، یتھہ مردن ہند چھہ زنانہ پیٹھہ  
 یعنی واجب آسنس منز چھہ برابر۔ مردہ سُنْدِ حق چھو زنانہ پیٹھہ فرمانبرداری کرن۔ مردہ سُنْدِ عزت  
 ر چھن۔ تمسندس چیزس نہ مال و متاعس ر چھہ نہ حفاظت کرن۔ بیہ پنہ نس پانس ر چھہ کرن و وپر  
 مردن سیت تعلق تھاوانہ نشہ۔ تمن سیت تھہ ہاتھہ کرنہ نشہ۔ زنانہ ہند حق چھو مردن پیٹھہ۔ تمن  
 سیت رُت سلوک کرن۔ تہند اخراجات پورہ کرن۔ تمہ دیک احکام چھہ ناوان وَاللَّيْجَالِ عَلَيْهِنَّ  
 دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بیہ چھہ مردن پنہ بین خاندانین پیٹھہ فضیلت اللہ تعالیٰ چھو  
 عزتہ وول نہ حکمتہ وول تمس چھو اختیار لیس فضیلت دیہ نہ تس الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طلاق تھہ منز یہ  
 رجعت کرن جائیز چھہ مردس سو چھو دون لٹن تانن فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ  
 تمہ پتہ چھونہ بیہ رجعت کرن حق مردس یعنی دومہ طلاق پتہ۔ بلکہ چھہ زی صورتہ تمہ پتہ  
 یارٹس پانس نش باقاعدہ یا تراؤنس یکہ توتان یوتان عدت ڈ بریس پور حقوق اداکرت۔ عدت ڈ برت ہر گاہ  
 تو پتہ مرد بڑھہ بیہ اس زنانہ سیت نکاح کرن۔ نو نکاح کرت نواہجاب و قبول کرت سپدہ  
 سہ بیہ آسنس زنانہ۔ ہر گاہ تر تم طلاق نہ ڈ تینس تلہ گنیہ بیہ اس مردس نشہ تڑھہ جداتہ الگ۔ ادہ  
 چھونہ اس زنانہ اس مردس سیت بیہ نکاح کرن توتان جائیز یوتان نہ سوزنانہ بیس مردس سیت گوڈہ  
 نکاح کرہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماوان برو تھمس آہیہ کر تھمس منز بانہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ جَائِزًا چھونہ توہہ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
 فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا  
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۹﴾  
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ  
 زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

اے مردو اَنْ تَاخُذُوا مِمَّا اسْتَبْتُمْهُنَّ شَيْئًا اینکہ واپس کیا یہو جہہ تمہہ مالہ منزہ کہنہ نئس مال  
 توہہ بئمن زمانن دیو تمت آسوہ اِلَّا اَنْ يَخَافَا اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ مگرے کھوژن سم بازہ کہہ  
 قائم بئکن نہ تھوت سم پروردگارہ سد احکام تہ قانون یعنی تعلقات باہئس متعلق فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا  
 يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ہر گاہہ تہہ واقعی طور کھوژو۔ ای خدایہ سند احکام تہ قانون قائم تھاونہ کیوزمہ  
 دارو کہہ سم بازہ بئکن نہ قائم تھوتھہ خدایہ سند احکام تہ قانون فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس چھونہ  
 کانہہ حرج تہ گناہ تمن پٹھہ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ بئتھہ اندر کہہ زنانہ کیادیہ طلاق بدل بئہنہ مال  
 مردس۔ اتھہ چھہ ونان خلع یعنی زنانہ ہیہ مردس طلاق بئہنہ مال دت تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ سم احکام  
 چھہ پروردگارہ سد قانون فَلَا تَعْتَدُوهَا پس مہ کتر و بئمن قانونن ہنز خلاف ورزی وَمَنْ  
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نئس اکھاہ خلاف ورزی کرہ خدایہ سندین قانونن  
 ہنز پس تہے لوکھہ چھہ پنے نس پانس ظلم کرہ ون۔ آخرتس منز گرفتار عذاب کرنہ سبت فَإِنْ  
 طَلَّقَهَا پس ہر گاہہ مردن اس زنانہہ بیاکھہ طلاق دئت دیو طلاقو پتہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ اودہ  
 چھنہ سوزنانہ حلال اس مردس پٹھہ۔ یعنی اس سبت نکاح کزون چھونہ جائز حاشی تَنْكِحَ زَوْجًا  
 غَيْرَهُ یوتان نہ سوزنانہ بئس شخص سبت نکاح کرہ فَإِنْ طَلَّقَهَا پس اگر سو دو سم خاوند اس زنانہہ  
 طلاق دیہ۔ تو پتہ تہنز عدت تہ ووبرئس فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا پس چھونہ کانہہ  
 گوناہ ہر گاہہ ہم گوڈ نکب بازہ پانہ وان رجوع کر تھہ ہیہ نکاح کرن اِنْ طَلَّقَا اَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

يَتَرَجَعَانِ تَلَاً أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ  
 النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
 أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَسْكُوهُنَّ ضَرَارًا  
 لِيَتَّعِدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  
 وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

ہر گاہ یمن یقین آسہ اس کیاہ تھا وو خدا یہ سند احکام سے قانون یعنی حقوق زوجیت قائم و تحک  
 حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تم چھ پروردگارہ سند احکام سے قانون تم چھ سووڑھناوان  
 زانن والین ہندہ خیطرہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ای مردویلہ جہہ طلاق دتوہ پنہ نین زانن طلاق رجعی  
 یعنی سو طلاق یتھہ منز مردس چھو اجازت نوونکاح کرنہ ورا ای رجوع کرن فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تو  
 پتہ واتن تمہ زاننہ عدتک مدت و برنس قریب فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پس چھو اختیار توہہ  
 عدت گنہنہ بروٹھہ رجعت کر تھہ ریو کھہ تمہ پانس نشہ پنہ نس نکاح تل باقاعدہ سے رتہ طریقہ  
 أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا تراوی کھہ یلہ رتہ طریقہ یوتان عدتک دوہ تمن پورہ پاٹھہ گزرن  
 وَلَا تَسْكُوهُنَّ ضَرَارًا لِيَتَّعِدُوا مہ آسیو کھہ تمہ بند کران تمن تکلیف واتاوانہ خیطرہ تمن پٹھہ  
 ظلم کرنہ خیطرہ عدتک مدت زینٹھرونہ سیت وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ پس نس شخصہ امہ سچ کوم  
 کرہ یعنی ناحق کانہہ ظلم کرہ۔ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ سمو کورپان پانس ظلم کیاہہ آخرتس منز کھیہ  
 سو ظلم کر نک سزا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا خدلیہ سند آیات سے احکام مہ آسو زانان ٹھٹھہ  
 باشیہ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بیہ پاوڑ تیس خدلیہ سزہ تمہ نعمہ نعمہ سمہ توہہ عطا  
 کرہ نوہ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ خصوصاً گروادیہ بد نعمت کہ نازل  
 کرن توہہ پٹھہ یہ بد کتاب یعنی قرآن مجیدیہ ہمتہ تھہ یہ سیت اللہ تعالیٰ چھوہ توہہ وعظ و نصیحت

عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ  
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ  
 فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا  
 بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى

کران وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ یہ کھوڑو اللہ تعالیٰ اس یقین زانویشک اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ چیزاہ پورہ زانوں وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ ۗ یہ یلہ توہہ طلاق دتوہ پنہ نین زنانن توپتہ دو بر بیہ تہنز عدت فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ۗ پس مہ رٹیوکھ ہتھ تہہ (ای رشتہ دارو) تمہ زانہ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ نکاح کرنہ زشہ پنہ نین مجوزہ خاوندن سیت ادہ آستن سوسی طلاق دوہون خاوندیاہہ کانہہ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ یلہ تمہ پانہ وان راضی سپدمت آسن قاندہ موجب ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ ۗ سموکھتوسیت چھ نصیحت یوان کرنہ تس مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ یس آسہ توہہ اندرہ پڑھہ کران معبود برحق بیہ تہتمس دوہس یعنی قیامت۔ تعمیل احکام خداوندی کرہ سوسی شخص یس خدایہ سنز پورہ پڑھہ آسہ بیہ آسیس قیامت پڑھہ سمہ دوہہ خدایس بروٹھ کنہ استادہ بیہ کرنہ۔ یس نہ تعمیل احکام کران چھوزنہ تمس خدایہ سنز قیامت پڑھے چھہ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ ۗ یہ نصیحت قبول کرن چھو تہندہ خیطرہ زیادہ صفائی ہنزتہ زیادہ پاکی ہنزتھہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۗ اللہ تعالیٰ چھوزانان سارے مصلوہ تہہ زانونہ کینہہ تہ۔ لہذا پڑہ توہہ خدایہ سہدہ فی حکمن پڑھہ عمل کرن۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ ماحن ہمد گڑھہ دودھہ دمن پنہ نین اولادن پورن دون ورن ادہ تمہہ ماجہ نکاحس اندر آستن یا طلاق دنہ آمزہ آستن لَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ یہ گو تہندہ خیطرہ یس پورس

لَكُمْ وَأَطَهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۳۳﴾  
 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ  
 يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
 لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَوْلَا إِتْرَاقُ الْوَالِدَاتِ بَوْلًا هَلَّا وَمَوْلُودُهُ  
 لَهُ بَوْلِيَّةٌ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ الْفِصَالُ عَنْ  
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

مُدّ تس دودھ چاؤن بیڑھہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اس سچے سندس ماس پیٹھ  
 چھوٹے اس ماجہ ہند کھین چین تہ پوشاک قاعدہ موجب لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا کانسہ شخص چھونہ  
 خدایہ سندہ طرفہ کانہہ حکماہ ونہ یوان مگر سوئی حکم لیس سو برداشت ہیجہ کمر تھ لہذا آوزانہ حکم کرنہ  
 اس چس دود و نک کیا زہ تہمدہ حقہ چھوتی سہل تہ آسان۔ مردس آو حکم کمر نہ تمس زنانبہ ہند کھین  
 چین تہ پوشاک و نک کیا زہ تہمدہ حق چھوتی سہل تہ آسان لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِيَّةٌ  
 ضرر تہ نقصان پیہ نہ و اتاؤنہ کانسہ ماجہ پنہ نس سچہ سندہ سیت نہ کانسہ ماس پنہ نس سچہ سندہ سیت۔ یعنی  
 سچہ سندس ماس ماجہ ہند کمر نہ کہ اس سچہ سند و جہہ تکلیف و اتاؤن۔ مثلاً موج کرہ ہا اس چس دود ونہ  
 نشہ بلا وجہ انکار یا مول کرہ ہاجر آ اس چس ماجہ نشہ جداتہ دور تو پتہ دیاوہ پیس کانسہ زنانبہ اتھہ اس  
 دود۔ یا کرہ اس ماجہ آئزہ کھینہ چنہ کن تہ اخر اجا تو کن تنگ تہ کمر نہ کرن وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  
 وارث پیٹھ تہ چھو یسوی حکم لیس ماس پیٹھ چھو فَإِنْ أَرَادَ الْفِصَالُ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس ہر گاہ تم دوشوے یعنی مول تہ موج پانہ وان رضامندی تہ مشورہ سان دون  
 ورنہ اندر اندر اس چس دود وارثن بیڑھن ادہ تین پیٹھ چھنہ کانسہ گناہ وَلَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرُضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بیہ ہر گاہ تہہ بیڑھو کہ سچہ کیاہ چاؤہ ناوون دود بیہ کانسہ زنانبہ ہند کمرہ خاص وجہہ  
 موکھ۔ مثلاً پنہ ماجہ ہند دود آسہ تس چس مضریا آسہ ماجی کمرہ تکلیف کمرہ و اتنک خطرہ تھہ تہ چھونہ کانسہ

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ أَسَلْتُمُوهَا آتَيْتُمُوهَا  
 بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۱﴾  
 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ  
 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۳۲﴾  
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ۖ أَوْ أَنْتُمُ

گناہ توہمہ بیٹھہ اِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ یلہ تہہ دیو تہن سو مزور یوسہ توہمہ تہن سیت مقرر  
 کر مرثا آہورہ ت پاٹھہ تہ ضابطہ موجب وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۖ کھو ژو خدالیس  
 بیہ تھاوو یقین کہ پڑپاٹھہ اللہ تعالیٰ چھو تہنہ سارے کامہ وارہ و چھان وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ  
 أَزْوَاجًا بیہ تہم شخص توہمہ اندرہ مرن پتھہ گن تراوتھہ زنانہ منکوہہ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
 وَعَشْرًا تہن زنانہ ہند گدھہ پیازن ژورن ریتن تہ دہن دوہن۔ بیہ چھہ تہنہ عدت ایس کاس چھونہ  
 جائز تہن زنانہ پانس زینت گرن۔ مشک مٹھن۔ گرہ منزہ ٹیرن۔ یہ گپہ عدت تس زنانہ ہنز تہس خاوند  
 مومت آسہ بچہ آسہس نہ شکمس منز کہہ تہ۔ سمہ بروٹھہ گدرے یہ عدت تس زنانہ ہنز تہس مردان  
 طلاق آسہ ڈیٹمت تہمنز عدت چھہ تریہ حیض۔ بیاکھ گنہیہ تس زنانہ ہنز عدت تس خاوند مودمت  
 آسہ۔ شکمس منز آسہس بچہ۔ تہمنز عدت گیہ توتان یوتان سو پرلہہ یعنی تہمنز عدت چھہ بچہ زینس  
 تان تمیک حکم بیہ بیان کرنہ سورہ طلاقس اندر ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي  
 أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ پس یلہ زنانہ پورہ کرن تہن عدت پس چھونہ توہمہ کانہہ گناہ اے زنانہ ہند یو  
 متعلقہ تہ رشتہ دارو تہتھہ تہہ منز کہہ تہہ زنانہ کیاہ کرن پنہ جہہ دو سمہ نکاح تلاش تہس شر عس موافق  
 آسہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ اللہ تعالیٰ چھو تہنہ سارنی کاین ہنز پور خبر تھوان وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ۖ أَوْ أَنْتُمُوهَا بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۖ بیہ چھونہ توہمہ کانہہ گناہ ای مردوہر گاہ تہہ کانہہ



فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذُكَّرُونَ نَهْنٌ وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ  
 سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرُزُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ  
 حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۳۵﴾  
 لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ

اشارہ کمر و امہ قسمہ چن زنانن سہمہ خاوند مرت عدتس منز آسن نکاحس پیغامس متعلق یا پوشیدہ تھا  
 دو نمیک ارادہ پنہ نین ولن منز۔ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذُكَّرُونَ اللہ تعالیٰ اس چھو معلوم کہ تمہ کرو ضرور  
 تمہن زنانن سیت نکاح کر تک تذکرہ خیر۔ اشارہ پیٹھ تذکرہ کرنس چھو نہ کا نہہ حرج وَلَكِنْ لَا  
 تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا لیکن نکاحس متعلق گزھنہ وعدہ قرار کرن پوشیدہ پاٹھ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا  
 مَعْرُوفًا مگرے کا نہہ کتھاہ کمر و ضابطہ موجب تہ گو اشارہ پاٹھ نکاحس متعلق کتھاہ واتاوان  
 وَلَا تَعْرُزُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ بیہ مہ کرو پوختہ ارادہ فوراً آس زنانہ سیت نیتھر  
 کر تک یوتان نہ تہ عدتک ایام ختم گزھن۔ سہمہ عدتک حکم تہ تجویز اللہ تعالیٰ ان پنہ کتابہ اندر  
 فرمودہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ بیہ زانووارہ یقینہ سان کہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو زنانان تہ  
 سوزی بیہ تہندین دن اندر چھو فَاَحْذَرُوهُ پس کھو ژوتس۔ ناجائز ارادہ مہ آسودن اندر تھاوان۔  
 یعنی عدتس منزی مہ آسو نکاح کر تک ارادہ کران۔ کیا زہ عدتس منز نکاح کرن چھو حرام تہ ناجائز  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ بیہ زانووارہ یقینہ سان کہ اللہ تعالیٰ چھو سبٹھاہ مغفرت کہ دہن توبہ  
 کرہ و نین ہندن ہر گاہ کا نہہ ناجائز کامہ ہند ارادہ کورمت آسہ تو پتہ پیہ جس نادوم تہ پیمان گزھت کرہ  
 توبہ تہ چھہ امید مغفرت تہ۔ اللہ تعالیٰ چھو حلیم ہر گاہ توبہ نہ کرہ و نس جلدی سزادتن نہ تمہ سیت گزھہ  
 نہ دھو کہ کیون سو کیاہ مولکیو بلکہ چھو خطرہ ہنہ نہ گنہ وقتہ رئیس لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ  
 مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً توبہ پیٹھ چھو نہ کا نہہ گناہ ای مرد و ہر گاہ تہہ طلاق دیو

تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۶﴾  
 وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۱۳۷﴾

زمانن تمن اتھہ لاگنہ بروٹھے، کھس منز اٹھنہ بروٹھے۔ بیہ مہر مقرر کرنہ بروٹھے۔ اتھہ صورتس منز چھونہ توہہ تمن زنانن مر دین مٹہ کھسان وَمَتَّعُوهُنَّ تنھہ صورتس اندرو اتا ووتہہ تمن کانہہ فاندہ نہ نفعاہ یعنی تمن دیوتہہ خرچاہہ سمیگ ادنی درجہ گوپاشاگک اکہ جورہ نہ اعلیٰ درجہ گو مہر ک نصف علی الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ آسن والس پیٹھہ تنھہ تس شوبہ۔ تنگد تنس پیٹھہ تنھہ تس شوبہ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ خرچاہہ دستورہ نہ قاعدہ موجب حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ بیہ چھو لازم نیک معاملہ کرہ و نین لوکن پیٹھہ۔ پریتھہ مسلمانس پرہ رتوی معاملہ گرن۔ خوش معاملہ آسن بد معاملہ نہ لائن وَلَئِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ہر گاہ تہہ طلاق دیو تمن زنانن خلوت صحیحہ کرنہ بروٹھہ در حالیتھہ مہر اوس مقرر کرنہ آمت فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تلہ گرتھہ تمن دین مقرر کرنہ آمتہ مہر ک نصف إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ مگرے زنانہ پتہ خواہہہ موجب سونصف نہ معاف گرن أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ نہ سو شخص معاف کرہ بس اتھہ نکاح جاری تھاو نک یانہ تھاو نک اختیار چھو۔ سو گواوند۔ یعنی خاوندہ پہ بودمہ سوزی مہر پتہن حق کرنہ وصول وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ای حقدار و جہند معاف گرن خشوعی چھو زیادہ قریب پرہیز گاری سیت وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مہ مٹھر او پانہ وان اکہ آگس پیٹھہ احسان گرن إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بیشک اللہ تعالیٰ چھو تنھہ سارسی بیہ تہہ کران چھوہ وارہ و چھان حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ راجہہ کروسارنی

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ  
 قِنْتَيْنِ ﴿۱۲۸﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُرُوا  
 اللَّهَ كَمَا عَلَيْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۲۹﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّفُونَ  
 مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى  
 الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا

نمازں بیٹھنے کا نہ نماز اتھ گڑھوہ یا پنیہ وقتہ نشہ ڈلہ وہ۔ بیہ کرور لہجہ منزمہ نمازہ۔ منزم نمازنگیہ وگر  
 نماز۔ نہ چھو بیہ تہ تاکید سارنی نمازں ہندہ خاطرہ۔ کیا زہ پریتھ نمازہ چھہ پانژو نماز و اندرہ منزم نماز۔  
 سارنی نمازں متعلق گڑھہ لازم تہ ضروری آسک ہبوی خیال تھاون **وَقُومُوا لِلَّهِ قِنْتَيْنِ** ووتھد  
 روزو خدا کس بروتھ گتہ عاجزی سان۔ تڑھہ کا نہہ حرکتھامہ کرو نمازہ اندرسمہ سیت لبند بیہ بیہ چھو نہ  
 نماز پران۔ سوگو کھیون چون۔ تھہ کرنہ تہ اورہ پور نظرہ دینہ۔ **فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا** پس ہر گاہ  
 تہہ کھو ژود شمس یا بیہ کانسہ پس پرو نماز پتھر، وودنہ یا سوارین پیٹھ بہتھ **فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُرُوا اللَّهَ كَمَا  
 عَلَيْكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ** ادہ یلہ امنک پورہ اطمینان سپدہ خوچ فحالت گڑھہ ڈور کس کھر و خد لہ سند  
 یاد یعنی پرو نماز حسب دستور بہتھ پاتھہ اللہ تعالیٰ ان پتھناو وہ تہہ تہ بیہ تہہ زانہو۔ یعنی لڑایہ منزیاد شمنہ  
 سدہ خوفہ کہ وقتہ وودنہ یا سواری پیٹھ اشارہ سیت نماز پران چھوہ جائیز۔ مگر امن و امان یلہ حاصل سپدہ تلہ  
 گڑھہ بیہ تمہہ طریقہ نماز ادا کرن سمہہ طریقہ خدا این حکم کور۔ سمہہ آئیہ کریمہ اندرہ چھو صاف ظاہر  
 سپدان کہ نماز و قس پیٹھ ادا کرن کوتاہ ضروری تہ لازمی چھو **وَالَّذِينَ يُتَوَقَّفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ  
 أَزْوَاجًا** بیہ تم توبہ اندرہ مرنس قریب آسن (اے مردو) تہ پتھ کن تراون زنانہ تمن پڑہ وصیت کرن  
**وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ** وصیتاہ پنہ نین زنانہ ہندہ خاطرہ **مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ** خرچ دنہ خیطرہ  
 اکس ورس تان۔ بیہ گڑھن نہ گھر و منزہ کڈنہ تمہہ زنانہ **فَإِنْ خَرَجْنَا** پس ہر گاہ تمہہ زنانہ پانے درایہ  
 گھرہ اندرہ **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ** پس چھو نہ توبہ کا نہہ گناہ اے اس بیٹہ سند یوارثو **فِي مَا قَعَلْنَا**

فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۲﴾  
 وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۲۳﴾  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۴﴾  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ  
 فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى  
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۲۵﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ

فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ تہ اندر یہ کیونہا ہا تمہ زمانہ کرن پنے نس پانس منز کا نہہ جائز کا ماہ۔ زینت یا بیہ  
 کی نہہ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو غالب حکمت وول۔ یہ حکم چھو منسوخ سپد مت وراثتہ کہ  
 حکمہ سیت وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ۔ بیہ تمَن زنا ن طلاق و نہ آمت آسہ تمَن شوبہ خرج دین  
 ضابطہ موجب حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ یہ چھو لازم پر ہیہ گزارن پیٹھ۔ ساری مسلمان گے پر ہیہ گاری  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تہہ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ وارہ بیان کران تہ ویشہ  
 نادان تو ہیہ پن آیات تہ احکام ہتھہ تو ہیہ فکرہ ترہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ  
 الْمَوْتِ تہہ وچھونا تمَن لوکن گن ستم درای ژلنہ خیطرہ پنے نیو گرو اندرہ (تم آس واریاہ ساس لو کہ)  
 مر ہیہ خوفہ۔ تہندس شہرس اندر یلہ طاعون ووتھہ یادشمن سیت مقابلہ کر نک تاب اوکھ نہ تہ توے  
 ژل۔ تمو کور خیال ژلنہ سیت لبو آس مر نہ نشہ نجات۔ تقدیرس پیٹھ رُودنہ راضی۔ تمہ پتہ یلہ وات  
 تم آس میدانس منز فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا اتی فرموو کہ اللہ تعالیٰ ان مئرو۔ یکدم مؤد ساری  
 ثُمَّ أَحْيَاهُمْ تو پتہ گو کی نہہ کالاہ (ستھ آٹھ دوہ تقریباً) اللہ تعالیٰ ان کمر تم ہیہ زندہ یٹھہ تم امہ گنہہ نشہ توبہ  
 گزن اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو فضل کرہ ون لوکن پیٹھ یمن پیٹھ تہ  
 کوژن پن فضل۔ بیہ زندہ کمر تھہ دیتھہ توبہ کر نک موقعہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ مگر اکثر لو کہ  
 چھنہ خدایہ ستر شکر گذاری کران وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَبِيحٌ عَزِيزٌ ای مسلمانو تہہ مہ

اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۹﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرِضُ اللَّهُ  
 قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطِطُ  
 وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۴۰﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ  
 مُوسَى إِذْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ لَهْمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا  
 قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ

آسومر نس کھوژان۔ ٹہہ آسوخدایہ سزہ وتہ اندر خدایہ سندہ دینکے تھزہ خیطرہ جماد کران۔ جماد کرنہ  
 خیطرہ تیار روزان۔ بیہ تھاوویقین اللہ تعالیٰ چھو سوزی بوزہ ون سوزی زانہ ون مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرِضُ  
 اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا کہہ اکھاہ چھوئیس ووڑم دیہ خدائیس ووزماہ رت یعنی تہزن وتن اندر کرہ مال پن خراج  
 وژہہ والنجر۔ اتھ تھوواللہ تعالیٰ ان ناوقرض مجازہ پاٹھ۔ امہ اندرہ چھو مطلب پٹھہ پٹھہ قرضک عوض  
 ضرور چھو ونہ یوان، تھتھہ پاٹھ بیہ ضرور خدایہ سند کھمہ موجب رژن وتن اندر مال خراج کر نک عوض  
 عطا کرنہ فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ہس کرہ تمن عطا اللہ تعالیٰ بیج مزور واریاہ گن زیادہ۔ کسی دہہ گن تہ،  
 ستہ گن تہ، ست ہتہ گن تہ، ستہ ساسہ گن تہ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْطِطُ اللہ تعالیٰ ای چھورز قس  
 اندر تنگی کران آزمانہ خیطرہ سوی چھورز قس اندر وسعت کران امتحانہ خیطرہ وَاللَّهُ يُضِعُّ وَيَبْطِطُ  
 گن بیہ نہ کانسہ گن ایونہہ ساری واتانہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ ٹہہ وچھوناشر بیض ہنزہ ہس جماعو گن مِنْ  
 بَنِي إِسْرَائِيلَ یم بنی اسرائیلو اندرہ آس مِنْ بَعْدِ مُوسَى حضرت موسیٰ سندہ وفاتہ پتہ إِذْ قَالُوا لِلنَّبِيِّ  
 لَهْمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا مقرر کر یون سانہ خیطرہ پادشاہ تہ  
 امیراہ اکھ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پٹھہ تہزہ ماتحتی اندر اس خدایہ سندہ خیطرہ تھندس دشمنس جالوتس  
 سیت جماد کرو قَالَ تم پیٹہرن فرموو کہ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا  
 أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کیا یہ ماسپدہ کہ اگر توبہ پٹھہ جماد فرض او کرنہ ٹمہ پتہ کمر ونہ توبہ جماد تمو

دِيَارِنَا وَابْنَانَا فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا  
 مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۷﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ  
 قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْا اَتِيْ يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ  
 عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ  
 قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَا بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ  
 الْجِسْمِ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكًا مِّنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاَسِعُ عَلِيْمٌ ﴿۳۸﴾

دوپ اسم کیاہ گواہی کروندہ جماد خدلیہ سنزہ و تہ اندر وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَابْنَانَا حالانکہ اسمہ  
 چھو تہندہ دستہ ذاتی تکلیف تہ و اتانہ آمت اس چھہ جلاوطن کرنہ آمت، شریو باژو و منزہ کڈنہ آمت  
 فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ پس یلہ فرض کرنہ آو تہن پیٹھ جماد تہہ وقتہ تہل بٹھ  
 پھیر کہ۔ بزول سپد۔ مگر نہ کبیر و شخصو تہمواندرہ تم آس تریہ تہہ تہ ترواہ شخص وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ  
 اللہ تعالیٰ چھو پوزانہ و ن ظالمین تہ نافرمان وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا  
 بیہ فرمو تہن پیغمبرن ہن۔ پڑپاٹ اللہ تعالیٰ ان کور مقرر طالوت چھند بادشاہ قَالُوْا اَتِيْ يَكُوْنُ لَهُ  
 الْمُلْكُ عَلَيْنَا دپنہ لگ تہ تھ پاٹھ چھو حق اسمہ پیٹھ حکمرانی کرنکُ وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ اس  
 چھہ پانہ حکومت کرنک حقدار تہندہ خوتہ۔ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ بیہ چھونہ تہ و سعوت مال و  
 دولتس اندر سانہ کھوتہ زیادہ کیہنہ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ پیغمبرن فرمو کہ پڑپاٹھ اللہ تعالیٰ آن  
 کور سوئی برگزیدہ توہہ پیٹھ وَزَادَا بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ بیہ کترن تہ زیادتی عطا عکس منزتہ تہ  
 جسمس منزتہ اللہ تعالیٰ ان اوس تہ علم سیاست علم تدبیر ملک علم حرب یعنی جنگ کرنک علم  
 عطا کورمت بیہ اوس سو قد بلند تہ خوبصورت وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكًا مِّنْ يَّشَاءُ اللہ تعالیٰ چھو عطا کران  
 مُلْكٍ ہن لیس یڑھان چھوتہ تہ۔ کانہہ چھونہ حق تہ اعتراض کرنک وَاللّٰهُ وَاَسِعُ عَلِيْمٌ اللہ تعالیٰ  
 چھو سیٹھاہ آسن دول۔ سو کرہ تہ و سعوت عطا۔ سو چھو سیٹھاہ زنان و ول۔ تہسی چھہ شہر کہنہ تھہ قابل

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٥﴾  
 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ

چھو۔ نبی بنی اسرائیل دوپر تمیک کیا نشانہ تہ علامت چھو کہ اللہ تعالیٰ ان کیاہ چھو واقعی یسوی طالوت حکمرانی خیطرہ مقرر کر ممت وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فر موووکہ بن بنیغبرن بیشک افسندہ بادشاهی ہند نشانہ چھو یہ کہ توہہ نش وائہ سو صندوق تھ اندر خدلیہ سندہ تہندہ خیطرہ ڈلک قرار چھو وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ بیہ کینہہ بچے مت چیز تمو چیز واندرہ ہم چیز پتھ گن تراومت چھہ حضرت موسیٰ ان تہ حضرت ہارون تھہ تابوتس واتاون توہہ نشہ ملایک یعنی حضرت موسیٰ سند نعلین۔ حضرت ہارون سند عمامہ بیہ کینہہ حصہ من وصولواتک بیہ تورا تچہ کبہہ چہہ لَآيَةَ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ بیشک اتھ منز چھو پور نشانہ تہندہ خیطرہ چھوے تہہ پڑھ گرہ ون۔ اتی آئے ملائک سو صندوق ہتھ توپتہ واتوکہ طالوتس نشہ بنی اسرائیل آس سو حال پانہ وچھان۔ اتی کور تمو تسلیم تہندس پادشاہتس۔ توپتہ سپد ساری آمادہ افسندس قیادتس اندر جہاد کرنس پیٹھ۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ادہ یلہ دراو طالوت بنی اسرائیلن ہنز لشکر ہت۔ بیہ اوس گر مگ موسم۔ فوجس لچ دتہ پکان سخت تریش۔ تموژ تھونڈ آب قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ دوپکھ طالوتن ای لوکو معلوم چھونہ توہہ اندرہ گس چھو مخلص تہ گس چھونہ مخلص۔ لہذا کرہ اللہ تعالیٰ توہہ آزمائش برونھہ اسمہ دریاوہ سیت فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي پس بس اکھاہ تمہ دریاوک آب چہہ سو چھونہ میون یعنی میانہ جماعتک وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي پس نہ سو آب تہہ تہ سوی چھو میون اَلْأَمِنَ عُرْفُهُمْ فَمَا يَكْفُرُ أَلَّا يَقُولُوا لَوْ أَنَّا نَرَاهُمْ فِي الْقُرْآنِ لَكُنَّا مِنَ الْغَاثِ ﴿٢٤٦﴾ اتی آو برو تھہ دریاواہ

اعْتَرَفَ عُرْفَةَ بَيْدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ  
هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَاطِقَاتُ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ  
قَالَ الَّذِينَ يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا بِاللَّهِ كُفْرًا كَمَنْ مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلًا  
غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ لِيَأْذِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۸۳﴾ وَلَمَّا  
بَرَزُوا لِلْجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ  
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۸۴﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ

اکھ مگر یمن زود نہ طالوتہ سند اتھ متعلق بیان کُرْنِ یادے فَشَرِبُوا مِنْهُ یمن آس سخت تریش لُحْمُو۔  
تمو چوید برتھ آہہ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مگر نہ کم کبھو تمبو اندرہ۔ تمبو کور صبری فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ  
الْمُتَوَاعَى پس یلہ طالوت بیہ تم بالیمان تم اتھ امتحان منز کامیاب رود تمونہ آب چوویا تمبو اتھ  
سیت تھتھ کم دامہ ہناہ چیہ تم آس ترہ ہت تہ تر واہ۔ تے یلہ امہ دریاوہ نشہ پور تر۔ پور تر ت وچھ  
تمو دشمنہ سز لشکر یعنی جالوتہ سز قَالُوا لَاطِقَاتُ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ جالوتہ سز یہ لشکر وچھت  
کھو تر دہنہ لگ اسہ کتہ چھو طاقت جالوتس تہ تہنزہ لشکرہ سیت جنگ کر نک قَالَ الَّذِينَ يُظُنُّونَ أَنَّهُمْ  
مُلْقُوا بِاللَّهِ مگر یمن یقین اوس پنہ نس خدایس سیت ملاقات کر نک تمود وچھ کم من فِتْنَةٍ قَلِيلًا  
غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ لِيَأْذِنَ اللَّهُ پروامہ برو کینہہ۔ کثیراہ کمی یہ جماعہ آسہ تے سپرہ غالب وار یمن جماعتن  
پیٹھ خدایہ سندہ حکمہ سیت وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ چھو صبر کر وین سیت سیت  
وَلَمَّا بَرَزُوا لِلْجَالُوتَ وَجُنُودِهِ حکمہ پتہ یلہ طالوتہ سند فوج دراو جالوتس تہ تہندس فوجس سیت  
مقابلہ کرنہ خیطرہ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ دعا لگ  
کرنہ اے سانہ پرورد گارہ ژہ تراو اسہ پیٹھ صبر و استقلال بیہ در راؤ قدم سانہ بیہ کریاری اسہ غلبہ دہ  
کافرن ہندس قومس پیٹھ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ پس دیت شکستہ طالوتہ سز یہ لشکرہ تھتھ منز حضرت  
داؤد اوس اکھ سپاہ جالوتس تہ تہنزہ لشکرہ خدایہ سندہ حکمہ سیت وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ حضرت



وَقَتَلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَاتَّهَىٰ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا  
يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ  
الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ  
آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾  
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ  
مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَاتَّخَذْنَا عِيسَى ابْنَ

داوودن مور جالوت یلہ طالوتن لشکرہ منز اعلان کور کہ کوه اکھاہ مارہ جالوتس۔ تس کرہ بونپنہ صا جزادہ  
سیت نکاح بیہ دس نصف سلطنت حضرت داوود اور ونٹھ گن دوہن بو کرہ یہ کوم۔ چنانچہ یان مقابلہ  
سپد حضرت داؤد آو جالوتس قتل کرتھ تو پتہ کور طالوتن وعدہ پنن پور۔ دامادیتہ بناون بیہ تھوون  
سلطنتک شریک پانس سیت۔ پتہ یلہ طالوت نہیں اگس لڑایہ اندر شہید سپد پتہ سپد ساری مملکتک  
پادشاہ حضرت داؤد وَاتَّهَىٰ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ اللہ تعالیٰ ان کور حضرت داؤدوس عطا پادشاہت تہ  
حمت وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ بیہ پچھوون تم تم چیز تم تس خوش کمر وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ  
بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ ہر گاہ نے اللہ تعالیٰ اڈو لو کو سیت اڈین لو کن ہند شردور کرہ ہا ملک گڑھہ ہاتاہ تہ  
بر باد کفر و شر کہ سیت فتنوتہ فسادو سیت وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ مگر اللہ تعالیٰ چھو فضلہ و ول  
مخلوقن بیٹھ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تم قصہ برو نٹھن لو کن  
ہند چھہ نن نشانہ پروردگارہ سدہ قدر تک یم اُس توہہ پیٹھ پران چھہ پزپاٹ سٹھ چھہ جد دلیلہ تھہ پیٹھ  
کہ تمہ چھوہ پیٹھ پیغمبر و اندرہ۔ تِلْكَ الرُّسُلُ تم پیغمبر یمن ہنز ذکر تھہ سورہ شریفص منز آیہ  
کر نہ یا کہو پیغمبر و اندرہ تھہ چھوہ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فضیلت دیت اسہ تموا اندرہ بعضی  
پیغمبرن بعضین پیٹھ۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ تھو اندرہ چھہ بعضی تم تم سیت اللہ تعالیٰ ان تھہ گرہ  
پلا واسطہ مثل موسیٰ علیہ السلام وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ بعضین ہند درجہ کمرن بلند تم کمرن خاص تمبو

مَرِيَمَ الْبَيْتِ وَيَدُّنَهُ يَرْوِجَ الْقُدُسِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلَ  
الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْتُ وَلَكِنْ اختلفوا  
فِيهِمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتُلُوا ۗ  
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿٥٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا  
مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا  
شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ

خصوصاً تو سیت تم نہ بین آئی عطا کرنے۔ حضرت ابراہیمس غلت۔ حضرت دادئس ملک تہ نبوت  
حضرت سلیمانس تسخیر جن وانس و ہوا۔ حضرت محمد عربیس صلی اللہ علیہ وسلم رسالت عامہ ختم  
نبوت۔ معراج جسمانی۔ سیر ملک و ملکوت بیہ کمال قرب و ائیننا عیسیٰ ابن مریم البیت بیہ  
کرہ اسمہ عطا حضرت عیسیٰ اس نئس فرزند حضرت مریمہ سند چھو، نہ دلیلہ، بد معجزات و ائیندہ یروج  
القدس بیہ کور اسمہ تمن تاسید جبریل امینہ سندہ سیت۔ سواوس تہندہ حفاظتہ خیطرہ تمن سیت سیت  
آسان و لو شاء اللہ ماقتل الذین من بعدہم تویتہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یشہ ہاسارنی لوکن ہند ہدایت  
تیلہ کرہ ہن نہ تم لو کہ تم پیغمبرن پتہ آئی پانہ وان اختلاف تہ قتل و قتال و خونریزی من بعد ما  
جاءہم البیت نہ دلیلہ تمن نشہ واتنہ پتہ و لكن اختلفوا فیہم من امن و منہم من کفر مگر تمہو کور  
اختلاف سمہ سبہ تمہو قتل و قتال تہ خونریزی تہ کمر۔ چنانچہ تمہواندرہ رود بعضہ حقس تہ ایمانس بیٹہ  
ثابت، بعضہ یو کور تمہواندرہ کفر تہ انکار حقیقت چھ و لو شاء اللہ ماقتلوا ہر گاہ اللہ تعالیٰ یشہ  
ہاتمن سارنی ہند ہدایت تم اختلاف تہ قتل و قتال و خونریزی کرہن نہ و لكن اللہ یفعل ما یرید لیکن  
اللہ تعالیٰ سند ارادہ اوس تہ پانہ۔ سو بیہ یشہان چھونہ حکمتہ سیت تہ چھو کران پنہ قدر تہ سیت۔  
یا ایہا الذین امنوا انفقوا مما رزقناکم و لا شفاعۃ من قبل ان یاتی یوم لا ینفع فیہ ولا خلۃ و لا شفاعۃ  
سو خوفناک دودہ ینہ برونہ سمہ دوہہ نہ ہیون

الْقِيَوْمَ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ  
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِندِهِ إِلَّا بِمَا

کُن آسہ نہ یار برادری آسہ نہ سفارشہ ہند کانہہ سلسلہ آسہ **وَالَّذِينَ هُمْ يُظَاهِرُونَ** کافر ی چھہ بڈ ظالم۔ سمو پنہ نس پانس ظلم کور کفر و شر کہ سیت۔ خدایہ سزہ نافرمانی سیت۔ تمنی نہ دیہ کانہہ ہنز دوستی فائدہ نہ کانہہ ہنز سفارش۔ ای با ایمانو تہہ مہہ بو تمن ہی **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** اللہ تعالیٰ گو سوی کانہہ اکھاہ چھونہ عبادتس سزاوارتس و رای **الْحَمْدُ الْقِيَوْمَ** سوی چھو پانہ زندہ بین سارنی زندہ تھوادہ **وَلَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ** کھسان جھنہ تس نہ پنک تہ نہ مندر۔ یعنی مغلوب چھنہ تس کران نہ لوژ مندر تہ نہ گوب مندر **لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** تہندوی چھوتہ سوری یہ آسمان اندر چھو بیہ یہ زمینس اندر چھو **مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ** کس آکند طاقت تہ جرات چھوسو کیا کرہ کانہہ شخصس سفارش تس نشہ تہندہ حکمہ تہ اجازتہ وراے۔ **يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ** سو چھوپانے زانان مخلوقن ہند ساری حالات۔ تم تمن بروٹھہ کُنہ چھہ بیہ تم تمن پتہ کنہ چھہ یعنی پوشیدہ تہن حالات۔ حاضر و غائب حالات ظاہر و باطن حالات زانہ ون چھوسوی لہذا سفارش کرہ ون کیاہ چیز بیجہ تمو حالاً تو علاوہ بیش کثرت **وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِندِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ** مخلوق بیجہ نہ احاطہ کثرت کُنہ چیزس تہندہ علمہ اندرہ مگر تیزی ہنہ سیت ایڑن سو بڑھہ۔ حدیث شریفس اندر چھو کہ حوض کوثرس پیٹھ یں مہ پیش کر نہ کیہنہ لوک۔ تمے بین پکناونہ جہنمس گُن۔ بہ دیہ تم چھہ میان تم چھہ میان۔ تم کیاہہ نیو کھ جہنمس گُن۔ دینہ اتتم **إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا آخِذُ تُوَابِعُدْكَ** توبہ نہ حض چھوہ نہ پتہ سمو کیاہ نور و توبہ پتہ دینس اندر۔ دلمتو جماعتو اندرہ چھہ اکھہ جماعتھہ معتزلہ۔ تم چھہ انکار کران شفاعتس۔ مگر اہل سنت و جماعتن ہند اعتقاد چھو اللہ تعالیٰ یمن شفاعت کر نک اختیار دیہ تم کرن ضرور شفاعت تہ تہند شفاعت کرہ اللہ تعالیٰ قبول۔ اللہ تعالیٰ ان چھو سانس رسول کرتمس **عَلَيْهِ وَعَدُوكُمْ** شفاعتک۔ تم کرن پنہ نس اتس ضرور شفاعت۔ تمو فر موو حدیث شریفس اندر شفاعتی لاهل **الْكَذِبَاتِ مِنَ أُمَّتِي** میون شفاعت چھو بڈین گنکارن ہندہ خیطرہ میانواتیو اندرہ۔ مگر تم تہ بین گوڈہ

شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ  
هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ١٥٥ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ  
الْغَىِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

اللہ تعالیٰ اس شفاعت کر تک اجازت۔ چنانچہ عرش مجیدس بروٹھ کنہ یتھہ دن تم دنیا کین ستن  
دوہن برابر کٹوی سجدہ۔ یتھہ سجدس منز پر ن تم تم حمد و ثنا پروردگارہ سجد۔ تم نہ کانہہ پرمت آسن۔  
ستہ دوہ فرمادیکہ اللہ تعالیٰ تلوحض تھودس مہارک سل نعط و اشفع تشفع معو ہزیہ معو تہ کر وہ عطا۔ بیہ  
کمر و شفاعت۔ تھند شفاعت کرو اس قبول۔ امہ اجازتہ پتہ کرن تم ادہ شفاعت۔ مگر یتھس چھہ وارہ اکھ  
کتھاہ سو چھس قابل۔ سو گئیہ یہ تھہ کہ کانہہ اکھنڈ گڑھہ نہ ناجایزہ حرام چیز، ممنوع کام کرنس پیٹھہ یافرائض  
تہ واجبات تراونس پیٹھہ آمادہ سپدن تہ جرات کرن۔ شفاعتس پیٹھہ اعتماد تہ بھروسہ کرت لینے کانہہ دپہ بہ  
کرہ تہنر مخالفت تہ تا فرمانی تم کرنم شفاعت یہ چھو عقلہ تہ انصافہ لٹھہ سیٹھاہ دور تمہ علاوہ چھو یہ محض اکھ  
خیالہ باطل تہ بے نیاد۔ اللہ تعالیٰ چھوپانہ فرماوان قرآن مجیدس اندر وَمَنْ يُثَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ  
مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١٥٤  
اکھاہ مخالفت کرہ سانس پیغمبرہ سزا حکام تس نش وارہ پاٹھہ وانتہ پتہ بیہ کرہ سو پیردی با ایمان ہنزہوتہ وراہی  
بیہ گنہ وتہ ہنزہ۔ پکاناون اس سوتی وتہ یوسہ وتھہ تم اختیار کمر۔ بیہ واتا دون اس سو جھنمس یوسہ سیٹھاہ  
چھہ جای چھہ۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَيَرَاوَهُ كُرْسِيُّ جَهَنَّمَ يَأْتِي سُرًّا مِنَ السَّمَاءِ فَيَكْتُمُونَ  
بُؤْسَ تِلْكَ الْأُمَّةِ حَرِيثٌ مُقْتَتِلٌ إِذْ يُصْعَقُونَ مِنْ تَحْتِهَا فَأَلْقَتْهَا كِافًّا تَارَةً ١٥٣  
بوڈ تہ کھول۔ حدیث شریفس منز چھو ست آسمان چھہ کر سیس منز تھتی یتھہ ست پنہسہ چھہ بڈس  
میدانس منز۔ عرش مقابلہ چھو کر سی تھوی یتھہ اکھ پنہسہ چھو بڈس میدانس منز۔ نتہ گو معنی احاطہ  
کرت چھو تھنڈ علم آسمان تہ زمین وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا تھکر اوان چھو تہ تس یعنی دشواری تہ تکلیف  
منز چھنہ تراوان تس آسمان تہ زمین راجھہ تہ حفاظت کرن وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بیہ چھو سیٹھاہ عالی۔  
تھندس علوس نما تھاہ چھنہ سو چھو سیٹھاہ بوڈ۔ تھندس بجز نما تھاہ چھنہ۔ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ زور تہ  
زبردستی چھنہ ونیس اندر قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ کیا زہہ پزپاٹ وارہ نیو بذات خود بیہ دیلو سیت۔  
ہدایت تہ گمراہی، ایمان تہ کفر حق تہ باطل پوز تہ ایز فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ پس بس

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۷۶۱﴾  
 اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَا لَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ  
 إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۷۶۲﴾  
 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَآجَّرَ اِبْرَاهِمَ فِى رَبِّهٖ اَنْ اَشْهٖ اللهُ  
 الْمَلِكَ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ رَبِّى الَّذِى يُعْبٰى وَيُسَبِّحُ قَالَ اَنَا

لکھاہ انکار کرہ باطل ہے ایزین معبودن شیطان وغیرن اقرار تہ پڑھ کرہ کنس معبود برحقس فقہا استمسک  
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ پس بیشک تمی کر تھپ محکم گندس رزہ ہندس۔ سو گو حدیث قال اللہ قال رسول  
 اللہ۔ لَا انْفِصَامَ لَهَا یتھ نہ ڈیجر چھوٹنہ قسمہ۔ یوسہ نہ مثر راونہ بیہ زمانہ تہ۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
 اللہ تعالیٰ چھو سو زوی بوزہ ون سو زوی زانہ ون اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ چھو دوست تہ مددگار  
 ایماندارن ہند۔ بھو طاغوتن انکار کر تھ کنس خدائس پڑھ کر يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ سو چھو  
 تمن گھر چوتار کیو منزہ کڈت یا لوب رتھہ اسلامس نورس اندرو اتاوان وَالَّذِينَ كَفَرُوا یتھو لو کو خدائس  
 معبود برحقس انکار کور اَوْلِيَا لَهُمُ الطَّاغُوتُ تھند دوست گے شیطان يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ  
 تم چھہ تمن اسلامک نورہ نشی کڈت یا لوب رتھہ کفر چن تاریکین اندرو اتاوان اَوْلِيَا لَهُمُ النَّارُ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ تھے لو کہ چھہ نارہ وال یتھہ منز تمن ہمیشہ روزن چھو عذابس گرفتار اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَآجَّرَ  
 اِبْرَاهِمَ فِى رَبِّهٖ اَنْ اَشْهٖ اللهُ الْمَلِكَ تھندو چھو نا اے پیغمبر یا تھہ و چھہ نا اے و چھہ ونہ تس شخصس  
 پس ناواوس نمرود۔ تم بحث کرو حضرت ابراہیمس سیت تھندس پروردگارہ ہندس وجودس متعلق کیا زہ  
 اللہ تعالیٰ ان اوُس دتمت ملک تہ پادشاہت باوجود آں اوُس خدایہ سندس وجودس مگر اِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ رَبِّى  
 الَّذِى يُعْبٰى وَيُسَبِّحُ یہ بحث سپدتمہ وقتہ یلمہ تم پر تھہ حضرت ابراہیمس علیہ السلام تھندس پروردگار سند  
 شان کیاہ چھو۔ حضرت ابراہیمس فرموس میوان پروردگار گو سوی بس سارنی زندہ کران چھو بیہ مارن

أُحْيِ وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ  
 الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ  
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۵﴾ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ  
 هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ  
 مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ  
 قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ

چھو قال آکا اُحْيِ وَأَمِيتُ نمرودن دوپ بہتہ چھوس زندہ کران تہ ماران قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي  
 بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فرمودس حضرت ابراہیمن اللہ تعالیٰ سنز بیاکھ کام چھہ  
 سو چھو آفتابس کھاران پریتھہ دہنہ مشرقہ کبہ طرفہ ڈہ کھارتن اکہ دہنہ مغربہ کہ طرفہ فَبُهِتَ الَّذِي  
 كَفَرَ پس سپڑیہ کافر نمرود حیران لاجواب تہ کینہہ پھورسنہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ  
 تعالیٰ چھونہ وتھہ ہاوان ظالمین۔ یہ دلیل آس ذات باری تعالیٰ سندس وجودس پیٹھہ۔ امہ پیتہ چھو اللہ تعالیٰ  
 مرنہ پیتہ زندہ کرنس پیٹھہ زہ دلیلہ فرماوان أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ بیہ دھتھتھا نازیہ تس شخصس عن بس  
 پوک اکہ شہرہ کن وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا سو شہر اوس منہدم تہ ویران سپڑمت مکان ہند پیش  
 آس دہہ بیٹھمت تمہہ کینن ژکینن پیٹھہ۔ سو پکہ ون اوس حضرت عزیز۔ شہر اوس بیت المقدس بس بخت  
 نصران اوس ویران تہ تہہ کورمت۔ امی ویران شہرہ کن یلہ حضرت عزیز پوک سیت اوس سواری ہند کھر  
 بیہ توشہ دانس منز کھینہ چینک چیز قَالَ دہنہ لوگ پان پانس سیت أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا  
 تھہہ سنا پاتھہ کرہ اللہ تعالیٰ تھہ شہرس آباد (بیہ) اکہ ویرانی پتہ۔ یہ دون نہ تہونا ممکن زانتھہ بلکہ ونوکھہ مہ  
 گدھہ کج کیفیت معلوم سپدن فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ پس کر اللہ تعالیٰ ان تہنز زندگی زایل یعنی ماتھم اللہ  
 تعالیٰ ان اگس ہنس ورسنن ثُمَّ بَعَثَهُ تویپتہ کران اکہ ہتہ دہر بیہ زندہ تویپتہ تلن تھود قَالَ پر ژھنس پانیا  
 ملکہ سندہ ذریعہ کھہ لبتت ڈہ کبتس کاس شہر پوک تبتس قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ دین بو ٹھوروس

عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهٗ ۖ وَانظُرْ  
إِلَىٰ حِمَارِكَ ۚ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ۚ وَانظُرْ إِلَى  
الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ۚ ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ  
لَهُ ۙ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۷۸﴾  
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوْ لَمْ  
تُؤْمِنُ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْبِئِرَ قَلْبِي ۖ قَالَ فَاخُذْ أَرْبَعَةً

غالباً دوس یا دو بھ خوتہ کم کس اؤس دوسہ قال بل کیثت مائۃ عامہ اللہ تعالیٰ ان فرموس  
نہ بلکہ گوی تہ تیس تھم ت اکھ ہت وری فانظر الی طعامک وشرابک لم يتسنه وچہ دن سان  
قدرت۔ ملاحظہ کر پنے بس کہیں چینس گن۔ پوت کال گڑھت چھنہ سوئنے قسمہ ڈولت تہ متغیر سپد مت  
وانظر الی حمارک بیہ وچہ تہ پنے بس کھرس گن تمس کیاہ چھو بنو مت اڈجہ تان چھس دودر سمہ  
ولنجعلک آیۃ للناس بیہ چھوسون مقصد تہ کرو تہ آس لوکن ہندہ اعتمادہ خیلرہ پنے قدرتک  
اکھ نشانہ وانظر الی العظام وون وچہ تہ بین کھرہ سنزن اڈجن گن کيف نشزها کتھہ پاٹھہ  
ملہ ناووکھ اس تمہ اڈجہ ثم نکسوها لحمًا تو پنے تھہ پاٹھہ ولو اس تمس بیٹھہ مازہ بیہ چھو وچھانی یکدم سپد  
کھر زندہ تو پنے ووتھ تھو دژن ٹانگ۔ فلما تبين له اده ملہ یہ سوزی حال تمس نبو و قال اعلم ان  
اللہ علیٰ کل شئی قدير دہنہ لوگ بو چھوس یقین کران کہ بیشک چھو اللہ تعالیٰ پریتھہ چیزس  
پیٹھہ قدرتہ وول وإذ قال إبراهيم رب أريني كيف تحيي الموتى بیہ پاوژ تیس تہہ سو وقت ملہ حضرت  
ابراہیم عرض کو رخدائس ای میابہ پروردگارہ مہ ہاوتہ تھہ پاٹھہ کھرہ کھ تہ مردہ زندہ قیامتک دوہ بو ہادہ  
ہا میک علم حاصل کھر تھہ کیا زہ خبر چھایہ کافر نمرد ما پر تھہ اتھ متعلق دو ہارہ قال أولم تؤمن اللہ تعالیٰ  
ان فرموس کیاہ تہ یہ آئی نا چھہ ونہ قال بلی ولکن لیطبر قلبی دہن گڑھنا پڑھہ بن مگرامہ عرض  
کرنہ اندرہ چھو میون مطلب بیٹھہ میون دل مطمئن سپدت چانین دشمن سیت بحث کرنہ خیلرہ قوی سپدہ۔

مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُرْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعِيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۶﴾ مَعْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّ فَرْمُوسَ مَعْدًا أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ بِسَ رَتَكَ نَزَهَ زُورَ جَانُورَ - مَوْرَ، كُوْمَرُ، كُوْمَرَتَه كَاو فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ بِسَ رَ جَهْمُكْهُ كَبِيْرَه كَالَا هَ پَا سَ نَشَهَ - وَا رَه تَهَا كَه وَنَه - تُو پَتَه مَارَكَه - كَلَه تَهْمَد تَهَاوَالِكْ - بَدَشَن جَهْمَدِيْنَ كَرُكْفَتَه - جَهْمَد مَازَلَه نَاوَا كَه اَكْسَ سِيْت - ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُرْءًا تُو پَتَه تَهَاو پَرِيْتَه كُو هَسَ پِيْطَه تَهْمَدَه مَلْنَاو مَتَه مَازَه اَنْدَرَه اَكْه اَكْه حَصَه - ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعِيًا تُو پَتَه وَهَ تَمِيْنَ اَلُو - تَمِيْنَ يَمِيْنَ نَزِيَه نَشَ دُوْرَانِ دُوْرَانِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تُو پَتَه زَانِ نَزَه بِيْشَ اللَّهُ تَعَالَىٰ جَهْوَ پَرِيْتَه جِيْزَسَ پِيْطَه قَدْرَتَه دُوْل - حَمْتَه دُوْل مَعْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِثَالِ تَمِيْنَ لُو كَن هَنْزِيْمَ خَرْجِ جَهْمَه كِرَانِ مَالِ بَنِيْنَ خَدَلِيَه سَنَزَه وَوِيْتَه اَنْدَرِ كَمِثْلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ تَمَه پَهْلَجَ مِثَالِ تَهْمَه نِيْرَانِ جَهْمَه زَمِيْنَسَ مَنزُو تَهْمَه تَهْمَه هَيْلِ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ پَرِيْتَه تَهْمَه پَهْلَسَ جَهْمَه اَسَانِ تَهْمَه تَهْمَه پَهْلِ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ لَمَه عِلَاوَه جَهْوَه اللَّهُ تَعَالَىٰ مَرَه رَاوَانِ بَسِيْدَه خَيْطَرَه يَشَهَانِ جَهْوَه وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ تَعَالَىٰ جَهْوَه وَسَعْتَه دُوْل تَسَ جَهْمَه حَمْتَه جِيْزِجَ كِي - اللَّهُ تَعَالَىٰ جَهْوَرُتَ زَانِ دُوْل - تَسَ جَهْوَه مَعْلُوْمَ كَمَسْنَرُ كَبِيْطَه نِيْتَه جَهْمَه - تَمِيْ نِيْتَه مَوْجِبَ جَهْوَه سُوْءُ وَسَعْتَه عَطَا كِرَانِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِمَّا وَلَا آدَى تَمَ لُو كَه تَمِيْنَ خَرْجِ جَهْمَه كِرَانِ مَالِ بَنِيْنَ خَدَلِيَه سَنَزَه وَوِيْتَه اَنْدَرِ تُو پَتَه جَهْمَه پَتَه تَمِيْسَ رُتَه وَنَسَ پِيْطَه اَحْسَانِ تَه مَنْت تَهَاوَانِ تَه جَهْمَسَ كَمْهَرُ نَكْ اِذَاوَاتَاوَانِ اَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تَهْمَزَ مَزُوْرَ جَهْوَه اَمَه خَرْجِ كَرُجِ جَهْمَدِسَ پَرُوْرَدْگَارَسَ نَشَ وَلَاخَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ بِيْهَ اَسَه نَه تَمِيْنَ



مِنَّا وَلَا آذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۳﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ  
 يَتَّبِعَهَا آذَىٰ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ ﴿۳۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  
 تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ  
 رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ  
 صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ  
 عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۵﴾

کانہ خوفہ قیامتک دودہ نہ آسہ تمہن کانہہ غماہ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعَهَا آذَىٰ  
 رزق تھہ ون سائیس بیہ درگزر کرن یہ چھو بہتر تمہہ خیراتہ کھوتہ ہتھہ پتہ کتھہ رنگ تکلیف نہ اذہہ آسہ واللہ  
 عَنِّي حَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو آسن دول نہ بیہ ٹیڈہ بیہہ دول۔ جلد چھونہ رمان نہ گرفتار کران سائیس  
 تکلیف نہ اذہہ اتادہ ونین۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ای باایمانوہ کترو  
 خیرات پٹن بر باد منت نہ احسان تھاونہ سیت۔ بیہ پامہ نہ اذہہ نہ سیت کالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ  
 تس شخصہ سدما تھہ بس مال پٹن خرچ کران چھو لوکن ہاونہ خیطرہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بیہ چھو  
 نہ سو پٹھہ کران کنس خدا بس نہ پٹتس دوہس یعنی قیامتس فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ بس چھہ  
 تھمز مثال تمہہ پشاجہ کنہ ہنزہ ہتھہ بیٹھہ میزہ آسہ لار تھہ فَأَصَابَهُ وَابٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا تھہ بیہ شکل رود۔ سو میزہ  
 بس چھلانہ بس تھاوہ تھہ کنہ چھلانہ چھو تھہ تڑھی ہتھہ آس۔ سموا تھہ کنہ ہنزہ ہنزہہ بیٹھہ کینہہ وومت آسہ  
 لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا تم یکن نہ کانہہ چیزے حاصل کر تھہ تمہہ منزہہ یہ تمو وومت آسہ۔ تھہ  
 پاٹھہ تم خرچ کتر تھہ منت تھاوان یا کرن خرچ تھیکتہ نہ لوکن ہاونہ خیطرہ تم چھونہ تھہ خرچ کر نس کانہہ  
 ثوابہ نہ مز دویاہ واللہ لَّا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ چھونہ تھہ ہاون کافران وَمَعَلِّ الَّذِينَ

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ  
تَشْبِيئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ أَيْرَبُوتَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ  
فَأَتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ  
بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۚ أَيُّودٌ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِمَّنْ  
يَجْنِي وَاعْتَابُ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ  
الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءٌ فَأَصَابَهَا  
إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وون گہہ مثال تین لوکن ہنزیم خرچ کران  
چھہ مال پین خدایہ سندر ضارٹھانڈ نہ خیطرہ بیہ پنہ نین پان ہنڈ اعتقاد یقین صدقات و خیراتہ کس ثوابس  
متعلق مضبوطہ پنختہ کرنہ خیطرہ کمثیل جَنَّةٍ اَیْرَبُوتَةٍ تمہہ باغچہ مثال نیس تھہ رس پیٹھ آسہ سمیک زمین  
سیٹھاہ رت آسہ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ تھہہ آسہ پیوان کٹل رُود سمہ سیت تھہہ دوگن  
میوہ نیران آسہ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ ہر گاہ کٹل رُود نیس تہ نہ تویہ چھو تھہ نیگ رُود پیوئی  
کانی سپدان رت زمین آسہہ مٹھہ۔ تھہہ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ بالیمان بدن صدقات و خیراتن ہڈ نفع تہ فائدہ  
عطا کران وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ یہ کینڈھاہ تہہہ کران چھوہ تہ سوری چھوہ اللہ تعالیٰ وچھان  
اَيُّودٌ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِمَّنْ يَجْنِي وَاعْتَابُ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کیاہ توبہ اندرہ چھانسمہ  
یہ تھہہ پسند کہ تس کیا آسہ باغاہ، خضر کلین تہ دچھہہ راٹھن ہنڈ تمبوے کلیو منز آس جو بیہ پکان کہ فیہا مِنْ  
كُلِّ الثَّمَرَاتِ اِس شخصس آس اتھہ باغس منز پریتھہ کتھہ قسمک میوہ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءٌ  
اِس شخصس آسہ ہُزوک وقت اُمّت بیہ آسہ اِس خام عیال فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ  
توپتہ ولتہ اتھہ باغس اُسندس تند ولواہ تھہہ سیت نار تہہ آسہ یعنی نارِ سموم امی سیت پیہہ باغ دژ تھہہ۔ یکی

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۳۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ  
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا  
تَيَسَّبُوا بِالْخَيْرِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيَارَ إِلَّا  
أَنْ تَعْبُضُوا فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿۱۳۱﴾  
الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ

کیفیت چھہ بنان سیکین پیٹھ احسان تہ منت تھاوانہ سیت۔ ازہ تہ پامہ دنہ سیت۔ ریا کرنہ سیت۔ گنڈاک  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ تھے پانچھ چھو اللہ تعالیٰ ویزھہ ناوان توہمہ پنن آیات۔ سٹھہ  
تہمہ غور و فکر کمر تھہ پنن صدقات و خیرات منت تہ احسان تھاوانہ سیت۔ اذا تہ پامہ دنہ سیت، لو کن ہاونہ  
سیت ضایع تہ تباہ کران آہونہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ای باایمانو خرچ  
آہو کران رٹان کا مین اندر۔ تمہ اندرہ رت رت چیزہ زینان تہ کماوان چھوہہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ بیہ رت رت چیز تمہ اندرہ یہ اسہ زمینہ اندرہ تہمدہ خیطرہ کھور۔ وَلَا تَيَسَّبُوا بِالْخَيْرِ بیہ مہ  
آہورڈی تہ خراب چیزان ہند قصد کران مِنْهُ تُنْفِقُونَ تھی ردی چیزہ منزہ آہو خرچ کران ردی تہ  
کھوٹ چیز آسہو ژارت تہ الگ کڈت تھاوان خدایہ سدہ خیطرہ دس ٹیٹ۔ یہ گوپست ہمت لاگن۔ کھوٹ  
پانسہ۔ کھوچہ روپیہ۔ کھوٹ پھٹہ ووٹ یاد مزہ ژوچہ۔ دودر یومت غلہ مہ آہو خدایہ سنزہ وتہ دوان  
وَلَسْتُمْ بِأَخِيَارَ إِلَّا أَنْ تَعْبُضُوا فِيهِ حالانچہ تہمہ چھوہہ نہ سوی چیز پانس رٹہ ون گنہ صورتس اندر إِلَّا أَنْ تَعْبُضُوا  
فِيهِ مگرے گنہ ساتہ اہجہہ بٹھہ تھہ اندر سہل انگاری کرو تہ لگ گڑھ هیو۔ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
حَمِيدٌ وارہ زا نو یہ تھہ کہ اللہ تعالیٰ چھو بے نیاز حمد پنے آمت تعریف کرنہ آمت۔ تمس چھوہہ تہمدین  
رڈی مالن ہنز ضرور تھی۔ سوچھوہہ راضی سپدان کھوٹیو دیارو سیت۔ سوگڑھہما خوش فقیرس مسکینس  
حاجت نیر نہ سیت۔ تمس بلہ نہ کھوٹ پونسہ گنہ چلیو و تمس کیاہ حاجت دراؤ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ  
وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ شیطان چھوہہ توہمہ کھوڑہ ناوان محتاج سپدنس۔ بیہ چھوہہ امر کران توہمہ تھہ

يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۷﴾  
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ  
أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۳۸﴾  
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۳۹﴾  
إِنْ تَبَدُّوا وَالصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَ  
تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ

کامین ہند یعنی مخلک وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا اللہ تعالیٰ چھوہ توہمہ صدقہ و خیراتس پیٹھ  
وعدہ کران پنہ بڈہ مغفرتک بیہ رزقس اندرو عتک وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھوپانہ آسن  
وول سوڑی زانن وول یُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ عقل ودانائی چھو عطا کران یس یشھان چھو اتس وَمَنْ  
يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا یس اس عقل ودانائی ایہ عطا کرنہ پیشک تس او عطا کرنہ  
خیر کثیر۔ یعنی واریاہ خیر وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ نصیحت بہمنہ قبول کران مگر عقلہ والی وَمَا  
أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ بیہ یہ کثیر ہاہ تہہ خرچ کرہ وہ  
یانذر تھو وہ وہ کانہہ نذرہہ پس چھو اللہ تعالیٰ تہہ سوڑی زانان وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ چھونہ  
ظالمن ہندہ خیطرہ کانہہ مددگارہ ہم مخلہ سیت۔ احسان تھاونہ سیت، ازاد نہ سیت، لوکن ہاونہ تہہ تھینہ  
سیت خیر ایجہہ ثوابہ نشہ پنہ نین پانن محروم کرن یا ہم حرام مالہ سیت خیرات کرن۔ یا ہم نذرنا جائیز تھاون  
غیر اللہ یعنی خدا ایس ورا ی مخلوقن ہندہ خیطرہ یا ہم جائیز نظرن وفا کرن نہ إِنْ تَبَدُّوا وَالصَّدَقَاتِ  
فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ہر گاہ تہہ پن صدقاتن پاتھہ دیو  
تہہ گو سیٹھہ جان۔ مگر ہر گاہ لو تہہ پاتھہ تہہ ژورہہ پاتھہ دیو بیہ دیو فقیرنی سو چھو ژور بہترن پاتھہ تہہ آسن والین

مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۱﴾ لَيْسَ  
عَلَيْكَ هُدُوبُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ وَمَا  
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُنْفِسُكُمْ وَمَا تَنْفِقُونَ إِلَّا  
ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ  
وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ ﴿۲۲﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ

دین خود۔ فرسک صدقے آسہ ز کلاؤ وغیرہ ہو سون پاٹھ دین چھو بہتر بھتھیس بہ رغبت پادہ سپدہ۔ ہر گاہ  
تھک صدقہ آسہ سو چھو پوشیدہ ماٹھی دین بہتر بھتھہ ریالہ بیہ۔ وَیَکْفُرُ عَنْکُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بیہ چھو اللہ تعالیٰ لمہ سبہ جہدین بعضی ٹھمن بخشایش بہ در گذر کران۔ بیہ چھو اللہ  
تعالیٰ پورہ زانان بیہ تہہ کران چھوہ لَیْسَ عَلَیْکَ هُدُوبُهُمْ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَاءُ توبہ نہ  
حض چھوہ مہ یار رسول اللہ سم کافر راہ راستس پیٹھ ان۔ مگر اللہ تعالیٰ ہی کس یٹھہ تس کرہ ہدایت وَمَا  
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُنْفِسُكُمْ تہہ کس مالہ خرچ کرود خلیہ سدہ خیطرہ تمک فاندہ چھوہ توبہ پانس وَمَا  
تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ توبہ چھوہ نہ خرچ کران خلیہ سندی رضا حاصل کرنہ خیطرہ وَمَا  
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَیْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ تہہ یہ کیوہا خرچ کمر وپنہ مالہ اندرہ تمک ثواب بہ بدلہ  
ایہ توبہ عطا کرنہ۔ توبہ کتہ تمک ظلم بیہ نہ کرنہ۔ جہد حق بیہ نہ ضائع کرنہ۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ خیرات گھہہ دین تمن فقیرن سم ہند اسن کرنہ آسٹ خلیہ سنزہ وتہ اندر یعنی تہد وقت  
آسن مصروف دینہ چن تمنی کاین اندر یمن اندر عام لوکن ہندہ خیطرہ بہتری آسہ۔ سو گو جلاہیو، تبلیغ ہیو طلب علم  
دین ہیو۔ سم چھہ مصارف صدقا تواندرہ بہتر مصرف لَا یَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ یم نہ تمی سبہ آسن  
ہیکان اورہ پور پھیر تھہ رزق کمانہ خیطرہ یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْدِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ناواقف لوکھ آسن  
تمن مالدار زانان۔ تہہہ سوالہ ہٹھہ روز بھہ سبب تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئَاتِهِمْ تہہ پر زنا و بھہ تم تہدہ بھتھہ علامتہ

الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعْفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ  
لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۶۷﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ  
بِالْبَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۸﴾  
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُوا إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

سیت یعنی فاترگی ہندہ سببہ آسن تہندہ بھتہ زرد۔ لَا یَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَاقًا تم آسن نہ لوکن منگان چھپر  
لاگت وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ یہ کنیوہ ہاہ تہہ خرچ کمر و مالہ اندرہ یکن ممسکین پیٹھہ یکن منزیم پانژھہ  
صفت موجود آسن فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ پس اللہ تعالیٰ اس چھوتہ سوزی معلوم الَّذِينَ يُنْفِقُونَ  
أَمْوَالَهُمْ بِالْبَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سم لوکہ مال پنن خرچ کران چھہ رات کیت یادولہہ  
لوت پانژھہ یان پانژھہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تہندہ خپترہ چھہ تہنز مزور پروردگار س نیش ولا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بہہ آسہ نہ تمن کانہہ خوفانہ کانہہ غماہ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا سم  
لوکہ سود کھیوان چھہ لَا يَقُومُوا إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ تم دو تھن نہ قیامتہ  
دوبہہ قبر و منزہ مگر تس شخصہ سد پانژھہ بس زورہ ژنڈ آسہ ڈر مثر شیطان کی سیت آسیس دماغ خراب  
گومت یعنی سیتہ لدہی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا بہہ سزا آسہ تمن امی موکہ کہ تموی کیا  
دوپ ہیون کئن تہ چھو بیازی ہو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا حالانکہ اللہ تعالیٰ ان چھو ہیون کئن  
حلال کورمت۔ سود چھن حرام کورمت حلال و حرام کر نک اختیارہ وول چھو سوی یوت فَمِنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى پس بس آگس ووت پنہ نس پروردگارہ سدہ طرفہ نصیحت کلام۔ تو پتہ رود

مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۹﴾  
 يَبْحَثُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَاقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
 كَفَّارٍ آثِيمٍ ﴿۳۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا  
 الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا  
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا

سوامہ سود کہ معاملہ نشیہ ہتھہ فلہ ما سلف و امرہ الی اللہ پس یہ کنیوہا ہتھہ کن گذریووتہ گو تھند  
 وی ملک۔ فیصلہ تھند کر پانہ خدا وَمَنْ عَادَ سیم لو کہ خدایہ سد حکم بوز تھہ بیہ دوبارہ کرن زانتھہ کمر تھہ  
 سود کہ معاملہ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تھے لو کہ گے دوزخی تم روزن تھہ  
 دوزخس منز ہمیشہ کیا زہ تمبو کور خدایہ سد حکم نظر انداز یَبْحَثُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَاقَاتِ  
 گالان چھو اللہ تعالیٰ سودس سود کین دیران چھنہ کانہہ برکتھہ ہر راوان چھو اللہ تعالیٰ خیر اتس۔ آگس  
 چھو اللہ تعالیٰ ذہن گن تہ ساسہ گن بیچھ گن تہ دوان وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ آثِيمٍ اللہ تعالیٰ اس چھونہ  
 پسند کہنی ناپاس بندہ بس سودس حلال آسہ زانان کہنے مجرم بندہ بس سودہ کس معاملس پیٹھہ ڈاڈ آسہ  
 کمرت إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ پڑھتہ سمبولو گو ایمان  
 اون بیہ کریچھ رتھہ عملہ بیہ تھو کہ نماز برپا۔ بیہ دژک مانج زکوٰۃ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ  
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پس تھندہ خیطرہ ہتھہ تھنز مزور تھندس پروردگار س نشیہ بیہ آسہ نہ تمن کانہہ  
 خوفانہ بیہ نہ کانہہ غماہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ای با  
 ایمانو کھو تڑو خدا بس بیہ تراو سور تم بس باقی آسہو رودمت سود کہ لو کن نشیہ چھوے تھہ پڑاٹھہ با ایمان

اللَّهِ وَذَرُّوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿۸۹﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۰﴾ وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۹۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَايِنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پس ہر گاہ سودہ نشیہ پتھہ روزونہ تلہ روزو خبردار نہ تیار جنگ کرنہ خیطرہ خدائیس نہ تہندس رسولس سیتہ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ہر گاہ تہہ توبہ کردو سودہ نشیہ پتھہ روزو تلہ ابوہ اصل رقم واپس دنہ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ نہ مہ کھرو تہہ کانہہ پیٹھہ ظلم نہ بیہ توبہ پیٹھہ کانہہ ظلم کرنہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر قرضدار آسہ تنگ دست فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تس گدھہ پیازن یوتان تس وسعت بیہ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ دون ہے تہہ سورقم صدقس پیٹھہ تس قرضدارس تراویہ پتھو تہندہ خیطرہ بہترہ ہر گاہے توبہ تمیک ثواب معلوم آسہ بابا ہر گاہے تہہ مناسب زانوہ وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ بیہ کھو ترو تہہ دوہس سمہ دوہہ تہہ واتا ونہ ابو خدائیس بروٹھہ كُنْ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ توبہ بیہ پر پتھہ آسہ تمہ ساری نیک و بدک بدلہ پورہ دنہ بیہ تم کورمت آسہ بیہ بیہ نہ تمن بہ بیچ وجہ کتہہ قسمہ ظلم کرنہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَايِنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاتَّقُوا ائِ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ای بابا مانو تہہ یلہ قرضک لین دین آسو کران مٹنہ خاص مقرر مدتس تان، پس آسو لیکن وَكَيْفَ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ بیہ لیکن یہ کاغذ توبہ اندرہ کانہہ لیکن وولہ پور پوزہ۔ اُس نہ کی یا زیادتی کرہ ر قمس اندریا



فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ  
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ فَوَلْيُمْلِلْ  
وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ  
لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

وقس اندرو ولا یاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب بیه مه کمرن انکار کاننه لیکن وول بیه کاغذ  
لیکھے نسخہ کیا زہ اللہ تعالیٰ ان ہتھ پاتھ سو پچھ نو لیکن پس آسن سو تمہ کس شکر انس اندر لو کن کاغذ تہ  
امہ قسمک دستاویزات لیکھت دو ان ولیمیل الذی علیہ الحق بیه آسنس سوی شخص لیکھنا وان تہ  
عبارت ونان پس پٹھ حق چھو یعنی پس قرض نوان آسہ ولیتقی اللہ ربہ کھو زن سو خدا پس پس تہند  
پروردگار چھو۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا کم مه کمرن سولمہ منزہ کانہہ چیزہہ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا پس ہر گاہ قرض نوہ ون کم عقل آسہ یا ضعیف تہ ناتوان آسہ اولا یستطیع ان  
یُبَيِّنَ لَهُ ہو یا آسہ نہ بیگان سو پانہ عبارت ونتمہ نہ زانہ موکھ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ پس لیکھنا ون تہ  
عبارت ون والی تہو نہ معتبر تہ کارن تہند وارہ پاتھ تہ الناصفہ پاتھہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
رِجَالِكُمْ بیه تھاویو کہ شاہد زہ گواہ مسلمان مرد و اندرہ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ ہر گاہ  
لے زہ مسلمان مرد تین یعنی پسر تہ دستیاہ بیکن نہ سپد تھہ تیلہ روزن گواہ اکھ مرد تہ زہ زانہ وسنن  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ یم تہہ پسند کریو کہ گواہو اندرہ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا  
الْأُخْرَى کیا زہ ہر گاہ ہمشت گھوہہ دیو اندرہ اگس زانہہ تیس پاولس دو تم زانہہ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ  
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
لِلشَّهَادَةِ ۖ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ  
وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ سُوءٌ بِكُمْ ط وَ  
اتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۸۶﴾

دُعُوا گواہین ہند گڑھ نہ انکار کرن یلہ تمہن گواہ روزنہ خیطر ہاد آسہ یوان دنہ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ  
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ سستی منہ آسہو کران بیہ معیادی کاغذ لیکنہ نشہ ادہ معاملہ لوگٹ آسٹن یا بوڈ  
ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ بیہ چھو تہندہ خیطرہ انصاف زیادہ قائم تھادہ ون خدا یس نشہ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ  
بیہ چھو بیہ لیکن زیادہ قاسم تھوہ ون گواہیہ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا بیہ چھو زیادہ نزدیک تھہ تھہ کہ توہیہ  
روزنہ شک تہ شبہ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً مگرے آسہ تجارتا ہنوری ہینہ دیک تَدِيرُونَهَا  
بَيْنَكُمْ یس تجارت تہہ پانہ وان پھران آسہو یعنی ہینہ دول آسہ قیمت دو ان کنن دول آسہ چیز پیش  
کران فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا پس چھونہ کانہہ حرج توہیہ ہر گاہ اتھہ صورتس  
منز لیکیان آسہونہ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ بیہ آسہو گواہ تھوا ون یلہ تہہ خرید و فروخت کران آسہو۔  
لیکنہ کانہہ دو یواندرہ انکار کرہ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ نقصان گڑھ نہ وان تاونہ من نہ لیکنہ  
والس تہ نہ شاہدن وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ سُوءٌ بِكُمْ ہر گاہ توہیہ تہ کورودہ کاتین تہ شاہدن وان تووہ  
تکلیف تہ ضرر سوچھو تہندہ خیطرہ بوڈ گناہہ وَ اتَّقُوا اللَّهَ کھو ترو خدا یس ہمیشہ خصوصاً تمہ کامہ کرنس  
اندر سمونہ منع آو توہیہ کرنہ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ چھوہ دین ود نیاجہ کامہ تہ احکام پچھہ ناوان

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ  
 رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ سَكْتَهَا فَإِنَّهُ إِتْمَ قَلْبُهُ وَ  
 اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۶۸﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
 وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ  
 اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ


والله بكل شئ عليم اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ چیزا ہ پور زانہ دن و ان کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتباً دون ہر گاہ تہہ آسو سفر اندر تو پتہ لیون نہ تہہ کانہ لیکن و ولاہ تہہ سفر منز فرہن مقبوضۃ تہہ صورتس اندر گدھن بند تھونک چیز پیش کرن یمن چیزن قبضہ کرہ فرض کر تم دنہ دل فان اومن بعضکم بعضا پس ہر گاہ مطمئن آسہ تو ہہ اندرہ اکہ بیٹس پیٹھ یعنی اکہ اگس پیٹھ اعتماد نہ اعتبار آسہ فلیؤد الذی اؤتین امانتہ ولیتق اللہ ربہ پس سکتس پیٹھ اعتماد نہ اعتبار آو کر نہ سو کرن ادا پن امانت۔ بیہ کھوژن خدا لیس پنہ نس پروردگار س تمسند حق مہ کھن ولا تکتُموا الشہادۃ اے مسلمانو مہ آسو گواہی کھٹان و من سکتہا فاتمہ اتم قلبہ اُس اکھاہ شہادت نہ گواہی کھٹان آسہ تمسند دل چھو گندگار۔ یعنی سو مہ زانن یہ شہادت نہ دن ہا چھو زیوہ ہندی یوت گناہ بلکہ چھو یہ دلگ گناہ نہ واللہ بما ت عملون علیم کیا زہہ پر ہتھ گنہگ ارادہ چھو دلہ پیٹھے دو تھان۔ اللہ تعالیٰ چھو پور زانان یہ تہہ کران چھوہ دلو یا تا نو سیت لله ما فی السموات وما فی الارض خدا یہ سندوی چھو نہ سوزی یہ آسمان اندر چھو بیہ یہ زمین اندر چھو۔ خود آسمان نہ زمین چھو تہندوی و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوهو یحاسبکم بہ اللہ ہر گاہ نہ راووتیہ تہندین دن اندر چھو یا کھتھ تھاو۔ اللہ تعالیٰ چھو نہ سوزی زانان۔ تھہ سارسی پیٹھ ہیوہ سو حساب فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء تو پتہ کس خوش کر لیس تس کرہ مغفرت کس خوش کر لیس تس کرہ عذاب واللہ علی کل شئ قدیور اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ

شَيْءٌ قَدِيرٌ ﴿۲۸۶﴾ اَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ  
 الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ اَمَّنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ  
 لَا فَرْقَ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا  
 غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸۷﴾ لَا يَكْفُرُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا  
 وُسْعًا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا

چیز سپید قدرت و ول یلہ یہ وَاِنَّ رَبَّنَا وَمَا فِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ یَحٰسِبُكُمْ بِهٖ اللّٰهُ نازل سپہ صحابہ  
 صیب سپہ نمگین عرض کوزہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہدس خدس منز کہ یارسول اللہ  
 یہ حض چھو سیٹھا مشکل سانہ خپڑہ۔ فرمودہ بچہ کیاہ تہہ تہہ ونوہ تی یہ یہودو تہہ نصاروون پنہ نین  
 پیغمبرن سمعنا وعصینا تہہ مانو، تہہ کمر و تسلیم خدایہ سُنْدُ کُم تہہ دپو سمعنا واطعنا بوزاسہ مون  
 اسہ۔ اللہ تعالیٰ کرہ توبہ پیٹھہ رحم۔ چنانچہ امیک نتیجہ دراول اللہ تعالیٰ ان کمر نبی کرسم صلی اللہ علیہ  
 وسلم سیت باایمان ہند تعریف فرموون اَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ  
 پیغمبر برحق کمر پڑہ تھہ ساری یہ نازل آوکمر نہ تہن پیٹھہ تہندس پروردگار سندنہ طرفہ بیہ کمر پڑہ تھہ  
 باایمانو کُلُّ اَمَّنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ پریتھہ اک اون ایمان کُنس خدایس بیہ تہندین  
 ملائکن۔ بیہ تہنزن کتابن بیہ تہندین پیغمبرن سارنی تہودو پ لَا فَرْقَ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ اَس جھنہ  
 فرق کران پیغمبر و آندرہ کانسہ اَس منز۔ اسہ نش چھہ ساری پیغمبر برحق۔ تم حضرت آدمس علیہ الصلوٰۃ  
 والسلام پیٹھہ حضرت محمدس صلی اللہ علیہ وسلم تان آس سوزنہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا بیہ  
 وون باایمانو بوزاسہ مون اسہ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ وون چھہ تہانڈان اس چون مغفرت  
 ای سانہ پروردگادہ چولا کہ چھو و اُن تہہ نش لَا يَكْفُرُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعًا عبادتک تکلیف چھونہ  
 اللہ تعالیٰ ووان کانسہ اَس مگر تہندہ طاقتہ موجب لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ پرت اَس چھو  
 ثواب تہہ کوی یہ تم کموومت تہہ حاصل کورومت اسہ نیکیو اندرہ بیہ چھو پریتھہ اَس تہہ کوی عذاب تہہ

تَوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا  
 إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا  
 مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ  
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۸۹﴾

سزا یہ تم گرمّت اسمہ بدیو آندرہ رَبَّنَا لَا تَوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ای سانہ پروردگارہ رطہ متہ  
 اسمہ ہرگاہ اسمہ کینہہ مشت گویا خطا گو رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ای  
 سانہ پروردگارہ بیہ متہ کھارتہ اسمہ پیٹھہ عبادتک سو بورئس بورکھور تھہ ژہیہ تمن لو کن پیٹھہ سم اسمہ  
 بروٹھہ آس رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ای سانہ پروردگارہ بیہ مہ تلتنا واسمہ سو بور سمک تلتک  
 اسمہ طاقتھہ چھوندہ۔ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا بیہ کر عفو اسمہ۔ بیہ کر مغفرت اسمہ۔ بیہ کر اسمہ  
 پیٹھہ رحم أَنْتَ مَوْلَانَا ژہی چھو کہ سون مولانہ آغہ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ پس کر ژہ  
 اسمہ یاری تہ مدد کافرن پیٹھہ حدیث شریف من چھو آمت یلہ سم آیات کریمہ نازل سپد تو پتہ پتر  
 حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سم آیات اللہ تعالیٰ ان فرما و کہ اگس اگس دعاء س پتہ ادہ  
 ہز۔ یعنی اجابت کو زم اسمہ اسمہ چھندین سارنی مطالباتن



## سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ  
 بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝  
 مِنْ قَبْلِ هُدَىٰ لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

اللَّهُ خدایہ سی چھو معلوم امہ اندرہ کیاہ مراد چھو اللہ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اللہ تعالیٰ چھو معبود برحق۔ کانہہ معبوداہ چھونہ تس وراى۔ سؤى چھو زندہ مر نہ نپہ منزہ تہ پاک۔ سؤى چھو سارنى زندان زندگى عطا کر ہون۔ پانہ چھو قائم بذات خود۔ سؤى چھو سارنى چیزان قائم تھاوہون۔ سؤى چھو ازلا وابدأ موجود۔ تس ورائى تم چھہ تم سارى چھہ پنہ نس وجودس اندر۔ پنہ وجودہ کس حفاظت تہ را چھہ کر نس اندر۔ تس کن محتاج۔ لہذا چھونہ کانہہ اکھاہ عبادتس سزاوار تس ورائى۔ عبادت گنیہ عاجزى تہ پستى نر اون۔ یہ شو بہ تمس برو نٹھ کنہ نر اون نس سیٹھاہ بے حدود بے نہایت عزت تہ بجز آسہ۔ نس نہ حیات وبقاءس منز کانہہ کن محتاج آسہ۔ سو چھونہ کانہہ تہ تس کنس خدا نس وراى۔ اتھہ کن نظر کر تھہ شو بہ نہ بندن ہنز کانہہ برو نٹھ کنہ عاجزى و پستى نر اون تس عزت و عظمتہ والس خدا نس وراى نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ تمى کر توبہ پیٹھہ بیہ نازل بیہ بڈ کتاب پڑیاٹھہ یارسول اللہ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ چھہ حالتس اندر کہ یہ کتاب چھہ تصدیق کران کن سارنى کتابن سمہ امہ برو نٹھ نازل کرنہ آسہ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ \* مِنْ قَبْلِ بیہ کورتى نازل تورایت تہ انجیل امہ برو نٹھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہس پیٹھہ تورایت حضرت عیسیٰ روح اللہ ہس پیٹھہ انجیل هُدَىٰ لِلنَّاسِ سمہ دوشوے کتابہ آسہ لو کن ہندہ خیطرہ بوڈہایت وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ بیہ کرہ تمى نازل حضرت انبیاءن پیٹھہ تمہ کتابہ تہ تم معجزات سموسیت ہمزس تہ ہمزس فرق سپز۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ بیشک تم لو کہ انکار چھہ کران خدایہ سندین کن آیاتن تم تہندس وحدانیتس پیٹھہ دلالت چھہ کران لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝  
 هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَهَ إِلَّا  
 هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ  
 آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَبِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ

تہمدی خیطرہ چھو سخت عذاب وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ اللہ تعالیٰ چھو غلبہ وول تہ قدر تہ وول بدلہ تہ انتقام بینہ وول إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ بیٹک اللہ تعالیٰ آس نش چھونہ کانہہ چیزہ کھٹھ نہ زمین تہ نہ آسمان اندر لہذا چھو تمسند علم نہایت کامل هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ سوگو سؤی قدر تہ وول نس ماجن ہندن شسمن اندر، چیرہ دانین اندر چھو توہمہ سارنی شکل و صورتہ عطا کران۔ ہتھہ پاتھہ سؤی شھان چھو آس اکھ صورت بیس بیاکھ صورت۔ ساری اعضاء ہتھہ آہہ نس۔ آس۔ ڈیکہ ہو گن۔ سارنی برابر مگر باوجود آل چھونہ کانہہ کانہہ بیو۔ امہ اندرہ ہتھہ ننان تہنز کمال قدرت پس سہڈ ثابت کہ حیات کاملہ تہ تمس بیوت قیومیت تہ تمس بیوت۔ علم کامل تہ تمس بیوت۔ قدرت کاملہ تہ تمس بیوت۔ تم گئے اصول صفات۔ تم ساری ہتھہ موجود تس ذات پاکس اندر بدرجاتم بغایت کمال کانہہ ہمدہ شرکتہ ورائی۔ امی سیت سہڈ ثابت کہ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ کانہہ اکھاہ چھونہ عبادتس لایق معبود آس سزوارتس ورائی الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سؤی چھو غالب توحیدہ کین مخرن ہیحہ سؤی انتقام ہتھہ جمتہ وول تہ چھو۔ تہ گو سیتی چھونہ مخرن عذابس گر قار کران۔ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ سوگو سؤی یم نازل کتر توہمہ پوٹھہ یار سؤل اللہ تہ بد کتاب قرآن مجید ومنہ ایٹک مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ تمہ منزہ ہتھہ کینہہ آیات مضبوط تہ محکم پنہ نین معنیں پوٹھہ صاف تہ واضح تمیں پوٹھہ احکامن ہند دار و مدار چھو وَأُخْرُ مُتَشَبِهَاتٌ بیہ ہتھہ کینہہ آیات امہ کتابہ ہند یکن ہندین معنیں ہتھہ چھو بین لفظن ہندین معنیں سیت یکن آیاتن ہند معنی پر ہتھہ آس معلوم چھونہ فَأَمَّا الَّذِينَ

فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ  
 الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ مَرَو  
 الرِّسَخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ امْتَابِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا  
 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ④ رَبَّنَا لَا تَزِرْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ  
 هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ⑤

فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ہس سمن لوکن ہندین ولن اندر ہجر تہ وٹھ چھو فیتبعون ماتشابہ منہ تم  
 چھہ تی بدیتی تہ ہجرہ موکھہ پتہ لگان تمنی آیاتن سمن ہندہ معنی وضاحت چھہ آسان ابیتغاء  
 الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فنہ تہ فساد تلکچہ غرضہ بیہ پتہ طرفہ غلط معنی کر چھہ غرضہ ہتھہ لوکن اندر  
 شک تہ شہادت پادہ سپدن تم ڈلن راہ راستہ نشہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ حالانچہ تمن آیاتن ہند  
 صحیح معنی چھونہ زانان کانہہ تہ اللہ تعالیٰ اس ورائے وَالرِّسَخُونَ فِي الْعِلْمِ توے سمن گائل تہ پختہ کار  
 عالم چھہ يَقُولُونَ امْتَابِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا تم چھہ ونان اسہ اُون ایمان سمن تشابہ آیاتن ساری  
 آیات محکم تہ تہ تشابہ تہ چھہ سانس پروردگارہ سندی طرفہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ نصیح تھہ سکران  
 نہ قبول مگر عقلہ والی۔ تم عقلہ والی چھنہ اتھہ پنہ نس صحیح طریقہ پٹھہ آئیس پٹھہ تھہ کان تہ تہ یگان  
 بلکہ چھہ تم خدلیہ سنزے مہربانی تہ نعمت زانتھہ تس بعا جزئی منگان رَبَّنَا لَا تَزِرْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا  
 ای سانہ پروردگارہ بل متہ کر چھہ ڈالتھہ متہ دل سان اسہ ہدایت کرنہ پتہ۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ  
 رَحْمَةً عطا کر تہ اسہ ہن ہڈر حمت۔ سور حمت گیہ بیجہ اسہ تھہ تہ قائم تہ محکم راہ راستس پیٹھہ إِنَّكَ  
 أَنْتَ الْوَهَّابُ پز پٹھہ تھی چھہ سیٹھہ عطا کرہ ون۔ بڈر حمت عطا کرہ ون رَبَّنَا اے سانہ پروردگارہ  
 آس چھنہ بیہ دُعا منگان ہندہ دنیوی غرضہ خیطرہ بلکہ چھہ آس بیہ دُعا کران محض چانہ آخر چھہ عدلیہ نشہ  
 چنہ خیطرہ کیا زہ اسہ چھہ پڑھہ۔ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ بیشک تھی چھہ سونہرہ ون  
 ساری لوکن محشر کس مید اس اندر تمہہ دوہنہ بیمہ دوہنہ کس یس منز کانہہ شک تہ خبہ چھونہ۔ کیا زہ تھیہ



رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ أَرَى فِيهِ أَنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ  
 الْمِيعَادَ ۙ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا  
 أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۙ كَذَّابِ  
 إِلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ  
 اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۙ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
 سَعْلَبُونَ وَنُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ۙ قَدْ كَانَ

جھنت تمہ دوہمہ تک پاند وعدہ فرمودت إِنَّ اللَّهَ لَكُلِّفُ الْمِيعَادَ پڑاٹھہ اللہ تعالیٰ جھونہ ہرگز پنے  
 نس وعدس خلاف کران إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا بِیٹک  
 سمولو کوٹھر تہ انکار کور ہرگز بھکتہ تمن نفع تہ فاندہ واتنا و تھ نہ جھند مال و دولت نہ جھند اولاد دخد ایٹس نشہ  
 گنہ چیزک وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ بیہ آسن تھے یہند ہ سیت نار جنم تاونہ بیہ جھوند حال جھو کذاب  
 إِلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فرعونی لوکن تہ بیہ تمن کافرن ہند ہیو حال سم بروٹھ آس کَذَّبُوا  
 بِآيَاتِنَا تموتہ کیازان اپڑ سان آیات توے کٹر کھ نافرمانی فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ پس کٹر تم گرفتار  
 عذابس اللہ تعالیٰ ان پنے نین گنہن تہ نافرمانین ہندہ سنبہ۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ تعالیٰ جھو سخت  
 عذاب کرہون سخت سزاوہون قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْلَبُونَ وَنُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْبِهَادُ  
 فرماو وٹھہ یارسول اللہ ﷺ بمن کافرن ای کافر وٹھہ سپد و جلدی مغلوب مسلمان ہندہ اتھہ دنیا س اندر تو  
 پتہ بیو سو نبرت و اتناوند نار جھنم۔ سوچھہ سیٹھاہ پچھہ جایا ہندہ ہ ٹھرنہ خیطرہ۔ ہتھہ منز قرارہ بدل  
 سخت بیقراری آسہ تومہ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتَيْهِ التَّقَاتَا تقیق اوس ہندہ خیطرہ بوڈ مومہ تہ  
 عبرت حاصل کر تک نشانہ تمن دون جماعتن ہندس مقابلہ کرنس منز ہم میل کھہ آس سیت جنگ  
 بدرس منز فِتْنَةٌ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کھ جماعت آس جماد کران خدا یہ سنبہ خیطرہ یعنی حضرت محمد  
 صلی اللہ علیہ وسلم سز لشکر۔ تم آس تریہ ہتھہ تہ ترواہ (۳۱۳) صاحب۔ مہاجر و اندرہ ستہ ستھہ

لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ التَّكَاثُفَةِ تَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى  
كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ  
مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾ زَيْنَ  
لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ  
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

(۷۷) انصار و اندرہ زہ ہتھ تہ شہ ترہ (۲۳۶) صاحب۔ سیت آسکھ زہ ۲ گمر۔ ستھ ۷۰ و و نھ۔  
آھ ۸ شمیرہ۔ شہ ۶ زہ۔ و اُخری کافرہ بیاکھ جماعت آس خدا نئس انکار تہ گفر کرہ و ن ابو جملہ  
سز لشکر تم آس نوشتھ تہ پنواہ ۹۵۰ زن تمن سیت آس آھ ہتھ گمر۔ ستھ ہتھ و و نٹ یرو نھ  
و مثلیھم رأی العین مسلمان آس و چھان کافر ن پانس دو گن وارہ کارہ آچھو سیت۔ باوجود آل آس  
قوت ایمانی سببہ تمن سیت مقابلہ کرنہ خیطرہ تیار۔ تھند حوصلہ آس بلند سپدان۔ نتہ گو معنی کہ کافر  
آس و چھان مسلمان پنہ خوتہ دو گن۔ تھند حوصلہ آس پرت سپدان یکنے گنیہ یاری خدا و اللہ یوید  
بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ اللہ تعالیٰ چھو یاری تہ مدد کران نئس یڑھان چھو تس۔ ستھ پانھہ یڑھان چھو تھ  
پانھہ۔ ان فی ذلک لعیبرۃ لاولی الابصار۔ پڑپانھہ ستھ جنگ بدرہ کس و اقص اندر چھہ بدعبرت  
گاشدارن ہندہ خیطرہ زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب  
والفضة والخيال المسومة والاعنام والحوت زینت آودنہ لوگن ہندہ خیطرہ نفسن خواہشاتن ہندس  
نبتس۔ مثلاً زنانہ۔ گمر۔ گمر۔ بیہ سوئمر مت واریاہ مال۔ سون تہ روچھہ۔ بیہ نشانہ دار گمر۔ بیہ چار وای۔  
و و نٹ۔ گمن تہ تیر۔ بیہ زراعت۔ ذلک متاع الحیوۃ الدنیا بیہ سو روی چھو دنیا چہ ناپائیدار زندگی  
ہند آھ سامانہ۔ نہ دنیا س اعتبار نہ اتھہ سامانس کینہہ اعتبار و اللہ عندہ حسن الالب اللہ تعالیٰ سی  
نش چھہ جای رتھ واپسی ہنز قُلْ اُوْتِيتُكُمْ بِغَيْرِ مَن ذَلِكُمْ فرما دیو کھہ تہہ یارسول اللہ کیاہ بو کروہ توہہ

الْبَابِ ۱۴ قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۱۵  
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْتًا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۱۶ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ  
وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۱۷ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ

خبر تمجید یہ سمو ساروی چیز و خوتہ سیٹھاہ بہتر تہ افضل جھو للذین اتقوا عند ربهم جدت تجری من تحتها الأنهار سیم لوکھ خدائس کھوژن تھمدہ خیطرہ جھتھ تھمدس پروردگار س نیش تم تم باغ سمو منز جو یہ پکان جھتھ۔ خلدین فیہا تمنی باغن منز جھو تمن روزن تہ بسن ہمیشہ ابد الابد و ازواج مطہرہ تہ جھتھ تھمدی خیطرہ تمن باغن اندر پاک و پاکیزہ زنانہ سمہ پاک و صاف آسن حیضہ نشہ، نفاسہ نشہ بیہ ساروی آلائیشو تہ گندہ گو نشہ و رضوان من اللہ بیہ جھو تھمدی خیطرہ رضای خدا یوسہ ساروی نعمتو اندرہ بذنعت جھتھ و اللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ جھو وارہ و چھان بدن ہند حال۔ پر تھتھ آس دیہ جزا ہند ہند کامہ ہند الذین یقولون ربنا اننا امتا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار تم متقی۔ ہندہ خیطرہ سمہ مہربانی تہ انعامات جھتھ۔ تھمد صفت جھتھ سیم۔ تم جھتھ عاجزی سان مگان آسان کہ سانہ پروردگارہ بیشک اسہ اون ایمان۔ وون کر تہ سائین گنہن مغفرت۔ بیہ رحمتہ اسہ نار کہ عذابہ نشہ۔ بیہ جھتھ تھمد صفت الصابرين و الصادقين و القانتين و المنفقين و المستغفرين بالاسحار تم جھتھ صبر کرہ وون بیہ جھتھ تم پوزونہ وون۔ بیہ جھتھ تم فرمانبرداری کرہ وون بیہ جھتھ تم رژن کا میں اندر مال پٹن خرچ کرہ وون خدایہ سدہ رضا خیطرہ۔ بیہ جھتھ تم گنہن مغفرت تہ بخشائیش مجھ وون سحرہ کین و قن اندر پاس آخرس۔ کیا زہ تمہ وقتہ جھتھ دعا قبول سپدنج زیادہ امید شہد اللہ انہ لآلہ الہامو گواہی جھتھ دژ مر اللہ تعالیٰ ان برو تھنیں ستابن اندر اچھی کہ کانہ معبوداہ جھونہ تس ذات پاکس وراہی

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْبَلِيَّةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۱۸ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ  
الإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ  
مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ  
فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۱۹ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ  
وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

وَالْبَلِيَّةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ بے جھہ ڈر مژگواہی ایچ ملا نکو پنے نین اڈکارو اور اودن اندر، تہمز ذکر جھہ  
تسبیحات و تحمیدات و تہلیلات۔ بے جھہ ڈر مژگواہی ایچ علم و الیو پنے نین تقریر اتن و تحریر اتن و بیاناتن  
اندر قَائِمًا بِالْقِسْطِ در حالیتہ سُو معبود بر حق جھو قائم تھاوت پریتھہ چیزک نظام اعتمد الہ سان۔  
تھی جھو مکر و نہ یوان لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کانہہ معبوداہ جھونہ تس و رای سُو جھہ غلبہ دول تہ حمتہ  
دول۔ کیا زہ بے جھہ تمنزی کام بے نہ کانہہ ہنز ان الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلَامُ بیشک پوز دین تہ  
مقبول دین جھو اللہ تعالیٰ اَس رُغِبَ صرف دین اسلام وَا مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ  
مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ اختلاف گور نہ بہو دو تہ نصاروا اسلامس دین حق آسس اندر مگر تمن رُغِبَ لِمہ تھہ  
ہند پور علم و اتنہ پتہ۔ یعنی یہ اختلاف کور تمو خبر آستھہ دیدہ و دانستہ زانتھہ کر تھہ بَغْيًا بَيْنَهُمْ سُو  
اختلاف کور زک حسدہ کن تہ عنادہ کن نِس تمن منز آستھی اوس وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ  
الْحِسَابِ وون نِس انکار کرہ پروردگارہ سندین آیاتن یعنی قرآن مجیدس تہ معجزاتن جھہ پاتھہ تَمُو  
یہود و کور پس اللہ تعالیٰ جھو تمن جلد حساب ہیوہ وون تس لجنہ زیادہ وقت تمن حساب ہمیں اندر۔ حسابہ  
پتے گو تہ بندہ خیطرہ سخت عذاب فَإِنْ حَاجُّوكَ وون ہر گاہ توبہہ سیت یار رسول اللہ سیم لوک بحث لاگن  
فَقُلْ تہہ فرما دیو کہ اَسَلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ مہیہ کور ہن رخ کُنس خدا نِس کن بے تمو ساروی  
سیم مہیہ پتہ پتہ پکان جھہ میان متابعت کران جھہ تہہ مانو تیا متہ مانو وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

وَالْأَمِّينَ ۚ أَسَلِمْتُمْ فَأَنْ أَسَلِمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ  
تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۗ وَاللَّهُ بِصِيْرٍ بِالْعِبَادِ ۙ إِنَّ  
الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بَغْيٍ  
حَقِّ ۙ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۙ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ  
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۙ وَمَالَهُمْ مِنْ نُصْرِينَ ۙ

وَالْأَمِّينَ توپتے فرماؤ جنہمبے یسودن نصراءن بے عریکن مشرکن تیم آن ہرہ چھہ ءء اسلمتم کیاہ  
تہہ چھوہ اسلام قبول کران۔ یعنی تہہ کر تو اسلام قبول۔ تھہ اندر آس تہندہ حقہ بہتری ۙ فَإِنْ أَسَلِمُوا  
فَقَدِ اهْتَدَوْا ہر گاہ تموا اسلام قبول کور تلہ لب تموسنر وتھہ وَإِنْ تَوَلَّوْا ہر گاہ اسلام قبول کرنے  
نشہ تموتھہ بھڑ۔ تہہ مہ بر و تمیک کانہہ پروا ۙ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۙ توہہ اوس نہ منہ مگر پیغام و  
انتاون۔ تہہ واتوووہ توہہ پورہ پاٹھہ وَاللَّهُ بِصِيْرٍ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ چھووارہ و چھان بدن ہند حال۔  
سو پر تھہ پائے نافرمان۔ کیاہ کور تموا ان الذین ی کفروون ی آیت اللہ تیم لوکھہ انکار کران چھہ خدایہ  
سندین آیاتن مثلاً۔ یہود تم چھنہ مانان انجیلس تہ قرآن مجیدس ۙ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بَغْيٍ حَقِّ بے چھہ قتل  
کران پیغمبرن ناحق۔ ۙ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ بے چھہ قتل کران تمہن  
لوکن تیم تمہن امر چھہ کران انصاف کر تک۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تمہن ونبو بشارت کڈرہ عذاب۔  
مروی چھو از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلو کمر شہید صھس تہہ تاجہ ۴۳ پیغمبر۔ توپتہ کر مے  
یکھہ فہمایش نیک لو کو اندرہ اکھہ ہت تہ ستہ توزینو۔ تہی دوہہ شامس تان کر کہہ تم تہہ شہید۔ تہنزی ذکر  
چھو اللہ تعالیٰ فرماوان تھہ آئیہ کر تمس اندر ۙ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
تہہ لوکھہ گے تم بہنہزہ عملہ ضائع کیندہ دیاعس اندرتہ تہ آخرتس اندرتہ۔ وَمَالَهُمْ مِنْ نُصْرِينَ بے  
آئیہ نہ تمہن کانہہ مدد گارہ سزا کہ وقتہ ۙ اَللّٰهُ تَرٰ اِلٰی الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ آیا چھان چھوہ تا تمہن

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ  
 اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۳۳﴾  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّبَهُمْ  
 فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۳۴﴾ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا  
 رَيْبَ فِيهِ تَتَّوَفَّيْتُمْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۵﴾  
 قُلِ اللَّهُمَّ لِيكِ الْمُلْكِ تُوَفِّي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعِ الْمُلْكَ

لو کن کن یمن اکھ کافی حصہ چھو آمت دنہ تور اتک۔ اگر تم ہدایت ژھانڈہ ون آسن سوی حصہ اوس  
 تہدہ حقہ کافی۔ یُدْعَوْنَ اِلَى الْكِتَابِ لِلَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ناد چھو یوان دنہ تمن خدایہ سزہ تھہ کتابہ کن یوسہ  
 تمنی نشہ چھہ بٹھہ تمنی سیت تمن منزہ ہی اختلاک فیصلہ ایہ ہا کرنہ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ  
 مُّعْرِضُونَ تو پتہ چھہ تمہ نشہ ژلان تہ روگردانی کران تمواندرہ اکھ جماعت۔ بیہ چھہ تم بٹھہ پھران  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ یہ اعتراض کرن چھہ چھو تمی موکھہ تمن چھو پتہ  
 جایہ اکھ خیالہ کہ تمن زالہ نہ نار جنم مگر کیندن دوہن۔ تو پتہ ہنہ تمن مغفرت۔ نارہ نشہ یمن کڈنہ۔ یہ  
 چھو چھہ باطل اعتقاد۔ اتھہ پیٹھہ چھنہ تمن نشہ دلیلہا کانہہ تہ وَغَرَّبَهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تم چھہ  
 دینہ کس حقس منز دھو کس منز تراومت پتہ نیو کتھو ییمہ تمبو پانے ٹھہراوہ مرہ چھہ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ  
 لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ پس کیسا حال آسہ ٹھہر یلہ آس تم سو نبر اوکھہ تمہ دوہنہ سمہ دوہنہ تہن پٹشی بیہ احکم  
 الجائیس نشہ کرنہ۔ سمہ دوہنہ کس پٹش منز نہ کانہہ شیکھاہ تہ شہماہ چھو۔ وَوَفَّيْتُمْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ  
 هُمْ لَا يُظْلَمُونَ بیہ بیہ تمی دوہنہ پر بٹھہ اگس پتہ کر تو تک پورہ پورہ بدلہ دنہ۔ کانہہ نسبت بیہ نہ کتہ  
 قسمگ ظلم کرنہ۔ ہی وومت آسکھہ تی لون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رچ مکہ پتہ مسلمانن روم تہ  
 فارس فتح سپد تک وعدہ۔ منافق تہ بہود لگ اتھہ پیٹھہ ٹھٹھہ تہ استہزاکرنہ۔ اتی سپد نازل یہ آیہ کریم  
 قُلِ اللَّهُمَّ لِيكِ الْمُلْكِ تُوَفِّي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا ایسویہ دعامنگان۔ یا

مِمَّنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّمَنْ تَشَاءُ وَتُدَالُ مَنْ تَشَاءُ بِبَيْدِكَ الْخَيْرُ  
 إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۶﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ  
 فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ  
 وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ  
 الْكُفْرَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ  
 ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا

اللہ ہی چھوک ساری ملک مالک۔ عطا چھو کہہ کر ان ہی ملک بس یرشان چھو کہہ و تَنْزِجُ الْمَلِكُ  
 وَمِمَّنْ تَشَاءُ اتمہ چھو کہہ ہیوان ملک بس نشہ۔ یرشان چھو کہہ و تَعِزُّمَنْ تَشَاءُ مَنْ تَشَاءُ بِبَيْدِكَ الْخَيْرُ  
 عزت دوان تس بس یرشان چھو کہہ۔ یہ چھو کہہ ذلیل کران سو بس یرشان چھو کہہ بیدار کھیر ہی  
 اتمہ چھو سوزی خیر إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیشک ہی چھو کہہ پر ہتھ چیزس بیٹھ قدرتہ دول تُولِجُ  
 اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ داخل چھو کہہ کران راتہ دو بس منز۔ یہ چھو کہہ دوہ داخل  
 کران راتس منز یعنی مختلف موسمن اندر۔ رات ہند وقت کم کرتھ دوہ بڑاوان۔ ذہک وقت کم کرت  
 رات بڑاوان۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ یہ چھو کہہ ہی چھو کہہ ہی جاندار کڈان بے جانس نشہ۔ پوت ٹھولہ  
 منزہ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ یہ چھو کہہ ہی بے جان کڈان جاندارس نشہ۔ ٹھول جانورس نشہ  
 وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ یہ چھو کہہ ہی رزق عطا کران بس یرشان چھو کہہ نہ تس حسابہ وراى  
 اسبابہ ذریعہ وراى لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مہ بناون نہ مہ تھاوان  
 باایمان کافرن پن دوست۔ باایمان مسلمان تراوتھہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ  
 بس اکھاہ یرشہ کام کرہ بس چھو کہہ تس خدا بس سیت کانہہ تعلقا ہنہ چیزس اندر یعنی خدایہ سندین دشمن  
 سیت ہم دوستی لاج سوشوہ نہ خدایہ سند دوست۔ تس ژھیون خدایہ سزہ دوستی ہند تعلق إِلَّا أَنْ  
 تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتُوا مگرے تم ہندہ شرہ نشہ چھو کہہ خطرہ ظاہر داری سان چھو کہہ یہ و يُحِذُّكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ

وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ طَوَّالِي اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۳۸﴾ قُلْ إِنْ  
تُخَفُّوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوْهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا  
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۹﴾  
يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا لَهَا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ  
سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا أَبْعَدًا أَوْ يُحْذَرُكُمْ اللَّهُ  
نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۴۰﴾ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

اللہ تعالیٰ چھو توہمہ پنہنذات پاکہ نشہ کھوژہ ناوان یعنی پنہن بیزاری تہ غضبہ نشہ۔ تمہس کھوژہ تہنزمہ کمر  
دنا فرمانی ورا لی اللہ المصیر اللہ تعالیٰ سی نشہ چھو پریتھہ کانسہ پتولا کہ واتن۔ آخر سوکمرہ ہتھ سپدہ  
تس نش پیش۔ قُلْ إِنْ تُخَفُّوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوْهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ تہہ فرماوئو کہ یارسول اللہ ہر گاہ  
تہہ پوشیدہ تھا و تمہہ کتھہ سمہ تہندین دلن اندر چھہ یانزا ووبہر حال تمہہ سارے چھہ اللہ تعالیٰ اس  
معلوم و یعلم ما فی السموات و ما فی الارض یہ چھو تس معلوم تہہ سوڑی۔ یہ آسان اندر چھو۔ یہ  
زمینس اندر چھو واللہ علی کل شیء قدير یہ چھو اللہ تعالیٰ پریتھہ چیزس پیٹھہ قدر تہہ وول یوم تجد کل  
نفس ما عملت من خیر محضرا لہا و ما عملت من سوء یہ چھو خدا لیس نشہ واتن تمہہ دوہہ سمہ دوہہ  
لبہ پریتھہ شخصہ تہہ سوڑی یہ تم کورمت آسہ خیر چو کامیواندرہ پانس بروٹھ کنہہ یہ تہہ سوڑی یہ تم  
کورمت آسہ چھہ کامیواندرہ تھہ تہہ لبہ پانس بروٹھ کنہہ تودلوان بینہا و بینہا امدًا ابعدًا تمنا کرہ  
ہر گاہے میہ منزہ تہہ ہتھہ قیاس منز آسہماز پیٹھہ زیوٹھہ وقاہ۔ یہ تمنا کرہ سو شخص لیس نیکیہ تہہ وچھہ تہہ  
بدیہ تہہ وچھہ۔ وون لیس بدیے بدیہ آسن سو کوتاہ افسوس تہہ غم آسہ کھیوان و یحذرکم اللہ نفسہ  
یہ چھو اللہ تعالیٰ توہمہ کھوژہ ناوان پانس نشہ یعنی پنہن بیزاری نشہ۔ واللہ رءوف بالعباد یہ چھو اللہ  
تعالیٰ مہربان پنہن نین بدن پیٹھہ۔ کھوژہ ناوان تہند تہہ چھہ بڈ مہربانی۔ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي  
یحببکم اللہ فرماوئو کہ تہہ یارسول اللہ خدایہ سہہ محبتک دعویٰ دوہہ وین کہ ہر گاہ توہمہ خدا ٹوٹھہ چھوہ



يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۱﴾ قُلْ  
 أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿۳۲﴾  
 إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرٰهِيمَ وَآلَ عِمْرٰنَ عَلَى  
 الْعٰلَمِينَ ﴿۳۳﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۴﴾  
 إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي  
 مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا

تلقہ کرو میان متابعت۔ تمہے سیت ہو خدایہ سبب محبوب و یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم یہ کلمہ  
 مغفرت تہندین گنہگار۔ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون میانین تابعداران  
 قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فرما دیو کھہ فرمانبرداری کرو خدایہ سزیمہہ تہندیس پننمبرہ سزہ۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا  
 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ پس ہر گاہ تم مجھہ پھرن اطاعت قبول کرن نہ پس اللہ تعالیٰ اس چھہ  
 ناٹھہ کافر تہ مکر بندہ۔ تھین بدن پیٹھہ چھو اللہ تعالیٰ بیزار إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرٰهِيمَ  
 وَآلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِينَ پزپاٹھہ اللہ تعالیٰ ان کور حضرت آدم بہہ حضرت نوح بہہ خاندان حضرت  
 ابراہیم تہ خاندان حضرت عمران برگزیدہ سارنی عالمین پیٹھہ ذُرِّيَّةً بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ سم کہہ  
 اسند اولاد چھہ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو سوری یوازن۔ سوری زانان۔ تس چھہ خبر کوہ کھہ  
 قابل چھو إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرٰنَ یلہ حضرت عمرانہ سند یو باژو دوپ سمن ناواوس حنہ رَبِّ إِنِّي  
 نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا اے میانہ پروردگارہ بہ چھس نذر تھوان چانہ خیرہ یہ میانس ششکس  
 منز اولاد چھو۔ آزاد گزھہ روزن سود نیا چوکا میونعہ چانہ عبادتہ خیرہ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ  
 الْعَلِيمُ پس کرن قبول تہ میانہ طرفہ پزپاٹھہ شی چھو کھہ سوری بوزہ ون سوری زانہ ون۔ فَلَمَّا  
 وَضَعَتْهَا پس یلہ تس زایہ کور قَالَتِ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ دین پروردگارامہ اس امیدہ زیو پیٹھو۔  
 سوی تھاون بو محض چانہ عبادتہ خیرہ بیت المقدسہ کہ خدمتہ خیرہ آزاد۔ مگر میہ زایہ کور وَاللَّهُ

قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۗ وَ  
لَیْسَ الذَّکُوْرَکَ اِلَّا اُنْثٰی ۗ وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ ۗ وَاِنِّیْ اَعِیْنُهَا  
بِکَ وَذَرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ﴿۱۶۶﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ  
حَسَنٍ ۙ وَاَبْتَدَاهَا نَبَاً حَسَنًا ۙ وَكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا ۙ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا

اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ اسنڊه اظهاره وراى آس اللہ تعالیٰ اس خبرى اس كياه زاول مگرام كور اظهار ندامت  
پنه طرفه وَلَيْسَ الذَّكُوْرَكَ اِلَّا اُنْثٰی بيه پنچو جهنڊه كوره هيو۔ سو چئو آسان قوت وول نه مشقت  
برداشت كرن وول وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ بیشك ميه كور اس كوره ناو مریم یعنی عابده  
وَاِنِّیْ اَعِیْنُهَا بِکَ وَذَرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ وون چئس بوتها وان سو بيه تمسز ذریت یله  
سوا مس ٿه عطا كره كه چانس پنهنس منز۔ مردود شیطان سنڊه شره نشه فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ پس كره  
قبول سو اللہ تعالیٰ ان چئو سنڊه خونه زیاده رت پاڻه۔ وَاَبْتَدَاهَا نَبَاً حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِیَّا اللہ تعالیٰ ان  
دیت اس رت تھدن پائے ته بڙن پائے به آس ونه ماجه هندس شمسكى اندر ته حضرت عمران گو سمه  
عالمه۔ امه پته یله به زلیه۔ آسنز والده حضرت حنه آیه بیت المقدسه کین خاد من نشه۔ دو پنجه ریون  
به میان گور یوسه مه بیت المقدسه كه خدمته خیطره نذر تها و مژجه۔ یکن خاد من پيو اختلاف پرجه  
اک كره خواهش بوی ته بوی رشن به كور پنڊه نگرانی اندر۔ حضرت ذکریا علیه السلام ته اوس یوی اندره  
آهه خاد من بیت المقدسك تمو ڏو پ به گور روزه مه نش كیا زه بو چئوس اسنڊه ماسو۔ آسنز ماس جهه میانس  
عقد نكاحس اندر۔ بهر حال اختلاف رفع كرنه خیطره تراوه تمو چیره۔ چیره تراونچ طریق آس تمن دو هن  
به كه قلم آس تراوان دریاوس اندر۔ سمند قلم آس پيڻه ایستاده روزه به۔ هیورگن پچه هاتمنڊه حقه اوس  
فیصله سپان۔ چنانچه تمو خاد مونه تراونهر آروس اندر پن قلم۔ تموانڊه رُود حضرت ذکریا سنڊ قلم  
ایستاده۔ هیورگن لوگ پچنه۔ پس آیه تمنی به حضرت مریم سپر دكرنه تمو بنووا كه بالا خانه۔ تته منز تها  
وهه به حضرت مریم۔ تته بالا خانس آس تم هیر لاگان۔ تی هیر ه پيڻه آس تمن نشه ڪنه ڪنه یوان۔ تمه پته

ذَكَرِيَّا الْبُحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَ هَارِيزَ قَا قَالَ يَمْرِي اُنِي لِكِ هَذَا  
 قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾  
 هُنَالِكَ دَعَا ذَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً  
 طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۳۸﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ  
 يُصَلِّي فِي الْبُحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ مُّصَدِّقًا لِّكَلِمَةٍ

آس سوہیر تلان۔ پانس سیت نو ان سے قفلس تل بند کرتھ تھاوان۔ کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْبُحْرَابَ  
 وَجَدَ عِنْدَ هَارِيزَ قَا يِلَه يِلَه حضرت ذكريا آس يوان تمن نشہ اتھ بالاخانس منز لبان آس تمن نشہ  
 عجيب وغريب رزقہ۔ وندک ميوه ريتہ کالس منز۔ ريتہ کالک ميوه وندس منز قَالَ يَمْرِي اُنِي لِكِ هَذَا  
 پر ژهان آسکھ اے مرتم مہ وراي چھونہ يوت ژيہ نش کانہ يوان تمم چيز کيہ چھکھ ژہ انان قَالَتْ هُوَ  
 مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ دپان آس سويہ چھو خدليہ سدہ طرفہ واتان۔ پزپاٹ  
 خدا چھورزق سوزان نيس يژهان چھو تس حسابہ روستوي اسبابوتہ ذر ليو وراي۔ يہ بوزتھ سپز عجيب  
 کيفياہ پيدہ حضرت ذكريا آس۔ تمن اوس نہ اولاد نيہہ بجز کمہ سببہ پنہ نين باژن ہندہ ہانٹھ آسنہ سببہ آس  
 اولادہ نشہ سپدمت مائوس۔ مگر حضرت مریمہ سندیہ کلام بوزنہ سیت سپز کھہ اکھ امیدہ پيدہ۔ اتی کوزکھ  
 اتھ محر ايس۔ اتھ بالاخانس منز خدا نيس گن رجوع تی چھو فرماوان اللہ تعالیٰ هُنَالِكَ دَعَا ذَكَرِيَّا رَبَّهُ  
 قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ امی وقتہ اتھہ جايہ مؤنگ دعا حضرت  
 ذكرياعن۔ دوہن ای میانہ پروردگارہ عطا کر ميہ خاص پنہہ طرفہ پنہہ کمال قدرتہ سیت، رت فرزندہ۔  
 پاک نافرمانیو نشہ۔ پزپاٹ ژي چھوک بوزہ ون قبول کرؤن دعاءس فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ  
 يُصَلِّي فِي الْبُحْرَابِ پس ديت آلو تمن ملائکيو يلہ تمم نماز آس پران اتھہ بالاخانس منز اَنَّ اللّٰهَ  
 يُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ طَيِّبٍ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو بشارت دوان توہہ فرزند عطا کر ئیچہ بسد ناو چھو کيچي مُصَدِّقًا  
 لِّكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصَوْرًا وَنَبِيًّا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ تمم تصديق کرہ ون آسن اللہ تعالیٰ سدس

مَنْ اللَّهُ وَسَيِّدًا أَوْ حُصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۹﴾ قَالَ رَبِّ  
 أَنَّى يَكُونُ لِي غَلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأُمْرَاتِي عَاقِرٌ قَالَ  
 كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿۲۰﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ  
 آيَتِكَ الْآتَاكُمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ  
 كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿۲۱﴾ وَاذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ  
 يَمُرُّ بِكُمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ طَهْرًا وَاصْطَفَىٰ عَلَىٰ

کس یعنی حضرت عیسیٰ اس بیہ چھہ تم سزاوار تہ رغبت نہ کرہ ون زنانہ کن قادر آتھہ بیہ پیغمبرہ  
 نیکو کارواندرہ۔ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غَلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأُمْرَاتِي عَاقِرٌ دوہن ای میانہ پروردگارہ  
 کتھہ پاتھہ ہنہ میہ فرزند۔ حالانکہ میہ چھو بزرگ وقت دوہمت بیہ چھہ میان آسٹین ہانٹھ۔ قَالَ مَلِكُنْ  
 دوہن كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ تھہ پاتھہ بغیر اسباب و ذرائع۔ اللہ تعالیٰ یہ برتھان چھو تہ چھو کران  
 تس نش چھو نہ مشکل کہنی چیز قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً دوہن پروردگار میانہ خپترہ کر کہینہہ علامتہہ  
 سمہ سیت مہ معلوم سپدہ تہرہ کیاہ کورٹھہ میون دُعا قبول تہرہ کیا کورٹھہ میہ فرزند عطا۔ قَالَ اللَّهُ  
 تعالیٰ ان فرموس آيَتِكَ الْآتَاكُمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا نشان تہ علامت چون چھو تہ تھکھنہ  
 کتھہ کر تھہ لوکن سیت ترین دوہن مگر اشارہ پاتھہ یان سُو حال تہہ پانس منز لکھہ تان زانزہ اللہ تعالیٰ ان  
 کوزی تہرہ فرزند عطا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ بیہ کر تہہ پنہ نس پروردگارہ  
 سُد یاد بکثرت۔ بیہ آسن سُو پاکی یاد کران شامس تہ صحن تہ۔ کیاہہ اللہ تعالیٰ ان کور چون دُعا قبول۔  
 مایوس تہ نامیدی پتہ کورنہ فرزند عطا۔ وَاذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمُرُّ بِكُمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ طَهْرًا  
 وَاصْطَفَىٰ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بیہ پاو تہ تیس یلہ ملکو دوپ حضرت مرتس بیشک اللہ تعالیٰ ان  
 کمر کتھہ تہہ برگزیدہ تہہ کر تھہ قبول ماجہ ہند نذر بیہ کمر چھہ پاک ساروی آلودہ گیونشہ۔ بیہ کر تھہ شی منتخب  
 علیجو زانو آندرہ۔ تہی یوت کورنہ عطا فرزند ماس وراہی يَمُرُّ بِكُمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ طَهْرًا وَاصْطَفَىٰ عَلَىٰ

نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿۳۲﴾ يَرْيِمُ أَقْنِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي  
 مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۳۳﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا  
 كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُتْلُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا  
 كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿۳۴﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَرْيِمُ  
 إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ السَّبِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  
 وَجِيهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۳۵﴾

مَعَ الرَّاكِعِينَ اے مریم عبادت آس کران پنہ نس پروردگارہ سنزیتھہ نہ برگزیدہ گی ہند غور و پیدہ  
 سدی۔ یہ آس سجدہ تہ رُوع کران یعنی نماز پران بین نماز پرہ وین سیت ذلک من انباء الغیب سم  
 قصہ چھہ غیبہ جو خبر و اندرہ نُوحِيهِ إِلَيْكَ یہ خبرہ آس توہہ کن یار سؤل اللہ بطریق وحی سوزان چھہ۔  
 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ توه ما آسوه تم احبارن تہ خادمن نش إِذْ يُتْلُونَ أَقْلَامَهُمْ یلہ تم دریاوس منز پن  
 قلم تراوان آس آس منز چیرہ تراوہہ دریافت کرنہ خیطرہ۔ یہ آس تمہ وقتہ چیرہ تراوہہ طریق۔ یا کور  
 تمو خادمو اتھے پاٹھہ پانہ وان فیصلہ کہ قلم تراوودریاوس منز و چھو کسند قلم روزہ آس اندر وودنہ۔ سمند  
 قلم آس منز وودنہ روزہ سوی کرہ حضرت مریمس پرورش آيَهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ نمو احبار و اندرہ  
 عس کرہ کفالت حضرت مریمہ سنز وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ یہ آسوه نہ تمہ تم نشہ یلہ  
 تم پانہ وان تنازعہ آس کران إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَرْيِمُ إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ تہ تمس پا وویلہ وون  
 ملائکو حضرت مریمس پڑپاٹھہ اللہ تعالیٰ چھوی تہ بشارت فرماوان آس کلمہ سنز نس تہمدی طرفہ  
 آسہ اسْمُهُ السَّبِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ سمند ناو آسہ مسیح عیسیٰ مریمہ سُنْدُجُو۔ مسیح چھوس لقب۔  
 عیسیٰ چھوس ناو۔ بعضی وقتہ چھو لقب ناوس پیٹھہ مقدم یوان کرنہ تعظیمہ خیطرہ وَجِيهَا فِي الدُّنْيَا  
 وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ نس باعزت باوقار آسہ دنیا و آخرتس منز یہ پروردگارہ  
 سمند یومقر ب ہند و اندرہ وَيَكْلِمُ النَّاسَ فِي الْهَيْدِ وَكَلَمًا بِہ کرہ سؤ کلام لوکن سیت منز نس اندر تھے

وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْهَدَىٰ وَكُهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۶﴾ قَالَتْ  
 رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ  
 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۳۷﴾  
 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿۳۸﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ  
 بَنِي إِسْرَائِيلَ ۚ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ إِنِّي أَخْلَقُ

پاٹھہ پتھہ پاٹھہ بوڈوا تھہ جو ان سپد تھہ کرہ کلام و مِّن الصَّالِحِينَ بیہ آسہ سوڈو نیکو کار و اندرہ قَالَتْ  
 رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ حضرت مریم دوپ پروردگار ہامہ تھہ پاٹھہ بنہ اولاد حال تھہ  
 مہ چھونہ تھہ تہ لوگت کانسہ انسان۔ کانہ مرد چھونہ مہ نزدیک آمت نہ جائیز طریقہ پاٹھہ نہ ناجائز  
 طریقہ پاٹھہ۔ عادتاً چھونہ چہ زیوان مردہ سہدہ نزدیک بیہ ورائی کانسہ زنانہ۔ معلوم چھونہ کہ اللہ تعالیٰ  
 تھہ پاٹھہ کرہ مہ فرزند عطا۔ کانسہ سیت نکاح کر تھہ کر مہ عطا کینہ محض پنہ قدرت کاملہ سیت کریم عطا  
 قَالَ اللہ تعالیٰ اَن فرموس ملکہ سہدہ واسطہ کَذَلِكَ تھہ پاٹھہ یعنی پنہ قدرت کاملہ سیت۔ اللہ  
 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللہ تعالیٰ چھو پیدہ کر ان اسبابو تہ ذرا لیبو ورائی بیہ یثھان چھوتہ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا  
 يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سولہ ہنہ چیز کہ پیدہ کر تک ارادہ کر ان چھو کس چھونہ تس کنہہ کرن آسان فقط  
 فرماون تھہ کُن بیہ تھہ س عکس منز آسان چھو کہ سپد۔ اتی چھو چیز سپد وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  
 وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ بیہ پچھناوہ تس چانس فرزندس کتاب یعنی ہرن تہ لیکھن بیہ گاہہ جار چہ تھہ بیہ  
 تواریت تہ انجیل۔ بعضے عالمو فرمو کہ کتابہ اندرہ چھو مراد قرآن و حدیث۔ کیاہہ آخر زمانس منزلیہ  
 حضرت عیسیٰ آسانہ پٹھہ نازل سپدہ ہر زمین تمہہ وقتہ کرہ سو پیروی بکتاب و سنت حضرت محمد صلی اللہ  
 علیہ وسلم وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بیہ سوزہ تس سارنی بنی اسرائیل کُن پیغمبر کس فرماوہ تہن اَنِّي قَدْ  
 جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ای بنی اسرائیلوہ آسوہ توہہ پتھہ کینہہ معجزہ تھہ س پروردگارہ سہدہ طرفہ ہم  
 معجزہ میانس پیغمبر آسہس پٹھہ دلالت چھہ کر ان اَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفَعُ فِيهِ

لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ  
 اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنحِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَ  
 أَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَ خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
 لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۴۸﴾ وَمَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ  
 التَّوْرَةِ وَلِحُجْلٍ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِدْتُمْكُمْ  
 بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝۵۰ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ

فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ بیشک بہ بناون تہندہ و خیطرہ میثرہ ہند جانورہ۔ تس و دمہ بھوکھہ۔ سوہنہ و ڈوہ و ن جانور  
 خدایہ سیدہ جمعہ سیت۔ دوہم مجزہ گو و اُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُنحِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ بیہ بلہ  
 راؤن بوسوئس اوٹوی زامت آسہ ماجہ۔ تس بیہ اہتھن گاش۔ بیہ بلہ راؤن بوہتہر ہلدہ۔ بس بدنس آسن  
 سفید داغ۔ ستم زہ مرض آس تہمہ وقتہ لاعلاج۔ چنانچہ اکی دوہنہ بلراوتھو ہنواہ ساس (۵۰،۰۰۰)  
 بیمارامہ قسمک۔ بیہ کرکھہ زندہ مومت انسان خدایہ سیدہ جمعہ سیت وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا  
 تَتَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ بیہ کرودہ بوتوہہ خبر گچ بیہ تہہ کھیوان و تھوہہ بیہ یہ تہہ گرن اندر موجود تھاوان  
 و تھوہہ۔ اِنِّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بیشک اتھہ منزہ تھہہ ہد دلیل تہندہ خیطرہ ہر گاہ تہہہ  
 پڑھہ کرہ و ن و تھوہہ وَمَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ بیہ چھوس بوتوہہ گن یوان تھہہ کتہہ تصدیق  
 کران یوسہ مہ بروٹھہ تھہہ نازل کرنہ آٹھ۔ سوہتہاب گنیہ تورایت و لِحُجْلٍ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ  
 بیہ آس بوتوہہ گن بیٹھہ بلا حلال کرہ تہندہ خیطرہ تموچیز و اندرہ بعضہ چیز ستم توہہ بیٹھہ حرام آمت آس  
 کرنہ بیہ میون دعوائے نسخ چھونہ بلا دلیل بلکہہ و جِدْتُمْكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ بیہ آس بوتوہہ گن تہندس  
 خدایہ سیدہ طرفہ اچ دلیل بیٹھہ۔ سو دلیل گنیہ میون بنی آسن فَاتَّقُوا اللَّهَ پس کھوڑو اللہ تعالیٰ آس  
 تہندس حکم مہ کمر و مخالفت وَأَطِيعُوا دینہ کس معاملس منزما نو میون حکم۔ خلاصہ میانہ دینی  
 تعلیمہ ہند چھوای کہہ اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ پڑھا تھہ اللہ تعالیٰ و تھو میون

فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۵۱﴾ فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَىٰ مِنْهُمْ  
 الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ  
 أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ ﴿۵۲﴾ رَبَّنَا آمَنَّا  
 بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ ﴿۵۳﴾  
 وَمَكْرُوهًا وَمَكْرًا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْبَكْرِينَ ﴿۵۴﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ

تہنہد معبود جس کرو تہنزی عبادت۔ یو ہے چھوہ راہ راست۔ تہہ و تہ گن ساری پیغمبر آی نادوان  
 فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَىٰ مِنْهُمْ الْكُفْرَ پس بلہ ژ یون حضرت عیسیٰ ان تمن بنی اسرا ایلین نشہ تہنہد انکار تہ کفر  
 قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ دو چھہ بنی اسرا ایلین کن گوہ اکھاہ چھو توہہ آندرہ میون مدگار خدا جس گن  
 لُوکن نادونہ خیطرہ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ روشن ولو آندرہ خدا جس گن رجوع کرہ و نیو آندرہ و تہہ اکھہ  
 جماعتھاہ تم آس باہ زن۔ تموی دوپ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ اس چھہ خدایہ سندہ دینک مدگار آمنا بِاللَّهِ  
 اسہ اون ایمان تہ اسہ کتر پڑھہ کُنس خدا جس وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ اے عیسیٰ تہہ رُوز و گواہ۔ آس چھہ  
 فرمانبر دار جس خدایہ سندہ تہنہد۔ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّهِيدِينَ ای  
 سانہ پروردگارہ اسہ اُون ایمان تہہ ساری یہ ژ یہ نازل کوڑ تہہ۔ یہہ کراسہ پیروی تمس چانس پیغمبر س  
 حضرت عیسیٰ اس۔ جس لیکھہ اسہ تہ شاہدن سیت وَمَكْرُوهًا یہہ کتر یہود و واریاہ حیلہ تہ مکر۔ پوشیدہ  
 تدبیر حضرت عیسیٰ اس تہ حوارین تکلیف و اتناونہ خیطرہ وَمَكْرًا اللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ اَن تہ کتر تم تدبیر  
 مَمُوسیت حضرت عیسیٰ ان تہ حوارینو نجات لوب۔ یہودون ہمد تدبیر میل خاکس سیت۔ چنانچہ  
 یہود ویلہ تم گرفتار کرنہ تہ تو پتہ کاٹھس پڑھہ کھارنہ خیطرہ تیاری کتر اللہ تعالیٰ اَن کتر ہمیں جس شخص  
 حضرت عیسیٰ سنز شکل تہ تم کھارن آسانس پڑھہ۔ جس شخص حضرت عیسیٰ سنزہ شکلہ بناونہ آؤ  
 سُورُوث تموی یہود و تہ دیو چھہ پھہہ۔ اللہ تعالیٰ چھو اتھہ متعلق میں جلیہ فرماوان وَاقْتُلُوهُ وَمَا صَلَاحُ  
 وَلَٰكِنْ شِئْبَهُ لَهُمْ - وَاللَّهُ خَيْرٌ الْبَكْرِينَ اللہ تعالیٰ چھو ساری وی تدبیر کرہ و نیو آندرہ بہتر تدبیر کرہ



يُعِيسِي اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَى وَمَطْهَرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ  
 كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَى  
 يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ اِلَى مَرْجِعِكُمْ فَاَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ  
 فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۝۵۵ فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاَعْدِّ لَهُمْ عَذَابًا  
 شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِيْنَ ۝۵۶ وَاَمَّا  
 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيهِمْ اٰجُوْرَهُمْ وَاَمَّا

۱۵۵ اِذْ قَالَ اللهُ سُوْرَتِ كُر وَايَدِيْلَهُ اللهُ تَعَالَى اِنْ فَرَمُوْا حَضْرَتِ عِيْسَى اِسْ يٰعِيْسَى اَي عِيْسَى  
 كِيْنَه غَمَّ مَهْ بِر اِنِّي مُتَوَفِّيكَ بِشَكْ بُو پَهْوَسْ تِيَه دَفَاتِ دُوْدُوْنِ پِنْدِ نَسْ مَوْقَسْ پِيْطَه۔ لَهْزَامَه كَهْوِثَرَه  
 سِيْمُ دُتْمَنِ مَآكْهَارِ نَمْ كَاطْهَسْ پِيْطَه۔ يُوْدِمَه نَه تَمْنِ تَمِيْكَ مَوْقَس۔ وَرَافِعُكَ اِلَى بَلْكَ كَهَارَتِ تَه بُو پَانَسْ  
 كُن۔ وَاِتَاوَتْه بُو تَه عَالَمِ اِلَا اَسْ مَنَزِ وَمَطْهَرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِه كَرْتِ يُو تَه پَاكِ مَحْرَنْ هِنَزُو تَمْتُو  
 نَشِر۔ لَعْنِي بُو رَجْمَتِ تَه تَمْنِ لُو كَنْ هِنْدِ يُو اِرَاوُو نَشِر۔ سَمُو تِيَه اِنْكَارِ كُوْرِي وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ  
 الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ بِه كَرَكَه بُو چَا نِ بِيرو۔ چُوْنِ كُحْمِ مَانِ وَالْغَالِبِ تَمْنِ لُو كَنْ پِيْطَه  
 سَمُو تِيَه اِنْكَارِ كُوْرِي قِيَامَتِ دُو مَسْ تَانِ ثُمَّ اِلَى مَرْجِعِكُمْ تُو پِي تَه جَه مِي كُنْ تُو بَه سَارِنِي هِنْدَه وَاِتَا  
 جَاء۔ فَاَحْكُمْ بَيْنَكُمْ لِيْسْ كَرَه بُوِي فَيَصِلَه تُو بَه مَنَزِ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ تَمْنِ سَارِنِي مَعَالِنِ  
 مَنَزِ سَمْنِ مَنَزِ تَه اِخْتِلَافِ كِرَانِ اَسُو۔ تَمُو چِيْزِ وَاَنْدَرَه گُوَاكْه مَعَالِمَه حَضْرَتِ عِيْسَى سُنْد۔ اَتَه تَه كَرَه بُو  
 فَيَصِلَه فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيْسْ تَمْ لُو كَه سَمُو كَرَه اِنْكَارِ كُوْرِي لَعْنِي يَهُودِ نَوَارِي فَاَعْدِّ لَهُمْ عَذَابًا  
 شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِيْسْ كَرَه يُو تَمْنِ سَخْتِ عَذَاب۔ دِنْيَا سْ مَنَزِ تَه اَخْرَتِ سْ مَنَزِ تَه۔  
 وَمَا لَهُمْ مِّن نَّاصِرِيْنَ بِه اَسَنَه تَمْنِ كَانَه مَدْكَارَه تَمَه عَذَابِ نَشِرِ مَوْلَا وَنَه خِيْطَرَه وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا  
 وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ دُوْنِ سَمُو لُو كُو اِيْمَانِ اُوْنِ پَرَه كُرْ كَه كُنْسْ خُدَا لِيْسْ بِه كَرَكِيَه رِثَه عَمَلَه فَيُوَفِّيهِمْ  
 اٰجُوْرَهُمْ لِيْسْ كَرَه اللهُ تَعَالَى تَمْنِ پُوْر مَزُوْرِ عَطَا وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّٰلِمِيْنَ اللهُ تَعَالَى اَسْ جَهَنَه لِيْسَنْدِ

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۵۷﴾ ذَلِكَ نَتَلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَ  
 الذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿۵۸﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ  
 مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۵۹﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا  
 تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۶۰﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ  
 مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَ  
 نِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ

عالم ذلك نتلوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ سوری قصہ حضرت عیسیٰ سندھمہ آس توہمہ  
 پٹھہ پران یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمہ ہتھہ حجہ دلیلہ جہدس نبوتس پٹھہ۔ بیہ ہتھویہ قرآن  
 مجید محکم بیان۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ۔ پزپاٹ حضرت عیسیٰ سزمثال ہتھہ خدائس  
 نش حضرت آدمہ سزمث۔ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ حضرت آدم کورن پادہ مشہ نشہ نہ اوس مؤلی نہ نہ  
 اوس مؤجی ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ توپتہ فرموان آس سپدہ پیدہ انسان، اتی سپدیتھہ پٹھہ فرموان  
 حضرت عیسیٰ سپدہ پیدہ ماس وراى، تی سپد۔ حضرت آدمہ سند ماس ماجہ وراى پیدہ سپدن اوس زیادہ  
 عجایب مگر ہمزہ الوہیتک، ہتھونہ کانہہ نہ ذکر کران حضرت عیسیٰ زاوامس وراى ماجہ نشہ۔ تہندس پیدہ  
 سپدنس ہتھہ لوکھہ زیادہ عجایب زاتھہ تمن متعلق خدا آسنک دعالے کران۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ  
 مِنَ الْمُمْتَرِينَ پوز ہتھوتی یہ حضرت عیسیٰ آس متعلق ووت توہمہ نشہ پنے نس پروردگارہ سندہ طرفہ  
 پس مہ آسوتہہ شک نہ خبہ کرہ و نیو اندرہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ پس پس  
 اکھاہ توہمہ سیت اتھہ معاملس منزہرہ قضیہ کرہ توہمہ نشہ امیک علم واتنہ پتہ سو کریون جہہ مغلوب  
 بیہ طریقہ تس سیت گرو تہہ مبادلہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا  
 وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ پس فرما یو کہ ای عیسیٰ و لو آس و مونا تو پتہ  
 سونہر اوکھہ ہین لوکھتہ تہند لوکھتہ۔ پنےہ زنانہ نہ تہمزہ زنانہ۔ بیہ ہین پان تہ تہند پان۔ ساری سبت گرو

عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ۙ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ ۗ وَمَا مِنْ  
 اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ ﴿۶۱﴾  
 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ۙ ﴿۶۲﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ  
 الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا  
 اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا

خدا ئس گن التجا۔ تو پتہ معگو خدا ئس لعنت اپز یارین ہندہ خیطرہ۔ اس ونویا اللہ ئس اسہ منزہ اپز یور چھو  
 حضرت عیسیٰ سندس معاملس اندر تمس کر لعنت۔ آتھہ چھہ دنان مہابلہ۔ خراک عیسائی تم بحث کرنہ  
 آس آمت تمودوپ، بھکھ آسہ دیو سوئچ مہلت۔ تم اندرہ تم گائل ہی آس تمودوپ بین عیسائین  
 پنہ جابہ چھہ کتھہ توہہ چھو معلوم یہ صاحب چھو بیشک پیغمبر خدا۔ یہ تہ چھو توہہ معلوم کہ تم قوم  
 کانہہ پیغمبرس سیت مہابلہ کور سو قوم گوفنا تہ تہا۔ لہذا چھوئی مشورہ اس صاحبس سیت گرو اس  
 مصالحت۔ چنانچہ درای امی خیالہ۔ یورہ آس درامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیت آسبھ  
 حضرت علی۔ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا حضرت امام حسن تہ حضرت امام حسین۔ تم صاحبین  
 اوسبھ فرموومت بوکرہ دعاتہ کر زہ آمین۔ مگر یلہ تم عیسائی نزدیک وات تم نشہ عرض کور بگ اس  
 حض کردنہ مہابلہ توہہ سیت کینہہ تہ۔ پس سپز یمن سیت مصالحت۔ حدیث شریفس منز چھو آمت  
 ہر گاہ تم عیسائی مہابلہ کرہن۔ مال وجانہ گدھہ بن تہا و بر باد اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ پز پاتھہ یہ ذکر  
 کرنہ آو تم چھہ ہمز واقعات وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ بیہ چھونہ کانہہ معبود آس سزاوار۔ اللہ تعالیٰ  
 اس ورا۔ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ بیہ چھو پز پاتھہ اللہ تعالیٰ سیٹھہ غالب۔ سیٹھہ  
 حکمتہ وول فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ پس اگر تم توتہ حق قبول کرنہ نشہ بھہ پھرن۔ ئس  
 پھر آوتہہ یہ معاملہ خدا ئس سو چھو پز زانان مفسدین۔ سوہیہ پائے تم انتقام قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ  
 تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ فرماو یو کہہ تہہ یار رسول اللہ ای اہل کتابو ولو تھہ گمس گن ئس

مَنْ دُونَ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۶۳﴾  
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحْجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا نَزَلَتْ التَّوْرَةُ  
وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنَ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۴﴾ هَآأَنْتُمْ  
هَؤُلَاءِ حَاجِبْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ

اسمہ منزتہ تو بہیہ منز بر ابر مسلم چھو اَلَا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَكْفُرُ اِلَّا بِمَا كَفَرَ بَعْضًا بِبَعْضًا اِرْبَابًا  
مَنْ دُونَ اللّٰه سُو كلمہ گو یسوی کہ آس كمر ونہ كاسمہ ہنز عبادت اللہ تعالیٰ اس وراى۔ یہی ٹھہروونہ  
تس كاسمہ چیزہ شریك كمنہ چیزس اندر۔ یہی رثن نہ اسمہ آندرہ اُو اُو اِین روب تہ معبود۔ معبود بر حقس  
ورای۔ عیسای آس پوپ یائئن مشائخ تہ مولوین اسمہ طریقہ مانان کہ ہر گاہ تم سر اسر كمنہ چیزس اندر  
عقلہ خلاف یا نقلس خلاف كاسمہ كتھاہ كره ہن۔ سُو آس تم بے چون وچر امانان تہ تسلیم كران۔ چنانچہ از تہ  
چھہ عیسای نی كران۔ امہ قسمگ مذہبی تقلید چھو یقیناً حرام۔ کیا زہیہ مرتبہ یعنی كاسمہ ہنز كتھہ بے چون  
وچر امان چھونہ خدا پس وراى یہی كاسمہ ا كمنہ۔ پیغمبرہ سُنَد مرتبہ تہ چھویہ مگر تل یدلہ خدایہ سُنَدہ طرفہ  
تھہ متعلق ارشاد آیس۔ الغرض بے چون وچر اچھو صرف خدایہ سُنَد یا پیغمبر خدایہ سُنَد حکم ماننہ یوان۔  
تہن پتہ چھونہ كاسمہ ا كمنہ قول قابل تسلیم تہ قابل قبول۔ مگر سُو یس نقل آسہ اُمت كرنہ از خدا  
ور سُول۔ اسلامس اندر یس تقلید ائمہ مذہب چھو۔ سُو چھو اوی قسمگ۔ لہذا امہ طریقہ ارباب مذہب  
ہند قول مانن گوئی الحقیقت خدا ورسولہ سُنَدی قول مانن۔ البتہ ہر گاہ تہوند كاسمہ قولہ قرآن وحدیثہ كس  
صریح نقلس خلاف آسہ سُو چھونہ ہرگز قابل تسلیم و عمل تھہ متعلق چھو پانہ ارباب مذہب باتفاق  
فر موونت کہ سون كاسمہ قولہ ہر گاہ قرآن وحدیثس خلاف آسہ سُو دیولہ بہر تھہ۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا لیس  
ہر گاہ تم امہ توحیدہ رُشہ نہہ پھرن فَقُولُوا اشْهَدُوا پس دیو كھہ تُوہ اے اہل كتابو گواہ رُو زو۔ يَا كَآ  
مُسْلِمُونَ تھہ كتھہ پیٹھہ کہ آس چھہ مسلمان مُوحد يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحْجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ اے اہل كتابو تہنہ  
کیازہ چھوہ قضیہ لاگان، تنازعہ كران۔ حضرت ابراہیمہ سندس حقس اندر۔ ونان چھوہ تم آس بہودیا  
نصاری وَمَا نَزَلَتْ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنَ بَعْدِهِ ﴿۶۴﴾ حالانکہ نازل آونہ كرنہ تورایت تہ انجیل۔

تَحَاجُّونَ فِيهَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷۶﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۷۷﴾ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا

مگر تمہیں پتہ دارِ یاہیمہ کال۔ یہودیت تہ نصرانیت زایہ تورایت وانجیل نازل سپد نہ پتہ۔ تورایت آو نازل کرنہ حضرت ابراہیمس علیہ السلام پتہ اکہ ساسہ قرہ۔ انجیل آو نازل کرنہ حضرت موسیٰ اس پتہ دوہ ساسہ وہر۔ اَفَلَا تَعْلَمُونَ کونہ چھوہ عقل کران۔ بُرُوذتھمہ زمانک شخص کتھہ پاتھہ نہ ہیر دوہتمہ کتابہ ہند۔ هَا أَنْتُمْ هَذَا حَاجِبَتْكُمْ وارہہ زوای لو کو اختلاف چھوہ تہہ کران فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ تھہ منزج تہہ کئیہ ہاہ خبر چھوہ یعنی حضرت عیسیٰ اس متعلق۔ اُوچھوس دپان خدا تہ اُوچھوس دپان خدایہ سُنْدِچُو۔ تہندس معاملس منز چھوہ نہ تہہ کئی تھہ قَلِمَ تَحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ پس کیا زہ چھوہ اختلاف کران تمہن معاملن اندر یمن ہنز نہ تہہ کینہہ خبر تہہ علم چھوہ یعنی حضرت ابراہیمس علیہ السلامس متعلق وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ کی چھوہ زانان حضرت ابراہیم گوہ صاحب اوس تہہ چھوہ نہ زانان مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا اوس نہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تہہ نصرانی وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا بلکہ اوس سوساروی ایزودینونہ بیزار۔ پوزدین اختیار کرہون تابعدار تہہ فرمانبردار متحد کاسل وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بیہ اوس نہ سوس مثر گواندرہ۔ ستم دعویٰ چھہ کران اس چھہ تہندس ملتس پیٹھہ۔ حالہچہ ستم چھہ پائے کانہہ چیزاہ بناوان۔ کئیو۔ پتو یا بیہ کئی چیزک۔ تھہ چھہ نمان۔ تھہ نشہ چھہ برکت ژھانڈان۔ تس چھہ حاجت منگان۔ ای چھا کورمت حضرت ابراہیمس نعوذ باللہ۔ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ پزپاٹھہ زیادہ نزدیکی چھہ لو کواندرہ حضرت ابراہیمس علیہ السلام تہہ ستمو تہنز متابعت تہہ پیروی کتر تہندس و قس اندر وَهَذَا السَّبِيْحُ بیہ چھو تہن نزدیک یہ بوڈ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

النَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَرِلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿۶۸﴾  
 وَدَّتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ  
 وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۶۹﴾ يَا أَهْلَ  
 الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۷۰﴾  
 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبُسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ  
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۷۱﴾ وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي

بہ چھ تہن نزدیک بالیمان۔ اُمّی تمس پیغمبر برحقہ سند یعنی پڑھو وُن اس چھہ بردین ابراہیمی نہ کہ  
 توہہ یا مثر کن وَاللَّهُ وَرِلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ چھو دوست بالیمان ہند تہزہ کامہ  
 سنہالان وَدَّتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ یژھوویہو وڈو آندرہ اک جماعتن لو یضلو نکم تم  
 کرہ ہن توہہ دین حقہ نشہ گمراہ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ فی الحقیقت چھہ تم توہہ گمراہ کرن  
 یژھان بلکہ چھہ تم امہ سیت پنہ نین پانن گمراہ کران وَمَا يَشْعُرُونَ مگر تمیک چھہ نہ بیان  
 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اے اہل کتابو کیا زہ چھوہ خدایہ سندین  
 آیاتن، قرآن مجیدس انکار کران۔ حالانکہ توہہ چھوہ پنہ جاہی اتھہ اقرار کران يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ  
 تَلْبُسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ای اہل کتابو کیا زہ چھوہ ہز اہزس سیت ملہ  
 نوانن بہہ کیا زہ چھوہ پوز کھٹان یعنی نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ توہہ چھوہ زانانن یہ چھو  
 بیشک پیغمبر آخر الزمان وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ  
 وَالْكُفْرَ وَالْخُرُوءَ بہہ وون یہو وڈو آندرہ اک جماعتن بین یہو دین مسلمان گمراہ کرنچ اکھ صورت چھہ بہہ تہ  
 کہ ظاہر پاتھہ اینو ایمان اتھہ یہ نازل او کرنہ مسلمانن پیٹھہ یعنی قرآن مجیدس صمبس توپتہ کمر وتھہ انکار  
 شامس لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بیٹھہ تم بالیمان ای سیت اسلامہ نشہ پھیرن تہ رجوع کرن۔ شکھہ پچھہ تہ  
 حوصلہ سد پچھہ ہست۔ وَلَا تَتُومُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ بہہ مہ آبرو وژھہ واجہ تصدیق کران مکنہ دینس

أَنْزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا الْآخِرَةَ لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿۴۱﴾ وَلَا تَتُومِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنْ هَدَى  
هُدَى اللَّهُ أَنْ يُؤْتِي أَحَدًا مِثْلَ مَا أُوتَيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ  
عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۴۲﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۴۳﴾ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ

مگر تمہنی سہم پیرو آسن تہندس دینس یعنی یہودی تیس۔ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُدَى اللَّهُ تہہ فرماؤ یو کھ تہمز و  
چالا کیو سیت ہیجہ نہ کبہنہ بنت۔ کیا زہ پز پاتھہ ہدایتس لیس لوگن بنان چھو سو ہدایت چھو خدایہ سُنَد  
ہدایت۔ سو ی چھو اصل ہدایت۔ سو چھو خدایہ سندس اتھس اندر۔ تمیک اختیار ہول چھو سو ی۔ کس  
سو ہدایت کرہ کس ہیجہ نہ ڈالٹھہ کانہہ کٹھہ طریقہ۔ لیس نہ سو ہدایت کرہ کس ہیجہ نہ کانہہ ہدایت کرہ  
أَنْ يُؤْتِي أَحَدًا مِثْلَ مَا أُوتَيْتُمْ ہیہ ڈوپ یہو ڈواندرہ اک جماعت۔ تصدق مہ آسو کران تھہ تھہ کہ  
کانہہ کیا ہیہ عطا کر نہ تہیہ توبہ بنی اسرائیل عطا کر نہ آؤ سو گو نبوت، کتاب۔ حکمت۔ اَوْ يُحَاجُّكُمْ  
عِنْدَ رَبِّكُمْ تھہ تھہ تہ مہ آسو تصدق کران کہ مسلمان کیاہ کران توبہ مقابلہ خدائس تہندس نشہ۔  
کیا زہ تہند دین چھو مضبوط تہمز دلیل چھہ قوی۔ یہ آس یہو دونان پانہ وان اکھہ اکس۔ قُلْ إِنْ الْفَضْلُ  
بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ تہہ فرماؤ یو کھ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پز پات فضل و کرم چھو  
خدایہ سندس اتھس اندر۔ لیس خوش کر لیس کس کرہ عطا۔ ہر گاہ کبہنہ کالاہ نبوت و ہدایت تم عطا کر بنی  
اسرائیل و اندرہ بعضی صاحبین و ن یو ڈھہ تم نبوت و ہدایت عطا کر بنی اسماعیل و اندرہ اکس مخصوص  
صاحبس تہہ کم چھوہ۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ سز رحمت چھہ وسیع۔ سو چھو سیٹھہ زانہ وان  
تمس چھہ خبر گوہ چھو قابل تہ سزوار اتھہ رحمتس يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لیس نہ حقہ سو یڑھہ لیس  
کرہ مخصوص رحمتہ سیت۔ نبوتہ سیت کتابہ سیت تہ حکمتہ سیت تہہ کم چھوہ۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

يَقْتَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنُ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا  
يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَن سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ  
هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَّقِينَ ﴿۵۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا

اللہ تعالیٰ چھو بو، فضلہ وول و من اهل الکذب من ان تا امنه بقتار يؤدده اليك بيه چھ بعضے اہل کتاب  
آندرہ تمہ قسمک لوکھ ہر گاہ تم بے شمار مال، زہ ساس زہ ہتھہ اوقہ سو تک امانت پبہ تھاونہ سودہ سنی  
واپس ثیہ یلہ ژہ مگھس مثل عبد اللہ بن سلام و منھم من ان تا امنه بدينار لا يؤدده اليك سمو  
یہود و اندرہ چھہ بعضی تم ہر گاہ تم زہ اکھہ دینار یعنی اکھہ موہر امانتھہ تھو اکھہ سودہ سنی نہ واپس سو اکھہ  
دینار نہ۔ الا ما دمت عليه قائما یوتان وودنی روزکھہ ژہ تمس مطالبہ نہ و گرای کران ذلک یا کھھ  
قالوا لیس علینا فی الامین سبیل یہ خیانت کرہ تک وجہ چھو تم چھہ دپان اسہ چھونہ ناخواندن،  
نا تعلیم یافتن غیر اہل کتاب بن ہند مال کھینس اندر کا نہہ قصور اہ نہ گنہاہ۔ بیه اسی تم و نان کہہ تورا تمیں اندر  
چھو اسہ سانہ دیکھین مخالفن ہمدس ماس اندر خیانت کرن جائیز۔ اللہ تعالیٰ چھو اکھہ تھہ رد فرماوان  
ويقولون على الله الكذب نور او ان چھہ تم یہ کھہ و نہہ سیت اللہ تعالیٰ اس پیٹھہ اپز و هم يعلمون  
زانتھہ کتر تھہ۔ یمن چھو معلوم کہ اللہ تعالیٰ ان چھونہ کتر جا یہ امیک اجازت دیو تھت۔ امانس اندر  
خیانت کرن چھو پر ہتھہ کانہہ ہمدہ حقہ ممنوع۔ پر ہتھہ دینس نہ مذہبس منز نا جائز کبلی بہنزی یہ کھہ چھنہ  
ہرگز صحیح بلکہ خیانت کرن چھو سخت گناہ۔ خیانت کرونس پیٹھہ چھو ضرور سخت الزام۔ کیا زہ تھہ  
متعلق چھہ سان زہ قانون۔ اکھہ گو من اوفی بعهدہ تیم اکب و فاکور پنہ نس عمدس نس تم خدا ایس  
سیت کورمت آسہ یا جائز عمدہہ کانہہ مخلوقس سیت کورمت آسہ واتقی بیه کھو ژہ اللہ تعالیٰ اس کہہ  
کانہہ ہند مال زانہ نہ حلال بلا وجہ فان الله يحب المتقين کس بیشک اللہ تعالیٰ چھو دوست تھوان،



قَبِيلاً أُولَئِكَ لَإِخْلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٠﴾  
 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ السُّنَّتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ  
 مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ  
 اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ

پسند کران پر ہیزگارن۔ دو قسم قانون گوران الذین یشترون بعهدا اللہ وایمانہم شمتاً قبیلاً بزپاٹ  
 تم لو کہ کثان تہ بدلاوان چھہ خدایہ سندس عمدس بس امانس متعلق چھو توراتس منز بیان کرنہ آمت۔  
 یاس عمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق چھو پنہ نیوازیو قسموسیت کم مؤلس حاصل چھہ کران  
 تم قیمتھاہ تہ مؤلاہ سیٹھاہ کم۔ یعنی وشتمہ ہند اکھہ ترکھہ یا کپرک بہمنہ گز۔ تم تمن کعب بن اشرف  
 یہودیس نشہ بنان آس نعت پیغمبر آخر الزمانس تحریف کرنس پیٹھہ اُولَئِكَ لَإِخْلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
 تم عمد شکن تہ اپزیا رہز قسم باہہ ون تم چھہ بہندہ خیطرہ چھونہ آخرتس اندر کانہ حصہ ثوابک۔  
 وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بہہ کرہ نہ تمن سیت اللہ تعالیٰ تھہ تہ۔ بہہ ویہ نہ تمن کن  
 نظر تہ قیامتک دوہ۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ نہ کرہ تہمنز کائین ہنز کانہ تعریف نہ گرہ تمن گنہو نشہ پاک  
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بلکہ آسہ تہندی خیطرہ ہڈر عذاب۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ السُّنَّتَهُمْ بِالْكِتَابِ  
 سمویہود واندہرہ چھہ اکھ جماعتھاہ تم زیوؤ شتمہ تہ ہج کر تھہ توراتج عبارت پران چھہ۔ تھہ جلیہ نبی کریم  
 ﷺ سندین تعریفن تہ نعتن تحریف تہ تغیر چھو آسان آمت کرنہ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ تھہ توہہ  
 گمان گنہہ بہہ تہ چھہ تور لٹی عبارت وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ فی الواقع تھہ نہ سوہ تورانج عبارت  
 کینہ تہ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ونان چھہ تم کہ بہ عبارت تہ چھہ خدایہ سندس طرفہ  
 وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ سوہ عبارت چھہ ہرگز خدایہ سندہ طرفہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَ  
 هُمْ يَعْلَمُونَ نوور اوان چھہ تم خدائس پیٹھہ اپز۔ حالانکہ تم چھہ زانان اس چھہ اپز ونان مگر زانہ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷۸﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ  
 وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ  
 دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ  
 وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿۷۹﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا  
 الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ  
 أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۰﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا

کر تھے چھہ ایز و دان۔ تھے پائلہ چھہ نصاریٰ تہ ایز نور او ان خدا ایس پٹھہ۔ تم چھہ دیان حضرت عیسیٰ ان  
 چھو کورمت خدا آسک دعویٰ لوکن دیت نادیتمو پنے نس عبادتس کن تھے چھو ذکر ان اللہ تعالیٰ  
 ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ کانہ بشر نس چھہ نہ تھے ممکن کہ اللہ  
 تعالیٰ ان کیا آسہ تس عطا کر مر سون کتاب مٹھہ اندر توحیدک حکم تہ شرک ممانعت آسہ۔ بیہ آسٹس عطا  
 کر مر عقل تہ فہم۔ بیہ آسٹس عطا کورمت نبوت تھے یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ تو  
 پتہ کیا ونہ سولکن تہہ بنو میان بندہ خدایس و رای یعنی میان کرو عبادت۔ ولکن کونوا ربینہ بلکہ  
 چھہ تہنز کوم لوکن ون۔ بنو تہہ اے لوکو خدایہ سد بندہ۔ پن خاص تعلقات تھاوہ ون تس سیت۔  
 عبادت کرو تہنزی یا تہ۔ کیا زہ سکو تہہ ہر گاہ بولوگن پنے نس عبادتس تہ پرستشہ کن نادیمہ۔ اللہ تعالیٰ ان  
 یوسہ مہربانیاہ چھم عطا کر مر سونیم و ایس بیہ گوہیم بیزار بہا کنتم تعلمون الکتاب وبہا کنتم  
 تدرسون امی وجہہ کہ تہہ چھو ک پچھنا وان لوک سون کتاب مٹھہ منز توحید کی سبق چھہ۔ امی وجہہ  
 کہ تہہ چھوہ سون کتاب پانہ ہران ولا یأمرکم ان تتخذوا والملیکة والنبيين اربابا بیہ بیہ نہ  
 سول بشر امر کر تھہ کہ تہہ بناو کھہ ملا یک تہ پیغمبر معبود پن خدایس و رای ایأمرکم بالکفر بعد اذ  
 انتم مسلمون کیا بیہ چھا ممکن کہ سول بشر کیاہ کرہ توہہ گھرک تجویز، تہہ مسلمان بنہ پتہ واذاخذ  
 اللہ ميثاق النبیین سوقت پاوور تیس یلہ اللہ تعالیٰ ان عہد کرناوساری پیغمبر لَمَا اتیتکم من

اتَّبِعْتُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ  
لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ  
عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَإِنَّا مَعَكُمْ  
مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۸۱﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ ﴿۸۲﴾ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَئِنَّ أُسْلَمَ مِنْ فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۸۳﴾

کتاب و حکمت البتہ کثیرا ہا می توہم عطا کور کتابتہ حجتہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ تُوپتے داتے  
توہم نش پیغمبرہ عظیم الشان مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ سُو آسہ تصدیق کرہون تہزن سارنی بنیادی تہن  
سمہ توہم سیت چہہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تہہ کرزہ تمس پیغمبرس ضرور پڑہہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ بیہ کرزہ  
تہندس دینس ضرور مدد قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ اللہ تعالیٰ آن فرموؤکھ اے پیغمبر و دارہ کرداتھ پڑھہ اقرار  
وَأَخَذْتُمْ عَلٰی ذَلِكُمْ إِصْرِي اتھ پڑھہ کرہہ میون عمدتہ حکم قبول اتھہ عمدس تہہ و فاکردو قَالُوا  
أَقْرَرْنَا ساروی پیغمبر و دُوب اسمہ کور اقرار قَالَ فَاشْهَدُوا اللہ تعالیٰ آن فرموؤکھ پس روز و اڈا دین  
گواہ وَإِنَّا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِينَ بونہ چھوس توہی سیت گواہ اندرہ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لیس سَمُو منزہ روگردانی کرہ امہ معاہدہ پتہ تے چہہ کافر تہ نافرمان۔  
أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ کیا تم عمد شکن چھا خدایہ سندہ دینہ و رای بیاکھہ دیناہ ژھانڈان و لَئِنَّ أُسْلَمَ  
مِّنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حالانچہ لیس اکھاہ آسمانس تہ زمینس اندر چھو تموساروی چہہ گردن دار  
متر خدایہ سندس خمس طَوْعًا وَكَرْهًا خوشی سیت یا لچار سیت و إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ پتولا کہ چھو تس  
گُن سارنی رجوع کرن۔ قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا فرماویو کھہ تہہ یارسول اللہ ﷺ اسمہ کر پڑہہ

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ  
 اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَ  
 عِيسٰى وَالتَّبِيْوٰنَ مِنْ رَبِّهِنَّ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُنَّ وَنَحْنُ  
 لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۸۳﴾ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهٗ  
 وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۸۴﴾ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا  
 كَفَرُوْا وَاَبْعَدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ  
 الْبَيِّنٰتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۸۷﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ

کنس خدائیس بپہ تھتھ یہ آسہ کن نازل آو کر نہ وَمَا اُنزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ  
 وَالْاَسْبَاطِ بپہ تھتھ یہ نازل آو کر نہ حضرت ابراہیمس، حضرت اسماعیلس، حضرت اسحاقس، حضرت  
 یعقوبس بپہ تھندین اولاد کن پٹھتھ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَ عِيسٰى وَالتَّبِيْوٰنَ مِنْ رَبِّهِنَّ بپہ تھتھ یہ عطا کر نہ آو  
 حضرت موسیٰ اس، حضرت عیسیٰ اس، بپہ سارنی پیغمبرن پنہ نس پروردگارہ سندہ طرفہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ  
 اَحَدٍ مِنْهُنَّ کانہ فرق چھنہ اس کران سمواندرہ کانہ کس اندر وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ اس چھہ خدایہ  
 سندی فرمانبردار تم کوراسہ یہ دین عطا۔ آسہ کرفبول تہ اختیار یو ہے دین وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا  
 فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهٗ وون نیس اکھاہ ژھانڈاہ اسلامہ وراى بیاکھہ دیناہ۔ آدہ سو دین ایس نہ ہرگز قبول تہ منظور  
 کر نہ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ بپہ آسہ سو آخرتس اندر تاوان زدواندرہ تم نہ نجات ہمکن  
 لبست۔ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا وَاَبْعَدَ اِيْمَانِهِمْ اللّٰهُ تعالیٰ تھہ پاتھہ ہاوہ و تھہ تم کن سو کفر تہ  
 انکار کوراکہ پھرہ ایمان انتھہ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ بپہ سمواکہ پھرہ گوای دژیہ پیغمبر چھو پزبور  
 وَجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ بپہ واژہ تم نثہ نہ دلیلہ۔ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ بپہ تھتھ لہ اللہ تعالیٰ

اِنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۝۷۱  
 خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝۷۲  
 اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ  
 غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۷۳ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَبَعَدَا اِيْمَانَهُمْ ثُمَّ  
 اَزْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰلِحُوْنَ ۝۷۴  
 اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَمَاتُوْا وَّهُمْ كُفّٰرٌ فَلَنْ يُقْبَلَ  
 مِنْۢ اَحَدِهِمْ مِّلُّ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوْ اَفْتَدٰى بِهٖ ۝۷۵

سیزہ و تیرہ پیٹھ سمکن ظالمین سمکو ایمانیہ جالیہ کفر تھوو اولیک جزاؤم اِنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ  
 وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ سمکن لوکن ہند سزا جھو یمن پیٹھ لعنت خدایہ سز بیہ ملائکن ہنزیہ سارنی لوکن  
 ہنز خلدین فیہا تنہ لعنتس منز روزن گرفتار ہمیشہ یا لعنتس اثرس منز۔ سوگو عذاب جنم تنہ منز  
 روزن ہمیشہ لَا يَخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ لوژراونہ تہ کم بیہ نہ کرنہ تمن نشہ سو عذاب نہ  
 بیہ تمن مہلت دنہ یعنی جہنم قید خانہ منزہ مہن کنہ وقتہ بھر کڈنہ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ  
 وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ مگر سمکو توبہ کورامہ پتہ بیہ سنبھالکھ دل پنن بیہ عملہ پننہ پس  
 تہدہ خیطرہ جھو اللہ تعالیٰ مغفرت کرہ دن، رحم کرہ دن اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَبَعَدَا اِيْمَانَهُمْ پزیاٹ  
 سمکو کفر کورایمان انہ پتہ ثُمَّ اَزْدَادُوْا كُفْرًا تو پتہ کرکھ زیادتی کفرس اندر لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولٰٓئِكَ  
 هُمُ الصّٰلِحُوْنَ یہ ہند توبہ بیہ نہ ہرگز قبول کرنہ پس توبہ تم بین گھن ہندہ خیطرہ گرن۔ بیہ چھ تے گراہ  
 تہ ذلت اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَمَاتُوْا وَّهُمْ كُفّٰرٌ پزیاٹہ سمکو کفر کور تہ مؤد کفر سی پیٹھ فَلَنْ يُقْبَلَ  
 مِنْۢ اَحَدِهِمْ مِّلُّ الْاَرْضِ ذَهَبًا پس ہرگز بیہ نہ تمن نشہ قبول کرنہ ثبوت سنون سمہ سبت سوڑی  
 زمین ہر آسہ لو اوفتادی بہ ہر گاہ سو ثبوت سنون عذابس بدلہ دیہ ہرگز پس نہ قبول کرنہ۔

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۙ  
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا  
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ۙ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِبَنِي  
إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تُنزَلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تمکن تہن لو کن ہندہ خیرے چھو نڈر عذاب وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ  
ہیہ آسنہ تمن کا نہہ بد گارہ۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ای مسلمانو ہر گز یہی نہ کامل  
نیکی یعنی بؤڈ ثواب حاصل کر تھہ یوتان نہ خرچ آسو کر ان تمہ مالہ منزہ ئس توہہ ٹوٹھ آسہ آدہ سو کم  
آسنن یا زیادہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ہیہ یہ تہہ خرچ کر دکنہ چیزہ اندرہ۔ ئس اللہ  
تعالی چھو تہ پور زانان۔ تھہ پٹھہ کرہ وہ ثواب عطا مگر ثواب عظیم گو تہندہ خیرہ تمہ چیزہ منزہ خرچ  
کرن ئس ٹوٹھ آسہ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ تُنزَلَ التَّوْرَةُ ساری کھینک چیز آس حلال بنی اسرائیل ہندہ خیرہ تورات نازل سپد نہ  
برونٹھ۔ تمو چیز وورای سم حضرت یغون پانس پٹھہ حرام آس کرمت بطریق نذر۔ تمو اوس نذر  
تھوومت کہ ہر گاہ عرق النساء ک تکلیف مہ دور گڑھہ تلہ تراوہ بؤوونہ مازہ توونہ دود کھيون۔ امہ سبہ  
آس نہ تم سم زہ چیز استعمال کران۔ تہندس شر یعتس منز آسہامہ طریقہ نذر تھاون جائیز۔ یعنی کانہہ  
چیز پانے پانس پٹھہ حرام گرن یا کانہہ حلال چیزہ ترک کرن ئس خدا ئن حلال کورمت آسہ۔ تہ چھو  
اسلامس منز ناجائیز۔ اللہ تعالی چھو فرماوان نبی کر سم صلی اللہ علیہ وسلم لِمَ تَحِبُّونَ مَا حَلَ اللّٰهُ لَکَ  
تہہ کیازہ چھوہ پانس پٹھہ سو چیز حرام کران ئس خدا ئن تہندہ خیرہ حلال کورمت چھو قُلْ فَأَتُوا  
بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ فرما یو کھہ تہہ یار سول اللہ ای یہود تو تہے چھوہ تورا تک  
حوالہ دوان۔ ئس کرو پیش تورات تہ سوی پرو۔ ہا و و کتہ ئس چھو تورا تس اندر لی کتہ۔ ہر گاہ تہہ

صَدِيقَيْنِ ﴿۱۶﴾ فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۷﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ  
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۸﴾ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۹﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ  
إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

اعتراض کرئس اندر پزیرا چھوہ سو اعتراض اوس تہوندیو ہے کہ توہمہ مسلماننے چھوہ دپان اس چھوہ برملت ابراہیمی تلہ کیاہ چھوہ تم چیز کھیوان ہم چیز حضرت ابراہیمس پیٹھ اللہ تعالیٰ ان آس حرام کرمت۔ تنہ اعتراض کوزکھ اللہ تعالیٰ ان رد۔ فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قَوْلًا لَهُمُ الظَّالِمُونَ پس اُس اکھاہ اپنوزور اوہ معبود برحقس پیٹھ امہ پتہ تہ۔ پس تے چھوہ ظالم بے انصاف قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فرما دیو کھ پوز فرمود اللہ تعالیٰ ان حضرت ابراہیمس متعلق یہ خبر۔ ولو اتھہ پزہ تھہ پیٹھہ کرو فیصلہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ پس ہر گاہ توہمہ تہندہ متابعک د عوی چھوہ۔ تیلہ کتر و تہنز متابعت۔ تم آس ساروی دنیو نشہ بیزار۔ ثابت آس بردین اسلام۔ یہ آس نہ تم مشرگو اندرہ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا پزپاٹھ عبادتک گوڈکوی سوگرہ اُس تعمیر آو کر نہ لوکن ہندہ عبادتہ خیطرہ، سوگو سوئی گرہ اُس مکہ شریفس منز چھوہ۔ اُس سیٹھاہ با برکت چھوہ۔ سمہ آیہ کریمہ سیت چھوہ اللہ تعالیٰ رد کران یسوزن ہندس ہمیس اعتراض سوگو یو ہے کہ تم آس دپان ہر گاہ تہہ حضرت ابراہیمہ سندس ملتس پیروی چھوہ کران۔ تلہ اوس حضرت ابراہیمس عراقتہ پیٹھہ ہجرت کر تھہ شامس منز پن وطن بنو مت۔ تہند قبلہ اوس بیت المقدس۔ تہہ تھہ پاٹھہ چھوہ د عوی کران تمن سیت قرطبہ تہ نزدیکی ہند۔ اللہ تعالیٰ ان فرمود کھ ساروی مقامات مقدسں بروٹھہ چھوہ گوڈکوی مقدس تہ مخرم گرہ کعبہ شریف اُس محہ معظمس اندر چھوہ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ یہ چھوہ کعبہ شریف یوڈ ہدایت عالمین ہندہ خیطرہ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ اتھ خانہ کعبس منز چھوہ خدایہ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ  
 الْعَالَمِينَ ﴿۹۸﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ  
 شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۹﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ  
 سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ  
 بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا فَرِيقًا

سندہ قدر تک بن نشانہ۔ تمواندرہ گواکھ مقام ابراہیم۔ سنوکن پتھہ پتھہ ایستادہ روزتھہ حضرت ابراہیم  
 خانہ کعبہ بنا کر ان آس۔ تھہ کنہ منزے چھہ ژور نشانہ۔ تھہ منز چھہ حضرت ابراہیمہ سند پائے مبارک  
 سنے متی (۲) تے پائے مبارک چھہ سنے مت ژنہ نین تان (۳) تے نشانہ چھہ تھہ کنہ پتھہ یوت کال  
 گڑھتھہ تہ وہہ موجود (۴) بیہ چھہ سنوکن از تان موجود۔ باوجود آنکہ کعبہ شریف چھہ دشمنواریاہ  
 پھرہ بے خرمی کر مرث۔ لوہر مت تہ مہدم کور مت۔ مکز تھہ کنہ چھونہ کانہہ تغیراہ سپدمت و من  
 دَخَلَهُ كَانَ أُمَّتًا بِسْمِ اللَّهِ الْأَكْهَاهُ اَحْمَدُ گرس منز ژاؤ تم لوب امن و امان وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْرُ الْبَيْتِ  
 بیہ چھو خدایہ سندی خیطرہ لوگن پتھہ مٹہ امہ گرج زیارت کرنہ خیطرہ بقصد سفر کرن۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ  
 سَبِيلًا یوہے چھو مٹہ لوکو اندرہ تمن پتھہ یمن توت و اتنک طاقت آسہ مالی و بدنی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ  
 غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وون بس اکھاہ حج مٹہ آستھہ حج کرہ نہ۔ منہ کرتن۔ تمیک نقصان چھو تس پانس۔  
 اللہ تعالیٰ چھو بے نیاز ساروی مخلوقا تو نغیر۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ فرما وویار سول  
 اللہ اے اہل کتابو کیا زہہ چھوہ انکار کران خدایہ سندین آیاتن وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ حال لکھہ اللہ  
 تعالیٰ چھو وہ چھان تہ یہ تہہ کران چھوہ۔ سو دیہ وہ ضرور امیک سزا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ  
 سَبِيلِ اللَّهِ فرما و تہہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل کتابو کیا زہہ چھو کھہ پتھہ رٹان خدایہ  
 سزہ وہ تہہ دین اسلامہ نشہ۔ مَنْ آمَنَ تم لو کھہ سموا ایمان اون تہہ یوز دین قبول کور تَبْغُونَهَا عِوَجًا  
 ژھانڈان چھوہ تہہ اچھہ دینس اندر نقصان تہ خرابی وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ حال لکھہ توبہہ چھوہ معلوم بیہ چھو



مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ﴿۱۰۰﴾  
 وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ  
 وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۱۰۱﴾ يَا أَيُّهَا  
 الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ  
 مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا  
 نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ

دین حق و ما اللہ بِنَافِلِ عَمَلَاتِعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ چھونے بے خبر تھیں و کامیونہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ ای با ایمانو ہر گاہ جہہ کا نہہ کتھاہ مانوکتہ جماعت اہل کتابو اندرہ  
 یَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ تم و اتنا توہ توہہ تہنہہ ایمان انہ پتہ بیہ گرس گن وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ  
 وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ جہہ کتھہ پاٹھہ بیجو بیہ گرس گن پھیرت توہہ پٹھہ ہے پھہ  
 خدایہ سند آیات پر نہ یوان۔ کیے توہہ منز چھو موجود تسند پیغمبر وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ  
 صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ کس اکھاہ زورہ کرہ تھپ کسی خدایس کس تھقیق تس آیہ تھہ ہاونہ سیزہ و تہ گن  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ اے با ایمانو کھو ژو اللہ تعالیٰ اس بیٹھہ تس کھو ژن شوہ۔ تس  
 کھو ژن گو کہ بیٹھہ پاٹھہ جہہ گف و شر کہ نہہ پٹھہ روزوتھہ پاٹھہ روزو ساروی گہو نغہہ تہ پٹھہ وَلَا تَمُوتُنَّ  
 إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بیہ مہ مگر اسلامس پیٹھہ جان دیو اسلامس پیٹھہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ  
 جَمِيعًا بیہ کمر و زورہ تھپ اللہ تعالیٰ سزہ مخم رزہ ساری سمٹھہ تہ مٹھن روزتھہ۔ حکمہ رزہ تھپ  
 کرن گو ساری اسلامین حکم اصولن تہ فروغن پیٹھہ پور عمل کرن وَلَا تَفَرَّقُوا اَللّٰک مہ سپدو  
 نا اتفاق مہ کرو مسلمان آتھہ یکایہہ اسلامس اندر پھہ اچ سخت ممانعت وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
 ژ کس پاو سو نعمت خدایہ سز یوسہ خاص توہہ عطا کرنوہ اے قبیلہ اوس و خورج کیو مسلمانو إِذْ كُنْتُمْ  
 اَعْدَاءً یلہ جہہ آہوہ اسلامہ بروٹھہ آتھہ اسند سخت دشمن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۖ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَّبُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ أَعْدٍ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

پس تروا اللہ تعالیٰ ان اُلفت جہندین و لن اندر چنانچہ تہہ سپدوہ تہمزہ ہر بانی سیت پانہ وان بای بای۔  
 پیاکھہ ہر بانی گیبہ تہمدہ حقہ یہ کہہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ بیہ آسوہ تہہ کہہ تارہ کھوڈوہ کس  
 پتھس پیٹھہ واتمت۔ تیار آسوہ تہمدہ منز کیاہ پیہ ہو تہہ۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا اللہ تعالیٰ ان بچا و وہ تہمدہ منز  
 پینہ نشہ ایماکہ برکت۔ لہذا کریوہ توبہہ یکن خدایہ سزنا ہر بانی ہنز قدر۔ پانہ وان مہ کمر و ہر ہر تہ لایہ  
 لای۔ امہ سیت سپد نوہ سمہ ہر بانیہ ضالچ کَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ تہمدہ پاٹھہ اللہ تعالیٰ ان یہ  
 حکم واضح تہ ن پاتھہ بیان فر مویتھہ پاٹھہ چھو اللہ تعالیٰ پن احکام تہ ہدایت چہ دلیلہ صاف صاف  
 بوضاحت بیان کران۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تہمدہ توبہہ تہمدہ پیہ راہ راستس گن تہ تہمدہ وتہ پیٹھہ روز و تہہ  
 ثابت تہ حکم وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ بیہ چھو لازم توبہہ اندرہ آسن کھہ جماعتہاہ تم  
 ناد آسن و وان لوکن خیرس گن یعنی دین اسلامس گن یا خیرہ چن کا میں گن۔ پانہ وان متحد و متفق روز نس  
 گن وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ بیہ سم امر آسن کران رثن کا میں ہند۔ منع آسن کران  
 پتھہ کامیو نشہ۔ معروف گیبہ تمہ کامہ یہہ موافق آسن قرآن و حدیثس۔ مکر گیبہ تمہ کامہ سمہ مخالف  
 آسن بتاب و ستس وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رثن کا میں ہند امر کرہ ون تہ پتھہ کا میں ہند منع کرہ ون  
 جماعتی چھہ آخرتس منز ثواب حاصل کر نس اندر کامیاب تہ رستگار وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَّبُوا  
 وَاخْتَلَفُوا بیہ مہ آسو تہہ اے مسلمانو تم لوکن بہہہ سمومفرق تہ الگ الگ سیدت و نیس اندر پانہ وان  
 اختلاف کور من ابعدا ماجاءهم البينات صاف صاف تہ واضح احکام تم نشہ واتنہ پتہ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۵۶﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا  
الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ آيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا  
العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۱۵۷﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ  
فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۵۸﴾ تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ  
نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۵۹﴾  
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

عَذَابٌ عَظِيمٌ تہندی خیطرہ چھو بہیہ یوڈ عذاب یوم تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ تھی دوہہ سیمہ  
دوہہ اڈین ہند بٹھہ سپدن سفید تہ اڈین ہند بٹھہ سپدن سیاہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ کس یکن ہند  
بٹھہ سیاہ سپدن تمن پیہ ونہ اَکْفَرْتُمْ بَعْدَ آيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ کیاہ انکار کوروہ  
توہہ اقرار کرنہ پتہ۔ کس تہو مزہ جہنمکہ عذابک۔ کیازہ توہے ایمان انہ پتہ کفر چہ کامہ آہوہ کران  
وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ وون تمن ہند بٹھہ روشن تہ سفید آسن۔ تم آسن خدایہ  
سندس رحمتس اندر یعنی رحمتہ جایہ اندر۔ سوگوجنت۔ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تم روزن تھہ جنتس اندر  
ہیشہ تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ بیان آؤ کرنہ تم چھہ خدایہ سند آیات تہ فیصلہ  
جات۔ تم آس توہہ پیٹھہ صحیح طور پر ان چھہ یار رسول اللہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ  
چھو نہ ہرگز مخلوقن پیٹھہ ظلم یشھان کرن۔ وون یہ کینہ ہاہ کانہ ہندہ خیطرہ جزاء و سزا ایمان آؤ کرنہ تہ  
چھو بالکل مناسب تہ موزون تہندہ کامہ موجب وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خدایہ سُدی  
چھو تہ سوزی یہ آسمان تہ زمینس اندر چھو تھہ کُن نظر کمر تھہ پڑہ ہاسارنی پنہ نس مالکہ سز فرمانبرداری  
کرن۔ سیمو فرمانبرداری کر تم چھہ ثواب و اجرس مستحق۔ سیمو نافرمانی کر تم چھہ عذاب و سزا اس  
مستحق وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ خدایہ سی کُن بین و اتانوہ ساری معاملات تہ ساری مقدمات۔  
فیصلہ چھو تس کرن۔ تس ورا ییکھ اختیارہ وولاہ آسہ نہ کانہہ تہ کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

الْأُمُورِ ۱۰۹ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ  
أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ ۱۱۰ لَنْ يُضْرَبَكُمْ إِلَّا أَدْمَىٰ وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُؤَلُّوكُمْ  
الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۱۱۱ ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا  
تَقْبَلُوا إِلَّا الْإِجْبِلَ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءٌ وَبَعْضٌ

اے مسلمانو آئیو ہتھ اُمتو آندره ہمترا متاہ در علم ازلی۔ کڈنہ آمر شو کن ہندہ فاسیدہ خیطرہ۔ تہندہ ہمترا  
آسک وجہ چھو کہ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تہہ چھوہ لو کن رٹان کا مین ہند امر  
کران۔ تہ چھہ کامیونہ منع کران۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بیہ چھوہ پانہ کنس خدا کس پڑھہ کر کس پیٹھہ  
ڈاڈ کران۔ خدا چھوہن ہمیشہ مٹزہ تہ پاک زانان شریک آسنہ نہہ۔ کس ایمان آنتھہ تہ پڑھہ کتر تھہ۔ تکن  
تکن پڑھہ کرن لازم چھہ تکن سارنی چیزن چھوہ پڑھہ کران وَلَوْ أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ  
ہر گہے بیوہ و نصاریٰ تہ ایمان آہ ہن، خدا کس کٹوی زانہ ہن، پیغمبر برحقس پڑھہ کرہ ہن۔ تہ اوس تہندہ  
خیطرہ سٹھاہ ہمترا۔ تلہ سپد ہن تم خیر الامم آسلس منز توہہ سیت شامل۔ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ  
وَالَّذِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تمبو اندرہ چھہ بعضی ایمان آندون۔ اکثر چھہ فاسق تہ کافر۔ بلکہ چھہ تم مسلمان  
دینی و دنیوی ضرور اتاؤنہ خیطرہ سخت کوشش کران مگر لَنْ يُضْرَبَكُمْ إِلَّا أَدْمَىٰ ہرگز تکن نہ تم توہہ  
ضرور اتاؤنہ تھہ۔ مگر زیوہ سیت و ن چھہ تھہ تمی سیت شہلاؤن دل پنن وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ ہر گاہ تم  
توہہ سیت مقابلہ کرنہ خیطرہ نیرن يُؤَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ تکن نہ مقابلہ کرتھہ بلکہ ڈلن توہہ کُن تھہ  
پھر تھہ شکست کھیوان ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ توپتہ ایچھہ نہ کُنہ طرفہ مدد کرنہ ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا  
تَقْبَلُوا ترانہ چھہ آمر تکن پیٹھہ خواری تہ تم لہنہ پن تہ تہہ إِلَّا الْإِجْبِلَ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ  
مگرے کانہہ بچاؤک ذریعہ خدایہ سندہ طرفہ یا لوگ ہندہ طرفہ تمبو آندرہ کانہہ حاصل آہہ سوروزہ تمہہ

مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا  
 يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۚ ذَلِكَ  
 بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۱۱۲﴾ لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِنْ أَهْلِ  
 الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ إِنَّاءَ الْيَتْلُ وَ  
 هُمْ يَسْجُدُونَ ﴿۱۱۳﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ  
 يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ

خواری نشہ محفوظ۔ خدایہ سند ذریعہ گوکہ کانہ آسہ تمہو اندرہ خدایہ سندس عبادتس سیت مشغول۔  
 مسلمان سیت آسہ نہ مقابلہ و مقاتلہ کران لوگن ہندہ ذریعہ اندرہ چھو مطلب تم آسہ مسلمان سیت صلح تہ  
 معاہدہ کورمت۔ و بآئو بغضب و من اللہ حاصل کر تھہ آے تم بہو خدایہ سند غضب و ضربت  
 عَلَیْهِمُ الْمَسْكَنَةُ یہ آسہ تراوندہ تمن بیٹھہ محتاجی تہ بد حال۔ ذلک یأثمہم کأنوا یكفرون بآیات اللہ  
 وَیَقْتُلُونَ الْأَنْبِیَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ یہ سزا آھہ امی موکھہ دنہ کہ تم آس خدایہ سندین آیات تہ احکام انکار  
 کران۔ تمن ہندہ تعمیل کرنہ نشہ دانستہ ہتھہ روزان۔ یہ آس پیغمبرن یعنی تم احکام الہی و اتاودہ و نین  
 ناحق قتل کران ذلک بما عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ بے عملی تہ بد کرداری تہ شقاوت سہز تمن امی  
 وجہہ، کہ تمہو کرنا فرمانی، یہ آس تم حدہ دلالن لیسوا سواءً چھنہ تم ساری ہی تہ برابر کیا زہ من  
 أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ إِنَّاءَ الْيَتْلُ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ اہل کتاب اندرہ چھہ  
 آھہ جماعتھہ ایم راہ راستس بیٹھہ، دین حقس بیٹھہ قائم روز تھہ چھہ۔ رات ٹیت چھہ خدایہ سند آیات  
 پران۔ یہ چھہ تم سندس حضورس اندر سر بسجود روزان یؤمنون باللہ و الیوم الآخر و یأمرون  
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ پڑھہ چھہ تمن کنس خدائس بیہ قیامتس  
 دوہس۔ یہ چھہ رٹن کائین ہند امر کران یہ چھہ چھہ کامیو نغہ منع کران۔ یہ چھہ تم رٹن کائین اندر  
 برو نٹھہ گڑھان۔ و اولیک من الصالحین یہ چھہ تم نیکو کارو اندرہ و ما یفعلوا من خیر فکن

فِي الْخَيْرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿۱۱۳﴾ وَمَا يَفْعَلُوا  
 مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿۱۱۵﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ  
 مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱۶﴾  
 مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا  
 صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَثٌ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۗ وَمَا  
 ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

يُكْفَرُوا ۗ بیه یوسه رثکامه سم کرن۔ سو هرگز تمن نش پوشیده امینده تھانہ۔ بلکہ پیچھے تمیوک  
 ثواب ضرور عطا کرنہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ چھو پورزان وول پر ہیز گارن إِنَّ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا بزپاٹ سمولو کو انکار کور، کفر سی پیٹھے  
 رُود، تمن ہیچ نہ خدایہ سیدہ عذابہ بشرہ بچاوت نہ موکلاوت کانہہ۔ تھو ند مال نہ جھند اولاد کنہ قسمہ  
 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سے لوکھ چھہ جھنمی۔ یعنی چھو تھہ منز ہمیشہ روزن۔  
 مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مثال چھہ تجیہ سم لوک خرچ کران چھہ تھہ و نیاجہ زندگی  
 آندر۔ کَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَثٌ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ تمہ و اوچ مثال تھہ منز سخت  
 سردی آسہ۔ سو وی ولتہ کنہ قومہ کس زر اٹس سمپوپان پانس ظلم کور۔ پس کور تم و اوآن سہو تھو نذر اعنت تباہ  
 نہ بر باد تھے پاٹھہ گزھہ تمن ہند خرچ کون سوزی آخر تس اندر ضائع نہ بیکار وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلٰكِنْ  
 أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ تعالیٰ ان کور نہ تمن پیٹھے ظلم۔ بلکہ کور تموپان پانس ظلم کور نہ سیت  
 کیا زہ کافر ن ہنز کانہہ عمل چھہ کور سببہ قبولیتس سزاوار یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ

لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْتُونَكُمْ خَبْرًا وَّوَدُّوْا مَا  
عَنِتُّمْ قَدْ بَدَأَ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ  
كَبُرَ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۱۸﴾ هَآئِنْتُمْ أَوْلَآءُ  
تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذِ الْقَوْمُ  
قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عٰلِيكُمْ إِلَّا نَمْلَ مِنَ الْغَيْظِ  
قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۱۹﴾

دُونِكُمْ لَا يَأْتُونَكُمْ خَبْرًا اے باایمانو! یہ آسیدھے بناوان پنہ جماعتہ وراى ہیہ کانہہ سر بوج، پنہ نین اسرارن محرم۔ تم دشمن چھنہ کانہہ کئی کران توبہہ خلاف قنہ وفساد کرس اندر وڈ واما عنیتم کانچھان چھہ تم پریتھہ وقتہ تھندہ تکلیف تہ سختی منز اسن قَدْ بَدَأَ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ تہنز دشمنی چھہ تھندہ یوچا نئیہ اندرہ نیران۔ تہنز وکتھو اندرہ وارہ نان۔ یہ چھو توتہ کی وَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ الْكِبْرُ نِس عداوت تھندہ ن دلن اندر چھو۔ سو چھو سیٹھہ بوڈتہ زیادہ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اپز پاٹھہ اسہ کتر واضح تھندہ خیطرہ تھندہ عداوتک بغانہ۔ چھوے تھہ عقلہ وال تلہ زانو تھہ پائے سمو نشانوسیت تھندہ ن دلن ہند حالات هَآئِنْتُمْ أَوْلَآءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وارہ یوزوایہ باایمان۔ تھہ چھوہ تھندہ محبت تھوان حالہجہ تہن چھونہ تھندہ محبت کیہنہ تہ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ تھہ چھوہ سارنی آسمانی کتابن ایمان آنان۔ پڑھ کران تہن چھنہ سارنی کتابن تہنز پڑھ۔ تم چھہ توبہہ سیت دھو کہ پاٹھہ پکان۔ مگر تھہ چھوہ توتہ تہن سیت دوستی ہند تعلقات تھوان۔ وَإِذِ الْقَوْمُ قَالُوا آمَنَّا یلہ تم توبہہ سمکھان چھہ تمہ ساتہ چھہ توبہہ ہونہ خیطرہ منافقانہ طریقس پیٹھہ ونان کہ اسہ اون ایمان وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلَيْكُمْ إِلَّا نَمْلَ مِنَ الْغَيْظِ مگر یلہ توبہہ وراى آسان چھہ تمہ ساتہ چھہ اتھہ پن کھیوان شرارتہ تہ تھہ سیت قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ فرما یو کہ تھہ یار سول اللہ اتھہ کھین کیاہ کتھہ چھہ ہر گاہ تھہ تھہ سیت مروتہ توتہ نیرہ نہ تھندہ مطلب إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ پز پاٹھہ اللہ تعالیٰ چھو پوزانہ ون

تَمَسَّكُمْ حَسَنَةً سَوْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا  
بِهَا وَإِنْ تُصِبرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ هُمْ شَيْئًا إِنَّ  
اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۱۳۰﴾ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ  
تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۱﴾  
إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى  
اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ

تمہ سارے کتھے سمہ تہندین سین اندر پو شیدہ چھہ ان تَمَسَّكُمْ حَسَنَةً سَوْهُمْ ہر گاہ توہہ کا نہہ  
رثا کتھاہ پیش یوان چھہ۔ کا نہہ خوشی ہنز کتھاہ واتان چھہ تمن چھو تمہہ ساتہ مصیبت پیوان وان  
تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ہر گاہ توہہ کا نہہ مصیبتاہ یا غماہ واتان چھو تمہہ ساتہ چھہ تم خوش گدھان  
تمہہ سیت۔ وون تم امہ قسمک دُشمن آسن تمنی سیت شویا توہیہ دوستی لاگن یا دوستی ہندہ تعلقات  
تھاوان۔ مگر تھنہ تہہ بانہر و تہنزہ دُشمنی سیت۔ تمیوک علاج چھو صبر وان تَصِبرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ  
كَيْدُ هُمْ شَيْئًا ہر گاہ تہہ صبر واستقلال کمرت خدا بس کھو ترو، کبہنہ ضرر ریبہ نہ واتاوتھہ توہہ  
تہونہ مکرو فریب عنہ قسمہ ان اللہ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ پزیاٹ اللہ تعالیٰ چھو تھہ سارسی یہ تم  
کران چھہ احاطہ کرہون تہہ پوزانہ ون۔ سو دیہ توہہ تہندین حالاتن ہندہ اطلاع۔ تمن دیہ سزا وَاذْ  
غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ بیہ چھوہ توہہ یادیا رسول اللہ علیہ صلوات  
دراوہ تہہ حضرت عائشہ صدیقہ سندہ حجرہ مبارک کہ اندرہ توپتہ واتوہ تہہ کوہ احدس نزدیک تہہ پیوکھہ  
توہیہ باایمان حاذجنگس پیٹھہ مناسب مناسب جاین ٹھہراون۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ اوس  
تمہہ ساتک تہندہ سوزوی کلام یوزان تہندہ حال زانان إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا  
یلہ نا توہیہ اندرہ دو یوہ جماژو ہمت ہار نک تہہ واپس تزلہ نک ارادہ کریوہ۔ خدا چھو تہندہ دوست تہہ مددگار۔  
سُو تھہ پٹھہ دیہ ہا تمن ہمت ہار تھہ تزلہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ باایمان پزہ خدایہ سی پیٹھہ



اذلّةٌ فاتقوا الله لعلكم تشكرون ﴿۱۷۳﴾ اذ تقول للمؤمنين  
 ان يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة الف من الملائكة  
 منزلين ﴿۱۷۴﴾ بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم  
 هذا يمددكم ربكم بخمسة الف من الملائكة مسويين ﴿۱۷۵﴾  
 وما جعله الله الا بشري لكم ولتطمئن قلوبكم به وما  
 النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ﴿۱۷۶﴾ ليقطع طرفا من

بھر وسہ کرن۔ تھمد مددگار چھو پریتھہ وقتہ سوی۔ کم ہمت گزھہ نہ کئہ وقتہ لاگن و لقا نصرکم اللہ  
 یبندہ پز پائھہ اللہ تعالیٰ ان کور مدد توہہ جنگ بدرس منز و انکم اذلۃ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰  
 فوجہ کی سببہ پست آسوہ سوحال آتھہ کمر نوہ یاری محض تہندہ پر ہیز گاری تہ صبر واستقلال کھہ برکتہ  
 فاتقوا الله لعلكم تشكرون ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰  
 گذاری ہند اذ تقول للمؤمنين ان يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة الف من الملائكة منزلين  
 یہ مدد تہ یاری سہز توہہ تمہہ وقتہ عطا یلہ تہہ یار سؤل اللہ دپان آسوہ بالیمان (تم یہ خبر یوزت پریشان  
 آس پدمت کہ کافرون دوت یہہ فوج مدد نہ خیطر ہ)۔ کیاہ توہہ پھنا دل مضبوط کرنہ خیطر ہ یہ تھہ کافی  
 کہ توہہ کرہ اللہ تعالیٰ مدد تر یو ساسو (۳۰۰۰) ملا نیکو سیت۔ تم والنہ آئے تہندہ مدد کھہ خیطر ہ آسان کھہ  
 طرفہ بلی ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم بے شک چھہ یہ تھہ کافی بل کھہ اچ کیاہ چھہ کتھہ  
 ہر گاہ تہ صبر واستقلال کمر وہیہ کھو ژو خدا نئس اذے دشمن توہہ پیٹھہ جوش و خروشہ سان بھگہ تہ منکھہ تہ  
 حملہ کرن ہذا یمددکم ربکم بخمسة الف من الملائكة مسويين ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰  
 تھمد رُب چھو پانژ ساس (۵۰۰۰) ملا نیکو سیت مدد۔ تم نشانہ دار آسن مخصوص وردی لاگت۔ تم یورہ  
 کئہ تیار آسن وما جعله الله الا بشري لكم اللہ تعالیٰ ان کور نہ یہہ امید اگمر تھندہ غلب کھہ بشارتہ تہ خوشخبری  
 خیطر ہ ولتطمئن قلوبكم به یہہ تھہ تھمد دل قرار رئن امہ سیت وما النصر الا من عند الله

الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتُمُهُمْ فَيَتَقَلَّبُوا خَاطِبِينَ ﴿۱۳۷﴾ لَيْسَ لَكَ  
 مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۳۸﴾  
 وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ طَيِّغُرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَ  
 يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۳۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً تَمَوْا نَقُوتُوا

العَزِيْزُ الْحَكِيْمُ بيه چھ حقيقت کہ ياری تہ مدد چھونہ کانہہ ہندہ طرفہ عزتہ و اہلس تہ حمتہ و اہلس  
 خدا اہلس و رای لِيَقْطَعَنَّ طَرَفَاتِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمُ كَافِرًا وَ اَنْدَرہ اہلس جماعتس ہلاک گرہ اَوْ يَكْتُمُهُمْ  
 فَيَتَقَلَّبُوا خَاطِبِينَ یا کر کيہ خوار و ذلیل ہس ژن تم و اہلس ناکام گرہ ہتھہ۔ چنانچہ ستن کافر ن تم ہڈا ڈانگر  
 آس آہہ گردن و نہ۔ سنت زن آہی گر فقاہ کرنہ۔ باقی ژل شکست فاش کھیٹھ۔ نبی کر تمس صلی اللہ  
 علیہ و سلم یلہ جنگ احدس منز کافر ن ہندہ طرفہ سخت تکلیف و و ت۔ و ندان مبارک سپد شہید روی  
 مبارکس سنیاہی خود شریفک کروار یاہ زخم آہی بدن مبارکس بیه آہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نہایت بے دردی سان  
 شہید کرنہ۔ دل مبارک سپد نبی کریمہ سُنْدَ تَمَّہ سیت سیٹھاہ آرزوہ۔ ازادہ کو رکھہ کہ دُشْمَن پوٹھہ کرہ ہن  
 دُعَايِ بَدِ۔ اُتِي سَپَد نازل بیه آہہ کریمہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اے پیغمبر خدا تو ہہ نہ حض چھونہ نہ  
 دخلاہ اٹھہ معاملس اندر کاہہ سپد تن مسلمان کانہہ متہ سپد تن۔ امیوک سُو رُو ی اختیار چھو خدا اہلس  
 اٹھہ توہہ پزہ صبر کرن۔ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ توتان یوتان دو یو چیز و اندرہ اکھ چیز لینہ بیه  
 یاد بیه اللہ تعالیٰ تم ن توبہ کر نک توفیق۔ تم سپد ن مسلمان۔ جہند دل مبارک سپدہ خوش یا کر کيہ کھ  
 عذابس گر فقاہ۔ ہر گاہ کُفْر سی پوٹھہ تموا اصرار کور۔ تمہ سیت شہلن مسلمانن ہند دل فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ  
 کیاہہ تم چھہ پز پٹھہ ظالم کُفْر و شرک کر چھہ سببہ۔ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خدا بیه سُنْدِي  
 چھوتہ سُو رٰی بیه آسمان تہ زمین اندر چھو یَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ مغفرت گرہ اہلس  
 یژھہ تہ اُس۔ عذاب کرہ اہلس یژھہ تہ اُس وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ بیه چھو اللہ تعالیٰ سیٹھاہ مغفرت کرہ و ن

اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۳۶﴾ وَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ  
 لِلْكَافِرِينَ ﴿۳۷﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۸﴾  
 وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ  
 وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۹﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ  
 وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ

سینچاہ رحم کرے اور نیا ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے نفع دے گا۔ یہ ایمان نہ کھیو  
 مال دو گناؤں دو گناؤں کیلئے یہ چھ سو کام پونہ جنہنس و اتناوہ۔ سوڈ چھو حرام کم آستین یا زیادہ۔ یہ چھونہ  
 مراد دو گناؤں دو گناؤں کھیو کم کھیو۔ تنہ چھہ و نان قید واقعی۔ تمہ وقتہ اوس واقع تنہ پانہ سپدان۔  
 لوک آس دو گناؤں دو گناؤں سوڈ وصول کران۔ یہ چھونہ قید احترازی تمیک مطلب یہ نیر ہاکہ دو گناؤں  
 دو گناؤں آسانا جائیز کم کم آسانا جائیز۔ وَأَتَقُوا اللَّهَ کھوڑو خدا ایس لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ تنہ  
 ہتہ سپد کامیاب۔ نارہ نشہ نجات لبنتہ واتو جنس وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّتِي أُعِدَّتْ  
 لِلْكَافِرِينَ ایس نار دراصل تیار آمت چھو کرنہ کافرن ہندہ خیرہ۔ بالیمان آتہ مہ و اتناو یو کھہ پن پان  
 کافرن ہنزہ جاییہ منز۔ نافرمایو سیت۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ حکم مانو خدایہ سُد وَالرَّسُولَ یہ تہندس  
 پیغیرہ سُد لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دیوہ توہہ پیٹھہ رحم یہ کرنہ قیامتک دودہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ  
 یہ تلو دور پنہ نس پروردگارہ سیدس بدس مغفرتس کن۔ تمہ عملہ کرو سیموسیت مغفرت تہ جنت  
 حاصل سپدیو وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ یہ تنہ جنس کن تمیوک پنہ چھو تیوت یوت  
 سٹہ آسمان تہ ست زمین دو گنہارہ نشہ موزرات کھہ اکس سیت ملاناو تنہ تھاوت گڑہہ۔ یہ گوپناہ  
 تمیوک۔ زیتھرک اندازہ چھو خدایہ سی معلوم أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ سوی جنت چھو تیار کرنہ آمت  
 خدایس کھوڑوہ و نین ہندہ خیرہ۔ ہم خدایہ سیدس حکم تقیل کرن۔ ممنوع چیز و نشہ پتھہ روزان  
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اول درجہ متقی گے تھے لوگ ہم خرچ کرن خدایہ سندہ خیرہ فی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا  
 أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ  
 اللَّهُ فَهُوَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ  
 يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۷﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ  
 جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ  
 الْعَامِلِينَ ﴿۱۳۸﴾ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي

پریتھہ حاس اندر۔ دستس اندرتہ تنگی اندرتہ وَالْكٰظِمِيْنَ الْعَيْظِ بے تم تھہ ژاپون آسن  
 وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ بے تم غفورہ دن آسن لوگن پیٹھہ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ اللہ تعالیٰ چھو  
 تہین نیلو کارن ٹوٹھہ تھاوان وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً بے گئے دوسمہ درجہ متقی تھے تم کا نہ تھہ  
 کاہا کرن اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ یا کرن ظلم پنہ نین پان پیٹھہ ذَكَرُوا اللّٰهَ تمہہ ساتہ آسن یاد کران  
 خدایہ سندس وعیدس تہ کہنکس سزاس فَاَسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ پس آسن مغفرت تہا نڈان پنہ نین  
 گو نین ہندہ خیطرہ۔ تمہہ طریقہ بسہ معانی ہینہ خاطرہ مقرر کرنہ آمر چھہ۔ سو گو ہر گاہ گندگارن بین  
 پیٹھہ زیادتی کر مر چھہ لوکن ہند حق ضایع کورمت چھو تلہ گدھہ حقدارن پنن حق واتاؤن۔ یا تم نیشہ  
 معانی حاصل کرن۔ تھہ گنہس پنہ نی پانس سیت تعلق آسہ تمہہ سیت بے کانہ ہند حق ضائع سیدمت  
 آسہ نہ تھہ منز گدھہ خدایہ سی نش معانی حاصل کرن وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ کس اکھاہ چھو  
 مغفرت کرہ دن سارنی گنن خدائس وراى۔ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ بے آسن  
 نہ تم لوکھہ تھہ تھہ کامہ پیٹھہ اصرارتہ ڈاؤ کران زاتھہ کرتھہ اُولٰٓئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ  
 تھے لوکھہ گئے تم تم نین ہنرمز و رچھہ بڈ مغفرت پنہ نس خدایہ سندہ طرفہ وَ جَنَّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا  
 الْأَنْهَارُ بے تم جنت سمو منزہ جو یہ پکان آسن خَلِيْدِيْنَ فِيْهَا تمنی جتن اندر روزن تم ہمیشہ وَ نِعْمَ  
 اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ کیاہ رژمز وریاہ چھہ یہ رژہ کامہ کرہ نین ہندہ خیطرہ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ

الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿۱۳۲﴾ هَذَا  
 بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۳﴾ وَلَا تَهِنُوا  
 وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۴﴾ إِنْ  
 يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ  
 الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  
 وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۵﴾

زبیاٹ گڈریے توہمے بروٹھہ واریاہ طریقہ لوک۔ یمن منز مسلمان تہ آس یمن منز کافر تہ آس۔ تمن سپد پانہ وان اختلاف تہ مقابلہ۔ لیکن انجام کار سپد کافر ن شجکت تہ تاہی مسلمان فتح و نصرت۔ ہر گاہ تہہ تمہدین ہلاکتہ کین آثار ن تہ نشان ہند ملاحظہ کرن یشہان چھوہ۔ **فَمَسُوا فِي الْأَرْضِ** پس پھیر توہمے روے زمینس **فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ** پس وچھوہ تا فرمان۔ پڑھ نہ کرہ وین ہند انجام کیاہ چھو سپد مت۔ **هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ** یہ چھو واضح کلام لوکن ہندہ خیرہ۔ تم ہر گاہ اتھ منز غور کرن۔ بد عبرت سپد بچھہ حاصل۔ **وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ** یہ چھو بوڈ ہدایت تہ نصیحت خاص خدا پس کھو تہہ وین ہندہ خیرہ **وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا** یہ ہر گاہ تہہ و کین تہہ جنگ احدس منز مغلوب تہ سپد و کیا ہش کتھاہ گنیہ۔ امہ سیت مہ سپد و تہہ سست یہ مہ کھنیہ امیک غم **وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** تمہی سپد و غالب ہر گاہ تہہ پوختہ با ایمان تہ پڑھہ وال آس۔ تہہ پیٹھہ ثابت قدم رُوڑو۔ **إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ** ہر گاہ ازی تہہ جنگ احدس اندر ووت توہمے تکلیف کیاہ ہش تہہ چھہ **فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ** پس تھتھن ووت اتھ قومس یعنی تمن کافر ن تھتھوی تکلیف جنگ بدرس منز **وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ** اس چھہ تم زندگی ہند ایام لوکن اندر وارہ واریہ بدلا وان۔ اکہ دوہنہ عیش و آرام یہہ دوہنہ غم تہ تکلیف **وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا** یہہ ووت توہمے یہ تکلیف تہہ تر اوہ اللہ تعالیٰ با ایمان۔ **وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ** یہہ تہہ و اتاواہ توہمے اندرہ بعضین شہادتہ کس

وَلِيُخَصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَبْحَثَ الْكٰفِرِينَ ﴿۱۳۶﴾ أَمْ  
 حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا  
 مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الضَّالِّينَ ﴿۱۳۷﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ  
 قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۱۳۸﴾ وَمَا  
 مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَأَبْرَأُ

مرتبس یعنی توبہ اندر بعضین کرہ شاذ تک درجہ عطائس شود مرتبہ چھو۔ واللہ لایحیث الظالمین  
 اللہ تعالیٰ چھو نہ پسند کران ظالمین یعنی کافران سے مٹر کن۔ یعنی تمہی غلبہ دین امہ مؤکھ نہ کہ تم کیاہ  
 چھس ناٹھ بلکہ آسہ اتھ اندر تہندی خیطرہ واریاہ مصلحو۔ ولایخصص اللہ الذین امنوا اچی بیاکھ  
 مصلحت آس بیٹھ اللہ تعالیٰ صاف و پاک کرہ ہا با ایمان امہ تکلیفہ سیت گنن ہند و آلا یثونغہ۔ ویبھق  
 الکفرین۔ بیہ بیٹھ گا بہا سمن کافرن۔ یعنی تمن دین مؤقہ ظلم و ستم کرہ نک بس ظلم و ستم تہندہ تہا ہی  
 ہند باعث بنیو۔ اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ کیاہ توبہ چھا خیال تہہ کیاہ و اتوجشس آزمائشو سے  
 امتحان و ورا۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الضَّالِّينَ۔ وینہ آسہ نہ نیو مت کہ جماد  
 گم کو توبہ اندرہ سے تکلیف بیٹھ صبر کرہ و ن کم چھہ توبہ اندرہ۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ  
 قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ پڑاٹھ آسو تہہ مؤ تک تمنا کران سو و چھہ بروٹھ یعنی خدایہ سزہ و تہ اندر آسو تہہ  
 مرن یڑھان۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ بس تھقین و چھون توبہ سو اچھو سیت۔ وون کیا زہ  
 چھوہ بانبر ان۔ یلہ جنگ احد س منز کافر و غلبہ لوب تمن تیر اندازن ہندہ جایہ ڈلنہ سیت یم گوہ درس  
 اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظتہ خیطرہ مقرر کورمت آس۔ فر موومت او سبھکھ اگر تہہ و چھو  
 سہ دشمن چھہ چھہ ماز ثنان توتہ ڈلرہ نہ تہہ پتہ جایہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسے دو بیہ شیتھہ زخم۔  
 وند ان مبارک سپد شہید یعنی اکھ کھنڈ آیہ و تہہ آس دندس سمہ سیت خون جاری سپد۔ بیہ آیہ کر کیکھ  
 وند تہندہ شہاد تچ سمہ سیت بعضے صحابہ صین ہند حوصلہ ہست سپد تھی وقتہ کور نازل اللہ تعالیٰ ان وما

مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۖ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ  
عَقْبَيْهِ فَلَنُيَضِّرَنَّ اللَّهُ شَيْئًا ۖ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۴۴﴾  
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ كَتَبَ مُوَجَّلًا ۖ  
مَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ  
الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۖ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿۱۴۵﴾ وَكَأَيِّنْ  
مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ ۖ فَمَا وَهَنُوا

مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ ۗ يَهُونَ حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ ﷺ مگر پیغمبر اور۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ گنمت چھ تمہیں  
برونٹھ واریاہ پیغمبر آقاؤں مَاتَ کیاہ ہر گاہ تم پائے۔ سمعہ عالمہ گنمتِ آسن اَوْ قُتِلَ يَادُشْمَنِ ہندہ اتھ  
شہید سپد مت آسن انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ کیاہ تہہ پھیروہ پوت تمہ موکھ تراوہ تہہ جماد  
کران۔ یاڈلوہ تہہ امہ دین اسلامہ نشہ کفر س کن وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ لَنْ اَکْهَہ پھیرہ پوت اودہ  
پھیرن فَلَنْ يُضِرَّ اللَّهُ شَيْئًا پس کانہ ضررتہ نقصانہ ہیکنہ نہ اتاوتھ اللہ تعالیٰ اس بلکہ چھوس تمیک  
ضررتہ نقصان پان پانس وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اللہ تعالیٰ دیہ جلدی رثرمزور شکر گزاران وَمَا  
كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بیہ تھا دوویاد کانہ اکھاہ ہیکنہ نہ مثر تھ خدایہ سدہ حکمہ واری  
کتاباً مُوَجَّلًا پر تھہ آسند مران ہٹھو لیکنہ آمت، وقت مقرر کرنہ آمت۔ ژانہ سیت نہ ہیکنہ سو وقت  
تھہ نیر تھہ۔ ثابت قدم روزنہ سیت ہیکنہ نہ بروٹھہ تھہ۔ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وون  
لُس اکھاہ عمل کر تھہ دنیاوی ثواب نہ مزور یژھان چھوٹس چھہ کران اس تمہ منزہ کینہہ عطا وَمَنْ  
يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا بیہ لُس اکھاہ آخر تک ثواب نہ مزور یژھان چھوٹس تہ چھہ اس  
تمی منزہ عطا کران۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ بیہ کزواس جلدی رثرمزور عطا شکر گزاران۔  
وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ ۖ بیہ کئییاہ پیغمبر یمن سیت سیت جماد آس کران۔  
واریاہ لوکھ خدایہ سند یور تیوبند واندردہ کافران سیت۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس

لِمَا صَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا  
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿۴۶﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ  
 قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا  
 وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۴۷﴾  
 فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ  
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ  
 تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا أُيِّرْ دُكُومُكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا

آس نہ تم خدایہ سہ بندہ سست سپدان خدایہ سزہ وہ جگس اندر تکلیف واتتہ سیت وَمَا ضَعُفُوا  
 وَمَا اسْتَكَانُوا نہ آس تم ہمت ہاران۔ نہ آس تم دشمن بُروٹھہ گنہ ہتھیار تراوان نہ آن مانان بلکہ  
 آس خوب مضبوطی سیت تکلیفیں پیٹھہ صبر کران۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ چھو صبر و  
 استقلال کرہ وینن سیٹھاہ پسند کران۔ ٹہوند چھو محبت تھاوان وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ آس نہ تم  
 تکلیف و اجبہ وقتہ کینہہ ونان إِلَّا أَنْ قَالُوا مگر آس خدایہ سی منگان رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اے  
 سانہ پروردگارہ مغفرت کرتہ گنہن سائین۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا بیہ ہر گاہ سانہ طرفہ کینہہ زیادتی  
 نہ کوتاہی لبنہ آہ سانہ کامہ اندر وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا مضبوط تھاو قدم سان وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ  
 الْكَافِرِينَ غلبہ وہ اسہ کافرین پیٹھہ صبر و استقلال لکہ برکتہ بیہ دعاء و التجاء کہ برکتہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ  
 الدُّنْيَا پس عطاور اللہ تعالیٰ ان ثمن و ثبہک ثواب یعنی غلبہ تہ مال غنیمت وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ  
 بیہ آخر تک رت ثواب تہ رت مزور وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ آس چھہ سیٹھاہ ناٹھہ امہ  
 قسمک نیکو کار بندہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے بالیمانو إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا اگر تہہ مانو  
 کافرین ہزہ تھہ يُرَدُّوْكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تم پھر نوہ توبہ پوت گھر س کن فَتَنْقَلِبُوا خسرین پس ہو



خُسْرَيْنَ ﴿۱۴۶﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِيرِينَ ﴿۱۴۷﴾  
 سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا  
 بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَ  
 بِئْسَ مَثْوٰى الظّٰلِمِينَ ﴿۱۴۸﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَاةٌ  
 اِذْ تَحْسَبُونَهُمْ بِاٰذِنِهِ حَتّٰى اِذَا فِشَلْتُمْ وَتَنٰزَعْتُمْ  
 فِي الْاٰمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ اٰمُرِكُمْ مَا تَحْبِبُونَ

جہ تہہ تاوان زد دُنیاو آخرتس اندر۔ بیہ سپدہ توہہ پر ہتھہ قسمہ ناکامی۔ کافر بن نہ زانہہ تہ تہندہ دوست  
 بلی اللہ مولاکم بلکہ بھو اللہ تعالیٰ تہندہ مولیٰ تہ آقا۔ مددگار تہ دوست وَهُوَ خَيْرُ النَّصِيرِينَ  
 سوی بھو توہہ سارنی ہندہ خوتہ بہتریاری کرہون سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ جلدی  
 تراو داس کافرن ہندین دن منزہیت تہ رعب بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا  
 کیا زہ تمو کیاہ ٹھہر او کس خدائس تہ چیز شریک تہن ہندہ قابل شریک آسنہ خیطرہ نہ تم کانہہ دلیلہ  
 نازل کر وَمَا لَهُمُ النَّارُ تم کافرن تہ مشرک ہنز جای چھہ نار جہنم وَ بِئْسَ مَثْوٰى الظّٰلِمِينَ  
 سو چھہ سیٹھہ چھہ جائے تہن ظالمین تہ مشرک ہندہ خیطرہ تم خدائس و رای بین تہ معبود زانان چھہ  
 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَاةٌ حَقِيقَةٌ پوز کور اللہ تعالیٰ ان وعدہ پن توہہ سیت اِذْ تَحْسَبُونَهُمْ بِاٰذِنِهِ  
 یلہ تہہ تم کتروان آسوکھہ ، ماران آسوکھہ تہندہ حکمہ توتان یوتان جہہ مضبوط آسہ حَتّٰى اِذَا فِشَلْتُمْ  
 ادہ یلہ تہہ پانہ سست سپدیہ وَتَنٰزَعْتُمْ فِي الْاٰمْرِ بیہ کورہ اختلاف نبی کریمہ سیدس کھس اندر  
 وَعَصَيْتُمْ مِّنْ اٰمُرِكُمْ مَا تَحْبِبُونَ تہندہ کھمک پابند رووونہ تہہ۔ حالہہ تم (خداین)  
 اوس توہہ ہوومت سو چیز نس توہہ پسند اوس غلبہ تہق۔ وون آس ضرورت بیہ کھنہ کالاصبر کرکچ۔  
 مگر توہہ کورونہ مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا توہہ اندرہ آس بعضی تم دنیا زھانڈان آس وَمِنْكُمْ

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ  
 ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَ  
 اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵۲﴾ اِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا  
 تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ ۚ وَ الرَّسُولُ يَدْعُكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ  
 فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ  
 وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۵۳﴾

مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ بِہ آس بعضی تم آخرت ژھانڈان آس امی سببہ سپد توبہ منز اختلاف سمعہ وجہ  
 تہہ نبی کریم ﷺ سندس خمس پیٹھہ رُودہ نہ ۱۵۲ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ توبہ پھر نوہ تہہ اللہ تعالیٰ  
 ان تمن کافرن نشتہ تہہ آسوہ غالب توبہ سپدوہ مغلوب۔ توبہ سزاو نہ خیطرہ نہ بلکہ توبہ آزمايش کرنہ  
 خیطرہ کہ توبہ اندرہ کہ چہہہ منافق کہ چہہہ بایمان۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ یعنی زانو کہ اللہ تعالیٰ ان اور توبہ  
 عفو۔ توبہ سپدہ نہ آخرتس اندر تہہ امیک کا نہہ بازخواست وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ  
 تعالیٰ چھو فضلہ وول بایمان ہندہ حقہ۔ تالیئکہ امہ نافرمانی سببہ کر نوہ نہ تہہ ساری ہلاک اِذْ تَصْعَدُونَ  
 وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ تہہ پاو پین حال تہہ جس جزم تہہند کوتاہ سخت اوس یلہ تہہ کہ اوس کھسان کھسان  
 ژلان آسوہ نہ تہہ گن آسوہ نہ کاسہ گن نظر تہہ دو ان وَالرَّسُولُ يَدْعُكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ حالانچہ یہ  
 بوڈ پیغمبر اوس توبہ پتہ پتہ نادا نادر وان اکی خدایہ سند یو بند و ژو مہ واپس پھیر و مہ گن یو چہوس پیغمبر خدا  
 مگر توبہ بوزوی نہ کیہ نہ۔ فَأَتَابَكُمْ پلے واتوہہ توبہ خداین غَمًّا بِغَمٍّ غم پیٹھہ غم۔ لِّكَيْلًا  
 تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ یوتھنہ تہہ مال غنیمت اٹھ گدھنک تہہ جسمانی  
 تکلیف واتنک غم کھیو۔ کیا زہ بدہ غمہ سیت چھو لوٹت غم مشتہ گدھان۔ بدہ غم گئے صحابہ صین ہند  
 شہید سپدن بیہ نبی کریم ﷺ سندہ شہادتچ خبر بوزن۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ آس چھہ  
 خبر سمعہ سارچی یہ تہہ کر ان چھوہ ۱۵۳ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنًا توبہ سوز اللہ تعالیٰ ان توبہ پیٹھہ

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً  
 مِنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ  
 ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ  
 الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ  
 لَوْ كَانِ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ نَأْتِينَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ  
 لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ

اکی مسلمانو لمحہ غمہ پتہ آرام و قرار نُعَاسًا بندراہ یَغْشَى طَآئِفَةً مِنْكُمْ یوسہ و لہ آہ توبہ اندر  
 اِس جماعتس۔ یعنی با ایمان۔ تمہہ سیت رُودنہ تمہن غے ژیتس وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ بیاکھہ  
 جماعت تمہن آس پے مژپنہ پانچ فخر کہ آس تھہ پانھہ مَوکلویتہ یعنی منافق یَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ  
 الْجَاهِلِيَّةِ تمہ آس خدائیس نسبت لہز خیالات تھاوان جاہلیتک تہ حماکتک خیالات يَقُولُونَ هَلْ لَنَا  
 مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ونان آس تمہہ جھہ اختیار کئے چیزک۔ یعنی سوان جھہ بوزان تم۔ سانہ مشورے  
 تمہن پچھن یوت پٹھہ ماوانہ بانوبت۔ تہہ گو معنی تمہ آس ونان۔ بنیو وہ آسہ، حاصل سپدہ آسہ سو چیز سمیوک  
 وعدہ آسہ تھاوانہ اوس یوان۔ یعنی فتح تہ غلبہ۔ یہ آس منافق ونان۔ مسلمانن ڈالہ۔ گمراہ کرنہ تہ بدظن  
 کرنہ خیطرہ قُلْ تَبَّہ فرماو کھہ یارسول اللہ لَآئِ الْأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ پڑپانھہ سارکوی اختیار چھو کُنس خدائیس۔  
 یہ سویشہہ تی بنہ یُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ کھٹت چھہ تھاوان پانس رُشہ تَآلَا يُبْدُونَ لَكَ تمہہ تمہہ تھہ  
 سمہ نہ نثر اوان چھہ توبہ نش يَقُولُونَ لَوْ كَانِ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ونان چھہ تمہ منافق ہر گاہ آسہ تان  
 یکھنہ آسہ ہالینی سانہ مشورہ موعبے عمل کرنہ آسہا آمزیا ہر گاہ سوان دین پوز آسہا تَأْتِينَا هُنَا تیلہ  
 تمہہونہ اس مارنہ بیتھہ میدان اُحدس اندر۔ آسے دیو وہ جنگ کردنہ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ فرماو یواکھہ  
 تَبَّہ یارسول اللہ ہر گاہ ہے تَبَّہ آسو گر ن پنہ نین اندر تہ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ  
 البتہ ضرور نیرہ ہن تمہ لوکھہ تمہن بیتہ میدان اُحدس اندر مر ن لیکھنہ اوس اُمت۔ پنہ نین مرچن جاہن

اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُبْحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَاقْتُلُوا لِيَجْعَلَ

کُن وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ بِيهٍ يَهَيِّجُهُمْ هَاهُ هُنَا سِدِّدْتَهُ اللَّهُ تَعَالَى آ زَمَانِيَش كَرِهَهَا مَا فِي صُدُورِكُمْ تَهْتَبِيَه تَهْتَدِيَن تَسِينِن مَنْزِيَه دَلِن مَنْزِرِ چُھُو لِيَنِي اِيْمَانٌ وَلِيُبْحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ بِيَه تَهْتَبِيَه وَارِه صَاف تَنْزَاوِه هَاتِرِيَه تَهْتَدِيَن دَلِن اَنْدَرِ چُھُو وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اَكْرَجِه اللّٰهُ تَعَالَى اَسْ چُھُو پَانَس پُوْر عِلْم سَارِنِي هِنْدِيَن دَلِن هِنْد - مَكْر تَهْتِيَن مَوْقَعِن پِيْئَه چُھُو سُوْ اَزْمَانِيَش تِه اَمْتِحَان كِرَان يَهْتَبِيَه لُو كُن تِه پِتَاهِ لَحْمِ كَمْ چَهْتِه بَا اِيْمَان تِه كَمْ چَهْتِه مَاتِقِ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ پَزِيْاْ تِم لَوْ كَهْتِه تِم تَوْبِه اَنْدَر تَلِ يَوْمِ التَّقَى الْجَمْعِيْن تَمْمِه دُوَه تَهْتِه سَمْمِه دُوَه زِه جَمَاهَرِ مُسْلِمَانِن هِنَزِ جَمَاهْتِه تِه كَا فَرِنِ هِنَزِ جَمَاهْتِه اَكَه اَكْسِ مُقَابِلِ رُوْدِ جَنْكِ اَحْدَسِ اَنْدَرِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ تَمْمِ ذَالِنِه كَانَسِه مَكْر ذَالِ شَيْطَانِ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا تَهْتَبِيَه وَارِه صَاف تَنْزَاوِه هَاتِرِيَه تَهْتَبِيَه تَمْمُو كَرِه لِيَعْنِي كُوَه دَرِه مَنْزِه نِيَرِنِه سِيْتِ سَبُو جَايِ خَالِي تَرَاوْنِه سِيْتِ - وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ پَزِيْاْ تِم اللّٰهُ تَعَالَى اِن كُوْر تَمْنِ عَفُو اِنَّ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ پَزِيْاْ تِم اللّٰهُ تَعَالَى چَهُو سِيْئَهَاءِ مُغْفِرَتِ كَرِه دَلِن تَرِيْذِ كَرِه دَلِن - گَنْجْ گَارِن چُھُو نِه فُوْر اَرْتَانِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا اِي بَا اِيْمَانُوْمِه بِنُو تَهْتِه كَا فَرِنِ بِي - لِيَعْنِي مُنَافِقِنِ هِي - تَمْمِ اَكْرَجِه وَنَانِ چَهْتِه پَانَسِ مُسْلِمَانِ مَكْر دَرِ حَقِيْقَتِ چَهْتِه تَمْمِ كَا فَرِنِه تَهْتِه مَه كَرُو تَمْمِه قَسِيْمِي كَهْتِه سَمْمِه تَمْمِ كِرَانِ چَهْتِه وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ اِيْلِه تَمْمِ سَفَرَسِ چَهْتِه نِيَرَانِ كُنْه شَهْرَسِ كُنْ يَا اِيْلِه جَمَادِ كَرْنِه چَهْتِه نِيَرَانِ تُو پِيْتِه چَهْتِه سَفَرَسِ اَنْدَر مَرِنِ يَا چَهْتِه جَمَادِ اَنْدَر شَهِيْدِ سِيْدَانِ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَاقْتُلُوا هِرْ گَاهِه تِم اَسْمِنِ اَسِي نِيْشِه پِنِه نَسِ شَهْرَسِ اَنْدَر سَفَرَسِ يَا جَمَادِ اَسْمِنِيَه دَر اَمْتِ تَلِه مَامَرِه هِن نِه يَكْنِ مَارِنِه - اِي بَا اِيْمَانُو تَهْتِه مَه

اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۵۷﴾ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتُمْ كَفَّرْنَا مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۵۸﴾ وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قَتَلْتُمْ لِرَايِ اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿۵۹﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

آسولمہ قسمیہ تھے وہاں لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ کرہ سمجھ تھے تہمزہ تہمیدین دل اندر بوڈ حسرت تہ افسوس۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ اللہ تعالیٰ ہی چھو زندہ تھوان تہ ماران۔ سفر آستن یا حضر۔ جنگ آستن یا امن موت و حیات چھو تسندی اختیار س اندر وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ تعالیٰ چھو تھہ ساری بیہ تہہ کران چھو ہوارہ ڈ جھان۔ سوڈیہ توہہ تہم مزور۔ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَاتُمْ بیہ ہر گاہ توہہ خدلیہ سزہ دتہ اندر یعنی جہاد کران کران مارنہ بیو یا مر و تہ بکھاہ پروا چھو۔ كَفَّرْنَا مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ خدایہ سُنڈ مغفرت تہ تہمز رحمت چھہ تہمہہ خیطرہ سیٹھاہ بہتر تمہ ساری خوتہ بیہ تم لوکھہ سونبر او ان یا و تان چھہ وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قَتَلْتُمْ لِرَايِ اللَّهِ تُحْشَرُونَ بیہ ہر گاہ تہمہ مزور یا مارنہ بیو جہاد س اندر، ضرور چھو توہہ سُنڈ تہ جمع سپدن معبود برحقس نشہ بیہ نہ کانہہ نشہ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ پس خدایہ سندی رحمتہ سیت سپدہ توہہ یا رسول اللہ تہمہہ حقہ نرم تہ حلیم یمن لوکن ہندہ خیطرہ سمو تہمز مخالفت کر۔ توہہ اوس حق تمن سختی سیت بازخواست کر نک وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ اگر تہہ آسہو خدا نخواستہ ڈ کھل۔ دلہ در۔ سُنڈ خو ضرور ڈلہ ہن تم تیلہ توہہ نشہ۔ محروم سپدن تم تہمڈ یو فیض و برکات تو نشہ۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ پس کرو تہہ تہ تمن معاف بیہ مگو تہمہہ خیطرہ خدایس مغفرت وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ بیہ آسو تمن سیت تنہن معاملکن پٹھہ مشورہ کران۔ تمہ سیت سپدن تہمہ

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۶۸﴾  
 إِنَّ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلكُمْ فَسِنَّ ذَ الَّذِي  
 يَنْصُرْكُم مِّنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۹﴾ وَمَا  
 كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ طُومَن يَغْلُلُ يَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۷۰﴾ أَقْبِنِ اتَّبِعْ  
 رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِّنَ اللَّهِ وَمَا أُوهِ جَهَنَّمَ وَ

حوصلہ بلند فَاذًا عَزَمْتَ پس یلہ تہہ کنہہ معاملس اندر مشورہ کر تھہ کنہہ رلیہ پیٹھہ پوختہ ارادہ آسو کر ان  
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پس آسو پورہ اعتماد کر ان خدائس پیٹھہ تو پتہ سو کام کر ان إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ  
 پتہ پاٹھہ اللہ تعالیٰ آس جھہ ناٹھہ تھس پیٹھہ اعتماد کرہ دن بندہ إِنَّ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ توبہ مد  
 تہ یاری کرہ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ تیلہ بیجہ نہ کانہ اکھاہ توبہ پیٹھہ غالب سہ تھہ وَإِنْ يَخْذُلكُمْ ہر گاہ سؤہ  
 توبہ مدد کرہ نہ فَسِنَّ ذَ الَّذِي يَنْصُرْكُم مِّنْ بَعْدِهِ پس گوہ اکھاہ چھوٹس توبہ تھس پتہ یاری بیجہ کر تھہ  
 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس خدایہ کسی پیٹھہ بیہ نہ کانہہ آس پیٹھہ کرن اعتماد با ایمان جنگ بدر  
 کہ مال غنیمتہ اندرہ یلہ رَاؤُ اَکھہ سُرُخِ ثَاڈِرَاہ۔ لُو کُو ڈُو پ یہِ ثَاڈِرِ آسہ تھو مشر تلتھہ نبی کریم صلی اللہ  
 علیہ وسلم پتہ خاص استعمال خیطرہ۔ اللہ تعالیٰ ان سوزیہ آیہ کریمہ۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ طُومَن چھوٹہ  
 ہر گز سز او ار کانہہ پیغمبرس سوزیاہ کرہ خیانت مال غنیمتس اندر وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تھس  
 اکھاہ مال غنیمتس اندر خیانت کر تھہ کانہہ چیز تھاوہ تلتھہ خاص پتہ خیطرہ۔ سو پیہ قیامتک دوہ سو چیز پتھہ  
 پیش کرنہ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ تو پتہ بیہ پر تھہ آس پورہ بدلہ دنہ تھو کہ یہ تم کو رمت آسہ  
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ تمن بیہ نہ کنہہ قسمہ ظلم کرنہ أَقْبِنِ اتَّبِعْ رِضْوَانَ اللَّهِ آیائس اکھاہ پیروی کرہ خدایہ  
 سزہ رضامندی۔ مال غنیمتس اندر کرہ نہ کنہہ قسمہ خیانت۔ یعنی تی کرہ بیٹھہ خداراضی آسہ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِّنَ اللَّهِ  
 سوچھا برابر تھس شخصس بیوہ تھس واپس گزھہ خدایہ سز بیزاری ہی بیٹھہ۔ نافرمانی تہ

بِسِّ الْمَصِيْرِ ﴿۱۳۷﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِصِيْرِهِمْ  
 يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۸﴾ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا  
 مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ  
 وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۳۹﴾ اَوْلٰٓئِكَ  
 اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَهَا قُلْتُمْ اِنّٰى هٰذَا قُلْ

خیانت کرنے سبب۔ ہرگز چھنہ ہم زہ برابر بلکہ چھو فرمانبردار سے الامتداس خدا راضی۔ نافرمان سے خیانت  
 کرہ ونس پٹھہ چھو خدا بیزار۔ وَاَوْلٰٓئِكَ جَهَنَّمَ بِيَهْتَمُ تَسْزِيْ جَانِ نَارِ جَهَنَّمَ وَبِسِّ الْمَصِيْرِ كَاثِرًا  
 ہجھہ جای چھہ سونار جہنم هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ تم لوکھہ چھہ مختلف درجائن پٹھہ امانت داری چھو  
 تھو درجہ پنہ نس خدا بس نشہ جتن اندر۔ خیانت کرہ ون چھہ جنمی وَاللّٰهُ بِصِيْرِهِمْ يَعْمَلُونَ بِيَهْتَمُ  
 چھو اللہ تعالیٰ تہنرہ سارے کلمہ پانہ وچھان۔ کہہ چھو امانتداری کہہ چھو خیانت کرہ ون۔ بس مال عام  
 مسلمان ہند آسہ یاکنہ یاکنہ مدرسک آسہ تھہ منز خیانت کر نس سے چھو یوے سزائیں مال غنیمتس  
 خیانت کرہ ون سیدہ خیرہ اذ بیان کر نہ لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ پڑاٹھہ اللہ تعالیٰ ان تھاؤ بدعت  
 بالیمان پٹھہ۔ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ کیا زہ سوزن تمن منز پیغمبرہ جلیل القدر سے عظیم  
 الشان تموی منزہ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ بس پیغمبر تمن خدا یہ سید آیات پران چھو۔ وَيُزَكِّيْهِمْ بِيَهْتَمُ  
 پیغمبر تمن جاہلانہ خیالون نشہ پاک کران چھو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ بِيَهْتَمُ چھو کھہ پچھانوان قرآن مجید  
 وَالْحِكْمَةَ بِيَهْتَمُ ہنرہ کھہ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ پڑاٹھہ آس تم تہنرہ تشریف آنہ  
 بروٹھہ نہ گرائی اندر اَوْلٰٓئِكَ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ کیاہ یلہ ووت توہرہ جنگ احدس منز کھہ تکلیفہ سے  
 مصیبتہ قَدْ اَصَابَتْكُمْ مِّثْلَهَا حالانکہ توہرہ واتووہ تمن دشمن تمہ دوگنہ جنگ بدرس منز۔ سٹھہ کروکھہ  
 قتل۔ سٹھہ کروکھہ قید تمونرہ قُلْتُمْ اِنّٰى هٰذَا دہنہ لگوہ تہہ تجہ کن یہ مصیبت کیا زہ سناؤت آسہ یعنی  
 تھہ پاٹھہ ووت آسہ گوٹھہ نہ واٹن آسے مسلمان آس۔ آسہ سیتہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اوس۔

هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۷۵﴾  
 وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَى الْجَمْعِينَ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ  
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۷۶﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْادُ فَعَوَّاهُ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعُنَا ۗ ط  
 هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ جہہ فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مصیبت و موت توہم پہ نہ فی  
 طرفہ۔ کیا زہ جہہ نے مخالفت کر ہو میانس کھمس یہ حالت سپدہ ہانہ توہم۔ لَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
 پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھہ چیزس پیٹھہ قدرتہ وول۔ یاری کرنس پیٹھہ تہ۔ چنانچہ کرنوہ توہمہ نن یاری  
 بدرس منز۔ یاری نہ کرنس پیٹھہ تہ یلہ توہمہ پانہ غلطی کرنوہ ذرہ خالی تراونہ سیت جنگ احدس منز۔  
 وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّتَى الْجَمْعِينَ بیہ بیس تکلیفہ تہ مصیبتہ و موت توہمہ تمہہ دوہنہ تمہہ دوہنہ  
 جماڑکھہ اگس سیت میجر جنگ احدس اندر فَبِإِذْنِ اللَّهِ پس ووت سو مصیبت توہمہ حکم خدا تھہ  
 منز واریہ حکمہ آسہ۔ تمو حکمہ اندرہ گیہ اگھہ حمت وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ بیہ تھہ معلوم سپدہ ہابا ایمان  
 کم چھہ۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا بیہ تھہ معلوم سپدہ ہامناق کم چھہ کیا زہ مصیبتہ وقتہ چھو ننان۔  
 مُخْلِصٍ كَمْ چھہ غیر مخلص کم چھہ۔ وَقِيلَ لَهُمْ وَننہ آیو تمن مناقن یلہ تم ٹل میدان جنگ تراوتھہ تم  
 گے عبد اللہ بن اُبے بیہ جہز جماعت تم ترہ (۳۰۰) ہتھہ لوک آس تَعَالَوْا أَيُوا اہس قَاتِلُوا فِي  
 سَبِيلِ اللَّهِ جہاد کر و خدایہ سزہ و ہتہ اندر۔ أَوْادُ فَعَوَّاهُ تہ نے توتہ کر یوکھہ دشمن پانس نشہ دغ قَالُوا لَوْ  
 نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعُنَا ۗ دہنہ لگ تم ہر گاہ آس زانہ ہو جنگ کرن تلہ روز ہو توہی سیت هُمْ لِلْكَفْرِ  
 يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ تم مناقن آس تمہہ دوہنہ نیز نزدیک کفرس ایمانہ خوتہ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ  
 تَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَنان چھہ تم ہی پنہ نیو چا نیو سیت یہ نہ تہندین دکن منز چھو یعنی ول چھو کہ اگھہ تہ  
 زیو پھکھہ بیاکھہ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اللہ تعالیٰ چھو تہ پور زانان تہ سوزی یہ تم کھتھہ تھوان چھہ



قَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿۱۷۸﴾ الَّذِينَ قَالُوا  
 إِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا وَالْوَاكِعُونَ مَا قَاتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنِ  
 أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۷۹﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۸۰﴾  
 فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ  
 يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۸۱﴾

الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانِهِمْ تم گئے تاتے سمو دوپ پنہ نین ہم نسب باہن ہندہ حقہ تم جنگ احدس منز شہید سپد وقعدوا حالانکہ پانہ زود بہتھے گرن اندر لُواكِعُونَ مَا قَاتِلُوا ہر گاہ تم سون مانہ بن مارہ گدھے بن نہ۔ اسہ دیوک مہ نیز و جنگس۔ گرہ بہتھے کیاہ چھہ تمکن تھہ پھوران قتل فرماؤ یوکھہ تہہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَادْرَءُوا عَنِ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تلا دور بیٹھو کر تھہ تہہ پنہ نیو پانونشہ مران۔ ہر گاہ تہہ پوزونہ ون ہجورہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیہ مہ کر تہہ ہر گز گمانہ اے بوزونہ تمن لوکن متعلق تم شہید سپد خدایہ سزہ وتہ اندر أَمْوَاتًا تم کیاہ چھہ مردہ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلکہ چھہ تم زندے پنہ نس پروردگار س نش۔ تمن چھو تمہ عالمک رزق تہ یوان عطا کر نہ بس تھہ عالمس منز شوہ۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ خوش چھہ تم تموی مہر بانو سیت سمہ تمن عطا کرہ مژہ چھہ اللہ تعالیٰ ان پنہ فضلہ سیت وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ بیہ چھہ تم خوش تہ مُرور سپدان تمن لوکن ہندہ رتہ حالہ سیت لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ یمن ونہ تمن نشہ وات۔ یہ بوزنہ سیت کہ أَلَّاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تمن کیا چھونہ کانہ خوفانہ کانہ نماہ۔ تم چھہ امن وامانس اندر زندگی بسر کران يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِ اللَّهِ وَخُشْيَةِ اللَّهِ گدھان پروردگارہ سہہ نعمتہ سیت تہ ہندہ فضلہ سیت وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بیہ سمہ تھہ سیت کہ اللہ تعالیٰ چھونہ ضایع کران با ایمان ہنزان عملن ہنز مزور۔ جنگ احدہ پتہ یلہ کافر واپس گدھان آس تم

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضِيلٍ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ  
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤١﴾ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا  
 أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٤٢﴾  
 الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ  
 فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٤٣﴾

لگ پاپہ وال ان ذیبتہ کہ اسہ کر بد غلطی۔ سون گوژھہ مسلمان پیٹھ پورہ حملہ کرن۔ کیا زہ اس سپہ ای تمن  
 پیٹھ غالب۔ لہذا چھو بہتر اس گڑھویتہ پیٹھ بیہ والپس۔ بیہ کرو تمن سیت جنگ توپتہ کر وکھہ تم کی ساتہ  
 ختم۔ مگر اللہ تعالیٰ ان تروو تہندین ولن اندر رعب۔ تمویہوک نہ امہ جایہ پیٹھ بیہ والپس گڑھتھہ۔ انج  
 خبر و اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی۔ تمویہ سوز صحابہ صمیم ہنز اکھہ لشکر اکھہ تمن کافرن  
 تعاقب تہ لار کرنہ خیطرہ۔ آتھہ اندر سمٹھہ تمن کافرن اکھہ قافلہ نس تجارتہ خیطرہ مدینہ شریفس گن  
 گڑھان اوس۔ تمن دوچھہ تہہ ونزہ مسلمان کہ منکب لوکھہ چھہ توہمہ سیت بیہ جنگ کر انج تیاری کر ان۔  
 مسلمانویلیہ یہ خبر یاز تمویہ دوپ کانہہ پروا چھونہ۔ اسہ چھو بس اللہ تعالیٰ۔ آیندہ آیات کر یمن منز چھو  
 اللہ تعالیٰ امی واقعک تذکرہ کر ان۔ اکثر مفسر چھہ فرماوان کہ یہ چھو غزوہ حمراء الاسدک واقعہ۔ یہ چھو  
 کہ جایہ ہندناویسہ مدینہ شریفہ پیٹھ آتھہ میل دور چھہ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ تم با ایمان  
 سَمُوْهُم مِّنْ خَدَائِعِ سُنْدِیہ پیغیر خدایہ سُنْد یعنی درای کافرن تعاقب تہ لار کرنہ خیطرہ مِنْ بَعْدِ مَا  
 أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ جنگ اُحدس منز تکلیف تہ زخم واتنہ پتہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ تہندہ  
 خیطرہ تمویہ نیکی کر ختم ماننہ سیت۔ بیہ رُوو پتھہ نافرمانی نشہ چھہ بڈمزور سوگو جنت۔ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ  
 النَّاسُ یمن بعضی لو کو کوینیوو إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ پڑپاٹ ڈٹمن چھہ سپدان جمع یا چھہ تم سامان  
 حرب جمع کر ان توہمہ سیت بیہ جنگ کرنہ خیطرہ فَاخْشَوْهُمْ پس کھو ژو تمن۔ تمن سیت مُقابلہ کرنہ نشہ  
 رُوو پتھہ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا یہ بوزنہ سیت ہر یو تہندہ ایمانک جوش وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ

فَانْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَسْسَمُهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا  
 رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿۱۶۲﴾ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ  
 يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهُ ۗ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۶۳﴾  
 وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوْا اللّٰهَ شَيْئًا

الْوَكِيْلُ ۗ بِيہ دُپک کانہہ پروا چھو نہ آسہ۔ بس چھو آسہ اللہ تعالیٰ بیہ چھو سوئی رُت وکیل۔ آس چھہ پنے سارے کامہ تس پُغر او ان۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھہ فرماوان بیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل چھو سو کلمہ ئس حضرت ابراہیم ہر۔ نارس منتر تراویحہ وقتہ اللہ تعالیٰ اَن کو رکھہ کفایت۔ ئس کلمہ پُر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ تہند یو صحابہ صیو جنگ اُحدس منز اللہ تعالیٰ اَن کو رتمن تہ کفایت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان فَاَنْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَسْسَمُهُمْ سُوءٌ پس گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ تہند صحابہ صیب خدایہ سز بد نعمت تہ بوڈ فضل بیتہ۔ ووت نہ تمن کانہہ تکلیفہ تہ کانہہ سختیہ۔ **وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ** پتہ پتہ پک تم خدایہ سزہ رضامندی **وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ** اللہ تعالیٰ چھو بوڈ فضلہ وول۔ جنگ اُحدہ پتہ یلہ کافر ثل ابو سفیان لگ دپنہ وون چھو توہہ تہ آسہ بیاکھہ مقابلہ بدر صغریٰ کس موقعس پیٹھہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و نہ ناؤس ادہ کیاہ منظور چھو آسہ۔ سو دوہ یلہ سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درای صحابہ صیب بیتہ تہ تہہ جلیہ۔ مگر ابو سفیانس درے بیہ نہ کوٹھہ۔ اگرچہ تمواؤس اکھ شخصہہ سو رُمت ئس مسلمانن ہندین دلن اندر خوف و ہیبت تراوان اوس۔ مگر تہندین دلن اندر سپد نہ تمیوک کانہہ اثر بلکہ سپد تہوند ایمان تمہہ سیت بیہ ہن زیادہ مضبوط۔ تم سپد لڑایہ خیطرہ بالکل تیار تمہہ چی تعریف چھو اللہ تعالیٰ فرماوان۔ بیہ چھو کھہ اللہ تعالیٰ حوصلہ بڑاوان۔ فرماوان چھو کھہ **اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهُ ۗ** بیہ خبر دنہ وول چھو نہ مگر شیطان ئس کھوڑہ ناوان چھوہ توہہ پنے نین ہم مذہب دوستن ہندہ سیت یعنی کافر ن ہندہ سیت ای میانبو دوستو با ایمانو **فَلَا تَخَافُوهُمْ** تہہ مہ کھوڑو تمن ئنہ وقتہ **وَخَافُوْنِ** تہند گڑھہ کھوڑن مے یوت **لَنْ يَضُرُّوْا** **مُؤْمِنِيْنَ** چھوے تہہہ با ایمان تہ پڑھہ وال **وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ** توہہ مہ ہز کرن غمگین

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ ۗ وَأَلَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶۶﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَأَلَمْ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۶۷﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهَا تُنْبِئُهُمْ خَيْرٌ  
 لِأَنْفُسِهِمْ ۗ إِنَّهَا تُنْبِئُهُمْ لِمُومِنِينَ لَمَّا لِيَزِدُوا دُؤْلًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۱۶۸﴾  
 مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ

تم لو کہ تم کفر سُن جلدی جھہ کران یعنی منافق۔ یان تم و چھان جھہ مسلمان ہند پوتر کوت گوشان۔  
 ائی جھہ تم کفر سُن واپس پھیران تہ کفر چہ کتھہ و منہ ہیوان اِنَّمَنْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا پڑاٹ تم ممکن نہ  
 ہرگز کانہ نقصان و اتاوتھہ اکس ذرس برابر تہ خدائس یعنی خدایہ سندس دینس۔ بلکہ جھہ و اتاوان  
 نقصان پنہ نس پانس یُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ اللہ تعالیٰ چھو یشھان تمن دیدہ نہ آخرتس  
 اندر کانہ حصہ یعنی تمن کرہ آخر تکہ کیونتمتہ مہربانیونشہ حُروم وَاَلَمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بیہ چھو تہندہ  
 خیطرہ بوڈ عذاب نار جہنمس اندر اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ پڑاٹھہ سمومثل ہیوت کفر ایمانس  
 یعنی ایمانہ بدل کورکھہ اختیار کفر لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا تم نہ ممکن نہ ہرگز کانہ نقصان و اتاوتھہ خدایہ  
 سندس دینس عنہ قسمہ وَاَلَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تمہ مہ کھبو تمن ہند کانہہ غم کیازہ تہندی خیطرہ چھو ڈگ  
 تلمہ و ان عذاب وَاَلْيَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اَنَّهَا تُنْبِئُهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ بیہ مہ کرن گمان کافر اس  
 یوسہ مہملت ووان جھہ تمن سو کیاہ جھہ رثتہ جان تہندہ خیطرہ اِنَّمَنْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا اس جھہ نہ  
 تمن مہملت ووان مگر یتھہ تم گنھن منز زیادتی کرن۔ یعنی یتھہ تہندی گنھن ہنز ناؤ بر نہ ایہ۔ پتولا کہ  
 یتھہ یحہ وٹ سزاوندہ۔ دنیا س منزئے تمن عذاب بیہ کرنہ وَاَلَمْ عَذَابٌ مُهِينٌ بہر حال چھو تہندی  
 خیطرہ آخرتس منز کڈر عذاب مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ چھو نہ  
 یشھان سو کیاہ تراوہ توہہہ با ایمان تھہہ حالس پیٹھہ یتھہہ حالس پیٹھہ تہہہ و یکینس چھوہ یعنی امتیازہ ورا ای بلکہ  
 چھو سو یشھان با ایمان تہ بے ایمان منز فرق کرن۔ یتھہ کُن نظر کر تھہ چھو سو سختی تہ تکلیف نازل

الْخَبِيثَاتِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِٗٓ وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝۹۹ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخُلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لّٰهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لّٰهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَٰخَلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِٓ

کران حتی یبیز الخبیثات من الطیبات۔ تمہ اللہ تعالیٰ ناپاکن پاگوشہ یعنی کافرین سے منافقین باایمانوں سے الگ کرے۔ یہ چھوٹان آزمائشوسیت باایمان چھ آزمائش پیٹھ صبر کران۔ منافق چھنے تاب کران۔ تم چھ ایمانہ سے دست بردار سپدان **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ** یہ چھوٹہ اللہ تعالیٰ سندان سوا کیاہ کرہ توہہ خبر پوشیدہ معاملن ہنز یعنی توہہ کیاہ باوہ سو۔ کبہ چھو باایمان سے کبہ چھو منافق۔ نہ سے نہ نہ۔ **وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ** بلکہ چھو سو برگزیدہ کران۔ چہ نیو پیغمبرواندرہ لیس یشھان چھوٹس چھو پوشیدہ حالات باوان **فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِٓ** پس کٹر وپڑھ کنس خداکس یہ تھندین سارنی پیغمبرن **وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ** ہر گاہ تہہ کفر وشرک تراوتھہ ایمان آو، کفر و نافرمانی نہ تہہ روز و تملہ چھہ تہندہ خیطرہ بڈمزور آخرتس اندر **وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخُلُوْنَ بِمَا اٰتٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لّٰهُمْ** یہ مہ کمرن گمان تم کوکھہ سم بخل چھہ کران سوامال خرچ کرنس اندر کس تمن اللہ تعالیٰ نے عطا کرینہ فضلہ سیت۔ سو بخل کردن کیاہ چھو تہندہ خیطرہ جان۔ ہرگز نہ **بَلْ هُوَ شَرٌّ لّٰهُمْ** بلکہ چھو سو بخل کردن تہندہ خیطرہ سیٹھہ تھہ کیاہ **سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَٰخَلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ** جلدی یہہ نال تراونہ تمن سوامال سون سے روپھہ) بیج زکوٰۃ سے صدقہ کس اندر تم بخل کران آس قیامتک دوہ۔ تمہہ مالس یہہ سرفاہ سے اژدھابناوت ٹخیلہ سزہ گردنہ منز نال تراونہ۔ کس کس ٹوپہ آسہ دوان سے تڑپ آسہ ہیوان پرازہ آسہ تڑان۔ سوی اژدھا آسہس وپان انا مالک انا کنزک بوچھوسے نہ وپدر بوچھوس مال چوں۔ بوچھوس خزانہ چون سمہ پیٹھ نہ تہ خدایہ سد حقوق اوسکھ ادا کران۔

بِاللَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۸۶﴾  
 لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ  
 أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ  
 وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۸۷﴾ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ  
 أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿۸۸﴾ الَّذِينَ قَالُوا  
 إِنَّ اللَّهَ عَهْدُ الْيَتِيمَا إِلَّا نُؤْمِنُ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا

خُل کرزن چھو سیٹھاہہ کبازہ ساری بلہ مرن سوڑی ولتہ خدایہ سی نش و اللہ میراث السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ خدایہ سندی سپدہ خود بخود سوڑی۔ حقیقتہ پاٹھ آسمان وزمین ہند مالک اوس تہ سوی تہ سپدہ  
 تہ سوی۔ لہذا بے سندس ماس اندر خُل کرزن کاژاہ حماقت چھہ۔ یہ شخص نے خُل کرہ ہا خدا یہ سندی مال  
 خدایہ سزہ وتہ اندر خرچ کر نہ سیت زینہ ہامنز یہ اکھ بوڈ فاندہ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ یہ چھو اللہ  
 تعالیٰ تہ سوڑی زانان یہ تہہ کران چھوہ۔ لہذا یہ خرچ کران آسو تہ آسو مخلوص دل خرچ کران۔ محض  
 خدایہ سندہ رضا خیرہ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ تھین اللہ تعالیٰ ان بوڑہ پانہ  
 تمن لوگ ہنزہ تھہ تم ونان آس اللہ تعالیٰ چھو (نعوذ باللہ) محتاج۔ تمی چھو لوکن قرض منگان وَنَحْنُ  
 أَغْنِيَاءُ اُس چھہ مالدار۔ بوڑس بیٹھے چھہ اکتفا کران سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا بلکہ چھہ اس لیکھتھہ  
 تھوان تہنزہ سمہ سارے تھہ تہندین نامہ اعمال منز وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ یہ چھہ اس لیکھان  
 تہنزہ کامہ تہ کر توت۔ یک گنیہ ناوالاد تمن لوکن ہند سمو بیغیر چھہ ناحق مارمت ہم یلہ چھہ تمنس منز تراوند  
 پن وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اس ولوکھ ژہو مزہ دزبھہ عذابک۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ  
 أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ یہ عذاب چھو تمنی کا میں ہندہ بدلہ سمہ کامہ پنہ نیوا تھو کرہ  
 مرہ چھوہ۔ اللہ تعالیٰ تہ چھو بندن نسبت ظلم کرہ ون تہ طریقہ جزمہ ورا ی کیاہ دیہک سزا الَّذِينَ قَالُوا  
 إِنَّ اللَّهَ عَهْدُ الْيَتِيمَا إِلَّا نُؤْمِنُ لِرَسُولٍ ہم بہو دگے تہ لوک سمو اپز نور اوت ڈوپ کہ اللہ تعالیٰ

بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ  
 وَبِالذِّمَى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۸۲﴾  
 فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا  
 بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۱۸۳﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ  
 الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن  
 زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا

ان چھو اُسے بروٹھیں پیغمبر ان ہندہ ذریعہ حکم فرمواؤمت کہ اُس کرو نہ پڑھہ کانہ پیغمبرس توشتان  
 حاشی یآیتینا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ یوتان نہ سواسہ ہا وہ خاص مجڑہ سوگو خدایہ سدہ خیطرہ لیہ نذرو  
 نیاز کرنہ۔ تہہ قربانس یعنی نذرو نیازس گڑھہ آسماجہ طرفہ نارہ اون سوی کھیہ تہہ نذرس یعنی زالیس  
 قُلْ فرماؤکھ تہہ یارسول اللہ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ ہزپاٹھہ آے توبہ کن واریاہ  
 پیغمبر مہ بروٹھہ نہ دلیلہ ہتھہ۔ وَبِالذِّمَى قُلْتُمْ ہیہ سو مجڑہ ہتھہ تہہ سمیک تہہ مطالبہ کران چھوہ قُلْ  
 قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اُدہ کیازہ مارو کھہ توبہ تم پیغمبر اگر تہہ پوزوان چھوہ۔ فَإِنْ كَذَّبُوكَ  
 فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ پس ہر گاہ توبہ تم لو کھہ تکزب کرن کانہ پرومہ بروٹھہ یارسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹک توبہ بروٹھہ کیتاہ پیغمبر آے تمن تہہ آو تکزب کرنہ۔ یہ نوکٹاہ کانہ  
 ہتھہ۔ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالكِتَابِ الْمُنِيرِ تم تہہ آس نہ دلیلہ ہدایت نامہ تہہ روشن کتابہ ہتھہ  
 آمت۔ ای لو کو توبہ مہ روز نو خیال دینا سی منز ماچھوروزن نہ۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ پر ہتھہ  
 شخصہ ماچھورہ نک مزہ تہہ ون یعنی پر ہتھہ اُس چھورن۔ سمہ دینا ہہ اندرہ نیرن وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ  
 أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ توبہ سارنی ہیہ پورہ پورہ بدلہ ونہ تہہ مزور ونہ پنہ نین پنہ نین کا مین ہنزہ۔ نیکن  
 رٹمزور نا فرمان سخت سزا۔ مگر قیامتگ دوہ۔ فَمَن زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ  
 پس اُس تہہ دور ہیہ تھاو نہ نارہ نشہ واتا نہ ہیہ جتس منز۔ ہزپاٹھہ سوی سہد کامیاب تہہ رستگار۔ تسد

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ الْآمَتَاءُ ۗ الْغُرُورِ ۗ ۝۸۵ ۗ لَتُبْلَوُنَّ فِي  
 أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
 الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا  
 ۗ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝۸۶  
 وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ  
 لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ۗ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ

مرا دسپد حاصل۔ بیٹھے پانچھ لیس جنتہ نشہ دور آؤ تھاوند۔ جہنم منر آؤ تراوند سوسپد سخت ناکام تہ نامراد  
 وَمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ الْآمَتَاءُ الْغُرُورِ ۗ بیہ پھنہ یہ دنیا بچ زندگی مگر دھو کھٹک آکھ سوداہ سمیک  
 ظاہری رونق و چھتھہ خریدار تنبلان چھو۔ توپتہ پھو سو چیز مثل ہیوان۔ کبہنہ دوہ گڑھتھہ پھو تھہ سو ماہیہ  
 دو تھان۔ تلہ کنہ چھونہ سو کنہی آسان۔ بیٹھے مثال پھہ دنیا چہ زندگی ہنز۔ امہ زندگی ہند عارضی رونق  
 و چھتھہ گڑھتھہ نہ آخرتہ نشہ غافل سپدن لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ضرور ایو ہتھہ  
 آزاونہ ای مسلمانو مالی نقصانہ سیت تہ جانی نقصانہ سیت وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ  
 قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا ۗ بیہ یوزو ہتھہ ضرور آیندہ تمن لو کن نشہ تمن توہیہ برو تھہ  
 کتابہ آہیہ ونہ یعنی بہودو نصاریٰ ان نشہ بیہ مشرکن نشہ دل آزاری ہنزہ واریاہ تھہ سمو سیت توہی سیٹھاہ  
 تکلیف واریہ مگر وَإِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۗ ہر گاہ تہ تھہ پٹھہ صبر کرد  
 خلاف شرع کامیو نشہ پھہ رُوزو ہتھہ خیطرہ چھوتی بہتر۔ کیا زہ یہ صبر تہ تقویٰ چھو تمبو کامیواندرہ  
 تمن ہند سیٹھاہ تاکید چھو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۗ تریس پادویلہ عمد کرنا  
 وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّ الْإِبِلَ كِتَابَ ۗ یعنی تمن کوزن حکم توپتہ کور تمو تسلیم لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ۗ ضرور نراوہ سمہ  
 کتابہ ہند ساری مضمون واضح طور و اتنا وزہ تم لو کن وَلَا تَكْتُمُونَهُ ۗ ہر گز تھاوزہ نہ امہ کتابہ ہند کانہ  
 مضمونہ کھٹھہ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ۗ پس تر دو تمویہ عمد پس پشت آتھہ پٹھہ کر کھہ نہ کانہ عمل



وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿۱۸۷﴾ لَا تَحْسَبَنَّ  
 الَّذِينَ يَفْرَهُ حُونَ بِهَا أَتَوًّا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِهَا لَمْ  
 يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّ لَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۸۸﴾ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ  
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۸۹﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۱۹۰﴾

وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا یہ کچھ یہ کتاب کم مونس بیچ نہ کہے تہ حقیقت چھہ فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ  
 پس سنیٹھاہ پیٹھ چھو تہ یہ سمو اتھہ زیون کیا زہ امیک سزا چھو نار جنم لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَهُ حُونَ بِهَا  
 اتَوًّا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِهَا لَمْ يَفْعَلُوا تہہ مہ ہز کر و خیال کہ تم لو کہہ یم خوش سپان چھہ پنہ نین  
 چھہ کا مین پیٹھہ یہ چھہ پسند کر ان لو کہہ گڈھہ تہنن کا مین ہنز تعریف کرن سمہ نہ تمو کرہ مثرے چھہ  
 ہر مرہ۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ لَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ پس ہر گونہہ کر و تہہ گمان دنیاء اس اندر تہنہہ خاص  
 عذابہ نشہ بیچ کیاہ چھہ کا نہہ صور تھاہ بلکہ دنیاءس اندر تہہ یہہ تمن عذاب کرنہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
 یہہ چھو تہندی خطرہ ہڈر عذاب آخر تس اندر وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یہہ چھہ اللہ تعالیٰ  
 سزے سلطنت آسمان تہ زمین ہنز چونکہ سوی چھو پادشاہ حقیقی لہذا چھو لازمی تہ ضروری تہنہہ لحم  
 گڈھہ مان۔ تہنن نافرمانی کرن چھو سخت جرم وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہہ چھو اللہ تعالیٰ پر چھہ  
 چیزس پیٹھہ ڈر تہ وول تمس چھہ نافرمان سزاؤس پیٹھہ تہ پور قدرت إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ پڑاٹھہ آسمان تہ زمین ہندس پیدہ کرنس اندر وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ یہہ  
 ڈہکس تہ راکس یکس گڈھہ صلس اندر چھہ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ ضرور واریاہ دلیلہ تہ نشانہ خدیہ  
 سندس سوی آسس پیٹھہ عقلہ والین ہنہہ خطرہ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ  
 تم عقلہ وال تہ گائل لوک گئے تہ سم یاد چھہ کر ان معبود برحقہ سند پر چھہ حلس اندر۔ وودنہ روز تھہ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ  
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا  
خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹﴾  
رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ  
مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۲۰﴾ رَبَّنَا إِنَّنا سَمِعنا مُنَادِيًا يُنَادِي  
لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

تہ۔ بہتھ تہ لرتراوتھ تہ ویتفکرون فی خلق السموات والارض یہ تم فکر تہ تامل چھہ کران  
آسمان وزمینہ کس پیدہ کرنس اندر۔ درذکر و فکر مشغول روزت چھہ۔ وان تم۔ ربنا ما خلقت هذا  
باطلا اے سانہ پروردگارہ تہیہ کر تھکنہ تم مخلوقات پیدہ بے معنی تہ بیکار۔ بلکہ چھہ تم ساری  
چیز چاہے قدرت کاملچہ دلیلہ۔ تکی چیز چھہ دلالت کران چانس وجودس تہ وحدانتیس سُبْحَانَكَ  
منزہ تہ پاک چھوک تہ کانہہ کام بے ہودہ کرنہ نشہ۔ اس چھہ اتھ بدل وجان اقرار کران فِقِنَا  
عَذَابَ النَّارِ پس بچاؤ اسہ موحد آسجہ وجہہ نارہ کہ عذابہ نشہ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ  
أَخْزَيْتَهُ اے سانہ پروردگارہ اس چھی تے نارہ نشہ سمہ موکھہ نجات منگان تہ تہ بس اکھاہ و اتاودہ ہن  
نارس پس بیشک سوکور تھن تہیہ سخت رسواتہ خوارتمہ عذابہ سبت وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ  
چھونہ ہرگز تھن ظالمن تہ نشہ کانہہ مددگارہ بس چاہے امہ عذابہ نشہ بچاؤہ چھہ رَبَّنَا إِنَّنا سَمِعنا  
مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ اے سانہ پروردگارہ ہتھہ پاٹھہ اسہ چانیو مخلوقا تو سبت چانس  
وجودس تہ وحدانتیس پیٹھہ استدلال کوریتھہ پاٹھہ یوز اسہ بواسطہ یا بلاواسطہ آلودہ و ناہ آلودہ وان ایمانس  
گن اعلان عام کران کہ اے لوکو أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ انوا ایمان پنہ نس پروردگارہ سندس ذاتس تہ  
تھمدس صفتان فَاغْفِرْ لَنَا اے اون اسہ ایمان امہ نقلی دلیلہ سبت تہ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اے  
سانہ پروردگارہ۔ وون کرتہ مغفرت اسہ سائنن بڈین گنہن وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا یہہ کر معاف اسہ

ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبِرَارِ ﴿۱۳۶﴾  
 رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا نَحْزُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِعَادَ ﴿۱۳۷﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ  
 عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرُوا أَنِّي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ  
 فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِّنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي  
 وَقُتِلُوا أَوْ قَتِلُوا أَلْكَفَرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا أُدْخِلُهُمْ  
 جَنَّةٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَ

سان لوکٹ گناہ تہ و تَوَقَّنَا مَعَ الْآبِرَارِ بیہ مارا سہ نیلو کارن سیت شامل تھوتہ۔ یعنی سون اند کر  
 بر ایمان رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ اے سانہ پروردگارہ عطا کر اسہ تمہ سارے مہربانی یمن  
 بند وعدہ کور تھہ ژ یہ پنے نین پیغمبرن ہندہ ذریعہ۔ وَلَا نَحْزُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رسوامہ گر اسہ قیامتک دوہ  
 نارس منز واتا ونہ سیت۔ اسہ واتا و ابتداء جنتس۔ ژ تہ چھوتھہ امیک وعدہ کور مت إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ  
 الْبِعَادَ پز پانٹھہ ژہ ہرگز وعدس بدل کر کھنہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ  
 مِّمَّنْ ذَكَرُوا أَنِّي نھس اجابت کور تمن تھند پروردگارن تھندس مگنس۔ فر موویکھہ یو چھوس نہ ضایع  
 کران تہ راوہ راوان کانسہ عمل کرہون سز عمل توہہ اندرہ۔ اڈہ سؤ مرد آستن یازنانہ بَعْضُكُمْ مِّنْ  
 بَعْضٍ تھہ چھوہ پانہ وان اڈاؤین ہند جزوینے ثواب حاصل کرنس اندر چھوہ تھہ ساری برابر فَالَّذِينَ  
 هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِّنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ قَتِلُوا پس سہو لو کو ہجرت کر تم پنے نیو  
 شہر واندرہ کڈنہ آئے۔ تمن میانہ وتہ اندر ایذا تہ تکلیف ونہ آو سہو مقابلہ کور کارن سیت تم مارنہ تہ  
 شہید کرنہ آئے لْكَفَرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ البتہ ضرور کرہہ تمن بخشالیش تھندین تمن گنہن یمن  
 میانین حقون سیت تعلق چھو وَلَا أُدْخِلُهُمْ جَنَّةٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ بیہ واتا و کھہ یو تم تم

اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹۵﴾ لَا يَغْرَبُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿۱۹۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ﴿۱۹۷﴾ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿۱۹۸﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿۱۹۹﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خُشْعِينَ

جنتن اندر سمومنز جو یہ پکان آسن کواکبا من عند اللہ یہ چھ تم خدایہ سندہ طرفہ تهنزن رثون عملن ہنز مزور و اللہ عیندہ حسن الثواب اللہ تعالیٰ سی نعمہ چھور رثون عملن ہند رت ثواب لا یغرتک تقلب الذین کفروا فی البلاد اے پوزرہا نڈونہ بیٹھ نہ حض یہ دھوکہ دینی کافر ان ہند اورہ پورکران شہرن آندر نیاء ک تتع تلان متاع قلیل یہ چھوزنگی ہند کم سامانہ۔ بے اعتبار کینون ڈوبن روزہ ون۔ مرنہ سیت گڑھہ یہ سورے ختم ثم ما و لهم جہنم چھ پتولا کہ چھ تهنزے جاعے نار جہنم۔ و بئس البھاد کاڑھ چھہ جایا ہ چھ سو لکن الذین اتقوا ربھم لیکن تمولو کو اندرہ سم کھوژان خدائس پنہ نس تہ مسلمان تہ فرمانبردار سپدن لھم جنت تجری من تحتھا الأنھار تہندہ خیطر چھہ تم تم جنت سمومنز جو یہ پکان آسن خلدین فیھا تمنی جنتن اندر روزن ہمیشہ۔ نزل من عند اللہ یہ چھ پیش کشاہ یوسہ تمن واتہ ونوی برونھ کنہ بیہ تھاونہ خدایہ سندہ طرفہ۔ وما عند اللہ خیر للابرار بیہ سم کیندہ ہاہ خدائس نعمہ چھو نیکو کارن ہندہ خیطرہ تہ چھو بدر جماسیٹھا رت تمہ خوتہ یہ کافر نیاہ اس اندر و ان من اهل الکتاب لمن یؤمن باللہ بیشک بیہ چھہ اہل کتابو اندرہ ضرور کینہ لوکھ تم پڑھ کران چھہ کس خدائس وما انزل الیکم بیہ تھہ یہ کیندہ ہاہ توہن نازل آو کر نہ وما انزل الیھم بیہ یہ کیندہ ہاہ تمن لو کن ن نازل آو کر نہ خشیعین باللہ سمہ طریقہ چھہ تم کھوژان خدائس کہ لا یشترون بالیت اللہ شئاً قلیلاً تم چھنہ بین اہل کتابن ہند پاٹھ

لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ أَمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۹۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰۰﴾

خدا کیے سند کلام کم حقیقت مونس کنان اُولَٰئِكَ اَمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تھے کیا ہے جہہ تم لو کہہ یہ ہنر۔  
رژمزور جہہ ہندس پروردگار س نثرہ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بیشک اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب بوزہ  
ون حساب بوزتھ کرہ سوتھن مزور عطا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا صبر کرو تکلین پوتھ  
مضبوط زوزویلہ کافرن سیت مقابلہ کرو وَرَابِطُوا مُستعد تہ تیار زوزو وَاتَّقُوا اللَّهَ بیہ کھو ژو خدا انس  
پریتھہ حالس اندر۔ شریعتہ کیوحد و نثرہ مہ ذلومئہ حالس اندر لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تمی سیت سپد و نثرہ کامیاب  
پریتھہ کامیہ اندر۔ ذنیاءس اندر تہ تہ آخرتس اندر تہ۔



سُورَةُ النِّسَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ  
وَإِحْدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وْنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱ وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ  
وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۝ اے لوگو کھوڑو اپنے نفس پروردگار سے مخالفت نہ نافرمانی کرنے یعنی الَّذِي  
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَإِحْدَةٍ ۚ تم بہت پیارے اور وہ کسی شخص سے یعنی حضرت آدم ۙ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
بہت پروردگار نے پیدا کر تمہیں شخص سے یعنی حضرت حوا ۙ تیسرا یہ کہ خدا نے حضرت آدم  
سے زانیہ کا یہ منہ بے منہ ۚ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ یہ تم سے جو اس کے منہ سے نکلے وہ تمہیں  
تو زانیہ کے شمار ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ یہ کھوڑو اس خدا سے جس سے تمہیں  
تہمت ہے اس سے یعنی اپنے منہ سے کہہ کر ان کے منہ سے کہہ کر ان کے منہ سے کہہ کر ان کے منہ سے کہہ کر ان کے منہ سے کہہ کر  
اد۔ دونوں میں سے کھوڑو نہ نکالو اور نہ ہی ان کے منہ سے کہہ کر ان کے منہ سے کہہ کر ان کے منہ سے کہہ کر ان کے منہ سے کہہ کر  
آشنائی ہند حقوق ضائع کرنا یہ کھوڑو ۝۱ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ بیشک اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیشہ  
تو ہم پر نظر فرماتا رہتا ہے۔ سو کھوڑو ہند ساری حالت پانہ چھان ۙ وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۚ یہ آسوا  
والیہ سے سربراہ ہو سکتے ہیں اپنے مال کے حوالہ کرنا یہ وہ اس کے دوان ۙ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۚ یہ نہ  
آسویں روئے مال ہند سرتس ماس سے بدلوان ۙ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ یہ نہ کھو

إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
تُقْسِطُوا فِي الْيَثَمَىٰ فَإِنكِ حُومًا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مِثْنِي وَثُلُثَ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا  
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ  
وَإِنَّ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةٌ ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ  
عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۗ وَلَا تَوْتُوا

تہند مال ملہ ناوت پنہ نس ماس سیت۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ہر پڑاٹھہ بہ مال بدلاؤن چھو سیٹھاہ بوڈ  
گناہ ۛ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَثَمَىٰ بہ ہر گاہ تہہ کھو ژو یتیم کورین سیت نیتھر کر تہہ ماہیکو  
نہ اس تمن منز عدل و انصاف قائم تھو تہہ فَإِنكِ حُومًا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثُلُثَ  
وَرُبْعٍ تلہ گدھہ تہند ہکال کزن تمن یتیم کورین ورا ای بین زنان سیت سمہ توہہ خوش کر نوہ یزیتہ۔  
تریہ۔ تریہ تہ۔ ژور۔ ژور تہ ۛ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً پس ہر گاہ زہ زنانہ۔ تریہ زنانہ یا ژور  
زنانہ آسنہ کس صورتس منز تہہ کھو ژو عدل تہ انصاف بکياہ ہیکو نہ کر تہہ تمن منز سارنی معاملن اندر تیلہ  
گدھہ کسی زنانہ پیٹھہ اکتفاء کزن اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یا کبیرہ بیٹھی۔ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا بہ  
یعنی کسی زنانہ پیٹھہ یا صرف کبیرہ پیٹھہ اکتفاء کزن چھو زیادہ نزدیک ہتھہ تھہ کہ تہہ کرد نہ بے انصافی  
وَإِنَّ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةٌ بہ آسو ووان زنان مہر تہند دلہ چہ خوشی سان ۛ فَإِنْ طِبْنَ  
لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا پس اگر تمہہ زنانہ پنہ خوشی سیت مہرہ اندرہ  
کا نہہ حصہ یا سوزی مہر تراون پس کھیو تہہ تہ تہہ تہ ضرر کہ اندیشہ ورا لی سو چھو تہندہ خیطرہ مزہ دار تہ  
خوشگوار جبر کر تہہ مہر بخشاونہ سیت چھونہ مہر معاف سپدان۔ تھہ پاٹھہ جلسازی کر تہہ کاغذس پیٹھہ  
زنانہ ہند دستخط یا نیٹھہ کر نانہ سیت چھونہ مہر بخشش سپدان وَلَا تَوْتُوا الشَّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمْ اگر یتیم  
بالغ سپدن مگر تم آسن و نہ کم عقل تلہ مہ آسو ووان تمن کم عقلن سو مال پن۔ اَلَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

السُّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيمًا وَأَرِزْقُوهُمْ  
 فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝  
 وَابْتَلُوا الِّيْتِمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ اسْتَمْتُمْ  
 مِنْهُمْ رُسْدًا فَاذْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا  
 إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا  
 فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
 فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ

قِيمًا نِس مال عام طور اللہ تعالیٰ ان چھو بنوومت زندگی قایم تھاو تک اکھہ ذریعہ سوی تمن کم عقل  
 بکن اتھہ لمحہ تم کرن سُو ضایع تہ خراب۔ وَأَرِزْقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ بیه آسیو کھہ تمہہ منزہ  
 کھیواو ان چاوان۔ بیه آسیو کھہ پو شاک بناوان وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا بیه آسیو کھہ زیوہ سیت  
 معقول طریقہ سیت فہما نیش کران تسلی دوان کہ یہ مال چھو تھندی۔ اس چھہ محض ایچ حفاظت کرنہ  
 خبطہه وَابْتَلُوا الِّيْتِمَىٰ بیه آسوتیمین آزمائش کران۔ تھندہ ذریعہ آسو بازہہ کانہہ چیزانہ ناوان  
 تا اینکه معلوم آسہ سپدان تھندہ فہم وشعور کوت دوت حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ یوتان تم تھتر کرنس  
 قابل سپدان آسن فَإِنْ اسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُسْدًا پس اگر تھہہ لبو تمن منزہ صلاحیت مالچہ حفاظت کرنچ  
 فَاذْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ اودہ دیو تمن مال پٹن یعنی کریو کھہ سپرد وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَ  
 بِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا بیه مہ آسو مال تھندہ زیادہ خرچان، جلد جلد موکلاوان۔ سمہ خیالہ کہ تم  
 ماڈن تہ بالغ سپدان۔ پتہ پتہ نہ آسہ خرچنک تہ کھینک کانہہ موقع وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ بیه  
 نِس ولیاہہ نہ سر پر ستاہ مالدار آسہ سُرُوزن بالکل پاک یتیمہ سُنَد مال کھینہ نشہ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ  
 بِالْمَعْرُوفِ بیه نِس سر پر ست فقیر آسہ سُو کھن چٹین تمنہ منزہ مناسب طریقہ موجب فَإِذَا



وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حِيبًا ۖ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۚ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو  
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْضُوهُمْ مِنْهُ  
 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ توبہ یلہ نہہ و اتنا و تمن کن مال نہہ یعنی تمن کرو سپرد فَاَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ پس گواہ تھا دیو کہہ تمن بیٹھے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حِيبًا کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب ہیوہ و ن لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مردن اده تم لوکت آستن یاڈ تہدہ خیطرہ تہ چھ اکھ حصہ تہہ ماس اندر۔ پس تراون پتہہ کن مر نہ پتہ مول موج تہ نزدیک آشنا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ بیٹھے پاتھے چھو زمانن اده تمہ لوکچہ آستن یاچہ تہدہ خیطرہ تہ اکھ حصہ تہہ اندر پس تراون پتہہ کن مر نہ پتہ مول موج تہ نزدیک آشنا۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ اده سوماں کم آستن یا زیادہ آستن نَصِيبًا مَّفْرُوضًا سارنی ہندہ خیطرہ چھو تہہ ماس اندر اکھ حصہ مقرر کرنہ آمت خدایہ سندہ طرفہ۔ تہڈا گڑھہ نہ کانہہ تہ نہ مرد تہ نہ زانہ۔ نہ بوڈ تہ نہ لوکت تمہ حصہ نیشہ خرؤم سن کرنہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْضُوهُمْ مِنْهُ بیہ یلہ حاضر آسن سپدان ترگس تقسیم کرنکہ وقتہ آشنا یتیم تہ مسکین پس آسو تمن کھن چین ووان تمی تر کہہ مہ مالہ منزہ۔ بیہ کھم اوس ابتداءس اندر۔ پتہ چھو نہ بیہ کھم رڈومت یلہ وراثتک صرح احکام نازل سپد۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا بیہ آسو تمن سیت تہہ کران مناسب طریقہ وَالْيَتَامَىٰ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ بیہ گڑھہ کھو ژن تمن لوگن ہند یتیم ہندہ حقہ تہندس تفصائل۔ زانن گڑھہ کہ ہر گاہ تمن

لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا  
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ①  
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا  
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ②  
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرَّمَ اللَّهُ لِحَظِّ الْأُنثَىٰ ۖ وَإِنْ كُنَّ  
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا

سر پرستن پنہر مہر وقتہ لوکت لوکت اولاد پانس پتھہ کن روزہ بہن تہندہ خپڑہ گڑھہ فخر بہ غم تھاون۔  
متھوی معاملہ گڑھہ یوزن پر بہتھہ تیمہ سندہ حقہ فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولاً سدیداً پس  
کھوژو اللہ تعالیٰ اس۔ بہہ وبو مفیدہ مر بو ط کلام إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا پز  
پاٹھہ تم لوکھہ تیمن ہند مال چھہ کھیوان ناحق ظلم و ستم کر تھہ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا تم  
چھہ مگر پنہ نین یڈن منز نار بران وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا بیہ واتن عنقریب تم دڑو نس نارس اندر  
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ اللہ تعالیٰ چھو تو بہ وراثتک حکم فرماون تہندین اولادن ہندہ حقہ۔ کوہ کھہ  
پاٹھہ گرہ۔ وراثتہ منزہ بہن حصہ حاصل لِلَّذِي كَرَّمَ اللَّهُ لِحَظِّ الْأُنثَىٰ افس مردہ مند حصہ چھو دون زنان  
ہندس حصص برابر۔ بیلہ اٹھ پڑو تہ زہ کو رہہ آسن۔ سارس مالس سپدہ نصف نصف اٹھ نصف گوپووس۔  
بیاکھ نصف گو دون کورین باگر تھہ۔ ہر گاہ پووس سیت آسہ اٹھ کور تلہ یں مالس تریہ حصہ کرنہ زہ حصہ  
گے پووس اٹھ حصہ گو کو رہہ۔ ہر گاہ پووس بیوت آسہ وارث تلہ گو سوڑی مال تمس وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ پس ہر گاہ پتھہ کن روزن کورہ زہ یادو یو خونہ زیادہ پس تہندہ خپڑہ چھو  
ساری مالہ کیو تریو حصہ اندرہ زہ حصہ۔ افس مال مرمت شخص پتھہ کن تروومت آسہ وَإِنْ كَانَتْ  
وَاحِدَةً ہر گاہ اکے کور روزہ پتھہ کن فَلَهَا النِّصْفُ تمس ولتہ مالک نصف حصہ باقی گو یں آشیانوس تم  
حقدار آسن۔ وَلَا بُوَيْهٍ مردہ سندس مالس ماجہ ہند حصہ چھو لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ

النِّصْفُ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ  
 كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ  
 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي  
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ  
 نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ⑩ وَلَكُمْ  
 نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا

سمو دیو اندرہ پر پتھہ اکس والیہ شیم حصہ۔ تمہ مالہ منزہ ہس مال مومت شخصن پتھہ کن تر وومت آسہ  
 ان کان لہ ولد ہر گے تس مومت شخصن آسہ روومت اولاد تہ فان کم یکن لہ ولد ہس ہر گاہ  
 تس اولاد آسہ نہ روومت وورثتہ آسہ وارث آسہ روومت مول موج فلأولئک الثلث تلہ گوماجہ  
 ترسم حصہ بانی گومالس فان کان لہ إخوانہ السدس ہر گاہ امس مردس آسن روومت بائی یابینہ  
 تہ تلہ والیہ ماجہ شیم حصہ بانی گومالس بین باسن نہ کنہی من بعد و وصیة یوصی بہا اودین یہ تقسیم یوسہ  
 بیان کرنہ آیہ گنیہ وصیت تہ قرض ادا کرنہ پتہ اباؤکم و ابنائکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعًا مال  
 تہند یہ پتہ تہند۔ توہ پتھہ کہنہ خبر کوہ چھو توہہ تمواندرہ زیادہ فاسیدہ تہ نفع واتناوہ ون۔ ایخ خبر چھہ  
 خدایہ سی یاثر فریضۃ من اللہ تمی خدا این چھو پر پتھہ اکس حصہ مقرر کورومت ان اللہ کان علیما  
 حکیمًا بیشک اللہ تعالیٰ چھو سوڑی زانہ ون۔ سوئی چھو حکمتہ وول۔ ولکم نصف ما ترک ازواجکم  
 یہ چھو تہندہ خیطرہ نصف تمہ مالک ہس پتھہ کن تراون تہنزہ زانہ ان کم یکن لہن ولد ہر گہ نے  
 تم روزہ اولاد فان کان لہن ولد فلکم الربع مما ترکن ہر گاہ تم اولاد روزہ پتھہ کن تلہ چھو تہندہ  
 خیطرہ ژور تم حصہ تہندہ مالک ہس تم پتھہ کن تر وومت آسہ من بعد و وصیة یوصین بہا اودین یوسہ

أَوْ دَيْنٍ ط وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ  
 كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ  
 تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً  
 وَوَلَةً آخَرٌ أَوْ اُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ  
 مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصَّى بِهَا  
 أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مَضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٧ ط

تقسیم چھو تمہہ وصیت پتہ یوسہ تمو کر مثر آسہ کانسہ ہندہ حقہ بیہ قرضہ ادا کرنہ پتہ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ بیہ زنانن ہندہ خیطرہ ژور سم حصہ تہندہ مالہ منزہ ئس تہہ ہتھہ کن تراؤد ہر گاہے توہہ آسہ اولاد فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ئس ہر گاہ توہہ ہتھہ کن اولادہ آسہ تلہ ولتہ تہنزن زنانن تہمدہ مالک اؤ تھم (۸) حصہ ئس توہہ ہتھہ کن تروومت آسہہ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ سوی وراثت بیہ جاری کرنہ تہنزن وصیتہ قرض پورہ کرنہ پتہ وَلَدٌ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً وئن ہر گاہ کانہہ شخصاہ آسہ ئس نہ مول مؤج آسہ نہ اولاد آسن أَوْ امْرَأَةً یا کانہہ زنانہ آسہ ئس نہ مول نہ مول مؤج تہ اولاد آسن وَوَلَةً آخَرٌ أَوْ اُخْتُ ئس آسہ یوی یا بینہ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ئس چھو تمو دو ویو اندرہ پر ہتھہ آسندہ خیطرہ شتم حصہ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ وون ہر گاہ تمہہ خونہ زیادہ آسن تم تلہ چھہ تم ساری شریک آسن تر تمس حصس اندر مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ بیہ تقسیم تہ وراثت بیہ جاری کرنہ تمہہ وصیتہ پتہ یوسہ وصیت کرنہ امثر آسہ بیہ قرض چھہ واللہ غَيْرِ مَضَارٍّ مگر بیہ وصیت کردہ آسن تو ہی یوسہ نہ کانسہ وارثس ضرر و اتاؤہ۔ یعنی مالکہ تریمہ حصہ خونہ گزہنہ نہ زیادہ آسن۔ یوسہ وصیت تر سمہ حصہ خونہ زیادہ آسہ سو بیہ نہ جاری کرنہ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ یوسہ حکم چھو خدایہ سندہ طرفہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو سوزی زانہ وون تہ ژئڈ کرہ وون۔ تمس چھو معلوم گہہ چھو میان حکم مانان تہ کہہ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ ۱۳ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ  
يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۱۴ وَالَّذِي  
يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا  
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسَكُوهُنَّ فِي  
الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ

پھونہ مانان۔ یہ مانن والین پھونہ سیتی سزاوان کیازہ سوچھو حلیم تہ۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اسم احکام  
پھہ خدایہ سند نشانہ بیونشہ گزہہ نہ ڈن وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لیس اکھاہ حکم مانہ خدایہ سند بیہ  
تہندس پیغبرہ سُنْدُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لیس واتا وہ خدا تمہن  
جنتن اندر یومو منز جو بیہ پکان آسن۔ تمنی جنتن منز روزن تم ہمیشہ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بیہ گنیہ  
بڈاکامیابی تہ رستگاری وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بیہ لیس نافرمانی کرہ خدایہ سز بیہہ تہندس رسولہ  
سز ویتَعَدَّ حُدُودَهُ بیہ ڈلہ تہند یوحہ ورتشہ۔ مساوی زانہ یمن حدن ہنز پابندی کرن سوگو گھر۔  
تمیک سز اچھو يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا لیس واتا وہ خدا نار جہنم اندر ہمیشہ خیطرہ وَلَهُ عَذَابٌ  
مُهِينٌ بیہ پھو تہندی خیطرہ ذلیل کرہ ون عذاب وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ بیہ  
سمہ زانہ پھہ کامہ کرن تہنز و منکوحہ زنا و اندرہ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ لیس رٹو  
تہہ تمن پیٹھہ ژور گواہ مسلمان فَإِنْ شَهِدُوا پس یلہ تم ژور گواہ گواہی ون تہنزہ پھہ کامہ پیٹھہ  
فَأَمْسَكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا لیس کریوکھہ تمہہ  
زانہ بند کرن اندر یوتان تمہہ مر ن یا فرماوہ اللہ تعالیٰ تہندہ خیطرہ ہیکھہ حمماہ۔ وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ

سَبِيلًا ۱۵) وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَهَا مِنْكُمْ فَاذْوُهُمَا فَإِنَّ تَابًا  
وَأَصْلَحًا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۱۶)  
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ  
ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ  
عَلَيْهِمْ ۱۷) وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۸) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ  
لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ  
الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الثَّنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ

بہیم زہ شخص مردہ زانہ پچھہ کوم کرن توبہ اندرہ فَاذْوُهُمَا پس واناود تکلیف تمن  
اتھوسیت تہ کتھوسیت۔ فَإِنَّ تَابًا وَأَصْلَحًا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا پس ہر گاہ تمہو توبہ کور۔ پن  
حالت درست کرکھہ پس تراود تمن تکلیف و تک خیال۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا پڑپاٹ اللہ تعالیٰ  
ہچھو سیٹھاہ توبہ قبول کرہ و ن۔ سیٹھاہ رحم کرہ و ن۔ تم احکام آس حد زانا نازل سپد نہ بروٹھہ إِنَّمَا  
التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ توبہ قبول کرن ہچھو  
نہ مطہ اللہ تعالیٰ آس پیٹھہ مگر تمن لوکن ہند توبہ تم پچھہ کوم کرن نادانی سببہ توبہ کرن تمہہ پتے توبہ یعنی مرتکب  
وقت واتنہ بروٹھہ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پس تہند وی توبہ کرہ اللہ تعالیٰ قبول  
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ ہچھو سوزی زانہ و ن تہ سیٹھا حکمتہ و ول۔ تس ہچھہ پور خبر کم  
چھہ دلہ کن توبہ کران تہ کم ہچھہ بصدق دل توبہ کران۔ تہند حکیم آس گوکہ سوچھونہ بصدق دل توبہ  
کروئین مندہ چھاوان تہ رسوا کران وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ بہ چھونہ توبہ  
قبول سپدان تمن لوکن ہند تم پچھہ کلمہ روزن کرن حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي  
تُبْتُ الثَّنَ یوتان تمن مرتکب وقت واتنہ عالم آخر تک چیز نیٹھہ بوزنہ تمہہ ساتہ و پن اس چھہ توبہ

وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۱۸﴾  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا  
 تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَّبْنَ هَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
 بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
 فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿۱۹﴾ وَإِنْ  
 أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مِمَّنْ زَوْجِ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا

کران وون۔ تمہے ساتھ توبہ چھو نہ قابل قبول ولا الذین یموتون وھم کفار بہ چھو نہ تم  
 لوکن ہمد توبہ قبول تم مران فرس پٹھے۔ اولیک اعدنا لھم عذابا الیما تم لو کہ ہم چھہ  
 تہمدہ خیطرہ چھو اسہ تیار تھوومت کڈر عذاب یا ایھا الذین امنوا لا یحل لکم ان ترتوا النساء کرھا  
 ای بایمانو ہرگز چھو نہ توبہ جائزہ حلال تہہ کیاہ سپد و جبرأتہ زبردستی زنانن ہند وارث ولا تعضلوھن  
 بیہ مہ آسیو کہہ زنانہ ہند کران لیتن ہبوا ببعض ما اتیتموھن پٹھے تہہ وصول کمر و تمہ مالہ اندر کہہ نہ  
 ہس توبہ تم دیتمت اسوہ الا ان یاتین بفاحشہ مبینہ مگرے تمہہ کانہہ نین پٹھے کاماہ کرن تلہ  
 چھو تہہہ خیطرہ تمہہ ہند کرہہ جائیز ہجر سوما ل وصول کرن ہس توبہ تم دیتمت اسوہ چھو نا جائز ہند ستور  
 وعاشروھن بالمعروف بیہ آسوز زنانن سیت زندگی بسر کران رت پٹھے۔ فان کرھتموھن  
 ہس ہر گاہ توبہ تم ناپسند آسن فعسی ان تکرھوا شیئا ہس ممکن چھو ہس چیز توبہ ناپسند آسہ ویجعل  
 اللہ تعالیٰ تھوہ تھہ اندر تہمدہ خیطرہ واریاہ خیرتہ برکت وان اردتم استبدال  
 زوج ممان زوج ہر گاہ تہہ ارادہ کمر و اگس زنانہ بدل بیا کہہ زنانہ کرن یعنی اکھ موکلاون ہس بدل بیا کہ  
 کرن و اتیتم احدھن قنطارا تھہ حاس اندر ہر گاہ تموز نا نو اندرہ کانہہ واریاہ مال اسوہ دیتمت  
 فلا تخذوا منھن شیئا ہس پٹھے تمہہ مالہ منزہ واپس ہوان آسیو کہہ کینہہ اتاخذونہ بہتانا و ائمتا مبینا  
 کیاہ ہیو کہہ سوما ل واپس ظلم کمر تھہ۔ ہن پان بدس ظلمس گرفتار کمر تھہ۔ تہ تہ تہ نہ ہرگز کرن و کیف

فَلَا تَأْخُذْ وَآمِنْهُ سَيْئًا ۝ تَأْخُذْ وَنَهَ بُهْتَانًا وَانْتِمَا مَبِينًا ۝ وَ  
 كَيْفَ تَأْخُذْ وَنَهَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ  
 مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ  
 سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ  
 أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَوَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

تَأْخُذْ وَنَهَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ جہہ چھہ پاٹھہ بیوہ تم ن ش سوماں حالانکہ تھقنن نزدیک چھوہ  
 سیدمت نہہ تم ن یعنی خلوت صحیحہ چھوہ لبہ آمت۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا بیہ چھوہ تموز ناو تہ توہہ  
 ن ش عمد و پیمان رو مت عقد نکاح یعنی ایجاب و قبول کریمہ وقتہ۔ جہہ چھوہ مہر سی بدلہ زنا نہ نشہ تمتع تلن  
 قبول کورمت۔ لہذا ایلہ جہہ تمتع تلوہ تمیک بدلہ تہ عوض یعنی مہر کیا زہ کمر و نہ ادا۔ یکنے گیہ سخت بے  
 انصافی تہ ظلم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اے با ایمانویہ مہ آسو نیتھر کران تم ن زنان سیت  
 یمن سیت جہند یو مایویا یڈہ بو نکاح آسہ کورمت یا نا جائیز طریقہ پاٹھہ ہمستری آسہ کمر مثر إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
 مگر یہ آکرہ بروٹھہ گذریو مت آسہ یعنی اسلامہ بروٹھہ تہ آو اسلامہ کہہ برکتہ عنفو کرنہ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً  
 وَمَقْتًا پزپاٹہ تہ چھوہ عقلہ کن تہ سیٹھہہ چھہ عرفہ کن تہ سیٹھہہ قابل نفرت وَسَاءَ سَبِيلًا بیہ چھوہ شرعاً  
 تہ سیٹھہہ خراب طریقہ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ حرام آیہ کرنہ توہہ پیٹھہ ماجہ  
 تہزہ۔ بیہ کورہ تہزہ۔ بیہ بینہ تہزہ۔ تمہ سکھہ بینہ آستن۔ مال بینہ آستن یا ماجہ بینہ آستن۔ یعنی تم ن  
 سیت نکاح کرن چھوہ توہہ حرام تہ ناجایز وَعَوَّاتُكُمْ بیہ پو پھہ تہزہ۔ تہزن مالین ہنزہ بینہ۔ سکھہ بینہ۔  
 مال بینہ۔ ماجہ بینہ وَخَالَاتُكُمْ بیہ ماسہ تہزہ۔ یعنی ماجن ہنزہ بینہ۔ سکھہ بینہ۔ مال بینہ ماجہ بینہ وَبَنَاتُ  
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ بیہ بازوہ تہزہ یعنی بای سزہ کورہ۔ سکھہ بای سزہ تہ۔ مال بای سزہ تہ۔ ماجہ بای  
 سزہ تہ۔ بیہ بینزہ تہزہ یعنی بینن ہنزہ کورہ۔ سکھہ بینہ ہنزہ تہ مال بینہ ہنزہ تہ۔ ماجہ بینہ ہنزہ تہ  
 وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ بیہ چھہ حرام توہہ پیٹھہ تہزہ تمہہ ماجہ سیمو توہہ دود دیتمت آسہ



الْأَخْتِ وَأُمَّهُنَّ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي جُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ذُنُوبًا حَرَامًا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٦﴾

وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ بھ پھو حرام توہہ۔ تمن ینین سیت نکاح کرن سہمہ دود چہنہ سبہ ہنہز پینہ آسن سہز مثرہ یعنی توہہ آسوہ ہنہزن حقیقی ماجن ہند دود چومت یا دودہ ماجن ہند دود چومت یا آسہ تمہو ہنہزن حقیقی ماجن یا دودہ ماجن ہند دود چومت وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ بھ آہہ حرام کرنہ توہہ ہنہزن زنانن ہنہزہ ماجہ یعنی ہنہزہ ہمشہ، ماسہ ہمشہ تہ پوپھہ ہمشہ۔ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي جُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ بھ آہہ حرام کرنہ توہہ ہنہزن تمن زنانن ہنہزہ کورہ تمن سیت توہہ خلوت صحیحہ کورمت آسہ۔ بھہ کورہ ہنہزہ رچھان چھووکھ سہمہ کورہ تمن برو نھین خاوندن ہنہزہ آسن فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس ہر گاہ ہنہ آسوند تمن سیت خلوت صحیحہ کورمت تلہ پھو نہہ کانہ حرج ہنہزن کورین سیت نکاح کرنس۔ کیاہہ صرف نکاح یعنی ایجاب وقبول سیتی پھنہ زنانہ ہندین اصول و فرو عن ہنہز حرمت سپدان۔ بلکہ چھہ حرمت سپدان خلوت صحیحہ سیت وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ بھ چھہ حرام توہہ پھنہ ہنہزن پٹوین ہنہزہ منکوہہ زنانہ بھہ تمہہ زنانہ یکن سیت تہند پوٹو یونا جائز طریقہ ہہمتری کر مثرہ آسہ۔ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ بلکہ تمن پٹوین ہنہزہ زنانہ چھہ توہہ پھنہ حرام تمہو توہہ پینہ پشتک آسن۔ منکھ پٹوین ہنہزن زنانن سیت نکاح کرن پھو جائز۔ یلہ نہ تمہہ زنانہ تہندس نکاح اندر روزن منکھ طریقہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بھہ آو حرام کرنہ توہہ پھنہ دون ینین سیت یکہ وئہ نکاح کرن إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر یہ کنیوہاہ امہہ قسمہ اسلام انہہ برو نھہ گذر یومت پھو تھہ سارسی پھو عفو۔ آیندہ خپترہ گورہہ احتیاط کرن إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا پڑاٹھ اللہ تعالیٰ پھو سیٹھاہ مغفرت

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ  
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَعْتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
 الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۳۲﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ  
 طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ

کرهون سیٹھاہرم کرہون وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بیہ بھو حرام آمت کر نہ توہہ پیٹھ تم ن زمانن  
 سیت نکل کرن یمن خاوند موجود آسن إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مگر نہ تمہہ زمانہ یمن تہہ مالک سپدو۔  
 بیہ تہزہ کیزہ سپدن تہہ خاوند زندہ تہہ آسن دار الحرب بس اندر۔ تمہہ ہتھ حلال کِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ سنی  
 احکام ہتھ لیکھمت اللہ تعالیٰ ان توہہ پیٹھ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ بیہ آیہ حلال کر نہ تہندہ خیطرہ تمہہ  
 سارے زمانہ سیمہ سموز ناو رای ہتھ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ایکنہ ژھانڈ یوک تہہ تمہہ زمانہ پنہ نیو  
 دیا ر و بدل مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ درحالیتم گنہہ نشہ بچہ ون آسو۔ گنہہ ون آسونہ یعنی باقاعدہ  
 ایجاب و قبول کثرت مہر مقرر کثرت دون شاہدن بروٹھہ کنہہ بیہ نکاح کر نہ فَمَا اسْتَعْتُمُ بِهِ مِنْهُنَّ  
 ہس تموز ناو منزہ تم نشتہ توہہ نفع ملوہ یعنی نفع خواہش پورہ کثروہ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ہس دیو  
 تم تہندہ مہرہ ہس مقرر کر نہ آمت بھو وَاكْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضِيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ بیہ بھونہ  
 توہہ کانہ گناہ تھہ چیزس پیٹھ ہتھہ پیٹھ ہتھہ باژہ پانہ وان راضی سپدو۔ عقد نکاحہ وزہ کانہہ چیز مقرر کر نہ  
 پتہ۔ زیادتی کر تو یا کسی کر تو کثرتہ چیزس منز تمیک بھو توہہ اختیار إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا پڑ پٹھ اللہ  
 تعالیٰ بھو سو روی زمانہ۔ ہس بھو معلوم تہندہ فائدہ تہہ نفع تھہ چیزس منز بھو۔ تمی مناسبہ بھو سو  
 احکام تہندہ خیطرہ جاری کر ان سو بھو سیٹھاہ حمتہ وول۔ حکمت بھو سو احکام پن توہہ پیٹھ مقرر کر ان  
 اگرچہ توہہ متہ ترش فکرہ۔ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ بیہ ہس اکھاہ

فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ  
 فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ  
 غَيْرُ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ  
 بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ  
 لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ

یہ کہ نہ توہمے آندرہ ایمان آزاد زانہ سیت نکاح کثرت **فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ** تَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ  
 پس کثرت سو نکاح کانہہ ایمان کینزہ سیت یوسہ کانہہ مسلمانہ سنز کینز آسہ۔ کیا زہ کینزہ ہند مہر چھو آزاد  
 زانہ ہندہ خوتہ کم آسان۔ کینزہ سیت نکاح کرنس منز گھنہ عار زان **وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ** اللہ  
 تعالیٰ سی چھہ پور خبر تھندہ ایمانچ۔ ممکن چھو سنو کینز آسہ ایمانکہ اعتبارہ تھندہ کھوتہ بہتر۔ تمیک پور علم  
 چھو اللہ تعالیٰ آس۔ پس رود نسبحہ اعتبارہ تھہ منز چھو توہمہ **بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ** اڈا این ہند جزو۔  
 ساری برابر کیا زہ سارنی انسان ہند اصل چھو حضرت آدم تہ حضرت حوا علیہا السلام۔ وون یلہ معلوم  
 سپد عار گھنہک چھو نہ کانہہ وجہا۔ لہذا گڑھ ضرور سبھہ وقتہ کینز سیت نکاح کرن **فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ**  
**أَهْلِهِنَّ** پس کثرت نکاح کینز سیت بشر طیکہ تھندین مالکن ہند اجازت کرو حاصل **وَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ**  
**بِالْمَعْرُوفِ** بیہ دیو تمکن تھند مہرہ قاعدہ موجب **مُحْصَنَاتٍ غَيْرُ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ** در حالیہ  
 تمہ کینزہ آس پانس راجھہ کردہ ونین پاٹھہ۔ چھہ کامہ کردہ ونہ آس نہ۔ نہ آس دوستی تہ یار زلا گوہہ کانہہ  
 سیت یعنی ڈورہ پاٹھہ چھہ کامہ کردہ ون آس نہ **فَإِذَا أُحْصِنَ** پس یلہ تمہ کینزہ نیتھر گر اکنہ بن **فَإِنَّ**  
**أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ** پس ہر گہ تمہ پتہ تمہہ کانہہ چھہ کامہ کرن **فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ**  
**الْعَذَابِ** پس چھو تھند سزا تمہہ سزاگ نصف بس سزا مقرر کرنہ آمت چھو نیتھرہ گرا کینن آزاد زانن  
 ہند۔ **ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ** یہ کینزہ سیت نکاح کرن چھو تھندی خیطرہ تمکن بے نکاح  
 روز محس حالتس آندر چھہ کامین منز بتلا سپد نگ خطرہ آسہ توہمہ آندرہ **وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ** ہر گاہ

رَحِيمٌ ﴿۲۵﴾ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۲۶﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مِثْلًا كَثِيرًا ﴿۲۷﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴿۲۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

جہ صبر کمر دیتے چھو بہتر تہندہ خیرہ۔ تمہرے سیت سپدہ راجہ تہندس نلس غلام بنہ نشہ۔ نتہ ہر گاہ صبر کمر ونہ کینزن سیتی کمر ونکاح تلہ بن تہند اولاد غلام کس شخصہ سند تم سنز سو کینز آسہ ۱ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۲ اللہ تعالیٰ چھو مغفرت کرہ ون۔ رحم کرہ ون تمن تم نہ تاب تمین کمر تہہ۔ مجبور سپد تہہ کرن کینزن سیت نکاح یُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ۳ یڑھان چھو اللہ تعالیٰ وارہ نزاوتہہ توبہ حلال و حرامک احکام بیان کرن ۴ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ۵ یہ چھو توبہ ہوان و تہہ تمن اہل حقن ہنزیم توبہ برو تہہ آس، تمن ہند قصہ بیان کمر تہہ ۶ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۷ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۸ یہ چھو سو بر حمت متوجہ توبہ کن۔ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ علمہ وول سیٹھا حکمتہ وول ۹ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۱۰ اللہ تعالیٰ چھو یڑھان کہ توبہ دیہ توفیق توبہ کر نک تہ تہند توبہ کرہ قبول۔ ۱۱ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ ۱۲ مگر تم لو کہہ پیروی چھہ کران نفسہ چن خواہش تم چھہ یڑھان ۱۳ أَنْ تَبِيلُوا مِثْلًا كَثِيرًا ۱۴ ایچہ جہہ ڈلو سیرہ و تہ نشہ۔ خدلیہ سند یو لکھموشہ وکھہ پاٹھہ ۱۵ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۱۶ اللہ تعالیٰ چھو یڑھان احکامن اندر توبہ پیٹھہ بور لو تڑاون ۱۷ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ۱۸ انسان چھو پیدے کر نہ آمت کمزور۔ توتے آئے نہ اس پیٹھہ تہہ احکام فرض کر نہ یم نہ سو برداشتی کمر تہہ بیچہ ہا۔ ۱۹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۲۰ ای با ایمانومہ کھو مال آکھہ آکھہ ناجایز طریقہ پاٹھہ، سودہ پاٹھہ، غصبہ پاٹھہ تہ دھوکہ پاٹھہ ۲۱ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۲۲ لیکن ہر گاہ پانہ وان رضامندی سان تجارت کمر وئس شریعتہ کیو

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا  
 فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَّكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝۳۰  
 يَجْتَبِئُوا الْكِبْرِيَاءَ تَهَوَّنَ عَنْهُ نَكْفَرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ  
 مُدْخَلًا كَرِيمًا ۝۳۱ وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَبْنَ

اصولومطابق آسمہ تھو نہ کانہہ حرج وَلَا تَتَّبِعُوا أَنْفُسَكُمْ بیہ مہ کریو کھ مارہ پن پان۔ یعنی توہہ  
 کامہ مہ کمر و سمو سیت تہہ قتلک سزوار سیدو إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ہز پائٹھ اللہ تعالیٰ چھو ہمیشہ توہہ  
 پیٹھ رحمتہ دول وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا بیہ نئس اکھاہ سم چیز کرہ سمو نغیر  
 ممانعت آہ کر نہ سر کشی تہ ظلمہ کن۔ نئس جلدی واتا وون آس سونارس اندر وَّكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ  
 یسیرا یہ چھو اللہ تعالیٰ آس نغیر سہل تہ آسان إِنَّ يَجْتَبِئُوا الْكِبْرِيَاءَ تَهَوَّنَ عَنْهُ اکی لو کو ہر گانجہ  
 تھہ روزو بڈیو ممنوع چیزو تہ بڈیو گھونغیہ بیہ کمر ورژہ عملہ نكْفَرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ بخشالیش گرو آس  
 تہندین لو کئین گھمن وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا بیہ واتا ووہ اس تہہ عزتجہ جایہ منز سوگیہ جنت  
 وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ بیہ مہ کمر و آرزو تہ تمنا تہہ ساری مرد تہ زنانہ تمہہ کئہ  
 چیز کئہ بیہ سیت فضیلت دنہ آو توہہ اندر اڈین یعنی مردن اڈین پیٹھ یعنی زنانن پیٹھ۔ مثلاً مرد آسن یا  
 مردن دو گن بوگ آسن یادون مردن ہنز گواہی مکمل آسن کیاہہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَبُوا  
 مردن ہندہ خیطرہ چھہ تمن عملن ہنز مزدور تہ ثواب مقرر آخرتس اندر سمہ تمو کرہ مژہ آسن۔  
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَبْنَ زنانن ہندہ خیطرہ تہ چھہ تمن عملن ہنز مزدور تہ ثواب مقرر آخرتس  
 اندر سمہ عملہ تمو کرہ مژہ آسن۔ آخرتجہ نجاتک دارومدار چھو عملن پیٹھ۔ تھہ منز چھہ خصوصیت  
 کانہہ ہندہ خیطرہ۔ نئس تھہ رت کرہ دنیا س اندر تھہ رت لہہ سو آخرتس اندر۔ تمنا کر نہ سیت کیاہ  
 ہنہ۔ بلکہ پزہ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ در خواست کرن تہ مکن اللہ تعالیٰ آس چھند فضل۔ سوی کڈہ چھند

وَسَعَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۳۶﴾ وَلِكُلِّ  
 جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
 أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿۳۷﴾  
 الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
 بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ  
 لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

ساری مطلب تہ آرزو۔ یہ سہ نازل یلہ زناؤ تمنا کور اس تہ ہے مرد آسہو آسہ تہ بہہ ہا مردن ہنز ہش  
 مزور تہ حصہ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا پز پاتھ اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ چیزا ہ پور زانہ ون وَلِكُلِّ  
 جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ پر ہتھ کنہ مالہ خیطر ہ ہس مال پتھ کن تراون مول مؤج تہ  
 رشتہ دار کور آسہ مقرر تمہ مالک وارث تمن ہند بیان کرنہ آو۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ وون رو دباقی  
 تم لو کہ تمن سیت توہہ معاہدہ کورمت آسہہ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ پس دیو تمن پن حصہ یعنی شیم حصہ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا پز پاتھ اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ چیزا ہ پتھ گواہ۔ پر ہتھ چیزا ہ چھو پانہ  
 وچھان۔ یہ حکم اوس ابتداءس اندر۔ پتہ چھو یہ حکم منسوخ آنت کرنہ بآیہہ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ  
 أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ - الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النَّسَاءِ مرد ہتھہ حاکم پیٹھاول زنان پیٹھہ دیو وچھو ہبما فَضَّلَ  
 اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اکہ سہہ مو کہ کہ اللہ تعالیٰ ان چھو قدرتی فضیلت دیشتت اڈین، اڈین پیٹھہ  
 یعنی مردن زنان پیٹھہ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ بیہ سہہ مو کہ کہ تمو مرد وچھو خرچ کورمت پن مال  
 تمن پیٹھہ۔ مرس من زنان و نفق منز۔ لہذا چھہ زنان محتاج مردن کن۔ خرچ دیو وون سندا تھ چھو بلند تہ  
 تھو دستدہ اتھ خو تہ پس خرچ دنہ بیہ۔ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ پس سہہ زنانہ نیک تہ رتہ  
 پتھہ مردن ہندس فضیلتس کن نظر کر تھہ تہنز فرمانبرداری کران۔ تمہہ پتھہ مردن ہندہ بروٹھہ کنہ نہ  
 آسنہ کس صورتس منز پنہ نس پانس تہ مردہ ہندس ساری ماس راجھہ تہ حفاظت کران۔ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ  
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿۳۴﴾  
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ  
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿۳۵﴾ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا

اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ جانتا ہے۔ یا تمہیں بدل کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھڑکی  
تہندیں حقوق ہندہ حفاظتک امر کورمت مردن وَاللّٰہِ تَخَافُوْنَ شُرُوْہُنَّ بِتھہ روزہ تمہہ زنانہ تمکن  
ہندہ نافرمانی ہند توہمہ اندیشہ آسہ فَحَظُوْہُنَّ لیس کسہر وگوڈہ تمن زبانی نمائش تہ نصیحت وَاهْجُرُوْہُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ توپتہ کریوکھ الگ ہستہ و نغہ۔ یعنی پانس نشہ مہ دیوکھ شوہنگہ وَاضْرِبُوْہُنَّ توپتہ لایو  
کھ۔ مگر تھوی سمہ سیت نہ زخم لیگھہ یا کانہہ تان پھٹیکھ۔ اعتدالہ سان۔ اتھہ منز چھہ ترہ درجہ (۱)  
نافرمانی ہندہ خوفہ تہ اندیشہ وقتہ گیہ نمائش (۲) نافرمانی ظاہر سپدیکھ وقتہ کبیرہ جدائی و تھرس اندر (۳)  
گرہ گرہ نافرمانی کرس پیٹھہ گوادہ لائن وَإِنْ أَطَعْتَكُمْ پس ہر گاہ تہمز فرمانبرداری کرن فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا لیس مہ تھلڈ و تمن ناحق ظلم کرنہ خیطرہ کانہہ و تھاہ تہ ہسانہ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
کَبِيرًا پینز پاٹھہ اللہ تعالیٰ پھو سیٹھہ تھوڈ تہ بوڈ۔ تمند علم تہ قدرت چھہ سیٹھہ بڈ۔ اگر تہہ تمن  
زنانہ ناحق تکلیف واتوو وہ تیلہ کیاہ کرہ اللہ تعالیٰ تہ توہمہ پننہ نافرمانی کرنہ موکھہ گرفتار بلاو اِن خِفْتُمْ  
شِقَاقَ بَيْنِهِمَا پس ہر گاہ کھو ڈو تہہ اے حاکمو یا سر پرستو تمکن دون باژن ہندس زیادہ مخالفتس کنہ  
قسمہ اصلاح نہ سپدس فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا تیلہ سوزیو کھ تہہ مردہ سند یو  
رشتہ دار و اندرہ تہ کھہ فیصلہ کرہ و نانہ ہند یورشتہ دار و اندرہ تہ کھہ فیصلہ کرہ و نانہ تمن سچ قابلیت  
آسہ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ہر گاہ تم دو شوے فیصلہ کرہ و ن سودلہ اصلاح سپدن  
آسن یشھان اللہ تعالیٰ دیہ توفیق ملہ ژار کرنہ تمکن دون باژن اندر إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا پز

بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿۳۶﴾ ۚ وَالَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَنْفِقُونَ

پاٹھ اللہ تعالیٰ چھو ہمیشہ سو روی زانہ دن۔ سارچی خبر تھا وہ دن و اعبد واللہ ولا تشرکوا بہ شیئا بہ کمر و عبادت کنس خدایہ سنز۔ بیہ مہ ٹھہر او یوس شریک کا نہ چیز اداہہ سو انسان آستن یا غیر انسان نہ عبادتس اندرنہ تمسرد یو خاص صفتو اندرہ کنہ صفتس اندر۔ سو زانیون شریک آسنہ نشہ منزہ تہ پاک و بالوالدین احسانا بہ کمر و مالس ماجہ نسبت احسان یعنی رت معاملہ و بذی القربی بہ کمر و احسان آشتاون سیت والیتلمی بہ یتیم سیت و المسکین بہ مسکین نسبت و الجار ذی القربی و الجار الجنب بہ نزدیک ہمساین تہ دور ہمساین نسبت و الصاحب بالجنب بہ تس رفیق نسبت بس نسبت ہتہ بہتہ آسوہ و ابن السبیل بہ مسافرس نسبت و ما ملکت ایمانکم بہ علامن کمیزن نسبت ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا پڑ پاٹھ اللہ تعالیٰ چھو نہ پسند کران تس بس متکبر آسہ دلہ کن آسہ پن پان بوڈ زانان۔ بین آسہ نچہ نظرہ و چھان تھیہ دن آسہ۔ زیوہ سیت آسہ پن تعریف پانے کران۔ والذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل سم گے تے سم پانہ بخل کران چھہ بہ چھہ لوکن تہ خلک تجویز کران و یکتُمون ما آتاهم اللہ من فضلہ بہ چھہ کھٹ تھاوان تہ بہ کیخہ ہاہ تم اللہ تعالیٰ ان عطا کورمت چھو پنہ فضلہ سیت۔ سو گو مال یا نعت حضرت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہود آس سم دوشوے چیز کران و اعتدنا للکفرین عذابا مہینا بہ چھو آسہ تیار تھومت یتیم ناسپاس کافرن ہندہ خیطرہ ذلیل کرہ دن عذاب والذین ینفقون



أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿۳۸﴾ وَمَا ذَا  
 عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ  
 وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿۳۹﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُطِيعُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ  
 حَسَنَةً يَضْعَفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۴۰﴾ فَكَيْفَ  
 إِذَا جُنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجُنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿۴۱﴾

أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ بے تم لوک یم مال پین خرج کران چھہ لوکن ہاونہ خیطرہ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
 بے چھہ ایمان انان کنس خدایس وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ بے چھہ پڑھہ کران پتمس دوہس یعنی قیاس  
 وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا بے تمسند رفیق تہ دوست شیطان آسہ۔ پس سیٹھاہ پچھہ  
 چھو تھند دوست سو چھو تمن کاین ہند مشورہ دووان یکن کاین ہند سخت ضرر پچھو وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ  
 بے کیاہ سنا نقصان گڑھہ ہاتمن کافرن لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ہر گاہ تم ایمان اند ہن پڑھہ کرہ ہن  
 کنس خدایس بے قیامتہ کس دوہس وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ بے کرہ ہن خرج سومال بس اللہ تعالیٰ نے  
 دیمت او سچھہ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ اس آس گوڈہ بیٹھہ بھندہ نیک و بدج پور خبر۔ تمی  
 موجب دیکھہ سزا إِنَّ اللَّهَ لَا يُطِيعُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ پڑاٹھہ اللہ تعالیٰ چھونہ ظلم کران کانسہ اکس ذرس  
 برابر وَان تَكَ حَسَنَةً يَضْعَفْهَا بلکہ چھو تیوت رحمتہ وول کہ ہر گاہ با ایمان بندہ سنز آسہ اکھ نیکی  
 تہ چھو اللہ تعالیٰ تمس واریاہ گن زیادہ ثواب عطا کران۔ وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا بے چھو پینہ  
 طرفہ بطور انعام عملن ہندہ معاوضہ ورای بڈمزور عطا کران۔ فَكَيْفَ إِذَا جُنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ  
 پس کیاہ سنا حال سپدہ تمن کافرن ہند تمہ وقتہ سمہ وقتہ اس حاضر کروکھہ پریٹھہ انجیہ طرفہ اکھہ اکھ گواہ۔  
 یعنی پین پین پیغبر وَجُنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا تہ تہ انوہہ تمن پینہ نین امتین ہند گواہ یار رسول اللہ  
 يَوْمَ يَدْعُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ سَأَلُوا بِهِمُ الْأَرْضَ تمہہ دوہہ سپدہ یہوی حال

يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تَسْوَى  
 بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا  
 مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا  
 وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ  
 الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

کہ تمنا کرن کافر بیہ سہو نافرمانی کر پیغمبر برحقہ سزہر گئے تم زمینس منز و برت۔ تم پٹھہ بیہ بازمین  
 ہوار کرنہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا مگر تمہ سیت ماندیکہ کہہ پروردگار س نشہ بیکن نہ تم کا نہ تھاہ  
 ثورہ تھاوتھہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ  
 اے بالیمانوتہمہ آسو مستی تے بے ہوشی اندر نماز پران۔ بلکہ آسو ٹھہران توتان یوتان توبہ ہوش  
 آسہ یوان۔ تے زانن آسہ توبہ تگان کہ تہہ کیاہ چھوہ نمازہ منز پران۔ یاگو مطلب نماز پرچہ جایہ مہ آسو  
 نزدیک سپدان درحالت سکر و بیہوشی۔ یعنی مسجدن منزہ آسو اذان اتھہ حالس منز۔ (پہ آسہ کریمہ  
 چھو شراب حرام سپدنہ بروٹھہ نازل سپدنہ) وَلَا جُنُبًا بیہ مہ آسو بے غسلی ہندس حالس منز نماز  
 پران إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ مگرے ٹھہرنہ وراى فقط چکن آسوہ مسجدہ منز حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا یوتان نہ  
 غسل کران آسو وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ بیہ ہرگاہ تہہ بیمار آسو بیٹھہ بیماری اندر آب استعمال کرن مضر آسہ  
 ٹھہندہ خیطرہ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا آسو مسافر اوجاء احدًا منکم من الغائط یا بیہ توبہ اندرہ کا زشاہ  
 بیت الخلاء نشہ فارغ سپدت، فضلات دفع کترتھہ۔ أَوْلَسْتُمْ النِّسَاءَ یا سپدہ و تہہ نزدیک زنانن نشہ سمہ  
 سیت غسل پٹھوہ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً کس لبونہ تہہ آب سمہ سیت غسل یا طہارت کتر ہو۔ فَتَيَمَّمُوا  
 صَعِيدًا طَيِّبًا کس قصد تہہ ارادہ کتر و تہہ پاک میوہ ہند فامسحوا بوجوهکم کس اکھ ژنڈ دنہ پتہ  
 دیو پٹش تھین پنہ نین وَايِدِيكُمْ دویم ژنڈ دتھہ دیو پٹش زرین پنہ نین اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

صَعِيدًا طَيِّبًا فَاْمَسْحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
 عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿۳۳﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكُتُبِ  
 يَشْتَرُوْنَ الصَّلٰةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿۳۴﴾ وَاللّٰهُ  
 اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ وَكَفِيَ بِاللّٰهِ وَلِيًّا ؕ وَكَفِيَ بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿۳۵﴾  
 مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَيَحْرِفُوْنَ الْكَلِمَةَ عَنْ مَّوَاضِعِهَا وَ  
 يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاَسْمَعُ غَيْرَ مَسْمُوْعٍ وَرَاعِنَا

پڑھا اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ عفو کرہ و ن سیٹھاہ مغفرت کرہ و ن۔ پس پروردگار سند شان یہ چھو، سو چھو  
 بندن پیٹھ سہل احکام نازل کران پس شخص نسیہ آب دور آسہ آسہ میلن تس چھہ تہتم کر تک  
 اجازت۔ اده سو مسافر آستن یا مقیم آستن شرعی میل گو ژور ساس اتھ یعنی زہ ساس گز اَلَمْ تَرَ اِلَى  
 الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكُتُبِ آیا وچھان چھوہ تا تمن لو کن کن سکن کتابہ منزہ یعنی تور ایچھہ علمہ منزہ  
 اکھ حصہ آودنہ یعنی یہ چھہ بنظر تعجب و تھنس لائق اکھ کتھاہ يَشْتَرُوْنَ الصَّلٰةَ مثل چھہ ہیوان تم  
 گرا ہی یعنی کھر چھہ اختیار کران وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ پانہ آس تم ڈلیتی مگر تم چھہ  
 یڑھان تہہ تہ گڑھو گراہ سپد تھہ سیزہ و تہ نسیہ ڈن۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ بیہ چھو اللہ تعالیٰ اس پور  
 معلوم تھندین ڈشن ہند۔ یعنی تھند ڈشن کم چھہ توے چھو سو توبہ آگاہ کران وَكَفِيَ بِاللّٰهِ وَلِيًّا كَانِي  
 چھو اللہ تعالیٰ تھند دوست تہ رفیق وَكَفِيَ بِاللّٰهِ نَصِيْرًا اللہ تعالیٰ چھو کافی تھند مددگار من الَّذِيْنَ  
 هَادُوْا وَيَحْرِفُوْنَ الْكَلِمَةَ عَنْ مَّوَاضِعِهَا تم ہنز ذکر کر نہ آسہ تم چھہ بہو دو منزہ۔ سم تغیر و ان  
 چھہ توراتہ کین معاملاتن۔ ڈالان چھہ تمن کلماتن پنہ نیو حالو نسیہ۔ معنیو تہ مطلوبو نسیہ وَيَقُوْلُوْنَ  
 سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاَسْمَعُ غَيْرَ مَسْمُوْعٍ وَرَاعِنَا بیہ چھہ و نان بو زاسہ کسو سیت مگر مون نہ آسہ کبھہ۔  
 بو زونہہ بو زانہہ مہ ایوبہہ کمر و سون رعایت لیکاً اَلَا لَسْتُمْ مَوْلٰی زونہہ و نان زو پین گول مول  
 کمر تھہ۔ لجه بدل لاوتھہ۔ لجه تخفیرہ بدل لجه توقیر کمر تھہ بیٹھہ لوکن فکرہ ترہ و طعناتی الدین بیہ دین

لَيَّا بِالسِّنَدِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ طُ وَاَنْهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا  
 وَاَطَعْنَا وَاَسْمَعُ وَاَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَقْوَمَ وَا  
 لَكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿۳۷﴾  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا  
 مَعَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ تُطِيسَ وُجُوْهَا فَذُرُّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا

اسلامس طعنه زنی کمر تھے۔ سم الفاظ آس سم یهود استعمال کران یمن زہ زہ معنی چھہ۔ آکھ معنی  
 تعریفک۔ بیاکھ معنی مذمتک مسلمان دُھوکہ دنہ خیترہ۔ مسلمان آس تعریفک معنی مراد یوزان۔ مگر  
 سم آس پنہر جلیہ مذمتک معنی نوان۔ لفظ راعنا چھو رعایہ اندرہ تہ رعوتہ اندرہ تہ۔ صحابہ صیب آس  
 رعایتک معنی یوزان۔ مگر سم یہود آس پنہر جلیہ رعوتک معنی یوزان۔ بیاکھ معنی چھو آتھ ”پہل“ سہ۔  
 تمہہ خیترہ آس تم شیخ زیز یٹھرات پران راعینا یعنی ای سانہ پہلہ۔ گجہ راجھہ۔ امی سیت آس طعنه  
 دوان۔ نبی کر سم صلی اللہ علیہ وسلم گجہ راجھہ دنان۔ بیہ آس دین اسلامس تہ طعنه دوان کہ یہ چھو  
 آس گجہ راجھہ سہ دین۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان **وَلَوْ اَنْهُمْ قَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا** ہر گاہ سم دنہ یں یوز  
 آسہ بیہ مون آسہ **وَاَسْمَعُ وَاَنْظُرْنَا** یوزوحس سون۔ سانس حاسل کن کمر و نظر لکان خیرًا لَّهُمْ  
 البتہ تی اوس تہندہ خیترہ بہتر و اقومر بیہ اوس بی مناسب **وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ** مگر  
 اللہ تعالیٰ ان کر سم پنہر رحمتہ لغیر بہندہ حق تہ پوز پوشیدہ تھاو نہ سبہ دور **فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا** پس  
 ان نہ ایمان سم مگر کمی بہندہ لو کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اٰمِنُوْا** ای تمہو لو کو سمن کتاب دنہ آسہ **اٰمِنُوْا**  
**بِمَا نَزَّلْنَا** ایمان او پڑھ کمر و تمہہ کتابہ یوسہ آسہ نازل کمر **مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ** یوسہ کتاب  
 تصدیق کران چھہ تمہہ کتابہ یوسہ توہہ سیت چھہ یعنی تورات **مِّنْ قَبْلِ اَنْ تُطِيسَ وُجُوْهَا** سو وقت  
 واسنہ بروٹھہ کہ آس کیا دموتغیر تہنزن سکل نس آجھہ تہ نمبہ تھاو دکھ نہ کنبہ تہ **ذُرُّهَا عَلٰى اَدْبَارِهَا**  
 پس بناو کہ آس چھہ تہندہ تھر ہی **اَوَّلَعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا اَصْحٰبَ السَّبْتِ** نہ کرو کہ توشی لعنت بہ تھہ بہ

أَوْلَعَنَّهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۳۷﴾  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ  
 يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿۳۸﴾  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ  
 يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿۳۹﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى  
 اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿۴۰﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

وارہ والین لوکن کر تمن کمر اسمہ واندرن ہنزہ ہنزہ خنزیرن ہنزہ ہنزہ شکل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا خدایہ  
 سُدَّ نِسْ حَمُّ صَادِرٍ سِدَانِ سُوِّ جُحُو ضَرُورٍ پورہ سپدان إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ پڑپاٹ اللہ  
 تعالیٰ جُحُو نہ سزا دتھہ تہ مغفرت کران شرکس۔ نَس کیاہ ٹھہراوہ کانہہ شریک۔ بلکہ جُحُو مُشْرِكِ دانی  
 سزاس اندر بُتلاء تھاوان وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ تمہہ وراى جُحُو مغفرت کران سارنی گنہن  
 لوکن تہ بڈین تہ۔ سزاوندہ وراى تمن یڑھہہ تہ تمن۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا  
 نِس اکھاہ شریک ٹھہراوہ خدائس۔ نِس نتیق نووراوہ تم گناہ سیٹھاہ بڈ۔ یعنی سُو سید بڈہ جرمک مُر تکب  
 نِس نہ قابل مغفرت تھی جُحُو۔ توتان یوتان نہ شرکہ نشہ ہتھہ روزہ تہ توبہ کرہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ  
 أَنفُسَهُمْ آیا وچھان چُھکھناژہ تمن لوکن تمن پن پان مقدس تہ پاک زانان چھہ۔ ہم پان پانس  
 تعریف کران چھہ۔ تمہہ سیت اندیکھ نہ کبہنہ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ بلکہ جُحُو قابل تعریف سُوى  
 نِس خدایاک کرہ تہ مقدس ونہ۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ظلم بیہ نہ کرنہ کانہہ اگس تھہہ پتہ پینٹس برابر  
 تہ نِس خضر آنچہ ہندس سزس منز آسان جُحُو أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وچھہ تھہ  
 پاٹھہ چھہ تم نووراوان کنس خدائس پیٹھہ لہز۔ پن پان مقدس تہ پاک زانہ، سیت۔ باوجود کفر و شرک  
 چھہ تم پن پان مقبول زانان۔ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا یہی کتھہ چھہ کافی نپٹس گنہس بتلا آسنہ  
 خیطرہ۔ اٹھہ گُن نظر کتر تھہ نِس عذاب تمن کرنہ بیہ سُو جُحُو نہ بہندہ جرمہ کھو تہ کبہنہ تہ زیادہ۔ أَلَمْ

أَوْ تَوَانِصِيًّا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ  
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ  
أَمَّنُوا سَبِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ  
اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ  
فَإِذَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ  
عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ  
إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝

ترالہ الذین اوتوا نصیباً من الکتب آیاد پھجان پھکھنا تہ اے مخاطب تم لوکن گن سمن بتاہ ہند یعنی تورا تک اکھ حصہ عطا کرنہ آمت پھجو۔ مگر باوجود آل پھجہ تم یومنون بالجبت والطاغوت پھہ کران قریش ہندین پو تیلن بیہ شیطاں ویقولون للذین کفروا وان پھجہ تم کافرن خوش کرنہ خیطرہ ہؤلآء اهدی من الذین امنوا سبیلاً کہ کافر پھجہ زیادہ سیزہ وتہ پیٹھہ بالیمان ہندہ خوتہ اولیک الذین لعنہم اللہ سے لوکھ کیاہ گے تم سمن اللہ تعالیٰ ان لعنت کر تم پنیہ رحمتہ نشہ دور کرن ومن یلعن اللہ فلن یتجد له نصیراً بس اس اللہ تعالیٰ لعنت کرہ بس لبہن نہ تہ تمسندہ خیطرہ کانہ مددگارہ عذابہ وقتہ۔ املہم نصیب من الملک کنہ تم پھجہ تہ قسمہ پادشاہت فاذالایوتون الناس نقیراً تلہ تہ دین نہ تم لوکن اکھ رتھہ تہ نقیر پھجہ وان خضرہ آنچہ پیٹھ بس زویل دلیل پھجہ آسان املہم یحسدون الناس علی ما اتہم اللہ من فضلہ بلکہ پھجو سمن یہودن حسد لوکن ہند بالخصوص نبی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھہ پتھہ پیٹھہ کہ تم گور اللہ تعالیٰ ان عطا پن ہو ذ فضل نبوت تہ رسالت بیہ متعدد ازواج طاہرات فقد اتینا آل ابرہیم الکتب والحکمۃ و اتینہم ملکا عظیمًا بس یہ نوکانہ کتھاہ پھجہ تہ تحقیق اسہ کرنا عطا حضرت

فِيهِمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ  
 سَعِيرًا ۝۵۵ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كُلَّمَا  
 نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا أُخْرَىٰ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝۵۶ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  
 لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلٌّ لَبِيبٌ ۝۵۷ إِنَّ اللَّهَ

ابراہیمہ سندس خاندانس کتابتہ حکمت۔ بیہ کمر اسمہ تمن بڈ بادشاہت عطا۔ تمن اندر اوس حضرت  
 یوسف تہ حضرت سلیمان تمن بڈ سلطنت آس بیہ حضرت داؤد یمن بے شمار نکاح آس فینہم من  
 امن بہ و منہم من صداعنہ کس تموتہ وقتہ کیو یہود و اندرہ آس اڈیو تمن پیغمبرن پڑھ کمر بیہ  
 آس اڈیم کفر و انکار سی پیٹھ روو۔ تمن نشہ پھر کھ ہتھ۔ ہر گاہ وون از کہ وقتہ یہود تہ توہ پڑھ کرن نہ  
 یار رسول اللہ تہ نہ حض سپو آزرده۔ یہ بہنر نوکتھا چھنہ و کفی بجہم سعیرا کافی چھو جہنم تہ نہ  
 زالنہ خیطرہ تمن سزا دنہ نہ خیطرہ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا پڑ پاتھ سمو لوگو انکار  
 کور سائین آیاتن تہ آکا من جلدی و اتا دو کہ اس تم نارس اندر کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ  
 جُلُودًا أُخْرَىٰ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ پلہ پلہ بزنہ اسمہ یوان تہ دز تھہ اسمہ بیوان تہنر ژم۔ فور آس کو کہ تھہ  
 ژمہ بدل بیا کہ ژم پیدہ کران تھہ وارہ آسن عذابک مزہ ژبان إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا پڑ پاتھ  
 اللہ تعالیٰ چھو غالب حمہ وول وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سمو لوگو پڑھہ کمر کس خدائس بیہ  
 تہندس پیغمبرس بیہ کریٹھہ رتھہ عملہ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جلدی و اتا دو کہ آس  
 تم تمن جتن اندر سمو منز جو یہ پکان آسن خلدین فیہا ابدًا تمنی جتن اندر روزن تم ہمیشہ لہم فیہا  
 اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ تہندی خیطرہ آسن تمن جتن اندر پاک و پاکیزہ زنانہ وَهُمْ فِيهَا ظِلٌّ لَبِيبٌ بیہ و اتا  
 دو کہ آس تم زٹھس سائس تل إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَوْلِيَّهَا ای بایمانوا اللہ

يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوْا وَالْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
 الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ

تعالیٰ چھو توبہ امر کران سمجھو کی امانت و اتناو تمکس حدقار س وَاذْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
 تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ بیه چھو حکم کران اللہ تعالیٰ کہ یلہ تہہ لوگن منز فیصلہ کرن ہیوان آسو، سو فیصلہ آس  
 زیوہ عدلہ موجب کانسہ کمسز طر فدراری و رای کران إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ پزپاٹ اللہ تعالیٰ سمہ  
 کتھ ہنز توبہ ہ نمایش تہ نصیحت چھو کران کیاہ ر ژ کتھاہ چھہ سو إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا پزپاٹ  
 اللہ تعالیٰ چھو تہ سو روی بوزہون یہ تہہ امانس متعلق ونان چھوہ تہ سو روی وچھہ ون یہ تہہ امانس کران  
 چھوہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اے باایمانو! حکم خدایہ سُنْدِیہ پیغمبر خدایہ  
 سُنْدِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ بیه تم توبہ منز یعنی مسلمان تہہہ حاکم آسن تمن ہند احکام تہ مانو فَإِنْ  
 تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ نہس اگر اختلاف سپدہ توبہ کتہ امر س منز کتہ یہ چھا خداو پیغمبر خدایہ سُنْدِ کتہ چھو  
 نہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ نہس نیون سو معاملہ خدا نہس تہ پیغمبر خدا نہس تہ۔ پیغمبر خدا کرن  
 پائے تمیک فیصلہ یہ گو عہد رسالتس اندر۔۔ تمن پتہ کرو پیش ائمہ مجتہدین تہ علماء دین سو معاملہ۔ تم  
 کرن تمیک فیصلہ قرآن و حدیثہ موجب إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ چھوے تہہ پڑھ  
 کران خدا نہس بیه پنتس دو ہس یعنی قیاس ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا یہ اختلافہ وقتہ رجوع کرن  
 قرآن و حدیثس کن ای چھو بہتر بیه سیٹھاہ رت انجامہ کن۔ کیا زہ امیک نتیجہ چھو دنیاء آس اندر آمن و  
 راحت تہ آخر کس اندر نجات و سعادت أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا



أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ  
 أَنْ يَتَّبِعَا كَمَا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا  
 بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾  
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ  
 رَأَيْتِ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا  
 أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا يَا قَدْ مَتَّ أَيْدِيَهُمْ ثُمَّ جَاءُوكَ  
 يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَنًا وَتَوَفَّقْنَا ﴿٦٢﴾ أُولَئِكَ

أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وچھان چھوہ نانہہ یارسول اللہ تمن لوکن گن تم زیوہ سیت دعویٰ چھہ کران پڑھ  
 کرنگ تھہ کتابہ یوسہ توہہ پیٹھہ نازل آہہ کرنہ بیہ یہ توہہ بروٹھہ نازل آو کرنہ یعنی تورات یُرِيدُونَ  
 أَنْ يَتَّبِعَا كَمَا إِلَى الطَّاغُوتِ باوجود آل چھہ تم ارادہ کران کہ فیصل بناؤن شیطانس وَقَدْ أُمِرُوا  
 أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ حالانکہ تمن آیو حکم کرنہ شیطانس انکار کرنہ۔ تھند نہ کانہہ چیزمانہ تک وَيُرِيدُ  
 الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا کیا زہ شیطان چھو پڑھان تمن سیٹھاہ زپتھہ گمر ایہ منز بتلا کرن  
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بیہ بلہ ونہہ چھو یوان تمن ولور رجوع کر وتھہ کھمس گن لیس اللہ  
 تعالیٰ ان نازل کور۔ وَإِلَى الرَّسُولِ بیہ کھر ور رجوع بیغیر خدا لیس گن تم یہ فیصلہ کرن تی کھر منظور  
 رَأَيْتِ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا وچھو کھہ تھہ یارسول اللہ منافق تھہ ساتہ اعراض کران تہ  
 تھہ پھر ان توہہ بروٹھہ گن بیہ نشہ عجیب طریقو فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ لیس کیاہ سنا حال بیہ  
 تھہ وقتہ بلہ تم تمنہ مُصِيبَتَسْ گرفار گزھن رِمَا قَدْ مَتَّ أَيْدِيَهُمْ تھہ ناجاز حرکتہ کہہ شامتہ یوسہ  
 تمویہ مُصِيبَتِ واتھہ بروٹھہ کر مثر آس۔ یعنی مُقَدَّمْ فیصلہ کرناونہ آس آمتہ آگس کافر س نشہ۔  
 ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ تھہ پتہ یین توہہ نیش قسم ہوان إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَنًا وَتَوَفَّقْنَا کہہ آسہ اوس

الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ  
 وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿۶۳﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ  
 رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ  
 جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ  
 لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿۶۴﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ  
 حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۶۵﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا

نه اراده امه اندره مکر رثوی۔ بیه اوس اسه اراده دون منزهه موافقت سپدن اولیک الذین یعلم الله  
 مَا فِي قُلُوبِهِمْ سم گے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی چھو زمان تہندین وکن منزهه نفسک نفاق تہ کفر چھو  
 فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا جس کروہہ تمن نشہ در گذریہ کریو کھ سمہ  
 حر کتر اونچ نصحت۔ بیه فرمایو کھ پنہ جایہ موثر کلاماہیمہ حر کتر اوس متعلق وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ  
 إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ بیه سوز نہ اسہ کانہہ پیغمبر اہ مگر بی خیطر کہ تہند ختم بیه مانہ خدایہ سہہ حکمہ  
 سیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ بیه سہہ سہہ سمونا فرمانی کر تہہ پنہ نین پانن ظلم کریو و ہر گاہ  
 توہہ نشہ اسہ ہن آمت نادم تہ پشیمان گڑھتہہ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ لیس مگہ ہن مغفرت خدائس  
 وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ بیه مگہ باہندہ خیطر ہ مغفرت پیغمبر بر حق تہ یعنی تہہ تہ مگہ ہو تہندہ خیطر ہ  
 دعای مغفرت لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا البتہ لہ ہن تم اللہ تعالیٰ اس توبہ قبول کرہ و ان تہ رَحْم  
 کرہ و ان فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ لیس قسم چھو تہندس پروردگارہ  
 سہد ہر گز چھنہ تم با ایمان یوتان نہ تھی اتہہ فیصلہ آس کرہ ناوان پنہ نین تنازعن اندر ثُمَّ لَا يَجِدُوا  
 فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ توپتہ آس نہ گنہ قسمہ دل نگ سپدن تہندہ فیصلہ سیت وَيُسَلِّمُوا

عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا  
 فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ  
 بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ﴿٦٧﴾ وَإِذْ آلَتَيْنِ مِنْهُمْ  
 لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٨﴾ وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٩﴾  
 وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ  
 اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ  
 وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٧٠﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى

تَسْلِيمًا بلکہ آسن پورہ پاتھ سو فیصلہ مانان تہ تسلیم کران وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
 أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ بیہ ہر گاہ اس تمن حُم کر ہو کہ مارو کھہ پان ہن یا نیر و پنہ نیو شر و  
 آندرہ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ تنہ کھس کرہ ہن نہ تعمیل مگر تموا آندرہ کمی بو کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا  
 مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا بیہ ہر گاہ تم عمل کرہ ہن تمن یسکتن پیٹھہ سمہ نصیحت  
 تمن کرنہ ہٹھہ یوان۔ البتہ سیٹھہ جان اوس تہندہ خیطرہ۔ بیہ اوس زیادہ بہتر تہندہ ایمانجہ درہ رہ خیطرہ  
 وَإِذْ آلَتَيْنِ مِنْهُمْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا بیہ گرہ ہو تنہ صورتس اندر اس تمن پنہ طرفہ بڈمزور عطا۔  
 وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بیہ ہاوہ ہو کھہ اُس ضرور و تھہ سبز جنس و اتج۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ  
 وَالرَّسُولَ بیہ سم لو کھہ حُم مان خدایہ سندیہ پیغمبر خدایہ سُنْد فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  
 ہس تے لو کھہ آسن تنہ جماعتس سیت یمن اللہ تعالیٰ ان ہن انعام عطا کور مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ  
 وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ تم گے حضرات انبیاء بیہ صدیق، بیہ شہداء۔ بیہ، نیکوکار۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ  
 رَفِيقًا کیاہ رثچھہ سمَن حضراتن ہنز رفاقت ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ بیہ چھو بیہ خدایہ سندی فضل  
 وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ہس چھو اللہ تعالیٰ ہی پور زان وول يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا حُذًا وَاحِدًا رُكْمًا ای

بِاللَّهِ عِلْمًا ۴۰ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا خِدْوًا وَاحِدًا رُكْمًا فَانْفِرُوا  
ثَبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا ۴۱ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ ۚ فَإِنْ  
أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ  
شَهِيدًا ۴۲ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَّمْ  
تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَأْتِيَنِّي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ  
فَوْزًا عَظِيمًا ۴۳ فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ  
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

با ایمانو بچاؤ بہن کرو ہتھیار۔ سلاح سامانہ پن آسوپا نس سیت تھان فأنفروا ثبات اور انفر و اجبعا  
اود آستونیر ان جماو و جماو یا آستونیر ان اکہ و لہ کنی جماعت و ان منکم لمن لیبطئن بیہ چھہ  
پز پانھہ توہہ منزہ بعضی تم ضرور جمادہ خیطرہ نیر نس منزستی کران چھہ۔ پتھہ روزان چھہ فان  
اصابتکم مصیبة تویپتہ ہر گاہ توہہ جمادس منزیکہنہ تکلیف واتان چھو قال قد انعم الله علی اذ لم  
اکن معہم شہیدا وان چھو سو شخص تمہ ساتہ پیٹک خد لین کر میہ پیٹھہ مر بانی کہ بہ اوس نہ جماد  
کرنہ ڈرامت تمن سیت ولین اصابتکم فضل من الله لیقولن تویپتہ ہر گاہ تہہ کہانہ فضلہ نہ مر  
بانیاہ خدلیہ سندہ طرفہ واتان چھو یعنی فتح نہ غنیمت تمہ ساتہ چھو وان کان لم تکن بینکم و بینہ  
مودة زن نہ توہہ سیت کہی تعلق چھس محبت مال آتھہ گو چھس پیٹھہ افسوس کتر تھہ یلایتنی کنت  
معہم فافوز فوزا عظیما کاش کہ بہ تے آساتمنی سیت۔ میہ تہ سپدہ باد کا میابی حاصل۔ اللہ  
تعالی چھوس فرماوان۔ بد کا میابی حاصل کر چیلہ خواہش کانہہ آسہ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین  
یشرون الحیوة الدنیا بالآخرہ سو کرن تلہ جماد خدلیہ سزہ و تہ اندر۔ کلمہ اسلامکہ تہزہ خیطرہ۔  
نہایت ایمانداری نہ اخلاصہ سان، نفاق تراوتھہ۔ تمن کافرن سیت تم دنیا چ زنگی چھہ مثل ہیوان

فَيُقْتَلُ أَوْ يُعْلَبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ وَمَا لَكُمْ  
لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ  
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا  
مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ  
لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝  
الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

آخر تس بدل وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يُعْلَبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا نُس اگاہ  
جماد کرہ خدلیہ سزہ وتہ اندر کس بیہ مارندہ یاسدہ سوی غالب۔ دوشون حالتن اندر گز و اس تس عطا  
بدمزور آخر تس اندر وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیہ کیاہ عذر چھو توہمہ کہ تہم چھو نہ جماد  
کران خدلیہ سزہ وتہ اندر۔ حالانکہ جماد کر تک سبب چھو موجود۔ سو گو گوڈنی پروردگار سجدہ کلمہ کہ  
تہزہ خیطرہ تمہ علاوہ چھو بیا کہ وجہ کہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ  
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا کمزور با ایمان ہندہ حفاظت خیطرہ تہ چھو  
جماد کران ضروری۔ تہمہ تم کافران ہندہ ظلمہ تہ ستمہ نیشہ آزاد سپدن۔ سمن منز کینہہ مرد چھہ، کینہہ  
زنانہ چھہ تہ کینہہ لوکٹ چھہ۔ ستم کافران ہندیو ظلمو سببہ پریشان سپدن دعا کران چھہ۔ بعاجزی مکان چھہ  
آی سانہ پروردگار اسہ کلدہ تہ ستمہ شہرہ اندرہ نمبر۔ سمک لوکھ سخت ظالم چھہ۔ ستم اسہ رنگارنگ مضمیتن  
گر فگار کران چھہ۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا بیہ  
تلتن ژہ سانہ خیطرہ پنے طرفہ کانہہ دوستاہ۔ بیہ سوزن ژہ سانہ خیطرہ پنے طرفہ کانہہ مدد گارہ نُس  
اسہ سمن ظالمن ہندہ ظلمہ نیشہ موکلاوہ ہا۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ستمو لو کو پورہ  
اسمان اون کٹس خد نُس تم چھہ ستم احکام بو زتہ جماد کران خدلیہ سزہ وتہ اندر محض تہندی رضا  
خیطرہ۔ تہندہ کلمہ کہ تہزہ خیطرہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الظَّالِمِينَ ستمو کفر تہ انکار

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۗ  
 إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۗ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ  
 لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ  
 عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يُخَشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ  
 اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً ۗ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ  
 لَأَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۗ وَالْآخِرَةُ

کوڑ تم ہجھ جنگ کران شیطانہ سیدہ خیطرہ یعنی کفر سے غلبہ خیطرہ ہ فقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ تمس جہاد کرو  
 تہہ ای با ایمانو شیطانہ سیدہ یازن سیت یعنی کافر سیت۔ یقین تھا و کہہ۔ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ  
 ضَعِيفًا ہز پانہ شیطانہ سزہ چالہ ہجھ گوڈہ پیٹھے سست تہ کمزور۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا  
 أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ توبہ ہجھ و کھنا تم لوکھ تمکن ونہ آیو جنگ مہ کمر و اتھہ ہن  
 رتو تمہ ہجھ ہجھ۔ سز دست تم حکم توبہ کمر نہ یوان ہجھ تم پیٹھہ کرو عمل۔ نماز پروا بندی سان بہہ دیو  
 زکوٰۃ۔ مگر تم آس بے تالی سان جہادک اجازت طلب کران فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اودہ بلہ تم  
 پیٹھہ جہاد فرض کرنے آو إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يُخَشَوْنَ النَّاسَ كَخَشِيَةِ اللَّهِ تمہ وقت ہجھ اکھ جماعت  
 تمہوی اندرہ لوکن یعنی مکہ کین کافر ن تھوی کھوڑ نہ ہجھ خدائس شوہ ہا کھوڑن أَوْ أَشَدَّ خَشِيَةً بلہہ  
 تمہ خوتہ زیادے وَقَالُوا وَنَبِيٌّ لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ سَيَأْتِيكُمْ بِهِ سَيَأْتِيكُمْ بِهِ سَيَأْتِيكُمْ بِهِ خدایا سہ پیٹھہ  
 کیا زہ کوڑ تھہ ژہ ون جہاد فرض لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ اسہ کونہ دژا ہجھ ژہ مہلت کئہ و قس  
 تام قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ فرما یو کہ تہہ یار رسول اللہ دنیاءک تمتع چھو سیٹھاہ  
 کم۔ آخرت چھو سیٹھاہ بہتر تم ہدہ خیطرہ ہم خدایہ سزہ نا فرمانی نشہ ہجھہ روزن۔ سو آخرت حاصل  
 کرنے خیطرہ چھو بہترین ذریعہ جہاد۔ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ آيَاتِنَا كَمَا تَنْظُرُونَ قَتِيلًا توبہ ہر گز نہہ قسمک ظلم بہہ نہ کرنے آس  
 پتہ داوہ برابر تہ۔ ایض عمل کرو متیوت بیو ثواب عطا کرنے۔ عملو اندرہ چھو جہاد کرن خدایہ سیدہ رضا خیطرہ

خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿۴۴﴾ اَيْنَ مَا تَكُونُوا  
يُذَرِكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ  
حَسَنَةٌ يُقَالُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ  
يُقَالُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ  
هُؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿۴۵﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ  
حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ

بذ عمل۔ اُمّہ نشیہ کیازہ وچھو کہہ پن پان محروم کران۔ کیاہ تہہ چھوہ مؤنس تہ مرئس کھو ژان موتہ خیطرہ  
ئس وقت مقرر کرنہ اُمّت چھو عمہ نشیہ بیچہ نہ کانہہ تہ چھہ اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُذَرِكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ  
كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ بیتہ آسو تہہ تہ بیتہ، ضرور وایہ توبہ موت اگرچہ آستو تہہ چونہ مرئی سیت  
مضبوطہ تہ محکم کرنہ آمتین قلائن تہ مکان اندر وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يُقَالُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بیہ  
ہر گاہ واتان چھہ تمّن منافقن نعمتہاہ وان چھہ تہہ ساتہ یہ نعمت واثار طرف خدا، اتفاقاً۔ تہ مسلمان ہند  
طاقت اوسنہ کنہی وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يُقَالُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ بیہ یلہ واتان چھہ تمّن کانہہ سختیہ  
جنگس اندر تہہ ساتہ چھہ دپان یہ واثارہ تہندہ طرفہ۔ تہندہ بے تدبیری سیت۔ گرن منز آس آرامہ  
سان خواخوہ کدوہ گرواندرہ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تہہ فرماؤ کہہ میون وچھو نہ اٹھہ اندر کنہی دَخَلَ۔  
سوزوی وچھو خدایہ سدی طرفہ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا بس کیاہ گو تمّن  
منافقن تمّن وچھہ اٹھ تہہ تہ تران فہرہ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ حقیقت چھہ بتی کہ اے  
انسان یہ کینہہ ہاہ واتان وچھوے ژیہ رُت رُت سو وچھو خدایہ سہہ طرفہ سوی وچھوے عطا کران پنیہ  
فضلہ سیت وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ بیہ یہ کینہہ ہاہ واتان وچھوے ژیہ خراب تہ چھہ تہ  
وچھوے پنیہ نی طرفہ کیازہ سبب تمیوک وچھو چاہہ چھہ عملہ تہ نافرمانی وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا اَسَہ  
حض سوزوہ تہہ واقعی لوکن گن پیغمبر برحق۔ منافق تہ کافر متہ مانن وکفی بِاللَّهِ شَهِيدًا بس وچھو

لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝۸۹ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ  
فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝  
وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ  
مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۗ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ  
عَنَّهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝۹۰ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ  
الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا

گواہ امہ کتبہ ہند اللہ تعالیٰ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ نِس اکھاہ حکم مانہ پیغمبر برحقہ سُنَد تھی  
مُون حکم خدایہ سُنَد۔ ہم نافرمانی کمر تہمز تم کرنا فرمانی اللہ تعالیٰ سنز۔ یتھہ پاٹھہ اللہ تعالیٰ سنز اطاعت  
کرن عقلاتہ واجب چھہ تھہ پاٹھہ چھہ رسول کریمہ سنز اطاعت کرن تہ عقلاً واجب۔ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا  
أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا بیہ نِس اکھاہ تھہ پھرہ تہ اعراض کرہ کمر تن۔ تہہ مہ حض کتھہ تھیک غم۔ نِس  
سوزوہ نہ اسہ تہہ تہندہ خیطرہ راجھہ کہ تہہ مہ دیو تھن ہر گز کھر کرنہ۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ بیہ چھہ تم  
منافق ونان توہہ بروٹھہ کنہ سان کام چھہ حکم مانن۔ فرمانبر داری کرن۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ  
طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ نِس یلہ نیر ان چھہ توہہ نشہ رات کیت چھہ اکھ جماعت تھو اندرہ  
یعنی تہند زھہ تہندس فرمائس بدل کرہ ٹک مشورہ کر ان وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اللہ تعالیٰ چھو  
لیکھان تہ سوروی بیہ تم راجھیت توہہ خلاف سازشہ کر ان چھہ موقفس پیٹھہ دیکھہ سو خوب سزا۔  
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ نِس مہ کرو تہمز ن بے ہود کین کن کائہ خیال تہ التفات وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جہہ پٹرا  
ووہی معاملہ خدا نِس تہ پیٹھہ کرو تہہ اعتماد وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا نِس چھو اللہ تعالیٰ تہند وکیل تہ کار ساز  
أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ کیا زہ چھہ تہ ہم منافق تامل تہ غور کر ان قرآن مجید س اندر، اچ فصاحت و  
بلاغت و چھان۔ کوتاہ تھدہ درجہ چھو بیہ فصیح و بلیغ۔ اتھہ منز چھہ تمہ خبرہ یمہ چیز چ دلالت چھہ کر ان  
کہ چھو بیشک کلام خدا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا کثیرا ہر گاہ بیہ قرآن



كَثِيرًا ۲۲) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ  
 وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَالْإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ  
 يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ  
 الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۲۳) فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا  
 نَفْسَكَ وَحِرْصَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِكَ بِأَسْ الذِّينَ

مجید آسہا خدا کیس و رای بیہ کانسہ ہندہ طرفہ ضرور لہ بن تم تلمہ تھتھ منز واریاہ اختلاف باعتبار فصاحت و  
 بلاغت تہ تہ پوشیدہ حالات بیان کرنکہ اعتبارہ تہ وَاذْجَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ بیہ  
 یلہ و اتان پچھہ تَمَن نَشِ کانسہ خبراہ اَنُج یا خوُجُ سُو خُبہر ہچھہ تم شائع کران تھقیقہ و رای۔ تھتھ منز پچھہ  
 نیران واریاہ خبرہ بے بیاد تہ بے اصل وَاذْجَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ہر گاہ بے سو  
 معاملہ تم پیش کرہ بن پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم نیشہ یا تَمَن لوکن نیشہ تم تموا اندرہ معاملہ شناس  
 آس یعنی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ البتہ زانہ بن تم لوکھہ تم پورہ  
 تحقیقات کرہ و ن پچھہ تموا اندرہ اَنُج حقیقت کیاہ چھہ تو پتہ یوسہ تھتھ تم مشہور کرہ نس لائق زانہ بن سوا  
 بیہ ہامشہور کرنہ۔ یوسہ تھتھ نہ تھتھ لائق آسہا سو بیہ ہا تھو ظ تھوانہ وَاذْجَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ  
 لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ہر گاہ نے خدایہ سندیہ خاص فضل تہ رحمت توہمہ پیٹھہ آسہا کہہ توہمہ کور  
 نوہ قرآن مجید عطا۔ توہمہ گُن سُو زُن ہُن پیغمبر برحق تہ کرہ ہو ہتھہ ساری کم کینو و شخصو و رای شیطانہ سنز  
 متابعت فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس ای پیغمبر ہتھہ کمر و جہاد خدایہ سنزہ و تہ اندر۔ امیک مہ ہجر و پروا  
 لوکھہ نیر نہ توہمہ سیت جہادس کنہ نہ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا نَفْسَكَ توہمہ پچھونہ مگر پینہ نی کامہ ہنزہ ذمہ داری  
 ہند تکلیف دہ دیوان۔ لوکن ہنزہ کامہ ہنزہ پچھنہ توہمہ پیٹھہ کانسہ تہ ذمہ داری وَحِرْصَ الْمُؤْمِنِينَ ہتھہ  
 دیو صرف تر غیب با ایمان جہاد کرنک تو پتہ نیر تن جہاد کرنہ خیطرہ کانسہ یا متہ نیر تن ہتھہ سپدہ خدا کیس  
 نیشہ بری الذمہ۔ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِكَ بِأَسْ الذِّينَ كَفَرُوا شاید کہ اللہ تعالیٰ رٹہ پچھہ کافر ن ہند قوت،

كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿۸۴﴾ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً  
حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ  
لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْبِتًا ﴿۸۵﴾ وَإِذْ أَحْبَبْتُمْ  
بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿۸۶﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْعَلَ لَكُمْ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ لَارِبًا فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿۸۷﴾

طاقت سے زور والہ اللہ اشد باسا کمازہ اللہ تعالیٰ چھوڑ زیادہ سخت زور رکھن سے طاقت رکھن وَأَشَدُّ تَنكِيلًا یہ  
چھوڑ زیادہ سخت عذاب کرنے رکھن نافرمان مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا لیس اکھاہ  
پیس شخص سفارش سے مدد کرے کئی بڑہ کامہ اندر تس آہ تمک رت حصہ آخر تس اندر وَمَنْ يَشْفَعُ  
شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا یہ لیس اکھاہ سفارش سے مدد کرے پیس شخص کئی بچھ کامہ اندر تس سے  
آہ تمک سزا ک آھ حصہ آخر تس اندر وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْبِتًا اللہ چھوڑ ہتھ چیزس ہتھ  
طاقت وول۔ سو چھوڑ ہتھ قدر سے سیت نیکی ہتھ ثواب عطا کران سے ہدی ہتھ سزا ووان۔ وَإِذْ أَحْبَبْتُمْ  
بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا یہ بلہ آہ توبہ ای مسلمانو تعظیم سے سلام یوان کرنے پس آسوا  
تہہ تمیک جواب دوان تمہہ خور سے طریقہ۔ تہ لے توتہ تمہہ ہیو۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا  
بے شک اللہ تعالیٰ چھوڑ ہتھ چیزس ہتھ باز خواست کرہ وں سے حساب ہبہ وں اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
معبود بر حق گو سومی کہانہ معبوداہ چھونہ تس ورا ای لِيَجْعَلَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضرور سو نبر اوہ سو  
توبہ سارنی قیامت دہ لَارِبًا فِيهِ کہانہ شکاہ چھونہ تمہہ کس واقع سپد تس اندر وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ  
اللّٰهِ حَدِيثًا یہ کہہ اکھاہ چھوڑ خدلیہ سدہ خور سے زیادہ پزیر کلام فرمائس اندر۔ مکہ کیو مٹر گو اندرہ آھ  
جماعتھاہ آیہ مدینہ متورہ تموی کور ظاہر کہ آس آی مسلمان سپد سے ہجرت کرت۔ توپتہ گئے یہ  
واپس حیلہ کور کہ آس انو تورہ مال تجارت توپتہ آس نہ واپس کینہہ تہ تہ سپد مژد۔ تہن متعلق سپہ

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكَّهُمْ بِمَا كَسَبُوا  
 أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ  
 فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝ وَذُوالْوَكْفَرُونَ كَمَا كَفَرُوا  
 فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ  
 وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وُلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ ۸۹

مسلمانان زہ جہاڑ۔ آڈیو دوپ تم چھہ کافر آڈیو دوپ نہ تم چھہ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان تم چھہ  
 واقعی کافر ای مسلمانو چھہ کیا زہ چھوہ اختلاف کران اتھہ منز **فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ** ای  
 مسلمانو کس کیا سپدوہ توہہ۔ منافقن ہمدس معاملس منز کیا زہ گیہ توہہ اندر زہ جہاڑ۔ اکھ جماعت چھہ  
 دپان تم چھہ کافر۔ بیا کہ جماعت چھہ دپان تم چھہ مسلمان متفق سپدوہ ہمدس کافر آسہن پیٹھہ۔ **وَاللَّهُ**  
**أَرَكَّهُمْ بِمَا كَسَبُوا** اللہ تعالیٰ ان پھر تم واپس گھر س گن۔ پنہ نیو چھہ عملو سببہ **أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا**  
**مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ** کیاہہ چھوہ یڑھان و تھہ ہاون تمن سگن و تھہ راوہ راوہ اللہ تعالیٰ ان **وَمَنْ يُضِلِّ**  
**اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا** کس و تھہ راوہ راوہ اللہ تعالیٰ تسدہ خیطرہ لبونہ ہبہ کانہہ و تھہ باہ ایمان نہ  
**يُجِ** **وَذُوالْوَكْفَرُونَ كَمَا كَفَرُوا** تم کیاہہ آسہن موئن بلکہ چھہ تہندہہ دہج خواہش کہ ہر گاہہ ہبہ تہہ  
 ہو کافر چھہ پاٹھہ تم کافر چھہ **فَتَكُونُونَ سَوَاءً** کس نہ ہو تھہ ساری معاذ اللہ برابر گھر س اندرہ دوون  
 یلہ جہند خیال توہہ نسبت یہ چھو **فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ** پس مہ بناویون تمن اندرہ کانہہ پن  
 دوست تیار **حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ** یوتان نہ تم بیہ ہجرت گرن محض خدایہ سیدہ رضا خیطرہ  
**فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ** کس اگر تم اسلامہ نشہ اعراض گرن تھہ  
 پھر ن۔ گھر سی پیٹھہ بدستور روزن۔ تلہ ریو کہ تہ مارو کہ تیس پیوہہ تہ تیس **وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ**  
**وُلِيًّا وَلَا نَصِيرًا** ہر گزمہ بناویون تموا اندرہ کانہہ اکھاہہ دوست تہ نہ مدگار۔ تمن نشہ روزو بالکل

الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْتِكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ  
جَاءُوكُمْ حَصْرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا  
قَوْمَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ  
اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوْلَ إِلَيْكُمْ السَّلَامُ ۖ فَمَا  
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۗ سَتَجِدُونَ الْآخِرِينَ  
يُرِيدُونَ أَنْ يُبَايِعُوكُمْ وَيَأْمِنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُزِّقُوا إِلَى

الک۔ اِلَّا الَّذِیْنَ یَصِلُونَ اِلَى قَوْمِ بَیْتِکُمْ وَبَیْنَهُمْ مَیثَاقٌ مگر مہ ماریو کہ تم تم دشمنو نشیر الگ  
سپد تہہ الحاق کرن تہہ قومس سیت تمن سیت توبہہ صلحک معاہدہ کورمت آسوہ اوجاءوکوم  
حصرت صدورہم ان یقاتلوکوم اویقاتلوا قومہم بیہ مہ ماریو کہ تم ہر گاہ تم توبہہ نش براہ  
راست صلحہ خیطرہ بن تہہ حالش اندر کہ دل تہند آسن توبہہ سیت لڑای کرنہ نشیر یا تہندہ طرفہ پنہ نس  
قومس سیت لڑای کرنہ نشیر چو نگر نہ آمت۔ یعنی تم آسن یرشہان غیر جانبدار روزن۔ تم سیت تہ مہ  
کمر و جنگ۔ تہہ ماویہ خذلیہ سند اجسان کہ تہندین دلن اندر تراواللہ تعالیٰ ان تہند بیت۔ تم آی توبہہ  
نش صلحک درخواست ہتہ ولوشاء اللہ لسلطہم علیکم ہر گاہ غذا یرہہ یا تمن کرہہ با توبہہ بیٹھہ مسلط  
فلقاتلوکوم تلہ کرہ ہن تم توبہہ سیت مقابلہ تہ جنگ فان اعتزلوکوم فلم یقاتلوکوم والقوالیکم  
السلم پس یلہ تم الگ روڈ توبہہ سیت جنگ تہ لڑای کرنہ نشیر تمہ علاوہ سوزک توبہہ کن پیغام صلح  
فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلًا پس اتہ صورتس اندر تھاونہ اللہ تعالیٰ ان تہندہ خیطرہ تمن  
سیت خوا مخواہ جنگ کرچ کانہہ وتھاہ۔ یعنی اتہ صورتس، منز چھونہ توبہہ اجازت تمن سیت جنگ  
کرنک ستجدون الآخیرین یریدون ان یبایعوکوم ویامنوا قومہم تہہ لیون بیاکہ جماعتھاہ تم  
یرشہان تہہ توبہہ نشیر تہہ آمنس منز روزن پنہ نس قومس نشیر تہہ امنس منز روزن کلمادوالی الفتنۃ  
ارکسوا فیہا مگر یلہ یلہ تمن کانہہ قنٹس کن و اچس نوان چھو فور اچھہ تہہ کن تہہ منز پوان فان لکم

الْفِتْنَةَ أَرْكُسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُواكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ  
السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُواهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ  
تَقْتُلُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١١٤﴾  
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ  
كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ  
كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ بِيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

يَعْتَزِلُواكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ پس ہر گاہ تم توہمہ نش الگ روزن نہ پیغام  
صلح سوزن نہ۔ آتھہ بن ہتھہ رٹن نہ۔ فَخُذُواهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ تله کریو کہ تم گرفتار  
بیہ مارئو کہ تبتس پیوہہ تہ تبتس وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا تم اسمہ قسمک لو کہ بیہندہ  
خیطرہ دژ آسہ توہمہ دلایلاہ صاف تہ روشن رٹنس تہ قتل کرنس پیٹھہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا  
إِلَّا خَطَاً بیہ چھو نہ جائز کانسہ بالیمائس سوکیاہ مارہ کانسہ بالیمائس مگرے وشفہ پاٹھہ بغلطی کانسہ کانسہ  
مارہ تمیک حکم چھو بیہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ پس اکھاہ کانسہ  
بالیمائس بغلطی مارہ، قتل کرہ تئند گوٹھہ اکھ بالیمائس غلام یا کبیز آزاد کرن۔ بیہ گوٹھہ خون بہادئمن مشقولہ  
سدین وارٹن کن وراشتہ تمہ حصہ موجب إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا مگرے تم مشقولہ سد وارث معاف کرن  
سوزوی یا کانسہ حصہ تمہ منزہ تله نہ کینہہ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ پس ہر گاہ مشقول  
آسہ دشمن ہندہ قومہ منزہ مگر آسہ سو مشقول پانہ بالیمائس فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تله چھو قاتلس پیٹھہ منہ  
صرف بالیمائس غلام آزاد کرن بیہ نہ کینہہ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ بِيْثَاقٌ ہر گاہ مشقول آسہ تمہ  
قومک تمکن سیت توہمہ عمد و پیمان آسہ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تله چھو قاتلس

وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ذِ  
 تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۹۲﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَدًّا  
 فِجْرًا أَوْ جَاهِدَةً خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ  
 عَذَابًا عَظِيمًا ﴿۹۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ  
 عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ

پیٹھہ مہ آھ ٹون بہا دین مقولہ سندس دن وارثن کن بہہ بایمان غلام آزاد کرن فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وون تہمس نہ غلام آزاد کرن تیسر سپدہ تمند گڑھہ دون۔ رتین پے درپے روزہ دار روزن تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ یہ چھو اللہ تعالیٰ سدہ طرفہ تہندہ حقہ توبہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ چھو سوزی زامن وول بود حکمتہ وول۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَدًّا فِجْرًا أَوْ جَاهِدَةً خَالِدًا فِيهَا یہ کس اکھاہ قتل کرہ کانہہ با ایمانس ویدہ ودانستہ تمند سزا چھو تار جہنم۔ تھہ منز روزہ ہمیشہ ابد الآباد وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا بہہ چھو کس پیٹھہ غضب خدا، بہہ لعنت خدا بہہ چھو تہندہ خیطرہ تھامت تم تیار بود عذاب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ای با ایمان اولیہ تہہ سفر آسو کران خدایہ سزہ و تہ اندر یعنی جہاد کرہ آسو نیران فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا پس تحقیق آسو کران بہہ مہ آسو تم سن توبہ اسلامی سلام کرن یا کلمہ شریف ہر ان سمہ سیت تہند مسلمان آسن ظاہر سپدہ زورہ و نان کہ تہہ چھو ہ نہ ولہ کن مسلمان تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تھہ حاکس منز کہ تہہ آسو ژھانڈان دُنیاچہ زندگی ہند سامان مال غنیمت حاصل کرنہ سیت فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ کس اللہ تعالیٰ سی نشہ چھو پشمار مال سوی کونہ کمر و تہہ جائز طریقہ حاصل ناجائز طریقہ دُنیا ک مال حاصل کرن چھو ناجائز كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ تہند حال تہ اوس تھوی یعنی اسلام تہ کلمہ و رای اوسنہ توبہ اسلامک کانہہ علامتھا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تہہ پیٹھہ اسلامک

قَبْلُ فَمَنْ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۶۷﴾  
 لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الصَّرِيحِ وَالْمُجَاهِدُونَ  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ  
 بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ  
 الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۶۸﴾  
 دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
 رَّحِيمًا ﴿۶۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي

توفیق دینہ سیت فَبَيَّنُوا پس آسو جنبہ وارہ تحقیق کران کہ تمکن لوکن ہند حال کیاہ پھجو۔ تم جہاد شمن  
 کنہ دوست۔ ہر ہمرہ گڑھ نہ کنہ تو مس پیٹھ حملہ کرن۔ بیہ کمر و غور کہ ٹھنڈ حالت تہ آس ابتداء س اندر  
 یہی ای کہ اللہ کان بہا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا پڑا پڑ اللہ تعالیٰ پھو پور زمانا یہ جہہ کران جھوہ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ  
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الصَّرِيحِ جھنہ برابر با ایمانواندرہ تم تمکن عذرہ ورا کی جمادس نیر نہ نشہ پتھہ روزن۔  
 وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ بیہ تم محض خدایہ سیدہ خیطرہ مال وجانہ سیت جماد  
 کرن۔ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً فضیلت دیت خداین مال  
 وجانہ سیت جماد کردہ وین، جمادہ نشہ پتھہ روزہ وین نشہ در جس تہ مرتبس منزر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ  
 اگر چہ دو شون پھو اللہ تعالیٰ ان رتہ ثوابک وعدہ عطا کورمت ایمانہ سبہ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى  
 الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مگر فضیلت دیت خداین جماد کردہ وین تمہ نشہ پتھہ روزہ وین پتھہ جہہ مزورہ سیت  
 دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً تم جھہ پروردگارہ سیدہ طرفہ درجات تم سوتن عطا کردہ بیہ  
 گزن تن عطا مغفرت تہ رحمت۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللہ تعالیٰ پھو سیٹھاہ مغفرت کردہ  
 وَن سیتھاہ رحم کردہ و ن إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ

أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيهِمْ كُنْتُمْ ط قَالُوا لَوْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ  
 فِي الْأَرْضِ ط قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا  
 فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝۹۰  
 إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ  
 لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝۹۱  
 فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ط وَكَانَ اللَّهُ

بڑی پابندی سے تمن کر رہا ہوں، جہاد سے نہ نیرہ ہوں، تمہیں پان پانس ظلم کو ترک ہجرت کرنے سے تنہا  
 رُوح کرنے خیر ہے ملائکہ یو ان چھہ۔ تم ہجرت پر ڈھان تہہ کچھہ حاکم منور آسوہ قَالُوا كُنَّا  
 مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ تم ہجرت جو اب دوان آس اس کمزوری تہ بے کسی ہندس حاکم اندر۔  
 دشمن ہندہ خوف آس نہ ہو سکا پنہ نین اسلامی عقاید پیٹھ عمل کثرت۔ ضروریات دین تہ شعایر  
 اسلام بجائتہ قَالُوا ملائکہ ہجرت دبان اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا کیاہ خدیہ  
 سند زمین او سنا کھول۔ تہہ بیگہ ہونا بیگہ منہ جاہ گن ہجرت کثرت تہ تین پھور نہ امیک جواب۔ فَأُولَٰئِكَ  
 مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کس تمن لو کن ہنز جای چھہ جہنم۔ کا تراہ چھہ جایا چھہ سو تہ ہندہ  
 واتہ خیر ہے إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ مگر چھہ مستغنی امہ نشہ تم تم  
 واقعی کمزور نہ بیگہ ون آن۔ مرد و آندرہ زنانہ آندرہ تہ لو کیو غریبہ آندرہ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً  
 وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا تم نہ بیگہ کن نندہ حیلہ سے تہ لبت نہ لہہ تا ہن کا نہ وقہاہ  
 تہ نہ خیر ہے وتہ نشہ بے خبری سببہ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ کس تم تم چھہ تہ ہندہ  
 حقہ چھہ امید کہ اللہ تعالیٰ کرہ تمن معاف وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا اللہ تعالیٰ بھو سیٹھاہ معاف  
 کرہ ون سیٹھاہ مغفرت کرہ ون وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا  
 كَثِيرًا وَاسِعَةً بہہ کس اکھاہ ہجرت کرہ خدیہ سزہ وتہ آندر سولہ زمین آندر واریاہ جای سے



عَفْوًا غَفُورًا ۱۱) وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ  
 فِي الْأَرْضِ مُرْعَبًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۖ وَمَنْ يَخْرُجْ  
 مِنْ أَبِيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ  
 الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
 رَحِيمًا ۱۲) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنَّ خِيفَتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ  
 الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَإِنَّ الْكُفْرَانَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۱۳)

خیطرہ، وسیع جای گذارہ، معاشہ، خیطرہ۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ أَبِيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ یہ  
 اُس الکھادہ اور اوپنہ وطنہ منزہ ہجرت کر تھہ خدا اُس یتہ جہندس رسولس کن ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ تو  
 پتہ یہ تہس اتھہ حالس منز مرگ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ بیشک تمسنز مزدور یتہ ثواب سپد منہ  
 خدائس وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ پھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون  
 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ یہ یتہ بلہ تھہ کنہ قسمس  
 سفرس نیران آسوا ی بالسمانولس پھونہ کانہہ خرج توہہ ہر گاہ تھہ نمازہ ہندین رکعتین کی کثرو۔ ڈورن  
 رکعتن نمازہ بدلہ پیروزی رکعو۔ سوگوئیہ پشن نماز، وگر نماز یتہ خفقن نماز۔ سمبورا ی سمہ نمازہ ڈورو  
 رکعو خوتہ کم پھہ تمہ گیہ صبح نماز یتہ شام نماز۔ تمہ پھہ برابر پندہ نسی حالس پیٹھہ تھاوند۔ صبح زہ رکعت  
 فرض۔ شام ترے رکعت فرض۔ سنت پھو اختیاری آو موقعہ بدن آونہ موقعہ ترلان۔ تھہ پھونہ  
 کانہہ باز خواست إِنَّ خِيفَتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ ہر گاہ توہہ خوف آسہ کافران یتہ دشمن ہندہ  
 پریشان کرنگ إِنَّ الْكُفْرَانَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا پزپاٹ کافر پھہ ہمیشہ جہندن دشمن وَإِذَا  
 كُنْتُمْ فِيهِمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنَّ الْكُفْرَانَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۖ

وَإِذْ أَكُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ  
 مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا آسِلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا  
 مِنْ وَرَائِكُمْ مَسْجُودَاتٍ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا  
 مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسِلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَبِيلُونَكُمْ  
 عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ  
 أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَ

فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ توپے تہہ ارادہ کر وتم نمازہ پرہ ناوٹک فلتنقم طائفۃ منہم معک یس  
 وتھن اکھ جماعت تم پرین توہہ سیت نماز ولیاخذوا اسلحتہم بیہ رن تم سلاح پن پانس سیت  
 فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم یس یلہ تم اکھ رکعت ہرن تم نیرن توہہ پتھہ کن نگرانی تہ پہرہ  
 ونہ خیرہ ولتات طائفۃ اُخری اتھہ جایہ این دویم جماعت لکم یصلوا سمونہ ونہ نماز ادا کر  
 فلیصلوا معک یس پرین تم نماز مسبق بنت توہہ سیت ولیاخذوا حذرہم واسلحتہم تم تہ  
 رن پانس سیت پن سلاح سامانہ کیازہ نمازہ منزے ماہیہ دشمن سیت مقابلہ کرن۔ وذ الذین کفروا  
 لو تغفلون عن اسلحتکم وامتیعتکم کیازہ کافرن ہنز خواہش چھہ ہر گاہ تہہ سلاح سامانہ نفعیہ  
 وقتہ بے خبر سپد ہو۔ فیبیلون علیکم مئیلۃ واحداً تم کرہ من تمہہ ساتہ توہہ پیٹھہ کنوی حملہ۔  
 ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم بیہ چھونہ توہہ  
 کانہہ گناہ ہر گاہ توہہ روڈک، بارشہ ہند کانہہ تکلیف آسہ یا آسوتہہ بیمار تمہہ ساتہ کیاہہ موزار او وہہہ سلاح  
 وخذوا حذرکم توپتہ تہ گڑھ پن بچاو کرن، دس خبر دار روزن ان الله اعلم للکفرین عذابا

خُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿۱۰﴾  
 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا  
 وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقْبِبُوا الصَّلَاةَ إِنَّ  
 الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿۱۱﴾ وَلَا  
 تَهْنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ  
 يَأْتُونَ كَمَا تَأْتُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَ

مُهِينًا نېزېپات الله تعالى ان چھو تيار تھومت کافر ان ہندہ خپره خوار تہ ذليل کرهون عذاب فاذا  
 قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا کس يله جہہ نماز خوف موکلاو کس کمر و خدایہ سُنَد  
 یادووتھ تہ سمنہ بہت تہ وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ بیہ کر تراوت تہ غرض پریتھہ کالس اندر روزو مشغول  
 بذکر الہی۔ نمازہ منز اس تھیف مگر ذکر خدا چھو پریتھہ کالس منز برابر فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقْبِبُوا  
 الصَّلَاةَ کس يله توہہ خوف دوسر پد تھہ اطمینان حاصل سپدہ۔ یاسفر ختم سپد تھہ پنہ نس شہرس منز واتو  
 تہ مقیم سپو کس تھوو برپا نماز قاعدہ موجب۔ حسب معمول إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
 كِتَابًا مَّوْقُوتًا کیا زہ نېزېپات نماز چھہ فرض تہ مہہ با ایمان پیٹھہ و قیہہ پابندی سان۔ کس چھہ نماز  
 فرض آسنہ موکھ ادا کرن لازم وقت مقرر کرنہ آسنہ موکھ پنہ نس و کس پیٹھہ ادا کرن ضروری تہ  
 لازم وَلَا تَهْنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ بیہ مہ آسو سستی تہ کوتاہی کران دشمن پتہ لارنس اندر تھکنہ  
 کہ سبہ إِنْ تَكُونُوا تَأْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ كَمَا تَأْتُونَ ہر گاہ تہہ دود تہ دگ محسوس چھوہ  
 کران زخم تہ چھو کس ہندہ وجہہ تھند دشمن تہ چھو چھو کن تہ زخم ہنز دگ محسوس کران تھندی پاٹھہ  
 مگر تم کونہ چھہ سستی تہ کوتاہی گڑھان حال لکھہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ تہہ چھوہ خدا یس زہہ  
 تمی بدہ ثوابک امید وار تھنہ تم کاتہہ برانتھاہ چھہ نہ امہ موکھ گڑھوہ تہہ زیادہ چسٹ و چالاک آسن  
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله تعالى چھو سوزوی زانہ ون سیتھاہ حکمتہ وول إِنْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ

كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۴۰ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ  
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ ۱۴۱ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۱۴۲  
وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۴۳ وَلَا تَجَادِلْ  
عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن  
كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۱۴۴ لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا  
يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى  
مِنَ الْقَوْلِ ۱۴۵ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۱۴۶ هَٰئِنَّمَا

بِالْحَقِّ لِنَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ ۱۴۰ ہر پاپا نازل کر اسے توہم پیٹھ یہ کتاب قرآن مجید پوز حکم  
بتھہ۔ یتھہ تہہ فیصلہ کرو لو کن منز تعی موجب بیہ یہ توہم اللہ تعالیٰ ان بذریعہ وحی ہووے تو یو و لا تکن  
لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۱۴۱ بیہ مہ حض سپد و تہہ خیانت کرہ و نین ہند طرفدار و اسْتَغْفِرِ اللَّهَ بِیہ منگو  
خدائس مغفرت اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۴۲ بیشک اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ و ن سیٹھاہ رحم  
کرہ و ن وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۱۴۳ تہہ مہ حض کرو جواب دہی تمن لو کن ہندہ  
طرفہ سم خیانت چھہ کران، نقصان چھہ و اتنا وان پان پاس اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا  
۱۴۴ ہر پاپ اللہ تعالیٰ چھو نہ پسند کران تہہ بس بوڈ خیانت کرہ و ن آسہ بس بوڈ خطا کار آسہ  
يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ ۱۴۵ سم لو کہ چھہ یہ پن خیانت لو کن نغیر مندہ  
چھتھہ کھٹان مگر خدائس نغیر چھہ مند چھان تہ کھٹان وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ  
حالیکہ سو چھو تمن پر تھہ وقتہ سیت سیت آسان خصوصاً اسمہ ساتہ رات کیوت تدبیر سو چھس متعلق تم  
کتھہ کران چھہ سم نہ سوراضی چھو وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۱۴۶ اللہ تعالیٰ چھو تہزن سارنی  
کامین پنہ علم و اطلاع سیت احاطہ کر تھہ۔ تہندہ علمہ نغیر چھہ نہ کانہ تھہ تہ کانہ کوامہ هَٰئِنَّمَا هُوَ لَوْلَا جَادَلْتُمْ

هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ  
 اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا ۝۹  
 مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ  
 اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۰ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى  
 نَفْسِهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱۱ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً  
 أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۝۱۲  
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ

عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ای مسلمانوں نے گواہی دی کہ تم نے ان سے جھگڑا کر ان کے خلاف دنیوی طور پر دیکھا  
 زندگی اندر فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جہہ و نحو قیامت کے دن جو اس کے خلاف دیکھا ہے  
 طرفہ خدا کے لئے اَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا کس کو سنا ہے وکیل جہہ طرفہ خدا کے لئے وَمَنْ  
 يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ یہ جس کا نہ بچھہ کا ماہ کرہ۔ ہمیک ضرر نہیں دیتے کہہ ظلم پان  
 پانس۔ یعنی ہمیک ضرر اس پانس دیتے ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ توبہ سے معاف اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے  
 نفعہ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا سولہ اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دے اور سنیہا ر حم کر دے وَمَنْ  
 يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ یہ جس کا نہ بچھہ کا ماہ و نحو کما وان سوچو نہ کما وان کہیںہ مگر  
 پنے کسی پانس سے بڑ خرابی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ سوچو سوری زانہ ون سارنی کا این  
 اندر سنیہا حمتہ وول وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا وون جس کا نہ بچھہ نہ  
 زانتہ یا زانتہ کہہ پانہ توبہ سے لگہ بچھہ ہا نہ بے گنہس فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا جس سے تم  
 کھور پنے گردہ پٹھہ اپنی گ سے نئے گنہگ اکھ لود بواہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ یہ ہر گز  
 خدا یہ سہ لود فضل سے بڈر حمت توہ سے شامل حال آسہا لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَلتہ تہو

أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصُدُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿۱۳۱﴾  
 لَآخِرٍ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۳۲﴾

آندرہ اک جہا تین کر یو ہوئے ارادہ توہمہ ڈالنے خیطرہ، غلطی اندر تراونہ خیطرہ وَا مَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصُدُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ڈالہ ہن تہ گمراہ کرہ ہن نہ تم مگر پنہ نے پان۔ تہمہ ہیجہ نوہ نہ کانہ ضررتہ نقصان و اتناوت پنہ نیو چالاکیو اندرہ کئہ چیزہ سیت وَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ کیا زہ اللہ تعالیٰ آن سوز توہمہ پیٹھہ یہ کتاب (قرآن مجید) بیہ پچھہ ناو توہمہ عقلہ ہنزہ کئہ۔ بیہ پچھہ ناو توہمہ تہمہ تہمہ تہمہ تہمہ نہ تہمہ زاہو بروٹھہ وَا كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ہمیشہ رود توہمہ پیٹھہ اللہ تعالیٰ سُد بوڈ فضل لَآخِرٍ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ کانہ خیر و برکت پچھہ عام لوکن ہندین اکثر پوشیدہ مشورن اندر۔ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ مگرے کانہ تموا اندرہ خیرات کرنگ یا ئنہ رتہ کامہ ہنہہ کرنگ یا لوکن اندر اتحاد و اتفاق کرنگ تجویز و ترغیب آسہ کورمت۔ تمن مشورن اندر پچھو واقعی خیر و برکت وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا نِس اکھاہ امہ قسمیہ کامہ کرہ محض خدایہ سُد رضا تھانڈنہ خیطرہ۔ ریاست تہ شہرت حاصل کرنہ خیطرہ نہ پس کرو اس تہس بروٹھہ پین عطارت مژور۔ مگر تمکن خیانت کرہ و نین ہند پو شیدہ مشورہ امہ قسمک پچھہ کیا زہ تموا کر مخالفت نبی کریمہ سز۔ وَمَنْ يُثَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ نِس اکھاہ مخالفت کرہ رسول کریمہ سز ہدایت تھہ تہس نشہ وارہ ظاہر سپدن پتہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ بیہ کرہ پیروی

يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ أَعْدٍ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَ  
يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ  
جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ  
بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ  
فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا

بالیمان ہمزہ و تہ و رای بیہ کنہ و تہ ہمزہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا پھر وہ  
سُوَ اس تہ تہ طرفس کن تہ تہ کن سُو پھو رُو ذیاعس منز۔ یہ سُو کر نہ لوگ تی دموس کر نہ۔ وگ ترا ووس  
ذوق۔ مگر و اتا وون سُو اس پتو لاکہ نارِ جہنم۔ سینٹھا پچھہ سوتہندہ و اتوج جایاہ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ سز پاپ اللہ تعالیٰ کرہ نہ بخشایش سز ادھتہ تہ تہ تہ تہ کہ تہس کیا ایہ کانہہ چیز ایہ  
کانہہ شخصہ تہند شریک ٹھہرونہ۔ بلکہ پھو مٹر کس ہمیشہ ابد الابد سزاعس منز گر فثار روزن وَيَغْفِرُ  
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ تمہ و رای تم گناہ آسن تم کرہ مغفرت تہ بخشایش اللہ تعالیٰ سز ادونہ و رای  
تہس یرتہہ تہ تہس۔ گناہ صیغہ آسن یا گناہ کبیرہ۔ البتہ اگر مشرک شرک نشہ پتہہ روزہ، پوز توبہ کرہ،  
بصدق دل مسلمان سپدہ، کنس خدا تہس پڑہ کرہ سولہ تلہ عذاب دائمی نشہ نجات۔ مٹر کس بخشایش نہ  
سپد نک وجہ پھو ای زہ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا تہس شخصہ اللہ تعالیٰ اس سیت  
کانہہ شریک ٹھہر او ان پھو۔ سُو پھو امر حقہ نشہ دور جہہ گمراہی اندر پیوان۔ سُو امر حق گو توحید باری  
تعالیٰ تہس عقلہ کن تہ واجب پھو۔ تمہ علاوہ پھو حضرت خالق مطلق سد یو حق تہو قواندرہ تہس تعظیم کرن  
لازم۔ مشرک پھو پنتہ شرک سیت حضرت خالق سز اہانت تہ بے تعظیمی کران۔ تمہی پھو تہس عذاب  
دائمی سز امقر رگرنہ امت باقی گناہ تم پھہہ اگر چہ تم پھہہ گمراہی مگر توحیدس خلاف چھنہ تمہ موکھ آی  
تم قابل عفو و مغفرت قرار دہ۔ شرک تہ ٹھہر گوئی نای قابل مغفرت آسنس اندر کیا زہ ٹھہرس اندر تہ  
پھو انکار خالق لینہ یوان لہذا پھہہ دشوے نای قابل مغفرت۔ سز او ار عذاب ابدی۔ تم مشرک کا تہا

إِنشَاءً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ۝۱۱۷ لَعَنَهُ اللَّهُ  
وَقَالَ لَا تَخْذَنَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۝۱۱۸  
وَأَضَلَّهُمُ وَلَامَنِيَّهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلَيْبَتِكُنَّ إِذَانَ  
الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ط وَمَنْ يَتَّخِذِ

بے عقل سے احمق چھہ۔ اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنْشَاءً۔ تم چھہ اللہ تعالیٰ سبز عبادت  
تراؤ تھ عبادت کران مگر اکھ نمئی چیزن ہنز تمَن زانہ ناو پھو۔ مثلاً لات۔ عزی۔ منات وغیرہ  
وَاِنْ يَدْعُونَ اِلَّا الشَّيْطَانَ مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ۔ بیہ چھہ تم مثرک عبادت سے آدوان مگر تس سرکش  
سے نافرمان شیطانس بس اللہ تعالیٰ اَن پنے خاص رحمتہ نشہ دور کورمت پھو۔ وَقَالَ لَا تَخْذَنَ مِنْ  
عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ تم شیطان مردود سے ملعون گڑھیکہ وقتہ لاف دوان دُونمت پھو زہ  
بورٹن ضرور چانیو بندو آندرہ مقر اکھ حصہا تم یہ یوان آسہ تم آسن سے کران وَلَا ضَلَّتْهُمُ بُو کرکھ  
تم ضرور شرکی سے ٹھری پھہ عقاید وسیت گمراہ وَلَا مَرْتَهُمْ۔ بیہ نراوہ بو ضرور تھمدن خیالاتن اندر  
تھے ہوس سے آرزو سموسیت گٹھن سے نافرمانین کن رعبت آسن کران۔ تمَن گٹھن ہند ضرر سے نقصان  
آسکھ نہ در مینٹھی یوان وَلَا مَرْتَهُمْ فَلَيْبَتِكُنَّ إِذَانَ الْأَنْعَامِ۔ بیہ آسکھ بُو گھرہ چن سے فسقہ چن  
کامین ہند حکم کران۔ چنانچہ تم آسن خدا بس، معبود برحقس وراي بن ہندین ناون پیٹھہ جانورن نامزد  
کرکھ، ناوتھاوتھ تھمدین کنن ترکھ دوان، نشانہ تھاوان وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ بیہ آسکھ بُو  
تم پھہ ناوان بس آسن تم خدایہ سزہ پیدہ کر مڑہ شگلہ تغیر دوان۔ شگلہ تغیر دسُن پھہ فسقہ کام۔ مثلاً  
ریش کا سن۔ بھتس یا بدس گٹھن جلیہ خال سے نشانہ تراون یا ناویکھ ناون۔ چنانچہ حدیث شریفس منز پھو  
آمت، منع فرموو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عن الوشم دند زاول سے تک کرناونہ نشہ  
والوشم۔ بیہ خال سے نشانہ تراونہ نشہ والنتف۔ بیہ سفیدوال کلہ منزہ پاریشہ منزہ لٹھہ کڈنہ نشہ۔ بیہ گو شگلہ  
تغیر دسُن۔ بیس حدیث شریفس منز پھو آمت۔ لعنت خدا تمَن شخصن تم خدایہ سزہ پیدہ کر مڑہ شگلہ  
تغیر دن۔ حضرت عبد اللہ بن مسعودن فرموو لعنت خدا اخال تراوہ وین زانن۔ آکندس، بیہ سند متس



## الشَّيْطَانِ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرْنَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

سیت ملنا وہ وین زنائن یتھہ گون مس بوزنہ پیہ بھتس، ڈیکس لہتھہ وال کڈوونین زنائن۔ ذندن پھہر وا وہ سیت یابہ گنہ چیزہ سیت خوبصورتی خیطرہ بخر اوہ وین زنائن۔ تکی کیا گیہ خدایہ سزہ پیدہ گرمہ ہ شکلہ تغیر دیوہ ونہ زنائن۔ تھتھ پاتھہ پھو حدیث شریفس منز آمت زین الرجال باللحی وزین النساء باللواتب مردن آوزینت ونہ ریشہ سیت۔ زنائن آوزینت ونہ متہ سیت۔ لہذا گو مردن ہند ریش کائن یا کر بن یا زنائن ہند مس کائن یا کر بن خدایہ سزہ پیدہ کرہ موہ شکلہ تغیر دین۔ امکوی تجویز پھو اناسن شیطان کران توے پھو ریش کائن گناہ کبیرہ اندرہ۔ تمہ علاوہ چھہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس صریح کھمس، ریش کاسنہ سیت مخالفت سپدان۔ بخاری شریفس منز پھو حدیث شریف کہ فرمو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہ کمر وای مسلمانو، بایمانو، مٹرکن ہنز مخالفت، تہہ تھاوو ریش پور، گونژہ کمر و پست مٹرک چھہ گونژہ تھاوان تہ ریش کاسان۔ بیاکھ حدیث شریف پھو صحیح مسلمس اندر کہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالفوا المحوس والمشرکین مخالفت کمر و آتش پرستن ہنز پیہ مٹرکن ہنز۔ مٹرک آس ریش کاسان۔ مجوس آس ریش کرپان۔ یہ پھو صریح فرمان پیغمبر اسلام ریش متعلق۔ اللہ تعالیٰ پھو فرماوان قرآن مجیدس اندر فلیحذر الذین یخالفون عن امری ان یتصیبہم فتنۃ او یتصیبہم عذاب الیم کھو ثن تم لو کہ تم پیغمبر برحقہ سندس کھمس مخالفت کران کہ تمن ولتہ دنیاس اندر بدبلیاہ آخرتس اندر کڈر عذاب۔ بیس آیہ کرتمس اندر پھو اللہ تعالیٰ فرماوان واما کان لیمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضی اللہ ورسولہ امرًا ان یكون لھم الخیرۃ من امرھو ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضلّ ضلالًا مبینًا کاسنہ با ایمان مردس یا با ایمان زنائہ پھونہ ہرگز۔ تمہ تھہ ہند اختیار کہ بلکہ اللہ تعالیٰ پیہ تھند پیغمبر گنہ تھہ متعلق کاسنہ کھماہ فرماوان تمن کیاہ روزہ کاسنہ گنجا پشاہ تھہ کھمس بدل کر چن لیس شخصہ خداور سولہ سندس کھمس بدل کرہ لیس بھتیک سو پیونہ گراہی اندر۔ بیوک انجام پھو نار جہنم۔ کوتاہ افسوس تمن مسلمان ہندہ حقہ تم رسول کریمہ سندہ بھتیک تہ متابعتک دعویٰ دوان چھہ تو پتہ چھہ تھندس اتھہ صریح کھمس مخالفت کران۔ ریشہ کاسنہ سیت۔ تھند کھم لیس پشت تراوتھہ نظر انداز کر تھہ شیطانہ سندس کھمس تعمیل کران۔ تسزہ لاف زنی ہند تصدیق کران۔ امی پھو شریعتک کھم کہ لیس ریش کاسنہ یا کرہ سو پھو فارق۔ ومن یتخذ الشیطان ولیًّا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینًا وون لیس اکھاہ شیطانس



وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۱۳۳﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ  
 مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ  
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿۱۳۴﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ  
 دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ

سَوَاءً يُجْزَىٰ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا کس کس شخصہ اطاعت منہ کی کران  
 کانہہ پیچھے کوماہ گرہ۔ سواز قسم عقائد آستن یا از قسم اعمال آستن تنہہ بدلہ بیہ کس ضرور سزا دہہ آخر کس  
 اندر۔ ہر گاہ سو پیچھے کوم از قسم عقائد شرکی و کفری آسہ تلہ چھو تمن عذاب دانہس نہ سزا ابد کس  
 گرفتار سپدن۔ ہر گاہ سو پیچھے کوم عملی آسہ تمہہ نشہہ توبہ آسہ امت کر نہ۔ تنہہ خدایہ سندہ طرفہ  
 بخشاش آسہ سبز مثلہہ بیہ کس سزا دہہ کئہ مخدود و قس تان۔ تمہہ عذابہ نشہہ کہ نہ سوا خدا کس و رای  
 کانہہ کس کانہہ دوستس، کانہہ مددگار کس کس تمس مولا وہہہ۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ  
 أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بیہ کس اکھاہ کانہہ رز کاماہ کرہہ۔ مرد و آندہہ یا زانا و آندہہ با ایمان آسہہ  
 فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا کس کس لوکھ واتن جنس تمن لیہ نہ کئہ قسمہ ظلم  
 کر نہ تہمز کانہہ صحیح عمل لیہ نہ ضائع کر نہ پیچھے آسہہ کر تمس منز آؤ ذکر کر نہ با ایمان آسک۔ امہہ اندرہ  
 چھو مراد کس تم تنہہ دینس پیٹھہ آسن کس دین خدا کس نشہہ منظور تہ مقبول دین آسہ۔ سو گو دین اسلام  
 ”اہل اسلام“ گے کس تمن منز تم ترہ صفت آسن۔ پور تہ کامل فرمانبرداری۔ اخلاص بیہ اتباع ملت ابراہیمی۔  
 چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ  
 مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا کس اکھاہ چھو رت دینہ کن، تمس شخصہ سندہ خوتہ تم پن گردن دار، پن تنہہ  
 کو رن معبود بر حقس کن یعنی فرمانبرداری عقائدن تہ عملن اندر۔ در حال بیہہ سو آسہہ با اخلاص ساری  
 کماہن اندر۔ کانہہ عملاہ گرہہ نہ کئہ ذاتی مصلحتہ یا ظاہر داری خیطرہ۔ بیہ کرہ متابعت حضرت ابراہیمہ  
 سندس ملتس یعنی اسلامس۔ پیچھے منز نہ کئہ قسمہ ہجرتہ کئی چھو۔ تمہہ علاوہہ چھو سو ملت قابل اتباع تہ

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿۱۲۵﴾ وَ لِلَّهِ مَا فِي  
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿۱۲۶﴾  
 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا  
 يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا  
 تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

پیروی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کیا زہ اللہ تعالیٰ ان پہو اختیار کورمٹ حضرت ابراہیم بن مخلص  
 دوست۔ یہ کتھہ چھو ظاہر کہ دوستہ سدس طریقس پیٹھہ پن چھو محبوب بہ مقبول آسان۔ تم تھندہ ملیج  
 متابعت کرن تھندی خیرہ چھو نجات بہ سعادت۔ اللہ تعالیٰ سنزی پورا طاعت کرن چھہ لازم کیا زہ  
 وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خدایہ سدوی چھو بہ سوزوی یہ آسانن بہ زمین اندر چھو  
 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا یہ چھو اللہ تعالیٰ پر تھہ چیزس احاطہ کتر تھہ پنہہ علمہ سیت۔ امنی دون  
 چیزن پیٹھہ چھو وجوب اطاعتک دار و مدار کہ کمال سلطنتس پیٹھہ۔ یہ کمال اطلاع و علمس پیٹھہ۔ تم  
 دوشوے چیز چھہ اللہ تعالیٰ سی منز بدرجہ اکمل موجود وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ای پیغمبر برحق  
 صلی اللہ علیہ وسلم یہ حض چھہ لو کہ توہہ یتیم زنان ہندس نکاحس متعلق تلوے پر تھان قُلِ اللَّهُ  
 يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ تہہ فرماو یو کہ اللہ تعالیٰ چھو توہہ اجازت ووان تمن سیت کاح کرنک۔ بشرطیکہ تہہ  
 کمر و تھند حقوق پورہ او۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ  
 مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ووان تم آیات پر نہ یوان چھہ توہہ پیٹھہ تمن چھو  
 تعلق تمن یتیم زنانن سیت تمن نہ تہہ سو پن حصہ ووان چھوہ بس تھندہ خیرہ مقرر کرنہ امت چھو۔  
 یہ چھوہ تہہ خواہش تھوان تمن سیت کاح کرنک چھہ تھی بہانہ کھیو تھندہ مال۔ تمن یتیم زنانن ہر  
 گاہ تمہ مال و جائدادہ بہ حسن و جمالہ واجبہ آسن تلہ چھوہ تمن سیت کاح کرن مگر شریعتہ موجب بس  
 میراث بہ مہر تھند حق چھو آسانن بہ چھو کھنہ برابر او اکران۔ اگر صاحب حسن و جمال تمہ آسان

وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ  
بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿۱۷۰﴾  
وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ  
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

بہنہ تلو جھوہ تم سیت نہ پانہ نکاح کران نہ جھو کہہ بیہ کانسہ سیت نکاح دووان کرنہ۔ کیا زہ ٹھہ جھوہ  
آسان کہ جہند مال و دولت ماروزہ نہ تلوہ اسہ نش وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ بیہ جھو اللہ تعالیٰ  
حکم فرماوان ضعیف تہ بے کس لو کٹین ہندہ حقہ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ بیہ جھو اللہ تعالیٰ  
حکم فرماوان کہ یتیم ہندہ حقہ کمر و پر ہتھہ معالس اندر عدل تہ انصاف وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ  
اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا بیہ تھا ووارہ سمہ تھہ ہند خیال کہ یوسہ رثا کا ماہ تھہ کمر و یتیم تہ زنان نسبت تہ  
سوزی جھو ووارہ پائ اللہ تعالیٰ پور زنانان وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا بیہ  
ہر گاہ کانہ زنانہ کھوڑہ نہ اندیشہ کرہ پنہ نس خاوندہ سدس مای تہ محبت باقی نہ روزہ نس بے التفاتی کرہ  
نس۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا اٹھہ صور نس اندر جھو نہ کانہ حرج یتیم  
دو شون ہر گاہ ہم پانہ وان کنہہ طریقہ صلح کرن۔ مثلاً اگر زنانہ یرھان آسہ کہہ بوروزہ ہامسی خاوندس نشہ  
بیہ گوڑھ نہ میہ تراوت بیا کہ کالج کرن۔ اٹھہ صور نس اندر تراوہ سنو پن کینہہ حقوق سم جہند مردس  
پیٹھہ آسن۔ مردس جھو جاہز یتیم تھن تسلیم کرن تہ زنانہ سیت صلح کرن وَالصُّلْحُ خَيْرٌ تنازعہ خوتہ،  
جدائی تہ موبکارہ خوتہ جھو صلحی رت تہ بہتر وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ انسانی طبیعتس جھو سیت تھا  
ونہ امت بجل۔ پر ہتھہ اکھاہ جھو یرھان خرچس اندر کمی کرن۔ ہر گاہ زنانہ اخراجاتن اندر کمی کرہ۔  
مردس بیہ یوزنہ میہ سڈ مالی فاندہ۔ سو سڈہ امس زنانہ پائس سیت تھو نس پیٹھہ راضی۔ دو شون باثون  
ہنز خواہش تہ طبع یلہ پورہ سڈہ دو شوے سڈن صلحس پیٹھہ راضی وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۝ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا  
بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبْلُغُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تَصَلِحُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَحِيمًا ۝ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَكَانَ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا نہس ہر گاہ جہہ ای مردوزنان سیت احسان کرو پچھہ سلوک کرنہ نشہ ہتھہ روزو  
توہہ بنہ وہ بوڈ ثواب کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو ہتہزہ سارے کامہ پورہ زنانہ تمی موجب دیوہ سو توہہ مزورہ۔  
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ یہ تھہ پچھہ مسلم کہہ جہہ ہی کو نہ ہر گزوار ہیکن زنانہ منز  
تہمن سیت توہہ کجیح کورمت آسوہ پر ہتھہ چیزس اندر عدل تہ برابری کمر تھہ۔ خصوصاً دلہ چہ مایہ تہ  
مجتہس اندر وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تھہ دل آستن سو برابری کرن سیٹھاہ پڑھان مگر چوہیہ ڈلک معاملہ  
پچھونہ کانسہ پنہ نس اختیارس اندر تمہہ موکھ پچھونہ دلہ کس معاملس اندر باز خواست کینہہ مگر باقی معاملن  
اندر سم اختیار ی چھہ فَلَا تَبْلُغُوا كُلَّ الْمِيلِ تمہن اختیاری چیزن اندر گڑھہ نہ کسی زنانہ کن سوروی توجہ  
تہ رغبت کرن فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ سیمہ یک طرفہ توجہ کرنہ سیت بیا کھ زنانہ تراو ہون تہہ بالکل  
الوندہیہ چیزہ۔ حقوق شریعیوشہ بالکل محروم۔ نہ کمر و تمسہ حقوق پورہ ادایمہ سیت سہ خاوندہ واجن  
بوزنہ پیہ ہا۔ نہ ایہ موکلاوندہ رتہ طریقہ تائیکہ بوزنہ پیہ ہا سو بے نکاح تہ بے خاوند۔ بیا کھ شخصاہ گرہ ہا نس  
سیت کجیح۔ امہ طریقہ زنانہ الا نرتھاون یہ گوئس نسبت صریح ظلم کرن۔ ہر گاہ پنہ نس نکاحس منز  
تھون آسہ تلہ تھاون رتہ طریقہ وَإِنْ تَصَلِحُوا وَاتَّقُوا تھہ صورتس اندر ہر گاہ بروٹھہ کنہ ناگوار  
معاملات آسن پیش امت تمہن معاملاتن کرو اصلاح آیندہ خیطرہ روزو تھہیو معاملتا تو نغیرہ بالکل ہتھہ۔  
بروٹھہن معاملاتن کر وہ اللہ تعالیٰ تہ درگڈر فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ  
مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون وَلَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا  
حَکِيمًا وون ہر گاہ تمہن دون باژن منزکنہ طریقہ موافقت سپدہ نہ بلکہ سپدن تم اکھ اگس نشہ جد اطلاقہ

اللَّهُ وَإِسْعَاحِكِيمًا ﴿۱۳﴾ وَبِاللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
 وَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ  
 اتَّقُوا اللَّهَ ط وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
 الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿۱۴﴾ وَبِاللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ  
 وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَكُنِيَ بِاللَّهِ وَكَيْلًا ﴿۱۵﴾ إِنَّ يُشَاقِدُ لِهَبِكُمْ

سیت یاخلعہ سیت تھہ منزہ تھون سمودویو منزہ کانہہ یہ خیال کہ میانہ وراوی پجہ نہ بنیس و تھہ بلکہ کرہ  
 اللہ تعالیٰ پر تھہ اگس سمودویو اندرہ بیس نغیر بے نیاز۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھا وسعتہ وول سیٹھاہ جمعہ  
 وول **وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** اللہ تعالیٰ سزوی ملک چھو تہ سوزوی یہ آسمان اندر چھو،  
 یہ زمین اندر چھو تہس مالک حقیقی تہ مالک کلہ سز فرمانبرداری کرن چھہ لازم تہ ضروری۔ امیک حکم  
 چھو نہ توہی یوت کرنہ یوان **وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ**  
 بلکہ واقعی طور فر مو اسہ امیک حکم تمن لو کن تہ تمن آسانی کتاب یعنی تورات وانجیل عطا کرنہ آیہ  
 توہہ بروٹھہ۔ توہہ تہ چھو حکم کرنہ یوان کہ کھو تہو اللہ تعالیٰ اس۔ تہند ساری حکم مانو۔ نافرمانی نغیر روزو  
 پتھہ۔ پتھہ سورہ شریفس چھو گوڈ کرنہ آمت امی حکمہ سیت **يَأْتِيهَا النَّاسُ اتِّقُوا رَبَّكُمْ - فَإِنْ تَكْفُرُوا**  
 یہ تھہ تہ آیہ تمن یو وونصرائی ان ہیہ توہہ تہ وارہ بیان کرنہ کہ ہر گاہ تہہ احکامن ہنز مخالفت کتر تھہ کفر  
 کرو تمیک چھو نہ اللہ تعالیٰ اس کانہہ پروانہ کانہہ ضرر **فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ**  
 کیا زہ اللہ تعالیٰ سزوی چھو ملک تہ سوزوی یہ آسمان تہ زمین اندر چھو تھس ہڈس پادشاہس چھو نہ  
 کانہہ نقصان تہزہ نافرمانی سیت۔ بلکہ نقصان چھو توہہ پان پائس تھس ہڈس شہنشاہ اعظمہ سز مخالفت  
 کرنہ سیت۔ **وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا** اللہ تعالیٰ چھو نہ کانہہ ہندس اطاعت و فرمانبرداری کن محتاج۔  
 سو چھو کامل الصقات آسنہ مو کہ بذات خود تعریف کرنہ آمت۔ لہذا چھہ کانہہ ہنزہ نافرمانی سیت  
 تہندین صفین اندر کتہہ قسمہ کی لبہ یوان **وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُنِيَ بِاللَّهِ وَكَيْلًا**

أَيُّهَا النَّاسُ وَيَا أَيُّهَا الْخَيْرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ  
 قَدِيرًا ﴿۱۳۴﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ  
 ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿۱۳۵﴾

اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مہربان اور سزا دینے والا ہے اور وہ سب سے زیادہ جانتا ہے اور سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیاوی ثواب چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیاوی ثواب کے لیے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے اور اس کو دنیاوی ثواب سے نوازے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت کے ثواب چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت کے ثواب کے لیے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے اور اس کو آخرت کے ثواب سے نوازے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں کے ثواب چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں کے ثواب کے لیے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے اور اس کو دونوں کے ثواب سے نوازے۔

اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مہربان اور سزا دینے والا ہے اور وہ سب سے زیادہ جانتا ہے اور سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیاوی ثواب چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیاوی ثواب کے لیے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے اور اس کو دنیاوی ثواب سے نوازے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت کے ثواب چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت کے ثواب کے لیے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے اور اس کو آخرت کے ثواب سے نوازے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں کے ثواب چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں کے ثواب کے لیے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے اور اس کو دونوں کے ثواب سے نوازے۔



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ  
 وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا  
 أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا  
 وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۵۰﴾  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ

کرم تہ گروہ نہ دنیا ک ثواب تہ مزور ژھانڈن۔ امہ اندرہ چھو نہ مراد دنیا گروہ نہ ژھانڈنوی نہ بلکہ  
 گروہ ضرور ژھانڈن۔ مگر عبادتک معاوضہ نہ بلکہ گروہ مستقل طور خدا جس نشہ دنیا ضرور ژھانڈن  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ اے باایمانو ساری معاملاتن اندر اداء کہ وقتہ  
 تہ بیہ فیصلہ کر کے وقتہ آسو عدل و انصاف پیٹھہ قایم روزان۔ ہر گاہ اقرار یا گواہی دینج نوبت بیوان  
 آسہ تمہ ساتھ خدایہ سزہ خوشنودی خیرہ آسو پیز گواہی، حقیقت حال صاف صاف ظاہر کران  
 وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ اگرچہ سو گواہی یا ظہار آستن تو بہ پنتہ حقہ مضر سپدان اَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ  
 یا تہندس ملس ماجہ یا رشتہ دارن متعلق مضر سپدان اِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا گواہی دیکہ وقتہ آسو  
 سمہ کتھہ ہند کا نہ خیال تھاوان کہ تہیں پیٹھہ آسہ گواہی دین چھہ سو چھا امیر کنہ فقیر۔ تہہ مہ آسو کانہہ  
 ہنزہ امیری و فقیری گن و چھان فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا اللہ تعالیٰ اس چھو تمن دوشون سیت تہندہ خوتہ  
 زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ چھو پڑھان اتھہ معاملس اندر پوز پوز راون فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا لہذا مہ  
 کمر و تہہ بیروی پنتہ فقیرہ خواہشہ ہنز پزہ نشہ ڈلس اندر وَلَنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ہر گاہ تہہ گواہی دوان اوزک یور و نو۔ صاف صاف پوز، پوز و نو نہ یا پیز گواہی دینہ نشہ  
 کروانکار۔ یاد تھاوزہ اللہ تعالیٰ چھو تہنزہ سارے کامہ پوز زنانان۔ سو دیہ توہہ پائے پوز سزا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اے کجمل پاتھہ ایمان آتہ و نو تہہ یوزوارہ ضروری عقایدن ہند تفصیل۔ تو پتہ  
 کمر و تمن چیزن پوز پڑھہ۔ پڑھہ کمر و خدا یہ سب س ذاتس۔ بیہ تہندین ساری صفتن۔ بیہ کمر و پڑھہ تہندس

عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ  
 وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا  
 بَعِيدًا ﴿۱۳۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ  
 أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿۱۳۷﴾  
 بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا  
 الْكُفْرَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلْيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ

پیغمبر یعنی حضرت محمد سندس رسالتس وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ یہ کلمہ پڑھتے تھے کتابہ  
 یوسہ کتاب تم نازل کرینے نس پیغمبرس پڑھتے یعنی قرآن مجیدس وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ یہ  
 تمہن ساری کتابن یمہ تم نازل کرہ قرآن مجیدہ بروٹھہ بین پیغمبرن پڑھتے وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ  
 وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اُنس شخصہہ اکار کرہ خدا یہ سندس ذاتس یا تہندین صفتن یہ تہندین ملائکن  
 یہ تہنزن کتابن، یہہہ تہندین پیغمبرن یہ پتھس دوس یعنی قیاس فقہ صلاک بَعِيدًا پزپاٹ  
 سو شخصس پو حقتہ نشہ، علم واقعی نشہ، یہہ مقصد اصلی نشہ، یعنی نجاتہ نشہ گراہی ہندس سٹھس چاہس اندر  
 یتھہ نہ دونوی چھوکتہ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا ہمز پاٹ تم لو کہ  
 گووہ مسلمان سپد توہ پتہ یہہ کافر مُرد توپتہ سپد یہہ مسلمان توپتہ سپد یہہ مُردتہ کافر توپتہ کہ کہ زیادتی کُفْرَس  
 اندر مر کٹس دس تان لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا یہ ہنہ نہ زانہہ کہ اللہ تعالیٰ کیاہ کرہ  
 تمہن مغفرتتہ بخشائش نہ ہلہ اللہ تعالیٰ تمہن منزل مقصود یعنی جنتس کن کائہہ و تھاہہ کیا زہہ مغفرتتہ جنت  
 چہ ایمانس پڑھتہ ثابت قدم روزن والسن کیتھہ بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ  
 مُنَافِقِينَ سمہ کتھہ ہنز کہ تہندہ خیطرہ چھو آخرتس اندر سخت دودوہون عذاب تجویز کرنہ آمتس وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ  
 الْكُفْرَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ تم گئے ناتے سمو کافر بناوہن دوست با ایمان تراو تھ  
 أَلْيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ تم چھاتمن نشہ گوہتھہ معزز ہن یڑھان تم نشہ عزت بیجھ نہ کینہہ فَإِنَّ

الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۗ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ  
 أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَاتَعْتَدُوا  
 مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِكُمْ ۗ إِذْ مَثَلَهُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۗ  
 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِّنَ اللَّهِ قَالَوْا  
 أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۗ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ۗ قَالَوْا أَلَمْ

الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کیا زہ سوروی عزت چھوی خدا جس اٹھہ سوئی کس عزت یڑھہ دیکن کس بہ عزت  
 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَاتَعْتَدُوا مَعَهُمْ اى  
 مُسلمانو جہہ مہ آسومنافقن ہند پاتھہ کافرن سیت کانہہ تعلق تھاوان خصوصاً سہمہ وقتہ تم گھریاتن ہند  
 تذکرہ کران آسن۔ چنانچہ سہمہ بروٹھہ تہ چھو اللہ تعالیٰ ان سورہ العاص اندر حکم نازل کورمت تومہ  
 پٹھہ کہ یلہ عنہ مجلسہ اندر خدایہ سندین آیات واحکامن نسبت انکاریا ٹھہ آسہ یوان کرنہ تھہ مجلسہ منز  
 آہزنہ تہہ تمن سیت بہان حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِكُمْ یوتان نہ تم بہہ کانہہ بدل کتھہ تھان نہ  
 شروع کران آسن اِنِّكُمْ اِذَا مَثَلَهُمْ ورنہ سپدو جہہ تمنی ہی گھنس اندر۔ اٹھہ منز چھہ منن کافر تہ  
 پوٹھہ کافر یعنی منافق برابر۔ چنانچہ سزاء گھر یعنی نار جہنم تھہ منز تہ چھہ برابر إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ  
 الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا بیشک اللہ تعالیٰ چھو سونبرہ ون نہ جمع کرہ ون منافقن نہ  
 کافرن نار جہنم منزاکہ وَوَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ سیم منافق پیاران نہ امید وار چھہ آسان  
 تھندس نقصاس فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِّنَ اللَّهِ قَالَوْا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ توپتہ اگر تومہ حاصل سپدان چھہ  
 خدایہ سدہ طرفہ کانہہ تھہ سہ سہ تھہ تھدی ہتھہ تومہ ونان اَس اَس ناتو ہی سیت جمادس، منز شریک  
 آسہ تہ دیو کینہہ مال غنیمتہ اندرہ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ہر گاہ کافرن حاصل سپدہ غلبک کانہہ  
 حصا تمہ سہ تہ چھہ تمن نشہ گوتھہ تمن ونان قَالَوْا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَنْتَعِزُّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

نَسْتَحُذُّ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿۳۶﴾  
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا  
إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ  
اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۳۷﴾ مُذَبَّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا  
إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿۳۸﴾ يَا أَيُّهَا

کیا آس میرو ان ناتوہہ پیٹھ غالب سپدن کیاہ آسہ بجاووناہہہ مسلمان نش آسہ کورنہ زانتھہ کر تھہ توہہہ بچاونہ  
خیطرہ مسلمان مدد سو طریقہ کوراختیاریمہ سیت جنگگ حال بدلیوونہہ سپدوہ غالب لہذا دیوایسہ تہ کینہہہ  
حاصل کر مہ مالہ اندرہ غرض کہ دو شوی طرفو آس تم مال حاصل کران۔ دنیاء س اندرے تم اپزہ  
مسلمان ہتھ زندگی بسر کران آس مگر **فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** اللہ تعالیٰ کرہ فیصلہ توہہہ تہ تم  
منز قیامتک دوہ **وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا** تھہ فیصلس منز دیہ نہ اللہ تعالیٰ ہرگز  
کافرین مسلمان پیٹھ غالب سپدن کا نہہ و تھہہہ **إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ** ہز پاتھہ منافق چھہ آمہ  
دورنگی چالہ سیت ڈھوکہ دو ان پنہہ خیالہ خدائس **وَهُوَ خَادِعُهُمْ** سو چھو تہن امی قسمہ امیک بدلہ تہ  
سزاونہ وول۔ چونکہ تہندین دلن اندر چھونہ ایمان کنہی تمہہ موکھ چھہ تہ نماز فرض زانانہ چھو تہن  
نمار پر نس پیٹھ کنہ ثوابک اعتقاد تمہہ موکھ چھہ تہند حال **وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى** یلہ  
تم منافق دو تھان چھہ نمازہ کن و تھان چھہ سیٹھہہ سستی سان کیا زہہ دلچسپی تہ فرحت چھہ اعتقادہ تہ  
امیدواری سیت پیدہ سپدن **يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا** تم چھہ نماز پر ان فقط  
لوکن ہاونہ خیطرہ خدایہ سہ یاد چھہ تہم کران مگر زیوہ سستی سو تہہ کمی **مُذَبَّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ** کافرین  
تہ با ایمان در میان چھہ تم اللہ۔ متردد تہ حیران۔ نہ اور تہ نہ اور۔ **لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ**  
نہ چھہ ہم مسلمان سیت نہ چھہ ہم تہندین دشمن یعنی کافرین سیت **وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا**

الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ  
 الْمُؤْمِنِيْنَ اَتْرِيْدُوْنَ اَنْ يَّجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۱۳۶﴾  
 اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرِكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَّجِدَ  
 لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿۱۳۷﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاَعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ  
 وَاَخْلَصُوْا دِيْنََهُمْ لِلّٰهِ فَاُوْلٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُؤْتِي  
 اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۱۳۸﴾ مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَدٰى اِيْكُمُ

تمن اللہ تعالیٰ تمہے راور ہر تہندہ خیرہ لیونہ جہہ ہدایتیہ با ایمان بنہ نچ کا نہہ و تھاہ یٰ اَیُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَا  
 تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ای با ایمانومہ بناؤ یو کہہ کافر تہ منافق پنن دوست  
 با ایمان تراوت اَتْرِيْدُوْنَ اَنْ يَّجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا کیاہ جہہ چھوہ یرشہان تمن سیت دوستانہ  
 لاکھہ پائس پیٹھہ خدایہ سندنون الزام ہیون تہ پنن پان خواجواہ مجرم تہ مستحق عذاب بناون اسہ یلہ توہہ  
 ایچ ممانعت کر جہہ کیا زہ تھاوو تمن سیت دوستی اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرِكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ پز پاپاٹ  
 منافق آسن جہنمہ کس بوئس طبقت اندر تر کس تکل وَلَنْ يَّجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا بیہہ لہمن نہ ژہ ای مخاطب  
 یہندہ خیرہ کا نہہ مددگارہ اس تمن عذابہ نشہ بچاوتھہ بیجہ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاَعْتَصَمُوْا  
 بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنََهُمْ لِلّٰهِ مگر تم تموا اندرہ نفاقتہ نشہ توہہ گرنہ بیہہ تم یاتراوتھہ پنن دین کور  
 خالص خدایہ سندہ رضا خیرے یعنی تم پنن عبقاندن اخلاقن تہ اعمالن اصلاح کرن فَاُوْلٰئِكَ مَعَ  
 الْمُؤْمِنِيْنَ پس تم توبہ کرہ و ن لو کہہ آسن با ایمان سیت جنتہ کین در جن منز آخرتس اندر وَسَوْفَ  
 يُؤْتِي اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا اللہ تعالیٰ ویہ آخرتس اندر کاہل با ایمان بڈمزور سوون تم توبہ کرہ  
 ون چھہ تمن تہ کرہ اللہ تعالیٰ بڈمزور عطا- مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَدٰى اِيْكُمُ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمْسَتْمْ وَكَانَ  
 اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا اللہ تعالیٰ کیاہ کرہ توہہ عذابس گرفتار کر تھہ- ہر گاہ تمسندن نعمن ہمز جہہ

إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمْنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿۱۳۷﴾  
 لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ  
 وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿۱۳۸﴾ إِنْ تُبَدُّوْا خَيْرًا أَوْ تُخَفَّوْهُ أَوْ تَعْفُوا  
 عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿۱۳۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ  
 بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُقَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ  
 وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

شکر گزار می گردید و ایمن می بودید و خداوند شاکر و عالم است ﴿۱۳۷﴾  
 خداوند دوست ندارد که کسی رسماً و علناً بدگویی را از کسی بخرد مگر آنکه ظالم باشد ﴿۱۳۸﴾  
 اگر شما بدگویی را خیر یا تخفیف دهید یا عفو کنید از کسی که بدگویی کرده است خداوند بخشنده و قادر است ﴿۱۳۹﴾  
 آنهایی که کفر میکنند با خدا و رسل او و می خواهند که بین خدا و رسل او فتنه برانندازند و میگویند ما در بعضی چیزها ایمان داریم و در بعضی چیزها کفر داریم و ما را نمی ترساند

يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ اُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَاَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَاَلَمْ يُقِرُّوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُوْلٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَاَلَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ يَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَاَلُوْا مُوسٰى الْكَبِيْرَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالُوْا اَرٰنَا اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْهُمُ الصُّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنٰتُ فَعَفَوْنَا عَنْهُمْ

ان پیغمبر تہندین کرن انکار، یا اذین پیغمبر کرن پڑھہ نہ اذین کرن انکار جھہ یقیناً کافر وَاَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِينًا اسہ جھو کافرن ہندہ خیرہ عذابہ ذلیل کرہ ون تیار تھو ومنت سوی عذاب بیہ تمن نہ کرنہ۔ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَاَلَمْ يُقِرُّوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وون گنیہ تم لو کہ یو پڑھہ کر کنس خدایس بیہ تہندین پیغمبرن بیہ کر کہ نہ کانہہ فرق تین اندر پڑھہ کر جھہ اعتبارہ ایمان نہ جھہ اعتبارہ اُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ یعنی لو کن نبیہ کرہ اللہ تعالیٰ آخرتس اندر مزور پنن عطا یوسہ تمن شو بہ وَاَلَمْ يَكُنْ لِلّٰهِ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا اللہ تعالیٰ جھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون یَسْئَلُكَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَآءِ ای پیغمبر برحق اہل کتاب یعنی یو دچھہ در خواست کر ان تو بہ کہ تہہ والو تمن پڑھہ کتاباہ آسانہ پڑھہ۔ اتھ اہدس ونہ نس مہ کرو اعتبار فَقَدْ سَاَلُوْا مُوسٰى الْكَبِيْرَ مِنْ ذٰلِكَ پس یقین در خواست تہ سوال کور تمو حضرت موسیٰ آس امہ خوتہ بدہ چیز کہ فَقَالُوْا اَرٰنَا اللّٰهَ جَهْرَةً پس وون تمو حضرت موسیٰ اس کہ اسہ ہاویون اللہ تعالیٰ ن پانہہ، بے حجاب۔ تا یجہ اس وچہون سو پنہ نیو اچھو فَاَخَذَتْهُمُ الصُّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ چنانچہ اتھ گستاخی پیٹھ رٹ تم ترہہ۔ پنہہ ظلمہ تہ شرار تہ سبہ۔ تو پتہ گے حضرت موسیٰ سندہ دعایت بیہ زندہ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ

ذٰلِكَ وَاَتَيْنَا مُوسٰى سُلٰطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿۱۳۷﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ  
 الطُّورَ بِيْنَتَانِيَهٗمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَاَوْقَلْنَا  
 لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيْظًا ﴿۱۳۸﴾  
 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَآءَ  
 بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ

الْبَيِّنَاتِ كُوْرُكِهِ يٰۤاَكْهَ شَرَارَتِ - ووژھ بنوؤكھ معبودین - حق و باطلیچہ كاژاھ نہ دلیلہ تمن نشہ واتنہ  
 پتہ یعنی معجزاتِ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ پس کورہیہ آہہ تمن آتھہ بجر مس تہ  
 عَفْوَتہ درگدر تھند توبہ کورہیہ قبول وَاَتَيْنَا مُوسٰى سُلٰطٰنًا مُّبِيْنًا بیہ کور عطا آہہ حضرتِ موسیٰ اس  
 نون غلبہ، بیہ کافی رُعب - مگر نہ کرسان عفو تہ درگذر کرن کا نہ اثر تمن پیٹھ نہ حضرتِ موسیٰ سید  
 زُعبن - بلکہ زود تم بدستور پنہ نس شرار تس پیٹھ تہ نافرمانی پیٹھ - وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِيْنَتَانِيَهٗمْ  
 بیہ تل آہہ کوہ طور تمن نشہ عمد رنہ خیلرہ تمن پیٹھ گن - مُعَلَّقٌ تہ الوند تھو تمن سیدہ سیدو وَقُلْنَا لَهُمْ  
 ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا بیہ کُر آہہ، حُکْم تمن شہر کہ دروازہ کن آژو خدا پس گن نمٹھ - وَقُلْنَا لَهُمْ لَا  
 تَعْدُوا فِي السَّبْتِ بیہ کریو حکم آہہ تمن بنہ وارہ و دہ مہ ڈلو سائہ حکمہ نشہ گاڈہ رٹنس اندر وَاَخَذْنَا  
 مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيْظًا بیہ کرہ نا و آہہ تم وارہ پائٹھہ عمد تہ اقرار مگر تمو پٹھہر اوساری عمد تہ اقرار فَبِمَا  
 نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيٰتِ اللّٰهِ پس امی سبہ کہ تمو کیا پھڑ ووسو پنہن عہد - بیہ کورکھ انکار خدایہ  
 سندن آیات و قَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ بیہ کُر کہ شہید حضرت ات انبیاء ناحق، کُر آہہ تم عذابس  
 گرفتار - وَقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بیہ تھندہ بیہ ونہ موکھ کہ سان دل چھہ محفوظ تمن کرہ نہ کا نہہ بیاکھ  
 مخالفت دین یعنی اسلام تھہ قسمہ اثر - بیہ ونہ اندرہ چھو تھند مُراد کہ اس چھہ پنہ نس مذہبس پیٹھ مضبوط تہ  
 پیٹھہ - بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ مضبوطی و پیٹھہ گی چھہ کینہ بلکہ چھہ اللہ تعالیٰ ان تھندہ کُفر سبہ  
 تھندین دکن پیٹھہ شروک دیو تھمت تہ مہر کر مرث - تا ایٹکھ پڑہ کتھہ ہند اثر چھونہ بہندین دلن پیٹھہ سدان



فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۵۵﴾ وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلُهُمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿۵۶﴾ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّمَّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿۵۷﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿۵۸﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا پس ایمان آن نہ تم مگر کمی۔ سو کم ایمان قابل قبول ہتھونہ لہذا چھہ تم بے ایمان نہ کافرے وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلُهُمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا یہ کمر آہ تم عدلس گرفتار تہندہ کفرہ سبہ۔ بیہ حضرت مرتس پیٹھہ بڈا پڑتہ بہتان نووراونہ سبہ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ بیہ یہ دعویٰ کرنہ سبہ کہ آہہ مور حضرت مسیح عیسیٰ حضرت مریم سہند پچو پیٹھہ خدا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ حالیکہ یہ چھہ تم محض غلط تہ اُپزونان۔ حقیقت چھہ کہ نہ مور سو تمونہ دیو چھہ پھہہ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ بلکہ آویا کہ شخص تم ہئو بناونہ۔ سوی ڈکھور تمونہ کھس۔ سوی شخص دیو چھہہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّمَّنْهُ پترپاٹھہ تم آتھہ منز اختلاف کران چھہ اہل کتابو آندرہ تم چھہ بڈس شکس تہ غلط خیالس منز یسمت مالھو بہ من علم چھہہ تمین ان کا نہ خبراہ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ تخمینہ تہ قیاسی کھن پیروی کرنہ وراہی وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا \* بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ حقیقت چھہ یہ کہ ہرگز کرنہ تمونہ ہئو و حضرت عیسیٰ شہید۔ بلکہ کھار تم اللہ تعالیٰ ان پاس کن آسانس پیٹھہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ چھو ہمیشہ سارنی پیٹھہ غالب حکمتہ وول پتہ قدرتہ سیت تہ حکمتہ سیت موکہ لوون حضرت عیسیٰ علیہ السلام تہندہ شرہ نشہہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ پترپاٹھہ اہل کتابو آندرہ کہینہہ لوکہ آن ضرور حضرت عیسیٰ اس ایمان تہندہ مرنہ بروٹھہ امہ آندرہ تہ چھو معلوم سپدا کہہ ونہ چھہہ تم مومت کہینہہ بلکہ چھہ ونہ زندے آسانس پیٹھہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكُونُ عَلَيْهِمْ

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٨﴾ فَيُظَلِّمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا  
 حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
 كَثِيرًا ﴿١٥٩﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ  
 بِالْبَاطِلِ ۗ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦٠﴾ لَكِنِ  
 الرِّسْخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ  
 وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْبُقِيْمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ  
 الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦١﴾

شَهِيدًا قیامتک دوه دن تم یعنی حضرت عیسیٰ تمین یہودن ہندہ انکار کرچ گواہی فَيُظَلِّمُ مِنَ الَّذِينَ  
 هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ پس یہودن ہندو یو ظلموتہ نافرمانیو سبہ کراس حرام تمین پیٹھے  
 رت رت لذیذہ مفید چیز تمین تمین پیٹھے حلال آس بروٹھے وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا - یہی تہندہ  
 واریمین لوکن خدایہ سنزہ وتہ یعنی دین حقہ نشہ پتھے رنجہ سبہ - وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ یہی  
 سودہینہ خیترہ - حالانکہ تمہہ نشہ اوس تمین منع آمت کرنہ تور اتس آندر وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
 یہی تہندہ وراکی لوکن ہندمال ناق مشروع ذرا لہو وراکی کھینہ خیترہ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا  
 آسہ چھو تمہو آندرہ کافرن ہندہ خیترہ تبار تھاومت عذاباہہ سیٹھاہہ نڈر - لَكِنِ الرِّسْخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ  
 وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ لیکن تمیم یہودو آندرہ علم دیس آندرہ بختہ چھہ یہی  
 تمیم تمہو آندرہ با ایمان چھہ تم چھہ پڑھ کران تھہ کتابہ یوسہ تمین نازل آسہ کرنہ یہی تمین بتانن تمہہ تمہہ  
 بروٹھے نازل آسہ کرنہ - وَالْبُقِيْمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہی تم  
 تمہو آندرہ نماز پڑہون چھہ، یہی تم زکوٰۃ دہون چھہ - یہی تم پڑھ کرہون چھہ کنس خدایس یہی پتھس  
 دوس یعنی قیامتہ کس دوس اُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا یعنی لوکن گرو آس عطا آخرتس منز

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ  
 وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  
 وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ  
 وَاتِّينَادَاوُدَ زُورًا ۗ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ  
 قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۗ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى  
 تَكْلِيمًا ۗ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ  
 عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۗ

مزدیہ سیٹھاہ بڈ۔ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ پڑھاٹھ اسہ سوزوخی توہمہ  
 گن یار سول اللہ تھے پاٹھ تھے پاٹھ اسہ وحی سوز حضرت نوح سے تین پیغمبران پیٹھ تم ن پتہ۔ وَأَوْحَيْنَا  
 اِلَى اِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ  
 وَاتِّينَادَاوُدَ زُورًا تمہو آندرہ بعضی حضرات تم ن گن اسہ وحی سوز مثلاً حضرت ابراہیمس گن حضرت  
 اسماعیلس گن حضرت اسحاقس گن، حضرت یعقوبس گن یہ تہمدین اولاد ن گن یہ حضرت عیسى اس گن  
 یہ حضرت ایوبس گن یہ حضرت یونس گن، یہ حضرت ہارونس، یہ حضرت سلیمانس۔ یہ سوز اسہ  
 حضرت داوودس گن وحی۔ اسہ کتر عطا تم ن پن کتاباہ زبور وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ  
 وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا یہ سوز اسہ وحی تم ن پیغمبران گن یہ تہد حال  
 بروٹھ اسہ بیان کور۔ یہنز ذکر سورہ انعامس منز کرنہ آمرٹھ۔ یہ تم ن پیغمبران گن یہ تہد حال نہ ونہ  
 اسہ توہمہ بیان کور یہ کور اللہ تعالیٰ ان حضرت موسیٰ سے صاحب وحی۔ چنانچہ تم ن سیت کور اللہ تعالیٰ ان  
 کلام خاص طور کلاماہ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ تم ساری پیغمبر سوز اسہ ایمانس پیٹھ نتاج بشارت ودہ ون  
 وَمُنذِرِينَ کفرس پیٹھ عذابک بیم کرہ ون لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

لَٰكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِۦ وَالْمَلٰٓئِكَةُ  
يَشْهَدُوْنَ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ﴿۲۷۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ  
صَدُّوْا عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلًّا لَّعِيْبًا ﴿۲۸۰﴾ اِنَّ  
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرْ اَمَّهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ  
طَرِيْقًا ﴿۲۸۱﴾ اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا وَّكَانَ ذٰلِكَ

پیغمبر بناؤتھے سوزاںہ تم می موکھ کہ بٹھنہ لوکن عذراہ خدا بس نشہ پیش کرنہ خیرہ ہ باقی روزہ تم  
حضرات انبیاء سوزنہ پتہ۔ ورنہ تم ہمیکہ کن ورتھہ قیامتک دوہ وار یمن کھن ہندرت آن سپد نہ اہ  
معلوم عقلہ سیت لہذا کیاہٹناہ چھو سون یہ ونہج تھاونہ خدا من کانہ گنجائش وکان اللہ عزیزاً حکیمنا  
اللہ تعالیٰ چھو پنہ نین کامین اندرسارنی پیٹھہ غالب تمہ اعتبارہ ہمیکہ ہا سوتمن عذابس گرفتار کرتھہ۔ مگر  
سارنی کامین منز چھو حکمتہ وول تمسنز جمت سپنر مقضی پیغمبر سوزنس لکن اللہ یَشْهَدُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْكَ  
اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ۔ لیکن اللہ تعالیٰ چھو گواہی ووان تمہ کتابہ ہندہ ذریعہ بوسہ توہہ کن نازل کرن۔ نازل تہ  
کرن سو پنہ کمال علیہ سیت۔ تمہ کتابہ جن تہ انسان اولین و آخرین عاجز کرتھہ ہیو اکھ آینہ کریمہ  
پیش کرنہ نشہ تمی سببہ چھہ سو کتاب بڈ دلیل تہندس نبوتس پیٹھہ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَشْهَدُوْنَ۔ سببہ چھہ  
ملا یک تہ گواہی ووان تہندس نبوتس پیٹھہ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا حقیقت چھہ کہ اللہ تعالیٰ چھو گواہ آسنس  
اندربس۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْا ضَلًّا لَّعِيْبًا بیٹک سمو لو کوونہ  
دلیلہ وچھتھہ تہ انکار کورہیہ رجھہ لوکھ تہ چھہ خدایہ سزہ ورتہ نشہ یعنی دین اسلامہ نشہ تم ڈل سینرہ ورتہ  
نشہ۔ پزہ نشہ سیٹھاہ دور گمراہی اندر اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَظَلَمُوْا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرْ اَمَّهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ  
طَرِيْقًا پزہ پات سمو لو کو انکار کورہیہ کوزھہ ظلم لوکن نقصان عظیم و اتاونہ سیت، دین حقہ نشہ چھہ رتنہ  
سیت اللہ تعالیٰ کرنہ تم نمانہ تہ بچائش۔ ہیہ ہا ونہ تم ورتھہ جنس کن اِلَّا طَرِيْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا  
اَبَدًا مگر ہا ویکہ سچ ورتھہ تھہ منز چھو روزن تم ہمیشہ ابد آباد وکان ذٰلِكَ عَلٰى اللّٰهِ يَسِيْرًا اللہ

عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ  
 مِنْ رَبِّكُمْ فَاْمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾  
 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ  
 إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ  
 أُلْقِيَ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَاتُوا وَلَا

تعالی اس نیشہ چھو یہ سزا دین تم سبھاہ سہل تہ آسان  
 مِنْ رَبِّكُمْ فَاْمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ای ساری جہانہ کیو لکو پڑیاٹ آو توبہ کن یہ پیغمبر برحق حضرت محمد عربی  
 صلی اللہ علیہ وسلم پڑتھہ، پوزد عوی تہ پزد دلیل ہتھہ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ لہذا چھو پوزد عوی  
 دلیل آسہس لازم کہ ہتھہ کرو پڑتھہ تمن بیہ کرو یقین تھہ بیہ تم فرماون۔ یہ چھو تہندہ خیطرہ سبھاہ بہتر  
 فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہر گاہہ انکار کرو تمیگ نقصان چھو توبہ پائس۔  
 خدا بس چھونہ تمیگ کانہہ پرول کیا زہ بیشک تہندوی چھو ملک تہ سوزی یہ آسمان اندر تہ زمینس اندر  
 چھو۔ لہذا تھس بڈس مالکس کیاہ نقصان ہیکو تہہ واتناو تھہ پنہ انکارہ سیت وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا اللہ تعالی چھو پوز زان وول ساری ہندہ ایمانک تہ کفرک۔ حمتہ وول تہنر حمت چھنہ  
 مُقْتَضًى تھہ تھہ کہ معر کیا گروہن فور اگر قاتر عذاب کرنن  
 یَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ای اہل  
 کتابو یعنی نصاراومہ کرو پنہ نس وینس اندر زیادتی۔ حدہ نیشہ مہ نیر و نیر پیغمبرن ہندس تعریف کرنس  
 اندر۔ مہ ٹھہراویو کہہ تم خدایہ سند پجو۔ خدا چھو اولاد آسنہ نش منزہ تہ پاک۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا  
 الْحَقَّ بیہ مہ و نیو خدا بس نسبت کینہہ تہ مگر تی بیہ پوز چھو  
 إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ  
 كَلِمَتُهُ چھونہ حضرت مسیح عیسیٰ حضرت مریمہ سند پجو۔ مگر چھو پیغمبر خدایہ سند بیہ تہند حکم  
 أُلْقِيَ إِلَى مَرْيَمَ نِس تم واتنوو حضرت مریمس کن وَرُوحٌ مِنْهُ بیہ چھو اللہ تعالی سند آک زوحہ وول یعنی

تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۖ إِنَّهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ  
 سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي  
 الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٤١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ السَّيِّئُ أَنْ  
 يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ  
 عَنِ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَبِّحْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٤٢﴾ قَاتِلُوا

جانداراہ۔ سو جان تہ زود اتنو اللہ تعالیٰ ان جبریل اینہ سندہ پھو کہ کہ واسطہ حضرت مرتس منز۔ سونہ  
 چھو خدایہ سند پونہ چھو خدا۔ نہ چھو تریو خدایہ اندرہ اکہ تم ساری عقائد چھہ باطل تہ اہز یلہ سمہ  
 سارے کتھ باطل تہ اہزہ چھہ لہذا کرو چھہ ساری امہ نشہ توبہ۔ قَاتِلُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پس پڑھ کرو  
 کٹس خدا پس یہ تہندن پیغمبرن۔ تمنی ہنزہ تعلیمہ موجب زانیون خدا کنوی، توحید کرو اختیار۔ تثلیث  
 گالوتہ توحید پالو وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ۔ یہ کتھ منہ ونیو کہ خدا چھہ تریہ إِنَّهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ۔ یہ گو  
 شرک۔ پڑھ کتھ ونہ نشہ یعنی شر کہ نشہ رزو و پتھ تی چھو تہندہ خیلہ بہتر۔ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ  
 کیا زہ معبود بر حق چھونہ مگر کنوی سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ منزہ تہ پاک چھو سوا اولاد آسنہ نشہ۔  
 تمس کیاہ ضرورت چھہ اولاد ن، ہنز لہ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تہندی چھو تہ سوزوی یہ  
 آسمان اندر چھو یہ زمین اندر چھو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا سو چھو سارنی بدن ہنزہ کامہ خیلہ کنوی  
 کافی۔ سوی چھو کار ساز مطلق۔ یہیہ چھہ تمسدہ معبود بر حق آج بڈ دلیل۔ تس ورا ی تم چھہ تہ تم  
 ساری چھہ کار سازی اندر تس گن محتاج۔ لہذا چھونہ معبود آسٹس سزوار تس ورا ی کا نمہ تہ۔ نصاری  
 چھہ بل حضرت عیسیٰ اس تہ ملائکہ مقرر بین معبود تہ خدا زانان۔ حالانکہ تمو کر نہ پانہ زانہ انکار خدایہ  
 سد بندہ آسنہ نشہ۔ نہ کرن تم زانہ تمہ نشہ عارتہ مند چھہ۔ یہ کرن نہ زانہ مند چھہ تہ عار ملائکہ  
 مقرر بین مثل جبریل امین وغیرہ۔ کیا زہ تمن چھہ خبری کہ خدایہ سنزہ بندگی نشہ عارتہ مند چھہ کرنک  
 نتیجہ کیاہ چھو لَنْ يَسْتَنْكِفَ السَّيِّئُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ عار چھونہ زانان

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ  
 يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكفُوا وَاسْتَكْبَرُوا  
 فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝ (۴۶) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ  
 مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۝ (۴۷) فَأَمَّا الَّذِينَ  
 آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ

پانہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ خدایہ سُبْحَانَهُ آسمان سے نہ مُقَرَّبِ مَلَائِكَةٍ وَمَنْ يَسْتَكْفِرْ عَنْ عِبَادَتِهِ  
 وَيَسْتَكْبِرْ تَمَّ جَهَنَّمَ زَانَانٌ کہ جس کھا خدایہ سز عبادت کرنے نشہ عارتہ بحیرہ کرہ فَيَسْحَرُهُمُ إِلَيْهِ  
 جَمِيعًا پس اللہ تعالیٰ کرہ سارنی لوکن پانس برونھ کنہ قیامتک دودہ جمع فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ تُوپتہ سمولولو کو ایمان انتھ رتھ عملہ آسن کرہ  
 مرثہ تمن دیہ پور مزور۔ یہہ کرکھ زیادہ بمن فضل عطا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيَعَذِّبُهُمْ  
 عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا بیہ سمولولو کو خدایہ سز عبادت کرنے  
 نیشہ عارتہ بحیرہ کورمت آسہ پس کرہ تمن عذاب۔ سؤی آسہ کڈر عذاب۔ تُوپتہ لمن نہ تمن پنہ رہائی  
 خیطرہ خدایس وراى نہ کانہ دوستانہ کانہ مدگارہ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ  
 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ای ساروی لوکو بیشک آسہ توبہس کن تھندس پروردگارہ سیدہ طرفہ بذ  
 دلیل، بڈجنت یعنی ذات مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہہ کوراسہ نازل توبہس کن  
 نورہ روشن تہ صاف یعنی قرآن مجید فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ پس سمولولو  
 پڑھ کمرکنس خدایس بیہ رُودتھپ کمرتھ تھندس دینس سمہ خیطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیہ  
 قرآن مجیدس پڑھ کرن لازم چھ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ پس واتا وہ تمن سُوپنہ نس  
 رحمتس اندر سُوگو جنتس بیہ فضلس اندر سُوگو چتچہ حجہ نعمہ، دیدار خدایس الہی وَيَهْدِيهِمْ إِلَى

مِنْهُ وَفَضْلٍ لَّا يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝<sup>ط</sup>  
 يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ  
 لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا  
 إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ وَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا  
 تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذِي كَرِمَتْهُ حِصَّةٌ  
 مِنَ الْأُنثَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝<sup>ع</sup>

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بیہ ہا وہ تمن و تھ پند نس قر بس کن۔ و تھام سبز۔ یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ  
 يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَةِ لُو کہ چھ توہمہ بچہ فتویٰ طلب کران کلاس متعلق کلامہ گو بس نہ وار تو آندرہ نہ  
 مول آسہ نہ اولاد آسن جہہ فرما یو کہ کہ اللہ تعالیٰ چھو توہمہ بیہ حکم فرماوان کلاس متعلق۔ لِنِ امْرُؤًا  
 هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ بیہ کانہہ شخصہ مرہ تس روزہ نہ پتھہ کن اولاد نہ  
 آسیس مول موج۔ فقط آسیس بینہ، سٹھہ بینہ بس چھو تس (بینہ) تمسدہ مالہ منزہ واتان نصف حصہ، باقی  
 نصف حصہ گو عصبوا ندرے کانہہ آسیس نہ تس۔ ہر گاہے آسیس۔ تلہ بیہ سونصف حصہ تہ آمس بینہ  
 و نہ۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ سُو کالہ چھو وارث سپدان اس بینہ ہند ہر گاہ سُو مرہ تس روزہ  
 نہ پتھہ کن پٹن اولاد کینہہ تہ۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ بس ہر گاہ کانہہ روزن پتھہ کن  
 زہ یاد یو خونہ زہ یاد بینہ تمن چھو آسندہ متز کہ مالہ منزہ واتان تریو حصو منزہ حصہ۔ وَإِن كَانُوا  
 إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذِي كَرِمَتْهُ حِصَّةٌ مِنَ الْأُنثَيْنِ بیہ ہر گاہ کانہہ روزن پتھہ کن باسے تہ بینہ، مرد تہ  
 زنانہ، بس چھو تمن واتان مردس زہ حصہ زنانہ اکھ حصہ آسندہ مالہ منزہ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو دینک احکام توہمہ فرماوان تہ بیان کران پتھہ نہ تہہ ناواقفی سببہ مگر ہ  
 سپد۔ اللہ تعالیٰ چھو پتھہ چیزہ پورزانہ ون۔



## سُورَةُ الْبَقَرَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ  
يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ ① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اکی با ایمانو تمہند ایمان اُن چھو مکان یتھ تھہ کہ نہہ کر و پورہ ہن معاہدہ تم توبہ ایمان اَنہ نس منز خدا بس سیت کرمت چھو۔ یعنی شریعتک احکام اَنو بجا۔ کیا زہ ایمان اَنہ سیت سپد توه پیٹھ تم ساری احکام لازم۔ لہذا اُنس چیز لازم نہ مَنہ کھوت سو گزھہ پورہ کرن نہ پورہ ہو رن اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ حلال آئی کرنہ جہندہ خیطرہ چار پائین نہ تیر چار وایو اندرہ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ تم چار واین ورائی یہند حکم توبہ پیٹھ بروٹھہ ہرنہ پیہ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ۔ مگر شکار کرن گزھہ نہ حلال زانن یلہ ہنہ جگ یاعمرک احرام گنڈت آسویاتھ زمین پاکس اندر آسویتھ حرم ونہ یوان چھو لَنَ اللَّهُ يُحْكُمُ مَا يُرِيدُ پز پائٹ اللہ تعالیٰ چھو سوی حکم فرماوان اُنس حکم۔ یشھان چھو۔ کانسہ ہند طاقت چھونہ چون وچر اگر نک۔ ہنہ کیا زہ نہ یہ کونہ۔ سو بس جانورس یشھان چھو تس چھو ہمیشہ خیطرہ حرام کران۔ بس یشھان چھو تس ہمیشہ خیطرہ حلال کران۔ بس یشھان چھو تس مخصوص حالتس اندر حلال کران۔ بس یشھان چھو تس چھو گنہ خاص حالتس اندر حرام کران۔ اکی لاکو توبہ چھو پزیتھ حالتس منز حکم تس قیل کرن لازم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ اے با ایمانو حلال مہ زانو یعنی بے حرمی مہ کرو خدا یہ سیدین دینہ کین نہ عبادتہ کین نشان۔ یعنی بس چیزن ہندہ ادب نہ تقظیم کر نک حکم کرنہ آو تمن حکم خلاف کر تھ تمن چیزن ہنز بے ادبی کرن چھہ حرام۔ مثلاً حرم شریفک نہ احرامک ادب چھو احرام گنڈت نہ حرم شریفس منز آستھ گزھہ نہ شکار

الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَيْمَانَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  
وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن  
تَعْتَدُوا وَاتَّعَاوَنُوا عَلَى الْبُرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

کرن یہ چھو حرام۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَيْمَانَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ بیہ مکہ کرو بے  
خرمتی تعظیمہ والین رتین۔ تم گے ذیقعدہ، ذی الحج، محرم تہ ماہ رجب۔ یکن رتین اندر مہ کرو کافرین  
سیت جنگ بیہ مکہ کرو بے خرمتمی تین جانورن تین ہنز رہ نال یوان چھو تراونہ۔ تم کیا تین خدلیہ سبہ  
خیطرہ خر مس منز قربان کرنہ۔ کیا زہ تم چھہ خدلیہ سبہ نیاز۔ یہ نیاز تھا یون مخصوص تہندی  
خیطرہ۔ تس وراوی بیہ کانسہ ہندہ خیطرہ اودہ سو ملک مقرب آستین یا نبی مرسل یا لئی اکمل۔ تس وراوی  
بیہ کانسہ ہندہ خیطرہ کانہہ جانورہ نیاز تھا یون یہ گو شرک محض حرام۔ بیہ مکہ کرو بے خرمتمی تین لوکن  
تیم عزتہ والہ گرہہ زیارتہ خیطرہ یوان آسن یعنی کعبہ شریفکہ زیارتہ خیطرہ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا تیم ژہانڈان آسن پنہ نس پروردگارہ سبہ فضل تہ رضا مندی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  
توپتہ بلہ حج یا عمرہ کرت موکہ لو، احرام مژرا و پس کرو شکار۔ ہر گاہ توہہ حج خواہش آسہ بشر طیکہ سو  
شکار آسہ نہ حرم شریفس منز وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
باعث مہ بن توہہ ہرگز تین لوکن ہنز دشمنی سمو جہہ پچھہ رچیوہ کعبہ شریفکہ زیارتہ نشہ حدیمیس  
گن۔ جہہ کیاہ ذلوحہہ توپتہ کروا کائن ہنز خلاف ورزی۔ تین ہیو انتقام قتل و عارت کرنہ سیت۔ تین  
نعبہ رُو و پچھہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبُرِّ وَالتَّقْوَىٰ اکھ اکس کرو مدد رتن کائین اندر بیہ پرہیز گاری اندر  
شرعی احکامن پچھہ پابندی کرنس اندر۔ تمیک آسوا اکھ اکس ترغیب و وان۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ مدد مہ آسوا کران اکھ اکس گنہن، پچھہ کائین تہ طلسم اندر۔ مثلاً تمی حکم تم چھہ تین خلاف  
کرنس اندر مہ آسوا کانسہ مدد کران وَاتَّقُوا اللَّهَ کھو ژو خدا یس تس کھو ژنہ سیت چھہ سارنی حکم

وَالْعُدْوَانَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ①  
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخُزْنِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ  
 اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا  
 أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا

پیٹھ پابندی کرن سہل تہ آسان سہان ان الله شديدا العقاب اللہ تعالیٰ چھو بڑا پٹا احکامن ہنز  
 مخالفت کرہ وینن سخت عذاب کرہ و ان حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخُزْنِ حرام آی کر نہ توہمہ  
 پیٹھ اکی مسلمانو تہم چیز، مردار جانور نئس شرعی کھش کر نہ و رای پائے آسہ مؤمت، بیہ رتھ یعنی خون۔  
 بیہ سورہ مازہ بیہ تمسند ساری اجزاء۔ سکن ترین چیزن اندر ہجھہ مادی خباثت تہ گندگی لہنہ پوان۔ امہ پتہ  
 فرمؤ و خدا لئین تم ن حرام چیزن ہنز ذکر تہم بذات خود حلال تہ پا کھی آسن مگر مالک حقیقیس و رای بیہ  
 کانسہ ہند قرب تہ رضامندی تہم سیت ژھانڈنہ خیطرہ آسوسو بیس کن لاگنہ تہ نامزد کر نہ۔ نئس نہ خالق و  
 مالک چھو مؤت و حیائت۔ تہمہ مکھہ سپنر اتھہ اندر بد نیتی ہنز تہ بد اعتقادی ہنز اکھ ناپا کیاہ تہ خباثتاہ  
 پیدہ لہذا آویہ تہ حرام کر نہ سؤگو وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ بیہ چھو حرام سؤ جانور نئس خدا لئس و رای بیہ  
 کانسہ ہندہ ناوہ تھانہ بیہ وَالْمُنْخَنِقَةُ بیہ لئس ہوٹ بیہ چیر نہ وَالْمَوْقُوذَةُ بیہ لئس ژنجہ سیت مار نہ آسہ  
 آمت وَالْمُتَرَدِّيَةُ بیہ لئس تھزرہ پیٹھ کوہ پیٹھ یا کیر س منز و س پیٹھ مؤمت آسہ وَالنَّطِيحَةُ بیہ لئس  
 جانور نئس جانورہ سنزدہ ٹھولہ سیت مؤمت آسہ۔ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ۔ بیہ لئس جانور کانسہ دردنن ژاہلن  
 کھیؤمت آسہ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ مگرے سہمؤ ساروی جانور و آندرہ کانسہ جانور س امہ صدمہ سیت مرنہ  
 بروٹھ زندے آسٹھ شرعی ذبح کر نہ بیہ سؤ چھو حلال۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ۔ بیہ ہجھہ حرام تم جانور  
 تہم ذبح لئین کر نہ تم ن جانئین، تم ن جانئین خدا لئس و رای بیہ کانسہ ہنز پرستش کر نہ ایوان آسہ یا خدا لئہ  
 سندہ گرہ یعنی خانہ کعبہ و رای۔ بیہ کئہ جابہ ہندہ تعظیمہ خیطرہ ذبح کر نہ یکن۔ اگر چہ ذبح کر جہہ وقتہ ایکن  
 تس پیٹھ بسم اللہ اللہ اکبرے پر نہ۔ سؤگو حرام وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْكَامِ بیہ چھو حرام جہہ کیاہ کرو  
 مشترک جانورہ سندا ز تقسیم زارہ کیوتیر و سیت ذَلِكُمْ فَسُقُ بیہ سوروی چھو گناہ ناجائزہ تہ حرام سہمؤ

بِالْاَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ  
 فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمَمْتُ  
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي  
 مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۹﴾ يَسْأَلُونَكَ  
 مَاذَا حَلَلْ لَهُمْ قُلْ اَحَلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ

چیز و نشہ روز و پختہ الْيَوْمَ يَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ از کہ دوہہ (یعنی ۹ ذی الحجہ الحرام ۱۰ھ، حجۃ الوداعہ دوہہ بس پیوم حج اوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمہ پتہ قریب تر یورینو انتقال ہر ملال سپد حضرت پیغمبر اسلامہ سند) سپد کافر نامید ٹہندہ دیکھ مغلوب سپد نہ نشہ کیا زہ لہجہ بود لو کہ آس امہ دوہہ حاضر آتھ جس اندر فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۔ بس مہ کھو ژو تمن کافرن ۔ بلکہ کھو ژو مے یعنی میانین احکامن ہنزمہ کرو مخالفت الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ از کی دوہہ کر مکمل مہ ٹہندہ خیطرہ ٹہندہ دین ۔ قوتس اندرتہ احکام تہ قواعدن ہندس پور کرس اندرتہ سمہ سیت کافر مایوس سپد وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا بیہ کر میہ امہ اکمال دین کرنہ سیت پور توہہ پیٹھ پن نعمت ۔ بیہ روؤس یو ٹہندہ خیطرہ راضی، ٹہند دین دین اسلام آسئس ۔ بیہ چھومہ ٹہند دین آسنہ موکھ ہمیشہ ہند ۔ وون روزہ قیامتس تان ٹہند یوہے دین ۔ بیہ دین منسوخ کرت پیہ نہ بیا کہ دینا ہر گز تجویز کرنہ ۔ بس شوہہ توہہ شکر گذار سپد تھ آتھ دینس پیٹھ پور قاسم روزن ۔ امہ کین احکامن پیٹھ پور پابندی کرت ۔ امہ بروٹھ سم احکام توہہ یوزدہ کہ کم کم چیز چھہ حرام تھ متعلق چھہ یہ کتھ کہ قَمِينِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآثِمٍ بس بس شخصہا ہر ایشان آسہ سپد مت بو چھہ ہندہ سبہ ، بٹہ گٹھنس گن مایل سپد نہ خیطرہ نہ ، سوئی سمبو حرام چیز و اندرہ کانہہ چیز کھیہ تس چھو اجازت تمیک فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھہ مغفرت کرہ و ن سیٹھہ ر حم کرہ و ن یسئو نك مَاذَا حَلَلْ لَهُمْ لو کہ چھہ توہہ پر ژھان کہ شکار ہونیو تہ پازہ سندر ٹیٹو جانور و اندرہ گہہ گہہ جانور آو ٹہندہ خیطرہ حلال کرنہ قُلْ اَحَلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ٹہہ فرما یو کہ حلال آئے تھاونہ بد شعور ٹہندہ خیطرہ ہم ساری حلال جانور سم

مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَمَلَكُمْ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا آمَسَكْنَكُمْ عَلَيْكُمْ  
وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝  
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ  
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ

ہوئین سے پازن ہندہ ذریعہ شکار کرنے بروٹھ حلال کرنے آیت آسن۔ ہوئین یا پازن ہندہ شکار کرنے سے تبا  
تہندہ آس منزرفہ سے تبا نہ تہندہ س حلال آسنس پیٹھ کا نہ اثر وَمَا عَمَلْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ  
تُعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَمَلَكُمْ اللهُ یہ ستم شکارہ جانور تہہ پچھہ ناؤیہ کہ شکار کرن تمہ طریقہ ستمہ طریقہ تہہ  
الله تعالیٰ ان شریعتہ ذریعہ پچھہ ناوہ سو طریق گوئیہ ہے کہ ہون گڑھہ پچھہ ناؤن کہ شکار س رزہ مگر  
تسمندہ مازہ منزہ کھیہ نہ پاس کھہ رتھہ تہ۔ سٹھہ پاٹھہ پیہ پازس تعلیم دنہ کہ ہر گاہ تس وانس بینہ خیطرہ  
آوازیہ دنہ، فورابیہ وانس، سوے ادہ شکار س پتہ دوران تہ آسہ فَكُلُوا مِمَّا آمَسَكْنَكُمْ عَلَيْكُمْ امہ قسمک  
شکارہ جانور انس شکارہ تہندہ خیطرہ رٹھہ ان، انس کھیہ تہہ تمہ منزہ وَأَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ یہ آسو تم  
ہون یا پاز شکار س پیٹھ تراویحہ وقتہ خدیہ سندا ناوہ ہوان یعنی بسم اللہ پر تھہ آسید کہ تراوان۔ یہ کھو ژو تہہ  
خد انس سارنی سمن اندر یعنی سمن آیات کر سمن اندر فرماو اللہ تعالیٰ ان شکار جانورن ہندہ ذریعہ  
شکار کر نک ژور شرط۔ اہ گو شکار ہون وغیرہ گڑھن شکار کرن پچھہ ناؤن۔ تو پتہ سن تم شکار س پیٹھہ  
تراونہ۔ یہ ایہ امہ وقتہ بسم اللہ پر نہ۔ یہ واتاوان تم سو شکار تو بہہ برٹھہ کن وَاتَّقُوا اللهَ یہ  
آسو سارنی کا مین اندر اللہ تعالیٰ اس کھوژان۔ شکار کر نس منزہ آسو تمہ قسمہ مشغول سپد انکہ نماز یا بیو  
فرایعہ نشہ سپد وغافل۔ یا شکار حلال سپد نہ کیو سٹوژو ژور شرٹو اندرہ کٹہ شرٹس منز کر و پہلو تہی۔ إِنَّ اللهَ  
سَرِيعُ الْحِسَابِ بیشک اللہ تعالیٰ چھو سیٹھہ جلد حساب ہیوہ ون ستمہ پتہ سو سارنی جزا تہ سزا دیہ۔ لہذا  
گڑھہ تس کھوژان الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ اژکہ دوہہ پیٹھہ پاٹھہ دینی، ابدی لمحہ انعامہ سے تہہ  
مشر ف سپدوہ پیٹھہ پاٹھہ او تو بہہ اہ دنیوی انعامہ تہ عطا کرنے سو گو یہ کہ از آی حلال کرنے تہندہ خیطرہ  
رت تہ پاک چیز ہمیشہ خیطرہ ستم نہ زانہ تہ آیدہ حرام سپدن وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ

مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ  
مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ بِیہ چھو تہنہدہ خیطرہ حلال تمن لوکن ہندہ اتھہ کھش کرنہ آمت جانوریا تہندہ اتھ رنہ آمت غذا تہن کتاب آیہ عطا کرنہ یعنی یہود تہ نصاری۔ بیہ چھو تہندہ اتھہ کھش کرنہ آمت جانوریا رنہ آمت طعام تہندہ خیطرہ حلال وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ بیہ چھو پانھہ حلال چھہ تہندہ خیطرہ آزاد پاک زنانہ با ایمانو آندرہ تھہ پانھہ چھہ حلال پاک زنانہ تمولو کو آندرہ تہن توہہ برو تھہ آیہ کتاب عطا کرنہ یعنی یہود و نصاری او آندرہ یلہ تہہ با قایدہ تمن مہر تہندہ عطا کر و مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ در حالیکہ توہ آسیدو کہ تمہہ زنانہ پنہ نس کا حس اندر آندہ ون۔ تمن سیت تن پانھہ چھہ کام کرہ ون آسونہ۔ الحاصل کتابی زنانہ سیت نکاح کرن چھو شریعت اسلامیس اندر جائیز مشرک زنانہ سیت چھونہ جائیز تمہہ خیطرہ چھو صریح حکم ممانعک قرآن مجید س منز موجود وَلَا تَتَّكِبُوا الشُّرُكَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا مشرک زنان سیت مہ کرو نکاح یوتان نہ تمہہ ایمان آن۔ مگر یہ تھہ گڑھہ تھاون یاد کہ سائہ و تکب نصاری چھہ عموماً ناوہ خیطرہ نصاری تہن آندر چھہ اکثر تم تمن نہ ٹنہ آسمانی کتابہ مانان چھہ نہ چھہ نہ مذہب مانان بلکہ چھہ تم خدا تہس تہ مانان تمن اہل کتاب و ن چھو بے کار۔ لہذا تہندہ مذہب کھم یا تہنزن زنان ہند کھم چھونہ اہل کتابن ہند ہیو کھم۔ بیہ گڑھہ تھاون نظرہ تل کہ نہ چھہ حلال آسک مطلب چھو کہ تھہ آندر چھونہ در ذات خود کانہہ حرام آسک و چہاہ۔ مگر ممکن چھو کانہہ خارجی چیز آسہ تمہہ قسمگ لہنہ یوان سبہ سبہ سو حلال چیز استعمال کرنہ سبہ بہ وار تہن حرام چیزن ہند ار تکاب آسہ سہدان بلکہ آسہ خیطرہ گھر س بتلا سہد نک تھہ حلال چیزہ سیت فاسیدہ تہ نفع تلن چھونہ جائیز موجودہ زمانس منز یہود و نصاری ان سیت ووتھن تہن۔ کھیون چون بے ضرورت اختلاط کرن، تہنزن زنانن ہند س زائس آندر لکن تمن چیزن ہند تہس نتیجہ نیران چھو تھچ چھہ ساری پور خبر۔ لہذا چھو ہدی نشہ تہ بد دینی ہند یو اسباب و ذریعہ نشہ اجتناب کرن تہ لوب روژن لازم وَلَا تُتَّخِذِي أَخْدَانٍ بیہ نہ یار زلا گھہ پوشیدہ پانھہ چھہ کام کرہ ون

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ  
إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ  
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ  
أَوْ لَسْتُمْ بِالنِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَخْزَةِ مِنَ الْحَيَرِينَ بہے نئس اکھاہ شریعتین حکمن  
انکار کرہ، یعنی حلال قطعی زانیہ حرام نہ حرام قطعی زانیہ حلال نمہ کس حلال آسئس نہ سمہ کس حرام  
آسئس کرہ انکار۔ پس تحقیق تمیز پریتھ رث عملہا گھہ ضایح نہ برباد۔ سو شخص آسہ آخر تس اندر  
تاوان نہ نقصان زدو آندرہ بلذ ازانو حلال چیز حلال نہ حرام چیز حرام یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى  
الصَّلَاةِ ای بایمانویلمہ ہبہ نماز پر نہ خطیرہ و تھان آسبو نماز ادا کر تک ارادہ کران آسبو ہتھ حاکس منزکہ  
ہبہ آسبو طہارت نہ با وضو ہس کمر و گوڈہ وضو ہج طریق ہجہ بہ کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى  
المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ نئس آسبو گوڈہ پھلان ہتھ پن بہ ترہ پنہ  
کھونہ وئن تان۔ بیہ آسبو مح کران یعنی آدر یو اٹھو دو یوسیت کلس پنہ نس ہش دو ان۔ بیہ آسبو کہ کھور  
پنہ ژنہ نین تان پھلان۔ سم ژور چیز ہجہ طہارت تک فرض امہ علاوہ باقی چیز گئے سنت نہ مستحب  
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ہر گاہ ہبہ آسبو بے غسل۔ تلہ کرو نماز لاگنہ برو ہتھ سوزوی بدن پورہ  
پاک۔ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ہر گاہ ہبہ بیمار آسبو آب استعمال کرن آسبو مضر یا مسافر  
آسبو آب میسر بدن آسبو دشوار أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ یا بیہ توبہ آندرہ کانہ بڈہ حاجتہ  
یا کوکھ حاجتہ نغہ فارغ سبت أَوْ لَسْتُمْ بِالنِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً یا کر و آورہ بڈر تھپ زنان سبت  
یعنی تم حرکات ستمو سبت غسل مہ گھسان ہجھو تو پتہ کیونہ موقعہ آب استعمال کر تک آب نہ ہنہ موکھ یا  
آب استعمال کرن مضر آسنہ موکھ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ہس کر و امہ بدل میتر استعمال کر تک ارادہ

طِيبًا فَاَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ مِنْهُ طَمَائِرُ اللهِ  
 لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ  
 لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝۱۰ وَاذْكُرُوْا  
 نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهٖ اِذْ  
 قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاَتَقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ

فَاَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ مِنْهُ سمہ طریقہ کہ دہو پھس میٹھہ پیٹھہ ژنڈ تھہ آتھو سیت پنہ نین  
 تھین، پنہ نین زین، تھہ چیزس پیٹھہ دوئیو آتھو ژنڈ تھہ لیس زینجھہ جھہ آسہ یعنی لیس نہ پارس منزویگہ  
 طَمَائِرُ اللهِ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ اللہ تعالیٰ چھونہ یرشان توبہ پیٹھہ کیاہ تراوہ تھہ کسج تنگی تہ سختی  
 سمہ سیت جہہ پریشان کرہ ہو وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ بلکہ چھو یرشان اللہ تعالیٰ توبہ پاک وصاف  
 کرن تمی موكھ کرن مقر طہارتک احکام تہ قواعد۔ بیہ کرن نہ اکے صورتھہ طہارتج یعنی فقط آہہ سیتی  
 یوت۔ بلکہ کوزن کہ ہر گاہے کانہہ آب بنہ تمہ ساتہ بیجہ سو میوہ سیت تہ تمم کتر تھہ۔ تمی سیت بیجہ  
 سو بے غسلی تہ بے وضوئی لغہ پاک سیت وَاَلِيْتُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ بیہ  
 چھو یرشان اللہ تعالیٰ پور کرن پنہ نعمت توبہ پیٹھہ جھہ تھہ مر بانی پیٹھہ شکر گزار سپد و نعمت ہنز قدر  
 زانو۔ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ بیہ پاور تیس خدایہ سزہ نعمو نمو نعمو آندرہ بڈ نعمت گنیہ کہ تم کر  
 تھنزہ فلاح ورتگاری خیطرہ اسباب و ذرائع مقرر و ميثاقہ الذی واثقکم بہہ بیہ کریداد تھند سو  
 معاہدہ لیس تم توبہ سیت کورمت چھو۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا یلہ توبہ ووب وہو زاسہ تہ مون  
 آسہ پریتھہ کلمہ پرہ وناہ چھو بزبان حال سمعنا واطعنانا کلمہ پرہ وئی گو سمعنا واطعنانا ون اگرچہ زیوہ  
 سیت مہ کرتن تم الفاظ بیان وَاَتَقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصُّدُوْر بیہ کھوژو خدا لیس ہرپاٹ  
 اللہ تعالیٰ چھو پور زانہ ون دلہ چن تھن لہذا یوسہ کام کرو سو کر و کمال اخلاص محض خدایہ سہدہ رضا  
 خیطرہ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوْمِيْنَ لِلّٰهِ اکی با ایمانو خدایہ سزہ خوشنودی خیطرہ روزو



الْصُّدُورِ ۷) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ  
 شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى  
 آلَاتِعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۸) وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۹)  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 الْجَحِيمِ ۱۰) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

الستاده خدایہ سدا احکام بجانہ خیرہ شہداء بِالْقِسْطِ ہر گاہ شہادت تہ گواہی دینج نوبت بیہ تمہ  
 ساتہ آسودل وانصافہ سان گواہی دوان وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى آلَاتِعْدِلُوا بیہ مہ  
 کمرن توہمہ آمادہ مند قویج دشمنی تمن نسبت بے انصافی کرنس بیٹھہ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى  
 پر بیٹھہ حاس منکر وعدل وانصاف تی چھویش نزدیک پرہیز گاری۔ تقوی اختیار کرن چھو توہمہ بیٹھہ  
 فرض کیا زہ اللہ تعالی چھوہ فرماوان وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بیہ کھوژواللہ تعالی  
 سزہ نافرمانی کرنہ نشہ۔ پڑپاک اللہ تعالی چھو پور خبر تھا وہون تہمزن سارنی کامین ہنزہ وَعَدَّ اللَّهُ  
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وعدہ کور اللہ تعالی ان تمن لوکن یمو  
 ایمان اُنھہ رتہ عملہ کرہ کہ تہندہ خیرہ چھو بوڈ مغفرت تہ بڈ مزور وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا  
 بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ بیہ سمولو کوا نکار کور پوز دین قبول کرنہ نشہ بیہ زانک ابہر سان  
 آیات تہ لوک گے جہنم اندر روزن والِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
 اک با ایمانو رتیس پاو خدایہ سز نعت تہ احسان اِذْهَبْتُمْ قَوْمًا أَنْ يُبْسَطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ إِلَيْهِمْ

عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ  
فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ  
الْمُؤْمِنُونَ ۝۱۱ ۚ وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ  
لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ  
بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمْ أَوْلِيَاءَكُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

تو من یعنی قریشو، مکہ کیہ کافر و قصد کر یو توہمہ کن ہن آتھ ز بیٹھر او تک یعنی توہمہ پیٹھ ہمگہ تہ معہ حملہ  
کر تک، یلہ تہمہ ونہ ضعیف آسہ۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ۔ پس رب اللہ تعالیٰ پتھ تہند آتھ پنہ فضلہ  
تہ کر مہ سیت۔ تمن و یقن نہ توہمہ پیٹھ غالب سپند۔ یہی نعمت یاد کرتھ وَاتَّقُوا اللَّهَ کھوژو اللہ تعالیٰ  
اس تمسبدین احکامن ہنزمہ کمر و مخالفت۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ خدایہ سی پیٹھ بیہ نہ کانہہ  
پیٹھ پڑہ اعتماد کرن بالیمان ہمیشہ وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ پزپاٹ اللہ تعالیٰ ان  
کرہ تاؤ بنی اسرائیل عہد حضرت موسیٰ سدہ خیلرہ۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا بیہ کر اسہ  
تمبو آندرہ باہ (۱۲) سردار تہند نمایندہ مقرر وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ یو جھوس تو  
ہم سیت پرتھ وقتہ تہند سوزوی حال و چھان لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ  
بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمْ أَوْلِيَاءَكُمْ سُو عمد اوس ایزہ کہ ہر گاہ تہہ نماز برپا تھا و بیہ زکوٰۃ ادا کر بیہ رود و پڑھ  
کر ان میانین سارنی پیٹھ برن بیہ کمر و تمن مدد تہندین دشمن سیت مقابلہ کرتھ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا  
حَسَنًا بیہ کمر و زکوٰۃ علاوہ خیر چن کا مین آندر تمن مال خرچ بیٹھ اللہ تعالیٰ جھو قرض فرماوان قرضہ  
رُت رتہ مالہ آندرہ دس پیٹھ بوربہ نہ وراں۔ بیٹھ او قرض ناو تھا و نہ امی مو کہ کہ بیٹھ پاٹ قرض ادا کیگی

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۲﴾ فَبِمَا نَقُضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۗ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۗ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْبِحْسِنِينَ ﴿۱۳﴾

پچھ لازمی آسان۔ تھے پاٹھ کرہ اللہ تعالیٰ امیک عوض تہ بدلہ عطا لاکفران عنکم سببکم البتہ ضرور کرہ یو بخشایش تہندین گوئمن ولأذجلکم جئت تجری من تحتہا الأنہار بیہ واتاودہ وو بوئمن جئمن اندر تمو منز جو یہ پکان پچھ فممن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سوا السبیل پس نئس امہ عمدہ پتہ تہ گھر کرہ کئس ہز پاپ سؤ ڈول سیزہ وتہ نشہ سیٹھاہ دور۔ فبما نقضہم میثاقہم لعنہم وجعلنا قلوبہم قسیۃ لیکن بنی اسرا نیلو پچھ وو سوعہند۔ تمی سبہ گے تم گر فزار رنگار رنگ مفسبتن بیہ سید مہربانیو نشہ محروم رحمت والظافو نشہ دور۔ تمی لعنتک اثر اوس کہ تہندہ دل کرا امہ سیٹھاہ سخت۔ پڑن گھن ہند اوس نہ تمین کا نہہ آخر سپدان یحرفون الکلم عن مواضعہ چنانچہ تہندہ عالم آس بد لاوان تورا تہ کین کلمات تہ عبار نئس پنے جلیہ نشہ ونسوا حظا ممنا ذکروا بہ بیہ مشروہ تمو اکوہ یو ڈھتہ تمو نصحتو اندرہ سمہ تمین گرنہ آسہ یوان تمین منز تہندہ خیطرہ فلاح دارین اوس ولاتزال تطلیع علی خائنة منهم الا قلیلا منهم ونہ پھونہ تمین ہین۔ چنانچہ توہرہ روزہ تہندین خیانتن تہ بد نیتن ہند ہمیشہ اطلاع سپدان۔ مگر نہ تمو اندرہ کم کئشیرن لوکن ہند سیم مشرف بہ اسلام سپد تمو اندرہ فاعف عنہم واصفح ان الله یحب البحسین پس سحر وجہہ تمین معاف بیہ درگزر۔ پزپاٹ اللہ تعالیٰ پھو دوست تھاوان احسان کرہ ونین بدن و من الذین قالوا اننا نصری اخذنا ميثاقهم

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ  
فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ  
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ وَسَوْفَ  
يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۳﴾ يَا أَهْلَ  
الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا  
مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ  
كَثِيرٍ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ

پہنہ نس وینس نصرت کرہ ون) تمن نغیرتہ رث اسہ ایمان و عمل کرنس پیٹھ عمد۔ فَسَوَّأَحْطَاءِمْنَا  
ذُكِّرُوا بِهِ جس مشر و تمویہ اکھ یوڈ حصہ تموی نصحتو اندرہ سم تمین کرنہ اسہ یوان تمین منز تمہندہ  
خیطرہ فلاح دارین اوس فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جس  
تیز نور اسہ تمن منز بغض و عداوتک نار قیاس تام۔ کیا زہ تمن منز تہ سپد ترہ ۳ فرقہ۔ اکھ نسطوریہ۔ یم  
حضرت عیسی اس ہجھ خدایہ سندیو مانان۔ بیاکھ یعقوبیہ یم حضرت عیسی اس ہجھ خدایمانان تریم مکانیہ یم  
حضرت عیسی اس ہجھ تریو اندرو اکھ خدایمانان امانی ہجھوپانہ وان سخت اختلاف وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ  
اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ آئندہ کرہ اللہ تعالیٰ خبر تمن عمہ سارچی یہ تم کران آس، تو پتہ  
کر یکہ گر فار عذاب آخر جس اندر یَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا اکی اہل کتابلا یہود و تہ  
نصارا و ہز پات آو تو بہ کن سون پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا  
كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ یہندہ علیک شان چھو کہ تم ہجھ وارہ نر او ان تو بہ واریاہ تھہ تموی کھو  
آندرہ سمہ تو بہ کھٹھ تھوان ہجھہ تورات و انجیلہ منزہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ یہ ہجھہ تو بہ وار سہن  
کھن در نڈر کران قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تھنن ووت تو بہ کن خدایہ

مُبِينٌ ۱۵ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ  
 سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  
 بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۱۶ لَقَدْ  
 كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ  
 قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ  
 الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا  
 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ

سیدہ طرفہ ہدایتک یوڈونوریہ روشن تہ صاف بتاباہہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ  
 سُبُلَ السَّلَامِ وَتھ چھو ہاوان تمی سیت اللہ تعالیٰ تم لوکن تم طالب چھ تہندہ رضا مندی ہند،  
 سلامتی ہزن و تن کن وَیُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ تمنی کڈان کھر چو تہ نافرمانیو  
 ہنز، وگھو آندرہ ایمانہ کس تہ فرمانبرداری ہندس گاش کن وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ہہ  
 چھکھ ہاوان سو و تھ یوسہ و تھ سیز چھ تھ پیٹھ چھو کھ تھوان قاسم تہ محکم لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ  
 قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ بیشک تم لوکھ چھ کافر سمو وون خدا چھو عین مسیح، مریم  
 سندنچو قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ  
 فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا تہہ ہر ڈھوتہ تم ہر گاہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم حضرت عیسیٰ اس، ہہ  
 تہنزہ ماجہ، ہہ تم زمیں پیٹھ آباد چھ تم سارنی گالں یرہہ۔ کھ کہہ اکھاہ ہیکہ کھہ چیزس خدا کس نشہ  
 مالک لاکھ تہ تم چھاو تھ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا خدایہ سزی پادشاہت  
 چھہ آمان تہ زمین آندر، ہہ ہہ تم ڈون منزاگ چھو تھ آندر یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُو چھو پیہ  
 کران ہہ یرھان چھو وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُو چھو پریتھ چیزس پیٹھ ڈرتہ

مَا يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۷﴾  
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ  
 وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
 بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿۱۸﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا  
 يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَنَّ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ

دول۔ تم بڑھ آسمان وزمین بے مادہ پیدہ کرن تی کرن۔ تم بڑھ حضرت آدم بے پدر مادہ پیدہ کرن  
 تی کرن۔ تم بڑھ حضرت حوا بے مادر پیدہ کرن تی کرن۔ تم بڑھ حضرت عیسیٰ بے پدر پیدہ کرن  
 تی کرن وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ یہود و نصاریٰ  
 چھہ دعویٰ کران کہ اس چھہ خدایہ سُنْدُ پُوہیہ تہہ دُوست تہہ محبوب یعنی اولادان تہہ محبوبن ہند پانچ چھہ  
 اسِ مقبول۔ چھہ فرمایو کہ اُدہ کیا زہ کرہ سو توہہ تہہز و نافرمانیو سبہ عذائس گرفتار آخرتس اندر۔ توہہ  
 چھہ نہ کہ نہ خصوصیت بین او کن ہندہ خوتہ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ بلکہ چھوہ توہہ تہہ تموے عام لو کو  
 اندرہ تم پیدہ کر یَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ کس یشہ کس کرہ مغفرت کس یشہ کس کرہ  
 عذاب۔ آسانی کتابن اندر چھو ثابت کہ مغفرت نہ کس کس پامیان آسہ۔ کافرن تہہ مشرکن ہندہ خیطرہ  
 چھو عذاب ابدی مقرر کرنہ امت وَيَلِلَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ یہ  
 چھہ آسمانن تہہ زمین ہنز پادشہت یہ یہ کنیوہاہ تمن در میان چھو تمہ سارچی پادشہت خدایہ سزے  
 یا تہہ یہ چھو سارنی کس کن پتولا کہ وائس۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ  
 الرَّسُلِ اکی اہل کتاب پز پاپٹ او توہہ کن سون پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم توہہ شریعت  
 احکام ن پانچ یا کران چھہ تمی وقتہ کہ پیغمبرن ہندین اوس واریاہہ کالہ پٹھہ ہند سہمت اَن تَقُولُوا مَا  
 جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ یہ پیغمبر برحق او توہہ کن سوزنہ، سٹھنہ توہہ و تھہ کیکو قیامتک ددہ کہ آسہ

وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ (١٩) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۚ (٢٠) يُقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ

نصیہ آونہ کانہ خوش خبرونہ وناہ یانیم کرہ ونہ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ پس پزپاٹھ آوتوہہ کن بشارت فرماوہ ون تہ بیم کرہ ون تہ۔ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ چھو پرستھ چیزس پیٹھ قدرتہ وول منزہ کہنیہ کالہ پیغمبرن ہند سلسلہ بند کرنس پیٹھ تہ، توپتہ بیہ پیغمبر سوزنس پیٹھ تہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بیہ چھو سؤوقت تہ قابل ذکریلہ حضرت موسیٰ پیغمبرن فرمووینہ نس قومس ای میانہ قومہ ژتیس پاووتیمہ نعمہ، سیمہ اللہ تعالیٰ ان توہہ عطا کرہہ لِذَجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءً اکھ نعمت گتہ کہہ توہہ منزہ بناون واریاہ پیغمبر مثل حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ، بیہ حضرت ہارون علیہما السلام وغیرہ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا بیہ بناونوہ نوبہ پادشاہ۔ چنانچہ فرعونہ سندس ملکش پیٹھ کورودہ توہہ قبضہ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ بیہ گمرہ نوہ توہہ تمہ تمہ نعمہ عطا سمنہ کانہہ کرین عطا عالیو آندرہ۔ دریاو منزہ وژن توہہ و تھ۔ تہہ تار نوہ اپور، ٹھند دشمن فرعون تمہ ہمز لشکر کرن غرق تھہ دریاوس منزہ يُقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ای میانہ قومہ سمن نعمن تہ احسان شوہہ قدر کرن۔ خدا یہ سندس جہادہ کس تعمیل کرنہ سیت، آژوشاکس ملکش اندرئیس ٹھندہ حکمرانی خیطرہ اللہ تعالیٰ ان مقرر گورمت چٹھہ کرو اتھ اندر آژتھہ عمالقن سیت جماد۔ یہ ملک چھو ٹھندہ خیطرہ اللہ تعالیٰ ان مقرر گورمت لہذا سپدہ توہہ اتھ منز اثرہ ونوی فتح حاصل وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ٹھندہ ہوت پھیرو، دشمن سیت مقابلہ کرنہ نصیہ وانکس ایو

فَتَقَلَّبُواْ خِسْرِيْنَ ۝۲۱ قَالَ اَيُّوَسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبّٰرِيْنَ ۝۲۲  
 وَاِنَّا لَنُ نَّدِىْ خُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۝۲۳ فَاِن يَخْرُجُوْا مِنْهَا  
 فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ۝۲۴ قَالَ رَجُلِيْنَ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ  
 اللّٰهُ عَلَيْهِمَا اَدْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۝۲۵ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَانْكَبُوْا  
 عَلَبُوْنَ ۝۲۶ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۲۷  
 قَالَ اَيُّوَسٰى اِنَّا لَنُ نَّدِىْ خُلَهَا اَبَدًا اَمَّا دٰمُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ  
 اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُنَا قٰعِدُوْنَ ۝۲۸ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ

سُوپوت پھرن تھند آسہ تھندہ حقہ سیٹھاہ نقضاک باعث قالو ایوسی ان فیہا قومًا جبارین دینہ  
 لگ ای موسیٰ اتھ ملکس اندرچھہ زبردست لوکھ روزان۔ اس بیجوتہ تمن سیت مقابلہ کرت وانا  
 لن ندخلها حتى يخرجوا منها اس اژونہ ہرگز اتھ ملکس اندر یوتان نہ تم امہ ملکہ منزہ نیرن  
 فان يخرجوا منها فانا داخلون کس ہرگاہ تم نیرن امہ ملکہ منزہ تل اژواں ضرور قال رجلین  
 من الذین یخافون انعم اللہ علیہما امہ ساتہ وچھہ مردجورہ تمن یوشع تہ کالب ناؤاوس، خدا بس  
 کھوڑہ ونیو اندرہ۔ تمن پیٹھ اللہ تعالیٰ ان پن مہر بانی کر مژ آس۔ تمود وپیک کی بنی اسرا ایلو اَدْخُلُوا  
 عَلَیْهِمُ الْبَابَ وَتھوا اژونہ امہ شہر کس دروازس تام فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَانْكَبُوْا عَلَبُوْنَ تہہ یلہ دروازس  
 تل و اتونہ سپدو ضرور تمن پیٹھ غالب وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ بیہ کرد خدا یہ سی  
 پیٹھ توکل جھوے با ایمان دشمن ہندس بے ایمان آسئس پیٹھ مہہ کرو نظر۔ مگر تمن پیٹھ سپدہ نہ تہزہ فہما  
 بیہ ہند کانہ اٹ۔ بلکہ کورنہ تمبو تمن دون شخص ہنزہ فہما بیہ کن کانہ توجتہ۔ تہزہ تھہ وچھہ نہ جو ابے  
 قالو ایوسی انا لن ندخلها ابدًا امّا داموا فیہا فاذهب انت و ربک فقاتلا انا ہنا قاعدون تم  
 لگ توتہ وندہ ای موسیٰ اس نہ حض اژونہ ہرگز اتھ شہر س منز یوتان ایک لوکھ جبارین اتھ منز



لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ  
 الْفَاسِقِينَ ﴿۱۵﴾ قَالَ فَإِنَّا مُحْرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً  
 يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۶﴾  
 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ  
 مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ  
 إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۷﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَىٰ يَدِكَ

روژن۔ ہر گاہ و آن تمن سیت جنگ کرن چھوطلہ گدھو تہہ نہ ٹھند پروردگار۔ ٹھی زہ کرو تمن سیت جنگ  
 سون طانت چھونہ اس بہوویہ نی۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي حضرت موسیٰ ان  
 کور دُعا پروردگار امیہ چھونہ اختیار مگر پنہ نی پانس پیٹھ۔ بیہ پنہ نس ہانس حضرت ہارونس پیٹھ  
 فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ کس مناسب فیصلہ کرژہ اسہ منزبیہ اتھ نافرمان قومس منز  
 قَالَ فَإِنَّا مُحْرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ  
 اللہ تعالیٰ ان فرمووہس چھو میون فیصلہ بہوی کہ بیہ ملک روزہ ژنجن درین تام تمن پیٹھ حرام۔ ہم یکن  
 نہ اتھ پیٹھ تسلط حاصل کر تھ۔ ہم روزن اتھ میدانس منز حیران۔ اسہ طرفہ یوان بیہ طرفہ گدھان۔  
 اتھ و تھانہ یوان ہنہ طرفس کن۔ لہذا نہ کھوی تہہ امہ نافرمان قومک کانہ غمی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي  
 آدَمَ بِالْحَقِّ ای پیغمبر برحق بیہ پیر و حض تمن لوکن پانس پیٹھ تہہ حضرت آدمہ سندین دون پچوین ہائیل  
 نہ قابیلہ سُد قصہ۔ ہنز پاٹ پیٹھ تمن نیک لوکن کن پانس نسبت کرہ تک غرورہ پیغمبر زرا تہہ إِذْ قَرَّبَا  
 قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ بلہ تمبو دو شوی قربان کور خدایہ سدہ خیطرہ کس او  
 قبول کرنہ اسندی قربان ہانس ہائیل ناواوس۔ سواوس قبولتیس لایق۔ بے سُد قربان ہانس ناواوس قابیل  
 آوند قبول کرنہ کیا زہ سواوس نہ تھہ لایق۔ بیہ اوس ہائیل ہنز س پیٹھ۔ قابیلہ سُد دعویٰ اوس غلط۔  
 قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قابیلن ڈوپ ہائیس ہوما تھ ژہ ضرور قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ہم دو

لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ  
 اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۸﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ  
 إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۲۹﴾  
 فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ ﴿۳۰﴾  
 فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي  
 سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُورِيكُمَا مَا كُنْتُمَا تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾

پس۔ میوں تصور چھوٹے کیہ تیرے۔ قبول چھوٹے یوان کرنے مگر پرہیز گار نبی ہند نیاز لیکن بسطتک الیٰ  
 یدک لتقتلنی ہر گاہ تہ اتھ زٹھر اوکھ میہ کن میہ مارنہ خیطرہ ماآنا بسطی یدی الیک لاقتلک  
 یو ہرگز نہیں اتھ زٹھر اونہ تیرہ کن تیرہ مارنہ خیطرہ۔ تیرہ سیمہ موکھ کہ یو کیاہ پو شے نہ تیرہ چانہ کھوتہ  
 چھوٹہ طاقت زیادہ مگر اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ محض سیمہ موکھ کہ یو چھوس کھو شان خدا پس  
 پس ساری جمانک پروردگار چھو اِنِّيْ اُرِيدُ اَنْ تَبُوءَ اِيْثْمِيْ وَ اِيْثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ  
 وَ ذٰلِكَ جَزَاؤُ الظّٰلِمِيْنَ میوں ارادہ چھو تہ گدھکھ گدھن میانہ تنگ گناہ ہتھ تیرے۔ پندہ نافرمانی ہند گناہ  
 ہتھ تیرے تاکہ بچھ تہ پوختہ پاتھہ نار جھنمس معزواتن والیو آندرہ۔ تی چھوسز اطاملن ہند فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهُ  
 قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهُ پس اجازت دیت تمس نفس پین یوی مارنک پس موزن سو فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِيْنَ  
 توپتہ سپد سو تاوان زدو آندرہ۔ توپتہ سپد حیران کہ یو کیاہ کہہ باہی سندس لاش فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَثُ  
 فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ اَخِيْهِ اده سوز اللہ تعالیٰ ان کاواہ اکھ تم تونہ سیت تہ پنجو سیت  
 زمین ہیوت کھن۔ توپتہ کھنن دو بہ ہنا توپتہ اوئن بیاکھ مردہ کاواہ سوتروون اتھ دو بس منز۔ پیٹھ  
 تراونس میو۔ امی موکھ ہتھ ہا وہ اللہ تعالیٰ اس قاتلس کہ ہتھ پاتھ دو براوہ سو باہی سندس لاش تہ  
 بدس۔ چنانچہ قاتیلن یلہ وچہ کاوہ سندیہ حال دہنہ لوگ قَالَ يُورِيكُمَا مَا كُنْتُمَا تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾  
 الْغُرَابِ فَأُوْرِي سَوْءَةَ اَخِيْ يِلہ کاوہ سندیہ حال وچھون دہن افسوس چھو میانہ خیطرہ، کیاہ بو چھوسہ

الْغُرَابِ فَأَوَارَى سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ الشُّدَمِيِّينَ ۗ<sup>٣١</sup>  
 مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ  
 قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
 النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ  
 ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسُوفُونَ ۗ<sup>٣٢</sup> إِنَّهَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ  
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا ۗ

عاجزِ تمسِ کاوسِ ہیوہنہ نشیرتہ۔ آمدندی پاٹھ تھوون بائی سندیان دوبراوتھہ فاصبحہ من الشدیمیئین  
 اُمتہ پتہ یلہ دوبراون تہ سپندانوم تہ پشیمان کیا زہ وری اوسس گومت ڈاک، بائی سند لاش تہ بدن لہ وان، اورہ  
 یور پھروان، یہ اوسس نہ فخرہ اندریوان تمس کیاہ کرہ بو من اجل ذلک کتبتنا علی بنی اسرائیل انہ  
 من قتل نفسا بغير نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً اتھ کن نظر کتر تھ کہ خون  
 ناحق کتر تھ کیاہ چھوپانہ قاتل نادوم تہ پشیمان سپدان، لیو کہ اسہ یہ حکم ساری انسان ہندہ خیطرہ عموماً تہ بنی  
 اسرائیلن ہندہ خیطرہ خصوصاً کہ پزپاٹ سم شخصن مورکانہ شخصہ ناحق۔ در حالیتجہ تم اوس نہ  
 مورمت کانہ شخصہ نہ اوسن زمینس منز کانہ فتنہ وفساد بر پار کورمت زن تم ماساری لو کہ ومن  
 احیاءا فکانما احیاء الناس جمیعاً یہ تم بچو وکانہ شخصہ مارہ گروہنہ نشیرتہ زن تم بچاوساری لو کہ۔  
 ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات پزپاٹ آئی تمن نشیرتہ یعنی بنی اسرائیلن نشیرتہ امہ حکمہ پتہ سان پیغمبر  
 نہ دلیلہ ہتہ۔ یہ اتھ حکمس تائید کران ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسُوفُونَ توپتہ  
 تہ چھ بے شمار لو کہ تمبو اندرہ توپتہ زمینس اندر زیادتی کران تمن سپنہ کانہ اثر بلکہ کتر تمبو شہید بعضے  
 پیغمبرتہ۔ إِنَّهَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا کانہ سزا چھونہ  
 تمن لو کن ہند تم جنگ کرن خدا پس تہ تھندس پیغمبرس سیت تھ پاٹھ کہ کوشش کرن زمینس اندر بد

يُصَلُّوْا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ  
يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۗ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ  
لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣١﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا  
مِّن قَبْلِ أَن تُقَدَّرُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿٣٢﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا

امنی تہ فساد پھیلاؤ۔ مگر شوہر تمہیں یہودی سزا کہ  
وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ تم گڑھن مارنہ بین شمشیرہ سپت اگر تمہو کا نہہ  
شخصہہ مورمت آسہ یا گڑھن پھہہہ دن ہر گاہ تمہو کا نہہ مورمت آسہ بیہ آسہ کہ مال تہ نیومت۔ نہہ گڑھنک  
اتھ کھورژن اوڑک یورکرتھہ۔ ڈھنٹھن آٹھس سیت کھو فرزندگ۔ ہر گاہ تمہو مالی نیوت نیومت آسہ  
مورمت آسہ کہ نہہ نہہ گڑھن ملک بدر کرن ملکہ منزہ کڈن۔ ہر گاہ تمہو مورمت آسہ نہہ نہہ نہہ  
آسہ کہ مال نیومت صرف آسہ کہ تمہوک قصد و ارادے کورمت ذلک لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا یہ  
گیہہ تہندہ خیطرہ ہڈر سوائی دنیا س آندر و لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ بیہ چھو تہندہ خیطرہ  
آخرتس آندر عذابہہ سیٹھہہ یوڈ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِّن قَبْلِ أَن تُقَدَّرُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مگر نہہ تمہن لوکن تمہو توبہ کور تہندہ تمہن پیٹھہ غالب سپد نہہ بروٹھہہ۔ جس زانو اللہ  
تعالی چھو سیٹھہہ مغفرت کرہہ ون سیٹھہہ رحم کرہہ ون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا  
إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ائی ہایمانو کھو ژو خدا ایس تہندہہن حکمن مخالفت کرنہ نشہہہ یعنی گنہو نشہہہ روز و پٹھہہ۔  
بیہ ژھانڈو تہندہہہ قرب تہ نزدیکی تسنز فرمانبرداری کرنہ سیت یا ژھانڈو تم اسباب تہ ذرائع سموسیت  
تہنز نزدیکی تہ قرب حاصل سپدہہ۔ ساروی ذریعو کھو تہہ گو بوڈر لیہہ پیٹھہہ خدلیہہ سنز پیروی کرن و تہا  
اِنَّكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَاْمَا نَهُمْ عَنْهُ فَاتَّبِعُوْهُ اس پیٹھہہ پور عمل کرن۔ یوے چھو یوڈوسیلہہ قرب خدا  
حاصل سپد نک۔ چنانچہ اللہ تعالی چھو فرمان آسہ پتہہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَأَنَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۶﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخُرُجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۱۷﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

بہ کمر و تہنزه و تہ اندر جہاد۔ بہ نرس راہ عمل تہندہ خپترہ تم مقرر کور۔ تہ منز کمر و پوز جہد و جہد تہ تہ رستگار نہ کامیاب ہدو۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوا وَالْوَأَنَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ پز پاپ۔ سو کمر تہ انکار کور ہر گاہ تہندس قفس منزیہ سو سو روی مال و دولت نرس زوی زمینس منز چھو ظاہر تہ پوشیدہ بہ تیوت تہ سیت تو پتہ دن سوی تیوت مال فد بہ قیامتہ عذابہ نغہ چنہ خپترہ سو قبول ای کھ نہ کرنہ بلکہ چھو تہندہ خپترہ ہڈر عذاب مقرر کرنہ آمت يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَاهُمْ بِخُرُجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ کوتاہہ یڑھن تم تہ تہ نارہ منزہ ہڈنہ پاپ نیر ان مگر نیر تہہ ممکن نہ ہڈنہ صورتس منز۔ تہندہ خپترہ چھو عذاب دانسی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بہ نرس مرد ڈورہ کرہ یا بسہ زنانه ڈورہ کرہ تہن ڈورہ چھن اتہہ ہڈہ پٹہ۔ بہ چھو تہندہ ڈور کر تک سز اخذ لیہ سندہ طرفہ۔ اللہ تعالیٰ چھو عزتہ و ول تہ قوتہ و ول۔ نرس سز اسو ہڈہ سو کرہ مقرر۔ سو چھو سیٹھا حکمتہ و ول۔ سو چھو مناسب سز مقرر کر ان۔ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ اِدہ نرس اکھاہ توبہ کرہ پنہ قصورہ پتہ۔ بہ سنجالہ پن حال،

حَکِیْمٌ ﴿۳۹﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ  
 يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۴۰﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ  
 مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ  
 يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴۱﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا  
 يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا  
 آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ  
 هَادُوا وَاسْتَمِعُوا لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ

آئیندہ روزہ زور کرنے نعرہ پتھ جس اللہ تعالیٰ کرہ تہند توبہ قبول إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ بیشک اللہ تعالیٰ  
 چھو سیٹھا مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثیہ  
 پتھے ناخبر اکی مخاطب کہ نیز پاٹ اللہ تعالیٰ سزی یاد شہادت تہ حکومت چھہ آسمان آندر تہ زمین آندر۔  
 يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ لیس خوش کر لیس تس کرہ عذاب تس دیہ سزا۔ لیس خوش  
 کر لیس تس کرہ مغفرت تس دیہ معافی وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ چھو پر پتھ چیز س پیٹھ  
 قُدرتہ وول يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ای بدہ پیغمبرہ مہز سکر ن  
 آزرده توبہ تم لوک تم دور ان چھہ کھر س کن۔ یعنی تم بے تکلف کھر چہ کامہ کر ان چھہ مِن الَّذِينَ  
 قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ آندرہ تم چانیو سیت ونان چھہ آسہ اُون ایمان مگر ایمان  
 چھونہ اُونمت تہند یو دلو یعنی تم چھہ منافق۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا بیہ بہود و آندرہ سَمْعُونَ  
 لِلْكَذِبِ تم چھہ اپنرونہ خیطرہ تہنزن تھن زورہ کن ووان سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَا تُوَكَّ  
 تم زورہ کن ووان چھہ تھہ تھن تھن لوگ نعرہ واتاؤن ایم نہ پانہ توبہ نعرہ وات یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ  
 بَعْدِ مَوَاضِعِهِ تم چھہ توراتہ کین مگن پتہ جلیہ پٹھ آتھہ تمہ جلیہ نعرہ ڈالان۔ بیہ تمن کلمات ہند غلط

يَا تُوكُّ طِيْحَرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ أَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ  
 إِنْ أُوْتِيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا  
 وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ أَلِيهِ شَيْءٌ  
 وَأُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ  
 فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۳۱﴾  
 سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِلْحَرِّ طِقَانُ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ

معنی یہ مطلب بیان کران تحریف لفظی و معنوی کران۔ يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ تو پتہ  
 جماعت اس نبی کریم سے فرماتے تھے۔ تم ہر گاہ وہاں کہ ہر گاہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ اسے بیان کرنا  
 کرنا قبول و ان لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ہر گاہ تمہاری بیگانہ نہ ہو کہ تمہارے فرمودے سے رو رو ہر گاہ  
 سے مکر و قبول و مَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ کس شخص سے خیر ہر گاہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دے کہ اسے آزمائش  
 اندری روزن کفر و گمراہی اندر فَلَئِنْ تَمْلِكْ لَهُ مِنْ أَلِيهِ شَيْءًا تَهْتِكُ بِهِ لَعْنَةُ اللهِ خیر ہر گاہ اللہ تعالیٰ  
 اس سے کہہ نہ حاصل کرے۔ یعنی تم لوگوں ہر گاہ شقاوت آتے در جس و اثر سے کہ تم اس ہدایت بند  
 سے محروم تہندہ خیر ہر گاہ سے پدین تہندہ دل مبارک آزرده سے نمائین اُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ  
 يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ تم گئے یہندہ خیر ہر گاہ اللہ تعالیٰ ان یوشہمت چھو کہ تہندہ دل بجا گزشتہ پاک سپان  
 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ تہندی خیر ہر گاہ دنیاس اندر بڈ  
 خوری۔ یہ چھو تہندی خیر ہر گاہ آخرتس اندر بڈ عذاب سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِلْحَرِّ تم  
 لو کہ چھو ایزہ خیر ہر گاہ تہن زورہ کن دودہ ون۔ سخت حرام کھیوہ ون فَإِنْ جَاءُوكَ پس ہر گاہ تم  
 توبہ نش من حکم پر زہنہ خیر ہر گاہ فیصلہ کرناوند خیر ہر گاہ فَاكْفُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ پس چھو توبہ  
 اختیار خوش کردہ فرماؤ کہ حکم، خوش کرہ کینہہ مہ فرماؤ کہ انکار کریو کہ فیصلہ فرماوند نشہر وَإِنْ  
 تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصْرِوْكَ شَيْءًا ہر گاہ کینہہ فرماؤ کہ نہ ادہ تہہ مہ بتر و کانہہ پروا۔ توبہ تہن نہ تم

بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضُ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرَضُ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُوا  
 شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُقْسِطِينَ ﴿۳۲﴾ وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا  
 حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ  
 بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۳﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ  
 يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا

كانه ضرورتاً و تھ کمازہ اللہ تعالیٰ چھو توبہ نگہبان تہ راجھہ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ہر  
 گاہ حکم فرمایا کہ تہ فیصلہ دیو کہ تلہ گوہیچھ بعدل و انصاف حکم فرماون۔ اسلامکہ قانونہ مطابق إِنَّ اللَّهَ  
 يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ پڑ پاٹ اللہ تعالیٰ چھو پسند کران تہ ٹوٹھ تھاوان عدل و انصاف کرہ و نین۔  
 وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ تجب چھو سم تھ پاٹھ چھہ دینہ کین معاملات  
 اندر توبہ پٹن فاصلہ بناوان حالانکہ تمن نشہ چھو تورات موجود۔ تھ منز چھواتھ متعلق خدایہ سند  
 حکم تہ موجود تویتہ توبہ نشہ تھ، توبہ نشہ تہ سومی حکم لوز تھ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا  
 أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ تویتہ تہ بھہ تم تمہ حکمہ نشہ بھہ پھر ان۔ حقیقت چھہ کہ تمن چھہ تمہ  
 تورات تہ کینہہ پڑھاہ۔ بلکہ چھہ تمن کئی چیز پڑھ۔ نہ تورات تہ نہ چھہہ فصیح۔ حالانکہ إِنَّا أَنْزَلْنَا  
 التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ہر پاٹ اسہ تور تورات نازل حضرت موسیٰ اس پیٹھ تھ منز لوز  
 ہدایت چھو صحیح عقائدین ہند تہ لوز گاش تہ ن وضاحت چھہ اعمال ہنز۔ یَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ  
 أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا امی تورات تہ موجب چھہ بنی اسرائیل ہد تم پیغمبر سیمو خدایہ سند س  
 گردن دار یهودن حکم بیان کران وَالرَّبِّيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ بیہ چھہ امی موجب حکم بیان کران یہودن  
 ہند علماء تہ متخاص تہ۔ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً کیا زہ تمن چھہ امہ



وَالرَّبُّنِيُّونَ وَالْأَجْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ  
 اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ  
 اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا  
 أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿۳۳﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ  
 فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ

کتابہ ہنزراچھہ تہ حفاظت گرن۔ امہ کتابہ موجب پانہ عمل کرن بہ لوک تہ عمل کرہ ناون، منہ امر  
 کرنہ۔ بیہ آس تم امہ کتابہ ہند گواہ تہ اقرار کرہ ون فلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ نَس اکی بہو دوہ پوج  
 پیروی کرنس اندر یعنی حضرت محمدہ سندس رسالتس تصدیق کرنس اندر مہ کھو ژو لو کن۔ کھو ژون شو بہ  
 مے۔ کیا زہ بو چھو س چھند پروردگار۔ تصدیق رسالت محمدیہ نہ کرنس پیٹھہ کرووہ بو سخت عذاب ولا  
 تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا بیہ مہ آسید کہ سان آیات کنان دنیا حاصل کرنہ خیطرہ کم مؤلس نیس توہہ  
 لو کن نسیہ حاصل سپدان چھو۔ یوی چھو توہہ باعث بنان تصدیق نہ کرہ تک۔ توہہ چھو اندیشہ ہر گاہ  
 امہ تصدیق کور تلہ ماگہ بیہ آمدنی ہند وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ  
 بیہ تھاووہ تھہ وارہ یاد کہ نیس اکھاہ نہ خداہ سزہ نازل کر موہ کتابہ موجب حکم دیہ تم ساری چھہ کافر یعنی  
 سمو پڑس انکار کور تھہ پاٹھہ جہہ کران چھو۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا بیہ اوس امہ تمن بہو ڈان ہندہ  
 خیطرہ تورانس اندر بیہ حکم لیو کھمت تمن پیٹھہ فرض کور مت کہ ہر گاہ کانہہ شخصہہ کانسہ مارہ عمد اے گنہ یا  
 زخمی کرہ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ  
 بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ پڑپاک اکھہ شخص یعنی (قاتل) ایہ مارنہ پس شخصس یعنی مقتولس  
 بدل۔ اچھہ بیہ کڈنہ اچھہ بدل، نس بیہ ژنہ لستہ بدل گن بیہ ژنہ کنہ بدل، ڈند بیہ کڈنہ ڈندہ بدل۔ تھہ  
 پاٹھہ بیہ زخمن قصاص ہینہ۔ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارًا لَّهُ پس نیس شخص بدلہ ہیون معاف

قِصَاصٌ ط فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ط وَمَنْ  
 لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۵﴾  
 وَقَفِينَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ  
 يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ  
 مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ  
 لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۶﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ط وَمَنْ  
 لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۳۷﴾ وَأَنْزَلْنَا

گرہ تمس سپدہ سونگھن ہنزہ بخشایشہ ہند سبب یعنی معاف کرنس چھو بوڈ تو اب وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا  
 أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ چونکہ یہود و اوس یہ حکم تہ پس پُشت تر و مت لہذا چھو اللہ  
 تعالیٰ یہ مکرر فرماوان کہ یہ سمنہ فیصلہ کرن تمہ حکمہ سیت نئس اللہ تعالیٰ ان نازل کور نئس تجے گئے ظالم  
 وَقَفِينَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ بیہ سوزاسہ تمن  
 پیغمبرن پتے حضرت عیسیٰ فرزند حضرت مریم سُنڈ نئس تصدیق کرہ ون اوس تھہ کتابہ یوسہ تمن برو تھہ  
 نازل کرنہ آمز اس یعنی تورا س۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  
 التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ بیہ کراسہ عطا حضرت عیسیٰ اس پن کتاب انجیل تھہ  
 منز تہ چھو تورا تہ کی پاٹھ صحیح اعتقادن ہند لوکن ہندہ خیطرہ بوڈ ہدایت بیہ کافی روشنی تہ وضاحت  
 اعمالن متعلق۔ بیہ چھو سونجیل تہ تصدیق کران تھہ کتابہ یوسہ تمہ برو تھہ نازل کرنہ چھہ آمز یعنی  
 تورا س بیہ چھہ سونجتاب و تھہ ہا و ون۔ بیہ بد نصیحت خدا نئس کھو ژہ ونین ہندہ خیطرہ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ  
 الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ بیہ اوس اسہ حکم کور مت فیصلہ کرن انجیلہ وال تموے احکامو سیت تم  
 اللہ تعالیٰ ان تھہ منز نازل کور مت چھہ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سمنہ

إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ  
 وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْهُ  
 أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً  
 وَمِنْهَا جَاوِلُونَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ  
 فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ

وہنگ نصاریٰ یوزن و ارہہ تم نہ فیصلہ کرتے کہ تمہرے حق سے اللہ تعالیٰ ان نازل کورہیں تمہے لوک گے  
 فاسق۔ انجیل منہجہ حضرت محمد عربی سیدہ رسالت خیرتہہ چھوہ تھے خلاف کران وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ  
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ بیہ کر اسہ تھے پاتھ تورات و  
 انجیل پتہ نازل توبہ کن یار رسول اللہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہزپاٹ لیس تصدیق چھو کران تم کتابین  
 سمہ امہ برونھ نازل آمرہ چھہ کرنے بیہ چھہ یہ کتاب تم کتابین ہنز راہہہ فَاَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ  
 اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لیس فیصلہ کرو تہہ تم اہل کتابین منہجہ حق سے  
 لیس خدا لیں نازل کورمت چھو۔ پیروی مہ کرو تہہ تمز ن خواہش ہنز سو پر کتاب نظر انداز کر تھہ یوسہ  
 توبہ نہہ و اڑ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُونَ توبہ اندرہ پر تھہ امتہ خیطرہ چھو اسہ فروغی  
 مسالین متعلق اکھ شریعتہہ، اکھ دستور العملہ مقرر کورمت، مثلاً یہودن ہندہ خیطرہ تورات نصاریٰ ان  
 ہندہ خیطرہ انجیل مسلمان ہندہ خیطرہ قرآن مجید لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ  
 فِي مَا آتَاكُمْ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یثہہ ہا توبہ ساری بناوا گئی امتہہ، ساری ہند کرہ ہا کوئی شریعتہہ مگر تہہ کورن نہ  
 ای خیطرہ کہ یثہہ تہہ مختلف وقتن اندر مختلف احکامو سیت آزمایش کرہ فَاَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ لیس کرو  
 رضان کاین تہہ مفید تھن اندر اکھ اس نہہہ بروٹھہ گویج کوشش۔ یعنی قرآن مجیدس کرو پشہ تمہہ کین  
 احکامن پیٹھہ کرو عمل إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا خدا یہ سی کن چھو توبہ ساری امہہ وہہہ رجوع کران  
 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ لیس باوہ سو توبہ تمہہ سارے کتھہ تم کتابین منہجہ حق و صداقت ظاہر

بَمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۳۸﴾ وَإِنْ أَحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ  
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿۳۹﴾ أَفَحُكْمَ  
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۴۰﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ

آسحہ باوجود اختلاف کران آسہہ وَإِنْ أَحْكَمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ بے جہہ  
اس توبہ مقرر حکم فرماوان کہ تہہ کرد فیصلہ لوگن اندر تہی حکمہ سیت بس اللہ تعالیٰ ان توبہ پیٹہ نازل کور  
پتہ پتہ مہ پتہ ہمز ن خواہش۔ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ بے کھو ژو تمن  
پور احتیاط کرویتھ نہ تم توبہ خدایہ سندہ احکامو اندرہ عنہ کھس تمیل تہ جاری کرنہ نشہ ڈالن فَان  
تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ قرآن مجیدک فیصلہ واضح تہ روشن آسحہ باوجود  
ہر گاہ تم لوک تہ روگردانی تہ نافرمانی کران روزن تلہ زانو جہہ اللہ تعالیٰ چھو یژھان بعضی گنہن ہندہ  
وجہ مصیبتس گرفتار گرن وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ پڑپاٹ واریاہ جہہ سموکو کو اندرہ نافرمان  
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ یلہ بعضی یہودوون آسہ چھونہ قرآن و توراتک حکم قبول، اللہ تعالیٰ ان  
فرموؤ کہ بیاہ تم یہود چھازمانہ جاہلیتک حکم ژھانڈان بس کافر و آسانی شریعتس خلاف پانے بنوؤمت  
چھو۔ لہذا خدائی فیصلہ تراوتھ بے کانہہ فیصلہ ژھانڈن یہ گنہین عین جہالت وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ  
حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ فیصلہ کرنس اندر کہہ اکھاہ ہیجہ آسحہ یژرت خدایہ سندہ خوتہ یقینہ والین نشہ۔  
لیکن یہ کتھ ہیجہ زان یقینہ والین ایمان دارن۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ  
کی بایمانوا! یہود تہ نصاریٰ مہ بنو یو کہ جن دوست تم دوشوے چھ مسلمان ہند دشمن بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ  
بَعْضٍ تم چھہ پانہ والی اڈاؤین ہند دوست یعنی یہودی یہودی پانہ وان، نصاریٰ نصاریٰ پانہ وان تمن

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ط  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝۱۵ فَتَرَى الَّذِينَ فِي  
 قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ  
 تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ  
 فَيُصِيبُوا عَلَى مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ نُدْمِينَ ۝۱۶ وَيَقُولُ الَّذِينَ  
 آمَنُوا أَهْلَاءُ الَّذِينَ اقْتَسَمُوا يَا اللَّهُ جَهْدَ أَيْمَانِنَا يُنْفِرُوا

جھ پانہ وان مناسبت۔ توہمہ جھنہ تمن سیت کانہ مناسبت۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ نُس  
 اکھاہ دوستی لاگہ تمن سیت توہمہ آندرہ۔ سوپیہ گزراونہ تموی آندرہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
 الظَّالِمِينَ پزپاٹ اللہ تعالیٰ جھونہ کامیابی ہنز و تھ ہاوان ظالمین تمین نہ یہ بوڑن نکان چھو کہ من سیت  
 گزہہ دوستی لاگن کن سیت گزہہ دشمنی تھاوان تم جھہ ہن نقصان پانے کران فَتَرَى الَّذِينَ فِي  
 قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ نُس و چھان جھہک ژہ ای و جھہ ونہ تم لوک بہ ہند من و کن آندر نفاق بیاری جھہ۔  
 يُسَارِعُونَ فِيهِمْ تم تھ پاٹھ جھہ جلدی کران یہود و نصاریٰ ان سیت رنس آندر تو پتے تمن کانہ  
 شخصہہ تھہ پٹھہ ملامت جھو کران يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ دپان جھہ اس جھہہ دلہ کن  
 تمن سیت زلان، بلکہ جھہ اس لہ خاص مصلحتہ کن تمن سیت زلان۔ اس جھہ کھوژان کہ اسہ مالانہ  
 کانہ بلایاہ تمی موک جھہ اس تمن سیت یارز تھاوان لاگھ جھہ تمہ ساتہ کرن تم اسہ کانہ مدتاہ فَعَسَى  
 اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ نُس قریب جھو کہ اللہ تعالیٰ کرہ عطا مسلمان فتح یاکرہ جاری ہنہ  
 طرفہ کانہ لحمہ ہنزہہ کامیابی ہند، منافق ہنزہہ رسوائی ہند فَيُصِيبُوا عَلَى مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ نُدْمِينَ  
 نُس سپن تمہ ساتہ تم منافق تمن تھن پٹھہ سمہ پنہ نین و کن آندر کھٹ تھاوان اس نام نہ پیشیان  
 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَاءُ الَّذِينَ اقْتَسَمُوا يَا اللَّهُ جَهْدَ أَيْمَانِنَا يُنْفِرُوا تمی ساتہ ون بالایمان  
 تجہہ کن کیاہ تمے کئیہ تم لوک کہ تم خدایہ سند سخت قسم ہاواہ اسہ ونان آس زہ اس جھہ توہی سیت۔ خفقس

لَعَلَّكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا خَيْرِينَ ﴿۵۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ  
 يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ  
 يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ  
 فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

اندر آس سائین دشمن سیت رتھ۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا خَيْرِينَ ہمزہ سارے کار سازی  
 سبزہ امہ نفاقہ سیت تباہ تہ بر باد کس سپد تم تاوان زدو اندرہ۔ دوشوی طرف سپد تم تا کام کیا زہ کافر سپد  
 پانہ مغلوب۔ مسلمان سبز ہمزہ خباث معلوم۔ نہ گئے اور ک تمہ نہ گئے یورک يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ  
 يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ اکی با ایمانوس اکھاہ توبہ اندرہ پتہ دینہ نفع یعنی اسلامہ نفعہ نیرہ، مروت سپدہ، سومتہ  
 زان تمسندہ مروت سپدہ سیت ملاوت پزس دینس کا نہ نقصانہ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ  
 وَيُحِبُّونَهُ کیا زہ اسلامی خدمت انجام و نہ خیطرہ کرہ اللہ تعالی پیدہ جلدی لو کو اندرہ تھس جماعتس تم  
 خدائس ناھہ آس۔ تمن تہ آہ خدائوٹھ اذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ سم نرم دل شفیق  
 آس با ایمان پیٹھ سخت زبردست آس کافر فر پیٹھ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جماد کرہ دن آس  
 کافر فر سیت خدایہ سزہ و تہ اندر وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ پزہ چہ جایہ تہ دینہ کس معاملس اندر آس نہ  
 تم کھوڑہ دن کا نہ ملامت کرہ دن سندس ملائس ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ با ایمان سم  
 صفت آس یہ چھو خدایہ سُد فضل۔ تھہ جماعتس خوش کرئس تھہ جماعتس چھو عطا کران وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
 عَلِيمٌ اللہ تعالی چھو پند نس فضلس منز سیٹھاہ وسعتہ وول۔ اگر سوڑھہ سارنی گرہ سم صفت عطا۔ مگر  
 سارنی ہند حال چھو پور زان وول۔ تس چھہ خبر کس چھہ قابلیت کس چھہ نہہ نہہ سم صفت عطا۔ مگر  
 وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اکی با ایمانو چھند دوست چھو اللہ تعالی یہ چھند پیغمبر یہ تم با ایمان الَّذِينَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝۵۵ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ  
رَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝۵۶  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ  
هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۵۷  
إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوا هَاهُنَا وَلَعِبًا ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۝۵۸ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُونَ

یَقِیْمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ سَمَن ہنز طریق چھہ کہہ برپا چھہ تھاوان تم نماز، اول چھہ کران تم زکوٰۃ، در حالیکہ تم چھہ خشوع کرہون خدایہ سی بروٹھہ کنہ نمہ ون وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ بیہ تم لو کہ دوست تھاوان خدائس بیہ تھندس پیغمبرس بیہ بالیمان۔ تم گے خدایہ سد لو کہہ تہ خدایہ سز جماعت پزپاٹ خدایہ سز جماعتی چھہ غالب۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ای بالیمانو تم لو کہہ تم تھندس وینس چھہ ٹھٹھہ کران تہ گندان، بکمال حقارت و چھانئس انکارک علامت چھو تمبولو کوآندہ سَمَن کتاب آیہ ونہ توبہ بروٹھہ یعنی یہود و نصاریٰ بیہ تھٹھہ پاٹھہ کافر تہ مشرک مہ بناو لو کہہ بن دوست وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بیہ کھوٹرو خدائس، یعنی تھمز نا فرمانی کرنس چھوے تھہ پزپاٹ بالیمان وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخِذُوا هَاهُنَا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ تھٹھہ پاٹھہ تھندہ دینہ کین اصولن سیت چھہ تم ٹھٹھہ کران تھٹھہ پاٹھہ چھہ تم تھندہ دینکن فروغن سیت تہ ٹھٹھہ کران۔ چنانچہ سہہ ساتہ تہ لوگن نادووان چھوہ نمازہ کن یعنی بانگ دپان چھوہ۔ تھہ تہ چھہ سَمَن ٹھٹھہ کران۔ گند تھناہ بوزان۔ کیا زہ یہ چھہ جماعتہا

مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ  
 قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴿۶۰﴾ قُلْ هَلْ أُنبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ  
 مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ  
 مِنْهُمْ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ  
 مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۶۱﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا

عقلہ رسی۔ قُلْ يَا مَعْزِلِي هَلْ تَتَّبِعُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ  
 قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ فرماؤ گھہ تہہ یار سؤل اللہ کی اہل کتابا یعنی یہو دوتہہ کوسہ تھہ چھوہ آسہ  
 اندر پیچ لبان تھہ پیٹھ تہہ آسہ چھو ٹھہہ کران۔ کیاہ یوہے الزام چھو توہ دووان کہ آسہ کیا کر پٹھہ کنس  
 خدا بس یہ تھہ یہ آسہ کن نازل آؤ کر نہ یعنی قرآن مجید۔ یہ تھہ یہ نازل آؤ کر نہ آسہ برو تھہ یعنی تورات و  
 انجیل۔ یہ کیاہ چھہ آس و نان کہ توہہ اندرہ چھہ اکثر تم تم نام فرمان چھہ۔ تم نہ پندہ کتابہ ہند یعنی  
 تورات کھم مانان چھہ۔ نہ چھہ توہہ قرآن مجید پیچ پٹھہ نہ تورات و انجیل پٹھہ۔ کیا زہ تورات و انجیل  
 منز چھو قرآن مجیدس پٹھہ کر نک کھم۔ تہہ چھوہ تھہ انکار کران۔ تم اکس حصس انکار کور تم کور  
 ساری انکار۔ لہذا چھو عیدار تہ قابل مذمت تہہ۔ ٹھس سزاوار تہہ مگر پین عیب چھوہ نہ یوز نہ  
 یوان کینہہ آسہ چھوہ پھیرت ناحق ٹھہہ کران قُلْ هَلْ أُنبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ فرماؤ گھہ  
 تہہ یار سؤل اللہ کہ یوما کرووہ خبر زہ خدا بس نغہ کوسہ و تھہ چھہ بدتر جزاء کیم تہ مزورہ ہندہ اعتبارہ  
 مَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَغَضَبِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ سوچھہ تمہی  
 لوگن ہنز و تھہ تم کن پیٹھہ اللہ تعالیٰ ان لعنت کر۔ تم کن پیٹھہ تہنہ ہزاری چھہ تم کن اللہ تعالیٰ ان مسصورت  
 کر تھہ و اندر نہ سورن ہنز شکل کر۔ یہہ کر تمبو پر ستش شیطانہ سنز۔ ووان و چھوہ تہہ کوسہ و تھہ چھہ  
 تھہ سو و تھہ تھہ منز غیر اللہ سنز پر ستش کر نہ یہہ کتہ سو و تھہ تھہ منز توحید ی توحید چھوہ تھہ منز انبیاء  
 ہند تصدیق چھو۔ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ تے کوکھ چھہ تم سیٹھاہ بد



امَّنَا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ط وَاللَّهُ  
 أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿۶۱﴾ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ  
 فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَيْسَ مَا كَانُوا  
 يَعْمَلُونَ ﴿۶۲﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ  
 قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۶۳﴾  
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ بِيَدِ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا إِيَّاهَا

تر چه خبر آخر تس اندر جای کن کیازہ بہنر جای چھہ نار جہنم بیہ ہجہہ یژڈلمت سبزہ و تہہ نغمہ کیازہ توحید و  
 تصدیق رسالتہ نغمہ تم سیٹھاہ دور، متھین شخصن ہنز و تھہ یوسہ سبب سپدہ نار چھہ خدائس نغمہ  
 دوری ہنز، یقینا گنہیہ سوی و تھہ سیٹھاہ چھہ، آی یہود و توہہ ہجھوہ اختیار کر مژیبے و تھہ۔ لہذا گمہ ہجھہ  
 ہجھوہ تہہ مؤحدن تصدیق انبیاء کرہ و نین معبود برحقہ سبز عبادت کرہ و نین ٹھہہ کران و اذآ جاءؤکم  
 قَالُوا امَّنَا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ بیہ یلہ تم منافق توہہ نغمہ یوان چھہ دیان چھہ  
 توہہ اسہ اؤن ایمان حالانچہ ہم ژای تہ کھر یقہی تہ درای تہ کھر یقہی وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ  
 اللہ تعالیٰ سی ہجھو پور علم تمن سارنی کھن ہند سمہ کھہ تہ عقائید تم دن منز کھٹان آس یعنی عقائید کھر یہ  
 وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتُ بیہ جھوک تہہ و چھان سمو  
 یہود و اندرہ واریاہ لوکھہ سم دورہ دور چھہ کران گنہہ یعنی اپزونہ نس اندر بیہ ظلم کر نس تہ مال حرام کھیس  
 اندر لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ واقعی سیٹھاہ چھہ ہجھہ تمہہ کلمہ سمہ تم کران آس لَوْلَا يَنْهَاهُمُ  
 الرَّبُّنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السَّحْتَ لَيْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ تمن کونہ  
 سنا چھہ عالم تہ مشان منع کران اپزونہ نغمہ تہ حرام کھینہ نشہ۔ البتہ سیٹھاہ چھہ ہجھو تہ سوروی بیہ تم کران  
 آس وَقَالَتِ الْيَهُودُ بِيَدِ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ یہود و دوپ خدایہ سند اتھہ ہجھو عطا و بخشہہ کرنہ نشہ بند یعنی نعوذ  
 باللہ مخل چھو کران۔ غَلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا إِيَّاهَا قَالُوا تحقیق نس منز چھہ بند گامت جہدی آتھہ، کیازہ

قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا  
 مِنْهُمْ مِمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَالْقَيْنَاتِ بَيْنَهُمْ  
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا  
 لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا  
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۴﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا  
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَآدْخُلُهُمْ جَنَّةٌ نَجِيْمٌ ﴿۱۵﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَمُوا

تم پھہ پانہ سخت بخیل۔ اڑھ تھہ وندہ سبہ آیہ تمن لعنت کرنہ۔ تم آی خدایہ سزہ ر حمتہ نغہہ دور کرنہ۔  
 بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ بلکہ پھہ خدایہ سندوشوے آتھہ و تھی۔ سوہ چھو خرچ کران، پٹن فضل  
 و کرم عطا کران۔ تھہ پاٹھ خوش چھوس کران۔ تمن خوش چھوس کران وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ  
 قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ توہہ پیٹھہ یہ نازل کرنہ آونہندس پروردگارہ سندہ طرفہ تہ ہر  
 راوہ ضرور تمہو آندہ زاہرہ یمن۔ یہودن سرکشی تہ کھر تمن سپدہ نہ پتہہ جرمگ احساس غنہ وقتہ وَالْقَيْنَاتِ بَيْنَهُمْ  
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تھی سرکشی تہ کھر نتیجہ چھو کہہ آسہ ترود تمن آندر عداوت تہ  
 بغض یس نہ قیامتس تام یمن منز دور سپدہ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ یلہ یلہ تم لڑایہ تہ  
 جنگ نار چھہ مسلمان خلاف زوہ راوان اللہ تعالی چھو تھہ نارس ژھیہ تہ کران یلہ تم تھہ منز ناکام چھہ  
 سپدان وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ تم پھہ پوشیدہ طور سیماہ کوشش  
 کران ملکس آندر خرابی ہنز تہ فسادی، چوچہ اللہ تعالی چھو نہ ہرگز پسند کران مفسدن تہ خرابی کرہ  
 وینن۔ لہذا یہ تمن ضرور سزا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَآدْخُلُهُمْ  
 جَنَّةٌ نَجِيْمٌ ہر گاہ اہل کتاب پڑھ کرہ یمن بیہ نافرمانیو نغہہ پھہ روزہ یمن اس کرہ ہو ضرور تہندین  
 گنہن بخشائیش، بیہ واتاوہ ہو کہہ ضرور نعمن ہندس جنس آندر مگر تم پھہ نہ سرکشی تہ نافرمانی تراوان سمہ  
 سبہ تم یمن پان خرؤم چھہ کران۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَمُوا التَّوْبَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ

التَّورَةِ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْفُرُوا مِنْ  
فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحَتَّ أَرْجُلُهُمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ  
مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿۷۳﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ  
مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ  
مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۷۴﴾ قُلْ يَا أَهْلَ  
الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّورَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا

لَأَكْفُرُوا مِنْهُمْ وَمَنْ تَحَتَّ أَرْجُلُهُمْ بپہرہ گاہ تم تورات و انجیلک احکام بہیہ تم احکام سم تم کن نازل کرنے آئی بواسطہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بجا آئین تم نزلہ ہاساری تھی، اده آسمن کھیوان خدایہ سزہ تمہ لغو سمہ تم کن پڑھکن آسمانہ طرفہ دسان چھہ۔ سمہ بہند یوکھورویون کن زمینہ منزہ کھسان چھہ۔ مگر تمہو کر تورات و انجیل ساری تعلیم ضایع تھے گے خوارتہ ذلیل مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ تمہو اندرہ چھہ اکھ جماعتہا میانہ روی کران تم گے تمہو پیغمبر آخر الزمان ایمان اُون تہ پڑھ کر، حضرت عبد اللہ بن سلام ہوہوہوڈن اندر، حضرت نجاشی ہونصاری ان اندر و كَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ اکثر چھہ یہود و اندرہ تم بہنزہ کامہ سیٹھاہ تھہ چھہ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، ای بڈہ پیغمبرہ و اتانواد خدایہ سیدین بندن تہ سو زوی یہ نازل او کر نہ توہر کن چھندس پروردگارہ سیدہ طرفہ۔ دشمن ہندمہ برو کانہ پروا۔ فَلَنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ہر گاہ تہہ تہ کرو نہ یعنی سو زوی نہ و اتانواد سیت تھہ پاٹھہ یہ فرض پٹھان چھو تھہ پاٹھہ تمہ منزہ کانہ کتھاہ نہ و اتانواد سیت تہ چھو یہ فرض پٹھان۔ تبلیغ احکام اندرمہ برو جہہ دشمن ہند کانہ پروا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ حض گرہ پانہ توہر را جہہ لوکن ہندہ شرہ ریشہ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ہز پاپاٹ اللہ تعالیٰ ہاود نہ ہرگز کامیابی ہنز و تھہ کافرن۔ تم ہیکن نہ توہر کینہہ کر تھہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ فرماؤ یوکھ تہہ یا رسول اللہ ای اہل کتابو تہہ چھوہ نہ کھنہ صحیح و تہہ پیٹھہ۔ حَتَّى تُقِيمُوا التَّورَةَ

أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلِيُزِيدَكُمْ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ  
 مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۗ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٧٨﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغُونَ وَالنَّصَارَى  
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
 يَحْزَنُونَ ﴿٧٩﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ  
 رَسُولًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا

وَالرَّحِيلَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ يُدْتَابَانِ بِهِ جَاءُوا تورات و انجیلک احکام بہیہ تم احکام تم نازل  
 کرنے آئے توہم نے بوساطہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن مجید و کبیریدان کثیراً منہم  
 مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۗ یہ ہر راوہ ضرورت یہ توہم نے آنازل کرنے تمہیں  
 پروردگارہ سندہ طرفہ تمن یہودان نہ نصاری ان سرکشی نہ کفر ۗ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کس مہ  
 کروہیہ افسوس تمن لوکن ہندس کاس پیٹھ ہمو پڑہ نغیر انکار کور ۗ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا  
 وَالصَّابِغُونَ وَالنَّصَارَى یہ چھ پڑتھ کہ تم لوکھ ہمو ایمان اون یہ تم لوک تم یہودی، صابی نہ نصاری چھ  
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا ہمو ساروی اندرہ ہمو ایمان اون کنس خدا کس بہیہ تمس  
 دوس یعنی قیامت۔ بہیہ کرپھ رزہ عملہ ۗ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کس چھونہ تمن آخرتس اندر  
 کانہ خوفانہ چھو تمن کانہ غماہ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا ہتھ منر چھونہ  
 کانہ شک کہ آسہ کرناو بنی اسرائیل سارنی پیغمبرن تصدیق و اطاعت کرنس پیٹھ برونھتہ عہد۔ بہیہ سوز  
 تمن نے واریاہ پیغمبر سو عہد ژتیس پاونہ خیطرہ ۗ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا  
 وَفَرِيقًا تَقْبَلُونَ مگر تہنز حالت آس یلہ تمن نغیرہ کانہ پیغمبر اہ اوس و اتان تم حکم ہیبت تم نہ تہنز نفسانی  
 خواہش موافق آسان آس تم آس تمو پیغمبر و اندرہ بعضین اپز یرونان بعضین آس قتل کران۔  
 وَحَسِبُوا أَنَّهُمْ لَأَكُونُوا فِتْنَةً ۗ خيال آس کران اٹھ پیٹھ و تھہ نہ باز خواستی کہینہ فَعَبُوا وَصَمُّوا کس سپدان

وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٤١﴾ وَحَسِبُوا أَن لَّكُونُوا فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ  
 تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا  
 يَعْمَلُونَ ﴿٤٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ  
 وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ  
 مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ  
 وَبِاللَّظَلِيمِينَ مِنْ أَنْصَارِهِ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ

تہ زہرِ ثَمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ توبتہ کر اللہ تعالیٰ ان تمن پیٹھ پتھر رحمتہ سیت توجہ کہہ بیا کہ پیغمبرہ سوزن  
 تمن کن دیوہ تم سیزہ ورتہ پیٹھ من۔ مگر ثَمَّ عَمُوا وَصَمُوا کَثِيرٌ مِنْهُمْ توبتہ سپدیہ تموا آندرہ واریاہ آن تہ  
 زر یعنی تعمیل احکام کرنہ نشہ کر کہ زوگردانی وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ اوس تہنزہ سارے  
 کامہ وچھان یعنی تہند خیال اوس غلط کہ آسہ چھونہ باز خواستی کینہہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ  
 هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ یقیناً چھہ تم لو کہ کافر تم دنان چھہ خدا چھو عین مسیح مریمہ سندنچو یعنی تم زہ چھہ متحد  
 تہ کنی وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ حالانکہ پانہ چھو فرماوان مسیح بن مریم اکی  
 بنی اسرائیلو عبادت کرو تہہ معبود برحقہ سنز، کس میون تہہ تہند پروردگار چھو إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ  
 فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ بیشک یم اک خدا کس، بہہ کانہہ کنہ چیزس منز شریک ٹھہرو  
 تس پیٹھ کور یقیناً اللہ تعالیٰ ان جنت حرام۔ تہنزہ جائے چھہ نار جہنم وَاللَّظَلِيمِينَ مِنْ أَنْصَارِهِ تہتھین  
 ظالمن ہندہ خیطرہ آسہ نہ کانہہ مددگارہ کس نارہ نشہ مولاوت تمن جنس منزواتا وہ۔ چھہ پانہہ عقیدہ  
 اتحاد باطل چھو تھہ پانہہ چھو عقیدہ تثلیث تہ باطل۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ  
 قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ یقیناً چھہ تم لو کہ تہ کافر تہمود پ خدا چھو تریہ آندرہ اکھ (مول۔ گوہر۔ بہہ  
 روح القدس وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَالْوَاحِدُ حالانکہ کانہہ معبوداہ چھونہ کنس خدا کس وراہی۔ وَإِنَّ كُمْ  
 يَنْهَوْنَ عَمَّا يَقُولُونَ لَيْسَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ہر گاہ تم سمو تھو نشہ چھہ روزن نہ البتہ

ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَدْتَهُمْ وَعَمَّا يَقُولُونَ  
لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴۳﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى  
اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۴۴﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا  
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ مَكَانًا يَأْكُلِنَ  
الطَّعَامَ أَنْظُرْ كَيْفَ بُيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أُنَى يُؤْفَكُونَ ﴿۴۵﴾  
قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

ضرور رتبہ تمن، سمو گھر چہ تنھہ کرہ تمو اندرہ، آخر تس اندر کڈر عذاب نئس دگ تہ دود تملہ ون آسہ  
افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم تم توحيدک مضامين تہ شرکک وعيد شديد  
نوز تہ تہ چھنا تم خدا نئس کن رجوع کر تہ تہ توبہ کران، بہہ کونہ چہہ تس مغفرت مکان۔ سو کرہ بہہ  
مغفرت بيازہ سو چھو سيٹھاہ مغفرت کرہ ون سيٹھاہ حمکرہ ون ما المسيح ابن مريم الا رسول حضرت  
مسيح مرسم نے چھو عين خدانہ چھو جزء خدا بلکہ چھو اکھ مرتبہ وول بينبرہاہ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ  
تس برد تہ تہ چہہ کڈرے مت کاتياہ صاحب معجزات بينبر تم نہ عيسائى خدا مانان چہہ۔ ہر گاہ بينبرى  
يا مجزہ، خدا آج دليل چہہ۔ تلہ گوہہ تم سارى بينبر تہ خدا زان۔ ہر گاہ بينبرى تہ مجزات خدا آسج دليل  
چہہ تلہ کياہ خصوصيت چہہ حضرت عيسى سز تم چھو ک عين خدا يا جزء خدا مانان وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ تہ  
پاٹھ چہہ تہمز والده تہ خدا تہ جزء خدا بلکہ چہہ سو پزير نيکو کار زاناہ۔ تمن دوشون ہندہ خدا نہ آج  
دليل گانایا کُلِنَ الطَّعَامَ تم دوشوے ماجہ پتھر آس سارنى انسان ہند پاٹھ غذا کھيوان۔ تم بہن زندگی  
قايم تھاو نہ خيترہ کھينس چينس کن محتاج آسن تم ہيکنہ خدا آسٹھاہ يا خدا يہ سند شريک آسٹھاہ۔ کيا زہ خدا گو  
سوى نئس نہ کنہہ چیزس کن محتاج آسہ أَنْظُرْ كَيْفَ بُيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أُنَى يُؤْفَكُونَ وچھو آس تہہ کن  
چہہ تمن لو کن وضاحتہ سان دليلہ بيان کران۔ تو پتہ وچھو کو کن چہہ تم وٹہ پھيران۔ يہ پتہ ما چھو  
نوز نہ يوان۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا تہہ فرماؤ کہ يار رسول الله

وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۴۷﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۴۸﴾ لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۴۹﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۴۹﴾

اے یہود و نصاریٰ او کیاہ تمہہ مجھوہ معبود برحق تراوتھ تمہن مخلوقن ہنز پرستش کران تم نہ مالک جھہ تمہن س نئے چیزس تہ نفیس تہ ضرر س واللہ ہوا السمیع العلیم حالانکہ اللہ تعالیٰ اکی جھو سوزوی بوزہ ون سوزوی زانہ ون توتہ جھوہ نہ تمہہ تس کھوژان تہ کفر و شر کہ لغتہ باز یوان قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ فرما یو کہ تمہہ یارسول اللہ ای اہل کتابو نا حق مہ آسوپنتہ دینہ کین معاملن اندر حدہ ڈلان وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ بیہ مہ آسوپیروی کران تم لو کون ہنز سم توبہ برو نھسی جھہ گمراہ سپد مت وَأَضَلُّوا كَثِيرًا بیہ جھہ تمہو پانس سیت واریاہ گمراہ کرمت وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ بیہ جھہ تم پانہ سیزہ وتہ لغتہ بالکل ڈلت لَعْنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ بیہ لعنت آیہ کرنہ تمہن سم بنی اسرائیلو آندرہ کافر سپد حضرت داوودہ سندس بد دُعا کرنس پیٹھ۔ تم گے شہر ایلمک لو کہ۔ بیہ حضرت عیسیٰ فرزند حضرت مریمہ سندس بد دُعا کرنس پیٹھ۔ تم گے اصحاب مایدہ۔ تمہن ہنز ذکر برو تھہ ایہ تہ جھو مراد تمہن ہندہ لغتہ ذکر جھہ زبورس منز تہ انجیلس منز تہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ بیہ لعنت آیہ تمہن کرنہ امی موکھہ کہ تمہو کیاہ کرنا فرمانی تہ مخالفت بیہ ڈل تم حدہ مخالفت تہ نافرمانی کرنس اندر کَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ تم آس نہ باز یوان تہ پتھ روزان تمہو جھہ کامیونشہ سمہ بیچہ کلمہ تم کران آس یعنی استمرار تہ ڈاڈ آس کران تمہن جھہ کالم پیٹھ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ واقعی سیٹھاہ

تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَكَّنُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ  
لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ  
خَالِدُونَ ﴿۸۵﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ  
إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا هُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ  
فَاسِقُونَ ﴿۸۶﴾ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا  
الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً  
لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ يَأْتِي

پہچھ اوس تہ یہ تم کران آس تری کثیراً منہم یتوگون الذین کفروا وچھو کہ تہہ واریاہ تمو بہودو  
اندہہ تم دوستی چھہ لاگان مٹرک یہودن سیت لیس ما قدمت لہم انفسہم البتہ سیٹھاہ چھہ  
چھو تہ یہ بہند یو نفسو تمں برو تھہ کنہ تروہ۔ تمیک نتیجہ چھو سیٹھاہ خراب ان سخط اللہ علیہم و فی  
العذاب ہم خالدون دنیاءس منزگو تمیوک نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ چھو تمں پیٹھہ بیزار۔ آخر تس اندر  
آس تم ہمیشہ گرفتار عذاب نار ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ ما اتخذوہم  
اولیاء ہر گاہ تمں بزیاٹ ایمان آسما معبود برحق بیہ پنہ نس پیغمبرس یعنی حضرت موسیٰ اس بیہ تھہ کتابہ یوسہ  
تمں کن نازل کرنہ امر آس سمجہ پیروی ہند تمں دعویٰ چھو تملہ بناوہن نہ کافرن تہ مٹرکن ہن دوست  
ولکن کثیراً منہم فسقون لیکن تمو اندرہ چھہ واریاہ فاسق تہ بے ایمان۔ تہ چھہ کافرن سیت  
دوستی لاگتہ اسلامس تہ پیغمبر اسلامس تہ خلاف سازشہ کران لتجدن اشد الناس عداوة  
للذین امنوا الیہود والذین اشركوا البتہ لیو کہ تہہ ساروی غیر مسلمو اندرہ با ایمان ہند سخت دشمن  
کھہ بہود بیہ مٹرک ولتجدن اقربہم مودۃ للذین امنوا الذین قالوا اننا نصری بیہ لیو کہہ  
تہہ ساروی غیر مسلمو اندرہ یبززد یک با ایمان ہمزہ دوستی تہ مجتہس اندر تم لو کہ تمہ دان چھہ آس چھہ نصاری



مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۸۶﴾  
 وَإِذَا سَبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ  
 تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا  
 فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۸۷﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ  
 الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿۸۸﴾  
 فَاتَّابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ  
 فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۹﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

ذَلِكَ يَأْتِ مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اسی موکھ کہ تم نمنز چھہ واریہ عالم  
 تہ زاہد تارک ذیلہ بیہ چھہ تم مغرور تہ مخبر۔ وَإِذَا سَبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ  
 تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ تموعی سائی لدرہ بعضی بلہ تم نوزان چھہ سُو کلام پاک نُس  
 نازل او کر نہ پیغمبر بر حقس پیٹھ یعنی قرآن مجید و جھان چھوہ تو بہ کہ تہزہ ہچھہ اوش ہدان کیازہ تمو ہزہ  
 نووہ من حق اسلام بیہ آسہ کلام پاک کھنایت يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ونان چھہ تم ای سانہ  
 ہرورد گارہ آسہ کمر ہڈھ آتھہ کلام پاکس۔ وون لیٹھ آسہ تہ آسہ کین گوان سیت وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ آسہ  
 کیا گہ اس کیا نونہ اسمان شریعت محمدیہ موجب معبود بر حقس وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ بیہ نُس ہوز آسہ  
 نغمہ ووت بواسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ بیہ  
 کیازہ تھاوونہ اس ارج امید کہ آسہ کیا و اتناوہ ہرود گارسون جنٹس نیکو کاران ہدس جماعتس سیت فَاتَّابَهُمُ اللَّهُ  
 بِمَا قَالُوا جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ پس کر اللہ تعالیٰ ان عطا  
 تم ن یہ ویکھہ برکتہ تے جنت سمو منز جو یہ پکان چھہ۔ تمنی جنٹن منز روزان تم ہمیشہ۔ یچہ چھہ مزور  
 نیکو کاران ہنز وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا يَا تَبَّتْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّجِيمِ آتھہ بدل گے تم لوکھ سمو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٤﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٥﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ

انکار کو رہیہ زانک اہر سان آیات تہ احکام تہی لٹھہ گئے جنہمی ہمیشہ نارس اندر در زہ و ن یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ اے ہا سمانو حرام مہ کمر و پانس پیٹھہ تم پاک تہ لذیذ چیز، قسم ہاوت یا عہد کمر تھ۔ سم حلال کر تھہدہ خیطرہ اللہ تعالیٰ آن اده تم کھیک چیز آستن، چینک چیز آستن، لباس آستن یا مہکوحات آستن وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ تحلیل و تحرکس متعلق سم حدود مقرر کرنے آمت چھہ تم و حد و نشہ مہ ڈلو ہر پائھہ اللہ تعالیٰ چھو نہ پسند کران حدہ نشہ ڈلہ و نین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا بیہ کھیو تم و چیز و اندرہ سم چیز عطا کر توہہ اللہ تعالیٰ آن حلال تہ پاک وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ بیہ کھو ترو س خدا جس نیس توہہ ہتھہ کمر مہ چھو یعنی کانہہ حلال چیزہ ہرام کرن اتھہ چھو بیزار اللہ تعالیٰ۔ لہذا کھو ترو تہنرہ بیزار ی۔ حلال چیز س حرام کرن اتھہ تریہ قسم۔ اکھ گو اعتقادہ کرن۔ بیاکھ گوزیوہ سیت، بیاکھ گو عملہ سیت۔ اعتقادہ اکانہہ حلال چیزہ ہرام زان یہ چھو کفر۔ زیوہ سیت و ن کئہ حلال چیز س یہ چھو مہ پیٹھہ حرام، ہر گاہ یہ قسم ہاوتھہ و و ن یہ چھو گناہ۔ سو قسم گڑھہ پھٹرن۔ تمہہ سچ گڑھہ کفارت دن تہ سو چیز گڑھہ ضرور کھیون۔ تر ستم قسم گو عملاً کانہہ چیزہ ہرام تر اون یہ چھہ بدعت۔ یہ گنیہ رہبایت۔ امیک چھوہ اسلامان اجازت ڈیستمت۔ امہ نشہ گڑھہ ہتھہ روڈن۔ ہر گاہ کانہہ کانہہ حلال چیز آسہ ترک کور مت کئہ مصحلت جسمی یا نفسی خیطرہ بطور علاج تھہ چھہ نہ کانہہ قصور مگر ہر گاہ کانہہ آسہ تر وومت کانہہ بزرگہ سندر قرب، نزدیکی تہ رضامندی حاصل کرنے خیطرہ تہ چھو ناجائز تہ شرک۔ کیازہ قرب و رضامندی گڑھہ کئہ عملہ سیت کانہہ آکسنز ژھانڈن خدا جس و رای تم چھہ ترک اکل و شراب مقرر کور مت پنہ خیطرہ اکھ عبادت۔ یہ تس و رای بیہ کانہہ ہندہ خیطرہ کرن یو ہے گو شرک، ٹو ذباللہ من ذالک لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْبَاتِكُمْ اللہ تعالیٰ چھو نہ توہہ بازخواست

بِاللَّعْوِ فِي آيَاتِنَا وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْآيَانَ  
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ  
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ  
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ آيَاتِنَا إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا  
آيَاتِنَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۸۹﴾

کران لغوت بے ہودہ قسم ہاؤس پیٹھ۔ لغو قسم گو سوی لیس بغیر ارادہ زبوی منزہ نیرہ۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْآيَانَ مگر باز خواست چھو کران توہم ضرور ثمن قسمن پیٹھ تم توہم ارادہ کر تھ مضبوط کرمت چھو ہر گاہ تم قسم تہم پھڑ اون اس تیج گڑھہ کفارت دن۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تمہ تیج کفارت چھہ سمہ وہ مسکین غذا کھیوان، درمیانی غذا۔ لیس روزمرہ تہم پنن عمیال کھیوان چھون۔ یا وہن مسکین پو شاک دین، یا غلام آزاد کران۔ لیس آکس نہ یہ بہتہ فیتر سپدہ سو روزن ترین دوہن پو لیس ہتھ روزہ دار ذَلِكْ كَفَّارَةُ آيَاتِنَا إِذَا حَلَفْتُمْ بیہ چھہ کفارت تہندین قسمن ہنز۔ یلہ تہم گنہ چیز س پیٹھ قسم ہوان تہ پتہ پھڑ او ان آسرو وَاحْفَظُوا آيَاتِنَا چوہہ یہ کفارت دن چھہ واجب لہذا آسرو راپھہ کران قسم پنن نین قسم کمر تھ گڑھہ نہ پھڑن بیون۔ پھڑ او وے بیہ تیج کفارت ضرور دن۔ ستنہ اژہ تھہا کمر وہ قسم پھڑ تھہ آسرو کفارت تیج دو ان تہ چھہ سخت گناہ مگر افسوس لوکن چھوہ امیک کاہہ خیالاہ۔ کاہہ شخص کانسہ نشہ گڑھان۔ سو چھوس کاہہ چیز کھینہ یاچینہ خیطرہ وان۔ یہ چھو قسم ہاوتھ وپان یو کھیمہ نہ یاچیمہ نہ سو چیز۔ تو پتہ چھوس سو اصر ار کران زور کران کھینہ خیطرہ۔ اتی چھو سو چیز کھیوان یاچیوان۔ پھڑ او ان چھو سو قسم لیس ہوومت او سن۔ تو پتہ چھوہ تمہ تیج کفارت دو ان۔ لہذا یلہ کانسہ شخصن کاہہ چیز کھینس یاچینس پیٹھ قسم ہو وادہ گڑھہ نہ تمس زور کران سو چیز کھینہ خیطرہ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ستنہ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ ویبڑھہ ناوان حکم پنن یو تھہ تہم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٠﴾ إِنَّمَا  
 يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
 وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٤١﴾  
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلُوا إِنَّمَا  
 عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٤٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

امہ نعتک شکر ہو۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ**  
**فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** اکی باسمائو شراب زار پتل تہ چیرین ہند تیر سم چھتہ مگر گندہ تہ ناپاک کلمہ  
 شیطانہ سنز و کامیو لدرہ۔ مہوساروی کامیو لشرہ روز و پتہ۔ پتہ تہہ کامیاب سپد و تمن چیرن ہند یو مضر  
 تولشرہ پتو۔ تمن چیرن ہنز بد مضر تہہ کہ۔ **إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي**  
**الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ** شیطان چھو تہ بیوہان مگر ای زہ توہہ اندر تراوہ پانہ وان عداوت تہ بعض دل اندر  
 شرابہ تہ زارہ کہ ذریعہ **وَيُصِدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ** بیہ چھو شیطان بیوہان توہہ رشہ پتہ شرابہ  
 تہ زار کہ ذریعہ خدایہ سدہ یادہ رشہ بیہ نمازہ رشہ یوسہ خدایہ سد یاد کر بھو طریقو اندرہ بہتر تہ افضل طریق  
 چھہ بیوہ خرائی تہ نقصان تمن چیرن منز آتہہ **فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ** کیاہ یہ یوزتھر روز و نا تہہ امہ رشہ  
 پتہ۔ یہ آہ کر سمہ یوزتھر و ون صحابہ صیوہ **إِنْتَهَيْنَا** یعنی آس زود پتہ۔ کس آس رشہ امہ وقتہ کینہہ شراب  
 موجود اوس تم دیت سوبھر تہہ تہہ **وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلُوا إِنَّمَا**  
**عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ** بیہ کرو فرمانبر داری خدایہ فرمانبر داری رسول خدایہ پتہ کس اندر۔ بہنزہ  
 نافرمانی رشہ روز و پتہ۔ کس ہر گاہ تہہ پوت پھر و حکم مانو نہ کس زانو تہہ وارہ پاتہ کہ سانس پنمبرس چھو  
 نہ مہ مگر ن پاتہ یوضاحت حکم و اتیان عمل کرن یا نہ کرن یہ چھہ تہنز کوم۔ تمیک نتیجہ تلو تہہ پائے۔  
 یلیہ یہ آہیہ کر سمہ نازل سپد بھسی لو کو کور عرض در خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یار رسول اللہ واریاہ

الصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعْمُهَا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَأَمْنُوا وَعَمَلُوا الصَّلِحَاتِ  
 ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَمْنُوا تَمَّ اتَّقُوا وَاحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۳﴾ يَا أَيُّهَا  
 الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْرَأُوا سِرًّا وَلَا يُخْفَى عَلَيْكُمْ  
 رَبِّكُمْ إِذَا اتَّقَوْا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَنَارُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا  
 لِيُخْفَى عَلَيْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ  
 لَهُمْ أَجْرُهُمْ أَعْلَىٰ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۹۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْرَأُوا سِرًّا وَلَا يُخْفَى عَلَيْكُمْ  
 رَبِّكُمْ إِذَا اتَّقَوْا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَنَارُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا  
 لِيُخْفَى عَلَيْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ  
 أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ أَعْلَىٰ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۹۵﴾

لوک سیم شراب چیان اس زار بگردان اس تم حض گئے سیمہ عالمہ سیم چیز حرام سپدہ بروٹھ۔ ٹھہند حال کیا  
 حض آسہ اتی سپد سیمہ آئیہ کر سیمہ نازل لیس علی الذین امنوا وعملوا الصلحت جناتم جھونہ تمن  
 لوکن پیٹھ سیمو اسمان اون تر رثہ عملہ کر یجھ کا بہ گناہ فیہا طعموا تنھہ مزنیہ تمو چو شرابہ اندرہ یا کھیو  
 زارہ سیت ز ستمتہ مالہ اندرہ حرام سپدہ نہ بروٹھ۔ إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصلحت یلیہ تمو لوکو تمو چیز و  
 نشہ پر ہیز کور سیم تمہ وقتہ ناجائز اس۔ بیہ او بچھ اسمان تہ بیہ کر یجھ رثہ عملہ ثُمَّ اتقوا وامنوا تَمَّ اتقوا  
 وَاحْسِنُوا تو پتہ روڈ پر ہیز گاری پیٹھ اسمانس پیٹھ ثابت تو پتہ کور کھ بیہ تمہ وقتہ کیو حرام چیز و نشہ  
 پر ہیز بیہ کر یجھ رثہ عملہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ جھو دوست تھا وان امہ قسمہ کین نیکو کارن  
 تہ رثہ عملہ کرہ وینن یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْرَأُوا سِرًّا وَلَا يُخْفَى عَلَيْكُمْ  
 اسماؤ البیہ اللہ تعالیٰ کرہ تو بہ ضرور آزمائش شکار کہ عنہ قسمہ سیت احرامس حالتس اندر۔ سوگو سوئی شکار  
 تنھہ شکارس ٹھہند اتھہ پکن۔ بیہ ٹھہند نیزہ پکن۔ بس شکار ٹھہہ باکل قریب تہ نزدیک آسہ اتھہ پلہ ونہ سیت  
 بیسکون سور ٹھہہ یا نیزہ لا۔ اتھہہ بیسکون سوز خمی کرہ۔ بیہ آزمائش کرہ اللہ تعالیٰ تو بہہ بیٹھہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ  
 يَخْفَاهُ بِالْغَيْبِ مطلب امتحانک تہ آزمائشہ ہند جھو کہ حالت احرامس منز و حشی جانور شکار کرن کور تم تو بہہ  
 پیٹھہ حرام۔ سیمیک کُھم ن پانٹھہ بروٹھہ اوہ ون جھو۔ تم و حشی جانور اسن تو بہہ برو ٹھہکن پھر ان بیٹھہ اللہ تعالیٰ  
 نمبر اوہ کہ بہہ جھو کھو ژان تس ٹھہند اس عذابس و چھہ و رای فَمِنْ اِخْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ قَلْبُهُ عَذَابُ الْيَمِّ پَس  
 بس اٹھہ حدہ ڈلہ یعنی عدول کھی گرہ۔ احرامس حالتس اندر کرہ شکار تسدہ خیطرہ جھو آخر تس اندر عذابہ

حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ  
يُحْكَمُ بِهِ ذَوَاعِدِلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ  
مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ طُغْفَا اللَّهُ  
عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمْ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿١٥﴾  
أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ

دگ تله ون لیا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حورم ای باله سمانومه ماریون شکار احرامس حلتس اندراده احرامس کر نه خیطره آستو گوئد مت یا عمره کر نه خیطره یتھے پاتھے یلیه سو جانور آسه حرم شر یفس منز اده شکار کره ون احرامس منز آسه یتھے ته چھویو ہے حکم یعنی حرم شر یفک جانور گرهه نہ رن نہ زخمی کرن وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ایس اکھه ملده شکارس زانتھه کتر ته عمدا ایس چھو تس واجب تمیک بدل دیس تس جانورس ہیو ایس موزن چار پایو اندر آسه جانور لده ته گو مثا لہر گلہ کتر منز غ موزن تس بدل گرهه ووئٹ قربان کرن ھر گلہ گور خر موزن یتھے بدل گرههه گلہ ملدن ھر گلہ روس کت ملدن تس بدل گرههه کتھه مازن یحکم به ذواعدیل منکم تمیک فیصله کرن تو بهه مسلمانو اندر هه شخص عدل وانصاف کره ون هدیاللیغ الکعبه ایس جانور قربان بیه کر نه کعبه شر یف واتناوهه اؤ کفارة طعام مسکین نت بیه ایس جانور ه سندس قیمتس برابر مسکین غدا لده اوعدل ذلک صیامًا نت بیه سن مسکین هنز هه گرز دوین روزه دار روزنه لیذوق وبال امره یتھے سومره ته بهه پننه کلمه بههه سخی هنده ته یتھه انجامگ عفا الله عما سلف الله تعالی انجور عفو یتھے بهه از تام لو کو کور وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمْ اللَّهُ مِنْهُ ایس آینه دو باره یتھے بزم کره تس بهه الله تعالی انتقام آخر تس اندر وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ الله تعالی چھو غالب انتقام بهه وول تس ایس بار بار عدول حکمی کره اهل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم و للسایرة ای لو کو حلال آنو کر نه تهنده خیطره دریائی شکار کرن احرامس منز آستو یلده آستو دریائی کھینه چیز وسیت تمتع تلن چھو تو بها کل حلال بهه سلنی مسافرن ۱۵ وَحُرْمَ عَلَیْکُمْ صَیْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا حرام لو کره نه تهنده خیطره خشکی

عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ  
 تُحْشَرُونَ ﴿٩٧﴾ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ  
 وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾ اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
 رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

ہند شکار یوتتان جہہ حالتِ احرامس منز آسود ہر گاہ بیاکھ شخص نیس نہ احرامس منز آسود شکار کرہ تو پتہ دیہ  
 حرمس تس چھوتہ کھیون جاہیزہ حلال وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بیہ کھوژوتس خدایہ  
 سندن کھن مخالفت کرنس نیئس بر وٹھہ کنہ جہہ ساری سیمتھہ کہ وٹہ واتناون ایو جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ  
 الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ ان کور خانہ کعبہ نیس واجب تعظیم گرہ چھو لوکن ہندہ دینی وڈویعی  
 کالین ہندہ قائم تہ بر پاروز نک باعثِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ بیہ کرن تعظیمہ وال ریتھہ تہ امن واما نک باعث  
 وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ بیہ کمر اللہ تعالیٰ ان نذر و نیازک جانور سیم محض خدایہ سندہ خیطرہ چھہ یوان خانہ  
 کعبس کن واتناون۔ بیہ تھن جانورن ہند ہنزہہ سیم تھن جانورن نال تراونہ یوان چھہ تم تہ کرن امن  
 واما نک باعث۔ ذلک بیہ کور اللہ تعالیٰ ان امی سببہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
 الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بیٹھہ جہہ وارہ زانو پشک اللہ تعالیٰ چھوژوانان تہ سوروی بیہ آسمان  
 تہ زمین اندر چھو۔ بیہ بیٹھہ تہہ زانو کہ اللہ تعالیٰ چھو پد بیٹھہ چیزس بیٹھہ قدر تہ وول اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ زانو کہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ عذاب کرہ و نافرمان بیہ  
 چھو اللہ تعالیٰ مغفرت کرہ و ن رحم کرہ و ن فرمانہ دارن مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ چھو نہ سمس  
 سانس پیغمبرس منہ مگر پیغام وائتہ ناون نیس تمو و اتنوورتہ طریقہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ  
 اللَّهُ تَعَالَى چھو تہ سوروی زانان بیہ جہہ زیوہ سمیت تانوسمیت منز اولان تہ ظاہر کران چھوہ۔ بیہ بیہ جہہ دن منز

وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۹۹﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ  
 أَحْبَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  
 تُفْلِحُونَ ﴿۱۰۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءِ إِن  
 تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلَ  
 لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۰۱﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ

کھنٹ تھوان چھو۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ فرماویو کھ نہہ یارسول اللہ برابر چھو نہ  
 ناپاک تہ پاک یعنی گناہ تہ اطاعت۔ یا کھنگار تہ فرمانبردار۔ بلکہ چھو خبیث مردود، طیب چھو مقبول۔ عاقل  
 گو سوی بس پٹن پان مقبول بناوہ مردود بنہ نشہ وَلَوْ أَحْبَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ اگرچہ نہیں آند  
 تراوتے تہ اے مخاطب ناپاک زیادتی تو گنہ کر تہ خیالی فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
 بلکہ کھو تہ و نہہ خدایہ سندس حکم مخالفت کر نہ نشہ اسی عقلہ والیو چھو نہہ کامیاب تہ رستگار سپدیو مھول  
 جنتہ سیت ہیہ مھول رضای اہی سیت۔ یلہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرضیت جہان  
 فرماوتہ اک شخص پڑ تہ تمن کیا حض ہر تہ وریہ چھان چھن فرض تریہ پھر ہر ژھن نبی کریم صلی  
 اللہ علیہ وسلم تمور فرموس نہ کہنہ جواب۔ تو پتہ فر موو کھ ہر گاہ فر مادہ ہاؤہ۔ تلہ پیہ ہا تو ہہ ہر تہہ وریہ  
 چھن بس نہ نہہ کتر تہ ہیہ ہو۔ برو ظہم لو کھ گے تباہ زیادہ ہر تہہ ہر تہہ کر نہ سیت۔ یوسہ تہہ یو فر ما  
 وان آسووہ تہہ پٹھہ آسو عمل کران۔ یوسہ تہہ نہ یو فر ماوان آسووہ تمیک مہ آسو ہر ژھان۔ اتہہ مطابق سپد  
 آئیہ کرسمہ نازلل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءِ إِن تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ ای ہا۔ سناو فضول تہہ  
 غیر ضروری معاملن متعلق مہ آسو ہر ژھان تمن متعلق احتمال چھو کھ ہر گاہ بیان پیہ کر نہ توہیہ سپدہ تہ  
 بوژن باوار وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلَ لَكُمْ ہیہ ہر گاہ ہر ژھو نہہ تمہ وقتہ یلہ قرآن مجید  
 نازل سپدان آسہ توہیہ پیہ پورہ و وضاحت کر نہ تو پتہ ہیہ کو نہ نہہ کوم پورہ انجام اتہہ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا اللہ  
 تعالیٰ ان کور توہیہ عفو فضول سوال کران از نام مگر آیندہ کمر احتیاط وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو



مَنْ قَبْلَكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿۱۲﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ  
بِحَيْرَةٍ وَلَا سَابِغَةٍ وَلَا وِصِيلَةٍ وَلَا حَامِرٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾  
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا

سیٹھاہ مغفرت کرہ و ان سیٹھاہ حلیمہ تہ چھوسو مٹھنہ توبہ حکم عدولی پیٹھہ عذاب تہ باز خواست نہ کر نہ سیت  
دھوکہ لگہ کہ اسہ آونہ خلاف ورزی پیٹھہ باز خواست کر نہ۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ بِزَيْطٍ يَشْتَرُونَ  
نَتْفَةً بِرِزْقِهَا تَمْوُلُوكَؤُمْ تَوْبَهُمُ بِتَوْبَتِهِمْ وَأَنْتَ أَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو پتہ یلہ تم کتھن ہند جواب دہ او تمو کر نہ تھہ  
پیٹھہ عمل۔ مٹھنہ تہہ تہ سوی نوہت پیش لیہ۔ لہذا چھو بہتر سوالے مہ آسو کر ان تھہ  
أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ پتہ لاکہ سپد تم تم چیرن مٹھہ۔ کافر ن ہند رسم او اس کہ حیوانا تہ حیوانا تہ ہندین  
چن اس معبود ان باطلن ہندہ ناوہ نیاز تھوان۔ تو پتہ اس تہندین کن تر تھہ دو ان نغانہ تھاونہ خیطرہ تس  
اس ونان۔ خیرہ۔ بعضی جانورن اس پو تیلن ہندہ ناوہ تھوان۔ کامہ نشہ آزاد تھوان۔ ہتھہ پاٹھہ ازک  
کافر چھہ درم دلد تھوان۔ تس اس ونان سانبہ۔ بعضی کافر اس ماجہ ہندس ششمسی اندر آستھہ چس  
متعلق ونان کہ ہر گاہ یہ نر آسہ تلبہ کرون فلان پو تلبہ سدہ خیطرہ ذبح ہر گاہ مادہ آسہ تلبہ تھاونور چھہ خیطرہ  
پانس کیت۔ اُس اس ونان و صیلہ۔ تس وونٹہ دہ چہ آسہن پیدہ سپد مت تس اس سواری نشہ، پور تلبہ نشہ  
الگ تھوان۔ اُس اس حامی ونان۔ تمنی چیزن اس خدایہ سُنڈ حکم زنان۔ آتھہ ساری چھو اللہ تعالی رد  
کران۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَابِغَةٍ وَلَا وِصِيلَةٍ وَلَا حَامِرٍ کتر نہ اللہ تعالی ان مقرر کانہہ  
خیرہ نہ سانبہ نہ کانہہ و صیلہ نہ کانہہ حامہ۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ وَكَثُرُهُمْ  
لَا يَعْقِلُونَ لیکن کافر چھہ پائے تم لہز رسوم ٹھہر او ان۔ خدا جس کن منسوب کران۔ آتھہ چھہ تمو  
کافر و اندرہ بے عقل۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ يَلْعَنُونَ وَيَأْتُونَ  
رِجُوعًا كَرًّا وَتَمِنُ ارشاد ان کن تم اللہ تعالی ان نازل کر یہ تہندس پیغمبرس کن۔ تمن پیٹھہ تم احکام

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ  
 شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا  
 يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ فَرُجِعْكُمْ جَمِيعًا فَبَيْنَكُمْ  
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا  
 حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ  
 أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْتُمْ

اور شادات نازل کرنے کی۔ قَالَوَحَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا تنہہ چھہ جواب وان اسہ چھو کافی تی یہ  
 اسہ وچھہ پن مال نہ بڈب کران اَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اللہ تعالیٰ چھو فرما  
 وان کیاہ سوطریقہ اوسہ تمن ہدیتھہ حاسل منز کافی۔ کیاہر گاہ تہمد مال بڈب کینہ تہ زمان اسہن نہ نہ آ  
 سہن کنہ اسمالی کتابہ ہندس ہدایتس پیٹھہ توتہ کرہنہ ثم تہنزی پیروی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ  
 ای با اسمائو کمر و پنہ نس پانس اصلاح کر فحجر۔ اصل گوم چھویہ توبہ منہ۔ بین اصلاح کرنس متعلق چھو  
 یہ حکم کہ تہہ پنہ مقتورہ تہ طاقتہ موجب بین اصلاح کر فحج کوشش کمر و مگر تمن کاہہہ اثر سپدہ نہ تہہ مہ  
 کھیو تمیک غم کہ تمن کونہ چھو اثر سپدان لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ لیس شخص تہمدہ اصلاح کرنہ  
 باوجود گمر ای پیٹھی روزہ توبہ چھونہ تمیک کاہہہ نقصان تہ ضرر۔ یلہ تہہ پانہ پور ہدایتس پیٹھہ آسہو الی  
 اللَّهُ فَرُجِعْكُمْ جَمِيعًا فَبَيْنَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خدایہ سی کن چھو تہہہ سارنی رجوع کرن۔ پس گروہ سو توبہ  
 خبر تمہہ سارچی یہ تہہہ کران آسہو یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امْنُوا ای با اسمائو شہادہ بینکم اذا حضر احدکم  
 الموت تہمدین باہمی معاملاتن اندر مثلاً وارثن کن مال سپر دکر نہ خیطرہ گروہن آنزی شخص۔ وصی یلہ  
 توبہ اندرہ کانہہ مرنگ وقت و اتان آسہ۔ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ  
 تمہہ ساتہ وارثن کن مال سپر دکر نہ وصیت تہ کرنہ خیطرہ گروہن زہ شخص مسلمان دیندار کن سم وصی بناونہ  
 بین۔ یازہ شخص غیر مسلم ہر گاہ تہ زہ مسلمان میسر سپدان إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصْبِرْتُمْ مُصِيبَةً

مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تُحْسِنُ نَهْمًا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُ بِاللَّهِ  
 إِنْ ارْتَبْتُمْ لَأَنْشُرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَنْتَهُمْ  
 شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَإِلَيْنَ الْآثِمِينَ ﴿۱۶﴾ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا  
 إِثْمًا فَآخَرُونَ يَقُومُونَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ  
 الْأُولَىٰ فَيُقْسِمُ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَ  
 مَا عَتَدْنَا إِلَّا إِذًا لَإِلَيْنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۷﴾ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا

الموت ہر گاہ توہمہ سفرس منز آستہم رنک وقت ولتہ تحسینو نہما من بعد الصلوة جہند گروہن  
 تم زہ گواہ رن اولائے شہادتہ خیطرہ نماز پڑتہ۔ آنے زہ مسلمان بہتر چھوڈوگر نماز پڑتہ۔ آنے غیر مسلم تلہ یوسہ  
 تمن پندہ طورہ کانہہ نمازہ عبادتہا مقرر آسہ سوعبادت کثرتہ لوکن تھی فیقسمین باللہ إنا ارتبتمہ پس  
 ہاون تم زہ قسم خدایہ سندر گاہ تمن متعلق توہمہ شک آسہ۔ لانشترئی بہ ثمنًا ولوکان ذاقربى قسم  
 ہاون تم ہتھہ تھہ پیٹھہ کہ اس گروہ حاصل ہتھہ قسمہ سیت کانہہ فاندہ یعنی میت سندرہ مالسہ طمعہ موکھ گرو  
 نہ اس ایڈ قسم آدہ آستن آسہ آشتاپن رشتہ دار پین کانہہ ہند رعایت گروہ اس ولانکتہ شہادۃ اللہ  
 پرورد گلارہ سندرہ طرفہ یوسہ تھہ کونہ نکتہ چھو سنو تھہ تھاوونہ اس کھیت لانا اذ الین الاثمین ہر گاہ  
 اس بڑھہ تھہ گرو بیٹک اس چھہ تلہ ٹھگارتہ مجر مؤاندہ وان عُثر علی انہما استحقا اثما پس ہر گاہ کنبہ  
 طریقہ معلوم سپدہ کہ سمودو یوگاہو اور پین حق ثابت کنبہ سیت یعنی خیانت کرتہ ہو کھہ قسم ایڈ فآخرین  
 یقومون مقامہما پس بدل زہ گواہ سپدن قائم ہن دون گواہن ہمزہ جلیہ من الذین استحق علیہم  
 الاولین تہمدہ طرفہ ہند حق ضائع کرنے او سیم زہ یوگواہ آن تم ہند نزد یک رشتہ دار فیقسمین باللہ  
 پس خدای سندر قسم ہاو تھہ وزن سم زہ گواہ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا سان گواہی چھہ زیادہ درست  
 برو نظمین گواہن ہمدہ خوتہ وما عتدنا آسہ کنبہ قسمہ زیادتی کرنے اس حدہ ڈل نہ ہر گاہ اس حدہ ڈلت آسو  
 انا اذ الین الظالمین تلہ چھہ اس ضرور ظالمو اندرہ ذلك ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا

بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُونَ أَنَّ شُرَكَاءَ إِيمَانِهِمْ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۰۸﴾  
 يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ قَالَوا الْاَعْلَمُ  
 لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۱۰۹﴾ اِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ  
 اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوحِ  
 الْقُدُسِ فَتُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَاذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ

سمہ طریقہ قسموسیت چھو زیادہ امید کہ تم دن گواہی جان پاٹھ۔ رتہ طریقہ۔ اَوْ يَخَافُونَ شُرَكَاءَ اِيْمَانِهِمْ  
 بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ يَكُوْثِرُنْ كَمْ اَزْ كَمْ سَمِعْتُمْ نَبِيَّهُمْ كَمْ هِرْ كَاهْ اَسْ پُوْز پُوْز وَنُوْنَهْ تَلِيْهْ اِيْهْ سَانْ گُوْا مِي تِي رُوْ كَرْنَهْ دُوْ سَمِعْ  
 گُوْا مِي سِيْت۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَسْمِعُوا بِهِي كُوْثِرُوْا اللَّهُ تَعَالَى اِسْ مَعَامَلَاتِ وَتَقُوْنِ مَزْمَنَهْ اَسْوَابُوْز وَنَان۔ بِهِي  
 يُوْز وَخُدَايَهْ سِنْدِ احْكَامِ تُوْپَتَهْ مَانُو۔ هِرْ كَاهْ مَانُوْنَهْ تَلِيْهْ سِيْدُوْ فَا سِقْنَهْ نَا فِرْمَانِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  
 اللَّهُ تَعَالَى چھوْنَهْ نَا فِرْمَانِ نَجَاجِ تَهْ سَعَادَتِ وَتَهْ هَا وَاَنْ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ سُودُوْهْ پَاوُوْز تِيْسِ سَمِعْ دُوْ هِنَهْ  
 تَجْمَعْ كَرَهْ اللَّهُ تَعَالَى سَارِي تِيْمُغْمِرِنِ اَتِيُوْ سَانْ سُوْگُوْ قِيَامَتِكِ دُوْهْ كُوْ تَاهْ هُوْ لَنَا كِ چھ فَيَقُولُ مَاذَا اَجَبْتُمْ تُو  
 پَتَهْ پَرْ تِيْجِيْ كِهْ تُوْ هِيْ كِيَا هِ جَوَابِ اوْوَهْ دِنَهْ سَمْنِ اُتْمِنِ هِيْ دِهْ طِرْفَهْ قَالَوا الْاَعْلَمُ لَنَا تَم دِهْنِ اَسِيْ چھوْنَهْ  
 تِيْ تِيْسِ كِهْنِي۔ تَهْ اَسِيْ تَهْ دُوْ هِيْ شِدْتِ هُوْ لَكِ اَثَرِ تَمِنِ پِيْٹھ۔ زَهُوْ لْ اَسِيْجْ سِيْ دُمْتِ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ  
 الْغُيُوبِ پَرْ يَاطِ تِيْ چھوْ كِ سَارِي پُوْشِيْدَهْ چِيْزِ زَانِيْ وَنِ اِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي  
 عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ سُودُوْهْ پَاوُوْز تِيْسِ سَمِعْ دُوْ هِنَهْ پَرْ تِيْ هِيْ اللَّهُ تَعَالَى حَضْرَتِ عِيْسَى اَسْ عَلِيْهِ السَّلَامِ اِي  
 عِيْسَى بِنِ مَرْيَمَ تِيْ تِيْسِ پَاوُمِيَا نِ تَمِ احْسَانَاتِ تَمِ مُخْتَلَفِ وَتَقْنِ اَمِرِ مُخْتَلَفِ قِسْمُوْ تِيْهْ پِيْٹھ تَهْ چَانَهْ وَالدَسِ  
 حَضْرَتِ مَرْيَمَ سِ پِيْٹھ مِهْ كَرْمَتِ چھ اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ يِلَهْ سُوْمِدْ دُرُوِيْ نَهْ پَاكِ رُوْحَهْ سِنْدِيَهْ  
 سِيْتِ (سُوْگُوْ جِيْرِيْلِ اِيْنِ عَلِيْهِ السَّلَامِ) تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا كَهْ اُوْ سَكْھِ كِرَانِ تَهْ لُوْ كِيَارِ سِ لُوْ كِنِ  
 سِيْتِ مَزْمَنِ لِسِ مَزْمَنِيْهْ يُوْذُوْ وَاتْتَهْ دُوْنِ كَلَامِنِ مَزْمَنِ اَسْنَهْ كَا هِنَهْ فِرْقَاهْ وَاذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالحِكْمَةَ بِهِي

وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ  
 كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِي وَ  
 تُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِأَذْنِي  
 وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ  
 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحارٌ مُبِينٌ ۝۱۰  
 إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا  
 آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝۱۱ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ

یله مه پنجه نامو سمه شه پنهن ته گانجار چه گنه و التوراة و الانجيل بيه تورات ته انجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني بيه يله شه بنوان اوسكه ره بهند جانور مي ميانه حكمه فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني پس اوسكه شه منزه منزه پخو كه دوان توپه اوس سوواره كاره جانور بنان ميانه حكمه و تبرى الكمة و الابرص باذني بيه اوس بن مولي اون، نابينا ته بيتهر لذي سمار بلراوان ميانه حكمه واذ تخرج الموتى باذني بيه يله شه مرده اوسهك زنده كرت قبر و منزه كه دان ميانه حكمه واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات بيه يله مه بنى اسرائيل شه نيشه پنه رث يله تموجانه قلك اراده كريو يله شه تمن نيشه نيزه دليله بيتهه كه فقال الذين كفروا منهم ان هذا الاصحاح مبين پس دون تموج اندره تموج لوكو سم كافر اس پنهنه سمه روشن دليله مگر نون حرت ته جود۔ واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي بيه يله مه حواريين حكم كور كه پشه كرمه بيه ميانس عيشمير س قالوا آمنا و اشهد باننا مسلمون تموج و وپ ژيه گن تميك جواب كه اسه اون اسمان خدا پس ته ته ژيه ته دون روز شه اي حضرت عيسى گوا كه اس بهمه پز پاك مسلمان فر مانبر دار خدايه سنده ته چان ته اذ قال الحواريون يعيسى ابن مريكم بيه جهو قابل ذكر واقعه يه يله حواري يود و پ يا حضرت عيسى ابن مريم سم

يُعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۱﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۱۳۲﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ

هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ کیا تھند پروردگار ہینا اہ پیٹھ آسمانہ طرفہ نعم ہند خواجہ نازل کر تھ، والہ تھ، تہ ماہجو تھندس عنہ خمس خلاف قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حضرت عیسیٰ ان دو پچھ کھو ژو خدا ایس ہر گاہ تہہ بالہسمان چھوہ۔۔۔ پٹھ تھ کر نہ نشہ روز و پٹھ ہکیازہ بالہسمان ہزہ نہ مجرآن ہنز فرمایش کرن۔ بے ضرورت امہ قسمک چیز طلب کرن چھو خلاف آب۔ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ تم لگ ونہ اسہ خدایہ سندس قادر مطلق آسئس اندر عنہ قسمہ شک تہ تردہ چھو نہ بلکہ چھو سون مقصدیہ ونہ اندرہ اکھ کہ اس کھیمہ ہو کینہہ اسہ پچھ پچھ ہجو بہ روزہ ہن سال دل مطمئن۔ اسہ پیہ ہند معاشہ خیطرہ فجر تھاون تمہ نشہ بے فکر روز تھ کرہ ہو اس خدایہ سنز عبادت۔ بیہ سپد ما معلوم اسہ توہہ فر مووہ ہوز۔ بیشک چھو تہہ پیغمبر خدا۔ بیہ روزہ ہو اس تھندس اتھ معجزس پیٹھ گواہ۔ سو سپدہ ہائین لوکن ہندہ ہدایتک ذریعہ تہ سبب قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ چنانچہ یہ جواب بوز تھ سپد معلوم حضرت عیسیٰ اس کہ تھند غرض چھو صحیح اتی کوزکھ دعا اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ یا اللہ ای ساندہ پروردگارہ نازل کر اسہ پیٹھ خواجہ۔۔۔ پٹھ منزر تھہ کر تھ، تیار سپد تھہ تھینک چیز آن آسمانہ طرفہ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ تمیک و س تہ نازل سپدن بہ ساندہ خیطرہ، سائین برو تھمین پتین ہندہ خیطرہ فرحت و سرورک باعث۔ بیہ سپدہ سوچانہ قدرت کاملک بوڈ نشانہ۔ کر اسہ امہ

خَيْرَ الرِّزْقَيْنِ ﴿۱۱۶﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزَّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ  
 مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعْدِبُ بِهِ عَذَابًا لَّا أَعْدِبُ بِهِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۷﴾  
 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِبِي ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي  
 وَأُمَّيَ الْهَيْبِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ  
 مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي  
 وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿۱۱۸﴾ مَا قُلْتَ لَهُمْ

طریقہ بہن رزقِ ثرہ عطا شری چھو کہ ساری اندرہ بہتر عطا کرہ و ن قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزَّلُهَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ  
 تعالیٰ ان فر موو کہ بیشک بو کرہ نازل خواجہ توہمہ پیشہ ضرور مگر فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أَعْدِبُ بِهِ عَذَابًا  
 لَّا أَعْدِبُ بِهِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ تمہ پتہ نئس اکھاہ توہمہ اندرہ ہر ان نعمت کرہ یعنی حقوق واجبہ ادا کرہ نہ تس  
 کرہ یو سو عذاب نئس نہ کانسہ ائس کرہ بہ تمہ وقتہ کیو عالیو اندرہ۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقِبِي ابْنَ مَرْيَمَ یہ  
 چھو قابل ذکر یہ واقعہ نئس قیامتک دوہ در پیش یہ۔ اللَّهُ تعالیٰ فر ماوہ تمہ دوہمہ یا عیسیٰ بن مریم ؑ اَنْتَ  
 قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ الْهَيْبِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کیاہ ترے وو تمہہ لوکن بو تہ میان والیدہ زالیعون زہ  
 معبود، خدائس و رای (یہ یوزانہ سیت و و تمہہ تمہ حضرت عیسیٰ ائس) قَالَ ثَنَا ثَنَا وَنہ سُبْحَانَكَ مُنَزَّرہ  
 نہ پاک چھو کہ ترہ شریک آئسہ نشہ۔ میلانہ دلجمہ اعتقادہ موجب تہ حقیقت واقعی موجب تہ مَا يَكُونُ لِي  
 مہ تمہہ پاٹھ پڑہا ان اَقُولُ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ بُوکیاؤنہ ہاسو کہہ تمیک نہ میہ کانہہ حق اوس نہ پینہ دل کہہ  
 اعتقادہ کہ اعتبارہ نہ حقیقت واقعی کہ اعتبارہ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ہر گاہ میہ پیشہ تمہہ و نمہ آسہ تلہ  
 آسہی ترہ خبری تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ترہ زا کھ تہ سوزوی یہ میا ئس و ندس منز چھو  
 کھٹھ۔ مگر یوزانہ نہ یہ چائس ذات پاکس منز چھو مگر تروی بن ایہ ہن ترہ زانزو تھس اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ  
 الْغُيُوبِ پڑیاٹ ترہ چھو کہ سبھاہ زانہ ون ساری پوشیدہ چیز ما قُلْتَ لَهُمْ اِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِہ میہ و ون نہ  
 لوکن مگر تی سمیک ترہ حکم کور تھم اِنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ سونگنیہ یہ تھ کہ عبادت کور معبود

إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُ وَاللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ  
 شَهِيدًا أَتَادَمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ  
 وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۱۴ إِنَّ تُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّهُمْ  
 عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱۱۵ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ  
 الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

برحقہ سزائیں میوں تہ تہند ہروردگار جھو وکنت علیہم شہیداً اٹاممت فیہم اتیس کاس یو تمن  
 منزاوس آسمانس پیٹھ کھارنہ بنہ بروٹھہ تہ آسمانس پیٹھہ کھارنہ بنہ پتہ تہ تیس کاس اوس یو تمن بحرانی  
 کران تہ تہوند حال وچھان فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید تمہ پتہ بلہ تہ  
 میوں وقت پورہ کورتھ اہ لوسکھ تہ تہند ر اچھہ تہ جھو کھہ پرستھہ چیزک حال وچھان ان تعذبہم  
 وانہم عبادک ہر گاہ تہ تمن عذاب کرکھ تم چھہ بندہ چانی۔ تہ جھوی پورہ اختیار تمن پیٹھہ۔ وان  
 تغفرلہم ہر گاہ تمن بخشکھہ تہ مغفرتھی کرکھ فانک انت العزیز الحکیم چان اتھہ کانہہ چھہ ہیجہ  
 نہ رٹھہ کیما تہ جھو کھہ بیشک سارنی پیٹھہ غالب تہ جنتہ وول قال اللہ ہذا یوم ینفع الصادقین  
 صدقہم فرمو اللہ تعالیٰ ان یہ ازیک دوہ جھو سیمہ دوہہ نفع دیہ پز یارین پوز پین۔ سیمو لوکو پز  
 اعتقادس پیٹھ روز تھہ رتھہ عملہ کر مڑہ آسن لہم جنت تجری من تحتہا الانہر خالدين فیہا ابدا تہندی  
 خیطہ چھہ تم جنت تہ بلخ سیمو منزا جو یہ پکان آسن تم روزن تمنے جتن منزا ہمیشہ لبد الابد رقی اللہ عنہم  
 ورضوا عنہ خدا تمن ریشہ راضی تم خدا س ریشہ راضی تہ خوش۔ ذلک الفوز العظیم یہ گیبہ ہڈ  
 رسنگاری تہ کامیابی یعنی رضای خدا حاصل سڈن۔ دنیا عج کانہہ کامیابی چھہ اتھہ برابر اللہ ملک



فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾  
 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ پادشاهتِ چھ آسمانِ منزتہ زمینِ منزبہ تہن سارنی پٹھہ تہم تہن دون  
 منزروان چھ۔ عالمِ علویکِ مخلوق تہ عالمِ سفلیکِ مخلوق تہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سؤی چھوہر تہتھہ  
 چیزس پٹھہ قدرتہ دول۔ امسی مالکِ کس ہرہ پنہ نین مخلوقن پٹھہ احکامِ مقرر کرن۔ سٹھہاہ چھہ تہ ناجائز  
 چھو تہتھس پادشاہہ سز، تہتھس قدرتہ والِ سزنا فرمانی تہ عدولِ حکمی کرن۔



## سُورَةُ الْأَنْعَامِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ  
 وَالنُّورَ ۚ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ① هُوَ الَّذِي  
 خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَكُمْ وَأَجَلٌ مُّسَمًّىٰ عِنْدَهُ ۚ ثُمَّ أَنْتُمْ  
 مَمْتَرُونَ ② وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۚ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ  
 جَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ③ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ

أَحْمَدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ساری حمدتہ شائعہ سزاوارتس  
 معبود برحقس تم پیداء کر آسمان تہ زمین بیہ تم پیداء کر گمہ تہ گاش ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ  
 يَعْدِلُونَ یتھہ قدر تہ دول آتھہ ہجھہ کافر پنہ نس پروردگارس سیت برابر تھاوان مخلوقو آندرہ معبودان  
 باطن (کجا خالق تہ کجا مخلوق) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَكُمْ سُوگو سُوی پیداء کر ہون تم  
 تہہ پیداء کر و۔ رَبِّہ نیشہ بواسطہ حضرت آدم علیہ السلام۔ توپتہ کمرن مقرر اکھ وقاہہ پرستھہ اکسندہ زینہ  
 تہ مر نہ خیطرہ وَأَجَلٌ مُّسَمًّىٰ عِنْدَهُ بیاکھ وقاہہ جھوتس نشہ مقرر تہ مُعْتَمِنٌ تھندہ دُوبارہ زندہ سپد نہ  
 خیطرہ ثُمَّ أَنْتُمْ مَمْتَرُونَ تو تہ تہ جھوہ تو بہ اندر بعض لوکھ شک تہ ترؤد کر ان مر نہ پتہ بیہ زندہ سپد نس  
 منز۔ حالہجہ ہم ذات پاکن سو زوی گوڈہ پیداء کر تمس نش کیاہ عجایب جھو دُوبارہ بیہ پیداء کر۔ وَهُوَ  
 اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ بیہ جھو سُوی معبود برحق آسمانن منز تہ زمینن منز تہ۔ نس ورا ی جھہ  
 ساری معبودان باطل۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ زانان جھو سُو تھند پو شیدہ احوال  
 تہ۔ نن احوال تہ۔ لو تہ لو تہ تھہ تہ بدہ بدہ تھہ تہ بیہ جھو زانان تہ سو زوی بیہ تھہ کر ان جھوہ نیک و بد عملو

رَّيِّمٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۵۱﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ  
 فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا يَستَهْزِءُونَ ﴿۵۲﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ  
 أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمَكِّنْ لَكُمْ  
 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ قَدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ  
 تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۵۳﴾  
 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرطَابٍ فَلَسَوْهٌ بِأَيْدِيهِمْ لِقَالٍ

اندره۔ تمہو ترشوی آیات کریمو سیت سید ثابت توحید باری تعالیٰ کیا زہ نئس اندر تم صفات آس  
 سوی چھو عبادتس سزاوار بیہ نہ کانہہ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنَ الْآيَةِ مِنَ الْآيَاتِ رَّيِّمٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ بیہ  
 چھو نہ تمکن مکہ کین کافران تہ مَعْرَن نَفْسَ خَدِيحِ سِدَه وَحَدِيثَه کیو نشانو اندرہ کانہہ نشانہ کانہہ دیلاہ  
 واتان۔ مگر تم چھہ تمونشانو نہ دلیلو نشہ ہتھ پھر ان۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ چنانچہ تمو کور انکار  
 ہتھ ہزس قرآن مجیدس یلہ سو تمکن تَعْبَه ووت۔ مگر تمکن ہندہ امہ انکار کر نہ تہ ہتھ پھر نہ نَفْسَ لیہ نہ اچھ  
 تُوہ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا يَستَهْزِءُونَ جلدی لکھہ تمکن پتہ تمہہ چیز ک یو تھہ تم ٹھٹھہ کران  
 آس یعنی عذابس گڑھن گرفتار أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمَكِّنْ لَكُمْ  
 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ قَدْرَارًا کیاہ تمو وچھناہ پنہ نین سفن اندر۔ اسہ کا زاہ امر چھہ ہلاک کرہ  
 مرہ تمکن اسہہ دنیا س اندر سو قوت تہ طاقت دیو تہمت اوس نئس نہ توہہہ دہمت چھو۔ بیہ آس آس تمکن  
 پیٹھہ آس لکھہ طرفہ پے در پے وزہ وزہ زود تراوان وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ بیہ آسہ ہمزہ  
 وبستیو تہ آبادی منزہ جو بیہ تہ کولہ جاری کرہ مرہ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ باوجود آس کتر اسہہ تم ہلاک تہند  
 یو تھو تہ نافرمانیو سببہ۔ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ تو پتہ کترہ اسہہ تمکن پتہ واریاہ جمات سیدہ۔ ہتھہ پانٹھ  
 توہہہ پیٹھہ تہ ہمزہ نافرمانی سببہ اس عذاب نازل گرو بیہ کیاہ عجائب چھو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرطَابٍ  
 فَلَسَوْهٌ بِأَيْدِيهِمْ لِقَالٍ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ هَذَا إِلَّا اسْحَرُؤُنَا بِئِنَّ تمکن لو گن ہندہ کفر و عناد چ چھہ بیہ کیفیت

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ④ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ  
عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ الْقُضَىٰ الْأَمْرُ لَمَّا لَا يَنْظُرُونَ ⑤  
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِ مِمَّا  
يَلْبَسُونَ ⑥ وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَمَقَ  
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑦ قُلْ

کہ ہر گاہ اس کا غرض پیٹھ لیکھتے کتابا تو بہ پیٹھ نازل کرہ ہو تو پتہ کرہ من تم پنے نیوا تھو سیت تھتھ  
تھپ۔ تو تہ ونہ من تم کافر تہ معر یہ جھونہ مگر ناکارہ ہو جو دتہ سحر کیا زہ یلہ نہ دل کن مانن غرض جھو  
آسان تلہ جھو پر تھتھ دلیلہ نسبت کھنہ نتہ کینہہ کھ پوان کڈنہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ بِسِ  
وَدُونَ تہم کافر و کیا زہ جھونہ تن پاتھ نازل سپدان حضرت محمد ﷺ تھتھ کانماہ مکاہ کس یہ ہندس  
پیغمبر آس تھتھ تصدیق کرہ ہا۔ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ جھو فرماوان ہر گاہ اس نازل کرہ ہون مکاہ  
تھتھ پاتھ تم پڑھان آس الْقُضَىٰ الْأَمْرُ لَمَّا لَا يَنْظُرُونَ تلہ یہ ہاتھ ختم کرہ نہ یعنی تھتھ صورتس  
اندر ہر گاہ تم ایمان آنہ من نہ۔ تلہ یہہ ہاتھ ہلاکت تہ گالکت حکم جاری کرہ تھتھ اندر نہ تم نکتہ قسمہ  
مملت یہ ہاونہ موجود صورتس اندر آہ تم مہلت ونہ تھتھ تم توبہ کر نک موقعہ حاصل سپدہ وَلَوْ  
جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا بسہ ہر گاہ اس پیغمبر بناوتھ سوز ہون کانہہ ملک سوتہ کرہ ہون اس  
بصورت انسان کیا زہ عام انسان جھونہ طاقت ملک و جھتک وَاللَّبَسْنَا عَلَيْهِ مِمَّا يَلْبَسُونَ تو پتہ  
تراوہوک اس تم تمخی شین اندر تم اندر و نکس تم پیمت جھتہ تمہ ساتہ ونہ من تھتھ تمہ و نکس  
ونان جھتہ تمہندس بصورت انسان آسکس پیٹھ کرہ ہن شہ خبر چھایہ جھا ملک بنہ جھونہ۔ لہذا مہ  
سپد تہہ یار سول اللہ بنہم و کھو سیت آرزوہ یہ نوکھا جھنہ وَلَقَدْ اسْتَهْزَىٰ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَمَقَ  
بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ پڑپاتھ تھتھ آو کر نہ تم پیغمبرن  
سیت تہ تم توبہ برو تھتھ آس۔ تو پتہ ول تم تمخی عذائن تھتھ تم تھتھ کران آس۔ لی بنہ تم کن لوکن تہ

سَيُرَوُّ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرْ وَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿۱۱﴾  
 قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى  
 نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ  
 خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْلِ  
 وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۳﴾ قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ آخِذَ وَبِئَا

سیم توہم ٹھٹھہ کران چھوہ۔ لہذا تمہ بانہر وکینہہ۔ قُلْ سَيُرَوُّ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرْ وَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
 الْمُكَذِّبِينَ فرماویو کہ تہہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لو کو پھیر و تہہ ساری زمینیں تو پتہ و چھو کیا  
 چھو سپد مت انجام معمرن ہند۔ مومن آیت اہرزان قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ پر تھیو کہ  
 تہہ یارسول اللہ آسمان وزمینس منزیہ چھو تہہ ہند چھو قُلْ تم نے امیک جواب و ن پورے فرماویو کہ  
 کُلُّهُ سوزوی چھو معبود برحقہ سند کیا زہ امیک جواب چھو نہ امہ و رای کنہی۔ کُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ  
 الرَّحْمَةُ تم چھو ذمہ ہر مٹیاں پیٹھہ لو کن نسبت مہربانی کرن۔ تم ہر کہہ نشہ توبہ گران لِيَجْمَعَنَّكُمْ  
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ضرور کرہ توبہ سارنی جمع قیامتک دوہ تو پتہ یہہ سارنی حساب قیامتک دوہ  
 گو تمکس پیش منزہ شکھ چھو کانہہ۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان ڈیٹھہ کیٹھہ تہہ تہہ تہہ کافر ن توحیدہ چہ  
 دلیلہ رحمتک تہہ عذابک وعدہ و عیدہ کمر و الْكٰفِرِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ مگر سہو لو کو ٹین پان  
 پائے نقصانس تہہ تاوانس منز تر و تم پڑھہ کرن نہ، ایمان آنن نہ۔ کیا زہ تہو چھہ پن عقل تہہ نظر صحیح  
 ضایع کر مٹ۔ کانہہ چیز حاصل کرن خیلرہ چھو قوت فکریہ استعمال کرن لازم تہہ ضروری آسمان۔ تہہ  
 قوتس چھہ تم کائی ہیوان۔ لہذا تہہ پاٹھہ آنن تم ایمان۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ یہہ چھو  
 تہندوی تہہ سوزوی یہہ رائس تہہ دوہس منز روز تہہ چھو۔ یعنی مکان وزمانس منزیہ کینہہ ہاہ چھو تہہ چھو  
 تہندوی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سؤی چھو سوزوی با زہ و ن سوزوی زانہ و ن قُلْ فرماویو کہ تہہ یہہ یا  
 رسول اللہ أَغْيِرَ اللَّهُ آخِذَ وَبِئَا قَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطَعَّمُ وَلَا يُطْعَمُ اِي كَافِرٍ وَتَهَّه چھوہ

فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلٌّ  
 إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ  
 الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ  
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ  
 ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَإِنْ يَسْسُكَ اللَّهُ بِصُرِّ فَلَا كَاشِفَ  
 لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَسْسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

پڑھان ہو کیا رٹن معبود برحقس وراى بىہ کانہہ دوستاہ مددگارہ تہ معبود المنسز عبادت بو کرہ سوتراوتھ  
 ئس آسانن تہ زمين مند پيدہ کروون چھو۔ بيه چھوسارنى کھياوان۔ تس چھونہ کھياوان کانہہ۔ کيا زہ سُو  
 چھو کھينہ چينہ نشہ منزہ تہ پاک قُلْ إِنِّي أَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ  
 الْمُشْرِكِينَ فرمايو کہ تہہ يار سول اللہ سمو عقلی دليلو علاوہ چھہ نقلی دليلہ سمو موجب نہ بوئنه صور تہ  
 تس وراى کانہہ معبودزان۔ سنو نقلی دليل گنيہ بيہہ کہ ميہ اوامر کرنہ کہ بو آسہ گوڈ بھوى کھمس تعويل  
 کرون۔ بيه آم حکم کرنہ نيٹھ نہ ہرگز بنو تہہ شرک اندہ وينو آندرہ۔ بيه ييلہ تس صاحبس وننہ آؤئس  
 صاحب شرک اندہ نشہ معصوم تہ پاک چھو۔ ون چھنہ بينن ہننز تھي۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ  
 رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فرمايو کہ تہہ يار سول اللہ بو چھوس کھوژان ہر گاہ بونا فرمانی کرہ  
 پروردگار س پنہ نس۔ بڈہ دو بھس عذابس۔ ئس عذاب حکم نہ مانو نين کرنہ بيہ۔ سُو بوڈوہہ گو قيامتک دوہ  
 مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ تہہ تس اس نشہ تہہ دوہک عذاب ہتھہ ليہ رنہہ بيشک تس  
 کور خدا ن بوڈر حم۔ وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ سوي گيہ ن رستگاری تہ کاميابی يعنى تہہ دوہيچہ عذابہ نشہ  
 نجات لہن وَإِنْ يَسْسُكَ اللَّهُ بِصُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ای انسانہ ہر گاہ ژيہ واتاوى اللہ تعالیٰ کانہہ  
 تکليفہ، کانہہ بلاياہ کانہہ بيارياہ سہہ تنگياہ ئس چھونہ کانہہ اکھاہ ئس نيٹھ تکليفس ژيہ نشہ ڈور ہيچہ کمر تھہ  
 تس معبود برحقس وراى۔ وَإِنْ يَسْسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر گاہ سوتراوتای ژيہ

قَدِيرٌ ﴿۱۷﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۱۸﴾  
 قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ وَتَفِئَةً شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَقَدْ  
 وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْكُمْ  
 لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا  
 هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۱۹﴾ الَّذِينَ اتَّيَبْتَهُمْ  
 الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ

کانہ خیراہ صحابہ، دولتہا، تسلطہ کا نہ رشتہ ہیچ نہ سوچو پریتھ چیزس پیٹھ قدرت دول۔ وَهُوَ  
 الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ سؤی چھو غالب پنہ نین بدن پیٹھ۔ یہ چھو سؤی بوڈ حکمت  
 دول سارچی خبر تھادہ وں قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً تہہ پر تھو سمن توحید و رسالتہ کین مکران کہ  
 ساروی آندرہ تہہ چھو بوڈ گواہ آسنہ کن۔ سمندرہ گواہی سیت تہہ مختلف فیہ مسلسل منز فیصلہ یہ کرنہ قُلِ  
 اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ یوزے فرماوی کہ تہہ سہ ساروی خوتہ چھو بوڈ گواہ آسنہ کن اللہ تعالیٰ۔  
 سؤی چھو میہ منزتہ تہہ منز گواہ۔ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْكُمْ  
 لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ کیا تہہ چھو امہ جہ گواہی پتہ تہ گواہی دوان کہ خدا لیس سیت کیاہ  
 چھو یہ کا نہ معبودتہ شریک۔ ہر گاہ تم دین تم چھہ توتہ امہ شرح گواہی دوان۔ تھہ صور تس اندر چھو  
 تہن سیت گفتگو کرن بے کار قُلْ لَّا أَشْهَدُ تہہ فرماوی کہ بوہر گز اتر تھہ ہنز گواہی چھو سنہ دوان قُلِ  
 إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ تہہ فرماوی کہ تھہ صور تس اندر پن اعتقاد کہ سؤ معبود  
 چھو نہ مگر کئی۔ بوچھوس بیزار تمو چیز و نشہ تیم چیز تہہ تس شریک ٹھہراوان چھو۔ رسالتس متعلق  
 چھہ کافر و نان کہ اسہ پڑ تھہ یہود و نصاریٰ ان تھہ متعلق چھہ یہ تھہ تھن کہہ الَّذِينَ اتَّيَبْتَهُمُ الْكِتَابَ  
 يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ تم لو کہ سمن اسہ کتاب عطا کر تم چھہ اس پیغمبر برحق شک و شبہہ  
 واری تھہ پاٹھ زانان تہ پڑہ ناوان گوڈہ پیٹھ تھہ پاٹھ پنہ نین نچوین زانان تہ پڑہ ناوان چھہ الَّذِينَ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۱﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ  
 كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۲﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا  
 ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ  
 تَزْعُمُونَ ﴿۲۳﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتِنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا  
 مُشْرِكِينَ ﴿۲۴﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ  
 مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۵﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ

خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ سمو لوگو باوجود شہادتِ عمری یعنی بڑگو ای آسجہ باوجود پین پان تاوانس  
 تہ نقصانس منز تراو تم ہر گز پڑھ کرن نہ، نہ توحیدس نہ رسالتس۔ تیم مکرین توحید و رسالت چھہ  
 عقلاً تہ نہایت بے انصاف وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ  
 الظَّالِمُونَ بیہ تمہ اکھاہ چھو یژ ظالم تہ بے انصاف تس شخصہ سدہ خو تہ تیم اپز نوو رووکس خدا تس پیٹھ  
 شریک ٹھہرونہ سیت۔ یا اپز زان تہند آیات تیم پیغبرن عطا آی کرنہ۔ پز پاٹ کامیالی تہ رستگاری  
 چھہ ہر گز تھین ظالمین قیامتک دودہ بلجہ آس تم گرفتار عذاب وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا بیہ چھو سو دودہ  
 تہ قابل ذکر سمہ دودہ اس تم ساری خلایق جمع کرو کہ محشرہ کس میدانس اندر ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ  
 أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ تو پتہ و تو اس تم لوکن تیم خدا تس شریک  
 ٹھہراوان آس۔ اکی مشرگوکتہ چھوہ تم معبودان باطل تیم تہہ خدایہ سد شریک زانان آسوکہ۔  
 سفارشہ خیطہ ہونہ چھو کہ پیش کران ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتِنَتُهُمْ تو پتہ آس نہ تم پینہ خیالہ نجاتک کانہہ  
 حیلہ تہ ہمانہ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ اپز و نہ و رای کانہہ چیزاہ۔ دین قسم تس  
 خدایہ سد تس سون پروردگار چھو۔ اس آس نہ خدا تس شریکی ٹھہراوان أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَىٰ  
 أَنفُسِهِمْ وارہ و چھو کیتھ اپز و ٹھہ پینہ نین پان ہندہ حقہ۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ  
 بیہ مشھہ تمہہ سارے کتھ، اپزہ کتھ سمہ ٹھہراوان آس تم دنیاس اندر وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ



قُلُوبِهِمُ اكْتَنَتْ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةَ  
آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ يُخَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ  
كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۵﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ  
وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۶﴾  
وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ  
بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۷﴾ بَلْ بَدَّ لَهُمْ مَا كَانُوا

سمو کافر و اندرہ چہ بعضی تم تہند قرآن مجید ہر ان چہہ بوزان۔ مگر سو تہند بوزان حق تہانندہ خیطرہ  
آسان چہونہ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ اكْتَنَتْ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اس چہہ تہندین دل پیٹھہ  
تراومت ٹھہر۔ تہنہ تم فخرہ ترہ کینہہ بیہ چہو تہندین کن ترومت ز تہنہ بوزان سیکھ کینہہ۔ تہنزن  
اچھن ہنز کیفیت چہ کہ وَان يَرَوْا كَلِمَةَ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ہر گاہ تمہ سارے ذلیلہ تہ وچھن توتہ  
کر نہ پڑہ زن نہ کہنی وچھتہ آسکھ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ يُخَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا  
آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تا اینکه یلہ تومہ نشہ یوان چہہ پڑہ خیالہ بحث کر نہ خیطرہ مگر کینہہ چہو کھ نہ  
اندان لاجواب گدھتہ چہہ ونان تم کافر تہہ قرآن مجید چہونہ مگر برو تھنن ہند اہز قصہ تہ افسانہ وَهُمْ  
يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ بیہ چہہ تم کافر قرآن مجید بوزنہ نشہ پتہ رٹان تہ منع کران بیہ چہہ پانہ تہ  
آسہ نشہ پتہ ژلان تہ دور روزان وَان يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ مگر یہ کر نہ سیت چہنہ تم  
تباہ کران مگر پنے نی پان بیہ چہہ یہ پن تباہی ژنیان تہ محسوس کران وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ ہر  
گاہ ژوہ چھکھہ ائی وچھہہ سو وقت سمہ ساتہ تم کافر تہ مُکروودنہ تھانہ بن نار کس ٹھس پیٹھہ پڑہہ گار  
کر نہ خیطرہ بین پینہ خیطرہ تمہ ساتہ وچھکھہ ژہ سیٹھا ہولناک منظر اہکھ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ تمہ ساتہ  
لگن دہنہ تم ائی کاش اسے دنیاء س گن بیہ سمہ ہو سوزنہ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ  
الْمُؤْمِنِينَ وَنِ اس پنے پن خدایہ سندین آیاتن انکار کروہ ہونہ، تم اپوزانہ ہونہ۔ وگنہ نہ ہو اس تہ

يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۳۸﴾ وَقَالُوا لَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۳۹﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۴۰﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا لِمَ خَسِرْنَا عَلَىٰ مَا نُرْتَابُ فِيهَا ﴿۴۱﴾

با ایمانوی اندرہ۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یہ ہندیہ تمنا کرن چھونہ منہ حقیقتس پیٹھہ مینی بَلْ بَدَّ اللَّهُ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ بلکہ سپد تمین چیزن ہند اثرات ظاہر ستم پو شیدہ تہ کھٹھہ تھوان آس تم از کہ بروٹھہ دنیا س اندر وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ہر گاہ ستم بیہ دنیا س آس کن وائس بین سوزنہ بیہ کرن تے کامہ سمونہ منع اوسکھ یوان کرنہ پز پائھ تم چھہ ستم وعدہ کرنس اندر بالکل اپزیر وَقَالُوا لَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ بیہ آس ستم کافریتہ وان کہ بیاکھ زندگیہ چھنہ بیہ کینہہ ستمہ سانہ دنیا چہ زندگی ورا ی۔ یہ کھہ چھہ غلط کہ اس کیا سمومرنہ پتہ بیہ زندہ کرنہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ہر گاہ ژہ وچھہ کھہ آی وچھہ ونہ سو وقت ستمہ ساتہ ستم قیامتک مخر وودنہ تھوانہ بین پنہ نس پروردگار س بروٹھہ کھہ ژہ گھہ کھہ حیران تہ پریشان سو وقت وچھہتھہ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ فرماویکھہ ای مجھ کو کیا آسنا یہ قیامت تہ مرنہ پتہ زندہ سپدن حق تہ پوز قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا دین سانس پروردگارہ ستمہ ستمہ ای اوس واقعی بالکل پوز قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اللہ تعالیٰ فرماویکھہ یہ تہ ہندس اقرار کرنس چھونہ کینہہ اعتبار لہذا تہ وودون تہ عذاب پنہہ کفرک تہ انکارک تو پتہ بین سوزنہ ستم جہنم س منز قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ بیشک تاوان پیو تمین کو کن ستم انکار آسن کران مرنہ پتہ بیہ زندہ سپدت خدا لیس بروٹھہ کھہ پیش سپدنس یہ انکار و تکذیب چھو دنیا س اندر کینون وون حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا لِمَ خَسِرْنَا عَلَىٰ مَا نُرْتَابُ فِيهَا ﴿۴۱﴾

وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلْسَاءً مَا يَزِرُونَ ﴿۳۱﴾  
 مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآرْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ  
 يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۲﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ الَّذِي  
 يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ  
 يَجْحَدُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ  
 مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ

فِيهَا تَمَّه پتہ یلہ واتھ پیہ تمن قیامت ہنکہ تہ منگہ دپنہ لکن افسوس جھوسانہ خیطرہ آسہ کیازہہ کرے یہ  
 سستی تہ کوتاہی اتھ اندر وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلْسَاءً مَا يَزِرُونَ درحالیجہ تلن تم پتہ  
 نین گنہن ہند پور پتہ نین پٹشن پیٹھہ۔ وارہ یوزو کہ کوتاہی جھہ آسہ پتہندیہ بور کیازہہ تمیک انجام آسہ سیٹھاہ  
 جھہ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ جھنہ یہ دنیا ج زندگی مگر گند ناہ تہ شغلاہ وَلَلْآرْآخِرَةُ  
 خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ البتہ آخر تک گرہ جھوس سیٹھاہ بہتر پر ہیز گارن ہندہ خیطرہ کیا سمہ  
 ذلیلہ یوز تھہ تہ جھوہ ناتوہہ فکرہ تران۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ہز پٹھاہ آس جھہ  
 بخوبی یہ تھہ زانان کہ توہہ جھہ غمگین کران کافرن تہ مکران ہنزہ کتھہ۔ مگر پروانہ ہر وکینہہ خدا ئس پٹھر و  
 یہ معاملہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ سم نہ حض جھنہ براہ راست توہہ اپز پور زانان وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ  
 بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ لیکن سم ظالم جھہ خدایہ سندن آئین زاتھ کتر تھہ عمدہ انکار کران خدا  
 چھڈہ نہ سم عذابس گرفتار کرنہ وراہی۔ تہہ رُوزو بے فکر وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ یہ معاملہ  
 سپدنہ توہی سیت، بلکہ توہہ بروٹھہ تہ آو پیغمبرن انکار کرنہ۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا تموکور  
 صبر لوکن ہندس انکار س، نہ مانس پیٹھہ وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا یہ انکار علاوہ آو تمن عذاب تہ  
 تکلیف تہ واتوانہ تا اینکه دوت تمن مدد سون۔ تموک پیغمبر و جھہ پٹھاہ صبر کور تھہ پٹھاہ کتر و تھہ تہ صبر،  
 تھہ پٹھاہ واتر توہہ تہ سون مدد۔ کیازہہ یہ اعانت و مدد کرن جھوساہ پتہ نین ہندن ہندہ خیطرہ مقرر

لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تَبَائِي الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۷﴾  
 وَإِنْ كَانَ كِبُرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ  
 نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
 لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۸﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ  
 الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۳۹﴾

کورمت ولامبیدال لکلمات اللہ ہرگز یہ کہ نہ کا نہ اکھاہ بدل کتر تھ خدایہ سندن مقرر کرتین  
 حکم و لَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تَبَائِي الْمُرْسَلِينَ بیشک توہم واثرہ بروظمین عظیمبرن ہنز خبرہ قرآن مجید  
 کہ ذریعہ یعنی تمہن تھہ پاٹھ آو تکلیف دنہ۔ تھہ پیٹھ تھہ پاٹھ کور تمو صبر و لَنْ كَانَ كِبُرُ عَلَيْكَ  
 إِعْرَاضُهُمْ بِہ ہر گاہ توہم پیٹھ کافرن تہ مکرن ہنز روگردانی کرن چھو ناگوار سپدان۔ تھنز خواہش چھہ  
 تمہن تم معجزات ہاون تمہن ہند تم مطالبہ کران چھہ۔ دیوہ تمی سیت تمہن ہدایت بنہ وَاِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ  
 تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ بایہ کس ہر گاہ توہم طاقت چھو تہ کتر و  
 تلاش زمینس منز کا نہ گوچھاہ یا آسمانس کن لاگو کا نہہ ہیراہ تو پتہ دیو کہ آنتھہ تم معجزہ تم تم توہم نشہ  
 ژھانڈان تہ طلب کران چھہ۔ چھوے طاقت تہ کتر و یہ چھو پوکہ توہم چھو سیٹھاہ آرزو عالک لو کہ  
 گزھہ سیزہ دوتہ پیٹھ بن۔ مگر یہ چھو خدایہ سندس یژھس خلاف وَاَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى  
 پروردگارے یژھہ ہاسارنی سونبر اوہ ہدایتس پیٹھہ۔ مگر تم یوژھنہ تہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ کس  
 مہ ہنو تہ بے خبر و اندرہ۔ یہ غم تہ فخر تراو تہہ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ پز تھہ چھنہ مانان تہ  
 قبول کران مگر تہ تم وارہ بلازان چھہ پز تھہ یوز ژھانڈنہ خیلرہ۔ تمہن چھو اللہ تعالیٰ تہ ہدایتک توفیق  
 ووان۔ سکو کافر و یوز نہ تھہ پاٹھہ۔ لہذا آنتھہ پاٹھہ بنہ بھکھہ ہدایت۔ وون ہر گاہ امہ انکار و اعراضہ موکھہ  
 تمہن دنیاس منز پورہ عذاب آو کر نہ تمہن چھایت روزان آخر چھو کہ مَرَانَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ  
 إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ سارنی مردون کرہ اللہ تعالیٰ زندہ قیامتک دوہ آخر کس اندر تو پتہ بن تم و اتاونہ حسابہ

وَقَالُوا أَلَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا

خیطرہ اللہ تعالیٰ اس نیشہ۔ سوی دیرہ تمن پوره مز اتمہ انکار و اعراضگ لہذا ترا و توجہ تہمد خیال۔ تہمز۔ فجر تہ غم مہ بز و کینہہ **وَقَالُوا أَلَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ** بیہ دوپ مکہ کیو کار فرود کو نہ چھو نازل سپدان سہس بینبرس پیٹھہ کانہہ نشانہ معجزہ پنہ نس پروردگارہ سہدہ طرفہ۔ تمو معجزہ آندرہ سکن ہند اس مطالبہ چھہ کران سہہ سیت بیہند س بینبر آسئس تا سید سپدہ ہا۔ **قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** فرماویو کہ تہہ یارسول اللہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو پریتھہ نشانہ تہ معجزہ نازل کرنس پیٹھہ قدر تہ دول۔ لیکن اکثر لو کہ چھہ زانان کہ معجزن ہند نازل کرن چھو آگس قانونس تحت آسان۔ بیہ چھونہ لوکن ہنز خواہہہ مطابق نازل کرنہ یوان امہہ انجامہ نیشہ چھہ اکثر لو کہ بے خبر۔ امہہ قسمکین معجزن ہند انجام چھو کہ ہر گاہ تم فرمایشی معجزہ تھہ تم ایمان آن نہ پڑھہ کرن نہ تلمہ بین تم یکدم ساری گالنے تہ تباہ کرنہ **وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ** بیہ تم جاندار زمینس منز خشکی پیٹھہ یادریاوس منز چھہ۔ بیہ تم جانور پنہ نیو دیو یو پوزوسیت ہوا عس منز وڈان چھہ۔ سمو منزہ چھونہ کانہہ قسم نس نہ قیامتک دوہ تہندی پاتھہ جماژو جماژو محشرہ کس میدانس منز جمع کرنہ ایہ۔ اگرچہ تم ساری چھہ بے شمار، لیکن اسہ نیشہ چھہ تم حساس اندر جمع کرنہ آمت **مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ** کیا زہ اسہ چھونہ تہ درو مت پنہ نس دفترس منز یعنی لوح محفوظس اندر لیکنہ ورا ی کانہہ چیزہ۔ پریتھہ آگس چیزس متعلق چھو اسہ لیوکھمت تم چیز قیامتس تان پیدہ سپدہ ون چھہ کمسند کیا حال اسہ **ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ** تو پتہ بین تم ساری انسان جاندار تہ جانور پنہ نس پروردگارس نش جمع کرنہ سوی کرہ ساری منز فیصلہ۔ چنانچہ حدیث شریف چھو ”متفق علیہ“ کہہ اگر دنیا عس اندر

بِالْتِنَاصُمْ وَبِكُمْ فِي الظُّلْمِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلُّهُ وَمَنْ يَشَاءُ  
يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۹﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ  
اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَرُ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴۰﴾  
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ  
مَا تَشْرِكُونَ ﴿۴۱﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَا مِنْهُمُ بِالْبَأْسَاءِ

اک پیغمبر جانورن پیغمبر ستمس جانورس ٹھول آسہ لائعمو قیامتک دوہ لیہ تس نیشہ امیوک بدلہ بہنہ۔ تمہ  
پتہ لیہ حیواناتن تہ جانورن حکم کرنہ میڑو گھو ہنہوہ تمن سپدہ میڑو۔ تمہی ساتہ دین کافر' یا لیتنی کنت'  
نر'ابا' کاش کہ بولتہ آسامیڑوے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْتِنَاصُمْ وَبِكُمْ فِي الظُّلْمِ تم لو کہ سموا ہوزان  
سان آیات یعنی قرآن مجید تم ہچہ پوزیوزنہ نیشہ زریوزونہ نیشہ کل۔ گھر چین رنگارنگ گٹن اندر گر فٹار  
مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلُّهُ نِس یڑہہ اللہ تعالیٰ پزہ نیشہ اعراض کرنہ موکھہ گمراہ کن نِس ہچھو گمراہ کران  
وَمَنْ يَشَاءُ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بیہ نِس یڑہہ اللہ تعالیٰ نِس ہچھو سیزہ ویتہ پیٹھہ دین ہتس پیٹھہ اتان  
پنہ فضلہ سیت۔ بھتس حالس منز ہند غم کھیون ہچھو بے سؤد۔ بیہ معاملہ کڑو تمہ خدا نِس سپرد  
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَرُ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فرما دیو کہ تمہہ  
یا رسول اللہ ای مکہ کیو کافر و میہ دتو ہر گاہ تو بہہ خدایہ سمد عذاب بیہ دنیاس اندر تمہو عذابو آندرہ  
کانہہ عذاباہ ستم از تام مُحْجَرِن تہ نافرمان پیٹھہ نازل کرنہ آئے یا قیامتھی پیہہ واتھہ تو ہیہ ہتھہ  
منز ہولناک واقعات آسن کیا تم ہولناک چیز دفع کرنہ خیطرہ دیوہ تمہہ آلو خدا نِس وراکی بیہ کانہہ  
ہچھوے تمہہ شریک ٹھمر اونس اندر پز زبر بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ  
مَا تَشْرِكُونَ ہر گز نہ ہر گز نہ بلکہ دیوہ تمہہ نادتہ آلو تمہہ ساتہ تس یوت تہ بیہ نہ کانہہ۔ پس کروہہ سؤی  
دور تہ دفع سؤ عذاب سمدہ خیطرہ تس ناد دیو۔ ہر گاہ سؤ یڑہہ سؤ عذاب دُور کرن۔ بیہ مشیوہ تمہہ ساتہ تم  
ساری اپز معبود ستم تس شریک ٹھمر او ان آسہو۔ امی آندرہ زانتو تمہہ خدا نِس وراکی یلہ نہ قادر مختار کانہہ

وَالضَّرَاءَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿۳۲﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَانَتَضَرَّعُوا  
 وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾  
 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ  
 حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ  
 مُبْلِسُونَ ﴿۳۴﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ  
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۵﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَبْعَكُمْ

جھو عبادتس سزوار گس بچھ آتھہ وَلَقَدْ أَسْأَلْنَا آلَ إِمْرَأَتٍ مِنْ قَبْلِكَ بِشَكِّ بِيَةِ سَوْسَرِ بْنِ يَنْغَبَرِ وَارْتِبَانِ  
 اَمْتِن كُن توبہ بروٹھ تمھو کر تمھن پیغمبرن انکار تم زانکھ لہو۔ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ  
 يَتَضَرَّعُونَ کس رٹ آسہ تم رزقچہ تنگی سیت تہ بیمار یو سیت بیٹھہ تم ہنہا بھٹن تہ اسہ کُن رنج کمر تھ  
 عاجزی تہ زارہ پارہ کرن۔ پنے نین کفر و تکذیبہ کین گنھن ہندہ خیطرہ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَانَتَضَرَّعُوا  
 کس کونہ سنا کرے یہ ستمو عاجزی تہ زارہ پارہ سہ سائہ تمھن سون عذاب واٹوؤ۔ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ  
 لیکن بہند دل آس سپد مت سخت عاجزی تھہ پانٹھہ کرہ ہن وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بیہ اوس  
 دیتمت شیطان زینت تہزون تمھن پچھہ کاین سہمہ تم کران آس۔ کس آئی نہ باز تم ستمو پچھہ کامیونفہ  
 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ کس بلہ تھو منشر واوہ تہہ سارے نصیحو سہمہ  
 تمھن کرنہ آسہ یوان پیغمبرن ہندہ ذریعہ ادہ مژدراو آسہ تھندہ خیطرہ سارنی نعمن ہند دروازہ بیٹھہ زیادہ  
 غرق گوھن نافرمائین اندر حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ تا اینکه  
 بلہ تم سیٹھاہ خوش لگ گڑھنہہ تھو نعمتو سیت سہمہ ونہ آسکھ آمزہ۔ غرور تہ بھجڑہ ہیوت کچھ گڑھن آتی  
 رٹ آسہ تم عذابہ سیت ہنگہ تہ منگہ کس سپد تم حیران تہ پشیمان بیہ ساروی چیز ونشرہ نامیدہ فَقُطِعَ دَابِرُ  
 الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کس ژوند اومول ظالمین ہند۔ عالم سپد آزاد تہندہ شرہ  
 نیشہ۔ حمد یوبین خدا کس کس رب العالمین چھو سہم تمھن ظالمین ہنز بنیاد گاج قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ

وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ  
 كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْذِقُونَ ﴿۳۶﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ  
 أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ  
 الظَّالِمُونَ ﴿۳۷﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ  
 فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾

سَنَعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ فرماؤے کہ تمہے یارسول اللہ صلی  
 اللہ علیہ وسلم تلامیہ ونسو ہر گاہ اللہ تعالیٰ آسمانہ طرفہ کا نہ عذابا نازل کرے نہ مگر سونیہ توہیہ بوڑ تک  
 قوت، وچھنک قوت، بیہ کرہ تہندین دلن پٹھہ مہر سیمہ سیت نہ کیہنہ تہ بیکو زانتھہ تمہ معبوداہ بیہ  
 معبود برحقس وراوی توہیہ سیم قوت عطا کر تھ۔ ہر گاہ تمہ آتھ تھہ اقرار چھو کہ کا نہ تہ بیہ نہ آسہ تم  
 قوت عطا کر تھ اہ کیازہ چھوئس وراوی کا نہ مستحق عبادت زاناں أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ  
 يَصْذِقُونَ آی پیغمبر برحق وچھو تھہ پاتھ چھہ اس دلیلن ہنز وضاحت کران۔ تو پتہ تہ چھہ تم تم  
 دلیلن اندر غور و فکر کر نہ نشہ تھہ پھران تہ بے توجہی کران۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً  
 أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمُونَ فرماؤے کہ تمہ یارسول اللہ صلی ونسو تمہ آی کافر و ہر گاہ توہیہ  
 خدایہ سُنَد عذاب و لہہ تمہ تہ مکھ ن پاتھ رات کیٹ یاد و بلہ کیا ظالم وراوی بیابہہ کا نہ تمہ عذابہ سیت  
 گانہ۔ کس کیازہ چھوہ نہ تمہ نافرمانی تہ ظلم و تعدی نشہ پتھہ روزان وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ  
 وَمُنذِرِينَ بیہ چھہ اس سوزان پیغمبر کو کن گن صرف سیمہ تھہ خیطرہ کہہ تم فرماؤن با ایمان  
 فرمانبردارن خدایہ سزہ رضامندی ہنز بشارت بیہ کرن کافر ن تہ نافرمانن پروردگار سزہ بیزاری ہند  
 بیم۔ آی خیطرہ سوزا سہ حضرات انبیاء، سیمہ خیطرہ سوزہ کہہ تم کیا ہاون لو کن تم تم معجزہ سیم یمن  
 معجزن ہنز لو کہہ فرمائش کر تھ۔ تھہ پاتھہ سوزوہ آسہ تمہ تہ یارسول اللہ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا  
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کس سیمو لو کو پیغمبرن ہندہ بشارت تہ بیم کر نہ پتہ سائین آیاتن پڑھ



وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا  
 يَفْسُقُونَ ﴿۱۹﴾ قُلْ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ  
 الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّمَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ  
 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۰﴾  
 وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ

کرم تھ رثہ عملہ کرہ تمہن آئند آخرتس اندر کانہہ خوفانہ کانہہ غماہ آسنہ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا  
 بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بیہ ہمو لو کو پیغمبرن ہمدہ بشارت و نذارت کرنہ پتہ تہ  
 سائین آیاتن ایزاتھہ انکار کور تمہن رثہ عذاب دنیاہس اندرتہ آخرتس اندرتہ۔ تہ کیاہہ تم کیا آسن  
 نافرمانی کران قُلْ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ بیہ قاعدہ تہ اصل کتھہ بیان کرنہ پتہ فرماؤ گھہ  
 یارسول اللہ ای لو کو دعوی نبوت و رسالت کرم تھہ جھوس نہ بو تو ہیہہ دپان میہ نشہہ تہ میانس قدرتس  
 منز کیا جھہہ خدایہ سندین مقدوراتن ہمد خزانہ۔ سیمہ ساتہ جھہہ نشہہ چیزج فرمائش کریوم تمہہ ساتہ کیاہہ  
 نتر اوہ بوسو چیز پتہ قدرتہ تہ طاقتہ سیت وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ نہ جھوس بویہ دان کہہ بو کیا زانہ  
 علم غیب۔ بلکہ جھوس بو پیغمبر یوسہ پیغمبری میان دلیلو سیت ثابت جھہہ۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ  
 نہ جھوس یو توبہہ دپان کہہ بو کیاہہ جھوس ملک إِنَّمَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ بو جھوس نہ پیروی کران مگر  
 تھہ بیہ نشہہ بطریق وحی سوزنہ دیوان جھوس۔ تھہہ پاتھہ بین پیغمبرن کن وحی سوزنہ دیوان اوس قُلْ هَلْ  
 يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ فرماؤ گھہ ای لو کو اُون تہہ گاشدار چھا برابر ہی بیہ کتھہ جھہہ مسلم کہہ تم زہ ہر گز  
 برابر جھہہ۔ کیاہہ جھہہ نا پڑھان گاشدار ہتھہ ہتھہ میانس کلامس اندر فکر کرن۔ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ  
 کونہ جھوسہ کس تھہہ تھہہ میانس کلامس اندر فکر کران وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ  
 رَبِّهِمْ جھہہ کرم و حوض نیم سیمہ قرآن مجیدہ سیت تمہن لو کن تم کھوژان جھہہ کہہ تم کیا بیان و اتانہہ پتہ نس  
 پروردگار س نشہہہ کیں لھم من دُونہہ و لِي وَلَا شَفِيعَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تھہہہ حاسل منز کہہ نہ آسہہ

لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾  
 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِشِيِّ  
 يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ  
 مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ  
 الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ  
 مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾

تمن تس وراى كانه دو ستاه تنه كانه شفاعت كره وناه تابه تم بكن احتياط سان ته كهوژ كهوژ وَلَا تَطْرُدِ  
 الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ بهمه حض كرى كه دور پاس نشه  
 تم لو ك تم عبادت كران چهو پنه نس پرو د گاره سنز صبح ته شامن ته تم ژها نڈان چهه تهند رضاء اده  
 استن تم فقيرى مگر تم مه حض آسبو كه كڈان پنه جلسه آندره مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ  
 وَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو بهر پيٹھ چه نه منه تهند من عملن  
 هنز جوابد نه چهو تمن پيٹھ منه تهنزن عملن هنز جوابد نه يتھه گن نظر كمر تهه نهه تم پنه جلسه آندره  
 نيهر كڈو كه هر گاه توه كو م كرو نهه تله ايو نهه شمار كرنه بے انصافى ته ظلم كره ونيو آندره وَكَذَلِكَ فَتَنَّا  
 بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا يتھه پاهه كراسه آزمائش بعضى لو كن بعضى  
 لو كو سیت (شريف سیت لو كو سیت مالدان فقير و ته مسكبو سیت) يتھه مكر شريف ته مالدار ذپن  
 بايمان فقيرن مند حال وچهه كيا آسه منز كره الله تعالى ان انسى پيٹھ من فضل ته مهربانى بيخياره اع  
 آسه سانه خوته زياده تتھه سزوار اليس الله يا اعلم بالشاكرين كياه يه تتھه چهنا تمن مه خدا چهو ژزان  
 وول شمر گذارن ته حق شناسن - وَ اذ اجاءوا الذين يؤمنون بايئنا فقل سلم عليكم به يله آسن  
 تو بهر نشه يون يار رسول الله تم لو كه سمو پنه كرسامين آياتن بس آسجه نهه ديان سلام لوبن تو بهر پيٹھ  
 اى بايمانو تهنده خيطره چهه بڈ بشارت كه تو بهر چهو سلامتى تمو ساروى آقو ته بلا يوشه تمن آفتن ته

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ  
رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا أَوْ إِجْهَالًا ثُمَّ  
تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٧﴾ وَكَذَلِكَ  
نُقِصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ قُلْ إِنِّي  
نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَّا  
أَسْبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٩﴾

بلاسن آخرتس اندر کافر تہ مشرک گرفتار سپدن کتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ پاس پیٹھ ہنزو مشر  
جھہ منہ تھند ہروردگارن مہربانی کرن سو مہربانی گیمہ کیے کہ۔ اَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا أَوْ إِجْهَالًا ثُمَّ  
تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ سیم شخصن توبہ اندرہ کانہہ گناہ کور، نادانی سبب، توبہ تہ  
کورن تمبرہ نشہ توبہ بیہ کورن پاس اصلاح، سبولن پٹن پان، گنہویشہ رڈو ہتھہ عنہ وقتہ توبہ پھٹس بیہ  
کورن توبہ ہس بیشک سو جھوٹس تہ سیٹھہ مغفرت کردون سیٹھہ رحم کرہ ون وَكَذَلِكَ نُقِصِّلُ  
الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ بیہ ہتھہ پاٹھہ یتنس با ایمان تہ کافرن ہند حال تہ انجام واضح  
کوریتھہ پاٹھہ جھہ آس آیاتن اندر تہ نک وضاحت کران۔ ہتھہ با ایمان ہنزوتھہ تہ ظاہر سپدہ کافرن  
ہنزوتھہ تہ وارہ نئہ۔ حق ٹھانڈونین ہندہ خیطرہ سپدہ معاملہ سسل تہ آسان قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ  
أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فرماویہ کہ تہہ یارسول اللہ کہہ پڑ پاٹھہ میہ جھو خدا بیہ سندہ طرفہ منع  
آمنت کرنہ تمن معبودان باطلن عبادت کرنہ نشہ تمن تہہ خدائس ورای عبادت جھوہ کران قُلْ  
لَّا أَسْبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ایتہ فرماویہ کہ توبہ بوکرہ نہ پیروی تہزن  
خوایشن ہنزہر گز۔ ہر گاہ توبہ کرہ نعوذ باللہ تلہ جھوس نہ یوسیزہ و تہ پیٹھہ پکہ ونیو اندرہ تہ ہدایت لبہ ونیو  
اندرہ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ پتہ فرماویہ کہ تہہ کہ میہ نشہ جھہ ستمہ دین اسلامس  
دین حق آسٹس پیٹھہ کافی دلیل یوسہ میانس پروردگار سندہ طرفہ میہ نشہ واٹہ۔ سو دلیل گنیہ قرآن

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْضُلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿۵۴﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿۵۵﴾ وَعِندَكُمْ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعْلِمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ وَالْبَحْرُومَا

مجید نُس میوں بوڈ معجزہ چھو۔ سمہ سبت میانس پیغمبر آسئس تصدیق سپدان چھو۔ تہہ چھوہ بے وجہ تہہ اپزگنزران تہہ انکار کران۔ تہہ چھوہ نہ اتھہ صحیح دلیلہ تہہ بڈس معجزس پیٹھہ اکفاء کران۔ بلکہ چھوہ تہہ فوری عذاب نازل سپد تک درخواست کران۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ میہ اتھہ تہہ میانس قدرتس منز چھوہ نہ سُو عذاب سمیک تہہ فوری مطالبہ کران چھوہ نُس تہہ جلد ژھانڈان چھوہ اِن الْحُكْمِ اِلَّا لِلّٰہِ اُمیک حُم چھوہ نہ مگر خدایہ سی اتھہ۔ تَس نِشہ بہہ کانسہ ہند حُم چلان چھوہ نہ۔ سُو حُم سپد نہ ڈنہ جاری۔ یُوکتھہ پاٹھہ اَنوہ پائے سُو عذاب۔ ہتھہ رُودیہ بوڈ مجزہ قرآن مجید امکہ نزولک سپد حُم جاری۔ یہ چھسوہ بو توہہ پیش کران تہہ ہاوان يَفْضُلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ اللہ تعالیٰ چھو بیان کران پڑہ کتھہ بدلیل۔ سُو چھو سارنی ہندہ خوتہ بہتر فیصلہ کرہ ون۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ وارہ وضاحت کر نہ خپرہ فرماؤ کہ تہہ ہر گاہ میہ اتھہ تہہ میانس اختیارس منز آسہاتہ تہہ منز تہہ جلدی کران چھوہ یعنی عذاب نازل کرن لَفُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تلہ آسہاؤ حکتام توہہ تہہ میہ منز کینہہ کالک فیصلہ آمت کر نہ۔ تہہ چھو فقط خدایکی اتھہ۔ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِالظّٰلِمِیْنَ اللہ تعالیٰ اس چھو پورہ علم ظالمن ہند۔ سُو رِشہ تمین پنے نُس مؤس پیٹھہ پائے وَعِندَكُمْ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ بہہ چھہ تَس نِشہ یعنی تہندس قدرتس منز غیبہ چہ کوزہ تہہ خزانہ تمام پو شیدہ چیزن ہند اَلَّذِیْ لَیَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ تمہہ زانہ نہ کانسہ تَس وراي۔ تمہہ چیز؛ وَاَنْدَرہ سمہ چیزج سمہ وقتہ ایزئسن سُو ظاہر کران چھو تیرہ دن چھو سُو ظاہر کران وَعِیْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ وَالْبَحْرِ بہہ چھو سُو زانان تہہ سوزوی یہ خشکی پیٹھہ

تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا عَلاَهَا وَأَلْحَبْتَهُ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا يُرَبِّ  
 وَلَا يَأْبِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۵۵﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَ  
 يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى  
 ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۶﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ  
 فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ  
 الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ ﴿۵۷﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ

تد دریاوں منزه و صاف و ورقہ الاصل علیہا و الحبتہ فی ظلمات الارض و لا یربی و لا یابس الا فی کتاب مبین  
 بیہ چھو نہ کا نہ پنے بر گاہ گلہ پیٹھ و س بیوان مگر سو چھو نہ سوروی زانان بیہ چھو نہ کا نہ تہ  
 پھولہ زمینہ چہ تاریکی منز بیوان مگر سو چھو نہ زانان۔ بیہ چھو نہ کا نہ اوڈرتہ ہو کھمت چیزہ اُس نہ  
 روشن کتابیہ اندر درج کرنہ آمت چھو یعنی لوح محفوظ اس اندر، تنہہ منز چھو پر تنہہ چیزہ اُس قیاس تان  
 پیدہ سپدہ و ن چھو درج کرنہ آمت و هو الذی یتوفیکم باللیل و یعلم ما جرحکم بالنهار سو معبود  
 بر حق گو سوی اُس تو بہ (ای انسانو) رات کی ت ندرہ اندر اس کہ قسمہ ماران چھو (بیوان چھو ہ تہہ مُردہ ہی  
 فرش پیٹھ) بیہ چھو سو زانان دو اُس منز کمہ کمہ کمر دہ تہہ ثُمَّ یبعثکم فیہ رات کی ت ندرہ پانچو  
 چھو سو بیہ ہنسیار کتر تہہ تھو دھان لیقضی اجل مُسمی تنہہ پورہ بیہ کرنہ مقرر کرنہ آمت میعاد یعنی  
 تنہہ زندگی ہند مدت راسخہ بیہ تہ کتر ہنہ سیت ثُمَّ إِلَیْهِ مَرْجِعُكُمْ تو پتہ چھو تس اُن توہ رجوع کرن  
 حقیقی مرنہ پتہ زندہ سپدت ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ تو پتہ کرنہ سو تو بہ خبر تہہ کمہ کمہ کامہ آسو  
 کران اُس دیوہ مزور پر تنہہ کامہ ہنزر نژہ کامہ ر ژمزور بیچھ کامہ بیچھ مزور و هو القاهر فوق عبادہ  
 و یرسل علیکم حفظة سوی پروردگار چھو غالب قدرتہ سیت پنے اُن بندان پیٹھ بیہ چھو سو سوی سوزان  
 تہہ سدن بدن ہندہ حفاظتہ خیلرہ ملائکین ہم ژر ژان چھہ تنہہ سارے کامہ حقی اذاجاء احدکم  
 الموت توفتہ رسلنا و ہم لا یفرطون تا اینکه یلہ واتان چھو تو بہ اندرہ کا نہ اُس مر نک وقت۔ قبض

مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ ۖ آلَاةُ الْحُكْمِ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ ﴿۶۲﴾ قُلْ مَنْ  
يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِن  
أُنجِنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۶۳﴾ قُلْ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ  
مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْكِرُونَ ﴿۶۴﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ  
أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ  
يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ لِبَاسَ بَعْضٍ ۗ نَظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ

زوح چھہ کران تس سان بدل سوزمت ملک۔ تم چھہ کئے قسمہ سانس کھمس اندر کانسہ کس کی یا زیادتی  
کران۔ بلکہ ہتھ پاٹھہ سے سمہ وقتہ تمن قبض رو حک کھم سپدان چھو تھہ پاٹھہ چھہ کران تھہ دُوا إِلَى اللّٰهِ  
مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ تو پتہ بن و اتاوانہ مرنہ پتہ ساری بندہ آخر تس منز معبود بر حقس کمن۔ کس تھمہ حقیقی  
مالک چھو۔ آلَاةُ الْحُكْمِ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ وارہ یوز تھمہ ساتہ آس کھم تھو ہندوی کھم، فیصلہ  
تھندوی فیصلہ سوی چھو یڑ جلد حساب ہیوہ و ن۔ حساب ہتھہ جزاء سے سزا دودھ و ن قُلْ فرما دیو کہ تھہ  
یارسول اللہ مَنْ يُنَجِّیکُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کس چھو کس توہمہ اے مکہ کیو لو کو تھندین سفران اندر،  
خشکی سے دریا و ان ہنز و تختیو سے مٹھو تھہ ہتھہ حالس منز نجات چھو دوان کہ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً تھہ  
چھوہ تس نجات مگان عاجزی سان کئے وقتہ، لو تہ لو تہ کئے وقتہ و نان چھوہ تھہ ساتہ تھہ پاٹھہ۔ لَّئِن اُنجِنَا  
مِّنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ای سانہ پروردگار ہر گاہ تہ امہ نجات دکہ سمہ سختی نیشہ و بکنیس، تھیلہ  
سپدواس سیٹھہ شکر کڈ ار حق شناسی پیٹھہ قائم روزہ وینو اندرہ قُلْ اللَّهُ يُنَجِّیکُمْ مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ  
أَنْتُمْ مُشْكِرُونَ تھی فرما دیو کہ اللہ تعالیٰ ای چھوہ توہمہ ہمیشہ نجات دوان امہ سختی نیشہ تہ۔ امہ سختی  
ہنز کیا تھی چھہ ساروی تختیو تھہ چھوہ سوی نجات دوان تو پتہ تہ چھوہ تھہ تس بد ستور شریک  
تھمراوان۔ شکر کچہ کامہ کران یوسہ بدنا شکری تہ ناسپاسی گیہ۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا  
مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ لِبَاسَ بَعْضٍ تھہ فرما دیو کہ یارسول

الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿۱۵﴾ وَكَذَّابٌ بِرَبِّهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ  
 لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۶﴾ لِجُلِّ نَبِيًّا مُسْتَقَرًّا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾  
 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى  
 يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ  
 بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۸﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ

اللہ یہ کہہ کر سو پروردگار اٹھ پائے نجات دہن چھوڑتے پائے چھو بوڈ قدرت و دل سے کہ تمہارے کفر و  
 شریک سب سے سوزہ توہمہ پیٹھ عذاب ہر سے طرفہ۔ یعنی آسمان سے طرفہ کنہ ہشہ یارود سیمہ سیت سیلاب  
 ایوہ۔ یا تمہند یو کھور و تلہ یعنی زینچہ طرفہ، بو نیول ہیو، یا کرہ توہمہ واریاہ جھاڑ۔ تھن پانہ وان سخت  
 اختلاف آسہ، تھج نوبت وائے جنگ و جد اگس پیٹھ۔ تو پتہ ژھناوہ توہمہ اندرہ اگس بے سزہ لڑا یہ ہند  
 مزہ۔ یا کرہ سو توہمہ تھن سارنی تختین گرفتار۔ عرض نجات دین سے تھس اٹھہ بلا یہ گرفتار کران سے تھس اٹھہ  
 أَنْظُرْ كَيْفَ نَصْرُكَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۝ وچھوڑتھ پائے چھہ مختلف طریقوں سے بیان کران آیات یعنی  
 توحید چہ دلیلہ تھہ تھن وارہ فخرہ تھہ ۝ وَكَذَّابٌ بِرَبِّهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۝ باوجود آن زون اپڑتہ غیر واقعی  
 توہمہ تو من یہ عذاب۔ حالانکہ یہ چھو بالکل حق سے پوز۔ یقیناً واقع سپدہ و ن۔ یہ پوز تھہ تھن تھن تم صرف  
 یو ثوی پر ژھتھہ کہ یہ عذاب کر سپدہ واقع قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝ تھہ فرماوے کہ تھہ متعلق کہ  
 پوز چھوسنہ توہمہ عذاب واقع کر نک ذمہ دار۔ میہ کیا آسہ تھج پوز خبر یا سو کیا آسہ میانس اختیار اس اندر  
 لِجُلِّ نَبِيًّا مُسْتَقَرًّا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ پر تھہ خبر ہندہ واقع سپدہ خیرہ چھو اگھ وقاہ مقرر کر نہ آمت۔ تو  
 ہہ سپدہ جلدی معلوم ۝ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۝  
 یہ یہ تھہ چھان آسہ کہ تم لو کہ یعنی دشمن تھم سائین آیات سے احکام نکتہ چینی چھہ کران۔ تھس  
 آسہ تھہ تھن نشہ لوب روزان۔ تھن منزہ آسہ بہان یوتان تھ مشغول آسں سپدان تھہ ورا یہ تھہ  
 تھہ منز ۝ وَمَا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ ہر گاہ تھہ وقتہ شیطان آسہ

مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۶۱﴾ وَذَرِ  
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ  
 ذَكَّرِيَهُ أَنْ يُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدِيلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ  
 الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيمٍ وَعَذَابٌ

توہمیر یہ ممانعت مشروان، مجہ آسب مشرانس منز بغلطی تہنزہ مجلسہ اندر بہان۔ پس مہ بہو (یلہ توہمیر  
 تہیس پیوان آسہ یہ ممانعت۔ ظالم قومس سیت تہنزہ مجلسہ اندر بلکہ آسب نووا تہیس پیوہ ونوی تمہ  
 مجلسہ منزہ نیران وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ سم لو کہ  
 ممنوعات شرعیونہ پتھ روزن۔ تمئن منز تہن جلسن اندر بلا ضرورت شمولیت کرن تہ پائے آو  
 تمئن مجلسن منز احکام اسلامن پیٹھ طعن و تشنیع کرنہ آسہ یوان۔ تمئن پیٹھ چھو نہ طعنہ دوہ ونین ہندہ  
 سزاء اندرہ کانہ چیزاہ۔ ہر گاہ نہ سخت ضرورتہ مو کہ تمئن مکنہ وقتہ تہنزن مجلسن اندر گزھن پیوان آسہ۔  
 مگر تمئن پزہ توت گزھتھ تمئن وعظ و نصیحت کرن دیوہ تم تہ طعنہ زنی نیشہ پتھ روزن وَذَرِ الَّذِينَ  
 اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بلکہ تراوی کہ تم لو کہ تہ سم پنہ نس دینس (یتھ مان  
 تہ تسلیم کرن تمئن پیٹھ فرض اوس یعنی دین اسلامس) ٹھٹھ تہ تمسنخر چھہ کران۔ تمئن چھو ڈھو کہ  
 ڈیمت دنیاچہ زندگانی۔ تم چھہ دنیا کس کھینس چینس اندر مست، آخرت چھٹھ نہ یادے وَذَكَّرِيَهُ  
 أَنْ يُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ترك تعلقات کتر تھہ تہ کتر و تمئن لو کن وعظ و نصیحت مجہ امہ قرآن مجیدہ  
 سیت یتھنہ تھس عذابس گر قار گزھہ کانہ شخصاہ پنہ نیوہد اعمالیہ سیت لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ  
 وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدِيلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا سمہ عذابہ نیشہ مو کنہ خیطرہ آسہ نس شخصس خدائس  
 وراي کانہ مدد گارتہ کانہ شفاعت کرہ و ناہ۔ نہ مو کلہ سؤئمہ عذابہ نیشہ تیوت مال دت نئس دنیاس  
 برابر آسہ۔ سؤی سوزوی مال تہ سؤدیہ توتہ ایس نہ سوماں ہر گز قبول کرنہ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا



إِلَيْهِ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٦٠﴾ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأْمُرْنَا لِلسَّلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

بِمَا كَسَبُوا چنانچہ ہم دینس ٹھٹھے سے تمسخرہ کرہ ون آئی گرفتار کرنے پنے نین بد اعمالین ہمدہ سببہ۔ نصیحت نہ مانعکم وجہ۔ لہم شراب من حیلیم وَعَذَابٌ إِلَيْهِ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ تہندی چینہ خطرہ آسہ آخرتس اندر پہنچ کر یکہ دودہ ون زبر۔ تمہ علاوہ بیہ کڈر عذاب کیا زہ تم آس گھر کران۔ سمیک آکھ شاخ سے آکھ لندڑ توین احکام اسلام اوس۔ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا فرمایا کھ نبہہ یارسول اللہ ساری مسلمان ہمدہ طرفہ کیاہ آس کر وہ عبادت معبود برحقس وراى تمن باطل معبودن ہمز ہم نہ آسہ کانہہ فائدہ ہیکن واتاوت۔ عبادت کمر تھ سے نہ کانہہ ضرراہ ہیکن واتاوتھ عبادت نہ کمر تھ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ بیہ چھا تہنز خواہش آس کیاہ پھیر و پوت کرس کن اسلام تراوتھ خدایہ سدہ آسہ ہدایت کر نہ پتہ سے و تھ ہاونہ پتہ آتھ دین حقس کن۔ کالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا تھہ صورتس اندر بہ سان مثال کس شخصہ سبز ہش کس بریم بریم چاکیو و تھ راؤراؤمتر آسہ کنہ جنگلس منز سے سو آسہ سپد مت حیران آتھ و تھ آسین نہ یوان کنہ کن۔ لَٰهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ ائْتِنَا کس آس کنہ دوست سے ہم ناداد آسہ نس دوان کہ ڈولہ آسہ کن و تھ چھہ یبار مگر سو آسہ حیرانی سببہ تھند آلوے یوزان۔ نہ آسہ سبزہ و تہ پیٹھ یوان۔ کیاہ تہنز خواہش چھا آس سے گردھو تھقی بن۔ تہ بہ نہ ہرگز قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ فرمایا کھ تہہ بہ راہ۔ راست گئیہ سوی و تھ یاسہ اللہ تعالیٰ ان پانہ ہامتر سے باومتر چھہ سو و تھ گئیہ دین اسلام۔ ہم یہ تراؤسو ڈول سبزہ و تہ نشہ۔ آس ہیگنہ کنہ صورتس اندر تمہ نشہ پھیر تھ وَأْمُرْنَا لِلسَّلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آس

وَاتَّقُوا ۖ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۴۷﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ ه  
قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ  
الشَّهَادَةِ ۖ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۴۸﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ رَا

تھ پاٹھ اٹوٹرک بخدا۔ اے حکم کرنے آؤ فرما بردار روزن عالمین ہندس پروردگار س وان اقیسوا  
الصلوة و اتقوا بیہ آؤ حکم کرنے آسہ کہ نماز تھاوو برپا بندی سان۔ بیہ آؤ حکم کر نہ کہ کھوڑو  
خدا ائس۔ تس شریک تھاونہ تہ تسزنا فرمانی کرنے نیشہ روزوتھ و ہوا الذی الیہ تحشرون سو گو سوسی  
پروردگار ائس بردھتھتھ توبہ سارنی حساب دنہ خیطرہ جمع پیو کرنے، مشرک و تھن پائے تمہہ دہنہ  
شرک مزہ و ہوا الذی خلق السموات و الارض بالحق بیہ گو سو پروردگار سوسی نیم آسان تہ  
زمین پیدہ سکر پزپاٹ مخلوقن ہندہ فائدہ خیطرہ، بوڈ فائدہ چھو یوے کہ تم دوشوے چھہ تمندی  
مخلوق، دوشوے چھہ دلالت کران تمندی وحدانتیس بیٹھ و یومر یقول کن فیکون بیہ ہمہ دہنہ  
دپہ سو خالق کل حکم کرہ قیاس سپد برپا۔ اتی سپدہ قیامت برپا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ  
فِي الصُّورِ تمندیہ ون چھو باثر۔ تو ہندی چھو ملک۔ تہزی چھہ پادشاہت۔ ہمہ دہنہ پوئس منز  
دو تم چھو کہ پیہ دنہ تمی دہنہ نہ حکومت اللہ تعالیٰ سنز۔ یلہ سو فیصلہ کرہ موحدن تہ مشرکن منز۔  
عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ سوسی چھو زانہ ون تہ سوزوی یہ کھتھتھ چھو مخلوقن نیشہ بیہ تہ سوزوی یہ نون  
چھو مخلوقن نیشہ۔ تس نیشہ چھونہ کھتھتھ کا نہ چیز۔ و ہوا الحکیم الخبیر سوسی چھو سیٹھا حکمتہ وول  
تہ سیٹھا زان وول۔ تس چھہ سارچی پورہ خیر۔ مضمون آیات قرآنیہ سیت چھو معلوم سپدان کہہ  
حضرت ابراہیمہ سُد قوم اوس بت پرستی تہ کران۔ بیہ اوس ستارن آفتابس تہ زونہ تہنز پرستش  
کران۔ تھن دوشون خیالن ہند زد کوہ حضرت ابراہیمن۔ تمہہ چہ چھو اللہ تعالیٰ یمن آیات کر تھن اندر  
ذکر فرماوان وَاذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِذْ رَا بیہ چھو سو وقت تہ تئیس پائس قابل یلہ حضرت ابراہیمن

اتَّخِذُوا صِنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَخَذْتُ آلِهَتِي فِي قَوْمِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۴۲﴾  
 وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ  
 مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿۴۳﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا  
 رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأَحِبُّ الْإِفْلِينَ ﴿۴۴﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا  
 قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ  
 مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿۴۵﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي

دو پ ملس پنہ نس، آذر نئس ناو اوس اتَّخِذُوا صِنَامًا آلِهَةً ای آذر کیا ہر وہ جھوٹے پوتل زمان معبود  
 پن سم پائے گران جھوٹے کہہ اِنِّي اَخَذْتُ آلِهَتِي فِي قَوْمِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ بوجھو سٹھ و چھان ژہ تہ بیہ چون قوم،  
 سم ژہ آتھ اعتقاد س اندر موافق چھی نہ گرا ہی اندر۔ شو بیا انسان اشرف المخلوقات آتھ بے جان  
 چیز پن معبودان۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ آتھ  
 پاٹھ حضرت ابراہیمس ہاواسہ بت پرستی ہنز خرابی تہ بطلان۔ تھ پٹھ ہاواسہ تس آسمان وزین پادشہمت  
 تھ سوسپدہ کامل یقینہ والیو آندرہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي چنانچہ یلہ رات  
 تمن پیٹھ تاریک سپر۔ وچھ تمو تارکاہ اکھ۔ پنہ نس قومس لگ ومنہ یو ہے چھامیون تہ ٹھند رب ٹھندہ  
 خیالہ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأَحِبُّ الْإِفْلِينَ دوہن بوجھو سٹھ نہ پند کران لوسون چیز۔ سم میگن نہ کانہ  
 ہند رب آتھ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا تمہ پتہ یلہ تم وچھ زون زوتان تہ پتہ نہ کران قَالَ هَذَا رَبِّي  
 تمو پڑ تھ قومس یو ہے چھامیون رب ٹھند خیالہ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ  
 الْقَوْمِ الضَّالِّينَ نس یلہ سوتہ لوس دوچھ ہر گاہ تے میہ پروردگار و تھ ہاوہ ہے تلہ نہ ہا بو تہ ٹھند پاٹھ  
 گمراہ لو کو آندرہ۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً نس یلہ رات گوٹھ دوہ آوتہ آفتاب وچھ تمو شولہ ماران  
 کھسان قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبَرُ دوکھ یو ہے آسہ میون رب ٹھندہ خیالہ کیا زہ یہ جھو بوڈوی پنہن  
 بین ستارن ہندہ خوتہ۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ نس یلہ سوتہ لوس  
 قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ

هَذَا الْكِبْرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٤٨﴾  
 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذَّيِّ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا  
 أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٤٩﴾ وَحَاجِبَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ  
 وَقَدْ هَدَانِ ط وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ط  
 وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ط أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا  
 أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَتَخَفُونَ أَنكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَهُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ

اے قوم بے شک بوجھوس بیزار تمہو ساروی چیز ونشہ تم نہہ معبود برحقس شریک چھو کہ ٹھہراوان  
 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذَّيِّ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ہر پاٹ بو پھورس تس  
 معبود برحقس کن تم آسمان تہ زمین گوڈنی پیدہ کور۔ ساروی اپز بو دینو نشہ الگ سپد تھہ بیہ چھوس نہ  
 بو ہر گرو تھہر پاتھہر خدائس شریک اندہ ونیواندرہ وَحَاجِبَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ تو  
 پتہ آوتھن نشہ بحث کرنہ قوم تھہر۔ تمودو پھہر ای قوم کیاہ تھہ چھوہ بہان بحث لکنہ میہ سیت خدایہ  
 سدس توحیدس اندر۔ حالیکہ تم کور میہ ہدایت تہ تھہ ہاونم توہہ بروٹھکنہ صحیح دلیل پیش کرنس کن  
 یوسہ میہ پیش کمر وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ میہ مہ بہو کھوژنانہ۔ میہ چھونہ کانہہ پروا تھہدین  
 معبودان باطلن ہند۔ تم نہہ لاشریکس شریک چھو کہ ٹھہراوان۔ تم ییکن نہ میہ کینہ کمر تھہ میہ ہیچ نہ  
 کانہہ تکلیف واتھہ إِلَّا أَن يُشَاءَ رَبِّي شَيْئًا مگرے کمنہ یژھ میون پروردگار وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ  
 عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ واتھہ چھو میانس پروردگارہ سند علم پریتھہ چیزس۔ تس چھہ قدرت کاملہ تہ  
 علم کامل تھہدین معبودان باطلن نہ قدرت تہ نہ علم۔ میہ تھہ چھوہ کھوژہ ناوان۔ مگر انوس لیہ وضاحتہ  
 پتہ تہ چھوہ ناٹہہ نصیحت رنان وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بو تھہ پاتھہ کھوژہ تھہدین معبودان باطلن۔  
 تھن اتھہ چھونہ کنس۔ وَلَا تَتَخَفُونَ أَنكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَهُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا حالیکہ کھوژن  
 ہرہ ہاتوہہ مگر تھہ چھوہ نہ کھوژان پنہ نس بڈس جہرس۔ کیا زوہہ ٹھہرودہ کنس خدائس شریک نس

سُلْطَنَا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۱﴾  
 الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ  
 وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۸۲﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۗ  
 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۸۳﴾ وَوَهَبْنَا  
 لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ

شریک آسنہ نش چھو منزہہ تہ پاک تھے شریک سنبھدس شریک آسلس پیٹھنہ نہ خدایمن کا نہہ دلیلاہ نازل  
 کر مڑ چھہ۔ یہ دلیل بوز تھہ و نٹو وارہ تا مل کتر تھہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
 سمودویو جماعتو آندرہ یعنی مشرکو تہ مؤتحد و آندرہ کوسہ جماعت چھہ امنس تہ بے خوفی زیادہ مستحق و نٹو  
 ہر گاہ توہہ کی نہ خیر چھہ یا کی نہ زانان چھوہ تہہ کیاہ ہیو و نٹھہ۔ اس و نووہ یوزے وارہ بوزو۔ الَّذِينَ آمَنُوا  
 وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ تم لو کہ سمویو ایمان اون معبود برحقس تو  
 پتہ ملہ نوونہ تمویو ایمان پٹن شریکس سیت تھے گئے تم ہیہ ہدہ خیطرہ چھو قیامتک دوہ امن تہ دلک قرار۔ یہ  
 چھہ تے ذنیاس اندر سیرہ و تہ پیٹھہ۔ صرف مؤتحد، چھہ روڈ مشرک تہ ہدہ خیطرہ تہہ قسمہ امن و امان  
 چھونہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تھے گئے سانبہ تمہہ دلیلہ سمہ آسہ عطا کرہ حضرت  
 ابراہیمس پتہ کس قومس سیت بحث کرنہ خیطرہ۔ چوچھہ سمہ دلیلہ کرہ آسہ عطا حضرت ابراہیمس تھی  
 موکہ چھہ سمہ رتھہ دلیلہ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ حضرت ابراہیمہ سز چھہ  
 کا نہہ خصوصیت بلکہ چھہ آس بلند کران علی و عملی درجہ، مرتبہ تہوند، یسند آس پڑھان چھہ۔ پڑ پٹھہ  
 چون پروردگار چھو سیٹھاہ حکمت و ول، سیٹھاہ زائن و ول۔ پڑ پٹھہ الحمد حال تہ استعداد چھو سو پورہ زانان  
 تھی موجب چھو پڑ پٹھہ اکس سو کمال عطا کران کس کس مناسب آسہہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  
 بیہ کور عطا سہ حضرت ابراہیمس اکھ فرزندہ، حضرت الخن، بیہ امس فرزندہ سوند فرزند حضرت  
 یعقوب علیہم السلام کلاہدینا امن سارنی کور آسہ ہدایت۔ پڑس کُن ہاواسہ و تھہ تمن وَنُوحًا هَدَيْنَا

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٢﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٤﴾ وَمِنُ آبَائِهِمُ الذُّرِّيَّاتِ وَأَخْوَانِهِمْ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٥﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ وَلَوْ

مِنْ قَبْلُ بِيه كوراسہ ہدایت نوحس یمن بروئٹھ وِمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ حضرت ابراہیمہ سُندوی اولادو منزہ کزاسہ ہدایت، داؤدس بیہ حضرت سلیمانس بیہ حضرت ایوبس، بیہ حضرت یوسف، بیہ حضرت موسیٰ آس بیہ حضرت ہارونس علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ تھے پاتھہ چھی اس مناسب بدلہ تہ جزاء دوان نیکوکار بندن وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ بیہ کور ہدایت اسہ حضرت زکریا آس بیہ حضرت عیسیٰ آس بیہ حضرت الیاس تیم ساری آس رتوبند واندردہ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ بیہ کوراسہ ہدایت حضرت اسمعیلس۔ بیہ حضرت یوسف بیہ حضرت یونس، بیہ حضرت لوطس۔ یمن سارنی دیت اسہ فضیلت نبوتہ سیت تمہ وقتہ کین عالمکین لوکن پوٹھ وِمِنُ آبَائِهِمُ الذُّرِّيَّاتِ وَأَخْوَانِهِمْ بیہ۔ یہند یومالیو، بُدبُو آندردہ بیہ اولادو آندردہ بیہ بایو آندردہ تہ کوراسہ وار یمن ہدایت دین حقس گن۔ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بیہ کوراسہ تیم ساری بر گزیدہ تہ مقبول۔ بیہ کوراسہ تمہ ہدایت سیزہ وتہ گن یعنی دین حقس گن ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ یوہے دین تھہ گن تمہ ہدایت کرنہ آو۔ یوہے گو خدایہ سُند ہدایت۔ اتھہ گن چھو اللہ تعالیٰ و تھہ ہاوان تمہن یرٹھان چھو پونہ نیو بند واندردہ اتھہ گن ہاوے بیہ و تھہ اللہ تعالیٰ ان سارنی لوکن مگر بھضو کمر نہ بیہ و تھہ اختیار۔ تمہو ٹھہر او خدائس شریک۔ شرک چھو اللہ تعالیٰ آس تھہ

أَشْرَكُوا الْحَيْطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۸﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
 اتَّيَهُمُ الْكِتَابُ وَالْحُكْمُ وَالنُّبُوَّةُ ۚ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ  
 فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكْفَارِينَ ﴿۸۹﴾ أُولَئِكَ  
 الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ اِقْتَدَاهُ قَدْ لَّا  
 أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۰﴾

تاہند۔ عام لوکن ہنز کیاہ جھہ تھی۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا الْحَيْطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہر گاہ بفرضِ محال  
 تم حضراتِ انبیاءؑ تہ نعوز باللہ شرک نہ بن خدائس ضرور سپدہ بن ضالچ تمہ سارے رتہ کاملہ سمہ تم  
 کران آس امہ شربحہ وجہہ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّيَهُمُ الْكِتَابُ وَالْحُكْمُ وَالنُّبُوَّةُ تم حضراتِ انبیاء  
 یمن ہنز ذکر کرنہ آیہ سبے گئے تم تمکن امہ مجموعی طریقہ کتاب شریعت تہ نبوت عطا کر فَاِنْ يَكْفُرْ  
 بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكْفَارِينَ ہس اگر نظیر موجود آیتہ تم مکمل لو کہ اتھ  
 تہندس نبوتس انکار کرن، کرتن، تمیک مہ بڑوتہہ کانہہ نم توبہ چھونہ تہ کیہنہ۔ کیاڑہ پڑپاٹ امہ چھو  
 امہ خیطرہ مقرر کر مڑا کہ جماعتھاہ تم نہ ہرگز اتھ نبوتس تہندس انکار کرن۔ بلکہ زانن امہ تہ پور  
 قدر۔ تم گے مہاجر تہ انصار۔ بیہ تم ہند پیر و قیاس تام أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ  
 اِقْتَدَاهُ تم حضراتِ انبیاء گے تم ہندگانِ خاص تمکن اللہ تعالیٰ اَنْ دُشْمَنِ هَنْزِنِ تھن پیٹھ صبر  
 کرئس کن ہدایت کور۔ ہس تہنزی و تہ پچو تہہ تہ صبر کرئس اندر قَدْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا بیہ تہ  
 فرماو کہ تہہ یارسول اللہ ای لو کو یو چھوس نہ مڑگان توبہ امہ تہلیفہ تہ ہنمائی خیطرہ کانہہ مزوریہ۔ بلکہ  
 چھسوہ بوبے غرض نصیحت کران اِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ بیہ قرآن مجید چھونہ مگر عالمین  
 ہندہ خیطرہ بوڈو عطا تہ نصیحت، سمہ مانہ سیت توہی بوڈو فائیدہ تہ نفع چھوہ۔ نہ مانہ سیت توہی سخت  
 نقصان چھوہ۔ اکھ ہنودیاہ اکھ آؤنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدقس اندر۔ تمی ہیوت تمکن  
 سیت نہ ہی گفتگو کرن تھہ اندر اوس سو تھہ تھہ کران جوش اندر لوگ دینہ اللہ تعالیٰ اَنْ چھونہ از

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشِيرًا  
مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى  
لِّلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا  
وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي

تمام کا نہ کتابے نازل کر مژ۔ اسی سپریم آیات کریمہ نازل وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشِيرًا مِّنْ شَيْءٍ بیہ کرنے سمومو مکرو و خدایہ سز کا نہ قدر۔ اترہ قدر کرن شو بہ با۔ کیا زہ تمو وون اللہ تعالیٰ ان چھتہ نازلے کمر مژ کا نہ بشرس پیٹھہ ہن کا نہ کتاباہ۔ یہ وئن گو خدایس نسبت بے قدری کرن۔ کیا زہ امہ سیت چھو لازم یوان نبوتس انکار کرن ائس نبوتس انکار کرہ تم زون اللہ تعالیٰ سہد فرمان اپر نعوذ باللہ۔ پرس تصدیق تہ تسلیم کرن چھو واجب تھی سیت چھہ یوان خدایہ سز قدر کرن۔ لہذا سمومو تصدیق و تسلیمہ بدل تکذیب و انکار کور۔ تمو کر بے قدری یہ گو امیک تھقی جواب۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان امیک الزامی جواب قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نَبِيًّا وَهُوَ كِتَابٌ مُّبِينٌ اسی ہو دو حضرت موسیٰ یوسہ کتاب بیتھہ آو یعنی تورات سو کم کمر نازل نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تیج کیفیت یہ چھہ کہ سو بذات خود نورک پاٹھہ واضح تہ روشن تمن لوگن ہندہ ہدایتہ خیطرہ سو سوزنہ آہہ تمن لوگن ہندہ خیطرہ چھو سو بوڈ ہدایت جَعْلُونَهُ قَرَاطِيسَ یوسہ کتاب تہہ پنہ نیونفسانی اغراضو موکھہ ورقہ ورقہ کروان تُبَدُّونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا ائس وراقہ پنہ مطلب براری خیطرہ چھوہ خوش کران۔ سو چھوہ ہاوان تہ ظاہر کران۔ کھٹھہ تہ پوشیدہ چھوہ تھاوان تمہ منزہ واریاہ حصہ۔ تھہ منز تہمدس مطلبس خلاف چھو کینہہ آسان مثل نعت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ بیہ اووہ تہہ کچھ ناونہ تمہ تورا حکمہ ذریعہ سو علم ائس۔ نہ زانہو تہہ نہ تہمد مال تہ بدبب سو تورات نازل سپدنہ برو نٹھہ قُلِ اللَّهُ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ لِّلَّذِينَ كَانُوا يُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ نے کمر سو کتاب نازل لہذا کمہ تھہ چھوہ توہہ یہ ونان کہ اللہ تعالیٰ ان چھتہ کا نہ کتابے نازل کمر مژ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ یہ جواب بووز ناونہ پتہ تراویو کہ تم پنہ نین شعلن منز۔ اپرن تھن تہ



خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿۹۱﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي  
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ  
بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۹۲﴾ وَمَنْ  
أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلى ولم يؤمر

بیسودہ کا میں سیت روزن تم مشغول۔ توہم پیٹھہ یہ فرض اوس تہ ائوہ توہم بجاون مہ بر وئہم کاہم فہر  
بو بوزہ پائے تم سیت وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ہتھہ پائھہ تورات اسی  
نازل کورمت اوس۔ ہتھہ پائھہ چھویہ قرآن مجید تہ کتاباہ یوسہ اسی نازل کمر توہم پیٹھہ یارسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم۔ یوسہ خیر و برک کتاب ہتھہ۔ کس اکھاہ ہتھہ پڑھ کرہ۔ تمہ موجب عمل کرہ کسندہ خیطرہ  
چھو فلاح دارین۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید چھو تصدیق کرہ ان تم کتابان ہتھہ۔ امہ بروئھہ چھہ نازل  
کرنہ آمرہ۔ لہذا چھویہ قرآن مجید دو یو کھو خیطرہ نازل کورمت۔ اکھ مخلوقن ہندہ نفعہ خیطرہ ہتھہ تم  
کتابان ہندہ تصدیق کرنہ خیطرہ کہ تمہ کتاباہ چھہ بے شک خدایہ سندی طرفہ نازل کرنہ آمرہ  
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ہتھہ تمہہ خصوصیتہ سان کھوڑہ نا یو کہ مکہ شریفک لو کہ۔ ہتھہ تم  
اتھ اندلہ چھو تمام عالمک لو کہ کیا زہ ہتھہ جایہ چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان لِيُنذِرَ لِّلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ہتھہ  
سوعالمہ کین لو کن کھوڑہ ناوہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ساری لو کہ اگرچہ تمہندہ  
انذارہ تہ ہتھہ کرنہ سیت ایمان آننہ لیکن تم کو کن آخرتچ پور پڑھ چھہ تم چھہ اتھ قرآن مجیدس پڑھ  
کران وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ہتھہ تم ایمان اتھہ پنہ نین نمازن پیٹھہ ڈاؤ کران۔ پابندی  
سان پانڑوے وقت پورہ ادا کران۔ کیا زہ ایمان واعتقادس سیت یلہ عمل تہ مکمل آسہ تلہ چھہ عذابہ  
نہ نجات لہ بق امید وَمَنْ أظلم ممن افترى على الله كذباً ہتھہ کس اکھاہ چھو یڑ عالم تس شخصہ سندہ  
خوتہ تم اپن نوڑوو معبود برہتھہ پیٹھہ نبوتس انکار کرنہ سیت ہتھہ پائھہ ہتھہ پیٹھہ وڈو کور تموڈو پ ماآنزل  
اللہ علی بکھہ من شیء اللہ تعالیٰ ان کورنہ کانسہ بشرس پیٹھہ کہنی نازل اَوْ قَالَ اُوحي اِلَيَّ وَلَمْ

إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ  
 الظُّلُمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا  
 أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُحْجَرُونَ عَذَابِ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ  
 غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۳﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا  
 فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ  
 وَمَنْ نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفْرٍ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ

يَوْمَ لِلَّهِ شَيْءٌ نته کوڑن پنے حقہ دعوی نبوت۔ و ن من مہ کن جھوٹی بیان نازل کرنہ حالانکہ تس  
 کن اوس نہ کانہہ وحیہ نازل سپدان مثل میلہ کذاب وغیرہ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تھے  
 پانہ کہہ جھوٹیو ظالم تس شخصہ سہہ خوتہ سم دوپ بوتہ ہیجہ نازل کمر تھہ تہ لوکن نشہ پیش کمر تھہ تھہ  
 پانہہ تھہ پانہ خدا جھوٹا نازل کران۔ کانہ اکہاہ جھوٹہ سمن لوکن ہندہ خوتہ ہیو ظالم وَلَوْ تَرَى إِذِ  
 الظُّلُمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ سمن ظالم ہند حال جھوٹیہ کہہ اگر وہتھہ کہہ تہ سو  
 وقت سمہ ساتہ سم ظالم آسن موتہ چہ سختی اندر مبتلا، رُوح کڈہ ون ملایک آسن پنن اتھہ مژہ راوت تھن  
 ظالم کن ونان۔ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ای ظالمو جلد ہیکن کڈیو کہ پنن زوپنہ نیو پانوا اندرہ الْيَوْمَ تُحْجَرُونَ  
 عَذَابِ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اَزکی دہہہ کالیہ توبہہ  
 مرنس سیتی سزا دہہ۔ خواری ہندہ عذابہ سیت۔ کیا زہ تہہ آروہ ناخدا جس نسبت تہہ تھہ لاگان سمہ  
 بالکل ایزہ آسہ آسان۔ ہیہ آروہ تہہ تہند آیات مانہہ نشہ تہہ تسلیم کرنہ نشہ سبخر کران  
 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ سمہ دہہہ قیامت سپدہ تہہ دہہہ فرماو کیہ اللہ تعالیٰ  
 آوہ تہہ آسہ نشہ پتولا کہہ۔ لہہ لہہ تن تہما۔ یارن تہہ مددگارن ورا ی۔ تھہ پانہہ آسہ تہہ گوڈنچہ لہہ تہما  
 دنیاس اندر سپدہ کرمت آسہہ تہی تہہ تھنی۔ نیہہ نی تہہ واری وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ  
 ہیہ تروہہ تہہ سوزوی ہیہ آسہ توبہہ دیتمت اوس پانس تھہ گن۔ وَمَنْ نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفْرٍ الَّذِينَ

لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٦﴾  
 إِنَّ اللَّهَ فَلَقَ الْحَبَّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ  
 الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَ  
 جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ  
 الْعَلِيمِ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي  
 ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٤﴾

دَعَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ فِيهِمْ لَمَّا كُنْتُمْ فِيهَا  
 نین کا میں اندر خدایہ سند شریک کنیو جھوہ تم۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ پڑاٹ چھلہ کنیو تم سارنی تعلقات  
 یم توہ پانہ وان آسِ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ضایع سپد توہہ نشہ تہ سوزوی یہ توہہ گمانہ  
 اوس کہ معبودان باطل کرن اسہ شفاعت إِنَّ اللَّهَ فَلَقَ الْحَبَّ وَالنَّوَى پڑاٹ اللہ تعالیٰ جھو پھاہ  
 ون پریتھ پھلس تہ آنچہ یوسہ زمینس منزورنہ یوان جھہ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَخُجْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ  
 سؤی جھو کڈان زندس مُردس نشہ، مُردس زندس نشہ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ یوسہ کیاہ گو معبود  
 برحق پس کتھ پاٹھ جھوہ تہہ تس پڑھ کرنہ نشہ گریز کران تہ ژلان فَالِقَ الْإِصْبَاحِ سؤی جھو صُح پھولہ  
 راوہ ون وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا بیہ کررات تھی آرامک وقت کہ ساری جھہ  
 تھتھت ژھیتھ شوچھہ سیت آرماہ حاصل کران۔ بیہ کوزن آفتاب تہ ژوہ ہندر فثار حسابہ موجب  
 سمہ سیت وقتن ہندس ضبطور بطس اندر آسانی جھہ سپدان ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ جھو اندازہ  
 تہ کارگیری، تس خدایہ سنزئس غالب تہ سوزوی زانن وول جھو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ  
 لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ بیہ جھو سو پروردگار سؤی سم ستارہ کر پیدہ تھہ تھہ تھہ لبو کنہ کنہ  
 اندر خشکی ہزنن وتن تہ سمندر ن اندر قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تھتھق اسہ کرہ پینہ توحیدہ  
 چہ۔ دلیلہ بیان ویشہ ناوتھہ تم لوکن ہندہ خیطرہ سم زانان چھہ ژت کیاہ جھو تہ پتھہ کیاہ جھو وَهُوَ

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ  
 قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿۹۸﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ  
 السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا  
 نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ  
 وَجَبْطٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ  
 مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَُمْ

الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ بِيه گو سو پروردگار سومی سیم تہہ ساری پیدا کر واکسی شخصس زبہ  
 سو گو حضرت آدم فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ نَس کرن تہہہہ خیطہ اکھ قرار پج جایہ۔ سو گو ماجہ  
 ہند رجم۔ پچہ دان۔ تہہہ منز بہہہہ کالاہ روزت چھو انسان دنیا ک اثر قبول کران بیہ کرن امانت تھاروچ  
 اکھ جایہ سو گئیہ قبر تہہہ منز کینہ کالاہ روزت چھو آخر تک اثر قبول کران قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
 يَفْقَهُونَ پز پاتِ اَسہ کمر آیات پن بیان موز او تہہہ تمن لو کن ہنہہ خیطہ ہ سیم سمجھار چہہ۔ وَهُوَ  
 الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ بِيہ گو سو پروردگار سومی سیم زود ترود آسما چہہ  
 طرفہ نَس کھار اَسہ تہہہ زودہ سیت زمینہ منزہ پر ہتہہہ قسبک کُلِّ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَس کوڈ اَسہ تہہہ  
 زمینہ منزہ سبز سبز شاخ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا تہہہ منزہ چھو اَس کڈان لو کٹ لو کٹ دانہ سیم اکھ اَس  
 پٹھہ آسان چہہہ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ بِيہ کڈ اَسہ خضرہ کلپو اندرہ تمن ہند یو پوشہ  
 ٹور یو اندرہ خضرن ہند گرن سیم یون گن نئے مت آسان چہہہ وَجَبْطٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ  
 مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ بِيہ کھار اَسہ تہہہ زودہ سیت دچہہہ باغ۔ بیہ زیتون باغ۔ بیہ دین باغ سیم  
 اکھ اَس ہی چہہہ اکھ اعتبارہ اکھ اَس بدل چہہہہ بیہ اعتبارہ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ وارہ وچھو  
 پر ہتہہہ کلہ کس میوس گن۔ یلہ تہہہہ میوہ لگان چھو تہہہہ ساتہ چھو آسان بد مزہ تہہہہ نا قابل استعمال تہہہہ پتہ  
 یلہ سو میوہ پپان چھو تہہہہ ساتہ چھو آسان مزہ دار سیٹھاہ فاسیدہ مند۔ اَمہہ منزہ تہہہہ چہہہ ننان خدلیہ سبز

لَا يَتْلُقُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ<sup>(۹۹)</sup> وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ  
 وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَدَتْ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ<sup>(۱۰۰)</sup>  
 بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ  
 صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>(۱۰۱)</sup>  
 ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ

کمال قدرت اِنْفِ ذَالِكُمْ لَا يَتْلُقُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وچھو پڑ پاتھہ سکن چیزن اندر چھہ توحید چہ خبر چھہ  
 ذلیلہ بالیمان ہندہ خیطرہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَدَتْ بِغَيْرِ عِلْمٍ  
 ٹھہراوہ لو کو شیطان خدایہ سند شریک حال چھہ تم تہ چھہ کرم تہ اللہ تعالیٰ نئی پیدہ۔ یلہ نہ پیدہ کرہ و ن  
 تہس و رای کا نہہ چھو۔ معبود تہہ پاتھہ ہیچہ تہس و رای کا نہہ آتھہ۔ ہیہ ٹھہراو لو کو خدا تہس پتھو تہ کورہ زانہ  
 تہ پچھانہ و رای از تہس جل و نادانی سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ منزہ تہ پاک چھو سو پروردگار تہس سار  
 وی تھو نیشہ۔ نہ چھو س شریک کا نہہ نہ چھس پتھو تہ نہ چھس کورہ۔ ہیہ چھو سیٹھاہ بلند تہ بالاتھو تھو نیشہ  
 سہہ تہس گن لو کھہ لاگان چھہ بے دلیل بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سو چھو موجود تہ گوڈہ پیدہ کرہ و ن  
 آسمان تہ زمین ہند تہس و رای چھو نہ آسمان وزینگ موجود کئی۔ لہذا شو بہ سوئی معبود برحق اَتَىٰ يَكُونُ  
 لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ تہس تھہ پاتھہ آسن اولاد۔ حال چھہ تہس چھہ آسمن آشی زانہ و خَلَقَ كُلَّ  
 شَيْءٍ تہی کور سو زوی پیدہ۔ تھہ پاتھہ آسمان وزین پیدہ کرن تھہ پاتھہ کرن تم تہ پیدہ تہم تہہ تہہ تہہ  
 اولاد یا شریک چھو کھ ٹھہراو۔ بنیا کہ خالق آسن مخلوق شریک۔ تھہ کیاہ فرق روزہ خالق تہ  
 مخلوقس منز وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہیہ چھو سوئی پر تھہ چیزا ہر ہر پورہ زانہ و ن ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِبَادَتِمْ تہس و رای چھو نہ تہس و رای خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ  
 فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ سارہ کوی پیدہ کرہ و ن چھو سوئی تہس و تہزی یا تہ عبادت تہ بندگی۔  
 سوئی چھو پر تھہ چیزک کار ساز۔ تہس و رای چھو نہ کا نہہ تہ کار ساز حقیقی۔ لہذا اگر تسنزی یا تہ عبادت کرو

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۱۰۶﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ  
 الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۰۷﴾ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ  
 رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ  
 بِحَفِيفٍ ﴿۱۰۸﴾ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِيُقُولُوا دَرَسْتَ

سُو و اتا ووه سبښاه نفع ته فائده۔ بين هنر عبادت كرتھه كياه فائده نيو۔ تم كياه دنوه۔ تمن اتهه كياه  
 چھو۔ خالق ته چھو سوي۔ عليم ته چھو سوي۔ و كيل ته چھو سوي۔ تم ساري چيز جهه منگان كه معبود ته  
 گرهه سوي آسن۔ تهديوي شان چھوكمه **لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ  
 الْخَبِيرُ** تس بيكن نه و جهت۔ و جهنه پته حقيقت دريافت كرتھه، كوكن هنزه اجهه دنيا س اندر۔  
 آخر تس اندر و جهن تس بايمان جنس اندر۔ مگر حقيقت ته ماهيت سپده نه تمن ته دريافت۔ سو چھو پانه  
 تمن سارني اچهن ته اجهه والين و جهان ته هنر حقيقت ته ماهيت زانان سمه اجهه نه تسند ادراك كرتھه  
 هيكان چھه ساري چھه تمی پده كرت۔ تس بهه خبري كه كس چيز كتھه چھو ميه پده كورمت كمه چيز ج  
 كياه حقيقت چھه۔ بعضي مفسر و فرموو كه مخلوق هنر ان اچهن منر چھونه يه قوتھے كه تس كياه بيكن و جهتھه۔  
 مگر سو چھو لطيف، ازراه لطف و مهرباني بيكه سو كانه هنر ان اچهن اندر سو قوت پده كرت سمه سبت سو تس  
 و جهتھه بيكه۔ بايمان ته كره جنس منر سو قوت عطا سمه سبت تم ته و جهن پنه تس خدا تس۔ سو چھو  
 سارني و جهان۔ كياهه سو چھو خبير۔ تس چھه خبرے كس شخص كياه چھو كمسز حقيقت كيا چھه **قَدْ  
 جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ** پزناٲ واٲه توبه نعره دليله پنه تس پروردگار سنده طرفه توحيد و رسالت  
 كس حق آسنس پٹھه **فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ** تس تس شخص تمن  
 دليمن منر غور و فكر كرنه سبت حق ته پوزدريٹھه آؤ تميك فائده چھو تس پانس۔ بيه تم اون لوگ تمن  
 دليمن گن كورن نه توجه ته نظر تميك ضرر ته نقصان چھو تس پانس۔ يو چھو س نه توبه پيٹھه راجهه۔ مجبور  
 كياه كرووه يواره و چھن پٹھه **وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ** تته پاتھه چھه اس توبه پيٹھه پيٹھه پيٹھه دليله

وَلْيَبَيِّنْهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۵﴾ اِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰۶﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۰۷﴾ وَلَا تَسْتَبُؤُا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُؤُوا اللَّهَ عَدُوًّا بَغِيرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ

مختلف طریقوں میں بیان کران۔ بھتہ نہہ ساری لوکن و اتنا وو۔ و ليقولوا درست تمن سپدن زہ جمائ۔ تمو اندرہ ضدی تہ مذہ تم وہن تم پیغمبرن چھو سبق پورمت کتال نشہ۔ ورنہ تم تھد مضامین تھہ کن بیکہ ہایہ بیان کر تھہ و لیبینہ ل قوم یعلمون بیہ بھتہ وارہ وضاحت کزو اس زان و الین ہمدہ خیطرہ۔ یعنی کبھد ارتہ انصاف پسند لوکن پھتہ سپدہ واضح تہ روشن۔ تمن ژکن ساری شک تہ شہمات اِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ نہہ روزپانہ بیروی کران تھہ یہ توہہ کن وحی چھو یوان سوزنہ ٹہندس پروردگارہ سندہ طرفہ یارسول اللہ۔ اٹھ منز چھو لوڈ چیز یہ اعتقاد تھاون کہ کانہ معبوداہ چھونہ تہ ذات پاکس و رای اٹھ پھتہ قائم روزتھہ۔ مہ کر و کانہہ توجہ مشرکن کن کہ تمن کیاہ گو تمو اون نہ ایمان و لو شاء اللہ ما اشركوا تمیک وجہ چھو ای کہ ہر گاہ خدا ایشہہ ہاتم لوک انہن نہ شرک و ما جعلناک علیہم حفیظا بیہ نہز کرونہ اسہ نہہ تہند راجہہ نگہبان و ما انت علیہم ب وکیل بیہ چھو نہ نہہ تمن ہمد ذمہ دار تہ جواب دہی کر و ہن۔ توہہ چھوہ مطہ فقط تمن تبلیغ کرن سان پیغام و اتنا و و لاسبوا الذین يدعون من دون الله ای مسلمانو نہہ مہ آسویکہ ژاران، بدوان۔ تمن معبودان باطن تمن تم مشرک معبود برحق تراوتھہ عبادت چھہ کران۔ کیاہہ تمیک نتیجہ نیرہ فیسبوا اللہ عدوا بغير علم تم تہ ژاران لیکہ معبود برحقس حدہ نشہ تجا و کر تھہ جملہ تہ بے علی سبہ۔ کذاک زینا لکل امة عملهم اسہ چھوتھہ پاتھہ پر تھہ کثرہ جمائس پنہ پنہ کامہ زینت دیو ٹمت تھہ پاتھہ نہہ و چھان چھوہ تھہ دنیا س منز کوم تھہ پاتھہ جاری۔ یہ دنیا چھونہ

إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ وَأَقْسَمُوا  
 بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيَوْمِئِذٍ بِهَا قُلُوبُهُمْ  
 لَنَنصُرَنَّكَ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُكُمْ أَنَّهُآ إِذَا جَاءَتْ لَا  
 يُؤْمِنُونَ ﴿۱۹﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا  
 بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَنذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۲۰﴾  
 وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلِئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَ  
 حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيَوْمِئِذٍ إِلَّا أُنْيَاسًا

دارالکافات۔ بدلہ سے سزاؤ تک گره ثم إلى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو پتہ چھو  
 چانس پروردگار س نشہ تم سارنی رجوع کزن۔ سوونہ تم پائے تمہ سار کوی یہ تم کران آس تو پتہ  
 دیکھ سزا۔ تمہ مہ بر دکا نہ غم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ستمو معرہ و دا سخت قسم خدایہ سند نہایت  
 زورہ سان کہ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيَوْمِئِذٍ بِهَا قُلُوبُهُمْ ہر گاہ ہر گاہ تم نشہ ولتہ کانہ فرمائشی مجرہ۔ نہ نشانہ تم ان  
 ضرور تمہ ایمان۔ قُلْ إِنَّمَا الْأَيُّتُ عِنْدَ اللَّهِ تمہ فرماو یوکھ جواب کہ ساری آیات چھ خدائس  
 اتھہ۔ میہ اتھہ چھو نہ کنہی۔ وَمَا يَشْعُرُكُمْ أَنَّهُآ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ تو پتہ تمہ چیز زار اوہ توہم  
 یہ تمہ کہ ہر گاسو نشانہ نہ سو مجرہ ہہ تم نشہ ولتہ۔ تو پتہ نہ ان نہ تم ایمان۔ اسہ چھ اج خبر۔ وَنُقَلِّبُ  
 أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَنذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ تمہدہ ایمان نہ  
 انہ موکھ بھر واس تمہند دل تمہنزہ۔ اچھ تو پتہ سو مجرہ و بھجت نہ ان نہ تم ایمان۔ تمہ پائہ نہ ایمان  
 اوکھہ تم پڑھہ کرکھ اتھ قرآن مجیدس گوڈنچہ لہ۔ بیہ تراو کھ اس تم پتہ سر کشی نہ تم انہ اندر حیران  
 وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلِئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا یہندہ عنادو  
 سر کشی ہنز کیفیت چھ یڑھی کہ ہر گاہ اس یہندہ فرمائشہ مطابق تم کن سوزو کھ ملائیکھ، بیہ ہر گاہ یمن



اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿۱۱۱﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ  
 عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ  
 زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَأَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ  
 وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۱۲﴾ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿۱۱۳﴾ أَفَغَيَّرَ

سیت مُردہ زندہ سیدت کتھہ کرن، بیہ ہر گاہ آس ساری پوشیدہ مخلوقات جہنم ان آجھن بروٹھہ کتھہ جمع کروکھہ۔ **فَاكَانُوا الْيُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ** توتہ تم ایمان اُن نہ پڑھہ کرن نہ مگرے کانسہ ہمدہ حقہ یشہہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن تمؤ منزہ چھہ اکثریت جاہلن تہ بے خبرن ہنزہ ستمن نہ حقیقت معلوم چھہ ایمان انہ نک پھونہ تمین قصدی تہ ارادے۔ خواجواہ چھہ فرمایشی مجرہ طلب کران **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ** چھہ پاٹھہ ستم لوکھہ ٹھہند دُشمن چھہ چھہ پاٹھہ کر اسہ پر ستمہ پیغمبرس دُشمن انسان شیطان تہ تہ جن شیطان تہ لہذا چھہند یہ ستمو کتھہا کہنہہ **يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا** ستمو اندرہ بعضی شیطان بعضی کافر ان انسان شیطان چھہ تہ مزہ دار کتھہ بطور وسوسہ دھوکہ ونہ خیطرہ وکن منز تراوان آس۔ امہ اندرہ چھو مُراد کتر چہ تہ مخالفتہ چہ کتھہ **وَأَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ** ہر گاہ یشہہ ہاٹھہند پروردگار تم کرہ ہن نہ یہ کوم یعنی دُشمنی مگر تم چھو یوٹھمت دوستن سیت دُشمن گاش سیت گتھہ۔ پزس سیت اپز آسن۔ تہندس یشھن منز چھہ جہ جہ حمو۔ لہذا امہ سدن ٹھہند دل مبارک آزرده بہنزہ دُشمنی سیت۔ کس تراویوکھہ تم لوکھہ بیہ یہ کیندہاہ تم کران چھہ دینس منز افترا پردازی اندرہ تمیک غم مہ بروٹھہہ **وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ** چھہ ستم شیطان یکن کافر ن ہندین وکن اندر ستمو لوکھہ وسوسہ تراوان چھہ تمین لوکن ہمد دل تمین ٹھن کُن پھرن۔ مایل سدن تیکن نہ پور پڑھہ چھہ آخرچ۔ یعنی اہل کتاب یسودونصاری۔ کیاہہ تئے پور پڑھہ آسہ ہا آخرچ تلہ کرہ ہن نہ نبی آخر الزماَس



اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۱۱۷﴾ اِنَّ رَبَّكَ  
 هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۱۸﴾  
 فَكُلُوْا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِيْنَ  
 وَمَا لَكُمْ اِلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذَكَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ

یکن ہندہ واضح یہ صاف آسمان چھہ ذنیاس اندر زیادہ مخری۔ ہر گاہ جہہ یارسول اللہ بالفرض جہزہ تھہ  
 ماوتلہ ڈالن تم توہہ پروردگارہ سزہ سیزہ وتہ نشہ کیاہہ تم چھہ پانہ وتہ نشہ ڈلت۔ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا  
 الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ تم چھہ اعتقادن منز بیروی کران مگر بے اصل خیالاتن ہنز۔ یہ چھہ  
 تم مگر اپز ٹھہراون قیاسی کتھہ کران۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ  
 بِالْمُهْتَدِيْنَ تمین مقابلہ چھہ بعضی خدایہ سند بندہ راہ راستس پیٹھ پکان۔ پز پاپ تھہد پروردگار سوی چھو  
 یژانہ ون تس تس تہنزہ وتہ نشہ چھو ڈلان۔ سوی چھو یژانہ ون تمین تم سیزہ وتہ پیٹھ پکان چھہ۔ سو  
 پیٹھہ پاٹھہ مگر ہن سزاویہ تھہ پاٹھہ کرہ سیزہ وتہ پیٹھہ پکھ وئین انعام واکرام عطا۔ کافر و تروو مسلمائن اندر  
 یہ شبہہ تہ شک کہہ ای مسلمائو عجیب کتھاہ چھہ تہنز کہہ پانہ مورمت جانور چھون کھیوان مگر خدائین تس مور  
 مت آسہ یعنی خود مردہ جانور سو چھون نہ کھیوان۔ مسلمان آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشہ۔ یہ شبہ  
 کرکھہ پیش۔ آتی سپد نازل تم آیات کریمہ۔ ای مسلمائو توہہ بلکہ ممانعت آہہ کر نہ کہہ تہہ مہ آہو کافر  
 ہنز کتھن گن تھاون فَكُلُوْا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِيْنَ لہذا کھو تمین جانورن  
 ہند ماہن ذبح کر چھہ وقتہ خدایہ سند ناوکاسہ ہندہ شرکتہ وراہی ہینہ امت آسہ۔ ہر گاہ تھندین آیاتن پڑھہ  
 کرہ ون تہ احکامن پیٹھہ ایمان آنہ ون چھوہ جانورہ سند حلال سپدن تہ حرام سپدن چھو موقف خدایہ سند  
 ناوہینس پیٹھہ تہ نہہینس پیٹھہ ذبحہ وقتہ۔ یہہ ٹونہ والس جانورہ سند ٹون تھندہ بدنہ منزہ نیر نس تہ نہ  
 نیر نس پیٹھہ۔ وَمَا لَكُمْ اِلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذَكَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ توه کیاہہ وجہ چھو کہہ چھوہ نہ کھیوان تس  
 جانورہ سند ماہن ذبح آسہ کر نہ امت خدایہ سند ناوہتھہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ حالانکہ تم

لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا  
لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  
بِالْمُعْتَدِينَ ﴿۱۱۹﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ  
يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۲۰﴾ وَلَا تَأْكُلُوا  
مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ  
لِيُوْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ

فرمود توہمہ بتفصیل ہمیں آئیہ کرتے منہ تم ساری چیزیں تم توہمہ پیٹھہ تم **إِلَّا مَا اضْطُرُّتُمْ إِلَيْهِ**  
مگرے جبہ سخت مجبور سپرد وگنہ وقتہ۔ تمہہ ورا، بنوہ نہ توہمہ کا نہہ چیز۔ تلہ پھہ تم حرام چیزتہ بقدر  
ضرورت توہمہ حلال۔ تمہن حرام چیزن منہ پھونہ گنہ جالیہ تذکرہ کس جانورہ سندنس نسیم اللہ پھہ آسہ  
باقاعدہ ذبح کرنہ آمت **وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ** پڑتھہ پھہ یہ کہ واریاہ لوکھہ  
پھہ لوکن ذالان تہ گمراہ کران پنہ نیوغلط خیالوسیت بلاوجہ تہ بلادلیل۔ لیکن کیتس کالس کرن تم لوکن  
گمراہ **إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ** پڑپاٹ تھہ پروردگار پھویارسول اللہ زیادہ زانہ دن حدہ ذغہ  
ڈلہ ونین۔ سوویہ تمہہ نہ وکن اندر اعقاد آسوتھوان حلال چیزتہ حرام آسک۔ حرام چیز کہ حلال آسک  
پوشیدہ گناہ یعنی پھہ نہ وکن اندر اعقاد آسوتھوان حلال چیزتہ حرام آسک۔ حرام چیز کہ حلال آسک  
**إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ** پڑپاٹھہ سم لوکھہ گناہ کرن ادہ یہہ قسمگ  
گناہ آسہ تہ تمہہ قسمگ۔ لوگٹ آستن بابوڈ، پوشیدہ آستن یانون ضروریہہ تمہن سزاونہ تمہہ سارکوی یہہ  
تمہن کرن آس پھہ کامیواندرہ **وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ** بیہ مہ آسوتھویوان ای مسلمانو  
تمہن جانورہ سندنس پیٹھہ نہ ذبحہ وقتہ خدالیہ سندنناوبینہ آسہ آمت **وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ** پڑپاٹھہ سوکھیون  
پھو سخت گناہ **وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ** پڑپاٹھہ جن شیطان پھہ پنہ نین  
دوستن تہ پیرون ہندسکن دلن منہ تمہہ عجیب تھہ تراوان توہمہ سیت بحث کرنہ خیطرہ **وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ**

لَكُفْرًا ۚ أَوْ مَنْ كَانَ مَبْتَئًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا  
يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ  
مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾ وَكَذَلِكَ  
جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مَّجْرُمٍ ۚ لِيَسْكَرُوا فِيهَا وَمَا  
يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۳﴾ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ

لَاكُفْرًا ۚ لَكُفْرًا ۚ ہر گاہ تو بہ تہزہ تھہ مانوہ۔ عقایدن یا عملن متعلق تہہ تہ گنوہ تلہ ضرور مشر کے اومَن  
كَانَ مَبْتَئًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا  
آیائس شخصہ گوڈہ اوس مردہ گمراہ تہ وتہ ڈولمت۔ تو پتہ کور اسہ سو زندہ یعنی مسلمان بنوہیہ کور تس عطا  
اسہ نور اہس نور بہتہ پکان چھو سو کو کن اندر گمراہی ہند یو ساروی غایلو نشہ چھو سو محفوظ۔ سو چھا برابر  
تس شخص سیت لیس گمراہی ہنزہ اندر چھہ اندر ولہ آمت چھو۔ تمہ منزہ چھو نہ ہیکان سونیر تھے ہرگز  
چھو نہ برابر كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تھہ پاٹھہ بایمان چھو ایمان تہ اعمال صالحہ رتہ  
معلوم سپدان تھہ پاٹھہ آوزینت ونہ کافرن ہنزن تمن کائین سمہ تم کران چھہ یہ نوٹھاہ چھہ وَكَذَلِكَ  
جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مَّجْرُمٍ ۚ لِيَسْكَرُوا فِيهَا بلجہ تھہ پاٹھہ از مسہ شریفک زٹھ زٹھ لوکھہ چھہ  
ہزس دعوئس مخالفت کران لوگن سیزہ وتہ نغمہ ڈالان تھہ پاٹھہ کمر اسہ بروٹھین امتن ہند پر تھہ شرس  
اندر زٹھ زٹھ لوکھہ تم گوڈہ ارتکاب جرم کران آس۔ تہندہ اثرہ سیت آس عام لوکھہ تہ سو جرم کرن  
ہیوان تائیکہ تم لوکھہ آس حضرات انبیاءن ضرور اتناونہ خیطرہ تہ تہندس تبلیغس ناکام بناونہ خیطرہ  
شورش پھیلوادان سمہ موکھہ تم ساری عذابس گرفتار آس یوان کرنہ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ  
وَمَا يَشْعُرُونَ تم لوکھہ آس پنہ خیالہ پیمبرن تکلیف واتناونہ خیطرہ شرارت کران مگر تمیک ضرر اوس  
تمن پنہ نینہ پان واتان مگر جھلم و بے علمی سببہ اوسکھہ نہ فجری تران۔ تمن مکہ کین کافرن ہند جرم چھو  
یوت زیادہ کہہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ يٰۤاَئِمَّةُ كَثِيرَةٍ مِّنَ

آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ  
 اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا  
 صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۳۳﴾  
 فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ  
 وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا  
 يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ

وانان چھو پر یک کا نہ نشانہ، بوڈ مجزہ ہنس پیغمبر برحقہ سندس نبوتس پیٹھہ بد دلیل چھو آسان تمہہ  
 ساتہ چھہ تم وان کہ اس گرونہ توتان پڑھہ یوتان نہ آسہ پانس تہ من عطا کرنہ تم تم چیز تم پیغمبرن عطا  
 کرنہ آئے یعنی وحی بہتاب وغیرہ۔ اتھہ چھو کران اللہ تعالیٰ رد۔ فرماوان چھو اللہ اعلیٰ حیت یجعل  
 رسالۃ اللہ تعالیٰ چھو بہتر تہ رت زانان زہ کوسہ جای چھہ مناسب تہ لایق پیغمبری خیطرہ۔ تمہہ شخص  
 چھو قابل تہ سزاوار امہ عمدہ جلیلہ خیطرہ سبیب الذین اجرمو صغار عند اللہ عنقریب واتہ  
 تمن لو کن سمو پڑھہ تھہ وان تہ یٹھہ جزم عظیم کو زخدا ہنس نش واتھہ بذلت تہ خواری آخرتس اندر  
 وعذاب شدید بہا کائوا یبکرون بیہ واتھہ کڈر عذاب مکر تہ فریب تہ شوروشر پھیلاونہ خیطرہ  
 فمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیْہُ یمہ بروٹھہ آویمان کرنہ حال بالیمان تہ کافرن ہند تمہ اندرہ سہ معلوم  
 کہ یسہہ حقہ اللہ تعالیٰ یڑھہ ہدایتہ چہ وتہ پیٹھہ آون تہ نجاتہ وتہ پیٹھہ پکناون یشرح صدرہ للإسلام  
 تسد سینہ یعنی دل چھو مڈراوان تہ کشادہ کران اسلام قبول کرنہ خیطرہ ومن یرد ان یضلہ یجعل  
 صدرہ ضیقًا حرجًا بیہ یسہہ حقہ اللہ تعالیٰ یڑھان چھو گمراہی تسد سینہ یعنی دل چھو کران تنگ  
 سوی سیٹھان تنگ اسلام قبول کرنہ خیطرہ کائما یصعد فی السماء زن سو شخص زورہ آسان چھو  
 کھسن ہیوان۔ مگر چھو نہ کھست بیکان دل چھوس تنگ سہ ان کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین  
 لایؤمنون تہہ پاتھہ چھو اللہ تعالیٰ شیطانہ سوسہ تراوان تمن لو کن پیٹھہ یم نہ ایمان اتان تہ پڑھہ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۵﴾ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا  
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۶۶﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلْوِ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
 وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶۷﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ  
 جَمِيعًا لِيُعْشَرَ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ  
 أَوْلِيَاءُ هُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمِعْ بَعْضَنَا بَعْضٌ وَبَلَّغْنَا  
 أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِيدِينَ

کران جہمہ تمی و سوچ ناپاکی چھ روز بروز زیادہ سپدان و ہذا صراط ربک مستقیمًا یہ دین اسلام صحیح  
 ذکر برد و نگہ سز شیبہ تہندس پروردگارہ سز سیز و تھہ۔ امہ و رای جھنہ بیہ کانہہ و تھاہ نیز سمہ و تہ پٹھہ  
 پختہ سیت شخص نجات لبہ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ بیشک امی صراط مستقیمہ کہ  
 وضاحتہ خیطرہ کہ اسہ پن آیت بتفصیل بیان نصیحت رتہ و نین لوکن ہندہ خیطرہ لَهُمْ دَارُ السَّلْوِ عِنْدَ  
 رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تم نصیحت رتہ و نین تہ دین اسلام قبول کرہ و نین ہندہ خیطرہ  
 چھو سلامتی تہ امن و اما تک پو شون گرہ یعنی جنت تہندس پروردگار س نشہ۔ سوی چھو یہند دوست تہ  
 مددگار تھہ بدل تہ سم کران آس رتہ عملہ وَوَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا بیہ چھو سودوہ قابل ذکریمہ  
 ڈوہہ آس ساری مخلوقات جمع کر و کھہ بیٹھہ منز جن تہ انسان ساری جمع آسن۔ تمو منزہ بیہ جن شیطان  
 ژکھہ ہوت و نینہ لِيُعْشَرَ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ای جن شیطانو واریاہ لوکھہ بناو و وکھہ ٹوہہ  
 پن تابع انسانو آندرہ سم گراہ کر و وکھہ پانس سیت وَقَالَ أَوْلِيَاءُ هُمْ مِنَ الْإِنْسِ تو پتہ و نین تم شیطان  
 ہندو دوست انسانو آندرہ رَبَّنَا اسْتَمِعْ بَعْضَنَا بَعْضٌ ای سانہ پروردگارہ بیشک چھو چون فرماون پوز۔  
 واقعی تہل نفسانی فاسیدہ اسہ آندرہ بعضیو بعضین ہندہ سیت۔ واقعی حقیقتس اندر آس شیطان ہندہ ڈالہ  
 سیت قیامس انکار کران وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا و ن وات اس تھہ معین و قس بس ژیمہ سانہ  
 خیطرہ مقرر او تھہ کورمت یعنی وون چھو از فیصلہ ژئی اتھہ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِيدِينَ فِيهَا لَا

فِيهَا أَلَمْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲۸﴾ وَكَذَلِكَ  
 نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۲۹﴾  
 يَمْعُشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ  
 يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْآيَاتِ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ  
 هَذَا قَالُوا اشْهَدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَخَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ  
 الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۱۳۰﴾

مَا شَاءَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ فرماوے کہ ای جن نے انسان کا فرزند تھوہرہ خیرہ چھو میوں فیصلہ نار جہنم منز تھنر  
 جای۔ ہمیشہ چھو توبہ رُوزن تھہ منر مگرے اللہ تعالیٰ ای یرھہ توبہ تمہ منزہ کڈن مگر سو یرھہ نہ  
 زانہ۔ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ہر پات تھہ رب چھو سٹھہ حکمتہ وول نہ سٹھہ علمہ وول۔ علمہ سیت  
 چھہ نس سارنی ہند جرم معلوم حکمتہ سیت چھو پریتھہ جرمس مناسب سزا ووان وکذالک نُوَلِّي بَعْضَ  
 الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہتھہ پاتھہ تھو وکھہ اَسْ اُو کنگار تین گھکارن نزدیک ہتھہ پاتھہ  
 تم دنیاء س اندر اکہ وٹہ رُوزتھہ چھہ کامہ کران آس يَمْعُشَرِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ  
 مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْآيَاتِ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ای جن نے انسان ہنز و  
 جھاژو توبے چھوہ پنہ نین گرائن نہ چھہ عملن ہند اقرار کران۔ کیاہ توبہ نش واژای ناسان پیغمبر سم  
 توبہ منزہ آس سم توبہ پران آسہن پوزوان آسہن اعتقادن نہ اعمالن متعلق سان آیات ہر آسہن  
 توبہ ہم کران اذکہ دُبھہ پیش انک۔ ادہ کیاہ وجہ اوس تہہ آسروہ نہ گھر ونا فرمانی نشہ باز یوان۔ قَالُوا  
 شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا تم ساری دین آس چھہ پنہ نین پان پٹھہ پائے جرج گواہی دوان کہ واقعی  
 حضرات انبیاء واژای آسہ نش تم آس چان آیات آسہ بوزہ ناوان۔ ہر آس ازہہ ڈک ہم تمہ کران۔  
 مگر آس نہ تھہ مانان۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان۔ وَخَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا تم ن اوس ویتمت  
 دنیاجہ زندگانی دُھو کہ۔ تمو اوس دُنویو عیش رُومت مقصد اعظم آخر چ آسکھ نہ فخری تمیک نتیجہ



ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا  
 غَفْلُونَ ﴿۱۳﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ  
 بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ  
 إِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا  
 أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ الْآخِرِينَ ﴿۱۵﴾ إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ

دراؤ کہ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا الْكَافِرِينَ تمود و ژپانے پنہ نس کافر آسئس بیٹھ گواہی  
 مگر نتیجہ اقرار کر نس کیاہ فاندہ نیرہ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفْلُونَ یہ  
 پیغمبرن ہندہ دعوت حق بیٹھ سوز تک سلسلہ آو جاری کرنہ۔ کیا زہ نہند پروردگار (یا رسول اللہ) چھونہ  
 کنہ شہرہ کین لوگن ظلم کر تھہ تہنزہ بے خبری اندر گالان۔ بلکہ چھو کھ گوڈہ پیغام و اتنا وان حضرات انبیاء  
 ن ہندہ ذریعہ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ یلہ پیغمبر آئے  
 سوزنہ تمود میت لوکن ناد سارنی لوگن سپڑ اطلاع۔ تمہ پتہ چھہ جنن تہ انسان نیو کارن تہ بد کارن سارنی  
 عملہ کرہ وینن ہندہ خیطرہ درجات مقرر کرنہ امت۔ تہنزہ عملہ مطابق تہنن درجاتن مطابق واتہ تمن پنہ  
 نین عملن ہند نتیجہ تہ بیہ چھونہ نہند پروردگار لوکن ہنز و عملونشہ بے خبر وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ بیہ  
 چھو نہند پروردگار بے نیاز نس چھنہ لوگن ہنزہ عبادت ضرورتہ۔ سو چھو رحمتہ وول۔ محض پنہ رحمتہ  
 سیت سوز تم حضرات انبیاء بیٹھہ تہندہ ذریعہ معلوم سپدن نفع و ضرر ک چیز۔ اتھ اندر چھو بندن ہند  
 وی فاسیدہ۔ إِنْ يَشَاءْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ ہر گاہ سوڑھہ توہہ سارنی نیہ یکدم  
 سمہ حالہ منزہ ہلاک کر تھہ۔ توہہ بدل اندہ توہہ پتہ تمکن۔ یشہہ تہ تمکن کما أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ  
 الْآخِرِينَ بیٹھہ پاٹھہ نہندہ کر نوہ پیدہ بیہ ا کہ قومہ نسلہ اندرہ نہند چھونہ وجود کنہ نہند چھوہ تہنزہ جالیہ  
 موجود بیٹھہ پاٹھہ چھوہ سلسلہ جاری مگر وارہ وارہ۔ ہر گاہ آس یشو نہندہ کروہہ ختم یکدم کیا زہ سانہ کامہ  
 چھنہ کانہہ ہندہ آسنہ سیت یانہ آسنہ سیت کانہہ رکاوت۔ حضرات انبیاء سوزے بیہ سمہ نہندہ مفادہ

آيَاتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۳۴﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۵﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا لِلشَّرْكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ

خیترہ۔ آسہ اوس نہ تھہ اندر پٹن کانہہ غرض۔ لہذا پڑہ ہا توہہ تمہ پیغمبرن تصدیق کرن۔ تہنز پیروی کرن۔ تمہہ سیت سپدہ ہا توہہ سعادت حاصل۔ اِن مَّا تُوْعَدُونَ آيَاتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ یمن چیزن ہند توہہ پیغمبرن ہندہ واسطہ وعدہ یوان چھو کرنہ قیامت یا عذاب تمہ تھہ چھہ یقیناً ضرور اوہنہ۔ تہہہ بیخون نہ خدا عاجز کرت۔ عذابہ نشہ پٹن پان، بجاوت ژ چھہ ونہ سیت۔ روپوش روزنہ سیت یا بیس شہرس تہ ملکس ژانہ سیت قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ بالاخر فرماؤ کھہ تہہہ یا رسول اللہ ای لو کو تہہہ گدھو پن کام کران پنہہ جایہ بو تہہ چھوس پن کام کران پنہہ جایہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عنقریب سپدہ توہہ معلوم مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ کہہ سکہہ چھہ آسہ رت انجام آخرتس لدر۔ بیشک ہمہ چھہ یقینی تھہ کہہ ظالم گدھن نہ زانہہ کامیاب وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا بیہ لگ تم کافر خدایہ سدہ خیترہ (تمی منزہ یہ تمی پیدہ کورمت چھو زراعت تہ چارواپو منزہ) کھہ حصہ مقرر کرنہ۔ بیاکھہ حصہ پو تلین ہندہ خیترہ حال کھہ پیدہ کرئس منز چھونہ تہس کانہہ تہ شریک فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا لِلشَّرْكَائِنَا تہس دینہ لگ تم پنہہ خیالہ یہ حصہ گو خدا تہس یہ حصہ گو سائین ٹھہر او متین شریگن فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ تہس تہس حصہ آسہ تہمدین شریگن ہندہ خیترہ تھاونہ آمت سوی آسہ جان تہ رت۔ تمہہ منزہ ولتہ نہ کہنی خدا تہس وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ بِرِزْقِهِمْ تہس تہس حصہ آسہ

يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۳۶﴾ وَكَذَلِكَ  
 زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ  
 شُرَكَاءُهُمْ لِيُرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ  
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۷﴾  
 وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ  
 نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ

خدايہ سندہ خیطرہ تھاونہ آمت سؤی جان پن اوس سؤ بیجہ وانتھ تھندین شریکن کن۔ ساءَ  
 مَا يَحْكُمُونَ کواتہ چھ چھو بیندیہ فیصلہ تہ تجویز۔ کیا زہ نیس چیز خداین پیدہ کور۔ سنو کیا زہ بیہ  
 تھاونہ تس ورا ی بیہ کانسہ ہندہ خیطرہ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ  
 شُرَكَاءُهُمْ لِيُرُدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ تیتھ پاتھہ ڈیت زینت وارینین مشرکن پن  
 اولاد مارئس تھند یو شیطانو۔ چنانچہ تمین آس بیہ وحشیانہ کوم رثتہ جان یوان یوزنہ۔ تیتھہ تم مشرک تباہ  
 بر باد سپدن آخرئس منز۔ بیہ تیتھہ تمین مشرکن پیتھہ دین تھند خلط ملط سپدہ۔ تم روزن ہمیشہ غلطی منزی  
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ تہبہ مہ سپد و تہز و تیتھہ کامیوسبہ غمگین۔ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یزہدہ ہاتھندہ حقہ  
 جانیر تلہ آسن نہ تم بیہ چیتھہ کوم کران فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ کس ترا یوکھہ تم تہ تھند اہز نور اوان  
 تہ غلط تیتھہ ٹھراونہ تم تلن پانے تمیک خراب نتیجہ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا بیہ چیتھہ تم  
 پننہ باطل خیالہ موجب بیہ تہ ونان کہ تم چاروا ی تہ بیہ زراعت نیس تم حاصل کران آس چھو حرام  
 لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ تین بیجہ نہ کانہ شخص استعمال کرت تس شخص ورا ی نیس  
 اس پننہ خیالہ موجب کھیاون بڑھون (یعنی تم چیتھہ معبودان باطلن ہندہ خیطرہ ہند تھاون۔ تو پتہ چیتھہ  
 کھیاون تھندین مجاورنی یوت تمین ورا ی تین ہندہ خیطرہ چیتھہ زانان حرام وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا  
 بیہ آس ونان تم جانور (بہنہ جانور مخصوص کرت) تین پیتھہ چھو سوار سپدن یا نور کھا زن حرام کیا زہ

لَا يَدْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ  
بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۶﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ  
خَالِصَةٌ لِّذُنُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ  
مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَّهُمُ اللَّهُ حَكِيمٌ  
عَلِيمٌ ﴿۱۳۷﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا  
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَىٰ اللَّهِ

تم چھ منسوب معبودان باطلن کن کر نہ آمت و آنعام لاید کورون اسم الله علیہا افتراء علیہ  
بہ کیہنہ چارواہی تمن پیٹھ آسنہ ذبحہ وقتہ خدلیہ سند ناوہیوان خداکس پیٹھ اپنوراوتھہ کیازہ بہ اس  
زاناں نہ امہ سیت گھہہ اللہ تعالیٰ خوش سبجزیہم بما کانوایفترون عنقریب دہ اللہ تعالیٰ تمن  
امہ اپنوراوتہ موکھ سزا وقالوا ما فی بطون ہذہ الانعام خالصہ لذونرنا و محرم علی ازواجنا  
بہ اس وان تم مفرک، ہم چہ تمن چارواہن ہندین تمن منز چہ تم چہ فقط اسہ اندر مردن ہندہ  
خاطرہ حلال، زنان پیٹھ چہ تم حرام وان یکن مینتہ فہم فیہ شرکاء ہر گاہ سوچہ مردہ زیوہ  
تلہ چہ ساری مردتہ زنانہ تمہ کس نہیںس منز برابر شریک سبجزیہم و صفہم اللہ حکیم علیہ  
عنقریب دہ اللہ تعالیٰ تمن پائے حرامہ ہ حلالہ سیت جانورن صفت کر نس پیٹھ ضرور سزا بیشک سو  
چھو سٹھاہ حکمتہ و دل ہ سٹھاہ زانن و دل۔ تمسند گر فاری اندر تاخیر کران پھونہ بے خبری موکھ بلکہ تس  
چہ پور خبر مگر تاخیر عذابس منز چہ حکمت آسان قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا  
بِغَيْرِ عِلْمٍ یَقْتُلُونَ تَمَاقِیْلَ تَمَاقِیْلَ تَمَاقِیْلَ تَمَاقِیْلَ تَمَاقِیْلَ تَمَاقِیْلَ تَمَاقِیْلَ تَمَاقِیْلَ تَمَاقِیْلَ تَمَاقِیْلَ تَمَاقِیْلَ  
مَارَزَقَهُمُ اللَّهُ بہہ کرکھہ حرام پانس پیٹھہ سورزق بس اللہ تعالیٰ ان عطا کرکھہ افتراء علی اللہ ہم  
ساری چیز چہہ کران تم اپنوراوتھہ خداکس پیٹھہ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ بیشک سپد تم لوکھ  
گمراہ بہہ اس نہ تم زاننہ ہ سیزہ و تہ پیٹھہ یکہ ون وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَدَّتِ مَعْرُوشَتِ وَغَيْرَ

قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝۱۳۰ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ  
 جَدَّتْ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
 مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ  
 مُتَشَابِهٍ طُكُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوهُ حَقَّهُ يَوْمَ  
 حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝۱۳۱ وَ  
 مِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَ  
 لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝۱۳۲

مَعْرُوشَتٍ سُوپروردگار گو سومی تم پیدہ کر تم باغ سخن اندر تم کل چھہ بیم ڈھکن پیٹھہ کھسان چھہ  
 (دھہہ کل ہی) بیہ تم کل تم ڈکھوورائے کھسان چھہ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ بیہ تم خضر  
 کل بیہ زراعت پیدہ کور سمہ کین میون تہ دان مختلف صورت تہ مختلف مزہ آسان چھو وَالزَّيْتُونَ  
 وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ بیہ کورن پیدہ زیتون بیہ دان تم کھہ اکس ہی تہ چھہ آسان۔ کھہ  
 اکس بدل تہ چھہ آسان کُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ تمی فرمووا ای لو کو کھیو تمکن سارنی کلین ہند میوہ  
 یلہ سونیران آسہ وَآتُوهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ بیہ آسو تمکن فصلن ہند حق ادا کران یعنی زکوٰۃ دوان  
 سمہ دوہہ بیہ فصل ثمان آسو وَلَا تُسْرِفُوا تمہہ دس منز تہ مہ آسو اسراف کران إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
 الْمُسْرِفِينَ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھونہ اسراف کرہ وین پسند کران وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ  
 بیہ کبر پیدہ اللہ تعالیٰ ان چارپا او اندرہ بعضی چارپا سم تھہ چھہ بُورنلہ وِن چھہ بیہ سم ژھوٹ تہ پست چھہ  
 بُور تلس قابل چھہ کُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ای لو کو کھیو بے فکر تم  
 جانورن ہند ماہر سم اللہ تعالیٰ ان تھہہ خیرہ حلال کمر پائے پنہ خیالہ کا نہہ چیز حرام کر تھہ مہ پجو شیطانس  
 پتہ پتہ۔ سوزانیون ناسو کھہ چھو إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ پزپاٹ سُو چھو تھہ نون و تمکن باوجود آینک

ثَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّانِّ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ  
 قُلْ ۗ الدَّكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ  
 أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُسْئِرُ بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۗ  
 وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ۗ الدَّكْرَيْنِ  
 حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۗ  
 أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَضَعَكُمُ اللَّهُ فِي هَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن

پڑھو۔ دلیل سبزہ توبہ، نشہ واضح تر روشن مگر سوچو توبہ توبہ راہ راستہ نشہ ڈال کر یثان ثنئیة ازواج  
 مِنَ الضَّانِّ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ سم چارواں تکمن منر تہہ پائے اذ حلال تہ از حرام کران و محو  
 کہہ یم ساری کر خدا بنی پیدہ۔ یعنی جھہ آٹھ قسم۔ کتو اندرہ زہ نر تہ مادہ بیہ ژھا دیو اندرہ زہ نر تہ مادہ  
 قُلْ ۗ الدَّكْرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ تہہ پر ژھو کہہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مشر کو نر زہ  
 چھا خدا لکن حرام کرمت کنہ مادہ زہ ۗ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ کنہ تم کہہ بچہ یا ژھا ول بچہ  
 یمن دوشون قسم ہنزہ مادہ پنہ نین رحمن منر تلت چھہ یُسْئِرُ بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ونومہ  
 امیک جواب کنہ دلیل سیت ہر گے تہہ پوز نہ دن چھوہ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ بیہ  
 چھو اللہ تعالیٰ ان پیدہ کمر مت و نٹو منرہ ہر تہ نر تہ مادہ بیہ گاؤ منرہ ہر تہ نر تہ مادہ قُلْ ۗ الدَّكْرَيْنِ حَرَّمَ  
 أَمِ الْأُنثَيَيْنِ پر ژھو کہہ تہہ ای مشر کو نوزہ نر چھا حرام کرمت خدا لکن کنہ زہ مادہ ۗ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ  
 أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ کنہ زہ بچہ سم بہندین مادن ہندین رحمن اندر چھہ۔ توبہ دعویٰ چھوہ کران کہ اللہ  
 تعالیٰ ان چھہ سم حرام کرمت تھہ پٹھہ کمر و کانہہ دلایلاہ پیش۔ اچ دل لیل بیکن زی چیز آتھہ۔ یا آسہ اللہ  
 تعالیٰ ان کانہہ پیغمبر یا مالکہ سندہ ذریعہ توبہ فر موومت یا آسہ تم توبہ بلا واسطہ پانے فر موومت۔ گوڈ بکس  
 صور تس یعنی نبوتس چھوہ تہہ انکار کران دو قسم صور تس متعلق پر ژھو کہہ ۗ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ  
 وَضَعَكُمُ اللَّهُ فِي هَذَا کیاہ تہہ آسہ تمہ ساتہ حاضر سمہ ساتہ اللہ تعالیٰ ان توبہ امہ حلال کر نک تہ

اَفْتَرَىٰ عَلَىٰ اللّٰهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا  
يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۷﴾ قُلْ لَا اَجِدُ فِيْ مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ  
مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّتَعَمَّهُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ  
دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا  
اٰهْلًا لِّغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ فَمِنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ  
رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۸﴾ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَمْنَا كُلَّ

حرام کر ٹک حکم فرموا۔ یہ بیوقوف تہہ تہہ کرتے تھے۔ معلوم سپرد تو بہر نشہ چھنہ اتھ پیٹھ کنبی دلیل سم  
چھہ محض اللہ تعالیٰ اس پیٹھ بلادلیل اپڑتہ بہتان نوورواوان فَمِنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا  
لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ کس کسہ اکھاہ چھو پڑ ظالم کس شخصہ سدہ خونہ یم اپڑ نوورو معبود بر حقس پیٹھ لو  
کن گمراہ کرنے خیطرہ بلادلیل اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ پڑ پٹھ اللہ تعالیٰ چھو نہ نجات نہ چھ  
وتھ ہوا ان ظالم لو کن بلکہ تہنز جای چھہ نار چھنم قُلْ لَا اَجِدُ فِيْ مَا اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ  
يَّتَعَمَّهُ تہہ فرمایو کہہ یارسول اللہ ای لو کو یو چھو سنہ لبان تمن احکامن منز سم مہ کن سوزنہ آی خدایہ  
سدہ طرفہ کانہہ چیزہ حرام کس کانہہ کھیوہ ونس پیٹھ حرام آسما اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا  
مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ مگرے آسہ خود مرده یا آسہ خون کس بدنہ منزہ نیران چھو، یا  
آسہ سورہ ماز کس بے شک چھو بالکل ناپاک۔ تمسد ساری اجزای بدن چھہ ناپاک تہ حرام۔  
سو چھو نجس العین کس نہ کسہ طریقہ پاک سپدہ اَوْ فِسْقًا اٰهْلًا لِّغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ یا کس جانور وغیرہ  
شر ٹک زریعہ بنہ یعنی کس جانور وغیرہ بقصد تقرب الی غیر اللہ خدا کس ورا ی بہ کانہہ ہند تقرب تہ رضا  
حاصل کرنے خیطرہ ذبح کرنے آمت آسہ ادہ آستن سو خدایہ سندا ناؤ پٹھی ذبح کرنے آمت فَمِنْ اضْطَرَّ  
غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ کس کس شخصہ سخت مجبور سپدہ کانہہ چیز نہیں نہ کھینہ  
خیطرہ سمو حرام چیز، دوورائے سو شخصے کھیہ سمو حرام چیز واندرہ کینہہ تہ چھو کس جائیز۔ بشر طیکہ تروی

ذِي ظَفِيرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَ عَلَيْهُمْ شُحُومَهَا  
 إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ  
 بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَعْغِيهِمْ وَإِنَّا لَالصِّدِّقُونَ ﴿۳۷﴾  
 فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ  
 بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۳۸﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

ہن کھینے سمے سیت زندہ ہیچہ روزت سوڈلہ نہ کھینس اندر حدہ نشہ بیہ آسہ نہ خدایہ سندس حکمس نافرمانی  
 کرہ ون تہ طالب لذت تہ مزہ ژھانڈہ ون۔ تس چھہ امید بخشاییشہ ہنز۔ کیاڑہ اللہ تعالیٰ چھو سٹھاہ  
 مغفرت کرہ ون سٹھاہ رحم کرہ ون وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظَفِيرٍ بیہ کر آسہ  
 یہودن پیٹھہ حرام پریتھہ نمہ وول جانور نیس نہ انجہ الگ الگ آسن بلکہ آسن ملہ وتھہ سوگوونٹھہ، گر،  
 شتر مرغ، انز، بطخ وغیرہ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهُمْ شُحُومَهَا گاووتہ کٹواندرہ کھر آسہ حرام  
 تمہن پیٹھہ تہن چربی إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ مگر نہ سو  
 چرب نیس تہندین پٹھن پیٹھہ آسہ یا اندر من سیت آسہ یا نڈہ اڈجہ سیت میلیتھہ آسہ۔ امہ ورا ی آسٹھہ  
 ساری چربی حرام تم چیز آس نہ فی نفسہ حرام کینہہ تہ۔ مگر ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَعْغِيهِمْ وَإِنَّا  
 لَصٰدِقُونَ یہ سزا دیت آسہ تمہن تہنزہ سر کشی موکھہ۔ آس چھہ یقیناً پوزونان فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ  
 رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ نیس ہر گاہ توتہ تم دشمن توبہ انکاری کرن، نعوذ باللہ اہرس کن نسبت  
 کرن سمہ کٹھہ موکھہ کہ تمہن کونہ چھو اوہ عذاب نازل سپدان، توہ فرماؤ یو کھہ تہند پروردگار چھو وسیع  
 رحمتہ وول۔ بعضہ جھنٹو موکھہ چھونہ سونا نافرمان جلد گر فتر عذاب کران۔ مگر تہنہ مہ زانو ہمیشہ روزہ  
 یوسہ حال۔ نہ بلکہ سمہ وقتہ عذابک وقت (نیس مقرر کرنہ آمت چھو) ولتہ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ  
 الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ تمہہ ساتہ ہیچہ نہ تہند سو عذاب کا نہہ کھہ دور کھر تھہ تہ چھہ رٹھہ نافرمان تہ کھٹکار  
 لوگن نشہ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ مُّشْرِكٍ



لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ  
 كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا  
 قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ  
 إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرِصُونَ ﴿۱۳۸﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ  
 فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳۹﴾ قُلْ هَلْ شَهِدْنَاكُمْ

ہیں وُن زہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ پریشہ ہاتلہ نہ کرہ ہو اُس شرک نہ کرہ ہن سان مال ہڈبب شرک۔ نہ کرہ  
 ہو اُس کانہہ چیز حرام۔ نہ آسہن کران سان مال۔ ہڈبب۔ سُد معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس چھونہ یہ ناہند  
 کینہہ تہ۔ کَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تھے پاتھہ چھو انکار کورمت تموسم تمکن بروٹھہ کافر اس  
 یمہ تھہ تہ یہ جواب دین چھہ محض غلط تہ باطل۔ امہ سیت چھو لازم یوان پیغمبران ہند ہزو وُن نعوذ باللہ  
 لہذا سمو سمو کو پیغمبران سمڈیب کور۔ تم آی عذابس گرفتار کرنہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان حَتَّىٰ  
 ذَاقُوا بَأْسَنَا تمی موکھہ ڈھہ تموسانہ عذابک مزہ۔ تھے پاتھہ ژہن تم کافر تہ ضرور عذابک مزہ  
 قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا نہہہ فرماو یوکھہ یارسول اللہ ای کافر و سیمہ توہہ نش چھہ  
 کانہہ ذلیلہ اٹھہ تھہ پیٹھہ کہ اللہ تعالیٰ ان وژ توہہ قدرت شرک کرنچ یا حلال چیز حرام کرنچ سمہ  
 اندرہ معلوم سدیو سوجھو اٹھہ پیٹھہ راضی چھے توہہ نشہ اٹھہ پیٹھہ کانہہ ذلیلہ سوکتر و پیش۔ دلیل وغیرہ  
 چھنہ توہہ نشہ کینہہ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرِصُونَ نہہہ چھو نہ پیروی کران مگر خیالی  
 تھن۔ بیہ چھو نہ نہہہ مگر غلط اندازہ کران۔ اٹھکلہ سیت تھہ کران قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فرماو یوکھہ  
 نہہہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمو دوشوی جوابو سیت سُد معلوم کہ خدایہ سزوی دلیل چھہ کامل تہ  
 پور۔ تہمز دلیل چھہ باطل غلط۔ اٹھہ اوس لازم نہہہ ساری گڑھوین راہ راستس پیٹھہ مگر تمیک توفیق تہ  
 چھو خدایس اٹھہ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ نَس ہر گاہ سویشہہ باتوہ سارنی ہاوہ ہاوتھہ۔ مگر اللہ  
 تعالیٰ اس چھہ ہنہ نین سارنی کاین اندر جہہ حمزہ۔ سو نَس پریشان چھو نَس چھو ہدایت کران۔ نَس نہ

الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا  
فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا  
بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ  
يَعْدِلُونَ ۝ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا  
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ طَخْنُ نَرْزُقْكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا

یڑھان چھوٹس چھونہ کینہہ تہ بنان قُلْ هَلْهَلْ شَهِدَاءَ كُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ  
هَذَا فرما یوکھ تہہ کہ برو تھ کن اینوکھ تہہ تم گواہ یہ یہ گواہی دینا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ان کیاہ کریم چیز  
حرام تہن ہنز ذکر کرنہ آیہ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُم تہس ہر گاہ تم بالفرض گواہی دین  
کہ توتہ گھہ نہ تہند یار رسول اللہ تہندس ونہ نس اعتبار کرن تہ تہنز گواہی قبول کرن۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ  
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بیہ مہ کمر و پیروی تہن لوکن ہنزن خواہش سمو اہز ان سان آیات۔  
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ بیہ تہن نہ پڑھہ چھہ آخرت بیہ چھہ تم پنہ  
نس پروردگار سیت معبود آسہس اندر مخلوقو اندرہ بین برابر تھادان، شریک زانان قُلْ تَعَالَوْا  
أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فرما یوکھ تہہ یار رسول اللہ ﷺ دلو لو پروہہ کیاہ کیاہ چھو  
حرام کورمت تہندہ پروردگارن توبہہ پیٹھہ۔ تم چیز چھہ تہم۔ اکھ چیز گواہی زہ شریک مہ تھر اوٹس  
مخلوقو اندرہ کانہہ چیزاہ۔ خدا نس تہہ قسمہ شریک تھر اون چھو حرام و بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بیہ مہ  
کمر و مالس ماجہ نسبت نافرمانی۔ بلکہ کمر و تہن سیت احسان۔ تہنز نافرمانی کرن، تہن سیت بد سلوکی کرن  
چھہ حرام۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ طَخْنُ نَرْزُقْكُمْ وَإِيَّاهُمْ بیہ مہ ماریوکھ اولاد ہن فقرہ،  
تہنگہ ستی تہ افلاسحہ سببہ۔ تہہہ پاٹھہ زمانہ جاہلیتس منز لوکھ کمر ان آس۔ اس و مووہ توبہہ تہ رزق بیہ تہن  
تہ اولاد مارن تہ قتل کرن چھو حرام وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ بیہ مہ آسوز دیک

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۵﴾  
 وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْفِيفُ  
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ  
 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۱۶﴾

یوان بے حیائی سے تا فرمانی ہنزن کا میں نہ نین پاٹھہ نہ نہ پوشیدہ پاٹھہ۔ پریتھہ طریقہ بدکاری سے زنا چھو  
 حرام۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ یہیہ مہ مار یون کا نہ شخصہہ سمند مارن اللہ تعالیٰ  
 ان حرام کور مگرے کا نہہ پز پاٹھہ فکس سزوار آسہ سپد مت بیاکھہ شخص ناسق مارنہ سیت ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ  
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ایک چھوہ اللہ تعالیٰ تاکیدہ سان کُھم فرماوان یتھہ نہہ وارہ زانوہ فخرہ تار و تویہ  
 کُھم و تمی موجب عمل وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ یہیہ مہ  
 آسویہ تمہ سندس ماس کُھم یوان مگر تمی و تہ یوسہ رثہ مفید آسہ۔ سمہ سیت تھہ ماس حفاظت و اتہ،  
 نقصانہ نشہ روزہ محفوظ یوتان سو یتیم پانہ بالغ تہ گائل سپدہ۔ مال یتیم کھیون چھو حرام وَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
 وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ یہیہ چھو اللہ تعالیٰ کُھم کران زہ مینان تہ تولان آسوپور پور، انصافہ تہ عدلہ  
 سان۔ اتھہ منز و عاتہ دھوکہ دیون چھو حرام۔ تم احکام مشکل تہ دشوار چھہہ کیا زہ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ  
 وُسْعَهَا اس چھہہ کانسہ اس تکلیف دووان مگر تنوی یوت سو ہیچہ ہتھہ کیا زہ چھہہ یکن احکامن ہندس  
 تعیل کر اس منزستی کرنہ یوان وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ معاملہ آستن توہہ  
 کانسہ آشناسند یا کانسہ دوستہ سند یہیہ سمہ ساتہ نہہ کُھم فیصلس یا شہادتس منز کا نہہ کتھہ آسوکران سنو  
 آسوپوز و نان تمہ ساتہ عدل و انصافس خلاف تھہ کرن چھہ حرام۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا یہیہ آسوخدلیہ  
 سندس عہدس و فاکران۔ بد عہدی تہ وفانہ کرن چھو حرام ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہیہ سار

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ  
 فَتَفْرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۵۲﴾  
 ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا  
 لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۵۳﴾  
 وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا عَالَمَكُمْ  
 تُرْحَمُونَ ﴿۱۵۴﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ

کوی کر وہ اللہ تعالیٰ ان تاکید کی حکم بیٹھ تہہ یاد تھا ووتہ عمل کترو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ  
 فَاتَّبِعُوهُ بین حکمن ہنز ہجند زیادہ خصوصیت۔ بیہ کر وہ اللہ تعالیٰ ان حکم کہ یہ دین اسلام بیہ تمک  
 ساری احکام بیہ ہجھو میان سبز و تھہ امی و تہہ ہجو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ بیہ و تومہ ہجو۔ فَتَفْرَقَ بَكُمْ عَنْ  
 سَبِيلِهِ تمہہ و تہ کر نوہ جداتہ دور خدایہ سزہ سزہ و تہ نشہ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ امہ  
 کوی کور وہ توہہ اللہ تعالیٰ ان تاکید کی حکم بیٹھ تہہ باقی و تونشہ ہتھہ روزو۔ راہ راستہ نشہ بیہ کا نہہ و تھہ  
 اختیار کرن ہجھو حرام ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ شرکس رد  
 کرنہ پتہ چھہ اس مسئلہ نبوتس متعلق مضمون بیان کر ان کہ امہ حض سوزو نہ ٹمی یات پیئمبر بناو تھہ  
 بیٹھہ پیٹھہ لوکن ترد تہ ہجہ سپد ان ہجھو بلکہ سوزاسہ توہہ برو تھہ حضرت موسیٰ پیئمبر بناو تھہ۔ تو پتہ کترو  
 امہ عطا حضرت موسیٰ اس کتاب یعنی تورات۔ ہن نعمت پورہ کرنہ خیطرہ تہن لوکن پیٹھہ سموتہ تمہہ  
 موجب رتہ عملہ کرہ بیہ ضروری احکام ہند بیان تہ تفصیل کرنہ خیطرہ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ  
 رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ بیہ بیٹھہ تمکجہ واسطہ سارنی لوکن ز ہنمائی سپدہ بیہ بڈر حمت تعمیل احکام کرہ و تہن ہندہ  
 خیطرہ۔ یہ امہ کج کتاب سوزاسہ بیٹھہ تم لوکھہ یعنی بنی اسرائیل پتہ نس خدائس سیت ملاقات کرہ نس  
 پڑھہ کرن۔ تھہ اعتقادس ماتحت کرن سارنی حکمن پیٹھہ عمل بلکہ تمہہ کتابہ ہند تہ انجیلک دور ختم سپد  
 وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبْرَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا عَالَمَكُمْ تُرْحَمُونَ سمود یو کتابو پتہ ہجھویہ قرآن مجید

مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ ﴿۱۵۶﴾ أَوْ تَقُولُوا  
 لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ  
 جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ  
 مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَجِرَى الَّذِينَ  
 يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ﴿۱۵۷﴾  
 هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ

یہ کتابا یوسہ اسی نازل کر۔ بابرکت کتابا۔ جس کز وون اچی پیروی۔ کھو ژو خدا جس۔ ہتھ روز و تسنز  
 تا فرمانی کزنہ نشہ ہتھ توہہ پیٹھہ رحم بیہ کرنہ۔ اَن تَقُولُوا لَآئِنَّا اُنزِلَ الْكِتَابُ عَلٰی طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا  
 وَاِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ بیہ کوراسہ بیہ قرآن مجید نازل ہتھ نہ تہہ و ہتھ ہیکو قیامتک دوہ کہ  
 آسمانی کتاب آس نازل کرنہ امر آسہ برو تھہ دون فرق ہتھہ بہودن تہ نصاری ان پیٹھہ آس آس تمہہ  
 پر نہ نشہ بے خبر اَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ بیہ ہتھہ و ہتھہ ہیکو برو تھہ  
 با ایمان ثواب حاصل سپد نہ کہ وقتہ کہ ہر گاہ آسہ پیٹھہ تہ کتابا نازل بیہ ہا کرنہ۔ آس تہ آسہو تہندہ خونہ  
 زیادہ ہدایت لبہ ون۔ لہذا روز نہ کانہہ گنجائش توہہ تہہ کچھ تھہ کرفہ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ  
 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ جس تھتھق واژ توہہ نشہ بیہ کتاب یوسہ ہتھہ دلیل تھہ تہندس ہر دو گارہ سندہ  
 طرفہ بیہ بوڈ ہدایت تہ ہڈ رحمت۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا وَنْ كُفُّهُ  
 اکھاہ چھو یژ ظالم تس شخصہ سندہ خونہ تہم اپز زان خدا یہ سندہ تم آیات۔ بیہ پھر ان تھہ تھو آیا تو نشہ  
 سَجِرَى الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ عنقریب دمو آس سز اتھن  
 لو کن تم ہتھہ پھر ان چھہ سانو آیا تو نشہ۔ تھہ عذابو سیت تہندہ اعراض کرنہ تہ تھہ پھر ہتھہ سبہ ہَلْ  
 يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ معلوم چھو سپد ان  
 تم چھہ انتظار کران مگر اتھہ تھہ کہ تم نشہ واتن ملائک تہ پانہ تہند پرور دگار۔ تہ

بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا  
 إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ  
 انظُرُوا إِلَانَا مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۵۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَزَعُوا مِنْهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا  
 لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا  
 يَفْعَلُونَ ﴿۱۵۹﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ  
 بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۰﴾ قُلْ إِنِّي

والتی تم نیشہ تہندس پروردگارہ سُنَد کا نہ ہوڈ نشانہ قیامتہ کیونشاؤا سندرہ یعنی مغربہ کہ طرفہ آفتاب  
 کھن۔ وارہ بوزن تم کہ یَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ  
 كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا سَمَرہ دوہہ تہندس پروردگارہ سُنَد سُو بوڈ نشانہ ظاہر سپدہ تمہہ دوہہ دیہ نہ کانہہ  
 شخصس کانہہ فاسیدہ تہ نفع ایمان اُن تہ پڑشہ کرن یم نہ تمہہ بروٹھہ ایمان آسہ اُونمت یا آسین نہ ایمان  
 اتھہ کانہہ رثکا ماہ کر مژ بلجہ آسس پچھہ کا مے کرہ مژہ تمہہ دوہہ چھوٹہ ایمان اُنس اعتبار نہ توبہ کرنس  
 نہ گنہن مغفرت مچھہ اُس اعتبار قُلْ انظُرُوا إِلَانَا مُنْتَظِرُونَ فرماؤ یو کھہ تھہ کہ ہر گاہ تھہ اتھہ انتظار یشھان  
 چھوہہ کرن کرو تلہ انتظار۔ اس تہ چھہ آپس تہ ہزس منز فیصلہ سپدس انتظار کران إِنَّ الَّذِينَ فَزَعُوا مِنْهُمْ  
 وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ پڑپاٹ سمو لو کو دیئس پنہ  
 اُس چھلہ کرہ تہ بیون بیون کو رکھہ یعنی دین حق کو رکھہ نہ پور پور قبول یا کو رکھہ اوڈ قبول تہ اوڈ ترو کھہ۔  
 دیئس اُندر نوور اوچھہ شرک و بد عتجہ تھہ۔ بیہ بنیای الگ الگ جماڑ تہ فرقہ۔ توبہ چھوٹہ تم ن سیت کانہہ  
 تعلق۔ تہند معاملہ چھو سپر د اللہ تعالیٰ اس۔ سوونہ پانے تم ن سارے تھہ یہ تم کران اس مَنْ  
 جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلِهَا اُس اکھاہ اکھہ نیکی پتھہ ایہ سندرہ خیطرہ چھہ ترشے دہ نیکی۔ یعنی اللہ  
 تعالیٰ کر اُس اُس نیکی دہن نیکن ہند ثواب عطا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ  
 لَا يُظْلَمُونَ بیہ اُس اکھاہ اکھہ بدی پتھہ بیہ اُس بیہ نہ اُس سزا دہ مگر اکی بدی ہند۔ گھکارن، بدکارن

هَذَا بِنِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِمَامًا لِمَلَّةِ إِبْرَاهِيمَ  
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۶۱﴾ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَ  
 حَيَاتِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۲﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ  
 وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۶۳﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ  
 وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ  
 رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۱۶۴﴾ وَهُوَ الَّذِي

ظلم بیہ نہ کرنے قُلْ إِنِّي هَدَيْتُ رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِمَامًا لِمَلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ  
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ فرماؤ یو کھ تہہ یار رسول اللہ پڑپاٹ مہ ہاوتھہ پروردگارن پنن راہ راستن، مضبوط  
 دینس گن بیٹھہ منز نہ منہ قسمہ کجر چھو۔ حضرت ابراہیمہ سدس ملتس گن بس اپن یو دینو نشہ پنن س  
 دینس گن پھر ہون اوس۔ بیہ اوس نہ سومثر کواندرہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَحَيَاتِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ  
 الْعَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ فرماؤ یو کھ تہہ پڑپاٹ میان نماز بیہ میان  
 ساری عبادت بیہ میون زندہ روزن بیہ میون مرن، بیہ سوڑوی چھو خاص خدایہ ہندی خیطرہ تھندس  
 اختیار س اندر بس کل جمانگ پروردگار چھو۔ تس چھونہ شریک کانہہ مہ آواکوی حکم کرنہ۔ یو چھوس  
 خدایہ سند یو فرمانبردار بندواندرہ گوڈکوی فرمانبردار قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ فرماؤ یو کھ  
 تہہ ای کافر وکیا ہوتھانڈنہ معبود برحقس ورا بیہ کانہہ پروردگارہ حالعہ سوی چھو پریتھہ منہ چیزک  
 پروردگار وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا کانہہ شخصہہ کرنہ کانہہ مگر تمیگ یو چھو تس پانس پیٹھہ  
 تگن وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کانہہ اکھاہ تگنہ نہ بیہ کانسہ ہند یو پانس پیٹھہ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ  
 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ توپتہ چھوہ تہہ پنن نس پروردگار س گن رجوع کرن بس گرہ سوی توہیہ  
 خبر تمہہ ساری بیٹھہ منز تہہ اختلاف کران اسوہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ

جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ  
 فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ ع (۱۶۵)

بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ بِیہ چھو سُو پروردگار سُوئی سم تہہ زمینس اندر پنن نایب بناوہہ بیہ کرون  
 توبہ اندرہ بعضن ہند مرتبہ بلند بعضن پٹھہ بیٹھہ توبہ سُو آزمائش کرہ تین نعمون اندر سمہ توبہ عطا  
 کر توبہ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ پزپاٹ پروردگار چھو جلد سز ادوہ ون بیہ چھو سیٹھاہ  
 مغفرت کرہ وون سیٹھاہ ر حم کرہ ون





## سُورَةُ الْأَعْرَافِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 التَّصَّ ۱ كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ  
 مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۲ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ  
 إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مِمَّا  
 تَذَكَّرُونَ ۳ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا

التَّصَّ \* كِتَابٌ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ التَّصَّ  
 -- اسم معنی چھ خدایہ سی خبر۔ یہ قرآن مجید چھ کتابہ خدایہ سہہ طرفہ توبہ کن نازل کرنہ امر۔ چھ  
 تہہ لوکھہ نافرمانی ہند سزا بیان کرنہ سیت کھوڑہ ناویکھہ۔ ہر گاہ کانہہ شخصاہ آتھہ کتابہ ایمان لہ نہ، تسلیم  
 گرہ نہ تھہ دل مہارک مہ سپدن تمہہ سیت تنگ۔ کیا زہ کانہہ ہمدہ نہ مانہہ سیت توبہزہ ہم کرچہ کامہ آندر  
 کانہہ نقصان والہ نہ۔ قرآن مجید چھو خصوصیتہ سان وعظ تہ نصیحت بایمان ہندہ خیلرہ اتَّبِعُوا  
 مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ای لو کو تہہ یلہ معلوم سپد کہ یہ قرآن  
 مجید چھو خدایہ سدی طرفہ نازل کرنہ آمت۔ تہہ کتر واتباع تہ پیروی تجیہ توبہ کن بواسطہ پیغمبر برحق  
 نازل او کرنہ تھہدس پروردگارہ سہہ طرفہ۔ اتباع کزن گو تصدیق تہ کزن تہ عمل تہ کرن۔ (خد اسم  
 تھہدہ و تھہ ہاونہ خیلرہ یہ عظیم الشان کتاب نازل کتر) تراوتھہ مہ کتر و بین رفیقن تہ دوستن ہنز پیروی۔  
 سم توبہ گمراہ گرہ دن تہ سیزہ وتہ نیشہ ڈالہ دن چھہ انسان شیطانو تہ جن شیطانو آندرہ قَلِيلًا مِمَّا  
 تَذَكَّرُونَ مگر باوجود اسمہ مشتقانہ ہما نیش کرچہ چھہ توبہ آندرہ کی لوکھہ نصیحت رٹان۔ حتی چھہ گمراہ  
 تہ گمراہی زیادہ۔ مگر گمراہن چھونہ روزن سوکھہ۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا  
 أَوْهُمْ قَالُونَ واریاہ شہرن تہ بستن منز روزہ ون کتر آسہ ہلاک تہ تباہ گھر وانکار تہ نافرمانی تہ گمراہی

أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ﴿۳﴾ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَاءِ الْآلَانِ  
 قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۵﴾ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ  
 وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿۶﴾ فَلَنَقْصُصَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا  
 غَائِبِينَ ﴿۷﴾ وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۸﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ  
 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿۹﴾ وَقَدْ

مؤکھ۔ کس وقت تم نیشہ سون عذاب رات منزی۔ یا تمہہ ساتہ سمہ ساتہ تم دیہر س شوجت آس  
 قیلولہ کران فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَاءِ الْآلَانِ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کس اوس نہ تمہہ ساتہ سمہ  
 ساتہ تم نیشہ سون عذاب ہجھہ تہ مجھہ و اتھہ بیو کانہ کتھاہ تھندہ چایٹہ منزہ نیران۔ مگر یہیہ تھہ کہ واقعی  
 ہجھہ آس ظلم و خطا کرہ ون۔ یہ گو ڈنیوی عذاب فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ  
 الْمُرْسَلِينَ امہ پتہ گو انخروی عذاب۔ قیامتک دوہ پر تھو آس ضرور لوکن تکن گن پیغیر سوزنہ آئی۔  
 کیاہ توہہ نیشہ آئیہ پیغیر۔ توہہ کیاہ معاملہ کوروہ تکن سیت۔ یہہ پر تھو ضرور آس پیغیرن تہ کہ توہہ  
 کیاہ جواب ون تہنز و اومتو فَلَنَقْصُصَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ کس بیان کر و اس تکن ساری بروٹھہ  
 تکنہ ساری حالات پنتہ علمہ موجب کیاہ اس تھند یو کارو کر تو تو نیشہ بے خبر آسنہ وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ  
 الْحَقُّ تہی دوہہ یکن لوکن ہنزہ عملہ تہ اعتقادات تولنہ ہر پاپٹھہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
 الْمُفْلِحُونَ کس تکن ہند پوٹر ایمانہ سیت تہ نیکیو سیت گوب لچہ تہ لوکھہ آسن رستگار تہ کامیاب  
 نجات لبہ ون وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ یہہ تکن لوکن ہند پوٹر لوت لچہ ایمان نہ انہ سیت تہ اعمال  
 صالحہ نہ آسنہ مؤکھہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ کس تہی لوکھہ گئے سمیو  
 پنتہ نین پانن نقصان تہ تاوان و اتھو کیاہہ تم آس سائین آیاتن ہنز حق تلفی کران۔ انکار تہ نافرمانی  
 کرنہ سیت وَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا لَّعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پزپاٹ اسہ دژ

مَكَّنَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝۱۰ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝۱۱ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝۱۲ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝۱۳ قَالَ أَنْظِرْنِي

توہ بے خیرہ جای زمینس بیٹھ۔ بے کوراسہ مہیا تہندہ خیرہ اتھہ زمینس اندر زندہ روز تک سامان مگر شکر گزار جھہ توہہ اندرہ کمی کوکھہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ بے شک بے کردہ اسہ تہہ پیدہ یعنی تہندہ جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام۔ توپتہ دژواسہ توہہ شکل و صورت یعنی حضرت آدمس علیہ السلام ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ توپتہ کور حکم اسہ ملائکین کہ سجدہ دیوون حضرت آدمس کن۔ پس دیت تمبو سجدہ ابلیس وای کہ یکن من الساجدین سو اوس نہ سجدہ ونہ والیواندرہ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ اللہ تعالیٰ ان ہر تھس ای ابلیس تہ کم چیزن روکھہ تہندہ سجدہ ونہ نشہ۔ یلہ میہ پانہ تہہ حکم کریوی سجدہ کرنگ۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ دہنہ لگ بوچھوس بہتر حضرت آدمہ سندرہ خوتہ کیاہہ بو کور تھس پیدہ نارس سنو کور تھس پیدہ میڑہ نہ آبس یعنی ربہ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اللہ تعالیٰ ان فرموس تہہ اویہ پن پان بوڈوزنہ تھی کر تھہ میانس خمس نافرمانی۔ لہذا اوس یون آسانہ نشہ۔ تہہ پزی نہ کبر نہ نافرمانی کرن اتھہ آسانس منزبوسہ جای ہتھہ فرمانبردارن ہنز لہذا نیر جلد بیٹک تہہ چھوکھہ ذلیل و خوار گھہہ ویواندرہ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ابلیس لگ ونہ پروردگار امیہ دنہ مہلت مر نہ نشہ قیاس تان سمہ دہنہ ساری ین قبر و منزہ نبر کڈنہ۔ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ اللہ تعالیٰ ان فرموس بیٹک چھوکھہ تہہ مر نہ نشہ مہلت دنہ آتیہ اندر وقت معلوس

إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ ﴿۱۳﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿۱۴﴾ قَالَ فَمَا آغَوَيْتَنِي  
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۵﴾ ثُمَّ لَأَنْتَبِهَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ  
وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ  
شَاكِرِينَ ﴿۱۶﴾ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ  
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْبَعِينَ ﴿۱۷﴾ وَيَأْتِمُرُ النَّاسُ بِكُمْ وَأَنْتَ وَزَوْجُكَ  
الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا  
مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۸﴾ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ

تَانِ قَالَ فَمَا آغَوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ایلیس لوگ ونبہ کر تے کور تھس بو گمراہ۔ اتھہ  
بدل کر کھہ بو تے بنی آدم گمراہ۔ قسم بیتھہ چھوس بووان کہ ضرور بہمہ بو تم گمراہ کرنہ خیطرہ چانہ سیزہ و تہ  
پیٹھہ بروٹھہ و مکھہ نہ پچنہ نڈر لایتہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمایلیہم ولا تجد  
اکثرہم شاکرین تو پتہ سمکھہ بو حملہ کرنہ خیطرہ پریتھہ طرفہ تمن بروٹھہ کن تہ، تہزہ تھر کن تہ  
تمن دچھن تہ، تمن کھو فرتہ۔ اتھہ پاٹھہ ممکن سپد تم تہ تھہ پاٹھہ ڈالکھہ بو تم سیزہ و تہ نیشہ۔ چنانچہ تہ بلہ  
بکھہ نہ تمواندرہ زیادہ شکر گزار چائین نعموان پیٹھہ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا اللہ تعالیٰ ان  
فر مووس خوار و ذلیل سپد تھہ نیر جلد نیر آسمانو اندرہ۔ تہ ہیہ ونان چھو کھہ کہ بو ڈالکھہ تم، گمراہہ ڈالکھہ۔  
بو چھوس نہ پرو ابران کانسہ ہندہ عبادت کرہ تک لمن تبعکم منکم لاملن جھنم منکم اجبعین البتہ  
نیس چان پیروی کرہ تمواندرہ توہہ، اکہ و تہ برن بونار جھنم و یادم اسکن انت و زوجک الجنۃ فکلا من  
حیث شئتما اسہ فر موو حضرت آدمس، ای آدم، بسو تھہ بن باڑیتھہ جتس منز۔ کس کھیو جتو  
نعمواندرہ سمہ نمہ خوش کرنوہ، بیتھہ جلیہ خوش کرنوہ ولا تقربا ہذیہ الشجرۃ مگر نزد یک سپد زہ نہ  
تھہ دو شروے بیتھہ کلس یعنی امہ کلک میوہ تہ پھل کھیو۔ نہ ہرگز فکوننا من الظالمین نیس سپدوہ توہہ

عَمَّا مِنْ سَوَاتِحِهَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿۲۰﴾ وَقَاسَهُمَا إِيَّيَّ  
 لِكَمَا لَبَسَ النَّصِيحِينَ ﴿۲۱﴾ فَذَلَّهُمَا بَغْرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا  
 سَوَاتِمُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا اللَّهُ  
 أَنَّهُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لِكُلِّمَانِ الشَّيْطَانِ لِكَمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۲۲﴾  
 قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

نقصان تلمہ و نیو آندرہ فوسوس لہما الشیطان لیبیدی لہما ماوری عنہما من سواتحہما جس تر و شیطان  
 تہندین دکن آندر و سوسہ ہتھہ شراوہ سو تمن بدنگ سو حصہ بس تمن اکھہ اس نفعہ پو شیدہ اوس۔ یہ  
 آساتمہ کلیک خاصیت، یا حکم عدولی کرنہ موکھہ وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا  
 مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ دینہ لوکھہ پروردگارن تہند کمر نہ توہہ ممانعت امہ کلہ نفعہ مگر می موکھہ  
 کہ تہہ گدھونہ بن ملک زہ یا گدھونہ تہہ بن ہمیشہ زندہ روزہ و نیو آندرہ وَقَاسَهُمَا قسما باؤ ہاؤ لگ و نہہ تمن  
 إِيَّيَّ لِكَمَا لَبَسَ النَّصِيحِينَ بیشک بو پھسوسہ تہند بوڈ خیر خواہ فَذَلَّهُمَا بَغْرُورٍ جس تہدہ مرتبہ نفعہ یا تہزہ  
 رایہ نفعہ پست رایہ گن ورن بون۔ مایل کمرن ڈھوکہ سیت امہ کلیک پھل تھیں پیٹھہ فلَمَّا  
 ذَاقَا الشَّجَرَةَ بس یا تہہ مزہ ژھہ تموا امہ کلہ کہ پھلگ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِمُهُمَا تان گئے تم سگھ۔ تہندہ  
 بدنہ پیٹھہ و تھہ لباس تہند خود بخود ظاہر سپد تہند سوزوی بدن و طَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اُتِی  
 لَکَ دُوشُوئے جب تک پینہ و تھر اکھہ اس سیت ملہ و تھہ پانس پیٹھہ تھاونہ بدنس ستر کرنہ خیطرہ وَنَادَاهُمَا  
 رَبُّهُمَا اللَّهُ أَنَّهُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لِكُلِّمَانِ الشَّيْطَانِ لِكَمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ تمہہ وقتہ کور آلو تمن دوشون پن  
 پروردگارن۔ ای آدم حوا، امہ کمر و ناتھہ منع امہ کلہ نفعہ۔ یہ و نونامہ تہہ بزیاٹ شیطان چھو تہند نون  
 دُشْمَن۔ تھہہہ اسمزن تھن گن تھاوو قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَالِدِينَ  
 دُوشُوئے لنگ و نہہ ای سانہ پروردگارہ امہ کور ظلم پان پانس۔ وون لے ژہ امہ مغفرت کرکھہ یہ رحم

الْخَيْرِينَ ﴿۳۳﴾ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي  
الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۴﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا  
تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿۳۵﴾ يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا  
يُؤَارِي سَؤَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ  
آيَةِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ﴿۳۶﴾ يٰبَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ

کرکھ آس سپد و ضرور نقصان تکلہ و نیو آندرہ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ  
مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اللہ تعالیٰ اَن فرموو کہ جنتہ منزہ و سَوَابُونَ ز مینس پیٹھہ بیتھہ حاس منزہ توبہ  
یعنی ٹھہر اولاد آسن پانہ وان اڈاڈن ہند ڈشمن۔ بیہ آونہندہ خیطرہ تجویز کرنہ ز مینس پیٹھہ قرار کرن۔  
بیہ تمخ تکل معیشہ کیو اسبابو سیت۔ اس خاص وقتس تان۔ یعنی مرجس وقتس تام قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ  
وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اللہ تعالیٰ اَن فرموو کہ آتھہ ز مینس منز چھہ توبہ ز زندگی گزارن۔  
آتھہ ز مینس منز چھوہ توبہ منزت روزن۔ اسی زمینہ منزہ۔ او کڈنہ قیامتک دوہ۔ تمہ پتہ نیس بیٹھہ عمل  
آسہ تڑھی بیہ نیس جای دنہ۔ رتھہ عملہ و اس رتھہ عملہ و اس چھہ جای یٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا  
عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَؤَاتِكُمْ وَرِيشًا اکی حضرت آدمہ سُنڈ یونچو یو، تھتھت پیدہ کور آسہ ٹھہندہ  
خیطرہ پو شاک، نیس ٹھہندس عیب ناک بدنس ولہ تہ ستر کرہ۔ بیہ نیس ٹھہندہ بدنک زینت چھو و لباس  
التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ بیہ چھو امہ ظاہری لباسہ علاوہ باطنی لباسہ تہ آسہ ٹھہندہ خیطرہ تجویز کور منت۔  
سُو گوپر ہیز گاری تہ دینداری ہند لباس۔ سُو چھو امہ ظاہری لباسہ خوتہ سیشاہ ضروری تہ بہتر۔ ذَٰلِكَ مِنْ  
آيَةِ اللَّهِ بیہ لباس ظاہری چھو خدایہ سندہ فضل و کرمہ کیو نشاوتہ دلیلو آندرہ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ بیتھہ  
لو کہہ بیہ نعمت وارہ یاد تھاوتھہ معمم حقیقی سُنڈ حق ادا کرن۔ اسلامن چھو کور منت مردن ہند لباس الگ  
زنانن ہند لباس الگ۔ نیس پڑہ نہ مردن زنانہ لباس لاگن۔ زنانن پڑہ نہ مردہ لباس لاگن۔ مردن پیٹھہ  
آور ییشی لباس حرام کرنہ۔ تم مرد دنیاوس آندرہ ریشی لباس استعمال کرن تم آسن جتھہ ریشی لباسہ

كَمَا أَخْرَجَ أَبُو يَكْمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُهُمْ مِنَ الْبَاسِ مَا لِي بِهِمْ مَسْأُوتُهُمْ  
 إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطِينَ  
 أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۴۵﴾ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا  
 عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِن اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ

نَشْرُ حُرُومِ - زنان پیٹھے آؤتوں تہ باریک لباس حرام کرنہ یمہ منز بدن یاس ، کلک موی بوزنہ ایہ۔  
 لُحٰی پابندی کرن۔ یہ گولباس تقویٰ یَدِیْ آدَمَ لَا یَفْتِنَنَّکُمْ الشَّیْطٰنُ کَمَا أَخْرَجَ أَبُو یَکْمُ مِنَ الْجَنَّةِ اکی  
 حضرت آدمہ سہد یو پتو یلہ تہہ تقویٰ تہ پر ہیز گاری ہند واجب آسن معلوم سہد، بیہ سہد توبہ معلوم کہ  
 شیطان کوتاہ دشمن چھو تہند وون یٹھنا توبہ تہ شیطان ڈالتھ تقویٰ پر ہیز گاری تہ دینس خلاف کتھنہس  
 بُتلا کتر تھ خرابی اندر تراوہ۔ یتھ مول مون تہند حضرت آدم تہ حضرت حوا جتہ منزہ ڈالتھ کڈن۔  
 یَنْزِعُهُمْ مِنَ الْبَاسِ مَا لِي بِهِمْ مَسْأُوتُهُمْ تو پتہ کڈن تم یتھ حاکس منز کہ کڈان اوس لباس تہند تہندہ بد نہ  
 پیٹھ۔ یتھ پاٹھ نسر اوہ تہ یتھ کرہ تہوند مستور تہ پو شیدہ بدن۔ یتھ پاٹھ اسہ بیان کور کہ سو چھو تہند سخت  
 دُشمن تمس نشہ کتر و پورا احتیاط۔ زیادہ تاکید چھوہ اس توبہ سمہ موکھہ کران إِنَّهُ یَرِیْکُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ  
 حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ بیشک کتھ سو تہہ تہنز لشکر چھہ توبہ و چھان یتھ پاٹھ یتھ پاٹھ نہ تہہ چھون سو  
 و چھتھہ ہیکان۔ یتھس دُشمنس نشہ پزہ سخت، پچاویج صورت اختیار کرن۔ سو پچاویج صورتھ چھتھہ کنہی  
 ایمانہ تہ تقویٰ و رای إِنَّا جَعَلْنَا الشَّیْطٰنِ اَوْلِیَاءَ لِلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بیشک اسہ کتر شیطان دوست تہ  
 رفیق تہن لوکن ہند سم نہ ایمان آنان تہ ہڑتھہ کران چھہ کنس خدا بس وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا  
 عَلَیْهَا اَبَاءَنَا وَاللَّهُ اَمَرَنَا بِهَا سمو لو کونہ ایمان اُون تہن پیٹھہ چھو شیطانہ سہد تسلط تہہ قسمہ کہ  
 یلہ تم لوکھ کا نہہ چھہ کاماہ کران چھہ۔ دنان چھہ اسہ و چھہ مال بد ب پُئن ای کران۔ بیہ چھو نعوڈ بالہ  
 خدایی اسہ یہ کرنگ کھم کورمت۔ چنانچہ تم آس سٹک خانہ کعبن طواف کران کانہہ منع اوسکھہ کران  
 جواب آس دپان اسہ چھو خدایہ فی امیک کھم کورمت قُلْ فرماو یوکھہ تہہ یار سؤل اللہ (صلی اللہ علیہ

أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾ قُلْ أَمْرِي بِالْقِسْطِ  
وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ  
لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿۲۹﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَ  
فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ  
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۳۰﴾

و سلم) إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ بیشک اللہ تعالیٰ چھونہ ہر گز تجھہ کا میں ہند حکم کران۔ یہ کیاہ چھوتہ  
بکواس کران أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کیاہ تجہہ چھوہ خدائس کن تی لاگان تک نہ توہہ نشہ کا نہہ  
خبراہ چھہ۔ کا نہہ دلیاہ چھہ۔ قُلْ أَمْرِي بِالْقِسْطِ فرمایہ کہ میان خدائس چھوہ حکم کورمت عدل و  
النصاف۔ پریتھہ کامہ منزافراط و تفریطہ نشہ چہ نگ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ بیہ  
چھون حکم کورمت بتھہ تھاو و سیوڈ پریتھہ عبادئس اندر۔ متوجہ رُوزودلہ سیت خدائس کن یعنی پوتل یا  
بیہ کا نہہ چیزمہ آسیون بروٹھ کنہ زمان وَاَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ بیہ آسو تہنزی یا اثر عبادت  
کران۔ تس یسیت پئن حاجت منگان۔ باخلاص آسو تہنزی فرمانبرداری کران۔ تم چھہ پروردگارہ سہد  
حکم تم مانو کیاہہ تم فرمانوہ توہہ تم حکمی یات نہ ئس۔ بلکہ ہیہ سو توہہ کہہ دوہہ تم تھن پیٹھہ حساب تہ  
کَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ چنانچہ پیٹھہ پاٹھہ گوڈہ پنہہ قدر تہ سیت تم تہہ پیدہ کتر نوہ تھہ پاٹھہ سپد پوہ تہہ  
دوبارہ پیدہ کرنہ ایو۔ تی وقتہ بیہ توہہ حساب ہیہ فَرِيقًا هَدَىٰ وَ فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ دنیاہ  
اندر ہاوائس جمائس اللہ تعالیٰ ان و تھہ۔ تم ن دیہ رٹمزور۔ بیس جمائس پیٹھہ کرن مقرر گمراہی۔  
تم ن ایہ سزاوندہ کیاہہ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تمو کیاہٹ شیطان پن  
دوست تہ رفیق خدائس تراوتھہ۔ یعنی خدایہ سزا طاعت تہ فرمانبرداری تراوتھہ کرکھہ شیطان ہنز  
فرمانبرداری وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ بیہ آس تم خیال تھاوان کہہ اس چھہ ہدائیس تہ راہ  
راستس پیٹھہ ئس خیال محض باطل تہ غلط اوس يٰبَنِي آدَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ اٰی بنی آدمو



يَبْنِيَّ اَدْمَخْذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا  
 تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿۳۱﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِي  
 اَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي

یلبہ توہمہ معلوم سپد کہ ننگے طواف کرنس چھو خدا بیز ار لہذا آسو تہہ پو شاک لاگان پر ہتھ وقتہ۔ یلبہ یلبہ  
 کا نہہ عبادت کرنہ خیطرہ مسجدہ منز حاضر سپدان آسو نماز پر نہ خیطرہ یا طواف کرنہ خیطرہ طواف تہ نماز  
 مہ آسو پر ان ننگے۔ ہتھ پاٹھہ ننگے روزن چھو شیطانہ سنز گراہی۔ ہتھ پاٹھہ چھو حلال چیز حرام کزن تہ  
 شیطانہ سنز گراہی وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ لہذا آسو تہہ حلال چیز کھیوان تہ  
 چوان مگر مہ آسو اسراف تہ فضول خرچی کران۔ پز پاٹھہ اللہ تعالیٰ چھونہ راضی اسراف تہ فضول خرچی  
 کرہ وینن تہن آیات کرین منز چھو اللہ تعالیٰ رد کران تمن لو کن سم خانہ کعبس ننگے طواف آس  
 کران۔ ہتھ آس زانان بڈ عبادت بعض لو کہ آس جمعہ کین دوہن کھیون چون تراوان۔ کم کنیوہاہ آس  
 کھیوان سمہ سیت شہ کھسُن و سُن باقی روزہ ہا۔ مازیانگیو کھیون آس کلیتاً تراوان۔ تمن سارنی چھو اللہ تعالیٰ  
 فرماوان کہ یہ کزن کا نہہ رث کا ماہ چھنہ تقویٰ و پرہیز گاری ہنز کو ماہ چھنہ۔ یہ چھو محض شیطانی وسوسہ۔  
 خدایہ سُنڈ عطا کورمت لباس تہ پو شاک سمہ سیت تہند بدن و لنتھہ روزن ٹس تہندہ بدخ شوب ہتھ یہ  
 آسو پر ہتھ وقتہ لاگان عبادت کر ہجہ وقتہ چھو زیادے مناسب رت پو شاک لاگن۔ خداین یہ توہمہ لاگنہ  
 خیطرہ یا کھینہ چینہ خیطرہ عطا کورمت چھو تمیک آسو تمتع تہ فائدہ طمان۔ مگر شرط چھو یوئی کہ اسرافہ نشہ  
 آسو ہتھ روزان۔ اسراف گو حدہ نشہ ڈلن تہ مہ آسو کران۔ ہتھ اسرافس چھہ واریاہ صورتہ۔ حلال  
 چیز مہ آسو حرام کران۔ ایتہ گو اسرافے یا ہر خوری تہ پے خوری کرن تہ گو اسرافے۔ یا میل، خواہش  
 آسنہ درای کھیون تہ گو اسرافے۔ یا ثبوت، کم کھیون یمہ سیت بدنس تو تھی حاصل سپدہ نہ، یا تم چیز  
 کھین، چین تہ استعمال کرن سم مضر صحت آسن شراب ہیو، آفین ہش، ٹمو کہہ ہیو تہ گو اسرافے۔  
 بعضی سلف صالحیو فرموو کہ اللہ تعالیٰ ان چھہ جمع کر مشر ساری طب اوس آہیہ کر تمس آندر۔ سوگو  
 ” وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا “ پر ہتھ قسمہ کین اسراف کرہ وینن چھو اللہ تعالیٰ بیزار۔ امہ پتہ چھو اللہ  
 تعالیٰ فرماوان سم لو کہہ لباس و لن، طعام کھیون تہ چون حرام ہجہ زانان تمن ہر ژھو ہر تہہ۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ

الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ  
وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا  
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ

زِينَةُ اللَّهِ الْبِغْيَ أَخْرَجَ لِبِدَائِهِ وَالظُّبَيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ سمہ ای لو کو مہہ وننو کہ کم شخصن کر سوزینت  
تہ شوب حرام۔ بس اللہ تعالیٰ ان پیدہ کور پنے نین بندن ہندہ خیطرہ۔ بیہ کم شخصن کمرت رت میٹھ میٹھ  
تہ پاکیزہ کھیک چیز حرام۔ حرام کرنگ اختیار چھونہ خدا بس ورا ای کانہہ تہ۔ تم بلکہ حلال کر دوں تہہ  
کر زین سولس تمن چیزن حرام بیہ کر تہہ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا تہہ فرماو یوکھہ یہ  
زینت، لباس تہ قدرت کھیک تہ چینک چیز چھہ فی الحقیقت بالیمان ہندہ خیطرہ دنیاس اندر خالصہ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ بیہ آن سمہ نعمہ قیامتک ذوہ تہ خالص بالیمان ہندہ خیطرہ۔ اگرچہ کافر تہ چھہ تمو نعمتو  
سیت فاسدہ تھان مگر یہ گو دنیاس اندر۔ آخرتس اندر نیرہ تمن سوزوی کھیومت چیومت نستہ کن  
كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تہہ پاٹھ اس ویشہ ناوتھ بیان کران ساری آیات زانن والین تہ  
سجھدار لوگن ہندہ خیطرہ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ  
الْحَقِّ تہہ فرماو کھہ یارسول اللہ ای لو کو تہہ سم چیز پانے بلادلیل حرام زانتھ تراوان چھو کہ۔ بعضی  
وقتہ چھوہ ونان یم چیز حرام اسن چھو خداینی فرموومت یہ سوزوی چھو اہڑ تہ بہتان۔ تہہ فرماو یوکھ  
میان پروردگارن کورنہ حرام کانہہ چیز مگر سارے چھہ کامہ نین پاٹھ تہ۔ مثلاً ننگے طواف کرن پوشیدہ  
پاٹھ تہ مثلاً بدکاری کرن بیہ پر تھہ گنہاہ بیہ کانہہ پیٹھ ناحق ظلم کرن زیادتی کرن وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ  
يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بیہ کور اللہ تعالیٰ ان حرام کانہہ چیزاہ تہہ عبادتس  
اندر شریک تھاون۔ سمسندس شریک آس پیٹھ تم کانہہ دلیلہ نازل کر مر چھنہ۔ بیہ کر تم حرام تہہ  
کیاہ ٹھہراو تس پیٹھ تہہ کتھہ یکن ہنز نہ کانہہ خبراہ چھہ۔ کانہہ علماہ چھو۔ ہر گاہ کانہہ یہ شہر گدھہ کہہ  
ہر گہے تم چیز ممنوع تہ ناجائز چھہ تلہ کونہ چھو اللہ تعالیٰ یکن جرمین سزاووان۔ تمیک جواب چھو کہہ

أَجَلُهُمْ لَابْتِنَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۱﴾ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا  
يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَمَ  
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۲﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
وَأَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۳﴾ فَمَنْ  
أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَئِكَ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۗ بے چھو پر ہتھ اُٹھ پر ہتھ فرہہ  
سندہ نیر نہ خیر ہ اکھ وقاہ معین کرنہ آمت۔ کس یلہ سو معین وقت واتہ۔ تمہ ساتہ نہ یمن تم پتھ نیر تھ  
نہ یمن تم برو تھ گوتھ تمہ معین وقتہ نشہ یبئی آدم اِنَّمَا یَا تَبِیْنُکُمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ یَقُصُّونَ عَلَیْکَ الْبَیِّنَاتِ ای  
نبی آدمو آہ اوس عالم ارواحہ سی اندر توہہ وومت کہ یلہ توہہ نشہ واتن پیغمبر تم توہی منزہ آسن تے  
ہزن تہ بوڑہ ناوان توہہ میان آیات فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَمَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کس کس  
اکھاہ توہہ اندرہ تم آیاتن انکار کرنہ نشہ پتھ روزہ بے سنبالہ پن پان ر ژو عملو سیت یعنی پورہ اتباع تہ  
پیروی کرہ کس چھو نہ آخر کس منزہ تم لوکن کا نہ خوفاہ نہ سپدن تم غمگین وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
وَأَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تم لو کہ تہہ اندرہ اہز زان تم آیات تہ احکام  
سان۔ بے کرن عجز تم آیات قبول تہ تسلیم کرنہ نشہ تے لو کہ آسن نارس اندر واتن وال۔ تہہ  
نارس منز روزن ہمیشہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَئِكَ يَتْلَوْنَ  
نَصِيحَتَهُمْ مِنَ الْكِتَابِ یلہ توہہ مجمل پاٹھ معلوم سپد کہ مکرن چھو اہس گر فمار سپدن کس بوڑو تفصیل  
کہ گہہ اکھاہ چھو یوہ ظالم تم لوکن ہندہ خوتہ سمبو نووڑو موجود بر حقس پیٹھ اپنیا ذاکھہ اپن تہند آیات، بے  
نہ تم فر موومت چھو تہ کس گن۔ بے تم واقعی طور فر موومت چھو تہہ کوڑ کھہ انکار۔ تم کُن واتہ دنیا س  
اندر پن حصہ کس تم ہندہ خیرہ لیکھنہ آمت چھو لوح محفوظس اندر رزقہ منزہ یا عمرہ منزہ دنیا س  
اندر۔ مگر آخر کس اندر چھو تہ ہندہ خیرہ نصیحتی مضیت۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ

يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا  
يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۱۲۵﴾  
قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ  
فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا  
جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ ضَلُّونَا فَأَيْرَمُ

تا اینکه یلہ واٹن تمن نشہ ملک سان ہستی قبض روح کرنے خیرہ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تم ملائکہ دیکھو و نہیں کت گئے تم تم نوبہ معبود برحق تراوت عبادت آسو کران۔  
سمہ مصیبتہ کہ وقتہ کونہ چھہ تم توبہ کامہ یوان قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا تم کافر دین تم ساری راوتہ ضائع  
گئے آسہ نشہ یعنی کہہ آئی نہ تم آسہ بکار وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ اُمہ وقتہ دن گواہی  
پنہ نین پانہ پیٹھہ یعنی اقرار کران زہ تم آس واقعی کافر۔ مگر اُمہ وقتہ اقرار کرئس تہ نادم و پیشیمان  
سپدئس چھونہ کانہ اعتبار قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ اللہ تعالیٰ  
فرماویچھہ اترتو تمن کافر جماژن سیت تم توبہ بروٹھ کڈرے مزہ چھہ جوتہ انسانو آندرہ نار جہنمئس آندر  
کُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا یلہ یلہ اتران آسہ جہنمئس منزراکھ اکھ جماعتھا۔ سو آسہ لعنت کران  
پانسی ہشہ ہمیس جماژ۔ یعنی تمن آسہ نہ پانہ وان کانہ ہمدردی بلکہ آسن اکھ کس پیچھہ نظرہ و چھان حتیٰ  
إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا تا اینکه یلہ ساری سن جہنمئس آندر قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأَوْلِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ ضَلُّونَا  
فَأَيْرَمُ عَدَابًا بَعْضًا مِنَ النَّارِ ونہ پتتم جماعت تم تابع روزت گھر کران آس بروٹھہ جماژ ہندہ  
خیرہ ای سانہ پروردگارہ یسوی کیا ڈال آس کیا زہ تم آس سان زٹھہ۔ پس کر تمن سانہ خوتہ دوگن  
عذاب نار جہنمئک قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ فرماویچھہ پر پیچھہ آس چھو دوگن  
عذاب۔ مگر توبہ چھونہ معلوم۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأَوْلِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ ضَلُّونَا فَأَيْرَمُ

عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۗ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾  
 وَقَالَتْ أُولَٰئِهِمُ لِأَخْرَجَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهَا مِنْ فَضْلٍ  
 فذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۳۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا  
 بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا  
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلْبِغَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيْطِ ۗ وَكَذَٰلِكَ  
 نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿۴۰﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقَهُمْ غَوَاشٍ  
 وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۴۱﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

العَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ یہ وہ گوڑی جماعت تھو آند رہ پتمس جمائس ہس کیاہ زیادتی بنے یہ تھوہ  
 آسہ پیٹھ۔ کس تہو عذاب تمہن تکھہ کائین بدل سمہ تھو کران آسہہ اِنَّ الَّذِیْنَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا  
 وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ پزپاٹ سمولو کواہوزان سان آیات یہ کوزکھ تکجرتم  
 آیات قبول کرنہ لغہ ہرگزین نہ مژراونہ تہندین رُوحن ہندہ خیطرہ آسانن ہند دروازہ بلحمہ کن تم دار تھہ  
 دنہ تہ واتناونہ کل پاتا کس منز۔ بالیمان ہندین رُوحن ہندہ خیطرہ ہین آسانن ہند دروازہ مژرنہ۔ تہند  
 رُوحین واتناونہ اعلیٰ علیئیس منز۔ وَلَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یہ اژن نہ مکر تہ کافر جنئس حَتَّىٰ یَلْبِغَ  
 الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيْطِ یوتان نہ وونٹھ اژہ سزونہ پہہ کن۔ وونٹھ سُنڈ شرنہ پہہ کن اژن تھہہ پاٹھہ  
 نامکن تہ محال تھو تھہہ پاٹھہ چھو کافر تہ مژر کن ہند جنئس واژن نامکن تہ محال۔ جمل چھہ عربی پاٹھہ  
 ونان وٹھہ رزہ تہ تھہہ دراب ونان چھہ۔ وچھہ رزہ ہند سزونہ پہہ کن اژن تہ چھو محال تہ نامکن تھہہ  
 پاٹھہ چھو کافر تہ مژر کن ہند جنئس منز واژن تہ محال۔ سزونہ چھہ زیادہ مناسبت وچھہ رزہ سیت پئس  
 سیت مناسبت آسہہ اعتبارہ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ تھہہ پاٹھہ کیاہ موائس سزانا فرمان لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ  
 مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقَهُمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ تہندہ خیطرہ آسہہ جہنمہ کوی وٹھرن۔ یہ پیٹھکن

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ ﴿۳۲﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ  
 تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا  
 لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ  
 وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾  
 وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا

تمہ کوئی وزن۔ یعنی پریتھ طرفہ آسہ تم ناری نار۔ آس چھہ تمہین ظالمن پُتھوی سزاوان۔ وَالَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ سمو  
 لو کو ایمان اُون خدایہ سیدین آیاتن بیہ کریجھہ رثہ عملہ۔ رثہ عملہ کرنہ چھونہ تیوت مشکل کینہہ بیہ۔  
 کیا زہ آس چھنہ کانسہ شخص زور کران عمل کرنگ مگر تروی ہن ایشہن سو بیجہ۔ تے لوک چھہ جنس  
 منزواتن وال سم توت واتھہ ہمیشہ روزن تھہ منز۔ بیہ آسن نہ جھنہن ہند پاٹھہ اگھہ آس سیت بد کلامی  
 کران کیا زہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ اس کڈوتھہند یو دلواندرہ ساری رنجش۔ بیہ آسہ نہ کانسہ  
 بن ہند تھو دم رتبہ تہ تھو دور جہہ ڈچھت ناخوش یوان بلکہ آسہ پریتھہ اکھاہ پنے پنے جلیہ خوش تَجْرِي مِنْ  
 تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا یکان آسن تھند یو باغوتہ مکا نو منز واریاہ جو بہ۔ خوشی۔  
 فرحت تہ سُرورہ سیت آسن تم دنان حمد و ثنا یوین اس معبود برحقس سم وتھہ ہاؤ آسہ تم کائین کن یمن  
 کائین ہنز مزیہ جنت چھو۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ آس ہیجہ ہونہ واتھہ تہ وتھہ لیتھہ۔  
 ہر گاہ لے آسہ اللہ تعالیٰ وتھہ ہاؤہہ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ واقعی سانس پروردگارہ سند پیغمبر  
 آئے آسہ نشہ پڑہ تھہ بیٹھہ۔ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو پتہ لیکھہ بڈہ  
 آلودنہ۔ ای جنیتو سم جنت آی توہہ وراثتہ پاٹھہ عطا کرنہ۔ تھہ بدل بیہ تہہ کران آسوہ دنیاس اندر  
 رثو عملو اندرہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبِّنَا حَقًّا بیہ یلہ جنتی جنس

رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ تَاوَعَدَ رَبِّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ  
 مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۳۷﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ  
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿۳۸﴾  
 وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ

منزواتن بین خوشی سے فرحت ظاہر کرنے خیر ہے جہنمیں ہند حسرت سے افسوس زیادہ کرنے خیر ہون تم  
 تمہ سارے جہنمہ کین لوکن کن آلو۔ ای جہنمیو پز پاتھ آسہ سیت لیس وعدہ سان پروردگارن کورمت اوس کہ  
 ایمانس سے رٹن عملن بدل کرودہ توبہ عطا جنت سے لوب آسہ حق سے پوز **فَهَلْ وَجَدْتُمْ تَاوَعَدَ رَبِّكُمْ**  
**حَقًّا** ای جہنمیو تمہ ونو کیاہ توبہ سے لبوہ سو عذاب سمیک وعدہ اوسوہ کورمت پروردگارن بین پوز سے  
 واقعی۔ کہ کھر سببہ واتنا وودہ نار جہنمس اندر۔ کیاہ ون آہوہ بوزنہ بین کمر ای سے خداورسولہ سند فرمان  
 حق سے پوز آن **قَالُوا نَعَمْ** تم دین جواب واقعی اللہ تعالیٰ سند سے تہندس پیغمبر برحقہ سند فرمان دراؤ  
 بالکل پوز **فَأَذَّنَ مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ** لیس دہہ آلو وودہ وناہ آلو۔ سمہ سیت جہنم  
 ہنز خوشی سے مسرت زیادہ سپدہ جہنمیں ہند حسرت سے افسوس ہر کہ لعنت خداونین ظالمین۔ **الَّذِينَ**  
**يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ** تم ظالم تھہ پھر ان آس خدایہ سزہ و تہ  
 نشہ تھہ دین قبول کرنے نشہ بلکہ آس ژھانڈان دین حقس منز پنہ خیالہ نیرہ ناگانہ، حج کتھاہ۔ گانہ  
 عیابہ۔ تھہ تین اعتراضک موقعہ بیہ ہا۔ بیہ آس تم آخرتس سے انکار کران۔ سمیک نتیجہ تم ازٹانان چھہ  
**وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ** تین دوشون فریقن منز۔ جہنمیں سے جہنمیں منز آسہ اکھ ٹھوراہ سے اکھ دیواراہ۔ سمہ  
 ٹھہرہ سے دیوارہ سیت جنگل اثر جہنمس کن واتان آسہ نہ سے جہنمگ اثر جہنمس کن واتان آسہ نہ۔ امی  
 ٹھریگ سے دیوارک ہیر سم حصہ تھہ چھونا واعراف۔ تمہ پیٹھہ آسہ نظر جہنمس پیٹھہ سے جہنمس پیٹھہ سے۔  
 بوزنہ آن یوان تمہ پیٹھہ جنتی سے جہنمی سے **وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ** اعرافس پیٹھہ  
 آسن واریاہ لوکھہ سم تین دوشونی جمان جہنمیں سے جہنمیں سے ہرزہ ناؤن پنہ پنہ علامتہ سیت۔ سوگوای  
 کہ جہنمیں ہند تھہ آسن سفید سے روشن۔ تین آسہ تھہ پیٹھہ نور وسان۔ جہنمیں ہند تھہ آسن سیاہ سے

وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْعُونَ ﴿۳۷﴾  
 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَّا  
 تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۳۸﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا  
 يَعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ قَالُوا مَا اغْنَىٰ عَنْكُمْ جَعْلَكُمْ وَمَا كُنْتُمْ  
 تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۳۹﴾ أَهْلُوا الَّذِينَ أَنْصَبْتُمْ لَنَا اللَّهُ بِرَحْمَةٍ

گفت۔ تم آسمے بٹھے بیٹھے تاریکی پشیمان۔ اعراف چھواکھ کو ہااکھ جنتس سے جہنمس منز باگ۔ تیرے سین  
 تھاوند تم لوکھ تمکن ہنزہ نیکی سے بدی برابر آسن تولنس منز لجموہ۔ پولاک واتن تم سے جنتس خدایہ سیدہ  
 فضلہ سیت **وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْعُونَ** سم اعرافس منز روزہ دن  
 لوکھ ون آلودت جنتہ کین لوکن ای جنتیو سلام یوینوہ۔ سم آسن نہ ونہ جنتس منز ترامت مگر سخت  
 خواہش سے امید آیکھ تھہ منز واتج۔ حدیث شریفس منز چھو آمت کہ تهنز امید پیہ پورہ کرنہ۔ تهنہ  
 خیطرہ سپدہ حکم جنتس منز اژنک **وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَّا تَجْعَلْنَا مَعَ**  
**الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ** توپتہ یلہ تهنزہ اچھہ نارہ کین لوکن کن پھر نہ یں یعنی یلہ تمکن اعرافہ کین لوکن  
 جہنمین پیٹھ نظر پیہ۔ خوف کھیتھہ لگن دینہ ای سانہ پروردگارہ آسمہ تھاوتمن ظالمین سیت عذابس منز  
 شامل **وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ قَالُوا مَا اغْنَىٰ عَنْكُمْ جَعْلَكُمْ وَمَا كُنْتُمْ**  
**تَسْتَكْبِرُونَ** تھہہ پاٹھہ اعرافہ کیو لوکوچن سیت سلام وکلام گورتھہ پاٹھہ دن تم آلو جہنمیو منزہ وارہین  
 لوکن تمکن تم پرزہ ناؤن تهنز یو علامتو سیت کہ سم جھہ کافر جہنمی کیا زہ تمکن آسمہ تھہ پیٹھہ تاریکی پشیمان۔ تمکن  
 دهن ای جہنمیو کنہ تہ آیو نابکار توہہ ہن جماعت۔ بیہ ڈیت نہ توہہ کانہہ فاسیدہ عجب و غرورن۔ ہن پان  
 آسوہ تھہ بوڈوزنہ یوان۔ مسلمان با ایمان آسوہ و چھان چہ نظرہ۔ بیہن ہن ہنز فرمانبرداری آسن نہ توہہ  
 گوارا گواہان **أَهْلُوا الَّذِينَ أَنْصَبْتُمْ لَنَا اللَّهُ بِرَحْمَةٍ** کیا یم جنتس منز واتج عیش کران جھہ تہ  
 چھا تم تمکن متعلق قسم ہا ہو آسوہ تھہ ونان کہ تمکن زچورن کرہ نہ اللہ تعالیٰ ہن رحمت عطا۔ و چھان



أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿۵۱﴾ وَنَادَى  
 أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ آفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا  
 رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۵۲﴾ الَّذِينَ  
 اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلِعْبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ  
 نَنْسَهُمْ كَمَا نَسُوا الْقَاءَ يَوْمَهُمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۵۳﴾  
 وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلْنَاهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ هُدًى وَرَحْمَةً

چہوہ معنی بندہ حقہ سپہ کھم خدایہ سدہ طرف اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ای  
 غریب با ایمانو اژد جنتس یتیرنہ توہمہ زانہہ کانہہ خوف نہ کانہہ غم آسہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ  
 الْجَنَّةِ أَنْ آفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ یتھہ پاٹھہ جنتیوگرہ کتھہ جہنمین سیت یتھہ پاٹھہ وان ناد  
 جہنمک لو کتھہ جنتہ کین لو کون کتھہ ای جنتیو۔ بوچھہ سیت تہ تریشہ سیت پھہ کو ٹھن زیو پھٹھو۔ تراووناسہ کن  
 کتھہ تریشہ دامہ۔ یادبو آسہ کبیرہ ہاہ تمہہ منزہ یہ توہمہ اللہ تعالیٰ ان کھینہ خیطرہ عطا کورمت پھو۔ قَالُوا إِنَّ  
 اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ جنتی دپھہ اللہ تعالیٰ ان پھہ سم دوشوے چیز یعنی جنتک کھین تہ جین حرام  
 کورمت کافرن پیٹھہ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلِعْبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا تمن کافرن پیٹھہ سمبو  
 دنیاس منزوین ہن ہن قبول کرہن تمن پیٹھہ واجب اوس۔ زومت اوس تماٹھہ تہ گنہاہ۔ بیہ اوس تمن  
 دھوکہ دیتمت دنیاچہ زندگی۔ تمن اوس خیال زہ مرئوی پھو نہ زانہہ تمی سببہ اوسکھہ سوروی  
 مشروومت۔ دینک آس نہ بران کانہہ پرول سواوسکھہ سردست پس پٹھت تراومت قَالِيَوْمَ نَنْسَهُمْ كَمَا  
 نَسُوا الْقَاءَ يَوْمَهُمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اس تہ مشرووکھہ تم ازکہ دوبہہ نارس منزوات ناوتھہ  
 ہیمونہ اس تھہد ناوتہ ادہ پھنہ کتھہ کھیاونج تہ چاونج۔ یتھہ پاٹھہ تمبو مشروومت اوس ازکہ دہگ ملاقات  
 سمہ دہگ سامانہ تیار نہ کرنہ سیت بہ یتھہ پاٹھہ آس تم سائین آیسن انکار کران وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ  
 فَصَلْنَاهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ پزپاٹھہ آسہ واتہ ناوے یہ تمن ہن کتاباہ یعنی قرآن

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي  
تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ  
رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ  
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا  
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۵۳﴾ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ

مجید۔ ہتھ منز پورہ علمہ سان آسہ تمام چیزن ہنز وضاحت کرے یہ۔ تی کریو واسہ بیان ساری لوکن  
بوزناونہ خپترہ۔ مگر سبوتباب سپر ذریعہ ہدایت ورحمت تمنی لوکن ہندہ خپترہ سموسنوبو زتھہ پڑھہ کرتہ  
ایمان اون۔ سمویاوجود اتمام حجت پڑھہ کمر نہ تہ ایمان اون نہ تہندہ حالہ اندرہ چھو پریڈان کہ ہل  
یَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ کہ تم چھنہ ہر اران مگر قرآن مجیدس منز بیان کرنہ آس  
تہ وعدہ تھاونہ آس وعیدس یعنی سزاس یقول الذين نسوه من قبل قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ  
سمہ دوہہ سوعذاب واقع سپر تک موقعہ واتہ تمہ دوہہ دہن تم لوکھہ سمویہ قیامتک دوہ مشروومت اوس  
مجبور و مضطر ہدیت کہ واقعی سانس پروردگارہ سندہ پنجمیر آئے ہزہ تھہ پتھہ مگر آسہ لوگ نہ بوزن  
لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا وون چھاننا کانہ سفارش کرہ وناہ۔ آسہ کرہ ہا سفارشہ سمہ سیت اس  
نجات کہ ہو اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ سمہ ہواس واپس دنیاس گن سوزنہ تہ کرہ ہواس  
تے رتھہ عملہ سمہ تمہن چھہ کاین بدل آسہن سمہ اس بروٹھہ کران آس دنیاس اندر۔ اللہ تعالیٰ  
چھو فرماوان کہ سمہ تھہ گیدہ وون چھنہ تمن کانہہ صور تھہہ نجات قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بیشک تموتراؤ  
پن پان گھر کرنہ سیت تاواؤس تہ نقصاؤس اندر وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ بیہ گدیہ ضایع تمہہ سارہ  
اپزہ تھہ سمہ تم نورواوان آس کہ آسہ کرن معبودان باطل شفاعت إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ پز پاتھہ چھند پروردگار چھو اللہ تعالیٰ تم آسمان تہ زمین پیدہ

النَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَيْثُ مَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ  
 بِأَمْرِ آلِهَةِ الْخَلْقِ وَالْأَمْرُ تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۷﴾ ادْعُوا  
 رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۵۸﴾ وَلَا تَقْسِدُوا  
 فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

کرشین ۶ دوہن برابر مدلس منز نَمُو اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ تو پتہ پتہ مستوی عرش مجیدس پیٹھ تمہ  
 طریقہ نُس تہندس ذات پگس شایان شان ہتھو يُعْشَى الْبَيْتَ النَّكَارَ سُوی پروردگار جھو رازہنزہ تاریکی سیت  
 ولان دُوپہ روشنی يَطْلُبُهُ حَيْثُ مَا تھانڈان جھو دورہ رَأْس تہ رات دوہس وُل وُل، دو شوبے ہتھہ اکھہ  
 اکس پتہ یوان تہ گزہان وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِ بِہ کمر اللہ تعالیٰ ان پیدہ  
 آفتاب تہ زون بیہ باقی تارک سمہ طریقہ کہ ساری ہتھہ پنہ نُس رفقارس تہ انوار آثارن اندر تابع  
 تہندس کھمس۔ تھہ پاتھہ سو پکہ ناویجھہ تھہ پاتھہ ہتھہ پکان۔ نُس تصرف تمن پیٹھ تراون یژہان ہتھو  
 تھہ پیٹھ ہتھہ تم روزان آلِهَةِ الْخَلْقِ وَالْأَمْرُ تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وارہ بوزوکہ پیدہ کرن ہتھہ  
 خاص تہنزی کوم۔ حکم کرن تہ ہتھہ تہنزی کوم۔ سیٹھاہ جہ خوبہ وول ہتھو اللہ تعالیٰ نُس سارنی عالمین  
 ہند پروردگار ہتھو۔ یلہ سو سیٹھاہ خوبی وول ہتھو توہہ پزہ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
 الْمُعْتَدِينَ ای لوگو کہ تہہہ مگو بہن ساری حاجت پریتھہ وقتہ پنہ نُس پروردگار س عاجزی سان تہ، پو شیدہ  
 پات تہ۔ ہز پاتھہ سو جھونہ ہند کران تمن تم دُعاعن ہند یو آدو لہ نفعہ حدہ وُلان ہتھہ یعنی تی مگن یہ نہ  
 شوبہ بیہ تھہ پاتھہ مگن تھہ پاتھہ نہ شوبہ وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا بِہ مہ تلوتباہی  
 دُنیا س اندر شر کہ سیت تہ نافرمانی سیت تھہ اندر توحید و اطاعت سیت تہ پیغبرن مہدہ تبلیغ  
 وارشاہ سیت امن ولمان قائم سپنہ پتہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا خدائس کھو تھو کھو تہ تہندہ  
 رتج امیدتھاوت تہ آسو کران تس دعاء نہ عبادت کرت نہ گزہہ مغرور گزہن نہ

اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۱﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ  
بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ طَحَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا  
سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ  
كُلِّ الشَّجَرِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۵۲﴾  
وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ

گوشه نا امید سپدن کیازه **إِن رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ** ہر پاٹھ خدایہ سز رحمت ہتھ  
نزدیک نیکو کارن **وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بَشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ** سو پروردگار گو سوی لیس  
باران رحمت تراونہ بروٹھ ہتھو ہو اسوزان ہتھ سو بارشہ ہنز امیدوتھ لوکن ہمدول خوش کرہ **طَحَّىٰ إِذَا  
أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ** تا اینکه یلہ تم ہوا نخلان چھ گوئین ابرن، پکانوان چھن اس  
سوا برتھ شہر س کن لیس آہ داوہ ہو کھمت آسان ہتھو۔ توپتہ ہتھو سوا برتھ شہر س پیٹھ رود تراوان۔  
سوشہ ہتھو سر سبز سپدان۔ تمہ شہر کہ مومتہ زمینہ منزہ ہتھہ کل تہ گاسہ کھسان۔ امی سیت ہتھو سپدان  
ثابت سون کن آسن تہ قدر تہ وول آسن۔ یہ تہ سپد ثابت کہ آہ ہتھہ قدرت مرنہ پتہ بیہ زندہ کرنس  
پیٹھ **فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ** ہتھہ پاٹھہ  
چھہ اس کدان تمہ رودہ سیت پر ہتھہ قسمک میوہ **كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ** ہتھہ پاٹھہ  
کیاہ کڈو کھہ اس مردہ قبر واندزہ زندہ کترتھ۔ اس چھہ پننہ قدر تک آثار بیان کران۔ تاکہ جہہ کمر و تمکن  
تھن اندر غور۔ توپتہ کمر و پڑھہ مرنہ پتہ بیہ زندہ سپدنس تہ قیاس۔ سون کلام پاک اوس پننہ جلیہ پر ہتھہ  
کانہہ ہندہ خیطرہ کافی۔ یہ اوس مکان کہ پر ہتھہ اکھ گوشہ توحیدور سالت تہ معادس پڑھہ کرن۔ مگر داہ  
کیا زہ چھنہ ساری پڑھہ کران۔ تمیک وجہ ہتھو کہ کانہہ ہتھو قابل آسان تہ کانہہ ناقابل آسان۔ ہتھہ  
پاٹھہ رود ہتھو ساری زمینس پیٹھہ بیوان مگر ساری زمینہ منزہ ہتھو نہ کنوی نتیجہ نیران **وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ  
يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا**

لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكَدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿۵۸﴾  
 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمٍ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا  
 لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۵۹﴾  
 قَالَ الْمَلَأْمُونَ قَوْمَهُ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿۶۰﴾ قَالَ  
 لِقَوْمٍ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ۖ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۱﴾  
 أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۲﴾

جھو خدا یہ سہرہ فضلہ سیت واریاہ تہ زئوی نیران۔ نئس زمین جھہ تہ خراب جھو آسان تمہہ منزہ جھونہ  
 نیران کینہہ تہ مگر خراب تہ ردی سیتھاہ کم کذالک نصرف الایات لِقَوْمٍ یَشْکُرُونَ تہ تھہ پاتھہ جھہ اس  
 پنہہ دلیلہ پھیر واریہو طریقو بیان کران قدردان لوکن ہندہ خیطرہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ  
 فَقَالَ لِقَوْمٍ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ تھہن آسہ سوز حضرت نوح پیغمبر پنہہ نس قومس ن۔ بس  
 فرمودتھو پنہہ نس قومس۔ اکی میانہ قومہ۔ جہہ کمر و عبادت صرف معبود برحقہ سنز۔ تس ورا ی جھونہ  
 کانہہ تہ تھندہ خیطرہ معبود آسہ قابل۔ سکن کنہ وین شکل جہہ پرستش کران جھوہ۔ تمہہ نشہ روزو  
 جھہ۔ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ہر گاہ تہ جہزی یا تھ عبادت کمر و میہ جھو اندیشہ  
 تھندہ خیطرہ کہ جہہ مانوہو شرکہ تہ مت پرستی سبہ بڈہ و ہکس یعنی قیامتہ کس عذابس یا طوفانس گم فزار  
 قَالَ الْمَلَأْمُونَ قَوْمَهُ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ونہہ لکس قومیک زٹھہ اکی نوح آسہ جھو کھہ ژہ بوزنہ  
 یوان نئہ گمراہی تہ غلطی اندر بتلا۔ کیا زہ تھہ جھوہ توحیدج تعلیم کران۔ بیہ جھوہ تھہ عذابس کھوژہ  
 ناون قَالَ لِقَوْمٍ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ۖ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرت نوحن دوہ جھہ جواب  
 اکی میانہ قومہ مہ جھنہ کانہہ گمراہی تہ غلطی۔ لیکن چونکہ بو جھس پیغمبر۔ رب العالمین سہہ طرفہ تمی  
 جھومہ حکم فرمودت اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بو جھوس توبہہ نشہ  
 پنہہ نس پروردگارہ سند پیغامات و اتاوان۔ بیہ جھوس بو پئن فرض منصبی ادا کران۔ میہ جھونہ تھہ اندر

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ  
لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۷﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَجْنِبْنَاهُ  
وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿۳۸﴾ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ  
يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۹﴾

کانہ ذاتی غرضہ۔ بیہ چھوس تہندہ خطرہ رت یژھان۔ کیا زہ توحید پائلس منز چھو تہندوی فایدہ تہ  
نفع۔ بیہ ئیس توبہ بدہ ذہبکہ عذابک تعجب چھو سپدان یہ بہتہ تہنز سخت غلطی کیا زہ بوہ چھوس زانان تم  
چیز اللہ تعالیٰ اس نشہ تم نہ تہہ زانان چھوہ۔ مہ چھو خدا این فر موومت کہ ئیس خدا ئیس شریک ٹھراوہ  
تسدرس ٹیوی آسس پڑھہ کرہ نہ تس کرہ بو عذاب اَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ  
مِّنكُمْ کیاہ تہہ چھوہ یہ تہہ عجایب زانان کہ توبہ نشہ واژ تہندس پروردگارہ سدہ طرفہ توبہ اندرہ  
آکس شخصہ سدہ ذریعہ وعظ و نصیحت تہہ۔ سو نصیحت تہہ گینہ تہہ کہ عبادت کمر و معبود برحقہ سزنی یا ژ  
لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تہہ سو شخص توبہ خدایہ سدہ حُکمہ ، تہندہ عذابہ نشہ نیم  
گرہ۔ بیہ تہہ تہندہ نیم کرنہ سیت تہہ کھوژو۔ شرک و کفرہ نشہ پتہ روزویمہ سیت توبہ پیٹہ رحم ایہ کرنہ  
فَكَذَّبُوهُ فَأَجْنِبْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ مگر ایژ فمائش کمر تہہ زون تہو حضرت نوح (نوحو باللہ)  
اپزبور، بدستور رُود تم انکار کران۔ ئیس دیت اسہ حضرت نوحس بیہ تم تہن سیت ناوہ اندر کھت نجات  
طوفانجہ عذابہ نشہ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ بیہ پھاؤ اسہ طوفانہ کس  
عذابس اندر تم لوکھہ سمولہیزان سان آیات۔ بیشک آس تم انین ہنز جماعت تہن نہ خدایہ سدہ  
وحدانینگ نشانہ بوزے اسہ یوان وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا بیہ سوزاسہ قوم عادس حضرت ہود علیہ  
السلام پیغمبر۔ ئیس تہندہ برادری یا وطنی یوی اوس قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا  
تَتَّقُونَ تمو فر موو تہن ای میاہ قومہ عبادت کرو صرف معبود برحق چھوہ نہ توبہ کانہ معبود تس

قَالَ الْمَلَائِكَةُ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّكَ لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَنْظُرُكَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَقُومُ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٦٧﴾ اَبْلَغُكُمْ رِسٰلَتِ رَبِّيْ وَاِنَّا لَكُمْ نٰصِحٌ اٰمِيْنٌ ﴿٦٨﴾ اَوْ عَجَبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَّزَادَكُمْ

ورای۔ بت پرستی تراوو۔ کیا تھے جزم عظیم شرک آنتھ جھوہ ناتھ کھوژان خدایہ سندس عذابس قال  
 الْمَلَائِكَةُ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّكَ لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَنْظُرُكَ مِنَ الْكٰذِبِينَ قومہ  
 کیوز ٹھیو دو پھکھ جواب اسہ جھوہ بوزنہ یوان تھہ کم عقل۔ تھہ جھوہ اسہ توحیدج تعلیم کران۔ توحید  
 پھکھ ناوان تہ عذابس کھوژہ ناوان۔ بیہ جھہ اس زانان تھہ جھوہ اپز تہ خلاف واضح تھہ ونہ ونیواندرہ۔  
 یعنی (نعوذ باللہ) نہ جھو توحیدک مسئلہ صحیح نہ جھو خدایہ سندہ طرفہ عذابک نازل سدن صحیح قَالَ يَقُومُ  
 لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ تمو فرموو بھکھ اکی قوم میانہ عقلہ منزئہ قسمہ کی جھنہ وَ لٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ  
 الْعٰلَمِيْنَ لیکن بوجھوس بیغیر توبہ کن پروردگار عالیہ سندہ طرفہ۔ تمی جھوس بوسوزمت توبہ  
 توحیدج تعلیم کرنہ خیطرہ بیہ عذابک نیم کرنہ خیطرہ بوجھوس پئن فرض منصبی ادا کران اَبْلَغُكُمْ  
 رِسٰلَتِ رَبِّيْ بوجھوس توبہ نشہ واتناوان پروردگار سند پیغامات تہ احکام وَاِنَّا لَكُمْ نٰصِحٌ اٰمِيْنٌ  
 تھہ تھہ اندر جھوس بوجھوس خیر خواہ، بے غرض تہ قابل اطمینان کپازہ توحیدو ایمانس اندر جھو بوجھو  
 فائدہ تھندی خیطرہ اَوْ عَجَبْتُمْ اَنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ کیاہ تھہ جھوہ  
 بیہ عجیب تھہ زانان کہ توبہ نشہ کیاواژو عظ و نصیح تھہ تھندی پروردگارہ سندہ طرفہ توبہ اندرہ۔ تھندی  
 جلسہ اس شخصہ سندہ ذریعہ۔ لیس توبہ ہی ہیو بشر تہ انسان جھو۔ تھہ سو شخص توبہ وارہ پاٹھہ خدایہ سندہ  
 عذابہ نشہ نیم کرہ۔ یہ جھنہ کئی صحیح تھہ نبوتس تہ بشریتس چھاپانہ وان کہنہ اختلافہ وَاذْكُرُوْا

فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً ۖ فَادْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۶۸﴾  
 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَدْرَمَا كَانَ يَعْبُدُ  
 آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۶۹﴾  
 قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ  
 أَتَّجَادِلُونَنِي فِيْ أَسْمَاءِ سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا  
 نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۖ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ

اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ اٰبَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ۗ اکی میانہ قومہ بیہ پاوتو تہہ ژیتس کہ اللہ تعالیٰ ان کس احسان کور  
 تومہ نسبت تہہ کر نوہ زٹھہ زمیس اندر قوم نوحہ پتہ ۖ وَادْكُرُوا فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً ۖ بیہ گور نوہ تہہ  
 جسمہ کس ڈول ڈاکس اندر بر ژر۔ قوت تہ طانت گور نوہ عطا ۖ فَادْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ  
 ژیتس پاو و خدایہ سنزہ نمود تمسنزہ نمود ژیتس پاوتھہ کرو تہنز فرمانبر داری۔ دیوہ تہہ رستگار تہ کامیاب  
 سپو ۖ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَدْرَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ ۖ تہہ لگ تم واہ کیاہ تہہ  
 آوہ اسہ نشہ سمہ تھہ خیرہ کہ اس کیا گرو کتسی خدایس عبادت۔ باقی یمن پو تیلن ہنز عبادت سان مال  
 بڈب کران اس تم کیا تراوڈھ اس۔ اس تہ گرونہ کینہہ ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ  
 ۖ ۖ تہ سانس نہ مانس پٹھہ سمہ عذاب تہہ اسہ نیم کران ۖ چھوہ سو عذاب و اتا و اسہ نشہ۔ ہر گاہ تہہ پو زونہ  
 ون چھوہ ۖ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ حضرت ہودن فرموڈ کہ تہزہ  
 سرکشی ہنز یلہ بیہ حالت چھہ۔ تھقین وون سپد تومہ پٹھہ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ عذاب نازل بیہ  
 بیزاری ۖ أَتَّجَادِلُونَنِي فِيْ أَسْمَاءِ سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۖ کیاہ  
 تہہ چھوہ مہ سیت ہر تہ قصیہ لاگان۔ کیزون پو تیلن ہندین ناوان پٹھہ تم ناو بے حقیقت چھہ پانے تومہ  
 یا تہند یو مال پو بڈ بو ٹھہراومت چھہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان چھہ نہ کانہہ دلیلہا تہندہ معبود آج نازل کر مژ۔  
 تومہ نشہ نہ چھہ ہنہ دعویٰ اج دلیل۔ نہ تھو تومہ نشہ میانہ دلیلہ ہند جواب۔ کس ہر تہ قصیہ الاکت کیاہ



الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۴۱﴾ فَأَجْبِدْهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ  
 قَطَعْنَادَ إِبرَ الْذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿۴۲﴾  
 وَإِلَى شَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا  
 لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
 هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي

فائدہ مٹھو۔ لہذا کروہر تہ قضیہ ختم فَاَنْتَظِرُوا اِلَیَّ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَ اِن یبَارِوْہِمۃ عذابس۔  
 نوبتہ مٹھوس توبی سیت پیارہ ونیو آندرہ۔ کس سوز اللہ تعالیٰ اَن تمں پیٹھ تیز داؤسم تم ساری گال  
 فَأَجْبِدْہُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا کس دیت آسہ نجات حضرت ہودس علیہ السلام بیہ تمں  
 سم تمں سیت آس با ایمانو آندرہ پنہر رحمتہ سیت وَقَطَعْنَادَ اِبْرَ الْذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا  
 مُؤْمِنِينَ بیہ ٹرٹ آسہ مول تمں لوگن ہمد سمو اہر زان سان آیات بیہ آسہ تم بوجہ سخت قسوات قلبی  
 اسمان انہ ونیو آندرہ۔ ہلاک تہ نے گروہہ مَن توتہ انہ مَن نہ ایمان۔ لہذا کر آسہ تم ممتقضائے حکمت تباہ و  
 برباد وَإِلَى شَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ بیہ سوز آسہ قوم  
 شمودس کن جہند یوی حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر، تمو فر موو تمں اے قوم عبادتہ کرو فقط اللہ تعالیٰ  
 سنزئس ورا ی مٹھو نہ توبہر کانہ اکھاہ معبود آسلس قابل تہ سزاوار۔ تمو کور حضرت صالحس اکہ خاص  
 مُعْجَزٌ دَرِخَاسْت۔ دُوکچہ بیمہ خاص پلہ منزہ گروہہ اکھ وال وین ووشین نیرن۔ چنانچہ حضرت صالحہ  
 سُنَدۃ دُعَا سیت سُبَد ہونہ در خواست منظور۔ سُو پل پھوٹ۔ تمہہ منزہ در لیر اکھ چر دار و ووشیاہ  
 قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ یہ کیاہ مٹھہ بیہ ووشن خدایہ سنز۔  
 یوسہ آسہ پلہ منزہ در لیر جہزہ خواہشہ موجب۔ یہ آسہ جہندہ خیطرہ اکھ بڈ لیلیاہ بناو تھ ظاہر کرنہ۔ امی  
 آس ناو تھاونہ نَاقَةُ اللَّهِ خدایہ سنز ووشن کیا زہ بیہ مٹھہ جہزہ قدر تچ بڈ لیل میانہ پیغمبر آج تہ مٹھہ بیہ  
 بڈ لیل لہذا چھہ توبہر پیٹھہ آسندہ مٹھو مٹھو قَدْ ذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي اَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوْہَا بِسُوْءٍ



مُرْسَلٍ مِّن رَّبِّهِ ط قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۵۵﴾  
 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ  
 كَافِرُونَ ﴿۵۶﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَ  
 قَالُوا يُضِلُّهُمُ اسْتِنَابُ مَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ  
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۵۷﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمْ  
 جُنُوبًا ﴿۵۸﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ

یہ کفاروں تمہیں خبر دو دو پہنچھ اس جہم انکار کران تمہہ تمہہ توہہ پڑھ کر وہ۔ غرض تمہونہ کر پڑھ  
 حضرت صالحؑ نے کر کہ دوئٹنہ ہند حقوق پورہ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ چنانچہ سووون مار تموزنگہ ژٹٹھ  
 وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ یہ کر کہ سر کشی پنہ نس پروردگارہ سُنْدُكُمْ مانہ نشہہ وَقَالُوا يُضِلُّهُمُ اسْتِنَابُ  
 بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ توپتہ لگ بکمال بے باکی تہ بے پروائی دہنہ اکی صالحؑ  
 اتناوہ اسے نس سوعذاب سمیک جٹہ اسے نیم کران آسوہ، یتھہ اسے کھوڑہ ناوان آسوہ چھوے ٹہہ پزپاٹ  
 پیغمبر و آندہہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمْ جُنُوبًا نس رٹ تم سخت بٹل۔  
 بیس آہ کر تمس منز چھو فَاخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ تم رٹ سخت کریجہ۔ لہذا سپد تمن دوشوے۔  
 آملجہ طرفہ گیکھ سخت کریکھ زبردست کریکھ پتہ آکھ بوئیل۔ نس پے تم تھہ کن ویتھ پنہ نین گران  
 اندر ز مینس پیٹھ (پھر ٹٹھ گڑھتہ مود) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمٍ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي  
 وَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ یلہ قوم تھود عذابہ سیت تباہ گو۔ حضرت صالحؑ دراو تمن  
 نشہہ توپتہ فرموونکھ اکی میاہ قومہ تھین مہ و اتناوہ توہہ نشہہ پنہ نس پروردگارہ سُنْدُكُمْ پیغام تھہ پیٹھ عمل  
 کرنہ سیت توہہ بڈا میابی سپدہ ہا۔ یہ کرے یہ میہ توہہ نصیحت تہ خیر خواہی گمہ گمہ طریقہ تار یوموہ  
 توہہ فخرہ، لیکن افسوس کہ جٹہ آسوہ نہ پنہ ٹن خیر خواہن تہ نصیحت کرہ وٹن پسنہی کران۔ وعظ تہ  
 نصیحت بوژن اوس توہہ کھران۔ لہذا یلہ توہہ میون بوژونہ، میانین نصیحتن پیٹھ عمل کر وہ نہ توے گوہ

رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴿٤٩﴾  
 وَلَوْ طَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ  
 بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ  
 شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ط بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿٥١﴾  
 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ  
 مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ

عذاب اس گرقار۔ یہ فرمود تممن حضرت صالحن تهنده هلاک گرهه پتہ۔ تم زندہ تصور کر تھے بطور تاسف  
 تھتھ پاتھ سان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود بد رہ کین کافر ن ہلاک گرتھتھ۔ امہ اندرہ اوس  
 عرض یئن لوکن یعنی پتہ اودہ وئین یہ تھتھ واتاؤن کہ لوکن پزہ مخلص خیر خواہن ہنز تھتھ ضرور مانن۔ تم  
 لوکھ پتہ نس معتبر خیر خواہہ سنز نصیحت مانان آسن نہ تممن سیت تہ سپدہ سوی معاملہ یس قوم ثمودس  
 سیت سڈ۔ (العیاذ باللہ الی نجات) وَ لَوْ طَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ  
 یوسہ نہ توہہ بروئھ کر مہ ہتھ کانہہ اک شخص عالیو اندرہ  
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ہزیاٹ تہہ ہتھوہ پن شہوت تہ خواہش پورہ کرنہ  
 خیطرہ زنانہ تراوت مردن نشہ یوان ییہ ہتھ سو تھتھ کوم یوسہ نہ توہہ بروئھ کانہہ کر مڑ تھتھ۔ یہ بیچھ  
 کوم کرئس اندر ہتھوہ توہہ تھتھتھ دھوکہ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ بلکہ ہتھوہ تہہ اتھ اندر انسانیت کہ  
 حده نشہ سیٹھاہ ڈلہ ون وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ  
 إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَتَطَهَّرُونَ تھتھ قومن وون نہ تممن اتھ تھتھ کانہہ معقول جواباہ۔ مگر پانہ وان لگ وئہ  
 تم (یعنی حضرت لوط تہ بہ تہنز جماعت) کڈ یو کہ پتہ شہرہ منزہ تم لوکھ چھ سیٹھاہ شونت تم چھتھ پاک  
 و صاف روزن یشان۔ اسہ ہتھ تم زانان گندہ لوکھ۔ لہذا صاف و پاک لوکن تہ ہزہ گندہ تہ نا صاف

وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۸۳﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۸۴﴾  
 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمًا اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَ تَكْوِينَهُ مِّنْ رَبِّكُمْ فَآؤُفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

لوکن سیت روزن۔ یہ آس و نان تم ٹھٹھہ پاٹھ تہ ٹسنہ پاٹھ اوت پیٹھ یلہ واژ ٹوہت آسہ کور نازل آتھہ  
 قوس پیٹھ عذاب فَأَجْبَدُهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ کس دیت آسہ نجات تمہ  
 عذابہ نشہ حضرت لوطس بیہ تہندین متعلقن، اہل و عیالس بیہ بایمان مگر نہ تہنزہ آسہ سوز و زایمان نہ  
 آنہ موکھ تھہ قوس سیت تہن پیٹھ عذاب نازل سپد وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُكَيْفَ كَانَ  
 عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ آسہ ترو تہن پیٹھ ہدلے قسمک روداہ۔ یعنی تہ تراویجھہ رو دک پاٹھہ کس وچہ تہ  
 اکی وچہہ ونہ کہ کیا سپد انجام تہن نافرمان ہند۔ گر غورہ سان وچہ تہجب کہ کہہ بیہ تری فخرہ وارہ کہہ  
 خدایہ سزہ نافرمانی ہند انجام کیاہ چھو آسان وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمًا اعْبُدُوا اللَّهَ  
 مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ بیہ سوز آسہ شہر مدین کین لوکن گن ٹہو ند بوی حضرت شعیب پیغمبر۔ تمہو  
 فر موو پتہ نس قوس اکی میانہ قومہ عبادت کرو تہہ فقط معبود برحقہ سز، کیا زہ چھونہ توہہ کانہ معبود  
 اہ نس و رای قَدْ جَاءَ تَكْوِينَهُ مِّنْ رَبِّكُمْ تحقیق واژ توہہ نشہ ن دلیل میانس پیغمبر آسہس پیٹھ  
 تہندس پروردگارہ سہہ طرفہ۔ لہذا مانو اکام شرعین منز میان تھہ تہ میون ونن فَأُفُوا الْكَيْلَ  
 وَالْمِيزَانَ نُوحَسُوہ و نان کہہ تہہ آسہو پور پور بینان تہ پور پور توالان وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ  
 بیہ مہ آسہو لوکن ہندین چیزن اندر نقصان تہ کمی کران، چھونہ راوان۔ تہہہ پاٹھہ توہہ عادت چھوہ  
 وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا بیہ مہ کرو ز مینس اندر شر کہ تہ گھرہ سیت، بیہ لوکن

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۸۵﴾ وَلَا تَقْعُدُوا  
بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَإِذْ كُنْتُمْ  
قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۶﴾ وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا  
بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا

چھوں نے ناقص کئے سیت تباہی سے بربادی۔ آتھ ز میس اندر حضرات انبیاء ہندہ واسطہ توحیدہ سیت،  
حقوق العباد اندر۔ تولس سے میس منز۔ عدل و انصاف کرنے سیت اصلاح درستی سندنہ پتہ ذَلِكُمْ  
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ بودنان چھوہ یہ چھو تہندہ خیرہ سیٹھاہ جان سے بہتر دنیاس  
اندرتہ سے آخرتس اندرتہ۔ ہر گاہ تہہ میانس ونہ نس پڑھ کروتہ تمہ موجب عمل کرو۔ وَلَا تَقْعُدُوا  
بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا بیہ مہ  
آسروئن سے سرگن پیٹھہ بہان لوکن خوف وہی کرنہ خیرہ۔ بیہ تم خدائس پڑھ کرہ ون چھہ تم تہنہ ونہ  
نہہ چھہ رٹھہ خیرہ۔ بیہ خدایہ سزہ ونہ اندر کتہ نتہ کتہ طریقہ، پڑ، خرابی سے شک و غبہ پیدہ کرہ نہ خیرہ  
وَإِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ بیہ پاوونہہ ز میس پن حال یلہ تہہ تعدادس یامال و  
دولتس منز کم آسروہ۔ نس کرہہ خدائن مہربانی تہندس تعدادس اندر یامال و دولتس اندر کر کوہ زیادتی  
وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ بیہ و چھو مفسدن سمو کھر و نافرمانی سیت تباہی کر  
تہند انجام کیاہ سپد پتولا کہ سمو خدائس سے تہندین بیٹہرن انکار کور تہہ بروٹھ۔ قوم نوح قوم عاد و ثمود  
و غیرہ تم تھہ پاٹھ چھہ اللہ تعالیٰ ان گالت سے تباہ کرت۔ پتھہ پاٹھ چھو اندیشہ کہ تہہ پیٹھہ سے ماسپدہ خدایہ  
سندہ طرفہ عذاب نازل وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ وَطَآئِفَةٌ  
لَّمْ يُؤْمِنُوا وون ہر گاہ تہہ زہ جماژگڑھن۔ اکھ جماعت آنہ ایمان تھہ یہ بویتھہ آس بیا کہ جماعت

حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۸۷﴾  
 قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ  
 يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا  
 قَالَ أَوْ لَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿۸۸﴾ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّا  
 فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ بَخَّسْنَا اللَّهُ مِنهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ فِيهَا  
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ

کہہ رہے تھے پڑھ۔ یعنی منفقہ طور پر کہہ رہے تھے ساری تھ پڑھ یہ بویہ آس قاصیروا حتیٰ یحکم  
 اللہ بیننا وهو خیر الحاکمین جس ٹھہر دیوتاں پانہ اللہ تعالیٰ اسے منز فیصلہ کرے۔ پزیراں دین  
 نجات پزیراں کہ ہلاک تہ تباہ عذابہ سیت۔ سوی چھوڑت حکم کرہوں۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ  
 اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا  
 کیوز ٹھیو، سموی بچر کور ایمان آنہ نشہ، تمویلیہ تھند کلام بوز، تم لگ دینہ اکی شعیب یاد تھوزہ آس  
 کڈوتھ ژہ بیہ سموژہ پڑھ کری پنہ شہرہ آندرہ۔ تہ تہہ وائس بیہ سانس دینس گن پھیرو۔ قَالَ أَوْ لَوْ كُنَّا  
 كَرِهِينَ حضرت شعیب فر موو کہ گیاہ ہر گاہ آس تھندہ دینہ نشہ، ناخوش متفر، تہ بیزاریہ آسو توتہ  
 چھوہ تہہ یرھان سون تھہ دینس گن پھیرن۔ تہ بیجہ نہ بتھہ زانہہ کیا زہ آسہ نشہ پھہ پونختہ دلیل تھند دین  
 باطل آس پٹھہ تہ سون دین حق تہ پوز آس پٹھہ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّا فِي مِلَّتِكُمْ  
 بَعْدَ إِذْ بَخَّسْنَا اللَّهُ مِنهَا ہر گاہ بالفرض آس تھندس دینس گن پھیروتھہ صور تھہ منز نور و آس خدائس  
 پٹھہ بوزڈا ہزاہ، کیا زہ باطل دینس پوزونہ سیتی چھو لازم یوان خدائس پٹھہ افتراء تہ لہز نوراون و سن چھنہ  
 تھی تھہ منزبہ داخل سڈن۔ خصوصاًیلہ اللہ تعالیٰ ان آسہ تمہ باطل دینہ نشہ نجات دیت و ما یكون  
 لَنَا أَنْ نَعُوذَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا سان تھہ بیجہ نہ تھہ تہ زانہہ کہ آس کیا پھیروتھندس دینس  
 گن مگرے اللہ تعالیٰ اکی یرھہ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا واتھہ چھو سون پروردگار پرتھہ چیزس

تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ  
الْفَاتِحِينَ ﴿۹۸﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنِ اتَّبَعْتُمْ  
شُعَيْبًا أَنْتُمْ إِذِ الْخُسُوفِ ﴿۹۹﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا  
فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ ﴿۱۰۰﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَكْفُرُوا  
فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۰۱﴾ فَتَوَلَّى  
عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

علمہ سیت۔ تس ہجھ پر تھ چیز چ پور خبر علی اللہ تو کَلْنَا خدایہ سی پیٹھ کور اسہ تو کَل۔ تس ہجھ  
مَنکَان اَس رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اکی سانہ پروردگارہ نیای انزراؤ  
اسہ تہ سانس قومس منز۔ ژی وھوک رت فیصلہ کرہ ون۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ بیہ  
دو پ تہند یوز ھئیہ سَمُوا انکار کور تہندہ قومہ آندرہ تَنن کافر نُن۔ بَنجھہ تَمَن حضرت شعیبہ سُنہ موثر  
تقریرہ سیت کینہہ اثر سپدہ لَیْن اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اَنْتُمْ إِذِ الْخُسُوفِ ہر گاہ تہہ حضرت شعیبین پیروی  
کرو پز پات تلہ سپد و تہ نقصان تلہ و نیو آندرہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ کس  
رٹ تم سخت بُلل سہمہ سیت سپد تم گرن آندر پھر تہ سیت تہہ کن و س پیٹھ مُردہ۔ کس تیتس اوس سُوگو  
تتھی روز تھ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَكْفُرُوا فِيهَا سَمُوا پوزانتہ انکار کور حضرت شعیبس، زن نہ  
تم روزانی آس تھ شہرس آندر۔ تم آس دپان با ایمان اَس کدوہہ سہمہ شہرہ آندرہ۔ تم سپد پانہ ناؤد  
الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ سَمُوا پوزانتہ انکار کور حضرت شعیبس۔ تَمَّ آس تاوان  
زُدو آندرہ۔ تم آس و نان با ایمان تو بہ سپدہ نقصان پر تھہ رَنگہ تمنی سپد پانس سخت نقصان تہ تاوان  
فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ کس  
دراؤ تمن نَشِہ حضرت شعیب علیہ السلام تو پتہ فر موون تَمَن کن افسوس کر تھ زن تم زندے آس،  
اکی قوم تھقیق مہ و اتناؤ تو بہ پنے کس پروردگارہ سند پیغامات، بیہ کر مہ تو بہ نصحت، وون تھہ پاٹھ کھیمہ



فَكَيْفَ اتَّيَّ عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۱۳﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ  
إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿۱۴﴾  
ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ  
آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۵﴾  
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا فَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ  
مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا

بوغم کافر لوکن ہمدس ہلاک گوئیس پیٹھ۔ یٹھ وڈو کہ تیتھ لوٹھہ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا  
أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ یہ سوزنہ آسہ تممن شہرن کن تم ذکر کرنہ آئے،  
بیہ بنیوشہر واندہرہ عنہ شہرس کن، کانہہ پیغبرہ، سوزنہ او مگر متہ کیوںسن والیو یلہ تس پیغبر سنزنا فرمانی  
کر، آسہ کر بتلا تم تنگی تہ بیماری سیت، تہتھ تم نافرمانی نیشہ باز تھہ، عاجزی سان آسہ کن رجو جوت تہ توبہ  
کرن، نافرمانی کرنہ نیشہ ہتھہ رُو ذن ثَمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا یلہ تم نافرمانی نیشہ  
میتوت کر تھہ تہ باز آئی نہ تو پتہ بدلو و آسہ تممن سختی ہنزہ جلیہ آسانی، یوتتان تممن دولت تہ صحت بیہ  
اولادن منز خوف ترقی سہز۔ تہمز ذریاتھہ واریا نہوے یہ۔ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ غلط فہمی  
سببہ لگ تہمہ ساتہ و منہ کہ سختی تہ آسانی ہتھنہ کنہ نافرمانی یا فرمانبرداری ہند نتیجہ۔ تم چیز جھہ بروٹھ پیٹھ  
آمت تھتھہ پاتھہ سائین مالین بد بن تہ آس مجہ وقتہ سختی آسان مجہ وقتہ آسانی ورنہ اس جھہ نافرمانی بدستور  
کران خوش حالی کیازہ آسہ ہاتلہ آسہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٹس رٹ آسہ تم جھہ تہ  
مجہ۔ تممن آسی نہ خجہر عذابجہ پنچ آسہ رٹ تم محض تہندہ مگرہ تہ نافرمانی سببہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا  
وَاتَّقَوْا فَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ورنہ ہر گاہ تممن شہرن تہ بسٹین ہند لو کہ خدا ٹس  
ایمان آتھہ تہ پڑھہ کر تھہ پیغبرن ہنزہ محلقتہ نیشہ ہتھہ روزہ بن تہ پر ہیز گاری ہنزہ و تھہ اختیار کرہ بن تلہ  
موراوہ ہو آس تممن پیٹھہ آسمان وزینہ پن برکتن ہند دروازہ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا

كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۶﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ  
بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿۹۷﴾ وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ  
يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿۹۸﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ  
فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۹۹﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ  
لِلَّذِينَ يَرْتُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ  
أَصْبَنَهُمُ بِدُونِهِمْ وَأَنْطَبِعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَمَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۰۰﴾

يَكْسِبُونَ لیکن تمہو رُوزن سُون پیغمبر اہل، تسز کر کہ مخالفت ہل رٹ اسہ تم تہمز و تموتھہ عملوسبہ  
 أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ کیا تم شرن ہند لو کہ یم توہہ انکار  
 کران تہ نغوز باللہ اپزور زمان چھہ تم چھابے فجر تہ سوکھے سمہ کتھہ نغہ کہ تمین کیا ولتہ سُون عذاب ہجھہ  
 تہ مچھہ رات منزی سمہ ساتہ تم شوکھہ آسن آو امین اهل القرای ان یاتیتھہم باسنا ضحی  
 وَهُمْ يَلْعَبُونَ کیا تم شرن ہند لو کہ چھابے فجر تہ سوکھے سمہ کتھہ نغہ کہ سُون عذاب کیا پیہہ واتھہ  
 تمین نغہہ کاجہہ وقتہ سمہ ساتہ تم گندس سیت آسن مشغول أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ  
 إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ خدایہ سزہ آزمایشہ نغہہ رُوزن نہ سوکھس منز مگر تھے لو کہ تم دون عالمن ہند  
 تاوان رذ آسن۔ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا کیا سموند کورہ واقعاتو  
 ہاوناتھہ تمین لوکن تم سمہ زینک و ارث بنیت چھہ امہ کن بروٹھین لوکن ہندہ گلنہ پتہ یعنی یم  
 موجودہ و قس منز اتھہ ز مینس پیٹھہ بسان چھہ توپتہ چھہ خداوندی احکامن ہنزنا فرمانی کران کہہ ان  
 لَوْ نَشَاءُ أَصْبَنَهُمُ بِدُونِهِمْ وَأَنْطَبِعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَمَا لَا يَسْمَعُونَ کہ ہر گاہ آس یضو آس کرو کہ تم تہ  
 گرفتار عذابس نا فرمانی کرنہ سببہ بروٹھین نا فرمان امتن ہند پاٹھہ۔ واقعی آس تم تھہ واقعات سموسیت  
 ہزہ ہا تمین عبرت رن تہ سبق حاصل کرن۔ مگر اسہ چھہ مبر کر مژ تھندین دلن پیٹھہ ہس چھہہ ہیکان تم  
 بوڑتھے پڑتھہ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا تمین مذکورہ کیون شرن ہند کیونہ مختصر قصہ

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ  
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا كَذِبًا مِنْ قَبْلُ  
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١١٠﴾ وَمَا وَجَدْنَا  
لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ لَفٰسِقِينَ ﴿١١١﴾  
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  
فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١١٢﴾

چھہ اُس بیان کران توبہ یارسول اللہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تھیں آئی تھیں سارنی  
نہ تہندہ پیغمبر مُجْرِبَات تہ نہہ دلیلہ ہیبت مگر تہندہ شرارت تہ ہنہ دھرمی ہنہ کیفیت آس کہہ  
فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا كَذِبًا مِنْ قَبْلُ نہس اون نہ تموا ایمان تھہ تھہ تھہ تموا انکار کورمت اوس گوڈہ  
امہ برو تھہ۔ بلکہ روڈ تھہ انکارس پیٹھ بدستور کَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ تھہ پانھ کیا  
چھو اللہ تعالیٰ کافر ن ہندین وکن پیٹھ مہر کران۔ تہند دل خیرہ نشہ بند کران۔ تموا منزہ بعضی لکھہ آس  
مضیبتہ کہ وقتہ عمد کران ہر گاہ یہ مضیبت اسہ نشہ دور گزہہ اس انوا ایمان وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ  
عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ لَفٰسِقِينَ مگر اسہ لب نہ تموا اندرہ اکثر ن منزہ عہدک کانہ پاس۔  
یعنی مضیبت دور گزہہ آس تم یہ بدستور نافرمانی کران۔ تموا اندرہ اکثر آس نافرمان تہ فاسق ثُمَّ  
بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ فَظَلَمُوا بِهَا تویہ سوز اسہ ہن پیغمبر ن پتہ۔  
یہنہ ذکر سہمہ برو تھہ سہز، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہن آیات ہتھہ فرعونس تہ یہہ تہندین وزیران  
امیران کن تہندہ ہدایت و تبلیغہ خیرہ۔ نہس کور تموا کفر تہ انکار تہن آیاتن فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُفْسِدِينَ نہس وچھو کیاہ ہتھہ انجام سپد تہن مفسدین ہند وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ إِيَّيْ رَسُوْلٍ  
مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرت موسیٰ ان فرمود خدایہ سندہ حکمہ فرعونس نشہ گزہہت۔ اکی فرعون بیشک  
توہ چھوس رب العالمینہ سندہ طرفہ توبہ لوکن کن پیغمبر مقرر کرنہ امت تہندہ ہدایتہ خیرہ حَقِيقٌ عَلَىٰ

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرَعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۴۰﴾  
 حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ  
 مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۴۱﴾ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ  
 بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۴۲﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ  
 فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿۱۴۳﴾ وَنَزَعْنَا مِنَّا آيَةَ الْكُفْرَانِ  
 لِلظَّالِمِينَ ﴿۱۴۴﴾ قَالَ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ فَرَعُونَ إِنَّ هَذَا السَّحِرُ

اَنْ لَا اَقُوْلَ عَلٰی اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ ميڈن شان نبوت چھوای کہ بولا کہ نہ خدا کس کانہ کتھاہ پڑہ تھہ  
 وراي۔ بوجھوس نہ خالی پیغمبر آسک دعوی بوت کران۔ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ  
 بَنِي إِسْرَائِيلَ بلکہ چھوس بوجھوس کن تھہ کن تھہ کن پروردگارہ سندہ طرفہ نہہ دلیلہ نہہ بد مجزہ ہیتھ آمت تم  
 مجزہ تھہہ بوقت طلب ہاوتھہ تہہہ۔ وون یلہہ بوقینا پیغمبر چھوس یہ کنیوہاہ بوجھوس ہونودہ تہہ ماہو۔ تھہ پیٹھ  
 کرو عمل۔ تمو چیز واندہہ چھو کھ چیز کہ آزاد کرن تہہ میون قوم بنی اسرائیل غلامی نشہ۔ تم تراکھہ تم  
 نمکھ بوجھوس سیت ملک شامس کن کس تھوندا اصلی وطن چھو قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ  
 كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فرعون دیکھ ہر گاہ تھہہ نشہ چھو کانہہ نشانہ خدایہ سندہ طرفہ تھہ کن پیغمبر  
 آسکس پیٹھ، سو کرو پیش، ہر گاہ تھہہ بوزونہ و نیواندرہ چھوہہ قَالَ لَقِيَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ اَ تَى  
 ترو تھو پن عصاز میلس پیٹھ تھہہ بنیوہکھ تہہ معکھ اکھ بوجھوس تھہا اکھ وارہ کارہ وَنَزَعْنَا مِنَّا آيَةَ الْكُفْرَانِ  
 لِلظَّالِمِينَ دو تم مجزہ ہو دکھ یہ کہ تھہہ پن کس نالہ کن کوس تل تھو تھہ اوسکھ سوی کو دکھ  
 نہہ۔ اَ تَى اَوسو سارنی لو کن تم وچھان آس، چہ نہ کہہ دن بوزنہ قَالَ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ فَرَعُونَ إِنَّ  
 هَذَا السَّحِرُ عَلَيْكُمْ فرعونہ سندہ قومہ منزہ تم تھہہ نشہ تہہ دربار آس تم لگ پانہ وان ونہہ کہ ہنر پیٹھ  
 یہ (یعنی حضرت موسیٰ) چھو بوجھوس اول جاو گراہ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ قَمَادًا تَأْمُرُونَ  
 یہ چھو واقفی بیٹھان پنہہ جاو کہ زورہ سیت، تھہہ سمہ شہرہ منزہ کڈن۔ لہذا کیاہ

عَلَيْهِ<sup>۱۱۹</sup> يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ<sup>۱۲۰</sup>  
 قَالُوا أَرْجَاهُ وَآخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ<sup>۱۲۱</sup> يَا تَأُوكَ  
 بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ<sup>۱۲۲</sup> وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا  
 إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ<sup>۱۲۳</sup> قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ<sup>۱۲۴</sup>  
 قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ<sup>۱۲۵</sup>  
 قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ

پھو تہند مشورہ قَالُوا دینہ لگ تم فرعونہ سید زھہ زھہ تہشین فرعونس آرجہ وَاخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ اکی فرعون ژہ وہ کینہہ کالاه مہلت حضرت موسیٰ اس بیہ تہندس بایس حضرت ہاروس، تیتس کالس سوزکھ ژہ مختلف شہرن کن ملازم پن، پریتھ طرفہ کین بڈین بڈین جادوگرن سو نبراونہ تہ جمع کرنہ خیطر یَاتُوكَ بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ تہے ملازم دے ایتھہ ساری مملکت ساری زانن وال جادوگر۔ چنانچہ آتھ مشورس بیٹھ سہد اتفاق توپتہ آے سونبر او تھ ائہہ جادوگر۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ توپتہ یلہ ہم جادوگرو ات فرعونس نشہ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ دین لگ فرعونس ہر گاہ اس غالب سہد تلہ آہہ سائہ خیطر ہ بوڈ انعاماہ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فرعونس دوپنکھ انعام گو آتھی تمہہ علاوہ بیو تہہ میناویو مقربو بمنزہ مقرر کرنہ۔ توپتہ یلہ دو ستھہ ساہرا کہ طرفہ، حضرت موسیٰ بیہ حضرت ہارون بیہ طرفہ میدانس اندر مقابلہ کرنہ خیطر ہ سمیای، لوک تماشہ گیرتہ آی بے شمار قَالُوا يَمُوسَى سحر و دوپ حضرت موسیٰ اس اکی موسیٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ یاتراو گوڈہ پن عصایا تراو اس گوڈہ پتہ لورہ تہ زہہ قَالَ أَلْقُوا حضرت موسیٰ ان دوپنکھ تھی تراو گوڈہ کیاہ ہٹھوہ تراون فَلَمَّا أَلْقُوا پس یلہ تموی گوڈہ تراوہ لورہ تہ زہہ پتہ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ سحر کور تموی لوکن ہنزن اچھن تمن آہہ تمہہ لورہ تہ زہہ بوزنہ پریتھ طرفہ سرف تہ کر تموی نظر بندی تھی سیت کھوژہ ناوکھ لوکھ وَجَاءَ وَيُسْعِرُ عَضِيظِيُو بیہ آی

وَجَاءُ وَيَسْحَرُ عَظِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ  
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٨﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٩﴾ فَغَلَبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صُغِيرِينَ ﴿١٢٠﴾ وَ  
أَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودًا ﴿١٢١﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾  
رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٣﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ امْنُتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ  
أُذِنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا الْمَكْرُ مَكْرُتُهُ فِي الْبَيْتَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا  
أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٤﴾ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

تم پندہ گمانہ بود جوداہ تہ سحرہ ہتھہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ اَسْمَہ تہ سوزوی حضرت موسیٰ  
اَسْ کُن کہ ہتھہ تہ تراود حض پُن عصا ز میس پیٹھہ چنانچہ یان تموسو پُن عصا پھر ترودو فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ  
مَا يَأْفِكُونَ تان بیو تھہ بود اثر دہا۔ سم سمہ کُن ہیوت ساجرن ہند سوزوی سحر تہ جود۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ  
وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کس سہ ظاہر پوز۔ بیہ سہ باطل سو سوزوی جود کس تموکورمت اوس  
فَغَلَبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صُغِيرِينَ پس مغلوب سہت ہیوت فرعون تہ تہند قومن تمہ وقتہ واپس  
ژ کُن ذیل ورسو اگہتہ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودًا تراونہ آی جادوگر سجدس قَالُوا تمو ہتو ہدہ  
وَأَنَّ الْمَتَابِرَ الْعَالَمِينَ اَسْمہ کر پڑھ سارنی جان ہندس پان واپس رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ کس  
حضرت موسیٰ تہ حضرت ہارونہ سہتہ رُب محو قَالَ فِرْعَوْنُ فرعون کھو ژ خبر چھاساری رعایا  
ما کرن حضرت موسیٰ سندی دین قبول۔ سو لوگ ساجرن دپنہ امْنُتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أُذِنَ لَكُمْ اکی  
ساجر وکیاہ میانہ اجازتہ ورا ی اُونوہ توبہ ایمان حضرت موسیٰ اَسْ إِنَّ هَذَا الْمَكْرُ مَكْرُتُهُ فِي الْبَيْتَةِ  
لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ پڑپاٹ بیہ ہتھہ اکھ چالاہ یوسہ تہ پانہ وان ملیتھہ چلاوہ

مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳۷﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا  
 مُنْقَلِبُونَ ﴿۱۳۸﴾ وَمَا نُنْقِمُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ امْتَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا  
 جَاءَتْنا رَبِّنَا فَرِعْرَعُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿۱۳۹﴾ وَقَالَ  
 الْهَلَامُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيَفْسِدُوا  
 فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَّكَ ط قَالَ سَنَقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ  
 وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿۱۴۰﴾ قَالَ مُوسَىٰ

یہ شہر اندر تھو امہ شہرہ منزہ اتک لو کہ کڈ تھ بیکیو کہ۔ وون سپدہ توبہ معلوم توبہ کیاہ بنر اووہ یڈ  
 لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ بوز پھہ ضرور توبہ کہہ طرک  
 اتھ، بیہ طرک کھور۔ تویہ و مووہ پھہہ نہہ ساری قَالُوا جاؤ گرو تم با ایمان آس سپد مت پورہ  
 پاٹھ دُوہس کا نہہ پروا چھونہ۔ آس گھونہ مر تھ گنہ خراب جایہ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ بلکہ واتو  
 آس پنہ نس پروردگار س نشہ۔ بیتہ آسہ امن و راحت واتہ وَمَا نُنْقِمُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ امْتَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا  
 لَمَّا جَاءَتْنا تھ چھو کھنہ آسہ اندر کا نہہ قصور تہ عیباہ لبان مگر یوہے کہہ آسہ کیاہ کر پڑھ پنہ نس خدایہ  
 سندین احکامن یلہ آسہ نشہ تم نشانہ واتہ۔ یہ چھونہ کا نہہ عیباہ نہ کا نہہ جرماہ رَبِّنَا فَرِعْرَعُ عَلَيْنَا صَبْرًا  
 وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اکی سانہ پروردگار آسہ منز تراو تھ سیٹھاہ صبر یٹھ آس فرعونہ سند تکلیف برداشت  
 کر تھ بیگو۔ بیہ مار تھ آسہ مسلمان۔ فرعونے آسہ پیٹھ تختی گرہ یٹھ نہ آس پریشان سپدو۔ یٹھ نہ سانس  
 ایمانس منز کیہہ خلل واقع سپدہ وَقَالَ الْهَلَامُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيَفْسِدُوا  
 فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَّكَ بیہ یلہ حضرت موسیٰ سندیہ یوڈ مچرہ لو کو وچھ کہہ ساحر و تہ اولن ایمان  
 بعضی لوک تہ سپد تمین سیت متفق۔ تمہ وقتہ ون فرعونس پنہ قومہ کیوز ٹھیو ای فرعون کیاہ تھ تراو نہ  
 یلہ حضرت موسیٰ تہ تھند قوم یٹھ تم تباہی تہ بر بادی تکلن یٹھ ملکس اندر بیہ تراون چان پر سٹش تہ  
 چائمن معبودن ہنز پر سٹش کران۔ قَالَ سَنَقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ

لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ  
يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۷۸﴾  
قَالُوا أَوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا  
قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي  
الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۷۹﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ

قَهْرُونَ فرعون و دوحہ بانبر و مہ نہہ اس مارو کہ بیہ تہند پتو تہند تہند زور زیادہ ہیجہ سید تھ زندہ تھا  
ووکہ زنانہ تہنزہ۔ کیا زہ زنانہ ہند چھونہ کانہہ خطرہ۔ بیہ لگن تمہہ خدس تہ کامہ کوچہ اسہ چھو تمن پیٹھ  
پورہ غلبہ حاصل۔ امیک اطلاع یلہ بنی اسرائیل ووت تم گے سخت پریشان۔ تمو ہنہ اچ چارہ جوئی ژھا  
نڈن حضرت موسیٰ اس نشہ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا حضرت موسیٰ ان  
فر مو پنے نس قومس مدد منگو خد اس بیہ کرو صبر بانبر و مہ کینہہ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰہِ یُورِثُهَا مَنْ یَّشَاءُ  
مِنْ عِبَادِہٖ ہز پات یہ زمین چھو سو روی خدایہ سدوی امیک وارث کرہ سوتس بس برٹھ پنے نیو  
ہند و اندرہ۔ کنہہ کالاہ وٹن فرعونس مگر وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ آخر چھہ کامیابی تمن تم خد اس کھو ژہ  
وَنَآسَن نَہہ روزہ و مستقیم ایمان و تقویٰ اس پیٹھ۔ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یشہ یہ سلطنت کرہ تو ہی عطا  
قَالُوا اَوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيْنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا حضرت موسیٰ اسہ و ہجہ  
ہیشہ مصیبتھی مصیبت۔ اسہ آو سخت تکلیف دنہ تہندہ ہینہ بروٹھ تہ تہ توہمہ پتہ تہ۔ توہمہ بروٹھ آئی سان  
بے شمار لوکت مارنہ۔ وون چھو سوئی تجویزیہ کرنہ یوان۔ آخر ہنہ کیاہ وون۔ قَالَ حضرت موسیٰ ان  
دچھہ تسلی فرموونکہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ  
تَعْمَلُونَ مہ ہجہ امید کہ عنقریب کرہ تہند پروردگار تہندس دشمنس ہلاک۔ بیہ کرہ تو ہی سمہ ملج  
پادشاہت عطا۔ تو پتہ و ہجہ سو تہہ کرہہ گوم کرو و لَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْيَمِينِ وَنَقِصْ  
مِنَ التَّمْرِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یلہ فرعون تہ تہند قومس انکار و مخالفس پیٹھ کر



فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۳﴾  
 فَاِذَا جَاءَتْهُمْ الْحُسْنَىٰ قَالُوۡا لَآئِهٖ هٰذِهِۦ ۗ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيۡئَةٌ  
 يَّطۡيَرُوۡا بِمُوسٰى وَمَنْ مَّعَهُۥ ۗ اَلَا اِنَّمَا ظَنَرُوۡهُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ  
 وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمۡ لَا يَعْلَمُوۡنَ ﴿۱۴﴾ وَقَالُوۡا مَهْمَا تَاۡتٰنَا بِهٖ  
 مِنْ اٰیَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَاِنۡمَّا نَحْنُ لَكَ بِمُؤۡمِنِيۡنَ ﴿۱۵﴾ فَاَرْسَلْنَا  
 عَلَيۡهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰیٰتٍ

گوئند آسہ کور بیتلا فرعونہ سند خاندان قحط سالی سیت۔ یہی میون ہندہ نقصانہ سیت۔ ہتھ تم تم تمی سیت  
 نصیحت رٹن۔ پائس پین تہ پرتھ قبول کرن۔ مگر تمن سہند نہ تمہ سیت کانہہ اصلاحاہ۔ بلکہ سہد جہو  
 ند حال کہہ فَاِذَا جَاءَتْهُمْ الْحُسْنَىٰ قَالُوۡا لَآئِهٖ هٰذِهِۦ اودہ بلکہ تمن خوبیاہ واتان آس دپان آس یہ آیہ سانی  
 خیطرہ۔ اتھ سزوار آس آس آس جھناؤیکہ بڈتہ خوش قسمت۔ یہ آس نہ تم کران کہہ خدایہ سز نعمت  
 زاتھ دپہ ہنس شکر توپتہ کرہ ہن اطاعت تہ فرمانبرداری قبول وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيۡئَةٌ يَّطۡيَرُوۡا بِمُوسٰى  
 وَمَنْ مَّعَهُۥ توپتہ ہر گاہ کانہہ بد حالیہ، قحط سالیہاہ ولتہ ہتھ۔ تھ آس دپان یہ واژ حضرت موسیٰ یہی  
 جہندین بیرون ہندہ شامتہ تہ نحوست۔ اَلَا اِنَّمَا ظَنَرُوۡهُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ وارہ بوزو جہندہ نحوستک اسباب جہ  
 خدایہ سندس علمس منز موجود وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمۡ لَا يَعْلَمُوۡنَ مگر تموا اندرہ جھندہ اکثر لوکن گج خبری۔ تم  
 اسباب گئے تہزہ ہر چہ کامہ سرکشی تہ ظلم۔ یہی بغاوت تہ شرارت۔ سو نحوست آسکہ تمہ گوی سز۔  
 وَقَالُوۡا مَهْمَا تَاۡتٰنَا بِهٖ مِنْ اٰیَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَاِنۡمَّا نَحْنُ لَكَ بِمُؤۡمِنِيۡنَ تمہ علاوہ آس تم دنان کہہ  
 اکی موسیٰ ڈیٹھ کیتھ اتھو جہہ ائمہ لٹہہ کانہہ عجیب مہجراہ، یہی سیت جہہ آسہ پیٹھ سحر تہ جو دکر دپتہ خیالہ۔ مگر  
 آسہ پیٹھ تمیک اثر یہ نہ کینہہ۔ تو تہ انونہ آس توہہ پیٹھ ایمان ہر گز۔ بس یلہ جہن سرکشی اوت پیٹھ واژ  
 فَاَرْسَلْنَا عَلَيۡهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰیٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ بس سوزہ آسہ تمن  
 پیٹھ قحط سالی تہ میون اندر نقصانہ علاوہ سمہ سمہ بلاہ، اکھ کثرت بارشہ ہند طوفان تہ سیلاب بس تمن

مُفْصَلَتٍ فَتَاسْتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَلَمَّا  
 وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِمُوسَى اذْعُرْنَا رَبِّكَ بِمَا عٰهَدَ  
 عِنْدَكَ ؕ لَئِن كُنْتُمْ عَمَّا الرِّجْزَ لَأَنُومِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ  
 مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۳۹﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى  
 أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذْ هُمْ يُنْكثُونَ ﴿۱۴۰﴾ فَانْتَقَبْنَا مِنْهُمْ

گھر ن اندر ٹھہرین منر ووت۔ یہ سوز اسہ تمن کن ہالو۔ سمو جھند سوزوی زراعت تباہ و بر باد کور۔ یہ سوز  
 اسہ تمن کن کریل تہ تکیم سمو جھند سوزوی غلہ ٹیس تموز خیرہ کور مت اوس تباہ کور۔ یہ سوزہ اسہ تمن کن  
 نبر مونڈجہ۔ سمہ کھینہ کین تہ چنہ کین چیز ن منز آسکھ و سان تہ پھیران یہ خون ٹس تریشہ بدل  
 چوان آس۔ آس اوسکھ خون بنان۔ تہ واریاہ نشانہ تہ واضح مچرہ۔ سم ستوے مچرہ تہ یہ عصاء تہ بد  
 بیضاء گئے نو مچرہ ساری۔ سم مچرہ و پھتھ ہڑہ ہا تمن ایمان اُن تہ پڑہ کرن مگر فاستکبروا و کانوا  
 قوماً مجرمین کور تمو مچرہ۔ در حقیقت آس تم جرائم پیشہ۔ ایش سختی و انتھ تہ آی نہ سم سرکشی نشہ باز  
 وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِمُوسَى اذْعُرْنَا رَبِّكَ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ ؕ یلہ تمن سمو عذابو آندرہ  
 کانہ عذابہ و اتان اوس تمہ ساتہ آس و نان اکی موسیٰ سانہ خیرہ معو پنے نس خدا ٹس سمیوک تم توہیہ  
 سیت وعدہ کور مت پھوکہ ہر گاہ تم نافرمانی نشہ بازین تلہ گرو آس تمن نشہ سختی تہ عذاب دور۔ لکن  
 كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَأَنُومِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؕ آس جھہ قسم ہاتھ و نان کہ  
 ہر گاہ یہ عذاب اسہ نشہ دور کرو، ضرور گرو آس توہیہ ہلاہ۔ یہ سوزو کہ آس آزاد کر تھہ بنی اسرائیل توہیہ  
 سیت فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى  
 أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذْ هُمْ يُنْكثُونَ ؕ تمن نشہ عذاب تھہ و قس تان۔ تھہ و قس تان تمن و اتان اوس۔  
 اُتی آس تم سو عمدیہ پھڑ وان۔ تمہ پتہ یلہ اسہ و جھہ تم جھنہ پنے شرارہ نشہ باز یوان فَانْتَقَبْنَا  
 مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ؕ ٹس ہیوت اسہ تمن انتقام سمہ طریقہ کہ پھاٹو اسہ تم دریای قلزمس اندر

فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ يَانْتَهُمُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا  
 غَافِلِينَ ﴿۱۳۰﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ  
 مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ  
 رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا  
 مَا كَانَ يُصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿۱۳۱﴾  
 وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ  
 عَلَىٰ آصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ

يَانْتَهُمُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اُمی موكهه كه تمبو كيا زان سان آيات اہز۔ بيه آس سانيو  
 آياتونشہ تغافل تہ بے توجہی کران اصرار و عنادہ سیت۔ اطاعت و فرمانبرداری ہند وعدہ کر تھہ آس  
 سو وعدہ پھندہ روادان وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي  
 بَرَكْنَا فِيهَا فرعون تہ تھند قوم ہلاک کر تھہ بنا واسہ وارث تم لوکھ تم کمزوریوان آس زاننہ تمہہ ملکہ  
 کہ مشرقی حصک تہ تہ مغربی حصک تہ۔ بیٹھہ ملکہس اندر اسہ ظاہری و باطنی برکت تھاموثر آس۔  
 وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا بيه سپد پورہ نیکی ہند رت وعدہ بنی  
 اسرائیلن سیت تھندہ صبر کریمہ برکتہ دَمَّرْنَا مَا كَانَ يُصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ  
 بيه کوراسہ تباہ تہ سوزوی بيه تیار کران اوس فرعون تہ تھند قوم۔ یعنی تھند کارخانہ بيه بيه تم تمن کارخان  
 اندر تیار کران آس۔ بيه تم تھند تھند مکانہ تم بنا کران آس۔ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا  
 عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ آصْنَامٍ لَهُمْ بيه تاردریای قلزمس اپوراسہ بنی اسرائیل بیٹھہ منز فرعون  
 ساری لشکر ہیتھ پھاٹو۔ پس پک تم اس قومس کن تم پندہ پن پوتلین بروٹھہ کنہہ پر سٹخہ خپترہ بہتھہ آس  
 قَالُوا يَمُوسَىٰ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ تھنہ لگ (تم بنی اسرائیل) اکی موسیٰ سانہ خپترہ تہ

إِلَهَةٌ ط قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿۱۳۸﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمَاتُهُمْ  
فِيهِ وَبِطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾ قَالَ أَعْبِرُوا اللَّهَ أَبْغِيكُمْ  
إِلَهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ  
فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتَلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ  
يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۱۴۱﴾

کرو مقرر ا کہ پوٹا ہ۔ ہتھ پاٹھ سمن لوکن چھ واریا ہ پوٹل بروٹھ کنہ۔ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ حضرت  
موسیٰ ان فرمود کہ پڑھا چھوہ تہہ سخت جاہل قوم۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمَاتُهُمْ فِيهِ وَبِطِلٌ مَّا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ پڑھا تم لو کہ ہتھ کامہ سیت لگمت چھہ، یہ سوڑوی چھو تباہ گڑھ وں۔ یہ چھو باطل تہ لغوتہ  
سوڑوی یہ تم کران چھہ شرکو کا میواندرہ۔ قَالَ أَعْبِرُوا اللَّهَ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ  
حضرت موسیٰ ان فرمود کہ کیا ہو ژھانڈنہ معبود برحقس ورا ی تہندہ خیطرہ یا کہ معبودا ہ۔ حالانکہ  
توحید چود لیلو علاوہ چھو تہندہ محسن تہ معمم سوی، تمی معبود برحقن دتوہ توبہ فضیلت سارنی عالمین پیٹھ  
وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان کی بنی اسرا نیلو یہ پاووتہہ ژتیس یلہ اسمہ  
نجات دیت توبہ فرعونہ سہر یولو کونشہ یسومونکم سوء العذاب تم توبہ و اتاوان آس سخت تکلیف  
تہ عذاب یقتلون ابناءکم تم کھش کران آس بے دریغچوین تہندین و یستحیون نساءکم  
زندہ آس تھاوان زنانہ ہنزن بیگاہ تہ خدمتہ خیطرہ و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم اتھ منز آس  
تہند خیطرہ ہڈ آزمایش تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ۔ امہ ورا ی تہ آس توبہ پیٹھ خدلیہ سند گم احسان  
مگر توبہ تھو و ہ نہ کانہ احسانہ ژتیس۔ تہہ سپدوہ آمادہ شرکس پیٹھ۔ بہر حال یلہ بنی اسرا نیل ساروی  
پریشانیو نشہ آزاد سپد، تمکو کوردر خواست حضرت موسیٰ اس کہہ وون کرو ہز مقرر سانہ خیطرہ اکہ  
شریعتھاہ اسمہ موجب آس بفر اغت عمل کرو حضرت موسیٰ ان کور تمیک درخواست اللہ تعالیٰ آس تھہ  
متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان و وعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ و اتسمنہا بعشرہ یہ کور اسمہ وعدہ حضرت

وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّمْنَا بَعَثِ فَتَمَّ  
 مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ  
 هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ  
 الْمُفْسِدِينَ ﴿۳۲﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ  
 رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ ۗ قَالَ لَنْ نُرِيَنَّكَ وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَىٰ

موسىٰ اس ترهن شمن روزو کوه طورس پيٺه اعتکافس۔ بيه روزو تمن دوئن روزه دار۔ اده کروده اس عطا  
 تو به تورات۔ تو پته کره نوو سواسه پوره تم تره (۳۲) دوه بيه دوه (۱۰) دوه سیت فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ  
 أَرْبَعِينَ لَيْلَةً کس پورته مکمل سپد سمبدرس پروردگار سپد مقرر کر نه اُمت وقت تز تجه (۳۲) راژ۔ یعنی  
 تز تجهن راژن عبادت تز تجهن دوئن روزه دار روز ته کور تمو ملاقات خد ائس سیت کوه طورس پيٺه، تبته  
 ملاقاتس منز کور که الله تعالیٰ ان بن کتاب تورات عطا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي  
 فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ بيه سمه سانه حضرت موسیٰ کوه طورس پيٺه ینه  
 خيبره دراه سمه وقت فرمو و تمو برادر س پنه نس حضرت هارونس ژه سپد خليفه ميان ميان قومه  
 خيبره۔ بيه يوت پلي تبوت کرزه قومس اصلاح۔ بيه مٺهنه چککه مضيدان هنزه وٺته بد نظمی کره وئتن هنزه  
 رایه موجب کر نه عمل وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا اته واقص اندر يله حضرت موسیٰ آو سانه  
 ملاقاته خيبره وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ تمن سیت کره واریاه لطف و مهربانی هنزه کته هته پروردگارن۔ شدت  
 انبساطه سببه سپد که شوق ویدار لذت گفتار حاصل سپد کور که تمی لذت ویدارک در خواست  
 قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ حضرت موسیٰ ان کور عرض اکی ميانه پروردگار مه هاته پنن ذات پاک،  
 یووچه هت ژه قَالَ لَنْ نُرِيَنَّكَ اللهُ تعالیٰ ان فرموس ژه بیککه نه مه وٺته دُنیا س اندر کیا زه  
 سمه اجهه اُن نه تاب ميانه ویدارک دُنیا س اندر وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ مگر هتهه تسلی خيبره  
 هٺهو سون تجویرمه هته دیو نظریته کوهس گُن۔ اس تراووتته پيٺه پنن اکه پرتواه فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ

الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِينِي فَلَمَّا تَجَلَّى  
رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ  
قَالَ سُبْحٰنَكَ بُدِّئْتُ بِإِيكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۳﴾  
قَالَ يُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَ  
بِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۴﴾ وَكَتَبْنَا  
لَهُ فِي الْأَوَّارِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ

فَسَوْفَ تَرِينِي جس ہر گاہ یہ کوہ پتھر جالیہ برقرار نہ ڈنجر رود۔ تیلہ شاید ہیجو ہتھ مہہ و ہتھتھہ چنانچہ حضرت  
موسىٰ زوداتھ کو بس گن و چھان فلکما تجلئ ربہ للجبیل جعلہ دکا و خر موسیٰ صعقاً جس یلہ  
جلوہ ترود حضرت موسیٰ سہر پروردگارن کوہ طورس پیٹھ تم جلون کورتھہ کو بس ٹس تو پتہ گیس چھلہ  
حضرت موسیٰ پو بیہوش سپد تھہ پتھر و ستھہ فلکما افاق قال سبحانک تبت ایلک ادہ یلہ ہوشہ آی  
حضرت موسیٰ، عرض کوزکھ، واقعی چھو چون ذات پاک سہمو اچھوسیت و ہجھنہ نشہ منرہ تہ پاک۔ اکی  
میانہ پروردگارہ یو چھوس چانس خدس اندر امہ مشتاقانہ درخواست کرنہ نشہ معذرت منگان  
وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ یو چھوس چانس ارشاد کن ترانی جس پیٹھ گوڈہ بھوی پڑھ کرہ ون  
قَالَ يُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَ بِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ  
فر موسیٰ اللہ تعالیٰ ان اکی موسیٰ۔ یہ چھو سیٹھاہ تہندہ خیطرہ کہہ ہز پاتھ مہہ کوزکھ ژہ برگزیدہ لو کو اندر  
پتھرہ پیٹھری سیت بیہ پتھرہ کلامہ سیت۔ جس رٹ ژہ بیہ مہہ ژہ عطا کوروی۔ بیہ آس ژہ شکر گزار بندو  
اندرہ۔ وَ كَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَوَّارِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بیہ دت اسہ لیکت کیون چن پیٹھ پریتھ چیزاہ تیج  
دیس منز ضرورت آس مَّوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ یوسہ بد نصیحت ہتھہ بیہ ہتھہ منز پریتھ  
چیزک بیان و یرھہ ناوتھہ چھو فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ جس کرو پانہ تہ امہ موجب عمل کوشٹہ سان وَ أَمْرُ  
قَوْمِكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسِنَهَا بیہ کرو ہم پتھہ نس قومس کہہ تم تہ رن اچہ رتھہ رتھہ کتھہ تہ رت رت

شَيْءٌ فَخَذَهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرُ قَوْمِكَ يَأْخُذُ وَإِيَّاهِمْ سَأَوْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۳۵﴾ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا

ہدایات تھے منزہو سوروی رُتوی سَأَوْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ عنقریب ہا وہ بُو توہرہ نافرمان ہندگرہ۔  
 اتھ منزہہ بشارت تہ وعدہ کہ بُو اتناو وہ جہہ مصرس یا شامس اندر تہج سلطنت کرووہ عطا۔ خدایہ سزہ  
 فرمانبرداری ہند چھہ سبب فائدہ نافرمانی تم کرن تہندہ خیطرہ چھو سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ الَّذِينَ  
 يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ عنقریب پھر کہ بُو پنے نیو آیا تو شہ قدرتہ کیونشا نو شہ تم لو کہ تم  
 محکمہ کران چھہ زمیں منزہ حق۔ یعنی تم سپدہ نہ آیا تو تہ مجر و سیت کا نہ اثرہ۔ دلن ہنزہ قساوت و  
 شقاوت سببہ ولن یَرَوْا كَلِمًا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ہر گاہ تم وچھن ساری آیات تہ مجرات تو تہ کرن  
 نہ تم پڑھ۔ ہنزہ ذہنتھی چھہ عجیب وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ہر گاہ تم بدانتی و تھ  
 چھہ و چھان تمہ و تہ چھہ تم مکن ہیوان وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ہر گاہ گمراہی ہنزہ  
 کا نہ و تھہ و چھان چھہ تمی و تہ چھہ مکن ہیوان یہ چھو علامت دلن ہندہ مسخ سپد تک ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ یہ حالت بنے یہ تم ای سببہ تم آس محکمہ سببہ اہر زانان  
 سائین آیات یہ آس تم مکن آیاتن اندر غور و فکر کرنہ بغیر بالکل غافل۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
 وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ یہ سمولو کوسان آیات تہ اسہ سیت ملاقات کرن آخرتس اندر  
 اہر زون، تھہ کور کہ انکار، ہنزہ سارے عملہ تم ہندہ نفع تہ فایدہ نفع تم نئید آس گیہ ضائع  
 هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تم ایہ نہ سزا نہ مگر تمکو یہ تم کران آس، مقرر و انکار تہ

بَايْتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْرُونَ  
 إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۷﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ  
 حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلَهُ خُورًا أَلْمُرُوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّهُمْ  
 وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوا وَهًّا وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَلَمَّا  
 سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن  
 لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۳۹﴾

نافرمانی ہند سزا خجوا ای وَاَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلَهُ خُورًا یلہ حضرت  
 موسیٰ کو ہ طورس پیٹھ تورات اُنہ خیطرہ گئے۔ تہند قومن بنو تم ن پتہ پنہ نس تہہ گہنس نِس تمبو قبطین نشہ  
 خاندکرہ ہمانہ معجت اوس او نمٹ اکھ ووژھاہ۔ نس لگ کر نہ پر ستش۔ تمسنز حقیقت آس صرف یہی ہم  
 سو اوس بدناہ اکھ ہمہ منز گا وہ ہنز آواز نیران آس، بیہ اوس نہ تہہ منز کانہہ کملاہ ہمہ سیت تہندہ  
 معبود آسنگ کانہہ عاقلس خیال گڑھہ ہا۔ اَلْمُرُوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا تمبو کو نہ  
 سناؤ چھ ہتھ تھہ گن کہ سو اوس نہ انسان سندیوت نہ کمال پانس منز تھاوان۔ یعنی سو ووژھہ اوس نہ تم ن  
 سیت کانہہ تھہ ہیکان کرتھ نہ اوسکھ دینچ یا زنیاء ہج کانہہ و تھہ ہیکان ہاوتھہ اِتَّخَذُوا وَهًّا وَكَانُوا ظَالِمِينَ  
 یوہے ووژھہ زون تمبو معبود ہنن، آس تم یہ کر نہ سیت پنہ نس پانس ظلم کر وہ نیو آندرہ و لَمَّا سَقَطَ  
 فِي أَيْدِيهِمْ حضرت موسیٰ سہدہ کو ہ طورہ پیٹھہ واپس بنہ پتہ یلہ تمبو اتھ پیٹھہ تہنیہ کور تم گے سیٹھاہ شرمندہ  
 نادوم تہ ہیشمان اتھ پیٹھہ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا زون تمبو کہہ واقعی تم چھہ بالکل ڈلت، گرا ہی اندر ہی مت  
 قَالُوا آتَىٰ هَيْبَتُهُ نَدَامَتَهُ كُنْ وَن لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہر گاہ  
 نے رحم کر ہ آسہ پیٹھہ پروردگار سون۔ بیہ نے سو آسہ ہتھہ شہنس مغفرت کر ہ تلہ سپد و اس بڈیو تاوان زدو  
 آندرہ و لَمَّا رَجِعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا تو پتہ یلہ واپس آی حضرت موسیٰ پنہ نس  
 قومس گن سیٹھاہ ژکھ ہت، سخت غمگین قال فر مو کہہ قومس پنہ نس گن گوڈہ ہَسْبًا خَلَفْتُمُونِي مِنْ



وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْمَلْتُمْ أَمْرًا رِّبِيًّا وَقَلْتُمُ الْإِلَٰهَ وَآخِذْ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ۗ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۵﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي وَ ادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿۱۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

بَعْدِي سِيخَاهُ پتھہ حرکتھاہ کروہیہ توبہہ مہ پتہ اَعْمَلْتُمْ اَمْرًا رِبِيًّا کیاہ بانہز کروہ تہہ پنہ نس پروردگارہ سُنْد حکم واتنہ برو نٹھی بوی تہنہہ خپترہ احکام انہ نے کوہ طورس پیٹھ گومت اوس وَالْقَى الْاِلَٰهَ وَآخِذْ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ توپتہ پھیر حضرت ہارونس کن گوڈہ تھاوکیہ تمہ ہجہ سمن پیٹھ تورات لیجھت اوس پتھر زورہ سان۔ اتھ زہ خالی کر تھ روٹھ توپتہ پنہ نس باہی سُنْد حضرت ہارونہ سُنْد کلہ نس لگ مستہ رٹھ پانس کن لمنہ دوپھس توبہہ کیاہہ کوہ وہ نہ قومک پوزا نظام قَالَ ابْنَ اُمَّ حضرت ہارون دوپٹھہ اکی میانہ ماجہ ہند پوتھرہ، یعنی اکی میانہ باہیہ مہ کرے یہ پنہ طرفہ سیخاہ کوشش سم پتھہ زہنہ خپترہ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي لیکن سمولو کو زونس بو کمزور میان نصیحت کرن آس نہ تمن شریان ہتھ منز تموہ ہیووس بو ماژن فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ نس مہ کر کہ مہ پیٹھ ہاتھ پھراونہ سیت دشمن خوش وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ بیہ مہ سیت اُمہ قسمک برتاو کرنہ سیت مہ گزرو مہ ظالمنہ تہ مجر من سیت نہ گیوہر گاہ مہ تم پتھ رٹس اندر کوتاہی تہ سستی کر مٹا آہہ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي حضرت موسیٰ ان مونگ خدا ایس اکی میانہ پروردگار مغفرت کر مہ بیہ میانس بایس سون خطا کر معاف وَ ادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اَسہ دوشون واتاو پنہ نس خاص رخصس منز۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ژہ ہتھو کہ ساروی اندرہ یژرم کرہ ون۔ اَسہ ہتھہ سیخاہ امید ژہ کر کہ سون دعا قبول۔ اللہ تعالیٰ ان فرمود تمن لو کن متعلق سموو ژرٹھس ہر سٹش کر إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ هِز

العجل سينا لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا  
 وكذلك تجزي المفتريين ﴿١٥٧﴾ والذين عملوا السيئات ثم تابوا  
 من بعد ها وامنوا ان ربك من بعد ها الغفور الرحيم ﴿١٥٨﴾  
 ولتاسكت عن موسى الغضب اخذ الألواح وفي نسختها  
 هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ﴿١٥٩﴾ واختار موسى

پاڻھ سمو لو کو بنو سامری سُد وُوژھ مَن مَعْبُود۔ اگر نہ دسہ تہ تم توبہ کرن سينا لهم غضب من ربهم  
 وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تله وِسہ عَنقريب تمن پيٹھ غضب تہ بيزاری۔ تہندس پروردگارہ سندہ  
 طرفہ۔ بيہ تمہ علاوہ خوارى تہ رسوائى دُنياچہ زندگانی اندری۔ بيہ چھنہ تہنزی کينبہ خصوصيتاہ  
 وَكَذَلِكَ تَجْزِي الْمُفْتَرِينَ بلکہ جھہ اَس اٹھوی سزاووان الہز ٹھہراوہ وین کہ دُنياسی منز جھہ اَس تم  
 ذلیل و خوار کران۔ کانہ فوراً کانہ پتہ مَن وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا بِرَبِّهِمْ  
 تم لو کہ سمو چھہ کامہ کرہ مثلاً وژھ سبز سٹش، توبتہ کورُک توبہ بيہ اُونجھ ايمان گھر تراوتھ رانق  
 رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ہزپاٹ تہند پروردگار چھو بندن ہندہ توبہ کرنہ پتہ تہندس غمگن ضرور  
 مغفرت کرہ ون۔ بيہ تہندس حالس پيٹھ رحم کرہ ون وَكَانَتْ عَنْ مُوسَى الْعُغْصُ بيلہ اَدہ  
 حضرت موسى ان حضرت ہارونہ سزبہ مَعذرت بوزرکھ تہ چھہ اخذ الألواح تھہ تمہ پچہ مَن پيٹھ  
 تورات ليکھتھ اوس وَفِي نُسخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ درحاليچہ تمہ کس تحریرس  
 منز اوس بوڈ ہدایت تہ بذرحت تمن لو کن ہندہ خيترہ تم پنہ نس پروردگار س جھہ کھوژان۔ مُراد چھو  
 تمہ اندرہ تھک تم احکام تمن پيٹھ عمل کرنہ سیت شخص چھو ہدایت ياب سپدان۔ رتس اُميدوار  
 سپدان۔ يلہ وژھہ سُدقہ ختم سُد تہ حضرت موسى ان ہيت تورا تک اَدکام اطمینانہ سان لو گن واتا دن۔  
 مگر تمن لو کن یعنی بنی اسرائیل اوس عادت کہ تم آس پریتھ تھہ پيٹھ شہات پیش کران۔ چنانچہ  
 اتھ موقعس پيٹھ تہ کور تمویہ شہہ پیش کہ اَسہ تھہ پاڻھ سپدہ یقین کہ تم احکام کیا چھہ واقعی اللہ تعالیٰ

قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّبِقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ  
لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَآيَايَ أَتَهْلِكُنَا بِفَعْلِ السُّفَهَاءِ  
مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ  
تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٨﴾

سیدی احکام۔ اسیہ تیر و ن پانہ اللہ تعالیٰ تجھ اسیہ پورہ یقین سپدہ چنانچہ حضرت موسیٰ ان کرہ اللہ تعالیٰ  
اس نشیہ یہ کتھ پیش تورہ سپد کہ کھم سموی بنی اسرائیلو آندره کر یو کہ منتخب کینہہ لو کہ تمے ائیو کہ پانس سیت  
کوہ طور س پیٹھ۔ یوونہ تمن پانہ کہ واقعی چھہ سم میان احکام تو پتہ آوتہمہ خیطرہ اکھ وقت مقرر کرنہ  
وَإِخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّبِقَاتِنَا چنانچہ ژارہ منتخب کر حضرت موسیٰ ان ستھہ (م) زن  
پنہ قومہ منزہ سانس مقرر کر قس و قس پیٹھ اسیہ نشیہ انہ خیطرہ چنانچہ توت و اتھہ یوز تمو خدایہ سند  
کلام۔ خدایہ سند کلام یوز تھہ لگ ونہ اسیہ کتھہ پاٹھ بہنہ کہ یہ چھو خدایہ سندوی کلام لہذا ایو تان نہ اسی وارہ  
کارہ پنہ نیوا چھو اللہ تعالیٰ و چھن توتان گرونہ اسی پڑھ امہ گستاخی سببہ آوتنہ بئیل۔ ہر کن چکھہ ترٹھ۔  
ساری گئے تھی روز تھہ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ اودہ یلہ تم بنی اسرائیل رب بطل قَالَ رَبِّ حضرت  
موسیٰ ان کور عرض اکی میانہ پروردگارہ مہ چھو معلومی کہ تمن لو کن چھو سزا دین منظور، ہلاک کرن  
مقصود، چھونہ کیا زہ کوشِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَآيَايَ ہر گاہ ژیہ تہ منظور آسہی تلہ کرہ بچھہ ژہ  
برونٹھی تم ساری ہلاک۔ مہ تہ کرہ ہک ہلاک تمنی سیت اَتَهْلِكُنَا بِفَعْلِ السُّفَهَاءِ مِنَّا سچاژہ کر کہ  
کیونہ احمقن ہند کہ حرکتہ سیت اسیہ ساری ہلاک اِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ یہ واقعہ چھونہ مگر چان اکھ آزما بچاہ  
تہ امتحانہ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ تنہیہ اجتوا سیت ہم ژیہ خوش کرہئے تم کرہ بچھہ  
گمراہ ہم ژیہ خوش کرہئے تم تھاو بچھہ ہدایتس پیٹھ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ  
ژی چھو کہ سون مالک پس کر ژہ اسیہ مغفرت۔ اسیہ دہ معافی۔ بیہ گر اسیہ پیٹھہ رحم۔ ژی چھو کہ رت  
مغفرت کرہ ون تہ گنہن مغفرت کرہ و نیوا آندره سیٹھاہ بہتر۔ بنی اسرائیلو آندره سمویہ گستاخی کر تمن تہ  
دہ معافی۔ چنانچہ تم ساری گے بیہ زندہ اتھہ دُعاء س سیت گمراہ حضرت موسیٰ ان یہ بیا کہ دُعاء بنی

وَكَتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا  
 هُدُنَا إِلَيْكَ ط قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي  
 وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْتُمُهَا الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ  
 الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝ آ الَّذِينَ  
 يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا  
 عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

اسرا ایکن ہمدہ حقہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ یہ لیکھ سائے خیطرہ دُنیا س  
 اَندرتہ رت حال یہ آخرتس اندرتہ رت حال اِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ کیا زہ پزناٹ اَسہ کور خلوصہ سان  
 ژے کُن رَجُوع۔ دُنیاو آخرتک خیر ژھونڈ حضرت موسیٰ ان پتہ ائمہ خیطرہ۔ اَمہ اَندرہ اوس تہند  
 مقصد کہ میانی اُمت کرتن سارنی اُمتن ہنز سردار تہ مافوق قَالَ اللہ تعالیٰ اَن فرمود کہ عَذَابِي  
 أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ میون عذاب تہ غضب لیس چھو سوا اتا وہ بوتس لیس یو پڑھ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ  
 كُلَّ شَيْءٍ میان رحمت چھ تیو عام۔ واتھ چھ سو پرتھ چیزس فَسَاكُنْتُمُهَا ساروی اَندرہ کرن بو تہ  
 رحمتہ سیت خاص سوی اُمت یہ لیکھ یو سور رحمت تمنی لوکن ہمدہ خیطرہ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ  
 الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ سم خدا بس کھو ژن۔ یہ آسن مانج زکوٰۃ دو ان۔ یہ سم  
 آسن سائین آیاتن پڑھ کران یعنی تمکن ہمدہ اعمال و افعال و اعتقادات دُرست آسن۔ اتھ منز اوس احتمال  
 کہ یہودن اَندرتہ مانیرہ ہن بعض اشخاص تمکن پیٹھ یہ تعریف صادق یہ ہا۔ اللہ تعالیٰ ان فرمود مزید  
 توضیح خیطرہ کہ اُمت چھ حضرت پیغمبر آخر الزمانہ سزی اُمت۔ یمن خیریت دُنیاو آخرت اللہ تعالیٰ  
 ان عطا کور آ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ تمن لوکن یم پتہ پتہ آسن پکان، متابعت آسن  
 کران تس پیغمبرس، لیس رسول تہ چھو، نبی تہ چھو یم نہ کانسہ لغیر نہ پرتت چھو کینہہ نہ ہیو چھمت چھو  
 کینہہ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ تس پیغمبرس لیس تم لو کہ لہان چھہ

وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ  
 الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ  
 عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُواهُ وَنَصَرُواهُ وَ  
 اتَّبَعُوا التَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلْنَا مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٤﴾  
 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا  
 إِلَٰذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي

پاس نشہ پنہ نین کتائن تورا اس تہ انجیس اندر لیکنہ آمت یعنی نعت تہ صفت تہند کرنہ آمت۔ تمہ  
 علاوہ چھو تہند صفت یامروہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر سو پیغمبر برحق چھو تمن نیکن ہند  
 حکم کران۔ بیہ چھوک بدیوشہ منع کران ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث بیہ چھو  
 رت رت تہ پاک چیز حلال کران سم تمن پیٹھ حرام آس۔ بیہ چھو تمن پیٹھ ناپاک تہ گندہ چیز حرام  
 کران ویضع عنہم اصرہم والان تمن پیٹھ تہند گوب بار یعنی تم سخت احکام سم تمن پیٹھ نافذ  
 کرنہ آمت آس والأغلل الٹی کانت علیہم بیہ احکامن ہنزہ تمہ تخنیہ سمہ تمن پیٹھ آسہ بروظھمن  
 شریعتن اندر فالذین امنوا بہ وعزروا ونصروا لہن تم لو کہ سمو پڑھ کرامس پیغمبرس  
 بیہ کر بھہ حمایت تہ مدد واتبعوا التور الذی انزل ماعہ اولیک ہم المفلحون بیہ کر کہ متابعت  
 تہ نورس لیس نور تمن سمیت نازل آو کرنہ یعنی کتاب وسنت، قرآن مجید تہ حدیث شریف تہ لو کہ  
 چھہ رنگار تہ کامیاب سم عذاب ابدی نشہ چھو ظر وزن قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ  
 جمیعاً فرماؤ کہ تہہ یارسول اللہ اکی تمام دنیا کیو لو کو پڑ پاٹھ بو چھوس پیغمبر خدا تو ہہ سارنی گن۔  
 والذی لہ ملک السموات والارض تس خدایہ سدہ طرفہ یسنز حکومت تہ بادشاہی سارنی  
 آسمان تہ زمین منز چھہ لا الہ الاہو تس ورا ی چھونہ عباد تس سزاوار کانہہ اکھ نجی ویدیک  
 سوی چھو زندگی عطا کران تہ سوی چھو ماران فاموا باللہ ورسولہ الٹی الٹی لیس کر پڑھ آسی

وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْإِسْلَامَ الَّذِي  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۸﴾ وَ  
مِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَيَبْغِدُونَ ﴿۱۵۹﴾  
وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِطًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى  
مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَمَ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ  
فَاتَّبَعَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ نَبِطًا وَقَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ

کُنسِ خدائیس بیہ تسدس اسی پیغمبرس بس ان پرہ پیغمبر چھو الذی یؤمن باللہ وکلماتہ سم پانہ  
کُنسِ خدائیس بیہ تہندسین حکمن پڑھ کر مشہد۔ یعنی باوجودیٹھ تھود مرتبہ آیتھ چھونہ تمن خدائیس ،  
خدایہ سندین پیغمبرن تہ کتائین ایمان انہ نس منز کانہ عارہ۔ اکی لو کو تہہ کیاہہ چھوہ خدائیس تہ تہندس  
پیغمبرس پڑھ کر نس تہ ایمان انہ نس منز انکار کران **وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** بیہ کرد اس پیغمبرہ  
سنز متابعت دیوہ تہہ و تھہ لپوراہ راستس پیٹھ ایو۔ بعضی لو کو کر اس پیغمبر ہر حقہ سنز مخالف ت مگر و  
**قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ وَيَبْغِدُونَ** بیہ چھہ حضرت موسیٰ سندہ قومہ منزہ اکہ جماعتھہ  
ہزج۔ دین حق یعنی اسلام و تھہ ہادان۔ بیہ چھہ تی ہزہ سیتی پنہ نین معاملاتن تہ بین لو کن ہندین  
معاملاتن اندر عدل و انصاف تہ کران **وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِطًا أُمَّةً** کور اکہ انعام بنی  
اسرائیل پیٹھ بیہ تہہ تمن منز اصلاح و انتظام قاسم کرنہ خیطرہ کرہ اسہ تمن الگ الگ بہن بدین ہند اولاد  
آسہہ مناسبہ باہ حصہ تہ باہ قبیلہ پریتھ اس قبیلس کور اسہ اکہ اکہ سردارہ مقرر تہندہ مگرانی خیطرہ  
**وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَمَ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ** بیاکہ انعام کور اسہ تمن کہہ  
سوز اسہ وحی حضرت موسیٰ اس گن یلہ تمن نشہ پن قوم سن آب تھو ٹنڈ۔ تمو مونگ دعا خدائیس آہہ  
خیطرہ۔ اللہ تعالیٰ ان فرمو کہ کہہ ٹنڈ دیو پنہ امہ کورہ سیت فلان کنہ ادہ یلہ تموتھہ کنہ ٹنڈ و  
**فَاتَّبَعَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ نَبِطًا** اتی پھٹ تم کنہ منزہ باہ ناگ راد۔ تمنی بنی اسرائیلن ہمزہ بہن

مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ  
 الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ  
 مَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۶۰﴾ وَاذْقِلْ  
 لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ  
 شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ ۗ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ  
 لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۶۱﴾ فَبَدَّلْ

قبیل ہنزہ گرنز قد علمے کل اٹا پس مشربہم چنانچہ پریتھ قبیلن پر زہ نووین ہن گھاٹ تہ یارہ  
 بل یعنی آب حاصل کرے جائے و ظللنا علیہم الغمام و انزلنا علیہم المناء و السلوی  
 بیاکہ انعام کوراسہ تمن پیٹھ یہ کہ تر وواسہ تمن پیٹھ ابرک سایہ۔ بیاکہ انعام کوراسہ تمن پیٹھ کہ آسانہ  
 وول اسہ تہندہ کھینہ خیطرہ خزانہ غیبہ منزہ آسانی خوانچہ پیٹھ منز تیار کر تھ اوس آسان باثرماز تہ ترنجبین۔  
 وندہ اوسکھ یوان کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھیو تمہو نفیس چیز و منزہ تم اسہ توبہ عطا کردہ  
 مگر اتھ منز تہ کر تمہو سانس کُحس برخلانی۔ و ما ظلمونا و لکن کَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  
 تمہہ نافرمانی سیت تمہو اسہ کانہ نقصان و اتنوںہ، بلکہ آس تم پان پانس ظلم تہ نقصان و اتاوان و اذقیل  
 لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ بیہ کرو یاد سو وقت یلہ اسہ بنی اسرا نیلن کُحس کور بسو پیٹھ شہرس منز  
 پیٹھ ناوچھواریجا و کُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ بیہ کھیو اتھ شہرس منز سمہ جاییہ توبہ خوش کرہ  
 وَقُولُوا حِطَّةٌ بیہ اکھ کُحس گرنہ اتھ شہرس منز اژان اژان و نزہ حطہ، یعنی آس چھہ توبہ کران  
 وَاذْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا بیہ اژرہ شہر کہ دروازہ منز کلہ نو مراوت عاجزی سان نَغْفِرْ لَكُمْ  
 خَطِيئَتِكُمْ تمہہ سیت گرو اس بخشایش تہندین برو ٹھنن سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ بیہ گرو  
 آس بیجو کارن زیادہ مہربانی عطا فَبَدَّلْ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ  
 پس بدلو تمہو لو کو تمہو آندرہ ظلم کوراکھ لفظا پس خلاف اوس پیٹھ لفظس پس تمن تجویز کرنہ آیدو۔

الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ  
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا  
يَظْلِمُونَ ﴿۱۶۷﴾ وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ  
حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ  
حَيْثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ إِلَّا  
تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۱۶۸﴾  
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَإِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ

تَمْنِ آيُوهُ وَنَنْدَ كَهَ حِطَّةٍ وَنَبِيٍّ، تَمَكَّ مَعْنَى أَوْسَ سَانِينَ كَتَبْتُمْ سِدْرًا بَحْشَالِيشَ، تَهَّ بِدَلِ وَوَلَنَ تَمُوجِبَةَ فِي  
شَعْرَةَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ كَيْسَ سُوْرَ أَسْمَ تَمْنِ بِيْطِيْهِ  
عَذَابَهُ آسَمَلِيْهِ طَرْفَهُ أَمَى وَجْهَهُ كَهَ تَمَّ آسَ ظَلَمَ كَرَانَ عَيْنِي تَقِيلَ أَحْكَامَ آسَ نَهَ كَرَانَ وَسَأَلَهُمْ بِيْ  
پَرْتَهْوَجْتَهُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنْتُمْ زَمَانَهُ كَيْنَ يُهْوَدُونَ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ تَمَّ  
شَهْرَهُ كَيْنَ لَوْ كُنَ بِنْدَ حَالِ يَمِهِ شَهْرُكَ نَاوَأَبِلَهُ بَهْوُ - كَيْسَ شَهْرُ بَحْرِ قَلْزَمَهُ كَيْسَ بَهْطَسَ بِيْطِيْهِ وَاقِعَ أَوْسَ - شَهْرُ  
مَدِيْنَةِ يَمِهِ كَوَهَ طُورَسَ مَنْزِلَ بَاغِ تَمَّ شَهْرُكَ لَوْ كَهَ آسَ دَرِيَاءُ كَيْسَ بَهْطَسَ بِيْطِيْهِ بَسْمَهُ مَوْكَهَ كَاذَهُ شِكَارَ كَرَانَ زِيَادَهُ -  
تَمْنِيْ أَوْسَ بِيْطِيْهِ وَارِهِ دَوَهَ كَاذَهُ رَفِيْكَ مَنَعَ أَمْتُ كَرَنَهُ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ يَلِيْهِ تَمَّ بِيْطِيْهِ وَارِهِ دَوَهَ كَاذَهُ  
رَفِيْهِ كَيْسَ لَحْمَسَ أَنْدَرَحَدَهُ وَذَلَانَ آسَ إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيْثَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا يَلِيْهِ بِيْطِيْهِ وَارِهِ دَوَهَ  
تَمْنِ نَشِيْرَهُ كَاذَهُ تَهْزَهُ يُوَانِ آسَهُ آبَسَ بِيْطِيْهِ وَوَلْتَهَّ كَلَهُ آبَهُ نَشِيْرَهُ هِيُوْرَ كَهَارَتَهَّ وَ يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ إِلَّا  
تَأْتِيهِمْ بِيْطِيْهِ وَارَهُ وَرَايَ بَيْنَ دَوْنِ آسَهُ نَهَ كَاذَهُ تَمْنِ بَحْهُ يُوَانِ كَيْنَبَهُ - تَمْنِ وَوَدْنِ آسَهُ بِيْسَ طَرْفَسَ كُنَ  
كَوَهَانَ كَذَلِكَ نَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بِيْطِيْهِ پَاهُ آسَ آسَ تَمْنِ آزْمَالِيشَ كَرَانَ بَحْيَازَهُ تَمَّ  
آسَ نَاْفَرْمَانَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَإِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا بِيْ



مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ  
يَتَّقُونَ ﴿١٦٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ  
السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیِّنٍ بِمَا كَانُوا  
يَفْسُقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا  
قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٥﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعٌ

پر ژھو کہ حض تمہہ ونگ حال تہ یلہ تمہو بنی اسرا نیلو آندہ اک جماعتن وون تہتہ جماعتس سم نافرمانن  
نصیحت کران آس کیا زہ چھوہ نہہ تمن لو کن نصیحت کرنہ سیت پئن وقت ضائع کران تمن عنقریب اللہ  
تعالیٰ نافرمانی ہندہ سبہ ہلاک کرہ وون چھوہ نہ کڈر عذابہ کرہ وون چھوہ قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ  
يَتَّقُونَ تمہو نصیحت کرہ و نیو دو پکھ، آس چھہ تمن نصیحت کران تہتہ آس تہندس پروردگارس نشہ عذر  
پیش کر تہہ بری الذمہ سپد و بیہ دیوہ تمن سانہ نصیحت کرنہ سیت کینہہ اثر سپدہ تہ تم روزن ہدہ وارہ دوہہ  
شکار کرنہ نشہ پتہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ کہس یلہ تمن موٹہ تہ سو زوی سمہ سیت تمن وعظہ تہ نصیحت  
کرنہ یوان اوس یعنی تم زوونہ پتہ نافرمانی نشہ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ اسمہ دیت نجات تمن  
سم امہ بیچہ کامہ نشہ تمن منع کران آس وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیِّنٍ تمن نجات و تہہ  
کر اسمہ گرفتار تم لو کہ سمو ظلم کور سخت بیچہ عذابہ سیت بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ تہ کیا زہ تم آس نافرمانی  
تہ عدول کھی کران قَلَمًا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ کہس یلہ تمہو زیادہ سر کشی کر باز آئی نہ تمہو بیچہ کامیو نشہ  
سمو نشہ تمن منع کرنہ اوس یوان قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اسمہ کور تمن محضورت سم کور تمن بہ  
سپد و اندر ذلیل وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ  
بیہ کرسو وقت یاد یلہ اعلان کور تہندس پروردگارن کہ ضرور کرہ مسلط سو تمن بہودن بیچہ سمو گستاخی تہ  
نافرمانی کر قیامتس دوس تان تہمین حاکمن سم تمن سخت سخت عذابو سیت تکلیف و اتاوان آس

الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶۹﴾ وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْمًا  
 مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ  
 وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۷۰﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا  
 الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا  
 وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ ۗ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ  
 الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّهُ

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶۹﴾  
 تہ بپہ چھو سیٹھا مغفرت کرہون تس تس ناس نافرمانی نشہ بازا یہ وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْمًا بپہ گرہ اسہ  
 تمن دنیاس اندرواریہ جمائز مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ چنانچہ آؤ اس تمواندرہ نیکوکار  
 تہ بپہ آس اؤتھہ بدل یعنی بدکار وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اسہ کر تمن بدکارن  
 تہ آزمائش ریتو چیز وسیت۔ صحت تہ دولتہ سیت بپہ بچھہ چیز وسیت یعنی بیماری و فقرہ سیت بٹھہ تہ سیت  
 بچھہ کامیونہ پتھہ روز تھہ اسہ سُن پھیرن تہ رجوع کرن۔ کیا زہ کہہ بچھہ خوشحالی، صحت و غنا باعث  
 ہدایت بنان، تہ نہ بچھہ بدحالی تہ فقر و بیماری باعث عبرت بنان۔ یہ اوس حال تہمدین اسلامن ہند مگر  
 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ بس سپد تمن پتہ تہمد خلف تہ  
 جانشین بٹھہ لو کہ سمو تورات تمن نغیر حاصل کر تو پتہ آس امی تورا تک آیات کن کن سمہ اونی زندگی  
 ہند سامان حاصل کران۔ تو پتہ ترہہ بدیاتی کر تھہ اتھہ کنہس حقیر زانان وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا بپہ آس  
 بے پروائی سان دپان اسہ چھونہ کانہہ پروا۔ اسہ سپدہ سارنی گنہن بخشائش کیا زہ اسہ چھو خدایہ سُن پتھو  
 خدایہ سُن پارتہ دوست وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلَهُ يَأْخُذُوهُ تم بچھہ پتہ بے باکی تہ گناہ حقیر زانہ بس پیٹھہ  
 تیوت ڈاڈ کرہون۔ کہ ہر گاہ آیدہ دوبارہ دین کنہہ بس پیٹھہ تمن کینہہ مال حاصل سپدہ سو کرن حاصل پتھہ  
 روزن نہ تمہہ نغیرہ اَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ کیاہ تمن

الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۹۹﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ  
بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿۱۰۰﴾  
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ؕ  
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۰۱﴾  
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَىٰ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاذْ

نشر چھنائمہ کتابہ ہندہ سمہ مضمونک عمداً امت ہندہ کہ خدائس کن لاکن نہ کانہ کتھاہ واقعی تہ پڑہ کتھہ وراى۔ تھہ بدل کم کم اہیز چیز نور اور اوتمو، تمے لاگھہ خدائس کن۔ حالانکہ تم پور سو عمد نامہ ئس تور اس منز لیگھتھ اوس مگر تم کو رنہ دنیاک متاع فانی حاصل کرنہ خیطرہ تمیک کانہہ پروا وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ بیہ تم لوک بنی اسرائیل اوندہ زورہ تھہہ کر تھہ چھہ اتھہ کتابہ یعنی تور اس بیہ چھہ نمازہ ہنز تہ پابندی کر ان اس کرو نہ ہر گز تمن نیکو کارن ہنز مزور تہ ثواب ضایع۔ تم پائس امہ طریقہ اصلاح کرن تہ سنبھالن وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ بیہ پادویو کہ ژئیس تمن بیہودن یلہ اسہ کوہ تھودتل تمن پیٹھ تراوندہ خیطرہ۔ تھندین کلن نزدیک تھاؤ سائبا تک پاٹھ تمن سپد یقین کہہ بیہ پیو اسہ پیٹھ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تھہہ حاس اندر فر موؤ کہ اسہ کہہ جلد کرو قبول یہ کتاب یوسہ اسہ توہہ عطا کر۔ مضبوطی سان۔ بیہ کرو تم احکام یاد تم اتھہ کتابہ منز چھہ ہنہہ مٹتی تہ پر ہیز گارہنو تہ لے کرد تلہ تراودہ بیہ کوہ توہہ پیٹھ۔ بیہ گو خاص عہد ئس بنی اسرائیل کرناونہ اس امت جبراً۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ بیان کر ان عام عمد ئس ساری بنی آدم انسان اس کرناونہ امت وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَىٰ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بیہ پادویو کہ ژئیس سو وقت یلہ تھند پروردگارن عالم ارواحس منز حضرت آدم علیہ السلام

أَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۗ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ إِنَّ  
تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿۱۴۲﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا  
أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِمَّنْ بَعْدَهُمْ فَفْتَلِكُنَا  
بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۱۴۳﴾ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿۱۴۴﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ  
مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَايِبِينَ ﴿۱۴۵﴾ وَلَوْ شِئْنَا

سندہ ہیشہ منزہ تہند اولاد، تہندین اولاد ہند یو ہشتو منزہ تہند اولاد نمبر کڈہ اَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ  
بیہ تھاون گئے پان پانس پیٹھ گواہ۔ سارنی پر تھن اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیہا یو چھوس نا تہند پروردگار قَالُوا  
بلی ساروی دوپ بیشک تری چھوک واقعی رُب سون۔ امہ وقتہ آس حاضر کرنہ آمت ساری ملایک  
بیہ مخلوقات۔ ساروی دوپ شَهِدْنَا اَس ساری چھہ امک گواہ۔ یہ سو زوی اقرارتہ گواہی آیہ رفہ  
اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ یتھنہ تہہ وتھہ بیجو قیامتگ دوہ پزپاٹ اَس آس امہ  
توحیدہ نشہ بالکل بے خبر اَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِمَّنْ بَعْدَهُمْ ۗ بیہ یتھنہ تہہ وتھہ  
بیجو کہ شرک کورنہ مگر سانیو مایو بڈہ یو۔ اَس آس تہند اولاد تمن پتہ۔ اَسہ یلہ وجھہ تم یی کران اَس تہ  
پک تہنزی وتہ اَفْتَلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ کیہا اَسہ کر کہ تہ ہلاک تمن غلط کارن ہندہ پیچھ  
کامہ سبہ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ الْأَيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اَس چھہ تھہ پاٹھہ ویشہ ناوتھہ ہن آیات بیان  
کران۔ یتھہ تم حقیقت معلوم سپدنہ پتہ شرک و کفرہ نشہ پتھہ روزن وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ  
اَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَايِبِينَ بیہ ہر وہیز تمن بیہو دن پیٹھ تہس شخصہ سند  
قیصہ تہس اَسہ پنہ نین آیاتن ہند علم عطا کورمت اوس۔ یعنی پلعم ہا عورا۔ تہس دراؤ سوتمو آیا تو منزہ یعنی  
تمن آیاتن ہند یو ہدایا تو موجب پتہ۔ مال دنیا عک طمعن کڈس کل او پتہ لگس پتہ شیطان۔ تہس سپد سؤ  
ڈلیو اندرہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِمَا ہر گاہ اَس یٹھہ ہو تھود کرہ ہو تہس شخصہ سند مرتبہ۔ ہر گاہ سوتمو

لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ  
 كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ  
 ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ  
 الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۷۶﴾ سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ الَّذِينَ  
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَانفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿۷۷﴾ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ  
 فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۷۸﴾

آیاتو تہ ہدایاتو موجب پھر ہا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ مگر سوسید مایل تہ خام طمع دنیاءس کن وَاتَّبَعَ  
 هَوَاهُ بیہ پوک سو پتہ پتہ نفسہ جن خواہش۔ زمانن ہندس ونہ نس پیٹھ کرن عمل تہ آیاتو موجب کرن  
 عمل تراون فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ آیاتو موجب عمل کرن تراونہ موکہ یوسہ پریشانی تہ ذلت تس ولہ  
 آیہ تمہ اعتبارہ چہہ تسز۔ مثال ہون سنز ہش مثال إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ہر گاہ ذہ  
 تس چہ کر کہ، تس پیٹھ حملہ کر کہ، زیو کڈہ نیر۔ ہر گاہ چہ کر ہس نہ توتہ کڈہ زیونیر۔ یعنی بس چیز ہونس  
 آڈرنہ منز لازم آمت آسہ تھاونہ سو چیز تراونہ سوئمنہ حالتس منز۔ تھے پاٹھ بس آڈرنہ منز خست تہ  
 ذلت تھاونہ آسہ آمز سو تھہ تراونہ نہ کمنہ صور تس منز ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
 بیہ چہہ مثال تمن لوکن ہنز سمو لہز زان سان آیات یمن منز توحید و رسالتچہ دلیلہ چہہ فاقْصُصْ  
 الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ بس بیان کرو تم قصہ تم بہوڈن دیوہ تم فخرہ بین سَاءَ مَثَلًا لِّلْقَوْمِ  
 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَانفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ حقیقتس منز چہہ سیٹھا چہہ مثال تمن لوکن ہنز سمو  
 سان آیات اہز زان۔ تمہ سیت و اتنو کہ نقصان تہ ظلم پان پانس مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ بس  
 اللہ تعالیٰ ہدایت کرہ سوی چھو ہدایت لہون وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تم سو و تہ  
 نعرہ ڈالہ بس چہہ تمہ ابدی تاوانس منز پنہ وال تمن نعرہ ہدایتک توقع تھاون یا تہندس بے ہدایت روزہ  
 بس پیٹھ غمگین سڈن چھو بے کار۔ تم لوک یلہ نہ پنہ عقلہ ہندین قوتن کامی چہہ ہیوان تمن بچارہ نہ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۹۹﴾  
 وَبِاللَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا اللّٰذِينَ يُلْحِدُونَ

ہدایت۔ لہذا چھ تہیدہ واتح جای جنم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ اسے چھ پیہہ کرمت چھٹس منزروزنہ خیطرہ واریاہ شخص جنواندرہ تہ انساندرہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا تمن ناوہ، خیطرہ دل چھو۔ مگر زان چھوک نہ تگان کینہہ۔ تم چھنہ تمیک ارادے کران کہ اسہ گوژہ فخرہ تزان کینہہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ناوہ خیطرہ چھ آچھ تمن مگر درنیٹھ چھکھ نہ یوان کینہہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ناوہ خیطرہ چھ گن تمن مگر بوژن چھکھ نہ تگان کینہہ۔ پرتھ یام کنن گرہہان چھکھ تام چھ گوش دوان اُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ غرض تم لوکھ چھ آخرتہ نعرہ بے توجہ آسٹس اندر گمان تہ چارپانی بلکہ تہیدہ خوتہ یژڈلت اُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ تمے لوکھ گئے غافل کیاڑہ تم چھ باوجود حس دت تہ بے حس لاگان۔ غفلت چھ مرضو اندرہ اکھ بوڈ مرضاہ۔ امیک علاج چھو خدایہ سُدیاد وَبِاللَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا خدایہ سی چھ رت رت ناوٹس آسو چھہ ای مسلمانو تموی ناووسیت تس آلودوان، سُدیاد کران۔ تم چھ حدیث شریفس منزرمہ نمت (۹۹) ناویان کرنہ آمت۔ بیہ چھو آمت حدیث شریفس منزس تم اسماء یاد کرہ سوژاؤ جنٹس تموناووسیت آسوس پتھ پاٹھ آلودوان : يَااللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِیْمُ يَا مَلِکُ يَا قُدُّوسُ يَا سَلَامٌ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا عَزِیْزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا خَالِقُ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا غَفَّارُ يَا فَهَّارُ يَا رَزَّاقُ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِیْمُ يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ يَا حَافِضُ يَا رَافِعُ يَا مُعِزُّ يَا مُدِلُّ يَا سَمِیْعُ يَا بَصِیْرُ يَا حَکْمُ يَا عَدْلُ يَا طَیْفُ يَا خَبِیْرُ يَا حَلِیْمُ يَا عَظِیْمُ يَا غَفُوْرُ يَا شَکُوْرُ يَا عَلِیُّ يَا کَبِیْرُ يَا حَفِیْظُ يَا مُقِیْمُ يَا حَسِیْبُ يَا جَلِیْلُ يَا کَرِیْمُ يَا رَقِیْبُ يَا مُجِیْبُ يَا وَاسِعُ يَا حَکِیْمُ يَا دُوْدُ يَا مُجِیْدُ يَا بَاعِثُ يَا شَهِیْدُ يَا حَقُّ يَا وِکِیْلُ يَا قَوِیُّ يَا مُتِیْنُ يَا وِلیُّ يَا حَمِیْدُ يَا مُحْصِیُّ يَا مُبْدِیُّ يَا مُعِیْدُ يَا مُحِیُّ يَا مُمِیْتُ يَا حِیُّ يَا قَیُوْمُ يَا وَاجِدُ

فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۰﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً  
يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۸۱﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸۲﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي  
مَتِينٌ ﴿۸۳﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ

يَا مَاجِدُ يَا وَاحِدُ يَا صَمَدُ يَا قَادِرُ يَا مُقْتَدِرُ يَا مُؤَخِّرُ يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا وَالِي  
يَا مُتَعَالِي يَا بَرُّ يَا تَوَّابُ يَا مُتَقِمُّ يَا عَفُوُّ يَا رُؤُوفُ يَا مَالِكُ الْمُلْكِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ  
يَا مُقْسِطُ يَا جَامِعُ يَا غَنِيُّ يَا غَنِيُّ يَا مَانِعُ يَا مُنَارُ يَا نَافِعُ يَا نُورُ يَا هَادِي يَا بَدِيعُ يَا بَاقِي يَا وَارِثُ  
يَا رَشِيدُ يَا صَبُورُ وَذُرِّ الَّذِينَ يُلْحَدُونَ فِي أَسْمَائِهِ تراویو کہ تم لو کہ تم ڈلان نہ پھر و تہ پکان  
چھہ تہندین ناؤن اندر یعنی اللہ تعالیٰ اس چھہ پائے پنہ طرفہ ناؤ ٹھراوان یا تہند ناؤ چھہ ٹس ورا ی بین  
پیٹھہ استعمال کران یا چھہ پیٹھہ صفین ہند ناؤ ٹس پیٹھہ استعمال کران۔ تم سیت مہ تھاوو تعلق سَیُجْزَوْنَ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بروٹھہ یکن ٹلن تم نتیجہ تمیک یہ تم کران چھہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ  
وَبِهِ يَعْدِلُونَ جنن تہ انسان اندر چھہ ساری ڈلتی بلجہ چھہ سانیو مخلوقا ندرہ اکھ جماعتہاہہ تم دین حق  
یعنی اسلامہ موجب چھہ لوکن و تھہ ہاوان بیہ چھہ پنہ نین لوکن ہندین معاملاتن اندر عدل و انصاف  
کران وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ بیہ سمولو کو اہن زان سان آیات تم  
کھا رو کہ اس آہستہ آہستہ نا فرما نین اندر سیٹھاہہ تھو تھہ پاتھہ پیٹھہ پاتھہ نہ تم زانہ ٹوی چھہ یو تان تم  
نا چھہ ٹس نزدیک سیدن وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ بیہ دمہ یو تم مہلت، جلدی کر کہ نہ گرفتار  
عذاب دنیاس اندر۔ پزناٹ میون تدیر چھو سیٹھاہہ مضبوط أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ  
إِلَّا نَذِيرٌ مَتِينٌ کیا سمولو کو کرنا غور تہ فحکمہ آخر آیات اللہن انکار کران۔ تمہ کہہ خراب نتیجہ  
غافل روز نگ کیاہ سبب چھو۔ تم آیات پیش کرہ ون صاحب نعوڈ باللہ بے عقل چھو نہ تم کنہ قسمہ  
مژہ چھو نہ، عمر گیہ وہ توہمہ تم سیت روز تھہ تہند حالات، تہنز عقل تہ گاہہ جار، امانت تہ دیانت  
و چھان۔ تم چھو اللہ تعالیٰ ان عقل کل عطا کورمت۔ تم چھہ مگر نا فرمانی ہندہ سزاو عذابہ نتیجہ لوکن نین

مُبِينٌ ﴿۱۸۶﴾ أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۷﴾ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۗ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۸۸﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِمُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لِأَلْوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ نَقَلَتْ

پاٹھ بيم کرهون۔ يه گوئس صاحبه سندا حال نيس صاحب آيات هيتھ آو۔ وون نيس نعره هيتھ آو سوزات پاک گو سوي نيس ساري جمانک مالک ته شنشاه مطلق چھو اَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ کيا سمو وچھنا آسمان وزينه کس انتظامس ته سلطتس کن۔ بيه تيو جيز و آندره نئيه جيزس کن تم جيز الله تعالی ان پيدہ کرمت چھه۔ کتھه پاٹھ چھو تھند انتظام مضبوط ته محکم۔ کتھه پاٹھ چھو پر هتھه جيزه پر هتھه ذراه تھندس کمال قدرتس بيٹھه گوانی ووان۔ تھتھس شهنشاه مطلقه سدا ارشادات يم تھتھس پنجبر برحقه سنده واسطه تمن واتمت کن۔ تھے شوبه نه نظر انداز کن وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ بيه کرنا تمو غور هتھه کتھه کن کبه تھندہ مرنگ وقت ما آسه نزدیک ووتمت۔ تم کبه تھه ين خدا نيس برو نٹھ کن۔ لھذا پزہ ہاتمن مر نه پتہ عذابہ نعره بچہ نچ صورت کرن۔ يلہ نه قرآن مجيدہ سیت، يوسہ سيٹھہ ہذ مقدس کتاب چھه تمن کينہہ اثر کرھه، يلہ نه تم قرآن مجيدس ايمان ان ته پڑھ کرن فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ قرآن مجيدہ پتہ کتھه کتھه ته کتھه کلامس ان تم ايمان مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ حقيقت چھه يهے کہ نيس الله تعالی و تھه راوره تھس چھونه و تھه ہا وون کانہه وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ الله تعالی چھو تمن کافرن تراوان يلہ تھه تم سر شسي آندر سر گردان سپدن۔ تو پتہ دیکھ سزاکھ و۔ لھذا مہ سپدن تھند دل مبارک نمگين يار رسول الله يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِمُهَا پر ژھان چھه تم توبه يار رسول الله قياتس متعلق کبه گر چھو تمحبه برپاسد ننگ ته واقع سپدن وقت قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي تھه فرما ويو کھ تمکي علم چھونه ميا نس پروردگارس وراي کانہه



فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ الْإِبْرَغَةُ يُسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ  
عَمَّا قُلْنَا إِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۷﴾  
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ  
كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ  
السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۸﴾ هُوَ الَّذِي

لَا يَجْعَلُهَا لَوْفًا لِأَلْفِهِ ظاہر کرہ نہ تھے قیاس سے پنہ نس و قس بیٹھ کا نہہ سے تس و رای۔ تمہیہ ظہور ک  
وقت چھو نہ بیانے کر نہ آمت کا نہہ نغیر کیا زہ قُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سُو چھو سیٹھاہ ہولناک  
واقعاہ سے حادثاہ اکہ آساں وز میس منز یعنی تمن دون ہندین بسہ و نین بیٹھ لَا تَأْتِيكُمُ الْإِبْرَغَةُ أمہ موکھ  
ایوہ نہ سو قیامت توہمہ مگر ہجھ سے منجھ تہزہ بے خبری منز یَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَمَّا پر ژھان سے  
چھہ تم لوکھ توہمہ أمہ قیامت۔ زن توہمہ تج پور خبر چھہ قُلْ إِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ اللَّهِ لہذا فرما دیو کہ تہہ  
بصراحت کہ تمیک علم چھو نہ کا نہہ خدا نس و رای وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوکھ چھہ یہ تھہ  
زانا نی کہ بعضی علوم چھہ اللہ تعالیٰ ان تھاومت پنہ نس خزانہ علمس اندر محفوظ۔ حضرات انبیاء ان سے چھو نہ  
تمن ہند تفصیل باونہ آمت۔ قیامتہ و لہ سپد تک خاص وقت سے چھو تموی چیز و اندرہ اکہ چیز قُلْ لَا أَمْلِكُ  
لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ فرما دیو کہ تہہ یا رسول اللہ قیامتہ معالج چھہ تھی، سو چھو  
مخصوص خدایہ سدسی ذاتس سیت۔ مہ چھہ پانس متعلق پیش ایوہ و نین حالاتن ہنز سے کینہہ خبر۔ بو  
چھو نہ مالک سے اختیارہ ہول پنہ ذاتہ خظیرہ نہ کئہ نفیس سے نہ کئہ ضررس مگر تڑی ہنہ ایشہن اللہ تعالیٰ  
بہڑہ۔ یعنی بوہجھ نہ پنہ نس ذاتس کا نہہ نفع و اتناو تھہ۔ نہ یکن پن ذات کئہ نقصانہ نغیر محفوظ تھاو تھہ  
تہ بچاو تھہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ہر گاہ بو زاناں آساں تج پر تھہ کتھاہ تلہ  
واتاوہ ہا پانس تم تم خیر سے فائدہ ہم نہ بو سو روی علم غیب نہ آسنہ موکھ و اتناو تھہ چھو نہ ہکان۔  
وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ تلہ آسہ ہانہ مہ و اتان کئہ قسمک تکلفاہ، نہ آسہ ہامہ پیش یوان کا نہہ

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا  
فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ  
دَعَا اللَّهَ رَبَّهَا لِيُنزِلَ إِلَيْهَا صَالِحًا لَئِنْ كُنْتُ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾  
فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيهَا أَثْمَهَا فَتَعَلَى اللَّهُ  
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ أَيْشُرُّوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ﴿١٩١﴾ ج

ناخوشگوار حالتهاہا اِن اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ وَبَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ يُومِنُوْنَ يُوجُوسِ مَحْضِ شَرِيْعَتِكَ حُكْمٍ وَاتَّانَا وَتَه بِيْم  
كرهون۔ تہ بشارت دوهون تمن لوكن تم پڑھ كرن تہ ايمان انن نبوتك اصل مقصد چھو تشریحی  
امورن ہند علم آسن تہ كورمہ اللہ تعالیٰ ان عطا كمال پتھ رود امور تكوتین ہند علم سو چھونہ نبوتہ کیولوازمو  
آندرہ۔ تمہہ آندرہ ایشہن اللہ تعالیٰ ان یوژھ تیوہن كرن عطا زورہ تہ زبردستی سیت بیكونہ سوكا نہ  
اكھ خدائس نشہ حاصل كرتھ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ سُو پرورگار گوسوی تم توه پیدہ  
كروه اکی ذاتہ نعہ، سوكو حضرت آدم علیہ السلام وَجَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا تمی اسمہ ذاتہ منزہ كورن  
پیدہ جورہ تہمد یعنی حضرت حواء لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا تہ سوا لفت تہ قرار رتہ تہ سیت فَلَمَّا تَغَشَّاهَا  
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ اودہ یلہ در كمال لطف وانبساط حضرت آدمن پان پئن وول حضرت  
حواء س یعنی ہمستری كرن تہ سیت سو سپز باردار، تہ حمل ابتداء س آندر لوتوی اوس، چنانچہ سُو  
ہتھ آس سواورہ یور ہتھہ ہیکان فَلَمَّا أَثْقَلَتْ تمہہ پتہ یلہ چہ سندرہ دوهہ خودہ دوهہ بڈنہ سیت سو گو بے  
یہ تم لگ دوشو بے نابرنہ۔ دہنہ لگ بے کیاہ ناقصہ چھو۔ دَعَا اللَّهَ رَبَّهَا دوشوی باثو مونگ اللہ  
تعالیٰ اس یعنی پنہ نس پروردگار س یہ مشكل گوژھ آسان سپدن لکن اَنِتَّيْنَا صَالِحًا لَئِنْ كُنْتُ مِنَ  
الشَّاكِرِينَ دہنہ لگ سانہ پروردگارہ ہر گاہ ژہ آسہ عطا كره ہن رت فرزندہ اس سپد و ضرور شکر گزارو  
آندرہ فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا تہس یلہ اللہ تعالیٰ ان رت صحیح و سالم فرزند عطا كرتك جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ  
فِيهَا أَثْمَهَا ائی لگ بنی آدم خدائس شریك ٹھراونہ اتھ مہربانی اندر یوسہ مہربانی سُو عطا اوسٹھ

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٧﴾ وَإِنْ  
تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ  
أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
صَادِقِينَ ﴿١٩٩﴾ أَلَمْ أَرْجُلْ يَبْشُرُونَ بِهَا أُمَّهَاتِهِمْ وَيَبْطِشُونَ

کران فَتَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ ہلندتہ بالا منزہتہ پاک تمہو ساروی شرکچو کتھو  
نشیہ یمہ نس کن بنی آدم لاگان چھہ۔ ایشُرکُون مَالِ الْخَلْقِ سَيِّئًا وَهُمْ يُخْلِفُونَ کیاہ تم بنی آدم  
چھا نس تے چیز شریک تمہر او ان سمنے کینہہ تہ ہمکن پیدہ کر تھہ۔ تم چھہ پانہ مخلوق پیدہ کرنہ آمت۔  
معبودہ ہیجہ آتھہ سوئی نس نہ پانہ مخلوق آسہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ بیہ  
ہمکن نہ تم مغبودان باطل تمہو اندرہ کانہہ اک سنزیاری کر تھہ۔ نہ ہمکن تم پنہ نس پانس کانہہ یاری کر  
تھہ بین یاری کر نچ کیاہ چھہ تھی وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ کم ہر گاہ ہبہ تم مغبودان  
باطل نمنے کامہ خیطرہ نادو بو تم تھندس آلوس تہ ناس اجابت ہمکن نہ کر تھہ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ  
أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ تھندہ خیطرہ چھہ دوشوے امر برابر۔ ہبہ تم ننادیتو توتہ تم تھند آلو  
بوزن نہ یا تھو پے کر تھہ روز توتلمہ چھہ تھی إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ  
ای مٹر کو ہز پاپٹھ تمکن تمکن ہنز ہبہ عبادت تہ پرستش کران چھوہ خدائیس ورا ای تم چھہ تھندی پاپٹھ  
خدایہ سند مملوک تہ بندہ، پانہ خدایہ سی کن محتاج پریتھ چیزس اندر تھندی پاپٹھ فَادْعُوهُمْ  
فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ پس دیتو ہبہ تمکن نادمکن ہزہ تھندس تھہ ناس اجابت کرن  
چھوے ہبہ تھندس مغبود آسکس اعتقادس اندر پزیر تھندس آلوس کیاہ کرن تم اجابت تمکن چھہ تم  
تان پور تمہوسیت کام چھہ یوان کرنہ وچھو اَلَمْ أَرْجُلْ يَبْشُرُونَ بِهَا أُمَّهَاتِهِمْ وَيَبْطِشُونَ بِهَا أُمَّهَاتِهِمْ  
أَعَيْنُ يَبْصُرُونَ بِهَا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ يَسْمَعُونَ بِهَا ہبہ وچھو توارہ کیاہ کھور چھا تمکن تمہوسیت پکہ ہن

بِهَاءِ أَمْ لَهُمْ آعِينٌ يُبْصِرُونَ بِهَاءِ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ  
 بِهَاءِ قِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تَنْظُرُونَ ﴿۱۹۵﴾  
 إِنَّ وَايَحَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ ﴿۱۹۶﴾  
 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا

تم کیا ہے تمہیں سموسیت رکھتی ہے کہ ہن کینہہ کیا ہے آچھہ چھا تم سموسیت و چھتھہ بیچہ ہن۔ کیا ہن چھا  
 تم سموسیت بوزتھہ بیچہ ہن کینہہ۔ بلہ نہ تم قوت تم اندر موجود چھہ لہذا کوسہ کوم بیچن تم ہنز  
 کر تھہ قیل فرما دیو کہ ہتھہ یہ تھہ یہ یار سول اللہ کہ تھہ پاٹھہ تم معبودان باطل پنہ نین پرستش کر وہ نین  
 کانہہ نفع و اتاؤس منز عاجز تھہ تھہ پاٹھہ چھہ پرستش نہ کر وہ نین کانہہ ضرر و اتاؤس اندر تہ سخت عاجز  
 ہو چھوس تم پرستش کرہ نس سخت مگر۔ ہر گاہ تم اتھہ کینہہ چھو ہتھہ کڈ تو پنہ دلگ ارمان ادعوا  
 شُرکاءکم ہتھہ دیونا تم پنہ نین ساری شریکن تم ہتھہ معبود برحق چھو کہ شریک ٹھہراوان ٹھہ  
 کیدون تو پنہ کر تھہ ساری تم سمیت رکھتھہ یہ تکلیف مہ ضرر و اتاؤنہ کین تدابیرن اندر  
 کوشش تو پنہ بلہ تو ہہ کینہہ چھہ فلا تَنْظُرُونَ تمہ ساتہ متہ دیعومہ اکھ ذرہ تہ مہلت۔ بلکہ گدھہ میہ پیٹھ  
 تہ سوروی فوراً چلاؤن یہ تو ہہ مشورہ کر تھہ مقرر آہوہ کورمت۔ بوزتھہ و چھہ کیا بیچو ہتھہ تہ ٹھہرہ معبودان  
 باطل کر تھہ۔ تھہ نین معبودان باطلن ہنز چھنہ تھی تم چھہ بالکل مہمل بے کار۔ پتھہ رو دودہ ہتھہ تو ہہ  
 اورہ یورمہ تکلیف و اتاؤنہ خیطہ اتھہ کھور زبٹھہ راویو۔ مہ چھونہ تمیک تہ کانہہ پروا کیا زہہ إِنَّ وَايَحَ اللَّهُ  
 الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ پڑ پاٹھہ میون دوست، مددگار تہ مالک چھو اللہ تعالیٰ سمسہ  
 مددگار آسک بوزتھہ و تھوت چھو کہ تم کر مہ پیٹھہ نازل سو کتاب یوسہ خیر دارین کین ساری چیزن جامع  
 چھہ۔ سو چھو عموماً نیک بندن پانہ مدد کران۔ حضرات انبیاء گئے نیک بندن ہند سردار۔ بوزتھہ چھوس  
 نبیؤ اندرہ اکھ فرد کامل۔ لہذا چھو میون تہ سو یقیناً مددگار وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ  
 نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَبْصُرُونَ پتھہ رو دودہ تم معبودان باطل تم ہنز ہتھہ پرستش کران چھوہ معبود

أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٥﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا  
وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾ خذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ  
بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ وَإِنَّمَا يَنْزَخْنَكَ مِنَ  
الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ

برحقس وراي تم بيکن نہ توہمہ کا نہ مدد کر تھ نہ بیکن پنہ نین پان مدد کر تھ۔ مدد کرن گیہ بدتھ وَاِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ہر گاہ جہہ تم ن کا نہ کتھ وندہ خیطرہ آلودیو سو آلو تہندتہ بیکن نہ تم یوز تھ کیا زہ ہتھ پاٹھ نہ تم ن نشہ یوز نک تان موجود ہتھ پاٹھ جہنہ تم ن نشہ و جھک تان تہ موجود، تہزن سکل تہ صورت ن اندر سمہ آہتھ بناوند آثرہ ہتھ تمہ ہتھ بالکل بے کار ہ جھوک ژہ کونو جھوٹی ژہ اینی پنہ نوبی و تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ چنانچہ جہہ جھوک تھ تم معبودان باطل و جھان۔ زن تم توہمہ کن و جھان جہہ۔ حالانچہ تم ن جھونہ فی الواقع و جھنک تو تھی کا نہ۔ کیا زہ تحقیق منہ جہنہ تم و جھتھی ہیکان کینہہ۔ آتھ کن نظر کر تھ گڑھہ تہندین بین قوت ن ہند قیاس کرن۔ کس تھین عاجوز ن نشہ کیاہ جھوہ جہہ مہ کھوژہ ناوان۔ اژہ صرتح پزہ دلیلہ یوز تھ تہ آس نہ تم ن کافرن ہندس کفر و عنادس منہ کجہ قسہ کی سپدان۔ سمہ سببہ ذات مقدس منہ ژک کھسہ نگ احتمال اوس۔ سو غصہ تہ ژک دور کرنس منہ جھو اللہ تعالیٰ فرماوان خذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اکی پیغیر برحق جہہ کرو اختیار ژکھ وزہ درگزر کرنس۔ بیہ کرو جہہ رژن کاین ہند حکم حسب معمول۔ بیہ مہ کرو التفات جاہلن کن جہہ روزو بدستور بین کوم کران وَاِنَّمَا يَنْزَخْنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ بیہ ہر گاہ نندہ وقتہ شیطانہ سدہ طرفہ کا نہ و سوسہ پیدہ پیدہ توہمہ ہتھ منہ احتمال آسہ خلاف مصلحت کا نہ کوم کر نک فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تمہ ساتہ مچو پناہ پنہ نُس خدائس شیطانہ سدہ شرہ تہ و سوسہ نشہ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ہز پائٹ سو جھو سو زوی بوژہ ون، سو زوی زانہ ون، تہند پناہ مکن جھو بوژان۔ تہند مقاصد تہ مطالب جھو بوژان۔ ہتھ پاٹھ خدائس کن توجہ کر تھ شیطانہ سدہ شرہ نشہ پناہ مکن تہندہ خیطرہ مفید جھو تھتھ پاٹھ

اتَّقُوا إِذَاسْتَهُمْ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكُّرًا فَاذَاهُمْ  
 مُبْصِرُونَ ﴿٦١﴾ وَاٰخٰوَانُهُمْ يَبْدُوْنَ لَهُمْ فِي الْغَيْبِ ثُمَّ لَا يَقْبِضُوْنَ ﴿٦٢﴾  
 وَاِذَآ اَلَّمْتَاهُمْ بِآيَةٍ قَالُوْا لَوْلَا جِئْتِنَا بِقُلُوْبِنَا اَتَّبِعْ  
 مَا يُوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هٰذَا بَصٰٓئِرٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهٰدٰى


ہو ساری خدائیں کھوڑے دین بدن ہندہ خیر ہ سے سیٹھا مفید ان الذین اتقوا اذا استهم طيف من الشيطان تذكروا پڑھا ہم خدائیں کھوڑے دین بندہ چھہ بلہ تم نے شیطانہ سندہ وسوگ خیال گذاران ہو تم نے چھہ فوراً تمہ ساتھ خدایہ سندس یادس سیت مشغول سپدان، اعوذ باللہ پران۔ خدایہ سند عظمت و جلال، ثواب و عذاب یاد کران۔ فاذا هم مبصرون کس چھہ فوراً تمہزہ اچھہ مؤرنہ یوان۔ تو پتہ چھہ حقیقت تم نے پیٹھ ظاہر سپدان۔ سمہ سیت نہ تم نے پیٹھ خطرک کانہ اثر چھو واتان واخوانهم يبدونهم في الغيب ثم لا يقبضون شیطان ہندبای ہم چھہ تم نے خدایا دے پوان چھو تم نے چھہ تم شیطان گرائی کن کھکھہ پکہ ناوان۔ لہذا چھہ تم گرا ہی اندر منہ قسمہ کمی کران۔ واذا لهم تاثيرهم باية قالوا لولا اجتبتنا ما لانہ نہ تہہ تم نے نشہ تمہزہ خواہشہ مطابق کانہ فرماشی مجزہ پیش کران چھوہ۔ کیا زہ مجزہ پیش کر نک اغیار چھو خدایہ سی اتھہ تمہ ساتھ چھہ ونان تم ہر گاہ توہہ پیغمبر برحق چھوہ تلہ کونہ ابوہ توہہ ژار تھہ پتہ خیر ہ رت مجزہ سمہ سیت چھہ پیغمبر آسن ثابت سپدہ ہا قتل انما اتبع ما يوحي اليك من ربك ہتہ فرما یو کہ کہ میان کوم چھہ پتہ اختیارہ توہہ نعہ مجزہ پیش کرن۔ میان اصلی کوم چھہ کہ بو کہ نہ پیروی مگر تھہ یہ مہ کن وحی سوزنہ یوان چھو میانس پروردگار سندہ طرفہ۔ نبوتہ خیر ہ چھو مجزہ آسن ضروری تمہ خیر ہ چھو ساروی مجزہ و اندرہ یوڈ مجزہ یہ قرآن مجید۔ یوہے چھو بے شمار دلیلہ تہندس پروردگار سندہ طرفہ۔ امیک پر تھہ سورہ شریفہ چھو اکھ اکھ دلیل، پر تھہ آہہ کریمہ چھو اکھ اکھ دلیل۔ پر تھہ آہس چھہ امی موکھ آہہ ونان کہہ سو چھو بجای خود اکھ دلیل۔ تھی چھہ ساری انسان نے جن قرآن مجیدہ کس آگس آگس آہہ کر تمس سیت مقابلہ کرنے خیر ہ عاجز تھی

وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۴۲﴾ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ

پھو پریتھ آہ کریماء اھ اھ مجزاء ہذا اَبْصَلُّرْمِنْ رَبِّكَ وَهْدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ تمیک  
 یو ذفانہ تہ نفع پھو بالفعل تمن لوکن ہندہ خیطرہ تم تہ مانان تہ پڑھ کران جھہ۔ تہندہ خیطرہ پھو بوڈ  
 ہدایت تہ رحمت۔ مگر سو فاندہ تہ نفع حاصل کرنہ خیطرہ پھہ کینہہ شر الظ۔ تم گئے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ  
 فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بلہ یہ قرآن مجید پرنہ آسہ یوان تلہ آسز و تہہ سوکن دار تھ  
 وارہ یوزان۔ بیہ آسز پانہ ژھوپہ کر تھ روزان تھ تہہ تمیک مجزہ آس تہ تجہ تعلیمات و ہدایات فجرہ  
 ترن۔ تھ تہہ مزید رحم ایہ کرنہ بیہ فرماو تہہ پریتھ شخصس کہ اکی شخصہ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ  
 تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ پنہ نس پرور و گارہ سندا یاد آس کران قرآن مجید پرنہ  
 سیت، تسبیح و تہلیل پرنہ سیت پندہ جایہ، آہستہ آہستہ، لو تہ لو تہ، عاجزی سان تہ خوفہ سان۔ بیہ آس  
 بڈہ بڈہ پرنہ خوفہ کم کم آوازہ سیت پران عاجزی تہ خوفہ سان بِالْغُدُوِّ وَالْأَصْصَالِ صبحس تہ شامس تہ  
 یعنی ہمیشہ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ بیہ مہ آس غافلوا آندہ تم تمہہ ذکرہ تہ تراوان جھہ بمن ہند حکم پھو  
 تہ بیہ سیٹھاہ ضروری جھہ۔ حاصل پھو کہ یاد خدا کر جھہ وقتہ گڑھہہ عاجزی تہ خوفہ حاصل سپدن آوازہ  
 ہندہ اعتبارہ گڑھہہ نہ سیٹھاہ بڈہ یاد خدا کران، بس لوکن باعث تشویش سپدہ۔ نہ گڑھہہ بالکل سستی سان  
 ہرن سمہ سیت غفلت تہ نندر طاری سپدن نہ گڑھہہ زیادہ لو تہ ہرن یوسہ نہ پآس تہ فجرہ ترکس نہ زیادہ  
 بڈہ ہرن سمہ سیت حضورس اندر فتور ایس إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ بِشِكِّم مَلَائِكَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَذْمُومِ  
 سندن مقرب بندہ جھہ لَا يَمْتَسِكُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَبِشُونَكَ وَلَكَيْسَ جَدُونَ تم تہ جھہ تہزہ عبادتہ  
 نغہ تکبر کران۔ بلکہ جھہ تہزہ عبادتہ کران بیہ جھہس پریتھ وقتہ پاک گزران، زیوہ سیت یاد کران،  
 بیہ جھہس سجدہ ووان یعنی تالوسیت تہ تہو نداد کران۔ بیہ آہ کریمہ پرنہ سیت تہ بوزتہ سیت پھو پرہ  
 و بس تہ یوزہ نین پیٹھ سجدہ مٹہ کھسان۔ مچ دلیل جھہ کہ اللہ تعالیٰ پھو فرماوان کہ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

# وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِينَ ﴿۱۳۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحْسِنُونَ وَلَهُ يُسْجَدُونَ ﴿۱۳۱﴾

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ساری قرآن مجیدس منز چھہ ژوداھ (۱۳۰) آیہ کریمہ تمن ہندہ پر نہ سیت تہ یوزنہ سیت سجدہ تلاوت چھو مٹہ کھسان۔ امام شافعی صائس چھہ سم پنداہ آیہ کریمہ، سجدہ تلاوت چھو پر چھہ مسلمان مردس تہ زنانہ پیٹھ لیس عاقل تہ بالغ آسہ مٹہ کھسان۔ دیوانس تہ نابالغس، یا عذرہ واجنہ زنانہ پیٹھ چھونہ یہ پر نہ سیت تہ یوزنہ سیت مٹہ کھسان۔ سجدک آیہ کریمہ ہر گاہ روان پیہ پر نہ تلہ چھو سجدہ مٹہ کھسان ہر گاہ چہ کڈت الگ الگ حروف پر نہ یں تلہ چھونہ مٹہ کھسان۔ سجدک کانہہ آیہ کریمہ ہر گاہ بے وضو پر نہ لیہ چھہ چھونہ کانہہ خرچ۔ مگر سجدہ گوشہ نہ بے وضو دیں۔ بلکہ گوشہ میہ کتہ وقتہ سمہ ساتہ وضو آسیس سجدہ دیں۔ ہر گاہ نماز اندر آیہ سجدہ پر نہ لیہ سو سجدہ گوشہ تمی ساتہ امامہ سندنہ مقتدین ہند تہ ادا کرن۔ سجدہ تلاوت ادا کرنک شرط چھہ شہ ۶ چیز۔ طہارت بدن آسن، طہارت لباس آسن۔ طہارت جای آسن، استقبال قبلہ آسن، ستر عورت آسن بیہ سجدہ تلاوت نیت کرن، سم گے شہ چیز سم نمازہ ہندہ خیطرہ ضروری چھہ۔ اتھہ پاٹھ کانہہ نمازہ تموشیہ چیز وورای دُرس تہ چھنہ اتھہ پاٹھ چھونہ سجدہ تلاوت تہ تموشیہ چیز وورای دُرس تہ۔





## سُورَةُ الْأَنْفَالِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا  
اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ  
مُؤْمِنِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ  
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ جہادس آندرئس مال دُشمئس نشہ حاصل کرے لیہ تھہ جھہ مال غنیمت و نان۔  
بیا کہ ناؤ چھو تمیک نفل تمموی جمع گوانفال۔ چونکہ یتھہ سورہ شریفس منز چھہ جہادک تہ مال غنیمتک  
احکام امی مناسبہ آؤ یتھہ ساری سورہ شریفس سورہ انفال ناؤ تھاونہ۔ یہ حکم آویان کر نہ تھہ وقتہ سمہ  
وقتہ جنگ بدرس منز صحابہ صمیم آندر جوان مجاہدن تہ ہڈین آندر اختلاف سپد۔ جوانو دوپ کہ مال  
غنیمتک حقدار چھہ آسی بوڈیو صاحبو دوپ چو چھہ آسہ تہ آس تھند مددگار، لہذا آڑھہ آسہ تہ آسہ منزہ حصہ  
ترن، یو ہے اختلاف کور تمو پیش در خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تی ساتہ سپدیہ آیہ کریمہ  
نازل یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان پر ثھان چھہ توبہ صحابہ صیب یار رسول اللہ مال  
غنیمتہ تقسیمک حکم قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ تہہ فرماؤ یو کہ کہ مال غنیمت چھو خدایہ سند سپازہ فتح و  
نصرت عطا کرہ ون چھو سوی۔ بیہ تھندس پیغمبرہ سند یہندہ واسطہ اللہ تعالیٰ احکام جاری کران چھو  
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ کس کھو ٹرو خدائس بیہ کرو باہمی تعلقاتن اصلاح۔ پانہ وان مہ تھاوو  
بُغْضٍ وَحَسَدٍ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حکم ملاؤ خدایہ سند تہ تھندس پیغمبرہ سند ہر گاہ تہہ  
یا ایمان چھوہ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ بِالْإِيمَانِ كُنْتُمْ نَشْرًا بِلَهُ  
ذکر کر نہ آیہ خدایہ سنز، تھنز عظمک زیر نظر اتھہ چھہ شان تھند دل وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۲) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا  
 رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۳) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ  
 دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۴) وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۵) كَمَا  
 أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
 لَكِرْهُونَ ۶) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ  
 إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۷) وَإِذْ يُعِدُّكُمُ اللَّهُ إِحْدَى

ایماناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سے پہلے پر نہ یوں چھہ تمہن پیٹھ خدایہ سند آیات۔ ہر ان سے مضبوط چھہ سپدان تموند ایمان، بیہ چھہ تم پنہ نسبی پروردگار سے پیٹھ اعتماد سے توکل کران الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تم بایمان گئے تم سے تم قاسم سے برپا چھہ تھوان نماز۔ یہ نُس مال اسی تمہن عطا کور تمہہ منزہ چھہ خرچ کران خدایہ سزہ وہیہ اندر اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا تمے کیا گئے پز پانٹھ بایمان لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ۴) وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۵) چھہ تھندی خیلرہ چھہ تھندیس پروردگار سے نشہ تھدی درجہ بیہ یوڈ مغفرت سے عزتک رزق کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ یہ ہند مال غنیمتس منزہ اختلاف کران بیہ نہ تہزہ ہ مرضی مطابق یہ تقسیم سپدن چھو لہہ مصلحتہ موجب۔ چھہ پانٹھ توبہ کڈوہ پن پروردگارن پنہ گھر ہستی سے شہرہ منزہ اکس خاص مصلحتس پیٹھ یعنی مال غنیمتس اندر اتہزہ ہ مرضی موافق تقسیم نہ سپدنس منزہ چھہ مصلحت۔ چھہ پانٹھ تھندہ ہمدینہ شریفہ منزہ میدان بدرس گن کڈنس اندر مصلحت آس وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكِرْهُونَ درحالیچہ اکھ جماعتہہ آس بایمانواندرہ تھندیس تمہہ وقتہ کس مدینہ شریفہ اندرہ نیر نُس ناپسند کران يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ بحث و قضیہ آس کران تم توبہ سیت مشورہ پانٹھ پزہ کتھہ منزہ تمہہ ظاہر سپد نہ پتہ۔ بے سلاح و سامان جنگس نیزن قریش سیت جنگ کران تم باسلاح و سامان آس اوس تمہن ثبوت مشکل لبہ یوان كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ زن تم پکناونہ آس یوان مارنہ خیلرہ اچھن ڈیشمان۔ یعنی تم آس مر نکب

الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ  
تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ  
الْكَافِرِينَ ۝ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝<sup>۸</sup>  
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ  
سَنِ الْمَلَكَةِ مُرَدِّفِينَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ الْإِبْرَئِيْمَ وَلِطْفَتَيْنِ  
بِهِ قُلُوبَكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

اسباب بے سرو سامانی بنی و چھان۔ وَاذْ يَعِدُكُمْ اللَّهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اَنْهَا لَكُمْ نُبْه كرم و سؤ وقت  
یادیلہ اللہ تعالیٰ ان بذریعہ وحی بواسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرمود کہ دشمن ہنز و دویو جماعتو  
اندرہ چھہ آکھ جماعت ضرور تہندہ خیطرہ تمن بیٹھ سپد و تہہ غالب و تَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ  
تَكُونُ لَكُمْ نُبْه آسبہ ہند کران کہ غیر مسلح جماعتی گدھہ سانس اتھس منزین تمن سیت نہ مقابلہ تہ  
جنگ پیہ ہاکرن مگر وَيُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ اوس یشھان کہہ  
سؤ پزہ راوہ ہاؤ پز پندہ حکمہ سیت پیہ گالہ ہا مول کافر نہ ہند لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ  
کافر نہ ہند مول گلنہ سیت تہ بیٹھ پز یک پوز آسن تہ اپز یک اپز آسن اللہ تعالیٰ وارہ ثابت کرہ اگر چہ  
نافرمان ای تن سؤ نا پسندی إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ یہ گوسوی وقت سمہ ساتھ فریاد  
آسبہ کران تہہ پنہ نس پروردگار سن، مکان آسبہ نس فتح و نصرت نس کر تم اجابت تہندس معہ  
نَسَ اِنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِيسَنِ الْمَلَكَةِ مُرَدِّفِينَ یہ فرمانہ سیت کہ بو کرہ توبہ مدد، آکھ ساس ملک  
سوزنہ سیت تم آکھ آس سیت آسن روز تھ لیجئ تھ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ الْإِبْرَئِيْمَ وَلِطْفَتَيْنِ بِه قُلُوبَكُمْ  
یہ ملائک ہندہ ذریعہ مدد کران کورنہ اللہ تعالیٰ بن مگر تہندہ خوش کرنہ خیطرہ۔ بیٹھ تہند دل اسباب فتح و  
نصرت و بھتہ خوش گوش۔ یہ بیٹھ تہند دل قرار رثن وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ھیتس منز چھہ  
نصرت تہ یاری مگر خدایہ سدی طرفہ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ پز پائھ اللہ تعالیٰ چھو زبردست تہ حمتہ

حَكِيمٌ ۱۰ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اَمْنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ  
 مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَّهَّرَكُمْ بِهِ وَيُدْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ  
 الشَّيْطٰنِ وَلِيُرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهٖ الْاَقْدَامَ ۱۱ اِذْ  
 يُوحٰى رَبُّكَ اِلٰى الْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا  
 سَالِقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَاَضْرِبُوا فَوْقَ  
 الْاَعْنَاقِ وَاَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنٰنٍ ۱۲ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

دول اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اَمْنَةً مِّنْهُ بے پاو و ژئیس سو وقت بيمه وقتہ اللہ تعالیٰ ہن توبہ بندہ ہنزمای  
 وجوہ پینہ طرف۔ توبہ پورہ سکون تہ قرار دنہ خیرہ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَّهَّرَكُمْ بِهِ  
 بے پاو و ژئیس تمہہ بروئٹہ سمہ ساتہ او سُن توبہہ پیٹھ آسکھہ طرفہ رُود تروومت۔ بیٹھ تہہہ تمہہ رُودہ سیت  
 پاک کرہ بے غُسل کرن غُسل تہ بے طہارت کرن طہارت وَيُدْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ بے  
 بیٹھ سو دُور کرہ توبہہ نغہہ شیطانہ سبہہ وسوچ ناپاکی وَلِيُرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ بے بیٹھ تہی سیت تہہہہ دل  
 مضبوط کرہ وَيُثَبِّتَ بِهٖ الْاَقْدَامَ بے بیٹھ تمہہ رُود پینہ سیت تہہہہ کھوروارہ درراوہ۔ کیاہہ بیٹھ تہہہہ  
 رُود پینہ سیت دران۔ میہہ ہچھہ رُود پینہ سیت رَب دو تھان اِذْ يُوحٰى رَبُّكَ اِلٰى الْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ مَعَكُمْ بے  
 پاو و سو وقت ژئیس سمہہ ساتہ تہہہہ پروردگار حکم سوزان اُوس تہن ملائکین اُن تم تہہہہ مددہ خیرہ  
 سوزنہ آمت آس۔ اے ملائکو و سو میان بالیمان بندن بندہ مددہ خیرہ۔ بو تہہہہ چھوس توبہہ سیت  
 مددگار فَثَبَّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اے ملائکو مددگار زانتھ تھاو تہہہہ مضبوط بالیمان بند دل سَالِقِىْ فِىْ  
 قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرَّعْبَ بو تراوہ کافر ہن دین دلن اندر خوف تہ وحشت فَاَضْرِبُوا فَوْقَ  
 الْاَعْنَاقِ وَاَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنٰنٍ بے شمشیرہ ژنڈ دیو کھہ گردن پیٹھ بے ژئیکہ تانہ تانہ ذٰلِكَ  
 بِاَنَّهُمْ شَاقُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ بے سزا چھو تہن اسی سببہ کہ تم بو کر مخالفت خدایہ سزہ بے تہہہہہ سزہ  
 وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ بے بے اکھاہ خدایہ سزہ تہہہہہ سزہ پیغمبرہ سزہ

شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۳﴾ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ  
 عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ يَقْتُمُوا الَّذِينَ  
 كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْآدْبَارَ ﴿۱۵﴾ وَمَنْ يُؤْلِهِمْ يَوْمَئِذٍ  
 دُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ  
 بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۶﴾  
 فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ

مخالفت کرہ تس کرہ اللہ تعالیٰ سخت عذابس گرفتار۔ ذلکم فذوقوه وان للکفرین عذاب النار  
 اسم عذابک مزہ ژہو تہہ بہہ زاویہ تہہ کہ کافران ہندہ خیطرہ چھونار جہنمک عذاب آخرتس اندرامہ  
 دنیا کہ عذابہ علاوہ یا ایہا الذین امنوا اذ یقتموا الذین کفروا زحفا ای باایمانو یلمہ تہہ کافران  
 سیت مقابلہ کر نہ لکو پتھر زمیس پیٹھ وستھ پیادہ فوجی ہتھ فلا تولوہم الادبار نس مہ پھر و تمن کن  
 پشت پن پان بچانہ خیطرہ و من یولہم یومئذ دبرہ نس اکھاہ امہ ذوہہ کافران کن تھر پھر تھ  
 ژکن بہہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فتنة مگرے پشت پھران تمن کن ججکھ عنہ مصلحتہ خیطرہ یا  
 امدادی فوجس سیت شامل سپدن خیطرہ تلہ چھونہ کانہ حرج۔ نتہ نس ژلنہ خیطرہ تمن کن پشت پھرہ  
 فقد باء بغضب من اللہ نس تھیق سو آو خدایہ سز بڈ بیزاری ہتھ۔ و ماوہ جھنم ہنز جای  
 جھہ نار جھنم و بیئس المصیر سیٹھاہ جھہ جاری جھہ سو جھنم فلم تقتلوہم و لکن اللہ قتلہم ای  
 مسلمانو توہہ مارو کھہ نہ تم کافر جنگ بدرس منز۔ بلکہ مار تم اللہ تعالیٰ ان پانہ و ما رمیت اذ رمیت و  
 لکن اللہ رکلی اے پیغمبر برحق تہہ ہمز چھونہ میڑہ موٹھ یلمہ بظاہر نمی چھوہ بلکہ چھ سو پانہ اللہ

وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ وَلِيُبَلِّغَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۸﴾ إِنَّ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْمُ ﴿۱۹﴾ وَإِنْ تَنْتَهُوا فهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴿۲۰﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْدَاءَ وَلَنْ نَغْنِيَّ عَنْكُمْ فَمِتُّكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ﴿۲۱﴾ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتُّمَّ تَسْعُونَ ﴿۲۳﴾ وَلَا

تعالیٰ ان۔ یہ کور اللہ تعالیٰ ان اٹھ یتھہ کافرن مغلوب کرہ۔ وَلِيُبَلِّغَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا یہ یتھہ اللہ تعالیٰ بالایمان پینہ طرفہ رت انعام واحسان عطا کرہ۔ یعنی کوم کر حقیقتاً تم پانہ مگر سوی کوم کرن مسلمان ہند یوا تھویا نبی کریم سیدہ دست مبارکہ یتھہ تم امیک ثواب تہ اجر یہ یوڈ انعام حاصل کرن اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پز پانھہ اللہ تعالیٰ چھو سمن بالایمان ہمزہ سارے تھہ یوزہ ون یہ یہند اعمال و افعال پور و چھہ دن ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ اٹھ گئیہ یہ تھہ۔ دویم تھہ چھہ یہ اللہ تعالیٰ اس آس کافرن ہند ساری تدبیر سست تہ بیکار کرن اِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْمُ ای کافر و ہر گاہ تہہ فیصلہ ژھانڈان چھہ بیشک سو فیصلہ سپد ظاہر۔ مسلمان سپز فتح حاصل۔ سیمہ سیت معلوم سپد کہ تھند دین چھو پوز دین۔ تمی دتھ شوبہ پیردی کرن اِنْ تَنْتَهُوا فهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وون ہر گاہ تہہ شر کہ نشہ پتھ روز تھہ مسلمان سپدوتہ چھو تھندہ خیطرہ سیٹھاہ بہتر اِنْ تَعُدُّوا نَعْدَاءَ ہر گاہ تہہ دوبارہ یہہ شرارت کرو تلبہ چھہ اس تہ دوبارہ اسلامس تہ مسلمان مدد کرنہ خیطرہ تہ کافرن شکت و نہ خیطرہ تیار۔ توبہ مہ روزن خیال کہ آئندہ کرو اس امہ خوتہ بد لشکر جمع یہ تھواڑہ یقین کہ وَلَنْ نَغْنِيَّ عَنْكُمْ فَمِتُّكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ہر گز دینہ نہ توبہ کانہہ فایدہ بد جماعت تھنز اگر چہ آستن سو سیٹھاہ زیادہ تعداہ کن۔ یہہ چھہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ چھو بالایمان سیت پر یتھہ وقتہ مددگار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتُّمَّ تَسْعُونَ ای بالایمانو فرمانہرداری

تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۳۱﴾ إِنَّ  
 شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا  
 يَعْقِلُونَ ﴿۳۲﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعَهُمْ وَلَوْ  
 أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿۳۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

کرد خدایہ سزاییہ ہندس پیغمبر سزاییہ مہ کمر و ہندسین احکام من تعمیل کرنے لغہ روگردانی۔ در حالیکہ تہہ  
 چھوہ خدایہ سند کلام، پیغمبر سند و عطا بوزان۔ تی و جہوہ اعتقاد بوزان۔ تھے پانٹھ کمر و تھن حکم پیٹھ عمل  
 تہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تہہ مہ آسو تھن لوکن ہی سم زیوہ سمیت  
 ونان چھہ بوزاسہ، مگر بوزان چھہ نہ کہہ نہ یعنی عمل چھہ تھہ پیٹھ کران کہہ نہ۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ  
 الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ہز پانٹھ ساروی جاندار و اندرہ چھہ بدتر اللہ تعالیٰ اس لغہ  
 تہ تم پیٹھ بوزنہ لغہ زر آسن، پیٹھ و نہ لغہ کل آسن۔ سمکن نہ پیٹھ تہہ قسمہ فخرہ تران آسہ۔ پیٹھ  
 گے تم سم اعتقادہ باوجود عملہ اندر کوتاہی کرن یعنی مسلمان آتھہ کرن تعمیل احکام کر س اندر سستی تم  
 گئے نہ بدتر مگر بدتر تہہ گئے ضرور تھن ہزہ تمہہ لغہ پیٹھ روزان وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعَهُمْ  
 وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ہہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ تھن کافرن منز زانہ ہا کانسہ خیر و بر کتھہ تلہ  
 شاید بوزنہ ناوہ بیکھہ یعنی توفیق دیہ بیکھہ بوزنگ۔ تو پیٹھ ہر گاہ بوزنہ ناوہ بیکھہ تہ، تو پیٹھ تھن تہ روگردانی  
 کرہ تھن تم ہزہ لغہ پیٹھ پھر تھہ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا  
 يُحْيِيكُمْ ای با ایمانوا سہہ کھماہ کور تھوہہ سمہہ برو تھہ کہہ تعمیل احکام تہ اطاعت و فرمانبرداری کرو،  
 تہ کر آسہ ہندی فایدہ خیطرہ تمہہ سمیت بہہ تھہز حیات ابدی۔ لہذا ما لو حکم خدایہ سندیہ پیغمبر خدایہ سندیہ  
 نادویہ توہہ سو پیغمبر خدا تھہ کلمہ کن یوسہ توہہ زندہ تھوہہ یعنی و نیس کن۔ سمہہ سمیت دائمی زندگی میسر  
 سہدان چھہ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ہہ زانو کھہ تھہ کہہ اللہ تعالیٰ چھو تھور سہدان

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ  
 تُحْشَرُونَ ﴿۲۳﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا  
 مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۴﴾  
 وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ  
 أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ

شخص سے تہمتیں دے کر منز دُوبو طریقوں سے کہ گواہی مانے سندس دے کہ چھوڑنا اطاعت سے بڑھ کر کفر و مہینے  
 کن نوان۔ بیا کہ گواہ فرہ سندس دے کہ چھوڑنا مخالف شامتہ سے نحوستہ ایمان و اطاعت کن کا نہ اتھ و تھ  
 دوان۔ امی اندرہ سپد معلوم طاعت و فرمانبرداری پیٹھ مداومت سے ڈاڈ کرن ہتھ سیٹھ مفید۔ مخالف سے  
 نافرمانی پیٹھ ڈاڈ کرن ہتھ سیٹھ مضر وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بیہ زانوہ کہ تھ کہ تھہ ساری ایوٹس معبود  
 برحق نشہ سوئرنہ۔ سوی ویہ فرمانبرداری رت جزا نافرمان سخت سزا۔ ہتھ پاٹھ توہہ پیٹھ پینہ  
 اصلاحہ خیطرہ فرمانبرداری واجب ہتھ پاٹھ چھو واجب توہہ پیٹھ بین لوکن ہند اصلاح کرن۔ تمن  
 منز فرمانبرداری ہند شوق پیدہ کرن۔ اتھ سیت۔ ہر گاہ ممکن سپدس زیوہ سیت۔ ہر گاہ ممکن سپدس  
 تعلقات ژفہ سیت۔ ہر گاہ ممکن سپدس یا صرف دے اندر نفرت کرنہ سیت۔ یہ گوئی شم درجہ ایمانگ  
 ۔ ورنہ سس مہانت کرہ یعنی گناہ و چھ توہہ کرہ نہ تھہ تردید تلہ چھو تمہ گنہگ وبال سے سزاس شخص  
 تہ۔ یلہ حقیقت یہ ہتھ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً لہذا کھوژو تھہ  
 بلا یہ یوسہ نہ خاص تمنی یا ژولہ ایہ۔ سمو توہہ اندر ظلم و نافرمانی کر بلکہ سپدس تھہ منز ساری گرفتار  
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بیہ زانوہ کہ اللہ تعالیٰ سب عذاب چھو سیٹھ سخت وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ  
 قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ بیہ پاوژ تمیں یلہ تھہ ہجر تہ برو تھہ کم تہ کمزور آسوہ متہ شریفس اندر  
 تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ تھہ آسوہ کہ تھہ مانوہ لوکھہ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ تھہ حاس اندر وژ  
 وہ چھن جای خدائین مدینہ شریفس اندر۔ بیہ کر نوہ تائید پینہ مدہ سیت وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ



مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۴۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْثَلَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۷﴾  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَوَالِكُهُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ  
عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۴۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ  
يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴿۴۹﴾

تَشْكُرُونَ بیه کر نوه رُت رزق عطا یُتھ تہہ شکر گزار ی کُرو و یا ایُّھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ  
وَالرَّسُولَ ای با ایمانواس ہجھہ توبہ مخالفتہ تہ نافرمانی نشہ سہمہ موکھہ ممانعت کران کہ توبہ پیٹھ ہجھہ  
خدا یہ سہد تہ پیغمبر خدا یہ سہد کہنہ حق مہد۔ تم بجائہ سہت واتہ توبہ نفع تہ فائیدہ۔ نافرمانی سہت جھو تمین  
حقوقن اندر خلل تہ نقصان واقع سپدان۔ سہمہ سہت تہندہ سئ نقص تہ فایدس منز خلل تہ نقصان واقع  
سپدان جھو۔ بلہ یہ تھہ توبہ فہرہ ترہ۔ لہذا مہ تراوو خلل بیه مہ کرو خیانت خداور سولہ سہدین حقن اندر  
وَتَخُونُوا أَمْثَلَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ گو تحقیقس اندر تہند پنے نین قابل حفاظت چیزن اندر خلل تہ نقصان  
وانتاون۔ ویدہ ودانتہ۔ زانتھ کر تھہ۔ اکثر اوقات جھو مالک تہ اولادن ہند محبت خُل سپدان خداو  
رسولہ سزہ فرمانبر داری۔ لہذا ویدہ تہہ خداور سولہ سہدس محبت و اطاعتس ترجیح مال و اولادن ہندس  
محبتس پیٹھ۔ یُتھ اس و جھو کہنہ اکھاہ جھو مال و اولادن ہندس محبت ترجیح دو ان سانس محبتس پیٹھ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَوَالِكُهُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وارہ زانو کہ تہند مال تہ اولاد  
جھہ لہہ آزمائش تہ امتحانگ چیز یہ زانو کہ اللہ تعالیٰ اس نشی جھہ بدمزدو تمین لو کن ہندہ خیطرہ سم تہندو ی  
محبت زیادہ تھاوان جھہ بین ساری ہندہ خو تہ یا ایُّھا الذین آمنوا ان تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ای  
با ایمانو ہر گاہ تہہ کھو ترو خدا سس، تہہز کُرو پور اطاعت سُو کرہ توبہ امتیازی نشانہ عطا و یُکَفِّرْ عَنْكُمْ  
سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ بیه کرہ دور تہزہ ہدیہ بیه کرہ مغفرت توبہ ساری  
گنہن۔ اللہ تعالیٰ جھو بوڈ فضلہ وول۔ پنے فضلہ سہت کرہ سوامہ علاوہ خبر کم کم چیز عطا۔ سم نہ وہم و

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۳۹﴾ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
لِيَتَّبِعُواكَ أَوْ يُقَاتِلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ  
وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ ﴿۴۰﴾ وَإِذْ اتَّكَلَى عَلَيْهِمْ إِيْتِنَا قَالُوا  
قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا  
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۴۱﴾ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا  
هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ

گمائن اندر ممکن تھے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَتَّبِعُواكَ أَوْ يُقَاتِلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ یہ پاؤڑ تمیں یلہ  
کافر توہمہ متعلق تدبیر تہ مشورہ کران آس دار الندوس اندر سوچان آس تہمدہ خیطرہ قید کرنہ خیطرہ یا  
قتل کرنہ خیطرہ۔ یا جلاوطن کرنہ خیطرہ مختلف تدابیر وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ تم آس ہنہ خیالہ تدبیر  
سوچان اللہ تعالیٰ تہ اوس ہن تدابیر کران تہمدہ تدابیر باطل و بیکار کرنہ خیطرہ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ  
اللہ تعالیٰ جھو بہتر تہ رُت مضبوط تدبیر کرہ ون۔ چنانچہ تہمدہ ساری تدبیر سپد ناکام۔ نبی کریم صلی اللہ  
علیہ وسلم واتنا اللہ تعالیٰ ان تمنی کافرن برو تھ کن پکنا و تھ وارہ کارہ بصحت و سلامتی مدینہ مؤرس منز  
وَإِذْ اتَّكَلَى عَلَيْهِمْ إِيْتِنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا یہ یلہ پر نہ آس یوان تمن  
کافرن برو تھ کنہ سان آیات۔ و نان آس تم بیشک اسہ بوزیہ کلام یہ جھونہ کانہہ مُجْر۔ ہر گاہ اس ارادہ  
کر و اس تہ ہی کو تھ کلام پیش کر تھ ان ہذا آلا اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ جھونہ کنہ تہ مگر بے دلیل  
تھ پونہ۔ سمہ تھ برو تھمین نشہ نقل کرنہ آثرہ جھ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ  
عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بَعْدَابِ إِلَيْهِ امہ خوتہ جھ قابل ذکر یہ تھ کہ سم  
آس ونان کہ خدایا ہر گاہ یہ قرآن مجید پڑ پاتھ جھو چانی طرفہ تلہ تراو تھ نہ مانہ خیطرہ اسہ پیٹہ آسماعہ  
طرفہ کنہ رُود۔ نتہ واتنا اسہ نشہ کڈر عذاب۔ یہ آس نہ تمن خبر کہ خدایہ سزنا کما میں اندر جھ خاص  
مصلحہ آسان عذاب نہ کرہ کس منز چھہ کہہ وجوہ آسان تمن وجوہن تہ مؤانن ہند بیان جھو امہ پتہ۔

وَأُثِّبْنَا بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ  
 فِيهِمْ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝  
 وَمَا لَهُمُ الْأَيْدِيَّ بِهَمُّ اللَّهِ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّ أَوْلِيَاءَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ  
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ  
 عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً وَتَصَدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ  
 بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَنْفِقُونَ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ تعالیٰ کرہ نہ ہرگز تمہیں عذاب تمہے تین منز موجود آسکس  
 حاس اندر وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہ تمہے پاٹھ کرہ ہا اللہ تعالیٰ تین عذاب تمہے  
 حاس اندر تم آسہن عنہ عنہ وقتہ گھر کہہ رسمہ مطابق مغفرت مکان۔ طواف کران کران ”غفرانک“  
 پران وَمَا لَهُمُ الْأَيْدِيَّ بِهَمُّ اللَّهِ تین کیاہ خصوصیت آس تہ تین کرہ ہا اللہ تعالیٰ عذاب وَهُمْ يَصُدُّونَ  
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حالہ تم آس بدگناہ کران لوکن تہ پیغمبر برحق آس پتھ رنان مسجد حرامس  
 نگھہ انہ لغہ۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۚ حالہ آس نہ تم لو کہ مسجد ہند متولی تہ اختیارہ وال۔ حج قالیٹھی  
 آس نہ تین۔ عنہ طریقہ اوس نہ تین تہ کرنٹ حق ان اَوْلِيَاءَ ۚ إِلَّا الْمُتَّقُونَ تمک اختیارہ وال تہ متولی  
 آج قالیٹ جھنہ مگر پر ہیز گار بدن تم گئے بایمان وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن تموا اندرہ چھ  
 ڈیٹھ کیت تین نہ اَج یعنی پنہ نا قالیٹ خبری جھہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً  
 وَتَصَدِيَةً یہ آس نہ نماز تہنز خانہ کعبہ نشہ مگر آسوسیت شرین وائین۔ یہ اٹھوسیت ژرہ پوپ  
 کزن اتھ نامعقول حرکتس آس نمازوانان فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ لہذا تہرہوون عذاب  
 تمہے گھر ہدل بس تہہ کران آہوہ ان الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٢٧﴾ لِيَبْئُرَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٢٨﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا

ہر پانچواں تم کافر چھتم تم چھہ مال بہن خرچ کران لوکن منز خدا یہ سزہ وہ تہ نغہ پتھہ رنہ خیطر ہ۔ ہو گئے تہنز بدنی عبادت یہ کیدہ تہز مالی عبادت فسینفقونہا ثم تکون علیہم حسرہ ثم یغلبون آئندہ تہ روزن تم امہ خیطر ہ مال خرچ کران۔ پتولا کہ سپدہ سوماں تہندہ خیطر ہ حسرتک سبب۔ پتولا کہ سپدن مغلوب تہ ذلیل۔ یہ گوکھہ ذنیاعک عذاب۔ آخر تک عذاب گوکھ الگ والذین کفروا الی جہنم یحشرون سمو لو کو کفر کور تم ساری بن سونیر اونہ قیامتک دوہ جہنمئس منز سوزنہ خیطر ہ لیبئیر اللہ الخبیث من الطیب یتھ اللہ تعالیٰ الگ کرہ ناپاک لوکن پاک لو کونغہ ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض یہ دیر بر تھہ ناپاک لوکن اکس پیٹھہ فیرکبہ جمیعًا فیجعلہ فی جہنم یعنی اکھ اکس سبت بچھہ تھہ تھو تھہ کھارہ تمن سارنی اکھہ ذیراہ۔ تو پتہ دیکھ یکہ وڈہ بر تھہ جہنمئس منز اولیک ہوا الخسرون سے لوکھہ کیا گئے تاوان زدیتھ تاوان زدگی نہاتھی چھونہ قل للذین کفروا ان ینتھوا یغفر لھم ما قد سلف فرماویک تھہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافرن سمن برو تھم مضمون بو ز تھہ یکھنہ اثر سپد مت آسہ کہ ہر گاہ تم کفر ہ تہ شر کہ نشہ پتھہ روز تھہ مسلمان سپدن تمن لیہ برو تھس ساری بخشاش کرنہ وان یعودوا فقد مصت سدت الاولین ہر گاہ دوبارہ یہ کفرے کرن بدستور روزن کفر سی پیٹھہ۔ جس چھہ برو تھمین کافرن ہنز روش گذرے مڑی۔ تمبو کیاہ کور تہ تمن کیاہ بیو ذوقا ولوھم حشی لا تکون فتنہ تھہ کفر یارسول اللہ تمن کافرن سبت جماد۔ ہر گاہ تم کفر سی

فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۸﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۹﴾ وَإِنْ تَوَلَّوْا فاعلموا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۴۰﴾  
وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ  
لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ

پیٹھ روزن یوتان یہ شرک و کفر کے سیدہ ختم۔ وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ پرستہ طرفہ پھیلے  
دین خدایہ سندی فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ توپتہ ہر گاہ تم پتھ روزن کھرہ نعرہ  
اللہ تعالیٰ چھو تہزہ سارے کامے و چھان وَإِنْ تَوَلَّوْا فاعلموا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ  
وَنِعْمَ النَّصِيرُ ہر گاہ تم روگردانی کرن۔ تہہ روزو مضبوط۔ خدایہ سندا ناو پتھ کھر و تہند مقابلہ۔ تہہ  
زانو ہر پاٹھ کہ اللہ تعالیٰ چھو تہند رفیق۔ سوی چھو رت رفیق تہ رت مددگار تہند وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا  
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ بیہ زانو بیہ تہہ وارہ کہہ تہیق بیہ کیہ ہاہ توبہ کافر ان نعرہ مال غنیمت حاصل کرو جس و تھو تمیک  
کھم۔ تھہ سارسی گڑھن پانزھہ حصہ کرنہ بن۔ توپتہ گڑھن تھہ پانزھہ مس حصہ بیہ پانزھہ حصہ کرنہ بن۔  
تمہہ منزہ پانزھہ حصہ خدائس تہ تہندس پینمبرہ سندہ خیطرہ تھون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرن  
نیابتہ خدایہ سندا حصہ وصول توپتہ کرن تم خرچ تمہہ منزہ پنہ نین ذاتی اخراجاتن پیٹھ۔ بیہ پنہ نین اہل  
قرابتن پیٹھ سموا ابتداء پیٹھ تمن نصرت و مدد کور۔ بنی ہاشم، بنی مطلبو اندرہ سخن زکوٰۃ رٹن تھہ حرام،  
بیہ تہیق تہ حاجت مند مسلمانن پیٹھ۔ بیہ مسافر ن پیٹھ۔ تمہہ پتہ تم ڈور حصہ مال غنیمتک باقی تھہ تم بن

الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعِينَ ط وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۱﴾  
 إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوَّةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوَّةِ الْقُصْوَى وَ  
 الرِّكْبِ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ط وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتَلَفْتُمْ فِي  
 الْمُبْعَدِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ  
 مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ط وَإِنَّ

شکرہ پیٹھ تقسیم کرنے۔ سوارس زہ حصہ، پتھر یکہ ونس اکھ حصہ۔ اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِكَ يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعِينَ ہر گاہ توہمہ پڑھ کر وہ خدائیس۔ بیہ کور وہ تس پیٹھ یقین۔ بیہ تھ پیٹھ یہ آسہ نازل کور پنے نس بندہ خاص، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دوہہ۔ یعنی جنگ بدر کہ دوہہ۔ سمہ دوہہ زہ جہاز با ایمان تہ کافر، اور ہ یوم مقابل سپدہ۔ یوم الفرقانہ اندر چھو مراد جنگ بدر کہ دوہہ۔ سمہ دوہہ ہزس تہ اہزس فرق آہ کر نہ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللہ تعالیٰ چھو پر تھ جیرس پیٹھ پور قدرت تہ وول إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوَّةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوَّةِ الْقُصْوَى سمہ دوہہ تہہ آسوہ اے با ایمان میدان جھہ کس کنارس پیٹھ نیس مدینہ شریفس نزدیک اوس۔ کافر آس میدانہ کس تھہ کنارس پیٹھ نیس مدینہ شریفہ نشہ دور اوس۔ وَالرِّكْبِ أَسْفَلَ مِنْكُمْ أَبُو سَفِيَّانَةَ سُدَّ قَافِلَهُ اوس توہمہ یونمہ طرفہ سمندرہ کس کنارس قریب پکان وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمُبْعَدِ ہر گاہ تہہ فریقین پانہ وان جنگ کر نہ خیطرہ کانہ وقماہ مقرر کرہ ہو۔ تھہ وقس منز گوہہ ہوہ توہمہ اختلاف تہ نیس و پیش ممکن اوس کہ پنے کم سامان آسہ موکھہ ملیہ ہو نہ تہہ وقس پیٹھ وَلٰكِنْ مگر اللہ تعالیٰ ہن سو نبر اوہ تہہ اور ہ یور وقت مقرر کر نہ ورائِ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا بیٹھ اللہ تعالیٰ جاری کرہ سو حکم نیس تمس کردن اوس یعنی عزت اسلام شکست کفر لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ یہ تدبیر کمر اللہ تعالیٰ ان بیٹھ یہ نین قدرت و چھت ہلاک گڑھہ وان تہ ہلاک گڑھہ دلیل و چھت۔ زندہ روزہ نیس زندہ روزہ دلیل و چھت۔ یعنی پر تھہ اکس سپدہ معلوم قدرت خدا۔ تھہ پاٹھ

اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾ اذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا  
 وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ  
 وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۳﴾ وَ  
 اذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّيَّبْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ  
 فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ط وَإِلَى اللَّهِ  
 تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۳۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذِ الْقَيْتَمُ فَرَّتْ

کھرتم تم نیری مسلمان۔ سازو سامانہ ورا کی کھرتھ فتح عطا وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ بيه چھو بیٹھک اللہ  
 تعالیٰ سوری بوزہ ون، سوزی زانہ ون اذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا سُووت تہ چھو یاد کرس  
 قابل بیلہ اللہ تعالیٰ اَن ہاووہ تو بہہ کافر ن ہنز لشکر خو ائس منز کم وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ ہر گاہ  
 تو بہہ ہاووہ ہوہ سہو لشکر زیادہ تعدادہ کن تلہ سپدہ ہو نہہہ کم ہمت وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ بيه کرہ ہو نہہہ  
 ضرور اختلاف جہاد کرس اندر وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اللہ تعالیٰ اَن تھاووہ تموووشوی چیز دو  
 نہہہ بسلا مت۔ نہ کھروہ تو بہہ اختلاف نہ سپدوہ نہہہ کم ہمت إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہز پانٹھ سو  
 چھو پور زانہ ون وَاذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّيَّبْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ  
 بيه پاوور تیس بیلہ اللہ تعالیٰ اَن ہنز ن نظر ن اندر اَن تم کی سہہ ساتہ تو بہہ مقابلہ ہو توہ کرن۔ ہنز ن  
 نظر ن منز تہ ایتوہ نہہہ گئی بیٹھ جانین مقابلک جذبہ مضبوط سپدہ۔ لِيَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا بيه  
 تہ کور اللہ تعالیٰ اَن بیٹھ سو پورہ کرہ تھہ خمس لیس خمس بہر حال کرن اوس۔ عزت اسلام۔ شکست کفر  
 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ خدایہ سی کُن چھہ سارے کامہ رجوع کران يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا  
 لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ای ایمانو بیلہ نہہہ جمادس  
 منز سمکھان آسو کافر ن ہندس کٹھہ جماعتس سیت۔ تمہہ ساتہ گڑھہہ تین چیز ن ہند پورہ خیال تھاوون اکھہ  
 گڑھہہ ثابت قدم روز ن، تَرُنْ گڑھہہ نہ۔ بيه گڑھہہہ سینٹھا یاد خدا کرن بیٹھ نہہہ کامیاب سپدو۔ یاد خدا سیت

فَاتَّبِعُوا وَأُذَكِّرُوا وَاللَّهُ كَثِيرٌ أَعْلَمُ تَفْلِحُونَ ﴿۳۵﴾  
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ  
 رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۳۶﴾ وَلَا تَكُونُوا  
 كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَ  
 يُصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ ﴿۳۷﴾  
 وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لِغَالِبٍ لَكُمْ  
 الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَآتِ الْفَيْتِنَ

چھوڑ دی توئی سپدان وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ بیہ گزھہ خدایہ سنزیبہ تھندس پیغمبرہ سنز فرمانبرداری  
 کرن کانہہ کاماہ گزھہ نہ خلاف شرع سپدن وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ بیہ گزھہ نہ پانہ  
 دان ہرہ ہرہ تہ قضیہ کران تمہہ سیت گزھہ پست ہمت تہ سست۔ بیہ دو تھہ تھند رعب وداب لوگنی ہنزن  
 نظرن اندر وَأَصْبِرُوا بیہ کمر و صبر إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ پڑ پانھہ اللہ تعالیٰ چھو صبر کرہ ونین  
 سیت سیت۔ تمسند سیت آسوی چھو نصر تک باعث وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ  
 بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ بیہ مہ آسو تہہ تمن کافر لوگن ہی یم درای اتھ جنگس منز پنہ نیوشہر و منزہ  
 تکبر و غرورہ سان۔ بیہ لوگن تھیکان تھیکان وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بیہ درای اوکھ پتھر رنہ خیطرہ  
 خدایہ سنزہ و تہ نشہ۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ اللہ تعالیٰ چھو تھنزن ساری کامن احاطہ کرہ ون  
 إِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ بیہ کمر و سودوہ یاد سمہ دوہہ شیطان تمن کافرن آندرو سوسجہ ذریعہ  
 زینت دیت وَقَالَ لِغَالِبٍ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ دو پتھہ آڑ پو شہ نہ توہہ کانہہ تہ لوگو اندرہ وَإِنِّي  
 جَارٌ لَكُمْ یو چھوس پانہ تھند مدگار فَلَمَّا تَرَآتِ الْفَيْتِنَ نَكَّصَ عَلَى عَقَبَيْهِ اُدہ سمہ ساتہ



نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بريءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أرى مَا لَا تَرَوْنَ  
 إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٨﴾ إِذْ يَقُولُ  
 الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّهُوا إِلَيْهِمْ  
 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٩﴾  
 لَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ  
 وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٣٠﴾ ذَلِكَ

دو شوے جہاڑ (با ایمان سے کافرن ہنز) اکھ اس مقابلہ لہ شیطاں آؤ بوزنہ ملائکن ہندا نازل سپدن۔ نیکھ  
 ژول سو پوت پوتے وَقَالَ إِنِّي بريءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أرى مَا لَا تَرَوْنَ فندو، فریبو سے آپز یو وعدو سیت ناو والہتھ  
 لوکھہ ڈپنہ مہ چھونہ توہہ سیت کانہ واسطہ۔ بوچھوس وچھان تی یہ نہ توہہ بوزنہ یوان چھو اِنِّي  
 أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ بوچھوس کھوژان خدائیس۔ اللہ تعالیٰ چھو سخت عذاب کرہ  
 ون۔ خطرہ چھومہ کہ ہتھ جگس اندر مایہہ کوٹھس کانہ ژنڈاہ۔ عمرہ خیطرہ گھوہہ کوٹھہ برہم، اِذْ يَقُولُ  
 الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّهُوا إِلَيْهِمْ سمہ دوہہ منافق یہہ تم کوکھ یہہ ہندین  
 دن اندر شیک بیماری آس ونان آس مغزور چھہ کرت سم کوکھ یعنی مسلمان دین پن۔ ہلاکتس منز چھہ  
 زورہ ہن پان تراوان۔ تعدادہ کن کم آتھ۔ سامانہ کن کم آتھ چھہ یم مسلح فوجس سیت مقابلہ کرنہ  
 خیطرہ آمادہ سپدان وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یمن  
 چھو پور توکل نہ اعتماد پنہ نس خدائیس پیٹھ۔ لہذا ئیس اکھاہ معبود برحقس پیٹھ توکل کرہ تمسند دل سپدہ  
 ضرور مضبوط نہ محکم۔ کیا زہ تہند مددگار چھو اللہ تعالیٰ بیشک سوچھوز بردست حمتہ وول۔ و لَوْ تَرَى  
 إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ہر گاہ تہہ وچھو تمہہ سائک حال  
 سمہ ساتہ تہن کافرن قبض رُوح کران آس ملائک، تُوہہ پیہہ ہالوزنہ عجیب واقعہ۔ تم ملک آس تمہہ  
 ساتہ تازہ ویو ڈیسو سیت کافرن ہندین تھین نہ تھرن پیٹھ چوب دووان۔ گویا لاٹھی چارج کران

بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿۵۱﴾  
 كَذَابٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ  
 فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۵۲﴾  
 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ  
 يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۳﴾ كَذَابٍ إِلَىٰ  
 فِرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

وَذُو قُوَّةٍ أَعْدَابُ الْحَرِيقِ ۗ بے آسجھ و نان و نہ کیاہ و چھوہ توہہ۔ ژ ہونا رہنمک عذاب۔ بے عذاب  
 چھونہ آخرتہ کس عذابس نسبت کنسی ذلک بمآقدمات ایدیکم و ان اللہ لیس بظلام للعبید بے  
 چھو توہہ تمن چھہ عملن ہند بدلہ سمہ توہہ پنہ نیواٹھو برونہ کن سوزوہ۔ بے زاوٹھہ وارہ کہ اللہ تعالیٰ  
 چھنہ ہرگز بدن ظلم کرون۔ ناحق کرہ چھہ عذابس گرفتار کذاب ال فرعون والذین من قبلہم  
 سمکن کافرن ہنز حالت چھہ تھہ اندر کہ کفر و نافرمانی پیٹھہ آو تمن سزاو نہ۔ یڑھی یڑھہ فرعونہ سدہ قوی  
 بے تمن کافرن ہنز حالت چھہ تھہ اندر کفر و آیات اللہ تمبوتہ کیا کور کفر تہ انکار خدا بے سندین  
 آیاتن فآخذہم اللہ بذنوبہم کس رٹ تم اللہ تعالیٰ ان تہزن نافرمانین ہندہ وجہہ ان اللہ قوی  
 شدید العقاب پز پانچھ اللہ تعالیٰ چھو سینٹھہ طاقتہ و ول سخت عذاب کرہ ان ذلک یان اللہ لم یکن  
 مغیر انعمہ انعمہا علی قوم حاشی یغیر و اما بانفسہم بے تھہ کہ اس کیا چھنہ بجر مہ و رای سزا و ان  
 چھہ امی وجہہ کہ اسہ نغمہ چھو کہہ قانون تہ قاعدہ مقرر۔ سو گوزہ اللہ تعالیٰ چھونہ کنہ تھہ نفیس بدلاوان  
 یوسہ سنہ قوس تم عطا کر مژ آہ۔ توتان یوتان نہ تے تمن کا میں بدلاوان سمہ تمن سپر دتہ مٹہ آہ  
 کرنہ آمرہ یعنی عبادت تہ اطاعت و ان اللہ سمیع علیہ بے تھہ چھہ ثابت کہ اللہ تعالیٰ چھو سوزوی  
 بوزہ و ن، سوزوی زانہ و ن۔ تھہ حالت بدلا و کس معاملس اندر تہ چھہ تہنز حالت کذاب ال فرعون  
 والذین من قبلہم توھی یڑھہ قوم فرعون تہ بین کافرن ہنز حالت آس۔ سم تمن بروٹھہ

يَذُوبُهُمْ وَأَغْرُقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٣﴾  
 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٤﴾  
 الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ  
 مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَاتتُّنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَسَرَدْتُّهُمْ  
 مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذُكَّرُونَ ﴿٥٦﴾ وَإِنَّمَا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ  
 خِيَانَةٌ فَأَبْذُلِ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٧﴾

آس کذبوا بآیات ربهم تم بکر پنہ نس پروردگارہ سیدین آیات انکار تہ تم زانجھہ اپز فامکذکم  
 یذوبهم نس گال تم اسہ سمی سخن تہ نافرمانین ہندہ وجہہ وَأَغْرُقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بیہ پھاؤ اسہ  
 فرعونہ سند قوم دریاؤس اندر وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ تم ساری آس سیٹھاہ سرکش تہ ظالم ان  
 شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بزپاٹھہ مخلوقواندرہ چھہ بدتر اللہ تعالیٰ آس نشہ  
 تم لوکھ بیوٹھ کور۔ بس ان نہ تم عنہ طریقہ ایمان الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ  
 فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ یمن سیت توہہ صلحک عہد و بیان کردہ۔ توپتہ چھہ تم پریتھہ لہ  
 پھراوان سوپن معاہدہ۔ بیہ چھہ عہد شکنی کر نس کھوژان تہ فَأَمَاتتُّنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَسَرَدْتُّهُمْ  
 خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذُكَّرُونَ بس ہر گاہ تہہ لہیو کھ تم عہد شکنی کر ہون جسک اندر مقابلہ کران۔ تم پیٹھ  
 گروہہ تھہ حملہ کران۔ تہندہ سیت گروہن ژلراون تم تم تم تن پتہ آس مدد گاریا تم پتہ اوہ وان آس۔  
 بیٹھہ تم عبرت زلن وَإِنَّمَا تَخَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ بیہ ہر گاہ تہہ کھوژوتہ اندیشہ کروئتہ توپہ عہد  
 شکنی فَأَبْذُلِ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ بس واپس کور و تہد سو عہد تمنی کن۔ یعنی سو عہد پھراو۔ مگر تمہ عہد  
 کہ پھراوچ خبر گروہہ سپدن دوشون فریقن برابر برابر یعنی تمن کرو خبر جنگ واقع کرنہ بروٹھ کہ چوٹک  
 تہہ چھوہ سمہ سمہ قسچی حرک کران لہذا بس عہد اوہہ سیت کرنہ آمت چھو سوگو ختم۔ تھنہ تم توہہ  
 پیٹھہ بور کھارن۔ تھہ صاف اطلاعہ و رای تمن سیت جنگ کران گیدہ خیانت إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِلَهُمْ لِأَيُّعْزُونَ ﴿۵۹﴾  
 أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ  
 تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ  
 لِاتَّعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿۶۰﴾ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ  
 فَاجْتَنِحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶۱﴾

الْعَالَمِينَ ہر پانچھ اللہ تعالیٰ چھوڑنے خیانت کردہ و نین ہند کران وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا عُمانہ  
 مہ کرن کافر کہ تم کیا اثرل اسہ نشہ۔ وون ہیکو کہ نہ اس تم قابو کرتھ لائهم لِأَيُّعْزُونَ پزپاٹ تم  
 ہیکن نہ اسہ عنہ چیزہ سیت عاجز نہ تنگ کتر تھ۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ  
 الْخَيْلِ ای مسلمانو تیار کمر و کافرن سیت جمد کرنہ خطیرہ یہ ممکن سپدوہ تہ سامانہ اندرہ، گور گدنت  
 تھانہ اندرہ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ تمہ سیت کھوڑہ ناویکھ تہہ خدایہ ہند دشمن تہ ہن  
 دشمن تہ یعنی مکہ کافر وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ بیہ مکہ کنین کافرن و رای تہ باقی دشمن لِاتَّعْلَمُونَهُمُ  
 اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ تم نہ تہہ زانیکہ بلکہ زانیکہ اللہ تعالیٰ پور وَآتُونَهُمْ شَيْءٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ  
 إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ بیہ ئس چیزہ خرچ کتر و تہہ خدایہ سزہ و تہ اندر سیتھ منز جماد تہ شامل ہتھو  
 تمیک بدلہ بیہ توبہ پور عطا کرنہ۔ توبہ نسبت بیہ نہ کانہہ کیاہ تہہ اندر کرنہ۔ حدیث شریفن اندر ہتھہ  
 تیر اندازی پچھ نچ مشق کر نچ، گرز پچھ نچ، گرس پیٹھ کھسن پچھ نچ سیٹھاہ فضیلت آمر۔ ازمہ وقتہ گو  
 بندوق، توپ تہ باقی آلات جدیدہ چلاون پچھن تمیک قائم مقام۔ عام طور و رزش کرن تہ تہہ منز  
 داخل وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْتَنِحْ لَهَا بیہ ہر گاہ کافر صلحس کن مایل سپدن توبہ تہ ہتھو اجازت کہہ  
 ہر گاہ تہہ تہ سپد و مایل تہہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بیہ کتر و تہہ اعتماد اللہ تعالیٰ اس پیٹھ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ  
 الْعَلِيمُ ہر پانچھ سوہ ہتھو سوزوی بوزہ ون۔ سُورَى زانہ ون وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ

وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي  
 آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَيَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۶﴾ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ  
 مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ  
 آفَىٰ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۱۷﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَ  
 مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ  
 عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا  
 مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ

اللہ بیہ ہر گاہ تم تو بہہ ڈھو کہ یہ سُن دین، بس جھو بیٹک اللہ تعالیٰ تو بہہ مدد کرنے خیر ہ، حفاظت کرنے  
 خیر ہ کا۔ چنانچہ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِنَصْرِهِ وَيَا الْمُؤْمِنِينَ سُوگو سُو ی تم تو بہہ غیبی مدد کور  
 ملا جو سیت۔ ظاہری مدد کور بالیما نو سیتِ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ تم پروردگار ن آفت تروو با ایمان  
 ہند سن دل ن اندر لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آفَىٰ بَيْنَهُمْ  
 ہر گاہ تمہہ خرچ کر ہ ہو تہ سوزوی مال بس زمیس پیٹھ جھو تو بہہ ہیکو ہونہ آفت پیدہ کمر تھہ تھند سن دل ن  
 اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نی تروو آفت ترن منز۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پڑ پٹ سُو جھو زور آور حکمتہ و ول  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ای پیغمبر بس جھو تو بہہ اللہ تعالیٰ بیہ تم تو بہہ  
 سیت جھہ با ایمان يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ای پیغمبر شوق تہ ترغیب دیو با ایمان  
 جہاد ک۔ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ہر گاہ تو بہہ منزہ (۲۰) زن صبر  
 کرہ ون آسن تم پو شن کافر و اندرہ دون تن (۲۰۰)۔ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ  
 کفرؤا یا تھم قوم لایفقھون بیہ ہر گاہ تو بہہ منزہ اھہ تھہ مجاہد صبر کرہ ون آسن تم پو شن ارس  
 ساس کافر س بیا زہ تم جھہ تو ماہ تا سمجھ اثن حفف اللہ عنکم و علم ان فیکم صغفا فان یکن منکم

كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۴۵﴾ أَلَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۴۶﴾ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يَتَّخِذَ فِي الْأَرْضِ ثَرْبًا وَلَا عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۴۷﴾ لَوْلَا كُتِبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقٌ

مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ گوؤہ نیک حکم علیہ صحابہ صیمن پیٹھ دشوار سپد، اللہ تعالیٰ ان کو رسو حکم منوٹ۔ فرموان دون کر اللہ تعالیٰ ان توہم پیٹھ تھیف۔ تم زون کہ توہم اندر چھ سٹی۔ لہذا چھوون یہ حکم کہ اگر توہم منز آسن کہ ہتھ مجاہد ثابت قدم تم سپدن غالب دون جن کافرن پیٹھ۔ ولان یکن منکم الف یغلبوا الفین باذن اللہ واللہ مع الصبرین بتھ پاتھ ہر گاہ توہم منزہ آسن کہ ساس مجاہد تم سپدن غالب دون ساس کافرن پیٹھ خدایہ سدہ حکمہ سیت۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو صبر کرہ و نین سیت سیت تم مدد کران ماکان لنبی ان یگون لہ اسری حتی یٹخن فی الارض ای مسلمانو توہم دیو توہ مشورہ نبی کر تمس صلی اللہ علیہ وسلم قیدین نشہ کبھنہ مال ہتھ تم تراوانو ٹک۔ یہ گونہ جان۔ کیا زہ نبی کریمہ سدس شانس شوہ نہ کہہ تہند قیدی کیمانن چھڈ نہ قتلہ ورا ای بلکہ گزہن تم قتل کرنہ سن۔ تاہنلکہ زمینس منز سپدہ کافرن ہنز خونریزی، شرتہ فساد دفع ثرید و ن عرض الدنیا ای مسلمانو تہ چھو تھانڈان دنیا ک سامان تمی موکھ دثوہ رائے نبی کر تمس صلی اللہ علیہ وسلم تم قیدی فد یہ رتھ تراؤس پیٹھ واللہ یرید الاخرہ اللہ تعالیٰ چھو تہندہ خیطرہ راضی آخر جس سامانس واللہ عزیز حکیم اللہ تعالیٰ چھو زبردست حمتہ وول۔ سو کرہ ہا توہم کافرن پیٹھ غلبہ و تھہ سیٹھہ مالدار لولا کتب من اللہ سبق لستکم فيما آخذتم عذاب عظیم ہر گاہ نے اللہ تعالیٰ ان در روز آزل لیوکھمت آسا کہ تم قیدی منزہ اون بعضی ایمان اسمہ سیت نہ کانہ فساد واقع سپدہ، سمیوک احتمال اوس سے



وَجَهْدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا  
وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا  
وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ لِأَعْلَىٰ قَوْمِهِ  
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۶۱﴾ وَالَّذِينَ  
كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَقَعُّوهَا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ

سہدن۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَهْدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِزِيَادَةِ سَمُوْكَو كُو اِيْمَانِ  
اُوْن بِيْه سَمُوْا بِجَمْرَتِ تِهْ كَمْر، بَنُوْن وَطْنِ مَمْتَهْ شَرِيْفِ تَمْرُوْكَهْ دِيْعَجْمِهْ مُجَبَّتِهْ۔ بِيْه سَمُوْ جَمَادِ كُو رَمَالِ وَجَانِهْ سِيْتِ  
خَدَلِيْهْ سَبْزَهْ وَتِهْ اَنْدَرِ تَمْنِ صَحَابِهْ صَمِيْنِ چَهْمِهْ دِنَانِ مُهَاجِرِ وَالَّذِيْنَ اُوْوَا وَنَصَرُوْا بِيْه سَمُوْ لُوْ كُو تَمْنِ  
مَہَاجِرِنِ پِنْدِهْ نَسْ شَمْرَسِ اَنْدَرِ جَايِ دِثْر، بِيْه مَدِ كُوْر، تَمْنِ چَهْمِهْ دِنَانِ اَنْصَارِ۔ مَدِيْنَهْ مَقْرَبِ صَحَابِهْ صَيِّبِ  
اُوْلِيْكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ تَمْ چَهْمِهْ پَانْدِهْ وَاِنْ اَكْهْ اَسْمَدُوْ سَتِ بِيْه وَاِرْثِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا  
مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوْا بِيْه سَمُوْ لُوْ كُو اِيْمَانِ اَتَهْ بِجَمْرَتِ كَمْر نِهْ تَمْنِ چَهْمُوْنِهْ تُوْبِهْ  
سِيْتِ نِهْ دُوْسْتِيْ بُوْدِ كَانِهْ تَعْلُقِ نِهْ وَرَا اَتَمْكَ۔ يٰ اَتَمَانِ نِهْ تَمْتِهْ بِجَمْرَتِ كَرْنِ۔ تَلِيْهْ چَهْمِهْ تَمْتِهْ تَهْ كَمْسِ اَنْدَرِ  
دَاخِلِ وَاِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ہر گاہ تم توہمہ نشہ دینچہ کچھ کامیہ اندر مدد ڈھانڈن۔  
یعنی کافر ن سیتِ جماد کمر ن س اندر توہمہ پڑہ تَمْنِ تَهْ اَنْدَرِ مَدِ كَرْنِ لِأَعْلَىٰ قَوْمِهِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
مِيثَاقٌ مَگر گڑہی کھنہ مَدِ كَرْنِ۔ یلہ تَمْنِ مُقَابِلَهْ اَسِهْ كَمْرِنِ تَمْنِ لُوْ كُنِ سِيْتِ تَمْنِ تِهْ تُوْبِهْ پَانْدِهْ وَاِنْ كَنْبِهْ  
مَعَابَدَهْ اَسِهْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ اللّٰهُ تَعَالٰی چَهْمُوْ تَمْبَزَهْ سَارِهْ كَامِهْ وَچَهْمَانِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا  
بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ کافر تَمْ چَهْمِهْ تَمْتِهْ چَهْمِهْ اُوْ اِذْنِ مَدِ دُوْسْتِ وَاِرْثِ اِلَّا تَقَعُّوهَا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي  
الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ہر گاہ تہہ تہہ کَمْسِ پٹیجہ عمل کمر ونہ یعنی مُسْلِمَانِ مُسْلِمَانِ پَانْدِهْ وَاِنْ اَكْهْ اَسْمَدِ مُمْتِدِ تِهْ  
مَدِ گَارِ بُوْعُوْنِهْ تَمِيْلَهْ وَوْتَهْ مَلْکَسِ اَنْدَرِ فِتْنَهْ۔ بِيْه ووتہ بُوْ فِئْسَادِ۔ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَهْدُوْا فِي



وَفَسَادٌ كَثِيرٌ ﴿۴۳﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدِ وَأَفِئ  
 سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَاوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ  
 حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۴۴﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ  
 وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدِ وَآمَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ  
 بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۴۵﴾

سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَاوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا بے سہمو لو کو ایمان آتھہ ہجرت کمر بے  
 خدایہ سزہ و سزا اندر جہاد کور۔ بے سہمو مہاجرین جای دہیہ امداد گور تم ساری مہاجرینہ انصار جہہ پز پانھ  
 مسلمان کہہ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ تہندی خیرہ جھو بوڈ مغفرت آخرتس منز بے باعزت روزی جنتس  
 منز وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدِ وَآمَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ بے تم لو کہ سہمو ہجرت نبویہ پتہ  
 ایمان اون۔ تو پتہ ہجرت کمر، بے توہہ سیت شامل روزتھہ کافرن سیت جہاد کر، تم لو کہ سہمو ہجرت نبویہ پتہ  
 اندرہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تم رشتہ دار جہہ مہاجرین سابقین ہند تم  
 جہہ زیادہ حقدار کہ اہل غیر رشتہ دارن نسبت، خدایہ سندہ حکمہ موجب إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ پز پانھ  
 اللہ تعالیٰ جھو پر پتہ چیز اہل انہ دن تمی جھو پر پتہ وقتہ مہ مصلحتہ موجب احکام مقرر کران۔



## سُورَةُ التَّوْبَةِ

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ①  
 فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ  
 وَإِنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكٰفِرِينَ ② وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى

یہ سورہ شریف ہے۔ بسم اللہ پر نہ یوں کہینہ نہ کیا ہے۔ بسم اللہ چھو نہ نازل سہمت آتھ سیت۔  
 یوسہ عبارتہ قرآن مجیدہ کس حائیس پیٹھ لیکنہ آمز چھ سو چھ فرضی تمیک ہرن چھو نہ  
 ضروری۔ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ یہ چھو خدا کس تہ ہندس بیخبرہ  
 سندہ طرفہ تمہ معاہدہ دست برداری کس توہہ مشرک سیت کورمت اوسوہ۔ یہ صلح حدیبیہ دنان  
 چھہ۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئی ۱۰ ہجری کس اندر عمرہ کرنہ خیرہ۔ یلہ تم بمقام  
 حدیبیہ وات۔ کافر و دیو تہکھ نہ متہ شریف منزا اژنہ۔ چنانچہ اتھ مقاس پیٹھ سپد کافر سیت صلح۔ امہ  
 معاہدہ صلح مدت آؤتھانہ دہ وری۔ متہ شریف منزا سیم بیہ قبیلہ روزان آس تمن متعلق سپد بیہ  
 فیصلہ کہہ سیمو قبیلہ اندرہ کس خوش کرہ سوروزہ نبی کریم سیت۔ کس خوش کرہ سوروزہ مکہ کین قریش  
 سیت۔ چنانچہ بنی خزاعہ رود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی بکر رود قریش سیت۔ کس  
 وری کس تان رود یہ صلح قائم مگر دو سیمہ ورہہ ۱۷، ۱۸ یہ اتھ آسن گمت صلح پیٹھ کہ بنی بکر کس  
 قریش سیت رلتھ اوس کور اتھ عیت اکھ حملہ بنی خزاعہ پیٹھ کس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 سیت رلتھ اوس۔ تمو دیت امیک اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ تمو ہمزہ تیاری کرن  
 قریش سیت جنگ کرن ۱۸ ہجری کس اندر کور کھ فتح متہ۔ اللہ تعالیٰ ان کور اعلان کہ حدیبیس اندر کس  
 صلح کرنہ امت اوس تمہ نشہ چھو خدا بیہ ہند بیخبر دست بردار سپدان۔ سو صلح پھر و قریشو۔ لہذا  
 چھہ دن کٹہ جلیہ کافر ہمدہ خیرہ امن و امان صورتہ فسیحوا فی الارض اربعہ اشھر کس پھر یو  
 یہ ملکس اندر ژون ریتن خوف تہ خطرہ وراہی۔ تم ژور ریتھ گئے ذیقعدہ، ذی الحجہ۔ محرم تہ رجب  
 وَاَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ یہ زانو کہ تہہ میسون نہ اللہ تعالیٰ عاجز کر تھ۔ تہہ کیاہ نیر و تہندہ قبضہ

النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ  
رَسُولُهُ فَاِنْ بُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ  
غَيْرُ مُجْرِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ إِلَّا  
الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ  
يُظَاهَرُوا عَلَيْكُمْ أَمْ دَا فَا تَبَوَّأُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ

منزہ نمبر۔ - وَأَنَّ اللَّهَ مُخْرَجُ الْكُفْرَيْنِ بِيَهُ زَانِيَةً تَهْتَهُ كَهَ اللَّهُ تَعَالَىٰ جَهْوَا كَافِرًا رَسُوَا كَرَهُ وَنَا وَخَرَسَ  
اندر عذابس گر فقا رکنه سیتِ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ بِيَهُ جَهْوَا  
اعلان عام یوان رکنه خدائس یتہ ہندس پیغمبرہ ہندہ طرفہ بدہ جہکہ دویہ۔ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ  
وَرَسُولُهُ سیمہ گوی زہ اللہ تعالیٰ یتہ ہند پیغمبر جہو بالکل الگ تمن مشرکن نشہ سیمو پانہ سو عمد  
پھڑو وئیس حد تیس منز رکنہ اوس آمت۔ مگر باوجود آن جہو ونہ یوان تمن کہہ فَاِنْ بُبْتُمْ  
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاِنْ ہر گاہ ہنہ کفرہ نشہ توبہ کمر و نہ بازایوتہ جہو بہتر تہندہ خیطرہ دوشون جمان اندر۔  
دنیاس اندر بچو قتلہ نشہ آخر تس اندر عذابہ نشہ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُجْرِي اللَّهِ ہر گاہ ہنہ  
اسلامہ نشہ اعراض کمر وئس زانو ہنہ کہ ہرگز بچیون نہ توبہ ہرہ انتہ یتہ عاجز کمر تہ اللہ تعالیٰ عنہ طرفس  
گن ثلثہ سیت یتہ کھنہ روزنہ سیت یابہ کتہ چیزہ سیتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ بوزہ ناویو کہ  
ہنہ کافر دردناک عذاب خبر سیمہ نشہ نہ سم پھنسی بیکن کتہ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ  
يَنْقُصُوا شَيْئًا مگر پھنہ ہندہ عمد تمن کافرن ہندہ حقہ سیمو توبہ سیت معاہدہ کورمت جہو۔ توپتہ  
آسکھ نہ کتہ چیزس منز توبہ نسبت عمد پورہ کرس منز کی کر مثرِ وَلَمْ يُظَاهَرُوا عَلَيْكُمْ أَمْ دَا بِيَهُ  
آسکھنہ کانہ اکس ہندس دشمنو اندرہ توبہ مقابلہ مدد کورمتِ فَا تَبَوَّأُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مَدَّتِهِمْ  
تمن سیت کمر و ہند معاہدہ پورہ ہتھ مدتس تان تمن سیت مقرر رکنہ آمت آسہ یعنی تم جہہ بدستور  
آمنس اندر۔ ہندہ حقہ چھنہ اچ دست برداری کینہ یتہ۔ تم گے بنی خمرہ بنی مدن۔ تم زہ قبیلہ آس بنی

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۷﴾ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ  
 وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ  
 آتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۸﴾ وَإِنْ  
 أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ  
 اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۹﴾

کناس اندر، سمونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کو رمت اوس جہدس معاہدس آس باقی وینہ  
 نوریتھ۔ سمو آس نہ عمد شکنی کر مشکینہ تہ۔ لہذا رودیہہ معاہدہ باقی بدستور۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ  
 پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو بد عمدی نشہ پر ہیز کرہ وین دوس تھوان فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ کس یلہ  
 گڈرن تعظیمہ وال ریت کَافَتُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کس مار بوکھ مشرک یتہ پینوہ تہ تہ  
 وَخُذُوهُمْ گرفتار کتر تھ تھو بوکھ قید وَأَحْصُرُوهُمْ پتھ ریٹو کھ تم خانہ کعبس طواف کرنہ نشہ۔  
 وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ زاگنہ رُوذو و تہن پریتھ موقس تہ زاگن جلیہ پیٹھ قَان تَابُوا وَأَقَامُوا  
 الصَّلَاةَ وَ آتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ توپتہ ہر گاہ تم توبہ کرن گھر نشہ بہ ہین کرنہ اسلامچہ کامہ ،  
 مثلاً نماز پرین بیہ دن زکوٰۃ، پتھ تراویلیہ اہنز و تھ۔ دیو کھ پچنہ اورہ یور إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ہز پٹھ  
 اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہر تم کرہ ون وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ  
 بیہ ہر گاہ مشرک کو اندرہ کانہہ توہمہ پناہ معکھ توہمہ سیت ملاقات یشہہ کرن۔ تہہ دیو کس پناہ تہ اجازت  
 حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ تا یحکھ توہمہ نش پتھ بوزہ سو کلام خدا۔ ممکن چھو تمک پیہ کس پیٹھ کانہہ اثر تھ  
 أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ توپتہ و اتاویون سو پناہ تہ اچھ جلیہ۔ کس دیون سیت حفاظتہ خیطرہ پین کانہہ شحصاہ۔  
 یوتان سو پینہ کس جمائس نشہ و اتہ ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ بیہ گڑھہ امی خیطرہ کرن کہ تم بہہ  
 بے خبر اسلامہ کیو احکامو نشہ ممکن چھو ہر گاہ تہہ کس دیو تہ پائس نشہ پینہ، سو یوزہ توہمہ نشہ اسلامچہ کتھ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ  
 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا  
 لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ وَإِنْ  
 تَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وِلايَةَ تَرْضَوْكُمْ  
 بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ۝  
 اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ ۝

سمہ سیت متاثر سپدت میں نشہ تہ و اتنا وہ تمہہ دلیلہ۔ تم تہ سپدن متاثر کئیف کیونکے للمشرکین عہدہ عند  
 اللہ و عند رسولہ کتھہ پاٹھہ ہیجہ آتھہ مشرک خدائس نشہ کانہہ عمدہہ یا تھندس پیغمبرس نشہ۔  
 ئیس عمدہ قابل رعایت ہیہ زاند۔ کیا زہ رعایت ہیہ تھہ عمدس کرنہ تھہ نہ دو تم فریق پانہ پھراوہ  
 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مگر تم لوکھ سیمو معاہدہ کور توہم سیت مسجد حرامس تکھ تل  
 فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ایٹس کالس تم سیود روزن توہم سیت تہہ تہ روزو تہن سیت  
 سیود اِن اللہ تعالیٰ جھو دوست تھاوان بد عہدی نشہ پتھہ روزہ و نین  
 كَيْفَ وَإِنْ تَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وِلايَةَ تَرْضَوْكُمْ کتھہ پاٹھہ روزہ تھند عہد قابل رعایت تھندین  
 وکن اندر جھو کھو پڑ۔ چنانچہ ہر گاہ تم توہم پیٹھہ غلبہ کرنگ موقعہ لیکن تم کرنہ کانہہ وایاہ تہ لحاظ نہ رشتہ  
 داری ہند نہ عنہ عہدک یرضونکم یا فواہیمہم و تأبى قلوبہم تہن پیٹھہ جھونہ کانہہ اعتبار تم ہجہ  
 توہ راضی تھاوان کتھو سیت دل جھک تہن تھن انکار کران دل جھکنہ تہن تھن سیت و اکثرہم  
 فسقون تمہو اندر جھہ زیادہ سرکش تہ نشیر۔ تم جھنہ یڑھان عمد پورہ کرن اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ  
 ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ حاصل کرتھو خدایہ سندین احکامن بدل دُنیاک متاع ناپائیدار۔  
 توپتہ رتھہ پتھہ لوک ہنزہ و تہ نشہ۔ لوکن دیو کھ نہ ہنزہ و تہ پیٹھہ پتھہ یعنی اسلامس منز داخل سپدنہ  
 اِتَّهَمُوا سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہز پات تم سمہ کامہ کران جھہ تمہہ جھہ سیٹھا جھہ کامہ لا یرقُبون فی

إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا  
وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿۱۰﴾ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا  
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُقِصَلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ وَإِنْ نَكَثُوا آيَانَ هُمْ  
مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا  
آيَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ  
يَنْتَهُونَ ﴿۱۲﴾ أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا آيَانَ هُمْ

مؤمنین الا ولا ذمۃ تم جھنہ لحاظ سے رعایت کران کا نسہہ با ایمانہ سندہ حقہ۔ نہ کفر رشتہ داری ہند، نہ  
کفر عہدک و اولئک ہم المعتدون سے لکھ جھہ حدہ ذلہ دن فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا  
الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ باوجود آل ہر گاہ تم توبہ کرن شکر کہ نفعہ یہ تھاون قاسم نمازیہ کرن  
اداز کوا تلبہ جھہ تم سے تہند بای دینس اندر وَنُقِصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس جھہ ویرتھہ ناوت  
احکام و نان زان والین لوکن ہندہ خیرہ وَإِنْ نَكَثُوا آيَانَ هُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ توپتہ ہر گاہ  
تم بھڑاؤن قسم بن عمدا کرن پتہ۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ یہ دن تہندس دینس طعنہ۔ تھہ بیٹھ  
کرن اعتراضات فَقَاتِلُوا آيَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ  
آتھہ حاکس منزکر وجہہ جنگ گھرہ کین پیشوا ان سے زٹھن سیت، ہنز پاٹھ تمن جھونہ کمنہ عمد و پیا ٹک  
خیال۔ دیوہ تم پتھ روزن گھرہ نفعہ الَاتَّقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا آيَانَ هُمْ کیمہ جھہ کمر و نا جنگ  
تمن لوکن سیت۔ سمو پھڑ او عمد بنن وَهَمُّوْا بِأَخْرَاجِ الرَّسُولِ یہ سمو قصد کور پیغبر خدا پنہ شہرہ  
منزہ پیہر کڈ ٹک وَهَمُّ بَدَأُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ تمبوی کور ابتدا توہہ سیت جنگ کرنک۔ کیا زہ تمبو کور



مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ  
 شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ  
 فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ  
 فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْبَاهِتِينَ ﴿۱۸﴾ أَجَعَلْتُمْ سَفَايَةَ

و لعل ہلہ ڈلہ کرمن جہادس اندر۔ بیہ گڑھنس نہ پو شیدہ تعلقات دوستی ہند آسن کافرنا سیت۔ واللہ  
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خداکس چھہ تمہہ سارچی پور خبریہ تمہہ کران چھوہ۔ مگر سو چھوڑھان بیہ تہس بانس  
 خبر چھہ تہ گڑھہ نزن تہ آشکارا سپدن مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ مُشْرِكِينَ چھہ نہ قابلیتھی  
 کہہ تم کیا کران آباد خدلیہ سزہہ مسجدہ شہیدین علیٰ انفسہم بِالْكَفْرِ بیہہ حاکس منزکہ تم آسن اقرار  
 کران کھر چن کھن تہ کاین ہند۔ بیہ آسن معبود برحقس ورا ی پو تیلن ہنز پرستش کران أُولَٰئِكَ  
 حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ تمکن لوکن ہنزہہ سارے رزہہ عملہ عمارت مسجد وغیرہ ہمیشہ  
 چھہ ضائع شرکہ سببہ۔ تہچہ چھہ روزہ دن ہمیشہ نارس اندر کیا زہہ ذریعہ و سبب نجات چھو تم ضائع  
 سہدنت إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آباد کران نہ خدلیہ سزمن مسجدن مگر تہ  
 سمو ایمان اولن معبود برحقس بیہ پکتہس دوہس ولہ سیت توپتہ کران تانوسیت تمیگ اظہارتہ گو۔  
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ بیہ تھاوکھہ برپا نمازیہ کھر کہ ادا زکوٰۃ۔ بیہ کھوڑنہ کانہہ  
 خداکس ورا ی فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْبَاهِتِينَ کھس چھہ امید تہ توقع یعنی وعدہ کہہ تہ کھو  
 آسن ہدایت کہہ و نیواندرہ۔ منزل مقصودس اولنہ و نیواندرہ أَجَعَلْتُمْ سَفَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ کیاہ توہہہ کورہہ حاجین آب زمزم چاون، بیہ مسجد حرامک آباد تھاون برابر کہنن آمَنَ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهْدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمس شخصہ سندین عملن سیت تم ایمان اولن معبود برحقس



الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَ  
 اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَ  
 هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
 أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۲۰﴾  
 يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَوَجَّهَتْ لَهُمْ فِيهَا  
 نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿۲۱﴾ خُلْدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

بیش دوہس یعنی قیاس۔ بیہ کرن جہاد خدایہ سزہ و تہ اندر۔ خدایہ سندہ کلمہ تھزہرہ خیطرہ لا  
 یستون عند اللہ خدائس نشہ جھنہ سم لوکھ برابر واللہ لایہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ جھونہ  
 و تھ ہاوان ظالم لوکن تمن جھنہ یہ تھ فخرہ تران۔ تمن جھو خیال جائین آب زمزم چاون، مسجد حراچ  
 آبادی کرن یہ چھہ بڈیکلی مگر یہ جھوکنہ فخرہ تران کہ یمن نیکن جھو تل اعتباریلہ شہر کہ نشہ دور آسہ،  
 قیاق پور پڑھہ آسہ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
 أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ تم لوک سمو ایمان اون بیہ جرت کمر خدایہ سندہ خیطرہ، بیہ کوز کہ جہاد  
 خدایہ سزہ و تہ اندر پنہ نیو مالو تہ جانوسیت، تم جھہ سینٹھہ تھہ، درجہ کن، خدائس نشہ آب زمزم چاودہ  
 و نیو تہ تعمیر مسجد کرہ و نیو خوتہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تے لوکھ جھہ پورہ کامیاب سپدہ ون  
 يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَوَجَّهَتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خوش خبری جھو دوان تمن  
 پن پروردگار پنہ جہ ریح، بیہ پنہ جہ رضامندی ہنز۔ بیہ تمن جھن ہنز تمن منز تھنہ خیطرہ پو شہ ونہ  
 نعرہ جھہ خلدین فیما آبدًا اِنَّ اللہ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ تمنی جھن اندر آسن روزہ ون ہمیشہ۔ بیشک

عَظِيمٌ ﴿۳۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَ  
 إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ  
 يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۳﴾ قُلْ إِنْ كَانَ  
 آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَ  
 أَمْوَالٌ بَاقَتْكُمْ مِنْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ  
 مَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ  
 جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ

اللہ تعالیٰ اسی نے مجھ بڑمزدور۔ تمی منزہ بیہ یمن تہ عطا کر نہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ  
 وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ اے ایمانوںمہ تھو یو کہ مال پین، بائی پین دوست تہ رفیق اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ  
 عَلَى الْإِيمَانِ ہر گاہ تم گھری ٹوٹھ تھاؤن تہ پسند کرن ایمانہ خوتہ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ  
 الظَّالِمُونَ کس تھین کافر مالین تہ باسن سیت تم دوستانہ تعلق تھاؤن توہہ اندرہ کس تے کیا چھہ  
 خداس نشہ نافرمان۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ  
 بَاقَتْكُمْ مِنْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
 وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اے پیغمبر تہ فرماؤ کہ اے مسلمانو ہر گاہ توہہ آسنوہ مال پین بیہ پتو پین، بیہ بائی پین،  
 بیہ جورہ پین، یعنی مردس زنانہ پین، زنانہ مرد پین، بیہ قبیلہ کروں پین، بیہ زیومت مال پین بیہ تجارت  
 پین سمہ کس نقصا س تہہ کھو ژان چھوہ، بیہ مرغوب کرہ جلیہ پینہ زیادہ ناٹھہ خدایہ سندہ خوتہ بیہ تہمزہ وتہ  
 اندر جہاد کرنہ خوتہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ تلہ پیارو  
 ٹوتان یوتان سوزہ اللہ تعالیٰ پین حکم یعنی عذاب، یعنی ہجرت نہ کرنک سزا۔ اللہ تعالیٰ چھونہ وتھہ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۳۳﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي  
 مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ  
 فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا  
 رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴿۳۴﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ  
 عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا  
 وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿۳۵﴾

ہاوان نافرمان لوکن منزل مقصود حاصل کرنس کن۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ  
 وَيَوْمَ حُنَيْنٍ تھیں اللہ تعالیٰ ان کمر توبہ مدد تہ یاری وارینکن جابن خصوصاً جنگ حنینس منزراڈ  
 اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا یلہ توبہ عجیب آو بوزنہ پنہ لشکر ہند زیادہ اسن تمہ ساتہ  
 اوس تہزہ لشکر ہند تعداد باہ ساس ۱۲۰۰۰۰ کافر ن ہنزہ لشکر ہند تعداد اوس ژور ساس۔ کس ڈیت نہ  
 توبہ تمہ لشکر زیادہ اسن کا نہ فاسدہ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ بیہ سپد توبہ پیٹھ  
 زمین کھول آتھ تنگ سخت خوف زدہ سپد نہ موکھ۔ کافر ن ہندہ توبہ پیٹھ بکثرت تیر لاینہ سیت تھ  
 وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ چنانچہ تہہ ژوہ پپاسپدت ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
 توپتہ ترو اللہ تعالیٰ ان دلک قرار پنہ نس پیغمبرس بیہ بالیمان پیٹھ۔ چنانچہ ساری یلہ ژل حضرت نبی  
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم ژود ثابت قدم سفید کاترس پیٹھ سوار۔ سیت آسکھ حضرت عباس، بیہ  
 ایوسفیان رکائس تھپ کمر تھ حضرت عباس آتھہ دوکھ لوکن آکو سم ژلت آس بیہ پورکھ پانہ باواز بلند  
 أَنَا النَّبِيُّ لَكَ كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ سمہ آوازہ سیت کافر ن دہشت پیوتہ اہرہ پیٹھ وَأَنْزَلَ جُنُودًا  
 لَمْ تَرَوْهَا بیہ سوز اللہ تعالیٰ ان آساکھ طرفہ لشکر اہ یوسہ نہ تہہ وچھان آسورہ یعنی ملائک سمہ سیت  
 بیہ اثر سپد کہ مسلمان سپد بیہ جمع۔ توپتہ ہنژ تمودوبارہ لڑای کرن وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا بیہ کرن  
 پتولا کہ کافر عذابس گرفتار۔ فحج کرن عطا پنہ نس پیغمبرس وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یوسہ ہجو

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ  
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ  
 نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ  
 وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنْ شَاءَ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۲۸﴾ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
 وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ  
 رَسُولُهُ ۚ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ

کافرین ہند سزاؤنیاءس منز **ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ** توبہ کرے اللہ تعالیٰ توبہ نصیب ہمواندرہ بس خوش کرئس۔ چنانچہ واریاہ سپد تمو منزہ مسلمان **وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** اللہ تعالیٰ ہجو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ** ای مسلمانو مشرک چھ ناپاک بشر کچہ ناپاکی سیت بہ ہجھ اعتقادو سیت **فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا** بس مہ سپدن تم نزدیک مسجد حرامس سمہ ورہہ پتہ **وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنْ شَاءَ** ہر گاہ تمہہ تہندہ نہ اہم سبہ فقرس یا تہار ہجس نقصانس کھوژو، تمہہ روزو خوش، اللہ تعالیٰ کرہ توبہہ مالدار پتہ فضلہ سیت ہر گاہ سویشہ **إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** پزناٹھ اللہ تعالیٰ ہجو سوڑوی زانہ ون سیٹھاہ حکمتہ وول **قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ** ای مسلمانو جنگ کمر و تم ن لوکن سیت تم نہ پور پڑھہ کران ہجھ معبود برحق بہہ چھنہ پور پڑھہ کران قیامکس دوہس **وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ** بہہ چھنہ حرام زانان تم چیز تم خدا سن نہ تہندہ پیغمبرن حضرت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم حرام کمر۔ **وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ** بہہ تم نہ پوزدین،

أَوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ  
صَغِيرُونَ ﴿۱۹﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ  
النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ  
يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ  
قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَكُونُوا يَأْتِئُهُمْ  
وَرُهبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ

دین اسلام قبول سے تسلیم کران چھہ من الدینین اوتوا الکتاب تمبولو کو اندرہ ممن کتاب  
عطا کر نہ آہ یعنی یہود و نصاریٰ ان سبت، سوی جنگ کمر و توتان حتی یعطوا الجزیة عن ید  
وہم صغیرون یوتان نہ تم باج تازن بس پیش کران پنہ نیو اتھو ماتحت روزتھ۔ ذلیل سے  
خوار سپد تھ۔ ان ماتھہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ یہ  
چھہ دنان یہود و اندرہ بعضی لو کہ زہ عزیر علیہ السلام چھو خدایہ سُنْدُجُو، یہ چھہ نصاریٰ او اندرہ اکثر دنان  
کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام چھو خدایہ سُنْدُجُو ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ سمہ چھہ ہنزہ کتھہ، تہنز و چانیو۔  
حقیقتس سبت چھونہ یمن اتھن کانہہ تعقاہہ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ  
سمہ سے چھہ تمنی کافرن ہنزہ کتھہ ہخہ کران سم تمن برونٹھ آس قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَكُونُوا اللَّهُ  
تعالیٰ گالن تمن کوئن چھہ گوهان سم پڑہ نشہ ذلھہ اِتَّخَذُواْ وَاَحْبَارَهُمْ وَرُهبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ  
دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ تمبول چھہ بناومت عالم سے عابد ہن مطاع۔ حلال و حرامس  
منز چھہ تہنز اطاعت تہھی کران یشہ خدایہ سز شوبہ کرن۔ صریح حکم نصس پیٹھ چھہ تہندین اتوالن  
ترجیح دو ان یشہ اطاعت کرن گنیہ عبادت کرن۔ یہ شوبہ باخاص مغبود برحقہ سزئی یا اثر کرن۔ امہ  
اعتبارہ چھہ سم سے مشرک یہ چھہ عیسیٰ بن مر تمس علیہ السلام رُب زانان۔ تمن چھہ خدایہ سُنْدُجُو  
زانان۔ یہ سے گوشرکی وَمَا أَسْرُواْ اِلَّا لِيَعْبُدُواْ لِلَّهِ وَاَحَدًا حال چھہ ممن آہونہ حکم کرنہ خدایہ

ابن مريمؑ وما أمرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ وَاحِدًا  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۱﴾  
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى  
اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۳۲﴾ هُوَ  
الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ  
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ

سبزن کتابین اندر۔ مگر معنی معبود بر حقس عبادت کر تک لآلہ الہو کس وراى چھو نہ  
معبودى کانہ عبادتس لایقى کانہ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ سو چھو منزہ تہ پاک تہندہ عترکہ  
نسخہ یُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ یژھان چھہ تم کہہ ژھیتہ کرہ ہن خدایہ سُنْدُ نوریعن  
دین اسلامى پنہ نیو چھو کوسیت یعنی آسو سیت چھہ اسلامس پیٹھ اعتراض کران و یأبى اللہ الّا  
أَنْ يَشَاءَ نُورَهُ خدا چھو نہ پسند کران مگر فقط ہن نور پور کرزن۔ سو نور کما کس واتناون و لو کیرہ  
الکفرؤن اگرچہ ناخوشی اتین کافرن۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ سو  
معبود بر حق گو سوى سم سوز ہن بیغبر بر حق یو ڈہدایت ہیتھ ہیہ دین حق ہیتھ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ  
ہیتھ تھہ غلبہ دیہ سارنی دین پیٹھ و لو کیرہ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ ناخوش اتین مخر کن یَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ آمَوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اى با ایمانو پز پائھ  
واریاہ عالم یہودن ہند، بیہ عابد نصاریٰ ان ہند چھہ لوکن ہند مال کھیوان ناحق۔ یعنی پز حکم چھہ کھٹان۔  
عوامس ہنزہ مرضی موافق چھہ فتویٰ لیکھان تین نسخہ نذرانہ وصول کران وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۷﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا  
فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُومِي بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ  
هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿۳۸﴾  
إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي

امی وچہرہ چہمہ تم لوکن پتھ رتان خدایہ سزہ و تہ نشہ یعنی دین اسلامہ نشہ۔ کیا زہ جہند یو اپز یو فتویٰ  
اوسیت چہمہ لوکھ ڈھوگن منزیتھ، گمراہی منز بو ڈتھ روزان۔ پوزہ جہند قبولی کران۔ بلکہ پوز شہاندنگ  
چھوکنہ خیالی گڑھان۔ غایت حرص و ہوسہ موکھ چہمہ مال جمع کرانیتھ متعلق یہ سخت و عید چھوکنہ  
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ تم لوکھ جمع کران تہ  
سونبر اوان چہمہ سون تہ رو پھ تو پتہ چہمہ تھ خرچ کران خدایہ سزہ و تہ آندر فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ  
الْأَلِيمِ کس ونو تہن کڈرہ عذاب بشارت یَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ سمہ دہنہ نار چہمہس پیٹھ  
گرم ایہ کرنہ سوسون تہ رو پھ فُتُكُومِي بِهَا جَبَاهُهُمْ کس پیہ داغ کرنہ تمہ سیت ڈیکن جہندین  
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ یہ لرہ کانین جہنن، یہ تھرن تہ ٹھنن جہندین۔ و تہ ایٹھ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ  
لِأَنْفُسِكُمْ یہ چھو سونہند مال کس توہمہ سونبرواتھ اوسوہ پنہنہ خپترہ۔ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ کس  
ژہو مزہ تمیک یہ جہہ سونبر اوان آسوہ۔ چو پچہ امہ برو تھہ آہہ حج ذکر کرنہ۔ مشر کو اوس خلط وملط  
کورمت ریتن ہندس حساس آندر۔ مخرمس آس صفر بناوان۔ ذی القعدس آس ذی الحج بناوان پنہ نیو  
مصطحو موجب۔ تمی موکھ فر موواللہ تعالیٰ ان إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا  
پز پاتھ اللہ تعالیٰ آس نش چہمہ ریتن ہنز گریندہ باہ ریتھ فِي كَتَبِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ خدایہ سزہ پتایہ یعنی لورج محفوظس آندر۔ سمہ دہنہ پٹھہ آسمان تہ زمین پیدہ کوزن ومنہآ

كَتَبَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا  
 أَرْبَعَةَ حُرُمٍ ۖ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا  
 فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۖ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا  
 يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۹﴾  
 إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ

أَرْبَعَةَ حُرُمٍ تموزیو اندرہ چھہ ژور ریتھہ تعظیمک۔ ذی القعدہ۔ ذی الحجہ۔ محرم تہ رجب  
 ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ یوہے امر مذکور چھو حساب، دین مستقیم۔ یعنی ریتن ہند باہ آسن۔ تعظیم و  
 حرمتک ریتھہ ژور آسن۔ اتھہ بدل یوسہ جالبط طریق آس۔ تم آس بہوریتو علاوہ کہہنہ ریتھہ ہرہ راوان  
 تہ زیادہ کران۔ ہیہ آس تعظیمہ کین ریتن اندر تہ ردو بدل کران۔ ہیہ گنیہ بددینی۔ دین گوئی یہ اللہ تعالیٰ  
 ان مقرر کور فلا تظلموا فیہن أنفسکم پس مہ آسویمن ژدزن ریتن اندر پانہ وان لڑای  
 کترتھہ تمکن ژون ریتن ہنز بے حرمتی کترتھہ پانس پیٹھہ ظلم کران وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً  
 کَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ہیہ آسوسارنی مؤخر کن سیت جنگ کرنہ خیطرہ تیار روزان ہتھہ پاٹھہ تم توہیہ  
 سارنی مسلمان سیت جنگ کرنہ خیطرہ آمادہ چھہہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ہیہ زانوہ اللہ تعالیٰ  
 چھو پرہیز گارن سیت سیت۔ فہہ تھاو وایمان و تقویٰ پئن شعار کھو ژومہ کانہہ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي  
 الْكُفْرِ ریتن ہند اورہ یور کرن، تعظیمہ کین ریتن ردو بدل کرن چھونہ مگر کھرس اندر زیادتی کرن  
 يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا عام کافر چھہ امہ سیت گمراہ یوان کرنہ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا  
 کافر چھہ اتھہ تعظیمہ کس ریتس اکہ ورہیہ پنہ پننو اغراض نفسانیو منوکھہ حلال زانان۔ ہتھہ پاٹھہ پئس ریتس  
 پئس نہ تعظیمک ریتھہ اوس تعظیمک ریتھہ زانان لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ہتھہ برابر تھاوان تعداد



اللَّهُ فَيَجِلُّ مَا حَوَّرَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ارْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٥﴾ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابَ الْيَمَاءِ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَنْصُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ

رتین ہند سم اللہ تعالیٰ ان محترمہ بناومت آس فَيَجِلُّ مَا حَوَّرَ اللَّهُ بھتھ حلال بناوہ ہن تمن رتین سم اللہ تعالیٰ ان محترمہ معظم مقرر کرمت آس زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ زینت آوونہ تھنزن تھتھ کاین۔ تھن تھتھ تھتھ کامہ جان تہ رتھہ بوزنہ یوان وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ چھونہ و تھ ہوان تہ توفیق دوان کافر قوس يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آئی بالیمانو توبہ کیاہ سہوہ۔ توبہ یلہ وننہ یوان تھونیر و خدایہ سزہ وتہ اندر جہاد کرنہ خیلرہ اِنَّا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ مایل سپد تھتھہ زمیں کن یعنی کسل و کالت نراو تھتھہ ارْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ کیاہ توبہ آیہہ بوزنہ جان دنیا چ زندگی آخرتہ خوتہ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ حقیقت تھتھہ تھتھہ دنیا چ زندگی ہند مال و متاع چھونہ آخرتس نسبت مگر سبھاہ کم إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابَ الْيَمَاءِ ہر گاہے تھتھہ جہاد کرنہیر واللہ تعالیٰ کرہ وہہ کڈر عذاب۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ بیہ انہ توبہ بدل میں قوس تھتھہ ختم تھتھہ وَلَا تَنْصُرُوهُ شَيْئًا تھتھہ بیھونہ خدایہ سندس دیس عنہ قسمہ ضرور اتاوتھہ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ چھو پر تھتھہ چیزس پیٹھ قدر تہ دول إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ ہر گاہے تھتھہ امس پیغیر بر حقس مدد کمر و کانہہ پروا چھونہ۔

الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هَبَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ  
لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ  
عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۰﴾  
إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾

بیشک اللہ تعالیٰ ان کمر تین تین یاری تہ مدد تمہ وقتہ سمہ وقتہ زیادہ پریشانی ہند وقت اوس اذ آخو جہ  
الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ یلہ تم کافر و تنگ کمر تھ پن شہر تہ وطن تراؤس پیٹھ مجبور کمر ثانی اثْنَيْن ۗ یلہ تم  
آس دو یہ منزہ دو تم صاحب بیا کہ صاحب اوس ابو بکر صدیق تین سیت اذْ هَبَا فِي الْغَار ۗ یلہ تم  
دشوے آس گو پھہ اندر بیٹھ غار ثور آس وان اذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ ۗ یلہ بیٹھ بر حق پنہ نس یار  
غارس ابو بکر صدیق فرماوان اوس لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۗ کھو ترمہ، غم مہ بر۔ بیشک اللہ تعالیٰ  
سند مدد چھو اسہ سیت ۗ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ۗ بس ترود اللہ تعالیٰ ان دلگ قرار تہ تسلی تین پیٹھ  
وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا ۗ بیہ کور تین مدد اللہ تعالیٰ ان ملائک ہنزہ تمہ لشکرہ سیت یوس نہ تو بہ  
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ بیہ ترود اللہ تعالیٰ ان کافرن ہنز تھ یعنی شرک و کفر کہ  
اشاعت تھ سیٹھا ہون تہ پست تم کمرن خوار و ذلیل وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ اللہ تعالیٰ سند کلے چھو  
سیٹھا ہند وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۗ اللہ تعالیٰ چھو غالب حکمتہ ول۔ اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا اى  
مسلمانو نیر ان آسوجہادہ خیطرہ سمہ ساتہ نہیر نہ خیطرہ اعلان آسہ یوان کرنہ۔ سلاح و رای تہ سلاح  
پور تھ تہ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ بیہ آسوجہاد کران خدایہ سزہ و تہ اندر  
مال و جانہ سیت۔ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ اى چھو ٹھندہ خیطرہ بہتر ہر گاہ نہہ زمانہ چھو ہ  
لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا ۗ ہر گاہ آسہ ہا مالہ جلد حاصل سپد ہون بیہ آسہ ہا سفر اہ تہ ثحوٹ

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ  
وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ  
لِأَنَّهُمْ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۳۱﴾ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ  
أَذْنَتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعِنَا لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ  
الْكَاذِبِينَ ﴿۳۲﴾ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ

لَاتَّبَعُوكَ تلمہ نیرہ ہن منافع توہم سیت و لکن بعات علیہم الشقۃ لیکن تموزون کہ سفرج  
مسافت چھہ سیٹھاہ زبٹھہ تھی لگ تم ارہ سرہ کرنہ و سیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا  
معمکم بیہ دن تم خدلیہ سند قسم ہاوتھ زہ ہر گاہ اسہ وسعت آسا اس تہ نیرہ ہو توہی سیت۔  
یہلکون انفسہم لہز قسم ہاؤ ہاؤ چھہ تم پن پان ہلاک کران مستحق عذاب کران واللہ یعلم  
انہم لکاذبون اللہ تعالیٰ چھوزانان زہ بیٹک چھہ تم اپزیر عفا اللہ عنک لہم اذنت لہم اللہ  
تعالیٰ ان کور توہم عفو۔ توہم کیاہز دیو توہ تمن اجازت جھہ نشہ پتھ روز تک۔ تہہ پیار زہہ حتی  
یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکذبین یوتان توہنہ ہاکو وون پوز، بیہ زانہ ہو کہ تہہ اپز  
زیر۔ لایستأذینک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا بأموالہم و انفسہم  
توہنہ نہ حض مگن نہ اجازت تم لو کہ تم پتھ کران آس معبود بر حقس بیہ پتھس دوہس یعنی قیامتس  
دوہس تم کیا روزن چھہ مال و جاوسیت جہاد کرنہ نشہ واللہ علیہم بالمتقین اللہ تعالیٰ چھو پوزانان  
پرہیز گارن انہما یستأذینک الذین لایؤمنون باللہ والیوم الآخر اجازت مگن تہ لو کہ

وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ بِالْمُتَّقِينَ ﴿۳۶﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿۳۷﴾ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ۗ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿۳۸﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ۚ وَلَا أَوْضَعُوا خِلَافَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ

تم نہ پڑھ کر ان چھہ معبود برحقس نہ ہتمس دوس اورتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون بیہ تم شک وچھو دل اندر ہس چھہ تم تمنی شکن اندر حیران سرگردان پھیران ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عداۃ ہر گاہ تم جن جمداس نیرہ نک ارادہ آسماتلہ کرہ بن تیار تہمہ خیطرہ سلاح سامانہ سیت بیہ کرہ بن و تہ خرچک بندوست و لکن کرہ اللہ انبعائتم فثبٹہم لیکن اللہ تعالیٰ ان کرنا پسند نہوند نیرہ خیطرہ آمادہ سپدن ہس کمرن تم کانگلہ۔ اوکن دژ تکہ نہ اتھ و تھ۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین و نھ آو تم بنو ہو ان سیت یعنی زمانن نابالن تہ معذوران سیت لوخرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ہر گاہ تم نیرہ بن توبہ سیت توبہ منز ہر اوہ بن نہ کہہن تہ خرابی تہ نقصانہ و رای و لا اوضعوا خلیفکم بیہ کرہ بن سیشاہ جلدی توبہ منز تفرقہ تراونہ خیطرہ یبغونکم الفتنۃ تم چھہ تلاش کران توبہ منز قنہ تہ فساد واقع ہد نک و فیکم سبغون لہم توبہ منز تہ چھہ کاتیہ ہمز ن تھن کن تھوہ ون واللہ علیہم بالظلمین اللہ تعالیٰ اس چھہ پور معلوم مفید تہ عالم لقتدا بئغوا الفتنۃ من قبل و قلبوا

وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۳۷﴾  
 لَقَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ  
 حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۳۸﴾  
 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اضْطُرُّنَا إِلَىٰ وَلَا تَفْتِنِي ۗ أَلَا فِي  
 الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۳۹﴾  
 إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسُؤُهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ  
 يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ

لَكَ الْأُمُورَ بتھیں تمہو کو برونٹھتے کوششِ فساد بیجیہ آس ووان ورتھنن کائین حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ  
 وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ یوتان بڑوعدہ آوغالب سید خدلیہ سید کھم۔ وَهُمْ كَرِهُونَ تم آس نہ تھ  
 پسندی کران۔ تھے پاٹھ سپدہ آئندہ تہ تہہ مہ بڑوکانہ فکر وَوَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اضْطُرُّنَا  
 وَلَا تَفْتِنِي سمومنافقو منزہ چھوسو شخص تہ سیم دون مہ دیوحض اجات میہ مہ تراو وخرابی اندر مہ مہ  
 حض کمر ورومہ جن حسین زنان ہندہ سببہ گر فاربلا آلا فی الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وارہ بوزو تم چھہ بیس  
 بلاہہ منزہ پیمتی۔ سوگنیہ نافرمانی ہنز بلای کیما زہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنزہ نافرمانی تہ کھرہ خوتہ  
 چھنہ بیہ کانہ خرابی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ پزپاٹھ جھنم چھو کافرن تہ نافرمانن احاطہ کرہ  
 وَ إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسُؤُهُمْ ہر گاہ توہرہ کانہ رت چیزاہ واتان چھو، رت رتالٹا ہپیدہ سپدان  
 چھہ تمن چھو تہ ناخوش یوان وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ بیہ ہر گاہ توہرہ واتان چھو کانہ غماہ يَقُولُوا  
 قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وناں چھہ تم تہہ آسہ چھہ پن گوم بروٹھی پونختاومرث۔ پان پن  
 بچوومت وَتَوَلَّوْا وَهُمْ فِرْحُونَ بیہ چھہ توہرہ نشہ نیران تہ گوٹھان، خوشیہ ماران تہ شادیانہ کران۔

فِرْحُونَ ﴿۵۰﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ  
 مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۵۱﴾ قُلْ  
 هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ  
 نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ  
 أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿۵۲﴾ قُلْ  
 أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِتْكَمُكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا  
 فَسِيقِينَ ﴿۵۳﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا

اللہ تعالیٰ چھو فرماوان سمن و بوحض جنہ جواب زی تھے۔ اگھہ۔ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا  
 جنہ فرمائیو کہ یارسول اللہ ہرگز واپس نہ آسہ کا نہ چیز مگر سومی بس سائہ خیرہ مقرر کورمت آسہ اللہ  
 تعالیٰ ان هُوَ مَوْلَانَا سومی چھو سون مالک تہ آغہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ  
 تعالیٰ سی پیٹھ گومہہ با ایمان ہند اعتماد کرون۔ نس گوہن پنہ سارے کامہ سپر د کرنہ۔ بیا کہ تھے یہ کہہ  
 قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسَيْنَيْنِ جنہ فرمائیو کہ جنہ چھو نہ پیران سائہ خیرہ مگر  
 دوہ خویواندرہ اکس خوبی۔ سونگیہ نصرت یا شہادت وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ  
 مِّنْ عِنْدِهِ اس چھہ پیران جنہہہ خیرہ تھے کہ خداوتہ تعالیٰ و اتا وہ توہہ پنہ طرفہ کا نہ عذابا  
 أَوْ بِأَيْدِينَا یاسانوی اٹھوہہ توہہ کا نہ سزا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ کس پیارو جنہہ اس تہ  
 چھہ توہی سیت پیران قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا جنہ فرمائیو کہ یارسول اللہ کہ ای منافقو جنہہ کرتو  
 خرچ، خوشی سان یا ناخوشی سان لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ جنہہ خیرات و صدقات ہرگز قبول لیہ نہ کرنہ۔  
 إِتْكَمُكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِيقِينَ کیا زہہ چھو ہا فرمان لو کہ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا

أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ  
 إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرهُونَ ﴿۵۲﴾  
 فَلَا تُحِبُّكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ  
 بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۵۳﴾  
 وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ  
 يَفْرُقُونَ ﴿۵۴﴾ لَوْ يَشَاءُونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدًا خَلًّا  
 لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ ﴿۵۵﴾ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ

اَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ کانہ چیز چھونہ منع کران تہند خیرات و صدقات قبول کرنہ نشہ۔  
 مگر یہ ہے بوڈ چیز کہ تمہو کور انکار مغبوبر حقس بیہ تہندس پیئبرس وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا  
 وَهُمْ كُسَالَىٰ بیہ چھند تم نماز پران مگر کما تسان وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرَهُونَ بیہ چھند  
 تم مال خرچ کران مگر نا خوشی سیت فَلَا تُحِبُّكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ توبہ منہ این جان تہ نجایب  
 بوزنہ تہند مال یا تہند اولاد۔ یہ تہندہ خیطرہ نعمت چھند بلکہ چھو عذاب إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا  
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ چھونہ یرھان مگر بی زہ تمن تمہ مالہ سیت تہ اولادان ہندہ سیت عذابس  
 گرفتار کرن دنیاجہ زندگی اندری وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ بیہ ئیرن تہند زوڈھر سی اندر یعنی  
 تم مرن در حالت کفر وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ بیہ چھند تم قسم ہوان خدایہ سیدتھ  
 پیٹھ کہ تم چھند توبہ حقیقت چھند کہ تم توبہ منزہ چھند وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ مگر تم چھند  
 جماعتھہ بزول۔ کھوژان توبہ۔ لَوْ يَشَاءُونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدًا خَلًّا ہر گاہ تم لین کانہ  
 چھین جایاہ یا کانہ سر تابا تہ گوچاہ یا کانہ اترن جایاہ لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ ضرور دورہ ہن تمن  
 جاسن کن دوشہ حکان وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ بیہ چھو تمہو مناقبو اندرہ تم توبہ طعنہ

فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا  
 مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿۵۸﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ  
 وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ  
 إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿۵۹﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ  
 وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
 الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۶۰﴾ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ

دوان چھ صدقہ کا جس مالس تقسیم کرئس اندرونان چھ نعوذ باللہ امہ بحس تقسئس اندر آؤنہ عدل کرنہ  
 فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ کس ہر گاہ تم تہنہ خواہشہ مطابق  
 کنہہ عطا بیہ ہا کرنہ تلہ گھہ ہن تم خوش یلہ نہ تم تہنہ خواہشہ مطابق آؤ عطا کرنہ۔ لہذا چھہ تم بے  
 زار تہ ناخوش وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ہر گے تم راضی سپدہ ہن تمہہ سیت بیہ  
 تم خدائس تہ تہنہ پیغمبرن دژوو وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ بیہ ہر گاہ  
 تم ونہ ہن کس چھو امہ تہ بیہ اللہ تعالیٰ ان امہ عطا کور پئن فضل بیہ تہنہ پیغمبرن إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ  
 اس چھہ گوہہ بیٹھے اللہ تعالیٰ اس گن راغب سپدہ ون۔ کس نش چھہ اس امیدوار إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ  
 لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَابْنِ السَّبِيلِ صدقات و خیراتن ہند مال چھونہ مگر محتاجن ہندہ خیرہ بیہ مسکین ہندہ خیرہ بیہ  
 صدقاتن ہند مال وصول کرہ و نین ہندہ خیرہ۔ بیہ ہند دل اسلامس گن مال کرن آسن۔ بیہ غلامن  
 ہنہہ گردنہ آزاد کرنہ خیرہ۔ بیہ قرضدان ہندہ خیرہ۔ بیہ خدلیہ سزہ و تہ اندر جماد کرہ و نین ہندہ  
 خیرہ بیہ مسافرن ہندہ خیرہ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بیوی چھو فرض تہ مقرر کرنہ





خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿۳۳﴾ يَحْذَرُ الْمُنْفِقُونَ  
 أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ  
 قُلِ اسْتَهْزِءُوا إِنَّا اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ ﴿۳۴﴾ وَلَئِنْ  
 سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ  
 وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۵﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ  
 كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ  
 نُعَذِّبُ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۳۶﴾ الْمُنْفِقُونَ

خیطر ہجھونار جھنم تھہ منز تھن ہمیشہ روزت عذائس گرفتار سپدن آسہ ذلک الخزی العظیم سیکے کنیہ  
 بد خواری یحذر المنفقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم کھوژان ہجھہ  
 منافق مسلمان پیٹھ گھوہنہ بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانہ سورہ شریفہ یا آئیہ کریمہ نازل سپدن  
 ئس تھن خبر کرہ منافقن ہندین دلن ہزنن کھوڈہ کھچن ہنز قیل استہزءوا ان اللہ مخرج  
 ما تحذرون تہہ فرماوے کہ تہہ گھوہو ٹھٹھہ کران۔ پز پانٹھ اللہ تعالیٰ نرا وہ تھہ ساری تھہ تہہ  
 کھوژان ہجھہ ولین سالتہم لیقولن انما کنا نخوض ونلعب ہر گاہ تہہ پڑھیہ کہ کھہ سمہ تھہ  
 کیازہ آسہوہ تہہ کران ضرور ون تھہ جواب کہ اس آس نہ مگر تھہا ہاتھہا ٹھٹھہ خولہ کران۔ امہ اندرہ  
 اوسنہ آسہ حقیقی معنی مراد قیل اب اللہ وایاتہ ورسولہ کنتم تستہزءون تہہ فرماوے کہ کیاہ خدائس  
 بیہ تھندین آیتن بیہ تھندس پیغبرس نسبت آسہوہ تہہ ٹھٹھہ کران لا تعتذرون قَدْ کفرتم بعد ایمانکم  
 وون مہ کمر وسم بے ہودہ تہ لغو عذر تہ ہمانہ۔ تھتھن توہہ کوروہ ٹھرا ایمان ظاہر کرنہ پتہ۔ ان نَعْفُ عَنْ  
 طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبُ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ہر گاہ اس معاف گرو توہہ اندرہ  
 اکس جمائس سم ہر مس پیٹھ ناوم تہ پشیمان سپدن مگر بیس جمائس گرو ضرور عذاب۔ کیازہ تم زود

وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ طَسُوا  
اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۶۷﴾ وَعَدَّ اللَّهُ  
الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ  
فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۶۸﴾  
كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكْثَرَ  
أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَبَعُوا بِخُلُقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ

بدستور مجرم کران۔ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ مناق مرد و مہنق زنانه هه آه  
اکس ہی نفاس اندر۔ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ ہجھه کاین ہند ہجھه لوکن  
صلاح دوآن۔ کفر و مخالفت اسلاج ہجھه لوکن تعلیم دوآن۔ رثو کامیو ایمان تہ متابعت نبی کریم صلی اللہ  
علیہ وسلم، نشہ ہجھه ہجران تہ پتھه رثان وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ مؤہجھه پنہ ہجھه و پتھه تھوان۔ خدایہ  
سزہ و تہ اندر ہجھه کینہہ تہ خرچ کران طَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ تمو مشرو و خد۔ فرمانبر داری نہ کرنہ  
سیت۔ ہس مشرو تم تہ خداین پنہ نیولطف و مہربانیو نشہ۔ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پزپا ہجھه تم  
مناق ہجھه سیٹھاہ سرکش تہ تا فرمان وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ  
فِيهَا وعدہ کور اللہ تعالیٰ ان مناق مردن ہجھه مناق زنان ہجھه نہ وانہ کافر ن نار ہجھه ہجھه، ہجھه منز تم  
ہمیشہ روزن ہی حَسْبُهُمْ سوی نار ہجھه ہجھه تھو تھن ہس وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ تم کر  
اللہ تعالیٰ ان دور پتہ رحمتہ نشہ۔ ہجھه ہجھه تھدی خیطرہ ہمیشہ روزہ و ن عذاب كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
کَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ای مناقو ہجھه ہجھه تھن لوکن ہی سم توبہ ہجھه ہجھه

بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ  
 وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي  
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۹۹﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ  
 نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۗ وَقَوْمِ  
 إِبْرٰهِيْمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمُ رُسُلُهُمْ  
 بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

گذرے۔ تم آس طاقت و توانائی کن تمہدہ خود زیادہ بہ آس تمہدہ خود زیادہ مالہ کن بہ اولادوں کن  
 فَاَسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ کس نل تموتمتتہ فایدہ پنہ نصیبہ موجب فَاَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ تمہ  
 نہ تلوتمتتہ پنہ نصیبہ موجب۔ کَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ بہتہ پاٹہ تموتمتتہ نل پنہ  
 نصیبہ موجب تم توہہ بروٹھ آس وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا تمہہ نہ ژاودہ پچھہ کاین اندر تھے پاٹہ  
 تمہہ پاٹہ تم ژاومت آس اُولَئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تھے لوکھ گے تم سمن ہنزہ  
 رژہ عملہ ضائع تھیہ دنیا س اندرتہ آخرت س اندرتہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ تھے ہتھہ بہ تاوان زد  
 دنیا و آخرتہ راحت و آرامہ نشہ محروم اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ  
 وَقَوْمِ إِبْرٰهِيْمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ کیاہ سمن چھنا واژہ مژہ سمن لوکن ہمدہ گنج خبر  
 سمن یکن بروٹھ آس، قوم نوح، قوم عادچہ نہ قوم ثمودچہ۔ بہ قوم ابراہیم۔ بہ شہر مدینہ کین لوکن،  
 بہ قوم لوط سمن ہنزہ سمن تلک پیٹھ سپد اَتَتْهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ سمن نشہ تہ آئیے پیغمبر تمہدہ  
 نہہ دلیلہ ہتھہ۔ مگر تمبو کرنا فرمائی تھی نافرمانی سیت گئے برباد تہ ہلاک فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ  
 كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ امدہ بربادی سیت کورنہ اللہ تعالیٰ ان سمن پیٹھہ کھنہ ظلم تم آس پنہ سمن پان  
 پیٹھہ پائے ظلم کران، خدایہ سزنا فرمائی کرنہ سیت۔ سمن منافقن ہمدہ تہ گڑھہ کھوژن اتھہ عدالتس  
 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ با ایمان مرد بہ با ایمان زنانہ سمن ہتھہ اوڈین ہمدہ

يُظَاهِرُونَ ۝ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ  
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝  
وَعَدَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَدَّتِ عَدْنٌ  
وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

دینی رفیق سے دوست یَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ سمجھو رثن کا میں ہند  
امر کران، سمجھو کامیونہ پتھ رنان۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ بیہ سمجھو تم نماز  
برپا تھاوان بیہ زکوٰۃ ادا کران وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بیہ سمجھو تم مانان خدایہ سند بیہ تہندس بیخبرہ  
سند۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ سے لو کہ گئے تم میں پیٹھ ضرور اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ بیٹھ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ غالب سیٹھا حمتہ ذول وَعَدَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وعدہ کور اللہ تعالیٰ ان با ایمان مردان سے با ایمان زنان تم جن جن ہند سمجھو  
مزر جو بیہ پکان آن خلدین فیہا تم جن جن منروزان ہیٹھ وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ بیہ نفیس نفیس مکان  
ہند فی جَدَّتِ عَدْنٌ ہیٹھ روزہ نہ گن جن جن منروز وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ بیہ رضامندی اللہ تعالیٰ  
سنز۔ سمجھو ساروی نعمت اندرہ بڈ نعمت ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ سے کہیہ بڈر سنگاری سے کامیابی  
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ای بیخبرہ برحق جہاد کر و کافرن سے منافق  
سیت۔ بیہ کور و رشتی سے سختی تم میں پیٹھ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَايَسَّ الْمَصِيدُ تہنز جایی سمجھو جہنم کا تہا سمجھو

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَأُولَاهُمْ جَهَنَّمَ وَايَسُّ الْمَصِيدُ ۝ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَبُوا بِيَالِهِمُ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَوُوا

جاہد چھ سوتھندہ واتنہ خیلرہ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا سم منافع چھہ قسم ہاوان خدایہ سُنَدِکُمَ اَسْمَہ وون نہ تمہہ قسمک کہنہ سیمووک توبہ پیغام دوت۔ مثلاً یہ تھہ کہ تم آس دیان اس کرون شہید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بیشک وینہ تموگھر چہ تھہ چھہ لفظ نسبت بذات مقدس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تہندہ تملک ارادہ کرن۔ یہ تہ گوگھری وَكُفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اسلام ظاہر کر تھہ کوزکھ گھر وَهَبُوا بِيَالِهِمُ يَنَالُوا بیہ کریوکھ قصد تمہہ گوی یہ نہ حاصل سُنَدِکُمَ۔ جنگ تبوکہ نغمہ واپسی اندر کریوکھ قصد بے خبری اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کمر تھہ تہندہ شہادتک۔ مگر تھہ منزسید ناکام۔ تمہہ ساتہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان بیہ عمار بن یاسر۔ لشکرہ نغمہ الگ سُنَدِکُمَ بیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوبہ پٹھہ آس تَرْنِ یَشْهَان۔ باہ شخص منافع اندرہ تم نقاب پوش آس، بٹھنہ کانہہ تھن پر زہ ناوہ ہا۔ تم دورے تھن ترین صاحبن پتہ۔ چنانچہ عمار بن یاسر کور تموگیر۔ حذیفہ بن یمان رود تہندہ یں وون تھن ہند چانٹ دگان۔ یوتان تم ساری ٹل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ تھن تھن ۱۲ شخص ہند ناوہ پتہ نین دون رفیقن۔ مگر فرمودہ تھہ وُن گھوہ نہ کانہہ۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ بیہ ہیوت نہ تموگھنہ چیزک انتقام مگر تمہہ گوی کہ اللہ تعالیٰ اُن تہ تہندہ پیغمبرن کیا کتر تم منافع مالدار تہ دولت مند پتہ فضلہ سیت۔ تمہہ گوی بدلہ چھہ تم ہوران۔ خدا نِس تہ رسولس سیت دعا بازی کران فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَوُوا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا لِيَمُنَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَ هُرَّاهُ تَمَّ مَنَافِقُ تَوْبَةٍ

يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ  
 فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٤٦﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللَّهَ لَئِن  
 اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٤٥﴾  
 فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَكَّلُوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٤٦﴾  
 فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهٗ بِمَا اٰخَلَفُوْا  
 اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٤٧﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْا

کرن، سمو حرکاتو نبعہ بازين، بصدق دل سپدن مسلمان تہ گروہہ جہنمہہ خپترہ بہتر۔ ہر گاہ تمہہ نبعہہ  
 زوگردانی کرن بدستور روزن دعا بازی کران اللہ تعالیٰ گرهہ تلمہہ ممکن سخت عذاب دنیاس اندرتہ  
 آخرتس اندرتہ **وَاللَّهُمَّ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ** بیہہ چھونہ تمن تمام روی زمینس اندر کانہہ  
 دوستانہ نہ کانہہ مدگارہہ۔ **وَمِنْهُمْ مَنْ عٰهَدَ اللَّهَ لَئِن اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ  
 الصّٰلِحِيْنَ** سمومنا بقوا اندرہہ چھہ تم سمومو خدا نئس سیت سیت عمد کورمت اوس زہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ اسمہ عطا کرہہ  
 پئن فضل یعنی مال و دولت اس کرو ضرور خیرات و صدقات بیہہ بنواس نیلو کارواندرہہ **فَلَمَّا اٰتٰهُمْ  
 مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَكَّلُوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ** اودہیلہ اللہ تعالیٰ ان عطا کورتمن پئن فضل یعنی مال تھہ  
 منز کورکھ مغل۔ بیہہ پھر کھ نجھہ۔ تم آس ہمیشہ تھہ پھرہہ ونی **فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلَى يَوْمٍ  
 يَلْقَوْنَهٗ** نئس دنجھہ اللہ تعالیٰ ان سزاتمیگ۔ ہفاق تروون جہنمیں ولن اندرتھہ دوئس تان سیمہہ دوہہہ  
 تم آس کن گروہن یعنی مرعجس و قئس تان **بِمَا اٰخَلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ** امی سببہ کہ تمبو کور خلاف تھہ  
 وعدس نئس تمبو خدا نئس سیت کورمت اوس۔ اگرچہ سو وعدہ اوس کورمت تمبوئی کر تئس سیت صلی اللہ  
 علیہ وسلم۔ مگر تمن سیت عمد کرن گو خدا نئس سیت عمد کرن **وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ** بیہہ امہ سببہ کہ  
 تم آس ہمیشہ اپزونان **اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ** کیا تمن چھنا تئج خبر کہ اللہ  
 تعالیٰ چھوزانان جہنمیں سر، راز۔ بیہہ تہنزہ کن تھہ، بیہہ یہ تھہ کہ **وَ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ** اللہ

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ  
 الْغُيُوبِ ﴿۵۳﴾ الَّذِينَ يَلْبِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
 فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ  
 فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۵۴﴾  
 اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً  
 فَلَنْ يُغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۵۵﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ

تعالیٰ جھو سارے غیبہ چہ تمہہ زانہ ون۔ الَّذِينَ يَلْبِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ  
 تم منافق ہجھہ تھقی کہ تم ہجھہ طعنہ دو ان تم با ایمان تم شک صدقات دو ان ہجھہ وَالَّذِينَ  
 لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ یہ تم با ایمان تم نہ زیادہ بنان  
 چھو کہہ نہ۔ تم ہجھہ یو ان تنوی ہی تھہ یوت تم ممکن نہ ہیر سپد کہ محنت مزدور کر تھ۔ تم منافق ہجھہ تم  
 ٹھٹھہ کر ان۔ اللہ تعالیٰ نہ جھو تم منافق ٹھٹھہ کر تک سزا دو ان وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تھہدی  
 خیطر ہ جھو کڈر عذاب اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ تھہ مکتو مغفرت تھہہ خیطر ہ یا متہ مکتو مغفرت  
 تھہہہ خیطر ہ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ہر گاہ تھہ تھہہہ خیطر ہ ستہ ہجر ہ تہ مغفرت مکتو  
 لھم توتہ کہ نہ اللہ تعالیٰ تم مغفرت ہرگز ذلک یأثمهم کفرًا وباللہ ورسولہ یہ جھو امی مو کہ  
 زہ پڑیا تھہ تم کو کور کھر وانکار کنس خدا جس یہ تھہہہ س جینبرس واللہ لا یھدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ  
 جھو نہ و تھہ ہوا ان تھہہ نافرمان نہ سر کش لو کن فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ  
 يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جھاد نشہ پتھہ روزن و آل چھ خوش کہ تم کیا ہر دو رسول کریم  
 صلی اللہ علیہ وسلم بر خلاف پتھہ ہست یہ ناگوار گو تم جھاد کرن پنہ نیو جانو تہ مالو سیت خدا یہ سزہ



خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَرَهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ  
 حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿۸۱﴾ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا  
 جَزَاءً لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۲﴾ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ  
 مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا  
 وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

و تہ اندر امیک باعث سپہ تہن زہ (۲) چیز۔ اکہ کفر بیہ آرام طلی وقالوا لا تنفروا فی الحار بین لوکن  
 تہ لگ و نیرہ مہ نیر و یشہہ تیز گرمی اندر جہاد کرنہ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا تہی فرماؤ کہ جہنمگ نار  
 چھو زیادہ گرم یتہ چہ گرمی خوتہ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ کیاہ جان اوس ہر گاہ تہن زانن چھہ ہا  
 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا نہس آستن تم دنیاس اندر کہ تہنہ کالاہ۔ دنیاعک مدت چھو کی۔  
 و دتن وار نہس کاس آخترس اندر۔ تہہ چھو تہن ہمیشہ و دئوی۔ جَزَاءً لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تہن تہہ  
 کابین بدل یمہ کامہ تم کران آس دنیاس اندر، کفر، نفاق مخالفت۔ یمہ تہنہد حال توہہ معلوم سپہ فَإِنْ  
 رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ نہس ہر گاہ اللہ تعالیٰ واپس نیہ توہہ مدینہ شریفس کن، توپتہ و اتاودہ  
 توہہ سمو منافقو اندرہ تہہ جہاتس کن فَاَسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ توپتہ مگن تم اجازت جہادس اندر  
 توہہ سیت نیرنہ خیطرہ۔ برو ٹھہس الزامس رفع کرنہ خیطرہ۔ سوتہ آس نہ بہ نیک نیتی بلکہ آسہ جہندس  
 و کس اندر یوہے خیال زدو قتہ وزہ کانہہ بہانہ کرتہہ روزن تہہ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا  
 مَعِيَ عَدُوًّا تہہ فرماؤ کہ تہہ چھوہ زمانہ سازی موجب تہہ کران مگر اللہ تعالیٰ ان کسر تہنہد مکن و کن ہند  
 خیالات ظاہر۔ چنانچہ پورہ اعتمادہ سان چھو سو و نان کہ تہہ مہ نیر و تہہ وقتہ جہادس اندر مدد کرنہ  
 خیطرہ۔ بیہ مہ کسر و تہہ لڑای میانین دشمن سیت۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ توہہ کورہ  
 ناگوہہ بیٹھے گرہ بہنوی پھند۔ و نکینس تہہ چھو سو ارادہ۔ یہ چھوہ سوزوی زیوہ سیت و نان فَاَعْتَدُوا مَعَهُ

فَاتَّعَدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ<sup>۸۳</sup> وَلَا تَصِلْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ  
 أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَمَاتُوا  
 وَهُمْ فَسِقُونَ<sup>۸۴</sup> وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ

الْخَالِفِينَ اِس ہو برو تھم پانھ آہن نشہ یعنی تمہن نشہ سیم پتھ روز نس سزاوار چھہ۔ زنانہ، شرمتہ بڈہ  
 وَلَا تَصِلْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا یارسول اللہ تمہو مناقبوا اندرہ ہر گاہ کا نہ مرہ تھندس جنازس پیٹھ نہ  
 ہز آہو نماز جنازہ پران وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ بیہ مہ آہو تہزہ قبرہ پیٹھ سوڈفن کرنہ خیطرہ ہو ودن روزان  
 إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کیا زہ تمہو کور کھرتہ انکار اللہ تعالیٰ اس بیہ تھندس پیٹھ برس وَأَمَاتُوا وَهُمْ  
 فَسِقُونَ بیہ مود تم کھرس پیٹھ۔ اِس کھرہ کس حاکس پیٹھ مرہ، تسدہ خیطرہ دُعاوا استغفار مکن۔  
 تمہندس کھنس دفس شامل سڈن چھو نا جائیز۔ سمہ آئیہ کر سمگ شان نزول چھو کہ یلہ عبد اللہ بن  
 ابی منافقن ہند سردار مود، تمہند پچو اِس ناؤ اوس عبد اللہ بن عبد اللہ آؤدر خدمت رسول کریم صلی اللہ  
 علیہ وسلم سو اوس مخلص مسلمان۔ تم کور عرض پٹن قمیض مبارک دیوحض سو تراؤو تمس کھنس سیت۔  
 چنانچہ تمہو دیت پٹن قمیض مبارک اِس تمہہ ساتہ تمہن نال اوس بیہ نیو کہ تشریف تھند گھرہ۔ تمس  
 تروؤ کہ پٹن لعاب دہان مبارک آس منز۔ تو پتہ پور ہس نماز جنازہ۔ بیہ کور ہس دُعا ی مغفرت۔ تمی  
 ساتہ سڈیہ آئیہ کریمہ نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اِس معاہدہ کور عبد اللہ بن ائیس سیت تھہ اندر  
 آسہ واریاہ کھمہ۔ چنانچہ امیگ نتیجہ دراؤزہ واریاہ لو کہ سپد مسلمان بیہ وچھت۔ تمہو دوپ کہ بیہ پیٹھبر  
 برحق چھو دشمن سیت امہ قسمگ مہر و مجتگ سلوک کران۔ دو ستن تہ بالیمان سیت آسن زیادے  
 لطف و مہربانی کران۔ بیہ نسر و تمہو بیہ کرنہ سیت شریعت اسلامیک اکھ بوڈ مسئلہ۔ سو گوئی زہ ایمان و  
 عمل صالحہ و رای دیہ نہ کانسہ اِس کا نہہ چیزاہ فائیدہ نہ تو سل نہ شرک۔ تمہو فر موو گویاکہ بو امام آسن،  
 صحابہ صیب مقتدی آسن تو پتہ پور اسہ نماز جنازہ عبد اللہ بن ائیس پیٹھ۔ بیہ مونگ امہ تھندہ خیطرہ  
 مغفرت۔ بیہ آؤ تراونہ میون قمیض تھندس کھنس سیت۔ بیہ آپرمہ اِس پٹن لعاب شریف اِس تھندس  
 بد اِس منزوت۔ باوجود آل چھہ جای تہزہ فی الدرک الاسفل۔ جہنمہ کس ڈکس تکل۔ ام میان نماز

اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۸۵﴾  
 وَإِذْ أَنْزَلْتُ سُورَةَ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ  
 اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿۸۶﴾

جنازہ پر ن۔ دُعاء مغفرت کرہ نُن تمیض مبارک کھنس سیت تراون۔ لعاب شریف بدنس منزواتاودہ نُن کورس نہ کانہ سہوچہ۔ سمو چیز و دیولتس نہ کانہ فاسیدہ۔ ای گڑھہ تھاون یاد تمن لوکن ہند یم ژہروی دعویٰ ہجہہ دو ان نبی کریم سہہ مچنگ مگر ایمان و عمل یتھ شوبہ ہاتھہ نغہہ خالی۔ یہ تم یتھہ آی، توحید و سنت تھہ نغہہ ہجہہ بے بہرہ عاری۔ اُس شخص عمرہ روزہ کران تہنز مخالفت اُس روزہ خیال کہہ مہ کرن تم شفاعت یہ گو محض شیطانہ سُد ڈھوکہ۔ آتھہ بنہ تی یہ عبد اللہ بن ابی سہو و جہد شفاعت کرہ نُن دیت نہ اُس کانہہ نفع تہ فاسیدہ۔ لہذا ہجہہ سخت ضرورت نجات حاصل کرنہ خیطرہ ایمان و عملہ ہنز۔ یتھہ پانچ گڑھہ زان تمن لوکن ہند تم بزرگن اولیاء اللہن کن ایمانہ و عملہ و رای پائس نسبت کران ہجہہ تمن خدایہ سندن ٹاٹھن تہ محبوب ہندن کن سمو پندر عمرہ ہجہہ صرف کرہ مژہ کتاب و سٹس پیٹھ عمل کر اُس اندر۔ جاہل لو کہ کرن مخالفت کتاب و سنت تھہ پتہ روزیکھ خیال اسہ کرن تم خدا اُس نغہہ سفارش یا شفاعت۔ ایس خیال است محال است و جنون وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ جہد مال و دولت یہ گھبر مہ ہز تراون توہہ تجیس اندر کہ تھہن نافرمان تھہہ پانچہ جھو اللہ تعالیٰ دُنیاس اندر سمہ نعرہ عطا کران سمہ نہ حض ہجہہ بہندہ خیطرہ نعرہ بلکہ ہجہہ تم چیز بہندہ خیطرہ عذاب سامان اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ جھونہ یرٹھان مگر تمن سمو چیز و سیت گرقار عذاب کرن وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ یہ گڑھہ تمن ڈوئیرن گھرہ کس حالتس اندر۔ سمہ سیت آخر اُس اندر تہ سزوار عذاب روزن وَإِذْ أَنْزَلْتُ سُورَةَ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ یلہ کنہ وقتہ قرآن مجید ک کانہ حصہ نازل یوان جھو کرنہ یتھہ منز یہ مضمون جھو آسان کہ پڑھہ سکر و کس معبود برحق خلوص دل۔ یہ نیر و جہادس تھندس پیغمبرس سیت سیت اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ اجازت ہجہہ منگان توہہ تمواندرہ مال دار لو کہ۔ دپان ہجہہ اسہ تراو حض ہجہہ۔ اس

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ  
فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۸۴﴾ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ  
وَأَوْلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۸۵﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۸۶﴾ وَ  
جَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ  
كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

روز و پختہ روزہ و نین سیت رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ  
کا تاہ شرمہ ہنز کتھہ ہتھ کہ تم لو کہ سپد رضا مند گھرن اندر زان سیت روز نس پیٹھ۔ تھمدین دن پٹھ  
ہتھ مہر آشر کرنہ۔ تمی چھونہ تمن فکری تران لکن الرسول والذین امنوا معہ جہدوا باموالہم  
وأنفسہم لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیہ تم با ایمان تمن سیت ہتھ تمو مون حکم خدا  
تمو کور جہاد مال و جانہ سیت وَأَوْلِيكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأَوْلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی لو کن ہندہ خیطرہ  
ہتھ سارے خوبہ سے لوک ہتھ کامیاب سے رستگار۔ سہ خوبی سے کامیابی کنیہ۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اللہ تعالیٰ ان ہتھ تھمدہ خیطرہ تھے باغ تیار تھامت سمو  
منز جو بیہ پان آسن۔ تمنی جتن منز روزن ہمیشہ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کنیہ کنیہ بد کامیابی و جَاءَ  
الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ بیہ آئی کہہنہ بہانہ باز لو کہ گانو پیٹھ۔ ہتھ تمن گھرن اندر بہنہ  
خیطرہ اجازت لیہ دنہ۔ جہاد س سپدن نہ تم شامل وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ بیہ بیٹھ گھرن  
منز تم لو کہ سمو ایمانہ کس دعویٰ اس اندر خدا نئس سے پیغمبر س سیت بالکل اپر و نمت اوس۔ تم آئی نہ  
عذر پیش کرنہ سے سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تمو اندرہ ہم آخر س تان گھرن

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا  
 عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا انصَحُوا لِلَّهِ وَ  
 رَسُولِهِ ۝ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۝ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝  
 وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لَتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ  
 مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَعَيْبُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ  
 حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ  
 يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا

پیٹھے روزن۔ تمن واتی آخرتس اندر دگ تہ دود نکلے ون عذاب۔ سم تمواندرہ توبہ کرن باخلاص دل  
 مسلمان سپدن تم لین تمہ عذابہ نشہ نجات لیس علی الضعفاء ولا علی المرضی ولا علی الذین لا  
 یجدون ما ینفقون حرج اذا انصحو للہ ورسولہ کم طاقت لوکن تہ بیمارن تہ بیہ نہ تمن لوکن  
 یمن نہ خرچہ خیطرہ کینہ موجود چھو چھونہ کانہ گناہ یلہ تمن خیر خواہی تہ خلوص آسہ خدا بس تہ جہدس  
 پیغمبرس نسبت ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم تمن نیکو کارن پیٹھ چھنہ کانہ  
 دتھاہ اعتراض کرے اللہ تعالیٰ چھو بوڈ مغفر تہ وول بوڈ رحمتہ وول۔ ولا علی الذین اذا ما اتوکلو  
 لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ بیہ چھونہ تمن لوکن پیٹھ تہ کانہ گناہ تہ الزام۔ یلہ تم توبہ  
 نش آئے توبہ کیاہ کمر یو جہدہ سوار ی ہند انتظام۔ توبہ فرمودو کہ میہ نشہ چھونہ کانہ چیز پیٹھ بوڈ تہ  
 سوار کروہ تولو او اعینہم تفیض من الدمع حزنا الایجدوا ما ینفقون تم درای وائس توبہ  
 نشہ پیٹھ حاکس اندر کہ اچھہ تمزہ آسہ اوش ہاران یی غمہ موکھ کہ یمن سپدہ نہ میانہ پنہر جاہی نہ بیہ کنہ  
 جاہی خرچہ خیطرہ کہہ نہ مال بس سم پیٹھ جہادس منز صرف کرہ ہن۔ تمن تہ چھونہ کانہ گناہ انما السبیل  
 علی الذین یستأذنونک وھم اغنیاء بس الزام تہ گناہ چھو تمنی لوکن پیٹھ سم مالدار آتھہ توبہ

مَعَ الْخَوَافِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۹۳﴾  
 يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا  
 تَعْتَذِرُونَ لِي مِنْ قَبْلِكُمْ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهُ مِنْ خَبَارِكُمْ وَسَيَرَى  
 اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
 وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۴﴾ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ  
 لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِنَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ

جہادس نہ نیر نہ خیطرہ اجازت مکان جہدہ رضوایان یگوونوا مع الخواف شرم مہہ تہمدہ  
 خیطرہ تم سپدر اضی زمان سیت روزنس پیٹھ و طبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون اللہ تعالیٰ ان  
 جہدہ موہر کمر مژ تہمدین دلن پیٹھ سمہ موکھ تم ن زان جھونہ تنگان ثواب کتھ منز جھوتہ گناہ کتھ منز  
 جھوتہ۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم ہم لوکھ کرن عذرتہ بمانہ توبہ نش، یلہ و اہلس  
 گروہو تم ن نش۔ قتل لا تعتذرون الیہم لکم لہذا فرماو لوکھ جہدہ بمانہ نہ عذر مہ و لو۔ اس ہرگز  
 تہمدس ونہ نس پڑھہ گرونہ قد نبانا اللہ من اخبارکم بیشک اسہ کمر خبر اللہ تعالیٰ ان تہمدین اصلی  
 حالاتن ہنز کہ تہمد کا نہ عذراوس نہ پوزتہ صحیح۔ وسیرى اللہ عملکم ورسولہ بیہ نہ وہجہ آیندہ  
 اللہ تعالیٰ بیہ تہمد پیٹھیر تہمدہ کاملہ۔ سمہ سیت معلوم سپدہ توبہ اندر کوتاہ اخلاص نہ فرمانبرداری جہدہ  
 ثم تردون الی علم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون توپتہ ایو جہدہ و اہلس نہ تس  
 پروردگار س نشہ نس سوزی پوشیدہ نہ نون زانہ ون جھوتہ۔ نس گروہ سو توبہ خبر تم ن سارنی چیزن ہنز سم  
 تہمدہ کران آسودہ توپتہ دیوہ تجمزور سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لنعرضوا عنہم وون یلن  
 تم توبہ نشہ توپتہ ہاون تم قسم خدایہ سد یلہ تہمدہ و اہلس ایو تم ن کن۔ جتھ تہمدہ درگذر کمر و تم ن نشہ  
 فأعرضوا عنہم انہم رجس نس کمر و جہدہ تم ن نشہ درگذر۔ تم تراو لوکھ پنہ نس حالس پیٹھ۔ ہز پاٹھ  
 تم جہدہ مکر نہ گندہ۔ وما اذہم جہتہ جزاؤہا کانتوا یکسبون تہمدہ انجام جھوتہ سیتاہ خراب۔ چولا کہ

إِنَّهُمْ رَجِسٌ ۖ وَمَا وَهُمْ بِجَزَاءٍ لِّبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۵﴾  
يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ  
لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۹۶﴾ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَ  
نِفَاقًا ۗ وَاجْدُرَ الْأَيْعُلُكُمْ وَاحِدٌ ۖ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ  
رَسُولِهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۹۷﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ  
مَآئِنِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَابِرَ ۖ عَلَيْهْمُ

بھو واثن تین جہنمیں اندر۔ یہ جھوتمیں سزا تین کا میں ہند سمجھ تم کر ان آس۔ نفاق سے خلاف وغیرہ  
يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ تم قسم چھہ تم ہوا ان توہمہ برو نٹھ کنہ بیٹھ تہہ راضی گوہو تمہن نشہ۔ اول  
گوہنہ خدایہ سندن دشمن نشہ راضی سپدن۔ بالفرض ہر گاہ تہہ تمہن نشہ راضی سپدو۔ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ  
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ہر گاہ تہہ تہند یواپز یو قسمو سیت متاخر سپد تھہ راضی گوہوتہ۔  
مگر اللہ تعالیٰ سپد نہ ہر گز راضی تمہن شریعتہ تا فرمان لوکن نشہ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا تمہن  
مناققن منزتم گامک لوکھ چھہ تم چھہ زیادہ سخت کفرہ کن سے نفاق کن محیازہ تم چھہ علمان  
تہ عاقلن نشہ دور روزان وَاجْدُرَ الْأَيْعُلُكُمْ وَاحِدٌ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ یہ چھہ تم  
اتھہ قابل کہ تم زان نہ تم احکام تم اللہ تعالیٰ ان چھہ پنہ نس پیغمبرس پیٹھہ نازل کرت مت وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ جھو سوری زانہ ون، سیٹھاہ حکمتہ دول وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَآئِنِقُ  
مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَابِرَ یہ جھو سمو گامہ کیو مناقو اندرہ بعض لوکن کفر و نفاق وجہلہ  
علاوہ بجل وعداوتک صفات بدتہ۔ تمہہ چھہ زانان خدایہ سزہ وقتہ اندر خرچ کر نس چھیٹ سے جرمانہ یہ  
چھہ پیران تم توہمہ پیٹھہ پوت کھورینس کانہہ حادثہ واقع سپدنس، بچھہ وقاہ نیس علیہم دَابِرَةٌ  
السُّوءِ پوت کھور یہ تمہن پانس۔ بچھہ وقت بین تمہن پانس۔ زماگ حادثہ سپدہ واقع تمہن پیٹھہ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ جھو سوزوی بوزہ ون سوزوی زانہ ون وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَآئِنِقُ مَغْرَمًا

دَائِرَةُ السَّوْءِ ۙ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۹۸﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا  
عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۙ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۗ  
سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۹۹﴾  
وَالسَّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ  
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ  
جَدَّتْ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ ﴿۱۰۰﴾ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۗ وَمِنَ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ بِيَهُمْ كَمَا مَكِّيَ أَنْدَرَهُ تَمَّ تَمَّ لَوْ زُيِّرْهُمُ هَجْرَهُ كَرَانَ كُنْسَ خَدَانَسَ ۖ بِيَهُ تَمَّسَ دَوْمَسَ لِيَعْنِي قِيَامَسَ  
وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۖ بِيَهُ هَجْرَهُ تَمَّ كَمَنْزَرَ انْ خَدَلِيَهُ سَدَهُ وَتَهُ أَنْدَرُ  
مَالِ خَرَجِ كَرَنْسَ تَسَدَهُ قُرْبَكَ تَهُ يَنْبَغِيهِ خَدَلِيَهُ سَدَهُ دَعَايَ خَيْرِكَ أَكْزَتَ ذَرِيَعَهُ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ  
لَهُمْ ۗ وَارَهُ لَوْ زَوْدَ وَاقِي ۖ هَجْوُ سُوْ خَرَجِ كَرَنْ هَجْدَ تَهْمِدَهُ خَيْرَهُ قُرْبَكَ ذَرِيَعَهُ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي  
رَحْمَتِهِ ۗ ضُرُورَاتَاوَهُ تَمَّ اللَّهُ تَعَالَى بِنَسِ رَحْمَتِ مَنْزَكِيَاوَهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۗ يَشِكُّ اللَّهُ  
تَعَالَى ۖ هَجْوُ سَيْبَاهُ مَغْفَرَتَ تَهُ سَيْبَاهُ رَحْمَ كَرَهُ وَانِ وَالسَّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ  
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۖ بِيَهُ تَمَّ بَرُونَهُ كَوْشَهُ وَانِ ۖ كُونُوْنِي مُعْرِفَ  
بِاسْلَامِ سَدَهُ وَانِ مَهَابِرُوتَهُ النَّصَارُ وَانْدَرَهُ ۖ بِيَهُ تَمَّ لَوْ كَهَ سَمُوْ تَهْمَزَ پِيْرُوِي كَمْرُوتَهُ طَرِيقَهُ ۖ تَمَّكَ سَارَنِي نَعْمَهُ  
هَجْوُ اللَّهِ تَعَالَى رَاضِي ۖ تَمَّ تَهُ هَجْرَهُ تَمَّ نَشْرَهُ رَاضِي ۖ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَدَّتْ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
أَبَدًا ۗ بِيَهُ تَهَاوُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ تَهْمِدَهُ خَيْرَهُ تِيَارَ تَمَّ جَنَّتَ سَمُوْ مَنْزَرُ جَوِيَهُ يَكَانَ هَجْرَهُ تَمَّ نِي جَنَّتَ مَنْزَرُ وَانِ تَمَّ



أَهْلَ الْمَدِينَةِ تَسْمُدُوا عَلَى النِّفَاقِ تَلَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ  
 نَعْلَمُهُمْ سُنَعِدْ بِهِمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرُدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿۱۰۱﴾  
 وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا  
 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۰۲﴾ خُذْ  
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۰۳﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ

ہمیشہ ذلک الغور العظیم یعنی کبھی بڈ کامیابی و مین حوکم من الاعراب منفعون و من اهل  
 المدینة بے ایم تو بہ اہل پک گائن ہند یولو کو اندرہ بے شہرہ کیولو کو اندرہ تہ تم مناقجہ مہرہ مردوا  
 علی النفاق ڈاڈمتر تھہ جھہ نفاس پیٹہ لآتعلمہم نحن نعلمہم سنعد بہم مارتین نہہ  
 زانیو کہ نہ تم۔ اس زانوہ تم جلدی دمو اس تمن ذنیاس اندر سزادو گن ثم یردون الی عذاب  
 عظیم تو پتہ بین تم سوزنہ آخر جس بڈس عذابس گن و آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا  
 عملا صالحا و آخر سیتا بے جھہ تمن و رای کہہ نہ لوک سموا قرار کور پنہ نین گونن۔ سموملہ ناوہ رتہ عملہ  
 پچھ عملہ سیت۔ یعنی سگو اعتراف گناہ کرن پنہ نس گہس اقرار گن عسی اللہ ان یتوب علیہم  
 ان اللہ غفور رحیم شاید اللہ تعالیٰ کرہ جہنہہ توبہ قبول۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ جھو پیشک مغفرت کرہ  
 ون سیٹاہر حم کرہ ون۔ سموصحابہ صیو آس ہن بان گنڈ تھہ تھاومت مسجد شریفہ کین گھن سیت۔ بہند  
 توبہ قبول سپد سمومر اڈو پنہ نین پان ہند گنڈ۔ تو پتہ اتیکہ ہارہ در خدمت حضرت رسول کریم صلی  
 اللہ علیہ وسلم۔ اتی سپدیہ آیہ کریمہ نازل خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم و تزکئہم بہا ربح  
 تمن توبہ کرہ و نین نشہ جہنہہ مالہ اندرہ بس تم پیش کر ان جھہ بطور صدقہ۔ کریو کہہ تم پاک پاکیزہ تمہ  
 صدقہ سیت وصل علیہم ان صلواتک سکن لکم بے کمریو کہ دعای خیر۔ ہز پاتھ جہنہہ دعای خیرہ  
 سیت جھو تمن تسلی تہ الطمینان حاصل سپان۔ واللہ سمیع علیہم اللہ تعالیٰ جھو جہنہہ اعتراف

اللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَ  
 إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۴۳﴾ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ  
 عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
 وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۴۴﴾ وَآخَرُونَ مُرْجُونَ  
 لِرَأْسِ اللَّهِ إِنِ اتَّعَبْتُمْ بِهِمْ وَإِذِ اتَّبَعْتَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۴۵﴾

اور اقرارگناہ، تہمت، ندامت وارہ پوزہ و ن پوزہ زانہ و ن اَلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ  
 وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ کیا تم نے جتنا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ای چھو توبہ قبول کران پنے نین بندن ہند۔  
 بیہ چھو سؤی صدقات قبول کران وَاِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بیہ جتنا تم معلوم کہ اللہ تعالیٰ ای  
 چھو سیٹھاہ توبہ قبول کرہ و ن۔ سیٹھاہ رحم کرہ و ن وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ  
 وَالْمُؤْمِنُونَ بیہ فرماؤ کہ تم کہہ کہ ای لو کو کران کرہ ہو تمہ عمل، اللہ تعالیٰ چھو پانہ و چھان تہمت عمل۔  
 بیہ پیغمبر حمد، بیہ بالیمان۔ چھہ کا میں ہند نتیجہ نیرہ توبہ دنیاعسی اندر، ذلت بیہ خواری وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ  
 عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ایو تمہ و اتنا و نہ تیس ذات پاکس نعرہ تیس سو زوی پو شیدہ تہ نون زانہ و ن  
 چھو۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تیس گرہ سؤ توبہ خیر تم سارنی کا میں ہنز سہمہ تمہ کران آہوہ  
 وَآخَرُونَ مُرْجُونَ لِرَأْسِ اللَّهِ بیہ چھہ کہنہہ لو کہ چھہ روز و نینو اندرہ تم پیاران چھہ خدایہ سندس کھمس۔  
 تم متعلق چھو إِنِ اتَّعَبْتُمْ بِهِمْ وَإِذِ اتَّبَعْتَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یا کر کیہ عذاب، ہر گاہ توبہ کر تیس  
 اندر خلوص آسیکھ نہ۔ یا کرہ تمہ توبہ قبول۔ ہر گاہ توبہ باخلاص کورمت آسیکھ۔ اللہ تعالیٰ چھو پریتھ  
 اکھند حال پورہ زانہ و ن۔ تیس چھہ خبر اخلاص و عدم اخلاص۔ سؤ چھو سیٹھاہ حمتہ و ول۔ مدینہ شریف  
 قریب چھو اکھ محلہ تھہ چھو ناو ”قبا“۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمو یلہ مکتہ شریفہ پیٹھ  
 ہجرت کمر۔ گوڈنی ٹھہرے تم اتھہ مجلس اندر۔ تمہ پتہ کہہنہہ کالاہ گرہ تھہ اُو کہ تشریف مدینہ شریفہ کس  
 شہر س اندر۔ ایس کالس اتھہ محلہ ثبائس اندر قرار کر و کہ تیس کالس پیٹھ جاعی تمہ نماز پر تھہ جلیہ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ  
 الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ  
 وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُمْ  
 لَكَاذِبُونَ ﴿۱۴﴾ لَا تَقْرَفِ فِيهِ أَبَدًا مَسْجِدًا أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ

بناو امہ محلہ کیو مخلص باایمانو اکہ مسجدہ۔ تھ مسجدہ چھہ دنان مسجد قباء تھ مجلس منزسم مناقب بسان  
 آس تمن اوس میل جول تہ من گدھن اکس شخص سیت بس ناو اوس ابو عامر راہب۔ سو اوس  
 اسلامک سخت دشمن۔ تمومناقو کورس سیت مشورہ کمر تھ اکہ کتھاہ مقرر کہ اس تہ بناووتھ مسجدہ  
 سیت بیاکھ مسجد۔ تھ منزج مسجد تھ آسو اسلامس خلاف مشورہ کران۔ ام ابو عامر ن دون یمن مناقب  
 کہ یو سمکھ ہر قلس وغیرہ بادشمن۔ تمن سیت فوج ولشکر حاصل کمر تھ تھاوواکے ساتھ مسلمان ہند  
 یول گاتھ۔ تمہ پتہ یلہ مسجدہ ہنزہ ٹکھہ سمومناقویہ مکان بنوو توپتہ آی در خدمت حضرت رسول  
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمن کوزکھ عرض چہہ انوحض تشریف آتھ سانہ مسجدہ اندر۔ اللہ تعالیٰ ان  
 کمر نازل آتھ موقس پیٹھ تم آیات کریمہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ  
 الْمُؤْمِنِينَ بیہ چھہ بعضی لوکھ سموم مسجدہ بناو اسلامس ضرورتاوانہ خیلہ۔ بیہ پیٹھ تھ منز کمر چہ یعنی  
 عدوت رسولہ چہ تھ کرن۔ بیہ پیٹھ مسلمان منز تفرقہ تراون زہ حصہ کرن وَلَا صَادًا لِمَنْ حَارَبَ  
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ بیہ پیٹھ زانچ جای بنہ تمن کس شخصہ سدہ خیلہ تم برو نھسی مخالفت کمر  
 خدائس تہ تھدس پیغمبرس یعنی ابو عامر مذکور وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ توپتہ چھہ قسم ہاوان  
 کہ اسہ اوس نہ آتھ اندر یعنی مسجد بناوئس اندر بہتر وراوی کنیہ چیزک ارادہ وَاللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُمْ  
 لَكَاذِبُونَ خدا چھو گواہ کہ بیشک چھہ تم اپز زبیر۔ یلہ امہ مسجدہ ہنزہ حالت چھہ لَا تَقْرَفِ فِيهِ  
 أَبَدًا چھہ مہ حض گدھو تھ منز نماز پر نہ ہرگز لِمَسْجِدًا أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ  
 تَقْرَفَ فِيهِ البتہ سو مسجدہ پیٹھ کن آمت چھو دنہ گوڈیچہ دوہہ پیٹھ پر ہیز گاری پیٹھ، یعنی مسجد قبا سو

مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَخَذَ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ  
 يَتَّطَّهَرُوا وَآلَهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿۸۸﴾ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ  
 عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرًا مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ  
 عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارٍ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا  
 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۹﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا  
 رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۹۰﴾

چھ سزاوار سمہ خیرہ کہ جہہ پتر و تھہ منز نماز فیو رجال یحیون ان یتطہروا تھہ مسجد تہاس  
 منز چھہ تم لو کہ تمکن پاکی چھہ سیٹھا تاٹھہ واللہ یحب المطہرین اللہ تعالیٰ تہ چھو زیادہ پاک روزو  
 نین لو ٹھہ تھوان آفمن اسس بنیانہ علی تقویٰ من اللہ و رضوان خیر کیاہ سو شخص تم کنن دیت  
 پنہ نس گرس یعنی مسجدہ خدا نس کھو ژ کھو ژ تہ ہنمز رضامندی ژھا ٹڈان سو شخص چھا بہتر آفمن اسس  
 بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہاریہ فی نار جہنم کہنہ سو شخص ہم پنہ گرج بنیاد تہ کن دیوت  
 کھو کھرہ چھہ کس اندس پیٹھہ۔ تھہ پھراٹ تہ گامز آس، نس و س پنیس تیار۔ کس پیو سو و تھہ نار  
 جہنم اندر، نس تھہ منز اوس سو تہ پیو جہنم اندر۔ کیا زہ یہ مکان بناونہ اندرہ اوس غرض مخالفت  
 اسلام و پیغمبر اسلام۔ نس سراسر کھر اوس۔ کھر تہ کافر ن ہنز جای چھہ نار جہنم۔ واللہ لا یھدی  
 القوم الظالمین اللہ تعالیٰ چھونہ و تھہ ہاوان تھنن ظالمن دینہ جن کائین کن لایزال بنیانہم الذی  
 بنوا ریبہ فی قلوبہم ہمیشہ روزہ یہ گرہ نس تمو بنو تھمدین و کن اندر شکگ سبب۔ توپتہ یلہ سو گرہ  
 مہمد کور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوزو دلکہ و ن تھمدین و کن اندر۔ الا ان تقطع  
 قلوبہم واللہ علیہم حکیم سو ژ لیچھہ مگر اینکہ ریزہ ریزہ گوٹھہ تھمدین و کن منز تھہ قبرن اندر اللہ  
 تعالیٰ چھو سوزوی زانہ و ن، حمتہ و ول اِن اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم باق  
 لہم الجنتہ پتر پاٹھ اللہ تعالیٰ ان ہمت مثل با ایمان نعرہ تھمدیان تہ تھمد مال، جنس بدلہ۔ خدا نس

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ  
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ  
يُقْتَلُونَ تَفَعَّدُوا عَلَيْهِ حَقَّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ  
وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا  
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱﴾  
الْمُتَّابُونَ الْعِيدُونَ الْحِدُّونَ السَّابِحُونَ الرَّكْعُونَ  
السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ

کنند اندر و همچو مطلب که تم همه مال بین تہ جان بین خدایہ سبہ خیرہ صرف کران یقاتلون فی  
سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون تم خدایہ سبہ و تہ اند جہاد کران ہجہ ہجہ منزئہ وقتہ دشمن ماران  
ہجہ کنہ وقتہ پانہ شہید سپدان ہجہ وعدا علیہ حقا اتہ جہاد و قنکس پیٹھس وعدہ تمن سبت کرنہ  
آمت ہجہ سو ہجہ پوز وعدہ امیک وعدہ ہجہ کورمت اللہ تعالیٰ ان پوز وعدہ فی التوراة  
والانجیل والقرآن توراتس منزئہ، انجیلس منزئہ، قرآنس منزئہ ومن اوفیٰ بعہدہ من اللہ  
یہ تہ ہجہ مسلم کہ خدایہ سبہ خوتہ س اکہہ ہجہوز یادہ و فاکرہون پنہ نس عہدس فاستبشروا ببیعکم  
الذی بایعتکم بہ نس گرہ ہو خوش پنہ نس ہجہ سوداوس پیٹھس توبہ کورہ خدائس سبت۔ وذلک  
هو الفوز العظیم یعنی کنیہ بد کامیالی یعنی جنت حاصل سپدان المتابون العیدون  
الحیدون السابحون الركعون السجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحفظون  
لحدود اللہ تمن مجاہد بایمان ہند صفت ہجہ تم ہجہ توبہ کرہون شر کہ نشہ، نافرمانیو نشہ، تم چہ  
عبادت کرہون، تم ہجہ حمد پون، تم ہجہ روزہ دار روزہون، تم ہجہ رگوع کرہون تہ سبہ و وہون

وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾ مَا كَانَ  
 لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ  
 لَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ  
 أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۴﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ  
 إِلَّا عَنِ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا أَيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ  
 لِلَّهِ تَبَرَّأ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿۱۵﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ

یعنی نماز پڑھو، بیہ چہہ تم رٹن کتھن ہنز تعلیم دودون تہ بیچہ کتھو نغمہ پتھ رٹو ون۔ بیہ چہہ تم خدایہ  
 سندین حکمن راجھہ کرہ ون عملہ سیت۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ خوش خبری فرماو تمین با ایمان سکن  
 اندر جہاؤک جذبہ تہ تم صفت آسن مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ  
 جائز چھونہ بنی کر تمس بیہ با ایمان تہ تم کیا مگن مغفرت مشرکین ہندہ خیطرہ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ  
 اودہ آستھہ تم آشناوی مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ تمین وارہ بیہ کتھہ نندہ پتہ کہہ  
 تم کیا چھہ ناریک لوک، تہندہ کفرس پیٹھہ مر نکہ سببہ ہر گاہ حضرت ابراہیم سندرہ قصہ سیت خبہ سپد کہہ  
 تمبو کیا زہ مونگ مغفرت پنہ نس مال سندرہ خیطرہ، تمیک جواب چھو وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ  
 لِأَبِيهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَدَّهَا أَيَّاهُ بیہ اوس نہ مغفرت مگن حضرت ابراہیم سندرہ پنہ نس مال سندرہ  
 خیطرہ مگر اکھ وعدہ پور کر نہ خیطرہ نس تمبو نس سیت کورمت اوس۔ تیج ذکر اللہ تعالیٰ فرماوان چھو  
 ساستغفر لک ربی آہس اندر فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأ مِنْهُ اودہ یلہ تمین نیندو کہ سو چھو  
 دشمن خدایہ سندرہ تم سپد نس نغمہ بیزار۔ استغفار مگن تروو تمبو کیا زہ اتھ صور نس اندر دُعَايِ مغفرت  
 کرن چھو بیکار۔ وون روزیہ کتھہ کہہ تمبو کیا زہ اوس تمس وعدہ کورمت تمیک وجہ چھو إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ  
 حَلِيمٌ ہز پاتھ حضرت ابراہیم اوس نرم دل، حلیم الطبع، ژالہ ون، ژید کرہ ون۔ باوجودیچہ تمین  
 ونہ مال سخت ناگوار تھہ مگر تمبو ہنرہ جلس کوم۔ از نس شفقت و مہربانی کورہ نس وعدہ استغفار۔ سو تہ تو تھسی

لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا  
يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۱۵﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّنْ  
دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۱۶﴾ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى  
النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي  
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فِرْقَتِكَ  
مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۷﴾

تانبے کی دو تانیں تیرا امکان مفترق امید آس و ماکان اللہ لیضلل قومًا بعد اذ ہدیتہم اللہ تعالیٰ  
چھوٹے ڈالان کنجے قومس تیرا ہدایت کرنے پتہ۔ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ یو تان تیرا وارہ  
بیان کران چھو تم چیز سمونہ تیرا تیرا پتہ روزان آسان چھو إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہنز  
پاٹھ اللہ تعالیٰ چھو پرستہ چیزا ہ پورہ زانان إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ  
پرپاٹ اللہ تعالیٰ سزای ہتھ پادشاہت آسمانن تہ زمین ہنز۔ سؤی چھو زندہ کران تہ ماران وَمَا لَكُم  
مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ بیہ چھو تہ تہدہ خیطرہ خدائس ورا می کانہ دوستاہ تہ مددگاراہ  
لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ اللہ  
تعالیٰ سپر متوجہ رحمتہ سیت بنی کر تسم۔ تیرا کوزن عطا نبوت تہ امامت جماد۔ بیہ سارے خوبہ بیہ  
کران تیرا مہاجرین تہ انصاران کن توجہ برحمت سمونہ ہنز۔ پیروی کمر سختی ہندہ وقتہ کمر تیرا دین تونین  
استقامتک مشقت و تکلیف برداشت کرنگ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فِرْقَتِكَ مِنْهُمْ تسمہ  
پتہ کہ قریب اوس کہ کہ جماعتک دل ڈلہ بن حتمہ نشہ، ہنز پیروی کرنے نشہ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ  
بِهِمْ رءُوفٌ رَّحِيمٌ تو پتہ پھیور سؤ تیرا کن ثلاث قدمی عطا کرنے سیت کیا زہ سؤ چھو تیرا پیٹھ

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ  
 الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوْا أَنَّ  
 لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ  
 اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ  
 وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١٩﴾ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ  
 حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَ  
 لَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ

سیٹھا مہربان سے سیٹھاہ رحم کرہوں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا بے کور توبہ قبول اللہ تعالیٰ ان  
 تمن ترین شخص ہند معاملہ ملتوی اوس تھاوند آمت۔ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ  
 بِمَا رَحُبَتْ یو تان تمن پیٹھ زمین وسیع سے کھول آستھ تنگ سپد وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ بے آئی  
 تمن پانہ سیٹھاہ تنگ سے عاجز وَظَنُّوْا أَنَّ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ بے زون تمبو کہ کانہ چھن جای  
 چھنہ خدایہ سدہ عذابہ نشہ چنہ خیطرہ تس وراى ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا توبہ سپد سو تمن کن متوجہ  
 رحمتہ سیت۔ یٹھ تم توبہ کرن اِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پزباٹ اللہ تعالیٰ چھو توبہ قبول کرہوں  
 رحم کرہوں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ای بایمانو کھو ژو خدائس بے روزو  
 عملہ اندر پنز زیارین سیت۔ یمن ہنز نیت سے کھہ دُرست سے پزہ چھہ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ  
 وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ شوبہ ہانہ، پزہ ہانہ مدینہ منورہ کین لوکن  
 بے تمن لوکن تم لہد پک گاٹن اندر روزان چھہ پتھ روزن سے شمولیت نہ کرن پیغمبر خدائس ہمراہ  
 جمادس اندر نیر نہ نشہ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ بے شوبہ ہانہ تمن پن پان زیادہ ناٹھ زان تہمدہ  
 خوتہ۔ تم یلہ پانہ بہ نفس نفیس درای اتھ جنگ تبوگس اندر پتھ روزہوں سے پنہ نین پان آرام و اتہ ناوہ



ظَبًا وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ  
 مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كَيْتَبَ  
 لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠﴾  
 وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ  
 وَادِيًا إِلَّا كَيْتَبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا  
 يَعْمَلُونَ ﴿١١﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ  
 مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

ون۔ تم کیا وہ تہندہ خوتہ ذلک بانہم لایضیبہم ظبا ولا ناصب ولا مخصصة فی سبیل اللہ  
 ولا یطئون موطئاً یغیظ الکفار ولا ینالون من عدوئنا نیلاً یہ تم سیت شمولیت کرن اس ضرور  
 سمہ مٹو کہہ کہ اتھ اندر اوس اکھ مجبت پیغمبر خدایک حق ادا کرن تمہ علاوہ سمہ سمہ مہربانیہ تہ ثواب  
 مجاہدن حاصل سپزہ تم تہ سپدہ کن تمہ مہربانیہ حاصل۔ چنانچہ تم دوت نہ کانہ تکلیف خدایہ سپزہ  
 وتہ اندر۔ تم لجنہ تریش۔ بوجہ۔ تم یک نہ تہ وتہ مگر بشان وشوکت سمہ سیت کافرن تہ کہ کھوتہ وتہ وانج  
 دز تمین یہ کورنہ تمہو حاصل دشمن نشہ کانہہ چیزہ الاکتب لہم بہ عمل صالح مگر سمہ  
 ساروی چیز بددل آہ تم نامہ اعمال اندر رتہ بیکہ لیکنہ ان اللہ لایضیع اجر المحسنین ہنز  
 پاہ اللہ تعالیٰ چھونہ ضایع کرن نیو کارن ہنز مزدور ولا ینفقون نفقہ صغیرہ ولا کبیرہ  
 ولا یقطعون وادیاً الاکتب لہم یہ کرن نہ تم کانہہ خرچ لوٹ یا بوڑ۔ یہ تہ ہنڈن نہ کانہہ  
 میداناہ۔ مگر تمہو بددل تہ بیکہ بیکہ لیکنہ۔ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون یجھ اللہ  
 تعالیٰ تمین رتہ مزدور عطا کرہ تمی کائین ہنز سمہ تم کرن اس۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ یہ  
 ہزہ ہاند بایمان نیرن اکہ وتہ سارنی ہند فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة یجھ پاہ کیا زہ آہ

وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذْ رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۳۲﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ  
الْكَفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۳﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنُ يَقُولُ  
إِنَّا كُذِّبْنَا وَذَاتُهُ هُدًى لِّأَيِّمَانًا ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا  
فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۱۳۴﴾ وَأَمَّا  
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ

نہ عمل کرنے کہ آبادی ہندہ پر ہتھ جھٹہ منزیرہ ہن کینہہ لوکہ لِيَتَّقَهُوا فِي الَّذِينَ يُهْتَمُّ تَم  
شہرہ کین عاکن نشہ دینک احکام حاصل کرن وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذْ رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ  
تاکہ پنہ نین لوکن کن واپس گڑھتھ کرہ ہن تین نیم ہتھ تم نافرمانیو نشہ احتیاط کرن۔ يَا أَيُّهَا  
الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ ای باایمانو جہاد کمر و تین کافر ن سیت یم توہم  
کھ تلہ جھہہ وَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلظَةً تین تہ لمن بوزنہ کہ توہم اندر جھہ سختی تین نشہ منہ روزو  
کھو ژتھ تہ دہتھ۔ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بیہ زانوہ کتھ کہ اللہ تعالیٰ سہد مدد جھو بیشک  
پرہیز گارن تہ متین سیت وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنُ يَقُولُ إِنَّا كُذِّبْنَا وَذَاتُهُ هُدًى لِّأَيِّمَانًا  
بیہ یلہ نوو سورہ شریفانہ نازل کرنہ یوان جھو کس جھہ بعضی منافقو اندرہ ہم ونان جھہ ٹھٹھہ پاٹھ۔ تلہ سا  
وستو توہم اندرہ کسند ایمان ہر یوہ سورہ نازل سپنہ سیت فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا  
وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کس سمو لو کو برو نطھی ایمان اونمت جھو تین ہرہ روو ضرور قران مجیدک  
تم سون سیٹھہ ایمان چنانچہ تم جھہ ترقی ایمان سیت سیٹھہ خوش وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ  
مَرَضٌ وَذُنُوبُهُمْ كَثِيرَةٌ وَلَهُمْ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ لَس

رَجِبِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۱۲۵﴾ أَوْ لَا يَرُونَ  
 أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا  
 يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ﴿۱۲۶﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ  
 نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ  
 انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا  
 يَفْقَهُونَ ﴿۱۲۷﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ

بہرہ رُوئین قرآن مجید تک تم سوزن ناپاکی پیٹھ ناپاکی۔ کیا زہ لمرہ بروئہ اوس تمہو قرآن مجیدہ کس اہکس  
 حصص انکار کورمت۔ وون کوزکھ پيس حصص وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ بہہ مود تم کفر کسی حالس  
 پیٹھ۔ قرآن مجیدک خاصیت ہتھو پیشک ایمانس اندر ترقی پیدہ کرن۔ مگر جای گڑھہ تھہ قابل آسن۔  
 دل گڑھہ نفاقتہ بشر پاک آسن اَوْ لَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ آیا  
 وچھان چھنا تم زہ تمن چھہ ضرور آزمائش یوان کرنہ پرستھہ و رہہ لکھہ بھہرہ یا دویہ بھہرہ، کھنہ نتہ کھنہ آتھس  
 تہ بلا یہ منز بتلا کرنہ سیت۔ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ تو پتہ تہ چھنہ تم باز یوان تہ  
 چھہ تم نصیحت رنان وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ بہہ یلہہ کانہ نو سورہ نازل کرنہ  
 یوان چھو تمہہ ساتہ چھہ تم اھ اھ کس کن وچھنہ لگان۔ اشار و سیت چھہ اھ اھ کس پر ژھان هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ  
 أَحَدٍ وچھان ما چھو تو بہہ کن کانہ مسلمانو اندرہ ثُمَّ انصَرَفُوا آتی چھہ ژکن ہیوان نبی کریمہ سزہ  
 مجلسہ منزہ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ تعالیٰ ان پھر تہند دل دین حقہ بشرہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا  
 يَفْقَهُونَ کیا زہ تمن چھونہ پوز فخری تران لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ای لو کو تھنن آو  
 تو بہہ کن پیغمبرہ تو ہی منزہ یعنی از جلس بشر۔ یٹھ تو بہہ تمن بشرہ فیض حاصل کردن آسان سپدہ عَزِيزٌ  
 عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ تمن سیٹھاہ نا گوار تہ دشوار چھو تو بہہ کانہ تکلیف واٹن حَرِيصٌ عَلَیْكُمْ سیٹھاہ

عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ  
 رَحِيمٌ ﴿۱۳۸﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
 عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۳۹﴾

خواہش تھہ تمہیدہ فایدہ۔ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ با ایمان رکت ہجہ تم سیٹھاہ مہربان تہ  
 سیٹھاہ شفیق فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  
 الْعَظِيمِ ہر گاہ یہ آتھہ تہ لو کہ روگردانی کرن تہہ فرمادو کہ کانہہ پرواہ چھونہ۔ بس چھومہ اللہ  
 تعالیٰ۔ کانہہ معبود چھونہ تس وراہی۔ تمس پیٹھہ کورمہ اعتماد۔ سوی چھو پڈہ عرشک مالک۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الرَّحْمَتِكَ أَيُّهَا الْكَلْبُ الْحَكِيمُ ① أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا  
 إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ  
 قَدْ مَصَدَّقَ وَعْدَ رَبِّهِمْ قَالِ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ②  
 إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ  
 ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ مِمَّنْ شَفَعَ إِلَّا مِنَ  
 الْوَالِدِ

الوَالِدِ امیگ مطلب زانہ اللہ تعالیٰ تِلْكَ اٰیَةُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ہم آیت برونہ بیان مین کرنہ ہم ہجہ  
 آیات ہر جہمت تہ مضبوط کتابہ ہمد۔ یعنی قرآن مجید ک ہم آیت پنز آسنہ موكھہ قابل قبولیت ہجہ۔  
 مین پیٹہ ہم آیات نازل سپدان ہجہ کافر ہجہ تہندس نبوس انکار کران۔ تمنی ہجو اللہ تعالیٰ جواب  
 فرماوان أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ کیاہ مین مکہ مین لوکن چھا عجایب بوزنہ یوان یہ  
 تھہ کہ آسہ سوزوجی تموی اندر اکس شخص پیٹہ بس تمنی ہیو بشر تہ انسان ہجو۔ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ سُوجی  
 ہجو ای کہ ہم کمر و تمن لوکن ہم خدلیہ سندین حکم خلاف کران ہجہ۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدْ مَصَدَّقَ  
 وَعْدَ رَبِّهِمْ ہم ایمان اون تمن فرماوویہ خوش خبر کہ تہندہ خیطرہ ہجو تہندس خدائس نشہ تھود  
 مرتبہ قَالِ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ کافر یلہ جیران گئے یہ کلام پاک بوزنہ تھہ۔ دہنہ لگ ہنز پاٹھ  
 ہجو یہ شخص نعوذ باللہ ساجر تہ جادوگر إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ پنز  
 پاٹھ ہجو تہند ہروردگار اللہ تعالیٰ۔ ہم پیدہ کمر آسمان تہ زمین شین دوہن برابر مدتس منز۔ بس ہجو سو  
 اعلیٰ درجک قادر تھہ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ توپتہ سپد سو مستوی عرش پیٹہ تھہ پاٹھ تھہ پاٹھ تھہ ہندس  
 شائس شوبہ۔ چنانچہ فرماوان ہجو يُدَبِّرُ الْأُمْرَ سوی ہجو پر تھہ کامہ ہند مناسب تدبیر کران بس ہجو سو

بَعْدَ إِذْ نَبَّأَهُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝۳۰  
 مَرْجِعَكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ  
 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝۳۱  
 هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ  
 لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ

حکیم مآین شفیقہ الامن بعد اذ نبه الله ربكم فاعبدوه تس بروئھ کنه بیچہ نہ کانسہ اکھ  
 شفاعت کمر تھ تہنہہ اجازتہ وراى۔ کس ھو سو عظیم تہ۔ یوسے معبود برحق ھو تہنہہ پروردگار، حقیقی  
 رب۔ کس کمر و تہنزی پرستش۔ شرکہ نھہ روزوتھہ افلا تذاکرون کیاہ سہہہ دلیلہ یوزتھہ تہ ھوہ  
 ناتوہہ فخرہ تران کینہہ سہہہ سیت تہہ نصیحت رنو ایلہہ مرجعکم جمیعاً وعدا لله حقاً تس کن ھوہ  
 توہہ سارنی واثن۔ یہ ھو اللہ تعالیٰ سند پوزودہہ ائہ یبدؤ الخلق ثم یعیدہہ پڑپاٹ سوسی ھو گووہ  
 پیدہ کران مخلوقن۔ توپتہ کرہ سوسی یہہ ذوبارہ تہن پیدہ قیامتک دوہ لیجزی الذین امنوا و عملوا  
 الصالحات بالقسط یتھ بدلہ دیہہ سوتہن لوکن پوزوہ پوزوہ سمو ایمان اون بیہ کر کیر رتھہ عملہ، عدل و  
 انصافہ موجب۔ تھہ منزکرہ نہ نھہ تقسیمہ کی بلکہ کرہ زیادے عطا والذین کفروا لهم شراب من حمیم و  
 عذاب الیم بما كانوا یفکرون بیہ سمو لوگو کو کور۔ تہنہہ چنہ خیطرہ ھہہ آخرتس منزج ز سر بیہ  
 تمہ علاہ عذاب کڈر۔ کیا زہ تم کیا اس کمر کران هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا سو قادر  
 مطلق گو سوسی تم آفتاب کورنہ نہہ کرہون۔ زون کمرن پر یزلہ ون وقد رکا منازل مقر ز کمرن سمو  
 اندرہ پر یتھ اسدہ سیرہ خیطرہ برج تہ منزل۔ آفتابہ سیت چھہ یوان دوہ پر زانوہ تہ زونہ سیت چھہ یوان  
 ریتھہ تہ ورہہہہ پر زانوہ لتعلموا عدد السنین والحساب یتھ تہہ زانو ورہن ہنز گریند تہ ریتن تہ  
 دوہن ہند حساب ما خلق الله ذلك الا بالحق اللہ تعالیٰ ان کمر نہ تم چیز پیدہ مگر ہنر پاتھ کن جمون



الْأَنْهَرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ④ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ  
تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ⑤ وَأُخْرَدُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ ⑥ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ  
لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي  
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑦ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا  
لِجَنِّيهِ أَوْ أَقَابَهُ أَوْ قَابِئَهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ  
كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ

تعظیم و تکریم آسہ جنتس اندر سلام، ملائک آسن تمن نشہ یوان۔ تم آسن تمن سلام کران۔ جنتی آسن  
اکھ آس سبت ملاقات کران تم نہ آسن تمہہ ساتہ سلام کران وَالْخُرْدُ دَعْوَاهُمْ آخری دعا آسہ تمہد  
أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ساری تعریف جہہ سزاوار آس معبود برحق نیس عالمین ہند رُت جھو  
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ ہر گاہ اللہ تعالیٰ لو کن پیٹہ تمہدہ  
جلدی شر ڈھانڈا آس موافق جلدی عذاب واقع کرہ ہاتھ پاتھ تم خیر ڈھانڈا آس اندر بے تابی کران  
جہہ نہ اللہ تعالیٰ جھو خیر تمن جلد واتاوان۔ ہر گاہ ہتھ پاتھ شرتہ جلدی واتا وہ میٹھ۔ تیلہ آسہا تمہدہ  
عذابک وعدہ ڈیٹھ کنہ پورہ سپد مت فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ آس  
جھکھ آس تم لو کہ تمن نہ آسہ نشہ واتج نہ آسہ سبت ملاقات کرن امید جھہ یلہ تراوان، ہتھ تم سر کشی  
اندر اورہ یور پھیرن بالآخر کرو کہ اس تم عذاب آس گرفتار وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنِّيهِ  
أَوْ أَقَابَهُ أَوْ قَابِئَهُ بیہ یلہ کانسہ انسانس کانہہ سختیاہ واتان جھہ آتی جھہ ہیوان آسہ سو مگن پر ہتھ  
حالس اندر۔ شوگت نہ بہت نہ دو تھ ون نہ۔ تمہہ ساتہ جھوس نہ معبودان باطلو اندرہ کانہہ نہ ڈھتیس  
ہیوان فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانُ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا



مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ  
لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا  
لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ  
خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾  
وَإِذَا اتَّسَلْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ  
لِقَاءَنَا إِنَّا بُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي

يَعْمَلُونَ توپتہ یلہ اس نہ سختی چھس دور کران تہندہ منجھہ تہ اسہ کن التجا کرنہ پتہ۔ توپتہ چھوسو  
واتان پنہ نس اصلی حاس کن بیہ چھو شرکیہ کامہ تہ تھہ کران۔ پکان چھو اسہ سمیت تمہ طریقہ زن نہ اسہ  
کن ٹنہ سختی وزہ حاجتھی بیومت چھو ٹس۔ اسہ سمیت چھو بے تعلقی ظاہر کران۔ تھہ پاٹھ چھو زینت دنہ  
آمت حدہ نشہ تجاوز کرہ و نین ہنزن تمن چھہ عملن سمہ تم کران آس وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ  
قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا نھتھن گاجہ تہ ہلاک کرہ اسہ مختلف عدایہ سمیت واریاہ جھاڑ توہہ بروٹھ یلہ تمو ظلم  
کور یعنی ٹھرو ٹھرک کورکھ وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تمن نشہ تہ آس واتمت پیغمبر تہندہ نہ  
دلیلہ ہتھ و ما کَانُوا لِيُؤْمِنُوا آس نہ تم تمہ قسمک کہ پڑھہ کرہ من تہ ایمان انہ من کَذَلِكَ  
نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ تھہ پاٹھ بیاہ چھہ آس جرم کرہ و نین سزا دو ان ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي  
الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ توپتہ کمر وہ اسہ ٹہہ تمن پتہ دنیا بس اندر تہنہرہ جایہ  
آباد۔ چھہ آس و چھو ٹہہ تھہ پاٹھ کمر و کوم (لہذا ہر گاہ توہہ تہ تی کوروہیہ برو ٹھمیدو کور تلہ بہہ توہہ تہ تی یہ  
تمن بیہ و وَاِذَا اتَّسَلْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ بیہ یلہ پر نہ چھہ یوان تمن پیٹھ سان واضح تہ روشن آیات  
قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بُرْءَانٍ غَيْرِ هَذَا ونان چھہ تم لوکھ تمن نہ امید ی چھہ اسہ سمیت  
ملاقات کرئ۔ ای پیغمبر سمہ قرآن مجیدہ بدل انویا کھ قرآن تھہ منز نہ تمہ قسمک مضمون آسن سم  
سانس مسلکس خلاف آسن اَوْ بَدِّلْهُ یا ٹھرو اتھہ اندر ٹنہ قسمہ ترمیم۔ تم آیات کڈو اُمہ منزہ سم اسہ

أَنْ أَبَدِلَ لَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُهُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ  
 إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۵﴾ قُلْ  
 لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ  
 فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۶﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن  
 افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ  
 الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۷﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ

خلاف چھ قُلْ تمہہ فرمادو کہ مایکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی مہ چھونہ اختیاری بوکیاہ  
 بدلاوہ اتھہ کیہنہ پنہہ طرفہ کیازہ یہہ جھلمہ پن کلام ان اکیبہ الامایوھی الیٰؕ بوچھوس نہ پکان مگر  
 تمی حکمہ موجب نیس مہ گن سوزنہ دیوان چھو ایٰؕ اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم ہنز پاٹھ  
 بوچھوس کھو ژان ہر گاہ بو تا فرمانی کرہ پنہ نیس مالکہ سنز بدہ دوہنہ کس عذائس سو گوروز قیامت قُلْ تمہہ  
 فرمادو کہ ہز لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُمْ بِهِ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یڑھہہ ہابو پدہ ہانہ توہمہ پیٹھ  
 قرآن مجید۔ یہہ کرہ ہانہ توہمہ ایٰؕ خبر فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ بُورودس توہمہ منز عمرہ ہمدس  
 آس ہڈس حصس، ژنجہن ۴۰ ورہن سمہہ بروٹھ (ہر گاہ مہ پنہہ طرفہ کیہنہ پیش کزدن آسہاملہ کرہ ہابو تھہ  
 وقس اندرتہ پیش۔ مگر توہمہ چھو معلوم میون سوزوی حال لوکیارہ پیٹھ) أَفَلَا تَعْقِلُونَ کونہ چھوہ تمہہ  
 عقل کران فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ نیس تمہہ اکھاہ چھو یڑ ظالم نیس  
 شخصہ سندہ خوتہ نیس اپز نور اوہہ معبود بر حقس پیٹھ یازلہ انہز تہند آیات إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ  
 ہنز پاٹ کامیاب گہو سن نہ نافرمان۔ خدا نیس شریک ٹھراوہ ون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا  
 لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ بیہ چھہ سیم پرستش کران معبود بر حقس ورا ی تمہن چیزن ہنز سیم نہ تمہن کانہہ  
 ضرر ہیکن واتا و تھہ۔ نہ کانہہ فایدہ۔ وَيَقُولُونَ هُوَ إِلَٰهٌ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ بیہ چھہ ونان تم مُضْرَك سیم  
 چیز کران اسہہ سفارش خدا نیس لغہہ (تمی چھہ اس بہ ہنز پرستش کران) قُلْ أَنتُمْ تَسْتَوُونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ

وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَآءَ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ  
 أَتَدْعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ  
 سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۸﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ  
 إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ  
 رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۹﴾ وَيَقُولُونَ  
 لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا

فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ تہہ فرمائیو کہ کیاہ تہہ وجہوہ خداکس وانان تمہہ خبرہ ہمہ نہ سوزانہ نہ  
 آسمانس اندر نہ نہ زمین اندر (یعنی بلکہ تس کانہہ شریک آسمہ ہائے چیزس اندر تلہ ونہ ہاسوپانہ تہہ  
 متعلق) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ منزہ تہ پاک ہجو سوسوتمو ساروی چیز ونشہ ہم چیز لو کہ تس  
 شریک چہہ ٹھہراوان۔ معلوم سپد شریک چہو عقلاً تہ شرعاً باطل آسمہ علاوہ منزے ٹھہراونہ آمت۔  
 چنانچہ اللہ تعالیٰ چہو فرمادان وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا بیہ آس نہ لو کہ  
 ابتداءس اندر مگر اکی امتہاہ مؤحدن ہنز کیا زہ حضرت آدم علیہ السلام تم آس مؤحد۔ تم ن پتہ تہمد  
 اولاد تم تہ آس مؤحد کسی عقیدس پیٹہ۔ پس کرتمو اندرہ بعضہ اختلاف۔ تم سپد مشرک  
 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ہر گاہ تہ فیصلہ ازلی آسہا  
 بروٹھ سپد مت تہمدس پروردگارہ سدہ طرفہ، سوگو دنیا چہوداز العمل آخرت چہو دازالجزاء۔ نتہ بیہ  
 ہاضور تم ن در میان فیصلہ کرنہ تہہ متسلس منزیتہ منزیم اختلاف کران چہہ۔ یعنی تم مشرک یمن  
 دنیا سی اندر عذانس گرفتار کرنہ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ بیہ چہہ ونان ہم  
 ملک مشرک محض عنادہ کن باوجود ظہور معجزات ثبیرا ہہہ آس پیغمبرس پیٹہ کونہ سپد نازل بروٹھ یمن ہمد  
 پاٹھ فرمایشی معجزاہ۔ چویمہ معجزہ اندرہ چہو مقصود ثبوت نبوت۔ بیہ سپدہ حاصل پرستہ معجزہ سیت۔ لہذا  
 چہنہ ضرورت فرمایشی معجزن ہمدہ واقع سپد چ۔ مگر ممکن چہو تمبو معجزو اندرہ سپدن واقع یکہنہ معجزہ یا

الْغَيْبِ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۱۰﴾  
 وَإِذْ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَشَتْهُمْ إِذِ الْأُمَمُ نَكَرُوا  
 فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ نَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكْفُرُونَ ﴿۱۱﴾  
 هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَ  
 جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَبَّيَّةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عاصِفٌ  
 وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُم أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا

سپدن نہ۔ یہ چھو غیبی امور و آندره اکھ چیزہ۔ بو علم غیب زاننہ کینہہ تہ۔ فَعَلْنَا آيَاتِنَا لِلَّهِ  
 فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ نَس فرما یو کھ تہہ کہ غنچ خبر چھنہ مگر خدایہ سی یاثر نَس  
 پیار و تہہ نوتہ چھوس تومی سیت پیارہ و نیواندرہ۔ اتھ چھونہ مصب رسالتس سیت کامہہ تعلق وَإِذْ أَذَقْنَا  
 النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَشَتْهُمْ یلہ اس مزہ چھکھ تہہ ناوان سم لوکھ کھ نعتک۔ تھی سختی پتہ  
 یوسہ تمکن واثر مژ آسان چھہ إِذِ الْأُمَمُ نَكَرُوا فِي آيَاتِنَا تان چھہ ہیوان تم شرارت گرن سانین آیتن  
 نسبت۔ یعنی تمو آیاتونہ چھہ اعراض کران۔ تمکن پیٹھ چھہ اعتراض کران تمکن نسبت چھہ ٹھٹہ تہ  
 استہزاء کران قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ نَكْرًا تہہ فرما یو کھ اللہ تعالیٰ چھو تہہہ خوتہ تیز کار سازی اندر۔ امہ  
 شرارتک سزا دیہ سوتہہ سیتھہ جلد إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكْفُرُونَ پز پاتھ سان سوزمت لیکن وال  
 چھہ لیکن سکو کار سازی تہ شرارت یوسہ تہہ کران چھوہ۔ پروردگار معلوم آسکھ علاوہ چھہ تہزہ  
 شرارتچہ کامہہ سانس دفترس اندر تہ محفوظ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سگو سگوی پروردگار نَس  
 تہہہ سیر کرہ ناوان چھو خشکی پیٹھ تہ دریاؤن منز تہ۔ یعنی سمو آلا توتہ ساماوسیت برمی و بحر ی تھ طے  
 کران چھوہ تم ساری آلات و اسباب چھہ اللہ تعالیٰ ای عطا کرمت حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ  
 بِهِمْ بِرِيحٍ طَبَّيَّةٍ تالیچہ یلہ تہہ کھ ساتہ دریاؤس منز چھوہ آسان ناؤن تہ جہازن منز سوار۔ ناوہ تہ  
 جہاز چھہ آسان موافق ہواوہ سیت پکان وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عاصِفٌ ساری سوار چھہ آسان

اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ  
 مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۱﴾ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذْ هُمْ يُبْعَثُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ  
 الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾ إِنَّمَا مِثْلُ  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ  
 الْأَرْضِ وَمِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ

خوش آتی چھوہکے تہ معہ نیران مخالف تیز ہوا و سَاءَ هُمْ التَّوَجُّعُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ تو پتہ چھہ یوان سمن  
 ناؤن ہندین سوارن دریاک موج پر پتھ طرفہ وَطَلُّوا الْأَعْمَاقَ حَيْضًا يَدْرِمُونَ زانان چھہ تم لو کہہ آس آی  
 ولہ مصیبتہ سبتِ دَعَا اللَّهُ الْمُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تمہ ساتہ چھہ ہیوان تم معہ منگ گرن خدا نسیہ  
 زانہ کہہ مگن شوبہ نسیہ یوت۔ بجازی چھہ لگن دینہ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ  
 یا اللہ ہر گاہ ژہ اسہ سمہ بلا یہ نسیہ نجات دکھ ضرور ہو آس شکر گزارو و حق و سنا سو آندرہ یعنی موحدہ و اندرہ  
 فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذْ هُمْ يُبْعَثُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اودہ یلہ اللہ تعالیٰ سمن امہ بلا یہ نسیہ نجات چھو دو ان ،  
 اتی چھہ تم ز مینس منزبہ سر کشی ہیوان کرن ناحق یعنی بیہ چھہ تہے شرک و منحصیتہ چہ کامہ ہیوان  
 کرنہ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ اے لو کووارہ بو ذکہ نهنزہ سر کشی تہ تا فرمانی ہند ضرور چھہ مگر  
 توہہ پنہ نین پانن پوتھہ۔ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نس دنیاء چہ زندگی ہند تمعناہ چھو تھان کھیون دوہن۔  
 ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو پتہ چھو اسی کن توہہ واٹن۔ نسیہ خبر کر وہ اس توہہ  
 سمن سارنی چھہ عملن ہنزیم تہہ کران آہوہ۔ إِنَّمَا مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ نَس  
 دُنیا چہ زندگی ہنزیمثال چھہ مگر تمہ آج مثال نسیہ اس تراوان چھہ آسمانہ طرفہ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ  
 الْأَرْضِ میلانوہ چھہ یوان تھہ سبت تم چیز سیم زمینہ منزہ کھسان چھہ، غلات و غیرہ وَمِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ  
 وَالْأَنْعَامُ تمو چیز و اندرہ سمن انسان کھیدان چھو بہ سمن چیز چار پکھیدان چھہ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ

زُحْرَفَهَا وَازْتَيْتَ وَظَنَّ أَهْلَهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَنَّهُمْ  
 أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا إِنْ كَانَ لَمْ تَعْنِ  
 بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۷﴾ وَاللَّهُ  
 يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۸﴾  
 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا  
 ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۹﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا

زُحْرَفَهَا تا یحییٰ بلکہ زمین پورہ راتان چھو بہن رونق وَاذْتَيْتَ بیہ سڈ زمین سر سبزی سیت مزمین  
 وَظَنَّ أَهْلَهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا خیال کوریزند ازو کہ پتر پاٹھ آسہ چھو وون بیہ زراعت امیر زینگ  
 پیداوار پنہ بس آٹھس منزر انہما اَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا اتی چھو واتان تھسوں کھم رات گیت یادولہ  
 فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا إِنْ كَانَ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ کس تھن تراوان اس سُو کو تھ۔ زن نہ او ستموی  
 اوس کینہہ یوہ۔ تھتھ پاٹھ عالم بالاکہ طرفہ رُوح یوان بدن انسانس سیت رلھت، قوت حاصل کمر تھ، پور  
 طاقتور تہ ہنر مند انسان بنان، اس انسانہ سہ تعلق دار چھہ امیدوار روزان اس رلھتہ فائیدہ تلکس پیٹھ۔  
 اتی چھو ناگمانی موت یوان تہ سُو انسان چھو ہنک تہ مگھ مران۔ امسندین متعلق ہند ساری خیالات چھہ  
 وڈان۔ زن نہ بیہ انسان پیدے سڈمت چھو آسان کَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ تھتھ پاٹھ  
 چھہ اس پن آیات ویرھہ ناو تھ بیان کران تھن لوکن ہندہ خیطرہ سیم فجر کرن۔ کس سڈ ثابت کہ دنیا  
 چھو دائر الزوال وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ اللہ تعالیٰ چھو نادودان کوکن دار السلامس کن۔ سلامتی  
 ہندس گرس کن (سُو گو جنت) وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بیہ چھو و تھ ہوان تھن رٹھان  
 چھو راہ راستس کن لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ تھن لوکن ہندہ خیطرہ چھہ رٹھمزور، یعنی جنت۔  
 سیم رٹھ عمل کرن بیہ تھہ خوتہ زیادہ (رٹھمزور گو جنت، تھہ خوتہ زیادہ گو دیدار خدا) وَلَا يَرْهَقُ  
 وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ورنہ بیہ نہ تھندین تھن سیاہی بیہ نہ رسوائی۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا

السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَّقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ  
 مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا  
 أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۶﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ  
 جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ  
 فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿۱۷﴾  
 فَكْفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ  
 لَغْفِيلِينَ ﴿۱۸﴾ هُنَالِكَ تَبْلُو أُمَّلَٰئِ نَفْسٍ مَّا سَأَلْتُمْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ

خَلْدُونَ سے کیا گئے جنگ لڑکھ تھے آس جتن منزمیہ **وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا** یہ سمولو کو چھ کامہ کرہ یعنی کفر سے شرک۔ چھ کامہ ہنرمز درتہ چھ توہمی سے توئی ایشہ  
 ہوش سوہدی آسہ۔ **وَتَرَهَّقُهُمْ ذِلَّةٌ** تمہ علاوہ یہ تہندین تھیں ولہ خواری ورسوائی **مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ**  
**مِنْ عَاصِمٍ** آسہ نہ تہن خدا بس نچہ کانہہ بجاؤن دولاہ **كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا**  
 زان تہند تچہ آس ولہ آمت تاریک راژ ہنز وچھلو سیت **أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا**  
**خَالِدُونَ** سے کیا گئے نار ک لوکھ۔ تمنی چھوروزن تہ نارس اندر ہمیشہ **وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا**  
 سو دودہ تہ چھو قابل ذکر سمہ دوہہ اس ساری مخلوقات سونبر وکھ میدان محشر س منزم۔ قیامتگ دوہہ اکہ  
 و**ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ** توپتہ توواس مشرکن۔ ای مشر کو تھہر و  
 تہہ یہ تہند شریک۔ پنہ نی جلیہ روزو **فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ** توپتہ تراو اس تمن منزم تفرقتہ سے دور۔ تم  
 کرن پانہ وان اکہ اس سیت مقابلہ **وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ** ون تہند باطل معبود  
 تہہ آسہ نہ سان عبادت کران **فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ**  
 تہں چھو بس اللہ تعالیٰ گواہ آسہ کن آسہ منزم تہ توہہ منزم تہ تہہ پیٹھ کہہ اس آس تہنہ عبادتہ نچہ بالکل

مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۳۱﴾ قُلْ مَنْ  
 يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَبْلُغُكَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ  
 مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ  
 الْأُمُورَ فَيَقُولُ لَنْ يَرَى اللَّهُ قَوْلَ أَفْلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۲﴾ فذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ  
 فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ فَأَنْتَ تُصِرُّونَ ﴿۳۳﴾ كَذَلِكَ  
 حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۴﴾

بے خبر کیا زہ اس آس بے جان ہُنَالِكَ تَبْلُغُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْأَلَتْ اِی وقتہ گمرہ امتحان پر بیٹھ اکھا  
 تھے ساری یہ تم کورمٹ آسہ بروٹھ وَرُدُّوْا لِي اللّٰهُ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ و اتاوانہ من تم خدا یہ سدس  
 عذابس کن کس ٹھنہد حقیقی معبود چھو وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تم ساری باطل معبود ہم تمو  
 ٹھہراومت آس، مکن ہنز تم پر سنش کران آس گڑھن تمہن نشہ غائب نہ ختم۔ تمواندرہ بیہ نہ تمہن  
 کانہہ تہ بکار قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ہر ژھو ٹھہہ یارسول اللہ مکن مُشْرِكٌ كَمَا سُوِّجَّهَ جَھو کس  
 توہہ رزق عطا کران چھو آسمان وزیچہ طرفہ یعنی آسمانہ طرفہ بارش تراوان زمینہ منزہ غلہ کھاران  
 کس ٹھنہد رزق بناان چھو اَمَّنْ يَبْلُغُكَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ہہہ ونوٹہہ چھو مالک ٹھنہہ بوزیچہ نہ وہچھہہ  
 قُوْسِكُ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ہہہ کبہہ چھو زندس کڈان مُردس نشہ،  
 مُردس کڈان زندس نشہ وَ مَنْ يُدْبِرُ الْأُمُورَ ہہہ کبہہ چھو ساری کابین ہند تدبیر کران۔ فَيَقُولُونَ  
 اللّٰهُ مَكْنِ سَارِنِ تھن ون تم جواب کہ ہمہ سارے کامہ کرہ ون چھو اللہ تعالیٰ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٹھہہ  
 فرماؤو کہ اوہ کونہ چھوہ ٹھہہ تس شریک اندہ نشہ پتھ روزان فذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ سمسدیم اوصاف و  
 افعال چھہ کس یسوی چھو معبود برحق ٹھنہد حقیقی پروردگار فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ ہرہ کبہہ پتہ کیاہ  
 چھو باقی روزان گراہی ورائی فَأَنْتَ تُصِرُّونَ کس پوز تراوتھہ کیا زہ چھوہ ٹھہہ لہزس کن گڑھان  
 كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تھہہ پاٹھہ سہز ثابت ٹھنہدس



قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ  
يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ ﴿۳۲﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ  
مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَنْ يَهْدِي  
إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ  
كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۳۳﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي  
مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۴﴾ وَمَا كَانَ هَذَا

پروردگارہ سزا زلی تھہ تمَن نافرمانن پیٹھہ کہہ تم آنن نہ زانہہ تہ ایمان قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوُ  
الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ یہ تہ پرڑھو کہ نہہ یار سؤل اللہ کہ ای مُشرکویا تہند یو سمو اپز یو معبود و اندرہ  
چھا کا نہہ ئس گوڈہ مخلوقات پیدہ ہیکہ کتر تھہ تو پتہ دوبارہ یہ پیدہ ہیکہ کتر تھہ۔ اتھ پھور نہ تمَن جو ابی  
کہہ نہ۔ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ نہہ فرما یو کہ اللہ تعالیٰ چھو گوڈہ پیدہ کران، سوی کرہ یہ  
سارنی مخلوقاتن پیدہ۔ یہ چھہ ہمزئی کام فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ ادہ کو گن چھوہ پتر معبود ترا و تھہ اپزین  
معبودن گن گھہان قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ اترہ پرڑھو کہ نہہ زہ ای مُشرکویا تہند یو  
اپز یو معبود و اندرہ چھا کا نہہ ئس ہمزس گن و تھہ ہا و تھہ ہیکہ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ تھی فرما یو کہ کہ اللہ  
تعالیٰ ای چھو پترس گن و تھہ ہا و ان أَفَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ  
کیا ہہ ئس معبود و تھہ ہا و ہمزس گن سو چھا زیادہ سزاوار پیروی کرئس کہ نہہ ئس نہ پانہ بے سندہ و تھہ ہا و نہ  
ورای و تھہ لبان چھو فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ئس کیا ہہ گوڈہ تو بہہ یہ کتھ لغو فیصلہ چھوہ کران تو حید ترا و تھہ  
چھوہ مُشرک اختیار کران ئس نہ ابعاس قابل ہیکہ آتھہ سو ہیکہ عبادتس قابل آتھہ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ  
الْظَّنَّ یہ چھہ اکثر سمو لو کو اندرہ پیروی کران مگر فاسد خیالاتن ہنز إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ  
شَيْئًا پڑا پھہ فاسد خیال چھو نہ کا نہہ فائیدہ و وان ہمزس برو نھہ کہہ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ پڑا پھہ  
اللہ تعالیٰ چھو پور زمانن یہ تم کران چھہ۔ و قس پیٹھہ زہہ سو تمَن پائے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ



وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ  
 بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۴۱﴾ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ  
 أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۴۲﴾  
 وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا  
 لَا يَعْقِلُونَ ﴿۴۳﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىَ وَ  
 لَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴿۴۴﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ  
 النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۴۵﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانُ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا

بہ چھ بعضی تم نہ پڑھ کرنا آتھ و رَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ تمہند پروردگار چھو پوزرانا مفسدن  
 وقت مقرر ریلہ ولتہ تمہ سائتہ کرہ اللہ تعالیٰ ضرورتہن عذابس گرفتار وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَمَلِي وَلَكُمْ  
 عَمَلُكُمْ وکن ہر گاہ تمکن دلچین ہندہ باوجود ایم لوک توہمہ انکار کرن، تمہ فرماؤ یو کہ مہ چھہ مزور پندہ  
 کامہ ہنز توہمہ چھوہ مزور پندہ کامہ ہنز۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ تمہ  
 چھوہ بری میانہ کامہ نشہ، یو چھوہ س بری تمہزہ کامہ نشہ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ تمہ مہ تھاوہ  
 توقع تم کیا ان ایمان اگر چہ تمہو منزہ چھہ بعضی ہم کن تھاوان چھہ سمہ سائتہ تمہ قرآن مجید پران چھوہ۔  
 مگر تمہند بوڑن نہ بوڑن چھوہ برابرہ۔ کیا زہ تم چھوہ نہ ایمانک ارادہ لہذا ہجہہ تمہزہ حالت زرین ہنز ہمیش  
 أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ کیا توہمہ ہمکو کھندہ زربوزہ نا و تھہ بہہ یلہ نہ تمہ عقل تہ آسہ کینہہ  
 وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ بہہ چھہ تمہو اندرہ بعضی تم توہمہ مجزات و کمالا توسان و چھان چھہ۔ مگر طلب  
 حق نہ آسہ موکہ چھوہ تمہند و چھن بے کار أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ کیا تمہ چھوہ  
 یڑھان انین و تھہ ہون یلہ نہ تمہ در نتیجی یوان آسہ کینہہ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ  
 أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ پندہ پانھہ اللہ تعالیٰ چھوہ نہ کانہہ ظلم کران قابلیت عطا نہ کمر تھہ مواخذہ نہ گرفت

سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا  
بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۳۵﴾ وَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي  
نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِّيَنَّكَ فَاَلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا  
يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُمْ  
بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۷﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن

کران۔ لیکن لو کہ چھ ظلم کران پان پاس عطا کرنے آئیں قابلیت ضائع کرنے سیت **وَيَوْمَ يُنْفَخُ عَنْهُمْ كَذِبُهُمْ** لیکن پان پاس عطا کر کے آئیں سب سے دوسرے اللہ تعالیٰ تم ساری تہہ پانچ سو نبر اوہ کہ تم کرن خیال زن تم زودیت آسن دنیاس منزیا قبرن منز ساروی دوسرے منزہ آس گرہ۔ **يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ** لو کہ آسن آس پر زہ تاوان لیکن آس آس نہیں نہ کانہ مد مکر تہ۔ ساری آسن پتہ پتہ پریشانی گرفتار **قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ** تحقیق تاوان تہ نقصان آسہ تمہ دوسرے تم لوکن سمو اپز زون خدا آس سیت ملاقات کرن بیہ آس نہ تم دنیاس منز ہدایت کیہ دن۔ **وَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ** بیہ ہر گاہ توہی ضرور ہادوہ آس تمو عذاب آندرہ بعضی عذاب تم ہند وعدہ آس تم کرن چھ **أَوْ تَتُوفِّيَنَّكَ** یا ہر گاہ اس سو عذاب نازل کرنے بروٹھی جہہ سمعہ عالمہ نمودہ، تو تہ کیا گو **فَاَلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ** آخر کار چھو تم واٹن اسی لغتہ **ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ** تو پتہ چھو اللہ تعالیٰ ای شاہد تہہ ساری پیٹھ یہ تم کرن چھ۔ سو دیہ تم پائے سزا۔ دنیاس منز تم سزا ایٹن دنہ یا ممتہ ایٹن دنہ مگر آخر آس منزیا چھ ضرور پتہ نس موقس پیٹھ سزا دنہ **وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ** بیہ چھو پر پتہ امتہ خیطرہ احکام و اتاوند خیطرہ آس پیغمبر آہ **فَاَلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ** ادہیلہ تم پیغمبر تم نشہ آد تہ پیغام و اتاوند تم **قَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ** فیصلہ چھو تم منز کرنے ایوان عدل و انصاف موجب **وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ** بیہ پیٹہ نہ تم لوکن نہ قسمہ ظلم کرنے۔ کیا زہ اتمام جتہ پتہ سزا دیون ظلم گو نہ **وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ** بیہ چھہ زبان لو کہ عذاب و عید بوزت تہہ انکار کرنے خیطرہ کہ ای

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي خَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ  
 اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً  
 وَلَا يَسْتَقْبِلُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا  
 مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۴۰﴾ أَلَمْ تَرَ إِذَا مَا وَقَعَ مِنْكُمْ بِهِ  
 آثَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۴۱﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا  
 ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۴۲﴾

پیغمبر کر سیدہ واقع یہ وعدہ عذاب۔ ہر گاہ تمہے پوزوان چھوہ تلمہ کونہ چھوہ عذاب واقع سپدان قُلْ لَا أَمْلِكُ  
 لِنَفْسِي خَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ تمہے فرماؤ کہ جواب یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوحسوس نہ خود  
 پنے پانہ خیرہ تہ اختیار تھاوان، نہ سٹہ نفعک نہ سٹہ ضررک مگر سٹوی اختیار یوت اللہ تعالیٰ اس منظور  
 آسہ۔ کس کتھہ پاٹھہ بیٹھہ یوتہہ عذاب اتھہ یاد عدہ عذاب تھاوتھہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ پر سٹھہ اُمتہ عذابہ  
 خیرہ تہ تباہی خیرہ چھوہ اللہ تعالیٰ اس نشہ اکھ وقاہ مقرر دنیاس اندریا آخرتس اندر إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ  
 فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْبِلُونَ یلہ سومتھر کر نہ اُمت وقت ٹھہد ولتہ کس سٹہ نہ تم نہ پتھ  
 گوتھہ کس سائس نہ بروٹھہ پتھہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٍ أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ  
 تمہے فرماؤ کہ تلامہ وسٹو ہر گاہ توبہ خدلیہ سٹہ عذاب ولتہ رات کیت یاد ولتہ تمہے منزہ تمہے چیز چھوہ سٹوتھہ  
 جلد چھہ ژھانڈان نافرمان از چھوہ انکار کران تھہ۔ حالانچہ یہ اوس اقرارک تہ تصدیق وقت اَلَمْ تَرَ إِذَا  
 مَا وَقَعَ مِنْكُمْ بِهِ کیاہ یلہ سوعذاب واقع سپدہ ادہ انوہ تمہے سائہ ایمان۔ تھہ ایمان انہ کس فائیدہ چھوہ  
 نہ کینہہ آثَنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (ونہ ایہ توبہ تمہے سائہ) ای مخرودووان کمر ونا پڑھ تمہے مگر بے  
 سؤد۔ حالانکہ یہ گوسوی عذاب کس تمہے جلد ژھانڈان آسودہ ٹھٹھہ پاٹھہ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا توپتہ  
 ایہ ونہ تمین لوکن سٹو ظلم کور یعنی مخر کن ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ژبوتہ مزہ بیٹگی ہندہ عذابک ہل  
 تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ توبہ چھنہ سزاونہ یوان، مگر تمنی کا میں ہند سٹہ تمہے کران آسودہ

وَيَسْتَبِشُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قَوْلُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٦﴾  
 وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرَأُ النَّدَامَةَ  
 لِمَا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ إِلَّا  
 إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْإِرَانَّ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ  
 أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٩﴾ يَا أَيُّهَا  
 النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ

وَيَسْتَبِشُونَكَ أَحَقُّ هُوَ بِهٖ جہہ سم توہمہ بشرہ دریافت کران تہ پر ژھان لئسہ پانہ تہ ٹھہ پانہ کیاہ عذاب  
 چھا پوزوی قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ جہہ فرماؤو کہ اوہمہ جھو پنہ نس پروردگارہ سندا قسم یہ لے پوزہ جھو وَمَا  
 أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ جہہ بیخیون نہ اللہ تعالیٰ عاجز کر تہ مکنہ صور نس اندر۔ سو جھو قادر مطلق۔ نس ہیجہ نہ  
 کانہہ اکھاہ عاجز کر تہہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ سو عذاب آسہ ثبوت سخت کہ  
 ہر گاہ آسہ پر جھہ ٹھہگار شخص ثبوت مال سمہ سمیت سو زوی روی زمین ہر سپدہ ہے، سو ثبوت مال تہ  
 دیہ ہے پن پان پچاونہ خیطرہ تمہہ ڈہجہ عذابہ بشرہ وَأَسْرَأُ النَّدَامَةَ لِمَا رَأَوْا الْعَذَابَ بیہ تھاؤن تم ٹھہگار  
 ندامت تہ نجات پو شیدہ، یلہ وچھن سو عذاب ٹیٹھہ تھاونہ خیطرہ عذابہ بشرہ۔ وَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ  
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بیہ لیہ فیصلہ جہد عدل و انصافہ موجب کرنہ۔ تمن لیہ نہ ظلم کرنہ۔ یہ دو مت آسکھ  
 تی لوئن الْإِرَانَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وارہ یوزوی لوکو، یہ آسمان تہ زمین منز جھو تہ سو زوی جھو  
 ملک معبود برحقہ سندا جھہ منز آی سم مجرم الْإِرَانَّ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وارہ یوزہ خدایہ سندا وعدہ جھو حق تہ  
 پوز۔ نس قیامت ایہ ضرور وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوک جھہ زمانہ یقین کران ہو  
 یحییٰ ویمیتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سو جھو زندہ کران سو جھو ماران نس کیاہ مشکل جھو نس بشرہ دوبارہ  
 پیدہ کرن۔ بیہ ایو جہہ ساری نس گن واتاونہ تو پتہ بیہ سوسارنی حساب يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ای لوکو تھمیں آو توہمہ گن جھمہس پروردگارہ سندا طرفہ سو چیز نس



قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾  
 الْإِنِّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٢﴾  
 الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٤﴾ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ

اکثر لو کہ چھینہ شکر گزارا کران۔ امہ مہلتک نفع سے فائیدہ تکان و ما تکتون فی شان و ما تکتولوا منه من قرآن یہ آستونہ حالو اندرہ کسے حاس اندر، تمو حالو اندرہ گو تہند قرآن مجید ہن و لا تاملون من عمل یہ تہ ساری لو کہ چھوہ نہ کانہ کا ماہ کران اَلَا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا مگر اس چھوہ آسان تو ہن ہنہ حاضر۔ اسہ چھہ خبر سپدان تہندن سارنی حالاتن ہنز اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ بیمہ ساتہ پیٹھ تہہ سنو کام گرن ہیوان چھوہ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ کھٹیت چھہ روزان تہندس پروردگار س ہنہ کس ذرس برابر کانہ چیزا نہ آسانان اندر نہ زمین اندر وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ یہ چھونہ لہہ ذرہ خوتہ لو عمت نہ تمہ خوتہ بوڈ اَلَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مگر کس نہ درج چھوہ روشن تہ واضح کتابہ اندر (سو گولو ح محفوظ) امہ قسمہ چھو خدایہ سندا احاطہ علمی موجود اتن ہنہ ہنہ آلا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وارہ بو زو خدایہ سند دوست تم چھہ، تمن نہ چھو کانہ خوف نہ سپدان تم غمہ قسمہ غمکین الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ تم گئے تہہ ہموا ایمان اون خدا کس یہ روڈس کھوژان لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ تہندی خیطرہ ہنہ دنیاچہ زندگی منزہ آخرتس منزہ بشارت تہ خوشبری کامیابی ہنز لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تغیر و تبدیل چھونہ



جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۵﴾ اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ  
وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ  
دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءُ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا  
يَخْرُصُوْنَ ﴿۱۶﴾ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا  
فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ  
يَسْمَعُوْنَ ﴿۱۷﴾ قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ

خدايہ سزنا کہ جس یعنی وعدان۔ تمہند وعدہ چھو محنت تہ پوز وعدہ ذلک ہوا الفوز العظیم سے کثیر  
بدرستگاری تہ کامیابی وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ بیہ مہ کمران توہمہ غمگین تہ آزرده دشمن ہنزہ بیودہ کہتہ  
اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا پز پاپ عزت، بیہ قدرت تہ غلبہ چھو سو زوی خدائیس۔ سو کرہ توہہ پنے  
وعدہ موجب پور حفاظت تہ راجہ۔ دشمن ہمکن نہ توہہ پیٹہ غلبہ لبتہ ہوا السميع العليم سو چھو  
سو زوی بوزون ساری خبر تھادہ اِنَّ اِلٰهَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وارہ بوزو تم مخلوق  
آسمان تہ زمین منز چھہ۔ ملا یک جن تہ انسان تم ساری چھہ خدایہ سدی ملک تمن اتہہ کینہہ چھو نہ  
وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءُ کج سنا پیروی کران چھہ تم لو کہ یم لو کہ اللہ  
تعالی اس وراثی بین معبودن ہنز عبادت چھہ کران۔ خدائیس چھہ خبر کج پیروی چھہ تم کران۔ تمن نشہ کیاہ  
سنا دلیل چھہ لمہ اعتقاد چ اِنَّ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ تم چھہ پیروی کران مگر  
بے سند خیال تہ اوہا من ہنز بیہ چھہ تم مگر اندازہ تہ قیاسہ لگاوان۔ حقیقتہا چھہ کج کہنہ ہوا الَّذِي  
جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا سو پروردگار گو سوی تم رات کمر پیدہ چھہ  
تہہ تہہ منز آرام کمر وہیہ تم دوہ کمر پیدہ تہہ تہہ منز وچھت کمر تہہ پن ضروریات پورہ کمر۔ اِنَّ فِيْ  
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُوْنَ پز پاتھ شب روز پیدہ کرس اندر چھہ قدر تک بد بڈ نشانہ تو حید چہ چہ  
چہہ دلیلہ تمن لو کن ہندہ خیرہ تم دلایل قدرت وارہ بوزان آسن۔ مخرک چھہ تمن دلیمان اندر غور

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ  
 سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اٰتَقُوْلُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۸﴾  
 قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكٰذِبَ لَا  
 يُفْلِحُوْنَ ﴿۳۹﴾ مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ  
 نُنذِرُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿۴۰﴾  
 وَاٰتٰى عَلَيْهِمُ نَبَا نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يَقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ  
 مَّقَامِىْ وَتَذٰكِرِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلٰى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْبِعُوْا

کران تم چھہ شر کہ پئے تھہ کران قالوا اتخذ الله وكذا سبحناه چنانچہ مشرک چھہ ونان اللہ تعالیٰ  
 اس چھہ اولاد۔ حالانکہ مغزہ تہ پاک چھہ سو اولاد و نثره هو الغنى سو چھو بے نیاز کانسہ کن چھو نہ محتاج  
 ساری چھہ تس کن محتاج له ما في السموات وما في الارض یہ آسمان تہ زمین اندر چھو تہ سو زوی  
 چھو تو ہندوی اِن عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا چھہ تہہ نثرہ کانسہ دلیلہ اتھہ پیٹھ اَتَقُوْلُوْنَ عَلٰى  
 اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ کیاہ تہہ چھوہ خدائس نسبت تی ونان قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكٰذِبَ لَا  
 يُفْلِحُوْنَ تہہ فرما دیو کہ تہہ تھقین سم لو کہ خدائس پیٹھ اپز نور و ان  
 چھہ تم سپدن نہ زانہہ کامیاب متاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ دنیا س اندر چھو تہمن کہہہ  
 کالہ تمخ تہ فایدہ تکن توپتہ چھو مثر تھہ اسی کن تہن و ائن ثُمَّ نُنذِرُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ توپتہ  
 ژہنا و کہ اس تم سخت عذاب مزہ بہا کائوای کفروُن جنہدہ مثر کرنہ سببہ وَاٰتٰى عَلَيْهِمُ نَبَا نُوحٍ  
 بیہ پتر و تہہ یارسول اللہ تہن پیٹھ قصہ حضرت نوح اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يَقَوْمِ یلہ تم و و پ پنے تس قومس  
 ای میانہ قومہ لَنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِىْ وَتَذٰكِرِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ہر گاہ گو بیوہ تہ ناگوار سپدوہ توہہ پیٹھ  
 میون توہہ منز روزن بیہ میون و عظ ہرن خدایہ سند یو آیا تو سیت ، سپدن ناگوار توہہ۔ یو چھو س نہ

أَمْرُكُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا  
 لَأَنْتَظِرُونَ<sup>(۴۱)</sup> فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ  
 إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ<sup>(۴۲)</sup> فَكَذَّبُواهُ  
 فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً وَأَعْرَقْنَا  
 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَدَبِّرِينَ<sup>(۴۳)</sup>

تمیگ پروا کران کیازہ فعلی اللہ توکلتُ مہ چھو خدایہ سی پیٹھ اعتمادتہ ڈو کہ کورمت فاجبمعوا أمرکم  
 وشرکاءکم میہ ضرر و اتاناونہ خیطرہ کمر و تہمہ پونختہ ہن کوم۔ معبودان باطل (یم تہمہ خدایہ سند شریک  
 چھوک زانان) تم رہیو کہ پاس سیت ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ تو پتہ مد آسن سنو کام یوسہ توہمہ مہ  
 نسبت کرن چھہ توہمہ اندرہ کانسہ پیٹھ پو شیدہ۔ یعنی تن پاتھ کمر یوسہ توہمہ کزن چھو ثم اقضوا الی و  
 لا انتظرون تو پتہ یہ توہمہ مہ نسبت کزن چھوتہ کمر و تار کرنہ و رای یو چھوسنہ توہمہ کتہ قسمہ کھو شان۔ نہ  
 تراوہ یو تہمہ بہرہ وعظ ہرن تہ تبلیغ کزن فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ ہر گاہ تہمہ توتہ روزو یو ٹھوی پھر ان تمیگ وجہ  
 کیا چھو فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ مہ منج نہ توہمہ اتھ وعظ و نصیحت کرس پیٹھ کانسہ مزوریہ تہ عوضاہ۔ یو  
 کیازہ منگہ ہا توہمہ مزور إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ میان مزور چھنہ کانسہ مہ خدائس و رای۔ غرض نہ  
 چھوس یو تہمہ کھو شان نہ چھسوہ کینہہ منگان وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مہ آو حکم کرنہ کہ  
 بوروزہ فرمانبردار و اندرہ۔ لہذا چھوس یو تعیل حکم کمرت توہمہ وعظ و نصیحت کران۔ ہر گاہ تہمہ مانونہ۔  
 میہ کیاہ نقصان چھو چھہ اندر فَكَذَّبُوا چھہ بلیغ وعظ تہ یشہ فمالمش کرنہ پتہ تہ کور تموتس انکار ی۔  
 اتھ انکار کرس پیٹھ سوزاسہ تن پیٹھ عذاب طوفان۔ سمہ سیت تم ساری ہلاک سپد فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ  
 مَعَهُ فِي الْفُلْكِ کس ڈیت نجات اسہ حضرت نوحس، بیہ سم تمن سیت آس ناوہ منر، ثرتجہ مردتہ  
 ثرتجہ زنہ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً بیہ کراسہ تم زمینس پیٹھ آباد وَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا باقی پھاٹو  
 اسہ تم لو کہ تموا انکار کورسائین آیاتن فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَدَبِّرِينَ کس و چھوہ تہہ یار سول اللہ

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ  
فَمَا كَانُوا لِيَوْمِنَا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى  
قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى  
فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٤٦﴾  
فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ ﴿٤٧﴾  
قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا أَوْ لَا يُفْعَلُ

کیتھ سپر پیچھ انجام تمن لوکن ہند تمن نیم کرنہ یوان اوس یعنی پیڑی منزد توکھ نہ سز الجحہ وارہ فخرہ  
تار تھ کچھ واتھ مگریلہ نہ تمومون ادہ آکھ سز ادنہ یوہے حال بنہ تمن تہ تم توہہ انکار کران چھہ  
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ توپتہ سوز اسہ حضرت نوحس پتہ بے پیغمبر پنہ نین پنہ نین  
قَوْمُنْ كُنْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ کس آی تم پیغمبر تمن نش نہ دلیلہ ہتھ فَمَا كَانُوا لِيَوْمِنَا بِمَا كَذَّبُوا  
بِهِ مِنْ قَبْلُ کس آس نہ تم تمہ قسمک لوکھ، تم کیا کرہ ہن پڑھ تھتھ تھتھ تمواتمہ بروٹھ انکار کورمت  
اوس كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ تھتھ پاتھ کیا چھہ اس مہر کران حدہ ڈلہ و نین ہندین و کن  
پیٹھ۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا توپتہ سوز تمن پیغمبر ن پتہ اسہ  
حضرت موسیٰ بیہ حضرت ہارون فرعونس تہ تہندین ہتھنن کن ہن مجزات عصاتہ یو بیضا ہتھتھ  
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ کس کور تمواتھ تصدیق کرنہ نشہ مجتہر۔ بیہ آس تم لوکھ جرائمن ہند  
خوگر۔ تمہ موکھ کرنہ تمواتھ اطاعت فلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا کس یلہ واثرہ تمن نشہ نبوت موسیٰ  
پیٹھ سانہ طرفہ صحیح دلیلہ یعنی مجزات قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ دہنہ لگ تم بیشک یہ چھونون  
بحر تہ جود قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ حضرت موسیٰ ان دوپچھ اکی کافر و کیاہ چھہ چھوہ  
یرشہ کتھ دنان اتھ صحیح دلیلہ یلہ سوز توہہ نشہ واثرہ اَسِحْرٌ هَذَا أَوْ لَا يُفْعَلُ السِّحْرُونَ کیاہ یہ چھا جود تہ بحر۔  
حالانچہ جاوگر چھنہ کامیاب سپدان نبوتک دعویٰ کرنس اندر قَالُوا أَجَعَلْنَا لَمَفْعًا

السَّحَرُونَ ﴿۴۴﴾ قَالُوا أَجِئْنَا بِتِلْكَ آعْمَاءَ وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا  
 وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا خُنُّ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۴۵﴾  
 وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلَيْهِمْ ﴿۴۶﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ  
 قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿۴۷﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ  
 مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرَ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ  
 الْمُفْسِدِينَ ﴿۴۸﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿۴۹﴾  
 فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ

ای موسیٰ کیامہ ذہ آتھہ آسہ تمہہ کامہہ نشہ پھر نہ خیطرہ عتہا وجدنا علیہ آبائنا یسہ کام کران دہجہہ آسہ  
 پانہ ہن مال تہ بدب۔ وتكون لکم الکبریاء فی الارض یہہ ہجھوہ نمہ یشھان کہہ توہمہ گھوہہ آسہ پیٹھ  
 سرداری تہ زھل حاصل سدن ذنیاس آندر وماخن لکم بمؤمنین آس ہرگز توہمہ پڑھہ گرونہ  
 وقال فرعون ائتونی بکل سحر علیہم یہہ دون فرعون پنہ نین ہنشین نمہ دیو کہ اتھہ ساری زان  
 وال جادوگر فلما جاء السحرة اذیلہ آی تم جادوگر قال لھم موسی القواما انتم ملقون تم  
 دوپ حضرت موسیٰ ان تراوہ ہشہر میداں منزیہ توہمہ تراون ہجھو جاوہ آندرہ فلما القوا قال موسی ما  
 جئتم بہ السحر کس یلہ ترود تمویہ تراون اوسکھ، حضرت موسیٰ ان دوکھہ اکی ساجز دہجہہ یہہ ہتھ  
 آمت ہجھوہ، یہہ گوجود۔ تہ ہجھونہ جودیتھہ فرعونہ سید لو کہ جودوان ہجھہ۔ تم گئے مہجرات لان اللہ  
 سيبطله اللہ تعالیٰ گرہ آتھہ تمہدس جادس ضرور باطل تہ بے کار لان اللہ لا یصلح عمل المفسدين  
 پڑاٹھہ اللہ تعالیٰ ہجھونہ شیران تہ سنبھالان مضدان ہنزہہ کامہ۔ ہم مہجراں سیت مقابلہ گران ویحی اللہ  
 الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون یہہ ہجھو اللہ تعالیٰ پڑس مضبوط تہ محکم کران حسب وعدہ ہنہہ حکمہ سیت۔  
 اگرچہ ناگواری گورھن کافران تہ نافرمان فما امن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون

وَمَلَأْنَاهُمْ أَنْ يَقْتَنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهٗ  
لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۸۳﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمِرَ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ  
فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿۸۴﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا  
رَبَّنَا اجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۸۵﴾ وَجَنَابِ رَحْمَتِكَ مِنَ  
الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ ﴿۸۶﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَا  
لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيوتًا وَاجْعَلُوا بِيوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا

وَمَلَأْنَاهُمْ أَنْ يَقْتَنَهُمْ ہنس پڑھ کر نہ حضرت موسیٰ اس گودھ گودھ مگر پینہ قومہ کیونکہ وہ شخصو سم تہند  
رشتہ دار آس۔ سوئے فرعونس تہ تہندین ہشتین نشہ کھوڑ کھوڑ۔ بیٹھہ سوتین سختی کمر تہہ پاس سن  
بھرہ۔ واقعی تہند کھوڑن بے معنی اوس نہ کیا زہ فلان فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ فرعون اوس نا  
زبردست بادشاہ زمین مصرس منز وَإِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ بیہ اوسنا سو سیٹھاہ زیادتی تہ ظلم کرہ  
ون۔ حضرت موسیٰ ان بیلہ وچھہ سم چھہ فرعونس نشہ سخت تہا سمست وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمِرَ إِنْ كُنْتُمْ  
آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ہر گاہ توبہ پڑھہ کر وہ کس خدا کس ہنس کمر و تہہ بیٹھ  
اعتماد، چھوے چہہ فرمانبردار فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ہنس وون تہوا سہ کمر تس معبود برحقس بیٹھ  
واقعی توکل تہ اعتماد (توپتہ کر وکھ دعا) رَبَّنَا اجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ای سانبہ پروردگارہ آسہ  
مہ بناؤ تختہ مشق سخن ظالم لوکن ہنز وَجَنَابِ رَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِينَ بیہ وہ نجات آسہ محض پینہ  
رحمتہ سیت سخن کافران نشہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيوتًا بیہ سوز  
آسہ وحی حضرت موسیٰ بیہ تہندس برادر حضرت ہارونس کن کہ تہہ تہا وود سٹور پینہ قومہ خیلرہ رہائشی  
انتظام مصرس اندر نو تہنہ فرعونین ہند یوگر و منزہ نیر تہہ ٹلو۔ آس گرو تہنز حفاظت وَاجْعَلُوا بِيوتَكُمْ  
قِبْلَةً بیہ آسومہان ہندہ وقتہ تے ہن گرہ ہنوان مسجد۔ نماز آسوگرہ نی منز ہران وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ  
یہ چھو سیٹھا ضروری کہ نماز تہا وود برپا۔ بیٹھہ نمازہ ہندہ برکتہ اللہ تعالیٰ جلد مصیبت دور گرہ وہ

الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۷﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ  
 آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَكَ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ  
 عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۵۸﴾  
 قَالَ قَدْ أُجِيبَتِ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ  
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾ وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْجُرْفَاتِ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ای موسیٰ بشارت دیو با ایمان نجات دہ کا مابانی ہنز وَقَالَ مُوسَىٰ یہ کمر مناجات  
 حضرت موسیٰ اَن رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَكَ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ای سانہ  
 پروردگارہ بیشک ژی دیو تھے فرعونس یہ تھندین لہکارن دنیاہس اندر بوڈوشان وشوکت یہ واریاہ مال و  
 دولت رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ ای سانہ ہرودگارہ یہ کرتھتھہ ہتھہ تم ڈاکن لوکن چاہنہ وتہ نغمہ۔ کس یلہ  
 نہ ہدایت تھندہ نصیبہ چھو، یوسہ حکمت اتھ منز آس سوسہر حاصل۔ وڈن کیا زہ من تم تہ تھند مال باقی  
 تھاونہ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ ای سانہ ہرودگارہ پھش پھر تھندین ماکن تہ جا سید اڈن وَاشْدُدْ عَلَى  
 قُلُوبِهِمْ سخت کمر کہ دل تھند فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ہتھنہ تم ایمان آنن توتان  
 یوتان نہ کڈر۔ عذاب پنہ نیوا چھو وچھن۔ حضرت موسیٰ آس یہ دُعا کران تہ حضرت ہارون آس  
 آمین آمین کران قَالَ قَدْ أُجِيبَتِ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا اللہ تعالیٰ اَن فرموو کہ ای موسیٰ، ای ہارون  
 تھتھن قبول آڈر نہ دُعا تھند (آمین کران تہ گودعاءس منز شامل سپڈن) کس روز و تھہ پنہ کس فرض  
 مصیبتس پیٹھ استقامت کمر تھ وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ہتھنہ پیروی کمر و تھہ تھن لوکن  
 ہنز ہم بے علم چھہ۔ تمکن نہ معلوم چھو سانہ وعدہ کہ یوز آسک۔ یلہ فرعونہ سندہ ہلاکت وقت قریب۔  
 ووت آسہ کوز حکم حضرت موسیٰ آس کہ بنی اسرائیل کڈ یو کہ مصرہ منزہ نجر۔ چنانچہ درای تم بنی  
 اسرائیل ہیٹھ مصرہ منزہ وتہ آکھ بروٹھ دریای قلمزم۔ حضرت موسیٰ سندہ دعاءہ سیت بنی آتھ

فِرْعَوْنُ وَجُنُودَهُ بَغِيًّا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ  
 اٰمَنْتُ اِنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْ اٰمَنْتُ بِهٖ بَنُوْا اِسْرٰٓءِيْلَ وَ  
 اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۹۶﴾ اَلَّذِيْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ  
 الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۹۷﴾ فَاَلْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلَقَكَ  
 اٰيَةً وَّاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ اٰيَتِنَا لَٰغٰفِلُوْنَ ﴿۹۸﴾ وَاَلْقَدْ  
 بَوَّآ اَبْنِيْ اِسْرٰٓءِيْلَ مُبَوَّآ صِدْقٍ وَّرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ

دریاؤسی باہ کوچہ وچوڑنا بنی اسرائیل البغر بہیہ یلیہ اہور تار اسہ بنی اسرائیل دریای قلزمس  
 فَاَتَّبَعْنٰهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودَهُ بَغِيًّا وَعَدُوًّا پس دور یو تمن پتہ فرعون بن لشکر ہتھ ظلمہ کن بہیہ حدہ نشہ  
 تجاوز کرنہ کن۔ خیال اوس کہ دریاء نشہ اہور ستر تھہ کرکھ یوساری بنی اسرائیل قتل۔ لیکن تم گئے اہور  
 ترے بروٹھی ہتھہ دریاؤس اندر غرق حتیٰ اذ ادرکہ الغرق تالیجہ یلیہ فرعون پھنن ہیونن قال  
 اٰمَنْتُ اِنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْ اٰمَنْتُ بِهٖ بَنُوْا اِسْرٰٓءِيْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ تمہہ ساتہ لگ ہنہ ایمان  
 اولن مہ۔ کانہہ معبوداہ جھونہ تس ذات پاکس ورا ی بس ایمان اون بنی اسرائیلو۔ بہیہ جھوس یوتہ  
 فرمانبر دار و اندرہ اَلَّذِيْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ اللہ تعالیٰ ان فرموس ملائکن  
 ہمدہ ذریعہ اکی فرعون و عکس جھو کہ فرمانبر داری ہند اقرار کران۔ سمہ ساتہ نہ اقرار کرئس کنہی فائیدہ  
 جھوی۔ کیا زہ عالم آخر تک معاینہ کرنہ پتہ جھونہ اقرار کرئس کانہہ اعتبار۔ تھین ائمہ بروٹھہ کاژاہ  
 نا فرمانی نہ سرکش ستر تھہ۔ بہیہ اوسکھ تباہی کرہ وینو اندرہ فَاَلْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلَقَكَ  
 اٰيَةً پس جھنن از اس چون بدن بچاوان نیست و نا بود گوہنہ نشہ۔ جتھہ ثیہ پتہ ہنہ و الین ہندہ خطیرہ  
 عبرتک اگھ نشانہ روزن۔ چان بد حالی نہ تباہی و جھتھہ روزن احکام الہین ہمدہ مخالفتہ نشہ جتھہ وَاِنَّ كَثِيْرًا  
 مِّنَ النَّاسِ عَنِ اٰيَتِنَا لَٰغٰفِلُوْنَ بیشک لو کو اندرہ جتھہ واریاہ سانیو قدرتہ کیونشاؤ نشہ بے خبر۔ مخالفت  
 احکام کرنہ نشہ جھنہ کھوژان تہ پتھہ روزان وَاَلْقَدْ بَوَّآ اَبْنِيْ اِسْرٰٓءِيْلَ مُبَوَّآ صِدْقٍ پتھہ پانچہ فرعونہ



فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۹۳﴾ فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ  
مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ  
قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۹۴﴾  
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ  
الْخَاسِرِينَ ﴿۹۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا

سندہ ہلاک کرنے پر تہ بساؤسہ بنی اسرائیل رزہ جاہیہ۔ تم سپہ مصر ک مالک و رزہ فہم من الطیبت یہ  
کوراسہ تمین عطاریق، رت رت چیز آتھ مصرس اندر۔ اتھ کن نظر کمر تھ پزہ ہا تمین سان اطاعت تہ  
فرمانبر داری کرن۔ مگر تمہو کور تمہ بدل۔ تمہو کور دینس اندر اختلاف۔ افسوس کہ یہ اختلاف تروونہ  
تمہو نادانی تہ جملہ کن فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ نہس کور تہ تمہو اختلاف مگر احکامن ہند علم واتنہ پتہ  
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ پز پانھ تھند پروردگار کرہ فیصلہ  
تمین اختلاف کرہ وین منز قیامتہ دوہ۔ تمین سارنی چیزن ہند تمین منازم اختلاف کران آس فَإِنْ  
كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ یارسول اللہ ہر گاہ بالفرض توہم عنہ قسمہ ترود تہ شك آسہ قرآن  
مجیدس منز نہس آسہ کن نازل کور۔ یہ شبہ رفع کرنہ خیطرہ جھواکھ سہمل طریقہ فسئل الذین یقرءون  
الکتب من قبلك تہہ کمر دوریافت تمین لوکن نہسہ ہم لوکھ بروظنہ کتابہ پران جہہ۔ تم وزن توہم  
بے شك قرآن مجید جھو خدایہ سندہ طرفہ نازل سیدان لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ تھنن شك و شبہہ  
ورای آسہ توہم کن پز کتاب تھندس پروردگارہ سندہ طرفہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ نہس مہ حض آسہ  
تہہ شك تہ ترد و کورنیو آندرہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ  
مہ آسہ ہر گز تہہ تمہو لو کواندرہ تمہو اہوزان تھ انکار کور خدایہ سندین آیاتن۔ نہس سپد و تہہ تہ نقصان تلہ و  
نیو آندرہ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ پز پانھ تمین لوکن ہندہ خیطرہ یہ

يَوْمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٦٢﴾  
فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَّا فَنَفَعَهَا آيَاتِنَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا  
أَمْنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخُرْزِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَجَّيْنَاهُمْ  
إِلَىٰ حَيِّينَ ﴿٦٣﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّكُمْ جَمِيعًا  
أَفَأَنْتُمْ تُكْفِرُوا النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ  
أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا

ازلی حکم چانس پروردگار سببہ طرفہ ثابت سپد مت چھو تم زانہ ایمان ان نہ و لو جآء تھم کل آیۃ  
حٹی یرو العذاب الالیم ہر گے تم نیش ساری آیات نہ و ان توتہ ان نہ تم ایمان یوتان نہ و چھن  
کڈر عذاب۔ مگر تمہ وقتہ ایمان ان چھو بے کار نہ بے اعتبار فلولا کانت قریۃ امننا فنفعھا آیاتنا الا  
قوم یونس نیش آس نہ گنہ شرک لو کہ تمہو عذاب و جھت ایمان اون۔ تو پتہ دیتھ تم ایمان فائیدہ  
حضرت یونس سبہ قومہ وراکی۔ تم ن پیٹھ بلہ عذاب ہیون نازل سپن اتی اون تمہو ایمان لبتا امتوا  
کشفتنا عنہم عذاب الخرزئی فی الحیوۃ الدنیاء و نجتناہم الی حیین بلہ تمہو ایمان اون اتی تل اسہ تم خوار ی  
بہد عذاب دنیا چہ زندگی اندر۔ یہ تلتناؤ تم زندگی بہد متع مز بکس و قس تان ولو شاء ربک لامن من  
فی الارض کلکم جمیعاً یہ ہر گاہ تمہد پروردگار یڑھہ ہاتلہ انہن ایمان تم ساری لو کہ تم زمیںس پیٹھ  
چھہ یجہ وٹہ۔ مگر تم یوڑھہ نہ تہ بعض جتن کن نظر کتر تھہ افانت تکفرو الناس حٹی یکنو مؤمنین  
کیاہ تمہہ کریو کہ لو کہ مجبور ایمان انہ نس پیٹھ تا اینکه ساری بن با ایمان وما کان لنفس ان تؤمن الا  
بیاذن اللہ حالانکہ تمہی چھو نہ کانہہ شخص ایمان ان خدلیہ سبہ حکمہ وراکی تمہدہ یرشہہ وراکی۔  
و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون یہ چھو اللہ تعالیٰ کھر چہ نافرمانی اندر تراوان بے عقلن، سم نہ  
عقلہ کوم ہیوان چھہ۔ قل انظروا ما فی السموات و الارض فرما و دتھہ یارسول اللہ لو کن، ای لو گو  
و چھو تمہہ کیاہ چھو آسمان تہ زمین اندر اللہ تعالیٰ ان پیدہ کورمت تھی سیت سپدہ ہاتوبہ معلوم خدلیہ سبہ

يَعْقُلُونَ ﴿۱۰﴾ قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُعْنٰى  
 الْاٰيٰتِ وَالنُّذُرِ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا  
 مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا اِنِّيْ مَعَكُمْ  
 مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿۱۲﴾ ثُمَّ نُنزِجُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ؕ  
 حَقًّا عَلَيْنَا نُنزِجُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳﴾ قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ  
 شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَا اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ  
 وَّلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفَّاكُمْ ؕ وَاْمُرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ

آسکب بیه کنوی آسکب وَمَا تُعْنٰى الْاٰیٰتِ وَالنُّذُرِ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُوْنَ بیه کیاہ فاسیدہ وَاِن اٰیٰت بیه نیم  
 گزن وال یعنی پیغمبر، تم لوکن ہم ازلی بے ایمان آسن فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ  
 قَبْلِهِمْ ہنس چھہ ہم لوکہ انتظار کران مگر تھیں مشکل دوہن ہمد ہم گذرے تھن بروٹھ قُلْ فَانْتَظِرُوا  
 اِنِّيْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ تہہ فرماؤ کہ کتر و انتظار تہہ بوٹہ چھوس توہی سیت انتظار کرہ و نیو اندرہ تھہ  
 ثُمَّ نُنزِجُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تو پتہ آس اس نجات دووان پتہ نین پیغمبرن بیه تھن لوکن سموا ایمان اون  
 كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنزِجُ الْمُؤْمِنِيْنَ پتھہ پاٹھ چھوسہ آسہ پیٹھ نجات دسُن سارنی باایمان۔ ہنس ہر گاہ یمن  
 کافرن پیٹھ کانہہ عذابہ نازل سپدہ باایمان لہن تھہ عذابہ نعتہ نجات۔ خواہ دنیاس اندر خواہ آخرتس  
 اندر قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فرماؤ کہ تہہ ہر ماہ رسول اللہ، ای لوکو ہر گاہ توہہ  
 شَکّ چھو میانس دیس متعلق ہنس وارہ صاف صاف چھسہ ہو فرماوان فَلَا اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ  
 دُوْنِ اللّٰهِ ہنس بوچھوسنہ عبادت کران تھن معبودان باطلن ہنز تھن عبادت کران چھوہ معبود  
 برھس وراکی وَّلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفَّاكُمْ بلکہ چھوس ہو عبادت کران تھن خدایہ سنز ہنس توہہ  
 قبض روح کران چھو وَاْمُرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بیه آومہ حکم کرہ خدایہ سدہ طرفہ باایمانو

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۰﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ  
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۴۱﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ  
 لَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۴۲﴾  
 وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ  
 بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ  
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۴۳﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ  
 رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا

اندرہ آسک وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا بیہ آومہ حکم کرنہ متوجہ روزنک دین توحیدس کن  
 ساری باقی دین تراوتھ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بیہ آم وندہ بیٹھنہ ہرگز تھ آسکھ مشرکون اندرہ وَلَا  
 تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ بیہ بیٹھنہ خدائیس وراوی بیہ کانسہ منگان آسکھ۔ یونس تھ  
 تہز عبادت کسرت کانہہ نفع ہیکی واندناوتھ۔ عبادت نہ کسرتھ کانہہ ضرر ہیکی واناوتھ فَإِنْ فَعَلْتَ  
 فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ کس ہر گاہ تھ بیٹھہ کام کرکھ یعنی معبود برحقس وراوی بیہ کانسہ عبادت  
 کرکھ کس چھو کہ تھ تلمہ ظالمون اندرہ۔ سمو خدایہ سندن حق ضائع کور وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا  
 كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ بیہ آومہ وندہ کس ہر گاہ اللہ تعالیٰ کانہہ سختیاہ واناوی تھیہ۔ کس چھو نہ کانہہ سو سختی  
 دور کورن تس وراوی وَلَنْ يُرِيدَ بِكَ بَعْضًا فَلَإِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ بیہ ہر گاہ سو بیٹھہ کانہہ خیراہ چاہنہ خیرہ کس بیٹھہ نہ  
 پتھ رتھہ کانہہ اکھاہ تہیدس ففلسل یُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بلکہ چھو سو فضل پئن واناوان پنہ  
 نیوند واندہ کس بیٹھان چھو تہ تس وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بیہ چھو سو سیٹھاہ مغفرت کرہ وون سیٹھاہ رحم  
 کرہ وون قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فرماو تہ تہ لوکن ای لوگو تھیقن آوتہ تہ کن دسکن  
 حق پنہ کس پروردگاہ سبہ طرف۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا

يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۸﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ  
إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۱۹﴾

نہیں نسیں سیرہ و تہ پیٹھ ایہ سویا پیہ فائیدہ خیطرہ ہیہ نسیں شخص تمہہ نعرہ ڈلہ، سو ڈلہ پیہ پانچہ ضررہ خیطرہ  
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ مہہ ہتھہ خہنہ کام نعرہ نہ آئہ۔ یو کرووہ توہہ ہدایت قبول کرنس پیٹھ مجبور  
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ہیہ کُر و تہہ پیروی  
تھہ یہ توہہ کُن وحی سوزنہ یوان و جھو۔ ہیہ کُر و کافرن ہیرس کھر س تہ تکلیفس پیٹھ جہہ صبر۔ یو تان اللہ  
تعالیٰ پن فیصلہ تہ حکم جای کرہ۔ سوی جھوزت حکم تہ فیصلہ کرہ ون۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الرِّكَبُ أَحْكَمْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ فُصِّلْتُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ ۝۱  
 أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝۲ وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا  
 رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلْ لَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَ  
 يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ  
 عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝۳ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۴

الرِّكَبُ أَحْكَمْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ فُصِّلْتُ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ امیک معنی چھو معلوم خدا یہ سئی یہ قرآن مجید چھو کتاباہ سمک آیات تہ احکام چھہ مضبوط تہ محکم کرنہ آمت د لیلوسیت۔ تو پتہ چھہ تم احکام ویشہنا ونہ آمت حکمتہ والس تہ باخبر خدا یہ سدہ طرفہ۔ سمیک مقصد چھوای زہ ألا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تھو حکمو منزہ چھو گوڈھوئی حکمہ کہ عبادت تہ پرستش مہ کمر وکانسہ ہنز کنس خدا ہس وراکی۔ اِنِّی لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ بو چھوس تھندہ خیطرہ تھندی طرفہ نیم کرہ ون تھندہ عذابک۔ خوشخبر ونہ ون تھندین انعامن ہند وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ بیہ مکتوبہ پنہ نین تھنن ہندہ خیطرہ مغفرت پنہ نس پروردگار س۔ تو پتہ کمر ورجوع تھس کن یُرْسِلْ لَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى بیہ فایدہ تھناوہ توہہ رت فائدہ اگس مقرر کرنہ آتھس و قس تان یعنی مر بھس و قس تان وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ بیہ کرہ عطا پرستھ زیادہ عمل کرہ ونس زیادہ مزور وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ اگر تھہ ایمان آنہ نشہ تھہ پھر وتلہ چھوس بو کھوژان تھندہ تھہ ہڈہ و بھس عذابس (سو گو قیامتک دوہ) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ سی کن چھو تھہ پوئس واٹن سو چھو پرستھ چیزس پیٹھ قدر تہ

الَّا اَتَهُمْ يَتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ الْاٰحْيٰنَ يَسْتَعْتُوْنَ  
 ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصُّدُوْرِ ۝  
 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰى اللّٰهِ رِزْقَهَا وَ  
 يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِى كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝۶ وَ  
 هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ  
 عَرْشُهٗ عَلٰى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمُ اَحْسَنُ عِبَادًا وَّلٰيْنِ قُلْتُ

دول **الَّا اَتَهُمْ يَتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ** وارہ بوزوسمن کافران ہمد حرکات۔ سم جھہ سینہ  
 نور او تھ آکھ آس سبت کتھہ کران۔ یتھہ بوشیدہ تھاؤن تمہہ کتھہ خدائس نشہ **الْحَيٰنَ يَسْتَعْتُوْنَ ثِيَابَهُمْ**  
**يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ** وارہ بوزوسمہ ساتہ سم کلہ پیٹھہ ژادر تراوتھہ جھہ پانہ وان کتھہ کران۔ اللہ  
 تعالیٰ جھوہہ سوروی زانان۔ یہ سم بوشیدہ کران چھہ۔ یان پاتھہ کران جھہ **اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصُّدُوْرِ** ہز  
 پاتھہ سو جھو پورہ زانان وکن ہنزہ اندر مہ کتھہ۔ وکن گوژ ہنازان بہہزن زایون ہنزہ کتھہ۔ **وَمَا مِنْ**  
**دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰى اللّٰهِ رِزْقَهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِى كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ**  
 روئے زمینس منز جھنہ کانہہ تہ پکون جاندارہ مگر اللہ تعالیٰ اسی چھہ تمنسز روزی منہ، سو چھو تمسند جائے  
 قرار تہ جائے پناہ زانان تمس تمیک پور علم آسجھہ علاوہ جھو، تہ سوروی لیکتھت روش بتاہہ اندر یعنی لوح  
 محفوظ اندر **وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِى سِتَّةِ اَيَّامٍ** سو پور دگار گو سوی سم آسمان  
 تہ زمین پیدہ کتر شینل دوہن برابر و قس اندر **وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلٰى الْمَآءِ** بیہ اوس عرش تھند آس پیٹھہ۔  
 عرش تہ آب اوس امہہ بروٹھی پیدہ آمت کرنہ یہ سوروی کوزن پیدہ۔ اتھہ منکر کن تھند ساری  
 ضروریات پیدہ۔ یتھہ تھہ یہ وہجت توحیدس پیٹھہ استدلال کترہ ہو تھزہ نعمہ کھیتھہ تھزہ شکر گذاری کرہ  
 ہو عبادت تہ رز عمل کترہ ہو۔ توہہ اندرہ بھضیہ کوریہ۔ بھضیہ کور اتھہ بدل ناسپاسی تہ شرک **لِيَبْلُوَكُمْ**  
**اَيْكُمُ اَحْسَنُ عِبَادًا** یتھہ توہہ آزمائش کرہ۔ توہہ اندر تھہ آسہ رت عمل کرنہ کن **وَلٰيْنِ قُلْتُ**

إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ  
 هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ④ وَلَئِنْ آخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ  
 مَعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَجِبُ سُهُ الْيَوْمِ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا  
 عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑤ وَلَئِنْ أَدْقْنَا  
 الْإِنْسَانَ مِتْرَ حَبَّةٍ تَمْرٍ نَرَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُوفُ كُفُورًا ⑥  
 وَلَئِنْ أَدْقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَه لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ

مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ یہی ہر گاہ تمہارے دنان چھوہ لو کہن ای لو کو تمہارے ایو مر نہ پتہ یہی زندہ کرنے کیامتک  
 دہ لَیَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ تمواندرہ تم کافر چھہ تم دن ضرور قرآن مجیدس  
 متعلق کہ چھونہ یہ قرآن مجیدتھ منز قیامتہ مر نہ پتہ یہی زندہ کو سچ خبر چھہ، مگر نون سحر اہ۔ کیا زہ چھہ  
 دنان قرآن مجید چھونون سحر نہ جو د۔ یمن اوس خیال کہ تھہ پائٹھ جو باطل چھو گو ابتداءس اندر چھو  
 آسان مؤثر۔ تھہ پائٹھ چھو ٹھو ز باللہ قرآن مجید نہ باطل۔ اگر چہ اتہ چھو ابتداءس اندر مؤثر سپدان  
 وَلَئِنْ آخَرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَجِبُ سُهُ یہی ہر گاہ اس پتہ نموتین نشہ سو  
 عذاب سمیک تم و عدہ یوان چھو کرنے گزرنہ آمتین کیون دوہن تام۔ تم چھہ بطور استہراء دنان تمہ  
 سناچیز چھو تھہ عذائس پتہ رٹان واقع سپدنہ نشہ یعنی ہر گاہ عذاب کانہہ چیز اہ آسماتلہ آسہ بانازل آمت  
 کرنے الْيَوْمِ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وارہ یوزوسمہ دوہہ سو عذاب پنہ نس موقس پیٹھ تم  
 نازل سپدہ چھونہ سو عذاب کہ پتہ کیا ایہ رٹنہ تم نشہ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ولنہ یہی تم  
 سو عذاب پنہ نس موقس پیٹھ تھہ تم ٹھہہ کران آس وَلَئِنْ أَدْقْنَا الْإِنْسَانَ مِتْرَ حَبَّةٍ تَمْرٍ یہی ہر گاہ  
 آس انسانس پنہ مہربانی ہند نہ تمک مڑہ چھہ ہوان۔ تَمْرٍ نَرَعْنَاهَا مِنْهُ توپتہ چھس سو نعمت اٹھہ ہیوان  
 لِأَنَّهُ لَيَكُوفُ كُفُورًا ضرور چھو سو نامید نہ ناشکر گزار سپدان وَلَئِنْ أَدْقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ  
 مَسْتَه یہی ہر گاہ آس تس انسانس سختی پتہ یوسہ تم واثر مڑ آس نمون ہند مڑہ چھہ ہوان لَيَقُولَنَّ



السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝  
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ  
صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا أَلَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ  
مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۝ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝  
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۝ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ

ذہبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي ضرور چھو تمہہ ساتہ ونان حتی گنیہ مہ نشہ دور۔ وکن آسہ نہ حتی کینہہ لائقہ  
لَفَرِحٌ فَخُورٌ پڑپاٹ سو چھو بچہ کران۔ لوکن پیٹھ فخر بہان کرنہ۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ مگر نہ تم لو کہ تمہو ہمیشہ پر پیٹھ حاس پیٹھ صبر  
کور نعمون ہمدہ زوالحہ وقتہ کوزکھ صبر۔ عطاہ نعمتہ وقتہ دو پیٹھ شکر۔ بیہ کر کیکھ رتہ عملہ تے گے تم  
یہندہ خیطرہ نوڈ مغفرت تہ بڈ مزور ہجہ۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ  
صَدْرُكَ پس شاید چھو ہنہ تراون یثہان کانہہ حصہ تموا حکامو منزہ تم توہہ کن نازل کرنہ یوان  
ہجہ۔ بیہ چھو ہنہ تمہہ موکھہ ہن دل تنگ کرہ ون۔ کیاہ بیہ چھا نمکن کہ ہنہ کیاہ تراوو تبلیغ کرن۔ بیہ کتھ  
ہجہ ظاہر کہ ہنہ بیہونہ تہ ہرگز کرت پس کیاہ فاسدہ چھو دل تنگ سپد تک۔ کیاہ ہنہ دل مبارک چھا  
سپدان تنگ دشمن ہمدہ بیہ ونہہ سیت۔ أَنْ يَقُولُوا أَلَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ تم  
دشمن کیاہ چھہ ونان۔ ہر گاہ تم پیٹہبر آسن تلہ کونہ چھو والنہ یوان تمن پیٹھ خزانہ۔ یا کونہ چھو وسان  
تمن سیت ملک تصدیق کرنہ خیطرہ۔ تمہو کتھو سیت مہ ہز سپد و ہنہ دل تنگ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ہنہ چھو ہنہ مگر ہم کرہ ون لوکن اللہ تعالیٰ ای چھو پر پیٹھ چیزس پیٹھ اختیارہ  
وول۔ توہہ تمیک اختیار چھونہ۔ لہذا کیاہ زہ چھو امہ سبہ نمگین اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ کیاہ تم دشمن  
چھا ونان کہ بیہ قرآن مجید چھو تمہو یعنی حضرت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ہنہ نی طرفہ ٹھہر وومت قُلْ

وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۳﴾  
 فَإِلَهُمُ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ أَنْزَلُوا بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لِلَّهِ  
 الْإِلَهَ الْوَحِيدَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۴﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ  
 زِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿۱۵﴾  
 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا  
 صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى

فَأَنزَلْنَا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلَهُ مُقَرَّنَاتٍ تَبَهُ فَمَا يُؤْكَلُ بِرِغَابٍ هَرِغَاهُ تِي هَجُو تَلَهُ أَيْتُو تَبَهُ تِي دَه سُوْرَه مَقْشِي پَنِي طَرَفِه  
 بناو تھ وَاْدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بِہِ دِیُو نَادِ مَدَدِ خَیْطِرِه نِس نِس تَبَهُ بِیَکُو نَادِ تَهْ خَدِ اَنْس  
 وراکی۔ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ جھوے تہ پوزوانان فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ أَنْزَلُوا بِعِلْمِ اللَّهِ بِس  
 ہر گاہ تم کہینہ جواب وَاَنْ نَه توبہ ہس زانو تہ کہ یہ قرآن مجید جھو نازل کرنہ آمت حدلیہ سمدہ علمہ بہ  
 تہندہ قدرت کاملہ سیت۔ وَاَنَّ لِلَّهِ الْإِلَهَ الْوَحِيدَ بِہِ کُرُو سَمِیْک تہ یقین کہ کانہ معبودا ہ جھونہ تس معبود  
 برحق وراکی کیا زہ معبود گو تہ آس الوہتہ کین صفاتن اندر کامل۔ ہر گاہ تس ورا ہ کانہ آساتس  
 آساتلہ پور قدرت تہ تمہ پورہ قدرتہ سیت کرہ ہاسو توبہ قرآن مجید ک مثل پیش کرنس اندر مدد۔ اکی  
 کافر و تہ سپدہ وون مثل انہ نس منز عاجز (لند اسپد مسئلہ توحید و رسالت ثابت فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  
 کیاہ امرہ پتہ تہ کر وہ تہ پڑھ کتہ نہ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا بِس اکھاہ پتہ نیور ژو عملو آندہ  
 محض دنیا چہ زندگی ہند فایدہ ٹکن یڑھ بہ تمہ جی آرایش حاصل کرن یڑھ، شہرت ہش، بیخامی ہش  
 عزت و جاہ ہ۔ آخرت حاصل کرنج آس نہ تس نیتس نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ  
 ادہ آس دمو پورہ تم عملن ہنز مزور دنیا س اندر۔ تمن پتہ نہ تھ اندر کتہ قسمہ کی کرنہ أُولَئِكَ  
 الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ سبے لو کہ گئے تم تمن نہ آخرتس اندر کہینہ تہ آسہ نارہ ورا ہ  
 وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا بِہِ گشہ ضایع تہ سو روی بہ تم کران آس رژو کا میو آندہ دنیا س اندر

بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كَتَبْتُ مَوْسَىٰ  
 إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ  
 الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ  
 مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۴﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ  
 مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ

وَبَطُلًا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بیہ گڑھے تہ سوزی خراب تہ تباہ، یہ تم کران آس رثو عملو آندرہ۔ کیا زہ  
 بیت ہنز آس خراب اَقَمْنٰ كَانَ عَلٰی بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّيْہِ وَيَتْلُوْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ کیاہ مکر قرآن کریا  
 برابری تس شخصس سیت یس قرآن مجیدس پیٹھہ قائم روزت آسہ یس قرآن مجید تہمدس پروردگارہ  
 سدہ طرفہ دو تہمت ہتھو۔ بیہ چھو تہمتہ قرآن مجیدس سیت امہ کس حق تہ پوز آسہس پیٹھہ گواہ تہ۔ سو گو  
 سمیک فصیح و بلیغ آسُن تمہہ درجہ کہ لو کہ چھہ تہمتہ مقابلہ کرنہ نشہ عاجز۔ یہ گیہ دلیل عقلی وَمِن قَبْلِهِ  
 كَتَبْتُ مَوْسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً۔ بیہ چھہ امہ بروٹھہ اکھ کتاباہ یوسہ حضرت موسیٰ اس پیٹھہ نازل سپز۔ مژ چھہ اچہ  
 گواہی ہندہ خیطرہ موجود۔ یوسہ کتاب احکام بیان کر چھہ اعتبارہ امام چھہ۔ تمہن احکامن پیٹھہ یس اجر و  
 ثواب حاصل سپدہ تمہہ اعتبارہ چھہ رحمت۔ یہ گنیہ دلیل نقلی۔ یومی دوشوی دلیلو سیت سپد ثابت  
 قرآن مجیدک پوزتہ صحیح آسُن اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ۔ ایم لو کہ تمہن ہنز ذکر کرنہ آہہ چھہ اتھہ قرآن  
 مجیدس پڑھ کران وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ۔ بیہم لو کہ قرآن مجیدس انکار چھہ کران بیہ فرقو یعنی  
 کافر و آندرہ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ہس نار جہنم چھو تہندہ و ارتج جایی۔ ہس تھہ پاٹھہ ہیچہ قرآن مجیدس پڑھ کرہ  
 ون برابر آتھہ۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ۔ ہس مہ آس ژہ ای مخاطب امہ کس شکس اندر واقع سپدہ ون  
 إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ۔ بیشک یہ چھہ پڑ کتاب یوسہ چانس پروردگارہ سدہ طرفہ واژ مژ چھہ۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ  
 النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ مگر باوجود آس چھہ واریاہ لو کہ ایم نہ اتھہ پڑھ کران چھہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ  
 عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ بیہ کہہ اکھ چھو پڑ ظالم تس شخصہ سدہ خوتہ تم لہز نور و و کُفْسِ خدائس پیٹھہ، توحیدس،

وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَيَّ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا  
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝<sup>۱۸</sup> الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ  
اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝<sup>۱۹</sup>  
أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ  
مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ يُضَعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا  
يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝<sup>۲۰</sup> أُولَئِكَ الَّذِينَ

قرن مجیدس، رسول کر سمس صلی اللہ علیہ وسلمس انکار کرنہ سیت اُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَی رَبِّهِمْ حے  
کیاہ سن پنہ نس پروردگارس بروئھ کن انہ مفتری آسجہ حیثیتہ و یَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ  
كَذَبُوا عَلَی رَبِّهِمْ حے ساسہ کیاونن گواہ یعنی تم ملایک سم لوکن ہندین اعمالن پیٹھ گواہ چھہ سئے  
لوکھ کیانگے سمواپز نوروو، اپزہ تھہ لاجھہ پنہ نس پروردگارس پیٹھ اَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی الظَّالِمِينَ  
ساری بوزو وارہ کہ ستنھنی ظالمن پیٹھ چھہ خدایہ سبز زیادہ لعنت الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا سم پانہ کافر تہ ظالم آتھہ نین لوکن آس خدایہ سزہ و تہ نشہ پتھ رٹان۔ بیہ آس  
تلاش کران تھہ و تہ منز گوٹھ ظاہر سیدن کانہہ جراہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ بیہ آس تم  
آجرتس تہ انکار کران اُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ سم لوکھ سمکن نہ تنگ آتھہ اورہ یوز  
ژلٹھہ تمام روی زمینس اندر۔ سمہ ساسہ سمکن گرفتاری ہندوقت و اتہ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ  
مِنْ أَوْلِيَاءٍ بیہ آسہ نہ تمن خدایس و رای کانہہ دوستاہ یس موکلا و تھہ بیجہ ہجھہ یَضَعِفُ لَهُمْ  
الْعَذَابُ سمین بیہ کرنہ بین ہندہ خوتہ دوگن عذاب۔ اکھ پنہہ گمراہی ہند بیہ بین لوکن گمراہ کرہ نک۔  
مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ آسہہ سم سخت نفر تہ کن ہون تھن کن تھوان تہ  
بوزت ہیکان۔ بیہ آسہ تمن سخت عنادہ کہ سببہ سبیز و تھہ یوان درنیٹھ اُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا  
أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ سئے لوکھ کیانگے تم سموا نقصان کور پنہ نین پانسن بیہ راوہ تمن

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۱﴾ لَاجِرَمَ  
 أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ ﴿۲۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۳﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ  
 وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۲۴﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا  
 نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۵﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا  
 اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ إِلَیْهِ ﴿۲۶﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ

تمہ سارے تھے، سبھی ٹھہراؤ ان آس بیہ تم ساری معبودان باطل تم پر ستش کران آس۔ و تمہیں  
 آکھنہ کانہہ تہ بکار لاجرم أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ لازمی چھہ یہ تھہ کہہ ساروی اندرہ چھہ تہ  
 یقیناً سبھیہ تاوان زد إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ بیشک سمو لو کو ایمان  
 اُون بیہ کریجھہ رتھ عملہ، بیہ کوزکھ رجوع عاجزی سان، ولہ کن پنہ نس پر وردگار س کن اُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تہ چھہ جنک لوکھہہ تہ روزن تمن جنمن اندر ہمیشہ مَثَلُ  
 الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ مثال دو شون جمائن بالیمان تہ کافر ن ہنز چھہ۔ آکھ  
 شخصہہ چھو اون تہ زور تہ (یہ کنیہ کافر ہ سنز مثال) بیاکھ شخصہہ چھو چھو و چھو و ن تہ بوزہ و ن تہ (یہ کنیہ بالیمانہ  
 سنز مثال) هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا کیاہ سم دو شوے چھا برابر ی مثالیہ اندر أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیاہ چھہ چھو  
 تمن دون جمائن اندر یہ فرق زانان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ بیہ سوزاسہ بیشک حضرت نوح پنہ  
 نس قوم س کن إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ای قوم بیشک بو چھوس خہندہ خیطرہ بیم کرہ و ن پانٹھ۔ بلاہے  
 پیغام واتا و ن کہ کہ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ کہہ مہ کرو کانہہ ہنز عبادت معبود برحقس و راکی إِنِّي  
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ إِلَیْهِ بو چھوس کھوژان خہندہ خیطرہ (ہر گاہ توہہ تس و راکی کانہہ ہنز پر ستش

كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَى  
 اتِّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِّى الرَّأْيِ وَمَا نَرَى  
 لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿۳۵﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ  
 إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّى وَأَشْنِى رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ  
 فَعَمِيتُ عَلَيْكُمْ أَنْزَلْتُ مَكُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كِرْهُونَ ﴿۳۶﴾  
 وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُونِمْ عَلَيْهِ مَا لَأَنْ أُجْرَىٰ الْإَعْلَىٰ اللَّهُ وَمَا أَنَا

کروہ) کڈرہو، بھس عذابس سوگو قیامتگ دوہ۔ فَقَالَ الْبَلَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ پس دُوب جواب  
 تمہن پنہ قومہ کیو کافر ن ہند یوز شہید مَاتَرِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا اَسہ چھو کھنہ ژہ بوزنہ یوان مگر اسی ہیو  
 انساناہ۔ سانہ خونہ چھا ژہ اندر کانہ فضیلتاہ وَمَا نَرِكَ اتِّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِہ چھنہ  
 اَس وچھان چان پیروکار مگر تجہ تم بونمہ درجک لوکھ چھہ۔ بَادِى الرَّأْيِ سمواتا مل کرنہ ورا کی جلد  
 جلد چان پیروی قبول کر وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بیہ چھنہ لبان اَس توبہ تہ چھدین پیروکار ن  
 کانہ فضیلتاہ پانس پیٹھہ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ بلکہ چھہ اَس توبہ زانان اُز زبیرِ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ  
 كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّى وَأَشْنِى رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ حضرت نوح ن دوپچھ ای میانہ قومہ مہ و نتوہہ  
 ہر گاہ بو اَسہ پنہ نس پروردگارہ سزہ ہنہ دلیلہ پیٹھہ قائم سمہ سیت میان نبوت اَسہ ثابت سپدان بیہ  
 اَسہ تم مہ پن بذرحمت تہ مہربانی عطا کر مژ فَعَمِيتُ عَلَيْكُمْ سؤ نبوت تہ تجہ دلیل بیہ نہ توبہ بوزنہ  
 تہہ کیاہ علاج چھو، اَس چھہ جُبُورِ أَنْزَلْتُ مَكُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كِرْهُونَ کیاہ اَس ہیو کوہ توبہ سؤ رحمت و  
 مہربانی دعویٰ و دلیل زورہ پُشُر اوتھہ درحالتیکہ تہہ اَسوتھہ ناپسند کران وَيَقَوْمِ لَا تَسْأَلُونِمْ عَلَيْهِ مَا لَأَنْ  
 ای میانہ قومہ بیہ سوچو توبہ ذرا کہ اگر بو نبوتک غلط دعویٰ کرہ ہاتھہ منز آسامہ کانہ مطالبہ۔ تہ گو  
 ہٹھوی ہیو کہہ تمہہ ذریعہ کرہ ہا بوال و دولت جمع بیہ تھہ چھہ توبہ معلوم کہہ بو چھوس نہ منگان توبہ ہیٹھ  
 تبلیغ کر نس پیٹھہ، صحیح و تھہ ہا نس پیٹھہ، کانہ مالہ، کُنہ قسمہ مڑوریہہ کیاہہ إِنْ أُجْرَىٰ الْإَعْلَىٰ اللَّهُ

بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقَوْنَ فِيهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا  
 تَجْهَلُونَ ﴿۳۸﴾ وَيَقَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُمْ أَفَلَا  
 تَذَكَّرُونَ ﴿۳۹﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ  
 الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ  
 لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ وَإِنِّي إِذَا  
 لِبَيْنِ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾ قَالُوا أَيُّوْسُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاكْثَرْتَ جِدَالِنَا

میان مزور چھنہ کا نہ منہ مگر خدایسی و ما انا بطارد الذين امنوا بيه يبيحكه نه بو بايمان پانس نشيه  
 الگ تراوتھ کھ صورتس منز۔ انهم ملقوا فيهم بزپاٹھ تم بھہ ملاقات گره ون پنہ نس پروردگار س  
 سیت باعزت صورتس اندر۔ لہذا چھ مقرران در بار الہی۔ بوتھ پاٹھ بیکھ تم پانس نشيه الگ کر تھ  
 و لکنی اراکم قوماً تجهلون مگر بو تھسوه ہنہ و چھان بجاوتھ نادالی ہنزہ تھ کران و يقوم من  
 ينصرون من اللہ ان طردتم ای میانہ قومہ اگر بالفرض والتقد یؤتم بونمہ درجک لوکھ تمو میانس  
 نبوتس پشہ کر پانس نشيه دور کرکھ تھ صورتس اندر گوہ اکھاہ بجاوتھ مہ نہ مدکرہ مہ خدایہ سہہ گرفتہ نشيه  
 افلا تذکرون کیا زہ چھوہ نہ ہنہ غور کران و لا اقول لکم عندی خزائن اللہ بيه چھوس نہ بو توہیہ  
 ونان زہ مہ نشيه چھہ خدایہ سد ساری خزانہ موجود و لا اعلم الغیب بيه چھوس نہ بو دعوی کران غیب  
 زانہ نک و لا اقول انی ملک بيه چھوس نہ بو ونان بو چھوس ملک و لا اقول للذین تزدری اعینکم  
 لکن یؤتیہم اللہ خیرا۔ بيه چھوس نہ بو تمئن لوکن ہندہ تھ تمئن ہنہ نچہ نظرہ و چھان چھوہ تمئن کیا کرہ  
 نہ اللہ تعالیٰ بن خیر عطا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم اللہ تعالیٰ سی چھہ خبر تھندین و کن ہنزہ رقی اذا  
 بین الظالمین ہر گاہ بو تھہ تھہ کرہ تلہ چھوس بو ظالمو آندرہ کیا زہ بے دلیل یس کا نہ کتھہ کرہ  
 سو چھو ظالم۔ یلہ تم سارنی تھن اندر لاجواب گئے قالوا ایوس قَدْ جَادَلْتَنَا فَاكْثَرْتَ جِدَالِنَا فَايْتَابَنَا  
 قَعْدَتَا دینہ لگ تم ای نوح ژہ کوڑ تھہ اسہ سیت بحث۔ سوی کوڑ تھہ واریاہ بحث۔ و کن تراوو بحث۔

فَاتَّبِعْنَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۳۳﴾ قَالَ إِنَّمَا یَاۤتِیۤكُمُ  
 بِہِ اللّٰهُ إِنْ شَاءَ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِیۡنَ ﴿۳۴﴾ وَلَا یَنْفَعُكُمُ نَصِیۡمِیۡ إِنْ  
 أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمُ إِنْ كَانَ اللّٰهُ یُرِیۡدُ أَنْ یُعْوِیۡكُمُ هُوَ وَرِیۡكُمُ  
 وَ إِلَیۡہِ تُرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾ أَمْ یَقُولُونَ افْتَرٰہُ قُلْ إِنْ افْتَرٰہُ  
 فَعَلَّیٰٓ أَجْرَامِیۡ وَ أَنَا بَرِیۡءٌ مِّمَّا تَجْرِمُونَ ﴿۳۶﴾ وَ أُوحِیَ اِلَیَّ نُوحٍ  
 أَنَّهُ لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ إِلَّا مَنْ قَدَّ اٰمَنَ فَلَا تَبۡتِئِسۡ  
 بِمَا كَانُوۡا یَفْعَلُونَ ﴿۳۷﴾ وَ اصۡنَعِ الْفُلَکَ بِاَعۡیُنِنَا وَ وَحٰیۡنَا

دوان ان ژہ سوعذاب سمیگ خوف ژہ اسہ دوان چھو کہ ان کنت من الصدیقین ہر گاہ ژہ پوزوان  
 چھو کہ۔ قَالَ إِنَّمَا یَاۤتِیۤكُمُ بِہِ اللّٰهُ إِنْ شَاءَ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِیۡنَ حضرت نوحن دوچھہ سوعذاب بیجہ نہ  
 آنتھہ کانہہ تہ خدائس درای۔ ہر گاہ سوبڑھہ تیلہہ بیکیون نہ تہہ سوعاچر آنتھہ وَلَا یَنْفَعُكُمُ نَصِیۡمِیۡ إِنْ  
 أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمُ إِنْ كَانَ اللّٰهُ یُرِیۡدُ أَنْ یُعْوِیۡكُمُ بیہ دیہ نہ توہہہ کانہہ نفع میان نصیحت ہر گاہ بو  
 توہہ نصیحت کرہ نگ ارادہ تہ کرہ۔ ہر گاہ اللہ تعالیٰ سندا ارادہ تہہ گمراہ کرئوی اسہ هُوَ وَرِیۡكُمُ وَ إِلَیۡہِ  
 تُرْجَعُونَ سوبچھو تہن مالک تہس ان ایو تہہہ و اتناونہ اَمْ یَقُولُونَ افْتَرٰہُ سم مہک لوک تہ چھو و نان  
 حضرت محمدن ٹھرو و پنیہ طرفہ یہ قرآن مجید قُلْ تہہ فرمادیو کہ یارسول اللہ إِنْ افْتَرٰہُ فَعَلَّیٰٓ  
 أَجْرَامِیۡ وَ أَنَا بَرِیۡءٌ مِّمَّا تَجْرِمُونَ ہر گاہ بالفرض یہ مے ٹھرو و مت اسہ توتہ چھو سوبڑم مے پیٹھ۔  
 تہہ چھوہہ ٹمہہ بڑمہ نشیہ بری۔ توتہ چھوس تھو بڑمونشیہ بری سم تہہہ کران چھوہہ وَ أُوحِیَ اِلَیَّ نُوحٍ أَنَّهُ  
 لَنْ یُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِکَ إِلَّا مَنْ قَدَّ اٰمَنَ فَلَا تَبۡتِئِسۡ بِمَا كَانُوۡا یَفْعَلُونَ بیہ آدوچی سوزنہ حضرت  
 نوحس کن کہ پڑھہ کرن نہ توہہہ ہر گز پنیہ قومہ اندرہ مگر تہی لو کہ سمونکلام پڑھہ کرئیس مہ کھیو تہہہ غم  
 تمن چیزن ہند سم چیز تکلیف، ٹھٹھہ مسخرہ گی) سم کران آس توہہہ نسبت۔ چوچھہ سون ارادہ چھو و ون



وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿۶۷﴾  
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قُوَاهُ سَخِرُوا مِنْهُ  
قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿۶۸﴾ فَسَوْفَ  
تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ  
مُّقِيمٌ ﴿۶۹﴾ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ  
كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ

تم غرق کرن تہ تہ لون آس اندر۔ وون چھو طوفان بنہ وول لہذا تمہ طوفانہ نغہہ چنہ خیطرہ  
وَاصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا بِبَنَاءِ هَيْئِهِ نَاوَسَانَهُ مگر انی اندر بیہ ساینو تجویز و مطابق تھی ناوہ ہندہ  
ذریعہ لبو نجات۔ ہنہ تہ باقی با ایمان تہ وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ یہ بوزو  
دارہ کہ مہ سیت گزہہ نہ کا نہ تھہ کرن تمن لوکن ہندہ حقہ سمو ظلم کور گفرہ تہ شر کہ سیت۔ کیا زہ تمن  
چھو ضرورتہ طوفانس اندر غرق گزہن تہ پھن۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ لہہ پتہ ہیوت حضرت نوحس ناوہ  
ہند سامانہ جمع کرن۔ تو پتہ ہنڈ کہ سو ناو گرن وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قُوَاهُ سَخِرُوا مِنْهُ سمہ سمہ ساتہ  
پکان آس رسین ہنز کا نہ جماتھا ہندہ قومہ منزہ لہہ جلیہ کن تھہ جلیہ یہ ناو تم گران آس تم آس  
اتھہ ہندس ناو گرنس پیٹھ ٹھٹھہ کران۔ دپان آسکھ پیغیر آتھہ بنہ و وول ہنہ جھان قَالَ إِن تَسْخَرُوا  
مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ تم آسکھ دپان ہر گاہ ہنہ آسہ ٹھٹھہ کران چھوہ موقعہ ولتہ آس تہ کرو  
دہ توہہ ٹھٹھہ تھہ پاٹھ ہنہ ٹھٹھہ کران چھوہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ  
عَذَابٌ مُّقِيمٌ بروٹھہ ہنن زانو ہنہ پانے کس ایہ سو عذاب یس تس خوار کرہ دنیاس اندر بیہ کس پیٹھ  
سپدہ ہمیشہ روزہ و ن عذاب نازل حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا تا اینکہ سمہ ساتہ جاری سپدسون حتم عذابس  
متعلق وَفَارَ التَّنُورُ آب در او زہ و نہ تہورہ منزہ یہ اوس نشانہ تہ علامت طوفانچہ شروع سپد تک  
قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا آسہ فرمود حضرت نوحس کھاریو کھ اتھ ناوہ منز مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ وَقَالَ اذْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ  
 اللّٰهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسِهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۱۱ وَهِيَ تَجْرِي  
 بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ تَتَنَادَى تُوْحُرِ ابْنَةُ وَكَانَ فِي  
 مَعْزِلٍ يُبْنِي اَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكٰفِرِيْنَ ۝۱۲ قَالَ سَاوِي  
 اِلَى جَبَلٍ يَّعِصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۗ قَالَ لِعٰصِمِ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ

ساروی جاندار و اندرہ زیز ۲ زیز ۲ از تہ مادہ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ بِئِيه كَهَارُ وَبَنِي عِيَالَتِه  
 مگر نہ سوبس پیٹھ غرق سپد تک حکم جاری سپد مت چھو۔ تم گئے آکھ تہنر گروا جن بیہ کسکان پٹو ہتہند۔  
 وَمَنْ آمَنَ بِئِيه کھاریوکھ اتھ ناوہ تم ساری سمو ایمان او مت چھو وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ مگر پٹھ  
 آس نہ کر مژمین مگر کموی لوکو (تم آس شہ زن۔ ونہ چھو اُمت کُل آس ناوہ منز شیتھ زن۔ تجربہ مرد،  
 تجربہ زنانہ وَقَالَ اذْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسِهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ  
 خدایہ سندی ناوہ سیت چھو امہ ناوہ ہند کن بیہ امیک ٹھم رن۔ اِنَّ رَبِّي  
 لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ پڑ پٹھ میون پروردگار چھو ضرور سیٹھاہ مغفرت کرہ ون۔ سو چھو بندہ رحمتہ سیت گناہتہ  
 بخشہ ون، بیہ راہتھہ کرہ ون۔ غرق سپد نہ نشہ نجات وہہ ون۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ  
 بیہ آس سوناوپکان تم ہتھہ تم موجودہ ملرو منز سم کو بن برابر آس وَتَنَادَى تُوْحُرِ ابْنَةُ وَكَانَ  
 فِي مَعْزِلٍ آلو دیت حضرت نوحن پٹوس پنہ نس (کسکانس) سواوس ناوہ نشہ نیر الگ آس جلیہ پیٹھ کافر  
 آسنہ موکھہ اوس نہ ناوہ پیٹھ سوار اُمت کر نہ يُبْنِي اَرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكٰفِرِيْنَ اکی سانہ ناٹھہ  
 گورہ۔ دولہ سوار سپد آسہ سیت ناوہ منز۔ مہ روز کافر ن سیت ایمان اَن تہ ناوہ منز کھس قَالَ سَاوِي  
 اِلَى جَبَلٍ يَّعِصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ سولوگ نہنہ بوکھسہ کُنہ کو ہس پیٹھ، سوبی رچھہ مہ سمہ آہ نشہ کیا زہ  
 آب اوس نہ ونہ زیادہ ٹھد یومت قَالَ حضرت نوحن دولہس لِعٰصِمِ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اَلَا مَن رَّجِعَ از  
 ہیجہ نہ کانہہ چیز چھتھہ خدایہ سندہ عذابہ نشہ مگر روزہ محفوظ سوبی شخص یس پیٹھ سوبی پروردگار کر ہم کرہ

اللّٰهُ الْاَمَنُ رَجْمٌ وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴿۳۱﴾  
 وَقِيلَ يَا اَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَاءُ اَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ  
 وَقَضِيَ الْاَمْرُ وَاَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ  
 الظّٰلِمِيْنَ ﴿۳۲﴾ وَنَادَى نُوْحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِي مِنْ  
 اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۳۳﴾  
 قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٍ فَلَا

ایمانگہ برکت۔ - وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ - سم آس کتھہ با تھی کران کہہ سمن منز او  
 آبگ ملراہ اکھ۔ نھس سہد سوکتعان پھوہ و نیو آندرہ۔ چنانچہ کافرن سیت بھوٹ وَقِيلَ حکم او کر نہ  
 زمینس تہ آسمانس یَا اَرْضُ اِبْلَعِي مَاءَكِ ای زمینہ نیگل پٹن آب و سَمَاءُ اَقْلَعِي ای آسمانہ بند  
 کر پٹن رُود تہ بارش وَغِيضَ الْمَاءِ اُتی ہوٹن آب و سُن تہ کم گڑھن وَقَضِيَ الْاَمْرُ کوم سپر پورہ۔ قصہ  
 سہد ختم یعنی نافرمان ہنز تباہی وَاَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ بیہ لجاؤ کوہ جودیس سیت۔ وَقِيلَ بُعْدًا  
 لِلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ بیہ آڈونہ کافر جھہ خدلیہ سہدہ رحمتہ نشیہ دُور وَنَادَى نُوْحٌ رَبَّهُ بیہ مونگ  
 حضرت نوحن ہر دور دگا رس پندہ نس کنعانہ سہدہ غرق سہدہ بروٹھہ فَقَالَ رَبِّ نھس مونگنس ای  
 میانہ ہر دور دگا رہ اِن ابْنِي مِنْ اَهْلِيْ پز پانچہ میون پٹوتہ جھو میانہ اہل و عیالہ منزہ۔ ژہ جھوٹم وعدہ  
 کورمت عیالگہ بچلوک۔ سم ہا ایمان آسن۔ اگرچہ کنعان نجاس مستحق جھونہ مومن نہ آسنہ موکھہ وَاِنَّ  
 وَعْدَكَ الْحَقُّ چون وعدہ جھو پوز تہ حق وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ بیہ جھوک ژہ ساروی آندرہ  
 بوڈو حکم کامل اختیارہ وول۔ ہر گاہ ژہ یشھکھ تس کر کہہ ایمان عطا۔ تا کہہ سوتہ کہہ نجات طوفانہ نشیہ  
 قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اللہ تعالیٰ ان فرموس ای نوح میانس علم از لیس اندر جھونہ  
 کنعان ہرگز چانہ اہل و عیالہ منزہ سم ایمان آکتھہ مستحق نجات سہدن اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٍ بلکہہ جھوسو  
 آخر تس تان تباہ کار حالت کھر س پیٹھ روزہ ون فَلَا تَسْئَلُنْ مَالِيْنَ لَكَ بِهٖمْ عِلْمٌ نھس مہ کرو

تَسْأَلُن مَالِيَسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنِّي اَعْطُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْ  
 الْجٰهِلِيْنَ ﴿۷۱﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَالِيَسَ لِيْ  
 بِهٖ عِلْمٌ وَّالَا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۷۲﴾  
 قِيْلَ يٰنُوْحُ اٰهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى اٰمِرٍ  
 مِّنْ مَّعَكَ وَاْمُرْ سَبِيْعَهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِّنْ اَعْدَابِ الْيَوْمِ ﴿۷۳﴾  
 تِلْكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا لِيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْتَ  
 وَاَقَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۷۴﴾

درخواست مہ نغمہ جبرک تہ نہ ثیہ کینہہ خمر ہجھ اِنِّي اَعْطُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْ الْجٰهِلِيْنَ بو  
 ہجھوے ثیہ نصیحت کران، ژہمہ آس نہ زلہ ونبو اندرہ ہجھ دعاگرہ نادانی بو ت قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ  
 اَنْ اَسْأَلَكَ مَالِيَسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ حضرت ٹوحن ڈوپ میانہ ہر ور دگارہ بیشک بو ہجھوے پناہ منگان  
 ٹیہ چیز معنہ لغہ تہ نہ مہ کینہہ خمر ہجھ واقعی کر مہ ہجھ چیز معنہ سیت بد غلطی۔ اتھ غلطی کرم  
 بخشایش وَاَلَا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ہر گاہ نہ ژہ مغفرت تہ بخشایش تہ رحم کر کہ  
 مہ تلہ سپدہ بو نقصان تلہ ونبو اندرہ۔ بلہ ادہ آب۔ ہنہ ہنہ بون ووتھ قِيْلَ يٰنُوْحُ اٰهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا  
 وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ حکم او کر نہ اکی ٹوحو و سوامہ ناوہ منزہ زمینس پیٹھ سانہ طرفہ سلامتی سان تہ برکتو  
 سان سمہ نازل سپدن توہہ پیٹھ وَعَلٰى اٰمِرٍ مِّنْ مَّعَكَ بیہ تمن جماعتن پیٹھ ہم ژہ سیت ہجھ۔ تم  
 گئے بایمان وَاْمُرْ سَبِيْعَهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِّنْ اَعْدَابِ الْيَوْمِ بیہ تہ آسن آئیدہ کینہہ جہاژ سمہ نافرمانی تہ  
 کفر وشرک کرن۔ سم تئناو کہ دنیاس اندر کینہہ کالاہ تمنخ۔ توپتہ ولتہ تمن سون کڈر عذاب آخرتس  
 اندر تِلْكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا لِيْكَ یہ قصہ ہجھو غیبیہ جو خبر اندر وہ یہ اس دجیحہ ذریعہ توہہ نش  
 و اتناوان ہجھہ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْتَ وَاَقَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا توہہ تہ ٹھہرس تومس (یارسول اللہ) اوسنہ

وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ  
 إِلٰهٍ غَیْرُهُۥ ۚ إِنَّ أَنْتُمْ لَآلِ مُفْتَرٍوْنَ ۝۱۰ یَقَوْمِ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ  
 أَجْرًا ۚ إِنَّ أَجْرَیَ إِلَّا عَلَی الَّذِی فَطَرَنِیۡ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝۱۱  
 وَیَقَوْمِ اسْتَغْفِرُ وَارَبَّکُمْ ثُمَّ تَوَبُّوْا إِلَیْهِ یُرْسِلِ السَّمَآءَ  
 عَلَیْکُمْ مَّدْرَارًا وَبِزْدَکُمْ قُوَّةً ۖ إِلَى قُوَّتِکُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا

یہ قصہ سابقہ بیان کرنے پر دوغہ معلومی۔ اسی سیت سپہ معلوم ہے۔ چھوہ نبی برحق۔ مگر تم لوگ چھہ تہنزیوت ثلاث سپہنہ پتہ تہنزیوت مخالف کران فاصیو ہذا کردہ ہے صبر (یہ قصہ بو زت) لَانَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ - یقین زانوہ رت انجام چھو خدا پس کھوڑوین، ہندہ خیطرہ۔ ہتھہ پاتھہ تمہہ قصہ آندرہ معلوم سپہنہ کافرین ہند انجام چھو خراب، مسلمان ہند انجام چھو رت ہتھہ پاتھہ سپہہ تہنذین مخالفین ہند حال۔ چند روز روزہ تہنذہ ہتھہ مخالفک زور و شور۔ پتولا کہ سپہہ غلبہ ہیزس تہ ہیزارین۔ تہنذہ دشمنہ سپہن بالآخر تباہ و برباد وَالِی عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا یہ سوزاسہ قوم عادس کن تہنزی برادری منزہ آکھہ صاحب ہود علیہ السلام پیغمبر قَالَ تَبَوُّوْنَ پتہ نس قومس یَقَوْمِ ای میانہ قومہ اعْبُدُوا وَاللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَیْرُهُۥ تہہ کرور پستش فقط معبود برحقہ سنزی یا تہ۔ نس ورا ای چھو تہ تہنذہ کانہ معبوداہ پس عبادتس لایق آسہا اِنَّ أَنْتُمْ لَآلِ مُفْتَرٍوْنَ تہہ چھو ہندہ بت پرستی سیت۔ خدا پس ورا ای بیہ کانہ قابل پرستش زانوہ سیت۔ مگر لہز تھہراوہ ون لہہ کس باطل آسس پٹھہ چھہ دلیل۔ یَقَوْمِ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا ای میانہ قومہ بو چھوس نہ توبہہ منگان اتھہ تہلیغس پیٹھہ کانہہ مزوریہ اِنَّ أَجْرَیَ إِلَّا عَلَی الَّذِی فَطَرَنِیۡ میان مزور چھہ نس مٹہ تم بو عدم محضہ نعہ پیدہ گورس أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ کیاہ توبہہ چھوہ نایہ گتہ فکہہ تران۔ وَیَقَوْمِ اسْتَغْفِرُ وَارَبَّکُمْ ثُمَّ تَوَبُّوْا إِلَیْهِ ای میانہ قومہ تہہ معجو پتہ نس پروردگارس گھوہ نعہ، کفر و شر کہ نعہہ بخشایش، مغفرت یعنی تہہہ انوایمان۔ توبہتہ کردوایمان اتھہ تس کن رجوع عبادتہ سیت یہہ تہنزی فرمانبرداری کرنے سیت ایمان و عمل صالحہہ کر تہ۔ یُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْکُمْ مَّدْرَارًا تراوہ سو توبہہ پیٹھہ، تہنذہس زمینس زراعتس پیٹھہ گدل رود۔ وَبِزْدَکُمْ قُوَّةً ۖ إِلَى قُوَّتِکُمْ بیہ ہرہ

مُجْرِمِينَ ﴿۵۶﴾ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ  
 بِتَارِكِي آلِ هَارُونَ أَفَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۵۷﴾  
 إِنَّ تَقْوَى الْإِعْتِرَافِ بِبَعْضِ الْهَيْئَاتِ بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ  
 وَأَشْهَدُ أَنَّ بَرِيءٌ مِمَّا تَشْرِكُونَ ﴿۵۸﴾ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُ وَنِي جَمِيعًا  
 ثُمَّ لَا تَنْظُرُونَ ﴿۵۹﴾ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ  
 إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۶۰﴾ فَإِنْ

راوه توبه بیه هن قوت پس ابا ایمان تہ کروئس پڑھ **وَلَا تَتَوَكَّلُوا مُجْرِمِينَ** بیه مہ سپد و زو گردانی  
 کرت گھکار **قَالُوا يَهُودُ** تم لگ دینہ ای ہود **مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ** تہہ آوہ نہ آسہ نغہ پنے نس بینہبر  
 آسس پیٹھ کانہہ دلیلاہ ہیتھ **وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَارُونَ أَفَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ** بیه  
 میکو کھ نہ آس تراوتھ ہن معبود محض تہہ ہونہ و نہ سیت بیه میگو نہ آس توبہ ہنہ صورئس منز پڑھ کر تھہ  
**إِنَّ تَقْوَى الْإِعْتِرَافِ بِبَعْضِ الْهَيْئَاتِ بِسُوءٍ** آس جھنہ کینہہ تہ و نان توبہ متعلق مگر ای زہ توبہ جھوہ سانیو  
 بعضی معبود و جذبہ کورمت، دماغس تکلیف و اتنوومت کیا زہ تہہ جھوہ تہنز بر خلانی کران۔ تمی جھوہ تہہ  
 او زک یور تھہ کران سمہ نہ آسہ نغہ قابل تسلیم جھہ **قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنَّ بَرِيءٌ مِمَّا تَشْرِكُونَ \***  
**مِنْ دُونِهِ** ہود علیہ السلامن دو جھہ پڑا تھہ بو جھوس خدا گواہ تھاوان بیه روز تہہ تہ گواہ تھہ پیٹھ کہ  
 بیشک بو جھوس بیزار تموساروی چیز ونغہ تم تہہ عبادئس اندر خدا بیه سید شریک جھو کہ ٹھر او انئس  
 و رای **فَكَيْدُ وَنِي جَمِيعًا** پس تہہ ساری سمٹھ کرو سنز میا بے تکلیف و اتادہ نک **ثُمَّ لَا تَنْظُرُونَ** تو پتہ مہ  
 پیار و مہ کنہی۔ **إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ** پڑا تھہ مہ جھو اعتماد تہ ڈو کہ کورمت کنہس خدا پس پیٹھ پس  
 میونہ تہہ پروردگار جھو **مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا** کانہہ جاندارہ جھو نہ سمسنز مگ (موی  
 پیشانی) نہ تمسندس اتھس منز جھہ **إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** پڑا تھہ میون پروردگار جھو سیزہ و تہہ  
 پیٹھ پچنہ سیت حاصل سپدان۔ تمہ پیٹھ پچن و الین راجھہ تہ حفاظت کران **فَإِنْ تَوَلَّوْا فَتَدَّ آخِذُكُمْ تَأ**

تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا  
غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا إِنْ رَضِيَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴿۵۷﴾  
لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَنِي نَاهُودَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا  
وَبِخَيْرٍ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿۵۸﴾ وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ  
وَعَصَا يُرْسَلُ وَأَتَّبِعُوا أَمْرًا كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿۵۹﴾ وَأَتَّبِعُوا قَوْمِي  
هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا إِنْ عَادَ الْكٰفِرُوۡا رِجْمًا

اُرْسِلْتُ بِهِ الْيَتْمُ پس ہر گاہ ہنہ میانہ ایتر تہلیغہ تہ بلخ بیان کرنہ پتہ تہ بٹھ بھر و۔ اعراض کردہ  
چھونہ تھہ اندر کانہہ نقصان کیا زہ مہ واتو توہہ سو پیغام پس ہٹھہ بوسوزنہ آمت او س۔ امہ میانہ  
پیغام نہ مانہ سچ شامت بھرہ توہہ پانی توہہ کرہ اللہ تعالی تہ تہ برباد وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ توہہ  
بذل نہ میون پروردگار پس قوم اس تمنی گرہ ہٹھہ زمینس اندر آباد وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ہنہ چھوہ  
نہ تس کینہہ نقصان واتاوان بلکہ چھوہ پنہ نین پانن نقصان واتاوان إِنْ رَضِيَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ پز  
پاٹھ میون پروردگار چھوہ پرتھہ چیزس راجھہ کرہ ون۔ پرتھہ اکسند حال چھوہ تس معلوم وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا  
بَنِي نَاهُودَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا اودہ یلہ سون حکم تہنہہ عذابہ خیطرہ جاری سپد (تم گال  
اسہ ساری) نجات دیت اسہ حضرت ہودس بیہ تمن لوکن سموا ایمان اوس او ثمت تس سیت پنہ رحمتہ  
سیت وَيَخِينُهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ نجات دیت اسہ تمن مشکل عذابہ نعہ وَتِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ  
وَعَصَا يُرْسَلُ بیہ اوس قوم عادیمو انکار کور پنہ نس خدایہ سندین آیاتن بیہ کمر کہ تہندین پیغمبران  
ہنز نافرمانی وَأَتَّبِعُوا أَمْرًا كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ بیہ کر کہ پیروی سرکش تہ ضدی مخالفن ہندین حکمن ہنز  
تمیک نتیجہ درا کہ وَأَتَّبِعُوا قَوْمِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تمن کیہ پتے تھاونہ لعنت تھہ دنیا  
س لہر بیہ آیکھہ پتہ لعنت قیامت دوہ إِلَّا إِنْ عَادَ الْكٰفِرُوۡا رِجْمًا وارہ یوزو قوم عادن کور انکار پنہ نس

الْأَبْعَدُ الْعَادِ قَوْمٌ هُوْدِيٌّ ۖ وَالْإِلَى شَمُوْدٍ أَخَاهُمْ صَاحِبًا قَالَ يَقَوْمُ  
 عِبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ  
 وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ  
 مُّجِيبٌ ۖ ﴿٦١﴾ قَالَ الْوَالِیُّ صَاحِبًا قَدْ كُنْتَ فَبِنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَيْتُمُنَا  
 نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۖ ﴿٦٢﴾  
 قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَیِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَيْنِي مِنْهُ

پروردگار! اَلْأَبْعَدُ الْعَادِ قَوْمٌ هُوْدِيٌّ وارہ بوزو قوم عاد آؤور گرنہ خدایہ سیدہ رحمتہ نبیہ۔

وَالْإِلَى شَمُوْدٍ أَخَاهُمْ صَاحِبًا بیہ سوز اسہ قوم شمودس کن تھند یوی صاحب علیہ السلام قَالَ يَقَوْمُ عِبُدُوا  
 اللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ صاحب علیہ السلام دوپچھ ای میانہ قومہ عبادت تہ پرستش کمر و معبود برحقہ سنز  
 کانہ معبودا ہتھونہ توہہ تس ورا ی هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا تمسنز چھہ بڈ  
 مہربانی توہہ پیٹھ تم کمر وہ تمہہ بیدہ زمینہ کس مادس میوہ نبیہ۔ بیہ کمر نوہ اتھ ز مینس پیٹھ آبادر نگارنگ  
 نعوہ کر توہ عطا۔ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ بس معو مغفرت تس پنہ نین گنہن مہدہ خیطرہ شر کو کھرہ  
 خیطرہ توپتہ کمر و رجوع تس کن ایمان انتھ تہ پڑھہ کمر تھ توپتہ کمر و رزہ عملہ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ  
 بیشک میون پروردگار تھو کھہ بندن پنہ نین۔ اجابت کرہ ون۔ بندن مہدس مگنس قَالَ الْوَالِیُّ صَاحِبًا  
 كُنْتَ فَبِنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا دہنہ لگ تم ای صاحب لہ تحقیق اسہ آس سمہہ برو تھہ ژہ متعلق خبر کیاہ امید تھہ  
 ساری کوز تھہ ژیہ اولہ بدل أَتَيْتُمُنَا نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا کیاہ ژہ چھو کھہ اسہ منع کر ان تمن  
 معبودن پرستش کر نس تمن پرستش کر ان آی سان مال بڈ ب۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ  
 مُرِيبٌ اسہ چھو ضرور شک تہ خبہ تمیک پیٹھ کن ژہ اسہ نادوان چھو کھہ بس شک پریشان کرہ ون چھو  
 قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَیِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي صاحب علیہ السلام دوپچھ ای میانہ قومہ مہہ و نتو تہہ  
 ہر گاہ یو پنہ نس پروردگارہ سنزہ ہنہ دلیلہ پیٹھ قائم اسہ وَآتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّي وَاللَّهُ



رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ قَمَا تَزِيدُ وَوَنِي غَيْرُ  
تَحْسِيرٍ ﴿۶۳﴾ وَيَقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلُ فِي  
أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا سَوْءٌ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿۶۴﴾  
فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ  
مَكْدُوبٍ ﴿۶۵﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يُومِئذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿۶۶﴾

عَصَيْتُهُ بیہ آسمہ تم میری رحمت سے عطا کر مش۔ یعنی نبوت۔ تہ آسمہ ہر گاہ بو تہمز نا فرمانی کرہ تبلیغ نہ  
کرنہ سیت ادہ کہہ بیجہ مہ مد کمر تہ خدا پس نیشہ قَمَا تَزِيدُ وَوَنِي غَيْرُ تَحْسِيرٍ تہہ جھوہ نہ میانہ خیطرہ  
نقصانہ ورائی کانہہ چیز ہرہ راوان تہ زیادہ کران وَيَقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ای میانہ قومہ تہہ پس  
مُجْرہ ژہانڈان جھوہ، سُو جھو یکبار۔ بیہ جھہ خدایہ سنز وون تہہ خیطرہ میانہ صدا قس پیٹھ اکھ بوڈ  
نشانہ تہ دلیلاہ۔ اَسْمِد تہہ جھہ تومہ پیٹھ کبہنہ حق فَذُرُّوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا سَوْءٌ پس  
تراوون سو۔ کھیوان روزہ خدایہ سندس زمینس اندر گاسہ وغیرہ اس مہ لاگو تہہ تکلیف کبہ قصدہ ہر گاہ  
تومہ کینہہ تکلیف واتووہ تس فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ تلبہ رتہ تومہ بوڈ عذاب، سیتی فَعَقَرُوهَا  
پس باوجود اک ایڈ فہمائش کمر تہہ ماسنووون تہہ فَعَقَالَ پس دو کھہ صالح علیہ السلامن تَمَتَّعُوا فِي  
دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تلو متع زندگی ہند گرن پنہ نین منز روز تہہ۔ ترین دوہن۔ تمہ پتہ جھو تومہ تباہ  
گوئھن ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُوبٍ بیہ جھو وعدہ پس نہ اپز آسہ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا تریہ دوہ گدھنہ  
پتہ بلہ سون حکم عذابس متعلق جاری سپد نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يُومِئذٍ  
نجات دیت آسہ صالح علیہ السلامس بیہ تمہن لوکن تسمو ایمان اون تس سیت پنہ رحمتہ سیت تمہ عذابہ  
نیشہ بیہ تمہ وچہ رسوائی نیشہ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ پزپاٹ چوٹوی پروردگار جھو قوتہ وول غلبہ  
وول وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْحَوْا فِي دِيَارِهِمْ جُنُودًا تَم ظالم رٹ سخت کریجہ بوسہ جبریل

وَآخِذِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَيِّمًا ﴿٦٤﴾  
 كَانَ لَمْ يَغْتَوُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ تَشُوذَ أَكْفَرُوا وَارْتَبَهُمُ الْآبَعْدُ  
 لِشُؤْدَعٍ ﴿٦٥﴾ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا اسْلَمَا  
 قَالَ سَلْمٌ فَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ حَنِينٍ ﴿٦٦﴾ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ  
 لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا  
 أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٦٧﴾ وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا

ایمنہ سز کرکچہ آس۔ پس بٹھ کن دستھ پتھ گئے تم روزت۔ تیت صاف سپد سوشہر کَانَ لَمْ يَغْتَوُوا  
 فِيهَا زان نہ تم تھ شہر س منز بستی آس زانہہ الْآرَانَ تَشُوذَ أَكْفَرُوا وَارْتَبَهُمُ الْآبَعْدُ الْشُؤْدَعُ وارہ  
 بوڑو قوم شموڈن کور انکار پنہ نس پروردگار س وارہ بوزہ خدلیہ سندہ رحمتہ نیشہ سپد سیٹھاہ دور قوم شموڈ۔  
 بوزت رفو عبرت ای بوزن والیو خدلیہ سزہ نافرمانی ہند نتیجہ کیاہ چھو آسان وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلَنَا  
 إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا اسْلَمَا قَالَ سَلْمٌ بیہ آی پزپاٹھ سان سوزنہ آمت ملایک انسان صورتس اندر  
 ابراہیم علیہ السلامس نیشہ فرزند اسماعیل علیہ السلامہ سز خوشخبر ہیتھ۔ تمبو کمر ابراہیم علیہ السلامس  
 سلام۔ تمبو نہ کمر کہ تورہ سلام۔ تمن گو خیال پنوہ آئے فَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَ بِعَجَلٍ حَنِينٍ توپتہ  
 ژیرتہ تار کرنہ درای آی تمن نیشہ وژہہ سند بڑمت ماز ہیتھ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِمْ وَجھہ  
 تمبو نہ ہتھ نہ دھانی تھہ کن (تم نہ مازانی مازس کن) نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً دوپرتہ غیر زان  
 لگ تمن زانہہ بیہ لگ دلہ سی اندر نہند خطرہ محسوس کرنہ۔ خبر کمرہ غرضہ چھہ تم آمت۔ کیا زہ تمہ  
 وقتہ بیس شخص کانسہ ہندہ تکلیفہ کہ قصدہ یوان اوس سواوس نہ تہندہ گرہ کینہہ کھوان چوان۔ تمبو ملایکو  
 ژئون نہند کھوژن قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ڈیہس آس ہز چھہ ملک آس چھہ آمت  
 سوزنہ قوم لوطس کن تمن سزای کفر و نافرمانی دنہ خیطرہ وَأَمْرَاتُهُ قَائِمَةٌ ہنز آشین حضرت سارہ آس  
 وودنہ پڑھین ہنز پڑھہ لازمی کرنہ خیطرہ۔ تمبو ملیہ پڑھین ہندہ نہ کینک حال وچھہ بیہ قوم لوطسہ گلخبر

يَا سُوْحَقَّ وَمِنْ وَّرَاءِ اسْحَقَ يَعْقُوْبٌ ﴿٤١﴾ قَالَتْ يُوَيْلَيُّ اءَا اِلْدُ  
 وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهَذَا اَبْعَلِيْ شَيْخًا اِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجِيْبٌ ﴿٤٢﴾  
 قَالُوْا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحِمْتُ اللّٰهَ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ  
 الْبَيْتِ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرُّوْعُ  
 وَجَاءَتْهُ الْبَشْرٰى يُجَادِلُنَا فِى قَوْمِ لُوْطٍ ﴿٤٤﴾ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ  
 لَحَلِيْمٌ وَّاَوَاةٌ مُّنِيْبٌ ﴿٤٥﴾ يَا اِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهٗ قَدْ

بوز سنو کئیہ خوش فضحکت خوش گروہتہ لُجِ اسنہ فبشر نھا یا اسحق ومن وراہ اسحق یعقوب بس  
 وین اسہ تس بشارت سمعی ملکن ہمدہ ذریعہ فرزندہ سنز۔ نس الخن ناو آوتھاونہ۔ بیہ اسحاق پتہ  
 تسدس فرزندہ سنز بشارت نس یعقوب ناو آوتھاونہ قالت یویلی اءا ایلد وانا عجووز وھذا ابعلی  
 شیخا سنو لُجِ وندہ کیاہ گدر یوم۔ بوی چھس وون بدھمو۔ وون پر سابو بیجھ مجر س منز۔ بیہ چھویہ  
 میون خاندنہ بدھ۔ انا ہذا الشئی عجیب و واقعی اسہ دون بدن نعرہ اولاد سپیدہ پُدن چھو عجیب  
 کتھاہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اهل البیت تمو ملکو ذوب کیاہ نمہ  
 چھوہ خدایہ سدس کھس نسبت تعجب کران خاندان ہوئس منز روز تھ۔ بیہ چھا تھمدہ قدرتہ نعرہ  
 دور کینہہ۔ خصوصاً چھ نمندس خاندانس بیٹھ خدایہ سنز رحمت تہ برکت نازل۔ ای ابراہیمہ سند یواہل  
 بیو انا حمید و مجید پز پانٹھ اللہ تعالیٰ چھو حمد دینہ آمت، سیٹھاہ بزرگ۔ لہذا بجائے تعجب کمر و تھنز  
 تعریف تہ حمد و ثابیان فلما ذہب عن ابراہیم الروع اده یلہ حضرت ابراہیمس نعرہ خوف دور  
 سپدن ہمدہ وندہ سیت و جاءتہ البشری بیہ بوز تمو خوشخبر فرزندہ سنز مجادلنا فی قوم لوط  
 تم لگ بحث کرہ لمرہ سیت قوم لو طس متعلق۔ تمن سپدن قوم لو طک ہلاک پدن ناگوار انا ابراہیم  
 حلیم و اواة منیب پز پانٹھ ابراہیم علیہ السلام چھو حلیم الطبع، نرم دل، رجوع کرہ وون خدا نس گن  
 یا ابراہیم اعرض عن هذا اسہ فرموئس ای ابراہیم لمرہ خیالہ نعرہ پھیر و انا قد جاء امر ربک

جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿۶۱﴾ وَلَمَّا  
 جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِمًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا  
 يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿۶۲﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ  
 كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَتَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ  
 لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ  
 رَشِيدٌ ﴿۶۳﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقِّ

بہن پانچ تھندس بدوردگارہ مند حکم دوت قریب وَإِنَّهُمْ لَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ بیشک تم ن پٹی  
 و جھواریہ و ن سوعذاب پس نہ دور کر نہ ایہ و لَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِمًا بِهِمْ تو پتہ یلہ سان فرستادہ  
 ملائک وات حضرت لوطس نفعہ نہایت خوبصورت لو کئین ہنزہ شکلہ۔ آزرده سپد تم تہمدہ ینہ سیت کیا زہ  
 تم آس حسین نوجوان ہندس صورتس اندر حضرت لوطس گو خیال ہم ماچھ انسان پنہ قوی خراب  
 ذہنیت نامعقول حرکت خیال کر تھ سپد مغموم منھکر وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا تمی سبہ سپد دل تنگ تہمدہ  
 ینہ سیت وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ تم لگ ونہ از جھو سختی ہند دوه وَجَاءَهُ قَوْمُهُ تمہ پتہ آی  
 تہمدہ قومک بد معاش لو کہ یمن خوبصورت لو کئین ہند لوز تھ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ دوران دوران تم ن نفعہ  
 وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ تم آسن برو تھ پٹی پچھ کامہ کرن قَالَ يَتَقَوْمِ لوط علیہ  
 السلامن دو کچھ اکی قوم هَؤُلَاءِ بَنَاتِي بچے جھوہ سمہ میانہ کورہ (یعنی میانہ اچھے کورہ) یمہ تہمدین گھرن  
 اندر جھہ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ سمہ جھوہ پشپاک تہمدہ خیطرہ تم ممان لو کئین ہندہ خوتہ فَاتَّقُوا اللَّهَ  
 پس کھو ژو خدا پس وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي مہ مہ مندہ چھا و پڑھین منز اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ  
 افسوس تہ تجب جھو کیاہ توہہ منزہ جھنا اکھ زون تہ گائل تہ سجھد اریس یہ کتھ فجرہ ترہ ہا پس بین تہ  
 فجرہ تارہ ہا قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقِّ تمود دو یکھ توہہ جھہ خبری امہ جھنہ تہنزن  
 تم ن قومی کورین ہنز کتھی ضرورت کیا زہ امہ جھونہ زمانن ان ر غبتی وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُنَّ مَا تَبَدَّلْنَ بِهِ جھو

وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿۵۹﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ  
 أَوْىٌّ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿۶۰﴾ قَالُوا يَلُوْطُ إِنَّهُ سُرٌّ رَّبِّكَ  
 لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرَبْنَا بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْبَيْلِ وَلَا  
 يَلْقَىٰ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا أَمْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ  
 إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿۶۱﴾

توہم معلومی کہ سون مقصد کیا ہے چھو اس کمہ خیرہ ہجہ یور آمتِ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ لَوَطُ عَلِيهِ  
 السلامن دو پکھ مجبور سپد تھ ای کاش ہر گاہ مہ تہ توہم سیت مقابلہ کرنک طاقت آسہا تہند شر کر ہا پوائے  
 دفع مگر ٹوٹوئی زون کیا ہجہ کر تھ آو اویؑ الی رُكْنٍ شَدِيدٍ تہ سمہ ہا پوئہ محکم دیوارہ کس  
 چنہس تل۔ مُرَاد چھو امہ اندرہ کانہ قبیلہ آسہامہ سم مہ مد کرہ بن۔ اوتان ہجہ سم ملک لوتہ پاٹھ  
 بہتہ تہند حال و چھان سمویلہ و چھ لوط علیہ السلام سخت پریشان سپدان قَالُوا يَلُوْطُ إِنَّهُ سُرٌّ رَّبِّكَ لَنْ  
 يَصِلُوا إِلَيْكَ تہو ملکو دو پکھ ای لوط غم مہ برو کینہہ۔ اَسْرَبْنَا بِأَهْلِكَ تہہ تہندس پروردگارہ سندہ  
 طرفہ سوزنہ آمتِ ملک آسہ تہن نہ سم کینہہ تہ کر تھ بلکہ تہن نہ سم توہم تہ چھہ تہہ کانہ تکلیف واتنا  
 وتھ۔ اَسْرَبْنَا بِأَهْلِكَ تہہ تہن پیٹھ عذاب نازل کرنہ آمتِ فَأَسْرَبْنَا بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْبَيْلِ وَلَا يَلْقَىٰ مِنْكُمْ  
 أَحَدًا إِلَّا أَمْرَاتَكَ تہس نیرو رات گیتِ رات تہندس تہہ حصص اندر پن عیال ہتھ۔ تہتہ توہم اندرہ  
 کانہ پتھ تہن نظر دیہ۔ مگر نہ تہنز آشن سو گدھہ نہ پانس سیتِ تہن کینہہ کیا زہ سو چھہ مسلمان۔ بلکہ اَسْرَبْنَا  
 سواہندس گرس منز رو ز تھ جاسوسی کران إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ پز پائٹ تہس چھو واتہ ون سُو  
 عذاب تہس بین لوکن واتہ ون چھو إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ تہہ چھو تہن عذاب واتک وقت صبحس تہی  
 ہجہ اَسْرَبْنَا تہن توہم کالہ کالہ نیر و سمہ شہرہ منزہ لوط علیہ السلام آس توت پریشان سپد متِ تہو دو پکھ  
 صبحس تان پیارنج کیاہ ضرورت چھہ کالہ کالہ گایو کہ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ملا یکو دو پکھ صبح  
 چھہ نازدیک۔ لوط علیہ السلام درای رات کیو توئی امہ شہرہ نغہ دور اَسْرَبْنَا تہہ فَاَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا  
 حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مِّنْ مَّنْضُودٍ ﴿۸۶﴾ مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَ  
 مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿۸۷﴾ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا  
 قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا  
 تَنْقُصُوا الْبَيْكِيَالَ وَالْيَزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي  
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿۸۸﴾ وَيَقَوْمِ أَوفُوا  
 الْبَيْكِيَالَ وَالْيَزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

عَلَيْهَا سَافِلَهَا پس یلہ سون حٹم جاری سید تہندس عذابس متعلق آسہ کورتھ شہرس تلک پیٹھ  
 تمیک ہیرم طرف کور بون گن۔ بونیوم طرف کور ہور گن وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ  
 مِّنْ مَّنْضُودٍ \* مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ بیہ کور آسہ تمن پیٹھ کنہ زود سمہ کنہ کھنگر آسہ پوتس ہتھ۔ تھے کنہ آسہ  
 چانس خدائس نشہ علامت تہ نشانہ تھاونہ آسہ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ تم شہر چھہ تن ظالمین  
 مکہ کین کافرین ہندیوشہر وغیرہ کینہہ دور وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا بیہ سوزاسہ شہر مدین کین کوکن  
 گن بوی تہند شعیب علیہ السلام قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ تمودو کچھ ای  
 میانہ قومہ بندگی کرو گئس خدائس توہہ چھونہ تس وراکی کانہہ معبود وَلَا تَنْقُصُوا الْبَيْكِيَالَ وَالْيَزَانَ  
 بیہ مہ چھہنہ راوومین بانہ بیہ تر کر۔ میان آسو پور، تولان آسو پور إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ مہ چھہنہ  
 بوزنہ یوان رتس حاکس منز مالکہ اعتبارہ لہذا گس چیز چھو توہہ آمادہ کران کوکن چھون دس پیٹھ وَإِنِّي  
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ مہ چھو تہندہ حقہ خطرہ باسان تمہہ دہیہ عذابک بس دوہ بے شمار  
 عذابن احاطہ کرتھ یایس دوہ اولینن تہ آخرین احاطہ کرتھ آسہ وَيَقَوْمِ أَوفُوا الْبَيْكِيَالَ وَالْيَزَانَ  
 بِالْقِسْطِ ای میانہ قومہ بیہ آسو میان پور تولان تہ پور عدل وانصافہ سان وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝ قَالُوا اإِشْعَبُ أَصْلُوتِكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَأَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ ۝ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُمْ

بہ مہ آسولو کن ہندین چیزن اندر کی تہ نقصان کران وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بہ مہ تلو ز میمنس منز شر کہ سیت تہ بد دیا نئی سیت فساد بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ پور میتھ، پور توتھ پس خدایہ سندر زق توبہ پتھ کن روزہ سو پھو تہ ہدہ خیطرہ سمہ کماہہ خونہ سیٹھاہ بہتر۔ کیا زہ حرامس منز اگر چہ زیادہ آسٹن، برکت پھنہ بہ پھو انجام نمیک نار جنم۔ حلال اگر کی آسہ تھہ منز پھہ برکت انجام نمیک پھو رضای الہی تہ جنت۔ ہر گاہ توبہ سمہ تھہ ہند یقین پھو تملہ مانو وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ پو پھوس نہ تہند شکر در بور و زودہ را جہہ پر تھہ وقتہ۔ پو پھوس پیغمبر توبہ نیم کرہ ون قَالُوا اإِشْعَبُ أَصْلُوتِكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا تھو دوپ بہ سو روی و عظ و نصیحت بو ز تھہ ای شعیب کیاہ توبہ پھو پان یہ وہی تقدس پنن نماز آس کیا تراؤ و تمین چیزن ہنز پر ستش کرن تمین چیزن سان مال ہڈبب پر ستش کران آی اَوَ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ بہ کیا تراؤ و آس پنہ نس مأس اندر پنہ خواہنہ موجب تصرف کرن اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ بیشک توبہ پھو ہڈ معتبر پتھہ گاہ جار چہ تھہ کران (یہ دو پھہ ٹھہہ پاتھہ) قَالَ يَقَوْمِ فر موو کہ ای میانہ تومہ آرہ یقون ان کنت علی بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا تہہ ونومہ ہر گاہ پو پنہ نس خدایہ سندہ طرفہ منہ دلیلہ پیٹھہ قائم آسہ سمہ سیت توحید و عدل ثابت پھو۔ بہ آسہ مہ تم پنہ طرفہ اکہ بہترین دولتاہ عطا کر مثر یعنی نبوت۔ سمہ سیت مہ تبلیغ کرن واجب پھو۔ لہذا تھہ پاتھہ تراوہہ بو تبلیغ کرن وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ





بِعَزِيْزٍ ۹۱) قَالَ يَقَوْمِ اَرَهِيْطِيْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ  
 اتَّخَذْتُمُوْهُ وِرَآءَكُمْ ظَهْرِيًّا اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۹۲  
 وَيَقَوْمِ اَعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ سَوْفَ تَعْمَلُوْنَ لٰ  
 مِنْ يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَاذْتَقِبُوْا اِنِّيْ  
 مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۹۳) وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ  
 اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةَ ۹۴

چھو کہ ژہ اسمہ بوزنہ یوان اسمہ اندر سیٹھا پست کمزور وَاَوْلَادَهُظُّكَ لَرَجِّنٰكَ ہر گاہ لے چاہے  
 خاندانک سے قبیلک پاس آسے تم سان ہم مذہب چھہ اس کرہ ہوت ژہ عنہ کنہ (یعنی سنگار) وَاٰتٰت  
 عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ بیہ چھو کہ نہ ژہ اسمہ نشہ عنہ قسمہ قابلِ عزت سے قَالَ يَقَوْمِ اَرَهِيْطِيْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ  
 اللّٰهِ شعیب علیہ السلامن دوکچہ ای میانیہ قومہ افسوس کیاہ میون قبیلہ چھا توہمہ نش خدلیہ سندہ خوتہ  
 زیادے قابلِ عزت۔ مہ چھہ پنہ نس پانس نسبت کر مژ خد ائس کن وَاَتَّخَذْتُمُوْهُ وِرَآءَكُمْ ظَهْرِيًّا کیاہ  
 اللہ تعالیٰ چھو ونہ توہمہ تروومت تھر چھہ کئی تسمند چھنا توہمہ کانہہ خیالہہ لہہ لہا ظاہہ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ  
 مُحِيْطٌ ہوش کرو میون پروردگار چھو یقیناً ٹھنزن سارنی کھن احاطہ کر تھہ وَيَقَوْمِ اَعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ  
 اِنِّيْ عَامِلٌ ای میانیہ قومہ ٹھہہ سے روزوپنہہ جایہ کوم کران۔ بوتہ چھوس پنہہ جایہ کوم کران  
 سَوْفَ تَعْمَلُوْنَ مَنْ يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ بروٹھہ پن زانوٹھہ کہ کہہہ شخص آسہ سو  
 ئس خوار سے ذلیل کرہ ون عذاب ولتہ۔ بیہ کہہہ شخص آسہ لہزون ون وَاذْتَقِبُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ پیارو  
 ٹھہ بوتہ چھوس توہی سیت پیاران وَاَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اده  
 یلہ سون حکم تھندس عذابس متعلق جاری سپد نجات دیوت حضرت شعیبس بیہ تمنی سیت ایمان انہ  
 ونین پنہہ رحمتہ سیت وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةَ ظالم سے نافرمان رٹ جبریل اینہ سزہ کئی  
 کر یکہ فَاصْبِرْ اِنِّيْ دِيَارِهِمْ حِيْمِيْن پس لے تم پنہہ نین گرن اندر تھہ کن دستھہ توہ پتہ مود کان

فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَمِينَ ﴿۹۷﴾ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا إِلَّا  
بُعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ ﴿۹۸﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى  
بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴿۹۹﴾ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  
فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿۱۰۰﴾  
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ  
الْمُورُودُ ﴿۱۰۱﴾ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ  
الرِّقْدُ الْمَرْفُودُ ﴿۱۰۲﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقَّصْنَاهُ عَلَيْكَ مِنْهَا

لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا زَن نہ تم من جانن اندر بسانی زانہ آسِ الْآ بُعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعَدَتْ ثَمُودُ وارہ  
بُودو تہ عبرت رثو شہر مدینک لُوکھ تہ گئے خدایہ سزہ رحمتہ نشہ دور تھے پانھ پانھ قوم ثمود گئے۔  
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ \* إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِم ۖ بِہ سُو اِسہ پڑ پانھ  
حضرت موسیٰ پنن آیات تہ روشن دلیلہ ہیتھ فرعونس تہ جہدہ قومہ کین ز ثمن کن نئس نہ مون فرعون  
تہ تمسندہ قومہ کیوز ٹھیو فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ نئس پک تم تہ فرعونہ سزای رلیہ موجب موسیٰ علیہ  
السلامہ سندہ حقہ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ حالانکہ آس نہ فرعونہ سزای صحیح کینہہ تہ یَقْدُمُ  
قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بروئھ بروئھ آسہ پکان فرعون پنہ نئس قومس قیامتک دودہ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ نئس  
والیکھ نار جہنم اندر وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمُرُودُ سیتھاہ بچھ وئخ جایاہ جھ نار جہنم۔ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً  
قَوْمِ الْقِيَامَةِ دُنیا س منز تہ روز تم ن لعنت پئے ہیہ روز کیک پئے قیامتک دودہ تہ۔ تہ سپد غرق آہس تہ  
پین نار جہنم اندر بِئْسَ الرِّقْدُ الْمَرْفُودُ بچھ اعلاہ ہتھو نئس انعام تم ن آودنہ یعنی لعنت فی  
الدارین ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقَّصْنَاهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ تمہہ بچھ بعضی خبرہ تباہ کیمتین شہرن  
ہنزہ۔ سمہ آس توہ و نان جھ۔ تموشہرہ و آندرہ جھہ کینہہ شہر و نہ تہ موجود۔ بعضی جھہ مولہ مؤخر ختم گھمت

قَائِمٌ وَحَصِيدٌ<sup>۱۰۰</sup> وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا  
 آغَذْتُمْ عَنْهُمْ إِلَهَهُمْ الَّذِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ  
 شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ<sup>۱۰۱</sup> وَكَذَلِكَ  
 أَخَذْنَا مِنَ الْقُرَآئِ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذْنَا أَلِيمٌ  
 شَدِيدٌ<sup>۱۰۲</sup> إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ط  
 ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ<sup>۱۰۳</sup> وَمَا  
 نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُعَدُودٍ<sup>۱۰۴</sup> يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا

وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ اسے کورنہ تمین کا نہ ظلم بلکہ کور تمویان پانس ظلم سان نافرمانی  
 کرنہ سیت فَمَا آغَذْتُمْ عَنْهُمْ إِلَهَهُمْ الَّذِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ہس ہیوک نہ کانہ  
 فاندہ واتاوتھ تمین تہمد یو تمومعبدوو تمین تم پرستش کران آس معبود برحقس وراى۔ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ  
 رَبِّكَ یلہ چانس ہروردگارہ سند حکم جاری سپد تہمدہ عذابہ خیطرہ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ بیہ ہیوک نہ  
 تمویتم کینہتہ ہرہ راوتھ تہ زیادہ کرتھ تہ تاولنہ تہ نقصانہ وراى وَكَذَلِكَ أَخَذْنَا مِنَ الْقُرَآئِ  
 وَهِيَ ظَالِمَةٌ بیٹھہ پانٹھ کیا چھو آسان چانس پروردگارہ سند رشن تہ گرفتار کرن۔ یلہ سوعنہ شہرہ کین  
 لوکن تہمدہ ظلمہ تہ کفرہ سبہ رتان چھو۔ إِنَّ أَخَذْنَا أَلِيمٌ شَدِيدٌ پزپانٹھ تہمد رشن چھو سیٹھاہ  
 کڈرتہ سخت آسان إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ پزپانٹھ تہمتہ منز چھو عبرت تمین  
 لوکن ہمدہ خیطرہ ہم کھوژان ہمدہ آخرتہ کس عذابس ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ سو آخرتک دوہ گو  
 سوئ سمدہ دوہنہ سو نبر نہ بین ساری لوکھ۔ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ سو دوہ گو سوئ سمدہ دوہنہ ساری  
 مخلوقات سن حاضر کرنہ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُعَدُودٍ آس چھنہ تہمتہ منز تاخیر کران مگر اکہ گزرنہ  
 آمتہ مدتہ خیطرہ (یعنی تمکھ انک تھوقت مقرر کرنہ آمت سو یوتان نہ واتہ توتان قیامت ایہ نہ





أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۱۳۷﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُكُوعًا  
 مِنَ الْبَيْتِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي  
 لِلذَّكِرِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۹﴾ فَلَوْلَا  
 كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَتَهُونَ عَنْ  
 الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ  
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرُوا فَأِيَهُ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَمَا

رَبِّهِ تَوْبَهُ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ بے آسہ نہ توبہ خدا کیس وراى کا نہہ رفاقت  
 کرہ وناہ دوستاہ **ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ** توبہ الیوہ نہ توبہ مد کر نہ **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُكُوعًا** مین  
 البیل بے تھا ووبرپا نماز شہ یارسول اللہ دوہہ کین دون طرفن اندر۔ یعنی صبح پیشن تہ دگر۔ بے راٹھ ہندس  
 اہس حصص اندر۔ سو گوشام تہ **حَسَن**۔ سمہ بے پانزہ نمازہ پورہ **إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ** ہز پانٹھ  
 نیک کامہ جٹھ گالان بدین تہ بچھ کا مین **ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكِرِينَ** بے تھ کہ نیکوسیت جٹھ گناہ معاف  
 سپدان جٹھ بذ نصیحت، نصیحت ربہ و نین، مانہ و نین ہندہ خیطرہ **وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ**  
**الْمُحْسِنِينَ** مخرن ہندہ طرفہ اہس معاملہ پیش یوان جٹھ تھہ پوٹھ کمر و صبر۔ لوکن ہندس تکلیفیں پوٹھ  
 یا نمازہ ہندس قائم تھا و نس پوٹھ۔ اہس اللہ تعالیٰ جٹھ نہ ہرگز ضائع کران نیکو کارن ہنز مزور **فَلَوْلَا**  
**كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ** پس کونہ آس تمہہ لو کو آندہ ہم توبہ بروٹھ آس **أُولُوا بَقِيَّةَ** صاحب  
 شعور جماعتھاہ **يَتَهُونَ عَنْ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ** ہم منع آسن کران زمینس منز شرک و گھرہ سیت  
 فساد تہ تباہی کرنہ نعہہ **إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ** مگر ہم کینہہ لوک آسن ہم آسہ نمو عذاب کرنہ  
 آیتو آندہ بچاومت آس۔ تمو جٹھ پانٹھ پانہ کفر و شرک کہ نشہ توبہ گورتھہ پانٹھ آس مین تہ کفر و شرک کہ نشہ  
 منع کران **وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرُوا فَأِيَهُ** ظالم تہ نا فرمان لوکھ رود عیش و آرام کس حالس پئے۔  
**وَكَانُوا مُجْرِمِينَ** بے آس ہم گنہگار نا فرمان جرایم ہند خوگر **وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ**

كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصِلِحُونَ ﴿۱۵﴾  
 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ  
 مُخْتَلِفِينَ ﴿۱۶﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ  
 رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۷﴾ وَكَلَّا  
 نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَنْتَبِهْتُ بِهِ فُوَادَكَ وَجَاءَكَ  
 فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۸﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا

الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصِلِحُونَ یہ جھوٹے تہند پروردگار سوا کی گالہ عنہ شہرہ کین لو کن ظلم کرتے ہیں تمہ شہرک لو کہ آسن اصلاح کرہ ون۔ بین لو کن تبلیغ و دعوت و دعوت و دعوت و لو شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ہر گئے بڑھے ہاتھ پروردگار سوا کرہ ہاضر و ساری لو کن سنی (جماعت بعض جتن سُن نظر کر تھہ یو نہ تم تہ بلکہ بناوین واریاہ جماژ سمو اختلاف کور وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ یہ روزن تم ہمیشہ اختلاف گرہ ون إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ مگر کرن نہ اختلاف دین حس اندر تم تم یٹھے تہند پروردگار فضل تہ رحم کرہ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ امی خیطرہ تھن کر مت پیدہ۔ یعنی اختلاف کرن وال اختلاف خیطرہ۔ رحمتہ وال رحمتہ خیطرہ۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ یہ جھوٹو سپد مت چانس پروردگارہ سند یہ لحم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ ضرور کرن لو پد نار جنم، جوتہ انسانوسیت امہ و نہ وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ یہ جھہ اس تم ساری قصہ، حضرات انبیاءن ہندیو قصو اندرہ توہہ بیان کران مَا نَنْتَبِهْتُ بِهِ فُوَادَكَ تھے قصہ سمو سیت اس تہند دل مضبوط کران چھہ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ واژ توہہ نعرہ اتھ منز پر تھہ۔ یہ جھو اتھ منز بوڈ و عظ بد نصیحت تہ یاد دہانی با ایمان ہندہ خیطرہ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَاظِمُونَ یہ و نو تم لو کن تم نہ باوجود قطعی دلیلہ تم نعرہ و اسحہ ایمان اتان چھہ۔ ای لو کو کران گڑھو تھہ کوم پندہ جایہ۔ اس تہ جھہ کوم کران پندہ جایہ وَأَنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ یہ بیارو تھہ پندہ نین اعمالن ہندس

يَوْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلٰى مَا كَانَتْكُمْ اٰنَا عٰمِلُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَاَنْتَظِرُوا اِنَّا  
 مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَاللّٰهُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ  
 كُلُّهُ فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَاٰرَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۳﴾

نیجس اَس تہ چھہ بیاران پنہ نین اعمان ہندس نیجس عنقریب نہ پوز کیاہ چھو تہ لہز کیاہ چھو وَاللّٰهُ غَيْبُ  
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ بیہ چھو خدایہ سی معلوم تہ سوروی بیہ  
 آسمان تہ زمین اندر پو شیدہ چھو۔ تِسْ كُنْ يٰنِ وَاِتَاوَنَه ساری معاملات پس کرو تہنزی یا تہ عبادت تہ  
 بندگی۔ بیہ کرو تِس پٹھہ توکل تہ اعتماد وَاٰرَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بیہ چھونہ چون پروردگار بے خبر  
 تمو کا میونشیہ تہ سمہ تہہ کران چھوہ۔







بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
 الرَّحْمٰتِكَ اٰیَةُ الْكِتٰبِ الْبَیِّنِ ۝۱ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِیًّا  
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝۲ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصِصِ بِمَا  
 اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْءَانَ ۝۳ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ  
 الْغٰفِلِیْنَ ۝۴ اِذْ قَالَ یُوسُفُ لِاَبِیْهِ یَا اَبَتِ اِنِّیْ رَاۤیْتُ اَحَدَ  
 عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَّ الْقَمَرَ رَاۤیْتُهُمْ لِیْ سٰجِدِیْنَ ۝۵  
 قَالَ یٰ بُنَیَّ لَا تَقْصُصْ رُءُیَاكَ عَلٰی اِخْوَتِكَ فِی كَیْدٍ وَّ اَلْكَ

الر امیک معنی چھو خدیہ سی معلوم تِلْكَ اٰیَةُ الْكِتٰبِ الْبَیِّنِ بے چھہ سم آیت اسمہ واضح تہ صاف کتابہ ہند اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِیًّا پڑ پانچھ اسمہ کرنازل سو کتاب قرآن مجید عربی پانچھ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ بیٹھ تہہ گوڈہ ای مکہ کیو لو کو فخرہ ترہہ تہدہ واسطہ ترہہ فخرہ بین لو کن تہہ۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصِصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْءَانَ اس گرو بیان توہمہ یار رسول اللہ قصو اندرہ بہتر قصاہ۔ سمہ ذریعہ اسمہ سوز توہمہ گن یہ قرآن مجید یعنی بذریعہ وحی وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغٰفِلِیْنَ آسودہ تہہ سانہ بیان کرنے برو تھہ اسمہ بشرہ بالکل بے خبر کیا زہ نہ اوسوہ پور مت کینہ نہ اوسوہ کانہہ بشرہ بوزمت کینہہ۔ نہ اوس لو کن بشرہ سمہ طریقہ صحتہ سان یہ قصہ مشہور اِذْ قَالَ یُوسُفُ لِاَبِیْهِ یَا اَبَتِ سُو وقت چھو قابل ذکر یلہ حضرت یوسفن ہائس پنہ نئس وون بابہ صیباہمہ حض وچھہ خواب اِنِّیْ رَاۤیْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَّ الْقَمَرَ رَاۤیْتُهُمْ لِیْ سٰجِدِیْنَ مہ حض وچھہ خوابس اندر کاہ تازک یہ آفتاب تہ زون۔ سم ساری و مہم مہ سجدہ ووان قَالَ یٰ بُنَیَّ تمو فر مووس جواب ای

كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ  
يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُمَتِّعُنَا  
عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَتْهَا عَلَىٰ أَبِيكَ مِنْ قَبْلُ  
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحٰقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ  
وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلْمُتَلَبِّينَ ۝ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ

میانِ گوبره لَانْقَضُ ذِيَالِكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ یہ خواب باوزہ نہ بائیں نشہ۔ تم آس کاہ (۱۱) بای حضرت  
یوسف ورا۔ (۱۰) واہ آس اکس ماجہ اٹھ۔ زہ ۲ آس حضرت یوسف تہ بنیامین میں ماجہ اٹھ  
فَیُکَيِّدُوكِ كَيْدًا تمن پیہ نہ یہ خوش کینہہ تہ۔ بس کرن تم چاہنہ تکلیف تہ اذواتاوانہ خیطرہ  
خاص تدبیر شیطانہ سدہ وسوسہ سیت۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ہنز پاش شیطان جھو  
انسانہ سندن دشمن وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ یہ خواب ژہ  
وجھتہ تہ ایہ بعمل۔ پیہ کری ژہ ہن پروردگار منتخب نبوتہ خیطرہ ہرگزیدہ پنہ نیو مہر بانوسیت۔ پیہ چھہ  
ناوی ژہ خوانن ہمدہ تعبیر ک علم وَیُمَتِّعُنَا عَلَیْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ پیہ کرہ سوبور ہن نعمت ژہ پیٹہ۔  
پیہ حضرت یعقوبہ سندس خاندانس پیٹہ۔ کَمَا أَتَتْهَا عَلَىٰ أَبِيكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحٰقَ  
پاٹھ تم پورہ کرن ہن نعمت چانس ہڈیس تہ ہڈہ ہڈیس پیٹہ۔ یعنی حضرت ابراہیمس تہ حضرت اسحٰقس پیٹہ  
إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ہنز پاٹھ چون پروردگار جھو سیٹھاہ علمہ وول تہ حمتہ وول۔ پر پیٹہ اکس جھو  
مناسب فیض عطا کران لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلْمُتَلَبِّينَ تھنن حضرت یوسف پیہ جہندن  
بائیں ہمدس قصص منز جھہ ہڈہ نشانہ خدایہ سندہ قدر تک۔ پیہ جہندہ نبوتک۔ یارسول اللہ تمن لوکن  
ہمدہ خیطرہ تم توہمہ سمہ قسک پر ژھان جھہ۔ کیاژہ حضرت یوسف اٹھ بیکسی اندر سلطنت تہ  
تھو دمر تہ عطا سپدن جھہ خدایہ سنزی کوم۔ امہ سیت سپدہ مسلمان ہڈ عبرت حاصل۔ پیہ قوت  
ایمان إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبْنَانَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ پیہ تھہ جھہ قابل ذکر یلمہ تمو

إِلَىٰ آيِنَامِنَّا وَخَنُّ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۸﴾  
 اِقْتُلُوا يُوْسُفَ اَوْ اَطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ اَبِيكُمْ وَ  
 تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ﴿۹﴾ قَالَ قٰبِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا  
 يُوْسُفَ وَ الْقُوَّةَ فِيْ غَيْبَتِ الْجَبِّ يَلْتَقِطُهٗ بَعْضُ السَّيٰرَةِ  
 اِنْ كُنْتُمْ فَعٰلِيْنَ ﴿۱۰﴾ قَالُوْا يَا اَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ  
 وَاِنَّا لَنَصْحُوْنَ ﴿۱۱﴾ اَرْسَلَهٗ مَعَنَا غَدًا اَيَّرْتَع وَيَلْعَبُ وَاِنَّا

دوره با یوا کھ دوہہ پانہ وان دوپ۔ اہلۃ یوسف تہ تہند حقیقی بوی بنیامین چھو زیادہ ٹوٹھ سانس بابہ  
 صینس سانہ خونہ حالکھ اس چھہ واریاہ بای۔ اکھ جماعت تم چھہ زہ بای۔ حالکھ تم زہ چھہ کم کن تہ  
 لوکت۔ کم سنی موکھ یں نہ تہندہ اتھہ تمہہ کامہ سوخذ مت یوسہ سان کن ایہ۔ اس چھہ اکھ بڈ جماعت۔  
 سون گوڑھہ تم ن زیادہ محبت اسن اِن اَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ بیشک سون بابہ صیب چھونہ غلطی  
 پیٹھ اِقْتُلُوا يُوْسُفَ اَوْ اَطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ اَبِيكُمْ صلاح چھو یوسف ماریون یاتراویون  
 ڈورنہ جلیہ۔ ادہ روزہ بابہ صین رخ توہی کن موکل۔ تہند توجہ سپدہ پور توہی کن وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ  
 قَوْمًا صٰلِحِيْنَ تمی پتہ سپدہ تہنز کوم ڈرست قَالَ قٰبِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ تمونزہ دوتھہ اکھ  
 ونن وولاہ۔ تم دوچھہ یوسف مہہ ماریون۔ قتل تہ مازن چھوننا مناسب۔ وَالْقُوَّةَ فِيْ غَيْبَتِ الْجَبِّ  
 يَلْتَقِطُهٗ بَعْضُ السَّيٰرَةِ اِنْ كُنْتُمْ فَعٰلِيْنَ بلکہ تراویون سوئنے کیر چہ پو شیدہ جلیہ منز۔ تھہ تمس  
 کانہہ قافلہ تمہہ منزہ کھارت پانس سیت بہرے شہرس منز و اتاواہ۔ ہر گاہ توہہ یہ کوم کرن چھوہ  
 میانہ مشورہ تلہ کمر ویتھہ پاتھ۔ ساری سپد اتھہ کتھ پیٹھ مضق۔ چنانچہ اکھ وٹہ گئے حضرت یعقوب  
 نثہ قَالُوْا يَا اَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ نہنہ لگ ای سانہ بابہ صیبہ اسہ پٹھہ کونہ ہز چھوہ تہہ  
 اعتبار کران حضرت یوسف سدس ہنس منز۔ تم کونہ حض چھو کہ اسہ سیت پھیرنہ تہ سیر کرنہ  
 سوزان۔ وَاِنَّا لَنَصْحُوْنَ حالکھ اس چھہ تمسد بڈ خیر خواہ اَرْسَلَهٗ مَعَنَا غَدًا اَيَّرْتَع وَيَلْعَبُ

لَهُ لِحْفِظُونَ ﴿۱۲﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غِفْلُونَ ﴿۱۳﴾ قَالُوا لَئِنْ آكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا الْخٰسِرُونَ ﴿۱۴﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۵﴾ وَجَاءَ وَوَأَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿۱۶﴾ قَالُوا يَا بَا نَا إِنَّا ذَهَبْنَا

سوسز یون پگاہ اہہ سیت جنگل اندر کھیہ میوہ۔ بہہ پھیرہ تھورہ اورہ یور۔ ذرا کڈہ و اشاہ۔ تجہ مہ بر و کانہہ اندیشہ و انا لہ لِحْفِظُونَ اس ساری جھہ نس راہ جھہ تہ حفاظت کرہ ون قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غِفْلُونَ حضرت یعقوبن دیکھ مہ جھو تھندیہ پانس سیت نیون پریشان کران (کیازہ آسنز دوری جھس نہ نو ذرہ وان) بہہ جھوم خطرہ گھوہان اس ماکھیہ رامہ ہون (اتھ شہرس منز آس سیٹھاہ رامہ ہون) تجہ آسوپنہ کلمہ سیت مشغول اسن روزہ وہ نہ خیالی۔ ائمہہ حالہ رُوزو بے خبر قَالَ لَئِنْ آكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا الْخٰسِرُونَ تمو دوپ اس ایڑ بڈ جماعت سیت آتھ ہر گاہ اس رامہ ہون کھیہ تلہ جھہ اس بڈہ تاوان زوتلہ جھونہ اہہ اعتباراہ کیہنہ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ جس یلہ یہ حضرت یوسف تمو پانس سیت نیو وَاَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ بہہ کور تمو ساروی اتفاق سابقہ فیصلہ موجب کہ یہ تراویون کیر چہ پوشیدہ جلیہ منز (چنانچہ اکھ کیورہ اوس امہ طرفہ۔ تھ منز ترؤ کھ) وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ امہ سوزو جی حضرت یوسفن کن (غم مہ بر کیہنہ۔ اکھ وقاہ واتہ) ژہ پاوکہ تمن یہ سوزوی کر توت ژ تیس تم آسنہ نہ ژ یہ پرزہ ناوانی وَجَاءَ وَوَأَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ توپتہ آمی تم بابہ صمیس پنہ نس رُشہ کلہن ودان ودان قَالُوا يَا بَا نَا إِنَّا ذَهَبْنَا سَمِيئِينَ وَتَرَكْنَا يَوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ دنہ لگب اے سانہ بابہ صیہ جھوہ ناؤوزان اس لجیای پانہ وان دورہ اندر مان مان

نَسْتَيْقُ وَتَرَكْنَا يَوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَآكَلَهُ الذِّبَابُ وَمَا  
 أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿۱۷﴾ وَجَاءَ وَعَلَى قَيْصِهِ  
 يَدَمٌ كَذِبٌ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَدُّوا  
 جَبِيلٌ ۗ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿۱۸﴾ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ  
 فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَةً قَالَ يُسُورِي هَذَا عِلْمٌ  
 وَأَسْرُوكُمْ بِضَاعَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ وَشَرَوْكُ

کرنہ یوسف تھا یو اسہ سامانس رنہہ راجہہ اتی آڈرامہ ہون تمی کھیو سو ۱۷ مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا  
 صَادِقِينَ مگر نہہ کتہ کمر داسہ پڑہہ ہر گاہ اس پوزنہ ونان آسو ۱۸ وَجَاءَ وَعَلَى قَيْصِهِ يَدَمٌ كَذِبٌ یہ  
 اچھ تم ن برونٹھ کن تہنہ کرنن اپڑر تھہ تھتھہ قَالَ حضرت یعقوبن دو پچھ یہ تھہ پچھہ یوسہ نہہ ونان  
 چھوہ۔ ہر گاہ یہ رامہ ہون سنز کوم آساملہ آسہنی اتھ کرنہہ رامہ ہون سندین ٹو پین ہنہ زخم۔  
 حقیقت یہ پچھہ یہ نہہ بیان کران چھوہ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً بلکہ چھوہ نہہ نفس پنہ نین  
 بیہ کویستان مشکل کوم کرنہ خیطرہ تہلاومت فَصَدُّوا جَبِيلٌ ۗ وولن چھو میانہ خیطرہ صبر کرنوی جان  
 وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ بیہ چھوس بواللہ تعالیٰ سی یاری منگان تھہ دردناک واقفس پیٹھ یس  
 نہہ ونان چھوہ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ یہا پڑو پو اچھہ اکھ قافلہ اکھ تھہ کیرس ککھ تل پچھہ منز حضرت یوسف  
 اوس فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَةً پس سوز تمو پین آب سارن وول تم تر ووجہ پین کیرس منز  
 تورہ کھوت بچس اندر نندہ ہون محبوبہ حضرت یوسف قَالَ يُسُورِي هَذَا عِلْمٌ تیس یان تیس کن نظر  
 پیہ سولوگ کر کیکہ تلٹھہ دہنہ ہالو کو خوشخبر بوینوہ۔ یہ چھو اکھ خوبصورت فرزندہ وَأَسْرُوكُمْ بِضَاعَةٌ  
 تو پتہ ٹھو کھ کھنٹھہ مال تجارت بناو تھہ۔ خیال کوز کھ کہ یہ ہیتھ گھوہو مصرس منز کانہہ بڈس امیرس  
 کون ہتھ۔ خوب نفع تہ فاسیدہ سپدہ حاصل وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ ای اوس تہ سوزوی پوز

بِشَيْنِ بَيْتِنِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٦٠﴾  
 وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ  
 عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ  
 فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ

زنان یہ تم کران آس۔ دورہ باہی آس عنہ کنو وقتہ اتھہ کیرس بھتھل یوان کھین چین و اتناوان تم آس نہ  
 یڑھان حضرت یوسف گروہہ کیرس منز ہلاک سڈن۔ بلکہ گروہہ کا نہ شخصہ تمس کیرہ منزہ کڈتھہ بیہ کنو  
 شہرس و اتناوان۔ بیہ گروہہ نہ کنو طریقہ حضرت یعقوبس اطلاع سڈن۔ غرض تمہہ دوہنہ تہ آی تم کیرس  
 بھتھل۔ تہ و چھکھ نہ حضرت یوسف کینہہ تہ۔ توپتہ آی تم اتھہ قافلہس نعرہ۔ تمن دوچکھہ یہ چھوسون  
 ژولمت غلام اس چھن نہ یڑھان یہ پانس نعرہ رُن و شَرَوْكًا بِشَيْنِ بَيْتِنِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ توپتہ کن  
 تمہو دورہ باہو حضرت یوسف کم موکس کنیون درہمن لمہ قافلہ کین کنیون شخصن یا کن اہل قافلہ و کانوا فیہ من  
 الزَّاهِدِينَ تمہینہ وال آس تہمدس مول ہمیں اندر بے میل تہ بے رغبت لاگان (توپتہ نیو تمویہ  
 حضرت یوسف پانس سیت تہ و اتناو کھ مصر مصرس منز آو یمن نیلام کرنہ۔ آخری بول سپز عزیز  
 مصرس پیٹھ ختم۔ بالاخر ہیوت تمی حضرت یوسف مل وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ  
 أَكْرِمِي مَثْوَاهُ توپتہ وون مصرک تم شخصن یم حضرت یوسف بتولا کہ منول ہیوت (یعنی عزیز  
 مصرن) زنانہ پنہ نیس زیلجانا و اوس سمنس کوکٹ سزجای تھاوڑہ سیٹھاہ بلند یعنی اہس کرڑہ سیٹھاہ قدرتہ  
 تعظیم عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا شاید یہ ماوانتا وہ اسہ فایدہ۔ بیٹھ پاٹھ روچھمت لوکٹ بکار یوان چھو  
 اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا بلکہ رچھون اس یہ گو برہ گرنز (کیاڑہ اسہ چھونہ پانس اولاد کینہہ) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا  
 لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ای طریقہ ڈیت اسہ حضرت یوسفس تھو دمقام مصرہ کس سرز مینس اندر۔ بیٹھ  
 سو مصرس اندر تھدس مقاس پیٹھ روز تھ امور سلطنت مہارت حاصل بیٹھ کمر تھ۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن  
 تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ بیہ بیٹھ اس سو بچھنا وون کھن ہند معنی تہ مطلب (تمی منزہ گو خواہن ہند تعبیر۔

عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷۱﴾ وَلَمَّا بَلَغَ  
 أَشَدَّ عَذَابِئِنَّهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجِّزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۷۲﴾  
 وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ  
 وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ  
 إِنَّهُ لَا يُفْلِكُ الظَّالِمُونَ ﴿۷۳﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ  
 رَبَّهُانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرَفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ

غرض اوس تمن نجات وندہ اندرہ دولت ظاہری و باطنی سیت نوازش کزن واللہ غالب علی امرہ  
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ چھو غالب پنہ نس یڑھتس امرس پیٹھ۔ یہ سو یڑھان  
 چھوتی چھو بنان مگر واریاہ لوکھ چھہ زانان وکتابلغہ اشدہ اذینہ حکما وعلما توپتہ یلمہ حضرت  
 یوسف ووت توچس کما س یعنی کامل جوانی عطا کوراسہ تس گانہ جارتہ علم وکذالک بنجری  
 الْمُحْسِنِينَ سبھے پاٹھ چھہ اس رتھہ کامہ کرہ وین رت جزاودان وراودتہ الٹی ہوتی بیتیہا عن  
 نفیسہ بیہ لچ پتہ حضرت یوسف سو زمانہ سمس گرس منز سو اوس چھہ حسن وجمال وچھت  
 چھہ کامہ خیطرہ۔ اکہ دوہہ لوہن موقعہ رن تم خلوت وغلقت الأبواب چھن ہند دروازہ کزن بند  
 وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ توپتہ لچ نہہہ جلد پن ولہ۔ میون تمناکر پورہ تمودوئس بیہ کس چھہ ونان۔ دوہن  
 ژہ چھسی ونان بوکتر تھس تارہ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ حضرت یوسف دوئس پناہ بنڈا رتھہ کھی مہ مگر ائہ  
 رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ پز پاٹھ ام چان خاندازن عزیز مصرن روچھس بو، پولس یورژہ جلیہ تھو وئس  
 بوکیاہ بوکر اتھ احساس بدل تمند عزت داغدار یہ گو سراسر ظلم ائہ لایفک الظالمون پز پاٹھ  
 تھن ظالمن تہ حق فراموش ہندہ خیطرہ چھہ کانہ کامیابی۔ اکثر چھہ امہ قسمک لوکھ زیادہ دنیاس منز  
 ذلیل تہ رسوا پدان آخر تک وبال گو آتھی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَبَّهُانَ رَبِّهِ  
 پز پاٹھ زینجایہ کر یوقصد تمن نشہ پیچھ کامہ ہند۔ تموتہ ہر گاہ نے تم وچھہ بن پنہ نس ہر دو گارہ سنزن

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿۲۳﴾ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۴﴾ قَالَ هِيَ رَأودَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۲۵﴾

دلیل مگر ٹھنڈا ارادہ عزیمت در جس دوت نہ۔ بلکہ ٹھنڈا ارادہ اوس روزہ دارہ سند آب سرد و چھت آئس کن رغبت سپدان ہی۔ تمہہ رغبت سیت چھنہ روزہ پھٹان۔ بلکہ چھور رغبت سپد تھ پٹن پان پتھ رٹن تہ صبر کردن باعث اجر و ثواب بنان گنڈاک لئصرف عنہ السوء و الفحشاء پتھ پاتھ ڈیت آسہ تمن توفیق عصمت پتھ دور کرو اس تمن نشہ بدی تہ پیچھ کوم إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ بے شک سو حضرت یوسف چھو سانیو برگزیدہ بندواندرہ، پیغمبر واندرہ تمن عصمت و پاکی لازم چھہ۔ امہ زلیخا تہ کوریہ پٹن خیال پیش۔ حضرت یوسف ٹل پٹن پان بچاوندہ خیطرہ سو دور پیچھ پتہ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ دو ٹپوے دورے یہ دروازس کن حضرت یوسف ٹلک خیطرہ، زلیخا تمن رفتہ خیطرہ۔ تمہہ لای تمن تھپ سو آہ ہنہزہ کہ متہ تھنر کن کرتن آہ تھینتہ وَ أَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ دو شون سمٹھ خاوند زلیخا تہ ہند دروازس تل زلیخا ویرسیہ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ زلیخا تہ دوپ کانہہ سزا چھونہ تس شخصس چانین باذن سیت تھہ کامہ ہند ارادہ گرہ مگر ای زہ سو پیہ جیلنس منز بند کرنہ یا ایس سخت دردناک عذاب کرنہ قَالَ هِيَ رَأودَتْنِي عَنْ نَفْسِي حضرت یوسف تہ دوپ تہ چھہ مہ کن اشارہ کران حال اکہمہ کیے چھہ پتہ لچھو مہ مہ نشہ پٹن مطلب کڈنہ خیطرہ وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا اتھ موقعس پیٹھ و ڈگواہی تمسعودی رشتہ دارو منزہ اک شیر خوار بچن حضرت یوسف سندس بری تہ پاک آس پٹھ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ تمہو دوپ ہر گاہ حضرت یوسف سز کرتن بروٹھہ طرفہ تھینمو



وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ  
 الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۷﴾ فَلَمَّا رَأٰ قَمِيصَهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ  
 كَيْدِكُنِ إِنَّ كَيْدَكُنِ عَظِيمٌ ﴿۱۸﴾ يُوْسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هٰذَا  
 وَاسْتَغْفِرَ لِي لِذُنُوبِكِ ۗ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ﴿۱۹﴾ وَقَالَ  
 نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتْحَهَا عَنْ  
 نَفْسِهَا قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۗ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۰﴾  
 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا

آسہ، تلہ، جھہ زلیخا پوزوان۔ حضرت یوسف جھو تھہ بدل وان۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ  
 فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ہر گاہ تهنز کردن تهنز کن ژ هممو آسہ تیلہ جھہ زلیخا پوزوان حضرت  
 یوسف جھو پنز زور۔ فَلَمَّا رَأٰ قَمِيصَهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنِ إِنَّ كَيْدَكُنِ عَظِيمٌ ہلہ  
 تمسہ خاوندن وجھہ تهنز کردن تهنز کنی ژ هممو دہن زلیخا یہ کن یہ جھہ تهنزی شیطنت تہ چالاکہ۔ پنز پاٹھ  
 تھہد مکرو فریب تہ شیطنت جھہ سیمٹاہ ہڈ۔ يُوْسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هٰذَا اے یوسف امہ نغمہ پھیرو، یہ  
 تھہ ژبو۔ وَاسْتَغْفِرَ لِي لِذُنُوبِكِ ۗ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ای زلیخا ژہ منگ معافی پنہ نہ  
 قصورہ خیرہ۔ بیشک ژی جھہ خطا کار تہ مجرم۔ تو پتہ سہڈیہ معاملہ مشہور شہرس اندر چنانچہ وَقَالَ  
 نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتْحَهَا عَنْ نَفْسِهَا مصرس اندر لجرہ واریاہ زنانہ ونہ عزیز  
 مصرہ سزہ ہ اشہ جھو دل لوگت پنہ نس غلامس پتہ۔ سنو جھہ لجمو پتہ نس غلامس ہن ناجاز مطلب کڈنہ  
 خیرہ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا تہد دل جھو پھٹمت تہدہ محبتہ سیت۔ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اس  
 چھن سوزانان ڈجمو۔ کیاہ گوس وارہ کارہ زون آتھہ نو کرس پتہ پھس۔ یہ کاژہ رسوائی تہ خجالت جھہ۔  
 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ ہس یلہ زلیخا یہ نوز زنانن ہنزیہ بدگوئی تہ ملامت کرن۔ تمہ

وَأَنْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَيِّئًا وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيَّ فَلَمَّا  
رَأَيْتَهُ أَكْبَرْتَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا  
إِنْ هَذَا إِلَّا الْمَلَكُ كَرِيمٌ ﴿۳۱﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لَمْتُنِّي فِيهِ  
وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُ  
لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ

سوز تین نادر دُور تک ای زمانو توہر ہتھ میانہ گرہ دعوت وَاَعْتَدْتُ لَهُنَّ مِّنْكَ سِجَاوَتھ تھاون تہمہر  
خپتر ہ مندر، تکیہ وار تو پتہ بلکہ تمہ زمانہ آہہ تہن برو تھ کنہ آہی تھاونہ کھینہ چینک چیز بہہ واریاہ میوہ سمو  
منزہ واریاہ میوہ شر اکہ پھوسیت ژئس قابل آس۔ وَأَنْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَيِّئًا لہذا دین پرستہ  
اکس سمو زمانو اندرہ اکہ اکہ شر اکہ ہچاہ میوہ ژنہ خپترہ (بلکہ تمہ زمانہ مشغول سپزہ میوہ ٹھینس سیت  
وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيَّ زینجایہ ڈوپ حضرت یوسف سم بہہ کتھ منز آسہن تہہ نیر ونا نیر تہن  
زمانن برو تھ کن۔ چنانچہ درای تم قَالَتْ رَأَيْتَهُ أَكْبَرْتَهُ کس بلکہ سمو زمانو حضرت یوسف وچھہ سیتھ  
بوڈگز روڈک حُسن وجمال اندر۔ سو وچھتھ ویر سیر ہوش روڈک نہ کینہہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ تو پتہ  
سپزہ بے اختیار میوہ بدل ژنچھ اتھ ہن وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ بہہ دوچھہ منزہ تہ پاک چھو اللہ تعالیٰ ماہلکا  
بَشَرًا بہہ حضرت یوسف چھونہ بشر (بشرن اندر چھونہ تھہ حُسن وجمال آسہ وچھٹھوی) إِنْ هَذَا  
إِلَّا الْمَلَكُ كَرِيمٌ بہہ چھونہ مگر عزت وول ملاک۔ انسان اندر کتھ چھو تھہ حُسن وجمال آسان البتہ ملکہی چھہ  
آسان تھہ نندہ بان قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لَمْتُنِّي فِيهِ زینجایہ دوچھہ یوہے کیا گو سو صاحب سمسہ مجبتہ  
چہ پامہ ڈژدہ توہر مہ کہہ زینجایہ چھو غلاما پتھ دل لوگت۔ آوہ دوولن بوزنہ بوما چھس بل قیمتہ۔ خیرئس  
بہہ ونہ تہہ مہ چھونہ کانہہ ہزن پان ہند ہروا۔ بو چھس نین پاتھ وناں وَالْقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ ہنز  
پاتھ مہ کمرئس اتہ تھہ۔ تہند دل پالس کن پھر نہ خپترہ کہہ سوکرہ نامیان خواہش پورہ فَاسْتَعْصَمَ مگر تم  
کمر کوشش مھنوم تہ پاک روزن۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُ ونہ تہہ چھس بودان کس ہر گاہ نے سو میان

إِلَىٰ مَتَابِدُ عُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَالْأَتَصْرَفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ  
 إِلَيْهِنَّ ۖ وَأَكُنُّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۳﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ  
 كَيْدَهُنَّ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۴﴾ ثُمَّ بَدَأَ الصُّورَ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا  
 الْآيَاتِ لَيْسَجُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۳۵﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنَ فَيَتِنٌ قَالَ

خو اہن پورہ کرہ لیسجتن و لیکنوا من الضعیرین تلبہ لہ سو ضرور قید تھاونہ۔ بیہ سپدہ سو بے قدر تہ  
 بے اعتبار۔ یمہ زمانہ اتھ جلسہ منز آسہ تمو دوپ زلیخایہ کہ اس مانراون یہ۔ آسہ دکھنا اس سیت تھ  
 بات کرنک اجازت۔ تمہ دوپھج اوہ کیا۔ کنیوہا ہے کترہ ہو۔ چنانچہ تمہ درلیہ کیم کیم اس سیت اس پت  
 فریفتہ سپر مزہ قَالَ رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَمَتَابِدُ عُونَنِي إِلَيْهِ حضرت یوسفن یدلہ وچھہ زنان ہند یہ  
 حال کہ کوپاٹھ کیمہ سمہ اگادہ تمکن کیاہ بنہ۔ چنانچہ تمو کور دوعا۔ موگھھ خدا نئس ای میانیہ پروردگارہ قید  
 خائے چھومہ زیادہ پسند تمہ پیچھہ کامہ خوتہ تھ گن مہ سمہ زنانہ نادووان چھہ وَالْأَتَصْرَفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ  
 أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ۖ وَأَكُنُّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ای میانیہ خدا یہ ژہ لے دور کر کہ تہ پھیر کہ مہ نشہ تہند مکرو فریب  
 خبر چھا بوماسدہ مابل تمکن زنان گن۔ بیہ بنہ بوناد انواندرہ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ  
 پس کور اللہ تعالیٰ ان اجابت تہندس منگنس تمکن زنان ہند مکرو فریب پھیرن تمکن نشہ  
 إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پزپاٹ سوچھو دوعا بوزہ ون سیٹھاہ زانن دول۔ ثُمَّ بَدَأَ الصُّورَ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا  
 الْآيَاتِ لَيْسَجُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ تمہ پتہ آو بوزنہ تمکن قرین مصلحت کینہہ کالاہ حضرت یوسف  
 قید تھاون۔ باوجود اینکہ تمو آس واریاہ نشانہ تہ علامت تہندہ براء تک تہ پاکی ہند وچھمت۔ مگر عوامن  
 اندر تمیک چرچہ منقطع کرنہ خیطرہ ہیہ دوپر شہرک اکھ بے کس انسان غلامی ہندس حائس اندر تمکن تہہ  
 کرہ باحمایت چنانچہ تھاوک تم بے جرم کینہہ کالاہ جیل خائس اندر وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنَ فَيَتِنٌ بیہ وات  
 تمکن نشہ قید خائس منز نوجوان جوراہ پادشاہ سند یو خد منگا رواندرہ۔ اکھ اوس ساتی۔ بیاکھ اوس ژوچہ  
 تھران۔ تمکن دون متعلق اوس یہ جرم تمکن پیٹھ اوس شہ کہ سم آس پادشاہس زہر و تھ مارن یڑھان



لَنَأَنَّ شُرَكَاءَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا  
وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۸﴾ يُصَاحِبِي  
السَّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۳۹﴾  
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَبَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ  
آبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ  
أَمْرًا لَاتَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾ يُصَاحِبِي السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمْ

چیزا ہنڈہ چیزس اندر ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون سبہ  
تسمک صحیح اعتقاد آن ہتھو خدایہ سبز بڈ مہربانی تہ بوڈ فضل اسہ پیٹھ تہ بیہ ساری لوکن پیٹھ۔ لیکن واریاہ  
لوکھ چھنہ اتھ نفیس قدر کران۔ امکہ حاصل کرنج کوشش کران یصاحبی السجین ءأرباب  
متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ای میانو قید خانہ کیو دوہور فیقونہی وبتو کیاہ واریاہ معبود آن  
الک الگ چھارت بکنہ سئوی معبود آن۔ ائس قوتہ وول ہتھو۔ امیک جواب ہتھو ظاہر کہ سئوی معبود  
چھورت ما تعبدون من دونه الا اسماء سبتتوہا انتم و اباؤکم نہہ چھوہ نہ عبادت کران  
خدائس وراي مگر کیون ناون ہنز تم توہرہ بیہ تہند یو مال یو بڈ بیو تھامت چھہ کیون پو تیلن مقرر کر تھ  
ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ تعالیٰ ان چھنہ سوز مژ تہرہ معبود آسنہ خپترہ کانہہ دلیلاہ۔ نہ عقلی  
نہ نقلی۔ ان الحکمہ الا للہ عنہ کامہ ہندہ حکم دنگ اختیار چھونہ کانہہ خدائس وراي امرًا لاتعبدوا  
الا آیاتہ تم چھو حکم کورمت ای زہ کانہہ ہنز عبادت مہ کمر و مگر تہنزی یاٹ۔ اتھ کھس پیٹھ گڑھہ عمل  
کرن ذلک الدین القییم ولکن اکثر الناس لا یعلمون یوہے چھو یعنی اللہ تعالیٰ ای مخصوص  
کوزن توحید و عبادتہ سبت راہ راست تہ سبیز و تھ۔ مگر واریاہ لوکھ چھنہ زانان۔ بیہ کتھہ چھنہ اختیار

فَيَسْتَقِي رَبَّهُ خَيْرًا وَأَمَّا الْأَخْرَفُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ  
 مِنْ رَأْسِهِ طَفِي الْأَمْرِ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ﴿٢١﴾ وَقَالَ  
 لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ  
 الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴿٢٢﴾  
 وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ  
 سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُذُبَاتٌ حُضِرَ وَأَخْرَيْسَتْ يَأْيَاهَا

کران یصاحبی السجین امّا آحدکما فیستی ربّه خیرا ای میانو قید خانہ کیور فیتو توہم اندرہ  
 ئیس اکھ شخص پادشہس شراب اوس چاوان۔ سو سپدہ جزمہ نغمہ بری۔ تو پتہ سپدہ پتہ کامہ پیٹھہ ہیر  
 بحال۔ تو پتہ ہیر سو بیہ پتہ نس مالکس شراب چاویج کام کرن و امّا الاخر فیصلب فتاکل الطیر من  
 و اوسہ وون ئیس بیا کہ زون چھو ئیس پادشہہ سہد باورچی تہ تو چہ ٹھرہ وون اوس تمس پیٹھہ سپدہ جزم  
 ثاہت۔ تو پتہ ہیر سو چہہہ دنہ۔ تو پتہ گھین جانور تمسہہ کلک کوڈ قضي الامر الذي فيه تستفتين  
 یہ فیصلہ چھو آمت کرنہ خدایہ سہہ طرفہ۔ سمیک ٹہہ پر ژھان چھوہ۔ اتھ سپدہ نہ ادلہ بدل وقال  
 للذي ظن انہ ناجٍ منہما تو پتہ وون حضرت یوسفن سموودو اندرہ تس شخص ئیس نجات لین  
 اوس تہمہہ گمانہ اذکرنی عند ربک میون تذکرہ کوڑ تھہ ژہ پتہ نس آغس تہ مالکس نغمہ یلہ ژہ تس  
 نغمہ واک۔ کہ قید خانس منز چھو اکھ شخصاہ بے تصور فانسہ الشیطن ذکر ربہ تس مشروو تس  
 شیطان آغس نغمہ حضرت یوسفن حال بیان کرن فلکبت فی السجین بضع سنین تمہ موکھ رود  
 حضرت یوسف قید خانسی اندر کیون ورنہ وقال الملک مصرک پادشہن دوپ مہ وچھ خواب۔  
 ساری ارکین سلطنت کرن جمع رانی ازی سبعبقرات سمان یا کلھن سبعبجاف مہ وچھہ  
 خواہس اندرست (ک) گاوہ وچھہ وچھہ۔ تمنی کھیوان ست (ک) گاوہ ہو چھہہ تہ لاغر و سبعب سببلت خضر  
 و آخر یسبت ہیر وچھہ ست (ک) ہیل غلک سبز تازہ ہیر (ک) ہیل ہو کھمت۔ تہ و لہ یوان سر سبز ستن

الْمَلَأْتُوْنِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿۳۳﴾  
 قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمِينَ ﴿۳۴﴾  
 وَقَالَ الَّذِي نَجَمْنَاهَا أَذْكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ  
 فَأَرْسِلُونِ ﴿۳۵﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ  
 سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ  
 يَبْسُتُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ

ہیلین توپتہ تم بہ ہو کھت گڑھان یَا أَيُّهَا الْمَلَأْتُوْنِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ای  
 دربار یو بیان کمر و تعبیر میانہ خواہگ جھوے جہہ خوانن ہند تعبیر زانان قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ  
 وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمِينَ تمودوئس تم جھہ پریشان خیالات۔ اس جھہنہ امہ قسمہ کین خواہن  
 ہند تعبیر کینہہ زانان۔ کیا زہ اسہ جھہ ملکی انتظام کرچ مہارت۔ تعبیر خواب بیان کرچ مہارت جھہنہ  
 اسہ وَقَالَ الَّذِي نَجَمْنَاهَا توپتہ دوپ تم شخص نئس قید خانہ منزہ موکلیومت اوس، مقدس منزبری  
 سپد مت اوس پادشہس نشہ بیہ ووت مت اوس تمودو یوزنیواندرہ یم قید خائس اندر حضرت یوسفس سیت  
 آس وَأَذْكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ تئس بیہ رئیس واریاہہ کال حضرت یوسف سزوصیت یوسہ تمود قید خانہ منزہ  
 نیرجہہ وقتہ کر مرث آسہس۔ تم دوپ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ بوونوہ توہہ تعبیر مہہ دیو تہہ  
 اجازت قید خائس تان گڑھنگ۔ تمودیت ہس اجازت تہ سو آو حضرت یوسفس نشہ۔ عرض کوژن  
 يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ ای حضرت یوسف جہہ ہز جھوہ سیٹھاہ پوزتہ صحیح تعبیر کرہون أَفْتِنَا فِي سَبْعِ  
 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتُ اسہ کمر تو بیان سمہ خواہگ  
 تعبیر کہہ ستن و پچھن گاؤن جھہ (سٹ) ہو جھوہ گادہ کھیوان۔ بیہ جھہ ست ہیل سبز تہ ست ہیل  
 ہو کھت۔ تم ست ہیل تہ جھہ ستن ہیلن ولنہ سیت ہو کھر اوان۔ ای جھوہ اکھ شخصہہ خواہس  
 منز وچھان۔ جہہ فرماو یو امیک تعبیر لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ تھہ بو واپس گڑھہ ہاتمن

سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا  
 مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۳۷﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا  
 قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿۳۸﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
 عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِشُونَ ﴿۳۹﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي  
 بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ  
 النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿۴۰﴾

لوکن کن سمو بوسوزمت مھوس۔ تمن بوھتھ آمت مھوس تھ تمن امیک تعبیر معلوم سپدہ۔ تمی  
 ذریعہ سپدہ تمن تھنز حقیقت کمال معلوم قال رزعون سبعمینین دابا حضرت یوسف دوئس تہہ  
 وودوار ہا پھ غلہ سن ور بن پوئس پتھ فماحصدتم فذروہ فی سنبلہ الاقلیلا مماتا کون ہس  
 یہ کئیہ ہاتھہ لوئوتہ سوزوی تھا ووتہہ ہلنی منز جمع کر تھ۔ مگر نہ کم کئیہ ہا ہس توہہ کھیس پوشہ ٹو یاتی  
 من بعد ذلک سبعمینین دابا تو پتہ سن بہہ (سک) وری سیٹھاہ سختی ہندتہ قحطک یا کون ما قدامہم لھن  
 الاقلیلا مھتھون تم (سک) وری کھن تھ غلہس ہس توہہ جمع کر تھ تھوومت آسودہ خیرہ کر تھ یکن  
 سختی ہندین ستن ور بن ہندہ خیطرہ مگر نہ سوجھہ ہس تہہ مھوس تھا ووتہہ خیطرہ۔ ستو گا ووتہہ ستو ہیلو  
 اندرہ مھو اشارہ یعنی سن ور بن کن۔ ٹو یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس و فیہ یعرشون

تھمہ پتہ بیہ اکھ دریاہ۔ تھ منزایہ لوکن پیٹھ رود تراونہ کافی۔ تھ ور ہس منز چیران لوکھ میون ہند رس  
 تھ شراب تیار کرن۔ یہ تعبیر یلہ یوزپاد شمن سوگو خوش چنانچہ وقال الملک ائتونی بہ پاد شمن کور حکم  
 یہ تعبیر بیان کرہون شخص دیون مہ انتھ۔ بوو تھن یہ تہہ صاحب مھو فلما جاءہ الرسول قال ارجم  
 الی ربک ہس یلہ تمن نشہ پاد شہہ سد قاصد او پیغام ہتھ تمودوئس ژہ گدھہ والہس پتہ ہس مالکس نش۔  
 فسئلہ ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن تھس پر ژہ گوڈہ کیاہ تھ چھا معلوم تمن زنانن ہند حال  
 سمو بودھتہ پن اتھ ژچای۔ ان ربی بکیدیہن علیہم پتہ پانٹھ میانس خدایس مھو تھمہ مکر تہ



قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْتَنِ يُّوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ  
 لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ لَنْ حَصْحَصَ  
 الْحَقُّ أَنَا رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝٥١ ذَلِكُمْ لِيَعْلَمَ  
 أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۝٥٢  
 وَمَا أَبْرَأِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا

فریب پورہ معلوم۔ تمن زانن ان نادو تھ تمن پر ژهن میون حال۔ بو جھوسہ بے تصور کنہ مہ جھو  
 کانہ تصورہ چنانچہ قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْتَنِ يُّوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ پادشہن اُنہ ناوہ تمہ سارے زنانہ  
 نادو تھ۔ تو پتہ ہر ژھکھ کیاہ کیفیت جھہ تمہز یلہ جہہ تہلاوان آسوں حضرت یوسف پند پانہ خیطرہ کیاہ  
 توہہ وچھوہ تمہ ساتھ حضرت یوسف توہہ گن مایل سپان قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ سار  
 وی زنانو ڈوپ خدا جھو منزہ تہ پاک۔ اسہ وچھ نہ حضرت یوسف منز کانہ خرابیاہ کانہ عیباہ۔ سو جھو  
 بالکل پاک قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ لَنْ حَصْحَصَ الْحَقُّ عزیز مصرہ سزہ زنانہ (زیلیخایہ) یوسہ تمہ ساتھ  
 حاضر آس تہ وون۔ پز تھ سہز وون سارنی پیٹھ روشن اَنَّا رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ واقعی بوی آس تمن  
 اتہ گتھ کران پن خواہش تہ مطلب تمن نیشہ پوزہ کرنہ خیطرہ بیہ جہند دل پانس گن پھر نہ خیطرہ کوشش  
 کران وَ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ تم جھہ بے شک پوز ونہ وینو اندرہ۔ تمو فر موو گوڈنی ہی راود تنی عن  
 نفسی تی جھو پوز۔ بوی آس کوشش کران ہم پانس گن مایل کرنج۔ مگر بوسہزس تھہ منز ناکام۔ یہ  
 ساری کاروائی تفتیش یلہ قاصدن حضرت یوسف نیشہ بیان کمر تمو ڈوپ ذَلِكُمْ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ  
 بِالْغَيْبِ تفتیش کرومہ امی موکھ بیٹھ عزیز مصرس وارہ معلوم سپد کہہ مہ آسنہ ہرگز تس خیانت کمر  
 تسزہ عدم موجودگی منز تسدس عزتس و آبرواس پیٹھ دست درازی کمر مژ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ  
 الْخَائِنِينَ بیہ بیٹھ ساری زانن کہ اللہ تعالیٰ جھو نہ سیزر کران خیانت کرہ وینن ہندس عنہ تدیرس۔  
 وَمَا أَبْرَأِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ بو جھوس نہ پن پان بری زانن کیا زہ پریتھ اکس

مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵۳﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿۵۴﴾ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا ﴿۵۵﴾ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ أَهْلَهَا وَيَسْأَلُونَ نَصِيبًا مِّنْ رَّحْمَتِنَا مِمَّنْ شَاءَ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۶﴾  
وَلَا جُرْأُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۵۷﴾ وَجَاءَ

جھو نفس پیچھ کائین ہند امر کران إلا مارحمرہ ربی مگر نیس میون پروردگار رحم کرہ إن ربی غفور رحیم پڑ پٹھا میون پروردگار جھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي بیہ کور حکم پادشہن ائیون جلد حضرت یوسف مہ نش۔ بو ناؤن سو ہون مشیر خاص فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ اودہ یلہ حضرت یوسف آو پاد شہس سیت کر کیہ واریاہ تھہ۔ کتھواند رے سپدس معلوم تھہد فضل و کمال۔ دہن تہن بیتک تہہ جھوہ ازاسہ نغہہ سیٹھاہ تھہرہ جایہ۔ معزز، معتبر تہ امانت دار خولیکہ تعبیر ک آو تھن اندر زکر۔ پادشہن دو پٹھہ۔ ایترہ بڈہ قحطک انتظام کران چھہ بڈ کوم بیہ کس گرو سپرد قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ حضرت یوسف فر مووس مہ بناوڑہ حاکم سہمہ ملکہ کین خزان ہند (یعنی مشیر مال، وزیر خزانہ) اِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا پتر پاٹھہ بو جھوس ماکس پور حفاظت کرہ ون۔ مالک پورہ حساب و کتاب زانہ ون۔ چنانچہ بجای اینکہ تہن کیا دیہ ہاکانہہ خاص عمدہ تہ مصباہ، ہن ساری اختیارات کترن سپرد تہنی۔ حقیقتس اندر آس پادشاہ تہ۔ بادشاہ زود پانہ برای نام۔ ہم سپد مشہور عزیز مصر کہ لقبہ سیت وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ بیہ ذیت اسہ پور قبضہ تہ اختیار حضرت یوسف اتھہ سر زمین مصر س اندر يَتَّبِعُونَ أَهْلَهَا وَيَسْأَلُونَ نَصِيبًا مِّنْ رَّحْمَتِنَا مِمَّنْ شَاءَ اس پیرہ اوس دوان، عیش و آرام اوس کران یتتس خوش کرہ، ہس تہمہ زینہ اندرہ نَصِيبٌ مِّنْ رَّحْمَتِنَا اس پچھہ و اتناوان ہن رحمت نیس یڑھو تہ نس۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اس جھہہ ضایع

اِحْوَةَ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفُوْهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُوْنَ ﴿۵۸﴾ وَ  
لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ اِنَّوُنِيْ بِاَخِيْ لَكُمْ مِّنْ اَيْمِيْنُۙ اَلَا  
تَرَوْنَ اِنِّيْٓ اَوْفِي الْكَيْلِ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿۵۹﴾ فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ  
بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ﴿۶۰﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَ وَاُدْعٰنَهٗ

کران نیکو کارن ہنرمزور وَاَكْبَرُ الْاِحْوَةَ خَيْرُ الْكَلْدِيْنَ اَمْنًا وَاَكْنُوْا يَتَّقُوْنَ بپہ چھہ آخر حج مزور تہ آخر  
سیٹھاہ بہتر تہن لوکن ہندہ خیطرہ تمو ایمان اون بپہ آس کھوژان خدائس۔ بعضی تفسیرن اندر چھو کہ  
تمنی دوہن اندر گو مئر تھہ بروٹھیوم عزیز مصر۔ زلیٹاہ ہند نکاح سپد حضرت یوسف سبت۔ الغرض  
حضرت یوسف سپد با اختیار پادشاہ۔ تمو ودہ نوز میئس اندر سیٹھاہ غلہ تو پتہ تھو و کہ سو ج جمع کمر تھہ  
مھووظ۔ قحطک سبت (کے) ڈرہ یلہ شروع سپد تمو ہیوت سو غلہ لوکن اندر تقسیم کرن۔ ڈورہ ڈورہ پیٹھ بہتن  
لو کہ غلہ حاصل کرنہ خیطرہ ہین۔ کنعائس منزہ سپد قحط و جآء اِحْوَةَ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفُوْهُمْ  
وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُوْنَ تو پتہ آی حضرت یوسف سندہ بای تہ کنعانہ پیٹھ۔ تو پتہ ژای تہندس دربارس اندر۔  
تمو پرزہ تاو تم۔ مگر تمو پرزہ نوونہ کینہہ حضرت یوسف کیا زہ واریاہ کال اوس منزہ گو مت۔ بپہ اوس نہ  
تہندس وہم و گمائس منزہ تم کیا آسن اتھ تھدس مصعبس پیٹھ واتمت۔ تم کیا آسن بادشاہ شیمت۔ تمو  
پر ڈھکھ نہہ کیا زہ آوہ ہتھ شہرس منزہ دوپہک غلہ خیطرہ۔ تمو دوپہک غالباً آبو نہہ جاوس۔ تمو  
دوپ پناہ بخدا آس چھہ کنعاکہ تمہ تھدہ خاندایک افراد۔ سون بابہ صیب چھو حضرت یعقوب خدایہ  
سند پیغبر۔ تمو پر ڈھکھ نہہ کمرہ بای چھوہ۔ تمو دوپ اس آس باہ بای۔ اکھ لوی چھو لاپتہ۔ سو اوس  
زیادہ لوٹھہ بابہ صعیس سانس۔ تمند سکھ بوی روٹ بابہ صعین پتہ تسلی خیطرہ ہانس نشہ۔ باقی دہ (۱۰)  
بای آی اس توہہ نشہ غلہ معنہ۔ تمو کور حکم سم تھاویو کہ شاہی مہمان خائس اندر۔ تم کمر و جان پاٹھ  
خاطر و تواضع و لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ تو پتہ یلہ تیار کوزن تہند سامان غلہ وغیرہ قَالَ اِنَّوُنِيْ بِاَخِيْ  
لَكُمْ مِّنْ اَيْمِيْنُۙ دوپنک یلہ نہہ بپہ بیو مال بوی ہن انزن مہ نشہ بوچھہ تہندون چھاواقعی پوز۔ اَلَا

آبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿۶۱﴾ وَقَالَ لِفَتَيْنِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۶۲﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَ نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفْظُونَ ﴿۶۳﴾ قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ

تَرَوْنَ إِنِّي آتِي فِي الْكَيْلِ وَإِنَّا خَيْرٌ مِنَ الْغَابِرِينَ تہہ چھوہ ناؤ چھان یو چھوس ضرور پور مینان۔ بیہ چھوس  
 بورژ مہمان نوازی کران **فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ** ہر گاہ سو یو تہہ  
 اینون نہ مہ نش۔ تلہ چھونہ تہہ مہ نشہ غلہ نیون کینہ تہ۔ بیہ گڑھہ نہ تلہ مہ نشہ یو تہند **قَالُوا أَسَآرًا وُدُّ  
 عَنَّا آبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ** تمہو دوپ اس گرو ضرور کوشش سو یو ی پاس سیت انہ تہ متعلق ونواس بابہ  
 صیس۔ بیہ چھہ اس ونان اس کرو ضروریہ کوم **وَقَالَ لِفَتَيْنِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ**  
 حضرت یوسف دوپ پنہ نین غلامن تمکن تھا و غلگ قیمت اہدس ساماس منز **لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا**  
**إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** شاید تم پرزہ ناؤن تہہ یلہ تم واتن پنہ نس عیالس منز تہ  
 وچھت دیوہ بیہ آسہ نشہ واپس من **فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّنَا الْكَيْلُ** کس یلہ تم  
 واپس وات پنہ نس بابہ صیس نشہ عرض کوزکھ ای سانہ بابہ صیہ آسہ حض دوچھ ہر گاہ تہہ بیاکھ یو  
 سیت اینون نہ تلہ و مودوہ نہ آئدہ توہہ کینہہ تہ غلہ **فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَ نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفْظُونَ**  
 کس سوزیون ہز اسہ سیت یو سون۔ تہہ آسہ ساری بیہ غلہ دن تولتہ۔ آسہ پیٹھ کمر و اعتبار اس چھہ کس  
 راچھہ کرہ ون **قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمْنُتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ** حضرت یعقوب دوچھ کیاہ  
 یو کر اعتبار توہہ پیٹھ تسدہ خیطرہ مگر تھوی اعتبار تہہ مہ کریو توہہ پیٹھ امندس ہای سدہ خیطرہ ازہہ  
 بروتہ۔ دل چھوم نہ کران کہ یہ بنیامین کیاہ و من بو توہہ سیت۔ مگر تہہ چھوہ ونان کہ سوتے سیت آسہ  
 تلہ دن نہ غلہ کینہہ۔ ایتہ چھہ مجبوری غلہ حاصل کرن چھو فرض۔ کیاہہ حیات جسمانی تہہ موقوف تہہ

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۶۷﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا  
مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَانَ مَا  
نَبَغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا  
وَنَزِدُكَ كَيْلًا بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿۶۸﴾ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ  
مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ  
يُحَاطَ بِكُمْ فَلَبَّأَتْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۶۹﴾

پیٹھ۔ لہذا اگر بنیامین نیون پانس سیتِ خدائیں حوالہ فاللہ خیر حفظاً و ہوا رحمہ الرحیمین جس اللہ  
تعالیٰ ای چھوڑت رہا چھ کرہون۔ بیہ چھو سوسی یژر حم کرہون ساروی اندرہ۔ میانہ محبتہ تہ شفقتہ سیت  
کیاہ اترہہ و لَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ امہ گفتگو پتہ یلہ تمہو سامانہ مین  
مہرود تہہ منزو چھٹھہ غلگ قیمت نیس سمودہ بیتمت اوس سیتہ تمین واپس کرنہ اُمت قَالُوا يَا بَانَ مَا  
نَبَغِي دہنہ لگ تم ای سانہ بابہ صیہ امہ خوتہ کیاہ ژھانڈواس ہذہ ہضاعتنارڈت الینا کیا امہ  
چھو کہ غلگ قیمت تہ واپس دیتمت۔ امہ قسمگ چھو پادشاہ مصر فیاض تہ محسن۔ لہذا چھونہ مناسب  
تہمدس لحمس ہدل کزن۔ دیون اسہ سیت یوی سون بنیامین وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدُكَ كَيْلًا  
بَعِيرٌ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ تہمدہ سیت انواس کافی غلہ عیالہ خیطرہ۔ بیہ گرو واپس رہچہ۔ بیہ انواس علاوہ  
کس وونس لد تہہ غلہ ٹہمد حصہ۔ موجودہ غلہ چھو سانہ خیطرہ کمی۔ پوشہ نہ زیادہ کاس قَال لَنْ  
أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ حضرت یعقوبن دوپکھ  
خیر تہتھس صور تہس اندر چھونہ چارہ کینہ سو تہہ سیت دس اندر۔ مگر بوتہ دس یہ تہہ سیت یوتان نہ  
ٹہہ خدایہ سُنَد قسم ہاوتہ مہ سیت عہد کمر وکہ ٹہہ کیاوانہ تا دیون سو ضرور واپس مہ نشہ مگرے ٹہہ ساری  
ولنہ بیہ بکنہ بلا یہ سیت تلہ چھہ مجبوری۔ چنانچہ ساروی کورا تہہ پیٹھ قسم فَلَبَّأَتْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى  
مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ادہ یلہ تمہو حضرت یعقوبس عہد و قرار دیت تمہو دپ اللہ تعالیٰ ای چھو سانس ونہ نس



النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷۸﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ  
 أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷۹﴾  
 فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ  
 أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتَهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسِرْقُونَ ﴿۸۰﴾ قَالُوا  
 وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴿۸۱﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ  
 الْمَلِكِ وَلَيْسَ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿۸۲﴾  
 قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دوپیس بوی چھوس چون بوی (یوسف) ژہمہ بر غم تمیک کینہہ یہ ہای  
 آسہ نسبت کران آس فلما جهزهم بجهازهم تویپتہ یلہ تیار کرنون ٹہند سامانہ جعل  
 السقاية في رحل اخيه حضرت یوسفن تھاوہ نووینہ آب چینگ بانہ ہای سندس سامانس منز۔  
 تویپتہ یلہ تم روانہ سہدت شہرہ نیر وات ثم اذن مؤذن ايئتها العير انكم لسرقون تمہ پتہ دیت  
 آلوک آلودوہ ون ای قافلہ والیوٹہہ چھوہ پزپاٹ ژور قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون تم لگ  
 ونہ تم ن پھیر تھ تہہ کیاہ چھوہ رومت قالوا حضرت یوسفہ سند یو ملازمو دوپچھہ نفقد  
 صوع الملك آسہ چھہ رومت بادشاہ سندہ چینگ بانہ سمہ سیت سوتوہہ غلہ دوان اوس مین مین  
 ولین جاء به حمل بعير وانا به زعيم کس سوبانہ توہہ اندرہ آتھہ دیہ تہ پیش کرہ کس ومواکھ ووٹہہ  
 بارغلک انعام۔ بو آلودوہ ون چھوس تمہ خیطرہ ذمہ دار قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في  
 الأرض وما كنا لسارقين تممو دوپ قسم خدا تہہ چھوہ وارہ زانان تہہ اس بھنہ آمت تہای کرہ  
 خیطرہ یو ربیہ چھنہ سان کوم ژور کرن قالوا فما جزاؤنا ان كنتم كذابين تممو ملازمو دپکھ ہر گاہ ٹہند

كُنَّا سُرِقِينَ ﴿۴۳﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُمْ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿۴۴﴾ قَالُوا  
 جَزَاؤُهُمْ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي  
 الظَّالِمِينَ ﴿۴۵﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ  
 اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا  
 كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ  
 دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿۴۶﴾ قَالُوا إِنْ

وَأَنْ اِزْدَرَاوِ تِلْكَ كِيَاهُ هَجُوْهُنَّ سِزَا قَالُوا جَزَاؤُهُمْ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ تَمُوْدُوْهُ تَمِيْكُ  
 سِزَا هَجُوْهُنَّ شَخْصَهٗ سِنْدَهٗ سَامَانَهٗ مَنزَهٗ سُوْجِيْزَهٗ - سُوِي شَخْص هَجُوْهُ تَمِيْكُ سِزَا عِيْنِي سُوْگُوْهَهٗ گِرْفَار گِرْزَانِ تَهٗ  
 غَلَامِ بِلَاوْنِ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِيْنَ سِيْطَهٗ پَاهُهٗ هَجِهٗ اَسْ ظَالِمْنِ عِيْنِي تُوْرَانِ سِزَا وَاوَانِ پِنْتَهٗ دِيْنَهٗ  
 مَوْجِبَ - تُوْپَهٗ اِيْجَهٗ تَمِ وَايَسْ حَضْرَتِ يُوْسُفَ نَشَهٗ فَبَدَأَ بِاَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ تُوْپَهٗ كِرْنَاو  
 تَمِ تَلَاشِيْ بَيْنَ بِلَاوْنِ هِنْدِيْنِ خُوْرِ جِنْدَانِ پِنْتَهٗ نَسْ بَايِ سِدَسْ خُوْرِ جِنْدَسْ تَلَاشِيْ كِرْنَهٗ بَرُوْنَهٗ تَشَهٗ  
 اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ پَتُوْلَاكَهٗ كُدَهٗ نُوْوْنِ سُوْجِيْزَهٗ پِنْتَهٗ نَسْ بَايِ سِنْدَهٗ خُوْرِ جِنْدَهٗ مَنزَهٗ - پِهٖ كُوْرِ تَمُو  
 اَكِهٗ هَمَانَهٗ بِنْيَايِنَهٗ سِنْدَهٗ پَانَسْ نَشَهٗ رَفَهٗ خِيْطَرَهٗ تَمْنِ سِيْتِ مَشُوْرَهٗ كَمْرِ تَهٗ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ سِيْطَهٗ پَاهُهٗ  
 پَهْجَهٗ نَاوَاْسَهٗ تَدْبِيْرِ حَضْرَتِ يُوْسُفَ بَدْرِيْعَهٗ هَامَامِ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ نَتَهٗ اَوْسَ نَهٗ  
 مُمْكِنِ سُوْ كِيَارِهٖ هَا بَالِيْسِ پِنْتَهٗ نَسْ پَانَسْ نَشَهٗ بَادِشَاهِ مِصْرَهٗ سِنْدَهٗ قَانُوْنَهٗ مَوْجِبَ كِيَاْرَهٗ تَمْمِنْدَسْ قَانُوْنَسْ  
 مَنزَاوَسَ نَهٗ تُوْرِ گِرْفَار گِرْزَانِ بَلْكَ اَوْسِ تُوْرَسْ كِيْنَهٗ تَنِيْهَهٗ كَمْرِ تَهٗ يِلَهٗ تِرَاوْنِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مَگِرْ  
 خَدَايَهٗ سِنْدِي يَرْهَنَهٗ سِيْتِ تَمْنِيْ يُوْثَهٗ تَهٗ يَهٗ اَوْ بَعْلَ - تَمِ تِرُوْوَا هَامَامِ حَضْرَتِ يُوْسُفَ سِنْدَسْ وِلَسْ اَنْدَرِ  
 يِقْتُوْبِي شَرِيْعَهٗ مَوْجِبَ تُوْرَسْ سِزَا دِيُوْنِ - تِي وَنَهٗ نُوْوْنِ تَمْنِيْ بِلَاوْنِ هَمَزَهٗ زِيْدَهٗ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ  
 تَهْرَ رَاوَانِ هَجِهٖ اَسْ دَرَجَهٗ عِلْمِ اَنْدَرِ تَسْ شَخْصَهٗ سِنْدِ يَسِنْدِ اَسْ يَرْهَوْ - وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ  
 پَرِيْطَهٗ عِلْمَهٗ وَاِلَسْ پَهْجَهٗ تَمْنِ خُوْتَهٗ زِيَادَهٗ عَالِمَ - اَللّٰهُ تَعَالٰی هَجُوْ سَارِنِيْ نَاوَقَ - تَمْمِنْدِ عِلْمِ هَجُوْ سَارِنِيْ



يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخْرَجَهُ مِنْ قَبْلِ فَاسْرَهَا يَوْسُفُ فِي  
 نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
 بِمَا تَصِفُونَ ﴿۴۷﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا  
 كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَشْرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۸﴾

احاطہ کمرت علم مخلوق چھو ناقص۔ علم خالق چھو کامل۔ لہذا چھو مخلوق محتاج پنہ نس علم و تدبیر س  
 اندر خالقتہ سندس الہام والقائن س گن۔ حضرت یوسفن دوپچھ توہے دیوہ اس چھہ پیغمبر زادہ یہ کیاہ  
 کورہ۔ ای پڑہ ہاتوہہ کرن۔ تم گے سیٹھاہ شرمندہ۔ بنیامین آؤ تدبیرہ سیت تھاوہہ حضرت یوسفن نشہ  
 قَالُوا إِنَّ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخْرَجَهُ مِنْ قَبْلِ تَمُودُوپ اگر بنیامین ژور کر تجب چھو نہ کینہہ کیاہ  
 امسد سکھ با ی یوسفن تہ چھہ بروئھ ژور کمر مژ۔ سو قصہ چھو پتھ پاتھ کہ حضرت یوسفن یلہ والدہ بن  
 سیمہ عالمہ گچہ تین ہنہ پرورش کرن تہزہ پوپھ یلہ حضرت یوسفن بوڈ پن گو ہوشیار ہیوسپد حضرت  
 یعقوبن دوپ وون رشن بوپانس نشہ۔ یہ گو تہزہ پوپھ ناگوار۔ تمو کوراکھ حیلہ دوپچھ مہ روو کمر بند۔  
 سیٹھاہ ژوہوڈ کٹنہ آونہ اٹھہ۔ پتولا کہ وچھکھ اکہ دوہہ حضرت یوسفن کمرس گنڈ تھ۔ دوپچھ یہ اوس  
 حضرت یوسفن ژورہ نیومت۔ لہذا ژورہ ہندمال بس نشہ نیرہ سو چھو تھ ماس بدل رنہ یوان۔ بورشن  
 حضرت یوسفن پانس نشہ۔ یہ اوس اکھ حیلہ اکھ تہدہ پانس نشہ رنہ خیطہ تہزہ پوپھ پانے کورمت۔  
 اٹھ گن کور اشارہ سمودورہ بابو۔ فَاسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ بس تھاویہ تھ پو شیدہ  
 حضرت یوسفن پانس نشہ۔ ظاہر کورن نہ تین نشہ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ  
 پان پانس سیت دوہن جہہ چھو زیادہ بدتر ژور کر نس اندر نوی کیوون بابہ صیس ژورہ کتھ کیوون  
 پونس۔ ژور چھو مال غائب کران۔ توہہ کورون انسان غائب۔ یہ تھ چھہ ظاہر کہ انسان ژورہ تھاون  
 انگو اکرن چھو زیادہ بدتر مال ژورہ بنہ خوہ۔ اللہ تعالیٰ ای چھو بہتر زمان تہ یہ جہہ مہ نسبت وان چھوہ۔  
 ژورہ ہنہ ہاتھ لاگان چھوہ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنٌ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ  
 إِنَّا إِذًا الظَّالِمُونَ ﴿۹﴾ فَلَمَّا اسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا  
 قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ  
 مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ  
 أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ

گلب ای عزیز مصر پرنیاطھ تسم بنیا مینس چھو بڈہ عمر رسیدہ بابہ صیب تس چھویہ سیٹھاہ ٹوٹھ تس بڈرہ  
 سیٹھاہ مشکل امس بدل ریشون اسہ منزہ اکھاہ سوی بناوتون پین غلام اِنَّا تَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ اَس  
 چھت ژہ زانان بڈہ احسان کرہ ون۔ یہ تہ ہے ژہ اکھ احساناہ اسہ پیٹھ کرہ، بھ اَس سپدہ ہو سیٹھاہ مشکور  
 قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنٌ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ حضرت یوسفن دوپچھ خدائس چھوس بو  
 پناہ منگان سمہ کتھہ نیشہ کہ اس کیارٹون تس شخصس ورا ی بیہ کانہہ تسم نیشہ سون چیز درا ڈہ۔ ہر گاہ اَس  
 یرھہ کتھہ گرو اِنَّا اِذًا الظَّالِمُونَ تلہ چھہ اس سخت بے انصاف فَلَمَّا اسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا  
 کس یلہ یم حضرت یوسفن نیشہ نامید سپد بنیامینہ سندس بیٹس اندر الگ سپد تھ ہیو چھہ پانہ وان مشورہ کرن۔  
 اکثرن ہنزرای سپر کہ واپس پڑہ گوٹھن قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ  
 مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ بڈی بای دوپچھ چھہ چھوہ نازانان کہ بابہ صین پین چھوہ چھہ خدایہ سند قسم ہاوناومت  
 تہ عمد کرناومت بنیامینہ سندہ حقہ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ بیہ چھوہ نازانان سمہ بروٹھ  
 کثیر زیادتی کمر وہ توبہ حضرت یوسف سندس حقس اندر۔ تمن سیت کس برتاو کورو، توبہ تمہ سیت کیتاہ  
 حقوق سپد ضایع بابہ صین۔ سو بروٹھم شرمندگی کیاہ کم چھہ ون گڑھویہ بیاکھ شرمندگی ہیتہ بابہ  
 صیس نیشہ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي کس نیرہ نہ یوسفہ شہرہ اندرہ ہرگز کتھہ جلیہ  
 یوتان نہ اجازت دبیہ مہ بابہ صیب پین۔ تہ گتھہ بھتھہ بیچہ یوسفن تس بروٹھ کُن بیتھ۔ اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي  
 وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِيْنَ یا کرہ اللہ تعالیٰ میانہ حقہ کانہہ فیصلہ۔ سو چھو بہتر فیصلہ تہ حکم کرہ ون۔ سو گوٹھہ

خَيْرُ الْحَكِيمِينَ ﴿۸۰﴾ اِرْجِعُوا اِلَىٰ اٰبِيَكُمْ فَقُولُوا يَا اَبَانَا اِنَّ  
 ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا  
 لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿۸۱﴾ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا  
 وَالْعِيْرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيْهَا وَاِنَّا لَاصْدِقُوْنَ ﴿۸۲﴾ قَالَ بَلْ  
 سَوَّلْتُ لَكُمْ اَنْفُسَكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَبِيْلٌ ﴿۸۳﴾ عَسَىٰ اللّٰهُ اَنْ  
 يَّاتِيَنِيْ بِهِمْ جَبِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۸۴﴾ وَتَوَلَّى  
 عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِيْ عَلٰى يُوْسُفَ وَاَبْيَضَّتْ عَيْنُهٗ مِنْ

طریقہ سپدہ بنیامینہ سزرہالی سے سوتیلہ سے بوبابہ صیس سے۔ اِرْجِعُوا اِلَىٰ اٰبِيَكُمْ فَقُولُوا يَا اَبَانَا اِنَّ  
 ابْنَكَ سَرَقَ۔ بوروزہ بیت تہہ گڑھو بابہ صیس سے۔ وَاَبْيَضَّتْ عَيْنُهٗ مِنْ۔ وَاَبْيَضَّتْ عَيْنُهٗ مِنْ۔ وَاَبْيَضَّتْ عَيْنُهٗ مِنْ۔  
 ثور تہہ موکھ آؤسوگر قرار کرنے۔ سُوْدِيْتَحْجِهْ نہ اسے سیت واپس۔ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا اس چھتہ  
 ونان مگر تی یہ اسے معلوم چھو۔ اسے وچھ پنے نیو اچھو تسمدہ باروانہ منزہ پادشہہ سند مین بانہ نیران  
 وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ اس ما آس غیبہ چن کھن راجھہ گرہ ون۔ معاہدہ کریمہ وقتہ ماؤس اسے  
 معلوم تہہ ہو مشکل تہہ یہ پیش۔ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي اَقْبَلْنَا فِيْهَا سائہ  
 نے پڑھہ بہوہ تہہ پڑھو تمہہ شہرہ کین لوگن تہہ منز اس آس یا تہہ قافلہ مین سیت اس واپس آئے  
 وَاِنَّا لَاصْدِقُوْنَ یقیناً چھوہ اس پوزونہ ون۔ قَالَ بَلْ سَوَّلْتُ لَكُمْ اَنْفُسَكُمْ اَمْرًا حضرت  
 یقونن دوچھ بنیامین چھونہ ثور کرنے موکھ گر قرار آمت کرنے بلکہ چھوہ تہہ پنے نی دلہ کتھہ تیار کران  
 فَصَبْرٌ جَبِيْلٌ ازتہ کرہ بو صبر بروٹھی پاٹھ شکایت کرنے تہہ قسمہ عَسَىٰ اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِيْ بِهِمْ  
 جَبِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ شاید اللہ تعالیٰ ماواتا وہ تھن سارنی فرزندن مہ نش کیا زہ سوچھو بیٹک  
 سوزی زان وول سیٹھہ حمہ وول وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفِيْ عَلٰى يُوْسُفَ وَاَبْيَضَّتْ عَيْنُهٗ مِنْ



وَأَهْلَنَا الضَّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعٍ مُّزْجَجَةٍ فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ  
وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿۸۸﴾ قَالَ  
هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿۸۹﴾  
قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي  
قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَشَقِّ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ  
لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۰﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ اشْرَكُوا

ای عزیز مصر در آگہ سببہ ووت آسہ تہ سانس عیالس سخت تکلیف۔ وئن چھ اس آمت رڈی سامانہ مؤیہ ہننا بیتھ۔ کیا زہ وون زود نہ آسہ نیش کنی مال فَأَوْفٍ لَّنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا وون دتہ آسہ ڈہ پور غلہ (نیس آسہ پوشہ ہا) خیر اتاہ کرتہ آسہ بیٹھ۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ پز پاتھ اللہ تعالیٰ چھو خیرات کرہ و نین اجر و ثواب عطا کران حضرت یوسفن ہیو کنہ بہنہہ مسکتن آمیز تھہ یوز تھہ تاب کمر تھہ کہ تم کیاہ تھوہ ہن و نہ پئن حال پوشیدہ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ حضرت یوسفن پز تھہ توبہ چھو یاد توبہ کیاہ کورہہ یوسفن تہ تہمدس بایس بنیا مینس نسبت پہلہ ناٹہہ نادان آسہہ۔ تم گے حیران یہ عزیز مصر کیاہ چھو آسہ پز تھان۔ اوتان اوس حضرت یوسفن تھس بیٹھ نقاب تراو تھہ یکن سیت تھہ کران۔ تموئل نقاب تھوہ تمکن پہلہ تھہ بیٹھ نظر تہ پزہ ناوکہ۔ مگر یقین حاصل کرنہ خیطرہ لگس پز تھہہ قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ تم لگس پز تھہہ تری ماحض چھو کہ حضرت یوسفن قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي دوپنکھ لوی چھو س یوسفن۔ بیہ یہ بنیامین چھو میون لوی تمکن تھہ تھانڈیہ درمت چھوہ۔ اس دوشوے چھہ جمع سہمت کسی جاہیہ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا پز پاتھ بدمنت تھو اللہ تعالیٰ ان آسہ دوشون بیٹھ۔ گوڈہ وئن آسہ توفیق صبر و تقویٰ اک۔ تمہہ برکتہ کوزن سون تکلیف بدل راتھس سیت۔ سان جدالی کمرن بدل اکھ اکس سیت ملاقات کرنس سیت۔ تنگدستی کرن بدل و تنس سیت إِنَّهُ مَنْ يَشَقِّ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ ﴿۹۱﴾ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ  
 الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۹۲﴾ اذْهَبُوا  
 بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيْرًا  
 وَأَنْتُمْ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۹۳﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ  
 الْعِيْرُ قَالَ أَبُوهُمَّ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ  
 تُفَنِّدُونِ ﴿۹۴﴾ قَالُوا تاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿۹۵﴾

البتہ اُس کھوڑہ اللہ تعالیٰ اسی پر کرہ تکلیفیں پیٹھے صبر۔ بس اللہ تعالیٰ چھوٹہ نیکو کارن ہنرمند و درضایع کران۔ تم  
 ساری واقعات پی تکین رئیس تم سپد شرمندہ قَالُوا تاللهِ لَقَدْ اِشْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ  
 تم ساری لگ ونبہ خدایہ سزوری پز پز پز اللہ تعالیٰ اَن ذیت توہمہ فضیلت اَسہ پیٹھے۔ پز پز پز سان کن  
 آؤ اُتر۔ یہ کنیوہ ہاہ اَسہ کور تھہ اندر چھہ اس خطا کار۔ خدایہ سندہ خیطرہ کمر و تھہ ساری اَسہ بخشائش  
 قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ حضرت یوسفؑ دو چھہ میانیہ طرفہ چھہ نہ ملامت تہ گراؤ۔ کانہ  
 الزام توہمہ پیٹھے از۔ دل میون سپد صاف توہمہ پیٹھے بے فجر روزو یَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ  
 اللہ تعالیٰ تہ کرن توہمہ بخشائش تہ مغفرت۔ سو چھوڑ کر ہم کرہ ون اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوْهُ عَلَىٰ  
 وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيْرًا گروہ وون دیو بشارت بابہ صمیس۔ سیت بیو یہ میان کرن۔ یہ تہ راو و  
 تہندس تھس پیٹھے۔ سیمہ سیت پز دن تہزہ اچھہ روشن۔ وَأَنْتُمْ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ تم ان  
 یورمہ نشہ تشریف۔ بیہ بیو تھہ سوزوی اہل و عیال پتھہ مشہہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ یلیہ مصرہ نشہ  
 یہند قافلہ پز روانہ قَالَ أَبُوهُمَّ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ یہند بابہ صمیں روپ  
 بیٹک از چھوس بو یوسفہ سندی خوش محسوس کران تھہ نے نہہ بجزہ سببہ بے عقل زانو قَالُوا تاللهِ إِنَّكَ  
 لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ تم دو پھس واقعی چھوہ تھہ تھہ پرائس غلط خیالکس اندر بتلا۔ توہمہ چھوہ خیال

فَلَمَّا انْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْاَلْفَهُ عَلٰی وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۙ  
 قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۹۶﴾  
 قَالُوْا يَا اَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا خٰطِيْنَ ﴿۹۷﴾  
 قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْٓ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۹۸﴾  
 فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰی يُوْسُفَ اَوْى اِلَيْهِ اَبُوْیْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا  
 مِصْرَانَ سَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿۹۹﴾ وَرَفَعَ اَبُوْیْهِ عَلٰی الْعَرْشِ

کہ یوسف چھوڑ زندے۔ بیہ گروٹس سیت ملاقات۔ اسی خیال کہ غلبہ سیت چھو سپدان تو بہہ محسوس تہند  
 خوشبو۔ تمو کر ژھوپہ۔ فَلَمَّا انْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْاَلْفَهُ عَلٰی وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا حضرت یوسف سیدہ  
 صحیح و سلامت آج خوشخبرانہ ون یلہ آؤ کرتن ہتھ تو پتہ تراؤ تم سو حضرت یعقوبہ سندس تھس پیٹھ یکدم  
 سہزہ تہزہ اچھ روشن۔ بیہ کور تم بیان سو روی حال حضرت یوسف سند قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ  
 اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ حضرت یعقوبن فر مو کہ مہ ونیو وہ نا تو بہہ کہ خدایہ سنزن تھس یوت بو واقف  
 چھوس تیوت زانو نہ تہہ قَالُوْا يَا اَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا خٰطِيْنَ تمو ساروی دو پچھ ای  
 سانہ بابہ صیبہ سانہ خیطرہ معجو ہز گنہن مغفرت۔ بے شک اس آس خطا کار، سانہ وجہ ووت تو بہہ  
 سیٹھاہ تکلیف قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْٓ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ تم دو پچھ عنقریب معگہ یو تہندہ  
 خیطرہ مغفرت خدائس۔ تہد کہ وقتہ کیا زہ تمہہ وقتہ چھو دعا قبول۔ بے شک سو چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ  
 ون سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ تو پتہ کر کہ تیاری درای۔ ساری سپد روانہ شہر مصر سُن۔ حضرت یوسف  
 در او پتھہ بابہ صیبس استقبالہ خیطرہ۔ مصرس نزدیک اہس جلیہ اوس حضرت یوسفن اہک عالیشان مکانہ  
 بنو مت۔ گوڈہ نیک ملاقات سپد تھن تھہ مکانس اندر فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰی يُوْسُفَ اَوْى اِلَيْهِ اَبُوْیْهِ  
 تھس یلہ ژای تم اتھ مکانس اندر حضرت یوسفن نشہ تمو ڈر پانس بھتھل جائے حضرت یعقوبس بیہ  
 والدس یا خالس تعظیمہ کن وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَانَ سَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ حضرت یوسفن دو پچھ وون اثر و شہر

وَحَرُّوَالَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ  
 قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي  
 مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ  
 الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ  
 إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ١٠٠ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ

مصرس منز۔ خدائے یوزھہ تیرے روز و تیرے خاطر جمعی سان۔ جدائی ہند تہ قحطک غم کوس اللہ تعالیٰ ان۔ تو  
 پتہ یلہ مصرس منز ژای تیرہ و اتا و تم حضرت یوسفن شاہی مملاتن اندر و رقعہ ابویہ علی العرش بیہ  
 بہناون تم دوشوے پائس سیت شاہی بخش پیٹھ۔ تمہ ساتہ سہز تہن عجیب کیشیاہ۔ حضرت یوسفن  
 عظمت سہز تہمدین و کن پیٹھ وَحَرُّوَالَهُ سُجَّدًا تمہو ساروی دمت تہن سجدہ وَقَالَ يَا أَبَتِ  
 حضرت یوسفن دوپ ای میانہ باہ صبیہ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ ای کیا حض اوس میانہ  
 خوابک تعبیر۔ اُس بروٹھ مہ و جھمت اوس قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا پز پانھ میان پروردگارن کور میون  
 خواب حق تہ یوز وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ پز پانھ رنگہ رنگہ گور مہ نسبت میان  
 پروردگارن احسان۔ اکھ گوڈئس یو قید خانہ نشہ باعزت، جزمہ نشہ بالکل بری توپتہ و اتوئس سلطتجس  
 مرتبس و جَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ جہہ ساری و اتا و کوہ یوت مہ نشہ نمبرہ پیٹھ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ  
 الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي یہ سوری سپد شیطانہ سندہ سبہ مہ منز تہ میانین بائن منز اختلاف  
 تہ فساد تراونہ پتہ۔ تم تراویو اوسہ منز سو اختلاف۔ تمہند خیال اوس ساری عمر ہا میا یونہ اُس اکھ اُس  
 سیت۔ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ پز پانھ میون پروردگار چھوڑت تدبیرہ  
 کرہون۔ تمہ خیترہ یہ سو یرھان چھو۔ بے شک سو چھو سیٹھاہ زانہ ون سیٹھاہ جھمتہ وول۔ امہ پتہ رود تم  
 ساری اتھ میصرسی اندر خوش و خوشحال۔ یوتان حضرت یعقوبس سمہ عالمہ گدھگ وقت ووت۔ تمو کر  
 وصیت ای زہ بوگھہ ملک شامس اندر و اتاوت و فن کرن پنہ نین بزرگن سیت۔ تمہ پتہ سپد حضرت



وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّنِي  
 بِالصَّالِحِينَ ﴿۱۰۱﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ  
 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿۱۰۲﴾  
 وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۳﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ

یوسف سے آخر تک اشتیاق۔ تم کو دعا رَبِّ قَدْ أَنْتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ای میانہ پروردگارہ پزیر پاٹھ ژہ کرتھ مہ عطا پرتھ رنگہ نعمو۔ ظاہری تہ تہ باطنی تہ۔ ظاہری گنیمہ سلطنت، پادشہت، باطنی گنیمہ کہ بو پکھو و تھس خوانن ہند تعبیر فاطر السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ای آسان تہ زمین ہندہ پیدہ کروہہ۔ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ژہی وھو کہ میون کار ساز دنیاءس منز تہ آخر تہس منز۔ تھہ پاٹھ میانہ سارے کامہ ژہ دنیاءس منز انجام دژ تھ تھہ پاٹھ و اتنا و میانہ آخر تہ کامہ تہ انجام تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ سیمہ عالمہ ہند مہ فرمانبر داری ہندس حاکس منز۔ ہیہ و اتنا و مہ نیکو کارن سیتِ ذَلِكَ یہ قصہ وھو مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ غیبہ پوٹھر و آندرہ تھس آسہ و حیرہ پاٹھ سوز توہہ کن یار رسول اللہ۔ کیا زہ توہہ نغمہ اوس نہ و حیرہ و رای ہیہ کینہہ ذریعہا سیمہ سیتِ توہہ یہ قصہ معلوم سپدہ ہا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ہیہ آسہونہ تھہ حضرت یوسف سندین بائکن نغمہ تھہ ساتہ یلہ تمو پھن ارادہ ہختہ کور حضرت یوسف تھس منز تراونہ خیطرہ ہیہ آس تم تھہ خیطرہ تدبیر کران کہ بابہ صییس و توی تھہ پاٹھ تہ تم کڈو کہ تھہ پاٹھ۔ ہیہ تھہ تھہ یقینی تھہ یوزونہ یہ قصہ کانہہ نغمہ لہذا تھہ یہ صاف دلیل تھہ ہندس نبوتس پیٹھ تھہ ہندس صاحبِ وئے آسٹس پیٹھ وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ باوجود آل کرن نہ پڑھہ توہہ واریاہ لو کہ اگر چہ توہہ آسٹس سیٹھاہ خواہش سچ۔ تھہہ ایمان نہ آندہ سیت وھونہ توہہ کانہہ نقصان وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ کیا زہ تھہ وھو نہ منگان تھن نغمہ اُمہ قرآن مجیدہ خیطرہ کانہہ مزوریہ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

مَنْ أَجْرَانِ هُوَ الْأَذِ كُرُّ لِلْعَالَمِينَ ۱۳ وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۱۴  
 وَمَا يَوْمُنَا مِنْ أَكْثَرِهِمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ۱۵ أَفَأَمِنُوا أَنْ  
 تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً

لِّلْعَالَمِينَ چھونہ یہ قرآن مجید نہیں تہہ سکن پیٹھ ہران چھوہ مگر بد نصیحت عالمین ہندہ خیرہ۔ بس نہ  
 اتھ مانہ تمس چھو پائس نقصان وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا  
 مُعْرِضُونَ چھہ پانٹھ تم لو کہ مکر نبوت چھہ پانٹھ چھہ تم مکر توحیدتہ۔ کیا زہ کاتیاہ آیات تہ نشانہ  
 خدایہ سندس گن آسکس پیٹھ تم آسمان تہ زمین منز چھہ تم کو کہ پکان چھہ۔ تم آیات و چھان چھہ  
 تم چھہ تمو آیا تونشہ بے توتھی کران وَمَا يَوْمُنَا مِنْ أَكْثَرِهِمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ یہ چھہ اکثر لو کہ  
 تم خدائیں پڑھہ تہ کران چھہ باوجود آل چھہ تم مشرک، شرکچہ کامہ کران۔ یعنی زیوہ سیت چھہ ساری  
 ونان کہ اللہ تعالیٰ ای چھو مالک تہ رزاق۔ مگر باوجود آل چھہ کس شریک ٹھہراوان۔ چنانچہ کفار مکہ  
 آس ونان سون رُب چھو اللہ تعالیٰ تو پتہ آس پو تلین سجدہ کران ملائکن خدایہ سزہ کورہ ونان۔ یہود  
 چھہ خدائیں مانان مگر تھہ سیت چھہ ونان حضرت عزیر چھو خدایہ سند پٹو۔ چھہ پانٹھ چھہ بعض لو کہ عالمن  
 تہ راہن خدایہ سزنا کاین اندر اختیارہ وال زمان۔ واریاہ لو کہ چھہ قبر پرستی پیر پرستی، تعزیہ پرستی  
 سیت توحیدہ کس چشمہ مصطفیٰ آس مکہ رتہ گدل کران۔ کیتیاہ چھہ توحیدک دعویٰ کثرت ہوا پرستی  
 سیت، پٹن سود دعویٰ باطل کران، بدعتن، پائے ٹھہراو متین چیزن ہنز پیروی کران۔ تہ دلیل نہ  
 کتاب و سنتس اندر گنہ جایہ موجود چھہ۔ لہذا توحیدہ وراہی خدائیں ایمان اُن تہ پڑھہ گرن چھہ بے کار۔  
 چھہ ایمان اُن تہ نہ اُن چھو برابری۔ لوکن ہنز پڑھہ حالت آتھہ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ  
 عَذَابِ اللَّهِ چھہ تم سوکھس تہ اطمینان اندر بہتھہ سمہ نشہ کہ تم کیتیاہ خدایہ سندہ عذاب تھہ بلایاہ  
 واتھہ یوسہ تم پر تھہ طرفہ ولہ یہہ اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تہ چھہ واتھہ قیامت ہچہ

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۰۷﴾ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى  
 بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰۸﴾  
 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ  
 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰۹﴾

تہ معجہ تم تین نہ یہ کجاریہ۔ غرض شرک و کفر چھو متقاضی عذابس۔ سو ذنیاءس اندر ایمن یا آخرتس  
 اندر۔ تھ گن نظر کمر تھ اوس لوکن لازم عذابس کھوژن۔ کفر و شرکہ نشہ پتھ روزن۔ عذاب دنیوی  
 تہ عذاب اخروی نشہ پن پان بچوان قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي  
 فرما دیو کہ تہہ یارسول اللہ توحید پوز اسن بیہ چھہ میان و تھ۔ نادھجوس بودوان لوکن معبود برھتس  
 گن کامل واقفیت حاصل آتھ۔ اکھ بودیہ سمو میان پیروی کمر۔ یعنی مہ نشہ چھہ توحید و رسالتس بیٹھ  
 دلیل۔ سمو لو کومہ پڑھ کمر تموتہ کمر پڑھ دلیل بود تھ بے دلیل تھہ گن چھوس نہ بوکانہ دعوت  
 دوان۔ لہذا چھو حاصل بیہ کھہ کہ اللہ تعالیٰ چھو کھوی۔ بو چھوس تہہ گن لوکن نادوان وَسُبْحَانَ اللَّهِ  
 منزہ تہ پاک چھو اللہ تعالیٰ شریک آسنہ نشہ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بیہ چھوس نہ بوہرگز خدا س  
 شرک اندہ نیواندرہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا بیہ سوزنہ اسہ توبہہ بروٹھ پیغمبر۔ مگر تم ساری  
 آس مرد، انسان، ملک آس نہ نُوحِيَ إِلَيْهِمْ وحی آس آس سوزان تمن گن مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ  
 تھے آس شرن ہند روزن وال۔ گامن ہند نہ۔ سمو نہ تمن ایمان اُون تہ پڑھہ کر تم کمر اسہ عذابس  
 گرفتار تی ہنہ تمن مکہ کین کافرن تہ۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِهِمْ کیاہ سمو لو کہ چھنا پھیر مت زمینس منز کمنہ طرفس بس وچھہ ہن تم کیاہ انجام چھو سپد مت  
 تمن مکن ہند سمو تمن بروٹھ خدایہ سندین پیغمبرن انکار کورمت چھو۔ یاد تھا ووتھہ ذنیاءس منز  
 روز تھ تہہ کھرونا فرمانی اختیار کروہ سو ذنیاء چھو فانی وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ البتہ

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرَّسُولُ وَاظُنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوْا جَاءَهُمْ  
 نَصْرًا مِّنْ رَبِّهِمْ مِّنْ نَّشَأٍ وَّلَا يَرُدُّ بِأَسْنَانٍ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۱۰﴾  
 لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ  
 حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ  
 تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱۱﴾

آخر تک گرہ چھو بہتر تمن لوکن ہندہ خیطرہ ہم خدائس کھوژن۔ مگر کہ نغمہ روزن ہتھ کیاہ وندہ چھوہ تا  
 توہمہ فجرہ تران کہہ فانی ناپائیدار چیز اختیار کرن چھا جان کہہ سو چیزئس باقی تہ پائیدار آسہ۔ ہر گاہ توہمہ  
 تاخیر عذابہ سیت خبہ تہ شک پیدا سپدان چھو عذابہ کس واتس اندر۔ یہ چھوہ تہنہز سخت غلطی کیاہ  
 برو تھمن کافرن تہ آہ ز تھمہ ز تھمہ مہلوہ وندہ۔ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَرَ الرَّسُولُ تا اینکه یلہ نامید سپد بیخبر  
 تہمہہ ایمان انہ نغمہ وَاظُنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كَذَّبُوْا بیہ کورٹمانہ تمو کہ بیشک تمن سیتئس وعدہ آہو کرنہ سو  
 آوند وندہ پورہ کرنہ۔ خبر چھا آس ماگہ توئس نغمہ اپز زہر جَاءَهُمْ نَصْرًا مِّنْ رَبِّهِمْ تم آس یہ  
 خیال کرنی۔ اتی دو چھ سون مدد تہ یاری۔ ئس آو نجات وندہ تمن یہند آسہ یو تھ۔ یعنی با ایمان تہ  
 مؤحدن۔ کافر آہی امہ عذابہ سیت ہلاک کرنہ وَلَا يَرُدُّ بِأَسْنَانٍ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ کیاہ پتہ چھوہ  
 یوان رفتہ سون عذابہ نافرمان نغمہ۔ بلکہ چھو عذاب تمن بیٹھ ضرور واقع۔ پدان۔ اگر چہ ژیر گرتھن تھ  
 اندر۔ لہذا روزن اتھ خیال اندر فھار مکتہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ پز پاتھ  
 چھ حضرت یوسف تہ تہندین بائسن ہندس قصص منز بد عبرت عقلہ والین ہندہ خیطرہ مَا كَانَ حَدِيثًا  
 يُفْتَرَىٰ آس نہ یہ کتھاپائے ٹھرو نہ آمز وَلَٰكِن تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ  
 بلکہ چھو یہ تصدیق تھہ مضمونئس ئس لمہ برو تھہ کتابن منز بیان کرنہ آمت چھوہ۔ یہ چھو تفصیل تہ  
 وضاحت پز تھہ چیز چ۔ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْمُؤْمِنُوْنَ بیہ چھو بوڈ ہدایت تہ بدر رحمت تمن  
 لوکن ہندہ خیطرہ ہمو ایمان اون۔

## سُورَةُ الرَّعْدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 التَّرْقِيبُ أَيْكَ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ  
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ① اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ  
 عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  
 كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ② يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ  
 بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ③ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا

التَّرْقِيبُ اسم گئے حروف مقطعات میں ہند معنی زلزلہ پانہ خدا ایتک الکتب اسم چھہ قرآن  
 مجیدک آیات۔ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ یہیہ توبہہ کن نازل آؤ کر نہ تہندس پروردگار ہندہ  
 طرفہ یہ چھو بالکل ہند۔ نہ اوس منگان کہ ساری لوکن ہنز گچھہ تھہ پڑھ کرن۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
 لَا يُؤْمِنُونَ مگر واریاہ لوکہ چھہ پڑھ کران سم شیطاُن و تھہ راوہ راؤ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ  
 بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا خدا گوسوی قدرتہ وول سم آسمان بلند کر تھہو وراہ۔ وچھان چھو کہ تھہ  
 تم آسمان تھہ پاٹھ۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ تو پتہ سڈ مستوی عرش پیٹھ۔ تھہ  
 پاٹھ پیٹھ پاٹھ تھہدس شانس شوہہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى یہیہ کرن  
 آفتاب نہ زون سخر نہ رام پریتھ اکاھ چھو سمو دو یو آندرہ پکان پنہ نس پنہ نس مدارس پیٹھ مقررہ  
 و قس اندر۔ چنانچہ آفتاب آس و رہس پن مدار طے کران۔ زون چھہ آس رتیس طے کران یڈبڑ  
 الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ سوی چھو تم سارنی کامین ہند تدبیر کران سمہ عالس آندر واقع سپدان چھہ۔  
 سوی چھو تفصیل نکوینی نہ تشریحی دلیلہ صاف صاف بیان کران لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ تھہ  
 تہہ قیامتک دوہ پنہ نس ہر وردگار س سیت ملاقاتک نہ نس نشہ حاضر سپد نک یقین کرو وَهُوَ الَّذِي

رَوَّاسِي وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِجَاجًا ذَائِبًا  
يُعْشَى الْبَيْلَ النَّهَارَ طَائِفًا فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳﴾  
فِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَبَعَرَةٌ وَمَجْمَعَةٌ مِنَ الْأَعْنَابِ وَزُرْعَةٌ وَنَخِيلٌ  
صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُقِضَلُ بَعْضُهَا  
عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ طَائِفًا فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۴﴾  
إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا إنا لَفِي خَلْقٍ

مِنَ الْأَرْضِ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَّاسِي وَأَنْهَارًا یہ گو خدا سب سے زمین و ہر دو آئس پیٹھ۔ یہ کمرن تھ منز پیدہ  
کوہ ناوہ ہند لنگر ہی بیٹھ سو آئس پیٹھ قرار کرہ۔ یہ پھرہ ون تھ زمینس اندر جو یہ تہ دیواو وَمِنْ كُلِّ  
الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِجَاجًا ذَائِبًا یہ کمرن پر بیٹھ میوک اتھ منز زیز قسم جُورہ جُورہ، مدرتہ ژوک۔  
یُوٹھ تہ میوٹھ۔ اک ٹمہ رنگہ بیاکہ یہ رنگہ۔ اک ژھوٹ بیاکہ زیوٹھ۔ اکھ رود بیاکہ ڈلوم یُعْشَى الْبَيْلَ  
النَّهَارَ سومی چھوراژ ہزہ تاریکی سیت ڈبگ گاش ولان تہ پوشیدہ تھاوان لَانِ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ بے شک اتھ منز چھہ واریاہ دلیلہ۔ خدایہ سندہ وحدانیتہ چہ۔ فبرہ کرہ وین ہندہ خیرہ۔  
بیٹھ پاٹھ چھہ یہ دلیلہ خدایہ سندہ وحدانیتہ چہ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَبَعَرَةٌ یہ چھہ زمینس منز زینک  
واریاہ مخرہ، قطعہ، کچھ کچھ۔ سم باوجود کچھ آسکہ بیون بیون تاثیر تھاوان چھہ۔ وَجَمْعَةٌ مِنَ الْأَعْنَابِ  
یہ چھہ ڈچھہ باغ وَزُرْعَةٌ یہ چھہ مختلف کھہہ۔ یعنی زرعی زمین وَنَخِيلٌ یہ چھہ خزر کل صِنَوَانٌ  
وَغَيْرُ صِنَوَانٍ دو شاخل یہ اک شاخل یُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ یعنی چھوٹک یوان دنہ اکی آہ سیت  
وَنُقِضَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ باوجود آک چھہ فضیلت دوان آس اژین اژین پیٹھ میون اندر  
(یعنی زمین کسوی، آب کسوی، مگر میوہ تہ پھل بیون بیون لَانِ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ پزپاٹھ  
اتھ اندر چھہ بچہ دلیلہ خدایہ سندس گن آس پیٹھ عاقل تہ سمجھدار لوکن ہندہ خیرہ وَإِنْ تَعْجَبْ  
فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا إنا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ یہ ہر گاہ تمہ کئے کچھہ پیٹھ تعجب کمر وتلہ چھہ

جَدِيدُهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ فِي  
 أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۰﴾  
 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ  
 قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى  
 ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۱﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ

بجس لایق کافرن ہنزیہ تھے کہ کیاہ سالیلہ اسہ میوہ گامڑ آسہ تو پتہ سموہ آس دوبارہ بیہ پیدہ کرنہ قیامتک  
 دوہ۔ بجس لایق جھہ یہ تھے آئی کہ تمین احمقن جھونہ تران فخرہ کہ تم ذات پاکن ساری مخلوق کمر پیدہ  
 کرن گوڈنی۔ تمس نش کیاہ عجائب جھو دوباریہ تم پیدہ کرن اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ تم لو کہ جھہ  
 تھے سموا انکار کور پنہ نس پروردگار س کیا زہ سمو کور پروردگارہ سندس دوبارہ پیدہ کرنس پیٹھ قدرتہ وول  
 آسس انکار اُولَئِكَ الَّذِينَ فِي أَعْنَاقِهِمْ یعنی لو کن ہنزن گردن منز آسہ نال جہنمک طوق  
 اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تھے لو کہ جھہ نارس منز واتن وال۔ تھے منز جھہ  
 روزن ہمیشہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ بیہ جھہ تم کافر توبہ نشہ بانبر کران عذابہ کس  
 واتہ نس اندر۔ عافیتک معیاد ختم جھونہ بروٹھی جھہ تم مصیبتک تہ عذابک مطالبہ کران وَقَدْ خَلَتْ  
 مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ حال جھہ تمین بروٹھ جھہ کافرن تہ نافرمان پیٹھ عذابک واقعات گذر سمت۔  
 یمن پیٹھ عذاب نازل کرن کوسہ بدتھ جھہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ مگر تھہ  
 جھہ یثی کہ تہمدس پروردگارہ سند شانِ حلم و عفو جھونہ پریتھ لو کٹس بدس گنہس گر فاق کرن یژھان۔  
 سو جھو لو کن ہند ظلم و ستم و چھان تو پتہ جھو و رگزر کران وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ بیہ جھہ یہ تھے  
 تہ کہ جھہ پروردگار جھو سخت عذاب کرہ ون یقیناً۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس منز جھہ دوشوے صفت مگر پریتھ  
 صفحہ ظورہ خیطرہ جھہ شرطہ اسباب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ بیہ

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝۸۰ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ  
 الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۝۸۱ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِقَدَرٍ ۝۸۲ عِلْمُ الْغَيْبِ  
 وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى ۝۸۳ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ  
 وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝۸۴  
 لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ أَبْيُنٍ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ ۝۸۵

جہہ وان اسم کافر کیا زہ جھونہ امس پیغمبر س پیٹھ کانہہ خاص معجزہ (بیس آس ژھانڈان جہہ) نازل  
 سپدان اسمس پروردگار ہندہ طرفہ اثباتت منذر اولیٰ قومی ہادی جہہ نہ حض جھونہ مگر نیم  
 گرہون۔ بیہ جھونہ تہ ہادہ ون۔ تہہ پاتھ پر تہہ قومہ خیطہ اکھ اکھ تہہ ہادہ ونہ اتاں گذر یومت  
 جھو۔ توہہ جھونہ امیک اختیار کہہ تہہ کیا ہوتی سہ معجزہ بیس تم طلب کرن **اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ**  
**أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ** اللہ تعالیٰ جھو زانان تہ سو روی تہ تھان جھہ پتہ یڈ منز پر تہ  
 زنانہ۔ گور جھان پتہ۔ پور جھانہ اوڈی۔ بیہ جھو زانان پتہ دانہ ہند ژھون تہ ز تھن۔ ژن تہ ژور نہ سن۔  
 یعنی کم سپدان تہ زیادہ سپدان **وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِقَدَرٍ** پر تہہ چیزہ جھو تس نشہ خاص اندازہ موجب  
 مقرر کرنہ امت **عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى** سو جھو پر تہہ پوشیدہ چیز تہ نون چیز زانہ  
 ون۔ سو ی جھو بوڈ تہ تھو **سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ**  
**وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ** برابر جھو خلیہ سدس علس نشہ توہہ اندر سو شخص بیس لو تہ تہہ کرہ بیہ سو شخص بیس  
 بدہ تہہ کرہ۔ بیہ سو شخص بیس رات ہمزہ اندہ گتہ منز کھٹت روزہ بیہ سو شخص بیس دوہلہ نون پاتھ کامہ کران  
 آسہ۔ اور ہور پھیران آسہ۔ تہہ پاتھ سو پر تہہ اس زانان جھو تہہ پاتھ جھو پر تہہ آسز۔ حفاظت تہ کران  
**لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ أَبْيُنٍ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ ۝۸۵** پر تہہ انسان سزہ حفاظت خیطہ  
 جھہ تم تھامت تہ مقرر کر مت کہہنہ ملک اسم اکھ اس پتہ کامہ پیٹھ یوان جھہ تہ گڑھان جھہ تہ جھہ  
 روزان اس انسان بروٹھ کن تہ، تھر کن تہ۔ راہ جھہ تہ حفاظت جھہ امس انسان کران وار بہو بلا یونشہ



مَنْ أَمَرَ اللَّهُ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا  
 بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ  
 مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاِلَّا ۝ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا  
 وَيُنزِلُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَيَسْمِعُ الرِّعْدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ  
 مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ

خدا یہ سب سے حکمہ سیت۔ امہ سیت گزہ ہر نہ زان کہ یلہ ملا یک چہہ پر ہتھ کس حفاظت تہ را چہہ کران لہذا  
 یہ خوش کرہ تہ تہ کمر و۔ کفر و مصیبت تہ نا فرمانی کمر و۔ کیا ہ پروا چھو۔ ملا یک چہہ را چہہ۔ یہ خیال کران  
 چھو محض لغو۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ اگر چہ سو چھو نہ ابتداء کا نہ عذاب کس گرفتار کران چنانچہ فرماوان چھو  
 إِنْ أَرَادَ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ہنز یا اللہ تعالیٰ چھو نہ بدلاوان کنہ قومہ  
 کس رتس حالس صلا حقیس یوتان نہ تم پائے بدلاوان چہہ رتس حالس تہ صلا حقیس نا فرمایو سیت یلہ تم  
 پنہ نس صلا حقیس منز خلل تراوان چہہ۔ اللہ تعالیٰ چھو تہ ہرہ خیرہ عذاب تہ مصیبت تجویز فرماوان  
 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ ہب یلہ اللہ تعالیٰ یزہان چھو کنہ قومہ خیرہ عذاب تہ مصیبت اوہ چھو  
 نہ تہ عذابس تہ مصیبتس کا نہ چیز اہ دفع تہ دور ہیکان کر تہ سو چھو ضرور واقع ہکان وَمَا لَهُمْ مِنْ  
 دُونِهِ مِنْ وَاِلَّا ہبہ چھو نہ تم لوکن تمہ وقتہ کا نہ اکھاہ مددگار ہیکان سپد تہ نس ورا ی حتی کہ تم  
 ملا یک تہ چھنہ ہیکان حفاظت تہ مدد کمر تہ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ  
 السَّحَابَ الثِّقَالَ سو پروردگار گو سوی نس توہمہ بارشہ ہمدہ وقتہ ہاوان چھو وزلمہ نہ نہ گرہ و نہ تہ اندر  
 تمکہ پتھر پینک خوف تہ آسان چھو تہ تمہ منزہ بارش تہ زود پخت امید تہ آسان چھہ۔ ہبہ چھو سوی پیدہ  
 کران تہہ ابرس نس زودہ سیت گو بیومت چھو آسان۔ وَيَسْمِعُ الرِّعْدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ  
 خِيفَتِهِ ہبہ چہ گرا یہ تسبیح پران تہ ہدس حمدس سیت ملو تہ تسنز پاکی بیان کران تہ ہر  
 تعریف کران ہبہ چہہ ملا یک تہ تسبیح تہ حمد پران تس پروردگار سبہ خوفہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿۱۳﴾  
 لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ  
 لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا كِبَاسٌ كَفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ  
 بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿۱۴﴾ وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ  
 مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْمُهُمُ بِالْغُدُوِّ  
 وَالْأَصَالِ ﴿۱۵﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ

فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ <sup>بہ</sup> چھو سؤی ترے تراوان۔ سؤی ترٹھ چھو واتناوان تَس پیٹھ یُسُد سؤ  
 یڑھان چھو <sup>وہم</sup> یُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ <sup>سم</sup> کافر تہ مکر چھہ بحث ہیوان کران  
 توہہ سیت یارسول اللہ تَس خدایہ سدس حقس اندرئس عظیم الشان چھو۔ بہ چھو سخت رشن وول۔ تَس  
 پزہ کھوژن۔ مگریم چھنہ تَس سُنہ قسمہ کھوژان تَس چھہ شریک ٹھراوان۔ بہ چھو سؤ بدن ہندس  
 مگنکس اجابت تہ کران کہ دَعْوَةُ الْحَقِّ تَس شوبہ پز پائٹ نادتہ آلودین حاجتہ وقتہ کیا زہ اجابت  
 کرئج قدرت چھہ تَس یاژ <sup>والَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ</sup> <sup>سم</sup> لو کہ تَس وراى بین باطل معبودن آلو  
 ووان چھہ <sup>لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْئًا</sup> <sup>تم</sup> چھنہ تھندس مگنکس سُنہ قسمہ اجابت کران سُنہ چیزہ سیت۔  
<sup>إِلَّا كِبَاسٌ كَفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ</sup> مگر تھہ پائٹ پتھہ پائٹ کانہہ شخصہ دورہ آئس  
<sup>قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ</sup> تھہ زہ وھراوتھ خیال کرہ سؤ آب گوہیم پانے آس منزواتن۔ حالانکہ سؤ آب ہیچہ نہ پائے  
<sup>قُلْ اللَّهُ قُلْ</sup> اسدہ دورہ آتھ زہ مہوراو نہ سیت آسندس آسس منزواتن۔ پیے چھہ مثال تمن لوکن ہنز سم معبود  
<sup>قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ</sup> برحقس وراى بین معبودن مکان چھہ۔ مگن تہ آلودین شوبہ تَس ئس پریتھہ قسمہ نفع وضررک مالک  
<sup>قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ</sup> چھو۔ ئس پانہ عاجز تہ محتاج آسہ۔ تَس آلودنس منز کیاہ فائیدہ چھو۔ <sup>وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ</sup>  
<sup>قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ</sup> ضللی کافر ن ہند مگن چھونہ مگر بے اثر تہ بے فائیدہ۔ <sup>وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ</sup>  
<sup>قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ</sup> طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْمُهُمُ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ <sup>بہ</sup> چھہ معبود برحقہ سی تم ساری نماز تہ سجدہ کران تم

فَاتَّخَذَتْهُمْ مِّنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لِيَسْلُكُونَ إِلَانْفُسِهِمْ نَفْعًا  
وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ  
تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا  
كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ  
وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۶﴾ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ

آسمان سے زمین اندر چھ۔ بعض مخلوق خوشی سیت۔ بعض مجبور سیدت۔ یہ چھو تہند سایہ تہ نس نماں  
شمس تہ شمس قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تہہ پر ژہیوک آسمان تہ زمین ہند رب کہہ چھو  
تہ جواب ونہ نس اندر کر کن قُلِ اللَّهُ تہہ فرماؤ کہ یوزے اللہ تعالیٰ ای چھو تہن ہند رب تہ  
مالک۔ قُلْ فَاتَّخَذَتْهُمْ مِّنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فرماؤ کہ کیاہ سمہ توحید چہ دلیلہ یوزت بناو کہہ توہہ نس  
درای پن دوست تہ مددگار تم معبود لایس لکون لَانْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا تہ کن نہ اختیار تہ  
طاقت چھو پنہ نین بان ہندہ خیرہ ہنہ نفعک تہ کنہ ضررک بین نفع یا ضرر و اتاوی چھنہ تھی قُلْ هَلْ  
يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ پر ژہیوک گاشدار تہ اون چھا برابری أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ  
وَالنُّورُ بہہ چھاہ تہ گاش برابری۔ یعنی موجدس تہ مخرکس منز چھہ تہہ فرق ایژ گاشدارس تہ انس  
منز چھہ۔ تھے پاٹھ چھہ توحیدس تہ شرکس منز تہہ فرق ایچھہ تہ گاشس منز چھہ۔ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ  
شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ کنہ سمو ٹھہر او خدا نس تم شریک سمو خدایہ سندی  
پاٹھ مخلوق پیدہ کرمت چھہ۔ توپتہ آہہ نہ تہن کا نہہ فرق بوزنہ خدایہ سندی مخلوق اتن منز تہ تہندین  
مخلوق اتن منز قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ تہہ فرماؤ کہ کہ اللہ تعالیٰ ای چھو  
پر تھہ چیزک پیدہ کرہ ون۔ مخلوقات چھہ ساری تہندی یات بہہ چھو سو کھوی پنہ ذاتہ کن تہ صفا توکن۔  
ساری مخلوقاتن پیٹھ چھو غالب، ایچ مثال أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اللہ تعالیٰ ان ترود آسمان چہ طرفہ  
روداہ فَسَالَتْ أَوْدِيًا بِقَدَرِهَا یوزے رود پوک نالو منز پنہ پنہ اندازہ موجب۔ یعنی بدہ نالہ منز

أَوْ دِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّبِيلُ زَبَدًا زَابِيًا وَمِمَّا  
يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ  
مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ هُ فَا مَّا  
الزَّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً هُ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ  
فَيَبْقَىٰ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝  
لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ

زیادہ لو کبیر نالہ منز کم فاحتمل السبیل زبدا زابیا پس نکل ام رودہ وون پائس پیٹھ پوس پیٹھ سیت  
ژھوٹھ تہ لوہہ آس۔ بیاک مثال و ممّا یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیة او متاع زبدا  
و مثله بیه ہجو و تھان تمو چیز و اندرہ سم چیز سم نارس پیٹھ گالان چھہ (سون، رُو پھ تہ ترام ہو) گنہ  
زیوریا سامان بنانہ خیطر ہ پوساہ سمھ آہ کس پئس ہی۔ کذالک یضرب اللہ الحق و الباطل اللہ  
تعالی ہجو پیٹھ پاٹھ پزج تہ لہزج مثال بیان فرماون یعنی ایمانج تہ کفرج توحیدج تہ شرع کمال فرماوان  
فامّا الزبّد فیدھب جفاء تو پتہ ئس پوس ہجو آسان سیلابگ یا سونک تہ رو پگ سو ہجو پائے  
ہو کھت گڑھان تو پتہ ہجو سورا تو تھ یوان شیرنہ و امّا ما ینفع الناس فیکث فی الارض  
مگر ئس چیز لو کن بکت مفید ہجو آسان آب یاسون تہ رو پھ سو ہجو روزان موجود تہ باقی ذیاع اس اندر۔  
پیٹھ پاٹھ ہجو لہزج کلان۔ پوز ہجو ظاہر تہ نون نیران۔ اگرچہ ایزد باوئن کینہہ کالاہ ہزس مگر پتولا کہ ہجو  
پوزوی پزان کذالک یضرب اللہ الامثال پیٹھ پاٹھ ہجو اللہ تعالی لو کن سمھ فخرہ تارنہ خیطر ہ مثالہ  
بیان کران للذین استجابوا لربهم الحسنى سمبولو کو خدیہ سند احکام مان توحید و طاعت اختیار کرنہ  
سیت تہندہ خیطر ہ چھہ رٹمزور۔ سور رٹمزور گنیہ جنت تہ جتھ نعوہ و الذین لم یستجیبوا لہ بیه سمبولو گونہ  
خدیہ سند احکام مان کفر و مصیبتس پیٹھ قائم روزنہ سیت۔ تہندہ خیطر ہ ہجو جہنمک عذاب۔ لو ان  
لهم ثانی الارض جميعا و مثله معہ لافندوا بیه ہر گاہ تہن نشہ تہ سوزوی مال آسہ بہ سارسی زمینس

لَهُمْ قَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ  
سُوءُ الْحِسَابِ ۝ وَمَا أُولَئِكَ بِمُعْتَدِبِينَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ  
الْبَرَاقِ ۝ الَّذِينَ يُؤْتُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ ۝  
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ  
يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ  
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَرَبُّهُمْ سَرَّاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْعُهُمْ

منزہ چھو بیہ تھہ سیت بیہ ثبوت مال ضرور دین بدلہ تمہ عذابہ نشہ موکنہ خیطرہ اولئک لہم سُوءُ  
الحساب تکمیل کوکن ہمدہ خیطرہ چھو بیہ حساب وماؤم جہنم وبتس الیہاد بیہ چھہ تہزی جایی  
نار جہنم کاژاہ چھہ جایا چھہ سو اکنن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعلی آیا سو شخص  
نہیں زمانان چھو بیہ کیندہاہ توہم بیٹھ نازل آؤ کر نہ تہمدس پروردگار سہہ طرفہ تہ سو زوی چھو حق تہ  
پوز۔ سو چھاتس شخصس ہوںس اونس ہرگز بیہ چھہ مثال با ایمانس تہ کافرہ سنز انما یتذکراولوا الالباب  
نصیحت چھہ رتان مگر عقلہ والی الذین یؤفون بعہد اللہ ولا ینقضون العیثاق عقلہ وال گئے تے تم  
پور چھہ کران خدایہ سندس عمدس بیہ چھہ پھلوان تھہ عمدس نافرمائے سیت والذین یصلون ما  
امر اللہ بہ ان یوصل بیہ گئے عقلہ وال تے لو کہ تم جملہ ناوان چھہ تہن حکمن تہن ہمدہ جملہ ناوک حکم  
کور اللہ تعالیٰ ان یعنی صلہ رحم و یخشون ربہم و یخافون سوء الحساب بیہ تم کھوژان چھہ پنہ نس  
خدائس بیہ چھہ سخت عذابک اندیشہ کران والذین صدروا ابتغاء وجہ ربہم بیہ تم صبر کور  
فرمانبرداری بیٹھ بلائسن تہ مصیبتن بیٹھ۔ بیہ گنہونشہ پتہ روزنس بیٹھ پنہ نس پروردگار سہہ رضا حاصل  
کر نہ خیطرہ واقاموا الصلوة بیہ تھاو کہ نماز برپا۔ وانفقوا مہارزقہم سرا وعلانیۃ بیہ کور کھ خرچ تمہ مالہ

بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُوبَى الدَّارِ ۲۲ جَنَّتْ عَدْنٌ  
يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُ وَالْمَلَائِكَةُ  
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۲۳ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ  
عُقُوبَى الدَّارِ ۲۴ وَالَّذِينَ يَبْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ  
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ  
لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۲۵ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

منزہ نِسْ اسی عطا کورکھ، پوشیدہ پائھ تہ ن پائھ ویدرزون بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ بیہ جھہ ذور کران نیکیو  
سیت بدیہ کاغے تمن نسبت بدی کرہ تم جھہ تس نسبت نیکی کران أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُوبَى الدَّارِ تمنی لوکن  
ہمدہ خیطرہ جھوزت انجام آخر تمس گرس اندر سوزت انجام گو جَنَّتْ عَدْنٌ یَدْخُلُونَهَا تمے  
جنت یجھ منز تمن واتن جھوزت روزن جھوزت وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ بیہ تمہدین مالین  
بُدبئن بیہ تمہدین جوزن۔ یعنی مردن زنانہ۔ زنان خاوند۔ بیہ تمہدین ثمرین مرین۔ یمن جنس وارچ  
صلاحیت تہ قابلیت آسہ۔ یعنی تم با ایمان آسن۔ تم تہ واتن جنس تمہدہ برکتہ تمہدہ در جس منز تمہ منز  
تم آسن وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ بیہ آسن ملایکہ اثران تمن نشہ پریتھہ دروازہ کن۔ ونان  
آسجھہ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقُوبَى الدَّارِ ای جنتیو سلام بو یوہ۔ بیہ بڈمز در بنیایہ توہیہ صبرکہ  
برکتہ۔ جہہ کیا زودودین جس پیٹھ مضبوط۔ جس کیاہ رت جھوزتو مقام نِس توہیہ حاصل سپد وَالَّذِينَ  
يَبْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وون گئے تم لوکھ تم پھڑاوان جھہ خدلیہ سند عمد تمکھ مضبوط تہ  
محکم کرنہ پتہ۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ بیہ جھہ ژٹان تم چیز تمن ہمدہ حملہ ناو تک اللہ تعالیٰ آن  
لحم کورمت اوس یعنی آشنائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بیہ جھہ دنیاغس منز فساد تلان گھر تہ نافرمانی سیت  
أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ تمے لوکھ کیا گئے ہمدہ خیطرہ لعنت جھہ۔ سو گویہ خدلیہ سزہ ر حمتہ لغہ ذوری ولہم  
سوء الدار بیہ جھہ تمہدی خیطرہ تمہدہ گره سو گونا جھنم۔ کافر ن ہنز ظاہری دولت و ثروت و جھت

وَقَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿۶۷﴾  
 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ  
 يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ﴿۶۸﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ  
 قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿۶۹﴾ الَّذِينَ آمَنُوا  
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا بِهِ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِيَّ

گوشه نہ یہ دھوکہ لگن کہ تم لو کہ ما آن مورد رحمت کیا زہ رزق کی کیفیت چھہ اَنَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ  
 يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اللہ تعالیٰ ای چھو رزق ہرہ راوان کس یرشان چھو تہ کس بیہ چھو سوی رزق منرتنگی  
 کران کس یرشان چھو تہ کس۔ بیہ چھو نہ رحمت وغضبک معیار وَقَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا کافر چھہ خوش  
 سپدان دنیا چہ زندگی سیت۔ بیہ نہوند خوش سپدان چھو فضول کیا زہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ  
 حالانکہ آخرت چہ زندگی مقابلہ چھند دنیا چہ زندگی مگر حقیر اکہ چیزہ اسمہ سیت تمتح یوان چھو تلمہ کہ کہہ نہ  
 کالا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ بیہ چھہ ونان کافر چھند س نبوتس پیٹہ اعتراض کرنہ  
 خیطر کہہ کیا زہ آوند نازل کرنہ حضرت محمدس پیٹہ نتیجہ معجزہ پنہ کس پروردگارہ سہہ طرفہ۔ بیٹھ  
 برو نغمین پیغمبرن پیٹہ نازل سپدان اوس۔ حضرت موسیٰ سہد عصا ہیو۔ حضرت صالحہ سز و وثن ہش  
 قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ تہہ فرما یو کہ کہ ہنز پائہ اللہ تعالیٰ چھو تہ راوہ  
 راوان کس یرشان چھو تہ کس۔ بیہ چھو سوی تہہ ہاوان پائس کس کس کس ایہ، موجد سپہ کس کس۔ بیہ  
 کس ہزہ وتہ ہند طالب اسمہ۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ سمولوکو ایمان اون۔ بیہ چھہ تہند ول  
 قرار ثان خدایہ سہہ یادہ سیتِ الْآيِنُ كُوَاللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وارہ یوزو کہہ یاد خدا کر تک خاصیت چھو کہہ  
 تمہ سیت چھو با ایمان ہندین دن قرار تہ سکون حاصل سپدان الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا بِهِ کَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِيَّ سمولوکو ایمان اون بیہ کر کیر رزہ عملہ تہندہ خیطرہ چھو دنیا س اندر ت  
 حال۔ بیہ آخر کس اندر تہ انجام۔ با عزت و ابسی کَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي آتَةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أَمَمٌ بِیہ

أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُو عَلَيَّهَا الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ۝ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ السَّمَوَاتُ بَلَّ اللَّهُ الْأُممَ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا لَإِزَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصِيبُهُمْ

پیغمبر پانچو آسہ توہمہ بروئھ پیغمبر سوز بروئھن اُمتن کن شہ پانھ سوزوہ آسہ توہمہ تہ یار سول اللہ اکیس اُمتن کن پیغمبر۔ سہمہ اُمتہ بروئھ واریاہ امر مکرر سموہ چھہ لَتَتْلُو عَلَيَّهَا الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ شہہ نہہ پتر و تمن پیٹھ سو کتاب یوسہ آسہ توہمہ کن بطریق وحی نازل کر۔ تمن ہزہ ہا اتھ جہ نعو پیٹھ شکر دہن۔ اتھ نفیس قدر زانن وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ مگر سم چھہ ناسپاسی تہ کھر ان نعمت کر ان رحمتہ ولس خدا بس قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ نہہ فرما یو کہ سوی رحمتہ وول خدا چھو میون پروردگار۔ کانہ معبوداہ چھونہ تس ورا ی۔ تس پیٹھ کیاہ کورمہ اعتماد تہ توکل۔ بیہ چھوس تس کن یو رجوع کران۔ تس زعہ چھومہ وائن وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ السَّمَوَاتُ بیہ ہر گاہ کانہ قرآنہ یعنی کتاباہ آسہ ہاسمہ سیت کواہ کہہ جاہہ پیٹھ بیس جاہہ کن پکانوہ بیکن یا سہ سیت دور دراز و تھ طے کرنہ بیہ پایامہ سیت مر دہ تھہ بیکن کرناوہ یعنی مر دہ سپد ہن زندہ تمہ سیت کیاہ بنہ ہا۔ سم کافر انہن نہ تو تہ ایمان کیا زہ سم چیز چھہ موثر حقیقی بَلَّ اللَّهُ الْأُمَمَ جَمِيعًا بلیمہ چھو سوری اختیار کنس خدا بس اتھہ۔ سوی بس ہدایت کرہ تس بنہ ہدایت أَفَلَمْ يَأْتِ الَّذِينَ آمَنُوا کیا یوس تہ نا امید سپد نا با ایمان تمن مجزہ ژھانڈہ وین لوکن ہندہ ایمان اندہ نشہ اَنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا کیا زہ اللہ تعالیٰ اگر یوہ ہاسو کرہ ہاسارنی لوکن ہدایت مگر تم یو ژھنہ تہ بعض چھن ہندہ وچہہ۔ لہذا بنہ تس ہدایت یسندہ ہٹھ سو یٹھہ۔ مجزہ و چھن یا متہ و چھن۔ یسندہ حقہ سو ہدایت یرٹھہ نہ تس بنہ نہ کیہنہ تہ۔ مجزہ و چھن یا متہ و چھن۔ وَلَا لَإِزَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصِيبُهُمْ مَاصِنَعُوا قَالَةَ ہمیشہ روزہ کافرن تہ مکرر کھرہ تہ



بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ إِنَّ  
 اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿۴۱﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ  
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَخْذُكُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿۴۲﴾ أَفَمَن هُوَ أَقْوَمُ  
 عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبُهُمْ قُلْ مَن تَدْعُونَ  
 بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَيِّنَاتٌ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 مَكْرَهُمْ وَوَعْدُ وَعَيْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۴۳﴾

تا فرمائی سببه کانه نه کانه مصیبتها نه بلا یاه و اما ان اَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ یاواتیکه بلای گرن نزدیک  
 حَتَّىٰ یَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ یوتان واته الله تعالیٰ سُدَّ وَعْدَهُ یعنی آخر تک عذاب نَسْ مر نه پته شروع سپده اِنَّ  
 اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ پز پات الله تعالیٰ جھو نه پنه نَسْ و عدس بدل کران۔ لہذا جھو تمن پیٹھ عذاب  
 واقع سَدَن یقین۔ تمن لوکن ہند انکار یا استہزاء نه ٹھٹھ یہ جھو نه تو ہی سیت نھو ص بلجہ  
 وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَخْذُكُمْ ہنز پاتھ ٹھٹھ آی کر نه کا تمن  
 پیٹھ برن تم توہمہ برو ٹھ آس کس تراومہ یکہ کینہہ کالاه تم ٹھٹھ گرہ و ن کافر۔ تمہ پتہ رٹ مہ تم نہ  
 کرم گرفتار عذاب فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ نَسْ جھو توہمہ معلومی میون سزاکیتھ اوس تمن نسبت۔ تیو  
 ٹھوی سزاکیاومہ بو تمن ٹھٹھ کرہ و نین لوکن نہ تم توہمہ ٹھٹھ نہ استہزاء کران جھہ اَفَمَن هُوَ أَقْوَمُ  
 عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ آیا سو پروردگار نَسْ قاسم روز تھہ پریتھہ شخصہ سزہ کامہ و چھان نہ ژر ژران  
 جھو سو تراویا تمن توہمہ ٹھٹھ کرہ و نین سزاونہ و رای وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُوبُهُمْ بیہ ٹھرا و مشر کو  
 خدا نَسْ شریک۔ تہہ فرمایو کہ یارسول الله تلاتن ہند ناوتنو۔ اَمْ تَدْعُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ کینہہ  
 جھوہ خدا نَسْ صحیح خبر کران یہ نہ تس معلوم جھو تمام ذنیاعس اندر اَمْ بَيِّنَاتٌ مِّنَ الْقَوْلِ کینہہ محض ظاہری  
 نقلن ہمدہ اعتبارہ جھہ تمن شریک و نان۔ حقیقت جھہ تمن لفظن ہنز کئی بَلْ زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ  
 بلجہ جھہ تمن کافر ن پندہ مغالطہ کتھہ جان یوان بوز نہ سمو ٹھٹھو سیت تم شر کس مبتلا سپد مت چھہ

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿۳۳﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۗ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿۳۴﴾ وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ

وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ بِيہ آئی تم پتھ رشتہ تہ محروم کرنہ سیزہ و سیزہ نعرہ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۗ  
 کس خداؤ تھ راورہ تسدہ حقہ چھونہ کانہہ اکھاہ تھ ہاہون لہم عذاب فی الحیوۃ الدنیا تہمدہ خیطرہ  
 چھو یوڈ عذاب دنیاچہ زندگانی اندرہ سوگو قتل و ضرب و لعذاب الیخرۃ اشقی تہمدہ خیطرہ کس  
 آخر تک عذاب چھو سو چھو زیادے مشکل تہ دشوار وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۗ بیہ چھونہ تہمدہ خیطرہ  
 خدایہ سیدہ تمہ عدلہ نعرہ کانہہ بچاؤن و لادہ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۗ حال تہ کیفیت چھہ  
 تمہ جنتن ہنزمین ہند وعدہ کرنہ آؤپر ہیز گارن ایم شرک و کفر ہ نعرہ پتھ روزن تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
 تمہ کیو کلیو تہ لریو منز آسن جوہہ پکان اُکُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا کھینہ چیز تمہ جنتن ہند چھہ پو شہ ون۔ بیہ سایہ  
 تمہ جنتن ہند چھو ہمیشہ روزہ ون تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ بیہ انجام چھو تمہ تمہ لوکن ہند تمہ  
 شرکہ نعرہ پتھ روزن وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۗ کافر ن تہ مشرک ہند انجام چھونار جہنم وَالَّذِينَ  
 اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ۗ تمہ لوک تمہ کتاب آیہ عطا کرنہ یعنی تورات تہ انجیل تمہ  
 چھہ خوش سپدان تمہہ کتابہ سیت یوسہ توہمہ بیٹھ نازل آیہ کرنہ یعنی قرآن مجید وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ  
 يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۗ بیہ چھہ سمو جماعتو اندرہ تمہ انکار چھہ کران قرآن مجیدہ کس اکس حصص ہتھ منز تہمزہ  
 کتابہ خلاف احکام چھہ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۗ تہمہ فرماؤ کہ مہ آؤنہ حکم کرنہ  
 توحیدس متعلق مگر سیمہ گوئی کہ عبادت کرہ بو کس خدایہ سز۔ بیہ اندہ نہ بو کس شرک کئہ قسیمہ إِلَيْهِ

أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبٍ ﴿۳۶﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِن  
 اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَمَأَلِكُ مِنَ اللَّهِ  
 مِنْ وَرَيٍّْ وَلَا وَاقٍ ﴿۳۷﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ  
 جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ  
 بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِيُحِلَّ لِحُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ ﴿۳۸﴾ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ  
 وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿۳۹﴾ وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضُ

أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبٍ ناد چھوس یودوان سارنی لوکن تس گن بیہ چھو تس گن سارنی رجوع کرن  
 وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا بیہ کور اُسہ نازل یہ قرآن مجید حکمہ عربی پاٹھ۔ چھ پاٹھ بین پیغمبرن  
 خاص خاص زیوہ اندر خاص خاص احکام نازل کتر۔ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ  
 مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَرَيٍّْ وَلَا وَاقٍ بیہ ہر گاہ تمہہ بفرض محال مکرن ہنزن خواہشن، نفسانی خیالاتن  
 یعنی احکام منسوختہ یا احکام محرفن ہنزی پیروی نہ اتباع کتر۔ توبہ نش صحیح علم واتنہ پتہ۔ تلہ چھونہ توبہ  
 خدائس نشہ کانہہ حمایت کرہ وناہ۔ بیہ تہندہ عدلیہ نشہ کانہہ بچا وہ وناہ۔ یہ یلہ گونبی کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلمس سیت معاملہ باقین ہنزی چھنہ تھی۔ اہل کتابو اندرہ بعضیو کور اعتراض کہ نبی کریمس کیا زہ چھ  
 واریاہ زنانہ۔ تمیک جواب چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ  
 أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً بیہ سوز اُسہ پیغمبر توبہہ بروٹھ، بیہ کتر اُسہ عطا تہن شُر باٹھ۔ تمہہ تہ چھوہ تہندی پاٹھ  
 پیغمبر۔ توبہہ اہل و عیال اُسُن کیا زہ چھہ تم کو کتھاہ زانان۔ یہ چھنہ تڑوہہ کتھاہ یوسہ رسالتس تہ نبوتس  
 خلاف چھہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بیہ اوس نہ کانہہ پیغمبر اہل خدایہ سندہ  
 حکمہ وراہی کانہہ آیہ یا معجزہ پیش ہیجہہ ہا کتر تھ لِحُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ پرستھہ وقتہ خیطرہ چھہ مناسبت احکام  
 تہ مناسب واقعات مقرر کرنہ آمت تموی منزہ گے معجزہ تہ آیت يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ  
 وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ تموی احکامو منزہ چھوہ نہوان اللہ تعالیٰ تم حکم تم سوتھشان چھو۔ باقی چھو تھوان تم

الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَفِّيكَ فَأَتَمَّا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا  
 الْحِسَابُ ۝۲۵ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا  
 وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۲۶  
 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ

حکم تم سو پڑھان وچھو۔ تس نشہ چھو اصل کتاب لوح محفوظ بیٹھ منسووی وچھو تفصیل لیکنہ آمت وان  
 مَانُرِيكَ بِبَعْضِ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَفِّيكَ كافر چھ انکار نبوت کرن۔ توپتہ چھہ دپان یمہ  
 عذابک و عید کرنہ یوان وچھو سو عذاب کونہ وچھو نازل سپدان۔ سمہ عذابک اس تمن وعدہ کران وچھہ  
 تمہ منزہ ہر گاہ اکھ حصہ اس توبہ ہاودوہ یعنی توبی تھی کرو کہ اس تم تھہ عذابس گرفتار یا تھہدہ۔ سمہ عالمہ  
 گڑھنکہ پتہ سپدہ نمں پیٹھ سو عذاب واقع خواہ دنیا س منز سپدہ سو عذاب واقع یا آخرتس منز پر تھہ  
 صورتس منز وچھونہ توبہ تمیک خیال لازم کرن۔ کیا زہ فَاَتَمَّا عَلَيْكَ الْبَلْغُ پس توبہ وچھونہ منہ مگر  
 پیغام واتاوان وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اسہ وچھو منہ پر تھہ گار گرن حساب ہیون تہ عذاب کرن۔ تہہ مہ کمر و  
 اچ کا نہہ فجر۔ من کافرن ہند تہ وچھو تجب کہ تم کیا زہ سنا وچھہ عمہ عذابہ کس واقع سپدس انکار کران۔  
 کیاہ تم وچھنا وچھان کہ مقدمات عذاب ہین تھہدہ خیطرہ ظاہر سپدن أَوْلَمْ يَرَوْا آیا تم وچھنا وچھان  
 أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ کہہ اس وچھہ اسلامچہ روز بروز فتحیت تھہدین ملکن اندر نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا اکھ  
 اکھ حصہ زمینک تھہدہ قبضہ اندرہ کڈ تھہ مسلمان ہندس قبضس اندر واتاوان۔ سمہ سیت ظاہر وچھو  
 سپدان اسلامس سپدہ روز بروز فتح تہ نصرت خدایہ سپدہ جسمہ۔ تہنز عملداری وچھہ روز بروز کم گواھان پتہ  
 وچھو تھہدہ خیطرہ اکھ قسمک عذاب بس بدہ عذابک مقدمہ وچھو وَاللَّهُ يَحْكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بس حکم صادر  
 کران وچھو سو وچھو صادر کران لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ کانہ اکاھ وچھونہ تھہدس کھمس پتھ رنہ ون۔  
 عذاب دنیوی آستن یا عذاب اخروی۔ تھہد یو معبودان باطلو اندرہ من تم شریک خدایہ تھہ ٹھہراوان  
 بیکہ نہ کانہ اکاھ تھہ عذابس تھہ رتھہ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بیہ وچھو سو جلد حساب ہیوہ ون۔ حسابہ



## سُورَةُ اِبْرَاهِيمَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 الرَّسْمِ كَتَبْتُ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى  
 النُّورِ لَا يَآذِنُ رَّبُّهُمْ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝۱ اللّٰهُ الَّذِیْ لَهُ مَا  
 فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِیْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ ۝۲  
 الَّذِیْنَ یَسْتَحْبِبُوْنَ الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا عَلٰی الْاٰخِرَةِ وَیَصُدُّوْنَ عَنِ  
 سَبِیْلِ اللّٰهِ وَیَبْغُوْنَهَا عَوْجًا ۝۳ اُولٰٓئِكَ فِیْ ضَلٰلٍۭۤ اَبْعَدٍ ۝۴ وَمَا

الرسم ہمہ حروف مقطعات خدا یہ سی چھو معلوم ہمن حرفن ہند معنی کتب اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ یہ قرآن مجید چھو کتا باہو سے اسمہ توہہ کن نازل کمر یارسول اللہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّورِ بھتھ تہہ امیک مضمون بیان کمر تھ لو کہ کڈو کہ کھر چوکھو منزہ ایمان و توحید کس نورس کن یاذن توہم تہندس پروردگارہ سبہ حممہ سبت اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ کس غالب تہ تعریف کرنہ آفس خدایہ سزہ وتہ کن اللّٰهُ الَّذِیْ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ کس معبود برحق چھو۔ یسند تہ سوزوی چھو یہ آسمان تہ زمین منز چھو یلہ یہ کتاب خدا کس کن و تھ ہاوان چھہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِیْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِیْدٍ ویل تہ افسوس تمن کافرن عذاب شدید ک تم نہ یہ و تھ اختیار کرن لَّا الَّذِیْنَ یَسْتَحْبِبُوْنَ الْحَیٰوةَ الدُّنْیَا عَلٰی الْاٰخِرَةِ بلکہ تم پسند چھہ تھوان دنیا ج زندگی آخر کس پیٹھ۔ وَیَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِیْلِ اللّٰهِ یہ تم چھہ چھہ رٹان لو کن راہ راستس خدایہ سزہ وتہ پیٹھ پختہ نشہ وَیَبْغُوْنَهَا عَوْجًا یہ چھہ ژھانڈان تہ تلاش کران سیزہ وتہ منز چھہ لو کن اندر چھہ شبہات تراون اُولٰٓئِكَ فِیْ ضَلٰلٍۭۤ اَبْعَدٍ تہ لو کہ چھہ زتھہ گراہی اندر بُتلا یعنی یوسہ گراہی پزہ نشہ سیٹھاہ دور چھہ۔ یعنی کافرن چھو شبہ کہ یہ قرآن مجید کیا زہ چھو عربی پاٹھ

أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ  
 مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۴﴾ وَلَقَدْ  
 أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  
 وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۵﴾  
 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ  
 أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

تمنوی جواب چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ بے سوزنداسہ  
 کانہہ پیغمبر اہ مگر تمی زیوہ کلام تہ بیان کرہ و ن یوسہ تہمدہ قویج زیو آس سٹھ سوادہ تمن بیان کرہ خدایہ  
 سند احکام فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ نبتہ کر تھ تہ نئس اللہ تعالیٰ یرشہان چھو نئس چھو گمراہ  
 کر ان۔ سو چھونہ تم احکام مانان نئس یرشہان چھو نئس چھو و تھ ہاوان راہ را احسن ن۔ سو چھو تم احکام  
 قبول کر ان تہ مانان وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سؤی چھو غالب تہ حمتہ و ول وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بے  
 سوزاسہ موسیٰ علیہ السلام بن آیات ہیتہ۔ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ حکم کورس اسہ کہ  
 کڈن مکن قوم گھرہ چو گٹو منزہ ایمانہ کس نورس ن وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِهِ اللَّهُ بے پاوکہ ژ تیس نعمون تہ  
 مہر بائین ہمد دوہیہ تکفین تہ مصیتن ہمد دوہہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ہنز پاٹھ تھ ژ تیس  
 پاوس منزہ چھہ بڈ لغمانہ پر تھ مہر کرہ و نہ تہ شکر کرہ و ن سہہ خیلرہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا  
 نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ بے پاو و ژ تیس یلہ موسیٰ علیہ السلامن ڈوپ پنہ نئس  
 قومس ای قوم یاد کمر و خدایہ سز نعمت یوسہ توہہ عطا کر کوہ یلہ تانجات دیت کوہ فرعونہ سہہ قومہ نشہ  
 یسومونکم سوء العذاب سم توہہ وانتاوان آس کڈر عذاب وَ يَذَّبِحُونَ أَبْنَاءَهُمْ ماران آس  
 تھمدین نیجین وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ بے آس زندہ تھاوان تھمن کورین سمہ بڈ تھ زمانہنہ کن وَفِي  
 ذَلِكَ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اتھ منز آس تھمدہ خیلرہ بڈ آزمائش تھمدس پروردگارہ سہہ طرفہ وَإِذْ

وَيَذَّبُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ  
 مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝۶ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ  
 لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝۷ وَقَالَ  
 مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا وَأَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأِنَّ  
 اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝۸ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  
 قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَشُعُوبَهُ ۝۹ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ أَتَىٰ  
 يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۝۱۰ جَاءَهُمْ رَسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا

تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ بیہ کمر و یاد اکی بنی اسرا نیلویلیہ عام اعلان کور تہجد پروردگار ان اگر تہہ شکر گذاری کمر وتلہ ہر رواوہ یو نعمت و لَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ہر گاہ کفر ان نعمت کمر وتلہ چھو میون عذاب سیٹھاہ سخت۔ سو سخت عذاب گو نعمت آتھہ بن۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لَئِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا بیہ فر مو موسیٰ علیہ السلامن پنے نس قومس، ہر گاہ تہہ کفر کمر و یا کفر ان نعمت کمر وتہہ تنبیہ تم ساری زمینس منز چھہ جنوتہ انسانو آندرہ کانہہ پراو چھونہ تمیگ فَأَنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو بالکل بے نیاز تمام مخلوقن نشہ۔ سو چھو سزاوار حمد و ثنا حمد و پیشس کانہہ یا متہ پیشس أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ای کافر و کیاہ تو بہہ چھنا وا اثر مشر خبر تمکن لوکن ہنز تم تو بہہ برو تھہ آس قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَشُعُوبَهُ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مثلاً نوح علیہ السلامہ سیدہ قوچ، یا قوم عاد، ہود علیہ السلامہ سیدہ قوچ یا قوم ثمود، صالح علیہ السلام سیدہ قوچ خبر۔ بیہ تمکن لوکن ہنز تم تمکن پتہ آی لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ تم آس بے شمار۔ بیت زہ تہندہ گریند زانہ نہ بہ تفصیل کانہہ تہ خدائس و رای جَاءَهُمْ رَسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ تمکن نشہ وات پیغمبر تہنزہ نہہ دلیلہ بیتھ، خدا یہ سزہ کتابہ بیتھ فَرَدُّوا أَيُّهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ہس واتا و تموا تھہ ہن تہندین آس



اَيُّدِيهِمْ فِيْ اَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهِۦ  
 وَاِنَّا لَفِيْ شَكِّ مِمَّا تَدْعُوْنَۙ اِلَيْهِۗ مُرِيْبٍ ۙ ﴿۱۰﴾ قَالَتْ رُسُلُهُمْ  
 اِنِّىۤ اِلٰهٌ شَكُّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ يَدُ عُوْكُمْ  
 لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْۙ اِلَىۤ اَجَلٍ مُّسَمًّى ۙ  
 قَالُوْۤا اِنَّ اَنْتُمْۙ الْاَشْرٰٓءُ مِثْلَنَاۙ تَرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا  
 عَمَّاۤ كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَاۙ فَاتُّوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۙ ﴿۱۱﴾  
 قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ تَحْنُ الْاَبَشْرُۙ مِثْلَكُمْۙ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمِيْنُ

اندر یعنی تم کہہ ناؤ کہ تڑھوپہ۔ وندہ دیت، بھج نہ کینہہ۔ وَقَالُوْا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهِۦ۔ ۱۰۔ ۱۱۔  
 اس چھہ انکار کران تھہ ساری یہ بیٹھ تہہ سوزنہ آمت چھوہ یعنی توحید و ایمان۔ وَاِنَّا لَفِيْ شَكِّ مِمَّا  
 تَدْعُوْنَ اِلَيْهِۗ مُرِيْبٍ۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔  
 کہہ وں چھوہ قَالَتْ رُسُلُهُمْ اِنِّىۤ اِلٰهٌ شَكُّ تھند یو بیغمبر وون تہن کیاہ معبود برھس منزتہ چھا شکی  
 تہہ نہ ہرگز کیاہ تھندہ توحید چہ دلیلہ بھہ ظاہر تہہ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ لہس لہس پیدہ کہہ  
 وں چھوہ آسمان تہ زمین ہند یَدُ عُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ سوی چھوہ توبہ نادووان ایمان لہس لہس  
 تہ اسلام لہس لہس تھہ توبہ برو تھمین گنہن مغفرت گرہ۔ وَيُؤَخِّرَكُمْۙ اِلَىۤ اَجَلٍ مُّسَمًّى۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔  
 چھوہ نہ مگر اسی ہوا انسان۔ توبہ اندر کیاہ زیادتی بھہ سمہ سبت اس تھند وں ماؤ۔ تَرِيْدُوْنَ اَنْ تَصُدُّوْنَا  
 عَمَّاۤ كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔  
 عبادت سان مال بڈبب کران آس۔ ہر گاہ فی الحقیقت تہہ پوز و نان چھوہ فَاتُّوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ  
 تلہہ اُو اسہ نشہ کانہہ نِ دلیلاہ۔ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ تَحْنُ الْاَبَشْرُۙ مِثْلَكُمْ۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ  
 إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾ وَمَا لَنَا  
 أَنْ نَتَّوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا  
 آذَيْتُمُونَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۲﴾ وَقَالَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا الرُّسُلُ هُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا  
 فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳﴾ وَلَنُسَلِّتَنَّكَمُ  
 الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَبَدَ ﴿۱۴﴾ وَاسْتَغْفِرُوا

بے شک اس جھنڈے میں تو ہی ہو انسان وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لیکن اللہ تعالیٰ چھو  
 پن فضل سے مہربانی کران پنے نیو بندو آندرہ کس پیٹھ یڑھان چھو وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا  
 بِإِذْنِ اللَّهِ سانس اختیار س منڑ جھنڈے یہ تمھہ کہہ اَسْ كِيَاہ اُو توبہ نہ پائے کانہہ دلپلاہ ان خدایہ سندہ  
 حکمہ وراے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ با ایمان ہڑہ خدایہ سی پیٹھ توکل کرن وَمَا لَنَا  
 أَنْ نَتَّوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا اسہ تمھہ چیز پیٹھ پتھہ رتھہ خدایس پیٹھ توکل کرنہ نہ۔ حالانکہ  
 اسہ ہا وہ تمھسی سارے رڑہ و تہ۔ سمن منڑ دنیاو آخر تک نفع چھو۔ ہر گاہ توبہ سون وُن ناپندتھہ اسہ توبہ  
 تکلیفی دیو کانہہ غم چھونہ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا اَسْ گرو ضرور صبر تھندین سارنی تکلیفن پیٹھ  
 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ توکل کرن والین ہڑہ خدایہ سی پیٹھ توکل کرن وَقَالَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا الرُّسُلُ هُمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا بیہ دُوب کافر و پنے نین پیٹھن اَس  
 کدوہ تمھہ ضرور پنے نیو شہر و منڑہ نہ پھیر و واپس سانس دینس گن۔ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ  
 الظَّالِمِينَ \* وَلَنُسَلِّتَنَّكَمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ پس سوز اللہ تعالیٰ ان وحی تمن پیٹھن ان کہہ پروانہ ہڑو  
 کینہہ یو چھوس قسم ہاوتھہ فرماوان کہ بوگا لکھ تم ظالم۔ تھندہ گالہ پتہ بسا و وہ تمھہ تھندین شہرن اندر

وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٌ ۝۱۵ مِّنْ وَّرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ  
صَدِيدٍ ۝۱۶ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ  
مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِبَدِيَّةٍ وَمِنْ وَّرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝۱۷ مَثَلُ الَّذِينَ  
كَفَرُوا أَوْ بَرُّهُمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ  
لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الصَّلْوُ الْبَعِيدُ ۝۱۸  
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ يُشَاقِقُوكُمْ

ذَٰلِكَ لَمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَدِيدٌ یہ مہربانی ہے تم لو کہ ہمدہ خیرہ ہم کو ٹران مہ بروٹھ کنہ  
جواب دہی خیرہ وودنہ روزئس۔ یہہ کوٹوڑہ میاہ عذابکس وعیدس **وَأَسْتَفْتُوا وَحَابَ كُلِّ جَبَّارٍ**  
**عَنِيدٌ** توپتہ مٹ فٹہ پیغمبر و۔ اللہ تعالیٰ ان کمر تمن فٹہ عطا۔ توپتہ گو جہند پریتھ کانہ سرکش دشمن نامید  
تہ خوار **مِنْ وَّرَائِهِ جَهَنَّمُ** کس جبار عنیدہ سہدہ خیرہ جھوڈنیوی عذابہ علاوہ بروٹھ نار جہنم ہے منز  
تم واتن۔ **وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ** یہہ پیہ چاونہ سوتتہ جہنم منرسو آب ہےتھ سیت جہنم ہند پیل  
تہ پاک آسہ **يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ** دامہ دامہ آسہ سوچوان سخت یوٹھ آسہ موکھ۔ سو آسہ نہ  
تتھ پیگتھی ہیکان۔ پھک لدتہ بدمزہ آسہ موکھ **وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ** یہہ آسہ کس موج سختی  
مخسوس سپدان بدنہ منزہ پریتھ جایہ۔ والہ گڈو منزہ تان **وَمَا هُوَ بِبَدِيَّةٍ** مگر مران آسہ نہ **وَمِنْ**  
**وَّرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ** تمہہ پتہ تہ آیسس لمتہ خوتہ سخت عذاب **مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ بَرُّهُمْ** مثال تمن  
لوکن ہنزہ سموا انکار کورنہ مگر کور پنہ نس پروردگار **أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ**  
تہنزہ رتہ عملہ ہےتھ تتھ سورہ ڈیرس ہےتھ پتھ واؤ جھسکراوہ سخت واوکہ دوہہ۔ **لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا**  
**عَلَىٰ شَيْءٍ** تم ہیہک نہ تمن ملن ہند کانہہ فائیدہ حاصل کترتھ **ذَٰلِكَ هُوَ الصَّلْوُ الْبَعِيدُ** یہہ گنیہ  
دور ودر ازگمر ای یوسہ رشڈو ہدلیہ نشہ سیٹھاہ دور ہےتھ۔ **أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ**  
**بِالْحَقِّ** ژہ چھو کھناو چھان ای وجہہ وہہ کہہ پزپاٹ اللہ تعالیٰ ان کمر آسمان تہ تہ زمین تہ پیدہ۔ ہنزہ پاٹھ

وَيَا تِ بَخَلْقِ جَدِيدٍ ۱۹ وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللّٰهِ بَعَزِيْرٌ ۲۰  
وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعْفُو اللّٰذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا  
كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ  
شَيْءٍ قَالُوْا لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدَيْتُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجْرُ عَنَّا اَمْ  
صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ۲۱ وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَبٰئِضَةُ الْاَمْرِ  
اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ وَعَدَدْتُكُمْ فَاخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ

یہ سیت تہند قادر مطلق آن ثابت سہان چھو اِن یَشَأْ اَيُّ ذٰلِكَ وَيَا تِ بَخَلْقِ جَدِيْدٍ ہر گاہ سو  
یڑھہ توبہ ساری گرہ فنا۔ توپتہ کرہ پیدہ توبہ بدل بین مخلوقن وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللّٰهِ بَعَزِيْرٌ یہ تہہ  
چھنہ نس نغمہ کینہہ دشوار وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيْعًا بیہ نیرن قیامتگ دوہ قبر منزہ ساری مخلوق خدائیس  
برونٹھ کنہہ جمع سپدنہ خیطرہ۔ فَقَالَ الضُّعْفُو اللّٰذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا نھس وُن کزور۔ تہ تابع لوکھ زورا  
وازن تہ زٹھین اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا بیشک آس آس نادنیاس اندر توبہہ تابع فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا  
مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ نھس بیکوہ تہہ از خدا یہ سدہ عذابہ نغمہ کانہہ حصاہہ آسہ نغمہ دور کز تہہ قَالُوْا  
لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدَيْتُمْ تم زٹھہ دیکھہ ہر گبے آسہ رٹو تہہ ہاوثر آسہما اللہ تعالیٰ ان ضرور ہاوہ ہووہ اس  
توبہہ تہ سوی و تہہ سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجْرُ عَنَّا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ برابر چھو دون آسہ جزع و فزع  
کر و آس یابصر کز و آس بہر حال چھنہ آسہ مؤ کلنجانہہ صورتھاسہ عذابہ نغمہ وَقَالَ الشَّيْطٰنُ بیہ  
دیکھہ شیطان لَبٰئِضَةُ الْاَمْرِ تہہ وقتہ تہہ حکم خدا جاری سپدہ جنتین ہمدہ خیطرہ جنس منزہ واتنک  
چھنمین ہمدہ خیطرہ چھنمین منزہ واتنک۔ توپتہ لگن ساری جھنمی البیس ملامت کرنہ۔ سُو دیکھہ اِنَّ اللّٰهَ  
وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ وَعَدَدْتُكُمْ فَاخْلَفْتُكُمْ ہنز پائٹھ اللہ تعالیٰ ان فرما یووہ توبہہ وعدہ۔ سوی پوز  
عدہہ بیہ کز و مہہ تہ تہہ سیت وعدہ مگر سُو در او ایز وعدہ وَمَا كَانَ لِي عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بیہ آسہ نہ مہہ  
نغمہ توبہہ پیٹھ کانہہ دلایلاہ تہ تجھاہہ یا طاقناہ تہ غلماہ سمہہ سیت لو تہہ مجبور کر ہووہ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ

إِلَىٰ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا اَن دَعَوْتُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَكُوْمُوْنِي وَاَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِبَصِيْرٍ خَلِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِبَصِيْرِيْ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمْ مِّنْ قَبْلُ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۳﴾ وَاَدْخَلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ وَهُمْ فِيْهَا سٰلِمٌ ﴿۱۴﴾ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ﴿۱۵﴾

فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ صرف سہنجوی کہ میرے دیت تو میرے کفر سے نہ۔ تو میرے کرم سے نہ سوجھنے وراوی اجابت تسلیم فَلَا تَكُوْمُوْنِي وَاَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ کس سے کرم و تہہ میرے کرم و ملامت بلکہ کرم و ملامت پنہ نین پانن مَا اَنَا بِبَصِيْرٍ خَلِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِبَصِيْرِيْ دون سے کو وہ نہ ہو تہہ عذابہ نے مولا و تہہ کیا زہ تو میرے کرم و میانس و نہ نس پیٹھ عمل خدایہ سند فرمان موانہ نہ۔ نہ سے کو تہہ میرے عذابہ نے مولا و تہہ۔ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمْ مِّنْ قَبْلُ یو چھوس انکار کران سے اظہار بیزاری کران تہہ جس سے میرے شریک خدایانہ کس پیٹھ از کہ برو تہہ دنیاس اندر اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ یہ تہہ کتھ اندر چھونہ کاہہ شک کہ مشرکن ہندی خیطہ چھو کڈر عذاب وَاَدْخَلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ بیہ بین و اتا نہ تم لو کہ سمو ایمان اون بیہ کر کھ رتھ عملہ تین جتن اندر سمو منز جو یہ پکان آس خلدین فیہا یادن ربوہ ہمیشہ روزن تین جتن اندر خدایہ سہہ لحمہ سیت تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سٰلِمٌ دعاتہند آسہ جتن اندر بلفظ سلام۔ دنیاس منز چھہ سلام سلامتی ہند دعاتہند اندر آسہ سلام سلامتی ہند مبارکباد۔ تین جتن بیہ تہہ پاتھ سلام کرنہ۔ السلام علیکم اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ کیا تہہ چھنا معلوم کہ اللہ

تَوْتِي أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ يَا ذُن رِبَّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ  
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۵﴾ وَمِثْلُ كَلِمَةِ خَيْثَةَ كَشَجَرَةٍ  
 خَيْثَةَ اجْتَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿۴۶﴾  
 يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿۴۷﴾  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ

تعالیٰ ان کڑھ رڑتہ موقع مثال کمر بیان کلمہ طبع یعنی کلمہ توحید چ۔ فر موون کہ سو چھو اکس رتس تہ پاکیزہ کلس ہیو۔ تمہ اندرہ چھو مراد خضر کل۔ میوک مول چھو محکم زمینس منز۔ سسک شاخ چھہ آسان اندر تَوْتِي أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ يَا ذُن رِبَّهَا کس پنن میوہ چھو دو ان پریتھ فصلس اندر خدایہ سیدہ لحمہ سیت۔ یٹھ پاپھ چھو کلمہ توحید لالہ الا اللہ امیک مول یعنی اعتقاد کس با ایمانہ سیدس دلس اندر مضبوط تہ محکم چھو۔ امہ کلک شاخ گئے رڑہ عملہ سمہ اتھ ایمانس پیٹھ مرتب چھہ سپان۔ سمہ قبولیتہ در گاہہ اندر آسان کن و اتان چھہ۔ تو پتہ چھو تھ پیٹھ رضای الہیک دایمی میوہ لگان و یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بیہ چھو اللہ تعالیٰ امہ قسچہ مثالہ بیان کران لوکن ہمدہ خیطرہ بیٹھ تم معانی مقصودہ وارہ بوزن و مِثْلُ كَلِمَةِ خَيْثَةَ كَشَجَرَةٍ خَيْثَةَ اجْتَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ چھہ تہ گندہ کلچ مثال چھہ۔ چھہ کلچ مثال۔ یعنی خر سمہ کلچ مثال چھہ تمہ چھہ کلچ مثال چھہ نہ زمینس منز مول لگتھ آسہ۔ سو آسہ زمینہ منزہ پیٹھ پیٹھ مولہ نیران۔ سو کھہ تہ قرار آسہ نہ تھ کلس پتہ جاہہ۔ سو گوہہ وانگن یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ مضبوط چھہ اللہ تعالیٰ کران با ایمان تمہ مضبوط کلمہ سیت (یعنی کلمہ توحیدہ سیت) دنیاجہ زندگی منز تہ آخرتہ زندگی منز تہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ گمراہ چھو کران ظالمین یعنی کافرزن تمہ مٹوس تہ گندہ کلمہ سیت وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ بیہ چھو سونی کران یہ یرھان چھو أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

دَارَ الْبُورِ ۱۸ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَبَسَّ الْقَرَارُ ۱۹ وَجَعَلُوا لِلَّهِ  
 اِنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۲۰ قُلْ تَسْعُوا فَاِنْ مَصِيْرَكُمْ  
 اِلَى النَّارِ ۲۱ قُلْ لِعِبَادِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يٰقِيْمُوا الصَّلٰوةَ  
 وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ  
 يَّآتِيْكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيْعُ فِيْهِ وَلَا يَخْلٰى ۲۲ اِنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ  
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ  
 مِنَ الشَّجَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِى الْبَحْرِ

کفر و کھلوا قومہم دار البور آبا توہم و جتھوہ تا تمن لو کن کن یعنی مکہ کین کافر کن کن ستمو نعمتہ شکر  
 گذاری بدل کھر ان نعمت کوریہ و اتنوؤ کہ قوم ہن ہلاکتہ کس گرس منز۔ کیا زہ تمن تہ کر کہ کھر ج تعلیم  
 جہنم یصلونہا و بس القرار سوغو جہنم جتھ منز تم و اتن۔ کاژا ہ جتھ جای چتھ سوغ قرار ج  
 وجعلوا لله اندادا لیلضلوا عن سبیلہ بیہ ٹھراو ٹمومو معبود بر حقش شریک۔ جتھ لو کن ڈا کن تہنزہ  
 و تہ نعمہ قُل تَسْعُوا فَاِنْ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ٹبہ فرماؤؤ کہ یارسول اللہ تلو متع ذنیاء س اندر کینہہ  
 کالاہ کھر س بیٹھ روزنہ سیت۔ پزیا پٹ بہر حال جتھو توہم پتولا کہ و اتن ناری کن قُل لِعِبَادِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا  
 یقیمیوا الصلوة ٹبہ فرماؤ میا نین بایمان بدن سم تم کرن خدایہ سز ن نعمن شکر گذاری۔ جتھ پاٹھ  
 کہ تم تھاؤن بر نماز پابندی سان وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيْكُمْ  
 لَا يَبِيْعُ فِيْهِ وَلَا يَخْلٰى بیہ کرن خرچ ٹمہ مالہ منزہ بس اسی تمن عطا کور پو شیدہ پاٹھ تہ ن پاٹھ تہ سؤدوہ  
 بیہ بروٹھ سمہ دوہ نہ خرید و فروخت آسہ نہ دوستی ہند سلسلہ آسہ اِنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ  
 وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الشَّجَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ معبود بر حق گوسوی سم  
 آسمان تہ زمین پیدا کر۔ بیہ سم آسما جتھ طرفہ تر و زود بس کڈن تمی سیت میوہ تہ چھل۔ سؤی کوزن ٹبہند

بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْإِنهْرَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  
 دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ ۖ وَآتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا  
 سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ  
 لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۖ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا  
 الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۗ ۝  
 رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ

رَزَقَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْإِنهْرَ ۖ یہ تھاوین تہندس اختیارس  
 اندرناوہ تہ جہاز۔ تھہ تمہ تہندی حکمہ سیت دریاوین اندر اورہ یورچکن۔ یہ کرن تہندس اختیارس اندر  
 کولہ جوہیہ تہ دریاوِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ ۖ یہ کمرن تہندہ نفعہ خیطرہ مسخر آفتاب تہ  
 زون تم ہمیشہ پکان چھہ پنہہ کامہ سیتِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ ۖ یہ کمرن مسخر تہندہ نفعہ خیطرہ  
 رات تہ دوہ وَآتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۖ یہ دیت نوہ توہہ تمہ منزہ یہ توہہ موعوس پنہہ یرشہہ موجب  
 وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تحْصُوهَا ۖ یہ ہر گاہ تمہ شمار تہ گریند ہیو کرن خدایہ سزنا نعمون تمہ ہیوہ  
 تمن شمار کمر تہہ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۖ ہنر پاٹھ انسان چھو سخت بے انصاف ناشکر گزار وَإِذْ  
 قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ۖ یہ پاوڑ تمیں یلہ ابراہیم علیہ السلامن حضرت  
 اسماعیل تہ حضرت ہاجرہ خدایہ سہہ حکمہ میدان مکس منز انتھہ تہہ تراو۔ تمی وقتہ مٹو کھ دُعا۔ ای میانیہ  
 پروردگارہ یہ شہر (یعنی مئہ شریف) کرتن آمنہ ول شہراہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۗ یہ  
 تھاوہ دورمہ تہ میانین خاص لولاؤن تہ توپلین ہنز عبادت کرنہ نفعہ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا  
 مِّنَ النَّاسِ ۚ پروردگار اپنر پاٹھ ڈال سمونو تلیو واریاہ لو کھ۔ یعنی تم بنیای تہنزہہ گمراہی ہند سبب  
 فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا نَبَّأَهُ مِنْ عَمَلِهِ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَافِرٌ رَّحِيمٌ ۖ وڈن سم تمون اندرہ  
 میان متابعت تہ پیرو کمر سونچھو میون یہہ سم میان نافرمانی کمر، ڈہ کرتن ہدایت کمر تھہ مغفرت۔ کیاہہ



تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ  
 رَحِيمٌ ﴿۳۷﴾ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ  
 ذِي ذُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا  
 الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ  
 وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿۳۸﴾ رَبَّنَا  
 إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ  
 مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿۳۹﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

بے شک زہ چھوک سیٹھاہ مغفرت کرہون سیٹھارحم کرہون رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ  
 غَيْرِ ذِي ذُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ پروردگار اپنز پاٹھ مہ بسوؤ پئن فرزند اسماعیل علیہ  
 السلام تہندہ واسطہ تمسد اولادیتھ میداُس منزئس نہ زراعتہ وول چھو چائس تعظیمہ والس گھرس خانہ  
 کعبس کھتئل ئس بروٹھ پیٹھ یتس موجوداوس یتھ لوکھ ہمیشہ تعظیم وادب کران روزن۔ پئن فرزند  
 بسوومہ اتھ کھتئل رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ پروردگار یتھ تم نماز برپا تھاون نمازہ ہند خاص اہتمام  
 کرن۔ وئیکن چھویہ میدان خشک، بالکل بے آب و گیاہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ  
 ئس کرژہ بعض لوکن ہندول مائل تھن ئن۔ یتھ تھن سیت آباد سپدن۔ چونکہ یتہ چھونہ زراعت  
 وغیرہ کینہہ تہ لہذا وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ کھیاؤکھ تم میوہ پنہ قدرتہ  
 سیت یتھ چان شکر گذاری کرزن رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ پروردگار لہ سون دعا  
 چھو محض محتاجی تہ عبودیتس پیٹھ منی ورنہ زہ چھو کہ زانان تہ سوزوی یتہ اس پو شیدہ تھوان چھہ یتہ  
 سوزوی یتہ اس ظاہر کران چھہ۔ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ یتہ  
 چھون پو شیدہ اللہ تعالیٰ اس نشہ کانہ چیزہ از مینس اندرتہ آسائس اندر الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ

وَهَبْ لِي عَلَى الْكَبِيرِ اسْمِعِيلَ وَاسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ  
 الدُّعَاءِ ﴿۳۶﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي  
 رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿۳۷﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ  
 وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿۳۸﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ  
 اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۗ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ  
 لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿۳۹﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي  
 رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِئْتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿۴۰﴾

پہلی دعا کے کبریا اسماعیل و اسحاق حمد یوں سن معبود برحقس ہم مہ عطا کر پڑتھ زہ فرزند۔ اکھ اسماعیل یلہ بومنتہ و ہر اوس۔ بیاکھ فرزند اسحاق یلہ بواکھ بنت تہ باہ و ہر اوس (۱۱۲) اِن رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ بجز پات میون پروردگار چھو سیٹھاہ بوزہ ون منگنس۔ یعنی دعا قبول کرہ ون۔ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ پروردگار مہ کرتہ نماز گزار و مِن ذُرِّيَّتِي بیہ کر مچھ میانو فرزند و اندرہ تہ بعضی نماز گزار رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ پروردگار ایہہ کرتہ میان ہم دعا قبول رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ پروردگار امغفرت کر میانس ماس ماجہ بیہ سارنی با ایمان سمہ دہہ حساب قائم سپدہ یعنی قیامتک دہہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ بیہ مہ کر ژہ نمائہ اکی مخاطب اللہ تعالیٰ ما چھو بے خبر تمو کا میونفہ سمہ کامہ کافر تہ مشرک کر ان چھہ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ سو چھونہ تین مہلت و ان مگر تھہ دوہس تان سمہ دہہ ذرہ لکن تین لوکن ہنزہ اچھہ تمہ ذہک خوفناک تہ خطرناک عذاب و بہتت مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِئْتُهُمْ هَوَاءٌ دوران آسن تم حسابہ کس مو قفس کن کلہ پنن تھو در تھہ۔ اچھہ آسٹھہ وٹنے یوان تم آسٹھہ درہ لچھوہ ہیور کن۔ بیہ آسٹھہ دل خالی عقلہ نشہ۔ بالکل

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ لَّيْسَ لَنَا نَجْوَىٰ وَنَتَّبِعُ الرَّسُولَ ۖ أَوْ كَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۗ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ۗ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ۗ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۗ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفًا

بدحواس آن گامت وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ بیه کھوژہ ناولو کھ تہہ لوکھ یارسول اللہ تہہ دوہس سمہ دوہہ سمن پیٹھ عذاب واتہ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ عذاب وچھتھ ون سم ظالم پروردگار اٹھلت دتہ اسہ کم کالس تان تَجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ تہہ متھ مس اندر کرہ ہوا اس تہہ سوڑوی یہ ژہ فرماو کھجھ۔ بیه کرہ ہومتابعت تہہ پیروی چانین پیغمبرن ہنز۔ ونہ ایک اسہ ڈٹایہ ناتوہہ ذنیاس اندر پور ٹھلت اَوْ كَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ کیاہ تہہ آسوہ ناقسم ہاوان ازکہ بروٹھ ذنیاس اندر کہ توه چھونہ ذنیاندرہ نیرنوی زانہہ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بیه آسوہ ناتہہ ہسان تھن لوکن ہندین شھرن اندر سمو ظلم کورپان پاس سان نافرمانی کتر تھ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ بیه نیندوہ ناتوہہ اسہ کیاہ معاملہ کور تھن سیت۔ اتھ نافرمانی پیٹھ کیتھ سزا دیت اسہ تھن لوکن وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ بیه کرہ ناسہ بیان توه تھنزہ مثالہ تہہ تہندہ قصہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ہنز پاٹھ سمو کریای ہن ساری تدبیر بیشک تمہہ قسک سموسیت کوہ تہہ پنہ جایہ ڈلہ ہن مگر تم ساری تدبیر سپد بیکار فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخَلَّفًا وَعِدَا رَسُولَهُ ای مخاطبہ ژہ مہہ گر ہرگز یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ کیاہ چھو بدل کرہ ون پنہ نس وعدس نس تم پنہ نین پیغمبرن سیت کور اِنْ اللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ہنز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھو غالب انتقام ہینہ وول۔ نس بیکہ نہ پتھ رتھ انتقام تہہ بدلہ ہینہ نھہ کاہ۔

وَعِدَہٗ رُسُلَہٗ اِنَّ اللّٰہَ عَزِیْزٌ ذُو اَنْتِقَامٍ ﴿۳۶﴾ یَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ  
 غَیْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوا لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۳۷﴾ وَتَرٰی  
 النَّجْمِیْنَ یَوْمَیْذٍ مُّقَرَّنِیْنَ فِی الْاَصْفَادِ ﴿۳۸﴾ سَرَّابِلُہُمْ مِّنْ  
 قَطْرٍ اِنِّیْ وَتَعٰشٰی وُجُوہُہُمْ النَّارِ ﴿۳۹﴾ لِیَجْزِیَ اللّٰہُ کُلَّ نَفْسٍ مَّا  
 کَسَبَتْ اِنَّ اللّٰہَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ ﴿۴۰﴾ ہٰذَا بَلٰغٌ لِلنَّاسِ وَلَیِّنْذُرًا  
 بِہٖ وَلَیَعْلَمُوْا اَنَّہُمْ اِلَیْہِ وَاٰحَدٌ وَّلَیِّدٌ کَرُوْا الْاَبَابَ ﴿۴۱﴾

غَیْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ سمہ دہنہ بدلاونہ پیہرہ پیہ زمین میں زمینس سمیت پیہ پیہ آسمان میں آسمانس  
 سمیت وَبَرَزُوا لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ساری لو کہ نیران پنہ نیو جائو اندرہ کنس قہرہ والس خدا ئس بروئہ  
 کنہ جواب دنہ خیرہ وَتَرٰی النَّجْمِیْنَ یَوْمَیْذٍ مُّقَرَّنِیْنَ فِی الْاَصْفَادِ پیہ وچھو کہ توہمہ نافرمان ہا نکلن  
 نہ ہتھ کرین منزاکہ اکس سمیت بند کرنہ آمت۔ سَرَّابِلُہُمْ مِّنْ قَطْرٍ اِنِّیْ کرمنہ تہزہ آسن تار کو پچہ  
 وَتَعٰشٰی وُجُوہُہُمْ النَّارِ ولہ تہمدین تھن نار۔ لِیَجْزِیَ اللّٰہُ کُلَّ نَفْسٍ مَّا کَسَبَتْ یُتھ اللہ تعالیٰ  
 بدلہ دیہ پریتھ اکس جُرمس تمہ سارہ ٹوی پیہ تم کو رمٹ آسہ دنیاءس اندر اِنَّ اللّٰہَ سَرِیْعُ الْحِسَابِ  
 پز پانھ اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب ہیوہ ون۔ ہٰذَا بَلٰغٌ لِلنَّاسِ وَلَیِّنْذُرًا بِہٖ وَلَیَعْلَمُوْا اَنَّہُمْ اِلَیْہِ  
 وَاٰحَدٌ وَّلَیِّدٌ کَرُوْا الْاَبَابَ پیہ قرآن مجیدیہ سورہ شریفہ چھو کافی نصحتہ خیرہ پیہ پیہ تھن تمہ  
 سمیت یم کرنہ پیہ پیہ تھ تم زانن اللہ تعالیٰ چھو معبود برحقہ ٹوی پیہ پیہ تھن تمہ سمیت نصحتہ رُئِن عقلہ وال۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الرَّحْمَةُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ ①  
 رَبَّمَا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ②  
 ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ  
 يَعْلَمُونَ ③ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ  
 مَّعْلُومٌ ④ مَا سَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ⑤

الرسم چھ حروفِ مقطعات سے منہ ہندہ معنی چھ خدایہ سی خبر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ رسم چھ آیاتِ حجرتا بہ ہندہ بہ روشن قرآن مجید کہ۔ رَبَّمَا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ یلہ قیامتگ دوہ سپدہ ، کافر آسن واریاہ قسمہ کین عذابن منزبتلا۔ تمی وقتہ کرن پھیر پھیر تمنا، کونہ آس آس سے مسلمان۔ سمہ سمہ سائتہ تم وچھن مسلمانن ہنز کامیابی یا سمہ سمہ سائتہ تم نوس عذابس آسن گرفتار سپدان ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تراویو کہ تم پنہ نس حاکس پیٹھ کھین وارہ پاٹھ۔ یہ تلن تمنا مال دُنیاک۔ غافل تہ آورہ چھ کران تمنا زمینھ آرزوتہ بڑھ مضموبہ۔ بس بروٹھ پین زانن تم پائے۔ مژ تھی سپدہ تمنا حقیقت حال معلوم وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ یہ کمر نہ اسمہ ہلاک کئے شہر کہ لو کہ۔ مگر تہمدہ خیطرہ اوس ہلاکت وقت لیکنہ آمت، مقرر کرنہ آمت۔ تمی سببہ چھنہ یکن تہ نافرمانی پیٹھ فوراً سزایوان دنہ۔ مَا سَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ کانہ اُمتاہ گھنہ بروٹھ پنہ بس مقرر کرنہ آتس و قس نہ گھنہ چھ۔ تھے پاٹھ سمہ سائتہ یکن لو کمن ہندہ گلنک وقت وائتہ سمہ سائتہ گلن رسم

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿۶﴾ كُو  
 مَاتَاتَيْنَا بِالْمَلِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۷﴾ مَا نُنزِلُ  
 الْمَلِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذْ مُنْظَرِينَ ﴿۸﴾ إِنْ أَنْحَنُ  
 نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿۹﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ  
 قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۰﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا  
 كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۱﴾ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۲﴾  
 لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا

مُرور وَا قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ یہ لگ نہیں ملک کافر توہمہ یار رسول  
 اللہ، اے شخص بس پیٹھ نازل آو کر نہ قرآن، بے شک جھٹکے تھ موت سے دیوانہ۔ تھ جھٹکے تھ تو ملک غلط  
 دعویٰ کران کُو مَاتَاتَيْنَا بِالْمَلِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ورنہ ہر گاہ تھ اتھ دعویٰ اس اندر  
 پر زبر جھوہ۔ تلہ کونہ جھو کہ اسہ برو تھ کن ملائک اناں ہم اسہ نعرہ تھند تصدیق کرہ ہن۔ اللہ تعالیٰ جھو  
 فرماوان مَا نُنزِلُ الْمَلِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ اس جھٹکھ ملائک سوزان مگر فیصلہ ہتھ وَمَا كَانُوا إِذْ  
 مُنْظَرِينَ تھ صورتس اندر یہ نہ تھن تھم وقتہ مہلت دنہ۔ تھم ساتہ جھو تھن ایمان ان پاعذا نس  
 گرفتار سپدن إِنْ أَنْحَنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ بیشک اسی کمر نازل یہ قرآن مجید۔ سجد دلیل  
 جھو تھمک مجزہ اُن۔ یہ جھہ اسی تھہ راجھہ گرہ ون۔ تھ اندر یہ جھہ نہ کانہ نہ کی کمر تھ نہ زیادتی کمر تھ  
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ہنر باٹھ سوزہ اسہ توہمہ برو تھہ یہ تار رسول اللہ پیغمبر  
 برو تھنن جماعتن کن وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اوس نہ دیوان تھن نعرہ کانہ  
 پیغمبر مگر تم اس اس استہزاء تھ تھٹھہ کران کَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ تھہ باٹھ جھہ اس  
 انبیاءن تھٹھہ کران خیال۔ نافرمانن ہندین دلن اندر پیدا کران لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ

عَلَيْهِمْ بِأَبَائِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿۱۷﴾ لَقَالُوا لَئِنَّمَا اسْكُرَتْ  
 أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿۱۸﴾ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ  
 بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لِلنَّظِيرِينَ ﴿۱۹﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ  
 رَّجِيمٍ ﴿۲۰﴾ إِنْ أَسْرَقَ السَّمْعُ فَاتَّبِعْهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ﴿۲۱﴾  
 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رِوَاسِيَّ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا  
 مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿۲۲﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ

الْأُولَئِينَ تمی سببہ کرن نہ تم پڑھا آتھ قرآن مجید س یہ نوکتھا ہجھنہ یہ چھور کسی زودمت بروٹھین  
 لوکن ہند۔ لہذا مہ سید دوجہ آزدہ تہ غمگین۔ تہندہ عنادج کیفیت ہجھنہ زہ ملائکن ہند آسماجہ طرفہ نازل  
 سہدن تہ وکن تھا تو انھیں۔ ہر گاہ تہ لوکھ آسانس پیٹھ کھا روکھ ہجھنہ پاتھنہ۔ وَلَوْ قَتَلْنَا عَلَيْهِمْ بِأَبَائِنَ  
 السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ہر گاہ آس موراؤد تہندہ خیطرہ آسماک دروازہ تو پتہ بین کھسن تم دولہ  
 (یہ وقتہ نہ نندرہ ہند موقع آسہ) تہندہ دروازہ کن آسانس کن لَقَالُوا لَئِنَّمَا اسْكُرَتْ أَبْصَارُنَا تو تہ پیکھ نہ  
 پڑھد ہینہ لکن سانسہ اچھہ ہجھنہ مگر بند کرنہ آمزہ۔ آس ہجھنہ آسانس کھسان بلکہ ہجھنہ آسہ نظر بندی کرنہ  
 آمزہ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ بلکہ ہجھنہ آسہ پیٹھ ہجھنہ تہ جود کرنہ آمت۔ آسہ امہ علاوہ تہ کینہہ ہاونہ  
 ہجھنہ ہجھنہ آسہ ای یعنی ہجھنہ تہ جود وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لِلنَّظِيرِينَ ہجھنہ پاتھنہ ہجھنہ کمر آسہ  
 آسانس اندر بُرج پیدہ۔ ہجھنہ کمر آسہ تم آسان مُزِين و ہجھنہ والین ہندہ خیطرہ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ  
 شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ہجھنہ کمر آسہ تھہ راجھہ پر ہجھنہ کڈ تھہ ژھنہ آقس شیطانس نشہ۔ إِنْ أَسْرَقَ  
 السَّمْعُ فَاتَّبِعْهُ شَهَابٌ مُبِينٌ مگر شیطان ژورہ پاتھنہ کن ڈیت، کانہ خبرہ بوزن تمس ہجھنہ پتہ  
 دوران روشن تازہ کارہینہ تراوان سمہ سمیت سو شیطان ہجھنہ ہلاک سہدن ان یابد حواس سہدن ان۔ اکی طریقہ  
 ہجھنہ اس شیطانس نفعہ آسانس حفاظت کران وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رِوَاسِيَّ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا  
 مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ بیہ ہر دو آسہ زمین تھہ تھہ منز کن انسان تہ حیوانات، تھہ منز تراواسہ گو برہ

لَسْتُمْ لَهُ بِرُزِقِينَ ﴿۲۰﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿۲۱﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَزِيرِينَ ﴿۲۲﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ مُعْتَبِرُونَ ﴿۲۳﴾ وَوَعَدْنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۴﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۲۵﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

تہ ثقہ خیطرہ لنگریچے بڈیڈ کورہ۔ بیہ کھوراسہ تمہ زینہ منزہ پریتھ چیزاہ میتھ تہ وزن کمر تھہ وجعلنا لکم فیہا معایش بیہ کمر پیدہ اسہ اتھ زمینس منز تھہ ہدہ خیطرہ زندہ روزیک سامان۔ کھیک چیز تہ چنک چیز، لباس تہ پوشاک وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرُزِقِينَ بیہ کمر اسہ تھہ ہدہ فایدہ خیطرہ تم مخلوق پیدہ سمن روزی وودہ وان تھہ ہجھوہ نہ بلکہ ہجھہ اسی تھن رزق عطا کران۔ تھہ ہجھوہ تھن نشہ فائدہ تھان ولان من شئی إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ بیہ ہجھوہ کا نہ چیزاہ از قسم رزق مگر تھک خزان ہمد خزانہ ہجھہ اسی نشہ۔ اس ہجھہ تراوان تہ نازل کران مگر اکہ مقدارہ موجب وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ بیہ ہجھہ اس سوزان وادیم ہدہ ہجھہ کران ابرس آبہ سیت قاتزلنا من السماء ماءً فأسقیناکموہ توپتہ ہجھہ اس تراوان آسماکھ طرفہ رُود۔ توپتہ ہجھہ اس توبہ سیراب کران وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَزِيرِينَ توبہ ہجھہ ہونہ تیوت آب اسی جلیہ جمع کمر تھہ۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ مُعْتَبِرُونَ وَوَعَدْنَا الْمُؤْمِنِينَ بیہ ہجھہ اسی زندہ کران تہ ماران۔ بیہ ہجھہ اسی ساری مارت پتہ گن باقی روزہ وونِ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُؤْمِنِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُؤْمِنِينَ پتہ پاتھ اسہ ہجھہ خبری توبہ اندرہ برونٹھ گھوہ وینن ہنز۔ بیہ ہجھہ پتہ پاتھ اسہ خبری توبہ اندرہ پتہ روزہ وینن ہنز وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ پتہ پاتھ تھہ ہدہ پروردگاری سونبرہ تھن سارنی اولینس تہ آخرینس۔ پتہ پاتھ سؤی ہجھوہ سیتھاہ حمتہ وول، سیتھاہ زان وول۔ کس ہجھہ خبر گس مخلوقہ سہ کم کم اجزاء تھہ تھہ جلیہ ہجھہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ



الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿۲۶﴾ وَالْجَانَّ  
 خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ ﴿۲۷﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ  
 لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿۲۸﴾  
 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعْوَاهُ سَجِيدًا ﴿۲۹﴾  
 فَسَجَدَ الْمَلِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ ط ﴿۳۰﴾ ابْنُ أَبِي عَدْوَانَ قَالَ  
 السَّجْدُ لِلَّهِ قَالَ إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَ  
 لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿۳۲﴾

صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ یہ کمر اسہ پیدہ پتر پاٹھ انسان خشک گامرہ ربه۔ ہتھ تر نو تر نو  
 گمہان اوس ہتھ وار ہتھ کالس آبس منر روزنہ سبب منک و تھمت اوس وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ  
 قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ یہ کمر جن پیدہ لمہ بروٹھ، نارہ چہ رہبہ ہتھ سبت زوہ اوس۔ وَإِذْ قَالَ  
 رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ سو وقت یہ ہتھ قابل ذکر بلہ تہید  
 پروردگارن فرمود ملائکین ای ملائکو بو کرن پیدہ اکھ مخلوقہ اکھ سمند پوسٹ نوئے جمو و رای آسہ تغیر  
 گمہوہ ربه یوسہ خشک گمہت دزان آسہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعْوَاهُ سَجِيدًا تو  
 پتہ بلہ بوسو مکمل کرن یہ برہ بو تھندس بدس منر پترن روح تمہ سائہ گمہر تھند فور اوس کن من سجدہ کس  
 حالتس اندر روزن میانہ روجہ تنظیمہ خپترہ فَسَجَدَ الْمَلِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تو پتہ بلہ سو وقت ووت  
 ساروی ملائکو دیت سجدہ اکہ وئہ إِلَّا إِبْلِيسَ مگر دیت نہ سجدہ البلیس ابْنُ أَبِي عَدْوَانَ قَالَ  
 السَّجْدُ لِلَّهِ قَالَ إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ تم کور انکار سجدہ دنہ والین سبت شامل سپدنہ نشہ  
 مَعَ السَّجِدِينَ ای ابلیس ژہ کیاہ سجدوی ژہ سپدکھ نہ شامل سجدہ دنہ والین سبت قَالَ ابْلِيسَ دُوب  
 لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ بو گوس نہ سو شخص بو کیا دمہ سجدہ کس



مِنَ الْغُيُوبِ ﴿۳۶﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳۷﴾  
 لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿۳۸﴾  
 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۳۹﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ  
 آمِنِينَ ﴿۴۰﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى  
 سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿۴۱﴾ لَا يَسْئُرُهُمْ فِيهَا رَبٌّ وَمَاهُمْ مِنْهَا  
 بِمُخْرَجِينَ ﴿۴۲﴾ نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۴۳﴾ وَإِنَّ

عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اٰلَمٰنٍ اَتَّبَعَكَ مِنَ الْغُيُوبِ پنز پانھ میائین بندن پیٹھ چھوی نہ ژہ کا نہ طاقت کمرہ  
 کرنک، مگر تمے سم چان پیروی کرن، چانہ تھہ مان، ڈلیو آندرہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ  
 بیشک نار جہنم چھو تمین سارنی ہمدہ وعدج جای۔ یعنی ژہ تہ چانین بیرون ہمدہ خیطرہ چھو جہنم تیار کرنہ  
 آمت لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ تہہ جہنمست چھہ ست (۷) دروازہ۔  
 پرستہ دروازہ خیطرہ چھو تمونافرمان لوکو آندرہ اکھ اکھ حصہ مقرر کرنہ آمت إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي  
 جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ پنز پانھ متقی تہ پرہیزگار، سم شر کہ نشہ، نافرمانیو نشہ ہتھ رودست آسن، تم آسن  
 باغن اندر، تمین منز کم چشمہ، ناگہ راد آسن پکان، تمین پیہ ونہ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ای  
 باایموا اثر و تمین جنتن اندر بسلا متی، امن و امانہ سان وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا  
 عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ پیہ آسہ آسہ کو ڈمٹ بڑو نطھی تھند پو لو آندرہ سوڑوی کینہ تہ حسد۔ تمہ  
 سبہ آسن تم ہای ہای سیدہ سیوڈو سخن پیٹھ بہتھ۔ اکھ اگی سُد درجہ و چھتھ آسکھ نہ رشک تہ حسد سپدان  
 لَا يَسْئُرُهُمْ فِيهَا رَبٌّ وَمَاهُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ و اتان آسہ نہ تمین جنتن منز کا نہہ تکلفاہ پیہ بین نہ  
 تم کڈنہ زانہہ تمون جنو آندرہ نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ  
 فرماو ڈہہ یارسول اللہ میانین بندن بیشک بو چھوس سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ پیہ  
 چھو میون عذاب تہ سیٹھاہ کڈر عذاب وَتَبْتَهِمُ عَنْ صَيْفٍ أَلِيمٍ پیہ کمر و حفص میانین بندن خبر۔

عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝۵۱ وَيَذَّبُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۝  
 إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۝۵۲  
 قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْكَ ۝۵۳ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي  
 عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تُبَشِّرُونَ ۝۵۴ قَالُوا بَشِّرْنَاكَ  
 بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقٰنِطِينَ ۝۵۵ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن  
 رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝۵۶ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا  
 الْمُرْسَلُونَ ۝۵۷ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝۵۸ إِلَّا آلَ

حضرت ابراہیمہ سندین پڑھیں ہنز۔ پائے ترکیہ فخرہ آتھہ پاٹھہ جھہ اللہ تعالیٰ سد دو شویے صفت۔  
 رحمتک صفت تہ غضبک صفت ظاہر سپدان ہنس ہنس موقس پیٹھہ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا یلہ  
 تم پڑھہ ژای تمن نش توپتہ کر کہ سلام قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ حضرت ابراہیم دو پچھہ آس جھہ  
 توہہ کھوژان قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلَيْكَ تمودو پچھہ کھوژومہ بلکہ گڑھو خوش کیاڑہ  
 آس جھہ توہہ خوشخبر واتاوان آس عالم فرزندہ سز قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ  
 تُبَشِّرُونَ حضرت ابراہیم فرموؤ کہ کیا تہہ جھوہ مہ فرزندہ سز خوشخبر وان۔ حالہجہ بو جھوس  
 وول ہڈ یومت۔ ہس آتھہ پاٹھہ جھوم خوشخبر ووان قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقٰنِطِينَ تمو  
 دوہیک آس حض جھہ ہنز پاٹ توہہ خوشخبر وان۔ پس مہ سپد یو تہہ نامید قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ  
 رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ حضرت ابراہیم فرموؤ کہ خدایہ سدہ رحمتہ نشہ تہہ سپدہ نامید گراہو ورا ی  
 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ توپتہ فرموؤ پچھہ توہہ کیاہ کوم جھہ بیہ، ای خوشخبر ہمت سوزنہ  
 آتیہ ملکو قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ تمودو ہیک بیشک اس جھہ سوزنہ آمت آس نافرمان  
 جرائم پیشہ قومس کن جہندہ ہلاک کرنہ خیطرہ۔ تمن سزادنہ خیطرہ إِلَّا آلَ لَوْطًا إِنَّا لَنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ

لَوْ طَرَفْنَا لَمَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۸﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا لَأَنَّهَا لَمِنَ  
 الْغَابِرِينَ ﴿۵۹﴾ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿۶۰﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ  
 مُنْكَرُونَ ﴿۶۱﴾ قَالُوا بَلْ جُنُنُكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِرُونَ ﴿۶۲﴾ وَ  
 آتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۶۳﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ  
 اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا  
 حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿۶۴﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَانَ الَّذِي أَوْحَيْنَا  
 لَكَ بِرَهْؤُلَاءِ

مگر نہ حضرت لوط سے خاندان سے بچ پانچ تین ساری ہندہ خلیفہ ہجرت اس نجات دہندہ اور لامراتہ  
 قدرنا انہا لمنجوہم اجمعین مگر نہ حضرت لوط سوزنہ تمسیدہ خلیفہ ہجرت اس مقرر کو رمت کہ نہ ہجرت  
 کافران سیت روزتہ عذابس گرفتار سپدن واجین۔ فلما جاء آل لوط المرسلون تمہ پتہ بلکہ  
 وات تم سوزنہ آمت ملک لوط سندس خاندانس نے انسان شکلہ اندر قال انکم قوم منکرون تمو  
 دوہیک جہہ ہجرتہ بیشک بوزنہ یوان غیر زان جماعتہا قالوا بل جنونک بما کانوا فیہ یستمرن تمو  
 دوہیک نہ اس دوہیک ہجرتہ بلکہ ہجرتہ اس آمت توہم نش سوجیز ہجرتہ ہجرتہ منزیم لو کہ شک نہ تردد کران  
 اس یعنی ہندہ خلیفہ عذاب وآتینک بالحق وانا لصادقون بیہ ہجرتہ آمت اس توہم نے ہجرتہ ہجرتہ  
 ہجرتہ بیہ ہجرتہ اس یقیناً بوزنہ ون فاسر باہلک بقطع من اللیل واتبع ادبارہم ولا یلتفت منکم  
 احد و امضوا حیث تؤمرون مس کڈیون پن عیال سمہ شہرہ اندرہ راتر ہندس ہجرتہ حصص اندر۔

جہہ نہ نیریو کہ سیت پتہ پتہ۔ توہم اندرہ ہجرتہ پتہ نظر کاہمہ دیہ۔ بیہ گوجو تو توہی ہجرت توہم حکم کر نہ  
 او یعنی شہر شامس ن وقضینا الیہ ذلک الامر انہا لہو لاء مقطوعہ مصححین بیہ سوزاسہ حضرت  
 لوطس نش بیہ حکم کہ پناٹھ سن لوکن ہند مول ہجرتہ آمت یقیناً سم صحیح دوہجرتہ وجاء اهل  
 المدينۃ یستبشرون توپتہ ای امہ شہر کہ لو کہ حضرت لوطس نے یقیناً خوبصورت مسلمان ہند  
 بوزتہ خویہ نہ شادہ کران کہ شکار بیوہ قال انہو لاء صیغی فلا یلتفتون حضرت لوطس

مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿۶۶﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۶۷﴾  
 قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿۶۸﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا  
 تَخْزُونِ ﴿۶۹﴾ قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالِمِينَ ﴿۷۰﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي  
 إِنْ كُنْتُمْ فَعَالِينَ ﴿۷۱﴾ لَعْنَةُ اللَّهِ لِفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۷۲﴾  
 فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿۷۳﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلْهُمَا  
 أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿۷۴﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِلْمُتَوَسِّبِينَ ﴿۷۵﴾ وَإِنَّهَا لِبِسْبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿۷۶﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

غمگین تمودو پیک تم ہاتھ میان مہمان نہس مہ مندرہ چھاوومہ و اتقوا اللہ ولا تخزون بیہ کھوژو  
 خدائس بیہ مہ مندرہ چھاوومہ قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالِمِينَ تمودو پیک اس چھنا توہہ منع کران کہ  
 ہہ مہ آسبو کہ عالمک لو کہ گرہ اتان تہ مہمان بناوان قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعَالِينَ حضرت  
 لوطن فرمود کہ پزپاٹ یہ ٹہنزہ زنانہ ہتھ میانین کورین برابر، ٹہنزہ خواہش پورہ کرنہ خیطرہ ہتھ تمہ  
 کافی۔ حلال چیز تراوتھ کیا زہ ہتھوہ حرام چیزس پتہ لاران لَعْنَةُ اللَّهِ لِفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ہتھدہ  
 جانک قسم یار رسول اللہ قوم لوط اوس پتہ مستی منزگیران۔ تمن اوس نہ بوزتے یوان کینہہ سون دوگن  
 حضرت لوط سیدھ فرماونک آس نہ کانہہ پروا کران فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ پس رٹ تم  
 صُحُفٍ آفَاتٍ کھسن وزہ جبریل اینہ سزہ کریکہ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمَا سَافِلْهُمَا أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ  
 سِجِّيلٍ توه پتہ کوراسہ ہتھدس شہرس تلگ پیٹھ۔ بیہ تروواسہ تمن پیٹھ سگ باران، میہہ پھل یم  
 نارس منزینہ آس آمت۔ تمے آس کنہ ہتھ گامت تے تروکیہ پیٹھ رودک پاٹھ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِلْمُتَوَسِّبِينَ پزپاٹھ اتھ قصس منزچھ واریاہ ٹھانہ تہ دلیلہ وارہ وچھن والین ہتھہ خیطرہ وَإِنَّهَا  
 لِبِسْبِيلٍ مُّقِيمٍ پزپاٹھ ہتھد شہر ہتھدین وتہ پیٹھ۔ نئس تپار پکان چھوٹس ہتھہ تم تباہ و برباد گامت شہر

لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۸﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ﴿۷۹﴾ فَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِيَأْمُرُ الْمُبِينِ ﴿۸۰﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۸۱﴾ وَاتَيْنَهُمُ الْآيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۸۲﴾ وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿۸۳﴾ فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿۸۴﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۵﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

بوزنہ یوان اِن فی ذلک لآیۃٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ پڑ پڑ اتھ منز چھو بوڈ نشانہ با ایمان ہندہ خیرہ  
 وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ بیہ آس پڑ پڑ کلین تہ ڈھین تل روزہ ون، قوم شعیب سیٹھاہ ظالم تہ  
 نافرمان فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِيَأْمُرُ الْمُبِينِ پس ہیوت لسہ انتقام تہن دوشون قومن۔ ہڑ پڑ  
 تم دوشوے قوم آس بسان ننہ و تہ پڑ۔ صاف سرکہ پڑ۔ پکار مکہ شریفہ پڑ شام شریف لو کہ  
 گڑھان آس۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجْرِ الْمُرْسَلِينَ ہڑ پڑ بیہ کورانکار حجرہ والیوتہ پیغمبرن۔ سوگو  
 قوم نمودن کن حضرت صالح پیغمبر سوزنہ آمت آس۔ اکس پیغمبرس انکار کرن گوسارنی پیغمبرن  
 انکار کرن۔ تم آس بسان شہر حجرس منزئیں مدینہ منورس تہ شام شریفس درمیان واقع اوس  
 وَاتَيْنَهُمُ الْآيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ بیہ واتاوسہ تہن نعرہ تہن نشانہ تہ دلیلہ مگر تمو پھر تمہ دلیلہ  
 وہجھتہ تہ بھجھ کانہ التفات کوز کہ نہ تہن آیتن کن وَكَانُوا يُنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ  
 تم آس کوہن منز گورجھ گرہ بناوان تمنی گرن منز آس امن و امانہ سان بسان فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ  
 مُصْبِحِينَ پس رٹ تم تہ کریجھ صبحہ وقتہ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ پس دہت نہ  
 کانہ فایدہ تمن تمو مضبوطہ محکم گرو۔ تم تم بناوان تہ تیار کرن آس وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ بیہ کرنہ اسہ آسمان تہ زمین بیہ تہن دون منز چھو پیدہ مصلحتہ  
 بغیر بلکہ چھ تہندس پیدہ کرنس اندر سیٹھاہ مصلحتہ بیہ گہ بد مصلحتہ کہ آسمان زمین وہجھتہ کرن عقلہ

بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفِرِ الصَّفْحَ  
 الْجَمِيلَ ﴿۸۵﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۶﴾ وَلَقَدْ اتَيْنَكَ  
 سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿۸۷﴾ لَا تَمُدَّنَّ  
 عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ  
 عَلَيْهِمْ وَانخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا

وال استدلال اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے۔ یہ لازم چھو کہ جس خدا سے سزا شوبہ اطاعت  
 کرن۔ جس شخص اطاعت کرے جس، جس سے اجر و انعام عطا کرنے۔ جس سے اطاعت کرے جس سے سزا  
 چھو عذاب سو عذاب ہے نہ دنیا سے اندر کرنے۔ سولہ قیامت کو دہ کرنے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ  
 قیامت چھ ضرور آوے تھ منزلیہ تا فرمان سزا دہ۔ فَاصْفِرِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ لہذا مہ کھوئے کہ نہ  
 غم۔ بلکہ کرو نہایت خوبی سان تہندین شرارتن غم، در گذر إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ہر پانچ  
 تہند پروردگار چھو بوڈ پیدہ کرے۔ سو چھ سو روی زانہ ون سارنی ہند حال چھو معلوم۔ تہندہ  
 صبر کہ تہندین شرارتن ہند تہ۔ لہذا ہبہ سوتن نغیر پورہ پورہ بدلہ تہ مہ و چھو تہندس معاملس کن  
 کہ سو چھو سپدان توہہ موجب غم تہ و چھو سائس معاملس کن کہ اس کہہ قسمہ چھہ توہہ سیت لطف و  
 مہربانی ہند معاملہ کران۔ چنانچہ وَلَقَدْ اتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ہر پانچ  
 کر عطا توہہ ست آہ کریمہ یہ قرآن عظیم ہم ست آہ پھیر پھیر چھہ یوان پر نہ تہ نمازہ اندر یہ سورہ فاتحہ چھو  
 جامع بدین بدین مضمون۔ تہ وجہ چھو تہ قلیل کہ اتہ یہ ونہ قرآن عظیم تہہ بوجہ عظمت أم القرآن لقب  
 چھو۔ لہذا تہا و تہہ نظریہ نعمت عطا کرے ونس کن تہ اتہ نفس کن، تہ سپدہ توہہ فرحت و سرور کہ باعث۔  
 لو کن ہندس عناد سے مخالفس کن مہ کرو تہہ التفات۔ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا  
 مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَانخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ مہ حض زبہ راوہ نظر ہن تہہ مال  
 دنیا سے کن سمہ سیت تمنع تہہ نا و اس سمو کا فر و آندہ بعض لو کہ۔ یہ مہ کھوئے ہند غم۔ یہ تراوہ یون بازوی



التَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿۹۱﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِبِينَ ﴿۹۰﴾  
 الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿۹۱﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلْتَهُمْ  
 أَجْبَعِينَ ﴿۹۲﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ  
 وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۴﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿۹۵﴾ الَّذِينَ  
 يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۹۶﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ

مبارک ہیں بالیمان ہمدہ خیطرہ۔ یعنی تمہن آسوپیش یوان بتواضع تہ نرمی وقل لای انا التذیر المبین  
 بیہ آسوفرموان ہز پاطھ بہ چھوس ن پاطھ خدلیہ سدرہ عذابک تیم کرہ ون توہہ سارنی کما انزلنا علی  
 الْمُقْتَسِبِينَ \* الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ اسہ کورنازل توہہ پیٹھ یہ قرآن مجید۔ تھہ پاطھ اسہ  
 یہوودونصارئی ان پیٹھ کتاب نازل کریمو تمہن کتابن پارہ پارہ کور۔ یہ خوش اوسکھ کران تہ آس تھوان۔  
 یہ نہ خوش اوسکھ کران تہ آس کڈان۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلْتَهُمْ أَجْبَعِينَ \* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہس  
 چھو قسم تہندس پروردگارہ سندر ضرور پر تھو آس تمہن قیامتگ دوہ تمہہ سارگوی یہ تم کران آس توپتہ  
 دموپر تھہ آس سزا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ہس ن پاطھ واتاوتوہہ تم احکام  
 تمہن ہند توہہ حکم چھو یوان کرنہ روی مبارک بھرو و مٹر کن نغیر۔ تمہن ہندمہ کرو کاہنہ پروای  
 إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ آس کرووہ توہہ کفایت تھٹھہ کران والین ہند شردف کرنہ خیطرہ الَّذِينَ  
 يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ سم معبود برحقس سیت برابر چھہ تھوان بین باطل  
 معبودن۔ ہس عنقریب زانن سم امیک نتیجہ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ تھٹھن  
 آس چھہ زانان کہ ہز پاطھ تہند دل چھو تنگ سپدان تمو کتھوسیت سمہ سم دشمن ونان چھہ تمیک علاج

أَنْتَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿۹۷﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ  
مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿۹۸﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿۹۹﴾

چھو ﴿۹۷﴾ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِينَ نِسْ مہ برو تمیک جہہ کانہہ پروا۔ جہہ کرو خدلیہ سُنَدِیاد۔  
بہاکی کرو تہند صفت بیان۔ بیہ آسو تمس سجدہ دنہ والیہ و اندرہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ بیہ کرو  
پنہ نِس پروردگارہ سنزی عبادت یوتان ولتہ توہہ نِس یقینی سمہ یعنی موت مر نہ کس و قس تان کرو خدلیہ  
سنز عبادت۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 أَنِّي أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ ۱  
 يُنزِلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ  
 مِنْ عِبَادِهِ أَنۢ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۲ خَلَقَ  
 السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ ۳ خَلَقَ  
 الْإِنسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاذٰهُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۴ وَالْأَنْعَامَ

اَنِّي اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ خدایہ سُنْدِ حُمِ اَوْ یعنی شرک و کفر کہ سزا دے ننگ موقعہ و دوت نزدیک۔  
 اے کافر و نپہہ مہ کرو تھہ آندر جلدی۔ سو سپدہ واقع پنہ نس و قس پیٹھ۔ نس چیز اہ اوہ دن چھو سوزن  
 او۔ لہذا ای کافر و نپہہ مہ ژھانڈ و اتھ منز جلدی سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ منزہ تہ پاک، بالاو  
 برتر چھو اللہ تعالیٰ تمو ساروی شریکو نشیہ تم نس مشرک ٹھراوان چھہ ہندس کئیہ کھمس نہیں نہ تم  
 شریک بدل کر تھہ۔ يُنزِلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنۢ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا  
 إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ سوزن چھو سو پروردگار ملائکن وحی بہتھ، پنہ کھم سیت نس پیٹھ یڑھان چھو سو پنہ  
 نیو بند و آندرہ یعنی انبیاء و آندرہ ای زہ نپہہ کرو بیم لوکن یہہ بوزہ ناویو کھ کہ کانسہ معبود اہ چھو نہ مہ و رای  
 نس کھو ژومی یوت۔ پرستش مہ کرو مہ و رای کانسہ ہنز خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالٰی عَمَّا  
 يُشْرِكُونَ تمی کر پیدہ آسمان تہ زمین پڑ پانڈہ سینٹھاہ بالاو برتر چھو سو تمو ساروی چیز و نشیہ تم نس شریک  
 ٹھراوان چھہ لو کھ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاذٰهُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ تمی کر پیدہ انسان حضرت  
 آدمس پنہ منی ہندس آہہ قطر س آس نس چھو یو ہے انسان بن پانڈہ مقابلہ کران یعنی بعضی انسان

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفٌّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾  
 وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾  
 وَتَحْمِلُ أَوْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ  
 الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ  
 وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾  
 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ

چھ امہ قسمک غرض چھو کہ سائے طرفہ چھہ اناس سیمہ سیمہ نعمہ، تمندہ طرفہ چھہ اتھ مقابلہ  
 ناشکری تہ ناساں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفٌّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ بیہ کرتی پیدہ  
 چارپا، دونٹھ، گین تہ تیر تہندہ خیطرہ ای انسانو تمنی منز تھاون تہندہ وشیر کر نک سامان وندک۔ بیر،  
 بیتھ گرم لباس ژادرہ تہ کملہ بناوان چھوہ، بیہ چھہ تمن منز واریاہ فاند۔ دودھ تہ سواری۔ بیہ چھوہ تموی  
 منزہ بعضین ہند ماڑ کھیوان وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ بیہ چھو تہندہ خیطرہ  
 تمن منز زینت تہ عزت۔ سیمہ ساتہ تہہ شامکہ وقتہ تم گاسہ کھیٹھ وانل انان چھو کہ بیہ سیمہ ساتہ صمسن  
 گرواندہ گاسہ کھیٹھ خیطرہ کڈان چھو کہ وَتَحْمِلُ أَوْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ  
 الْأَنْفُسِ بیہ چھہ تم تھان تہند بور۔ توپتہ واتاوان تمن شہرن تمن تہہ بیجہ ہونہ تم بارواتاوتھ مگر پتہ  
 نین پانن زون سیٹھاہ مشقت واتاوتھ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ بیشک پروردگار تہند چھو سیٹھاہ  
 مہربان تہ رحم کردون۔ تہندہ آرامہ خیطرہ کم کم چیز کرن پیدہ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا  
 وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بیہ کرتی پیدہ گر کاتر تہ گھر، بیٹھ سوار سپد۔ بیہ چھو تمن منز تہندہ  
 خیطرہ عزت تہ شان۔ بیہ کرہ سو پیدہ قیاس تان کھسنہ خیطرہ تمہ تمہ سوارہ سیمہ نہ توہہ معلومی چھہ۔  
 سیمہ سواریہ گیہ دنیا کیں مطمئن تان واتتہ خیطرہ۔ یہ گوہدنی تہ جسی سفر طے کر نک سامان۔ امہ پتہ  
 فرماؤ اللہ تعالیٰ ان روحانی تہ معنوی سیرج ذکر وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ پتہ برو تھہ یو دلیلو سیتہ

أَجْمَعِينَ ① هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ② يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ③ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ④

یوسہ سیز و تھ ثابت چھ سپدان سو گویہ سو تھ یوسہ اللہ تعالیٰ اس نش و انج و تھ آسہ۔ وَمِنْهَا جَابِلٌ وَتَوَ اُندرہ چھ بعضی و تھ پھر و تہ۔ اُذْ لَوْ كَفَّ حَظُّهُ سِيزَه و تہ پیٹھ پچھ خدائس نشہ و اتان۔ اُذْ ہجھ بچو و تو پکان تو پتہ ہجھ تم گن تہ و اتان تم چھ دچھن تہ کھو فر بالن تہ چھننن ڈلہ گھوہان و لَوْ شَاءَ لَهَذَا كُمْ اَجْمَعِينَ ہجہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یڑھہ ہاسو ہا و ہا تو ہہ سارنی سیز و تھ مگر سو چھو تمسی سیز و تھ ہاوان نئس تمیک طالب آسہ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ سو پروردگار گو سوی سم تھندہ فاندہ خیطرہ آسماچھ طرفہ زود ترو و تھی منزہ ہجھو تہہ تریش چوان۔ ہجہ چھو تھی سیت گاسہ تہ کل کھسان تھہ منز ہجھو کھ تہہ چار پائین گاسہ کھینہ خیطرہ تراوان يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ کھاران چھو اللہ تعالیٰ تھی رودہ سیت تھندہ خیطرہ زراعت ہجہ درخت زیتون ہجہ خضر کل ہجہ ڈھجھ کل۔ ہجہ ساری میوہ جات سم دنیاء س اندر پیدہ سپدان چھہ اِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ پڑ پانھ اتھہ منز چھہ جہ جہ دلیلہ توحید چہ فکرہ والین ہندہ خیطرہ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ہجہ کر اللہ تعالیٰ اَن تھندہ آرام و آسایجہ خیطرہ دودہ تہ رات، آفتاب تہ زون مسخر قدرت وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ چھہ باقی ستارہ تہ تھندی حمہ مسخر قدرت تم چیز تہ سم تھندہ فاندہ خیطرہ پیدہ کمرن تمام روی زمینس اندر تم چیز ہجہ چھہ تھہ پانھ کہ تمہن ہندہ اقسام چھہ بیون بیون اِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ پڑ پانھ عقلہ والین ہندہ

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۳﴾ وَهُوَ الَّذِي  
سَخَّرَ الْبَحْرَ لِيَتَّكَفُوا مِنْهُ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ  
وَمِنْ ثَمَرِهِ يَأْكُلُونَ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ  
فِيهِ وَلِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۴﴾  
وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رَوَايَا أَنْ تَبِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا

خطرہ چھ بین چیزن اندر خدایہ سہ توحید چہ بجز جہ دلیلہ و مَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا  
أَلْوَانُهُ؛ چھ پانچ کرن مخر تم چیزتہ سم ہندہ فائدہ خطرہ پیدہ کرن تمام زوی زمین اندر تم چیز چھ  
تہ پانچ کہ تم ہند رنگ چھ بیون بیون ان فی ذلک لآیۃ لقموم یذکرؤن بہ پانچ اتھ  
منزتہ چھ بجز جہ دلیلہ خدایہ سہ توحید چہ نصحت رہ وین ہندہ خطرہ۔ وَهُوَ الَّذِي  
السَّخَّرَ الْبَحْرَ لِيَتَّكَفُوا مِنْهُ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ  
فِيهِ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ؛ چھ پانچ دریاون ہند فائدہ یہ تہ کہ تہ چھ ہسک و چھان اے مخاطب ناوہ  
لو کچہ تہ بجز تہ، بلکہ بڈ بڈ جازا اتھ سمندر س منز آس ٹان پکان وَلِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ؛ چھ کرن دریا مخر قدرت چھ تہ سم سمندر ن تہ دریاون اندر مال تجارت تہ سفر  
کرتھ خدایہ سدر زق تلاش کرو۔ یہ چھ تم ساری فائدہ زیر نظر آنچہ کرو تہ شکر گزاری وَالَّذِي فِي  
الْأَرْضِ رَوَايَا؛ چھ تھاول اللہ تعالیٰ ان زمین پٹھ بڈ کوہ ان تَبِيدَ بِكُمْ؛ چھ نہ سوزمین توہم پانس  
پٹھ تھوتھ و تل جہ گرہ، اورہ رڈلہ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لِعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ؛ چھ کرن جاری اتھ زمین  
منز کولہ تہ جو یہ۔ یہ کج اتھ زمین منروتہ تہ سڑ کہ تھ تہ تمو و توہتھ مقصد س واتان آسو

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵﴾ وَعَلِمْتَ وَيَا بَلَّغُهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۱۶﴾ أَفَسُنَّ  
يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۷﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ  
لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَ  
مَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ  
شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿۲۰﴾ أَمْ أَلِيتُمْ عَلَىٰ غَيْرِ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ لَا

وَعَلِمْتَ وَيَا بَلَّغُهُمْ يَهْتَدُونَ بیہ کر اللہ تعالیٰ ان تمہہ و تہ پر زہ تاونہ خیطرہ واریاہ لغنہ قائم مسافرن ہندہ پختہ خیطرہ سمو نشانوسیت و تہ لبندہ یوان ہتھہ۔ بیہ چھہ بتاروسیت تہ لوکھ و تھہ لبان۔ تمہ بیت چیز کر پیدہ اللہ تعالیٰ ان آفکن ۱۵ یَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وون و سونہ می لیس ذات پاک تم تم چیز پیدہ کر و ن ہتھو سولگیما برابر تھاون تہن سیت یم نہ کتہ چیز س تمکن پیدہ کر تھہ۔ کونہ چھوہ تہ کتہ تہ تہس پاوت تہس ایمان انان تہ پڑھہ کران۔ تمسی ہن معبود زاتھہ عبادت تہ بندگی کران۔ یوے یا تھہ چھہ تہس معبود برحقہ سزہ نموہ ۱۷ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ہر گے تہہ شمار ہیو کر تہ خدایہ سزہ نموہ ہر گز۔ ہیو نہ شمار کر تھہ۔ ادہ چھہ کتھہ تہن نعمون ہنز شکر گذاری کر تھہ۔ مٹرک چھہ نعمون ہند شکر دیان نعمون ہنز قدر زانان۔ بیہ جرم اوس تیوت بوڈئیس نہ کتہ صورتس منز معاف ہیوہ ہاسد تھہ۔ اتھہ جرمس پیٹھہ اصرار کر نہ سیت گدھہ تم ساروی نعموہ و نشیہ محروم سپدن مگر ۱۸ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ پڑپاٹھہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھہ مغفرت کر و ن مہربان ہر گاہ کانہہ شخص شکر کہ نشیہ توبہ کرہ تہس چھو اللہ تعالیٰ مغفرت کران۔ ہر گاہ تے توبہ کرہ توتہ چھو اللہ تعالیٰ تہس مرئس تام نعموہ عطا کران ۱۹ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَ مَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ چھو زانان تہ سوزوی بیہ تہہ پوشیدہ پاٹھہ چھوہ کران ۲۰ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ بیہ تم لوکھ عبادت چھہ کران خدا لیس و رای ہن باطل معبودون ہنز تم نہ کانہہ چیزہ پیدہ ہیکان چھہ کر تھہ بلکہ چھہ تم پانہ آسان بناونہ آمت، تیار کر نہ آمت، گر نہ آمت، کسو، پو یا بیہ کتہ چیز کب۔ قاعدہ کلیہ چھو کہ خالق تہ غیر خالق ہر گز مساوی تہ برابر

آيَانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦١﴾ إِلَهُكُمْ إِلَهًُ وَاحِدًا ۖ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٦٢﴾ لَأَحْرَمَ أَنَّ  
 اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٦٣﴾  
 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا آسَاطِيرُ  
 الْأَوَّلِينَ ﴿٦٤﴾ لِيَحْبِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلِيسَاءَ مَا

چھنہ امواتِ غیرِ احیاء تمہے علاوہ چھنہ معبودانِ باطل مردہ بے جان چیز و مایا شِعْرُونَ آيَانَ  
 يُبْعَثُونَ یہ چھنہ تم ن خبر ہے کہ کہ وقتہ میں لو کہ دوبارہ یہ زندہ کرنے معبود برحق گو سؤی بس خالق ہے  
 چھو زندہ ہے چھو عالم الغیب ہے چھو سؤی چھو إِلَهُكُمْ إِلَهًُ وَاحِدًا تمہند معبود برحق۔ معبود برحقہ اس  
 ہیو یہ کہانہ چھونہ ذاتس اندر نہ صفن اندر فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ  
 مُسْتَكْبِرُونَ بس تم لو کہ ایتر وضاحت کر تہ ہے پڑھ چھنہ کر ان آخرتس، معلوم سپد تمہند دل چھو  
 توحیدس انکار کر ان۔ یہ سپد معلوم کہ تم چھنہ قیاس ایمان انہ نغہہ تکبر کر ان لَأَحْرَمَ أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ  
 مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ضروری تہ چھنہ کہ پڑاٹھ اللہ تعالیٰ چھو زنانان ہے سوزوی ہے تم پو شیدہ کر ان  
 چھ۔ یہ ہے تم ن پاٹھ کر ان چھنہ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ پڑاٹھ اللہ تعالیٰ چھونہ پسند کر ان تکبر کرہ  
 و نین تم توحیدہ نغہہ ہے تصدیق رسالتہ نغہہ چھنہ تکبر کر ان۔ یلہ تمہند تکبر کر ان معلوم سپد، سستی سپد ہے  
 معلوم کہ تم چھنہ خدا بس ناپسند۔ لہذا یہ سؤ تم ضرور سزا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ  
 قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ یلہ ونہ یوان چھو تم کہ کیاہ کر نازل تمہند پروردگارن، دپان چھنہ تم ہے  
 کہہ چھو خدایہ سہدہ طرفہ سوزنہ آمت۔ یہ چھنہ محض بے سندتھہ سیمہ برو نھنن نغہہ نقل کرنے یوان چھنہ  
 لِيَحْبِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ نتیجہ یہ ونہ ٹگ آسہ کہ یمن لو کن آسہ ٹکن پنہ نین  
 گنن ہند بور قیامتگ دوہ پور پور وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ یہ تم لو کن ہندین



يَزْمُونَ ﴿٥٦﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى  
 اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ  
 فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٧﴾  
 ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ  
 كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ  
 الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ تَتَوَلَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ  
 وَالنَّاسُ أَنفُسُهُمْ فَالْقَوْمَ اتَّخَذُوا الْأَسْمَاءَ مَا كَانُوا عَمَلٍ مِنْ سُوِّ بَلَىٰ إِنَّ

گنہگار ہندو، ہم گمراہ کران آس علمہ وراى الالسام ما یزموون وارہ وجھوہ بوزان سیٹھاہ پیچھ چھوسو  
 یورس تم نکلن قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ پزپاٹھ فند  
 تہ تدبیر کر خدائس خلاف تم لو کو ستم تم برونٹھ آس بس دوت خدایہ سُنَد عذاب تہنزن لرین  
 ہندین کنن کل فخر علیہم السقف من فوقہم تو پتہ پو دوستھ تم لرہ ہند نکل پیٹھ کن واتھم  
 العذاب من حیث لا یسعرُونَ بیہ دوت تم عذاب تھ پیٹھ تم فکری ترہ بیہ حالت گیہ تہندہ  
 عذاب دنیا س اندر ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ تو  
 پتہ کر گیہ خوار و ذلیل اللہ تعالیٰ قیامتک دوہ بیہ دیکھ کتہ چھوہ تم معبودان باطل بہندہ خپرہ لڑایہ آسو  
 کران قال الذین اوتوا العلم ان الخزی الیوم والسوء علی الکفرین ونن تمہ سائہ زانن وال تہ عالم پز  
 پاٹ خواری تہ پیچھ عذاب چھوہ از کفرن تہ نافرمان پیٹھ الذین تتولواہم الملایکة ظالمی انفسہم  
 تم ن زو کو ذملا کیو پیٹھ حاس اندر کہ تم آس پان پانس ظلم کرہون فالقوا السلم لیس پیش کرن تم تمہ  
 سائہ صلج تھ بیہ دین ما کانا عمل من سو اس آس نہ کانہ پیچھ کوماہ کران ملایک ونہ کتھ بل ان اللہ  
 علیہم یانکون تھ پیٹھ یوسہ تھ ونان چھوہ پزپاٹھ اللہ تعالیٰ چھوہ پوزانان تہ سوروی بیہ تہہ

اللَّهُ عَلَيْهِم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۷﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ  
 خَالِدِينَ فِيهَا فليُسْ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۳۸﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ  
 اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي  
 هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۹﴾  
 جَدْتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا  
 مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿۴۰﴾ الَّذِينَ تَتَوَقَّأَهُمُ

کران آسودہ۔ سو دیہ پانے تچ مزور توہہ و نہہ تیکھہ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اشر و جہنمہ کیو  
 دروازو کن جہنم آندر ہمیشہ چھوہ آت روژن فليُسْ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ بس کاٹراہ پچھ جایی پچھ یہ  
 متعمران ہندہ خیطرہ۔ یہ گو عذاب آخرت۔ حاصل چھوہ یمن آیتا تہ ہند کہ ای لو کو ہتہ بوزوہ بروٹھمن  
 کافران ہندہ عذابک حال۔ تھہ پاتھہ بس اکھاہ دین حقس مقابلہ کرہ، مکرو فریب کرہ ہتھ پاتھہ تہہ کران  
 چھوہ۔ یہ چھوہ تہہ لو کہ گراہ کران۔ لہذا آسہ یسوی انجام تہندہ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ  
 قَالُوا خَيْرًا یہ چھوہ و نہہ یوان تمن لو کن تم شر کہ نشہ کفرہ نشہ پتھ روڈ توہہ پیٹھ کیاہ کور نازل تہندہ  
 پروردگارن تمہو ڈوب اللہ تعالیٰ ان کور نازل سو قران مجید ہتھ منز خیری خیر چھوہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا  
 فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ تمن لو کن ہندہ خیطرہ سمور ٹکاہہ کرہ پچھ ہتھ ذنیاس اندر رٹمزور و لکدار  
 الْآخِرَةِ خَيْرٌ یہ چھوہ تہندہ خیطرہ آخرتک گراہ زیادے رت باعث فرحت و سرور وَلَنِعْمَ دَارُ  
 الْمُتَّقِينَ یہ چھوہ متقین تہ پرہیز گارن ہند گراہ جَدْتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ متقین  
 ہند گراہ گئے ہمیشہ روزک جنت یمن منز تم واتن تموی منز آسن پکان جوہی لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ  
 تہندہ خیطرہ چھوہ تمن جشن اندر تہ سوزوری یہ تم یڑھان آسن کَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ تھہ پاتھہ  
 کیا دیہ اللہ تعالیٰ رٹمزور سارنی پرہیز گارن الَّذِينَ تَتَوَقَّأَهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ تم گئے تہ ہند روح  
 ملایک کڈن ہتھہ حاس اندر کہہ تم آسن پاک تہ پاکیزہ شرگچو آلا پشو نشہ یا آسن در کمال فرحت و سرور

الْمَلِیْكَۃُ طَیِّبِیْنَ یَقُولُوْنَ سَلَمٌ عَلَیْكُمْ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا  
 كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿۳۳﴾ هَلْ یَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ تَاْتِیَهُمُ الْمَلِیْكَۃُ اَوْ  
 یَاْتِیَ اَمْرٌ رِّبِّكَ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ  
 اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ یَظْلِمُوْنَ ﴿۳۴﴾ وَاَصَابَهُمْ سَیِّاَتٌ  
 مَّا عَمِلُوْا وَاَوْحَاۗقٌ بِهِمۡ مَّا كَانُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۵﴾  
 وَقَالَ الَّذِیْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِہٖ  
 مِنْ شَیْءٍ مِّنۡ شَیْءٍ وَلَا الْاَبَاۗءُ وَلَا الْاَبْنَاۗءُ وَلَا حَرَمًا مِنْ دُوْنِہٖ مِنْ شَیْءٍ

یَقُولُوْنَ سَلَمٌ عَلَیْكُمْ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ملائک وہ کچھ سلام بولیں توہم پیٹھ اتر جنتس  
 کیا زہ تہہ آسودہ رث عمل کران ہل یَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ تَاْتِیَهُمُ الْمَلِیْكَۃُ ستم کافر چھہہ انتظار کران مگر  
 ملائک ہندس ہنس اویاتی اَمْرٌ رِّبِّكَ یا چھہہ انتظار کران خدایہ سندس کھمس نُس تہندہ گالہ ونہ عذابہ  
 خیطرہ آسہ کذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِہُمْ ہتھہ پاتھہ کور انکار تہ تکذیب شرک تہ کفر تمولوکو ستم  
 تمن بردنھہ آس وَاظْلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ یَظْلِمُوْنَ اللہ تعالیٰ ان کرنہ تمن لوکن کئہہ  
 قسمہ ظلم۔ مگر تم آس پان پانس ظلم کران وَاَصَابَهُمْ سَیِّاَتٌ مَّا عَمِلُوْا وَاَوْحَاۗقٌ بِهِمۡ مَّا كَانُوْا بِهٖ  
 یَسْتَهْزِءُوْنَ پس واثر تمن بدی پنہ نین عملن ہنزہہہ آوولنہ تمن سوی عذاب ہتھہ تم ٹھٹھہ آس  
 کران وَقَالَ الَّذِیْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِہٖ مِنْ شَیْءٍ مِّنۡ شَیْءٍ وَلَا الْاَبَاۗءُ وَلَا  
 وناں یم مک مثرک ہر گاہ خدایٹھہ ہاَس کرہ ہونہ تس ورا ی ہہہ کانسہ ہنز عبادت نہ آس تہ نہ سان مال  
 ہدبب وَاَحْرَمًا مِنْ دُوْنِہٖ مِنْ شَیْءٍ ہہہ کرہ ہونہ آس حرام تہ تہندہ کھم ورا ی کانہہ چیزاہ۔ ہہہ پوڑھہ  
 تہ تہندی یڑھنہہ موجب چھہہ آس کران کافر ن ہنزہہہ سمہ کتھہ وننہ سیت مہہ حض گوجو تہہہ آزرده۔ ہہہ

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَهْلَ عَلَى الرَّسْلِ إِلَّا  
 الْبَلْغَةُ الْمُبِينُ ﴿۱۶﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ  
 اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ  
 وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَاةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا  
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ ﴿۱۷﴾ إِنَّ تَخْرُصَ عَلَى هُدًى مُمْ  
 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصْرِينَ ﴿۱۸﴾ وَ  
 اقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ نَبِوتٍ

پہنہ نوکھاہ کا نہ کذالک فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یتھ پاتھ پھوہ ہودہ بحث کورمت تمولو کو تہ تم  
 تم برونھ آس قَهْلَ عَلَى الرَّسْلِ إِلَّا الْبَلْغَةُ الْمُبِينُ کس پھونہ پیغمبرن منہ مگر ن پاتھ احکام  
 خداوندی و اتانوان وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ پز پاتھ بیہ  
 سوز آسہ پرتھ آتس کن پیغمبر لوکن یہ پیغام و اتانہ خیطرہ کہ عبادت کردو مغبود برحقہ سزرتہ پتھ روزو  
 شیطانہ سندہ تجویزہ معبودان باطلن ہنز پرتسش کرنہ نشیہ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ  
 عَلَيْهِ الضَّلَاةُ کس آسہ تموا متواندرہ بعضے تم سیزو تھ ہاواللہ تعالیٰ ان۔ تمو کور حق قبول بیہ آس  
 بعضی تم سمن پیٹھ گرا ہی ثابت روز۔ سو تم نغیر دورگیہ نہ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ  
 عَلَيْهِ الضَّلَاةُ پس پھیر تہ ہبہ ای لو کوز مینس منز تو پتہ و چھتو کیاہ ہنیو و پتولا کہ تم لوکن سمو پیغمبرن  
 انکار کرو إِنَّ تَخْرُصَ عَلَى هُدًى مُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصْرِينَ ہرگاہ تو بہر خواہش  
 چھ تہدہ ہداتق تمہ سمیت ائدہ نہ کینہہ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھونہ و تھ ہاوان تم سمن سو و تھ راوہر بیہ چھنہ  
 تہدہ خیطرہ مددگاریم تم عذابہ نغیرہ پچاوتھ تم سمن وَ اقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ  
 نَبِوتٍ بیہ ہاوتمو سخت زور دار قسم یتھ پیٹھ کہ اللہ تعالیٰ کرہ نہ کا نہ مرت دوبارہ بیہ پیدہ۔ تہہ فرما

بَلَىٰ وَعَدَّٰ عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾  
 يُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَيُعَلِّمُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿۳۹﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ  
 لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۴۰﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا  
 ظَلَمُوا النَّبِيِّنَّ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ الْكَبِيرِ لَوْ  
 كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۴۲﴾

دیو کہ بلیٰ وعدا اعلیٰہو حقا البتہ ضرور کرہ اللہ تعالیٰ ساری مرتبہ پیدہ کیاہے۔ تم چھو امیک وعدہ  
 کورمت پوزوعدہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لو کہ چھنہ باوجود دلیل قائم آسحہ یقین  
 کران۔ یہ دوبارہ زندہ کران چھو ہمہ خیطرہ کہ یُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ اللہ تعالیٰ کرہ  
 ضرور مرنہ پتہ بہ پیدہ سارنی تھہ سوتر اوہ تمن سو تھہ تھہ منز تم اختلاف آس کران وَلِيُعَلِّمُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ بہ زان کافر کہ بیشک تم آس ایوزیر۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ  
 نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ لمہ نشہ کیاہ عجیب ہٹھہ بہ پیدہ کرن، یلہ آس تھہ چیر کہ پیدہ کرنک ارادہ کران چھہ  
 اس چھہ ونان سپد۔ اتی چھہ سہ چیز سپدان تہ وجود اس اندریوان وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا  
 ظَلَمُوا النَّبِيِّنَّ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً بہہ سمولو کو محض خدیہ سندہ خیطرہ پن وطن مہہ شریف تر و شہر  
 حبش گئے، یلہ تمن ظلم کرنہ آؤ، آس ومو ضرور تمن رث جانی دنیاہ اس اندر، آس رتس شہر س منز  
 یعنی مدینہ منورہ منز تہہ تم امن و راجح زندگی بسر کرن وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ الْكَبِيرِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  
 یوسہ مزور آخرتس منز تمن عطایہہ کرنہ سو چھہ امہ خوتہ بڈ۔ ای کاش تمن کافر ن تے ایچ خبر آسہاسہ  
 حاصل کرنہ خیطرہ سپد ہن مسلمان الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سمومما جرو صبر کور وطن  
 تر و انس پیٹھہ بہہ تم پنہ نس پروردگار س پیٹھہ تو کل کران چھہ وطن تر اوچہ وقتہ کور کھنہ بہ خیال کہ کھمو  
 چھو تھہ پاٹھ، درای پنہ نس پروردگار س پیٹھہ بھروسہ کرتھہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَلُوا أَهْلَ  
 الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ  
 الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۴﴾  
 أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ  
 أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۵﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ  
 فِي تَقَدُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِسُعْجِزِينَ ﴿۳۶﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ  
 رَبَّهُمْ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۳۷﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

الَّذِي اسْمُهُ سُوْرَةٌ تُوْهِمُ بِرُوْحِهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَكْرُ بَشَرَةٍ اِنْسَانِي يَتَغَيَّرُ كِيَاْرُهُ بَشَرِيَّتِي سَتِ رَسَالَتِي اِنْدَرُ جَهَنَّمَ  
 كَانَهُ مَنَاقَاتِ تَمَنُّ كُنْ اَسْ بِنِ اِحْكَامِ سُوْرَاتِ اَسِ فَسَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اِسْ پَرِزْهُتُو  
 عِلْمِ وَالْمِيْنِ سَتِ زَانِ وَالْمِيْنِ هَرْ گَاهِ تُوْهِمِ پَاْسِ مَعْلُوْمِ هَجْهَنْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ اِسْمِ سُوْرَتِي يَتَغَيَّرُ مِنْهُ دَلِيْلُهُ سَتِ  
 مَعْجَزَاتِ بِيْتِهِ سِيْ كِتَابِهِ هِيْتَهُ وَأَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ بِيْ سُوْرَتِي  
 اِسْمِ تُوْهِمِ كُنْ بِيْ قِرَانِ جَمِيْدِيْتِهِ هَبْهْ وَارْهَ نَرَاوْتِهِ بِيَانِ كِرُوْ كُوْنِ بِيْ تَمَنُّ كُنْ سُوْرَتِي اَوْبِيْ بِيْتِهِ تَمَنُّ تَهْتِ اِنْدَرُ  
 فِكْرِ كَرَنِ اَفَأَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا  
 يَشْعُرُوْنَ كِيَاْهُ تَمَنُّ لَوْ كَهْ سَمُوْ يَجْهْ حِيْلُهُ سَتِ تَدْبِيْرِ كَرْنِيْ كَرِيْمِهِ سَبْدِ مَخَالْفِ اِنْدَرُ تَمَ چْهَابِيْ فِخْرِ سِمِيْهِ  
 كَتْمِهِ نَشِيْهِ كِهْ تَمَنُّ كِيَاْنِيْهِ اللّٰهُ تَعَالَى زَمِيْنِ نَحْلِ اِسْمِيْهِ تَهْتِ نَشِيْهِ كِهْ عَذَابِ كِيَاْبِيْهِ وَاتَهْتِ تَبَارِيْ بِيْ پَارْنِهْ تَمَنُّ  
 فِخْرِهِ نَرِهِ اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَدُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِسُعْجِزِيْنَ يَا كِيَاْرِيْهِ تَمَنُّ اللّٰهُ تَعَالَى پِخْرِيْ اِن تَهْوَرَانِ بِيْسِ  
 هَجْهَنْ تَمَ عَاجِزْ كِرْهَوْنِ اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ يَا كِيَاْرِيْهِ تَمَنُّ كَهْوْثُهُ نَاوْتِهِ يَابِهْ بِنِهْ تَمَنُّ كَمْ كِرَانِ سَتِ خْتَمِ  
 كِرَانِ خَدَايْسِ هَجْهْ پَرِيْتِهِ چِيْزِ سِ بِيْتِهِ قَدْرَتِ اِسْ كَرْمَهْتِ پَرِيْتِهِ سَاْتِ كَهْوْثُنِ اَفَأِنَّ رَبَّهُمْ لَرُؤُوفٌ رَحِيْمٌ پَرِ  
 پَاْتِ هَتْمَنْدِ رُبْ چْهْ سِيْطَاهُ مَرْبَانَ سِيْطَاهُ رَحْمِ كِرْهَوْنِ سُوْ هَجْهَنْ جَلْدِرَاَنْ سَهْ هَجْهَنْ مَهْمَلْتِ دِرَاَنْ اَوَلَمْ يَرَوْا

يَتَفَيَّؤُاِظِلُّهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَالِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ  
 ذٰخِرُوْنَ ﴿۳۸﴾ وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ  
 دَابَّةٍ وَّالْبَلٰىكَةِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۳۹﴾ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ قُوَّتِهِ  
 وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿۴۰﴾ وَقَالَ اللّٰهُ لَاتَتَّخِذْ وَّالْهِيْنَ اٰتِيْنَ  
 اِنْبَاهُوَالِهٖ وَّاحِدًا فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنَ ﴿۴۱﴾ وَكُلُّ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ  
 الْاَرْضِ وَكُلُّ الدِّيْنِ وَاَصْبًا اَفْغِيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ ﴿۴۲﴾ وَمَا يَكُمُ

الى ما خلق الله من شئ كياہ تم جھناو چھان تہن سايہ دار چيزن کن تم اللہ تعالیٰ ان پيدہ کرمت  
 جھہ کل ہی، کوہ وغیرہ ہی يتَفَيَّؤُاِظِلُّهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَالِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ ذٰخِرُوْنَ نماں تہ  
 پھیران جھہ تہن چيزن ہند سايہ دجھن تہ کھو فر۔ خدايس سجدہ کران تہ عاجزی ہند اظہار کران تابع  
 جھہ خدايہ سدس خمس وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ بيہ جھہ خدايہ سی نماں  
 تہ سجدہ دوآن تم ساری چیز تم آسمان اندر تہ زمين اندر جھہ جاندار و اندرہ وَالْبَلٰىكَةِ بيہ جھہ  
 ملائک تہ نس سجدہ دوآن وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ تم جھہ باوجود علوشان تس عبادت کرنہ نشہ کنہ قسمہ  
 تکبر کران يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ قُوَّتِهِ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ تم جھہ کھوژان پنہ نس بدوردگار س نيس تہن  
 پيئہ کن تہ بالادست جھہ۔ بيہ جھہ تم تعيل کران تہن ساری کھن تم تہن کرنہ یوان جھہ وَقَالَ اللّٰهُ  
 لَاتَتَّخِذْ وَّالْهِيْنَ اٰتِيْنَ اِنْبَاهُوَالِهٖ وَّاحِدًا فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنَ بيہ فرمو اللہ تعالیٰ ان پیغمبرن ہندہ واسطہ  
 ای لو کومہ تھاؤ کھ زہ یاوار یاہ خدا۔ خدا جھہ مگر کنی، اکوی۔ نس کھو ژوتہہ می نوت۔ کیا زہ یلہ الوہیت  
 خاص می جھہ ہند اتہک لو ازم تم جھہ کمال قدرت وغیرہ تم جھہ مے خاص انتقامک خوف گھوہی می نش  
 تھاؤن۔ شرک جھہ مگان انتقامس۔ لہذا آرزہنہ خدايس شریک ٹھہراؤن وَكُلُّ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  
 وَكُلُّ الدِّيْنِ وَاَصْبًا بيہ جھہ تہندی تہ سوزی بیہ آسمان تہ زمينن منز جھہ۔ بيہ شوہہ تہزی فرمانبرداری  
 کرن ہمیشہ اَفْغِيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ سہ مجبود برحق آتہ جھوہہ تہہ نس ورا ی تہن کھوژان۔ تہن کھو ژوتہہ

مِّن نَّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضَّرْفُ فَأَلَيْهِ تَجَعُّرُونَ ﴿۵۳﴾  
 ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضَّرْعُ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۵۴﴾  
 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا<sup>۱</sup> فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾ وَيَجْعَلُونَ  
 لَهَا آلٍ يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَسَأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ  
 تَفْتَرُونَ ﴿۵۶﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۵۷﴾  
 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۵۸﴾

چھوہ تہمز پر سٹش کران۔ یتھ پاٹھ نہ کھوڑنس قابل چھوکانہ نس وراى یتھ پاٹھ پھنہ امید تھاونس  
 قابل تہ کانہ نس وراى وَمَا يَكُفُّ مِّن نَّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ چنانچہ توبہ نشہ یوسہ نعمتھاء واتان چھہ سہ چھوہ  
 معبود برحقہ سندی طرفہ واتان بیہ نہ کانہ ہمدہ طرفہ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضَّرْفُ فَأَلَيْهِ تَجَعُّرُونَ توپتہ یلہ  
 توبہہ کانہ سختیہ واتان چھہ تمہہ ساتہ چھوہ نس گن عاجزی کران کریکہ نادلاگان۔ دُعا کر نس اندر، فریاد  
 کر نس اندر۔ تمہہ ساتہ چھوہ نہ بیہ کانہہ تہ منگان ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضَّرْعُ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ  
 توپتہ یلہ سہ سہ سختی دُور کران چھہ توبہہ نشہ اتی چھہ توبی منزہ اکھ جماعتھاء، تمہہ چھہ زیادہ پنہ نس  
 پروردگار س بدستور سابق شرک اتان لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا<sup>۱</sup> فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ یتھ تم کفران  
 نعمت کران تمن نعرود ہنز سہمہ نعرود اسی تمن عطا کرہ بس تلو تمتع کینہہ کالاہ۔ عنقریب زانوامیک مزہ  
 وَيَجْعَلُونَ لَهَا آلٍ يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ بیہ چھہ مقرر کران تمہہ مشرک تمن معبودان باطلن  
 ہمدہ خیطرہ تمن ہنز نہ تمن خبرے چھہ زہ تمن اٹھہ چھنہ کانہہ خیر وشریا نفع وضرر اکھ حصہ تمہہ مالک  
 یس اسی تمن عطا کورمت چھہ تَاللَّهِ لَسَأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ قسم چھہ میہ پنہ ذات پاکگ ضروریہ  
 پرژھنہ توبہہ تمیک بیہ تمہہ پائے ٹھہراوان آسہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ بیہ چھہ  
 ٹھہراوان معبود برحقس کورہہ حالانچہ منزہ تہ پاک چھہ سہ کورہ آسنہ نغیرہ پنہہ خیطرہ چھہ ژھانڈان تہ بیہ  
 پانس پند چھہ یعنی گبر تہ پنچو وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ بیہ یلہ سمو



یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ  
 يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلْأَسَاءُ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۶۹﴾ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۷۰﴾  
 وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَا كُنْ  
 يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ  
 سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۷۱﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ

آندره کانسہ خبر چھہ یوان ونہ کورہ ہندہ ز شیخ اتی چھو تھند ہتھ گڑھان کُر مَن ، بیہ چھہ سیدان غمگین  
 یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ژھپہ ژھپہ چھہ کران ، ژورہ چھہ روزان لوکن نشہ تمہ  
 خبرہ ہنزہ شرمہ ہندہ سبہ۔ اَيْمُسِكُهُ عَلٰی هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ سوچان چھہ پانس سیت اس کورہ  
 کیاہ کرہ بوؤن۔ تھے پاتھ تھاونہ کنہ زندیا مارتھہ دو براؤن ز مینس تل اَلْأَسَاءُ مَا يَحْكُمُونَ وارہ وچھو  
 کوتاہ پچھہ چھہ یہ تجویز ہندئیس تم خدا لیس متعلق کران چھہ۔ یعنی تَس چھہ کورہ ٹھہراوان پانس چھہ  
 کورہ زینہ وزہ تھہ سیاہ گڑھان لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوِّءِ تمن لوکن ہند چھہ سببیاہ پچھہ  
 حال تم پتیمس دوہس انکار کران چھہ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ خدلیہ سہہ خپترہ چھہ تھہ تھہ صفت وَهُوَ  
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بیہ چھہ سُوی غالب نہ حکمتہ وول وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ  
 بیہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ لوکن تھہد یوانا فرمانیہ سبہ گرفتار کرہ ہاتلہ تراوہ ہانہ اتھہ ز مینس پیٹھہ کانسہ جاندارس نہ  
 تمن نافرمان ہنز شانت واتہ ہابے گناہ چارولسن نہ۔ وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى مگر نہ چھہ تمن  
 مہلت ووان آگس مقرر کر نہ آتس وفس تان فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا  
 يَسْتَقْدِمُونَ تَس یلہ واتہ تھندئہ وقت تمہ ساتہ بن نہ تمہ نشہ نہ پچھہ کڈنہ نہ برو تھہ انہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ  
 مَا يَكْرَهُونَ بیہ چھہ معبود برحقہ سہہ خپترہ ٹھہراوان تم چیز تم پانس کھران چھہ وتَصِفُ  
 أَلْسِنَتَهُمُ الْكَذِبَ بیہ چھہ ونان تھنزہ زیوہ اپز اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ای زہ کہ تھہدہ خپترہ کیا پچھہ خدا تَس

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ الْكَذِبُ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَاجْرَمَانَ لَهُمُ النَّارُ  
 أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴿۶۲﴾ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ  
 فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَليَهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
 أَلِيمٌ ﴿۶۳﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تِبْيَانًا لِّهُمُ الَّذِي  
 اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۶۴﴾  
 وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي  
 ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿۶۵﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لِّتُسْقِيَهُمْ

نہیں نیکی لاجرم ان کے لئے النار ہے ثابت ہے کہ یہ کفار یقیناً بھگتیں ہندہ خیر ہاں تھہ منزل  
 تم ساری بروئے تراویہ تالللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک خدایہ سند قسم پڑیا اسہ سوز پیغمبر  
 توہم بروئے واریہن امتن کن فزین لہم الشیطان اعمالہم کس زینت دیت شیطان ہنزل بھ  
 کامین۔ تم آہ بوزنہ پتہ بھہ کامہ جان فہو ولیلہم الیوم وللم عذاب الیم کسی شیطان بھہ دوست  
 ازتہ یہ بھہ تہندی خیر ہدگ تلہ ون عذاب آخرتس اندر وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبیین لہم  
 الذی اختلفوا فیہ و ہدی ورحمۃ للقوم یؤمنون یہ کرنہ اسہ نازل توہم پیٹہ یہ کتاب مگر  
 بھہ تہہ لوکن وارہ بیان کرو دینجہ تمہ کتھ تم منزم اختلاف کران بھہ یہ بوڈ ہدایت تہ ہڈ رحمت  
 باایمان ہدہ خیر ہ واللہ انزل من السماء ماء فاحیایہ الارض بعد موتہا یہ ترواللہ تعالی ان آسلمہ  
 طرفہ رود تھی سیت کوزن زندہ موتت زمین۔ کس زمین رودنہ پتہ سیت خشک اوس گومت لان فی  
 ذلک لایۃ للقوم یسمعون ہڑیا تھہ منز بھہ بوڈ نشانہ بوزہ ونین ہدہ خیر ہ سم قرآن مجید بوزن  
 ہند مردہ دل سہن زندہ وان لکم فی الانعام لعبرة لتسقیکم تباری بطونہ من بین قریب وبعید لبتا  
 خالصاً سائماً للذین بیشک ہندہ خیر ہ بھو چاروا این اندرتہ سیٹماہ غور کرنک مقام ہندین شیکن

مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِيبِ ۙ (۶۹)  
 وَمِنْ شَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا  
 حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۙ (۷۰) وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى  
 النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (۷۱)  
 ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ  
 بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

منہا شربہ فضلہ سے زتھہ چھہ تمبوے دو یو چیز و منزہ چھہ نیران دوداہ صاف، ہٹہ و سہ و ن آسانی سان چنہ  
 والین۔ سئی دود چھہ آس تو بہہ چاوان۔ و چھہ سان قُدرت اتھ دودس نہ چھہ آسان خوئج آلاش نہ فضلہ  
 آلاش یا منک و مِنْ شَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا سہہ گدھہ خضران تہ  
 دچھہ اندر غور کرن۔ تیار چھہ کران تہہ تھہ نکل چیز بہہ کھینک چیز۔ خشک خضر بہہ کش بہہ شربت تہ  
 برکہ۔ اتھ منز تہہ چھہ بچہ دلیلہ خدایہ سدہ توحید چہ۔ بہہ چھہ ثابت سپدان سارے نمو عطا کرہ و ن چھہ  
 سئی إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ پزپاٹ اتھ منز چھہ بوڈ نشانہ خدایہ سدہ قدر تک عقلہ والین ہند  
 خیطرہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ یہ تھہ تہ چھہ قابل  
 غور کہہ الام ترود تہند پروردگارن ماچہ نگرہ ای زہ بناوین گرہ کوہن منز، کلین منز بہہ لوکن ہندین  
 کرن منز چنانچہ سمن جاہن منز چھہ سہ گرہ بناوان ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا تو پتہ  
 کھیہ ژہ پر پتھہ قسم میوہ آندرہ۔ پس بہہ پگن واپس ژہ پنہ نس آلس گن پنہ نس پروردگارہ سنزن و تن اندر  
 سہہ سہل تہ آسان چھہ چانہ خیطرہ۔ دور دراز جایو پیٹھ میون ہند رس ژہ تھہ چھہ یوان سو پنہ نسی آلس  
 گن تو پتہ چھہ ماچہ تراویج کوم کران يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ نیران چھہ  
 سہ ماچھہ نلرین ہندیو شیمو منزہ اکھ چینک چیزاہ میوٹھ تہ موڈر یعنی ماچھہ سہمک رنگ مختلف چھہ آسان  
 تھہ منز چھہ شفاء لوکن ہندہ خیطرہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ پزپاٹ اتھ منز چھہ بوڈ نشانہ خدایہ

لَايَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْسِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ

سیدہ قدر تک فخر تہ تامل کرو نین ہمدہ خیرہ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ بے کر وہ ہتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا۔ توتان آسہ نہ تہہ کنی۔ از عدم اتوہ بوجوہ دیکنہہ کالاہ گودھت نیوہ سی توبہہ ہمہ عالمہ بیہ جھ توبہہ اندر کانہہ شخصاہ جھ عمرہ تان واتاوانہ یوان۔ تھہ عمرہ منزہ جھہ جسمانی قوت موجود روزان نہ عقلہ ہند قوت۔ یژہ عمرہ نشہ جھ پناہ مؤکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ”وأعوذ بك من أن أرد إلى أردل العمر“ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا تمیک اثر جھ بیہ سپدان کہ اکہ چیز بچ خبر گودھنہ پتہ جھ بیہ شخص تہہ چیزہ نشہ بیخ سپدان یادووتر جھہہ بجرس اندر کینہہ روزان إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ پزیاٹ اللہ تعالیٰ ای جھ سوزی زانہ ون، ساری پیٹہ قدر تہ وول وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ بیہ دیت فضیلت اللہ تعالیٰ ان توبہہ اندرہ بعضی لوکن بعضین پیٹہ رزقس اندر۔ اکہ کوزن مالدار خمس تھا ون نوکر تہ غلام تابع۔ تمسبہ واسطہ جھ تم تہندین غلام تہ رزق واتاوان۔ کانہہ بنوون غلام تمس جھ آغہ سبہ واسطہ رزق واتاوان۔ بیہ کوزن کانہہ شخصہ تمس نہ جھ تیرہ دولت زہ غلام آسہ ہنس۔ نہ جھ سہ پانہ کانسہ ہند غلام فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْسِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ لہذا تمکن لوکن رزقس اندر خاص فضیلت ونہ آبیہ تم نشہ جھ مال تہ دولت تہ، غلام تہ تم ہیکن نہ سہ پن مال تم غلامن دتھ۔ کیا زہ تلہ سپدہ آغہ تہ غلام برابر۔ کیا زہ غلام جھہ کتہہ چوک مالکھی بنان۔ لہذا جھہ غلامی تہ مساوات ممکنی زانہ۔ تھہ پاٹھ جھہ یم معبودان باطل ساری خدایہ سبہ مملوک۔ سمیک کافر جھہ پانہ اعتراف کران۔ لہذا مملوک آتھہ کتھ پاٹھ ہیکن تم خدائیس ہی آتھہ۔ یاٹھہ پاٹھ ہیکن تم خدایہ سبہ کتہہ چیزس منز شریک آتھہ۔ بلہ نہ تہندہ غلام تہندس مال و دولتس شریک ہیکن سپدت۔ اللہ تعالیٰ سبہ غلام تہ مملوک کتھہ پاٹ ہیکن تہندس الو ہیئس اندر تس شریک

اللّٰهُ يَجْعَدُونَ<sup>(۱)</sup> وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
 جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
 الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ<sup>(۲)</sup>  
 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ  
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ<sup>(۳)</sup> فَلَا تَضْرِبُوا  
 لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ<sup>(۴)</sup> ضَرْبَ

ہنت۔ کیا تم مضامین بوزت چھاتم لو کہ خدا بس شریک ٹھہراوان سیمہ سبت عقلاً یہ تمھ چھ ثابت  
 سپدان کہ تم چھ خدایہ سزنا نعمون انکار کران کیا زہ نس نعمو عطا کرہون آسہ سہ گوہہ زان مغبودتہ  
 کئی۔ تس شریک ٹھہراونہ سبت چھ لازم کہ تس چھہ تم نعمت عطا کرہون زانان۔ لہذا ہجہ تم مشرک  
 شرک انہ سبت تھہرس نفس انکار کران اَفَبِالْبَاطِلِ اللّٰهُ يَجْعَدُونَ کیاہ تم چھ خدایہ سزنا نعمون انکار  
 کران وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا یہ کر اللہ تعالیٰ ان پیدہ تھہدی جسہ منزہ یعنی انسانو منزہ تھہد جورہ  
 یعنی آشینہ منزہ تھہزہ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً یہ کر اللہ تعالیٰ ان پیدہ تھہدہ خیرہ تھہزہ و  
 زانوا نفعہ کبرتہ اولاد بہ اولاد ہونہ اولاد وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ یہ کوزن عطا توبہ رزق پاک تہ  
 رتو چیز واندرہ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ یہ کرتہ چھاتم معبودان باطلن ایمان  
 اتان ہجہ پیٹہ نہ کانہہ دلیل چھ تہ خدایہ سزنا نعمون چھ انکار کران تس شریک ٹھہراونہ سبت وَيَعْبُدُونَ  
 مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ یہ چھہ تم  
 عبادت تہ پرستش کران خدا بس وراى تمنی چیزن ہنزیم نہ مالک تہ اختیارہ وال چھ تھہدہ خیرہ ہنہ  
 قسمہ رزق نہ آسہجہ طرفہ بارش تراوت نہ زبجہ طرفہ کانہہ چیز کھارت، نہ یکن تم تھہدہ خیرہ  
 کینہہ کرتہہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ہس مہ آسوتہہ بیان کران خدایہ سزہ ہثالہ پنی خیالہ موجب کہ  
 اللہ تعالیٰ چھ بوڈا دشاہ۔ تس ہجہ نہ پریتہ اکھاہ ہن حاجت پیش کرتہہ، عام لوکن شوبہ تھہدین نامین

اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَسْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ  
 مِتَارِئًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ  
 يَسْتَوُونَ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ ط بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵﴾ وَضَرَبَ  
 اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ  
 كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي  
 هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۶﴾

نغمہ پنن حاجت پیش کرن تم کرن پیش خدا نغمہ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بیشک پز مثال  
 بیان کرن زانہ اللہ تعالیٰ ای تہہ زانہ ضَرَبَ اللّٰهَ مَثَلًا چنانچہ اللہ تعالیٰ چھ مثالہ بیان کران عِبْدًا  
 مَسْلُوكًا اکھ غلاماہ پھو اکس شخصہ سُنْدُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ کس نہ منہ چیزس پیٹھ کانہہ قدرت یا کینہہ  
 اختیاراہ چھ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِتَارِئًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا بیاکھ چھ سُنْدُ شخس کس  
 آسہ پننہ طرفہ رُت رزق عطا کور۔ سہ چھ تہہ رزقہ منزہ خرچ کران۔ پو شیدہ پاٹھ تہ زن پاٹھ تہ ہَلْ  
 يَسْتَوُونَ تہی و نوتہ تم زہ چھا برابری۔ تم معبودان باطل بوز توکھ بے طاقت تہ بے اختیار غلام ہی۔ اللہ  
 تعالیٰ زانتون مختار کُل۔ پریتھ چیزس پیٹھ قدرت تہ طاقت تھاون وول اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ساری تعریف تہ  
 صفت چھہ تس معبود برحقس کس زانہ کن تہ صفتو کن کامل چھہ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ چھہ سمو  
 آندرہ اکثرن معلومی کہ شرمسہ شامتہ کیاہ بنہ تمن وَضَرَبَ اللّٰهَ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ  
 عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ بیاکھ مثال چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان۔ زن جوراہ چھہ۔ اکھ چھہ تموا آندرہ  
 ماجر زانمت کولوی کانہہ کوم نہ ہیکان کر تھہ۔ بیہ چھہ سُنْدُ بور تہ وبال گردن پننہ کس آغس پیٹھ نبیومت  
 اَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ یوت سوزان چھس تہہ کانہہ رزکا ماہ کرت چھہ یوان۔ هَلْ يَسْتَوِي  
 هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تہی و نوتو کیاہ یہ شخس چھا برابر کس شخس سیت  
 کس فصاحت و بلاغتہ سان کلام آسہ کران کس لو کن رٹن کا مین ہند اصرار آسہ کران یہ آسہ سہ پانہ تہ

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا  
 كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴۷﴾  
 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ  
 جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۴۸﴾  
 أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يَبْسُكُنَّ  
 إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۹﴾

سبزہ و تہ پیٹھ قاسم روز تھ و لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بیہ چھ خدایہ سی آسمان تہ زمین ہنزن  
 پوشیدہ کھن ہند علم وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ بیہ چھ سہ قدر تس اندر تیوت  
 کامل کہ پوشیدہ تھو آندرہ گیہ آکھ تھ قیامت۔ تمیک معاملہ آسہ تیوت جلد کہ سمہ ساتہ تمیک وقت  
 وانہ آکس اچھہ ٹینہ منز سپدہ قیامت برپا بلکہ تمہ خوتہ تہ نزدیک تہ جلد إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
 بیشک اللہ تعالیٰ چھہ پریتھ چیزس پیٹھ قدر تہ دول وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ  
 شَيْئًا بیہ چھہ قدر تہ چود لیلو آندرہ تہ نعمتہ کیو قسمو آندرہ بیہ امر کہہ کڈوہ توبہ اللہ تعالیٰ ان پنے نین ماجن ہند  
 یوشیمو آندرہ ہتھہ حاکس اندر کہ تمہ ساتہ آسیونہ تہہ زنان کنہی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ  
 وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ توپتہ کرنوہ تم بوزنہ خیطرہ کن، وچھنہ خیطرہ اچھہ، زاننہ خیطرہ دل عطا۔  
 تھہ تمہ ہنزن سمن نعمدن پیٹھ شکر دو اَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يَبْسُكُنَّ إِلَّا  
 اللَّهُ کیاہ سم لوکھ بھناو چھان جانورن ہند حال۔ تھہ پاٹھ چھہ خدایہ سندس کھمس تابع آسمانس تہ  
 زمینس منز باگ ہو اوس پیٹھ وڈان۔ کانہہ تہ چھنہ سمن تھپ کرت آسان اللہ تعالیٰ اس وراى اِنَّ  
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بزپاٹ اٹھ منز چھہ واریاہ دلیلہ خدایہ سبہ قدر تچہ با  
 ایمانن ہندہ خیطرہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَعْمَامِ بُيُوتًا  
 تَسْتَخِفُّونَهَا بِیہ کر اللہ تعالیٰ ان تہبہہ خیطرہ تھندین گھرن اندر تھبہہ روزن جاى یلہ نہ تہہ در حالت

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ  
 الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ  
 وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا  
 إِلَىٰ حِينٍ ۝۸۰ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْهَا خَلْقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ  
 مِنَ الْجِبَالِ الْكُنَانَ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ  
 وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  
 لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۝۸۱ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ

سفر آسویہ کرن تہندہ خیطہ چاروا این ہندین مسلمان ہند گھر۔ یعنی خیمہ تہہ لوت زانتھ پانس سیت  
 سفر اندر تلان چھوہ یوم ظعنکم ویوم اقامتکم تہہ دوہہ تہہ سفر س نیران چھوہ بہہ تہہ دوہہ کتہ  
 جلیہ ٹھہران چھوہ اقامت کران چھوہ وومن اصوابہا واورہا واشعارہا اثاثا و متاعا الی  
 حین بہہ کرن تہندہ خیطہ کتہ مونہ، اونٹ مونہ، ژھال مونہ، پوشاک تہ فرش و فروش بہہ گرج گروٹھ  
 اکس مقرر کرنہ آتس و قس تان یوتان تم چیز پھلان چھہ واللہ جعل لکم مہا خلق ظلالا بہہ کر اللہ  
 تعالیٰ ان تہندہ خیطہ پنہ نین پیدہ کر متین چیزن ہند سایہ پیدہ۔ تہن تل روزت تہہ آفاچہ گرمی نشہ  
 بچان چھوہ مثلاً گلین ہند سایہ، لرین ہند سایہ و جعل لکم من الجبال الکنا تہہ کرہ اللہ تعالیٰ ان  
 تہندہ خیطہ کوہن اندر گوچھہ تہ غارہ تہن تل روزت شینہ تہ رودہ نشہ بچان چھوہ و جعل لکم سرابیل  
 تقیکم الحر بہہ کرہ اللہ تعالیٰ ان تہندہ خیطہ پھرن تہ گرتنہ یہہ توبہ بچوان چھہ سردی نشہ تہ گرمی  
 نشہ و سرابیل بہہ کرین بہہ گرتنہ یعنی زرہ تقیکم باسکم تہہ توبہ بچوان چھہ جس اندر شمشیرن  
 تہ نیزن تہ تیرن ہند یوز نمونہ کذالک یتم نعتہ علیکم لعلکم تسلمون تہہ پٹھ چھوہ اللہ تعالیٰ  
 توبہ پٹھ نمونہ پورہ کران تہہ تہہ تمسند ہم مانو فان تولوا فانما علیک البلاء المین ہس



الْبِیِّنُ ﴿۸۲﴾ یَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ یُنْكَرُونَهَا وَاکْثَرُهُمُ  
الْكَافِرُونَ ﴿۸۳﴾ وَیَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِیدًا ثُمَّ لَا  
یُؤْذَنُ لِلَّذِیْنَ كَفَرُوا وَآلَاهُمْ یُسْتَعْتَبُونَ ﴿۸۴﴾ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِیْنَ  
ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا یُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَآلَاهُمْ یَنْظُرُونَ ﴿۸۵﴾ وَ  
إِذَا رَأَوْا الَّذِیْنَ أَشْرَكُوا أَشْرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ  
شُرَكَآؤُنَا الَّذِیْنَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا

ہر گاہ تم لو کہ امہ پتہ تہ بٹھ پھرن، پس توبہ پھونہ مٹہ مگر تبلیغ کرن ان پاٹ تہ صاف پاٹھ یَعْرِفُونَ  
نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ یُنْكَرُونَهَا وَاکْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ تم لو کہ چھہ پرزہ ناوان خدایہ سز نعمت تو پتہ چھہ  
زانتھہ کر تھہ تھہ نفیس انکار کران۔ پس برتاو معس سیت کرن گدھہ یعنی عبادت تہ اطاعت سُو پھوئس  
ورای بین سیت کران سمو آندره چھہ واریہہ کافر وَیَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِیدًا بیہ پاوڑتیس  
سیمہ دوہہ آس تلون پرچھہ اُمہ خیرہ آکھ آکھ گواہ، سُو گو تمہہ اتمک پیمبر قیامتک دوہہ ثُمَّ لَا یُؤْذَنُ  
لِلَّذِیْنَ كَفَرُوا تو پتہ بیہ نہ کافرن اجازت دنہ تھہ کرنک عذرو معذرت پیش کرنک قیامتک دوہہ  
وَآلَاهُمْ یُسْتَعْتَبُونَ نہ بیہ تمن نفعہ عذر طلب کرنہ نہ بیہ تمن ورنہ کہ اللہ تعالیٰ کریون راضی، توبہ  
کرو، یا کانہہ رث عمل کرو کیا زہ تمہہ آسن کا مڑہ، آخرت چھو دار الجزا سُو پھونہ دار العمل وَاذَا رَأَوْا  
الَّذِیْنَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا یُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَآلَاهُمْ یَنْظُرُونَ توبہ پتہ یلہہ وچھن ظالم تمہہ دوہہ عذاب،  
پس نہ بیہ تمن تھہ عذابس منز کی کرنہ، نہ لیکھ مہلت دنہ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِیْنَ أَشْرَكُوا أَشْرَكَاءَهُمْ بیہ  
یلہہ مٹر کن نظر بیہ تمن شریکن بیٹھہ تمن تم ٹھراوان آس خدایہ سند شریک قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ  
شُرَكَآؤُنَا الَّذِیْنَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ دینہ لگن پروردگار سبے کیاہ چھہ تم شریک تمن آس  
پرستش تہ عبادت کران آس تہ ورا یی فَأَلْقُوا إِلَیْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ پس کرن تم  
معبودان باطل تمن کافرن سیت تھہ۔ دیکھ تہہ چھوہ بڈا پزیر۔ آس کر آس وہ توبہ ومان کہ توبہ کر تُو

إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۸۷﴾ وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ  
يَوْمَئِذٍ لِلَّسَلَمِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۸۸﴾  
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زُذْنَهُمْ عَذَابًا  
فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿۸۹﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ  
أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا  
عَلَىٰ هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَ  
هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۹۰﴾ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِهِ

اسم پر ستنش یا توہ معذو اسمہ پن حاجت۔ تہہ آسوہ پنہ نفسہ چہ خواہشہ تہ شیطانہ سندہ و منہ موجب تم چیز  
کران وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ لِلَّسَلَمِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ یہ تراؤن تمنہ دوہہ  
کافر خدائس برو نھکن، اطاعت و صلحک معاملہ۔ یہ مشھہ تم ساری چیز تم ذنیاءس منز پانے  
نھراوان آسِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زُذْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا  
يُفْسِدُونَ تم لو کہ اکہ کفر کران آس۔ یہ آس پتہ ران بین لو کن خدایہ سنزہ و تہ نغہ یعنی اسلام  
قبول کرنہ نغہ تمن ہرہ راوواس عذابس پیٹھ عذاب۔ کیا زہ تم آس تباہی تہ بُر بادی عالمس منز  
پھیلاوان لو کن اسلامہ نغہ پتہ رنہ سیت وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ یہ  
پاوسودوہ ژیتس سمہ دوہہ اس تلون پریتھ اقس منز تموی منزہ اکہ گواہ یعنی یریتھ امک پیغمبر وَجِئْنَا  
بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ یہ انوہ تہہ تہ یارسول اللہ گواہ تمن لو کن ہندہ خیطہ یعنی پنہ ائمہ خیطہ ہتھ  
تہہ فرماوہ کہ کمومون تہند، کمو کور انکار وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً  
وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ یہ کرنازل اسمہ توہہ پیٹھ یارسول اللہ یہ بڈ کتاب تھہ منز سار کوئی بیان چھوہ یہ  
بوڈ ہدایت۔ بڈ رحمت تہ بڈ بشارت ایمانج مسلمان ہندہ خیطہ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِهِ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَتْلُو عَن  
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۹۱﴾ وَ  
 أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ  
 بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
 يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۹۲﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا  
 مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ

وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ بزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو لحم کران عدل بہ انصاف کر تک بہ نیکی کر تک بہ آشنا  
 ون امداد کر تک۔ وَيَتْلُو عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ بہ چھو اللہ تعالیٰ منع کران بیچھ کامیونہ بہ  
 خلاف شرع کامیونہ بہ سرکشی بہ بغاوتہ نشہ یعنی لوکن ظلم و ستم کرنہ نشہ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  
 اللہ تعالیٰ چھو وعظ پران، نصیحت کران ہتھ ہتھ سو نصیحت قبول کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ  
 بہہ کرو وفا خدایہ سندس عمدس یمہ عمدہ کہ پورہ کر تک شریعت لحم کران چھو۔ بہہ یلمہ پانہ وان عمد  
 آسو کران وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا بہہ مہ آسو قسم پھڑ او ان سہ مضبوط کرنہ پتہ۔ تھ  
 منز آسوہ خدایہ سند ناوتہ در میانس منز او ثمت سیمہ سیت قسم مضبوط چھو سپدان وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ  
 عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اللہ تعالیٰ آسون تھو وثمت گواہ بہہ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ بزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو  
 زانان بہہ سوزوی بہہ تہہ کران چھوہ۔ تہہ نشہ تہہز کانہہ چیز پو شیدہ چھونہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي  
 نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا بہہ مہ آسو تہہ اے لو کو قسم پھڑ اونہ سیت مکہ شریچہ تہہ دیوانہ  
 زانانہ ہی بنان یوسہ ژمان آس پن کو ثمت، مضبوط کرنہ پتہ، مخرہ مخرہ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا  
 بَيْنَكُمْ تہہ پات چھوہ تہہ بناوان قسم پن پانوان فساد کرنہ خیطرہ اکھ ہمانہ بہہ ذریعہ أَنْ تَكُونُوا أُمَّةً مِّنْ  
 أُمَّةٍ مِّنْ أُمَّةٍ تہہ سپدہ اکھ جماعت بارہ تعدادس تہہ قوس اندر بہہ جماعتہ خوتہ۔ تہہ کرو تمہہ ساتہ رعایت  
 زور آور جماعتک۔ قسمک کرو نہ تہہ کانہہ خیال اِنَّمَا يُبَلِّغُهُمُ اللَّهُ بِهِ امہ سیت چھونہ مگر چھو امتحان

تَكُونُ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْتَلُواكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلِيَبَيِّنَنَّ  
لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۹۷﴾ وَلَوْ شَاءَ  
اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَٰكِن يُبْضِلُ مَنْ يَشَاءُ  
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلَكَسُئِلْنَ عَلَيْكُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۸﴾  
وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ  
ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَ  
لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹۹﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

کران توہمہ اللہ تعالیٰ کہ قسم کر تھے تہ معاہدہ کر تھے کہ وہ جہہ قسمک رعایت کنہ ظاہری حالات ہند  
یا زبردست جماعتک۔ وَلِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ بیہ بیٹھ توہمہ اللہ تعالیٰ  
نتر راوہ قیامتک دوہ سوزی بیٹھ منزہہ اختلاف کران آسوہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً  
بیہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یڑھہ ہا توہمہ ساری کرہ ہائنی جماعت اختلافہ وراہی مگر تمسز۔ حکمت چھنہ تہ یرشہان  
وَلَٰكِن يُبْضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ مگر سو چھو گراہ کران یس یرشہان چھو تس۔ بیہ چھہ  
ہدایت کران یس یرشہان چھہ تس۔ وَلَكَسُئِلْنَ عَلَيْكُمْ تَعْمَلُونَ۔ بیہ لیہ توہمہ ضرورہ پر ڈھنہ تمہ سارہ  
کوی بیہ جہہ کران آسوہ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا  
السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ بیہ چھہ فرماوان اللہ تعالیٰ تاکیدہ خیطرہ کہہ مہ بناو کہ قسم ہن  
ذریعہ پانہ وان فسادک تہ فنک۔ تمہ سیت ڈلن تہند کھور تہن ہندہ درہہ تہ مضبوطی پتہ۔ بیہ تہو تمیک  
بیچہ مزہ دنیا س اندر عذابس گرفارسپندہ سیت کیا زہ توہمہ کیاہ کورہ آئندہ بینہ والین ہندہ خیطرہ خدلیہ  
سنزوت تھہ ہند۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بیہ چھہ آخرتس اندر تہندی خیطرہ ہو ذعذاب۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ  
اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ بیہ مہ آسوحاصل کران خدلیہ سند قسم ہاوتھہ دنیا بک مال کہم لہ ائماعند اللہ ہو خیر

إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۵﴾ مَا عِنْدَكُمْ  
يَنْفَعُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا  
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا  
مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾ وَإِذَا  
قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ ﴿۹۸﴾  
إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ پزیرا پٹ یوسہ ثواب تہ مزور خدا نپس نغیر پچھہ سو پچھہ بہتر تہندہ خیلرہ ہر گاہ تو بہہ  
زان حکمہ با ما عیندکم ینفعد و ما عیند اللہ باقی یہ تو بہہ نش پچھہ مال دنیا اندرہ تہ سوزی پچھہ مولا  
ون تہ خم گزہ ون۔ یہ اللہ تعالیٰ اس نغیر پچھہ باقی تہ پوشہ ون۔ سہ موکلی نہ زانہ۔ و لنجزیین الذین  
صبروا اجرهم باحسن ما کانوا یعملون بیہ دموا اس صبر تہ استقامت کرہ ونین مزور تہنزن  
رژن کامین تہ عملن ہند بدلہ من عمل صالحا من ذکر او انثی و ہومؤمن فلنحیینک حیوۃ  
طیبۃ سم دنیا س اندر ژ عمل کرن مردویا زانو اندرہ با ایمان آتھہ پس کرو اس تم عطار ژ زند گیاہ  
دنیا س اندر و لنجزیینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون بیہ دموا کھ اس پنن مزور تمین رژن  
کامین بدلہ سمہ تم کران اس فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطن الرجیم پس بلہ تہہ  
ای پیغمبر برحق قرآن مجید ہرن ہیوان آسوپس گزہہ پناہ منگ اللہ تعالیٰ اس مردود شیطانس نغیرہ۔  
إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ پزیرا پٹ نپس شیطانس پچھہ کانہہ  
طاقت با ایمان پیٹھہ بیہ سم پنہ نپس پروردگار س پیٹھہ اعتماد تہ تکیہ کرہ ون اسن انما سلطنہ علی الذین  
یتوکلونہ والذین ہم بہ مشرکون شیطانہ سُد زور پچھہ چلان مگر تمنی پیٹھہ سم تس سبت یارانہ

يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَنُهَا عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ  
هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ  
لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ  
لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾  
وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي  
يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبِي ۖ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾

لاگن۔ یہ تم ن پیٹھ سم کنس خدانس شریک ٹھراون وَاِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یہیہ اَس لکھ آیہ کریمہ چہ جاہیہ بیاکھ آیہ  
کریمہ نازل کران چھہ اللہ تعالیٰ ای چھہ بستر زانان تم احکامن ہنزہ مصلوہ یم سہ نازل کران چھہ۔ تمہ  
ساتہ چھہ کافر وان توہہ یار سول اللہ تہہ چھوہ نہ مگر پتہ طرفہ سیمہ تھہ ٹھراوان۔ فی الحقیقت چھہ  
واریاہ تموا ندرہ بے خبر قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ تہہ فرماو کھ یار سول اللہ وول  
یہ قرآن مجید جبریل امین نُس پاک رُوح چھہ تہہ س پروردگارہ سہہ طرفہ پزیاٹ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ  
الْمُتَوَّأ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ تہہ با ایمان ہندول مضبوط کرہ یہ چھہ یہ قرآن مجید بوڈ ہدایت  
تہہ بدبشارت مسلمان ہندہ خیرہہ وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ یہ چھہ اسہ معلوم کہ سم  
دُشمن چھہ ونان اس پیغمبرس چھہ ناوان مگر کانہہ زانن وول انسانہ۔ خیال او سگھہ کینون۔ یہودی یا  
نصرانی غلامن ہند۔ اللہ تعالیٰ چھہ تہہ س اتھہ باطل خیال س رد کران۔ فرماوان چھہ لِسَانُ الَّذِي  
يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبِي ۖ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ اے بے وقوف نُس غلامس نشہ تہہ سمن چھہ تہہ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيَهُمُ اللَّهُ وَلَا أُمُّ  
عَذَابٍ أَلِيمٌ ﴿۱۰۴﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿۱۰۵﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ  
بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ  
مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰۶﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
عَلَى الْآخِرَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۰۷﴾

پرچ نسبت کران ہجھہ تمسز ز یو ہجھہ نجی۔ مگر ئس کلام سم توہہ بوزہ ناوان ہجھہ یہ ہجھہ زیواہ عربی،  
صاف تہ واضح۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيَهُمُ اللَّهُ وَلَا أُمُّ عَذَابٍ أَلِيمٌ پر پائٹ سم  
لو کہ نہ پڑھ کران ہجھہ خدایہ سندین آیاتن تہن ہاؤہ نہ نجات و تھ اللہ تعالیٰ۔ تہدی خیطرہ ہجھہ کڈر  
عذاب إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ اہز ہجھہ نورا  
وان مگر تے لو کہ یم نہ خدایہ سندین آیاتن پڑھ کران ہجھہ تے گے اہز زہر۔ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ  
بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ئس اکھاہ خدائس انکار کرہ اقرار کر تھ مگر نہ سہ شخص  
ئس کفرہ خیطرہ زور تہ جبر کرنہ لیہ۔ زیوہ سیتہ سہ کلمہ کفر ونہ در حال تہجہ دل آسئس ذہبہ ایمانہ سیتہ وَلَكِنْ  
مَنْ شَرَحَ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ مگر ئس دل موراوت کفر تہ انکار کرہ تھن لو کن  
پیٹہ ہجھہ خدایہ سہ غضب تہ بیزاری وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بیہ ہجھہ تہدی خیطرہ ہجھہ عذاب ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ بیہ ہجھہ امی مو کہ کہہ تمو کیاہ کر ہسند ذنیاع ہج زندگی  
آخرئس پیٹہ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ بیہ امی مو کہ کہہ اللہ تعالیٰ ہجھہ و تھ ہاوان کافر ن

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۱۰۸﴾ لَاجِرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ  
 الْخٰسِرُونَ ﴿۱۰۹﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ  
 مَا فِتْنَانَا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنُّ بَعْدِهَا  
 لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۰﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن  
 نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۱۱﴾  
 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً

تہ معجزان اُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ سے کیا گئے  
 تم لو کہ تمہیں مہر کر اللہ تعالیٰ ان تہمدین دکن پیٹھ بہ تہمدین کنن پیٹھ۔ بہ تہمن ان اچھن پیٹھ بہ کیا گئے  
 سے لو کہ غافل لَاجِرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُونَ پڑپاٹ سے لو کہ آسن آخرتس اندر  
 تاوان رَدَّ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ مَا فِتْنَانَا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا تو پتہ پتہ  
 پڑپاٹ چون پروردگار تمہیں لوکن ہندہ خیطرہ سموکھر چہ سختی تلت گر بار تراوتھ، ہجرت کر۔ تو پتہ  
 کوڑکھ جہاد۔ بہ کوڑکھ صبر۔ إِنَّ رَبَّكَ مِنُّ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ پڑپاٹ تہمد پروردگار ہتھ تمہ پتہ  
 تہمدہ خیطرہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن  
 نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ سہ دہہ پاو وژتس سمہ دہہہ پریت شخصاہ ایہ،  
 گفتگو آسہ کران پنہ نی پانہ کہ طرفہ۔ بہ ایہ پورونہ جزائہ سزا پر ہتھ کانہہ۔ تھہ بدل یہ تم کرمٹ آسہ  
 تموا ندرہ ایہ نہ کانہہ ظلم کرنہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا  
 رَغَدًا مِنَّا مِنَّا مَكَانٍ بیہ کریان اللہ تعالیٰ ان مثال اکہ شہرہ کین لوکن ہنز تم اس امن وامن



يَاتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ  
 اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا  
 يَصْنَعُونَ ﴿۱۱۲﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ  
 فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۱۳﴾ فَكُلُوا مِنَّمَا  
 رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن  
 كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿۱۱۴﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ  
 الدَّمَّ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ

اندره رُویت۔ تمّن آس واتان کھینہ چینک چیز بکثرت پریتھ طرفہ فکفرت بآنعم اللہ اتی کور تمو  
 خدایہ سزنا نعمون انکار تہ کر ان نعمت فَاذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ  
 پس تہہ ناو تم اللہ تعالیٰ مزہ بوچھہ ہند تہ کھوڑ بھہ پو شاک۔ یعنی بوچھہ تہ بد امنی آیہ تمّن تھہ پاٹھ ولہ  
 تھہ پاٹھ بد نس چھہ آسان لباس ولتھہ تمّن کا مین ہندہ سببہ سمہہ تم کر ان آس۔ حضرت عبد اللہ بن  
 عباس چھہ فرماوان سمہہ مثالیہ منزہ چھہ مراد اہل مکہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ پز  
 پاٹھ آو تمّن گن پیغمبر اہ جلیل القدر نس تمبوی منزہ اوس۔ تس کور کھ انکار۔ سوی زوحجہ اپز زیور  
 فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اودہ رٹ تم عذائن یعنی تھن تہ بد امنی۔ تھہ حاس اندر کہ تم  
 آس پان پاس ظلم کرہ ون شرک تہ تکذیب کر نہ سیت فَكُلُوا مِنَّمَا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا  
 پس کھو سہ رزق پس عطا کور توہہ اللہ تعالیٰ ان حلال تہ پاک وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ  
 إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ہیہ دپوشتر خدایہ سزنا نعمون پیٹھ۔ ہر گاہ چھوہ تس یا تہ بندگی کر ان إِنَّمَا حَرَّمَ  
 عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَّ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ تم پروردگارن کور نہ توہہ پیٹھ  
 حرام مگر مردار (پانے مو مت) جانور ہیہ رتھ، ہیہ سورہ مازیہ سہ جانور نس خدایس ورا ہی سہ کانسہ ہندہ

اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۵﴾  
 وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا  
 حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ  
 الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۱۶﴾  
 مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۱۷﴾ وَعَلَى الَّذِينَ  
 هَادُوا حَرْمًا مَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَا  
 ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۸﴾

تعلیمہ خیطرہ یا قریب ژھانڈ نہ خیطرہ مارنہ ایہ قَمِنَ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
 تَحِيمٌ ہنس نئس اکھاہ فاتحہ وجہہ بالکل بیقرار تہ مجبور سپدہ سمو چیز و آندرہ کانہہ چیز کھنئس پیٹھہ سمو  
 چیز وورای ہنئس نہ کانہہ چیز بشرطیکہ لذت تہ مزہ حاصل کرہ ون آسہ نہ۔ ضرور تہ نحو تہ زیادہ کھوہ وون  
 آسہ۔ ہنس مجھ اللہ تعالیٰ مغفرت کرہ ون، رحم کرہ ون وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ  
 الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ بیہ منہ آسو وونان تہن چیزن یکن تہنہ زویہ آسن پانے اپز  
 تعریف کران کہ یہ گو حلال تہ یہ گو حرام لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ خدا ہنس پیٹھہ لہز نوراونہ خیطرہ  
 إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ پز پائت سم اللہ تعالیٰ اس پیٹھہ لہز نوراون تم  
 سدن نہ زانہہ کامیاب مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یہ مجھ فائدہ تلنک کم چیزاہ۔ یعنی فائدہ  
 مویہ ہنہ۔ پھو لاکہ مجھ تہنہہ خیطرہ کڈر عذاب وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرْمًا مَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ  
 مِنْ قَبْلُ بیہ کوراسہ یہود من پیٹھہ حرام تم چیز سم آسہ بیان کر توبہ سم بروئھہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ  
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ آسہ کورنہ تم پیٹھہ کانہہ ظلم بلکہ آس تم پان پانس ظلم

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْهُ  
 بَعْدَ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۹﴾  
 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ  
 الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۰﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ  
 مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۲۱﴾ وَالتَّيْنَةُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ  
 الصَّالِحِينَ ﴿۱۲۲﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

کران ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا  
 لَغَفُورٌ رَحِيمٌ توپتہ پھہ حقیقت ییکہ بیشک جہند پروردگار پھہ تمن لوکن ہندہ خیرہ یومیچہ کامہ  
 کرہ نادانی سببہ توپتہ کوزکھ تمہ پتہ توبہ خدائس کن رجوع بیہ سنبھا لک پن پان۔ اصلاح کوزکھ پنہ نس  
 پانس۔ پزپاٹ جہند پروردگار پھہ تمہ پتہ تہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ  
 أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ پزپاٹھ حضرت ابراہیم تمن توبہ تہ جھوہ مانان  
 اوس کنی زن، بڈس اتس برابر کیا زہ سوزی عالم اوس شرک و کرس بتلا۔ یورہ کنہ اوس سہ کنی صاحب  
 خدائس کنی زانان۔ سارنہ اوس توحیدس کن دعوت دوان، خدا یہ سندا فرمانبردار بندہ۔ ائس ساروی نشہ  
 الگ سبت تئس کن مایل سپدہ ون اوس۔ بیہ اوس نہ سہ خدائس شریک ٹھرا دہ و نیو آندرہ شاکر  
 لِأَنْعُمِهِ سہ اوس شکر گزار ہنزن نمودن پیٹھ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سہ ژور اللہ تعالیٰ  
 آن، برگزیدہ کوزن بیہ ہاوس و تھ راہ اتس کن وَالتَّيْنَةُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ  
 الصَّالِحِينَ بیہ کوراسہ عطاس دنیاس اندرتہ رت حال۔ جبر جبر مہرانیہ۔ نبوت، اقتباء، خلعت،  
 ہدایت بیہ پھہ آخر تئس اندر سہ اعلیٰ درجہ کیو نیو کارو آندرہ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ  
 حَنِيفًا توپتہ سوزاسہ توبہ کن وحی یارسول اللہ کہ پیروی کرو جہہ حضرت ابراہیم سندس ملتس تئس کنسی  
 خدائس کن مایل تہ پیمرہ ون اوس وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بیہ اوس نہ سہ مُشْر کو آندرہ اِتِّمَاجِل

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۳﴾ إِنَّمَا جَعَلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ  
 اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا  
 كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳۴﴾ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ  
 وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ  
 رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۳۵﴾  
 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ ط وَلَئِنْ

السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اختلفوا فيه به داره ہند تعظیم آونہ مقرر کرنے۔ مگر تمنی پیٹھ سمو تھہ منز اختلاف  
 کور وَإِنَّ رَبَّكَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بیہ کرہ فیصلہ چون رب قیامتہ  
 دودہ تمن در میان تھہ چیزس منزیتھہ منزتم اختلاف چھہ کران۔ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ  
 وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ناددو ہتھہ لوکن خدا یہ سبزہ وتہ ن۔ علمہ چو کتھو سیت بیہ تہ نصیحتہ سیت  
 وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بحث کرو لوکن سیت۔ تمہہ طرفہ بیت منز شدت تہ خفونت آسہ۔  
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ پزپاٹ چون پروردگار چھہ یزانان تمن  
 تمہہ تہزہ وتہ نصیحتہ ڈل۔ بیہ چھہ سوی یزانان کہہ کمو لو ب ہدایت تہ کم چھہ راہ راہس پیٹھ پکان۔ اگر کھار  
 جدال علمی نصیحتہ ڈلت جدال عملیس کن ریح گران تو پتہ وائے ناؤن اتھہ سیت یازوہ سیت تکلیف۔ تھہ  
 صورتس منز چھہ توہمہ بیہ ہتھنن تا بن بدلہ ہیون جایز۔ امیک چھہ توہمہ رخصت بیہ چھہ صبر کزن تہ  
 توہمہ جایز۔ مگر تہ چھہ عزیمت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ وون ہر گاہ ہتھہ رخصت  
 پیٹھہ عمل کرو یعنی تمن ہیو بدلہ تہ انتقام سہ گڑھہ ستوی ہیون یوت توہمہ تکلیف آسہ وائے ناؤنہ آمت  
 وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّلضَّالِّينَ ہر گاہ عزیمتس پیٹھہ عمل کرتہ ہتھہ صبری کرو۔ تلہ چھہ صبر کرہ  
 نوی بہتر صبر کرہ وین ہندہ خیلرہ وَاَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ بیہ کرو تھہ صبری کیا زہ ہتھہ شان چھہ

صَبْرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ  
 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۳۷﴾  
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۳۸﴾

بلند تہ ارفع۔ جہند صبر کردن ہجھنہ مگر خدایہ سندی توفیقہ تہ مددہ سیت تہ تھاوواطمینان کہ توبہ سپدہ نہ  
 صبر کرس اندرئنے قسمہ دشواری پیدہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ بیہ منہ  
 برو جہندہ مخالفک غم بیہ تم تدبیر تم جہندس مخالفس منکران جہندہ تموسیت منہ سپدو جہندل امہ سیت  
 سپدہ نہ توبہ کا نہہ نقصان کیا زہ توبہ جہندہ تقویٰ تہ احسانہ سیت موصوف إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا  
 وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ پزپاٹ اللہ تعالیٰ جہندہ پرہیز گارن تہ متقن سیت سیت بیہ تمن تم نیوکار  
 آسن۔





# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ الْإَيْتَانِ إِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْبَصِيرُ ۝

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا منزه تہ پاک  
 چھو سو ذات پاک پر مجتہ نقصہ نغیر، ضعفہ نغیر، عاجزی نغیر۔ تم یکہ نو پختن بندہ خاص رات کیت۔ راژ  
 منزه ہنہ انکس مسجد حرامہ پیٹھ۔ یعنی خانہ کعبہ چہ مسجدہ پیٹھ، مسجد اقصا س یعنی بیت المقدس تان  
 الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ مجتہ مسجد اقصا س اند اند اسہ دین و دُنیا چہ بر کث تھاوہ مزہ چھہ لِنُرِيَهُ مِنْ الْإَيْتَانِ یکہ  
 نو تہ سیر کرہ نو سو بندہ خاص مجتہ باو و اس تم پختہ قدر تک نشانہ۔ چنانچہ اکس کم و قس اندر مکہ شریفہ  
 پیٹھ شام شریفس تان و اتہ ناؤن یہ گو اکھ نشانہ۔ بیت المقدس ہاون۔ تہ حضرات انبیائُن سمیت ملاقات  
 کرہ ناؤن یہ گو بیا کھ نشانہ۔ تہ پیٹھ سیر آسمانی کرہ ناوت آسمان ہند عجائبات ہاون۔ تم گئے بے نشانہ  
 عالمُن ہندس اصطلاحس اندر چھہ ونان مکہ شریفہ پیٹھ بیت المقدس تان سیرس، اسراء۔ بیت  
 المقدسہ پیٹھ ہدرۃ التیمی اس تان سیرس چھہ ونان معراج۔ کُنہ وقتہ چھو دو شون سیرن معراج وندہ  
 یوان، کُنہ وقتہ چھو دو شون اسراوندہ یوان۔ معراج شریفک حدیث شریف چھو تقریباً ترہن صحابہ صغین  
 ہندہ روایت۔ جمہور سلف و خلفن ہندا اعتقاد چھو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم تمو کور معراج  
 بروح و بجد، در حالت بیداری۔ اللہ تعالیٰ ان کور بیان واقعہ معراج کمال اہتمامہ سان۔ مخالفو تہ کور اتھ  
 انکار نہایت زور و شورہ سان۔ یسے زہ چیز چھہ بوزہ ناوان کہ یہ اوس نہ مندرہ مز رُو حانی طور یا بطریق  
 کشف۔ کیا رسہ آس نہ کانہہ عجایب کتھاہ یوسہ کمال اہتمامہ سان بیان ایہ ہا کر نہ۔ مندرہ منز چھہ کم کم  
 لوک کم کم چیز و چھان۔ بیہ کرہ ہن نہ کفار مکہ خوابہ کس واقفس یوت انکار إِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْبَصِيرُ

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ آلَاتِيحْنُ وَأَمِنْ دُونِي وَكَيَا ۱  
 ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۳  
 وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ  
 مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۴ فَاذْأَجَاءَ وَعَدُّ أَوْلَاهُمَا بَعَثْنَا  
 عَلَيْكُمْ عِبَادًا نَاوُلِي بَائِسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ ۵

پڑپاٹ اللہ تعالیٰ چھو سو روی بوزہ ون۔ سو روی وچھ ون و آیتنا موسیٰ الکتب و جعلناه هدی لبني  
 اسرائیل بیه کر عطا اسہ حضرت موسیٰ اس کتاب یعنی تورات بنی اسرائیل ہندہ خیرہ بوڈ سبب  
 ہدایت۔ بیتھ اندر باقی احکامن سیت توحید ک عظیم الشان حکم تہ اوس آلَاتِيحْنُ وَأَمِنْ دُونِي وَكَيَا ای  
 زہ بیتھنہ مہ ورا ای بناویون تہہ کانہ اکھاہ پٹن کار سازیس توبہ پتہ کامہ پٹن او یو ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ  
 نُوحٍ ای بنی اسرائیلو تہہ گوہ تمنی لوکن ہند اولاد تم امہ ناہ منزہ کھاہ حضرت نوح سیت بڈس  
 طوفانس اندر۔ توبہ پڑہ ہا سیتھا شکر دہن اتھ نفیس پیٹھ یم یہ نعمت عطا کردہ سوگوشہ زان کئی۔ تس  
 گدھہ نہ شریک ٹھہرون إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا پڑپاٹ حضرت نوح تہ اوس سیتھاہ شکر گزار بندہ  
 وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا بیه کر اسہ بیان  
 بطریق پیشین گوئی بنی اسرائیل توراتس اندر کہ تہہ کرو ضرور ملک شامس منز دوپہ پھیرہ گنہن  
 ہندہ کثر تہ سیت خرابی تہ تباہی۔ اسہ پھیرہ کرو شریعت موسیٰ مخالفت، بیه پھیرہ کردہ شریعت  
 عیسوی تہن مخالفت۔ بیه کرو تہہ لوکن پیٹھ سیتھاہ زبردستی ظلم تہ سرکشی۔ حقوق اللہ تہ کرو ضائع حقوق  
 العبادتہ دوشون لٹن اندر گدھو تہہ سخت عذابس مبتلا۔ توبہ ایہ سزاوندہ فَاذْأَجَاءَ وَعَدُّ أَوْلَاهُمَا بَعَثْنَا  
 عَلَيْكُمْ عِبَادًا نَاوُلِي توبہ پتہ بلوہ ولتہ تمودویو اندرہ گوڈھہ سزائک موقعہ اس گرو توبہ سزاوندہ خیرہ،  
 توبہ پیٹھ مسلط پنہ نین بدن ہنزا کہ جماعتھاہ اُولِي بَائِسٍ شَدِيدٍ تم سخت توتہ وال اسن فَجَاسُوا  
 خِلَالَ الدِّيَارِ تہ اژن تہمدین شہرن تہ گھرن منز توبہ گرفتار کرنہ خیرہ مارنہ خیرہ وَاذْأَجَاءَ

وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ  
 وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝  
 ۱۷۱ ۝ إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ  
 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ أَوْجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا  
 الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْتُمْ تَبِيرًا ۝  
 عَلَىٰ رُسُلِكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُم ۖ وَإِنْ عَدْتُمْ عَدَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ

مَفْعُولًا یہ چھو وعدہ نُس ضرور پورہ کرنے ایسے ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ تو پتہ یلہ تو بہر توبہ کروہ،  
 تاوم تہ پشیمان سپدہ اون اسہ واپس تہمدہ خیطرہ بیہ جہند غالب سپدن تمن پیٹھ اکہ ہتہ (۱۰۰) دہر  
 وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنِينَ بیہ کور اسہ توبہ مد پتو یو سیت بیہ مال و دولتہ سیت وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ  
 نَفِيرًا بیہ کور وہ اسہ توبہ زیادہ لشکرہ تہ فوجہ اعتبار لِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ بیہ دوپ اسہ  
 توبہ کہ ہر گاہ توبہ رتہ کامہ کروہ تہ چھو رت توبہ پنہ نین پان ہمدہ خیطرہ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا بیہ ہر گاہ  
 پیٹھ کامہ کروہ تمیک نقصان چھوہ پنہ نین پانن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ادہ یلہ وائتہ دو سمہ لہ فساد کر بیہ  
 سزائک موقعہ بیہ سوزو کہ آس لوکھ پنہ سم توبہ قتل و غارت کرن لِيَسُوءَ أَوْجُوهَكُمْ سم توبہ بیٹھ  
 دگان دگان تہندین تہن ہمد حلیہ تہ ٹٹھ بدلوان وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بیہ  
 بیٹھ تم اژن مسجد اقصیٰ اس اندر بے خر متی کرنہ خیطرہ۔ تہ مسجد مہدم کرنہ خیطرہ، بیٹھ پاٹھ بروٹھمہ لہ  
 ثلاث آس تھہ منز وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْتُمْ تَبِيرًا بیہ بیٹھ تم بیٹھ بیٹھ جاییہ واتن تھہ جاییہ کرن تہاہ و ہر باد۔  
 چنانچہ بنی اسرائیلو یلہ حضرت یحییٰ شہید کور، اللہ تعالیٰ ان سوز تمن پیٹھ بخت نصر سم تمن قتل و  
 غارت تہ لوٹ مار کرنہ سیت طوفان تل۔ بیہ اوس تھہ کتابہ منزراتہ لیکنہ آمت کہ ہر گاہ تمہ پتہ یلہ دور  
 شریعت محمدیہ اسہ جہہ مخالفتہ تہ نافرمانی نشیر پتہ روزت شریعت محمدیک اتباع کرو۔ عَلَىٰ رُسُلِكُمْ أَنْ  
 يَرْحَمَكُم عجایب تہ دور چھنہ بیہ تھہ کہ اللہ تعالیٰ تہند پروردگار کیاہ کرہ توبہ پیٹھ رحم ہر گاہ تہہ توبہ کرو،



لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۗ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَ  
يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۙ  
وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ آخَذْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ  
وَيَذَعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۙ  
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ  
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

پشیمان سپدو وَاِنَّ عَذَابَهُمْ عَذَابًا مگر ہر گاہ تہہ بہ تہہ فتنہ و فساد تہہ تا فرمانی کر و بد ستور بہ کہ وہ وہ اُس تہہ عذاب اُس  
گر رفتار دُنیا س اندر و جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا آخرتس اندر چھو اُسہ جنم کور مٹوی کافر ن ہند  
قید خانہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ پڑ پات بہ قرآن مجید چھو ہاوان سوی و تھ یوسہ سیز  
و تھ چھ یعنی اسلام و يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا بہ چھو بشارت ووان  
با ایمان ہم رتہ عملہ چھہ کران زہ تہہ ہہ ظیطرہ چھہ مزوریہ سیٹھاہ ہہ وَاَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
آخَذْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بہ چھو بہ قرآن مجید خبر ووان کہ ہم لو کہ پڑہ چھہہ کران آخرتس تہہ ہہ ظیطرہ  
چھو اُسہ تیار کور مت دود تہہ دگ تلہ و ن عذاب و يَذَعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ قرآن مجید چھو  
لو کن رتین چیز ن گن و تھ ہاوان۔ پچھ چیز و لغہ پچھ رٹان۔ مگر انسان چھو تھہ و زہ پانس یا پنہ نس  
عیاس و وہوان۔ تھہ پات پتھہ پات دعای خیر چھو کران و كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا یہ انسان اوس ڈاڈ جلدی  
کہہ و ن سوچنہ کچھہ و رای کوم کران و جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحْوِنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ  
مُبْصِرَةً بہ کہہ اُسہ دود تہہ رات پنہ قدر تک زہ نشانہ۔ کس نہہو و اُسہ راژ ہند نشانہ تاریکی سیت بہ کور  
دُہگ نشانہ نر اوہ و ن۔ ہم چیز راژ ہمزہ تاریکی سیت پو شیدہ چھہ آسان تمن چھو دُہگ نور انتر اوان  
لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ تھہ تہہ ڈھاہند و پنہ نس ہر و رد گارہ سُد فضل یعنی  
رزق دُہکس گاش اندر۔ یعنی ضروریات زندگی حاصل کرنے خیطرہ کر و کار و بار۔ بہ تھہ زہ تاو تہہ شب و

وَالْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۱۲) وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْمَنَهُ  
 طَائِفَةٌ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۱۳)  
 أَقْرَأْتِكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۱۴) مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا  
 يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ  
 وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۱۵) وَإِذَا أَرَدْنَا  
 أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا

روزہ کہ انہ گنہگار سے آفتابہ سے زونہ ہمدہ کھسنہ سے لوسنہ سیت، ڈرہن سے رتین ہنز گریند۔ یہ دوہن سے  
 وقن ہند حساب وکُلُّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا پر ہتھ چیزاہ کوراسہ بیان قرآن مجید س اندر بو صاحت۔ تمو  
 چیز و آندرہ گو ڈہک سے راتک یں گروہن وکُلُّ إِنْسَانٍ أَلْمَنَهُ طَائِفَةٌ فِي عُنُقِهِ اسہ کر پر ہتھ کوم کرونس  
 انسانہ سنز کوم، ادہ نیک کوم آستن یا پچھ کوم آستن، مومن آستن یا کافر، عمل ہنز جان آستن یا پچھ  
 نال ہنز ہ گردنہ منز یعنی پر ہتھ اکند تقدیر چھو پر ہتھ اس سیت تھاونہ آمت و نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا  
 يَلْقَاهُ مَنْشُورًا قیامتک دوہ کڈو اس تہد نامہ اعمال تہد ہوجھنہ خیطر ہ ہتھ سووارہ موز او تھ وچھ سو۔  
 پر ہتھ اکس وائہ پن نامہ اعمال خود بخود۔ بعضین دھنس اتھس منز، بعضین کھو فرس اتھس منز اِقْرَأْ  
 كِتَابَكَ پر ہتھ اکس بیہ ونہ ہر پن نامہ اعمال پائے كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا کافی چھوک ژہ از  
 پتہ پانہ خیطرہ پانس حساب ہیوہ ون مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ بس اکھاہ سیزہ وتہ پوک سو پوک نہ  
 سیزہ وتہ مگر پتہ پانچہ فاندہ خیطرہ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا بیہ بس سیزہ وتہ نشہ ڈول سو ڈول نہ مگر  
 پتہ پانچہ ضررہ خیطرہ تمیک ضرر چھو تس پان پانس وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ بیہ تلمہ نہ کانہہ شخصاہ  
 بیس شخصہ سندین گنہن ہند بور وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا بیہ چھنہ اس کانسہ عذاب کران  
 یوتان نہ اس پن احکام ہتھ کانہہ پیغمبر چھن سوزان وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا بیہ بلہ  
 یژھان چھہ اس گنہ شہرک یا گنہ گامک لوک ہلاک کران تم کفر و معصیتہ کہ وجہ قابل ہلاک چھہ

الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۱۷) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ  
 بَعْدِ نُوحٍ ۝ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۱۸)  
 مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا  
 لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُهُ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۱۹) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا  
 سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۲۰) كَلَّا لَمُدُّ هُورًا

آسان۔ حکم چھ کران اس پیغمبر ہندہ ذریعہ تمہ شہرہ کین مالدارن تہ زٹھین ایمانگ تہ  
 فرمانبرداری ہندہ فَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا تم زٹھیلہ عدول کھی تہ نافرمانی  
 چھہ کرن سائین احکامن ہنز، بیہ چھہ فتنہ وفساد تھان تھہ شہرس اندر آتی چھہ تمن پیٹھہ جھت پورہ  
 سپدان تم چھہ عذاب کس کھمس سزاوار بنان۔ اڈہ چھک اُس تم نافرمان گالان تھندس شہرس تاراج  
 کران وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ بیہ کرہ اُسہ حضرت نوحس پتہ کاژاہ امر ہلاک تھنزہ  
 نافرمانی سببہ قوم عاد و قوم ثمود وغیرہ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا کافی چھو تھند  
 پروردگار پنہ نین ہندن ہندگناہ پور زانان تہ پورو چھان تہ تمی چھو کس پیٹھہ سزا شو بہ کس چھو تھنی سزا  
 دوان مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ کس اکھاہ پنہ نین نیک عملن ہنز مزور، فقط  
 دُنْيَا ک نفع ژھانڈہ، جلد و مؤاس کس تمہ اندرہ ایڑہن اُسہ خوش کرہ تہ کس اُسہ خوش کرہ دُنْيَا ک  
 اندر ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ تو پتہ چھہ اُس تیار کران تھندہ خپڑہ جہنم يَصْلُهُ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا تھہ  
 جہنم منزا و اتانڈہ ایہ سؤ بذلت و خواری۔ دکہ دی دی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
 فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا بیہ تم پنہ نین نیک عملن ہنز مزور ژھانڈہ آخر تک ثواب حاصل کرنہ خپڑہ  
 سو کوشش یوسہ شو بہ۔ یعنی سو عمل اُسہ شریعتہ کین قواعدن مطابق بیہ اُس سؤ شخص با ایمان،  
 مُشْرِك اُسہ نہ۔ تمی قسمک لوکھ یم چھہ تھند سستی تہ کوشش چھہ قابل تعریف یوسہ رتھہ کھسہ۔ اللہ  
 تعالیٰ قبول کرہ، سوی عمل پیٹھہ ترہ شرط اُسن اکھ اُسہ نیت رتھ۔ دویم اُسہ مطابق قواعد شرع۔ ترمیم

وَهُوَ أَوْلَىٰ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝۱۰ أَنْظُرْ كَيْفَ  
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝۱۱  
لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُومًا ۝۱۲ وَقَضَىٰ رَبُّكَ  
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتِهِ ۚ وَإِلَىٰ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ  
أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا  
كَرِيمًا ۝۱۳ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا

آسہ اعتقاد صحیح کلاماً ہُوَ أَوْلَىٰ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ پر بیٹھ آگس سمودو یو آندرہ یعنی دنیا تر ہانڈہ نوئس تہ  
آخرت تر ہانڈہ نوئس گرو آس امداد پنہ مہ ربانی سیت وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا جھنہ تہندس پروردگارہ  
سز مہ ربانی دنیا س اندر کانسہ ہمدہ خیطرہ بند آمز کرنہ تہ پتہ آمز شہنہ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ  
بَعْضٍ ای پیغمبر بر حق و چھو تہہ آسہ کتھہ پاٹھہ جھہ زیادتی عطا کر مژاؤین لوکن اؤین پیٹھہ۔ حتی کہ اکثر  
کافر جھہ اکثر با ایمان ہمدہ خوتہ مالدار وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا پزپاٹ آخرت جھو سیٹھاہ بوڈ  
درجات ہمدہ اعتبارہ۔ بیہ جھو سیٹھاہ بوڈ فضیلتہ اعتبارہ۔ تمیک گڑھہ اہتمام کرن۔ بیٹھ سم شرط جھہ تم  
گڑھن پورہ کرن لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُومًا ای مخاطب مہ ٹھہراون خدا بس معبود  
بر حق سیت بیاکہ کانہہ معبوداہ۔ ورنہ روزک ژہ مذمت کرنہ آمت نیکیس و بے بس وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا  
تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتِهِ بیہ جھو ٹھم کورمت چان پروردگارن کہ ای لوکو عبادت مہ کر و معبود بر حق وراے  
کانہہ ہنزہ وَإِلَىٰ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بیہ کرو تہہ پنہ بس مالس ماجہ نسبت احسان، رت سلوک۔ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ  
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا ہر گاہ واتن چانس و قس اندر۔ جرس تموا آندرہ  
اکہ یاد شوے بس مہ آس تمن کتھہ پیٹھہ تنگ بیٹھہ آف وٹان۔ بیہ مہ آس تمن زورہ تھہ یا حشم کرن  
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تمن سیت آس کتھہ کران رتہ طریقہ نرمی سان وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ  
الرَّحْمَةِ بیہ کر پست تہمدہ خیطرہ انکساری ہمدہ ہر، نیاز مندی سیت، بیٹھہ پاٹھہ جانورہ سڈ بچہ جھو آتپہ رحمتہ

كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿۱۳﴾ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّ تَكُونُوا صٰلِحِينَ  
فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿۱۴﴾ وَأَيُّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيٰسِكِينَ  
وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ بَدْرًا ﴿۱۵﴾ إِنَّ الْبَدْرَيْنِ كَانُوا الْاٰخْوَانَ  
الشَّيْطٰنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿۱۶﴾ وَإِنَّمَا تَعْرِضُ عَنْهُمْ اٰبِتَآءَ  
رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُو هَآفِقُل لَّهُمْ قَوْلًا مِّسُورًا ﴿۱۷﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ

وقتہ ماس ماجہ بروئٹھ سٹہ ہر موروات روزان وکل زیارہما کما ربین صغیرا بیہ آس تہندہ حقہ دُعا کران۔ ای میانہ حقیقی پروردگارہ رحم کرین دوشون پیٹھ پیٹھ پاٹھ سم دوشوے مہ پیٹھ رحم کھیت میان ظاہری پرورش کران آس یلہہ بولومٹ اوُس رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّ تَكُونُوا صٰلِحِينَ تہندہ پروردگار چھو زیادہ زانہ ون تمن کھن سمہ تہندین وکن منز چھہ۔ ہر گاہ تہہ تحقیق اندر ولہ کن سعادت مند آسو۔ یعنی ولس منز ماس ماجہ ہنز شفقت تہ محبت آتھ بعضی سٹہ وقتہ تہندہ طرفہ تمن نسبت تیزی لبہہ یوان آسہ تو پتہ آسو تہہ تمہہ نغیرہ توبہ کر تھ تم پانس نغیرہ راضی کران فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو توبہ کرن والین مغفرت کرہ ون وَأَيُّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيٰسِكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ بَدْرًا آشناون آس دوان تہند حق بیہ مسکینس محتاجس تہ مسافرس بیہ مہ آس کران مال خرچ کرنس اندر اسراف تہ فضول خرچی۔ سو خدیہ سُد دسخت مال خرچ کرن تہزن نافرمانین اندر، یا مباح چیزن اندر توت زیادہ خرچ کرن سمہ سیت بروئٹھ بیجہ نہ شخص ضروری حقوق ادا کر تھ إِنَّ الْبَدْرَيْنِ كَانُوا الْاٰخْوَانَ الشَّيْطٰنِ پزپاٹھ اسراف تہ فضول خرچی کرہ ون چھہ شیطان ہمد پای وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا شیطان چھو گوڈ پیٹھ پتہ نس پروردگارس ناشکری کرہ ون تمس شیطانس دژایہ اللہ تعالیٰ ان دولت عقل، تم کر سوزائے اللہ تعالیٰ سزہ نافرمانی اندر۔ مہذ رین کرن عطا دولت مال تم تہ چھہ سوزائے کران تہزن نافرمانین اندر وَإِنَّمَا تَعْرِضُ عَنْهُمْ اٰبِتَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُو هَآفِقُل لَّهُمْ قَوْلًا مِّسُورًا بیہ ہر گاہ سٹہ وقتہ بچوری ژہ بین مسکین غریبن تہ محتاجن جوانی آسہ کرن بیہ ژہ آسکھ پتہ نس رب سز رحمت ژھانڈان تل کر ہز ژہ امن سیت نرم کلا ماہ۔



فِي الْقِتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٧﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٨﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٩﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ

کرن۔ مجرمس مبدل غیر مجرم یا کس بدل واریاہ مارن اِنکہ کان مَنْصُورًا بیشک سو جھو مد کرنہ آمت۔ تس سیت ہتھ لوکن ہنز ہمدردی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ بیہ مہ بچو نکھ یتیمہ سندس ماس مگر تمہہ طریقہ کس رت آسہ شرعاً عرفاً یعنی سمہ سیت اصل موجود روزت تمہہ نفہ پیٹھ یتیمہ سند اخراجات پورہ سپدن۔ یوتان سو یتیم پنہ نس طاقس ولتہ یعنی بالغ نہ سمھدار سپدہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ بیہ کروفا تھہ عمدس کس توہہ خدا کس سیت کورمت جھوہ۔ بیہ تمہ عمدن سم تہہ پانوان کران جھوہ اِن الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا بیشک پریتھ کئہ عہدک ایکی پرژہنہ قیامتک دوه وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ بیہ یلہ مینہ وینن چیزن تہہ مینان آسوتلہ آسوپور مینان۔ بیہ آسوتلہ ون چیز پختہ سکرہ تہ پورہ پرمانہ سیت تولان ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا بیہ جھو درزات خودتہ سیتھہ رت بیہ جھو امیک انجام تہ سیتھہ بہتر تہ سیتھہ رت امرہ ست جھو اعتبار بڑان وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ بیہ مہ آس پتہ لگان تھہ چیزس یا تھہ کتھ تگنہ ژہ خبری پتھ۔ بے تحقیق مہ آس نئے چیزس پیٹھ عملدرآمد کران۔ یوتان نہ کانہہ چیز تھیقہ سان زانان آسکھہ توتان مہ وون زونم۔ یوتان نہ وارہ وچھان آسکھہ توتان مہ آس ونان وچھم یوتان نہ وارہ بوزان آسکھہ توتان مہ آس ونان بوزم ہر و مومہ آس اپز گواہی تہ شہادت دو ان کیا زہ اِن السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا پزپاٹ کن تہ اچھہ تہ دل یمن سارنی نشہ لیہ پرژہہ گار کرنہ قیامتک دوه وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ

طُولًا ۱۲) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۱۳) ذَلِكَ مِمَّا  
 أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۚ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ  
 فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۱۴) أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَ  
 اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۱۵)  
 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكُرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۱۶) قُلْ

مَرَحًا بیہ مہ بچھ زمینس پیٹھ کان تکر او تھ تکبرہ سان زور زورہ لہ دوان اِنَّكَ لَنْ تَخْوَقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ  
 الْجِبَالَ طُولًا پزپاٹ ژہ بیکھنہ گود کر تھ پنہ نیولتو سیت اتھ زمینس بیہ بیکھنہ پان زیتھر او تھ پنہ  
 سیت کوہن تان تھرہ کن واتھ کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا سیمہ سارے بچھ کامہ سمن  
 ہنز ذکر نہ آیہ سیمہ چھہ چانس پروردگار س ناپسند ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ای محمد سیمہ  
 کتھ سیمہ بین آیہ کرنہ سیمہ چھہ تمو حمتہ چو کتھو اندرہ سیمہ تھند پروردگارن وحیہ پاٹ توہہ کن سوزہ ولا  
 تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ای مخاطب بیہ مہ ٹھراون خدا ایسی معبود برحقس  
 سیت کانہ معبودہ ہر گاہ ژہ معبود برحقس سیت بیاکھ معبود تجویز کرکھ تلہ کچھ ژہ تراونہ جہنمس اندر  
 جُرْم تہ ملزم بنت دکہ دنہ آمت۔ وون یلہ ژہ بوزک کہ شرک کوتاہ بچھہ چھوتہ بوزت تہ رودک نہ ژہ  
 تمو کتھو نشہ پتھ سیمہ توحیدس بر خلاف آسن۔ بچھ پاٹ بعض جاہل چھہ اللہ تعالیٰ اس کورہ ٹھراوان۔  
 دپان چھہ ملائک چھہ (نعوذ باللہ) خدا یہ سنزہ کورہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان اَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَ  
 اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا کیاہ تھند پروردگارن کورہ توہ پتھو یوسیت خاص پانس رچن کورہ ملائکو اندرہ  
 کورے کورہ اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا بیشک تہہ چھوہ دنان سیٹھاہ سخت کتھاہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي  
 هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكُرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا بیہ چھو افسوس سیمہ کتھہ ہند کہ بیشک اسہ کرہ بچھہ قرآن  
 مجیدس منز پھیر پھیر بیان اثبات توحید ابطال شرک مضامین بچھہ لوکن وارہ فخرہ ترہ لیکن باوجود آل  
 چھہ سمن توحید ج نفرت ہر ان یوت زیادہ بوزان چھہ تیوت چھہ گرنہ یوان تہ پڑہ کتھہ نشہ دور ژلان



لَوْ كَانَ مَعَهُ الْهَاءُ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ الْأَبْتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿۳۱﴾  
 سُبْحٰنَهُ وَتَعَلٰى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿۳۲﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ  
 وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا  
 تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ﴿۳۳﴾ وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ  
 جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ﴿۳۴﴾

قُلْ جہہ فرمادو کہ یارسول اللہ شرکہ کس باطل آسن متعلق لَوْ كَانَ مَعَهُ الْهَاءُ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ الْأَبْتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ہرگہ معبود برحق سیت آسن معبودان باطل تہ بتھ پات مشرک ونان جھہ تلہ آسا تمہو مخالفانہ طریقہ عرشہ والس خدا ئس نغہ وان کانہہ وقھاہ کڈ مژتس سیت مقابلہ کرنہ خیرہ۔ تس نغہ عرش مجید تحت شاہی اتھ ہیہ خیرہ۔ بتھ پات دنیاء ک پادشاہ چھہ اکھ اکس نغہ تحت وتان جج کوش کران۔ تھہ صور تس اندر آسہا نظام عام تہاہ و بز باد سپد مت۔ حالانچہ تہہ جھوہہ و چھان کہ نظام عالم چھو بدستور قائم الاں کماکان۔ پس سپد معلوم کہ سبب فساد یعنی وارین معبودون ہند آسن چھو بالکل غلط تہ باطل۔ پس سپد ثابت کہ سُبْحٰنَهُ وَتَعَلٰى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا سم لو کہ سمہ تھہ ونان جھہ تمہو ساروی کتھو نغہ چھو اللہ تعالیٰ منزہ تہ پاک ہیہ سیٹھاہ تھود تہ بلند بتھ بلند ہی تہ تھز رس نہ نہات تھہ چھو تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ تس معبود برحق جھہ پیاکی یاد کران ست آسمان تہ زمین ہیہ تم مخلوقات سم تم منز چھہ وَلَنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ہیہ چھنہ کانہہ چیز یسنہ تمسز پیاکی بیان کران تہ تہزہز تعریف کران چھو وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ مگر اے کافر تو بہہ چھو نہ بوژن نکان تہ تہہ تسبیح ہر انہہ لائہہ کانہہ حَلِيْمًا غَفُوْرًا بیتک سو معبود برحق چھو سیٹھاہ حلیم تہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون تم سم شرک و کفرہ نغہ توبہ کرت تمہ نغہ پتھ روزن۔ حلیم آسنہ موکہ چھو نہ اللہ تعالیٰ یمن مشرک جلد گرفتار عذاب کران وَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ہیہ سمہ وقتہ تہ تبلیغہ کس سلسلس اندر قرآن مید پران چھوہہ یارسول اللہ آس جھہ تمہہ وقتہ توبہہ منز تہ تم لو کس

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ الْكِتَابَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا  
ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّاعًا عَلَى آذَانِهِمْ نُفُورًا ۝ نَحْنُ  
أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبْعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ  
يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا  
لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا

منزل سے نہ آخر قیامت پر پہنچے ہوں تو پروردگار تو ان کو پوچھو کہ جو یہودی کہ  
یَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا تراوان چھہ آس تہندین دلن پیٹھ پرده سمہ سیت نہ تمن حمہ قرانک مقصد  
کینہہ فکرہ تران چھو۔ بیہ چھک کنن تراوان زرہ گو بیہ۔ تھوپ چھک کنن لگان۔ فکرہ چھکنہ تران آس  
کیاہ چھہ بوزان وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّاعًا عَلَى آذَانِهِمْ نُفُورًا بیہ یلہ تہہ یارسول اللہ پنے  
نسی پروردگارہ سندین صفاتن تہ کمالا تن ہند ذکر کران چھہ قرآن مجیدس اندر تمن کافر ن چھو نہ فخرہ  
تران کینہہ تہ۔ تم چھہ نفرت کر تہہ تہ فخر پھرت وانہس ژلان نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبْعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ  
إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا اس چھہ پور زمانان کہ تم کیا زہ چھہ  
کن دارت تہند کلام بوزان۔ سمہ ساتہ تم بوزان چھہ ہند غرض چھو آسان تہہ اندر اعتراض تہ طعن  
کران۔ بیہ چھو معلوم اسمہ سمہ ساتہ تم قرآن مجید بوزت پانہ وان کتھہ کران چھہ۔ سمہ ساتہ تم ظالم  
با ایمان ونان چھہ تہہ چھو نہ پیروی کران مگر تش شخصہ سزائس جاڈیک اثر چھو سپد مت۔ سوجاڈیک  
اثر گوجون أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ای پیغمبر برحق وچھو کہہ کچھ کتھ  
چھہ تم دشمن تو بہ نسبت ونان۔ کہہ کہہ قسمک القاب چھہ تو بہ نسبت تجویز کران۔ امی سبہ گے نام  
گمراہ۔ پس لہن نہ تم پر رس کن و تھے زاہ۔ کیا زہ سمو چیز وسیت چھو ہدایتک استعدادے ضائع سدان۔  
سمو کتر قرآن مجیدس سیت ٹھہ تہ استزاء۔ پیغمبرس سیت تہ ٹھہ تہ استزاء۔ امی خوتہ بدگمراہی  
کوسہ گنیہ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرِزْقًا فَاآرِنَا لَبِئْسَ مَا خَلَقْنَا بَدِئًا تم کافر چھہ ونان کیاہ یلہ آس

عِظَامًا وَرِفَاتًا ۖ اِنَّا الْمُبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿۵۶﴾ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً  
 اَوْحَدِيدًا ﴿۵۷﴾ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ  
 يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ  
 رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَىٰ اَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿۵۸﴾  
 يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهَا وَتَقُولُونَ اِنْ لَّبِثْنَا اِلَّا  
 قَلِيلًا ﴿۵۹﴾ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِيَ اَحْسَنُ ۗ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ

مذرت اذبح اذبح اسمو تمنی اذبحن اسمہ سورۃ ریزہ ریزہ گو مت کیاہ تو پتہ بیوہ اس قیامتگ دوہیہ  
 دوبارہ قبر و اندرہ کلدنہ تہ زندہ کرنہ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْحَدِيدًا ۖ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ۗ نَبِّئْهُمْ  
 فرمایو کہ یا۔ رسول اللہ اذبحن ہنز کیاہ ہجھہ کتھے۔ ہر گاہ تہہ مر نہ پتہ کتھے یا شتر یا تمہ خوتہ کانہہ سخت  
 چیز بنوئس چیز تہہدہ خیالہ زیادہ سخت تہ زیادہ بعید اسمہ زندگی قبول کرنہ نشہ و چھتو تہہ اسمہ حکمایو چیز  
 دوبارہ بیہ زندہ کرنہ کہہ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۗ وون پر تھن تم اسمہ کہہ کرہ بیہ زندہ قُلِ الَّذِي  
 فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ تہہ فرمایو کہ کہہ توہہ کرہ سوی قدر تہ وول پروردگار پیدہ بیہ زندہ تہ یم توہہ گوڈہ پیدہ  
 کمرہ۔ یلہ تہہ کہن تہ اسمہ ۚ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ ۗ اَسْمِعْ بِتِلْكَ اَنْ تَقُولُ  
 کُل کلو ان بطور انکار۔ دپتہ لکن سو دوبارہ بیہ زندہ سپدنک دوہ کر اسمہ قُلْ عَسَىٰ اَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۗ تہہ  
 فرمایو کہ سو دوہ اسمہ جلدی ۗ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهَا وَتَقُولُونَ اِنْ لَّبِثْنَا اِلَّا قَلِيلًا ۗ یہ ہنہ  
 تمی دوہہ یمہ دوہہ پروردگار توہہ نادتہ اودیہ اس ملکہ سندہ ذریعہ لیس ناو چھو اسمہ ائیل۔ سہ دپوہ توہہ  
 ہالو کو سپدو زندہ تو پتہ سپدو جمع تہ حاضر محشرہ کس میدانس اندر۔ تھہ ناس کمر و تہہ مجبور سپدت اجابت  
 تہ تسلیم۔ نیرن ہیو تہہ قبر و منزہ تسد حمد تہ تعریف کران۔ پر ان اسمو سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ۗ  
 گوڈہ توہ خیال کہہ اس چھنہ رود مت ذبیاعس منز قبرن اندر مگر کسی کالس وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِيَ  
 اَحْسَنُ ۗ بیہ فرماو میانین مسلمان بدن کہہ تم آسن کافر ن سو جواب دپان لیس رت اسمہ اخلاقن ہنہ

بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿۵۳﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ  
 إِنَّ يَشَآئِرَ حُكْمِكُمْ أَوْ إِن يَشَآئِعِدَّ بِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿۵۴﴾  
 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ  
 النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿۵۵﴾ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ

اعتبارہ۔ یہ منزنہ تیزی سے اشتعال انگیزی سے کیا رہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يُزَيِّرُ بَيْنَهُمُكَ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ  
 عَدُوًّا مُّبِينًا بیشک شیطان چھو سخت سے تیز جواب و نہ ناولت لوکن منزنہ تیزی سے فساد تراوان کیا رہے شیطان  
 چھو گوڈہ پیٹھے انسانہ سندنون سے مولی دشمن۔ لہذا چھو نہ سختی سے تیزی کرئس اندرہ کانسہ فاندہ کیا رہے  
 ہدایت و گمراہی چھہ خدائس اتھہ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَآئِرَ حُكْمِكُمْ أَوْ إِن يَشَآئِعِدَّ بِكُمْ توبہ سارنی ہند حال  
 زلہ پور ٹھہند پروردگار کہ کس شخص کتھہ قابل چھو۔ ہر گہ سُو یثہہ توبہ اندرہ کانسہ پیٹھہ رحم کزن۔ رحم  
 کرئس یعنی ہدایت کرئس۔ راہ راستس پیٹھہ انئس۔ بیہ ہر گاہ سُو یثہہ توبہ اندرہ کانسہ عذاب کزن کس  
 کرہ عذاب یعنی کس دیہ نہ ہدایتک توفیق سے سببہ سوسز اواری عذاب سپدہ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَكِيلًا بیہ  
 نہ حض سوزنہ اسہ ٹھہ لوکن ہندہ ہدایتک ذمہ دار بناوت لہذا ایلہ نہ ٹھہ باوجود نبوت و رسالت ذمہ دار  
 بناوت سوزنہ آمت چھوہ۔ عام لوکن ٹھہندین اُمتین کیاہ ذمہ داری چھہ امہ کتھہ ہنز کہ تم چھہ زورہ اتھہ  
 منز ہر سے قضیہ لاگان وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ٹھہند پروردگار چھو پور زانان تمن سارنی  
 تم آسمان اندر سے زمین اندر چھہ یعنی ملائکن سے انسان سے جن۔ تمس چھہ خبر تموساروی اندرہ ٹھہ چھو  
 نبی ہناؤس قابل ٹھہ چھو نہ پس ہر گاہ تم ٹھہ نبی پیغمبر بناوہ اتھہ منز کیاہ تعجب چھو۔ توبہ تہ ہر گاہ توبہ تم  
 فضیلت دیت تھہ منز کیاہ تعجب چھو۔ کیا رہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا  
 تھہن اسہ دیت فضیلت بعضی پیغمبرن، بعضی پیغمبرن پیٹھہ۔ بیہ ہر گاہ اسہ توبہ قرآن مجید عطا کور توبہ  
 کیاہ تعجب چھو کیا رہے اسہ کورنا عطا دَاوُد علیہ السلامس زبور۔ زبور ک تخصیص اوامی کرنہ کہ زبورس منز  
 چھہ خصوصیتہ سان بیان آمت کرنہ نعت و صفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیہ چھہ تھہ منز خبر و نہ  
 آمر کہ حضرت پیغمبر آخر الزمان آسن صاحب ملک و سلطنت قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا

مَنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿۵۷﴾ أُولَٰئِكَ  
الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رُؤسِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ  
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿۵۸﴾ وَإِنَّ  
مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا  
شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿۵۹﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ

یَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ترجمہ فرمادو کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشرک کہ اے  
مُشرکوں کو تھانہ دی تو آلو تم معبودانِ باطن میں ہندہ معبود آسک توہے گمان نہ خیال چھو کر ان میں  
نہیں نہ پریشان ہندہ وقتہ دیتو آلو تمہی معبودن۔ معبود برحق ورا ہی نہہ وچھو تم ہیکوہ توہہ کہہہ  
چارہ کمر تھ۔ تم نہ ہیکوہ تکلیف دُر کمر تھ کُتہہ قسمہ نہ ہیکوہ تھ اولہ بدل کمر تھ۔ تم چھو نہ تمک  
اختیار۔ ادہ تم ملایک آسٹن یا جن آسٹن یا انسان آسٹن أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ تم لوک میں یم مشرک  
نفع حاصل کرنے خیطرہ یا کانہہ ضرر دُر کرنے خیطرہ منگان چھہ یَبْتَغُونَ إِلَىٰ رُؤسِهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ  
رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ تم چھہ پانہ پنہ نس پروردگار س نیشہ قرب نہ نزدیکی ہند نہ تس نیشہ واتنگ  
ذریعہ تلاش کران۔ پریتھ اکھاہ چھو کوشش کران کہہ بوی نہہ بوی گو ٹھس زیادہ خو نہ زیادہ تس ذات  
پاکس قریب پُنن۔ بیہ چھہ تم تمسندس رحمت امیدوار روزان۔ بیہ چھہ تم تہندس عذاب کھوژان  
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا بیشک تہندس پروردگارہ سُنَد عذاب چھو کھوژنس قابل۔ امہ اندرہ چھو  
مطلب یلہ تم پانہ خدایہ سز عبادت کرہ ون چھہ بین ہند حاجت تھہ پاٹھ ہیکن تم کڈت۔ یلہ تم پانہ  
تہندس عذاب کھوژان چھہ بین نیشہ تھہ پاٹھ ہیکن تہند عذاب نہ تکلیف دُر کمر تھہ وَإِنَّ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا  
نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا بیہ چھہ کافر ن ہنز  
کانہہ بستیاہ میں آس قیامتہ کہہ دوہہ بروٹھہ ہلاک و تباہ کرہ ون چھہ یا تم اس قیامتگ دوہہ چھنمہ کس  
عذاب کھوژا کرہ ون چھہ۔ نہ سوزی چھو لوچ محفوظس لیکنہ آمت۔ پس ہر گاہ کانہہ کافرہ دنیا کہ

بِالآيَاتِ الْآلَانَ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَاتَّبَعْنَا نِسْمَةَ مُبَصَّرَةٍ  
 فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝۹۱ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ  
 أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي آرَيْنِكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

عذابہ نیشہ کنہ وجہ چہ تہ مگر آخر حکم عذابہ نیشہ بیحہ نہ سونکہ صورتس اندر بچت واما منعنا ان نرسل  
 بِالآيَاتِ الْآلَانَ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ بیہ رٹ نہ آس ہتھ کنہ چیزن اس کیا سوز ہو تم معجزہ میں ہنز لو کہ  
 خواہش کرہ ہن۔ مگر برو ظہن لوکن ہندہ تمہ قسمہ کین فرمائی ش معجزن ہند انکار کرن۔ کیا زہ تمن لوکن  
 ہند تہ میں لوکن ہند طبیعت چہہ کئی قسمک۔ نمونہ پاٹھ یوزو تہہ اتھ متعلق اکھ قصہ نہ۔ وَاتَّبَعْنَا  
 نِسْمَةَ اللّٰثَمَةِ مُبَصَّرَةٍ فَظَلَمُوا بِهَا چنانچہ قوم نمود چہ خواہشہ مطابق کریو اسہ تمن عطا بطور معجزہ  
 حضرت صالح پیغمبرہ سندہ ذریعہ دوئندہ ہند معجزہ یوسہ عجیب طریقہ پیدہ آہہ کرنہ۔ یوسہ معجزہ آسکہ  
 سببہ در ذات خود بصیرت حاصل کر نک اکھ ذریعہ اوس۔ مگر تمبو لو کو کتر نہ تمہ سبت کانہہ بصیرت  
 حاصل۔ بلکہ کوز کہ تس اونندہ نسبت بوڈ ظلم۔ سوگو سواوٹن مار تمبو بیدردی سبت تھوی معاملہ کرن  
 از کہ و تک کافر تہ۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا بیہ چہہ آس ہن امہ قسمک نغانہ تہ معجزہ سوزان یم  
 فرمائی ش آسن مگر پندہ عذابہ نیشہ کہوژ ناوندہ خیرہ۔ یعنی اگر ایمان اونہ تلہ کروہ اس فور اتناہ و بر باد۔ ای  
 چھو آسان فرمائی ش مجزن ہند مقسود۔ دون ہر گاہ تم معجزات ظاہر سپدن تو پتہ انہ ہن نہ تم ایمان۔ اس  
 کر ہو کہ تم پندہ وعدہ موجب ہلاک۔ ہتھ پاٹھ قوم نمود و غیرہ کور۔ ونہ آسہانہ بہندہ ہلاک سپد نک وقت  
 مقرر و تھمت۔ آس یہ کنیوہاہ توبہ و نان چہہ کہ تم ان نہ معجزہ و چہت تہ ایمان یہ چہہ آس اتھ کں نظر  
 کتر تھ و نان کہ اسہ چھو معلوم گوڈہ پیٹھے۔ چنانچہ اسہ چھو توبہ تہ امیک اطلاع برو نٹھی کورمت وَإِذْ قُلْنَا  
 لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ چنانچہ تہہ پاوژ تیس یلہ اسہ توبہ فرموو کہ بیشک تہہند پروردگار چھو پندہ علمہ  
 سبت ساری لوکن ہندین موجودہ حالات تہ تھہ ادہ و نین حالاتن احاطہ کتر تھ۔ تمن ہند ایمان نہ اتندہ تہ  
 چھو تموے حالاً تو اندرہ۔ لہذا منہ ہر و تہہ کانہہ پروا۔ تہہ رُوژو ہن کوم کران یعنی تبلیغ کوم وَمَا جَعَلْنَا  
 الرُّءْيَا الَّتِي آرَيْنِكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ بیہ کور نہ اسہ سو خواب ٹیس اسہ توبہ ہو و مکہ مفس اندر دین اسلامہ  
 ترقی متعلق۔ یا سو دیدار خصوصی ٹیس اسہ ہو توبہ در شب معراج۔ مگر لوکن ہندہ آزمائشہ خیرہ۔ ہتھ

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحُوفُهُمْ قَائِمِينَ كَالْإِطْعِيَانَا كَبِيرًا ۝۷  
 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ قَالَ  
 ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَعَدَدْنَا آدَمَ لَهُ مَقَاتِلَهُ قَالَ فَسَجَدَ  
 إِلَى الْأَرْضِ إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ قَالَ مَا مَنَعَكَ إِذْ أُمِرْتَ أَنْ سَجُدَ لِلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ نَفْسِي أَنْ تَكُونَ مِنَ السَّاجِدِينَ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ  
 مَا يَكْفُرُ أَكْثَرُ النَّاسِ بِمَا هُمْ كَاذِبُونَ ۖ قَالَ إِبْلِيسَ أَتَمَرُّ عَلَيْكَ أَنْ أُنزِلَ عَلَيْكَ مِنْ سَمَوَاتِنَا حُكْمًا وَأَنْ تُكَلِّمَ الْوَاهِلَ جَنَاحًا بِإِذْنِي ۖ قَالَ بَلَىٰ  
 إِنْ كُنَّ نَارًا تَلْقَوْنَ أَمْسًا ۖ قُلْ مَنْ عِندَ رَبِّي سَمِعْتُ مَا لَمْ يَنْصُرْنِي وَلَا يَخْشَوْنَ الْعَذَابَ ۖ قَالَ إِبْلِيسَ ابْنُ آدَمَ ۖ قَالَ إِبْلِيسَ ابْنُ آدَمَ ۖ قَالَ إِبْلِيسَ ابْنُ آدَمَ ۖ قَالَ إِبْلِيسَ ابْنُ آدَمَ ۖ قَالَ إِبْلِيسَ ابْنُ آدَمَ ۖ

وارہ نہ کہ کم کرن پڑھ نہ کم کرن انکار۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ یہ کمر نہ اسہ تمہ کلج ذکر کس کل رحمتہ نشہ دور آمت چھو تھاونہ یعنی درخت زقوم۔ کس جہنم منر آسہ۔ سمیک پھل جہنمی کھیاونہ آس یوان تمہ کلج ذکر تہ آسہ قرآن مجید س اندر لوکن ہندہ امتخانہ تہ آزمائشہ خیرہ۔ چنانچہ سمن دوشون چیزن کور کافر وانکار۔ معراجس کور کھ سیمہ موکھ انکار کہ یہ آکھ عجائب بوزنہ کہ آکسی شمس منزوت زیتھ زیوٹھ سفر کزن۔ بالخصوص آسمان ہند سیر کزن۔ یہ اوس نہ تہنر فخرہ منز یوان۔ تھہ پاٹھ کور کھ شجرہ زقومس تہ انکار۔ دوپھ تہ تھہ پاٹھ ہنہ کہ نارس منز کیا آسہ کل۔ نارنج ماہیت تھہ الگ کلج ماہیت تھہ الگ نارہ سیت چھو کل دزان۔ بہر حال تھہ پاٹھ سیمو کافر و سمن دون چیزن انکار کور۔ تھہ پاٹھ کہ ہن تم فرمائیش معجزن تہ انکار وَنُحُوفُهُمْ قَائِمِينَ كَالْإِطْعِيَانَا كَبِيرًا یہ جھہ آس تھن آخر جھہ عذابہ سیت ڈر پاوان۔ مگر تھن جھنہ تمہ سیت کینہہ تہ ہران مگر بڈ سرکشی تہ شرارت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ یہ چھو سو وقت تہ قابل ذکر یلہ آسہ حکم کور ملا یکن سمن سیت تمہ وقتہ ابلیس تہ شامل اوس کہ سجدہ تعظیم دیو آدم علیہ السلام۔ پس دیت ساروی ملا نکو تعمیل حکم کمر تھہ سجدہ مگر دیت نہ ابلیس قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا سولوگ دپنہ کیاہ بہ دما سجدہ تس کس تزیہ رپہ پیدہ کور تھن۔ اتھ عدول کھی پیٹھ سپد سومر دود قَالَ تَمَّہ وقتہ لوگ سوونہ ءَأَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا مہ ونو یہ شخص کس توبہ مہ پیٹھ فضیلت دیت وہ آس منز کوسہ خوبی تھہ۔ خیر ہر گاہ تھہ مہ مہلت دیو میانہ در خواستہ موجت قیامتہ کس دوہس تان زندہ روزخ تللہ وچھو بوکیاہ بتر اوہ آسندین کو تین پوتین نسبت تم ساری

قَلِيلًا ﴿۶۳﴾ قَالَ اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ  
 جَزَاءً مَّوْفُورًا ﴿۶۴﴾ وَاسْتَفْزِرْ مِنْ اَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ  
 وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ  
 وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُورًا ﴿۶۵﴾ اِنَّ عِبَادِي  
 لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ وَّكٰفِيْ بِرَبِّكَ وَاَكْبَرًا ﴿۶۶﴾ رَبُّكُمْ الَّذِي  
 يُرْجِيْ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوْا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ

در غلاو کہ تہ گمراہ کر کہ ہو کیوں کم لو کن ورا ی چانیو مخلص بند و اندرہ قَالَ اِذْهَبْ اللہ تعالیٰ اَن  
 فر مؤوس گوشہ گوشہ۔ یہ تکی تہ کر۔ اُسہ سبکتا فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اُس اکھاہ تمو اندرہ چان پیروی تہ  
 متابعت کرہ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا پس بیشک نارِ جہنم چھو چانہ خیطر ہبہ تمہ ہندہ خیطر ہ پورہ  
 پورسزا وَاسْتَفْزِرْ مِنْ اَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ہبہ ڈالتھ تہند قدم سبزہ و تہ نشہ۔ ہبہ کھوژ ناوتھ تہ  
 بانبر اوتھ تم پنہ نیو آواز وسیتِ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ہبہ اتھ تم گمراہ کرنہ خیطر ہ پن  
 پور لشکر۔ پیادہ لشکر تہ سوار لشکر تہ وَشَارِكْهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ہبہ سپد تہ شامل شریک تہندین  
 مالن اندر تہ اولادن اندر یعنی سم دو شوے چیز کیا کرن تم حاصل ناجائز طریقو سیتِ وَعِدْهُمْ ہبہ  
 تھاوتہ تم ن ژہ لہز لہز وعدہ کرنہ سیت۔ تمہ سیت اندی نہ کینہہ تہ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُورًا بیشک  
 شیطان چھو لو کن سیت لہز وعدہ کران اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ کیا زہ بیشک میان بندہ سم  
 چھہ تم پن پیٹھ چھوی نہ ژہ کنبہ قسمگ غلبہ و کفی بِرَبِّكَ وَاَكْبَرًا تمس شیطانس تھ پیٹھ ہبہ غلبہ ہتھ۔ تہند  
 پروردگار چھو تہند کانی کار ساز رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْجِيْ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوْا مِنْ فَضْلِهِ تہند پروردگار  
 چھو تھوی نعمت عطا کرہ ون سم سو چھو توبہ فایدہ و اتناونہ خیطر ہ دریاون اندر ناوہ تہ جہاز پکہ ناوان۔ تھتھ  
 تہہ تہند ہرز گک تلاش کمروا نہ کان پکہ رَحِيْمًا بیشک سو چھو تہندس حالس پیٹھ سیٹھاہ مہربان۔ وَاِذَا  
 مَسَّكُمُ الصَّوْرُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاكَ ہبہ یلہ توبہ دریاؤس اندر یا سمندر س اندر کانہہ تکلیفاہ



رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ  
 إِلَّا آيَاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ  
 كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ  
 عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً ﴿٦٨﴾ أَمْ آمَنْتُمْ أَنْ  
 يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ  
 الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

واتان چھو تمہ ساتہ جھہ توہہ مشان تم ساری معبودان باطل سمن تہہ عبادت کران آسوہ معبود  
 برحقس ورائی۔ تمہ ساتہ جھوہ تمس معبود برحقس نجات منگان فلما نجتکم الی البر اعرضتمو پس یلہ  
 سو تہہ س منگس اجابت کمر تہہ توہہ پھنہ نشہ نجات دتہ پنھس کن واتاوان چھو اتی چھوس یہ تہہ  
 پھر ان تہہ نافرمانی کران وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا یہ انسان اوس ڈاڈ ہمیشہ گھر ان نعمت کرہ  
 وئی۔ پنہ نس مُعم حقیقی سدا انعام تہہ پن ناگر عاجزی تہہ زارہ پارہ مشراوان۔ وون یوسہ تہہ۔ روگردانی  
 کران چھوہ یہ کتہہ بناء س چھوہ کران أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ کیاہ توہہ لنبوہ امن وامن  
 سمہ تہہ نشہ کہ سو کیاہ واللہ توہہ پنھس پیٹھ واتتھ زمینس تل ستھ پاٹھ قارون ووکن اوویرسل علیکم  
 حاصبًا یاسوزہ توہہ پیٹھ واواہ سمہ منزہ توہہ پیٹھ کنہ زود پیہ ستھ پاٹھ قوم عادس پیٹھ کنہ زود سپرو وکتھ  
 لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً توپتہ لیبون نہ تہہ پنہ خطیرہ کانہہ مددگارہ تہہ کارسازہ اَمْ آمَنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ  
 فِيهِ تَارَةً أُخْرَى کنہ تہہ جھوہ پنہہ جلیہ خاطر جمع سمہ کتھہ نشہ کہ اللہ تعالیٰ کیاواتاواہ توہہ دوبارہ بیہ اتھ  
 سمندر س منزہ ضروری کامہ موکھ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ پس سوزہ  
 توہہ پیٹھ چھلہ کرون سخت واوئس تہہ س جہازس چھلہ تہہ کوچہ کمر تہہ توہہ سان چھاوہ تہہ ہ گھر سببہ  
 ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا توپتہ لیبون نہ تہہ کانہہ اکھاہ آسہ بازخواست تہہ پڑھہ گارتہ جواب طلب  
 کرہ ون وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَصَلَّاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بیہ دیت پز پات آسہ حضرت آدم علیہ السلامہ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ  
 الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝۴۰  
 نَدَّ عُواكُلَ أَنَاسٍ بِأَمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا فَأُولَٰئِكَ  
 يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝۴۱ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ  
 أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝۴۲ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ

سندین اولادوں یعنی انسان بعض صفت عطا کرنے سیت۔ بجز تھے صفات تم نہ باقی حیواناتن عطا آئی  
 کرنے۔ تم گے حُسن صورت سیود قد و قامت۔ عقل۔ ایجاد صنایع۔ یہ کمر آسہ تم سوار خشکی اندر  
 مختلف جانورن ہندین پٹھ۔ گرین نہ اوٹن نہ کاترن نہ کھرن ہندین پٹھن پیٹھ۔ دریاوں نہ  
 سمندرن اندر ناؤن نہ جہازن پیٹھ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ یہ کوراسہ تم عطارزق نفیس نفیس صاف و  
 پاک چیز و آندرہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا یہ دیت آسہ تم فضیلت پنہ نیو مخلوق آندرہ  
 واریہن مخلوقن پیٹھ رت فضیلتا۔ اتھ کن نظر کر تھ پڑہ ہا تم سن سائین نعمون ہنز قدر کرین منعم  
 حقیقی کئی زانہ سیت۔ یہ تسنز عبادت نہ فرمانبرداری کرنے سیت۔ امہ نافرمانی نہ گھر و شرک محاسبہ ایہ  
 ہنہ تم قیامتگ دہہ یَوْمَ نَدَّ عُواكُلَ أَنَاسٍ بِأَمَامِهِمْ سودہ گوسوی سمہ دہہ اس نادومو سارنی لوکن  
 پن پن نامہ اعمال سیت ہتھ۔ محشرہ کس میدانس منزج سپد نہ خیترہ۔ بعضی مفسر و فرمودو بامامہم  
 پنہ نیو سردارو نہ زہیو سیت ایک نادونہ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا  
 پس تم لوکن نامہ اعمال دنہ آید پھنس اتھس کیتھ توپہ پڑن تم پن نامہ اعمال۔ وچھن تم کہ تم  
 ایہ نہ کتھ قسمہ ظلم کرنے۔ خضر آچہ ہدہ منزجہ کھشہ چہ جاہ ہندہ پنہ داوہ برابرہ۔ یعنی تم ایہ ایمانگ  
 نہ رٹن عملن ہند ثواب پورہ پورہ عطا کرنے۔ تم ایہ عذابہ نیشہ نجات دنہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ  
 فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا یہ پس شخص دنیاءس اندر ذانت کمر تھ نجاق و تھ وہجہ نہیہ اون نہ اعلیٰ  
 آسہ بنیومت۔ سو آسہ آخرتس منزجہ نجایتس گرس منزواتنہ نیشہ اعلیٰ نہ اون نہ ناپینا۔ یہ آسہ دنیاخو نہ

عَنِ الذِّمَىٰ أَوْحِينَا إِلَيْكَ لِتَقْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذَا الْأَخْذُ وَكَ  
 خَيْلًا ۗ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّتْ تَرَكُنَ الْإِيْمُ شَيْئًا قَلِيلًا ۗ  
 إِذَا الْأَذْذَنُكَ ضَعْفَ الْحَيَوةِ وَضَعْفَ الْمَبَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ  
 عَلَيْنَا نَصِيرًا ۗ وَإِنْ كَادُوا لَيْسْتَغْفِرُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ  
 مِنْهَا وَإِذْ الْأَيْلِبَتُونَ خِلْفَكَ الْإِقْلِيلًا ۗ سِتَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا

سیٹھا روومت سے دور پیومت منزل مقصود حاصل کرنے نہیہ کیا زہہ دیاءس اندر اوس گمراہی سے ضلالتس  
 تدارک کرن ممکن توبہ استفادہ سیت۔ آخرتس اندر جھوٹو گمراہی تدارک کرن ناممکن سے دشوار۔ سمن  
 لوکن یہ نامہ اعمال دنہ کھو فرس اتھس کیتھہ ۗ لَنْ كَادُوا لَيَسْتَغْفِرُونَكَ عَنِ الذِّمَىٰ أَوْحِينَا إِلَيْكَ لِتَقْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ  
 وَإِذَا الْأَخْذُ وَكَ خَيْلًا ۗ بیہ آس کافر سیٹھاہ نزدیک ہتھہ کوشش کران کہ تم ڈالمن توبہہ تموا احکامو نہیہ تم  
 آسہ توبہہ پیٹھہ بذریعہ وحی نازل کمرمت آس۔ یعنی تہہ کرہ ہووہ تہمزہ خواہشہ مطابق عام مسلمان پانس  
 نہیہ دور۔ یاد یہ ہو تہن آس ورہس اسلام انہ نس مہلت۔ سمہہ دو شوے کتھہ آسہ خلاف شرع۔ مگر تہمز  
 کوشش آس کہ تہہ پاتھہ کمر ونا تہہ یہ تھہ منظور۔ اسہ پیٹھہ لاگو ناسانہ حکمہ ورا ی بیا کہ حکماہ تلبہ تلبہ تھاو ہن  
 تم توبہہ ہن جانی دوست ۗ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدَّتْ تَرَكُنَ الْإِيْمُ شَيْئًا قَلِيلًا ۗ ہر گاہ نے آس تہہ مضبوط سے  
 محکم ثابت قدم تھاوہ ہووہ پنہ نس خمس ہتھہ نتہ اوس احتمال کہ تہہ ماسپد ہو تہن گن مائیل موہہ ہنا۔ تھہ  
 صورتس اندر ۗ إِذَا الْأَذْذَنُكَ ضَعْفَ الْحَيَوةِ وَضَعْفَ الْمَبَاتِ ۗ ہر گاہ تہہ ایہ ہالبنہ یعنی تہہ کیاسپد ہو تہمز ن  
 تھن گن مائیل تلبہ تہناوہ وہ اس تہہ دو گن عذابگ مزہ دنیاچہ زندگانی اندر تہہ۔ آخر تہہ زندگانی اندر تہہ،  
 مرنہ پتہ تہہ۔ ۗ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۗ تویپتہ لبہ ہون نہ تہہ پتہہ خیطرہ اسہ مقابل کانہہ مدد گارہ۔  
 مگر چونکہ اسہ بناوہہ تہہ مہوم سے ثابت قدم تمہ سببہ آونہ لبنہ تہنہہ طرفہ تہہ قسیمہ تہن گن مائیل  
 سیدن۔ خداین کمر وہ توبہہ ہن راہجہ سے حفاظت۔ تہہ لبو دنیاو آخرتجہ دو گن عذابہ نہیہ نجات ۗ لَنْ  
 كَادُوا لَيَسْتَغْفِرُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذْ الْأَيْلِبَتُونَ خِلْفَكَ الْإِقْلِيلًا ۗ بیہ کریو قصد تموا کافر و

قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَحِدْ لِسْتِنَا تَحْوِيلًا ۚ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوٰكِ  
الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ الْاَيْلِ وَقُرْانَ الْفَجْرِ ۗ اِنَّ قُرْانَ الْفَجْرِ كَانَ  
مَشْهُودًا ﴿۷۸﴾ وَمِنَ الْاَيْلِ فَتَجِدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ

توہمہ تکلیف و اتنا توہمہ کرہ کن تم مجبور توہمہ منہ شریفہ منزہ نیر نس پیٹھ۔ ہر گاہ تہ لبندہ ایہ ہاتلہ روز بہن نہ  
تم کافر توہمہ پتھ تہہ شہرس منز مگر کمہ سی کالس۔ چنانچہ تی آو بعل۔ یلہ خدایہ سندہ حکمہ موجب توہمہ  
ہجرت کمر وہ، منہ معظمہ منزہ در اوہ، مدینہ مہورس گن نیوہہ تشریف۔ ڈوڈوری گوشتھی آی کافر ہند پڈ  
پڈ ڈاگر دشمنان اسلام ابو جہل، عقبہ، شیبہ، ولید پلید جنگ بدرس منز قتل کرنہ تہ مارنہ۔ تمہ پتہ کمی  
کینہہ کالاہ گوشتھی سپد بخ منہ۔ ساری جزیرہ عربس پیٹھ سپز اسلامی حکومت قائم۔ تہند یو دشمنو منزہ  
رودنہ اکہ تہ باقی۔ سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ۗ تَتَّبِعْهَا ۗ تِلْكَ حَقُّ سَوْنِ قَاعَدَه تہ  
طریق رود، ہم پیغمبر اسہ توہمہ بروٹھ سوزمت آس تمن تہ یلہ دشمنو تکلیف و اتناو، توپتہ کڈک تم پیغمبر  
پنہ نیو شہر و اندرہ، اسہ گال تہند تم دشمن۔ تمن دیت نہ اسہ سوک تمن تمن شہرن اندر روزت۔ پیٹھ پاٹھ  
گالو کہ آس تہند دشمن تہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَحِدْ لِسْتِنَا تَحْوِيلًا ۗ تہہ حض لبونہ  
سانس مقررہ طریقس تغیر و تبدیل سپدان۔ وون یو زونہہ سونسخہ سیمہ سیت تہند ساری غم دور سپدان  
اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوٰكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ الْاَيْلِ ای پیغمبر برحق تہہ آسو پر تہہ دوہہ نماز قائم تھوان،  
دولہ آفتاب ڈلنہ پتہ راتہ منزہ تاریک تہ لہنگہ سپد نس تان، اتھ منز آیہ ثور نمازہ۔ پیشین۔ دگر، شام  
تہ خفتن وَقُرْانَ الْفَجْرِ ۗ بیہ آسو صبح نماز پران اِنَّ قُرْانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۗ بیٹک صبح نماز چھہ ملائکن  
ہندہ حاضر سپدنگ وقت۔ چنانچہ حدیث شریفس منز چھو آمت کہ دگر نمازہ تہ صبح نمازہ چھہ حاضر  
سپدان ڈبک تہ راتک ملائیک۔ ہم انسان ہندہ حفاظت و کتابتہ خیطرہ وسان چھہ۔ تمن چھہ تمنی دون  
وقن پیٹھ بدل سپدان۔ راتک ملائیک چھہ صحنس کھسان ڈبک ملائیک چھہ وسان۔ دگر س چھہ ڈبک  
ملائیک کھسان تہ راتک وسان۔ صبح نمازہ تہ دگر نمازہ پیٹھ چھہ دو شوعے کھسہ ون تہ وسہ ون جمع  
سپدان۔ خدایس نشہ گوہی ووان کہ۔ اس کھت چان بندہ آس نماز پران آس و تھہ ہم آس نماز پران  
وَمِنَ الْاَيْلِ فَتَجِدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ۗ بیہ راتہ ہندس اگس حصس منز و تھو تہہ یار رسول اللہ، پتر و تھہ اندر نماز

رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿۹۰﴾ وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ﴿۹۱﴾  
 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿۹۲﴾  
 وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ

تہجد۔ یہ نماز چھ پانچن نمازوں علاوہ زیادہ خاص تہجدہ خیرہ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا امید  
 چھ یعنی وعدہ و تھو کہ تہجد پروردگار۔ دیہ جای توہمہ مقام محمودس اندر یعنی و اتاواہ توہمہ تہہ مقاس ئس  
 سینہاہ قابل تعریف و تھو سو گو مقام شفاعت میری۔ تہہ مقاس و اتہہ کرن تہمہ تعریف اولین و  
 آخرین۔ بیہ پانہ حضرت رب العلمین۔ تہمہ تھو دشان و تھمت تھو مقام و تھمت کرن لوک تہمہ  
 تعریف تہمہ محمد ﷺ و محمود آسک سپدہ ظہور وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ  
 وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا بیہ آسو تہمہ بیہ دعا پران کہ ای میانہ پروردگارہ متہ شریفہ منزہ نیر نہ پتہ  
 و اتاواہ تھمہ جلیہ تھہ جلیہ ژہ یژک رتہ طریقہ بخیر و خوبی۔ متہ شریفہ منزہ نیرن تہ آسہ رتوی رت۔  
 مدینہ شریفہ منز ان تہ رتوی رت۔ بیہ کر میہ پتہ طرفہ نین یاری۔ مہ کر عطا تمن کافرن پیٹھ سو  
 غلبہ تہہ اندر چون مدد تہ نصرت دانی سیت سیت آسہ۔ ئس نہ زائل سپد ہون تہ عارضی آسہ بلکہ آسہ  
 پوشہ ون تہ پائیدار۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا بیہ آسو پران کہ دون سپد پوزہ  
 دین ظاہر۔ اپزدین سپد باطل۔ بیشک اپز تھو آخر گلہ و نوی تہ خم گوہہ و نوی۔ یعنی مضمون کن گوہہ  
 تہمہ کل تھاون تھمگین آزد خاطر گوہہ روزن۔ چنانچہ ہجر تہ پتہ سپد فتح متہ۔ ساری وعدہ سپد پورہ۔  
 چنانچہ فتح مکس اندر یلہ حضرت نبی کریم خانہ کعبہس منز ژاے۔ خانہ کعبہس منز آس کافر و تھامت  
 اندر یک تریہ تہہ تہ شیطہ (۳۶۰) پو تل۔ تمن آس دست مبارکس منز اکھ لورہ ہنا۔ تمی سیت آس پر تھہ  
 پو تلئس کن اشارہ کران۔ زبان مبارک کہ سیت آس یوسے آسہ کریمہ پران ( وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ  
 إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ) بیہ بیاکھ آسہ کریمہ ( جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُبِيدُ ) پران۔ تم پو تل  
 آس تھمکن و کر اونہ یوان تہ تھر و س پیوان وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ بیہ چھہ آس بیہ

الظَّالِمِينَ الْاِخْسَارًا ﴿۸۶﴾ وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا  
بِجَانِبِهِ ۗ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا ﴿۸۷﴾ قُلْ كُلُّ يَعْْمَلُ عَلٰى  
شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿۸۸﴾ وَيَسْئَلُوْنَكَ

قرآن مجید نازل کر انہیں بوڈ شفا چھو۔ بڈ رحمت چھہ با ایمان ہمدہ خیطرہ یعنی پتھ پاٹ ہڈ کہہ ینہ سبت  
اپز گول تہ زائل سپڈ تھتھہ پاٹھ چھہ اس قرآن مجید وارہ وارہ نازل کران۔ اُس رُو حانی مرضن تہ بیمارین  
ہمدہ خیطرہ بوڈ علاج چھہ سمہ سبت وکو اندرہ ہدا اعتقاد تہ لہز عقاید تہ پچھہ اخلاق بیہ شکوک و شبہات دُور  
سپڈ تھہ روحانی صحت چھو حاصل سپدان۔ بلکہ چھو بسا اوقات امکہ برکتہ جسمانی مرضن تہ بیمارین تہ شفا  
بنان۔ با ایمان ہمدہ خیطرہ چھو رحمت و شفا می موکہ تم کیا چھہ اتھ قرآن مجید س ایمان اتان۔ امہ  
موجب عمل کران۔ سمہ سبت اللہ تعالیٰ چھو پن بڈ رحمت تم کُن متوجہ کران۔ پچھہ عقاید تہ پچھہ عملو  
نشہ چھو تمین شفا بخشان **وَلَا يَرْوِيهِ الظَّالِمِينَ الْاِخْسَارًا** مگر ظالمین تہ نا انصافن سمہ امہ قرآن مجیدہ  
موجب عمل کرن ہر نہ کینہہ تہ تاوانہ تہ نقصانہ وراى۔ کیا زہ تم چھہ امہ کیو ہدا یعو تہ ارشاد اتو موجب  
عمل کران سمہ موکہ تمین پیٹھ چھہ خدایہ سزبیزاری زیادہ سپدان۔ تم چھہ مستحق عذاب و سز سپدان۔  
یلہ وان یہ کیفیت چھہ لہذا تمین متعلق قبول اسلاج امید تھاوان یا تہمدہ مخالفنگ غم کیون چھو بیکاروبے  
فاسیدہ **وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ۗ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَؤُوسًا** بیہ یلہ اُس کانہہ  
انسان یعنی کافر س کاٹھ نعمتھاہ عطا کران چھہ تس پڑہ ہا شکر گذاری کرن۔ تھہ بدل چھو سانبو احکامو  
نشہ تھہ پھر ان۔ بیہ پہلو تھی کمر تھہ پس طرفس کُن پھیر ان یعنی اللہ تعالیٰ چھو س پنہ فضلہ سبت نعمت  
مال و دولت عطا کران۔ مگر سو چھو نہ احسان مانان۔ امہ نعمتک شکر ادا کران یوت اہس عیش و آرام چھو  
حاصل سپدان، تیوت چھو سو منعم حقیقیس نشہ غافل سپڈ تھہ تمسند یو احکامو نشہ اعراض کران۔ بیہ یلہ  
تس کانہہ تکلیفہہ واتان چھو تمہہ ساتہ چھو نا امید سپدان دوشون حالتن منز چھو خدا اہس نشہ بے تعلق  
سپدان۔ مگر با ایمان چھہ دوشون حالتن اندر خدایہ سی کُن رجوع کران۔ نعمتہ وقتہ شکر دپان۔ تکلیفہہ  
وقتہ صبر کران۔ تکلیف دُور گرہنہ خیطرہ تس کُن التجا کران۔ **قُلْ كُلُّ يَعْْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهِ** تھہ فرما یو کہ  
یا رسول اللہ کہ با ایمان تہ کافر نیک تہ بد پر تھہ اکھاہ چھو کوم کران پنہ پنہ طریقہ موجب تھہ تمسز

عَنِ الرَّوْحِ قُلِ الرَّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَلَكِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِنِّي إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلِ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ

عقل صحیح یا جہل قبیح منگان آسہ۔ عقل صحیح چھو منگان اعمال خیرن جہل قبیح چھو منگان پچھ عملن  
 قُرْآنُكُمْ أَعْلَمُ بِهِنَّ هُوَ الَّذِي سَنِيَ اللَّهُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَهْدٌ سِيْرٌ پور دگار س پور خبر گس چھو راہ راستس تہ سیزہ دتہ  
 پیٹھ۔ تہس چھو خبر گس چھو غلط وتہ پیٹھ۔ سوی دیہ پر پتھ گس پتہ پتہ عملہ ہنز مزور۔ وَسَيَسْأَلُونَكَ  
 عَنِ الرَّوْحِ بِيْهِ نَزَّ جَهْمُ پَرِ تْھان سم کافر توبہ بطریق امتحان رُوح ک سوال۔ رُوح حقیقت کیا ہجھ۔ قُلِ  
 الرَّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي نِہ فرما یو کہ کہ رُوح چھو میانس پروردگارہ سُد حکم بس بیہ نہ کینہہ۔ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ  
 الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا بیہ آونہ توبہ علم عطا کرنہ مگر سیٹھاہ کم۔ نِہدہ استعدادہ موجب۔ بیہ تمکن چیزن ہند علم  
 سم ضروریات چھہ۔ چونکہ رُوح علم ضروریاتواندرہ چھنہ۔ بیہ ترہ نہ توبہ فکری کم فہمی موکہ تمہ  
 موکہ آوتھاونہ پوشیدہ رُوح علم وَلَكِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بیہ ہر گاہ آس یشھو واپس  
 نمواس قرآن مجید نیس اسہ نازل کور توبہ پیٹھ بطریق وحی ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا تو پتہ لیون نہ  
 نِہہ پتہ مددہ خیطرہ اسہ سمیت مقابلہ کرنہ خیطرہ کانہہ مددگارہ إِلَّا رَحْمَةً مِنِّي نِہہ مگر بیہ چھہ نِہدس  
 پروردگارہ سز رحمت تہ مہربانی تمہ تم کور نہ تہ۔ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا کیاہہ بیشک خدایہ سُد فضل  
 چھو توبہ پیٹھ سیٹھاہ یوڈ۔ لہذا آگڑھہ نِہد خدایہ سزہ بیہ نعمت تہ مہربانی یاد پاتوت خوش روزن کانہہ  
 ہندہ مخالفتک گڑھہ نہ کانہہ نم ہرن قُلِ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ  
 لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِيَعْوِ بِمَا لَمْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ ساری انسان تہ جن سم تہ جمع سپدن تہ کوشش کرن کہ پیش کیا کرن اتھ قرآن مجید س ہو کلامانہ

لِبَعْضِ ظَهْرٍ ۝۸۸ وَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ  
كُلِّ مَثَلٍ فَاَبَى اَكْثَرُ النَّاسِ الْاَكْفُورًا ۝۸۹ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ  
حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَتَّبِعُوْنَا ۝۹۰ اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ  
تَحْتِهَا نَجِيْلٌ وَعَنْبٌ فَتَفْجِرَ الْاَنْهَارُ خَلْفَهَا تَفْجِيْرًا ۝۹۱ اَوْ تُسْقَطَ السَّمَاۗءُ  
كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا كَيْفًا اَوْ تَاْتِيْ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا ۝۹۲  
اَوْ يَكُوْنُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُرْحٍ اَوْ تَرْفِيْ فِي السَّمَاۗءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ  
لِرُقِيْكَ حَتَّى تُنْزَلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّيْ هَلْ

ہرگز ممکن نہ پیش کرتے اے ساری اڈاؤں پر مددگار تہ بن وَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ  
كُلِّ مَثَلٍ پڑپاٹ ہیہ کرہ اسہ ہتھ قرآن مجیدس اندر لوکن فخرہ تارنہ خپرہ پر ہتھ قسمک عمدہ مضامین  
مختلف طریقو بیان قَابِی اَكْثَرُ النَّاسِ الْاَكْفُورًا باوجود آل کورنہ اکثر لو کونہہ تہ انکارہ وراى تہ ناشکری  
ورای وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَتَّبِعُوْنَا ہیہ لگ تم لو کہ توبہ دہنہ آس گزونہ پڑہ توبہ  
توتان یوتان نہ تہہ سانہ خپرہ ہتھ متہ معظمہ کس زمینس اندر چشمہ ناگہ راد جاری کر و اَوْ تَكُونَ لَكَ  
جَنَّةٌ مِّنْ تَحْتِهَا نَجِيْلٌ وَعَنْبٌ فَتَفْجِرَ الْاَنْهَارُ خَلْفَهَا تَفْجِيْرًا یایوتان نہ توبہ خاص خضر کلین تہ دھہ کلین ہند  
باغہ آسہ تہ باغس منزکر و تہہ واریاہ کولہ جاری اَوْ تُسْقَطَ السَّمَاۗءُ کَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا کَيْفًا یایوتان نہ تہہ  
اسہ پڑہ آسان جھلہ جھلہ تراووسمگ تہہ ونان آسو اَوْ تَاْتِيْ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا یایوتان نہ تہہ  
پانہ خدایہ ملائک اسہ بروٹھ کنہ و تہہ ذنہ تھاویو کہ تہہ اس وارہ کارہ تم وچھو کہ اَوْ يَكُوْنُ لَكَ بَيْتٌ  
مِّنْ زُرْحٍ یایوتان توبہ آسہ گراہ مکاناہ سونہ سُنَد اَوْ تَرْفِيْ فِي السَّمَاۗءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيْكَ حَتَّى تُنْزَلَ  
عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرُؤُهُ یایوتان نہ تہہ کھسبو آسانس پیٹہ اسہ ڈیشمان، اسہ بروٹھ کنہ توتہ کرودہ نہ آس پڑہ



كُنْتُ الْإِبْرَأْسُوْلًا ۱۶ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ  
 الْهُدَىٰ الْآلَانَ قَالَ أَبَعَثَ اللهُ بِشْرَأْسُوْلًا ۱۷ قُلْ لَوْ كَانَ فِي  
 الْأَرْضِ مَلِكَةٌ يُبَشِّرُونَ مُطْبِئِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ  
 مَلَكًا رَسُوْلًا ۱۸ قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ  
 بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۱۹ وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ

تہندس آسمان کھس یوتان نہ تورہ والو سائہ خیطرہ اکھ کتابہ جھ منز تصدیق آسہ تہندس آسمانس پیٹھ  
 واتس۔ یوسہ کتاب آس تہ پتر تہہ ہیجو۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ الْإِبْرَأْسُوْلًا تہہ فرماو یو کہ یار رسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن سارنی بیسودہ تھن ہند جواب کہ منزہ تہ پاک چھو میون پروردگار کٹہ چیزس  
 اندر عاجز آسنہ نشہ۔ بوکیاہ زونوس توبہ بوچھوس نہ مگر بشر انسان پیغبر بس میں حقیقت چھہ ایشی۔ مہ  
 قدر آس تہ ہمزہ فرمائشہ پور کرنس اندر کانہہ دخلہ چھونہ۔ یہ سوزی چھو قدر تہ والس خدا بس آتھہ۔  
 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ الْآلَانَ قَالَ أَبَعَثَ اللهُ بِشْرَأْسُوْلًا سمہ وقتہ تمن لوکن نشہ  
 ہدایت یعنی رسالچہ صحیح دلیلہ واژہ مثلاً قرآن مجید کہ بوڈ مجزہ ہتھ لازم اوس تمن ہند گوژہ فوراً  
 ایمان ان تہ پڑھ کرن مگر تمن سپندہ کانہہ چیز ایمان انہ نس مانع مگر تمن آہہ بوزنہ بشریتس تہ رسالتس  
 اندر فرق۔ دہنہ لگ کیاہ اللہ تعالیٰ ان سوزہ اکھ بشرا پیغبر قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلِكَةٌ يُبَشِّرُونَ مُطْبِئِينَ  
 لَنَزَلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُوْلًا تہہ فرماو یو کہ یار رسول اللہ ہر گاہ آسمن زمینس پیٹھ ملائیکہ روزان  
 لسان بسان اورہ پور پھیران تل سوزہو آس تمن گن تہ آسماچہ طرفہ ملکھی پیغبر بناوت قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ  
 شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تہہ فرماو یو کہ بس چھومہ منز تہ توبہ منز گواہ اللہ تعالیٰ۔ سوی چھو بہتر زنان کہ  
 بوچھوس پیغبر تہند۔ اگر تہہ ماونہ میون پیغبر برحق آسن متہ مانعو۔ کہ دوہہ کہ تلو پانے تمیک پیچھ  
 نتیہہ لائہ کان بعبادہ خبیر البصیرا کیاہ اللہ تعالیٰ چھو پنہن بدن ہند ساری حالات پورہ زنان تہ  
 پورہ چھان تہ وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ توپتہ چھہ واقعی کتھاہ ای زہ لیس اللہو تھہ ہاوہ سوی چھو سیزہ

يُضِلُّ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَّبُكْمًا وَصَبْأًا مَا وَلَّهُمْ جَهَنَّمَ كُلًّا خَابَتْ  
 زِينَتُهُمْ سَعِيرًا ﴿۹۵﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ هُمُ يَا نَكُفْرًا يَا أَيَّتِنَا وَقَالُوا  
 إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَالْبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿۹۶﴾  
 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ  
 أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّيْسَ فِيهِ فَايَ الظُّلُونَ

وَتَبَّحَ يَبْحِي يوان وَمَنْ يُضِلُّ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ بيه يمين سُودتھ راورہ، گمراہ کرہ، وتہ نشہ  
 ڈالہ۔ پس لیون نہ تہہ تہند کانہ مدگار خدا پس وراي وَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَبُكْمًا  
 وَصَبْأًا بيه پکھ ناووکھ آس سم قیامتگ دوہ تہہ کھکھر آں۔ زرتہ کل مَا وَلَّهُمْ جَهَنَّمَ كُلًّا خَابَتْ زِينَتُهُمْ  
 سَعِيرًا تہنز جای چھہ نار جنم۔ یلہ یلہ سو نار سو تن آسہ ہیوان۔ آس آسون سو تیز کران ذَلِكَ  
 جَزَاءُهُمْ یوہے نار جنم آسہ تہند سزا يَا نَكُفْرًا يَا أَيَّتِنَا ای موکھ کہ تمو کیا کور انکار سائین آیاتن  
 وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَالْبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا بيه آس تم دنان کہ یلہ اس مزوباتی  
 روزہ نہ کینہتہ دودر سمہ وَاذْجُو راي۔ کیاہ آس اموہ تہہ حال بختہ اذ جن آسہ سور گو مت، بيه دوبارہ پیدہ  
 کرنے قبر و اندرہ کڈت ایسا نہ روزنگی عطا کرنے أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ  
 أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کیاہ حمن لوکن چھنا در تہہ امت کہ بیشک اللہ تعالیٰ گو سوی پروردگار تم مخلوق تو اندرہ  
 بڈزہ مخلوق آسمان نہ زمین پیدہ کر مت، چھہ۔ سو چھو پور قدر تہ دول سمن، ہی لوکت مخلوق انسان پیدہ  
 کرنس پیٹھ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّيْسَ فِيهِ مگر تم پروردگارن تہندہ دوبارہ پیدہ کرنے خیرہ اکھ وقاہ مقرر  
 کر مت۔ سو وقت واتس پیٹھ دوبارہ پیدہ کرنس اندر چھونہ کانہ شکاہ فَايَ الظُّلُونَ الْاَلْفُورًا بيه بوزت  
 نہ مرنہ ظالم لو کونہتہ تہ انکارہ وراي قُلْ لَو أَنَّمْ تَكُونُونَ حَزَّاقِينَ رَحْمَةً رَبِّي إِذَا الْأَمْسُكُمْ حَشِيَّةَ  
 الْاِنْفَاتِقِ فرما دیو کہ تہہ یار رسول اللہ ہر گاہ تہہ مالک نہبو۔ توہہ آتھہ آسن منیس پروردگارہ سندن

إِلَّا كُفُورًا ﴿۹۹﴾ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَسْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا  
لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿۱۰۰﴾  
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَسَّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ  
فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿۱۰۱﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا  
أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ أَرَابُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ عَرَاوِيٍّ لَأَظُنُّكَ  
يُفِرْعَوْنُ مُتَبَوِّرًا ﴿۱۰۲﴾ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَقِرَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ

رحمن ہند خزانہ۔ ٹہہ کمر ہو کہ تم خزانہ بند خراج کر نکلے خوفہ وکان الانسان قتورا یہ انسان چھو  
اوسمت ہمیشہ دل تنگ تہ کجوس ولقد اتینا موسی تسع الایات بینت تھین یہ کراسہ موسی علیہ السلام  
نو معجزہ تن تہ واضح عطا۔ سمن ہنز ذکر نومہ سپارہ اندر شینہ مس رکوعس اندر چھہ۔ فسئل بنی اسرائیل  
ٹہہ پر ژھتو از کہ وقتہ کین بنی اسرائیل تمن آیاتن متعلق۔ یعنی تھہ پاٹ توہ معجزات تہ دلیلہ عطا کرہ  
تھہ پاٹھ چھہ اسہ عطا کرہ مژہ موسی علیہ السلام تہ۔ ٹہہ پر ژھتو از کہ وقتہ کین عالم بنی اسرائیل  
چنانچہ اذ جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يموسى مسحورا یلہ موسی کلیم اللہ بنی اسرائیل تبلیغ کرنہ آی  
فرعونس تہ مگر کہ دوبارہ بیہ تبلیغ۔ فرعون لوگ تمن دینہ ہنز پاٹ مہ چھو بوزنہ یوان توہہ پیٹھ چھو کمتان  
جود کورمت سیمہ سببہ ٹہنزہ عقلہ پیٹھ چھو اثر پیومت۔ سیمہ سببہ ٹہہ سیمہ قسچہ تھہ چھوہ کران۔ قال  
حضرت موسی ان فرعون ای فرعون لقد علمت ما انزل هؤلا الاراب السموات والارض بصافر تھین ژہ  
چھلھہ ولہ کن زانان کہ سیم آیات چھنہ کانسہ ہدہ طرفہ مگر تس پروردگار ہدہ طرفہ بس آسمانن تہ  
زمین ہند رب چھو۔ مگر زیوہ سیت چھو کنہ ظاہر کران وانی لاظنک یفرعون متبوراً بوہ چھست  
ژہ زانان ای فرعون عنقریب تہا تہ بر باد سپدہ ون۔ چانہ تہا تہ تہ گنگب دودہ چھہ واتمت۔ اوتان اوس  
موسی کلیم اللہ فرعونس فرماوان کہ بنی اسرائیل مگر کہ آزاد تم تراو کہ مہ سیت اس نیر و مصرہ اندرہ۔  
اس گروہو ملک شامس کن۔ مگر سو اوس نہ مانان۔ وون ژا یہ تمس ٹھہ حضرت موسی ماکرہ بنی اسرائیل

وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ﴿۱۳﴾ وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لَبِئْسَ اسْرَائِيلَ اسْكُنُوا  
 الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جُنَّا بِكُمْ لَبِيفًا ﴿۱۴﴾ وَيَا حَقِّ أَنْزَلْنَاهُ  
 وَيَا حَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۱۵﴾ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ  
 لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿۱۶﴾ قُلْ اٰمَنُوْا بِهِ اَوْ

اندر قوت و طاقت حاصل۔ اسمہ سیت کرن تم مقابلہ فاذا ان یستقر منہ من الارض تھ کن نظر کتر تھ  
 کور تم ارادہ تم بنی اسرائیل کڈکھ بوسمہ شہرہ اندرہ بودمہ نہ تمن تھ شہر س اندر روزہ نے فَاَقْرَبْنَاهُ  
 مِنْ مَعَهُ جَمِيعًا مگر اسمہ برو تھ کہ سو کیاسپدہ ہاپنہ نس ارادس اندر کامیاب۔ اسمہ پھاٹو سو بحر قلزمس  
 اندر۔ بیہ تم تھ سیت آس ساری اکہ وٹہ وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لَبِئْسَ اسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ بیہ  
 فر مواسمہ بنی اسرائیلن فرعونہ سندہ غرق سپدنہ پتہ۔ ای بنی اسرائیلو بسو تہ تھ زمینس اندر سمہ منزہ  
 فرعون توبہ کڈن یژھان اوس تھند دشمن گول اسمہ۔ توبہ دیت اسمہ تہزہ غلامی نیشہ نجات۔ تہہ چھوہ  
 وون سمہ زینک مالک۔ خوش کر وہ مصر س اندر روز تو یاشامس اندر۔ بیہ خوش کر وہ بیہ بستو۔ مگر بیہ  
 مالکیت چھہ توبہ دنیا چہ زندگی تانی قَاذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جُنَّا بِكُمْ لَبِيفًا تو پتہ یلہ آخر تک وعدہ ولتہ  
 یعنی قیامت برپا سپدہ۔ تہہ ساری کر وہ جمع اکہ وٹہ۔ دوست تہ دشمن تہ۔ سعید تہ شقی تہ۔ تو پتہ بوز ناوہ  
 وہ آس تہہ ساری آخری فیصلہ نس دانیکی اسمہ۔ تھہ پاٹ اسمہ حضرت موسیٰ آس معجزہ عطا کتر تھہ پاٹھ  
 کتر اسمہ توبہ تہ معجزات عطا سمو معجزہ واندہرہ بوڈ معجزہ چھو قرآن مجید وَيَا حَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَيَا حَقِّ نَزَلَ بیہ  
 کور اسمہ بیہ قرآن مجید توبہ پیٹھ نازل پنز پاٹ۔ بیہ دوت تہ سو قرآن مجید توبہ نس پنز پاٹھ۔ منزہ  
 سپدس نہ کمنہ قسمہ کانسہ ہند تصرف نس تغیر و تبدیل کرہ ہس۔ سُنَّہ زیادتیا کی ورا ی۔ گوڈہ پیٹھ اند تان  
 چھو سو قرآن مجید پوزوی پوز وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا بیہ تھہ پاٹھ اسمہ سوز موسیٰ علیہ السلام  
 لوکن کن۔ ہدایت اوس نہ تھندس اختیار س اندر۔ تھہ پاٹھ سوزوہ اسمہ تہہ تہ صرف لوکن ایمانس پیٹھ  
 ثوابچ بشارت تہ خوشخبری بوز ناوہ خیطرہ۔ گُفرس تہ نافرمانی پیٹھ عذابک بیم کرنہ خیطرہ۔ وون ہر گاہ  
 کانسہ شخصصاہ ایمان نہ نہ، پڑھ کرہ نہ متہ کتر تن تھند گھہنہ آزر دہ تہ غمکین سپدن وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ

لَا تَوْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ  
يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ  
وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُونَ وَيَزِيدُهُمْ  
خُشُوعًا ۝ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعَا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ

علیٰ الناس علیٰ مکث و تنزیلہ تنزیلاً بیہ چھو قرآن مجید س اندر سو پوز آسکیو صفیو علاوہ اللہ تعالیٰ ان پتہ فضل و رحمتہ سیت تم صفت تھاومت تمسوسیت تمحہ ذریعہ ہدایت بن زیادہ آسان سپدہ۔ سوگو۔ اسمہ کوریہ نازل امہ کین آیتن اندر تھا واسہ ژہین تہ فصل۔ بیٹھ نہہ لوکن بیٹھہ پران آسوارہ وارہ۔ بیٹھ تم وارہ بوزان آسن بیہ آسکیہ فخرہ تران۔ کیا زہ مسلسل زیوٹھ تقریر چھو بعضی ذہنو منزہ نیران۔ سویاد تھاون چھو مشکل گڑھان۔ بیہ کور اسمہ بیہ قرآن مجید نازل کم کم وارہ وارہ تر وہن (۲۳) ذرین اندر۔ یوہے کور اسمہ نازل واقعاتو موجب۔ بیٹھ امہ کین معانین ہند وارہ انکشاف سپدہ۔ تم صفت آس منگان اتھ قرآن مجید گدھہ لوکن ہنز پڑھ کرن تہ ایمان اٹن۔ امہ موجب عمل کرن۔ ہر گاہ وون باوجود آل تم ایمان اتن نہ پڑھ کرن نہ نہہ مہ حض سپدو آزرده تہ غمگین تمہ سیت قُلِ اسْئَلِہِ اَوْ لَا تَوْمِنُوا نہہ فرماؤ کہ صاف صاف نہہ ایمان اتنویا متہ اتنومہ چھو نہہ کانہہ پروا۔ توہہ لو کو ہر گاہ ایمان اونوہ نہ بدل لو کہ اتن ایمان اِنَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِہِ چنانچہ یمن لوکن امہ قرآن مجید کہ نازل سپدہ نہ ہونٹھ دینک علم عطا کرنہ امت چھو یعنی اہل کتابن ہند منصف علماء إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ یَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا بلہ بیہ قرآن مجید تمن ہونٹھ پرنہ یوان چھو تمہ ساتہ چھہ تم تیت متاثر سپدان تم چھہ بیٹھ کن دستھ بیٹھہ سجدہ ودوان ہو چھو کن وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا بیہ چھہ تم پران منزہ تہ پاک چھو سون پروردگار وعدہ خلائی نشہ اِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا بیشک چھو سانس پروردگارہ ہند وعدہ ضرور پورہ آسان۔ ئس وعدہ تم کورمت اوس ہونٹھین کتابن اندر کہ بوکرہ فلان کتاب فلان پیغمبرس بیٹھ نازل۔ سو وعدہ کور تم پورہ۔ قرآن مجید کرن نازل حضرت محمد عربیس بیٹھ۔ وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَسْكُونُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ہو گینو کن چھہ سجدس منز پیتھ ودوان۔ بیہ چھو تمن قرآن مجید

الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وِليٌّ مِنَ الدُّنْيَا ۝ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا ۝

بوزنہ سبت زیادہ عاجزی سے خشوع پیدہ سپدان۔ اللہ تعالیٰ سند یونام پا کو آندرہ اوس اللہ زیادہ معروف و مشہور۔ لفظ رحمان سبت آس کھر کہ کھیوان سے ڈالان۔ چنانچہ یلہ تم بنی کریمہ سندہ زبان مبارکہ بوزان آس لفظ رحمان تم آس دپان کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا زہ چھو آسہ خدا جس ورا ی بین منگس منع کران۔ پانہ کیا زہ چھہ خدا جس ورا ی منگان اتی سپدیہ آیہ کریمہ نازل **قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَا تَدْعُوۤا لَهُ الرَّحْمٰنُ اِسْمُہٗ فَرَاوَدُوۤہٗ یَا رَسُوۡلَ اللّٰہِ اِنۡ لُّوۡکُوۡنَہٗ مَعۡکَ اللّٰہُ تَعَالٰی اَسۡ یَا اللّٰہُ کَرِہَہٗ** سے یار حمن کھر تھہ تمسند نام پاک ہتھہ سمہ نام پاکہ سبت تس معگو سو گو تس منگن۔ کیا زہ تس چھہ رت رت نام پاک۔ سم دوشوے نام پاک چھہ اللہ تہ رحمان تہ تموی ریتو نام پاکو آندرہ۔ اتھ منز چھو نہ شرنک کانہہ تعلق۔ ناہ وول کوی۔ ناو چھس واریہ۔ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازہ اندر بڈہ بڈہ قرآن آس پران۔ مٹرک آس قرآن مجیدس جبریل امینس بیہ خدایہ سندس سے سانس نسبت گستاخی کران بیہ چھہ لفظ استعمال کران۔ اللہ تعالیٰ ان فرموو **وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا** بیہ حض آسویا رسول اللہ نمازہ منز بڈہ بڈہ قرآن مجیدس پران۔ بس بوزنہ سبت مٹرکن بیہ چھہ تھہ دور نگ موقعہ آسہ یوان۔ سمہ سبت نماز گزارن دل مشوش تہ ریشان آسہ سپدان۔ نہ مہ آسہ بالکل لوت لوت پران بس نہ نماز گزارن تہ بوزن نگان آسہ۔ اختیار آسہ کران یکن دون حالتن منز در میانی صورت۔ یعنی نہ زیادہ بڈہ نہ زیادہ لوتہ۔ سمہ سبت فائدہ تہ آسہ واتان۔ مضر تہ نعرہ تہ آسہ بجان **وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَکُنْ لَّہٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ وَّلَمْ یَکُنْ لَّہٗ وِلیٌّ مِّنَ الدُّنْیَا وَّکَبْرُہٗ تَکْبِیْرًا** بیہ آسہ علی الاعلان بیان کران کہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ معبود برحقس یس نہ اولاد چھہ نہ چچو تہ نہ کورہ۔ نہ چھو تس ملکس تہ سلطنس اندر کانہہ تہ اکھاہ شریک تہ نہ چھہ تس کمزوری سببہ کانہہ مددگارہ سنز ضرورت۔ بیہ کھر و ہز بیان تسد تھز رتہ بجر۔ بوڈ زانیون سوی یوت۔ حدیث شریفس منز چھو آمت کہ یلہ جہدس خاندانس یعنی بنی عبدالمطلبس اندر کانہہ لو کئس زیویوان آس ہتھہ اوس ہیوان کرنہ تس آس چھہ ناوان یوہے آسہ کریمہ **وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّرَواہِ ابْنُ السِّنِّیِّ فِی عَمَلِ الْیَوْمِ وَاللَّیْلَةِ۔**

## سُورَةُ الْكَافُرَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ  
 لَهُ عِوَجًا ۝ قِيمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ وَيُنذِرَ  
 الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝  
 مَا كَثُرَ فِيهِ أَبَدًا ۝ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ساری حمدتہ تعریف چھہ ثابتتہ سزاوارتس معبود برحقس یم نازل کورپنہ نس خاص بندس حضرت محمدس پیٹھہ یہ کتاب یعنی اعلیٰ تہ اجمل قرآن مجید۔ یہ تھوون نہ اتھ کتابہ اندر کھنہ قسمہ جہراہ۔ حج کتھاہ اتھ منز چھنہ۔ عبارت نہایت فصیح و بلیغ طرز بیان نہایت مؤثر۔ تعلیم نہایت اعلیٰ متوسطتہ معتدل۔ یوسہ پریتھہ زمانس اندر پریتھہ کانسہ ہندس طبعیتس موافق و مطابق چھہ۔ افراط و تفریط نشہ پاک و صاف قِیمًا یوسہ کتاب بالکل سیزتہ مکمل چھہ۔ یتھ منز ہندان ہنزہ سارے مصلوہ بیان کرنہ آمزہ چھہ۔ گمہ گمہ چیزہ سیت سیدہ تھند معاش و معاد دُرس تہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ یتھ سو کتاب عموما کافرن کھوڑہ ناوہ تمہ سخت عذابہ نشہ یوسہ اللہ تعالیٰ سندہ طرفہ آخرتس منز کافرن واتوون چھو و يُنذِرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا \* مَا كَثُرَ فِيهِ أَبَدًا یہ یتھ یہ قرآن مجید خوشخبری تہ بشارت دیہ تمن باایمان تم رتھہ عملہ آس کران۔ یتھ خوشخبری کہ تھندہ خیطرہ چھہ رتھمزور یعنی جنت تہ جنتیہ شعمو۔ تمنی جنتن اندر چھوروزن تمن ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا یہ کرہ یہ قرآن مجید یم تہ کھوڑہ ناوہ تمن لوکن تم ونان چھہ تہ تم لاگان چھہ اللہ تعالیٰ آس اولاد۔ یہ مضمون اولگ و نہ بیہ امی موکھ۔ عربس اندر آس ساری مشرک تہ یہود تہ نصاریٰ تہ اتھ بلا یہ منز بتلا۔ مشرک آس ملاکن خدایہ سزہ کورہ ونان۔ یہود آس ونان حضرت عزیر چھو خدایہ سُنْدُ بَنُو۔ نصاریٰ

وَلَدَّا ۖ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً  
تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۖ فَلَعَلَّكَ  
بِأَخِيحُ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ  
أَسْفًا ۖ ۶ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ  
أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ ۷ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۖ ۸

آس ونان حضرت عیسیٰ جھو خدایہ سند پتو۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ اتھ پیٹھ آس نہ  
تمن نش کا نہہ دلیلانہ ہندین مالین بڈین نغمہ کبڑت کلمہ تخرج من افواہیم سینہا بڈکتھہ  
ہتھ یہ یوسہ نیران آس تھندیو چانیو منزہ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا تم لوک جھنہ ونان یہ کتھ مگر  
بالکل اپزتہ بہتان۔ فَلَعَلَّكَ بِأَخِيحُ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا تہہ  
چھوہ تھندس ایمان نہ انہ نس پیٹھ یوت غم کیوان۔ شاید تہہ ماوتہ تاو پیہ نس ذات مبارکس تکلیف  
تمن پتھ۔ تم کونہ چھہ پتھ کلام پاکس قرآن مجیدس پڑھ کران۔ پیہ چھوہ تہہ تھندس کفرس پیٹھ اصرار  
کرنہ کہ سببہ یوت غمگیلین کہ معلوم چھو سپدان تہہ ماکر ومارہ بن ذات مبارک تھی پتھ افسوسہ کن۔  
ہر گاہے تم قرآن مجیدس پڑھ گزن متہ کزن۔ تہہ مہ حض کھیو یوت غم تھند۔ پیہ دنیا چھو عالم ابتلاء و  
آزمایش۔ پتھ منز چھہ اولوک کافر اڈ مسلمان إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ  
أَحْسَنُ عَمَلًا بیشک آسہ کورتہ سوروی پیہ پتھ زمینس پیٹھ چھو امہ زینت زینت تہ رونق۔ پتھ آس  
لوکن آزمایش گرو کہ تہہ اکھاہ چھو تمو منزہ رش عمل کرہ ون۔ تہہ اکھاہ چھو امہ زمینہ کس رونق وزینتس  
گن ماںل سپدت عملہ نغمہ غافل سپدہ ون۔ آخرت مشراوہ ون۔ اتھ دنیا س پانداریاہ کینہہ چھنہ۔ پیہ  
چھو فانی سپدہ ون غرض پیہ چھو عالم ابتلاء پتھ منز چھو کانہہ کافر کانہہ با ایمان۔ اتھ پیٹھ غم کیوان  
چھو بے کار۔ تہہ کمر وپن کوم۔ تہہ مہ سینو اتھ کتھہ کہ کافر ن کیاہ بنہ۔ سو چھہ سان کام۔ چنانچہ اکھ  
دوہا بنہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اس چھہ تمن سارنی چیزن تم اتھ زمینس پیٹھ چھہ



## أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيقِ كَانُوا مِنْ الْإِتْنَاءِ عَجَبًا ۙ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا

فناکرہوں۔ اٹھ ساری زمیںس کئی صاف میدان بناوہوں۔ سمہ دوہہ ساری فناسپدت دوبارہ یہ زندہ کرنے ہیں۔ تو پتہ ایہ پریتھ اگس جزاوسزاہند۔ تم یٹھ دوومت آسہ سہوٹتھ لونہ۔ قریشو آندرہ کثیرہ وکافر و پڑتھ یوڈون ہندہ پتھناونہ سیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہفن ہند قصہ۔ تھ متعلق چھو اللہ تعالیٰ امہ پتہ فرماوان **أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيقِ كَانُوا مِنْ الْإِتْنَاءِ عَجَبًا** کیاہ توہہ چھوہ خیال کہہ گوچھہ وال یکن ہندناو آسہ ترامہ پٹس پیٹھ لیٹھنہ اُمّت (کئی کن آس تمی ونان اصحاب رقیم تہ۔ رقیم بمعنا مرقوم) تھند قصہ کیاہ چھو سانیو قدرتہ کیونشاو آندرہ زیادہ عجایب۔ پتھ پاٹھ بہودونان چھہ۔ حالانکہ سانہ قدرتک باقی نشانہ تم چھاکینہہ کم تہ معمولی۔ تااینکہ تھ معمولی قص متعلق چھہ تم دریافت کران۔ آسمان وزمین۔ آفتاب تہ زون۔ دُہک تہ رائگ یکن تہ گدھن۔ سمونشاو سیت گدھہ تہنر۔ عبرت رلن۔ حضرت رب العالمین خالق موجوداتہ سند حقوق یعنی توحید و طاعت گدھہ بجائان۔ تسدین پیغمبرن گدھہ پڑھہ کرن۔ خصوصاً پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھن گدھہ پڑھہ کرن۔ بہر حال بوزواصحاب کہفن ہند قصہ۔ شہر روس اندراوس اکھ بادشاہت پرست۔ سواوس زورہ زبردستی لوکن بت پرست بناوان۔ امس پادشہس اوس ناودقیانوس۔ پتھ پاٹھ بعضی لوکھ ونان چھہ۔ اچھہ وفس اندر پوکینون نوجوانن ہندین دلن اندر تم حکومتہ کیکن لوکن سیت تعلق تھاوان آس یہ خیال پیدا کہہ آس کیاہہ کرون اگس مخلوقہ سندہ خیطرہ خالق کائنات ناراض۔ تھند دل اوس خدایہ سندہ خوف و خستہ سیت، تقواے یقینہ سیت پڑ۔ بیہ اوس دُسمت اللہ تعالیٰ ان تھن صبر واستقلالگ توکل۔ تبتلک توفیق۔ بیہ کمر اللہ تعالیٰ ان تھند دل مضبوط۔ تمو دوپ علی الاعلان سون رُب چھو آسمانن زمین ہند پروردگار۔ تس وراي انونہ آس ایمان بیہ کانہہ معبودس۔ پادشہس آو تہنرہ نوجوانی پیٹھ رحم۔ یاسپد تس ہن کینہہ مشاغل یا مصطحومانع تم کرن نہ شہید۔ تھن دژن غور کرنہ خیطرہ مہلت۔ تمو کورپانہ وان مشورہ۔ نوپتہ سپد متفق امہ شہرہ آندرہ نیرنس پیٹھ۔ تھ محفوظ جلیہ منز کھیت روزنس پیٹھ۔ تی چھو فرماوان اللہ تعالیٰ **إِذْ أَوَى الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ** سووقت تہ چھو قابل ذکریلہ نوجوانن ہنز جماعت آہ۔ اگس بیدین ظالم پادشہس لشہر تلت اگس گوچھہ گن پناہنہ خیطرہ۔ اللہ

اِتْمَانٍ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۱۰  
 فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۱۱  
 ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُمُ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِئُوا أَمَدًا ۱۲  
 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ  
 وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۱۳ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا  
 رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنُؤْتَا مِنْ دُونِهَا الْقُدُ

تعالیٰ اس موعظہ دعا فقالوا ربنا اتمان لذنك رحمة ای سامنے پروردگارہ اسے کر عطا پنے  
 طرفہ رحمتک سامان وھیی لانا من امرنا رشدا بیہ کرسانہ خیطرہ تیارسمہ سیت اس یتھ کامہ  
 اندرروزو کامیاب۔ یعنی اس گروہونہ مٹر کن تہ بے دین ہندس زالس اندر پھن۔ اس گروہو تہندہ شرہ  
 نغمہ محفوظ وزن فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا کس ژر بھن ژر بھن وژ اسہ  
 تہندین کن پیٹھ نندر پاونہ خیطرہ یعنی نندر پاوکھ اتھ گو پھہ اندر وار یکن ورسن۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُمُ لِنَعْلَمَ  
 أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِئُوا أَمَدًا تو پتہ واریاہ کال گروہت کل اسہ تم۔ نندرہ نغمہ کمر بیدار۔ یتھ  
 ظاہرہ پاٹ معلوم کمر وکہ تموز منزہ کوسہ جماعت چھ تہندس گو پھہ منز روز کس مدتس زیادہ یاد تھاوہ  
 ون۔ کیا زہ تموز اندرہ اس کہ جماعت دپان اس زود یتھ گو پھہ منز اکھ یا اوڈوہ۔ بیا کھ جماعت اس  
 دپان تہندس خدایسی چھو معلوم تو بہ کوتاہ کال گووہ یتھ گو پھہ منز روزان نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ  
 نَبَأَهُم بِالْحَقِّ اس کروہ بیان تو بہ تہند قصہ ہنر پاہہ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى تم  
 اس نوجوان ہنر اکھ جماعتھا۔ سمو ایمان اوس اومت پڑھ آسکھ کمر مشنہ نس پروردگار س۔ بیہ اس  
 اسہ تہن ہدایتس منز زیادتی کمر مژ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ بیہ اس اسہ تہند دل صبرہ سیت ثابت  
 قدی سیت مضبوط کمر مت اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یلہ تم دوتھ۔ تو پتہ  
 دو پھہ علی الاعلان رب سون چھو سوی کس آسمان تہ زمین ہنر رب چھو لَنُؤْتَا مِنْ دُونِهَا الْقُدُ

فَلَمَّا إِذَا اشْطَبَا ﴿۱۳﴾ هَوْلًا قَوْمَنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَوْ  
لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى  
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿۱۴﴾ وَإِذْ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ  
فَأَوَّالِيَ الْكَهْفِ يَنْشُرْكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ  
مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ﴿۱۵﴾ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوْرُوعًا

فَلَمَّا إِذَا اشْطَبَا یہ بھرنہ ہر گز آس کیا کروئیں اور ای بیہ کانسہ معبودہ سز پرستش تہ عبادت۔  
اگر آس تھوہ ہش کوم گروتھ صورتیں منزگرو آس سہو حرکتھاہ یوسہ پڑہ نش دور چھ ہَوْلًا قَوْمَنَا  
اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا یہ یس سون قوم چھو تمہو چھ معبود برحق تراوتھ بدل معبود مقرر  
کرم ت۔ یہ قوم تہ تھمد پادشاہ آس بت پرست لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ہم کونہ چھ اتھ  
بت پرستی پیٹھ پیش کران کانہہ دلیلہ۔ تھ پانچ موحدہ تھہ خدایہ سدس وحدانتیس تہ لاشریک آسٹس  
پیٹھ دلیل پیش کران فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَاذْ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ توحید ثابت روشن دیلو  
سیت چھو پس تہہ اکھاہ چھو یزو ظالم تس شخصہ سدہ خوتہ یس اپز نور اوہ کٹس خدایس پیٹھ شریک  
تھمرونہ سیت۔ توپتہ لگ پانہ وان ونہہ وَإِذْ أَعْرَضْنَا عَنْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ یلہ تہہ تمن کوکن  
نشہ الگ چھوہ اعتقادہ کن۔ بیہ چھوہ تھمدین معبودان باطلن نشہ تہ الگ پس پڑہ آسہ روزن جایہ اندر تہ  
تمن نشہ الگ تہ دور بیہ تھمدین معبودان باطلن نشہ فَأَوَّالِيَ الْكَهْفِ پس ایو فلان گو چھ منز  
روز دکھتھ لَوْ كُنْ نَشہ۔ محفوظ روزت گزور افغتہ سان معبود برحقہ سز عبادت يَنْشُرْكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ  
رَحْمَتِهِ وَيَهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا سو پروردگار کرہ نازل توہہ پیٹھ تمن ہڈر حمت۔ بیہ کرہ تیار  
تھمدہ خیطرہ ہمزہ کامہ ہمزہ کامیالی خیطرہ یوڈ سامان۔ سمہ خیطرہ سمو دعا کورمت اوس۔ امہ پتہ چھو  
اللہ تعالیٰ فرماوان تمہہ گو چھہ ہمزہ جایہ متعلق سہو گو چھہ تھہ موقس پیٹھ چھہ محفوظ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا  
طَلَعَتْ تَوْرُوعًا كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ بیہ وچھکھ ژہ ای مخاطب آفتاب یلہ کھسان چھو تا چھ

كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذْ غَرَبَتِ تَفْرُغُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ  
وَهُمْ فِي فُجُوعٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لِيَهْدِيَ اللَّهُ  
فَهُوَ  
الْمُهْتَدِيَ وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۝۱۷  
تَحْسِبُهُمْ آيِقَاتًا وَهُمْ رُقُودٌ ۖ وَنُقِلْتُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ  
ذَاتَ الشِّمَالِ ۖ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعَتْ  
عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا ۖ وَلَكُلِّتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۝۱۸

چھو بیوان تہنزہ گو پھر نعرہ ڈلھد دھجھہ طرفہ وَاذْ غَرَبَتِ تَفْرُغُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ بیہ یلہ آفتاب لو  
سان چھو تمہ ساتہ تہ چھو تراوان تمن کھو فرس طرفس کن تمہ ساتہ تہ چھو نہ گو پھر ہندس گلش پیٹھ  
تا پھر بیوان تہنہ تمن تا پگ تکلیف واتہ وَهُمْ فِي فُجُوعٍ مِّنْهُ تم اصحاب کھف چھہ گو پھر ہنزہ  
اکس کشادہ جایہ اندر۔ تمس تمن پورا چھو واتان ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ بیہ چھو خدایہ سند یوقدرتہ  
کیونشاؤ اندرہ بوڈرثانہ کہ بین اصحاب کھفن ہندہ تعدادہ کن کم آسجہ تہ مخالفن ہندہ زیادہ آسجہ باوجود  
لوب تمو ہدایت راہ راستس کن۔ اللہ تعالیٰ تھہ پاٹھ چھو پنہ نین برگزیدہ بندن ظاہری اسبابن خلاف  
ہمت واستقلال عطا کران۔ بس معلوم چھویہ مِّنْ يَّهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِيَ کس سو تھ ہاؤہ سو چھو لبان  
وتھ وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا بیہ بس سو گمراہ کرہ وتھ راورہ تسندہ خیلرہ بلہ  
ہن نہ ژہ کانہ مددگارہ بس تس وتھ ہاؤہ ہا وَتَحْسِبُهُمْ آيِقَاتًا وَهُمْ رُقُودٌ ای مخاطب ہر گاہ تمن پیٹھ  
نظر بیٹی ژہ کر کہ خیال کہ تم چھہ ہشیار۔ کیا ژہ تہنزہ اچھہ چھہ مڈراو تھ در حالتیکہ تم چھہ شوچھہ۔  
وَنُقِلْتُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ بیہ چھہ اس تمن کرہ پھرن دیوان دھجھہ طرفہ بیہ کھو  
فرہ طرفہ۔ تہنہ تمن بدس پیٹھ زینگ اثر سپدہ۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ بیہ چھو تھند  
ہون بس تمن پتہ پتہ تمن سیت درامت اوس بڑھہ زہ پنہ مڈراو تھ گو پھر ہندس گلش پیٹھ۔ یتر کور  
اللہ تعالیٰ ان تہندہ حفاظتک اکھ سبب۔ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا ۖ وَلَكُلِّتَ مِنْهُمْ رُعْبًا

وَكذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ط قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ  
 كَمْ لَبِثْتُمْ ط قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالُوا رَبُّكُمْ  
 أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ط فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ  
 إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ  
 مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝۱۹  
 إِنَّهُمْ إِنْ يَبْظَهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ

ای مخاطب ہر گاہ وہ نظر دیکھ تمہیں کُن ہوت پھیرک تھہ واپس ثلاث ثلاث۔ بیہ کیہ چون دل بر نہ تم  
 و جہت خوفہ سیت۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تھہ پاٹھ اسہ تمہن ندرپاؤ، زیتھ ندر۔  
 پنہ قدرتہ سیت تھہ پاٹھ کمر اسہ تم بیدار۔ وزہ ناواسہ تم زچھہ ندرہ نشہ تھہ تم پانہ وان اکھ اکس  
 پر ژھن گوپھہ منز کتیس کالس رُود تم قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ چنانچہ تموا ندرہ اک شخص وون  
 باقین کہ اسہ کوت کال گویتھہ گوپھہ اندر روزان۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ تمودوپ اکس  
 دوہس یا اڈس دوہس آسورودمت۔ توپتہ پچھہ نظر پنہ نین نمہن تزلان کُن تم وچھہ سٹھاہ زیتھمت۔  
 حیران گئے قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ دینہ لگ تہندس خدا کیسی چھو معلوم صحیح تھہ کتیس کالس  
 چھوہ تھہ گوپھہ منز رودمت۔ یہ اختلاف تراو۔ وون کمر وکھینہ چینک کانہہ انتظام فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ  
 بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا نہس سوزیون اکھ شخصہ تھہ شرس  
 کُن یہ روپے ہتھ۔ سو چھن کس شخص نشہ اسہ پاک وپاکیزہ رت حلال غذا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ  
 لْيَتَلَطَّفْ سُو شخص اکن شہرہ منزہ کینہہ کھینہ چیزاہ یہ ساری کوم کمرن سورتہ تدیرہ سان وَلَا  
 يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا بیہ تھنہ سُو شخص کانہہ اکس تھند نیب دیہ إِنَّهُمْ إِنْ يَبْظَهَرُوا عَلَيْكُمْ  
 يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْئِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا بیشک سمہہ شرک لوکھ تم چھہ  
 ہر گاہ تمہن پتہ لچہ تم مارن توہہہ کنو سیت۔ پتہ پھرہ نوہہ توہہہہ جبر اپنہ نس دیکس کُن۔ تھہ صور تہس

فِي مَلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذْ أَبَدْنَا ۝ وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا  
عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا  
رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا

منزیمہ کیونکہ تمہارے زانہ کا میاں سپہ تھہ وکذالک اعرنا علیہم یعنی پانچ کمر اسمہ پندرہ قدرت و حکمت  
سیت مطلع تھہ جس حاسل پیٹھ تمہہ زمانیک لوکھ۔ کیا زہ تمونزہ یلہ سواکھ شخص اسمہ شہرہ کس بازرس  
منزروت کھینہ چیز منول پندرہ خیطرہ۔ وانہ والس دکاندازس ذیت تم طعامک قیمت۔ سو آس دقیاوسی  
روپے۔ دقیاوس پادشہہ سندرہ وقتہ پیٹھ اوس واریاہ کال گوتم۔ واریاہ پادشاہ آس اتھہ وقس تان  
بدلیمت۔ سو دکاندرا گو جیران پر لہہ وقی روپے وچھت۔ تم ہڈ ڈھس ڈیہ کتہ پٹھ انموہیہ روپے۔ ڈیہ  
آسی گھرس منز خزانہ درامت۔ سو گو جیران یہ کیاہ چھومہ ونان۔ تم دوہس مہ چھہ اوترہ مال سندرہ گرہ  
پانس سیت خرچہ خیطرہ نموہ۔ یہ روپے۔ ڈیہ کیاہ چھومہ ونان۔ یہند یہ گنگلو یوز یولو کو۔ یکدم کنیہ  
ساری بازرس اچ خبر۔ واتان واتان واثریہ خبر پولیس تھاس تان۔ تمو کوریہ شخص گرفتار۔ ہڈ ڈھہ  
ہس مالس کیاہ چھوی ناو۔ تمس زانمانہ اسمہ وقتہ کیو لو کو اندرہ کانہ تہ۔ تو پتہ یلہ تمو سو سخت تک کور۔  
تم دوہچھ مہ نیو دقیاوس پادشہس نشہ تمس چھہ میانہ حاج خبر۔ تمس آس تقریباتہ ہتھ وری گامت  
موقس۔ لو کو ہس ٹھٹھ کرن۔ واتان واتان ووت یہ قصہ اسمہ وقتہ کس پادشہس نشہ۔ تس نشہ تہ وون ام

شخصن یوہے قصہ۔ پادشہن کمر جمع پن ساری اہل کار تہ تمہہ شہر ک رئیس لوکھ تم ساری ہتھہ آوسو اتھہ  
گو پھر نشہ۔ یتہ اسمد باقی رفیق آس۔ پادشہن کڈہ ناوسو ترامہ پٹ شاہی خزانہ منز ہتھہ پیٹھ تم سارنی  
ہند ناو آس مع ولدیت کھنہ آمت۔ سو ترامہ پٹ ان پانس سیت لیلعلمو ان وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا یعنی  
لوکھ زانن کہ ہنز پائ خدلیہ سندو عدہ چھو حق تہ پوز۔ بس تم مرنہ پتہ ہیہ زندہ سپد نس متعلق کورمت  
چھو وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا یہ یعنی لوکھ زانن کہ قیامتہ کس جس منز چھونہ کانہ شہکا اڈ  
یَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ یہ تھہ تہ چھہ قابل ذکر یلہ تمہہ وٹک لوکھ تھہ جس معاملس منز آس پانہ  
وان قضیہ تہ تنازعہ کران۔ بعضی آس ونان اسمہ گو پھہ ہند گول گرو بند یعنی بدن تمن اصحاب کہن ہند  
مفوظ روزن۔ تھہ جس یادگار س منز بناؤ واتھہ گو پھہ سیت اکھ مسجد ہتھہ منز لوکھ خدلیہ سنز عبادت

عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبَّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا  
 عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۚ سَيَقُولُونَ  
 ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ  
 رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَأْمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ  
 رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ

کران آن۔ یہ گوتی وقت ہی وقتے لوک آس مر نہ پتہ بیہ زندہ سپہ نہ کس مسئل منزا اختلاف کران۔  
 اللہ تعالیٰ ان کو راصحاب کہن ہند واقعہ سیت اتھ مسئل منزا فیصلہ۔ چنانچہ اکثر لوک کو اون قیاس ایمان  
 مر نہ پتہ بیہ۔ زندہ سپہ نس کمر کہ پڑھ فقَالَ الْاِبْنُو عَلِيْهِمْ بُنْيَانًا نَس دوپ لو کو کہ کھا رو تم ن پیٹھ  
 اکھ عمارتھاہ رَبَّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ نھند پروردگاری اوس زانان تھند حالات قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا  
 عَلٰی اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا بِالْاٰخِرِ تَم لو کہ پنہ نس خیال س پیٹھ غلبہ لبان آس تم گئے اہل  
 حکومت۔ تم آس امہ وقتہ دین حق س پیٹھ۔ تم کو راز ارادہ اُس بناؤ اتھ گو پھ متصل اکھ مسجد اہو سہ  
 مسجد۔ روزہ علامت سمہ کتھ ہند کہ تم لو کہ یعنی اصحاب کفہ جھہ آسمت خلدیہ سد بندہ خاص خدایس  
 عبادت کر ہون۔ تا ایکنہ حمن بناوہ کا نہ معبود سَيَقُولُوْنَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ  
 سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ سمہ وقتہ اصحاب کہن ہند قصہ اُس بیان گرو تمہ وقتہ ون لو کہ تھند س  
 تعداد س متعلق مختلف تھہ بعضی دین تم اصحاب کفہ آس ترہ نفر ژور تُم اوسکھ ہون بیہ ون بعضی  
 تم آس پانژھ نفر شیم اوسکھ ہون۔ مگر یمن دو شون جماعتن ہند ون جھو بے دلیل تہ بے تحقیق۔ یہ  
 گو نشانہ وچنے اہجھہ و تھ کتھ لائتہ وَيَقُولُوْنَ سَبْعَةٌ وَتَأْمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ بعضی جھہ ونان تم آس تھہ نفر  
 او ٹھیم اوسکھ ہون قُلْ رَبِّيْ اَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ نھہ فرماو بو کہ یارسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم میون پروردگاری جھو زیادہ زانان تھند س شمار س تعداد س۔ لو کو منزہ زان نہ تھند صحیح تعداد  
 مگر کمی کینہہ اشخاص۔ حضرت عبد اللہ بن عباس آس فرماوان بو تہ چھٹس تموا اشخاصو اندرہ اکھ شخص۔

الْأَمْرَاءَ ظَاهِرًا وَلَا سَتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿۲۱﴾  
 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿۲۲﴾ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ  
 اللَّهُ ۚ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَلَيَّ أَنْ يَهْدِيَنِي  
 رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشْدًا ﴿۲۳﴾ وَكَلِمَاتٍ فِي كَهْفِهِمْ  
 ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا ﴿۲۴﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

مہ چھو معلوم تم کتہہ نفر آس۔ تم آس ستھ نفر۔ او ٹھم او سٹھ ہون کیا زہ اتھ قولس فر مووندہ اللہ تعالیٰ ان رجما با لعیب فلا تمار فیہم الامراء ظاہرا پس مہ ہز کمر و بحث سمن اصحاب کہفن متعلق مگر سر سری پاٹھ۔ زیادہ مہ سبوت اتھ اندر وَلَا سَتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا بیہ مہ حض پر ژھو یمن اصحاب کہفن ہند کانہہ اگس لو کو آندرہ۔ بہندہ تعدادک تحقیق کرنس اندر تہ چھونہ کانہہ فاسیدہ۔ نہ کانہہ اہم مطلباہ۔ ایڑہن اتھ متعلق خداین بیان فر مووتیہ ہن چھہ کافی۔ مٹر کو ہڈ ژھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوڈون ہندہ تحریرہ سیت اصحاب کہفن ہند قصہ۔ تمو فر مووہ بچہ پگاہ و نووہ امیک جواب انشاء اللہ فر موو کہ نہ اتھ سیت کینہہ تہ۔ خیال کو رکھ کہ جبریل امین ایہ تس پر ژھو تمہ پتہ و تو یمن لو کن جواب جبریل امین اوس نہ یوان پانے پندہ خواہش۔ سو اوس یوان خدایہ سندھی کھمہ۔ امہ پتہ آونہ جبریل امین پند ہن دو ہن تان کینہہ۔ نبی کریم سپد سیٹھہ نمگین تہ پریشان۔ پندہہ ڈہہہ آو جبریل امین یہ آئیہ کریمہ ہتھ۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا \* إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ بیہ مہ حض آسوئہ چیزہ خیطرہ دنان بہ گرہ یہ کوم پگاہ۔ مگر آسو تھ سیت و نان انشاء اللہ۔ یو ژھ خدانن وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ بیہ یلہ توہمہ اتفاقا انشاء اللہ ہرن مشرت آسہ گڑھان تو پتہ آسہ کئیہ ساتہ ٹہہ یاد یوان کئی ساتہ گڑھہ تہند انشاء اللہ ہرن وَقُلْ عَلَيَّ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشْدًا بیہ ونو کہ مہ چھہ امید کہہ میون پروردگار باوہ مہ و تھ اصحاب کہفن ہندہ قصہ خونہ کئیہ نزدیک امرس کن کس نبوت دلیل ہندہ خیطرہ زیادہ مفید آسہ وین اوس بیا کہ مسئلہ کہہ تم اصحاب کہف کتیس کالس روواتھ



لَيْتُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرَيْهِ وَأَسْمِعْ مَا  
لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَرَائِي وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿۳۶﴾  
وَاقُلْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۚ

غارس اندر۔ تہ متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَلَيْتُوا فِي كُفْرِهِمْ تَلْكَ مِائَةِ سِنِينَ وَإِذَا دُؤِئْتُمْ بِهَا  
بِئْسَ يَتَّهَبُ بِهَا أَصْحَابُ كَهْفٍ مَبْدَسْ تَعْدَاوَسْ بِيْتِهْ لَوْ كُنْ اِخْتِلَافِ اَوْسْ بِتَّهْ بِأَهْلِهِ اَوْسْ لَوْ كُنْ اِخْتِلَافِ تَهْمَزْ ه  
كُوْجِهْ اِنْدَرْ نَنْدَرْ هَمْ دَسْ مَدَسْ اِنْدَرْ اَسْ جَهْ بِيَانْ كِرَانْ اَمْرْ وَاقْعِي سُوْ كُوَايْ كِهْ رُوْدِ اِصْحَابْ كَهْفِ اَتَّهْ  
كُوْجِهْ اِنْدَرْ شَوْجَتْ تَرِيْنِ دَرْ بَنَ۔ بِيَهْ ہرہ راوہس نووری سُو گو ترن ورہن نہ نون وِر بَنَ قُلْ اِنَّهُ  
اَعْلَمُوْ بِمَا لَيْتُوْا تَهْ فَرَاوِيْ كِهْ يَارَسُوْلُ اللّٰہِ صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی یَ جَهْ زِيَادَهْ اَبْ خَبْرُ اللّٰہِ تَعَالٰی  
اِسْ كُوْہِنَا پُوْرْ خَبْرْ اَسْ اِنْ لَهْ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ كِيَا زَهْ تَمَسْ جَهْ اَسْمَانْ وَزَمِيْنِ ہندین سارنی  
پُو شیدہ حالاتن ہند علم اَبْصِرَيْہِ وَاَسْمِعْ کُو تَاہْ زِيَادَهْ وِجْہْ وِنْ جَهْ وِنْ کُو تَاہْ زِيَادَهْ بُو زہ وِنْ جَهْ وِنْ۔  
سُبْحَانَ اللّٰہِ۔ کَانِہْ كَتَّہَا جَہَا تَسْ نَشْہْ كَهْمَتْ نہ پُو شیدہ۔ ہر گاہ کَانِہْ شَخْصَاہْ تَسْبِ دَسْ عِلْمْ مِجْلِسْ سِيْتِ مَعَارِضْ  
گِرْہِ سُو جَهْ مُسْتَحْنِ سَزَاوْ عَذَاب۔ سَزَاوْ نَلْہْ وَفْتِہِ جِہْ نہ کَانِہْ اَكْہَاہْ تَمْنِ كُنْہِ قِسْمِہْ مَدْ كَمْرْ تَهْ مَا لَهُمْ مِنْ  
دُوْنِہِ مِنْ قَلْبِي كَانِہْ اَكْہَاہْ جَهْ وِنْ تَمُو لُو كُو مَنزَہْ اَسْمَانْ وَزَمِيْنِہْ كِيُو مَخْلُو قُو مَنزَہْ تَسْ اَكْبَسْ مَعْبُوْدِ بَرْ حَقْسْ  
وَرَايْ اِخْتِيَارِہْ وُو لْ نہ کَانِہْ مَالِك۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِہِ اَحَدًا بِہِ جَهْ وِنْ سُو مَعْبُوْدِ بَرْ حَقْ سِيْتِ رِثَانِ ،  
شَرِيكْ تَهَاوَانْ كَانِہْ اَسْ نہ عَالِمْ عَلُو كِيُو مَخْلُو قُو اَنْدَرْہْ نہ عَالِمْ سَفْلِي كِيُو مَخْلُو قُو اَنْدَرْہْ۔ یعنی نہ کَانِہْ مَلِكِ  
مُقْرَبْس۔ نہ کَانِہْ نَبِيْ مُرْسَلْسْ پَنَ نَسْ كَمْسْ اِنْدَرْ شَرِيكْ رِثَانِ۔ لہذا تَتَّهَسْ جَلِيْلِ الْقَدْرِ عَالِيْشَانِ  
پَا دَشَمْسْ كُو تْہْ سَخْتْ كْہُو تْہُن۔ تہْمَزْہِ مَخَالَفْتِہْ نہ نَا فَرَا مَائِيْ نَشْہِ كُو تْہْہِ سِيْہَاہْ پِتْہِ رُو زَنْ وَاَقُلْ مَا اَوْحَى  
اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ تَهْمَزْہِ كُو مْ جَهْ صَرْفْ پِچْہِہْ كِهْ تْہْہِ پِئْرْ پُو پَنَ نَسْ پُرُوْرْدِ گَارَہْ سَزَسُوْ كِتَابِ  
يُوْسَہْ نَا زَلْ آيِہْ كَرْنِہْ تُوْبِہِ كُنْ بَطْرِيْقْ وُجِي۔ فِكرْمَہْ اَسُو كِرَانْ بَدِيْنِ بَدِيْنِ لَوْ كُنْ ہندس مَخَالَفْتْ كَرْنَسْ  
كُن۔ تَهْمَزْہِ مَخَالَفْتِہْ سِيْتِ مَاسِپْدِہْ دِپِچْہِ تَرْتِي كَرْنَسْ اِنْدَرْ کَانِہْ رُكُوْث۔ دِپِچْہِ تَرْتِي ہُنْدِ جَهْ وِنْ تُوْبِہِ سِيْتِ  
وَعَدِہْ كُوْرْمَتْ۔ لہذا رُو زُو تْہِہْ مُطْمَئِنِّ لِمُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِہِہْ كَانِہْ اَكْہَاہْ جَهْ وِنْ اَدَلِہْ بَدَلْ كَرِہْ وِنْ تَهْمَدِيْنِ كَمْحَمْنِ  
وَعَدَنْ۔ وُو لْ ہر گاہ تْہِہْ كَا فَرَنْ ہَنْزِ دَلْ جُو كِيُو كَمْرْ وِسْمِہْ سِيْتِ اِحْكَامِ اِلٰہِي مَتْرُو كْ سِپْدِ نَكْ اِمْكَانِ سِپْدِہْ تَلِہْ

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿۶۷﴾ وَأَصِدْرُ نَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ  
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ  
وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ  
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿۶۸﴾ وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ

جھو تہمدہ خیرہ معاملہ سیٹھاہ مشکل۔ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا تھہ صورتس اندر لبونہ تہہ  
کا نہہ چھین جایاہ پناج جایاہ تس وراہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند کافرنا ہنز دلجوئی احکام الہین  
مقابلہ کرن جھو شرعی دلیلوسیت محال۔ یہ آویان کرنہ صرف سمہ موکھ امیک اثر جھو امی قسمک  
وَأَصِدْرُ نَفْسِكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ تھہ پاٹ حکم آو  
کرنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافرنا سیت مہ تھاوو تعلق تھہ پاٹ آکھ حکم کرنہ  
مسلمان فقیرنا کن زیادہ التفات و توجہ کرنک۔ یہہ تھاوو ہنز زورہ ہن ذات مبارک تمنی لوکن سیت یم  
صبح وشام یعنی ہمیشہ پنہ نس پروردگارہ ہنز عبادت جھہ کران۔ یم ڈھانڈان تھندوی رضا چھہ وَلَا  
تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ یہہ مہ ڈلن تھند نظر مبارک تمن نشہ یعنی تم تھاولو کہ ہمیشہ زہر نظر۔ تُرِيدُ  
زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تھہ جھوہ دنیاچہ زندگی ہند زینت ڈھانڈان۔ توہہ پڑہ نہ نہ کرن وَلَا تُطِعْ مَنْ  
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا تھہ مہ حض مانو تمن لوکن ہنزہ تھہ۔ فقیر  
با ایمان الگ کرنس متعلق۔ یکن ہند دل آسہ بطور سزا چھہ غافل کرمت پنہ نہ ذکرہ نشہ پنہ یادہ نشہ سمہ  
سببہ تمودین حق قبول کورنہ۔ یہہ تم پنہ نین نفسہ چن خواہش ہنز پیروی کران چھہ۔ یہہ تمکن ہند حال  
اجتاع ہو اگر نس اندر حدہ خوتہ زیادہ سپرد مت جھو۔ یعنی نفسہ چہ خواہشہ ہنز پیروی کرنس اندر جھہ تم  
حدہ ڈلت۔ تہنز فی تھن شو بیان تھاون۔ بلکہ شو بن تم پانس نشہ دفع کرن وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ  
یہہ فرماو کہ تھہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمکن کافرنا صاف پاٹھہ یہہ دین حق جھو تھندس

وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا  
 أَحَاطَ بِهَمُّ سُرَادٍ قُهَا وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ  
 كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۲۹﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ  
 أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿۳۰﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ

پروردگارہ سیدہ طرفہ میں مہ توہمہ نش وائے نوو۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ وَوَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ وَوَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ وَوَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ  
 میں اکھاہ یشہہ سوکترن پڑھ۔ سو ان ایمان۔ میں اکھاہ یشہہ سو روزن کفر سی پیٹھ۔ اُسہ چھونہ تھ اندرنہ  
 کانہہ نفع نہ کانہہ نقصان۔ بلکہ ایمان نہ نفع چھو توہمہ پانس۔ ایمان نہ انہ نفع، کفر سی پیٹھ روزن نفع  
 نقصان نہ ضرورتہ چھو توہمہ پانس۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَمُّ سُرَادٍ قُهَا بیشک اُسہ  
 چھو ظالمین یعنی بے ایمان پڑھ نہ کرہ وین ہندہ خیطرہ سونا جہنم تیار تھوومت یمہ چہ لبہ نہ دیوار آرن  
 تمن کافرن پریتھ طرفہ احاطہ کثرت کانہہ و تھاہ آسہ نہ تمن ژلہ نس۔ وَإِنْ يَسْتَعِثُّوا يُغَاثُوا  
 بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بیہ ہر گاہ تم تریشہہ دوسہ موکھ فریادوزاری کرن۔ تمہن فریادری سپدہ  
 تمہہ آہ سیت میں سیاہ پلم ہیو آسہ۔ گرم آسہ تیوت میں دوری زالہ تھند بھہ۔ حدیث شریف منہ چھو  
 آمت کہ بھیک سوڑی والہ پیٹھ ہنرت تمہہ بہ سیت۔ بِئْسَ الشَّرَابُ کوتاہ پیٹھ نہ ناکارہ آسہ یہ  
 چنہ چیز (پناہ بخدا) تھندہ خیطرہ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا بیہ کاژاہ پیٹھ جای چھہ جہنم تھندہ روزنہ خیطرہ (الہی  
 نجات) یہ گو ایمان نہ انہ وین ہندہ ضررک حال۔ اُسہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان با ایمان ہندہ نفع نہ  
 فائدک حال إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ہنر پانہہ سمو  
 لو کو ایمان اون بیہ کر کیر رتہ عملہ۔ ہنر پانہہ اس گرونہ تمن لوکن ہنر مزور ضایع سم جان کوم نہ رتہ عمل  
 کرن أُولَئِكَ لَهُمْ جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ تمنی لوکن ہندہ خیطرہ چھہ ہمیشہ  
 روز تک باغ سمو منزہ کولہ نہ جوہی آسن پکان۔ يُكُونُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ تمنی جتن

تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُجَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ  
يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِينَ  
فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ۝۳۱ وَأَخْبِرْ  
لَهُمْ مَثَلًا لَرَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ  
وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝۳۲ كَلِمَاتٍ الْجَنَّتَيْنِ  
الَّتِي أَكَلَهَا وَلَمْ تَظَلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۝۳۳  
وَكَانَ لَهُ شَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا

اندر آسہ تمہیں لوکن زیور گنڈنہ یوان سونہ سندس کر و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق بیہ  
لاگن تم پوشاک سبز جامن ہند۔ نس زاولہ پائیک تہ و شہہ پائیک آسہ نہ نہ کہہ ون متکین فیہا  
علی الارایک تم جتن اندر آسن تکیہ دتھ پلنگ پیٹھ بہتھ۔ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا کیاہ  
زت ثوابہ چھویہ بیہ کیاہ ر ژمزوریہ ہتھہ بیہ۔ بیہ کاژاہ آرام و آسایشہ ہنز جای ہتھہ بیہ جنت وَاخْبِرْ  
لَهُمْ مَثَلًا لَرَجُلَيْنِ بیہ فرماؤ کہ تہہ پارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دُنیاچہ بے ثباتی تہ بے اعتباری تہ  
آخر تجہ باتی پانداری پیٹھ مثال دون شخص ہنز جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ  
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا اس شخص آس و تہمت آسہ زہ باغ دچھہ کلین ہند۔ سمن لہ لہ آس خضر کل۔  
منزہ اوُس زراعت تہ و دہنہ آمت کَلِمَاتٍ الْجَنَّتَيْنِ الَّتِي أَكَلَهَا وَلَمْ تَظَلِمْ مِنْهُ شَيْئًا دو شویے باغ  
آس دو ان میوہ ہن۔ سمن کلمی آس نہ کر ان بین باغن ہند پاتھ۔ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا بیہ آسہ  
آسہ یمن دو شونی باغن منز جاری گر مژہ کولہ وَكَانَ لَهُ شَمْرٌ بیہ آس تس شخص بیہ امہ وراہ تہ  
میوہ جات آمدنی ہند ذرا تہ۔ بیہ آس اولاد فرمگر فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ پس دون ام  
شخص پنہ نس رفیقس تھہ کر ان کر ان أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاعْتَرَفْنَا بوجھوس چانہ خونہ زیادہ مال و

اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفْرًا ﴿۳۷﴾ وَاَدْخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ  
ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ؕ قَالَ مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيدَ هَذِهِ اَبَدًا ﴿۳۸﴾  
وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَاَلَيْنُ رُدُّدْتُ اِلَى رَبِّي لِجِدَانِ  
خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿۳۹﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ

دولتہ کن۔ یہ چھوٹا سا چاہے خود زیادہ عزت و ول اولاد نہ ہو گہروں کو کر چا کر و کن۔ وہ چھوٹا کن  
نہیں طریق حق زانتہ خدا نہیں پسندیدہ آسک دعویٰ کران۔ میںس طریق حق چھوٹا باطل زانتہ  
خدا نہیں پسند زانتہ مگر نتیجہ چھوٹا تھہ برعکس سپدان۔ کیا زہ دشمن چھوٹا کانہہ نہ فائدہ نہ نفع و اتنا  
وان دوست چھوٹا کانہہ نہ نقصان و اتنا نادان۔ وَاَدْخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ تو پتہ ژاویہ  
شخص پتہ نس اتھہ باغس اندر سوزنیق سیت ہتھہ۔ در حالیکہ سواوس جرم یعنی گھر پانس پیٹھہ قائم  
تھاوتھہ یعنی شمر کس منز اوس مبتلا۔ کبر و غرور ک اوس نشہہ دماغس منز بین لوکن اوس حقیر زانتہ  
قَالَ مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيدَ هَذِهِ اَبَدًا دہنہ لوگ مہ چھوٹا باسان یہ باغ کیا گڑھہ برباد زانہہ میانہ  
زندگانی اندر۔ امہ اندرہ اوس تس غرض توحیدس پیٹھہ اعتراض کرن اہس رفیقس دوہن ژاویہ چھوٹھہ  
خالق عالم سندا قائل یہ چھوٹھہ و نان کہ سوزوی چھوٹھہ تش اٹھہ۔ مگر مہ چھوٹھہ گمان کہ طبعی اسبابن کیا ہیجہ  
کانہہ مغلل نہ بے کار کتر تھہ۔ مہ چھوٹھہ بوزنہ پوان ہتھہ میںس باغس ہتھہ کار خانس سمجھہ آبادی ہتھہ  
ساری سامانہ موجود چھہ کل نہ گلین ہند آب نہ موجود کوم کار کرن وال نہ ساری موجود خرچ  
اخراجات کرنہ خیرہ مال و دولت موجود مالکہ حفاظتہ خیرہ سامانہ موجود۔ دولے یہ برباد گڑھہ نہ تھہ  
پاٹھہ وَاَمْ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً یہ چھوٹھہ مہ خیال کہ قیامت کیا سپدہ قائم۔ اگر بفرض محال قیامت  
آیہ نہ وَاَلَيْنُ رُدُّدْتُ اِلَى رَبِّي لِجِدَانِ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا یہ ہر گاہ ہوا اتا و نہ امہ پتہ نس پروردگار س  
نشہہ بولہ ہتھہ سمہ خود بہتر جای۔ ام شخصن کتر ژورد دعویٰ۔ آکھ ای زہ گھر چھوٹھہ قابل مذمت۔ دو تم  
کوزن انکار توحید۔ تم کوزن انکار قیامت۔ ژور تم کوزن ہن پان خدایس نشہہ باعزت نہ محترم  
ثابت قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ سمہ تھہ بوز تھہ وون اہس ہن رفیقن اہس دیدار غریب اوس وَهُوَ يُحَاوِرُهُ

اَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ  
سَوَّكَ رَجُلًا ﴿۳۶﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿۳۷﴾  
وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ  
إِنْ تَرَىٰ أَنَا قُلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿۳۸﴾ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن  
يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ  
فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿۳۹﴾ أَوْ يُصِيبَهُ مَا أُغْوِرَ أَفْلُنَ تَسْتَطِيعَ

اَكْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا کیا تھی کہہ کر تھے تو حدیث سے  
قیاس انکار کرنے سمیت انکار پروردگار سے تم تھے پیدہ کوڑھ کوڑھ مہ نفع تو پتہ کوڑھ تھے پیدہ لطف  
منی ہمدس آئس۔ تو پتہ کوڑھ تھی تیار پورہ انسان۔ مرنہ پتہ بیہ زندہ سپنس انکار کرن گو خدایہ سندس  
قدرتس انکار کرن۔ تہمدس قدرتس انکار کرن گو وارہ تھس انکار کرن۔ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ  
بِرَبِّي أَحَدًا لکنا ہمیک اصل جھوکن انا یعنی بوئس جھوس بو جھوس اعتقاد تھا وان اقرار کران کہ سؤی  
جھو میون پروردگار۔ بو جھوس نہ پنے نس پروردگارس کانہہ اکھاہ شریک زانان وَّلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ  
جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تھی کونہ پر یو تھ پنے نس باغس اندر اثنہ وزہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ  
یرھہ تی بنہ۔ کانہہ جھونہ کمنہ چیزس پیٹھ طاقت سے قوت تہمدہ مددہ وراے۔ اللہ تعالیٰ ایس کاس باغ  
روزن یرھہ تیس کاس روزہ۔ اگر سو یرھہ سو سپدہ ویران سے بر باد۔ تہمدس یرھس مقابلہ چھہ ساری  
اسباب بیکار۔ تہمدہ مددہ وراے ہیچہ نہ کانہہ سبہہ کوم کتر تھہ اِن تَرَىٰ أَنَا قُلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ہر گاہ تھہ  
مہ وچھان چھکھ مالہ کن اولاد وکن کمی کانہہ غم جھونہ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ مہ  
جھو بوزن یوان کہ سؤ وقت جھو نزدیک یلہ میون پروردگار مہ عطا کرہ سوباغ نس بہتر آسہ چاہہ بانغہ  
خوتہ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا یہ سوزہ چانس باغس پیٹھ غیبی آفاہ۔  
آسماچہ طرفہ تہمدہ سمیت یہ چون باغ سپدہ صاف میدانہ ہیو۔ تہمدہ پیٹھ کھور آسن نیرت ثلان اُو

لَهُ طَلَبًا ۳۱) وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ فَاصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا  
 انْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي  
 لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۳۲) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۳۳) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ  
 لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۳۴) وَاضْرِبْ لَهُمْ  
 مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ

یُصِیْبُهُمْ مَاؤُهُمْ غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۳۱) بیہ گڑھے تین باغ ہند آب زمینس منز شر پتھ پس بیٹھکھ  
 نہ ژہ گنہ صورتس اندر زمینہ کڈت سؤ آب وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ ۳۱) چنانچہ امہ گفتگو پتے آیہ ولہ اس شخصہ  
 سندین میوہ باغن آسانی ناگمانی بلاے۔ آنا فنا منز گو یہ باغ تباہ و برباد فَاصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا  
 انْفَقَ فِيهَا سؤ نافرمان مغرور شخص لوگ افسوس کران کران گل پنن مورنہ۔ تھہ ماس نہ لاکس  
 پیٹھ ودنہ یوسہ اتھہ باغس پیٹھ خرچ کمر مژ آس۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۳۲) مگر اتھہ باغس اوس  
 امہ ساتہ وجہ واو آمت۔ سؤ اوس ڈو کھیوسان پتھر پیومت۔ دچھہ باغن چھہ ڈکھہ آسان وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي  
 لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۳۲) بیہ لوگ سؤ شخص و ندر ای کاش مہ نے آسہا پنہ نس پروردگارس کانہ نہ  
 شریک ٹھہر وومت۔ تمہس تور فخرہ یہ بلای آیہ کو ٹھس ٹھہرہ سببہ۔ یہ ندامت آس تس نقصان گڑھنہ  
 مٹو کھ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۳۳) یہ آس نہ تمہس کانہ جماعتہا  
 سم تمہس مدد کرہ ہن خدائس وراے۔ نہ ہیوک تم پانہ اسہ نشہ امیک بدلہ ہتھہ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ  
 الْحَقِّ ۳۳) ہتھہ کیاسپڈ ثابت کہ سوزوی اختیار چھو ہیزس خدائس اتھہ۔ ہتھس موقس پیٹھ مدد کرن تہ چھہ  
 تہنزی کوم هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۳۴) تہندوی ثواب اجر چھو سیٹھہا رت۔ تہندوی نتیجہ چھو ذنیاعس  
 منز سیٹھہا رت وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ۳۴) بیہ کمر و نہہ  
 بیان یار رسول اللہ کون دنیاچہ زندگی ہنژ مثال۔ سہو مثال گنیہ کیجہ کہ امہ کور آسمانچہ طرفہ باران رود

فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ  
الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ الْأَمْالُ وَالْ  
بَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ  
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿۳۶﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ  
تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝ ﴿۳۷﴾  
وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ

نازل۔ تمہ آج کہ ذریعہ کھوت زمینہ منزہ گھاسہ سر سبز فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ  
هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ کینہہ کالہ گڑھتھہ سڈ سوسر سبز گھاسہ خشک لُئس واوان اورہ یور ہتھ کروو۔ یوہے  
ہتھو حال رہتھک۔ از ہتھو تروتازہ بوزنہ یوان۔ کینہہ کالہ گڑھتھہ ہتھونہ تمیک نام و نشان تہ باقی روزان  
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا اللہ تعالیٰ ہتھو پر ہتھ چیزس پیٹھ پورہ قدر تہ وول الْأَمْالُ وَالْبَنُونَ  
زینۃ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مال تہ اولاد ہتھہ ذنیاء چہ زندگی ہند کہ زینتہ تہ نیتہ ناپائیدار تہ بے اعتبار  
وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا رتھ عملہ ہتھہ پائیدار ہمیشہ پوشہ ونہ  
چانس پروردگار س نشہ ثوابہ اعتبارہ۔ بیہ ہتھہ تھے بہتر امیداری ہتھہ اعتبارہ۔ حدیث شریفس منز ہتھو  
آمت فرمود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ واللاہ الا اللہ واللہ  
اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ بیہ کلمات ہرن ہتھہ باقیات الصالحات وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ  
تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً بیہ گڑھتھہ سودوہ یاد کرن سمدہ دوہنہ آس کوہ تہ بال پکنا دوکھہ۔ پنہ نیو جاو نشہ تلوکھ تہ  
ڈالوکھ توپتہ کروکھ ریزہ ریزہ۔ سمسٹر گروانس کوہن تہ لرین جاین۔ مکاناتن تہ باغن۔ و ہتھن تھ زمین  
ای و ہتھہ ونہ نوئی آتھ اندہ پیٹھ بیس اندس تان ہموار تہ برابر۔ نہ آسن کوہ تہ بال ہتھہ۔ نہ آسن لرہ تہ جلیہ  
عنہ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا بیہ کڈوکھ آس ساری لوکھ قبر و آندرہ توپتہ سمبر اودوکھ اس  
محشرہ کس میدانس اندر۔ تمواندرہ ہتھہ ڈون نہ کانہہ اکھاہ وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا بیہ بن ساری





أَمْرِي أَفْتَحِدُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ  
لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝ مَا أَشْهَدُ تَهُمْ خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ  
الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ  
زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ

سوتہ اوس دو ٹمٹ ملائکن ہندس در جس۔ تمی آوتیمس تہ ملائکن سیت سیدک حکم کرنہ مگر تم ڈیت نہ  
سجدہ کائن من الیون ففسق عن امر ربہ سواوس جنوا ندرہ بس در اوس نو پرنہ نس پروردگارہ سندہ  
حکمہ نعرہ عدول حکمی کمرن۔ یعنی سجدہ دئین نہ۔ سونیلہ وون بیٹھ شریر چھو اَفْتَحِدُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ  
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ اکی بنی آدمو، اکی انسانو توہمہ چھو نہ سوا ایلیس تہ تہمز ذُرِّيَّتِ بو معبود  
بر حق تراوتھ پن دوست زانان۔ حالانکہ سو چھو تہمہ سخت دشمن۔ کاژاہ چھہ شرمہ ہنز تھ کہ سونہمہ  
دشمن تہمہ س بابہ صیب حضرت آدم علیہ السلامہ سند دشمن سونہمہ تہمہ زانان دوست پن بو تہمہ  
مہربان دوست آتھ میان چھوہ کران نافرمانی۔ حیف صد حیف تہمزہ عقلہ پیٹھ۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا  
یہ ایلیس تہ تہمز ذریت دوست ہناون چھو ظالمین ہندہ خیطرہ سیٹھاہ بچھ بدل۔ دوست گروہوس زانن تہ  
رئن بو۔ تھہ بدل چھوہ دوست رنان شیطانس۔ بس تہمہ دشمن قوی چھو۔ مَا أَشْهَدُ تَهُمْ  
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ مہ چھہ ہم شیطان سیت رٹت آسمان وزمین پیدہ  
کر نکہ وقتہ۔ ہیہ تھم نہ سیت رٹت تمہ ساتہ تمہ ساتہ تم مہ پیدہ کمر۔ تمن کیاہ پر تھہ ہابو کہ تھہ پاٹھ  
کرہ بو آسمان تہ زمین پیدہ۔ یا تھہ پاٹھ کروہ بو تہمہ پیدہ۔ یا پر تھہ بھک کہ یہ کورہ مہ جائے کئہ جلیہ  
ما چھوس ہیور بون گو مت وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا بو اوس نہ تمہ قسمک ناقص  
قدر نس اندر بو کیاہ رٹہ ہک گراہ کرہ وون میان بدن پن مددگار یا بو کیاہ ہیہہ ہا تمن نعرہ کانہ مشورہ  
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ سُدُوہ تہ چھو یاد کرہ نس

مُوبِقًا ﴿۵۲﴾ وَرَأَى الْجُرْمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَ  
لَمْ يَحِيدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿۵۳﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ  
لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرِ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿۵۴﴾  
وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا  
رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ  
الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿۵۵﴾ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ

الایق سیمہ دوہے اللہ تعالیٰ فرماوہ مُغرکن تلا آلودیو پنہ مددہ خیطرہ تمین معبودان باطلن سم میان  
شریک آسوکہ زانان۔ توپتہ دلکھ آلو۔ تورہ ونہ نکھ نہ تم کا نہ جو اب سمہ سیت تم مایوس سدن  
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا بیه گرو اس تمین منز ٹھورہ اکھ نارہ خند قاہ ٹس سخت مہلیک آسہ  
وَرَأَى الْجُرْمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا بیه وچھن نا فرمان نار جھنم یقین کرن کہ تم جھہ وانہ ون  
اتھ نارس منز و لَمْ يَحِيدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا بیه لہن نہ تمہہ نشہ چھ کا نہ وتھہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا  
الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ پزپاٹ بیه کور آسہ متھ قرآن مجیدس منز بیان لوکن ہندہ ہدایت  
خیطرہ پریتھ کتہ قسمک مضامین وارہیو طریقو وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرِ شَيْءٍ جَدَلًا مگر باوجود آس جھو  
انسان ساروی خوتہ ہر تہ قضیہ تہ تنازعہ کرہ ون وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ  
وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ بیه رٹ نہ لوکھ کتہ چیزن پتھ ایمان انہہ نشہ۔ بیه پنہ ٹس پروردگارس مغفرت معنہ  
نشہ۔ تمین نشہ ہدایت وانہہ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا مگر تہ  
چیزن کہہ تمین پیٹھ تہ کیاہ کڈرہ سہوی حال ٹس برو ٹھمن نا فرمانن پیٹھ کڈرہ یومت اوس یا ولتہ تمین عذاب  
تھمن برو ٹھمن وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ بیه جھکنہ آس سوزان حضرت انبیاء و  
مرسلین مگر با ایمانن فرمانبردارن بشارت ونہہ خیطرہ۔ بیه کافر نا فرمانن عذابگ نیم کرنہ خیطرہ۔ تمہہ  
ثبوتہ خیطرہ جھہ آس تمین کافی دلیلہ عطا کران۔ تمودلیو خوتہ زیادہ جھہ تمین نشہ تم فرمایشی معجزہ

وَمُنذِرِينَ وَيَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا  
 بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آلِيَّتِي وَمَا أُنذِرُوا هَزُورًا ۝ وَمَنْ  
 أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ  
 يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي  
 آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا  
 إِذْ أَبَدْنَا ۝ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا

ترہانڈان۔ تہ چھو لغو تہ بیکار و مجادل الذین کفروا بالباطل لیُدحیضوا بہ الحق بیہ چھہ کافر اہزہ  
 کتھ پیش کمر کمر ہر تہ قضیہ لاگان۔ بٹھ پنہ خیالہ ہزس مغلوب کرن۔ تہ ہنہ نہ۔ پوزہ چھو ہمیشہ غالب۔ سو  
 سپدہ نہ مغلوب زانہ تہ واتخذوا الیٹی وما انذروا ہزورا بیہ چھہ تھو سان آیات بیہ سمہ عذابک نیم  
 آو تین کرنہ روئمت تہ زوئمت اکھ ٹھٹھاہ تہ مخزگیا وَمَنْ اظلم مِمَّنْ ذُکِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا  
 بیہ کبہ اکھاہ چھو زیادہ ظالم تس شخصہ سدہ خو تہ بس خدایہ سند یو آیاتوسیت فصیحت کرنہ آہ۔ تو پتہ پھیر  
 تم تمو آیاتونشرہ بٹھ و نسی ما قدمت یداہ بیہ مشراون تم گناہ تم تم پنہ نیو اٹھو بروٹھ گن سو زومت  
 چھہ۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ہز پات اسہ چھہ تراومت  
 تھندین دلن پیٹھ پردہ۔ بٹھ نہ تم خدایہ سند آیات فخرہ تزن۔ بیہ چھوک تراومت کنن دوگہ تہ زرتی  
 سببہ چھو تھند حال کہ و ان تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذْ أَبَدْنَا ہر گاہ تہہ تمین دعوت دیو  
 ہدایتس گن تم لین نہ ہدایت زانہ تہ۔ لہذا کیا زہ چھوہ تہہ ہر ان امیک غم۔ تمین چھو تاخیر عذابہ سیت  
 خیال گڑھان کہ شاید تمین آسہ عذاب کینہہ۔ مگر تاخیر عذابک وجہ چھوکہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ  
 تھند پروردگار چھو سیدھاہ مغفرت کرہ ون رحمتہ وول۔ بس چھو سو تمین مہلت دوان سمہ کتھہ موکھ کہ  
 شاید تمون مزہ ماسپدہ کانہہ مسلمان۔ تس کرہ اللہ تعالیٰ مغفرت تہ گٹھن گڈران لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا  
 کسبو العجل لھم العذاب ہر گاہ سو تمین تھنر و بچھ عملو سببہ گرفتار کرن یڑھہ ہاتلہ کرہ ہا تمین پیٹھ

كَسَبُوا الْعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدًا لَنْ يَجِدُوا  
 مِنْ دُونِهِ مَوْيلًا ۝ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْتُمْ لَمَّا ظَلَمْتُمْ وَأَجْعَلْنَا  
 لِبَهْلِكُمْ مَوْعِدًا ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لَئِن لَّمْ يَآتِ بِآيَاتٍ

جلد عذاب نازل بل لہم موعدا لَنْ یجدوا من دُونِہ مویلا مگر تم جھو تہندہ عذابہ خیرہ اکھ وقاہ مقرر کورمٹ سمہ نشہ نہ تم ہرگز کانہ چھین جایاہ لکن۔ یو ہے قاعدہ آواستمال کرنہ بروٹھین کافرین تہ نافرمان سیت تہ چنانچہ **وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْتُمْ لَمَّا ظَلَمْتُمْ وَأَجْعَلْنَا لِبَهْلِكُمْ مَوْعِدًا** سمہ بستی تم ہند قصہ معروف و مشہور چھہ۔ یعنی قوم عادتہ نمودو غیرہ یلہ تمو ظلم کور نافرمانی کمر اسمہ اوس تہندہ ہلاک کرنہ خیرہ وقاہ مقرر کورمٹ سو وقت دو سٹھ گئے ہلاک۔ تھہ پانھ چھو اسمہ تم از کین کافرین تہ تہندین دشمن ہندہ خیرہ وقت مقرر کورمٹ۔ سو وقت یلہ واتھہ تم تہ گدھن ہلاک تہ برباد۔ بروٹھ آویان کرنہ کہ کافرین ہند فقیر مسلمان سیت شریک تعلیم عار زان چھو سیٹھہ تھہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان موسیٰ علیہ السلام قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود جلالت قدر تمو کرنہ کانہ عار خضر علیہ السلامس تم تمن نغمہ بون مرتبس تہ در جس منز آس تمن نشہ علم حاصل کرنس اندر۔ تمیک وجہ سپد ای کہ کہ دوہہ پور حضرت موسیٰ علیہ السلام و عظ بنی اسرائیل ہندس جماعتس منز۔ تھہ مجلسہ اندر ہڈ تھہ اک شخص تمن کہ از کہ وقتہ کین لوکن اندر تھہ حض شخص چھو ساروی خوتہ بوڈ عالم۔ تمو فرمودہ تھہ بوچھوس ساروی خوتہ بوڈ عالم۔ اگرچہ یہ اوس بالکل صحیح لیکن اللہ تعالیٰ ان یثہ یمن کلام کرنس اندر احتیاط کورچ تعلیم کرن اللہ تعالیٰ ان فرمود تمن ای موسیٰ یہ تھہ پانھ و نوہ توہہ۔ حالانکہ جمع البحرین یتیس زہ دریایانہ وان رلان چھہ متصل چھوسون اکھ بندہ۔ یس بعض چیزن اندر تہندہ خوتہ زیادہ عالم چھو۔ تمن سپد تہندہ ملاقاتک شوق تھہ متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ** سو وقت پاوڈ تھیں یلہ موسیٰ علیہ السلام دوپ پنہ نس خادمس یوشع ابن نونس (سم آس ابتداءس اندر حضرت موسیٰ سد خادم پتہ سپد پیغمبر) یلہ تمن حضرت خضرس سیت ملاقات کرنہ گدھن اوس اللہ تعالیٰ اس ہڈ تھہ تمو خدا یا تمن نشہ واتھ کیاہ صورت چھہ ارشاد سپد کہ اکہ بزت گاڈہ ہاتلو سیت تھہ توپتہ نیر و سفرس۔ تھہ جلیہ سو گاڈ زندہ گدھت لوکرہ منز راوہ تھہ جلیہ لیون تھہ سو

أَبْلَغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضَى حُقُبًا ﴿٦﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ  
 بَيْنَهُمَا نِسْيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٧﴾ فَلَمَّا  
 جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقْدُلِقِينِي مِمَّنْ سَفَرْنَا هَذَا نَصَبًا ﴿٨﴾  
 قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَ  
 مَا أَنسِينِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي

صاحب لکھنؤی اَبْلَغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضَى حُقُبًا یوروز نہ توتان پتھ یوتان نہ ہو واتے مجمع  
 البحرینس۔ اده پے تن مہ وریمن وریمن سفر کرن      فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نِسْيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ  
 سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا کس یلہ پکان پکان وات تم مجمع البحرینس یتے نس زہ دریایانہ وان رلان تہ میلان  
 آس توتس واتتھ رُود تم کس کنہ پلس سیت ڈوکھ دتھ تھکھ دتھ۔ تھہ حالس اندر پیہ تم نندر سو گاڈ  
 سپز ٹوکرہ اندر بحکم خدایہ زندہ تو پتہ وژھ سو دریاس اندر۔ یوشخ علیہ السلام یلہ بیدار سپداتہ  
 وچھکھ نہ ٹوکرہ اندر گاڈاہ کینہ تہ۔ ارادہ کورکھ یلہ حضرت موسیٰ تہ بیدار سپدن تمی ساتہ کرہ بوتمن  
 نیشہ یہ واقعہ بیان۔ مگر یمن روزنہ مُطلق نہ تھہ ذہنہ اندری۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان تم ن دوشون گئیہ  
 گاڈہ متعلق تھہ باتھ کرن مشیت۔ کس ہتھو تمہہ گاڈہ پن و تھہ دریاس منزگیہ اکھ سرونگاہ تہ گوچہا کس  
 گاڈہ ہندہ پتھہ سیتِ فَلَمَّا جَاوَزَا سم زہ صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیہ حضرت یوشخ علیہ  
 السلام یلہ امہ جایہ نیشہ برو تھکن پک بوچھہ لکھہ۔      قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقْدُلِقِينِي مِمَّنْ سَفَرْنَا هَذَا  
 نَصَبًا موسیٰ علیہ السلام فر موخاد مس پتہ نس کمر و پیش کون سون کھینہ خیطرہ۔ اسہ تل تکلیف تھہ  
 سفرس اندر۔ سمہ برو تھہ دہن منز لن پتھہ سیت و اژونہ اسہ کانہہ تکلیفہ      قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى  
 الصَّخْرَةِ وَنَسِيتُ الْحُوتَ تھہ جہ کنہ تل و اژاے یتہ نس تھک کڈنہ روزاے فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَ مَا  
 أَنسِينِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ بیتک مہ گو مشیت گاڈہ ہند قصہ توہہ نیشہ بیان کرن۔ تہ مشروونہ مہ مگر  
 شیطان۔ مہ آونہ ذہنہ اندری سو معاملہ پیش کرن وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ جَبَابًا تھہ گاڈہ یوسہ

**الْبَحْرَةَ عَجَبًا ۷۳ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۗ فَارْتَدَّ عَلَيَّ اثَارِهِمَا**  
**قَصَصًا ۷۴ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا**  
**وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّن لَّدُنَّا عِلْمًا ۷۵ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ**  
**أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُسُدًا ۷۶ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ**  
**مَعِيَ صَبْرًا ۷۷ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۷۸**  
**قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۷۹**

اسے بڑھ آس تھا و مژ لو کرہ اندر کا جس کھینہ خیطرہ سنو گئیہ زندہ تو پتہ تہن دو ٹھہریہ ہنون و تھہ دریاوس  
 مں عجیب طریقہ۔ دریاوک آب رُود معلق تھہ گئیہ گو چھاہ ہش زیتھہ **قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ** موسیٰ علیہ  
 السلام فر مووتی اوس تہ یہ آس ژھا نڈان آس۔ ژیہ کونہ و نیو تھہ تھہ جاہیہ یہ قصہ **فَارْتَدَّ عَلَيَّ**  
**الْاَثَارِهِمَا قَصَصًا** نھس پھیر تم اتی پیٹھہ واپس پنہ نیو کھورن ہندیونشا نو موجب۔ واتان واتان وات  
 تم ہیہ تھہ گئیہ کھٹل۔ تھہ سیت ڈوکھ و تھہ تمن مندر پیمو آس **فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً**  
**مِّنْ عِنْدِنَا** پس لوب تمو سانو بندو آندره اکھ بندہ یعنی ملاقات کو رکھ حضرت خضر سیت نھس  
 اسہ عطا کر مژ آس پن بڈ رحمت نبوت یا ولایت **وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّن لَّدُنَّا عِلْمًا** ہیہ اوس اسہ سو خضر علیہ  
 السلام پنکھو و مت پنہ طرفہ اکھ خاص علاہ۔ موسیٰ علیہ السلام اوس زانان علم اسرار الہیہ **قَالَ لَهُ مُوسَىٰ**  
**هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُسُدًا** موسیٰ علیہ السلام ڈوپ تمن کیا حض بو پکا توہہ سیت  
 سیت تھہ شر طس پیٹھہ کہ تھہہ کیا پنکھنا و دومہ تمہہ علمہ منزہ کینہہ نھس مفید علم تھہہ پنکھناونہ آمت ہضوہہ **قَالَ**  
**إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا** خضر علیہ السلام دو پکھ تھہہ نہ حض ہیہ کونہ مہ سیت روزس پیٹھہ  
 صبر کر تھہ **وَكَيفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا** ہیہ تھہ پاٹھہ ہیہ کونہہ تھہ تھہ پیٹھہ صبر کر تھہ تھہہ  
 توہہ احاطہ کورمت آسوہ پنہہ علمہ سیت۔ یعنی یوسہ تھہ نہ توہہ معلوم آسہ **قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ**  
**صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا** موسیٰ علیہ السلام دو پکھ یو ژھے خدا نھن تھہہ لیبو مہ صبر و ضبط کر و ن۔ ہیہ





نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثَكْرًا ﴿۴۶﴾  
 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿۴۷﴾  
 قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي قَدْ بَلَغْتَ  
 مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿۴۸﴾ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيْتُمُوهَا فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهَا  
 جَمِيعًا ۗ وَانصَبُوا لَهَا وَأَخَذُوا مِنْهُمَا مِمَّا رَزَقُوا مِنْ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ  
 يَبْقَىٰ فَاقَامَهُ ﴿۴۹﴾ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿۵۰﴾ قَالَ  
 هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ

توہمہ موروثہ اکھ مہسوم تہ بے گناہ شخصہ تہہ کانہہ جرم کرنہ درای۔ کانہہ ہند خون کرنہ درای۔ یہ تہ  
 کردہ توہمہ اکھ عجیب کوماہ تہ بے جا حرکتہاہ **قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا**  
 حضرت خضر علیہ السلام دوپکھ مہ دنیوہ ناتوہمہ تہہ ہیکونہ مہ سیت پکھ نس پیٹھ صبر کمر تہہ۔ **قَالَ إِنْ**  
**سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي** حضرت موسیٰ ان دوپکھ ادہ حض دون ہر گاہ بو توہمہ بیہ  
 پر ژھوودہ تہہ چیز ک تمہہ پتہ مہ رنو تہہ مہ پانس سیت **قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا** واقعی تہہ جھوپانس  
 سیت رنہ نس منز میون یہ دن کافی عذر **فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيْتُمُوهَا فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهَا جَمِيعًا**  
**وَانصَبُوا لَهَا وَأَخَذُوا مِنْهُمَا مِمَّا رَزَقُوا مِنْ رَبِّهِمْ** تہہ تالینکہ وات تم اس گامس منز۔ یہ کین لوکن مہج تمو ضیانت  
 مہمان نوازی مگر تمو لو کو کر تمین مہمان نوازی کرنہ نشہ انکار نہس رُود تم رات راتس فائے۔ صبحس یلہ  
 درالے تم امہ گامہ منزہ **فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ** نہس وچہہ تمو اتھ گامس منز  
 دو سواہ اکھ دیوارہ اکھ ہول گومت۔ تیار اوس نہیں۔ خضر علیہ السلام لوگ تھہ دیوارس اتھ۔ سہ دیوار  
 کورکھ سیود روحانی طاقتہ سیت **قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا** موسیٰ ان دوپکھ کیا حض اکھ کمر نہ  
 سموسان مہمان نوازی۔ بیہ کورکھ تہہ مٹتے ہول گومت دیوار سیود۔ ہر گاہ تہہ انج اجرت تہہ مُرور

صَبْرًا ۱۰۰) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ  
فَآرَدْتُ أَنْ أَعِيدَهَا وَكَانَ وَرَاءَ هُمْ لِكُلِّ سَفِينَةٍ  
غَصْبًا ۱۰۱) وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُمُ الْمُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا  
طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۱۰۲) فَآرَدْنَا أَنْ نُيَبِّدَ لَهُمَا رِبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً  
وَأَقْرَبَ رَحْمًا ۱۰۳) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي

وضول کرم ہوئے اوس بہتر قَالَ هَذَا فِرَاقِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ خضر علیہ السلام دونوں کے ساتھ بس دونوں جگہ تھے  
تھے پیٹھ پر منزرتوہ منزجدائی ہند فیصلہ۔ سَأَلْنِيكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا دون کرہ بو توہ  
خبر تمن کھن ہندہ حق یعنی پیٹھ توہ صبرتہ تاب ہو کو نہ کمر تھ۔ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ  
يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَآرَدْتُ أَنْ أَعِيدَهَا دون یوسہ ناو آس سو آس کیوں غریبن مسکین ہنز تم ساتھ  
دریاوس منز پن منزور محنت کمر تھ گزارہ کران آس۔ مہ کور ارادہ تمن فائدہ واتا ونہ خیرہ تهنز  
ناو عیب دار کرین۔ وَكَانَ وَرَاءَ هُمْ لِكُلِّ سَفِينَةٍ غَصْبًا کیا زہ تمن اپار کن اوس اکھ ظالم  
پادشا اکھ بس پر تھ ارہ ناوہ (بے عیب) اوس جبراً قبضہ کران۔ یا ہانزن (سلا حن) بیگارہ نوان۔ مہ  
کر تهنز ناو عیب دار۔ تھ تم تھدہ ظلمہ نثر نجات لبس وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُمُ الْمُؤْمِنِينَ دون بس  
لوٹت اوس تمسید مول مون آس با ایمان۔ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا بس کھو ژا اس سہ گدھہ  
نہ تمن پیٹھ کران سختی تہ سر کشی کمرہ سیت تمن گدھہ نہ سہ سبب بن ایمانگ سلب کر تک فَآرَدْنَا أَنْ  
يُيَبِّدَ لَهُمَا رِبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا بس یژہ اسہ یے تھ کہ تھد پروردگار دیہ تمن بس  
لوٹس بدل تھدہ خوتہ بہتر تہ رت فرزند پاکیزگی اندر دیہ زیادہ نزدیک شفقت و محبتس اندر۔ دپان چھ  
امہ پتہ کمر اللہ تعالیٰ ان تمن دون باژن کور عطا۔ بس کورہ کچل آؤ کر نہ اکس پیغمبرس سیت۔ تو پتہ بس  
فرزند زاؤ تمن سو تہ اوس پیغمبرے۔ بس باعصہ ہدایت بیو و بدس اکس تو مس وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ  
لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ دون بس دیوار اوس سہ اوس شہرہ کین دون تیمن ہند وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ

الْمَدِينَةَ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۸۳ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنهٗ ذِكْرًا ۝۸۴ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝۸۵ فَاتَّبَعِ سَبِيلَهُ ۝۸۶ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَرْجُبُ فِي عَيْنٍ

لَهُمَا تھہ دیوارس تل اوس خزانہ یمن دون لوکین ہند وکان ابوہما صالحا بیہ اوس یمن دون لوکین ہند مول موج صالح تہ نیک۔ تم ہندہ نیک آسجہ سببہ تھا واللہ تعالیٰ ان تمکن دون لوکین تابالغن ہند مال محفوظ۔ ہر گاہ دیوار دستھ پیہ ہاتھ تھندس مالس سپدہ ہالوٹ۔ سوگوشہ ہاضیح فاراد دتک ان یتبلغا اشدهما ویستخرجا کنزہما رحمة من ربک تمس یوزھہ چان پروردگارن تم گوشہن واتن پنہ نس بالغ سپدس توپتہ کڈن تم پائے پن خزانہ۔ یہ آس چانس پروردگارہ سز کمال رحمت تھندہ حقہ۔ وما فعلتہ عن امری بیہ کرم نہ مہ تم چیز پائے بلکہ کرم خدایہ سندی حکمہ۔ ذلک تاویل ما لم تسطع علیہ صبرا بیہ کیاہ چھہ اصل حقیقت تمکن کھن ہنز تمکن پیٹھ توہہ تاب تہ صبر بیگوہ نہ کربت ویسألونک عن ذی القرنین بیہ چھہ لوکھ پرژھان توہہ یار رسول اللہ ذوالقرنینہ سُد حال قُل سأتلوا علیکم منہ ذکرا تہہ فرما دیو کہ یو کرہ بیان توہہ عنقریب تھند حال۔ سہ ذوالقرنین اوس اکھ پادشا جلیل القدر اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ پز پٹا اسہ کر عطا تمکن تمام روی زبج سلطنت بادشہت وَاَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا بیہ کراسہ تمکن پر پتھ کتہ قسمگ سامان عطا۔ ستمہ سیت تم پنہ نین شای ارادن تہ عزامن پورہ ہیکان آس کترتھ فَاتَّبَعِ سَبَبًا تمس زود تم تمکن سامان تہ ذوالقرنین پتہ ستموسیت تم واتھہ بیجہ ہن آفتاب غروب سپد نچہ جایہ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَرْجُبُ فِي عَيْنٍ حَسِئَةً تالیکہ یلہ وات تم آفتاب لوتچہ جایہ وچھن سہ آفتاب لوسان اکس کر ہنہ رتہ ہندس ناگس اندر

حِصَّةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ  
تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ۗ قَالَ إِمَّا مِنْ ظَلَمٍ  
فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا ۗ وَإِمَّا مِنْ  
أَمْنٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا  
يُسْرًا ۗ ثُمَّ اتَّبَعَهُ سَبْيًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ  
عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۗ كَذٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا یہ دیکھتا ہے کہ قوما کا فرن ہند قُلْنَا يَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ  
تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اسے فرموتین اے ذوالقرنین۔ اختیار چھوٹی تہ سائے طرف خوش کری تم ساری  
کر عذاب۔ تم ساری مازکھ یکدم۔ ہر گے خوش کری تم پیٹھ تھا واحسان یعنی یمن کر دین ٹھک  
تبلغ۔ ادا ہے تمواندرہ اسلام قبول کرہ سوتراون۔ تہ مہ واتاؤنہ قسمہ تکلیف۔ تہس تمواندرہ انکار  
کرہ سوزن ہلاک۔ چنانچہ تموکتر دویم گئے اختیار قَالَ إِمَّا مِنْ ظَلَمٍ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ  
فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثَكْرًا چنانچہ تموکور اعلان کہ تہس اکھاہ ظلم گرہ گھر تہ انکارہ سیت۔ تہس گزواس ضرور  
عذاب یعنی تہ کروں قتل اس۔ تو پتہ ایہ سوتوانہ پندہ تہس ہر وردگار س نشہ تہ کر تہس تہ سوعذاب تہس  
نہ تم و جھموی آسہ۔ وَتَمَّ وَجْهُهُمُ آسَہ۔ وَتَمَّ وَجْهُهُمُ آسَہ۔ وَتَمَّ وَجْهُهُمُ آسَہ۔ وَتَمَّ وَجْهُهُمُ آسَہ۔ وَتَمَّ وَجْهُهُمُ آسَہ۔  
ایمان آسہ تہ رتہ عملہ کرہ تسدہ خیطرہ پتہ آخر تہس منزرتمزور۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا یہ  
وَنَوَاسِ تہ ذنیاع اس اندرہن سسل تہ آسان احکام تہ اتبع سببًا تو پتہ ہیوت سلطان سجد رن سز تہ  
سامانہ کرن مشرقس کن گھوہنہ خیطرہ تا اینکه مشرٹک شہرتہ کرن فتح حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ  
وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا تا اینکه یلہ ووت سوت آفتاب کھسہ چہ جایہ و جھن  
سوتکھسان اس قومس پیٹھ یعنی تہہ جایہ و جھن اکھ قوماہ آباد۔ اوس نہ کورمت آسہ تہن آفتاب نشہ کانہہ  
تھورہ۔ یعنی تم لوکھ آس نہ لرین تہ جاسن یا تھمن منزروزان۔ بلکہ آس تم نم تہ سی تا تہس منزروزت

بِمَالِدِيهِ خُبْرًا ۱۱ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيًّا ۱۲ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ  
وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لِيَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۱۳ قَالُوا يَا  
الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ  
نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۱۴ قَالَ مَا  
مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
رَدْمًا ۱۵ اتُّوتُنِي زُبْرًا الْحَدِيدَ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ

زندگی بسر کران۔ لباسہ تہ پوشاکہ وراى کذلک اتھ جايہ تہ کور سلطان سکندر ن سؤى معاملہ نيس  
مغربس منز کر يون وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالِدِيهِ خُبْرًا ہنز پاٹھ اسہ اوس احاطہ کورمت تھہ ساری سہ نس  
حاصل سدمت اوس اتھ سفرس اندر پنے علمہ سیت ثُمَّ اتَّبَعَ سَبِيًّا تويپتہ ہیوت سلطان سکندر ن سز تہ  
سامانہ کزن سفر کر نک شمالی علاقس کن حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لِيَكَادُونَ  
يَفْقَهُونَ قَوْلًا واتان واتان دوت سودون کوہہ ذرن منز باگ۔ تمن کوہہ ذرن لپار کن وچھکھ اکھ قوم  
سم نہ مکنہ کسج کتھہ بوزان آس۔ نہ آسہ ہنزہ تھہ فجرہ نران قَالُوا يَا الْقَرْنَيْنِ تمودوپ آخر کانہہ  
ترجمانہ سندہ ذریعہ ای ذوالقرنین إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ پزپاٹتہ چھہ یاجوج  
ماجو جن ہنز اکھ جماعتھہ سمو سیٹھہ تباہی چھہ کمر مڑتھہ علاقس اندر فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ  
نَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا نيس تھہ اجازت چھاس گر وچھہ نہ خیرہ کیہنہہ رقم چندہ کمرت جمع تھہ شترطس  
پٹھہ کہ تھہ کیاہ کمر و ہناسہ منز تہ تمن منز اکھ مضبوط قلابہ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ سلطان سکندر ن  
دوچھ نيس مال و دولت مہ ہن پروردگار ن عطا کورمت چھو۔ سوچھو سیٹھہ بہتر۔ مہ چھہ ضرورت  
تھہہہ چندہ کمر تھہ رقم جمع کر کسج فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ہر گاہ تھہہ مہ سیت  
تعاون کران یڑھان چھوہ تملیہ کمر و تھہہ مہ مدد پنے طاقت و محنتہ سیت۔ تاہنکہ بوکرہ توبہہ منز تہ تمن منز  
اکھ بوڈ قلابہ حکم تہ مضبوط قائم اتوتونی زبیر الحدید تھہہ و اتا و مہ نش شترک بڈ بڈ کمرہ تمیک قیمت

انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ﴿٦٧﴾  
 فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴿٦٨﴾ قَالَ  
 هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي فَادْجَاءَ وَعْدُورِي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ  
 وَعْدُورِي حَقًّا ﴿٦٩﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُم يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ  
 فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴿٧٠﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ

ترود توبہ سرکاری خزانہ منزہ۔ اتی ان تموشتر و لکرہ تمہ پتہ تھا وہ کہ تم اکہ اُس بیٹھ لائے۔ تھہ پاٹھ دیوارس منزکتہ سیرہ تھہ تھاوندہ یوان۔ منزہ برہ ہگ ژنہ تہ زین۔ بیہ گنجھہ اتھ لہد لہد دمن بستہ۔  
 حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ تالیکنہ یلہ تمہ شتر کھنچہ برابر سپزہ کوہ تالمن سیت دوشوی طرف۔ قَالَ  
 انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا دوپنکھ دیواتھ ژکھ توپتہ دیوس دمن بستوسیت پھو کہ۔ ادہ یلہ بیہ شتر سوروی تنگل ہیووزلیو قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قَطْرًا ڈوپکھ دون انوترام سوتر اوواتھ بیٹھہ کار تھہ۔  
 چنانچہ تہ تہ آو کرنہ۔ توپتہ سڈ دیوارہ اکہ تہ قلاباہ اکہ قائیم سیٹھہ تھودتہ باند فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ  
 وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا بیہ پشول آسٹہ سببہ سڈ بیہ تھوی کہ یاجوج وماجوج ہوک نہ اتھ بیٹھ  
 کھستہ۔ بیہ ہیو کھ نہ تھہ گودتہ سورس تھہ ٹنہ جلیہ۔ اتھ ہھہ ونان سد سکندری قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ  
 مِنِّي فَادْجَاءَ وَعْدُورِي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُورِي حَقًّا سلطان سکندرن دوپک بیہ دیوار تہ بیہ  
 قلابے بنلان تہ باتمام واٹن ہھہ محض میانس پروردگارہ سنز بڈ مہربانی۔ مگر یلہ اللہ تعالیٰ سُد وعدہ  
 قیامت واتھ دیوارس گرہ سمتر میانس پروردگارہ سُد وعدہ چھو حق تہ پوز وَتَرَكْنَا بَعْضَهُم يَوْمَئِذٍ  
 يَمُوجُ فِي بَعْضٍ تمہہ دوہنہ گرواس تہنز حالت امہ کہ تم آسن اوڈین منز اثران۔ تھہ پاٹھہ آبک  
 مونج چھہ اکہ اُس منز اثران۔ نیرن امہ جلیہ منزہ نیر فوجو فوجو۔ امہ پتہ آسہ قیامت۔ چنانچہ کینہہ کالاہ  
 گزہت بیہ پوغس منز گوڈنیک پھو کہ دند۔ تمہ سیت سپدہ سوروی عالم فنا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ توپتہ ایہ  
 دو تم پھو کہ دند پوغس اندر تمہ سیت ساری بیہ زندہ سپدان فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا پس کرو کہ اُس ساری

عَرَضًا ۱۰۱) وَالَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي وَكَانُوا  
لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۱۰۲) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا  
عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۱۰۳)  
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۱۰۴) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ  
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۱۰۵) أُولَئِكَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِيَّاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا

جمع کہ کہ محشرہ کس میدانس اندر وَعَرَضًا جہنم یومین للکفرین عَرَضًا تمی دوہہ انون اس  
نار جہنم کافرن بروئھ کن وارہ کارہ وَالَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي یمن کافرن ہنزہ اچھہ  
آسہ پردن تہ ٹھریں تل ہوشیدہ میانہ یادہ نشہ۔ یعنی درنٹھہ او سکھ نہ یوان من آیات قدرت سمہ سمیت  
یوہمہ ہجھ ٹرس۔ نیون کرہ ہن یاد وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا بیہ آس نہ تم قرآن مجیدک آیات  
بوزک تہ طانت تھوان أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ کیاہ گمان چھا  
کافرن کہ میانین بدن کیا بناون تہ رٹن پرستش کرت مہ مقابلہ ہن مددگار۔ تہ ہن نہ ہرگز إِنَّا أَعْتَدْنَا  
جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا کیاہہ اسہ چھو یعنی کافرن ہندہ خیطرہ نار جہنم تیار تھوومت گوڈنی پیش کرنگ اکھ  
چیزاہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا فرماو یو کہ تہہ یارسول اللہ ﷺ اس کرووہ توہہ بیان کہ کم لوکھ  
آسن سیٹھان نقصان و تاوانس اندر عملوکن۔ یعنی کن ہنزہ عملہ گدھن ضائع تہ بے کار الَّذِينَ ضَلَّ  
سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تم گے تم بہنز کوشش ضائع سپز دنیا چہ زندگی اندر دنیا ڈھانڈان  
ڈھانڈان وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا تمں چھنہ جانیہ گمان کہ تم ہجھہ یہ رٹکاہہ کران  
أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِيَّاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ مگر حقیقت چھہ یہ کہ تم گے تے سموا نکار کور پنہ نس  
پروردگارہ سندین آیاتن بیہ تسندس دیدارس تہ تس برونہ کن حاضر سپد نس فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا  
نُقِيْبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَأَا لہذا تلو نہ اس تہندہ خیطرہ قیامتک دوہ تر کرے تہنزہ عملہ تولہ خیطرہ

نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۚ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا  
 وَاتَّخَذُوا الَّتِي وَرُسِلُ هُرُؤًا ۗ إِنَّ الدِّينَ أَمْنًا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۗ خَالِدِينَ فِيهَا  
 لَا يَبْعُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۗ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي  
 لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جُنُتَا بِسَبِيلِهِ مَدَدًا ۗ

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَأَتَّخَذُوا الَّتِي وَرُسِلُ هُرُؤًا ۗ ہے کیا چھو سزا تہند نارِ جہنم کیازہ تم  
 آس آکھ انکار کران بیہ آس میانین آیاتن تہ میانین پیغبرن استزاء تہ بھٹھہ کران ۗ إِنَّ الدِّينَ أَمْنًا  
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۗ پز پاپٹ یمولو کو ایمان اون تہ رزہ عملہ  
 کر کیکہ تہندہ خیطرہ چھہ فرودسک باغ پیش کشاہ یعنی گوڈیچی ضیافاہ ۗ تہن پیش لیہ کرنہ ۗ خَالِدِينَ فِيهَا  
 لَا يَبْعُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۗ تمنی باغن منز آسہ روزن تمن ہمیشہ۔ خواہشی کرنہ تم تموباغو منزہ نیرنج۔ نہ  
 کڈ کیکہ تموباغواندرہ کانہہ باوجود آل کروکھ اس عطا تم چیز تم تمہہ خود تہ بہتر تہ رت آسن ۗ قُلْ  
 لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جُنُتَا بِسَبِيلِهِ مَدَدًا ۗ فرماوونہہ یا  
 رسول اللہ لوکن ہر گاہ میانس پروردگارہ سزہ تہہ یعنی تم کلمات و عبارات تہندین کمالات و صفاتن  
 پیٹھہ دلالت کران چھہ لیکنہ خیطرہ سمندر آسن میلہ بدل، تم ساری ممولکن تہ ختم گڑھن۔ میانس  
 پروردگارہ سند کلمات ختم گڑھنہ بروٹھہ۔ بیہ ہر گاہ اس تمن سمندر ن ہی بے سمندر تہ مدد تہ خیطرہ  
 ملناووک تمن سیت۔ تم تہ ممولکن۔ لیکن لیکن مگر کمالات و صفات آہیہ سپدن نہ ختم کیازہ تم چھہ  
 غیر متناہی۔ لہذا چھہ الوہیت تہ ربوبیت مخصوص تنس یوت ۗ قُلْ تہہ فرماو یو کہ یار رسول اللہ تہ کہ  
 اے کافر و تمہ ئس انکارہ سیت مہ پیش یوان چھوہ کیاہ یو چھوسہ توبہہ بروٹھہ کن کانہہ تڑھہ کتھاہ پیش  
 کران یوسہ نامکن تہ شوار چھہ ۗ اِنَّمَا اَكْبَرُ بِمَوْلَاكُمْ يُوحَىٰ اِلَىٰ اَتَمَّاءِ الْهٰكِمِ وَاللّٰهُ وَاٰجِدُ ۗ یو چھوسہ مگر توبہ  
 ہیواکھ بشرہ۔ توبہہ تہ مہہ منز چھہ فرق یے کہ وحی الہی چھومہ پیٹھہ نازل سپدان کہ تہند چھو نہ آس  
 معبودس و رای کانہہ تہ۔ نہ چھو وحی واثن کانہہ عجیب کتھاہ۔ نہ چھو توحید باری تعالیٰ کانہہ وحشت



قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أُمَّةٍ الْهُكْمُ إِلَهُ ۗوَإِذْ فَنَّ كَانَ  
 يَرْجُو الْقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُجْعَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝۱۱۰

ناک امر اہ۔ و سن ہے تہہ مہ انکار کر ان چھوہ تہ کیا زہ۔ فَنَنَّ كَانَ يَرْجُو الْقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُجْعَلْ عَمَلًا صَالِحًا  
 وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا و ون نئس اکھاہ امیدوار آسہ پنہ نئس پروردگارہ سبہہ دیدارک، تس سیت  
 ملاقات کرہ نگ تہمد محبوب تہ مقرب بہ نگ ادہ سو کمرن میانئس پیغمبر برحق آئس پشہ کمر تہ میانہ  
 شریعتہ موجب رثہ عملہ۔ بیہ مہ تھاون سو پنہ نئس پروردگارہ سبہہ عبادتئس منز کانسہ آئس شریک۔  
 یعنی توحید و رسالتک تھاون کامل اعتقاد۔





وَبَرِثْتُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾ يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ  
 بِغُلَامٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّى  
 يَكُوْنُ لِيْ عِلْمٌ وَّكَانَتْ اِمْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّوَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ  
 عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰٓئِيْنٍ وَّوَقَدْ خَلَقْتِكَ  
 مِنْ قَبْلُ وَّلَمْ تَكُ شَيْئًا ﴿٩﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِيْ اٰيَةً ۗ قَالَ

ورای مہ تیٹھ فرزندہ عطائس اکھ میانین خاص علمن ہند وارث بنہ ہایہ خاندان یعقوب علیہ السلام  
 سندین موروثی علو من ہند وارث بنہ ہا واجعلہ رب رضیاً میانہ پروردگارہ ہیہ کرتن سو فرزند با عمل  
 آسنہ موکھ مقبول تہ محبوب ہن۔ چنانچہ بواسطہ ملائک سپد تم ارشاد یٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ  
 يَحْيٰى اے زکریا بیشک اس چھی ژہ خبر دو ان اس فرزندہ سنزید ناوچھو سخی لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ  
 قَبْلُ سَمِيًّا اہہ چھونہ کورمت پیدہ اس بروٹھ اسند ہمنام۔ از تاں چھونہ امہ ناؤک کانہہ انسان پیدہ  
 آمت کرنہ قَالَ رَبِّ اِنِّى يَكُوْنُ لِيْ عِلْمٌ حضرت زکریا علیہ السلام وون پروردگار امہ کتھہ پاٹھہ بنہ پتھو  
 وَّكَانَتْ اِمْرَاَتِيْ عَاقِرًا میان آشین ہتھہ ہانٹھہ وَّوَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا بوچھوس پانہ ووتمت بجرہ  
 کس نہائس۔ مہ چھونہ معلوم سپدان ژے اہہ فرزند عطا کرکھ تہ کتھہ پاٹھہ۔ اس سپدوہ دوشوے باژ  
 جوان کنہ مہ آہہ نوو کاں کزن کنہ موجودہ جسابے اندر کرکھ ژہ اہہ فرزند عطا قَالَ كَذٰلِكَ اللہ تعالیٰ  
 اَن فرموس موجود جسابے اندر قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰٓئِيْنٍ وَّوَقَدْ خَلَقْتِكَ مِنْ قَبْلُ وَّلَمْ تَكُ شَيْئًا چون  
 پروردگار چھو فرماوانیہ چھومہ نشہ آسان۔ اچ کیاہ چھہ حقیقتہ امہ خوتہ سجر کامہ تہ چھہ مہ گر مژہ۔ مثلاً  
 ژہ چھو کہ پیدہ کورمت از کہ بروٹھ۔ ژہ او سکھنہ کنہی۔ پتھہ پاٹھہ چھہہ اسباب عادیہ تہ کینہہ چیز۔ یلہہ بوپنہ  
 قدر تہ سیت نیستس چھس ہست کران، ناؤدس چھس بُود کران۔ معدوس چھوس موجود کران۔  
 اس موجودس نشہ بیاکھ موجود پیدہ کزن یہ کیاہ مشکل چھوی ژہ مینس قدر تس نشہ بوزنہ یوان قَالَ  
 رَبِّ اجْعَلْ لِيْ اٰيَةً حضرت زکریا ان دوپ پروردگار اوعده سیت سپد امطیمان۔ وون کرکھنا میانہ

اَيْتُكَ الْاٰتِئْتِكُمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝۱۰ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ  
 مِنَ الْبَحْرَابِ فَأَوْحَىٰ اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُرْكَۃً وَعَشِيًّا ۝۱۱  
 لِيَعْبُدُوْا حُدُ الْكِتٰبِ بِقُوَّةٍ ۝۱۲ وَاتَّبِعُوْهُ الْحُكْمَ صِدِيًّا ۝۱۳ وَحَنَانًا  
 مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوَةً ۝۱۴ وَكَانَ تَقِيًّا ۝۱۵ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ  
 جَبْرًا اَعْوِيًّا ۝۱۶ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ  
 يُبْعَثُ حَيًّا ۝۱۷ وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ اِذْ اَنْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا

مزید اطمینان خاطرہ کا نہ علامتہ مقرر۔ تمہے سیت مہ ترہ ہا فخرہ ژہ کوز تھ مہ عطا فرزند قال ایتک  
 الْاٰتِئْتِكُمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا اللہ تعالیٰ ان فرموس چون علامت نہ نشانہ چھوڑہ نہ کیکنہ  
 تندرست آتھ۔ ترین شین نہ ترین ووبن لوکن سیت تھ کر تھ فخرج علی قومہ من البحراب  
 پس در او کھ منزہ پنہ نس قومس لغہ فَأَوْحَىٰ اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُرْكَۃً وَعَشِيًّا تھ نچن نہ کر تھ کینہ  
 مں ہوون تبن اشارہ کہ نہ کمر و خدایہ سزپاکی بیان شخص نہ شامس۔ چنانچہ کینہہ کالاه گو تہ حضرت  
 محبی سپد پیدہ۔ تو پتہ یلہ سوووت بن شعورس اللہ تعالیٰ فرماوان اسہ فرموس لِيَعْبُدُوْا حُدُ الْكِتٰبِ  
 بِقُوَّةٍ ای محبی کتاب یعنی توراتس کر زورہ تھپ۔ یعنی تھ پیٹھ کر زورہ عمل تمہ ساتہ تہ اوس  
 تورا تھی تب شریعت۔ انجیل اوسنہ ون نازل سپد مت وَاتَّبِعُوْهُ الْحُكْمَ صِدِيًّا بیہ کر اسہ حضرت محبی  
 اَسْ نَبُوْت عطا لو کپارسى منز وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوَةً وَكَانَ تَقِيًّا بیہ کر اسہ عطا تہ پنہ طرفہ  
 رقت قلب بیہ اخلاقن ہنرپا کیزگی بیہ اوس سوسٹھاہ پر ہیزگار وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبْرًا اَعْوِيًّا  
 بیہ اوس سوس فرما نبردار، خد متگار ملس ماجہ ہند۔ بیہ اوس نہ سوس مخلوقن نسبت سرکش تہ خالقن نسبت  
 نافرمان۔ پروردگارس لغہ اَسْ تمہ سیت مكرم نہ محترم کہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان تہندہ حقہ وَسَلٰمٌ  
 عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا سلام بوسن تبن پیٹھ تمہ دوہہ تم زاسہ بیہ تمہ دوہہ  
 تم تمہ عالمہ گڑھن بیہ تمہ دوہہ تم مر نہ پتہ بیہ تئلہ بین زندہ سپد مت وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ بیہ

مَكَانًا شَرُوبِيًّا ۱۷ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا  
إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۱۸ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ  
بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۱۹ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ  
لِيُؤْتِيَكَ عَلِيمًا زَكِيًّا ۲۰ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَلَمْ  
يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۲۱ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ

پاؤوڑتیس قرآن مجید کس کس حصّے اندر قصہ حضرت مریمؑ لیاذنبذت من اولہا مکانا شروبیّا  
یلہ الگ روز سو پنہ نین گرہ کین لوکن نشہ الگ اس مکانس اندر نئس بیت المقدسکہ مشرقہ طرفہ  
اوس۔ ماہواری عذرہ نشہ پاکی ہند سران کرنہ خیطرہ فاتخذت من دونہم حجابا ترؤن آویزان  
تمن یہ پارکن ٹھور تہ ہمدہ ہتھ تھ ٹھرس تل روز تھ سو سران کرہ فارسلنا الیہا روحنا امہ پتہ یلہ  
سران کمر تھ موکلہ یہ، پلو لارگ اتی سوزاسہ تس نشہ ہن روح یعنی جبریل امین علیہ السلام فتتمثل لہا  
بشرا سویّا یوہے روادئس برونٹھ کنہ انسان بنت در کمال حسن وجمال قالت انی اعوذ بالرحمن  
منک ان کنت تقیّا حضرت مرتس یلہ نظر پیہ تس پیٹھ۔ دہنہ لچ پناہ چھس یو منگان حضرت  
رحماتس ژہ نشہ، چھکے ژہ شریف تہ خدائیس کھوژہ ون یمہ جایہ نش سید دور فوراً۔ تمن گنیہ راے یہ ماہتھو  
کانہ انسانی قال انما ان رسول ربک جبریل امین دوئس بانبرمہ، بوچھوس نہ انسان بلکہ چھس  
یوچانس پروردگارہ سندہ طرفہ سوزنہ آمت اکہ ماہہ اکہ لاهب لک علما زکیّا ہتھ بوژہ عطا کرے  
خدلیہ سندہ طرفہ اکہ فرزندہ اکہ نئس پاک وپاکیزہ تہ بندہ بون آسہ۔ یو دے آس منزیاتلس منز چھو کہ  
تمہ اثرہ سیت تہ خدلیہ سندہ حکمتہ سیت روزی ژہ ششمس منز حمل تو پتہ زیوی ژہ فرزندہ قالت انی  
یکون لی علمٌ ولم یمسنی بشرٌ ولم اک بغیّا حضرت مرتس دوئس مہ ہتھ پاٹھ بہ فرزند  
حالانکہ مہ چھونہ باقاعدہ کچل کمر تھ اتھ تہ لوگمت کانسہ انسان وگھتاتان بیہ چھسہ بوہد کارتہ آسموزانہ  
قال کذالک جبریلان دوئس ہتھ پاٹھ کانسہ بشرہ سندہ تھپ کرنہ ورا ی سپدہ ژہ نشہ فرزند پیدا بوہتھو

هُوَ عَلَىٰ هَيْبٍ ۖ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ  
 أَمْرًا مُّقْضِيًّا ۚ ۲۱ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۚ ۲۲  
 فَاجَاءَهَا الْبَخَّاسُ إِلَىٰ جِدْعِ النَّخْلَةِ ۚ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ  
 قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ۚ ۲۳ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا  
 أَلَا تَحْزَنِي ۚ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۚ ۲۴ وَهَزِي

سے نہ یہ پانہ و نان قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيْبٍ بلکہ چون پروردگار چھو فرماوان ماس و رای ژہ فرزند  
 عطا کرن چھومہ نشہ سہل نہ آسان۔ یہ چھو چون پروردگار فرماوان کہ اس چھن یہ فرزند بلا اسباب  
 عادیہ پیدہ کران وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا بیٹھ کرون سوا اس پنہ قدر تک اکھ نشانہ لوکن  
 ہندہ خیطرہ، یہ لوکن ہندہ خیطرہ پنہ رحمتک ذریعہ دنیا س اندر وَكَانَ أَمْرًا مُّقْضِيًّا اس فرزندہ  
 سنبے پد پیدہ سدن چھو اکھ طے کرنہ آمت امراہ، نیس ضرور عملہ اندر یہ یہ چھ کتھہ فیصلہ کرنہ  
 آثر فَحَمَلَتْهُ پس تل حضرت مر سمن فرزندہ سنبہ بار خود بخود، و چھان و چھان فَانْتَبَدَتْ بِهِ  
 مَكَانًا قَصِيًّا نیس کئیہ سو گھرہ نغمہ دور سو حمل ہتھ الگ اکھ کو ہس نہ جھگلس منز فَاجَاءَهَا  
 الْبَخَّاسُ إِلَىٰ جِدْعِ النَّخْلَةِ یلہ وضع حملک دود شروع سدن تم داد و اتا و سوا اس خضر کلہ کس  
 گوڈس تل اس تھزر س پیٹھ، تھ سبت ڈوکھہ دتھ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا  
 نہین لے کاش بو کونہ سونے نیس امہ برو نھی، تا اینکه گمہ آسمانا بود، ژیتہ سی آسہ ہانہ کانہہ ناوی ہبہ  
 ہم نہ کانہہ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا ہس دس آلو جبریل امین امہ تھزرہ بون کن أَلَا تَحْزَنِي ۚ قَدْ  
 جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا غمگین نہ آزرده منہ سبد۔ پز پاپ چان پروردگار کن کور ژہ بون کن  
 اکھ ناگہ رادہ اکھ جاری سمیک آب اوس دواتن سارنی عوارضن ہند یم پریمہ وقتہ زمانن لاحق نہہ  
 سدن ہبہ سز سو خوش تمہ ناگہ راڈک آب و چھت۔ طینتس منز سدن فرحت و سرور پیدہ۔  
 وَهَزِي إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَدِيًّا بیہ ڈہ دنہ دن پانس کن خضرہ کلہ

إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۝  
فَكُلْ وَاشْرَبْ وَقَرِّ عَيْنًا فَامَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا  
فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۝  
فَأْتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِيلُهُ قَالُوا أَيْرِمِيمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝  
يَا خُتَّ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءًا وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا ۝  
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

کس گوئدس یہ تراوی تریہ پیٹھ پوپ پوپ تازہ خضر فکل و اشربی و قرری عینا سم خضر کھہ ژہ، امہ  
ناگک آب چہ ژہ، اس نندہ بانس فرزندس ن و بھت شہلا و پنے آچھ۔ بہ تلن یہ فرزند کو جھہ کیتھ تو پتہ  
گھہ پنہ نس توس نثر فاماترین من البشر احدًا ہر گاہ و تہ پکان کانہ انسانہ و پھہ بن، سو بہ ژہ  
پر ژھن گارن فقو لی ائی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا ژہ و پ تس اشارہ پاٹھ، مہ  
پھو خدلیہ رحمانہ سدہ خیطرہ روزہ داری ہند نذر تھوومت بو پیمہ نہ کانسہ انسانس سیت از تھہ کمر تھہ  
فآتت بہ قومہا تھیلہ چنانچہ واژیہ فرزند ہتھ پنہ نس توس نثر، سو اوس کھونہ کیتھ قالو ایریم  
لقد جئت شیئا فریا لو کو دو پھس ای مریم ژہ آکھ اھ عجیب کتھہ ہتھ، چاہہ ماس و رای یأخت  
ہر و ن ما کان ابوک امرًا سؤءًا و ما کانت ائک بغیا ای ہمشیرہ ہارون ژے شریف زا و بھکھ نہ اوس  
مول چون بچھ شخصہ نہ آس موج چان بدکاریہ کیاہ کوزتھہ ژیہ فأشارت الیہ تو پتہ ہو و کھ  
حضرت مریم اشارہ سیت اس فرزندس ن زہ اسس پر ژھو قالو کیف نکلم من کان فی المہد  
صبیًا تمو دو پھس اس تھہ پاٹھ گزوتھہ کھونہ منزہ کس لو کھس سیت۔ سم جھہ ونہ تے کھہ کران ام  
فرزندن ہمیوہ کھہ کرن۔ قال ائی عبد اللہ اثنی الکتاب و جعلنی نبیا دو بن اے لو کو بیشک  
یو جھوس خدلیہ سند خاص بندہ تم کرمہ عطا پن کتاب بہہ کورس بو پیغمبر و جعلنی مبارکاً این  
ما کنت بہہ کورس بو برکتہ و ول کیا زہ میانہ سیت و انہ لو کن دینی نفع۔ یتہ نس بوروزہ، یوت یوت

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ تَابِعِي الْكَتْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝ وَجَعَلَنِي  
 مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ  
 حَيًّا ۝ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝ وَالسَّلَامُ  
 عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۝ ذَلِكَ  
 عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۝ مَا كَانَ  
 لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَاكِلٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

ہووائے تیرے کرہ بواشاعت دین۔ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا بے کورمہ خدا میں تا کیدی  
 حکم نماز پر تک سے زکوٰۃ و تک بیوت کال بوزندہ جھوس و نیاس اندر وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي  
 جَبَّارًا شَقِيًّا بے کورنس بوجاہے ہند فرمانبردار، بے کورنس نہ بوزبردست سے بد بخت کہ خالقتہ سید  
 حقوق کرہ ہاترک یا والدہ ماجدہ سند یو حقو قونشہ کرہ ہاسر کشی وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ  
 وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا خدایہ سندہ طرفہ چھہ مہ پیٹھ سلام، سمدہ دوہنہ بوزاس بے سمدہ دوہنہ بومرہ بے سمدہ  
 دوہنہ بودوبارہ زندہ سپدت تھودیمہ تلنہ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یوہے کیا گو حضرت عیسیٰ حضرت  
 مریمہ سند فرزند تمین ہند احوال سے اقوال و نونہ آئے سمدہ سیت تھند مقبول بندہ آسن ثابت سپدان جھو۔  
 نہ چھہ نصاریٰ ان ہنز تھہ صحیح کہ بندگی منزہ کڈ تھہ الوہیتس منزواتاوان۔ نہ چھہ بہودن ہنز تھہ صحیح کہ  
 مقبول بندہ آسنہ نشہ کڈ تھہ تمین پیٹھ بے شمار ہاڑہ لاگنہ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ بیہ چھہ ہنز  
 تھہ بیٹھ منز لو کہ شک کران چھہ۔ نصاریٰ چھہ ونان بے عیسیٰ جھو خدایہ سند چو، حالانکہ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ  
 يَتَّخِذَ مِنْ وَاكِلٍ خدایہ سند شان جھو نہ کہ سو کیا بناوہ کانسہ ہن پچو سُبْحَانَهُ سُو جھو اولاد آسنہ نشہ  
 منزہ سے پاک۔ تمسند شان جھو کہ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سُو یلہ ارادہ جھو کران کڈ  
 چیزہ کہ پیدہ کر تک سُو جھو نہ تھہ چیزس ونان کینہہ سے مگر لفظ کُن یعنی پیدہ سپد، اتی جھو سُو چیز پیدہ  
 سپدان، از عدم بوجود پیوان۔ حضرت عیسیٰ سے کورن سے پٹھ پٹھ حکم کُن پیدہ۔ تھنس باکمال خدا کُنس پچو





يُرْجَعُونَ ﴿۳۰﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ ؑ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا  
 نَبِيًّا ﴿۳۱﴾ اِذْ قَالَ لِاٰیِهٖ يٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَاَلَيْسَ  
 لِاٰیِحْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿۳۲﴾ يٰاَبَتِ اِنِّیْ قَدْ جِئْتُ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ  
 يٰاَتِكَ فَاتَّبِعْنِي اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿۳۳﴾ يٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ  
 اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿۳۴﴾ يٰاَبَتِ اِنِّیْۤ اَخَافُ اَنْ  
 يَّسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿۳۵﴾ قَالَ اَرَاغِبُ

صِدِّيقًا نَبِيًّا یعنی بیشک آس تم پر کچھ کچھ منہ پوزونہ دن۔ یہ آس پیغمبر اِذْ قَالَ لِاٰیِهٖ يٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ  
 مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا یَحْنِي عَنْكَ شَيْئًا یہ تمہو فر موو مالس پنہ نس، نیس مشرک اوس اے میانہ  
 بابہ ڈہ کیا زہ ہتھکھ پر ستنش کر ان تمن پو تلین ہنز سم نہ کینہہ بوزان چھہ یہ سم نہ کینہہ و چھان چھہ یہ  
 سم نہ کینہہ کامہ بکار یوان چھہ، کینہہ کمر تھہ بیگان چھہ۔ مُرَاد چھو امہ منزہ پوتل۔ حالانکہ ہر گاہ تم پوتل  
 و چھہ ہن تہ بوزہ ہن تہ کینہہ کامہ تہ لگ ہن توتہ آس نہ تم قابل پر ستنش کیا زہ واجب الوجود آس نہ۔ و دان  
 چھہ کتھہ تھہ حاس اندر یٰاَبَتِ اِنِّیْ قَدْ جِئْتُ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ یٰاَتِكَ فَاتَّبِعْنِي اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا  
 ای میانہ بابہ میہ نشہ چھو و ٹمت خدایہ سدہ طرفہ اکھ علامہ۔ نیس نہ ڈہ نشہ ووت تھہ منزہ غلطی ہند کینہہ  
 قسمہ احتمالے چھو۔ ڈہ چھہ نہ بیج خبری۔ لہذا پھتہ ڈہ میانہ و تہ۔ میان متابعت کرتہ۔ بو ہاوہ ہے  
 سیز و تھہ یعنی توحید و تھہ یٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ای میانہ بابہ متہ  
 کرتہ شیطانہ سز پر ستنش یعنی شیطانہ سدہ و ونہ موجب پو تلین ہنز پر ستنش۔ ہنز پانچہ یہ شیطان چھو  
 او سمت گو ڈہ پیٹھ خدایہ سندا نافرمان لہذا شو بیا مسز بیروی کرن یٰاَبَتِ اِنِّیْۤ اَخَافُ اَنْ یَّسَّكَ عَذَابٌ  
 مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ای میانہ بابہ مہ چھہ نٹھ ڈہ گو ڈھوی نہ حضرت رحمانہ سدہ  
 طرفہ کانہہ عذاباہ و لہہ یکن نیس گھہ سم نہ ڈہ شیطانہ سندا رفیق بن عذابس اندر قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنِ  
 الرَّحْمٰنِ یٰاِبْرٰهِيْمُ تم مال و ونس توراہی ابراہیم ڈہ چھکھ میانین معبودن نشہ تھہ بھران کین گو

أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يَا بَرَاهِيمَ لَنْ لَمْ تَنْتَهَ لَارْجَمْتِكَ وَالْهَجْرِي بِلَيْكَا ﴿٣٧﴾  
 قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٣٨﴾ وَ  
 اعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا  
 أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿٣٩﴾ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ  
 دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٠﴾  
 وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٤١﴾

تَنْتَهَ لَارْجَمْتِكَ وَالْهَجْرِي بِلَيْكَا ہر گاہے تہ امہ نشہ ہتھ روز کھ کنہ لای لای گرتھ بوسنگار۔ چھٹے پان  
 پچانو تلہ روز مہ نشہ کینہہ کالاہ دور قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا حضرت  
 ابراہیم دویس میانہ طرفہ چھ سلام۔ توتہ معکہ بوچانہ خیطرہ پنہ نس ہر دوردگار س مغفرت۔ بیشک سو  
 چھو مہ پیٹھ سینٹھا مہربان وَ اعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي  
 شَقِيًّا بوروزہ الگ اکھ توہمہ نشہ بیہ تمکن تہمہ عبادت کران چھوہ معبود برحقس وراہی۔ توپتہ کرہ بو  
 اطمینانہ سان الگ روزت پنہ نس پروردگارہ سنز عبادت۔ بیہ چھ امید کہ بوروزہ نہ پنہ نس  
 پروردگار س عبادت کمرت محروم تہ نامر ادیتھ پاٹھ ہت پرست پنہ نین باطل معبودن پرستش کمر تھ  
 محروم تہ نامر ادیتھ روزان۔ یہ کھ باتھ کمر تھ سپد تمکن نشہ علیحدہ ملک شامس کن کمر کہ ہجرت فلَمَّا  
 اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ادہ یلہ حضرت ابراہیم کن نشہ بیہ تمکن معبودان باطلن  
 نشہ، بہنر تم معبود برحق تراوتھ پرستش کران آس جد اہدت تمہ شہہ نشہ ہجرت کمر وَهَبْنَا لَهُ  
 إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا عطا کورسہ حضرت ابراہیمس دوستم فرزند اسحاق بیہ فرزندہ سُد  
 فرزند یعقوب علیہ السلام۔ بیہ کمر اسہ تم دو شوے صاحب پیغمبر۔ تم رفاقتہ خیطرہ ہت پرست برادری  
 خوتہ بہتر آس۔ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِنْ رَحْمَتِنَا بیہ کمر اسہ تمکن واریاہ قسمک کمالات عطا کمرت پنہ  
 رحمت اکھ حصہ عطا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا بیہ کور اسہ آئیدہ لسلن اندر تہمہ ناونیک تہ

وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝۵۱  
 وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝۵۲ وَ  
 وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝۵۳ وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابِ  
 إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝۵۴ وَ  
 كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝۵۵  
 وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝۵۶ وَرَفَعْنَاهُ

بند۔ ساری آسن تعظیمہ سان تہمند ذکر خیر کران۔ اسحق علیہ السلامس برونٹھ اوس اسمہ تمین گوڈنیک  
 فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا کورمت۔ تمین اندرتہ آس تے صفات۔ تہمند ذکر پیہ برونٹھ مہن  
 وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابِ مُوسَى بیہ کمر و ذکر قرآن مجیدس منز حضرت موسیٰ سند قصہ۔ یعنی سؤکمر ولوکن  
 نیشہ بیان إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا تم تہ آس پز پانٹھ خاص کرنہ امت بندہ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا بیہ آس  
 تم رسول تہ تہ نبی تہ تمین آس سم دوشوے شان وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ  
 نَجِيًّا بیہ دیت اسمہ تمین نادکوہ طورہ کہ دچھنہ طرفہ کن۔ بیہ گرہ اسمہ تمین سیت سیزہ تھہ پانس نکھ  
 انتھ۔ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا بیہ کور اسمہ تمین پنہ مہرانی سیت تہمند براڈ ہارون  
 علیہ السلام پیغمبر بناو تھ عطا تہندہ درخواست کرنہ موجب تہندہ مددہ خیرہ وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابِ  
 إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا بیہ کمر ولوکن نیشہ ذکر قرآن مجیدس اندر  
 اسماعیل علیہ السلام سند حال۔ بیشک تم آس وعدہ پز گرہون۔ بیہ آس تم رسول تہ نبی۔ تمین تہ آس  
 دوشوے شان وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا بیہ آس تم پنہ نس عیالس  
 حکم کران نماز پر نک بیہ زکوٰۃ و نک۔ بیہ آس تم پنہ نس پروردگارہ سند مقبول بندہ وَأَذْكُرُنِي  
 الْكِتَابِ إِدْرِيسَ بیہ کمر و قرآن مجیدس اندر حضرت ادریسہ سند حال لوکن نیشہ بیان۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا  
 نَبِيًّا بیشک آس تم سینٹھ پزیر پیغمبر وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا بیہ واتا و اسمہ تم کلماتن اندر تھدس

مَكَانًا عَلِيًّا ۵۷۰ اُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ  
 مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ  
 وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذِ اتَّخَلَّفُوا عَلَىٰ آلِهِمُ  
 الرَّحْمَنِ خَوْسًا وَاجْتَبَيْنَا إِذِ اتَّخَلَّفُوا عَلَىٰ آلِهِمُ خَلْفًا  
 أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا  
 الْأَمِّنُ تَابَ وَأَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ

مرتبس تھڑہ جلیہ اُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ سے پیغمبر گئے تم تم سے اللہ تعالیٰ ان سے  
 انعام کور عطا پیغمبر و اندرہ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ تم ساری پیغمبرہ ہجھہ حضرت آدمہ سندہ ذریۃ اندرہ  
 وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ بیہ تمواندرہ تم اسہ کھارناوہ اندر حضرت نوح سے۔ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ  
 بیہ حضرت ابراہیمہ سزہ ذریۃ اندرہ وَإِسْرَائِيلَ بیہ حضرت یعقوب سندہ ذریۃ اندرہ وَمِمَّنْ  
 هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا بیہ تمواندرہ تم اسہ و تھہ ہا، بیہ تم اسہ مقبول تہ برگزیدہ کمر، باوجود امہ مقبولیتہ  
 آس تم بندگی اندر تھہ منہبک کہہ إِذِ اتَّخَلَّفُوا عَلَىٰ آلِهِمُ الرَّحْمَنِ خَوْسًا وَاجْتَبَيْنَا ایلہ تم پٹھہ  
 حضرت رحمانہ سند آیات پر نہ آس یوان تان آس تم بکمال عاجزی و انکساری سجدہ دوآن۔ دوآن دوآن  
 ز مینس پٹھہ کلہ تراوان۔ پٹن پان بتر تھہ دوآن فَخَلَّفُوا مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفًا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ توپتہ  
 آے تم پتہ تھہ بعضی خلف سمو نماز برباد تہ ضائع کر۔ خواہ اعتقاداً انکار کرنہ سیت خواہ عملاً سمو ادا  
 کرئس اندر کوتاہی کرنہ سیت یا تھمہ کین ضروری حقوق تہ آداین اندر کوتاہی کرنہ سیت۔ وَاتَّبَعُوا  
 الشَّهْوَاتِ بیہ کرکھ ناجائز نفسہ چن خواہش ہنز پیروی فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا پس وہن تم  
 عنقریب آخرتس منزج خرابی، خواہ ابدی خواہ غیر ابدی الْأَمِّنُ تَابَ وَأَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ  
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظلمونَ شَيْئًا مگر سمو کفر و معصیۃ نشہ توبہ کر تھہ ایمان اون تہ رتھہ عملہ  
 کرکھ، پس تم لوکھ واتن جنتس اندر کھنہ منج خرابی و تھہ ورا۔ بیہ تھکھہ ظلم کرنہ کھنہ قسمہ۔ جَدَّتْ

الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۖ جَدَّتْ عَدْنُ إِلَاتِي وَعَدَدُ  
الرَّحْمَنِ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۗ لَا يُسْعَوْنَ  
فِيهَا الْعَوَّا إِلَّا سَلْمًا ۗ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۖ  
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۗ  
وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا  
وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۗ رَبُّ السَّمَوَاتِ

عَدْنُ إِلَاتِي وَعَدَدُ الرَّحْمَنِ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا تمین جنین منزواتن سمن منز  
ہمیشہ روزن آسکھ۔ سمن جنین ہند حضرت رحمان پنہ نین سیت وعدہ کورمت وھو غائبانہ۔ ہنز پاٹھ  
تہند وعدہ وھو پورہ کرنہ آمت یعنی تمہہ کس پورہ سپنس اندر وھونہ شمش کا نہہ لایسعون فیہا العوا  
تمین جنین منز بوزن نہ تم کا نہہ بیہودہ کتھاہہ إِلَّا سَلْمًا مگر پریتھ طرفہ آسن سلائے سلامہ۔ پانہ وان  
تہ سلائے ملائکن ہندہ طرفہ تہ سلائے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تہندہ خپترہ وھو تمین جنین  
اندر کھین تہند، صحت تہ شامس تہ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا تہ جنت  
سمن ہند ذکر کرنہ آؤ کرو اس عطا ورش پاٹھ پنہ نیوبند واندرہ تمین تم شانت تہ پر ہیزگار آسن وَمَا نَنْزِلُ  
إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ جبریل امینہ سندس پیش منرسد کینہہ کالاہ تاخیر تہ کافر وھیت طعنہ دن، نبی کریم صلی  
اللہ علیہ وسلم ہند دل مبارک سپد آزدہ۔ تمہہ پتہ یلہ جبریل امین آؤ تمور پر ژھس تاخیر رک سبب اللہ  
تعالیٰ ان فرمود جبریل امینس ژہ ون امیک جواب کہ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ آسن نہ حض وھنہ  
ز مینس پیٹھ وسان مگر تہندس پروردگارہ سدی لحمہ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ تہ  
سوزی یہ آسہ بروٹھ کتہ وھو آیندہ، بیہ یہ آسہ پتہ کتہ وھو گزشتہ و قس اندر، بیہ یہ اتھ در میان وھو  
موجودہ و قس اندر، سارکوی وھو خدا اس پور علم وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا بیہ وھونہ پروردگار تہند کا نہہ چیز  
مشر اوہ ون رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا سؤی وھو مالک آسمان تہ زمین ہند بیہ یہ

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَيِّئًا ﴿۵۸﴾ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿۵۹﴾  
 أَوْلَا يَذُكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿۶۰﴾  
 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ  
 جِثِيًّا ﴿۶۱﴾ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ  
 عِتِيًّا ﴿۶۲﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿۶۳﴾ وَإِن

تعمن منزاگ بهجو فاعبده واصطبر لِعِبَادَتِهِ پس کمر و تهنزی عبادت تہ پرستش۔ تهنز عبادت کرنس اندریم تکلیف واتوہ تہن پیٹھ کمر و صبر هل تعلم له سَيِّئًا کیا تہہ جھوہنہ ہرزاناں تہند کانہ ہم صفحہا۔ سو جھو سوئی تہس ہیو جھوہنہ کانہ تہ۔ تہس یا تہ عبادت کرن جھہ لازم وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا بیہ جھوہیہ انسان لہنہ قیامت تہہ جھہ، دنان کیاہ یلہ بومرہ توپتہ سہما بو قبرہ منزہ بیہ زندہ کمر تہہ نبر کڈنہ أَوْلَا يَذُكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا کیاہ بیہ انسان جھنا پاوان تہس کہ اسہ کوریہ پیدہ بروئھہ حالانکہ بیہ اوسنہ کنہی عدم محضہ منزہ یلہ اسہ توگ سوو جو دس اندر اُن مرنہ پتہ بیہ دوبارہ زندہ کرن کیاہ عجایب جھو فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا تہندس پرورد گارہ سُنْد قسم اَس کرو کہ تم قیامتگ دوہ بیہ پیدہ، توپتہ سونبر اوو کہ تم ساری انسان بیہ ساری شیطان توپتہ انوکہ اَس تم ساری تھاوو کہ حاضر جہنم اُتو اُتہ بیہتہ سیت اَسن تم کوٹھن پیٹھ روز تھ، روز تھ گیمت ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا توپتہ کڈو کہ الگ پریتھہ جماعتہ منزہ تم تم اشخاص تم تمواندرہ اَسن حضرت رحمانہ سُنْد زیادہ نافرمان تہ سَر کَش بیٹھ تم گوڈنی بن نارس منز دار تھ دنہ اسہ جھنہ ضرورت تمس متعلق تحقیقات کرنج کُتھ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا کیازہ اسہ جھو پور علم تمس لوکن ہند تم جہنمس واتس زیادہ سزاوار جھہ وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَاوَدْهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَقًّا مَّقْضِيًّا بیہ جھوہنہ کانہ اکھاہ توہہ اندرہ لہنہ

مِّنكُمْ إِلَّا وَاوَدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۖ ثُمَّ نُنَجِّي  
 الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا ۖ وَإِذْ أَتْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ  
 الْيَتْمَانِيَّتْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ  
 خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۖ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ  
 أَحْسَنُ أَنثًا وَأَرْجَمِيًّا ۖ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَاةِ فَلْيَدُدْ لَهُ  
 الرَّحْمَنُ مَدًّا ۖ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا

پیکرِ اُمِّ جَهَنَّمِ کُن۔ یہ ہتھو تھندس پروردگارہ سندہ وعدہ موجب اکھ لازم منوکلہ، اکھ معاملہ اُس ضرور  
 پورہ سپدہ۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا تو پتہ دمواس نجات تمن لوکن تم پتھ روڈوگرہ نشہ شر کہ  
 نَشْرٌ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا باقی تراووکھ اس تھہ جھنمسن اندر ظالم یعنی کافر ہمیشہ روزنہ خیطرہ  
 تُبَدِّلُ شَرَّ تھہ وَإِذْ أَتْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ الْيَتْمَانِيَّتْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا  
 وَأَحْسَنُ نَدِيًّا یہ بیلہ پر نہ یوان چھہ تمن مُکَرَن بروٹھ کنہ سائہ نندہ دلیلہ تہ واضح آیات ونان چھہ  
 کافر تہ مُکَر بالیمان تہ پڑھہ والین اسہ تہ توہہ منز کوئہ جماعت چھہ بہتر جایہ کن بہہ کوئہ جماعت چھہ رث  
 مجلسہ کن۔ یہ تھہ چھہ ظاہر کہ خانہ گی تہ مجلسی سازوسامان وغیرہ چیزن اندر چھہ اس تھہ تھندہ خوتہ۔  
 دو تم تھہ چھہ یہ کہ محبوبی چھو کھیاونہ تہ چاونہ یوان اُمہ منزہ چھو ثابت سپدان کہ اسی چھہ محبوب خدا اُس  
 نَشْرٌ تہ تھہ ہجوہ مردود۔ اللہ تعالیٰ چھو یہ ہدس ونہ اُس روڈوکران۔ فرماوان چھو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن  
 قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَنثًا وَأَرْجَمِيًّا اُسہ چھہ کاژاہ جماژ ہلاک تہ تباہ گر عزمہ سمہ تمن بروٹھ آسہ۔ تمہہ تہ  
 آسہ سازوسامانہ کن تہ ظاہری صور تہ کن اہندہ خوتہ تہ رثہ۔ دو تم جواب گو قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَاةِ  
 فَلْيَدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا فرماو یوکھ تھہ تم لو کہ گمراہی منز چھہ یعنی تھہ ای کافر و اُس تراوان چھو تمن  
 بیلہ حضرت رحمان پورہ پاٹھ یعنی مہلت چھو کہ دوان یٹھ تمن ناڈ بر نہ یہہ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ  
 تا ییکہ بیلہ و تھن تم تہ سوزی تمیک تمن وعدہ یوان چھو تھاونہ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّعَاةَ ادہ سُو



السَّاعَةَ فَيَسْئَلُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿٥٥﴾  
 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَيْعَاتُ الصَّالِحَةُ  
 خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٥٦﴾ أَفْرَعِيَّتَ الَّذِي كَفَرَ  
 بِأَيْتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٥٧﴾ أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ  
 عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٥٨﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَعُدُّ لَهُ مِنَ  
 الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٥٩﴾ وَتَرْتُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٦٠﴾ وَاتَّخَذُوا

دنیاء ک عذاب آسہ یا قیامت آسہ فَيَسْئَلُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا نہیں سمجھتے تھے  
 زان کو، ہتھو خراب تہ پیچھ جلیہ کن بیہ تمہہ ہتھو بالکل کمزور لشکرہ کن تہ مددگاروں کن وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ  
 اهْتَدَوْا هُدًى بیہ ہتھو ہر او ان اللہ تعالیٰ سیزہ وتہ پیٹھ پکھ و نین ہدایت نہیں سرمایہ نجات ہتھو  
 وَالْبَيْعَاتُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا بیہ ہتھو تمہہ رتہہ کامہہ سمہہ روزہ و تہہ ہتھو بہتر  
 تہہندس ہر روز دگار س نشہ ثوابہ کن بیہ ہتھو تہ بہتر انجامہہ کن أَفْرَعِيَّتَ الَّذِي كَفَرَ بِأَيْتِنَا وَقَالَ  
 لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا کیاہ توبہہ و چھوہت شخصہ سُد حال سم سائین آیاتن انکار کورہ و نان ہتھو سُو ہتھو  
 پاٹھ مہہ پیہ آخرتس منزتہ مال تہ اولاد عطا کرنہ۔ غرض اسمنزہ حالت تہ ہتھو قابل تجبب أَطْلَعَ الْغَيْبَ  
 أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا کیاہ ستاہہ ہتھو غیبس پیٹھ مطلع سپد مت بندہ ام ہتھو حضرت رحمانس  
 نفعہ کا نہہ عمدہہ حاصل کورمت اتھہ تھہ پیٹھ کلا ہر گز نہہ ہتھو محض غلط و نان سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ  
 اس ہتھو لیکتھت تھو ان اسمنزہ تھہ تم نھن پیٹھ تہ نہیں سزاونہ۔ وَنَعُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا اس  
 و مویسیٹھہ ز تھہر اسمدس عذابس اندر وَتَرْتُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا بیہ ہتھو اسی وارث تہ مالک  
 تمہہ سارکی سمیک یہ و نان ہتھو یعنی مال تہ اولاد۔ سُو و تہہ آسہ نشہہ ٹکوی زون۔ نہ آسہس مالی سمیت نہ  
 آسہس اولادی سمیت وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِيَكُونَ لَهُمْ عِزًّا بیہ ہتھو سمومشر کو خدا نہیں و رای  
 معبود مقرر کسر مت ہیچہ تم بن تھہد حامی تہ مددگار کلا تہ ہر گز نہہ نہ سَيَكْفُرُونَ بِوَعْدِ رَبِّهِمْ

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۗ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ  
 بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۗ ﴿۸۲﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ  
 عَلَى الْكٰفِرِينَ تُوۡرَهُمۡ آزًا ۗ ﴿۸۳﴾ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمۡ عٰدًا ۗ ﴿۸۴﴾  
 يَوْمَ نَحۡشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحۡمٰنِ وَفَدًا ۗ ﴿۸۵﴾ وَنَسُوۡقُ الْمُجۡرِمِينَ  
 إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۗ ﴿۸۶﴾ لَا يَسۡلُكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنۡدَ  
 الرَّحۡمٰنِ عَهۡدًا ۗ ﴿۸۷﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحۡمٰنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمۡ شَيْئًا

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا بلکہ کرن تم ضرور انکار تمہزہ پر ستھہ بیہ آسن تم تہدہ مخالفت تہ دشمن۔ تہہ  
 جہوہ کافرنا ہنزہ گمراہی پیٹھ نمگین سپدان۔ اَلَمْ تَرَ اَنَا اَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تُوۡرَهُمۡ آزًا کیاہ  
 توہہ جہنا معلوم کہ آسہ جہہ ہنر وومت شیطان کافرنا پیٹھ سم تم تہن کفر وگمراہی تہ نافرمانین پیٹھ آمادہ  
 کران جہہ، تلان جہہ، ٹس پائے دشمن بد خواہنہ سدہ وننہ موجب پچہ تہنہ شو بیانم کیون۔ فَلَا تَعْجَلْ  
 عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمۡ عٰدًا پس مہ کرو تہہ درخواست تہدہ ہجدی عذابس گرفتار سپدنہ خیرہ، اس جہہ  
 تہزہ کتھہ سم تہن پیٹھ تہن عذاب پیہ کرنہ پانہ گنر راوان۔ سُوۡ عذاب پیہ کرنہ تہن تہمہ دوہہ۔ يَوْمَ  
 نَحۡشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَىٰ الرَّحۡمٰنِ وَفَدًا سمہ دوہہ اس متقی تہ پر ہیز گار مہمان ہند پانہ جمع کرو کہ عزتہ  
 سان، حضرت رحمانہ سدس مہمان خانس اندر چھاژو جھاژو وَنَسُوۡقُ الْمُجۡرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا بیہ  
 سمہ دوہہ پکناو کہ کمال خواری اس نافرمان جہنمس گن تریشہ تریشہ کران۔ لَا يَسۡلُكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا  
 مَنِ اتَّخَذَ عِنۡدَ الرَّحۡمٰنِ عَهۡدًا اختیار آسہ نہ کانسہ کس شفاعت تہ سفارش کرنگ مگر تہ سم  
 حضرت رحمانس نش کانسہ عہدہ تہ اجازت حاصل آسہ کورمت وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحۡمٰنُ وَلَدًا بیہ جہہ  
 سم کافر ونان حضرت رحمانس جہہ اولاد۔ نصاریٰ جہہ ونان عیسیٰ علیہ السلامس، یوود جہہ ونان عزیز  
 علیہ السلامس، مشرکین عرب جہہ ونان ملائکس، سم جہہ خدایہ سد پچو تہ کورہ لَقَدْ جِئْتُمۡ شَيْئًا اِذَا

إِذْ أَلَمَّ أَكْثَادُ السَّمَوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ  
هَدًّا ۙ أَنْ دَعَوْا الرَّحْمَنَ وَكَلَّا ۙ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَكَلًّا ۙ  
إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا ۙ لَقَدْ  
أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۙ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۙ  
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ  
وُدًّا ۙ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ

پہنچا پڑھے تہہ آدہ کتھاہ بیتہ سبتھاہ مثل تکاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخِرُّ الجبال هداً  
یہ چتھ تھوہ مثل کتھاہ کہ قریب چھو آسمان ماگوہن امہ کتھہ سبت چھلہ، بیہ ماچھنہ زمین، بیہ ماچین  
وتھہ کوہ سورگوہتھہ ان دعوا للرحمن وكلا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ وكلا  
یبتغی للرحمن ان يتخذ وكلا ہرگز چھونہ سزاوار حضرت رحمان تس کیا آسن اولاد ان كل من في  
السموات والأرض الا اتى الرحمن عبداً کیا زہ چھونہ کانہہ آسمان تہ زمین اندر ئس نہ حضرت  
رحمان بروٹھکن غلام بنھتھ حاضر سپدان چھو لقد احصاهم وعددهم عدداً بیشک تم چھو ساری  
بندن پتہ قدر تہ سبت احاطہ کورمت، بیہ چھن ساری گنزر تھ تھاومت بیہ گودنیاس اندر وکلھم  
اتیہ یوم القیامۃ فرداً بیہ واتن قیامتگ دوہ تم ساری تس بروٹھکن لمحہ لمحہ۔ کھوی زن کانہہ تہ سبت  
آسینہ۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً پہنچا پڑھے سمو ایمان اون بیہ  
کر کیہ رتھہ عملہ، ضرور کرہ اللہ تعالیٰ ضروری نھتھ علاوہ دنیاہ س اندر تھنہ محبت پیدہ لوکن ہندین دکن  
اندر۔ چہہ فرماو تھن بشارت انج فانما يسرناه بلسانك لتبشیر به المتقين وتنذیر به قوماً کلا امہ  
کورنہ سہل تہ آسان بیہ قرآن مجید تھنہ زیوہ یعنی عربی پاٹ مگر کوری مٹھ نہہ بشارت فرماو  
شانتین تہ پرہیز گارن بیہ یٹھ نہہ نیم کھرو، کھوژہ ناویون امہ (قرآن مجید) سبت ہنرل قوم وکھو

بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿۹۰﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِشُّ  
مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْعُ لَهُمْ رُكُزًا ﴿۹۱﴾

اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِشُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْعُ لَهُمْ رُكُزًا یہ کا زاہد جماعتا فرمان ہنرہ  
کرہ اسہ ہلاک تہ تباہ از کین تا فرمان بر و نٹھ۔ ٹہہ چھوہ لبان تمواندرہ کانڑشاہ یا چھوہ یوزان تہندہ کوتہ  
لوتہ پکچ آوازہ ٹہند نام و نشان تھوونہ اسہ ٹٹھ۔ ٹٹھ پاٹھ سم ٹہنز مخالفت گرن سم تہ ہنہ تہنزی باش۔  
خوش روزو۔





الْحُسْنَى ۵ وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى ۶ إِذْ رَأَانَا فَقَالَ  
 لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا الْعَلَىٰ إِيَّتَيْكُمْ مِّنْهَا يَنْقَبِينَ أَوْ  
 أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۱۰ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَبُوسَى ۱۱ إِنِّي أَنَا  
 رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۱۲  
 وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۱۳ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا  
 أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۱۴ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ

وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى بے چھا توہمہ ای محمد واثر مشر مومسی علیہ السلام سہہ تسج خبر۔ سو قصہ چھو  
 بوزنس لایق۔ تھہ منزجھہ توحیدس متعلق علوم، سمن ہند تبلیغ کرون نفع دوہون چھوئیس ہتھہ پاٹھہ واقع  
 سہدنت چھو۔ إِذْ رَأَانَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا الْعَلَىٰ إِيَّتَيْكُمْ مِّنْهَا يَنْقَبِينَ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ  
 هُدًى یلہ تموو چھہ دورہ اکھ نارہ یلہ تم شہر مدینس نشہ واپس یوان آس وتہ لچھہ راتھہ بے لچھہ  
 سردی نئس دوچھہ عمیالس پنہ نئس نہہ ٹھہرہ بیتہ تھی۔ مہ اولہنہ نارہ نئس نوروس مگر شکل آس  
 نارچ۔ بوگرھہ تھہ جایہ دیوہ بوتورہ نہ تمہہ نارہ منزہ تہنہہ خیطرہ تنیکلہ بٹھہ سردی ہند  
 علاج سہہ ہالہہ بونارچہ جایہ پیٹھہ کانہہ وتہ ہاوکھہہاہہ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَبُوسَى اودہ یلہہ سوتھہ نارس نکھہ  
 ووت، آواز گیس خدلیہ سہہ طرفہ ای مومسی إِنِّي أَنَا رَبُّكَ نارچھنہ یارچھو۔ بیشک بوچھوس پروردگار  
 چون فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى پس بڈو کھورواندرہ نعلین ہن کیازہ نہہ چھہ پاک  
 میدانس اندریتھہ ناوچھو طوی۔ نعلین تہنہ چھنہ پاک سوچھہ مستعمل۔ کھوربانہ اگرپاک آسہ تمہہ سان  
 نماز پر ن چھہ جایز مگر ہرگاہ مستعمل تہ ناپاک آسہ تیلہ چھنہ تمہہ سان نماز جایز۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ  
 فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى مہ کسر موہ نہہ باقی لو کو اندرہ پیغمبری خیطرہ فُتخَب۔ نئس بوزووارہ تم احکام سم  
 توہمہ کن سوزنہ ہن إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي بیشک بوی چھوس معبود  
 برحق۔ کانہہ معبوداہ چھونہ مہ ورا۔ نئس کسر و میانی یاثر پرستش۔ بے تھاوو نماز پر پامیانہ یادہ خیطرہ۔

اَكَادُ اُخْفِيهَا لِتُجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ﴿۱۵﴾ فَلَا يَصِدُّكَ عَنْهَا  
 مِنْ لَابِئُونَ مِنْ بِهَا وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ فَتَرُدِّي ﴿۱۶﴾ وَمَاتَلِكَ بِمِثْنِكَ يُوسَى ﴿۱۷﴾  
 قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَاهْشُ بِهَا عَلَيَّ غَمِّي وَلِي فِيهَا  
 مَارِبٌ اٰخْرٰى ﴿۱۸﴾ قَالَ اَلْقَهَا يُوسَى ﴿۱۹﴾ فَالْقَهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ  
 تَسْعٰى ﴿۲۰﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولٰى ﴿۲۱﴾  
 وَاخْمُمُ يَدَاكَ اِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيِّضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ اِيَّةٌ

دو تم تھ چھ یہ کہ اِنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيهَا پتر پاٹھ قیامت چھ ضرور یوہ دن۔ بو چھوس  
 سو مخلوقن نشہ کھٹت تھا ون یڑھان۔ سو قیامت بیہ سمہ موکھ لِتُجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى مُتھ  
 پریتھ اکھاہ بدلہ حاصل بیہ کمر تھ تمہ سار گوی سمہ خیطرہ سو اورہ یور سعی و تلاش کران چھو  
 فَلَا يَصِدُّكَ عَنْهَا مِنْ لَابِئُونَ مِنْ بِهَا وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ فَتَرُدِّي پس مہ رٹنے ژہ پتھ تمہ قیامتہ فکرہ لغہ سو  
 شخص تمس نہ نہ پڑھی چھ۔ بیہ چھو سو فسخہ خواہشہ ہنز بیروی کران، ہر گاہ ژہ تم ڈو لکھ ادہ کوشھ ژہ  
 تباہ وَمَاتَلِكَ بِمِثْنِكَ يُوسَى ای موسی یہ کیاہ چھو توہہ دچھن اٹھس کیتھ قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّوْا  
 عَلَيْهَا وَاهْشُ بِهَا عَلَيَّ غَمِّي وَلِي فِيهَا مَارِبٌ اٰخْرٰى تمبو دوپ خدالیہ چھمہ پن لورہ ہن۔ بیہ چھن  
 بوٹنہ ڈکھراوان۔ بیہ چھس بوٹنہ ای سیت پنہ نین تیرن ہندہ خیطرہ پن چھانان۔ بیہ تہ چھمہ مہ اتھ منز  
 واریاہ مطلب قَالَ اَلْقَهَا يُوسَى اللہ تعالیٰ ان فر موسی ای موسی یہ لور تران اتھ منزہ زمینس  
 پیٹھ فَالْقَهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعٰى پس تران اتھ منزہ سنو لور۔ اتی بیووتھ ہجھ مچھ سرفاہ دورہ  
 دور کران۔ موسی علیہ السلام کھوژ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولٰى اللہ تعالیٰ ان  
 فر موسی کمر یوس تھہ، کھوژومہ۔ تھپ کرہ ونوی نمون اس یہ بیہ گڈ نکس حالتس کن۔ یعنی یہ سپدہ  
 بیہ لور۔ اکھ قدر تک نشانہ گویہ۔ امہ پتہ کرودہ عطا قدر تک بیا کھ نشانہ۔ وَاخْمُمُ يَدَاكَ اِلَى جَنَاحِكَ  
 تَخْرُجُ بَيِّضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ اِيَّةٌ اٰخْرٰى بیہ تھاووہن دچھن اتھ پنہ نس کھو فرس کڑھس منز سو نیرہ

اٰخِرٰى ﴿۳۳﴾ لِزَيْكٍ مِّنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ﴿۳۴﴾ اِذْ هَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّكَ  
 طَغٰى ﴿۳۵﴾ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ ﴿۳۶﴾ وَبَسِّرْ لِىْ اَمْرِىْ ﴿۳۷﴾ وَاَحْلِلْ  
 عُقْدَةَ لِسَانِىْ ﴿۳۸﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِىْ ﴿۳۹﴾ وَاجْعَلْ لِىْ وَزِيْرًا مِّنْ  
 اَهْلِىْ ﴿۴۰﴾ هٰرُوْنَ اَخِىْ ﴿۴۱﴾ اَشْدُدْ يَدِىْ اَزْرِىْ ﴿۴۲﴾ وَاَشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِىْ ﴿۴۳﴾  
 كِىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ﴿۴۴﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿۴۵﴾ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا  
 بَصِيْرًا ﴿۴۶﴾ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُوْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿۴۷﴾ وَلَقَدْ مَنَّا

تورہ سیٹھا سفید روشن۔ پہ پہ گرہ وں کنبہ عیبہ وراى۔ یہ جھو دو ستم مجزہ۔ ہم دوشوے مجزہ سانہ  
 قدر تک تہ تہندہ نیو تک ستم کمر اسہ توہمہ عطا۔ لِزَيْكٍ مِّنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى بٹھ اس توہمہ ہاودہ پندہ  
 قدر تہ کیو بڈیو نغانو آندرہ بعض نغانہ اِذْ هَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّكَ طَغٰى سبکے ہتھ گڑھو ہجہ فرعونس نشہ، ہنز  
 پاٹھ تم چھ سر کشی کمر مرث۔ تم جھو د عوائے خدائی دتتمت۔ موی علیہ السلا مس سپد معلوم کہ نو سہ  
 سوزنہ پیغیر فرعونس فہمالش کرنہ خیطرہ۔ تمو کور دعا کہ پروردگار امہ تھہ مصبک مشکات کر تہ مہ  
 سہل تہ آسان قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ \* وَبَسِّرْ لِىْ اَمْرِىْ تمو دوپ ای میانہ پروردگارہ میون حوصلہ  
 کر سیٹھا وسیع بیہ کر میان کوم۔ تبلیغ کزن آسان میانہ خیطرہ وَاَحْلِلْ عُقْدَةَ لِسَانِىْ \* يَفْقَهُوا  
 قَوْلِىْ بیہ مژراو پھیرک گنڈ میانہ زیوہ نشہ بٹھ لوکھ میان تھہ وارہ بوزن وَاَجْعَلْ لِىْ وَزِيْرًا مِّنْ  
 اَهْلِىْ \* هٰرُوْنَ اَخِىْ \* اَشْدُدْ يَدِىْ اَزْرِىْ بیہ کرتہ میانہ خیطرہ میون مددگار میانی خاندانہ منزہ  
 کانزہاہ۔ ہارون، نیس میون بوی جھو۔ تہمدی سمیت در روا تہ میان تھہ تہ میون قوت وَاَشْرِكْهُ فِىْ  
 اَمْرِىْ بیہ کزن سو میون شریک میانہ تبلیغہ چہ کامہ اندر یعنی سوتہ بناون پیغیر۔ تمس تہ کر حکم تبلیغ  
 کر تک كِىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا بٹھ اس دوشوے چون تسبیح آسو تبلیغہ وقتہ زیادہ کران وَنَذْكُرَكَ  
 كَثِيْرًا بیہ آسو چون یاد زیادہ کران اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا بیشک تہ جھوک سون حال وارہ وچھ  
 وَن قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُوْلَكَ يٰمُوْسٰى اللہ تعالیٰ ان فر مووس ای موی تہجہ اودہ عطا کرنہ یہ تہ



عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۞ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۞  
 أَنْ اقْدِفِي فِي التَّابُوتِ فَاقْدِفِي فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ  
 بِالسَّاحِلِ يَا خُذْهُ عَدُوًّا لِي وَعَدُوًّا لَكَ وَأَلْقِيَتْ عَلَيْكَ حَبَّةً  
 مِّنِّي ۗ وَلِصْنَعِ عَلِيٍّ عَيْنِي ۞ إِذْ تَمْشِي أَخْتِكَ فَتَقُولُ هَلْ  
 أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا  
 وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَوَقَلْتَ نَفْسًا فَجَعَيْنَاكَ مِنَ الْغُورِ وَوَقَلْتَ

منگان چھوہ۔ رب اشرح لی پیٹھ۔ تم گئے تم چیز تین ہند توہمہ درخواست کروہ وَاَلْتَمَدْنَا عَلَيْكَ  
 مَرَّةً أُخْرَى پز پاپاٹ آہ چھو توہمہ پیٹھ بیہ لہرہ احسان کورمت ٹہمدہ درخواستہ درای إِذْ أَوْحَيْنَا  
 إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ یلہ آہہ الہام ترود ٹہمزہ ماجہ والدس ٹہمدہ زینکہ وقتہ سوکتھ یوسہ الہامہ پاشی  
 وَاَتَانَهُ يَوْمَئِذٍ بِحَبَّةٍ مِّنِّي ۗ وَأَقْدِفِي فِي التَّابُوتِ فَاقْدِفِي فِي الْيَمِّ بیہ کتھ کہ موسیٰ بچاون جلاؤ  
 ہند یو اتھویشہ۔ یہ تھاون صندوقس منز توپتہ تراون سو صندوق دریاوس منز فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ  
 يَا خُذْهُ عَدُوًّا لِي وَعَدُوًّا لَكَ توپتہ واتہ ناوہ دریاء صندوقس پٹھس سیت۔ پتولاگس رٹہ اش اکھ  
 میون دشمن۔ بیہ تھوند دشمن وَأَلْقِيَتْ عَلَيْكَ حَبَّةً مِّنِّي بیہ ترودمہ توہمہ پیٹھ پٹن محبت۔ یعنی بس  
 توہمہ گن وچھان اوس تس اوس ٹہمد محبت گھھان وَلِصْنَعِ عَلِيٍّ عَيْنِي بیہ پٹھ ٹہمہ رچھنہ ابو میانہ خاص  
 گرانی تل بیہ گوتمی وقتہ إِذْ تَمْشِي أَخْتِكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ یلہ پکان پکان واثرنہ،  
 ہمشیرہ ٹہمزہ تہمد حال دریافت کران کران فرعونہ سئد گھرہ تمو آہہ انمورہ واریاہ دودہ ماجہ توہمہ دودنہ  
 خیطرہ۔ ٹہمہ آسورہ نہ کانہ ہمزبب رٹان۔ پس لچھ سو ٹہمزہ ہمشیرہ وننہ بوہا ہاودوہ توہمہ تس زمانہ ہند پتہ  
 یوسہ آہس وارہ پٹھ رچھہ۔ تمودوٹھل کبیرہ ہاہ کرتہ جلد پٹن۔ تمہہ ان والدہ ٹہمزہ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ  
 تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ توپتہ واتاودوہ آس تہمہ پندہ ماجہ نشہ یوتھ ٹہمزہ اچھہ شہلن۔ بیہ سپدہ نہ سو  
 ٹہمزہ جدائی سبہ غمگین۔ بوڈواتھہ کروہہ آس توہمہ بیاکھ احسان وَوَقَلْتَ نَفْسًا فَجَعَيْنَاكَ مِنَ الْغُورِ

فَتَوَّانَا فَلَيْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ لَمْ تَمَجِّدْتَ عَلَيَّ قَدِيرَ  
 يُمُوسَى ۳۵ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۳۶ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَتِي  
 وَلَا تَنِيأُ فِي ذِكْرِي ۳۷ إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۳۸ فَقَوْلَا لَهُ  
 قَوْلًا لَيْتَ الْعَالَمَةُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۳۹ قَالَ أَرَبْنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ  
 يُفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ۴۰ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ  
 وَأَرَى ۴۱ فَاتِيَهُ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ

وَقَفَيْتُكَ فُتُونَا بے موروں توہمہ غلطی سببہ قبیلو اندرہ اکھ شخصہ، ہنس ڈیت اسمہ توہمہ نجات غمہ  
 نغمہ۔ خوف عقابہ نغمہ ڈیت اسمہ توہمہ نجات استغفار ک توفیق دنہ سیت۔ ہنس استغفار اسمہ قول کور۔  
 خوف انتقامہ نغمہ ڈیت اسمہ توہمہ نجات، مصرہ نغمہ و اتاودہ اسمہ ٹہہ شہر مدینس منز۔ بے گرہ اسمہ توہمہ شہر  
 مدینہ و اتس تان واریاہ آزمایشہ سمو سیت انسان پختہ کار چھو بنان فَلَيْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تو  
 پتہ زودوہ ٹہہ شہر مدینہ کین لوکن نغمہ واریہن وریہن تَمَجِّدْتَ عَلَيَّ قَدِيرَ يُمُوسَى توپتہ و اتوہ ٹہہ  
 خاص و قس پیٹھہ ہنس تہمدہ خیطرہ تقدیرہ موجب موزون و مناسب اوس میانہ ہمکلامی خیطرہ بے مصرس  
 منزای موسی۔ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ٹہہ بناودہ مہ خاص پتہ کلمہ خیطرہ یعنی نبوت و رسالتہ خیطرہ  
 إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَتِي وَلَا تَنِيأُ فِي ذِكْرِي لہذا کہہ ہو ٹہہ بے ٹہمدہ برادر ہارون علیہ السلام میان  
 آیات ہتھہ یعنی میان معجزات عصا تہد بیضا ہتھہ۔ ٹہمدہ سستی کمر و میانس بازس اندر إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ  
 إِنَّهُ طَغَى گھو فرعونس نغمہ کیا زہ تم کمر سر کشی قَوْلًا لَيْتَ الْعَالَمَةُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ہنس  
 کمر و تس سیت کتھہ نرم نرم، شاند سوار تہ نصحت یا ما کھوڑہ خدایہ سدس عدائس قَالَا رَبَّنَا إِنَّا  
 نَخَافُ أَنْ يُفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى تمودو شوی ڈوپ ای سانہ پروردگارہ اس چھہ کھوڑان سو  
 گھمہنہ برو نغمی اسمہ پیٹھہ کتھہ بد سلوک سیت پیش من یا گھمہنہ نہ اسمہ برو ٹھہ کتھہ تہ سر کشی کردن۔ قَالَ  
 لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ کھوڑوہ ٹہہ۔ امیک مہ کمر و کانہہ پرول۔

إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبَهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ  
 عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ۚ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ  
 كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۙ قَالَ فَسِنَّ رَبُّكُمْ يُوسُفُ ۙ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى  
 كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ۙ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ۙ  
 قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ۙ

یو چھوس پانہ توہہ سیت سوزی بوزان سوزی وچھان۔ میان یاری تہ مدد چھو توہہ سیت فکر مہ سکر و  
 بوکرہ ہنہز حفاظت سو کرن بو مرعوب قَائِلُهُ فَقَوْلًا تَارِسُ وَلَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ  
 لہذا کہہ جو تہ نشہ بے خوف وخطر۔ تو پتہ ونبوس پنز پاٹ اس چھہ چانس پروردگارہ سہہ طرفہ زہ پیغمبر  
 لہذا کہ تہ سان اطاعت۔ توحید مان۔ ہیہ روز ظلمہ نشہ پتہ۔ تراو کہ اسہ سیت بنی اسرائیل۔ تم مہ ہلاک  
 تہ ہن غلام۔ تم کر کہ آزاد۔ تم نہ آزادانہ زندگی بسر کرنہ وَلَا تَعَذِّبَهُمْ تہن پیٹہ مہ کر ظلم۔ اس نئس  
 پیغمبری ہند دعوے کر ان چھہ، ہیہ دعوے وچھنہ کر ان اس پتہ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى  
 مِنْ اتَّبَعَ الْهُدَى پنز پاٹ اس چھہ آمت تہ نشہ چانس پروردگارہ سہہ طرفہ مجرہ ہتہ۔ سلامتی چھہ  
 تہ شخصہ سہہ خیطرہ نئس پیروی کرہ سیزہ و تہ ہنہز إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ  
 وَقَوْلِي أَسِئْرِي بِهَمْ پنز پاٹہ وحی نازل آمت کرنہ کہ بیشک خدایہ سہ عذاب ہیہ تہ کرنہ نئس پنز س  
 زانہ اہز ہیہ کرہ روگردانی پتہ پز و نشہ پھر ہتہ۔ ہیہ سوزی مضمون و نئس۔ چنانچہ تم دوشوے آئے  
 فرعون نئس نشہ ہیہ سوزی مضمون کو رکھ تہ بیان۔ قَالَ فَسِنَّ رَبُّكُمْ يُوسُفُ فرعون دو چھہ تورہ  
 سو گئس چھو تہند پروردگارہ موسیٰ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى حضرت موسیٰ  
 ان دو نئس سون پروردگار چھو سوزی نیم پر چھہ چیز س دژ ہن ہن صورت تہ شکل۔ تو پتہ تم تمواندرہ  
 جاندار چیز چھہ تہن ہاون و تہ پنے نین پنے نین منافع نئس قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى فرعون دو چھہ  
 برو تھمہ وقتہ کین لوکن ہند کیاہ حال سہد سمو برو تھمہن پیغمبر نکلذیب کر، تہن پیٹہ کوہ عذاب سہد

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَ  
 أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ۝۵۳  
 كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ۝۵۴  
 مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝۵۵ وَلَقَدْ آرَيْنَهُ

نازل قَالَ عَلِمَّا عِنْد رَبِّي فِي كِتَابٍ حضرت موسیٰ ان دونہیں کہ میون دعویٰ چھونہ کہ سُو عذاب  
 کیاہ سپدہ تین دنیاء سی اندر ضرور بلکہ چھو سُو عذاب دنیاء س منزتہ تین ہندہ ہتھ۔ ہر گاہ سُو بیٹھہ  
 آخرتس منز چھو یقینا۔ چنانچہ تہمدین بد اعمالن ہند علم چھو میانس پروردگار س نغمہ اعمالن ہندس  
 دفترس منز موجود۔ اگرچہ تس چھند ضرورت دفترس محفوظ تھاوچ کیاہہ میون پروردگار چھو تیتھہ زان  
 وول کہہ لَايُضِلُّ رَبِّي وَلَا يَشِيءُ نہ چھو سُو غلطی کران کُنہ چیزس منز نہ چھو تس مینتھہ گوشان۔ پس  
 چھو تس تہمدین سارنی عملن ہند صحیح علم مگر عذابہ خیطرہ چھون وقاہہ مقرر کورمت۔ یلہ سُو وقت  
 ولتہ، سُو عذاب پیہ تین پیٹھہ جاری کرنہ۔ یوتان سپد موسیٰ علیہ السلامن تقریر ختم۔ امہ پتہ چھو اللہ  
 تعالیٰ پن شان پانہ فرماوان الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَ أَنْزَلَ مِنَ  
 السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى سُو پروردگار گو سُو نیم زمین کمر تہندہ خیطرہ و شھرناہ  
 تھہ پیٹھہ چھو تہہ آرام کران۔ پیہ کُن اتھ زمینس منز تہندہ پختہ خیطرہ و تہ۔ پیہ تروون آسمانچہ طرفہ  
 رُوو۔ پس کھار اسہ تھی رُووہ سیت زمینہ منز مختلف نباتات۔ گاسن ہند اقسام كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ  
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ توپتہ آوتوہہ اجازت دنہ کہ کھیو تہہ اکھ پانہ پیہ کھایو کہ پن چاروا ی تہ  
 مویثی۔ پزپاٹ تین سارنی چیزن منز چھہ کم کم نشانہ خداہ سبدہ قدر تک عقلہ والین ہندہ خیطرہ۔ پیٹھہ  
 پاٹ نباتات اسہ کھار زمینہ منز پیٹھہ پاٹھہ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى  
 امی زمینہ نشہ کمر وہ لسہ توہہ بیدہ۔ ابتداءس اندر آو حضرت آدم بیدہ کرنہ میوہ۔ لہذا چھو سارنی  
 انسان ہند مادہ بعید میوہ۔ پیہ واتا و وہ تہہ اتھ میوہ اندر رنہ پتہ۔ امی میوہ منزہ کڈوہہ پیہ دُوبارہ قیامتگ  
 دوہ وَلَقَدْ آرَيْنَهُ الْبَيْتَاطْلُكَا فَكَذَّبَ وَآبَى پزپاٹ پیہ ہلے اسہ فرعونس پن ساری نشانہ تہ معجزہ

اٰتَيْنَا كُلَّهَا فَاكْذَبَ وَاٰبِي ﴿۵۳﴾ قَالَ اٰجِئْتَنَا بِالتَّخْرُجَانِ مِنْ اَرْضِنَا  
 بِسِحْرِكَ يٰمُوسٰى ﴿۵۴﴾ فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ  
 مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا اَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿۵۵﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ  
 يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضَمِي ﴿۵۶﴾ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ  
 كَيْدَهُ ثُمَّ اٰتٰى ﴿۵۷﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوسٰى وَيَلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا  
 فَيَسْجِدْكُمْ يَعْذَابٍ وَّوَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى ﴿۵۸﴾ فَتَنَازَعُوْا اَمْرَهُمْ

تہ کمر تھ تہ زون تم اہڑی بیہ کوزن انکاری قَالَ اٰجِئْتَنَا التَّخْرُجَانِ مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوسٰى تہ نہ  
 لگ ای موسیٰ کیا تہ چھوہ آسہ نش آست بیہ دعویٰ ہی تہ ہی تہ ای ہمانہ سیت آسہ پتہ ملکہ منزہ کڈوہ پتہ  
 بحرہ تہ جاہہ سیت ای موسیٰ فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا  
 اَنْتَ مَكَانًا سُوًى اَس تہ اَنوچانس جادس ہیو بحرہ تہ جو دمقابلہ خیطرہ۔ پس کراسہ تہ پانس منز مقرر آہ  
 وقاہ نہ گرد آس تہہ خلاف تہ نہ کمر و تہہ تہہ خلاف۔ اَس صاف تہ ہموار میدانس منز سمو اَس  
 دو شوے مقابلہ خیطرہ۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَاَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضَمِي حضرت موسیٰ علیہ  
 السلامن دو کھ وعدہ تہند چھو تہمہ دوہہ ہی تہہ منز توہہ میلہ آسان چھو۔ ہم آس فرعونہ سہد سالگرہ  
 مناوہہ خیطرہ میلہ لاگان۔ (معلوم سہد سالگرہ مناوہہ چھو فرعونہ سہد ایجاد۔ مترجم) مگر شرط چھو لو کن  
 ہند گھوہ اڈہ کاجس جمع سہدن فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ اٰتٰى توپتہ گوہہ بوزت فرعون، دربارہ  
 منزہ دراوہ۔ پس تہن کزون جمع مکرک سوزوی سامانہ۔ توپتہ آومقرر کر قس دوہس پیٹہ، بیہ اَن ساری  
 پانس سیت۔ قَالَ لَهُمْ مُّوسٰى وَيَلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا فَيَسْجِدْكُمْ يَعْذَابٍ وَّوَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى تہہ  
 دوہہ ادہ تم ساری جادوگر سیتے، حضرت موسیٰ اَن کوزکھ تقریر۔ تہہ منز فرمودکھ ای جادوگر و تہہدہ  
 خیطرہ چھو افسوس تہہہ مہ نور او و خدا پس پیٹہ اپز۔ ہر گاہ تہ تہہ آسہ نچہہ تہہ روز و تیلہ گالہ وہ سو توہہ  
 پتہ عذابہ سیت۔ پز پاپ ہم اپز نور و خدا پس پیٹہ سو گو یقیناً ناکام فَتَنَازَعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسْرُوا

بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴿٦٧﴾ قَالُوا إِنْ هَذَا لَسِحْرٌ يُرِيدُنَ أَنْ  
يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَى ﴿٦٨﴾  
فَاجْبِعُوا لَكُمْ تَمِيمًا وَصَفًا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ﴿٦٩﴾  
قَالُوا يُمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى ﴿٧٠﴾  
قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَأَذَابَ اللَّهُ لِهَؤُلَاءِ نَجْمًا مِّنْ سِحْرِهِمْ  
أَنهَاتَسْعَى ﴿٧١﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ ﴿٧٢﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ  
إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿٧٣﴾ وَالَّذِي مَاتَ فِي يَدَيْكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا

النجوى تمہہ پتہ ہیوت تموجادوگروپانہ وان اختلاف کرن بیہ ہیو کہ لوپہ لوپہ کن سترہ کرنہ قالوا ان  
هذین لیسحرین یریدین ان یرجکوم من ارضکم بسحرہما ویذہبا بطریقکم المثلی دینہ لگ اکہ وئہ  
ساری جادوگر تسم دوشوے بارن موسیٰ و ہارون علیہ السلام پشک جادوگر۔ تم پشک یوشان توہمہ  
سارنی کڈنوہ پنہ نیو شہر و اندرہ۔ بیہ ژلن ہتھ توہمہ ہتھ تہمد عمدہ مذہب توپتہ کرن سوختم فاجبوعوا  
کیدکم تمہ انتواصفا پس سونبر اووہن ساری حیلہ توپتہ ایو صفت دی دی مقابلہ کرنہ خیطرہ  
وقد افلحہ الیوم من استعلیٰ پز پانہ ازیزون تھی نلس غالب سپد۔ قالو یوموسیٰ ایمان تلتقی و ایمان ان  
تکون اول من التقی جادوگروو پ ای موسیٰ تہمہ تراوہ کہہ اسی تراوہ گوڈہ قال بل القوا تموج  
دویک نہایت بے پروائی سان۔ نہ گوڈہ تراوہ تھی۔ فاذا اجابہم و عصیہم یخیل الیہ من سحرہم  
انہا تسعی توپتہ ترورو تموہن جوو۔ آتی آو حضرت موسیٰ سیدس خیالس اندر تہمدہ جادکہ زورہ سیدت  
کہ تہمزہ رزہ تہ لورہ پشک سرفن ہمد پانہ دورہ دورہ کران۔ فاوجس فی نفسہ خیفہ موسیٰ توپتہ لگ  
حضرت موسیٰ پانس منز خوف محسوس کرنہ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى اسیہ دوپس ای موسیٰ  
کھوژمہ غالب روز کہ ڈی والقی ما فی یدیک تلتقف ما صنعوا بیہ تراوہ تہ بیہ ژہ پنہ نلس د پشک

صَنَعُوا كَيْدًا سِحْرًا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿۳۶﴾ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ  
سُجَّدًا قَالُوا أَمَّا تَابِرْتُ هَارُونَ وَمُوسَى ﴿۳۷﴾ قَالَ أَمْتُمْ لَهُ قَبْلَ  
أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا قَطْعَ  
أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصَلَتِكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ  
وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْغَى ﴿۳۸﴾ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا  
جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ

اٹھس کیتھ چھوی یعنی عصا، ٹکوی میونڈ کڈھ سو عصا اتھ ساری یہ تمبو تیار کورمٹ چھو۔ اِنَّمَا صَنَعُوا  
کیدا سحر و لا یفلح السحر حیث ائی سمو چھونہ تیار کورمٹ مگر جادوگرہ سُد مکر تہ فریب۔ جادوگر چھو  
نہ کامیاب سپدان کنہ جایہ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ ان یلہ لور پین ہنتر تراؤتھ لورہ بنیو واژدہ اسم اتھ  
ساری جادوگرن ہمدس جادس ستیاناس کور، تہ یلہ جادوگر وچھ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا تم جادوگر  
آئے وکراونہ سجدس منز قَالُوا أَمَّا تَابِرْتُ هَارُونَ وَمُوسَى تمو دوپ اسہ کمر پڑھ حضرت ہارون تہ  
حضرت موسیٰ سندس بدوردگارس قَالَ أَمْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ فرعون دوچھ کیاہ توہمہ کمرودہ  
پڑھ تھ میانہ اجازتہ وراى اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ معلوم چھو سپدان یہ چھو تھمہ زبٹھ  
سم تھمہ تہ سحر تہ جوڈ پچھ نامت چھو۔ وون وچھو بوکیاہ کردوہ توہمہ فَلَا قَطْعَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ  
خِلَافٍ وَلَا وَصَلَتِكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ کس ژٹہ بو توہمہ اتھ تھمہ تہ کھور تھمہ وچھن کھو فر۔ یہ  
دمووہ بو تھمہ پچھمہ خضر کلین پیٹھ ساری لوکھ وچھن تھمہ حال وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْغَى یہ  
ترہ توہمہ فخرہ زہ اسہ منزہ کہمہ چھو زیادہ سخت تہ پوشرہ وون عذاب کرہ وون۔ بوچھسانہ موسیٰ سند  
پروردگار۔ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا جادوگر وونہ ای فرعون گدھ  
گدھ۔ اس ہرگز تہ مانو تھنہ، ژہ اختیار کروت نہ بنیو دلیکو خو تہ سمہ اسہ زبٹھ واژدہ۔ یہ کس پروردگارہ  
سدہ خو تہ سم اس پیدہ کمر قاضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کس ژہ یگرن چھوی

إِنَّمَا تَقْضَىٰ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿۴۶﴾ إِنَّا أَمْثَلْنَا بِتَابِ لِيْغْفِرَ لَنَا  
 خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿۴۷﴾  
 إِنَّهُ مِنْ يَّاتِ رَبِّهِ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ  
 لَا يَحْيَىٰ ﴿۴۸﴾ وَمَنْ يَّاتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ  
 لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿۴۹﴾ جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿۵۰﴾

تہ کر۔ اُس کھوڑہ ون چھنہ۔ بوڈ بوڈ بم گوڑہ چلاؤ کہ حکم تہہ سانہ دُنیا چہ زندگی پیٹھ۔ یعنی اسہ مار کہ تمک چھونہ اسہ کانہہ پروا۔ اِنَّا اَمْثَلْنَا بِتَابِ لِيْغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اُس چھہ علی الاعلان دنان پبزپاٹ اسہ کمر پڑھ پنہ نس پروردگار س دیوہ سوا سہ مغفرت تہ بخفا نش کر گنہن سائین بیہ سانس جود کر نس تہہ پیٹھ ڈی اُس مجبور کمرت معبود برحق چھو باعتبار ذات و صفات سیٹھاہ رُت، باعتبار ثواب و عقاب تہ چھو پوشہ ون۔ باقی روزہ ون۔ ڈہ چھوی نہ خیریت نصیب نہ بقا۔ اسہ کیاہ کھہہ چون انعام فخرہ یا چون عذاب۔ اللہ تعالیٰ سُد قانون چھو اِنَّا مِنْ يَّاتِ رَبِّهِ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ لَا يَحْيَىٰ پبزپاٹ نس شخص ولتہ پنہ نس مالکس بروٹھ گن گنہگار تہ تا فرمان یعنی کافر حالتس اندر کس تہندی خیطرہ چھو سزا سہ نار جہنم۔ تہہ منز واتھہ نہ سہ نہ اسہ زندہ۔ کیاڑہ زندہ روزن گنیو آرا ماہ تلہ ہا وَمَنْ يَّاتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ البتہ سم واتن پنہ نس مالکس نشہ نس ایمان انہ ون بیہ آس وس واقعی رتہ عملہ کرہ مڑہ۔ تمنی لوکن ہمدہ خیطرہ چھہ تھہد درجہ جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ تم تھہد درجہ گئے ہمیشہ روزیک باغ سمو منز جوہہ تہ کولہ پکان آسن۔ تمنی جشن منز آسن روزہ ون تم ہمیشہ۔ پیہ چھہ مزور تمن لوکن ہنز سم شرکہ تہ گھرہ نشہ پاک آسن۔ اٹھ قانونس ماتحت ترود اسہ گھر، اختیار کور اسہ ایمان وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي



وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ  
لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝۴۴  
فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝۴۵  
وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ ۝۴۶ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ  
أَنْجَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَ وَوَعَدْنَاكَ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ  
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۝۴۷ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا  
رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ

فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝۴۴ بے سوزاںہ وحی پڑھاٹ موسیٰ اس گن کہ نیر و نجرہ میان بندہ یعنی بنی اسرائیل بیتہ۔ رات کیت و اتناویو کہ دُور کتہ جایہ بیتہ تم فر عوہ سترہ ظلمہ نشہ نجات لئین۔ تو پتے و تہ منز تو بہہ دریاہ قلزم ایہ تہہ لایہ پندہ لورہ سیت ژنڈ۔ تمہ منزہ کتہ و تہہ خشک۔ تہہ مہ کتہ ژو فر عوہ سترہ س پتہ لاریت رٹہ نس۔ نہ مہ کتہ ژو دریاوس منز پتہ نس تہہ و اتناوودہ اُپور امن و امانہ سان فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ۝۴۵ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝۴۵ کس دوریو پتہ تہن فرعون ہن لشکر بیتہ۔ تو پتہ ووت سوتہ اتہ دریاوس منز۔ سوتہ پوک ای دریاوہ منز۔ کس ول تم دریاوہ منزہ تم چیزن تم تم ول یعنی آب آکھ پریتہ طرفہ تمی کتر غرق وَاَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۝۴۶ بے ڈول و تہ فرعون ہن قوم۔ سیز و تہہ ہلو کتہ ساری پھاٹون کولہ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَ وَوَعَدْنَاكَ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ای بنی اسرائیلو و جھو آسہ ڈیت تو بہہ نجات تہندس ہڈس دشمن نشہ بے تھوواسہ وعدہ تو بہہ یعنی تہندس پیغمبرس موسیٰ کلیم اللہس کوہ طورہ کس دچھنس پاس پیٹہ بنگ۔ تہہ تواریت عطا کرنک۔ بے کوراسہ نازل تو بہہ پیٹہ وادی تہنس منز من و سلوی۔ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ

يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَىٰ ﴿٨٦﴾ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿٨٧﴾ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ ﴿٨٨﴾ قَالَ هُمْ أَوْلَاءٌ عَلَيَّ أَشْرَىٰ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٩﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ أَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿٩٠﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ

عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَىٰ اسہ دون ٹہہ کھیورت چیز۔ تموی چیز و آندره تم اسہ توبہ عطا کر۔ بٹھنہ ٹہہ تھ منزحدہ ڈلو۔ پگہمہ خیلرہ تھ اوڈ خیرہ کمر تھ۔ تھ پیٹھ سپد وہ میان بیزاری۔ بس پیٹھ میان بیزاری سپدہ بس پنز پاٹھ سو پیو خواری ہندین سر نین چمن اندر وائی لغفار لمن تاب وامن و عمل صالحا ثم اهتدى پنز پاٹھ یو چوس سیٹھا مغفرت گرہ ون تمن تم توبہ کرن ایمان ان بیہ رثہ عملہ کرن تویتہ روزن قائم تھ سیزہ و تہ پیٹھ۔ یلہ اللہ تعالیٰ ان منظور کور موسیٰ علیہ السلا مس تورايت عطا کرن۔ فر موونجھ کوہ طورس پیٹھ ایو۔ سیت اینو کہ پنہ قومہ منزہ بعضی اشخاص۔ مگر موسیٰ علیہ السلا مکر جلدی قومس بروٹھی وات کوہ طورس پیٹھ۔ اللہ تعالیٰ ان فر مووس وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ ای موسیٰ تہ کم چیزن اوکھ پنہ بس قومس بروٹھ مہ نش۔ تم کیا زہ تراوتھکھ پٹھ۔ قَالَ هُمْ أَوْلَاءٌ عَلَيَّ أَشْرَىٰ عرض کوزن یکیا تم چھہ پکان مہ پتے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ مہ کمر جلدی تہ نشہ حاضر سپدہ خیلرہ بٹھ تہ راضی گرھہ تم میا نہ پد و درگاہہ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ أَعْدِكَ اللہ تعالیٰ ان فر مووس اے موسیٰ تہ پتہ کور اسہ چون قوم بس آزما نشہ اندر بتلا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ تم ڈال سامرین فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا بس پھیور پوت حضرت موسیٰ پنہ بس قومس کن ٹکھہ ہوت انوس کران قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّ أَحْسَنًا قومس دو مان ای قوم توبہ سیت

رَبِّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفْطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْرًا دُشْمَانٌ  
يَجِيءُ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ﴿۸۷﴾  
قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمِلْنَا آوَارًا مِّنْ زِينَةِ  
الْقَوْمِ فَقَدْ فُتِنَّا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿۸۸﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا  
جَسَدًا آلَهُ خَوَارٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ لَأَفْنَىٰ ۗ ﴿۸۹﴾ أَفَلَا

اوس ناپروردگارن تہمہ وعدہ کورمت رت وعداہ کہ توبہ کرووہ عطا اکہ کتاباہ تہہ منز تہمہہ خیطرہ  
احکام آسن۔ توبہ اوس لازم تمیک انتظار کرن افطال علیکم العہد کیاہ تہہ وعدس گیاوہ توبہ زیادہ  
ثیر تا اینکه توبہ سبز نامیدی تمہ نشہ نہ توبہ کمر وہ ایجاد اکہ عبارتہ پائے۔ امراد دشمن ان یجیل علیکم  
غضب من ربکم کہ توبہ کا نچھوہ نامید سپدنہ ورا ی پانس پیٹھ پنہ نس خدلیہ سنز بیزاری  
فأخلفت موعیدی تہہ کن نظر کمر تہہ کورہ میانس وعدس بدل کہ آس گرونہ کنس خدانس ورائے بیہ  
کانسہ ہنز پرستش قالوا ما أخلفنا موعداک بملکنا تمودوپ آے موسی اسہ کورنہ تہمہدس وعدس  
بدل پنہ اختیارہ ولکننا حملنا آوارا من زینۃ القوم فقد فتننا لیکن قصہ سپد تہہ پاتھ کہ آس آس  
تلتاوندہ آمت قوم قبلک گہنہ نہ زیور سوسی تراویو واسہ سامری سہہ ووندہ موجب نارس منز گالک خیطرہ۔  
سوزیور اوس نہ ویدہ تموپنہ نس تصر فس منز اومت کیازہ سومال اوس تمن بنیومت قطبی کافرن نشہ۔  
تہمہہ رضامندی ورا ی۔ تمن اوس نہ وندہ تمیک حکم بیان آمت کرنہ شریعت موسوی موجب۔ تمی  
وونکھہ سامرین کہ یہ مال تھا ووتان جمع کمر تہہ تہہ پاتھ روزہ یہ محفوظ۔ پتہ یلہ حکم بیان یہ کرنہ اتھ  
متعلق تمہ ساتہ گرو تقسیم۔ سامر اوس اکہ گاہہ ملگ شامس اندر تیکوی اوس یہ شخص۔ تمی آس وتان  
سامری۔ یہ شخص اوس منافق فکذالک القى السامیری تہہ پاتھ ترود سامرین نہ پنہ حصک زیور  
نارس منز گالک خیطرہ فأخرج لهم عجلا جسدا آلہ خوار فیس کوڈ تمی لوکن ہندہ خیطرہ تہہ ساری  
سونس بناو تہہ اکہ ووتھہا، ووتھہ سہد جسمہ۔ تہہ آس آوازہ ووتھہ سنزی ہش۔ یعنی سوسونہ سہد ووتھہ

يَرُونَ الْأَيْرِجَةَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۖ وَلَا يَبْلُغُ لَهُمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا ۙ ﴿٩٥﴾  
 وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ اللَّهِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ  
 رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۙ ﴿٩٦﴾ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ  
 عَلَيْهِ عٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۙ ﴿٩٧﴾ قَالَ يُهْرُونَ مَا  
 مَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۙ ﴿٩٨﴾ أَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۙ ﴿٩٩﴾

اوس ٹانگ روان وژھ سہ پاٹھ۔ فَقَالُوا تھ نسبت لگ ونہ تم احمق لو کہ اکھ انیس هَذَا إِلَهُكُمْ وَ  
 إِلَهُ مُوسَىٰ قَنِیٰ یو ہے چھو تھند معبودیہ حضرت موسیٰ سند معبود۔ امسزی کمر و عبادت۔ تھس  
 (یعنی حضرت موسیٰ اس) زود نہ زیتس سو گو کوہ طور س پیٹھ معبود سیت ملاقات کرنہ اَفَلَا يَرُونَ  
 الْأَيْرِجَةَ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۖ وَلَا يَبْلُغُ لَهُمْ صَرًّا وَلَا نَفْعًا ۙ ہم احمق لو کہ چھہا و چھہان کہ و وژھ چھو نہ تمکن  
 کانہ جوابہ ہیکان پھیر تھ وژھ۔ یہ چھو نہ سو مالک عنہ ضرر س تھند س نہ عنہ نفیس وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ  
 هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ اللَّهِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ اوس پتر پاٹھ تھن و وژھت حضرت موسیٰ سہہ واپس ینہ  
 بروٹھ ہارون علیہ السلام کہ ای میانہ قومہ تھہ آوہ آزماوہ نہ تھس وژھ سہہ سیت۔ تھہ پھے وہ  
 گرا ہی اندر وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي بیشک تھند ہروردگار چھو حضرت رحمن، یہ  
 و وژھ چھو نہ لہذا کھر و تھہ میان پیروی یہ مانو میون حکم۔ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ  
 إِلَيْنَا مُوسَىٰ تمود و پھس جواب اُس روز و برابر اہس وژھ سز پر ستش کران یوتان واپس ایہ اسہ  
 نیشہ حضرت موسیٰ۔ تو پتہ آو واپس حضرت موسیٰ۔ تو مس گن خطاب کرنہ پتہ فرمود تمو ہارون علیہ  
 السلام پیٹھرس قَالَ يُهْرُونَ مَا مَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۙ \* اَلَا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي حضرت  
 موسیٰ ان روپ ای ہارون تھہ کم چیزن روٹھ و تھہ مہ نیشہ و اتنہ نیشہ توہہ و تھہ وکھ تم گراہ پدان یعنی توہہ  
 پزہ ہاتم اتھی تراون تہ مہ نیشہ و اتن۔ تمکن سپدہ ہاتمہ سیت معلوم اسہ کھر یہ ناجائز حرکت۔ مہ اوس  
 توہہ و وژھت کہ (وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الْمُنْفِئِينَ) تھنہ تھہ پیروی کھر و مفسدن ہنزہ و تہ ہنز لہذا کیا زہ کورہ

قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِيَّاي خَشِيتُ أَنْ  
تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي<sup>۱۴</sup> قَالَ  
فَمَا خَطْبُكَ يَا مِيرِي<sup>۱۵</sup> قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ  
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ  
لِي نَفْسِي<sup>۱۶</sup> قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا  
مِسَاسَ مِنِّي وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي

توہمہ میانس اتھ خمس بدل۔ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ہارون علیہ السلام دو کھ  
باہی صابانہ ہنز کمر تھپ ریش سے مستس میانس۔ اموی رینتھ مہ لٹھومہ۔ ذراتراو حشم وارہ بوزتھ ای  
خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي بُو کھو ژس تھی ماد پو ژہ کور تھ  
تفرقہ تہ جدائی بنی اسرائیل کن منز۔ ژہ کور تھ نہ کانہ خیال میانہ تھہ ہند۔ میان تھہ تھاو تھہ نہ تھیس۔  
توپتہ سہد حضرت موسیٰ متوجہ سامرئیس کن قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مِيرِي دو پھس اے سامری چون  
معاملہ کیاہ چھو۔ ژہ کھہ وکانہ گوی، پشہ حرکت کیا زہ کرتھ ژہ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ  
دوہن مہ آو بوزنہ تی یہ نہ لوکن بوزنہ آو۔ یعنی جبریل امین یلہ حضرت موسیٰ اس نشہ آو سو اوس تمہ  
ساتہ گرس کیتھ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ کس تج مہ اکھ سیڑہ موٹھاہ سوزنہ آتس شخصہ سندہ  
سواری ہند پو کھو روتلہ۔ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي سنوی تراوم سنونہ و ژس منز۔ یہوی  
خیالہ دو تھ مہ تمہ ساتہ دلہ پیٹھ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ حضرت  
موسیٰ ان دو پھس گڑھہ چانہ چھہ چھو امیک سزاد نیاس اندریو ہے کہ آتس کالس ژہ زندہ چھہ ژہ آسٹھ  
وانان لوکن دُور رُوزومہ بٹھہ اتھ لاگو وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَنَّهُ بیہ چھہ امہ علاوہ چانہ خیطرہ  
عذابگ وعداہ کس نہ دلٹھہ بیجہ۔ متھنہ ژہ سیت بدل بیہ کرنہ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي كَلَّمَتْ عَلَيْهِ  
عَاكِمًا لِّلْعَوْرَةِ لَمْ لَنْ تَسْفَعْنَاهُ فِي أَلْمِ تَسْفَعًا بیہ وچھہ ژہ پنہ نس باطل معبودس کن، کس ڈاڈا کتر تھ اوسٹھ

ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا لِنَحْرِ قَبْتِهِ ثُمَّ لَنْسِفَتَهُ فِي الْيَوْمِ نَسْفًا ۙ  
 إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۙ كَذَلِكَ  
 نَقَضُ عَلَيْكَ مِنْ آبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا  
 ذِكْرًا ۙ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۙ خَلِدِينَ  
 فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ۙ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ  
 الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۙ يَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا

۳۰  
 ۳۱  
 ۳۲  
 ۳۳  
 ۳۴  
 ۳۵  
 ۳۶  
 ۳۷  
 ۳۸  
 ۳۹  
 ۴۰  
 ۴۱  
 ۴۲  
 ۴۳  
 ۴۴  
 ۴۵  
 ۴۶  
 ۴۷  
 ۴۸  
 ۴۹  
 ۵۰  
 ۵۱  
 ۵۲  
 ۵۳  
 ۵۴  
 ۵۵  
 ۵۶  
 ۵۷  
 ۵۸  
 ۵۹  
 ۶۰  
 ۶۱  
 ۶۲  
 ۶۳  
 ۶۴  
 ۶۵  
 ۶۶  
 ۶۷  
 ۶۸  
 ۶۹  
 ۷۰  
 ۷۱  
 ۷۲  
 ۷۳  
 ۷۴  
 ۷۵  
 ۷۶  
 ۷۷  
 ۷۸  
 ۷۹  
 ۸۰  
 ۸۱  
 ۸۲  
 ۸۳  
 ۸۴  
 ۸۵  
 ۸۶  
 ۸۷  
 ۸۸  
 ۸۹  
 ۹۰  
 ۹۱  
 ۹۲  
 ۹۳  
 ۹۴  
 ۹۵  
 ۹۶  
 ۹۷  
 ۹۸  
 ۹۹  
 ۱۰۰  
 ۱۰۱  
 ۱۰۲  
 ۱۰۳  
 ۱۰۴  
 ۱۰۵  
 ۱۰۶  
 ۱۰۷  
 ۱۰۸  
 ۱۰۹  
 ۱۱۰  
 ۱۱۱  
 ۱۱۲  
 ۱۱۳  
 ۱۱۴  
 ۱۱۵  
 ۱۱۶  
 ۱۱۷  
 ۱۱۸  
 ۱۱۹  
 ۱۲۰  
 ۱۲۱  
 ۱۲۲  
 ۱۲۳  
 ۱۲۴  
 ۱۲۵  
 ۱۲۶  
 ۱۲۷  
 ۱۲۸  
 ۱۲۹  
 ۱۳۰  
 ۱۳۱  
 ۱۳۲  
 ۱۳۳  
 ۱۳۴  
 ۱۳۵  
 ۱۳۶  
 ۱۳۷  
 ۱۳۸  
 ۱۳۹  
 ۱۴۰  
 ۱۴۱  
 ۱۴۲  
 ۱۴۳  
 ۱۴۴  
 ۱۴۵  
 ۱۴۶  
 ۱۴۷  
 ۱۴۸  
 ۱۴۹  
 ۱۵۰  
 ۱۵۱  
 ۱۵۲  
 ۱۵۳  
 ۱۵۴  
 ۱۵۵  
 ۱۵۶  
 ۱۵۷  
 ۱۵۸  
 ۱۵۹  
 ۱۶۰  
 ۱۶۱  
 ۱۶۲  
 ۱۶۳  
 ۱۶۴  
 ۱۶۵  
 ۱۶۶  
 ۱۶۷  
 ۱۶۸  
 ۱۶۹  
 ۱۷۰  
 ۱۷۱  
 ۱۷۲  
 ۱۷۳  
 ۱۷۴  
 ۱۷۵  
 ۱۷۶  
 ۱۷۷  
 ۱۷۸  
 ۱۷۹  
 ۱۸۰  
 ۱۸۱  
 ۱۸۲  
 ۱۸۳  
 ۱۸۴  
 ۱۸۵  
 ۱۸۶  
 ۱۸۷  
 ۱۸۸  
 ۱۸۹  
 ۱۹۰  
 ۱۹۱  
 ۱۹۲  
 ۱۹۳  
 ۱۹۴  
 ۱۹۵  
 ۱۹۶  
 ۱۹۷  
 ۱۹۸  
 ۱۹۹  
 ۲۰۰  
 ۲۰۱  
 ۲۰۲  
 ۲۰۳  
 ۲۰۴  
 ۲۰۵  
 ۲۰۶  
 ۲۰۷  
 ۲۰۸  
 ۲۰۹  
 ۲۱۰  
 ۲۱۱  
 ۲۱۲  
 ۲۱۳  
 ۲۱۴  
 ۲۱۵  
 ۲۱۶  
 ۲۱۷  
 ۲۱۸  
 ۲۱۹  
 ۲۲۰  
 ۲۲۱  
 ۲۲۲  
 ۲۲۳  
 ۲۲۴  
 ۲۲۵  
 ۲۲۶  
 ۲۲۷  
 ۲۲۸  
 ۲۲۹  
 ۲۳۰  
 ۲۳۱  
 ۲۳۲  
 ۲۳۳  
 ۲۳۴  
 ۲۳۵  
 ۲۳۶  
 ۲۳۷  
 ۲۳۸  
 ۲۳۹  
 ۲۴۰  
 ۲۴۱  
 ۲۴۲  
 ۲۴۳  
 ۲۴۴  
 ۲۴۵  
 ۲۴۶  
 ۲۴۷  
 ۲۴۸  
 ۲۴۹  
 ۲۵۰  
 ۲۵۱  
 ۲۵۲  
 ۲۵۳  
 ۲۵۴  
 ۲۵۵  
 ۲۵۶  
 ۲۵۷  
 ۲۵۸  
 ۲۵۹  
 ۲۶۰  
 ۲۶۱  
 ۲۶۲  
 ۲۶۳  
 ۲۶۴  
 ۲۶۵  
 ۲۶۶  
 ۲۶۷  
 ۲۶۸  
 ۲۶۹  
 ۲۷۰  
 ۲۷۱  
 ۲۷۲  
 ۲۷۳  
 ۲۷۴  
 ۲۷۵  
 ۲۷۶  
 ۲۷۷  
 ۲۷۸  
 ۲۷۹  
 ۲۸۰  
 ۲۸۱  
 ۲۸۲  
 ۲۸۳  
 ۲۸۴  
 ۲۸۵  
 ۲۸۶  
 ۲۸۷  
 ۲۸۸  
 ۲۸۹  
 ۲۹۰  
 ۲۹۱  
 ۲۹۲  
 ۲۹۳  
 ۲۹۴  
 ۲۹۵  
 ۲۹۶  
 ۲۹۷  
 ۲۹۸  
 ۲۹۹  
 ۳۰۰  
 ۳۰۱  
 ۳۰۲  
 ۳۰۳  
 ۳۰۴  
 ۳۰۵  
 ۳۰۶  
 ۳۰۷  
 ۳۰۸  
 ۳۰۹  
 ۳۱۰  
 ۳۱۱  
 ۳۱۲  
 ۳۱۳  
 ۳۱۴  
 ۳۱۵  
 ۳۱۶  
 ۳۱۷  
 ۳۱۸  
 ۳۱۹  
 ۳۲۰  
 ۳۲۱  
 ۳۲۲  
 ۳۲۳  
 ۳۲۴  
 ۳۲۵  
 ۳۲۶  
 ۳۲۷  
 ۳۲۸  
 ۳۲۹  
 ۳۳۰  
 ۳۳۱  
 ۳۳۲  
 ۳۳۳  
 ۳۳۴  
 ۳۳۵  
 ۳۳۶  
 ۳۳۷  
 ۳۳۸  
 ۳۳۹  
 ۳۴۰  
 ۳۴۱  
 ۳۴۲  
 ۳۴۳  
 ۳۴۴  
 ۳۴۵  
 ۳۴۶  
 ۳۴۷  
 ۳۴۸  
 ۳۴۹  
 ۳۵۰  
 ۳۵۱  
 ۳۵۲  
 ۳۵۳  
 ۳۵۴  
 ۳۵۵  
 ۳۵۶  
 ۳۵۷  
 ۳۵۸  
 ۳۵۹  
 ۳۶۰  
 ۳۶۱  
 ۳۶۲  
 ۳۶۳  
 ۳۶۴  
 ۳۶۵  
 ۳۶۶  
 ۳۶۷  
 ۳۶۸  
 ۳۶۹  
 ۳۷۰  
 ۳۷۱  
 ۳۷۲  
 ۳۷۳  
 ۳۷۴  
 ۳۷۵  
 ۳۷۶  
 ۳۷۷  
 ۳۷۸  
 ۳۷۹  
 ۳۸۰  
 ۳۸۱  
 ۳۸۲  
 ۳۸۳  
 ۳۸۴  
 ۳۸۵  
 ۳۸۶  
 ۳۸۷  
 ۳۸۸  
 ۳۸۹  
 ۳۹۰  
 ۳۹۱  
 ۳۹۲  
 ۳۹۳  
 ۳۹۴  
 ۳۹۵  
 ۳۹۶  
 ۳۹۷  
 ۳۹۸  
 ۳۹۹  
 ۴۰۰  
 ۴۰۱  
 ۴۰۲  
 ۴۰۳  
 ۴۰۴  
 ۴۰۵  
 ۴۰۶  
 ۴۰۷  
 ۴۰۸  
 ۴۰۹  
 ۴۱۰  
 ۴۱۱  
 ۴۱۲  
 ۴۱۳  
 ۴۱۴  
 ۴۱۵  
 ۴۱۶  
 ۴۱۷  
 ۴۱۸  
 ۴۱۹  
 ۴۲۰  
 ۴۲۱  
 ۴۲۲  
 ۴۲۳  
 ۴۲۴  
 ۴۲۵  
 ۴۲۶  
 ۴۲۷  
 ۴۲۸  
 ۴۲۹  
 ۴۳۰  
 ۴۳۱  
 ۴۳۲  
 ۴۳۳  
 ۴۳۴  
 ۴۳۵  
 ۴۳۶  
 ۴۳۷  
 ۴۳۸  
 ۴۳۹  
 ۴۴۰  
 ۴۴۱  
 ۴۴۲  
 ۴۴۳  
 ۴۴۴  
 ۴۴۵  
 ۴۴۶  
 ۴۴۷  
 ۴۴۸  
 ۴۴۹  
 ۴۵۰  
 ۴۵۱  
 ۴۵۲  
 ۴۵۳  
 ۴۵۴  
 ۴۵۵  
 ۴۵۶  
 ۴۵۷  
 ۴۵۸  
 ۴۵۹  
 ۴۶۰  
 ۴۶۱  
 ۴۶۲  
 ۴۶۳  
 ۴۶۴  
 ۴۶۵  
 ۴۶۶  
 ۴۶۷  
 ۴۶۸  
 ۴۶۹  
 ۴۷۰  
 ۴۷۱  
 ۴۷۲  
 ۴۷۳  
 ۴۷۴  
 ۴۷۵  
 ۴۷۶  
 ۴۷۷  
 ۴۷۸  
 ۴۷۹  
 ۴۸۰  
 ۴۸۱  
 ۴۸۲  
 ۴۸۳  
 ۴۸۴  
 ۴۸۵  
 ۴۸۶  
 ۴۸۷  
 ۴۸۸  
 ۴۸۹  
 ۴۹۰  
 ۴۹۱  
 ۴۹۲  
 ۴۹۳  
 ۴۹۴  
 ۴۹۵  
 ۴۹۶  
 ۴۹۷  
 ۴۹۸  
 ۴۹۹  
 ۵۰۰  
 ۵۰۱  
 ۵۰۲  
 ۵۰۳  
 ۵۰۴  
 ۵۰۵  
 ۵۰۶  
 ۵۰۷  
 ۵۰۸  
 ۵۰۹  
 ۵۱۰  
 ۵۱۱  
 ۵۱۲  
 ۵۱۳  
 ۵۱۴  
 ۵۱۵  
 ۵۱۶  
 ۵۱۷  
 ۵۱۸  
 ۵۱۹  
 ۵۲۰  
 ۵۲۱  
 ۵۲۲  
 ۵۲۳  
 ۵۲۴  
 ۵۲۵  
 ۵۲۶  
 ۵۲۷  
 ۵۲۸  
 ۵۲۹  
 ۵۳۰  
 ۵۳۱  
 ۵۳۲  
 ۵۳۳  
 ۵۳۴  
 ۵۳۵  
 ۵۳۶  
 ۵۳۷  
 ۵۳۸  
 ۵۳۹  
 ۵۴۰  
 ۵۴۱  
 ۵۴۲  
 ۵۴۳  
 ۵۴۴  
 ۵۴۵  
 ۵۴۶  
 ۵۴۷  
 ۵۴۸  
 ۵۴۹  
 ۵۵۰  
 ۵۵۱  
 ۵۵۲  
 ۵۵۳  
 ۵۵۴  
 ۵۵۵  
 ۵۵۶  
 ۵۵۷  
 ۵۵۸  
 ۵۵۹  
 ۵۶۰  
 ۵۶۱  
 ۵۶۲  
 ۵۶۳  
 ۵۶۴  
 ۵۶۵  
 ۵۶۶  
 ۵۶۷  
 ۵۶۸  
 ۵۶۹  
 ۵۷۰  
 ۵۷۱  
 ۵۷۲  
 ۵۷۳  
 ۵۷۴  
 ۵۷۵  
 ۵۷۶  
 ۵۷۷  
 ۵۷۸  
 ۵۷۹  
 ۵۸۰  
 ۵۸۱  
 ۵۸۲  
 ۵۸۳  
 ۵۸۴  
 ۵۸۵  
 ۵۸۶  
 ۵۸۷  
 ۵۸۸  
 ۵۸۹  
 ۵۹۰  
 ۵۹۱  
 ۵۹۲  
 ۵۹۳  
 ۵۹۴  
 ۵۹۵  
 ۵۹۶  
 ۵۹۷  
 ۵۹۸  
 ۵۹۹  
 ۶۰۰  
 ۶۰۱  
 ۶۰۲  
 ۶۰۳  
 ۶۰۴  
 ۶۰۵  
 ۶۰۶  
 ۶۰۷  
 ۶۰۸  
 ۶۰۹  
 ۶۱۰  
 ۶۱۱  
 ۶۱۲  
 ۶۱۳  
 ۶۱۴  
 ۶۱۵  
 ۶۱۶  
 ۶۱۷  
 ۶۱۸  
 ۶۱۹  
 ۶۲۰  
 ۶۲۱  
 ۶۲۲  
 ۶۲۳  
 ۶۲۴  
 ۶۲۵  
 ۶۲۶  
 ۶۲۷  
 ۶۲۸  
 ۶۲۹  
 ۶۳۰  
 ۶۳۱  
 ۶۳۲  
 ۶۳۳  
 ۶۳۴  
 ۶۳۵  
 ۶۳۶  
 ۶۳۷  
 ۶۳۸  
 ۶۳۹  
 ۶۴۰  
 ۶۴۱  
 ۶۴۲  
 ۶۴۳  
 ۶۴۴  
 ۶۴۵  
 ۶۴۶  
 ۶۴۷  
 ۶۴۸  
 ۶۴۹  
 ۶۵۰  
 ۶۵۱  
 ۶۵۲  
 ۶۵۳  
 ۶۵۴  
 ۶۵۵  
 ۶۵۶  
 ۶۵۷  
 ۶۵۸  
 ۶۵۹  
 ۶۶۰  
 ۶۶۱  
 ۶۶۲  
 ۶۶۳  
 ۶۶۴  
 ۶۶۵  
 ۶۶۶  
 ۶۶۷  
 ۶۶۸  
 ۶۶۹  
 ۶۷۰  
 ۶۷۱  
 ۶۷۲  
 ۶۷۳  
 ۶۷۴  
 ۶۷۵  
 ۶۷۶  
 ۶۷۷  
 ۶۷۸  
 ۶۷۹  
 ۶۸۰  
 ۶۸۱  
 ۶۸۲  
 ۶۸۳  
 ۶۸۴  
 ۶۸۵  
 ۶۸۶  
 ۶۸۷  
 ۶۸۸  
 ۶۸۹  
 ۶۹۰  
 ۶۹۱  
 ۶۹۲  
 ۶۹۳  
 ۶۹۴  
 ۶۹۵  
 ۶۹۶  
 ۶۹۷  
 ۶۹۸  
 ۶۹۹  
 ۷۰۰  
 ۷۰۱  
 ۷۰۲  
 ۷۰۳  
 ۷۰۴  
 ۷۰۵  
 ۷۰۶  
 ۷۰۷  
 ۷۰۸  
 ۷۰۹  
 ۷۱۰  
 ۷۱۱  
 ۷۱۲  
 ۷۱۳  
 ۷۱۴  
 ۷۱۵  
 ۷۱۶  
 ۷۱۷  
 ۷۱۸  
 ۷۱۹  
 ۷۲۰  
 ۷۲۱  
 ۷۲۲  
 ۷۲۳  
 ۷۲۴  
 ۷۲۵  
 ۷۲۶  
 ۷۲۷  
 ۷۲۸  
 ۷۲۹  
 ۷۳۰  
 ۷۳۱  
 ۷۳۲  
 ۷۳۳  
 ۷۳۴  
 ۷۳۵  
 ۷۳۶  
 ۷۳۷  
 ۷۳۸  
 ۷۳۹  
 ۷۴۰  
 ۷۴۱  
 ۷۴۲  
 ۷۴۳  
 ۷۴۴  
 ۷۴۵  
 ۷۴۶  
 ۷۴۷  
 ۷۴۸  
 ۷۴۹  
 ۷۵۰  
 ۷۵۱  
 ۷۵۲  
 ۷۵۳  
 ۷۵۴  
 ۷۵۵  
 ۷۵۶  
 ۷۵۷  
 ۷۵۸  
 ۷۵۹  
 ۷۶۰  
 ۷۶۱  
 ۷۶۲  
 ۷۶۳  
 ۷۶۴  
 ۷۶۵  
 ۷۶۶  
 ۷۶۷  
 ۷۶۸  
 ۷۶۹  
 ۷۷۰  
 ۷۷۱  
 ۷۷۲  
 ۷۷۳  
 ۷۷۴  
 ۷۷۵  
 ۷۷۶  
 ۷۷۷  
 ۷۷۸  
 ۷۷۹  
 ۷۸۰  
 ۷۸۱  
 ۷۸۲  
 ۷۸۳  
 ۷۸۴  
 ۷۸۵  
 ۷۸۶  
 ۷۸۷  
 ۷۸۸  
 ۷۸۹  
 ۷۹۰  
 ۷۹۱  
 ۷۹۲  
 ۷۹۳  
 ۷۹۴  
 ۷۹۵  
 ۷۹۶  
 ۷۹۷  
 ۷۹۸  
 ۷۹۹  
 ۸۰۰  
 ۸۰۱  
 ۸۰۲  
 ۸۰۳  
 ۸۰۴  
 ۸۰۵  
 ۸۰۶  
 ۸۰۷  
 ۸۰۸  
 ۸۰۹  
 ۸۱۰  
 ۸۱۱  
 ۸۱۲  
 ۸۱۳  
 ۸۱۴  
 ۸۱۵  
 ۸۱۶  
 ۸۱۷  
 ۸۱۸  
 ۸۱۹  
 ۸۲۰  
 ۸۲۱  
 ۸۲۲  
 ۸۲۳  
 ۸۲۴  
 ۸۲۵  
 ۸۲۶  
 ۸۲۷  
 ۸۲۸  
 ۸۲۹  
 ۸۳۰  
 ۸۳۱  
 ۸۳۲  
 ۸۳۳  
 ۸۳۴  
 ۸۳۵  
 ۸۳۶  
 ۸۳۷  
 ۸۳۸  
 ۸۳۹  
 ۸۴۰  
 ۸۴۱  
 ۸۴۲  
 ۸۴۳  
 ۸۴۴  
 ۸۴۵  
 ۸۴۶  
 ۸۴۷  
 ۸۴۸  
 ۸۴۹  
 ۸۵۰  
 ۸۵۱  
 ۸۵۲  
 ۸۵۳  
 ۸۵۴  
 ۸۵۵  
 ۸۵۶  
 ۸۵۷  
 ۸۵۸  
 ۸۵۹  
 ۸۶۰  
 ۸۶۱  
 ۸۶۲  
 ۸۶۳  
 ۸۶۴  
 ۸۶۵  
 ۸۶۶  
 ۸۶۷  
 ۸۶۸  
 ۸۶۹  
 ۸۷۰  
 ۸۷۱  
 ۸۷۲  
 ۸۷۳  
 ۸۷۴  
 ۸۷۵  
 ۸۷۶  
 ۸۷۷  
 ۸۷۸  
 ۸۷۹  
 ۸۸۰  
 ۸۸۱  
 ۸۸۲  
 ۸۸۳  
 ۸۸۴  
 ۸۸۵  
 ۸۸۶  
 ۸۸۷  
 ۸۸۸  
 ۸۸۹  
 ۸۹۰  
 ۸۹۱  
 ۸۹۲  
 ۸۹۳  
 ۸۹۴  
 ۸۹۵  
 ۸۹۶  
 ۸۹۷  
 ۸۹۸  
 ۸۹۹  
 ۹۰۰  
 ۹۰۱  
 ۹۰۲  
 ۹۰۳  
 ۹۰۴  
 ۹۰۵  
 ۹۰۶  
 ۹۰۷  
 ۹۰۸  
 ۹۰۹  
 ۹۱۰  
 ۹۱۱  
 ۹۱۲  
 ۹۱۳  
 ۹۱۴  
 ۹۱۵  
 ۹۱۶  
 ۹۱۷  
 ۹۱۸  
 ۹۱۹  
 ۹۲۰  
 ۹۲۱  
 ۹۲۲  
 ۹۲۳  
 ۹۲۴  
 ۹۲۵  
 ۹۲۶  
 ۹۲۷  
 ۹۲۸  
 ۹۲۹  
 ۹۳۰  
 ۹۳۱  
 ۹۳۲  
 ۹۳۳  
 ۹۳۴  
 ۹۳۵  
 ۹۳۶  
 ۹۳۷  
 ۹۳۸  
 ۹۳۹  
 ۹۴۰  
 ۹۴۱  
 ۹۴۲  
 ۹۴۳  
 ۹۴۴  
 ۹۴۵  
 ۹۴۶  
 ۹۴۷  
 ۹۴۸  
 ۹۴۹  
 ۹۵۰  
 ۹۵۱  
 ۹۵۲  
 ۹۵۳  
 ۹۵۴  
 ۹۵۵  
 ۹۵۶  
 ۹۵۷  
 ۹۵۸  
 ۹۵۹  
 ۹۶۰  
 ۹۶۱  
 ۹۶۲  
 ۹۶۳  
 ۹۶۴  
 ۹۶۵  
 ۹۶۶  
 ۹۶۷  
 ۹۶۸  
 ۹۶۹  
 ۹۷۰  
 ۹۷۱  
 ۹۷۲  
 ۹۷۳  
 ۹۷۴  
 ۹۷۵  
 ۹۷۶  
 ۹۷۷  
 ۹۷۸  
 ۹۷۹  
 ۹۸۰  
 ۹۸۱  
 ۹۸۲  
 ۹۸۳  
 ۹۸۴  
 ۹۸۵  
 ۹۸۶  
 ۹۸۷  
 ۹۸۸  
 ۹۸۹  
 ۹۹۰  
 ۹۹۱  
 ۹۹۲  
 ۹۹۳  
 ۹۹۴  
 ۹۹۵  
 ۹۹۶  
 ۹۹۷  
 ۹۹۸  
 ۹۹۹  
 ۱۰۰۰

عَشْرًا ۱۷ نَحْنُ أَعْلَمُ بِهَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ  
لَيْسَتْ إِلَّا يَوْمًا ۱۸ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۱۹  
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۲۰ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۲۱ يَوْمَئِذٍ  
يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَعِوَجَ كَلِهِ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ  
فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۲۲ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ  
لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۲۳ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

الایوبیا - تمہ ساتہ تموا اندرہ زیادہ گائل ونان آس تمہن جہہ ناروودونہ دُنیا س اندر مگر اکھ دوہایتہ کس  
مُدتس کن نظر کمر تہہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا بیہ ہجہہ پر ژشان توہہ یار رسول اللہ  
بعضی لوکھ قیامتک حال بوزت تمہ دوہہ کیاہ بنہ تمکن کوہن۔ پس فرماویوکھ جہہ یار رسول اللہ مُدین  
پروردگار کرہ تمکن ریزہ ریزہ، سور توپتہ ہجہکر اوکیہ ہوہس منز پورہ پاٹھ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى  
فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا توپتہ کرہ اتہ زمیں ہموار میدانہ ہجہ منز نہ ژہ لبے بی کی کانہہ جہہ نہ کانہہ  
تہز راہ، نہ کانہہ گھسہ وساہ۔ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَعِوَجَ كَلِهِ وپہجہکھ ژہ تمہ دوہہ کہ ساری لوکھ  
کرن آکو دوہون سبب آکوس پیروی اورہ پور گھسہ وراہ۔ یعنی پو غس منز پیلہ چھو کہ دنہ بیہ سہو آواز  
وائہ سارنی قبرن منز۔ اتی بن نیرن لوکھ قبر و منزہ۔ تہہ آوازہ بروٹھکنہ بیکنہ نہ کانہہ تہ جہہ قسمک ہجہراہ  
لَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا بیہ آسن تمہ دوہہ سارے کر یکہ پچھوہہ خدای  
رحمانہ سبہ خوفہ سبہ۔ پس آسکھنہ ژہ بوزان تیتین لوکن اندر مگر کوت کوت کن پچھر ازے یا صرف  
کھورن ہندہ پچہ ٹک صدًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا تمہ دوہہ دیہ نہ  
کانہہ فاندہ کانہہ آس کانہہ ہنز شفاعت تہ سفارش مگر تمس دیہ فاندہ یسبہہ حقہ حضرت رحمان  
شفاعتک اجازت دیہ۔ بیہ آسہ حضرت رحمان راضی تہندس ونہ نس، کلامس تس شخصہ سبہہ حقہ۔ آسہ  
اندرہ چھوہر ادا ایمان تہدہ شفاعتک اجازت بیہ نہ شفاعت کرہ ونین۔ تمہ متعلق شفاعت کرن آسہ

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿۱۰﴾ وَعَدَّتْ أَلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ  
 خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿۱۱﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
 فَلَا يَخِفُّ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿۱۲﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَ  
 صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ أَلَهُمْ ذِكْرًا ﴿۱۳﴾  
 فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
 يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿۱۴﴾ وَلَقَدْ عَاهَدْنَا

بِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰی اَس۔ کافرن تہ مشرکن شفاعت کرنک ایہ نہ اجازتھی دنہ کانسہ یَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَ  
 مَا خَلْفَهُمْ سُو پروردگار رحمان چھو زمانان تہ سو روی یہ تمہن برو تھہ کنہ آسہ یہ یہ تمہو پتھہ کن کورمت آسہ  
 وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا لو کہہ کن نہ احاطہ کتر تھہ خدایہ سدس علس وَعَدَّتْ أَلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ  
 خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا یہ آسن ساری پتھہ نمت تہمہ دوہہ آس خدایس کن، بس زندہ چھو، زندہ تھوادہ  
 وَن چھو۔ یہ آسہ ذلیل تہ ناکام تہمہ دوہہ سوئی بس شرکگ یورنتلت آسہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ  
 مُؤْمِنٌ فَلَا يَخِفُّ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا یہ تم رزہ عملہ گر مژہ آسن درحالیچہ سو آسہ بالیمان۔ بس کھو ترہ  
 نہ سونہ گنہن ہمزہ زیادتی نہ تیکن ہمزہ کی وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ  
 يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ أَلَهُمْ ذِكْرًا پتھہ پاتھہ تم مضامین آئی صاف صاف بیان کرنہ۔ پتھہ پاتھہ کور آسہ  
 نازل سوری قرآن مجید عربی زیوہ اندر یہ کتر بیان آسہ تھہ منز پھیر پھیر و عید۔ پتھہ لو کہ کفر و شر کہ ہشہ  
 نافرمانیہ ہشہ پتھہ روزن۔ یاگرہ یہ قرآن مجید تہندین ولن اندر پیدہ کانسہ شعور اہ سمہ سببہ کنہ تہ کنہ وقتہ  
 سپدن تم اسلام کن مایل۔ فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ بس چھو بوڈ تہ تھو اللہ تعالیٰ بس حقیقی پادشاہ  
 چھو تم یہ قرآن مجید نازل کور تھہ منز سیٹھاہ نفع چھو وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ  
 وَحْيُهُ یہ پتھہ پاتھہ قرآن مجیدہ موجب عمل کرن، تمہہ چہ لھجھو مانہ سارنی مکلفن پیٹھہ فرض چھو پتھہ  
 پاتھہ چھہ بعضی آداب قرآن مجیدہ کس نازل کرنس متعلق، تمہن ہندہ ادا کرنک توہہ سبت تعلق چھو



إِلَىٰ أَدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ يُحْدِلْهُ عَزْمًا ۗ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ  
 اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۗ أَبَىٰ ۖ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا  
 عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۗ إِنَّ  
 لَكَ الْآلِجُوعَ فِيهَا وَالْأَعْرَىٰ ۗ وَأَنَّكَ لَا تَنْظُرُ فِيهَا وَلَا تَنْصُرُ ۗ

یارسول اللہ۔ تمو آندرہ گواکھ تہہ منہ آسہو جلدی کران قرآن مجید سیت سیت پرئس اندر تمہہ وحیک نزول ختم سپندہ بروئٹھ۔ اتھ منز چھو توہہ پانس تکلیف۔ کیا زہ جریل آینہ سُد ہرن، تہندہ بوزن، توپتہ سو پانہ پن، اگر توہہ اندیشہ چھو کہ یہ ماروزہ نہ مہ یاد سو کام تراو و تہہ آسہ پیٹھ۔ تہہ آسوت مہ خیلر ہ یہ دعا پران وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا تہہ آسودعا کران ای میانیہ پروردگارہ مہ ہرہ راو علم۔ تھہ منز آئی سم ساری مطلب وَقَدْ عٰهَدْنَا اِلٰى اَدَمَ مِنْ قَبْلِ سَمۡعِ برونٹھ واریاہ کال زیادہ دژو و آسہ آدم علیہ السلام اکھ لحمہ سمہ حکمک بیان برونٹھ پکن یہہ فَنَسَىٰ وَلَمْ يُحْدِلْهُ عَزْمًا تہن رُودنہ یاد۔ تہن گنیہ غفلت تہ بے احتیاطی۔ آسہ لوب نہ آسہ لحمہ کس اہتماس اندر تہن منز چٹنگی تہ ثابت قدی۔ اگر آسہ اجمالک تفصیل توہہ بوزن عرض چھو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اَبٰی تیلہ پاو و ژ تیس سو وقت یلہ آسہ حُم کور ملا پکن سجدہ دیو آدم علیہ السلام۔ پس ڈیت تمو سجدہ مگر ڈیت نہ ابلیس، تم کور انکار فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ پس وون آسہ اے آدم پنز پاٹھ یہہ ابلیس چھو چون تہ چانہ زانہ ہند ڈشمن۔ کیا زہ تہندی وجہ سپدیہ مردود۔ تہتھہ وون یہہ توہہ ڈوشون سمہ جنتہ منزہ کڈہ۔ یعنی تہتھہ اسدہ وونہ موجب تڑھ کا ماہ کتر و سمہ سببہ جنتہ منزہ چہو کڈنہ۔ ادہ تلو تہہ دوشوے مشقت تہ تکلیف معاش حاصل کرئس اندر۔ یہہ جتس اندر چھو توہہ آراسمہ اِنَّا لَكَ الْآلِجُوعَ فِيهَا وَالْأَعْرَىٰ تہتھہ منز چھنہ کانہہ بوجھہ سمہ سبب تکلیف و اتھا توہہ۔ سو ڈور کرنہ خیلرہ کانہہ سامانہ آسانہ مہیا۔ نہ چھوہ تہہ سببہ وَأَنَّكَ لَا تَنْظُرُ فِيهَا وَلَا تَنْصُرُ یہہ نہ چھوہ تریشہ ہست، نہ چھوہ نرس تہ تاہس منز روزہ وون کیا زہ جتس منز آسہ نہ تا پھے۔ یہہ آس جتس منز مکانات پر تہتھہ

فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا دَمْرُهَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ  
 الْخُلْدِ وَمَلِكٍ لَا يُبْلَى ﴿۱۲۰﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهَا سَوَاتِنُهُمَا  
 وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى ادم رَبَّهُ  
 فَعَوَى ﴿۱۲۱﴾ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿۱۲۲﴾ قَالَ اهْبِطَا  
 مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَمَّا يَا تَبَّتْكُمْ مِنِّي هُدًى  
 فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿۱۲۳﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ

تسمک موجود۔ اگر جنت منزه نیر ذنیاء س منزہہ سوزنہ البوتہ آبیہ پر تھہ معاملس منز مشکے تہ  
 مضیتھ۔ یہ تھہ زہر نظر تھاوتھ روزہ ہشاری سان فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا دَمْرُهَلْ أَدُلُّكَ  
 عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمَلِكٍ لَا يُبْلَى پس تروووسہ شیطان تہن منز۔ دُونِس ای آدم یوماہاؤے تہیہ  
 سؤکل تسمک پھل کھینہ سیت ہمیشہ چھہ زندہ روزان بیہ چھہ بنان سوپاوشہت یوسہ نہ پراتان چھہ زمانہ  
 تھہ نہ ضعف وستی یوان چھہ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهَا سَوَاتِنُهُمَا پس کھیو و تمودو شوے باژو تھہ  
 کلک پھل۔ اتی نیو و تہن دوشون بدنگ سوجھہ تھہ ستر چھو یوان کرنہ یعنی جنگ لباس آکھ پائے  
 بدنہ پیٹھ موراونہ وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ اتی تھہ جنتہ کین گلین ہمد پتہ و تھر بدنس  
 پیٹھ لاگن تھوے سیت ہیو تھہ بدنس ستر کزان وَعَصَى ادم رَبَّهُ فَعَوَى بیہ کور آدم علیہ السلامن  
 خدلیہ سندس کھمس اندر قصور۔ پس کتر تم غلطی۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى تو پتہ یلہ تھو  
 معذرت پیش کمر اللہ تعالیٰ ان کتر تم برگزیدہ تہ زیادہ مقبول۔ بیہ کورس توبہ قبول۔ بیہ ہانس و تھہ  
 پنہ رضامندی ہنز۔ بیہ تھوون راہ راستس پیٹھ قائم۔ مگر تھہ کلک پھل کھینہ کہہ و چھہ قَالَ اهْبِطَا  
 وَمِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اللہ تعالیٰ ان فرموو کھ و سیدو شوے جنتہ منزہ زمینس پیٹھ تھہ  
 حاکس اندر کہ تھہ روزوتہ تھہ فرزند آسن اڈاؤین ہمد دشمنن فَأَمَّا يَا تَبَّتْكُمْ مِنِّي هُدًى پس یلہ ولتہ  
 توہہ نشہ میون ہدایت تہ احکام پیغمبرن تہ کتابن ہمدہ ذریعہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى

عَنْ ذِكْرِي قَانَ لَهُ مَعِيْشَةٌ ضَنْكًا وَنَحْشُورُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
 اَعْمَى ﴿۱۲۳﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿۱۲۴﴾  
 قَالَ كَذَلِكَ اَتَتْكَ اِيْتَانِيسِيَّتَاهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿۱۲۵﴾  
 وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ  
 الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقَى ﴿۱۲۶﴾ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ  
 الْقُرُوْنِ يَٰبَشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰآيَاتٍ لِّاُولِي النُّوْنِ ﴿۱۲۷﴾

پس اُس بیرونی کرہ میانس ہدایتس سو و تہ نغہ ڈلہ نہ، عمر اہ سپدہ نہ دنیاس اندر۔ نہ آسہ سو شقی  
 آخرتس اندر و من اعرض عن ذکری قان لہ معیشتہ ضنکا و نحشورہ یوم القیمہ اعلیٰ بیہ اُس  
 میانہ تمہ نصیحتہ نہ حکمہ نغہ بھہ پھر ہ اُس آسہ تہندہ خیلرہ قیامتہ بروئہ دنیاس تہ قبرہ منز تنگی ہنز  
 زندگی۔ بیہ تلون اُس سو قیامتگ دوہ قبرہ منزہ اون تہ اعلیٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ  
 بَصِيْرًا و پہ سو تجبہ کن پروردگار ابوکیازہ کلھس ژہ اون۔ بوی اوُس دنیاس اندر گاشدار قال کذالك  
 اَتَتْكَ اِيْتَانِيسِيَّتَاهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اللہ تعالیٰ فرماوئس تہ پائٹھ کیاہ واژاے ژہ نغہ انبیاء و  
 علماءن ہندہ واسطہ سان آیات تہ احکام۔ ژہ مشراوتھ تم۔ تم ہند کو رتھ نہ کانہہ خیال۔ تھہ پائٹھ کیاہ  
 کیہ ژہ تہ از مشراونہ۔ چون بیہ نہ کانہہ خیال کرنہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَ  
 لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقَى تھہ پائٹھ یہ سزا عملہ مناسب آدو نہ تھہ پائٹھ دمو اُس سزا پر تھہ زیادتی  
 کرہ و اُس اُس نہ پڑھہ تہ یقین گرہ پنے اُس پروردگارہ سندین آیاتن۔ آخر تک عذاب چھو سیٹھاہ سخت تہ  
 سیٹھاہ پوشہ ون۔ تھہ چھو نہ نہاتھہ تہ۔ آخر چھہ عذابہ نغہ چنگ گڑھہ سیٹھاہ کوشش کرن اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ  
 كَمَا اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ يَٰبَشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰآيَاتٍ لِّاُولِي النُّوْنِ تم بھہ پھرہ ون تہ  
 اعراض گرہ ون، تم اعراض کرئس پیٹھہ ڈاڈگر تھہ چھہ۔ کیاہ تمکن ہاوانا و تھہ سمہ کتھ کہ اُسہ کاژاہ جماژ  
 چھہ تمکن بروئٹھ ہلاک گر مشرہ تہ اعتراض کرنہ موکھ۔ و چھینس تہ چھہ تم پکان تہ اورہ یور کران تہنز

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى ﴿۳۶﴾  
 فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ  
 وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ الْأَنْبَاءِ الْإِيلِ قَبْلَ فَسِيحِمْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ  
 لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿۳۷﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا

ولریو جایو کن شہر شامس کن گوہندہ بیچہ وقتہ کیا زہ تہنہ۔ ہمہ لہہ جایہ آسہ مکہ کین لوکن وتہ منز یوان پیز  
 پاٹھ اتھ لہر مذکورس اندرتہ چٹھہ اہل فہم تہ عقلہ والین ہمدہ خیطرہ کافی دلیلہ خدا بس نش اعراضہ کس  
 مذموم تہ ناپسند آسئس پیٹھ موجود و لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى بیہ ہر گاہ  
 تہ ٹھہدس پروردگارہ سبہ طرفہ اکھ کتھاہ بیان کرنہ آسہا آمزہ۔ سوگئیہ بیہ تھہ کہ بعض مصنفین ہمدہ  
 موکھ پیہ نافرمان مہلت ونہ۔ بیہ تہ پریتھ کامہ ہند وقت مقرر کرنہ آسہا آمت تک نافرمان پیہ ہالازی  
 طور ضرور عذاب کرنہ دنیا سی اندر۔ مگر سو وقت چھو مقرر کرنہ آمت۔ سو گو قیامتک دوہ۔ ودن یلہ  
 عذابک و ائن یقینی چھو لہذا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا  
 وَمِنْ الْأَنْبَاءِ الْإِيلِ قَبْلَ فَسِيحِمْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ہنس کمر و تہہ دشمن ہنزان کھر آمیز تھن پیٹھ  
 صبر۔ بیہ یوسہ توبہ خدایہ سبہ خیطرہ تہن پیٹھ تھ کھسان چٹھہ تہن پیٹھ عذابس اندر درنگی سپد نہ موکھ  
 اضطراب پیدہ سپدان چھو۔ سو اضطراب تروو۔ تہہ سپد و متوجہ پنہ نس یادس کن۔ پنہ نس پروردگارہ  
 سُد حمد و ثنا آسود پان۔ تسبیح و تقدیس آسوکران۔ تھہ منز نماز تہ شامل سپز آفتاب کھنہ بروٹھ۔ سوگئیہ  
 صبح نماز۔ بیہ آفتاب لوسنہ بروٹھ تھہ منز بیہ پشن نماز تہ وگر نماز بیہ راژ ہندیو وقتو منزہ تہ آسو تسبیح  
 پران۔ تھہ منز سپز شامل شام نماز تہ تھن نماز۔ بیہ دوہہ کس گوڈس تہ آندس منز تہ آسو تسبیح پران  
 تا اینکه اتھ پیٹھ ہنس ثواب توبہ حاصل سپدہ تمہہ سیت آسو تہہ خوش سپدان۔ غرض کہ تہہ کرو پنہ  
 نس مجبوعہ برحقس کن پور توجہ۔ دشمن ہنز فکر مہ کرو۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا  
 مِمَّا مَلَآ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَأَنْصَبُ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَكُلُوا مِنْهُ حَتَّىٰ تَسْبَغَ أَقْصَابَكُمْ لِمَا كَفَرْتُمْ وَأَنْصَبُوا

مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقَ رَبِّكَ  
 خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿۳۱﴾ وَأَمْرًا هَلَكًا بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا  
 نَسْأَلُكَ رِزْقًا مَنَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿۳۲﴾ وَقَالُوا  
 لَوْلَا يَأْتِينَنَا بَايَةٌ مِنْ رَبِّهِ أَوْ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مِمَّا فِي الصُّحُفِ  
 الْأُولَى ﴿۳۳﴾ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا  
 رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ

قسمک لو کہ مثلاً یہود و نصاریٰ یہی مشرکین زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جس مال و چھو دنیا چہ زندگی ہنر  
 ناپیدار پھلہا لِنَفْسِنَهُمْ فِيهِ تھہ اس امی سیت گرو تم آزماتش وَرِزْقَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى توہہ  
 یہ دہمت چھو پن پروردگارن تہ چھو سیٹھاہ ہتر تہ پوشہ ون وَأَمْرًا هَلَكًا بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَبِرُ عَلَيْهَا  
 لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا یہی کمر و تہہ حکم پنہ نین گرہ کین لوکن پنہ نس اتس نماز پر نگ۔ پانہ تہ کمر و نمازہ  
 پیٹہ استقامت۔ سمہ کامہ چھہ زیادہ تو جہس قابل۔ اس چھہ توہہ دپان یا توہہ ورا ی بین لوکن دپان  
 تیو تھہ معاش تہ رزق کماون جس مانع سپدہ ضروری طاعتن نہ عبادتن مَنَحْنُ نَرْزُقُكَ رِزْقًا تہ معاش  
 کروہہ اس توہہ یہی توہہ ورا ی بین عطا۔ یعنی مقصود اصلی چھو نہ رزق کماون تہ معاش کماون بلکہ چھو  
 مقصود اصلی دین تہ طاعت باری تعالیٰ کرن۔ مال زینہ نگ تہ رزق کماونگ چھو اجازت تھہ حدس  
 تان سمہ سیت ضروری اطاعتن تہ عبادتس فتور لیہ نہ۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى رت انجام چھو پر ہیز  
 گارن ہند وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَنَا بَايَةٌ مِنْ رَبِّهِ یہی چھہ دنان اعراض گرہ ون لو کہ یہ پیغمبر کیاہہ چھو نہ  
 اسہ نس انانہ کانہہ نشانہ پتہہ نبونگ پنہ نس ہر وردگارن نشہہ اَوْ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مِمَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى  
 کیاہہ تم نشہہ ووت نایبان تم مضمون ہند ہم برو نظمین کتابن منز اس قرآن مجیدس متعلق۔ وَلَوْ أَنَّا  
 أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ

أَنْ تَذَلَّ وَتَخْزَى ۝ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا  
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ۝

تَذَلَّ وَتَخْزَى بیہ ہر گاہ اُس تم گالہوک کئی عذابہ سبب قرآن مجید نازل کرنے بروٹھے ضرور ونہ ہن تم ای سانہ پروردگارہ ژہ کونہ سوزو تھن اسہ گن کانہہ پیغمبرہ تا اینکه اُس کرہ ہو پیروی چائین کھن ذلیل و رسوا کرہنہ بروٹھے ونہ نچ تھا وکھ نہ اسہ گنجائش اگر تم ونن سو عذاب کر سپدہ واقع قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى تہہ فرماؤیکھ یارسول اللہ اُس ساری چھہ پیاران، کینہہ کالاہ، پیارو تہہ تہ، توہہ کھ پانے زان سیزہ وتہ ہند لوک کم چھہ۔ بیہ کم چھہ منزل مقصودس واتہ وان





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ  
 مُّعْرِضُونَ ۝۱ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدِّثٍ اِلَّا سَمِعُوهُ  
 وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝۲ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَاَسْرُ وَالنَّجْوٰى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا  
 هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَاتُوْنَ السَّعْرَ وَاَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ۝۳  
 قُلْ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝۴

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ نزدیک سپد یمن منکر لوکن ہمدہ حساب وقت۔ کیا زہ قیامت ہمدہ روز بروز نزدیک یوان مگر تم ہمدہ ونہ بے خبری تہ غفلتس اندر پیتھہ اعراض کران تہ ہمدہ پھر ان تہمز غفلت چھ یوتہ واثر مثر مایا تہ ہمدہ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدِّثٍ اِلَّا سَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ کہ یوسہ نصیحتہ تازہ تمن نشہ پنہ نس پروردگار ہمدہ طرفہ واتان چھ تھہ چھہ تم تھہ پاٹھہ بوزان کہ زن گند نہ ہنا چھہ لاهیه قلوبہم غافل چھہ تہند دل تمہہ نصیحتہ نشہ تھہ کن چھہ نہ کانہہ توجہ کران وَاَسْرُ وَالنَّجْوٰى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لوتہ لوتہ چھہ تم ظالم تہ کافر لوکہ کن تھہ کران پانہ وان۔ دپان چھہ یہ (حضرت) محمد چھو محض تو ہی ہوا کہ انساناہ یہ نہ کینہہ۔ ووان یمہ تھہ تم بیان کران چھہ، تمہہ چھہ بحر تہ جود۔ تمہہ اندرہ کز زونہ تہہہ مجزہ آسک خیال۔ مجزہ آسک خیال کثرت کز زونہ تہہہ تہمدہ پیغمبر آسک خیال اَفَتَاتُوْنَ السَّعْرَ وَاَنْتُمْ تَبْصِرُونَ ادہ کیا زہ چھوہ اچھن ڈیشمان توہہ سو سحر یوزنہ خیطرہ تمن نشہ یوان، پان پان زورہ گرفتار کرنہ خیطرہ قُلْ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ فرمودہ کہ پیغمبر برحق، تہہہ کمر توژورہ ژورہ کن تھہ۔ میون پروردگار چھو زانان

بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا  
بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ ﴿۵﴾ مَا آمَدْتُمْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا  
أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۶﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ  
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لِتَعْلَمُونَ ﴿۷﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ  
جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿۸﴾ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمْ

پریتھ تھ۔ ادہ سہو آسمان منز آستن یاز میلن منز، ادہ سو ظاہر آستن یا پھ شیدہ۔ بیہ چھو سو روی وارہ  
بوزہ ون۔ سو روی پور زانہ ون۔ تہنز تھ چھنہ تہس نش کھنہ سو دیہ توہہ پور سزل۔ تمو کافر دون نہ  
قرآن مجیدس سحری یوت بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٍ بلکہ لگ تم وننہ کہہ یہ قرآن مجید چھو پریشان  
خیالات بِلِ افْتَرَاهُ بلکہ چھو یہ قرآن مجید تمو پانے پتہ دلہ ٹھہرومت بَلْ هُوَ شَاعِرٌ بلکہ چھو یہ پیغمبر  
شاعر۔ ہر گاہ سو واقعی پیغمبر چھو فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ تیلہ آن سو اسہ نشہ تم مجرہ ہم  
مجرہ پتھ برو ٹھہم پیغمبر چھہ سوزنہ آمت۔ یہ آس حیرانی یمن کفرن پانس کہ اکس رایہ پیٹھ آس نہ  
روزان۔ مَا آمَدْتُمْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ سمو برو ٹھہم شہرک روزان وال تم اسہ ہلاک  
کرتہ گال باوجود فرمائشی مجرات آسہہ اون نہ تمو ایمان، کیا سم لو کہ انہہ مجرات ظاہر سپد تھ ایمان۔  
تتھس حاکس پیٹھ چھو ایمان نہ انہہ مو کہ ضرور عذاب نازل سپدان۔ لہذا چھنہ آس تم مجرات ظاہر  
کران تمن ہنز فرمائش سم کران چھہ۔ قرآن مجید چھو ساروے مجر و کھنہت یوڈ مجرہ۔ سو ی چھو کافی  
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لِتَعْلَمُونَ بیہ سوزنہ اسہ توہہ  
برونٹھ کانہہ پیغمبر اہر مگر سوز مردانانو تہ بشروی اندرہ۔ تمنی گن آس آس وحی سوزان۔ کس پر ژھو ٹھہ  
اہل کتابن، یهود و نصاریٰ ان تمن ٹھہ پن دوست چھو ونان ہر گاہ نے توہہ پانس خبر چھوہ۔ وَمَا  
جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ بیہ بناونہ اسہ تمن پیغمبرن ہند بدن تھہ نیم نہ خوراک نہ غذا  
کیوان آسن ملائکن ہند پاٹھ۔ بیہ چھہ سم کافر مظہر تہندس سمہ عالمہ گنہنہس، تھہ پیٹھ چھہ تم خوشیہ



الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَسَّأُوا أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۙ لَقَدْ  
 أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۙ وَكَمْ قَصَبْنَا  
 مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۙ  
 فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۙ لَا تَرْكُضُوا وَ  
 ارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ۙ

تہ شاہدہ کران۔ یہ سیمہ عالمہ گوٹھن چھٹھہ نبوتس منانی تہ خلاف۔ کیا زہ۔ و ما کا انو الخلدین تم بروظھم  
 حضرات انبیاء رُودنہ ہمیشہ دنیا ہی اندر۔ پس ہر گاہ تہند وفات سپدہ تمہہ سیت کیاہ نقص لیہ لازم  
 تہندس نبوتس تہ صدقہم الوعد فأنجینہم ومن نساءوا اهلکنا المسرفین تو پتہ کور اسہ وعدہ پن  
 تمن مکرن سیت پوز۔ یعنی نافرمان پیٹھ عذاب نازل کر نس متعلق۔ تم سپد عذابس گرفتار پس دیت  
 نجات اسہ تمن با ایمان، بیہ تمن ہند اسہ یوڑھہ بیہ کمر اسہ ہلاک نافرمانی منز حدہ ڈلہ ون، لہذا گڑھ  
 کھوژن تمن کافرن ہند۔ ای منکرو ہر گاہ توہہ پیٹھ دنیا س منزیا آخرتس منز عذاب کرنہ لیہ کانہہ  
 تجب چھنہ کیا زہ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ پز پائ نازل کمر اسہ توہہ کن سہ  
 کتاب تہہ منز توہہ کھو کافی نصیحت چھہ۔ کیاہ توتہ چھٹھہ توہہ فخرہ تران وَكَمْ قَصَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ  
 ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ بیہ چھہ اسہ کاتن شہرن ہند لو کہ سم ظالم یعنی کافر آس ہلاک  
 تہ تباہ کرم ت تو پتہ کور سپدہ تمن پتہ بیا کہ تو ماہ سم تمن شہرن اندر آباد کمر فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ  
 مِنْهَا يَرْكُضُونَ ادہ یلہ تمو ژ یون سانہ عذابہ نازل سپد نک۔ اتی ہیرو کہ ژکن، اسہ دو پچھ لا تَرْكُضُوا وَ  
 ارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ژلومہ، واپس ایوتھ سازو سامانس کن تہہ منز  
 روزت عیش آسہہ کران۔ بیہ ایو پنہ نین گرن کن واپس دیو توہہ پر ژھنہ لیہ کہ مال ودولتک تہ توتک  
 نشہ کوت گو۔ امہ آندہ چھو مژ اد تمن ژینہ ون دن کہ نہ رُودوہ توہہ سامانہ کھنہ نہ روزوہ تمہ لہہ جلیہ  
 کھنہ۔ نہ رُودوہ کانہہ ہمد رکنہ ساری گے ختم قالوا لیلینا اناکنا ظالمین یلہ عذابس گرفتار۔ تن سپدن تم

قَالُوا يَوْمَئِذٍ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۱۳﴾ فَمَا زِلْتَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى  
 جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ ﴿۱۵﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ  
 وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِيبِينَ ﴿۱۶﴾ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آيَاتٍ فَآيَةٌ  
 مِنْ لَدُنَّا إِنَّ كُفْرًا فَعِلِينَ ﴿۱۷﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ  
 فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿۱۸﴾

دینہ لگ افسوس واقعی آس آس ظالم۔ فَمَا زِلْتَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِيدِينَ پس  
 روزہ تین ہنزہ سے کرکے توتان، بوت تان اسے تم کتراؤ تھ تھاو، شہلاو تھ تھاو، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ  
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِيبِينَ سانس گن آسنس پیٹھ چھہ سان مصنوعات سے مخلوقات دلالت کران  
 کیا زہ اسے کمر نہ آسمان سے زمین میں یہ سمن دون منز چھو پیدہ گندان گندان حکمت سے مصلحت واری۔ اسے کمر نہ  
 تم چھہ پاٹھ پیدہ کہ اس کیا آسمو عبث سے بے معنی اکھ کا ماہ کران۔ بلکہ چھہ یہ پیدہ کر نس اندر بحر جہ  
 حکمت سے۔ ہذا حکمت کہیہ یہ کہ تم چھہ دلالت کران معبود برحقہ سندس وحدانیتس پیٹھ۔ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ  
 نَتَّخِذَ لَهُمْ آيَاتٍ فَآيَةٌ مِنْ لَدُنَّا إِنَّ كُفْرًا فَعِلِينَ پیدہ کر نس اندر سے کہنی مصلحت آسمانہ بلکہ آسہا  
 اکھ مشغلہ بناون اسے مرادیتھ منز نہ کا نہ رت فائدہ آسمانیلہ بناوہ ہو اس پنہ نس کٹھ چیزس پن مشغلہ۔  
 مثلاً پنہ نین کمالہ کین صفاتن ہندس مشاہدس بناوہ ہو اس مشغلہ۔ کیا زہ مشغلس گوشہ شاغلہ سندس  
 ذاتس سیت مناسبتہا آرن۔ حضرت واجب الوجودس کیاہ مناسبت چھہ مصنوعات حادثن سیت۔  
 صفات قدیمہ باوجودیکہ تم چھہ لازم تہن سے چھنہ مناسبت تم کیا تہکن مشغلہ بنت۔ وون چھنہ کتھے  
 مصنوعات حادثن ہنز تم کیاہ تہکن بنت مشغلہ باری تعالیٰ۔ لہذا سپد ثابت کہ آسمان وزمین اسے بے ہودہ  
 سے عبث پیدہ کمر نہ۔ بلکہ کمر پیدہ اثبات حق سے ابطال باطلہ خیرہ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ  
 فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ بلکہ چھو سون ارادہ یہ تمام کائنات پیدہ کر نہ اندر حق و باطلک مقابلہ کرون۔  
 چنانچہ آس چھن ہنز کتھ پیٹھ مصنوعات دلالت چھہ کران اپر س پیٹھ ہنز ترہ دوان سے غالب کران۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ  
عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  
لَا يَفُتُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُبَشِّرُونَ ﴿٢١﴾  
لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ

کس چھو سو پوز تھہ اہزس کاڑ کڈان اتی چھو سو اپز گان، ختم کوشہان و لکھ الویل مٹا تصفون تھندہ  
خبطرہ چھو ویل تہ افسوس بیہ سیٹھاہ خرابی۔ ای مکہ کیو کافرو، تمو کھو سیبہ سمہ تہہ ونان چھوہ معبود  
برحق نسبت۔ معبود برحقہ سڈ شان چھو سیٹھاہ تھود و لکھ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حال لکھ تم  
آسان تہ زمین اندر چھہ تم چھہ تہندی مملوک۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ  
لَا يَسْتَحْسِرُونَ تمو آندرہ تم کس نزدیک چھہ یعنی مقرر بان الہی تم چھہ تکبر تہ عار کران تہندہ عبادتہ  
نشہ، نہ چھہ تم عبادت کران کران تھکان زانہہ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفُتُونَ بلکہ چھہ رأس  
تہ دوہس تسبیح پران آسان، تراوان چھہ سو کام أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُبَشِّرُونَ تو حید چہ  
ایژہ دلیلہ بوزت تہ چھہ تم زمینہ کین معبودان باطلن معبود ٹھہراوان۔ یم تہن مر نہ پتہ بیہ زندہ کرن۔  
آسان ہند مقرر بندہ چھہ خدای قدوسہ سز عبادت کران۔ زمینہ بیہ زندہ نشہ نیت مت مخلوق تم سیٹھاہ  
سفلی نمہ درجک مخلوق چھہ، تم اندر چھہ تہہ کانہ ہستی یم خدائس مقابل معبود ہیکن بنبت۔ یلہ خدای  
ذوالجلال تہندین پرستش کردہ وین سزوت تہ عذاب کمر تھہ مارہ تم معبودان باطل ہیکن سنا تہن تمہ  
عذابہ نشہ موکلاوت یامر نہ پتہ بیہ زندہ کمر تھہ۔ وون کس نہ عذابہ نشہ موکلاوت ہیکن یامر تھہ زندہ  
کمر تھہ ہیکن نیتھ عاجز ہیکن معبود آرتھہ۔ لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ہر گاہ آسن آسان  
وز مینس منز معبود برحق ورا ی ہی معبود تلہ آسن تم دوشوے تباہ تہ بُر باد گامت۔ کیازہ عادتاً  
آسہا تہن دوشون ہندین ارادن تہ کاین اندر اختلاف۔ اکھ دپہ ہارود تراوہ۔ بیا کھ دپہ ہابہ تراوہ نہ۔ دون  
منز سپدہ ہامزاحت۔ کس سپدہ ہافساد۔ وون چونکہ فساد چھہ ہی آندرہ سپد معلوم۔ زہ چھہ کئی معبود



وَسُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿۲۶﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ  
 بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿۲۷﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ  
 لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿۲۸﴾  
 وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ  
 كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۲۹﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ

مشکوٰۃ آندره چہہ و نان بعضی کہ حضرت رحمانس چہہ اولاد ملائک بعضہ چہہ و نان زہ ملائک چہس  
 کورہ۔ توباہ۔ توباہ، سوچھو اولاد تہ کورہ آسہ نشہ منزہ تہ پاک، تم ملائک چہہ تسمند اولاد بَلْ عِبَادٌ  
 مُّکْرَمُونَ بلکہ چہہ تم خدایہ سند معزز بندہ تہندہ عبدق تہ مخلوق کیفیت چہہ یہ کہ لَا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ  
 وَهُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ تم چہہ نس بروئہ کتہ ہیگان کتر تہ۔ بلکہ چہہ آسان پنہ جایہ روز تہ  
 حکم انتظار کران۔ بیہ چہہ تم تہندس حکم تقیل کران۔ تم چہہ تہندس حکم بدل کران کیا زہ  
 یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اللہ تعالیٰ چہو تہند بروٹھم پتہم سو روی حال زانان۔ تمن ہندہ  
 ادق کیفیت چہہ یہ کہ وَلَا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ بیہ چہہ تم شفاعت  
 تہ سفارش کران کانہ مگر تس بیدہ ہندہ اللہ تعالیٰ راضی آہ شفاعت کر نس۔ تم چہہ تہندہ خوفہ سبہ  
 نند اندر آسان وَمَنْ یَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ بیہ کس اکھاہ تمو ملکو آندہ  
 دعوے کرہ پنہ معبود آسک معبود برحقس و رای کس و موس آس سزاناں جہنم کَذَلِكَ نَجْزِي  
 الظَّالِمِينَ نتہ پاٹہ چہہ آس ظالم سزادوان أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
 كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا کیا تم کافر ن سزنا معلوم یہ کتہ کہ پنز پاٹہ آسانہ تہ زمین اوس اکھ اوس سیت  
 ملتہ بند۔ نہ اوس آسانہ رود پیوان نہ اوس زمینہ منزہ کینہہ پیدہ سپدان۔ کس مڈرا و اسی تم دوشوے۔

كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ  
تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾  
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ ﴿۳۲﴾  
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ  
فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾ وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ  
أَفْأَيْنَ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿۳۴﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ

اکھ اکس نشہ کمر جدا۔ ہتھ پاٹھ کہ آسمانچہ طرفہ ترورود زمینہ منزہ کھور گاسہ۔ امہ بارشہ سیت چھنہ زمینہ  
منزہ گاسے یوت کھسان بلکہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ بلکہ بنواسہ امہ بارشہ سیت پر ہتھ چیزاہ  
جاندارتہ زندہ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ کیاہ توتہ کرن نام پڑھ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي بیہ کمر اسمہ پنہ  
قدرتہ سیت زمینس پیٹھ کوہ پیدہ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ہتھ نہ زمین لکھ ہتھ اورہ یور ڈلہ۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا  
فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ بیہ کرہ اسہ اتھ زمینس منز شادہ وتہ ہتھ لوکھ واتان آسن پنہ نین  
مظلمن تہ مقصدن وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا بیہ کور اسہ آسمان محفوظ پشاہ اکھ نیس وار نیس  
کاکس موجود روزہ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ مگر تم لوکھ چھہ امہ کیو قدرتی نشاوتہ نشہ ہتھ پھر ان  
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ بیہ چھو سُو خدائتھ قدرتہ  
وول کہ رات تہ دوہ کوزن پیدہ، پر ہتھ اکھاہ تمودویو اندرہ چھو پنہ نیس مدارس منز ہتھ پاٹھ پکان زان  
ژھانٹ وایان چھہ۔ تم لوکھ چھہ تہمدس وفالس پیٹھ خوشی تہ مسرت ظاہر کران۔ یہ وفات چھنہ  
نبوتس منالی کینہہ تہ کیا زہ وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفْأَيْنَ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ اسہ  
کورنہ توہہ برونٹھ کانسہ بشرہ سندہ خیطرہ (خواہ سونہی آستن یا غیر نبی) دنیاس اندر ہمیشہ زندہ روزن  
مقرر۔ ہتھ پاٹھ توہہ برونٹھ پیغمبر سوزنہ آے توپتہ گے تم سہمہ عالمہ ہتھ پاٹھ سوزدہ ہتھ تہ، تہہ تہ چھوہ  
سہمہ عالمہ گڑھن۔ کیاہ ہر گاہ تہہ سہمہ عالمہ گڑھو، تم چھاروزن ہمیشہ زندے۔ تم تہ چھو نمز، سہمہ

الْمَوْتِ وَنَبَلُوكُمُ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾  
 وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلهًا وَّاهِلًا هَذَا  
 الَّذِي يَذْكُرُ الْهَيْتَكُمْ وَهُمْ يَدْعُونَ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۶﴾  
 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ سَأَوْرِكُمْ آيَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۳۷﴾  
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ لَوْ يَعْلَمُ

دنیا آندره نیرن۔ تم تھ پیٹھ چھہ تہندس سمہ عالمہ گڑھنس پیٹھ خوشی ظاہر کران کُلْ نَفْسِ  
 ذَٰلِكَ الْمَوْتِ مَوْتِ چھو ٹیٹھ چیزہ کہ پریتھ جاندارہ چھو اہمہ نتہ اہمہ دوہہ موتک مزہ ژہن وول  
 وَنَبَلُوكُمُ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ بیہ بیوسہ اہمہ توہہ چندروزہ زندگی دژمژ چھہ سنو چھہ  
 محض توہہ خیرہ تہ شرہ سمیت آزمائش کرنہ خیطرہ۔ دنیا آندره نیرت چھو توہہ اسی نغہ واٹن۔ اسہ نغہ  
 واتھ پیہ پریتھ اسک مناسب سزائہ جزائہ بین کافرن ہنز حالت چھہ یہ کہ وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلهًا وَّاهِلًا یلہ سم کافر توہہ وچھان چھہ تمہ ساتہ چھہ توہہ سمیت ٹھٹھ تہ استہراء  
 کران۔ پانہ وان چھہ ونان کہ اَھَذَا الَّذِي يَذْكُرُ الْهَيْتَكُمْ وَهُمْ يَدْعُونَ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ کیا بیوسہ  
 شخص چھانس تہندین معبودن نسبت چھو پیچھ ونان۔ حالانکہ تم چھہ حضرت رحمانہ سڈناہینہ نشہ انکار  
 تہ گھر کران۔ حقیقتس اندر آس اعتراض کھہ یے۔ تمن پڑہ ہاپائس اتھ پیٹھ ملامت کرن۔ اہمہ خونتہ  
 تعجب چھو کہ سمہ ساتہ تم یوزان چھہ کہ گھرک سزائہ چھو نزول عذاب، تم چھہ انکارہ کن تھہ عذابس  
 جلد ژھانڈان خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ انسان چھو پیدہ کرنہ اُمت بانبرہ۔ ژن امستہ آڈرنہ منز چھہ  
 تراونہ آمرژ جلدی تہ بانبر۔ امی موکھ چھہ سم لوکھ جلدی عذاب منگان۔ تھہ منز ژیرگو ہنس چھہ زانان  
 عذاب واقع نہ سپدنچ دلیل سَأَوْرِكُمْ آيَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ ای کافر و بانبر و مہ جلدی ہاودوہ یو توہہ  
 عذابس گرفتار کرنک نشانہ تہ علامت۔ تہہ مہ کمر و جلدی کیا زہ وقتہ بروٹھ سوعذاب ایہ نہ۔ و قس پیٹھ  
 ینہ نشہ ڈلہ نہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بیہ چھہ ونان تم لوکھ کہ کرسپدہ بیہ وعدہ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاجِبِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا  
عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۹﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً  
فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۴۰﴾  
وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا  
مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۴۱﴾ قُلْ مَن يَجْلُوكُم بِالْبَيْلِ  
وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۴۲﴾

پورہ چھوے نہہ پزار۔ لَوَيْعَلُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاجِبِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ  
ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اے کاش تم کافر نہ ہئے تمہ وقت خبر گوشہ ہایلیہ تم جہنمک نار پر تھ  
طرفہ ولہ پیہ تو پتہ بیکن نہ تم سونا پانس برو تھکن دور کمر تھ نہ پتہ پتہ کن تہ تھز کن دور کمر تھ۔  
نہ ایہ تم کا نہ مدد کرنہ۔ اگر تم تہ معلوم آسہا۔ تیلہ کرہ کن نہ تم عذاب نارچ فرمائش۔ لہذا جھنہ یہ  
تھ ضروری کہ تہزہ فرمائشہ موافق کیا ایہ نازک عذاب تم کرنہ۔ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا  
يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ بلکہ واتہ تم برو تھکن سو عذاب ہتھ تہ معجہ۔ سو کی کر کیہ  
حیران۔ دم پھٹ گوشہن۔ پس بیکن نہ تھ نارس پانس نشہ دور کمر تھ نہ اکیہ مہلت ونہ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ  
بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ بیشک بیہ جھہ ٹھٹھ آمت  
کرنہ تم پیٹبرن سیت تم توہہ برو تھ آس یار سول اللہ۔ پس آولنہ تم ٹھٹھ کرہ ونین سو کی عذاب  
یتھ تم ٹھٹھ کران آس قُلْ مَن يَجْلُوكُم بِالْبَيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نہہ فرماو یو کہ یار سول اللہ کہ  
دنیا اس منزئس توہہ محفوظ چھوہ عذابہ نشہ پتہ پتہ مہر بانی حضرت رحمانہ سزئی ہر گاہے تہہ ماو تہز  
مہر بانی تہ احسان تلہ ونسو نہہ مہہ چھوہ راجھہ کران راتس تہ دوہس حضرت رحمانہ سندہ عذابہ نشہ۔ یہ  
چھہ تہزئی رحمت تہ مہر بانی کہ سو چھونہ توہہ نافرمانی سبہ عذابس گرفتار کران۔ ورنہ توہہ مہہ ہیچہ تمہ  
عذابہ نشہ بچاوت۔ یہ مہر بانی تہ احسان اوس منگان کہ یہ محسن تہ مہر بانی کہ وہن گدھہ سو کی زان۔ تس



أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَنْعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ  
 أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِتَّا يُصْحَبُونَ ﴿۳۳﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَ  
 آبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي  
 الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۳۴﴾ قُلْ إِنَّمَا  
 أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْعَى الضَّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذِرُونَ ﴿۳۵﴾

گوئند نہ کا نہ شریک تھاؤں۔ مگر تم چھتہ توتہ توحیدک اقرار کران بَلْ هُوَ عَنِ ذِكْرِهِمْ  
 مُعْرِضُونَ بلکہ چھہ تم بدستور پنہ نس حقیقی پروردگارہ سندہ یادہ نشہ تہ توحیدہ نشہ بٹھ پھر ان  
 روگردانی کران أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَنْعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِتَّا يُصْحَبُونَ  
 کیاہ تمں چھا اہہ ورا ای تھہ معبود ہم تمں بچاوتھہ تمں سائہ عذابہ نشہ۔ تم کیاہ ہمکن تمں بچاوتھہ تمں  
 چھونہ طاقت پڑن پان بچاوتک۔ تمں کیاہ ہمکن بچاوتھہ۔ نہ ہیچہ مقابلہ کہ وقتہ کا نہہ اسہ منزہ تمں سیت  
 روز تھہ۔ تمں کافرن ہند گھرس پیٹھہ اصرار کرن۔ یہ چھتہ سمہ وجہ کہ سائین دلیلن منز کیاہ چھو کا نہہ  
 نقص بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَ آبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ بلکہ چھو اصلی وجہ کہ اسہ کور تمں  
 لوکن یہ تہمدین مالین بدین دنیاءک سامان عیش مہیا۔ یوتان ہمزہ عمرہ بڈے یہ۔ تم آے پٹت در  
 پٹت دنیاءس منز عیش و آرام کران۔ تمی آکھہ غفلت ولہ۔ غرض نقص چھو تہمئی منز۔ سوگو غفلتک  
 نقص تہ خلل۔ اسہ کرے یہ بیان تم چیز سموسیت تمں غفلت ڈلہ ہا۔ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ  
 نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ کیاہ تم چھناو چھان کہ اس چھہ تہمدس زمینس بذریعہ فتوحات  
 اسلامیہ پر پٹھہ طرفہ کی کران۔ ہم ہندہ تصر فہ نشہ کڈت مسلمان ہندس تصر فس منز آنان۔ کیاہ تہ  
 ہیچہ سانس پیغمبرس پیٹھہ غالب سپد تھہ۔ ہم چیز و چھتہ تے توتہ تم جمالتس تہ عنادس پیٹھہ اصرار کرن  
 تھہ عذاب فرمائش روزن کران قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ تہہ فرماؤ یو کہ یو چھو سنہ مگر ہم کران تہہ  
 وچہ ذریعہ۔ عذاب واقع کرن چھونہ ہمینس اختیارس اندر۔ اگرچہ تھہ پاٹھہ ہم کرن اوس کافی مگر ولہ

وَلِئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا  
 إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۳۷﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ  
 فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ  
 خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا  
 مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۹﴾  
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ  
 مُشْفِقُونَ ﴿۴۰﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ

يَسْمَعُ الصَّخْرَةُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا ينادُونَ تم زبرسمہ ساتہ پڑسُن نادو تھ عذابہ سیت کھوڑا ونہ بیوان چھہ  
 تم چھہ سُو آلو بوزانی وَلِئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ تو پتہ  
 سمہ ساتہ تم ن تمہدس پروردگارہ سندہ عذابہ ہولاک آھ دکاہ لعمہ تمہ ساتہ دہن ہاے افسوس واقعی  
 آس آس ظالم تہ خطاکار وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بیہ گرو آس قیامتہ دوہنہ قائم عدل  
 ترکر۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا پس ایہ نہ کانسہ نسبت ظلم کرنہ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ  
 خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ بیہ ہر گاہ آسہ لعمہ آس ہچلس برابر آسہ کانسہ ہنر عمل،  
 سنو تہ آو آس تولہ خیرہ بیہ چھہ اس کافی حساب ہینہ خیرہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ  
 وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ پڑاٹھ بیہ کر آسہ حضرت موسیٰ آس تہ حضرت ہارونس عطا تباہ، یوسہ  
 پڑس تہ اپڑس منز فرق کرہ ون آس۔ بیہ وتھ ہاونہ خیرہ آھ گاشاہ بیہ آھ نصیحت ناماہ پر ہیز گارن  
 ہندہ خیرہ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ تم پر ہیز گار پنہ نس  
 پروردگار س غائبانہ کھوڑان چھہ، بیہ تم قیامتہ نشہ تہ کھوڑان چھہ، تھہ پانٹھ تم یعنی موسیٰ تہ ہارون  
 علیہ السلام آسہ کتاب عطا کر وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ بیہ قرآن مجید تہ

مُنْكَرُونَ ﴿۵۰﴾ وَلَقَدْ اتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدًا مِنْ قَبْلُ وَ  
 كَتٰبًا عَلِيْمِيْنَ ﴿۵۱﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هٰذِهِ التَّمٰثِيْلُ  
 الَّتِيْ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ ﴿۵۲﴾ قَالُوْا وَاَجَدْنَا اَبَاءَنَا لَهَا  
 عِبٰدِيْنَ ﴿۵۳﴾ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ  
 مُّبِيْنٍ ﴿۵۴﴾ قَالُوْا اَجَعْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّعِيْنِ ﴿۵۵﴾  
 قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِي

چھو بارکت اھ نصیحت ناما، نُس اسم نازل کور کیاہ تہہ چھوہ اتھ انکار کران وَلَقَدْ اتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ  
 رُشْدًا مِنْ قَبْلُ وَ كَتٰبًا عَلِيْمِيْنَ پز پات بیہ کر اسم ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام  
 بروٹھ ہن دوتتہ معاملہ فہمی عطا ایوسہ تہندس شناس شوبہ ہا۔ اسم آس بروٹھ خبر تہندین کمالات  
 علین ہنز اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هٰذِهِ التَّمٰثِيْلُ الَّتِيْ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ قابل ذکر چھو تہندیہ واقعہ  
 یلہ تمودوپ پنے نُس ماس تہ پنے نُس قوس یلہ تم مصروف وچھہ تمودوپ تلمین ہندس عبادتس  
 اندروو تہکھ سمہ گمہ شکلہ چھوہ توہہ تھامزہ تہن پرستش کرنہ خیطرہ تہہ پرستھ وقتہ تہن بروٹھ کنہ بہت  
 چھوہ آسان قَالُوْا وَاَجَدْنَا اَبَاءَنَا لَهَا عِبٰدِيْنَ تمودوپک جواب کہ اسم وچھہ مال تہ بڈبب یعنی  
 پرستش کران۔ تم لو کہ آس عاقل لہذا زون اسم تم چیز چھہ پرستھہ قابل۔ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ  
 وَاَبَاؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ابراہیم علیہ السلام دوچھہ تہہ تہ بیہ تہند مال بڈبب چھوہ پز پاتھ تم  
 پوتل لایق عبادت زانہ نُس اندرنہ گمراہی منزبتلا۔ تم آس پانہ گمراہ، تہہ تہ رُودوہ تھہ گمراہی پیٹھ۔ یہ  
 بوز تمودووا کہ کتھہ۔ تم گئے یہ بوزت حیران۔ تمودوپ قَالُوْا اَجَعْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّعِيْنِ  
 تم لگ دینہ کیاہ تہہ چھوہ پنے جابہ یہ کتھ پز زانہہ اسم نشہ پیش کران۔ کنہ تہہ چھوہ تہہ محول کران  
 قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ابراہیم علیہ السلام فرمودہ محول  
 چھوہ بلکہ چھہ پز کتھ نہ صرف مے نشہ بوت بلکہ واقف منزتہ چھہ یے پز کتھ کہ رب تہہ تھو سؤی

فَطَرَهُنَّ ۖ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۴﴾  
 تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴿۵۵﴾  
 فَجَعَلَهُمْ جُذًا ۖ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿۵۸﴾  
 قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِالْهَيْتَانِ ۗ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۹﴾ قَالُوا  
 سَبْعِنَا فَمَا يَذَّكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ۖ إِبْرَاهِيمُ ﴿۶۰﴾ قَالُوا  
 فَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ عَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿۶۱﴾ قَالُوا

ذاتِ پاک نئس سارنى آسمان تہ زمين ہند رب چھو۔ تم تم آسمان زمين گوڈہ پيدہ کر برو تمھم نقشہ تہ نمونہ آسنہ وراى۔ بيہ بيہ تم آسمان تہ زمين منز چھو تہ سو زوى کور تمھى پيدہ تھہ منز تم تھہند پوتل تہ چھہ شامل۔ يعنى تم تہ چھہ تمى پيدہ کمر مت۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ بوجھس پانہ اچ گوانى دوان۔ اتھہ پيٹھہ چھہ مہ نشہ دليلہ تہ۔ بوجھوس نہ تھہند پاٹھہ اچھہ وٹھہ تقليد کرن و تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ قسم خدا بؤ کرہ تھند ين پوتلين ضرور کينہہ تدبيرہ تہ بندوبستہ تھہ توہہ معلوم سپدہ تھند عاجز آسن تھندہ تمن نشہ واپس گوهنہ پتہ فَجَعَلَهُمْ جُذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ چنانچہ تھندہ گوهنہ پتہ کر ابراہيم عليه السلام تمن پوتلين تہرہ سبت ريزہ ريزہ۔ مگر نہ اکس بڈس پوتلس۔ تس کور کھ نہ کينہہ تہ تھہ تم تمن کن واپس بن دريافت کرنہ خيترہ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِالْهَيْتَانِ ۗ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ تمہہ پتہ يلہ تم واپس آئے و چھکھہ پوتلين ہند بيہ حال۔ دپنہ لگ بيہ بے ادبى تہ بے حرمتى ہنز کام کم سنا چھہ کمر مرسانين معبودن نسبت پيشک چھو سؤ ظالم قَالُوا سَبْعِنَا فَمَا يَذَّكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ۖ إِبْرَاهِيمُ بعضى لگ دپنہ آسہ بوزاکھ جواناہ اوس تمن پوتلين ہند تذکرہ کران۔ تس چھو نا و ابراہيم قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ عَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ دچھہ جس انيون سؤ سارنى لو کن تھى۔ تھہ تمن تھى اقرار کرہ تم تہ روزن تھہ پيٹھہ گواہ تو پتہ انہ نوؤ کھ ابراہيم عليه السلام قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِالْهَيْتَانِ ۗ يَا إِبْرَاهِيمُ دو پھس اے ابراہيم ژہ کور تھہ بيہ حال

ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا يَا بَرِّهَيْمُ ﴿۶۲﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ بَعْضُ  
 كِبَرِهِمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿۶۳﴾ فَرَجَعُوا إِلَى  
 أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۶۴﴾ ثُمَّ نَكَسُوا عَلَى  
 رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿۶۵﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿۶۶﴾ أَفِ  
 لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۷﴾  
 قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿۶۸﴾

سائین پو تلین نسبت قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كِبَرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ تمودو یہک بلکہ جھو  
 کورمت یہ یہہہ بڈہی پو تل۔ نُس پر ژھتو تم پو تلین چھے تم کلام کرہ ون فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا  
 إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ پتہ پھیر تم پانس گن۔ پان پانس سبت سوچ کمر تھ لگ آکھ اگس ونہ۔ یقیناً جھہ  
 زیادتی تہندی طرفہ (بے جان کینن معبودون جھو بیشک ظلم) ثُمَّ نَكَسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ  
 مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ تو پتہ آکھ نومرا ونہ کلہ یون گن نجالتہ سببہ۔ کلہ یون گن تراوت تھ لگ ونہہ واقعی  
 توہہ جھو معلوم اے ابراہیم تم پو تل چھہ کئی ہیکان ونہہ۔ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا  
 يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ \* أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ابراہیم  
 علیہ السلامن دو چھہ کیاہ جہہ جھوہ ادہ معبود برحقس ور اے تمن چیزن ہنز پر ستش کر ان تم نہ توہہ  
 کانہہ نفع ہیکن وانہ ناو تھہ بیہ نہ کانہہ نقصان۔ سیٹھاہ تنگ چھس یوسد مت تہندہ موکہ بیہ تمن ہنز جہہ  
 پر ستش جھوہ کر ان معبود برحقس ورا ی۔ کونہ جھوہ جہہ عقل کر ان نُس بے جان چیز تھہ بیہ نہ کمر تھہ  
 سؤی ہیکیا معبود آتھہ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ تم لگ ونہہ پانہ وان ام  
 ابراہیمن زال سان پھر۔ لہذا آڑھہ پتہ زال نہ بن نارس اندر۔ جہہ کمر ومد معبودن پنہ نین چھوے توہہ

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿۹۹﴾ وَأَرَادُوا  
 بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِثِينَ ﴿۱۰۰﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا  
 إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۱﴾ وَهَبْنَا لَهُ  
 إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿۱۰۲﴾  
 وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ  
 الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿۱۰۳﴾

کینہہ کران۔ تو پتہ کو رکھ نار تیار و ابرہیمس کالس زمین سو نبر تھ۔ تمہ پتہ یلہ ابراہیم علیہ السلام تھہ نارس  
 منز تران ہویو تھہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اللہ تعالیٰ فرماوان کھم کوراسہ نارس،  
 ناروسر دسپد، بیہ سلامتی ہند ذریعہ ابراہیمس پیٹھ و آسرادو اپہ کیداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِثِينَ بیہ کریو  
 تموارادہ پنہ تدریہ سیت ابراہیمس نقصان و اتنا و نک۔ کس کمر اسہ تھے سخت نقصان تله و ن۔  
 وَنَجَّيْنَاهُ وَ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ بیہ دت اسہ نجات ابراہیم علیہ السلام  
 بیہ لوط علیہ السلام، کس تھند باپہ تھروس دُشمنِ نغہ۔ و اتنا و اسہ تم دوشروے تھہ زمینس منزیتھ منز  
 اسہ برکت چھ تھامز لوکن ہندہ خیرہ یعنی ملک شامس اندر و وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  
 نَافِلَةً بیہ کوراسہ ابراہیم علیہ السلام عطا فرزند اسحق علیہ السلام تھندس مگنس پیٹھ۔ بیہ یعقوب علیہ  
 السلام علاوہ و كُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ بیہ کمر اسہ تم ساری، مول پٹھو پٹھو سڈ پٹھو، پیغبر یعنی ترشروے کمر  
 اسہ پیغبر وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُهَدُونَ بِأَمْرِنَا بیہ کمر اسہ تم امام تہ پیشوا لوکن ہند تم تم و تھ ہاوان چھہ  
 سانہ کھمہ موجب و أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ بیہ  
 سوز اسہ تم کُن و حی رتہ کامہ کمر نک بیہ نماز پر نک۔ بیہ زکوٰۃ و نک۔ بیہ آس تم سانی یا ثعبات  
 کران۔ یژھ شوہر تہ تژھ و لُوطًا اتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغُرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ  
 الْحَبِيثَاتِ بیہ کوراسہ عطا لوط علیہ السلام نبوتک اختیارات بیہ علم بیہ و کس نجات تمہ شہرہ نغہ سمہ

وَلَوْ طَأَتِيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي  
كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيْثَ ۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سُوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿۴۳﴾  
وَاَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمٰتِنَا اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۴۴﴾ وَنُوْحًا  
اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكُرْبِ  
الْعَظِيْمِ ﴿۴۵﴾ وَنَصْرْنَهٗ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا  
اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سُوْءٍ فَاغْرَقْنٰهُمْ اٰجْمَعِيْنَ ﴿۴۶﴾ وَدَاوُدَ  
وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمِيْنَ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَسَتْ فِيْهِ غَمَمٌ

شہرک لو کہ ناپاک تہ پیچھ کوم کران آس اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سُوْءٍ فٰسِقِيْنَ بے شک آس تم لو کہ پیچھ  
قوم سخت بدکار وَاَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمٰتِنَا اِنَّهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ بیہ کوراسہ سُو لوط علیہ السلام داخل پنہ  
نین تمین بدن اندر تمین پیچھ رحمت ہتھہ نازل سپدان۔ کیا زہ تم آس بے شک بدہ درجہ کیونیک مردو  
آندرہ وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ بیہ کریوذ کرنوح علیہ  
السلامہ سُنَدِ قِصَۃِ یٰلِہٖ ابراہیم علیہ السلامس بروٹھہ تموا اللہ تعالیٰ اس مۇنگ ای بارخدا یامین کافرن نَشِہ  
ہیکھنا زہ میون بدلہ۔ نَسِ کمر اجابت آسہ تہندس مَنگس۔ بیہ دیت آسہ نجات تمین بیہ تہندس لوکن تہ  
تا بعن بدہ غمہ نَشِہ۔ وَنَصْرْنَهٗ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا بیہ کوراسہ مدد تمین، تمین لوکن  
پیچھہ سموا نکار کور تہ اہز زان سان آیات اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سُوْءٍ فَاغْرَقْنٰهُمْ اٰجْمَعِيْنَ بے شک تم  
آس سیٹھاہ پیچھہ لو کہ نَسِ پھاٹو آسہ تم ساری یچہ وَہ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمِيْنَ فِي الْحَرْثِ اِذْ  
نَفَسَتْ فِيْهِ غَمَمٌ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحٰكِمِهِمْ شٰہِدِيْنَ بیہ کمر ویا د داود علیہ السلام تہ سلیمان علیہ  
السلامہ سُنَدِ قِصَۃِ یٰلِہٖ تم فیصلہ کران آسہ آسہ زراعتگہ تھہ منزغہ اوس بیہ دچھہ کل آس۔ تھہ زراعتس  
رات گیت آسہ تومگ جب (تیر) آس پیمت۔ سمہ سیت تھہ زراعتس نقصان ووتمت اوس۔ حضرت

الْقَوْمِ وَكَتَابُ الْحِكْمِ مِنْ شَهِدِينَ ﴿٤٨﴾ فَفَقَّهْنَهَا سُلَيْمَنَ  
 وَكُلًّا اتَيْنَاهُمْ وَأَعْلَمْنَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ  
 يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٤٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ  
 لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ  
 شَاكِرُونَ ﴿٥٠﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ  
 إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾

داؤد کو فیصلہ زراعتہ والس گڑھن سم تیر من دنہ امہ نقصانہ بدل۔ آس آس تہند فیصلہ و چھان  
 فَفَقَّهْنَهَا سُلَيْمَانَ کہس تور فخرہ اسہ تمیک فیصلہ حضرت سلیمان تمودوپ سم تیر روزن زراعتہ  
 والس نغمہ۔ یہ کہیہ تمکن دودھ۔ بیہ تلہ بہنز مون (بیر) تیرہ دول گرہ زچہ تہ زراعت خدمت یوتان  
 زراعت پختہ سپدہ تہ پچہ۔ توپتہ بیہ زراعتہ والس زراعتہ والس دنہ تیرہ والس تیرہ والس دنہ  
 اتیناہم وعلما تمکن دوشون صاحبن اوس اسہ قوت فیصلہ بیہ علم عطا کورمت و سخرنا مع داؤد  
 الجبال یسبحن والطیر وکنا فاعلین بیہ کمر اسہ مسخر تہ تابع داؤد علیہ السلا مس کورہ۔ تم کوہ آسن  
 تمی سیت تسبیح پران۔ بیہ وڈون جانور تم تہ کمر تمکن مسخر تہ تابع۔ تم تہ آس تمی سیت تسبیح پران۔  
 کانہ ہند گڑھہ نہ بیہ عجائب زان۔ یہ سوڑوی کرہ ون آس آسی وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ  
 لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ بیہ پچھناہ اسہ داؤد پیغمبر تہندہ جنگی لباس وونہ نک  
 گسب یعنی زرہ۔ بیہ توبہ بچاؤہ سولباس اکھ آسندہ تکلیفہ نشہ۔ کیا چھوہ توبہ امہ تسبیح شکر کداری کرہ ون  
 وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ بیہ  
 کمر اسہ سلیمان علیہ السلا مس مسخر تیز او۔ سوئی اوس پکان تہندہ حمہ ملک شامس کن۔ بیہ ملکس اندر  
 اسہ مجر بر کتر تھاومترہ ہجہ۔ بیہ ہجہ اس پر ہتھ چیزاہ پورزانہ ون وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوِصُونَ لَهُ  
 وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ بیہ تھاواہ تابع سلیمان علیہ السلا مس بعضی جن



وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا  
 دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴿٨٦﴾ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ  
 رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٨٧﴾  
 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَ  
 مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِيدِينَ ﴿٨٨﴾  
 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٩﴾  
 وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٩٠﴾

سیم سمندرس منز تهنده خیره ڈنگ ته غوطه دتھ ٹختہ، لعل ته جو اهر کھاران آس۔ بیہ آس تم جن امہ  
 وراى ته بیہ کامہ کران۔ اسی آس تم جن راجھہ کمر تھ ته سنبھالتھہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي  
 مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ بیہ کمر و تذکرہ ایوب علیہ السلامیہ سُنْد قصہ یلہ اگس سخت  
 مرضس مبتلا سیدت تم نادویت پنه نس پروردگارس ای زہ بوچھوس سخت تکلیفیس مبتلا۔ ژہ چھوک  
 ساروی رحم کرہ و نیو آندرہ زیادہ رحم کرہ ون میانس حاس پیٹھ ته کر ته رحم فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا  
 مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِيدِينَ کس کمر اسہ  
 اجابت تھندس مگنس کوس اسہ تھن سوتکلیف ته سختیوسہ تھن آس۔ بیہ کمر اسہ تھن عطا کمر باثبیہ  
 ایبت بروٹھ آس تھن سیت بیہ تھیت پنه رحمتہ سیت، بیہ اکھ و عظ ته نصیحتاہ بندگی کرہ و نین ہندہ خیرہ  
 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ بیہ یوزو حضرت اسماعیلہ سُنْد حضرت ادریسہ  
 سُنْد، بیہ حضرت ذوالکفلہ سُنْد۔ سیم ترشویہ چھہ صبرہ والیو آندرہ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ  
 الصَّالِحِينَ بیہ واتاوا سہ پنه نس رحمتس منز۔ بیشک تم چھہ نیکو کارواندرہ وَذَاتِ التَّوْنِ إِذْ ذُهِبَ

وَذَاتُ النَّوْنِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ  
فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ  
إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۷﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ  
مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُصْعِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾ وَذَكَرْنَا  
إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ

مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ  
مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ کر یونہی کہہ گاڑا وہ اس پیغمبر یونس علیہ السلام سے کہہ دیا۔ یہ تم پتھر قومہ نے در آئے  
تو تم نے غم سے کہہ دیا۔ یہ نہ تموا ایمان قبول کرو۔ تو پتھر یہ کہہ دیا قومہ نے عذاب دور سپد تھہر آئے نہ  
تم واپس بلکہ تمہو کہ پتھر سفر جاری سانہ اجازتہ وراہی۔ تمہو کو پتھر اجتمادہ سیت یہ خیال کہ تھہ میانس  
بلا اجازت سفر کر تھہ پتھر سپدہ نہ مہ پتھر کانہہ باز خواست۔ انبیاء عن پتھر پتھر لازم و حیس پیارن۔ وجہ  
موجبہ پر تھہ کاماہ کرن۔ تمہن سپز اتھہ ترک مناسب کر تھہ خدایہ سندہ طرفہ آزمائش۔ تھہ آواکھ  
دریادواہ اکھ۔ یہ آہ ناواہ اکھ۔ تم سپد تھہ ناوہ منز سوار۔ ”یہ ناوسپز طوفانس گرفتار پتھر تراوہ ہائز وچیرہ  
کہ کس سنا چھہ بغیر اجازتہ سفرس درامت، چیرن منز دراؤ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلامن ہندناؤ  
دوبارہ تہ آہ چیرہ تراؤنہ تہہ تہ در او تھندی ناو“ تھہ آہی تراؤنہ تم دریاس منز۔ اتی تھہ ناو۔ خدایہ سندہ  
حکمہ سیت آہ اکھ گاڑا۔ تمہی کھہ تم یعنی یونس علیہ السلام۔ تھہ مونگ تمہو تاریکی تہ گٹن اندر کہ تہ  
ورای چھونہ کانہہ معبوداہ۔ تہ چھوک ساروی عیبو نے منزہ تہ پاک۔ یو چھوس گنہگار و آندرہ۔ میانہ  
طرفہ آہ غلطی۔ میون قصور کر معاف۔ مہ موکلا وسمہ سختی منزہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ  
الْغَمِّ تھہ تھہ اسہ تھہ تھہس مگنس اجابت۔ یہ دیت نجات اسہ تھہ تھہ غمہ نے وَكَذَلِكَ نُصْعِي  
الْمُؤْمِنِينَ تھہ پتھر اسہ یونس علیہ السلامس نجات دیت۔ تھہ پتھر دمو اس نجات با ایمان ہیلہ تم  
تہہ دعا پرن۔ وَذَكَرْنَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ یہ

الْوٰرِثِيْنَ ﴿۸۹﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى وَاصْلَحْنَا  
لَهُ زَوْجَهَا اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ وَ  
يَدْعُوْنَآرْعَابًا وَّرَهْبًا وَّكَانُوْا الْنٰخِشِعِيْنَ ﴿۹۰﴾  
وَالَّتِىْ اَحْصٰتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَ  
جَعَلْنٰهَا وَاِبْنَهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۱﴾ اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ  
اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿۹۲﴾ وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ

سکر و یاد زکریا علیہ السلامہ سُند قصہ۔ یلہ تمومونگ پنہ نس پدوردگار س، ای میانہ پروردگارہ منہ تراوتہ  
مہ لاوارث تہ بے اولاد۔ ثری جھوک حقیقی تہ بہتر وارث۔ سواولاد تھاوہ ہامیان کام تومس اندر باقی۔  
تمن آساچان احکام و اتناوان فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهَا نِس سکر اسہ  
تہدیس منگس اجابت توپتہ کور اسہ تمن عطا فرزند، یحییٰ علیہ السلام بیہ سکر درست اسہ تہنز آشن۔  
تمن یوسہ ہانٹھ آج شکایت آس سکر اسہ دور تمن۔ سوسہ اولاد ہنہ نس قابل اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُوْنَ  
فِى الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَآرْعَابًا وَّرَهْبًا بے شک ہم ساری پیغمبر تمن ہنز ذکر تہ سورہ شریف  
منز کرنہ آس جلدی کران خیرہ چن کاین اندر بیہ آس سان عبادت کران توقع سان تہ خوف  
سان وَّكَانُوْا الْنٰخِشِعِيْنَ بیہ آس تمن اسہ بروٹھ تہ عاجزی نراوہون وَالَّتِىْ اَحْصٰتْ فَرْجَهَا  
فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَاِبْنَهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ بیہ کر یو تذکرہ نس دید صاحبہ ہند سمہ راجھ  
کر پنہ نس ستمس مردن نشہ نِس و اتناواسہ ہن روح بواسطہ ع جبریل امین علیہ السلام تمن نشہ، سمہ  
سیت خاندن س و رای تہدیس ستمس اندر چہ رود یعنی حضرت عیسیٰ تمی چھہ و نان تمن روح اللہ۔ بیہ سکر  
اسہ سکو دید صاحب بیہ تسد فرزند پنہ قدر تک اھ بوڈ نشانہ اھ سارنی عالمین ہندہ خیطرہ یعنی تہندہ کچاح  
ورای حاملہ سڈن بیہ فرزند اھ پیدہ سڈن بے پد۔ ای آندرہ گوشہ زان کہ اللہ تعالیٰ جھو پر تہ چیز س  
پیٹھ قدر تہ وول اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ اے لو کو سمہ بروٹھ نِس

بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَجُوعٌ ﴿۹۳﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ  
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿۹۴﴾ وَ  
 حَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۹۵﴾ حَتَّىٰ إِذَا  
 فُتِحَتْ يَا حُجُوجٌ وَمَا جُوجٌ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۹۶﴾  
 وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلَّ

مضمون بیان آؤ کر نہ تمہے اندر ہر معلوم کہ انبیاء کر ان ہند طریق چھو توحید۔ بیٹک یو ہے چھو تہند  
 طریق یتھ مستقیم روزن چھو توہہ پیٹھ واجب۔ یہوی چھو کوی طریق یتھ منزہ کانہ پیغمبر س  
 اختلاف چھو سمہ طریق حاصل چھو کہ یو چھو س تہند حقیقی پروردگار، کس ہزہ توہہ میانی یا اثر عبادت  
 کرن، لوکن اوس لازم اتھ طریقس پیٹھ محکم روزن وَنَقَطُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَجُوعُونَ  
 مگر لو کوور دینہ کس معاملس اندر اختلاف۔ دینس کمر کہ لکرہ لکرہ۔ تمیک سزاکھن تم پانے۔ کیا زہ  
 پریتھ اکس چھو واتن اسی نشہ۔ یوت واتھ تلہ پریتھ اکھاہ پنہ عملہ ہند نتیجہ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ  
 الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ پس کس اکھاہ رز کام گرہ با ایمان آتھ  
 کس ضائع تہ چھنہ گھشہ نہ تہنہ کوشش۔ اس چھہ تہزہ عملہ لیکت تھاون وال وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ  
 أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ناممکن چھو تم شرن ہندین لوکن ہند سم اسہ نافرمانی سبہ گال دنیاس  
 کن ہہہ وال کس سن حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَا حُجُوجٌ وَمَا جُوجٌ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ یوتان یا جوج  
 ماجوج یکہ تراوندہ سن سم و کس سد سکندر کس منز بند چھہ توپتہ دورن تم کوہو تہ بالو پیٹھ وَاقْتَرَبَ  
 الْوَعْدُ الْحَقُّ توپتہ سپدہ پورہ پوزوعدہ یعنی قیامت سپدہ تمہ پتے قایم فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا توپتہ لگن درہ کافرن ہنزہ کہچہ۔ تم اس ای وانان یُوَيَّلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلَّ  
 کتا ظلمین قیامتک ہولناک حالات و جہت دہن ہای افسوس پز پاٹ اس اس قیامتہ نشہ غفلتس منز

كُتَابِلِيْنَ ۙ ﴿۹۵﴾ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ  
 حَصْبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَرِدُوْنَ ۙ ﴿۹۸﴾ لَوْ كَانَ هُوَ اِلٰهًا  
 اِلٰهَةً مَا وَّرَدُوْهَا وَاوْكَلُ فِيْهَا خَلِدُوْنَ ۙ ﴿۹۹﴾ لَهُمْ فِيْهَا  
 زَفِيْرٌ ۙ ﴿۱۰۰﴾ وَهُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ ۙ ﴿۱۰۱﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ  
 لَهُمْ مِنَ الْحَسَنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ۙ ﴿۱۰۲﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ  
 حَسِيْسًا وَّهُمْ فِيْ مَا اسْتَهْتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ۙ ﴿۱۰۳﴾

یو ڈمت۔ غفلت گئے یہ ہر گاہ اس کا سہ خیر دار آسہو نہ سحر مت بلکہ آس آس ظلم کرہ و ن لا کوم و  
 مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَرِدُوْنَ و ن نہ بیکھ ہنر پناٹ نہہ اے  
 مخر کو بیہ سمن ہنر پر ستش کران آسہو نہہ خدا نئس و رای چھوہ از نار جہنمک زین۔ تہہ منز چھوہ تو بہ  
 سارنی ضرور واٹن۔ معبود و اندرہ ہم بعضے ملائکہ یا پیغمبر چھہ تم چھہ بیہ آینہ کریمہ سیت امہ نشہ مستثنی  
 آمت تھاونہ تمیک ذکر بیہ عنقریب لو کان ہوا لہا الہة ما و ردد و ما و کل فیہا خلد و ن تم بیہ  
 و ن نہ ہر گاہ آسن تم پو تہل معبود تیلہ کیا زہ و اتہ بن تم نار جہنمئس منز۔ نتر روزن تہ کم کنبہہ کالاہ تھونہ  
 تو بہ، تو بہ سارنی چھو روزن ہمیشہ اتھ جہنمئس اندر کہم فیہا زفیر و ہم فیہا لا یسمعون تم  
 کافر ن آسہ جہنمئس منز کریکہ نادہ شور و غل ستمہ سبہ تم اکھ آسن تھی آسن نہ بوزان اِنَّ الَّذِيْنَ  
 سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ہنر پناٹ بہندہ خیطرہ برو نٹھی ازلہ مقر چھہ آمر  
 کرنہ نیکی تہ رڑ، ہمیک ظہور آسہ سہمت تہد یو اعمال و افعالو سیت تم چھہ امہ جہنمہ نشہ دور تھاونہ  
 آمت لا یسمعون حسیسہا و ہم فی ما استہت ا ن ف س ہم خلد و ن تم بوزن نہ تمیک تہہ تہہ  
 آسن تم پتہ نین مرغوب چیز ن اندر ہمیشہ روزہ و ن۔ لا یحزنوہم الفزع الا کبر و تتا لہم الم لکة  
 غمگین کرہ نہ تم بڈ پریشانی یعنی پو غس دو ستم پھو کہ دنہ سبہ ہم ہیبت ناک واقعات سپدن قبرہ منزہ نیرہ  
 و ئے۔ بہ بن تم استقباس ملائک تم و نہ نکھ ہذا یومکم الذی کنتم توعد و ن یسوی کیا گو تہد

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ  
 الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۱۰۳﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ  
 لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْهَا طَائِفًا  
 فَعِلِينَ ﴿۱۰۴﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ  
 الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱۰۵﴾ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا  
 لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿۱۰۶﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۷﴾

سُوْدُوهُ تومیک توبه وعده تھاونہ اوس یوان۔ تمن سپدہ یہ بوزنہ سیت، مسرت وشادمانی زیادہ یَوْمَ نَطْوِي  
 السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ سُوْدُوہ تہ چھو قابل ذکر سمہ دوہنہ آسمان وٹو اوس تہ پائھ پائھ پائھ لیکھنہ  
 آسمہ مضمونک کاغذ چھو ونہ یوان نمہ پتہ یکن تم تہ پائھ ونھنی تھاونہ دو تمس پھوکس تان یان  
 معدوم محض کرنہ کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ تہ پائھ اسہ گوڈی لہ پیدہ کرنہ وقتہ پرتہ چیزج  
 پیدائش کمر تہ پائھ کرو اسہ دوبارہ یہ پیدہ۔ وَعَدَّا عَلَيْهَا طَائِفًا فَعِلِينَ یہ چھو وعده اکھ اسہ پیٹھ منہ  
 بے شک اسی چھہ سُوْدُوہ پورہ کرہ ون وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا  
 عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ یہہ لیوکھ اسہ سارنی آسمانی کتابن اندر لوح محفوظ منز لیکھنہ پتہ کہ پز پائھ جشمہ  
 زینک وارث تہ مالک آن نیکو کار بندہ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ پز پائھ تہ قرآن  
 مجیدس منز یا تہ سُوْرہ شریفس منز چھو کافی مضمون ہدایتس متعلق عبادت کرہ ونین لوکن ہندہ خیطرہ  
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ یہہ نہ حض سوزوہ نہ اسہ نہہ مگر سوزوہ تہ ہی نفع دوہ ون مضمون  
 تہ عالمن پیٹھ مہربانی کرنہ خیطرہ۔ سو مہربانی کنیہ تہہ کہ لوکھ کرن ایس پیغمبر بر کھس رشمہ تم مضمون  
 قبول کمر تہ ہدایتک ثمرہ تہ پھل حاصل۔ یس نہ تم مضامین قبول کرہ، تہ چھو تمس پن قصور۔ تمن  
 مضامین پیٹھ چھونہ تمہ سیت کانہ اثر یوان۔ قُلْ إِنَّمَا يُدْعَىٰ إِلَى اللَّهِ وَالْحَكْمِ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ  
 مُسْلِمُونَ نہہ فرماؤ لہ بطور خلاصہ یہہ یہ کھ کہ من چھونہ کانہ وحی سوزنہ یوان مگر ای زہ پز پائھ

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْوَاحِدُ فَهَلْ أَنْتُمْ  
 مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۸﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اذْنُبْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي  
 أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ ﴿۱۰۹﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ  
 الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿۱۱۰﴾ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهِ فِتْنَةٌ لَكُمْ  
 وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا  
 الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۱۱۲﴾

تہند معبود چھو کھوی۔ پس کیا چھو تہہ یہ تہہ مانہ وان ایچ حقیقت ثابت سپدہ پتہ۔ **فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ**  
**اِذْنُبْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ** تو پتہ ہر گاہ تم نبھ بھرن تہ مانہ تلہ فرماؤ کہ مہ کمر موہ توہہ عذاب خیر برابر  
 برابر **وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ** مہ چھونہ معلوم سو عذاب کرو سہ توہہ پیٹہ جلدی کہنہ  
 یزہ کال۔ سمیک توہہ وعدہ کرنہ یوان چھو **إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ** ہنر پات  
 تہند پروردگار چھو زانان تہنر سو تہہ یوسہ تہہ ہڈہ چھوہ کران بیہ چھو زانان تہ سو زوی یہ تہہ پو شیدہ تہ  
 کھٹھ چھوہ تھوان **وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهِ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ** بیہ چھونہ معلوم شاید عذابس منز  
 تاخیر سپن ما آسہ تہندہ آزماشہ خیرہ یائہ وقس تان توہہ تمنع تہ نفع تلمہ ناونہ خیرہ **قُلْ رَبِّ احْكُم**  
**بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ** پیغمبرن کور دعالے میانہ پروردگارہ تری  
 کر میانس قومس منز حق وانصافک حکماہ تہ فیصلاہ۔ بیہ فرمود پیغمبر برحق سون پروردگار چھو سیٹھاہ  
 رحمتہ ول۔ تمس نغہ چھہ آس مدد متکاں تمن کھن پیٹہ سمہ تہہ تہہ تس نسبت وان چھوہ۔

## سُورَةُ الْحَجِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ  
يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْصِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ  
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى  
وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝۲ وَمِنَ  
النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ای لو کو کھو ٹرو پنے نس بد وردگار س، تہ بندس  
عذابس، آس اُو ایمان، تہن کر و اطاعت، کیا زہ پز پانہ قیامتک بیل نُس ینہ وول چھو، سو چھو چیزاہ  
سیٹھاہ بوڈہ نہ مٹھل۔ یہ زلزہ نہ بیل چھو قیامتہ کیو واقعاتو آند رہ اکھ واقعاہ۔ یہ ینہ مٹھ مٹھل چھو ساری  
واقعات کیتیاہ مٹھل آسن۔ تمو ساروی مٹھلو نشہ بچر گڈ نہ خیطرہ کمر و کانہہ ساماناہ تہہہ حاصل۔ سو  
سامانہ چھو تقویٰ، خداس کھو ژن۔ تمہہ بچ شدت نہ سختی آسہ یشہہ کہ یوم ترو نہا تذہل کُل  
مَرْصِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا سمہ دوہہ وچھون تہہہ نہ بیل نہ زلزہ سو  
آسہ تھوی خوفناک کہ پر تھہ دودہ ماجہ مشہہ ہیتہ نہ دہشتہ سیت پُن دود چوہ وُلن ثر۔ یہ سپدہ پر تھہ حملہ  
واجبہ زمانہ وقتہ بروٹھی وضع حمل وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ  
یہہ وچھہ، کھہ ژہ لو کہ مست نہ بے ہوش مگر حقیقتس منز تم مست آسن نہ نہ نشہ چیتہ بلکہ آسہ خدا یہ سُد  
عذاب سیٹھاہ سخت سمہ خوفہ سیت لو کہ آسن بے ہوش نہ بد حواس سپد مت وکمن اللکس من  
يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ یہہ چھہ لو کو آند رہ تم شخص سم بحث چھہ



شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ  
وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ  
فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِمَّنْ  
نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِمَّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِمَّنْ مُضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ  
مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ  
أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ  
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَلَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ

لاگان خدایہ سزناں کنهن اندر علمہ وراى۔ بیه چھہ پر پتھہ سر کش شیطانه سز پیروی کران۔ کُتِبَ عَلَيْهِ  
اِنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ بَس شیطانس متعلق خدا این لیو کھمت چھو کھہ بس  
اکھاہ اس سیت دوستی لاگہ تمس کرہ سو شیطان یقیناً گمراہ بیه ہاویس و تھہ جھنمہ کس عذاب اس کن۔  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِمَّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِمَّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ  
مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
ای لو کو ہر گاہ توہہ شک چھو مر نہ پتہ بیه زندہ سپد اس اندر، تہہ و چھو پتہ بس ابتداء اس کن، اسہ گمراہ تہہ  
پیدہ میڑہ (کیا زہ غذا نشہ چھو لطفہ بنان عناصر و نشہ پتھہ اکھ جزء میڑہ چھہ۔) تو پتہ آبہ قطرس، تو پتہ  
خونہ دتہ، تو پتہ مازپارس پتھہ پور شکل دتہ آمرہ چھہ آسان یا چھسنہ آسان پور شکل دتہ آمرہ، پتھہ اس  
سز او وین قدرت سبہ چھن اس قرار کرہ تاوان شیکمن اندر تیتس کالس تیتس کالس بیه اس بھو۔ اس مقرر  
مدتس تان ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَلَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ  
أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا تو پتہ چھہ اس توہہ نبر کڈان ماجہ ہنرہ ہڈ منزہ بجاہ۔  
تو پتہ چھہ اس توہہ تربیت کران۔ پتھہ تہہ و تو جوانی ہندس سس۔ بیه چھہ توہہ اندر بعضی جوانی واحدہ برو نصی

لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْءٍ وَتَرَى الْأَرْضَ  
 هَامِدَةً فَاذَّأَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ  
 وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ ذَلِكِ يَبِّئُ اللَّهُ  
 هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝  
 وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ مَنْ  
 فِي الْقُبُورِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

مران۔ بیہ چھ توہم اندر بعضی تم واتنوں دیوان چھ بیچہ زندگی اندر یعنی، بجز سبتھ منز گھند قوت حافظہ تہ یادداشت چھو کمزور سپدان سبہ چھو کہ چیز چ خبر گھت تہ نشہ بے خبر سپدان تہ چھس مشد گھن۔ ای اندر ہند معلوم اللہ تعالیٰ چھو مر نہ پتہ بیہ زندہ کر نس پیٹھ قدر تہ دول۔ بیا کھ دلیل ہتھ اتھ پیٹھ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَاذَّأَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ بیہ چھن وچھان ژہ ای مخاطب بیہ زمین، ہو کھمت تہ خشک گو مت آسان۔ تو پتہ یلہ اس تھ پیٹھ زود تر او ان چھ اتی چھو سوتر و تازہ سپدان بیہ چھو پھولان بیہ چھو کھاران پر تھ قسمک خوبورت کل ذَلِكِ يَبِّئُ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیہ آو بیان کر نہ ای سبہ کہ اللہ تعالیٰ ای چھو موجود بر حق، وجود س منز کامل۔ بیہ گو گھند کمال ذاتی۔ بیہ چھو سومی مردن زندہ کران۔ بیہ گو گھند کمال فعلی۔ بیہ چھو سومی پر تھ چیز س پیٹھ قدر تہ دول۔ بیہ گو گھند کمال وصفی وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ بیہ چھ قیامت ضرور بیوہ ون، کانہ شکھاہ چھونہ تھ منز بیہ کرہ زندہ اللہ تعالیٰ تم سارنی تم قبرن منز چھ یعنی عالم بر زخس منز۔ یم ژور و عناصر و منزہ عنبر س منز آسن تم خاکس منز آسن تم س نارس منز آسن تم س، یم آس منز آسن تم س، یم ہو اوس منز آسن تم س، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا كَيْفٍ قَدِيرٌ بیہ چھ لو کو اندرہ بعضی لوک تم ہر تہ قضیہ لاگان چھ خدلیہ سدس معاملس اندر، تھندس

وَأَهْدَىٰ وَأَلَكْتِ مُنِيرٌ ۙ ۸ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ  
 سَبِيلِ اللَّهِ طَلَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 عَذَابَ الْحَرِيقِ ۙ ۹ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ  
 بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ ۙ ۱۰ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ  
 فَإِنُ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۙ وَإِنُ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ  
 وَجْهِهِ فَيَخْسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۙ ۱۱

ذاتس، صفات یا افعال اندر کتب علمی و اقیانیت و راسے۔ یہ کتب روشن کتابہ و رای ثانی عطفہ لیسئل عن سبیل اللہ کن تکرار و تہ، یعنی مجھ پر نہ طریق منکر کو کن خدایہ سزہ و تہ نشہ و ذالہ خیرہ۔ لہٰذا فی الدنیا خیزی و نذیقہ یوم القیامہ عذاب الحریق تہندی خیرہ چھ بڈرسوائی دنیا س اندریہ ہا و اس کس قیامتک دوہ ذرہ و نہ نارکہ عذابک پور مزہ ۹ ذلک بما قدمت یدک وان اللہ لیس بظالم للعبيد و نہ بیس یہ عذاب چھوی تم کا میں ہند بدلہ سمہ پنہ نیو اتھو کر مزہ و جھت۔ یہ امی سببہ کہ اللہ تعالیٰ چھو نہ ہرگز ظلم کرہ و ن پنہ نین ہندن لہذا کیاہ او ی ژہ سزاونہ جرمہ و رای و من الناس من یعبد اللہ علی حرف یہ چھ لو کو اندرہ بعضی تم کو کہ سم بندگی چھہ کران خدایہ سزاندس پیٹھ روز تھ یعنی ترددتہ شمعہ کس حاس پیٹھ ۱۰ فان اصابہ خیر اطمان بہ کس ہر گاہ و وٹس کانہ خیراہ تلہ چھو قرار کران تہت تھی۔ ۱۱ وان اصابته فتنه انقلب علی وجهہ خسیر الدنیا و الآخرة یہ ہر گاہ و اثرس کانہ آزمایعہا یعنی کانہ تکلیفہا آتی چھو پھیران تہ چھہ کران و انہس کھر س کس سمہ سیت گوسھان چھوٹس دنیا ک تہ آخر تک نقصان ذلک هو الخسران المبين اتھ چھہ و نان نون نقصان۔ دنیا ک نقصان گو قننس اندر بتلا سپدن۔ آخر تک نقصان گو اسلامہ نشہ چھہ آتھ چھلان خدایہ سز عبادت ترا و تھ یدعو امن دون اللہ مال ایضو مال لا یفعلو عبادت چھوہ کران خدائس و رای تمنی چیزن ہنزیم نہ خمس عبادت نہ کر کس پیٹھ نہ کانہ ضرر ہیکن و اتا و تھ یہ نہ عبادت کر کس پیٹھ

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ  
 الضَّلُّ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوا مَنْ خَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ  
 لِبَسِّ الْمَوْلَىٰ وَكِبْسِ الْعَشِيرِ ﴿١٣﴾ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
 إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ  
 يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمِدُّ ذِرَاعَيْهِ إِلَى  
 السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيبُ ﴿١٥﴾

کا نہ فائدہ پہنکے و اتنا تو ہے۔ ذلک ہُو الضلُّ البعیدُ یہ گنہگار انتہا درج سوغر اہی یوسہ پڑہ نفعہ سیٹھاہ  
 دور چھہ یَدْعُوا مَنْ خَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ یہ چھو تہنزی عبادت کران سمسند ضرر زیادہ کھہ چھو  
 تہنہ نفعہ خوتہ لِبَسِّ الْمَوْلَىٰ وَكِبْسِ الْعَشِيرِ سُو چھو سیٹھاہ چھہ مدگار تہ سیٹھاہ چھہ رفیق۔ إِنَّ اللَّهَ  
 يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ پڑ  
 پاٹ اللہ تعالیٰ و اتنا وہ تمن لو کن یمو ایمان اون بہہ کر کیکہ رتہ عملہ، جنتہ کین تمن باغن اندر سمومنز جو بہہ پکان  
 آسن۔ پڑ پاٹ اللہ تعالیٰ چھو کران تی یہ یرٹھان چھو کافر ن ہنہہ خیطرہ یرٹھہ عذاب، بالایمان ہنہہ خیطرہ یوڈ  
 ثواب۔ تھہ بنہہ نہ اکھ ذتہ تہ بدل۔ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
 فَلْيَمِدُّ ذِرَاعَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيبُ لُس اکھاہ رسول کریم  
 صلی اللہ علیہ وسلمن سیتہ مخالفت کر تھہ یہ خیال تھا وہ کہ یوسمہ غالب تمن پیٹھہ تو پتہ رٹہ یو پتھہ تہنہ تہ  
 جہنہہہ دنچ ترقی اللہ تعالیٰ کرہ نہ ہر گز تمس مئہہ قسمہ مدونہ دُنیاہ س اندرنہ آخرتس اندر سمسند یہ خیال  
 آسہ لُس پڑہ سوتراون آسائس الانزا کھہ رزاہ تو پتہ کھسٹن آسائس توت و اتتہ ہر گاہ پلینس سُو کرہ ناوان  
 وحی نازل کرن ہند۔ یہ تھہ چھہ واضعہ تہہ بیچہ نہ کا نہ تہ کمر تھہ۔ وون گدھہ غور کرن کہ کیاہ آس شخصہ

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَن يُرِيدُ ﴿١٦﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصْرِي  
 وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن  
 فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَ  
 الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ

سند یہ تدبیر کران سہمہ نشہ سوا بلکل عاجز چھو بیچیا مسزہ ناگوار ی ہند چیز یعنی وحی بند کمرت۔ ہرگز بھیجہ نہ کمرت و كذلك انزلناه آيات بيّنات يتھ پاٹھ کوراسہ نازل قرآن مجید۔ تھ منز صاف صاف تہ واضح دلیلہ چھ مگر باوجود اس وَاَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَن يُرِيدُ یہ چھو اللہ تعالیٰ اکی و تھ ہاوان کس یسند ارادہ کران چھو۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصْرِي وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ہنز پاٹ با ایمان یہ یہودیہ صابین یہ نصاریٰ یہ آتش پرست یہ مشرک إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ہنز پاٹ اللہ تعالیٰ کرہ تم سارنی منز فیصلہ قیامتک دوہ۔ مسلمان با ایمان و اتادہ جنس منز۔ کافران و اتادہ جنس منز۔ ہنز پاٹ اللہ تعالیٰ چھو پر تھ چیزاہ، پر تھ کانسہ ہنز پر تھ کاہ پانہ و چھون۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْكَ الْعَذَابُ آيا و چھان و تھ کناثرہ اے و چھو نہ بیشک اللہ تعالیٰ اس چھہ سجده دوان تم ساری مخلوقات تم آسمان منز چھہ یہ تم ساری مخلوقات تم زمین منز چھہ یہ آفتاب یہ زون یہ ستارہ۔ یہ کوہ تہ کل یہ ساری چارپا یہ کو کو اندرہ واریاہ۔ باوجود اینکہ ساری مخلوقات چھہ تابع تہ فرمانبردار اللہ تعالیٰ اس مگر انسان تم خاص عقل آئے یہ عطا کر نہ تمو منزہ چھہ ساری فرمانبردار بلکہ چھہ واریاہ فرمانبردار۔ مگر واریاہ چھہ تمواندر تم تم پیٹھ نافرمانی سببہ عذابس مستحق آسن چھو آمت قرار دہ یعنی تم مستحق عذاب چھہ

عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ  
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٨﴾ هَذَانِ خَصْمِينَ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ  
فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ  
فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ  
وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا

سہمت و مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ پڑتھ پڑتھ یہ ہے کہ تمکن اللہ تعالیٰ  
خوار و ذلیل کرے تہ ہدایتک توفیق دینے نہ، تمکن چھونہ کانہ تہ عزت و وہ دن۔ بیشک اللہ تعالیٰ چھوتی کران  
یہ یرشہاں چھو۔ سو چھو اختیار وہ دل هَذَانِ خَصْمِينَ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ تم زہ چھہ اکھ اکسد مدعی۔  
ہر چھک پنہ نس خدلیہ سدہ خیطرہ بروظھین آیہ کر تمس منز یعنی (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا )  
تمکن فر قن ہنز ذکر چھہ تمکن سارنی چھہ حق و باطلس پیٹھ آسجہ حیثیتہ زہ فریق۔ اکھ گوبا ایمان۔ تم پنہ  
نس ہد و ردگارہ سندین سارنی احکامن چھہ تسلیم کران۔ دو تم فریق گو ساری کافر، یسود، نصاریٰ،  
مجوس، مؤرخین، صابین وغیرہ۔ تم نہ پنہ نس پروردگارہ سندین احکامن تسلیم کران چھہ، تہنز  
اطاعت قبول کران چھہ۔ تم دو شوے فریق چھہ دعوی اس اندر، شمس اندر، مناظرس اندر اکھ اکسد  
مد مقابل روزان جمادوقالہ کس موقس پیٹھ۔ چنانچہ جنگ بدرس منز اکھ طرفہ حضرت علی مرتضیٰ،  
حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہم یہ طرفہ کافر و آندرہ تہ زن۔ عتبہ شیبہ، ولید  
آمہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان تمکن دو شوں جماعتن ہند انجام قَالَذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ  
نَّارٍ وَذَانِ سَمِ كَافِرٍ چھہ تہندہ خیطرہ چھو آمت کپنہ نازک پلو تہ جامہ۔ یعنی تمکن آسہ ناری نار پرستھ  
طرف۔ پھیر نک پاٹھ پرستھ طرفہ ولد آمت يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ تمکن پیہ کلہ  
پیٹھ تراوندہ سُر۔ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ سمہ سیت پھرہ و سن تمکن آندرہ نمبرہ۔  
ذونب تہ اندر تہ دزکھہ پیہ دزیکہ سوزی پوست وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ پیہ آس تہندہ لاینہ خیطرہ

مِنْهَا مِنْ غَمِّ اَعْيُدُ وَا فِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿۲۲﴾  
 اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ  
 تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحٰلَوْنَ فِيْهَا مِنْ  
 اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَّلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿۲۳﴾  
 وَهَدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُوْا اِلَى صِرَاطِ  
 الْحَمِيْدِ ﴿۲۴﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ

نارس اندر گرم کرنے آمت شسترو ولس ته گرزہ کلکما آرادو ان یخروجوا منها من غم اعید وافیها  
 یلمہ یلمہ تم ارادہ آن کران جہنم منزه نیر تک بیہ آن واتاونه یوان تھ منزه می ڈیو ته گر دوسیت  
 ونه آسکھ یوان و ذوقوا عذاب الحریق ترہو ہمیشہ خیر ہ مزہ ذرہ عذاب۔ اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ  
 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ پز یاٹ اللہ تعالیٰ واتاوه تمن لوکن  
 سمو ایمان لون ته رتہ عملہ کرکھ جنت تمن باغن منزه سمو منزه کولہ ته جو یہ آن پکان یحسون فیہا  
 من اساور من ذہب و لؤلؤ و لباسہم فیہا حریر زور بیہ گذنہ تمن جنت منزه سونہ سد کربہ  
 محتہ مالہ، بیہ آسہ ٹھنڈ لباس جنت منزه ٹوٹ۔ دنیا س منزه چھ سون رو پھ ته پوٹ مسلمان مردان پیٹھ  
 حرام۔ کیا زہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموؤ (أحل الذهب والحریر للإناث من أمتی و حرم  
 علی ذکورھا) یعنی سون ته پوٹ او حلال کرنے میانہ اچن زنان پیٹھ مگر حرام آئی کرنے تم چیز میانہ  
 اُمّتہ کین مردان پیٹھ لہذا ائس مرد سون، رو پھ ته پوٹ استعمال کرہ دنیا س اندر سو آسہ آخر کس  
 اندر حرم جنت کیو زور و نشہ و هَدُوْا اِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُوْا اِلَى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ  
 یہ سو زوی انعام و اکرام آسہ تمن سمہ سبب کہ دنیا س منزه کیا آسہ و تھ ہونہ تمن با ایمان پاک کلام  
 س، سو گو کلمہ طیبہ۔ بیہ آکھ و تھ ہونہ قابل تعریف و تہ کن سو و تھ گنیہ دین اسلام، صراط مستقیم۔  
 تمہ کی برکتہ آکھ جنت ته جنتہ نعمہ جنتک زور عطا کرنے اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ شَرِدَ فِيهِ بِأَحَادٍ يَظْلِمُ تَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ إِلِيمٍ ﴿۳۵﴾ وَأَذْبُونَ إِلَّا بِرُهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿۳۶﴾ وَأَذِنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿۳۷﴾ لِيَشْهَدُوا

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ پز پاپ سمولو کو کفر سے انکار کو رہیہ چھ تم پتہ رٹان لو کن خدیہ سزہ و تہ نشہ یعنی اسلامہ نشہ۔ بیہ چھ پتہ رٹان لو کن تمہ محترم مسجدہ نشہ یوسہ امہ مقرر چھ کمر مژسارنی لو کن ہندہ خیطرہ عبادتچ جای ستھ منز برابر چھو تینگ روزن وول سے تمہ نیر بیوشہر و پیٹھینہ وول وَمَنْ شَرِدَ فِيهِ بِأَحَادٍ يَظْلِمُ تَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ إِلِيمٍ اکھ سم لو کن پتھ رٹن دین اسلامہ نشہ بیہ مسجد حرام، ستھ منز کعبہ شریف چھو تمجہ زیارتہ نشہ، بیہ سم لو کھ اتھ مسجد خرامس اندروین اسلامس خلاف کانہہ کاماہ گرن یاٹھ و شرمک ارادہ کرن سوتہ بہ ناوون آس دگ سے دودنکہ و تہ عذاب گزہ وَأَذْبُونَ إِلَّا بِرُهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا لو کن نشہ کمر و ذکر بیلہ تیار کمر امہ ابراہیم علیہ السلامہ سندہ خیطرہ گرج جایہ، تھ عبادتس منز مہ تھادیون شریک مہ سیت کانہہ چیز وَقَطَّهَرْنَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ پاک تھادیون میون گره عبادت کرہ و نین ہندہ خیطرہ، خانہ کعبہ تیار کرہ نچ جائے سیت فرمودہس یہ مکانہ کریون تیار میانہ عبادتہ خیطرہ نماز پرہ و نین ہندہ خیطرہ سم نمازہ اندر قیام رکوع سے سجدہ کرہ و ن آسن وَأَذِنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ بیہ وون امہ ابراہیم علیہ السلامس کہ اعلان کمر و لو کن اندر امہ گرج زیارت کرہ ٹک۔ امہ اطلانہ سیت بن لو کھ توہمہ گن امہ گره چہ زیارتہ خیطرہ لاران سے گاران، پتھر سے سوارین پیٹھ تمن سوارین پیٹھ سمہ دور و دراز سفر کرنہ سیت لاغر سے سست آسن سپرہ



مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ  
عَلَىٰ مَآرِزِهِمْ مِّنْ أَبْهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا  
وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۝٢٨ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ  
وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝٢٩  
ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ  
وَاحْتَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُشَلَّىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا

مذہب۔ بین تمہ سوار یہ دور یو و تو پٹیج کو بہہ ڈرو منز لیشہدوا منافع لهم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومت علی مارزقہم من ابہیمۃ الانعام یتھ واتن تہ حاضر سہدن پنہ نین دینی تہ دنیوی فائدن حاصل کرنہ خیطرہ (دینی فائدہ چھو مقصود بالذات دنیوی فائدہ چھو تابع غیر مقصود) بیہ یتھ خدایہ سندیاد کرن تم دویمن منزیم معلوم تہ مقرر چھہ (تم گئے وہم، کھم) تہ بہیولم (قربان کرنہ خیطرہ تم جانورن تم اللہ تعالیٰ فی عطا کرمت چھہ مخصوص چارویو آندرہ یعنی گاؤ، وونٹ، ٹھاول تہ کھ۔ تمنی ذبح کر بھہ وقتہ بین خدایہ سندا یعنی ہدن ذبح کران بسم اللہ اللہ اکبر فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ نِس کھنیو پانہ تمن قربانی ہندین جانورن ہدہ مازہ آندرہ۔ بیہ کھیادیو کھ مصیبت زدہ تہ محتاج بلکہ مالدار اشخاص تہ ہے کھیادیو کھ، کانہہ حرج چھونہ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ توپتہ گڑھہہ لوکن ہند دور کرن ہن مل تہ کثافت یعنی احرام مذہ راون مس کائن یا کرنہ بیہ کارن نم بیہ ہون اصلاح بیہ گڑھن گرن پورہ ہن واجبات بیہ کزان طواف خانہ کعبس نیس مامون و محفوظ چھو، طواف زیارت۔ بیہ طواف چھو فرض۔ ذَلِكَ اَکْه گنیہ بیہ کتھ امہ علاوہ چھو خدایہ سدن احکامن ہنز قدر کرن وَمَنْ يُعِظْمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ نِس اکھاہ خدایہ سندن محترم احکامن ہند تعظیم بجالیہ تہ چھو تسدہ خیطرہ سیٹھا بہتر پنہ نِس ہر وردگار س نشہ۔ تمہ سیت نیس ثواب، بیہ لہ عذابہ نشہ نجات وَاحْتَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُشَلَّىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا

الرَّجَسِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝<sup>۳۰</sup>  
 حُنْفَاءَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۖ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا  
 خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي  
 مَكَانٍ سَحِيقٍ ۝<sup>۳۱</sup> ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ  
 تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝<sup>۳۲</sup> لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ

عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرَّجَسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ بیہ آیہ ٹھنڈہ خیطرہ حلال  
 کرنے چار پالیہ تمن خدلیہ سنداوتھ ذن بیہ کرنے مگر نہ تم جانور تمن ہند کھم توہہ پیٹھ پر نہ یوان چھو۔ تم  
 گے تھے جانور یمن ہنز ذکر سورہ النعامس منز کرنے آیہ (سُو گو خود مُردہ، خون، خنزیر۔  
 بیہ ئس جانور خدائس ورا ی بیہ کانسہ ہندہ ناوہ تسند قرب ژھانڈنہ خیطرہ ذن بیہ کرنے) ئس رُوزو پتھ  
 پُو تلین ہنز پر ستنش کر چہ ناپاکی نشہ۔ بیہ رُوزو پتھ اپڑتھ و نہ نشہ، اپڑ گواہی د نہ نشہ۔ حُنْفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ  
 مُشْرِكِينَ بِهِ در حال بیہ مائل آبو نہ معبود بر نفس کن۔ ئس کانسہ اکھ شریکھ ٹھہراونہ ورا ی وَمَنْ  
 يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ کیا زہ ئس  
 اکھاہ کنس معبودس شریک ٹھہراوہ تمسز مثال پتھ زَن سُو آسمانہ بیو پتھر دستھ تو پتہ تل مُردار خور  
 جانور رُو گہ رگہ یادیت تیز واؤن بڑت کُنہ دُور جایہ یتہ سُو ہلاک گو بہر حال سُو گو یتھ پاٹھ ئس شخص  
 شُرک ٹھہراوان چھو خدائس سُو چھو یا کانسہ ہندہ اتھ مارہ گدھان یا چھو خود بخود مران پر یتھ حائس منز  
 چھو ئس جہنم اندروائُن ذلک یہ تھہ یتہ گنیہ ختم۔ وون بوڑو تہ اکھ خاص تھہ قربانی ہندس جانورس  
 متعلق۔ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ بیہ ئس تعظیم کرہ خدلیہ سندن دینہ کین  
 یادگارن تہ نشان یعنی جہ کین کھن بیہ قربانہ کین جانورن ہند۔ ئس بیشک یمن چیزن ہنز عظمت چھہ  
 حاصل سپدان دلہ سیت خدائس کھوڑنہ سیت لکم فیہا منافعہ الی آجل مُسمی ٹھنڈہ خیطرہ چھو جائز  
 فائدہ تلن تمن قربانہ کین جانورن نشہ اکس معین و قس تان یو تان نہ شرعی قواعد و موجب تم ہدی

مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۖ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا  
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ  
فَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَالْوَاحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝۳۳  
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ

ین بناو نہ تو تان چھو تم ن پیٹھ سوار سپدان، ٹھہر دووہ کھيون، تم ن پیٹھ نور سا رن جا نيز ليہ تم ھدی بناو نہ آے ا دہ گڑھہ سمو ساروی چیز و نعرہ پتھ رو زن مگرے سخت ضرورت پيہ ٹھو مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ تو پيہ چھو تھنہرہ حلال سپنچ جايے یعنی ذبح کر نچ جاي خانہ کعبس نزدیک۔ پیٹھ یہ بیان آو کر نہ کہ حرمسی اندر گڑھہ قربان مَن کر نہ ا مہ اندرہ گڑھہ نہ یہ خیال کزن کہ ا مہ منزہ ما چھو مقصد حرمک تعظیم کزن تہ چھو نہ ہر گز بلکہ چھو اصل مقصود پروردگارہ سُنَدوی تعظیم، تمسندوی قُرب حاصل کزن۔ مذبح جانور یا تھہ جايہ ذبح کر نہ پيہ سو چھو اکھ ذریعہ، مقام تہ جايہ ہند تخصیص چھو بعض جتن ہندہ وجہ۔ تم تخصیصات ہر گاہ مقصود آسن تلہ بدلہ مَن نہ تم کُنہ شریعتس اندر مگر تم ہند بدلن چھو ظاہر۔ تقرب الی اللہ مَن اصل مقصود چھو سو چھو پر تھہ شریعتس منز محفوظ رُودمت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ برو تھم اہل شریعت تم گڈر سمیت چھہ تموا اندرہ چھو ا مہ پر تھہ ا تھس قربان کزن مقرر کورمت۔ سمہ غرضہ کہ تم آسن قربانہ کس کس مخصوص جانورس پیٹھ اللہ تعالیٰ مَن نام پاک ہیوان تم سو جانور عطا کورمت چھو قَالِ الْهُكْمُ لِلَّهِ وَالْوَاحِدُ فَلَهُ أَسْلِمُوا ا مہ اندرہ سپد ثابت کہ ٹھہر خدا چھو کُنوی مَن کمر و تہنزی اطاعت تہ فرمانبرداری، تسدی یوت ہو، مؤحدہ خالص رُود۔ کانہہ جاي وغیرہ مہ زانیون بالذات تعظیمس سزاوار۔ پنہر عملہ اندر مہ آسو اکس درس برابر تہ شریکس شائس پینہ دووان وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ٹھہر دیو بشارت تہ خوشخبری تیار رسول اللہ ﷺ خدایہ سندس کُمس گردن دارہ و نینم الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا آصَابَهُمُ وَالْمُتَّقِينَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَهُمْ

مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيَّبِي الصَّلَاةِ وَمَسَارِقَتِهِمْ يُفْقُونَ ﴿۳۵﴾  
 وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ  
 فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا  
 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا  
 لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا  
 دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَبَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا

يُفْقُونَ تم لہ توحیدہ خاصہ برکتہ چھہ تنھی کہ یلہ تم برونٹھ گنہ خدیہ سد صفات بیہ ہند احکام بیہ  
 تمسندین و عدلن نہ وعیدن ہند ذکر کرنہ یوان چھو تم چھہ کھوژان، دکن چھکھ نھہ دو تھان بیہ تم صبر کران چھہ  
 مضمینن پیٹھ بیہ تم ڈلو کران چھہ نمازہ پیٹھ بیہ تم خرچ کران چھہ تمہ مالہ اندرہ بس اسی تم عطا کور، مطلب  
 چھو کہ توحید خاص چھو تنھہ بار بکت چیز اہمہ سبت کمالات نفسانی، بدنی نہ مالی حاصل سپدان چھہ وَالْبُدْنَ  
 جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ای مسلمانو بیہ کبر آسہ ٹھنڈہ خیرہ قربانگ ساری  
 جانور و نٹھ گن، کھ، ژھاول جس اندر خدیہ سدہ دینہ کیو یادگار و اندرہ تم جانورن اندر چھہ ٹھنڈہ  
 خیرہ دینگ تعظیم بجائیکہ علاوہ بیہ بیہ فائدہ تہ۔ فَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ بس آسو تم  
 دو تھنڈہ ٹھش کر بکتہ وقتہ خدیہ سنداو بیوان۔ برو تنظیم کھو فر کھور بیورن گنڈ تھ ترین زگن پیٹھ استادہ  
 کران۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ اودہ یلہ سو جانور کئہ کرہ  
 ہٹھوس بیوان آسہ تو پتہ بیہ شیر نہ سبالنہ بس کھ بیو تہہ ہندہ مازہ اندرہ بیہ کھیاو یوان نہ منجہ ون تہ، غیر  
 سایل تہ تہ سائل تہ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تنھہ پاٹ کبر آسہ رام تہ مخر توہہ تم  
 جانور تنھہ تہہ شکر دپو لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَبَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ خدائس نشہ نہ  
 چھو واتان تم قربانہ کین جانورن ہند مازہ چھو واتان ٹھنڈہ تھہ بلکہ چھو واتان بس نشہ ٹھنڈہ تقوے تہ پر ہیز  
 گاری کذالک سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تنھہ پاٹ کبر اللہ تعالیٰ ان توہہ مخر تہ رام

لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۷﴾  
 إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
 خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿۳۸﴾ اذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ  
 عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۳۹﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ  
 إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ  
 بِبَعْضٍ لَهَادِمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ

سم جانور بیٹھ نہہ بوڈزانیون اللہ تعالیٰ بیٹھ پیٹھ کہ و تھ ہاونوہ توہہ پوس و نیس کن۔ حج کین صحیح کھن کن بیہ دیت کوہ توہہ توفیق قربان کر نک و بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ مہ فرماو و نہہ یار سول اللہ بشارت تہ خوشخبری اخلاصہ والین نیکو کارن اِنَّ اللہَ یُدْفِعُ عَنِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا پز پات اللہ تعالیٰ کرہ با ایمان نغہ تھمدین دشمن ہند غلبہ عنقریب دور۔ تم نیکن نہ آئندہ نغہ چیزس اندر مزاحمت کتر تھ اِنَّ اللہَ لَا یُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ پز پات اللہ تعالیٰ چھونہ کانہہ خیانت کرہ و نس و غابازس تہ ناشکر گڈارس پھد کران اذِنَ لِلَّذِیْنَ یُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا وَاِنَّ اللہَ عَلٰی نَصْرِہِمۡ لَقَدِیْرٌ اجازت آوونہ مقابلہ کر نک تم کوکن یمن سیت کافرن ہندہ طرفہ لڑای آس یوان کر نہ کیا زہ تم پیٹھ آوسین شاہ ظلم کر نہ۔ مسلمان ہندہ کم پز زیادہ آسنگ چھونہ کانہہ سوال کیا زہ، بے شک اللہ تعالیٰ چھو تمین پر بیٹھ حاس اندر مدد کر نس تہ غلبہ نس پیٹھ سین شاہ قدر تہ وول۔ اَلَّذِیْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِیَارِہِمۡ بِغَیْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ یَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللہُ یم مسلمان ناحق کڈنہ آئے پنہ نیوشہر و آندرہ تھمد جزم آوسنہ کینہہ سمہ تھہ وراے کہ تم آس و نان سون پروردگار چھو اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ سوڑوی غیظ و غضب چھو تو حیدس پیٹھ۔ و لَوْلَا دَفْعُ اللہِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَادِمَتِ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِیْہَا سُمُّ اللہِ کَثِیْرًا بیہ ہر گاہ نہ اللہ تعالیٰ کوکن ہند زور اڑین ہندہ سیت اڑین کم کران آسہا یعنی اہل حقن نے اہل باطلن پیٹھ و قافو قافو غلبہ ووان آسہا، تلہ آسمن آمت پنہ پنہ وقتہ کورنہ تہ مہمد کر نہ نصاریٰ ان ہند خلوت خانہ تہ عبادت خانہ،

فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ  
عَزِيزٌ ﴿۳۰﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ آقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا  
الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ  
الْأُمُورِ ﴿۳۱﴾ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ  
وَتَمُودٌ ﴿۳۲﴾ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿۳۳﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ  
مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۳۴﴾

یہودوں ہند عبادت خانہ میں مسلمان ہنزہ تمہ مسجد میں منبر بکثرت خدایہ سند ناوہینہ یوان جھوٹو لکھتے تھے  
اللہ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ بیہ جھوٹو ضرور اللہ تعالیٰ یاری تہ مدد تہمین لوکن کران اسم تہس مدد  
گزن یعنی تہمدیس دینس۔ ہنز پات اللہ تعالیٰ جھوپانہ سیٹھاہ طاقتہ دول سارنی پیٹھ غالب۔ سو جھوٹوہ کانسہ  
ہندس مددس کن محتاج الٰہیین اِن مَكَّنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ آقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ اسم گے تہی مسلمان تہن بشارت دنہ آئیہ ہر گاہ اس  
دنیاس منہر حکومت دموتہمدیس اتھس منز اسمہ جھہ خبری تم تھاؤن پانہ تہ نماز برپا بیہ کرن زکوٰۃ اول۔  
بیہ کرن تہن تہ رٹن کامین ہند امر تہ پیٹھ کامیونشہ منع سارنی کامین ہند انجام جھوٹو خدایہ سندس  
اختیار س اندر وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتَمُودٌ ہر گاہ تم ہر تہ قضیہ لاگہ ون  
لوکہ توہہ اپوزان تہ پڑھ گزن نہ۔ بیہ ٹوکٹھاہ جھنہ، امہ سیت مہ سپدو تہمہ آژردہ۔ تہن بروٹھ تہ جھہ  
قوم نوحن، قوم عادن تہ قوم تمودن تہن پیٹھبر امہز انعت وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ  
مُوسَىٰ بیہ قوم ابراہیم بیہ قوم لوطن بیہ شہر مدین کیو لوکو، بیہ جھوٹوہز انہ آمت موسیٰ علیہ السلام۔  
فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ تہمین سارنی کافر ن تہ مٹھرن دژمہ کیہنہ کالاہ مہلت۔  
توپتہ رٹم تم تہ کرم عذابس گرفتار۔ جس وجھو تہمہ سو میون عذاب کیٹھ اوس تہمدہ خیطرہ۔ فَكَيْفَ كَانَ  
قَوْلُهُمْ أَهْلَكْنَا وَهُيَ ظَالِمَةٌ لِّمَنۢ عَلَىٰ عُرُوشِهِمْ اہس کاتہن شہرن ہندو کہ گال اسمہ تہمہ نافرمانی سببہ۔



أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْبَصِيرِ ﴿۳۸﴾ قُلْ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا كَمَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۹﴾ فَأَلْذِينَ آمَنُوا وَ  
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ؕ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۴۰﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا  
فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۴۱﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا  
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَتَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ  
فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ

جلدی تمسکہ و تو عک مطالبہ کران۔ تم یلہ تو تہ باز آئے نہ تو پتہ کرمہ تم غذا نس گرفتار۔ یہ ہجو ساری  
پتو لاکہ مے لغہ و ان تمہ ساتہ دمہ بو تمہن شرک و کفر ک پور سزا قل یا ایھا الناس انما انکما نذیر مبین  
نہہ فرماؤ کہ یا رسول اللہ اے لوگو بوجھو سنہ مگر تہندہ خیطرہ اکھ ن پاٹھ نیم کرہ ون۔ مہ تان ہجھونہ  
عذاب واقع کرون فالذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم کس سمولو کو میانہ کھوڑ  
ناونہ تہ نیم کرنہ سیت عبرت رٹھ ایمان اون تہ رزہ عملہ کرہ، تہندہ خیطرہ ہجو بوڈ مغفرت بہ عزتک  
رزق یعنی جنت تہ جتہ نعمر۔ والذین سعوا فی آیتنا معجزین اولیک اصحاب الجحیم یہ سم لو کہ  
کوش ہجہ کران سانین آیاتن اپزانتھ اسہ عاجز کرک۔ عے گے نارہ وال یعنی نار جھنم و اتہ ون۔ ای  
پیغبر سم لو کہ ہجہ شیطانہ سدہ انوعاسیت تو بہ سیت مقابلہ تہ مجادلہ کران۔ یہ ہجھنہ لو کتھہ و ما ارسلنا  
من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تممتی القی الشیطان فی امنیئتہ اسہ سوزنہ تو بہ بروٹھ کانہہ رسولاہ  
تہ کانہہ نبیہہ تمس نہ یہ قصہ پیش آؤ کہ یان تمہ اللہ تعالیٰ سند یوا حکما و اندرہ حکما بیان ہیوت کرون تان  
ہیوت شیطان کافر ن ہندین و لن اندرہ یہ تہ اعتراض تراون فی نسخ اللہ ما یلقى الشیطان ثم یحکم  
اللہ ایئتہ واللہ علیہم حکیم کس ہجو اللہ تعالیٰ نہنا وان تہ نیست و نابود کران تم شہادت تہ وسوسہ سم  
شیطان تراوان ہجو قطعی جوائو تہ روشن دلیکوسیت۔ تو پتہ ہجو اللہ تعالیٰ مضبوط کران پنہ نین آیاتن  
ہند مضامین۔ یہ ہجو اللہ تعالیٰ تم اعتراضاتن متعلق پور علمہ و ول۔ یہ ہجو تم اعتراضاتن ہند جواب



اِيْتِهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِمْ حَكِيْمٌ ﴿۵۱﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ  
 فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقٰسِيَةَ قُلُوْبُهُمْ وَّ  
 اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿۵۲﴾ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اٰتَوْا  
 الْعِلْمَ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُوْمِنُوْا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ  
 قُلُوْبُهُمْ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۵۳﴾  
 وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ  
 السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يٰٓاْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ عَقِيْبِهِ ﴿۵۴﴾

تسليم کرس اندر پور جہمتہ وول۔ وون گو یہ کیا زہ چھو اللہ تعالیٰ کران یعنی شیطانس کیا زہ چھو و سوسہ  
 تراو تک موقع ووان لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْقٰسِيَةَ قُلُوْبُهُمْ  
 یتھ اللہ تعالیٰ کرہ تھہ شیطانہ سندس و سوس آزما شہ ہند ذریعہ تم کو کن ہندہ خیرہ ہہ ہین دن وکن  
 اندر شکن تہ شہین ہند مرض چھو۔ یہ تم ہند دل سیٹھاہ سخت چھہ و اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ  
 پنر پاٹ چھہ کافر ز پیٹھس اختلافس تہ مخالفس منز۔ پوز روشن آستھ چھہ محض عنادہ سببہ قبول کران،  
 شیطانس آو سوسہ تراو تک طاقت دنہ یتھہ لو کن آزما کش کرنہ یہ۔ وَّلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْعِلْمَ اِنَّهُ  
 الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُوْمِنُوْا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوْبُهُمْ چھو سمو صحیح جوابو سیت تم شہما تہ ہند ابطال  
 سہدان یتھہ علمہ وال یہ تھہ وارہ زان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر موو تہ تلاوت کور۔ تہ چھہ پنر پاٹ  
 تھہ دس پروردگارہ سندس طرفہ۔ ٹس روزن تم ایمانس پیٹھ پور قائم تو پتہ سہدان تھہ پیٹھ عمل کرنہ  
 خیرہ تھہ دل پور مائل و اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ بیشک اللہ تعالیٰ ای چھو با ایمان  
 سمیر و تھہ ہوان۔ ٹس گو تھہ ناتم ہدایت ہن۔ یہ گنیہ حالت با ایمان ہنز چھہ رود کافر تم ہند حال چھو اہہ  
 پتہ۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتّٰى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يٰٓاْتِيَهُمْ عَذَابٌ

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِهِمْ أَتِلُّوا أَمْ كَفَرُوا أَوْ كَفَرُوا أَكْذِبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝۵۶ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ لِمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَخَبِيرٌ بِالرِّزْقِ ۝۵۷ لَيْدُ خَلَّتْهُمْ مَدُ خَلَا يَرِضُونَ ۝ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ

یَوْمَ عَقَبُوہُ پتھ رو دکافر تم روزن ہمیشہ قرآن مجیدہ کہ حقہ شکرہ سی اندر یونتان واتھہ یہ ہجہ تہ ممک تہ تمن قیامتگ دوہ یاواتیکھ دنیاسی منزگنہ سخت مٹکل تہ بے برکت دہگ عذاب یتھ منز تمن قتل وغارت سپدہ الْمَلِكُ یَوْمَئِذٍ اللّٰهُ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ پادشہت آسہ تمہہ دوہہ یعنی قیامتگ دوہ اللہ تعالیٰ سنزی یاثر۔ سوسی کرہ تمن کافرن منز عملی فیصلہ وَالَّذِیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِی حَیٰتِہِمْ سُو فیصلہ گو یوہے ہمہ سموگو کوایمان آنتھ رثہ عملہ کرہ مژہ آسن تمن واتاودہ اللہ تعالیٰ نعمت ن ہندن جنسن اندر والذین کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِآیٰتِنَا فَأُولٰٓئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّہِیْنٌ یہہ سموغر تہ انکار کوربہہ زانجھ اہڑسان آیات، لہس تمن لوکن ہندہ خیطرہ ہچھو ذلیل تہ خوار کرہ ون عذاب وَالَّذِیْنَ هٰجَرُوْا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْا اَوْ مَاتُوْا لَیْرِزُقْنَهُمْ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا یہہ سموگو کو خدلیہ سنزہ وہہ یعنی تہمدہ دینہ خیطرہ ہن وطن تراوت ہجرت کمر توپتہ آے مارنہ یا مودپائے تمن دہہ اللہ تعالیٰ ضرور اکھ رت رزقاہ جتگ رزق تہ کم کم میوہ یہہ دیدار خدا وَإِنَّ اللّٰهَ لَھُوْ خَیْرُ الرِّزْقِیْنَ ہنرپاٹ اللہ تعالیٰ ای ہچھو ساروی عطا کرہ ونیو آندرہ رت عطا کرہ ون۔ سوکرہ تمن عطارزق جنٹس سیت رت جابے تہ رت گرہ تہ لَیْدُ خَلَّتْهُمْ مَدُ خَلَا یَرِضُونَ سوواتاودہ تمن ضرور تہ ہی رثہ جابہ اندر یوسہ تمن سیٹھاہ ہسند سپدہ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَلِیْمٌ حَلِیْمٌ ہیتک اللہ تعالیٰ ہچھو پریتھ سٹھہ ہنز مصلحت زانہ ون سیٹھاہ تہید کرہ ون۔ ہنہ نین دشمن ہچھو نہ سیتی رٹان تہ سز اووان بلکہ ہچھہ مہلت دوان ذٰلِکَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِہٖ ثُمَّ بَغِيَ عَلَیْہِ

حَلِيمٌ ﴿۵۹﴾ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ  
 ثُمَّ بَغَىٰ عَلَيْهِ لَيَصْرَثَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿۶۰﴾  
 ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ  
 فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۶۱﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ  
 الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ  
 اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۶۲﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ  
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ

لَيَصْرَثَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَاوَن بُو زُو اَمَه پتہ یہ تھہ کہ سم ڈشمس زشمہ بدلہ ہیوت تھوی بیٹھ  
 تمس تکلیف و اتاوانہ اُمت اوس، تو پتے بیہ تہس پیٹھ زیادتی کرنہ آیہ اللہ تعالیٰ کرہ تہس سُور مدد تہ  
 یاری۔ پتر پاٹھ اللہ تعالیٰ جھو یقیناً سیٹھا عفو کرہ ون سیٹھا مغفرت کرہ ون ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ  
 فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ یہ یعنی باایمان غلبہ دکن تمن یاری تہ مدد  
 کران جھو اوسے زہ اللہ تعالیٰ جھو کمال قدر تہ وول۔ چنانچہ سو جھو راژ ہندین اجزاءن و اتاوان دوس  
 منز۔ دوہہ کین اجزاءن و اتاوان راژ منز یعنی کمی تہ زیادتی کران۔ بیہ جھو اُمہ نصر تک سبب کہ اللہ  
 تعالیٰ جھو سارنی ہند احوال تہ اقوال بُو زہ ون تہ و جھہ ون ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ  
 مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ بیہ جھو اُمہ نصر تک سبب کہ اللہ تعالیٰ ای جھو  
 بیشک خدائے برحق۔ پتر ہستی منز کامل۔ سو جھو واجب الوجود، بیہ سم معبودن تم لو کہ عبادت کران  
 جھہ، تم جھہ لہز تہ باطل۔ بیہ جھو پتر پاٹھ اللہ تعالیٰ ای سیٹھا ٹھود تہ سیٹھا بُو ڈعا لیشان۔ اُمہ علاوہ جھہ  
 اللہ تعالیٰ سند کمالات بیہ جھہ تہزہ بے شمار نعمتو سمو کمالا تو تہ نعمتو سبب سو جھو توحیدس تہ شکرس  
 سزاوار آلم تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً زہ جھہ ٹھنا و چھان اللہ

اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾  
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَيُسَبِّحُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَّ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا يَازُنُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾

تعالیٰ سز قدرت تھہ پاٹ چھو سو آسماں طرف رود تراوان سمہ سبت زمین چھہ سپدان سر سبز ان اللہ لَطِيفٌ خَبِيرٌ پز پاٹ اللہ تعالیٰ چھو بدن پیٹھہ سیٹھاہ مہربان کس چھہ بدن ہنزن کھن ہنزن پور خیر۔ تہندین ضرورتن ہند کافی علم تمن مطابق چھو سو تہند حاجت پور کران۔ کہ ما فی السموات وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ تہندوی چھو تہ سوزوی یہ آسمان منز چھو، یہ تہ سوزوی یہ زمین منز چھو۔ یہ چھونہ اللہ تعالیٰ کانہہ کن محتاج سو چھو تعریفن تہ حمدن سز اوار أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ اے مخاطب ژہ چھہ ناخبر کہ پز پاٹ اللہ تعالیٰ ان چھہ لاگمت کامہ تم ساری چیز سم زمینس منز چھہ تہندہ خیرہ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ یہ چھنہ ناوہ سمہ تہندی حکمہ دریاوس منز پکان چھہ وَيُسَبِّحُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَّ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا يَازُنُهُ یہ چھو سوی آسماں تھپ کمر تھہ تھنہ تہندہ حکمہ وراے سوز مینس پیٹھہ و تھہ یہہ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ پز پاٹ اللہ تعالیٰ چھو کو کن پیٹھہ سیٹھاہ شفقتہ وول تہ مہربان وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ یہ گو سو سوی قادر مطلق سم تہہ پیدہ کمرہ۔ تو پتہ ماروہ سوی تو پتہ کروہ یہہ دوبارہ زندہ سوی۔ تمن دلیلن تہ نعمت کن نظر کمر تھہ گو ژھہ کو کن ہند سو سوی زان۔ تہنرے گوڑھہ شکر گزاری کرن۔ بیشک انسان چھو سیٹھاہ کمر ان نعمت کرہ ون لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَارِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَأُدْعَىٰ إِلَيْكَ ایزہ امر گذر سمہہ چھہ پر تھہ امنتہ خیرہ چھو اسہ

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَايِعُكَ فِي  
 الْأَمْرِ وَاذْعُرْ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿۶۸﴾  
 وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۶۹﴾ اللَّهُ  
 يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۷۰﴾ أَلَمْ  
 تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ  
 إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۷۱﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا  
 لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَالِيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

ذبح کر تک اھ طریقہ مقرر کورمٹ۔ تھ طریقہ پیٹھ آس تم ذبح کر ان ہس اوس لازم اعتراض کرہ  
 ونین کہ تم کرہ ہن نہ کانہ اعتراض یہ اختلاف ذبحہ کس معاملہ اندر۔ جہہ روزو بدستور لوکن پنے  
 ہس خدا ہس کن نادوان اِنَّاكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ہنز پاٹھ جہہ جھوہ یقیناً سیرہ و ہنز پیٹھ و اِنَّا جَادَلُوكَ  
 فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بیہ ہر گاہ اتھ پیٹھ ہنز تم لو کہ توبہ سیت ہنز قضیہ لاکن جہہ  
 فرماؤ کہ پتہ تم تھ۔ اللہ تعالیٰ جھو زیادہ زانان تھ ساری، بیہ جہہ کر ان جھوہ۔ سوی انزراوہ جہند نیای۔  
 اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اللہ تعالیٰ کرہ پانہ توبہ منز عملی فیصلہ قیامتگ  
 دود تھ ساری منز تھ منز جہہ اختلاف کر ان آسودہ اَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ای  
 مخاطب کیاہ ثہ جھوی نامعلوم کہ اللہ تعالیٰ جھو زانان ہنز سو روی بیہ آسان ہنز زمین منز جھو باوجود آل  
 اِنَّا ذَلِكَ فِي كِتَابٍ اِنَّا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ہنز پاٹھ بیہ سو روی جھو لکھت ہنز محفوظ نامہ اعمال منز۔  
 لہذا سپد ثابت کہ ہنز پاٹ بیہ فیصلہ کرن جھو اللہ تعالیٰ اس نغمہ سینہاہ آسان و یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَالِيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ بیہ جھہ مشرک لو کہ عبادت کر ان خدا ہس درائے بین  
 چیزن ہنز تم عبادت کرنہ خیرہ نہ کانہ دلیلاہ اللہ تعالیٰ ان پنے نین کتاہن منز نازل کمر مژ جھہ، نہ

مَنْ نَصِيرٍ ۝۱۴۱ وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْإِتْنَايَيْنِ تَعْرَفُ فِي  
 وَجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمُنْكَرُ بِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ  
 يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ الْآيَاتِ قُلْ أَفَأَنْتُمْ بَشِيرٌ مِّنْ ذَلِكُمْ  
 الْتَارُ وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُوَيْسَ الْمَصِيرُ ۝۱۴۲  
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ  
 تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُكُونُوا

بھجہ تمّن کافرن نش تہج کا نہ عقلی دلیلہ۔ بلکہ بھجہ تم محض بے دلیل خدائیں شرک اتان۔ قیامتک دودھ  
 یلہ تمّن شرکس پیٹھ سزا نہ ایہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ تمّن ظالمین ہمدہ خیطرہ آسہ نہ کا نہ  
 مددگارہ۔ وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْإِتْنَايَيْنِ تَعْرَفُ فِي وَجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمُنْكَرُ یہ یلہ پر نہ یوان  
 بھجہ تمّن پیٹھ سان آیات، تم صاف تہ روشن چھہ۔ وچھان بھجہہ تمہ کافرن ہندین یقینن بھجہ آثار۔  
 بھجہس بھجہ گینہ گھوہان، نس بھجہ تھو دکھسان، بھجہک رنگ بھجہ بدلان، تمو آثار و سیت بھجہ  
 معلوم سپدان۔ بِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ الْآيَاتِ قُرْبِ جھو تم ماتر وان چھہ تمّن پیٹھ  
 تمّ سان آیات تمّن پیٹھ بدلان بھجہ یعنی تمّن پیٹھ ما کرن حملہ۔ تیوت بھجہ تمّن کافرن خون گرم گھوہان  
 قُلْ أَفَأَنْتُمْ بَشِيرٌ مِّنْ ذَلِكُمْ الْتَارُ جہہ فرما یو کہ یارسول اللہ یوما کرودہ توہہ خبر تمہہ چیز چیس امہ  
 قرآن مجیدہ خوتہ ناگوار بھجہ ہمدہ خیطرہ، سو گونا جہنم وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُوَيْسَ الْمَصِيرُ  
 تمّیک وعدہ بھجہ اللہ تعالیٰ ان کورمت کافرن۔ کاژاہ بھجہ واقع جائے بھجہ سو جنم يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ  
 مِّثْلُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ اے لو کو اکھ عجیب مثالاہ بھجہ بیان کرنہ آمر سوسی یوز تو جہہ وارہ کن دار تھہ اِنَ  
 الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُكُونُوا اجمعیوا لہ پزپاٹ یمن معبودان باطلن  
 جہہ پرستش کران بھجہہ، تمّن نشہ حاجت روائی ژھانڈان بھجہہ خدائیں، معبود برحقس وراے۔ تم  
 ہیکن نہ پیدہ کر تھہ اکھ بھجہ تہ۔ اڈے تمہہ خیطرہ ساری معبوداکہ وٹہ سکن تہ ارج کیاہ بھجہ تھس وَاِنَّ

اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْأَلُهمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَاسْتَنْقِذُوهُ  
 مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿۴۳﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ  
 حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۴۴﴾ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ  
 الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَبِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿۴۵﴾  
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ  
 الْأُمُورُ ﴿۴۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا ہر گامگھ ہیت ژلہ کانہہ چیز اہن نشیر لَاسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ سُوچیز ہیکن نہ نَس نشیر  
 تم موکلا و تھہ تہ و اہس ہتھ۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ژھانڈہ ون تہ کمزورے، نَس نشیر  
 ژھانڈان سوتہ کمزور۔ یعنی مجھ تہ کمزور تھندہ خوتہ زیادہ کمزور پوتل۔ تھندہ خوتہ کمزور نَس پوتلس  
 پر سٹش کرہ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ سمولو کو کورنہ خدایہ سُنْد تعظیم بٹھ تَس شوبہ ہا۔ کیا زہ  
 تموتھا و تَس عباد تَس اندر بے چیز شریک حالانکہ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ بیشک اللہ تعالیٰ چھو  
 سیٹھاہ قوتہ و ول، سارنی پیٹھ غالب، تمسند قوتہ و ول تہ غالب آسنہ موکھ چھو عبادت تھندہ حق۔ یہ  
 اوسنہ حق کمزور چیزک نَس نہ چھو پورہ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ  
 اس چھو اختیار کہ رسالتہ خیطرہ نَس سُو منتخب کرہ تہ ژارہ ملائحو آندرہ یا لو کو آندرہ ملائحو آندرہ چھہ  
 ژاران ہن احکام حضرت انبیاءن نشیرہ واتنہ خیطرہ لو کو آندرہ چھو ژاران حضرت انبیاءن یٹھ تھندہ  
 ذریعہ ہن احکام و اتا و لو کن نشیرہ إِنَّ اللَّهَ سَبِيْعٌ بَصِيْرٌ بزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو سوزوی بوزہ ون سوزوی  
 و چھہ ون يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ سُو چھو لو کن ہند ساری حالات برو ٹھم تہ تہ ہتم تہ پور  
 زانان وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ بیہ چھو اللہ تعالیٰ سی پیٹھ سارنی کامین ہند و از و مدار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اے با ایمانو اصول  
 اسلام قبول کر چھہ کرو تہہ فروعات اسلامن ہنز تہ پانہدی، خصوصاً نماز۔ نمازہ منز آسور کو ع کر ان سجدہ

وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۶﴾  
 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا  
 جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ  
 إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۚ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا  
 لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى  
 النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا  
 بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۷﴾

دوان، بیہ آرو پنے نس بد وردگارہ سز عبادت کران، بیہ آبرورثہ کامہ کران یٹھ نہہ کامیاب سپدہ سمن  
 کاین منزہ آسو سستی کران وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ بیہ آرو خدیہ سزن کاین اندر کوشش  
 کران برشہ کوشش کرن شو بہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ تھی کردہ نہہ بیہ  
 اُمتواندرہ ممتاز، نہہ کر کہہ برگزیدہ، بیہ سمر نہ تم نہدہ خیرہ دینس منز کانہ سختیہ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ  
 نہہ روزوپنے نس مالس ابراہیم علیہ السلامہ سبوس ملتس پیٹھ قائم بہ مضبوط هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ تھی  
 خدائن ہجووہ توہہ ناو تھو دمت مسلمان مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا برو ٹھین کتائن اندر تہ تھہ قرآن جمیدس اندر  
 تہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بیٹھ آسن حضرت رسول کریم صلی  
 اللہ علیہ وسلم قیامتک دوہ نہد گواہ، نہہ آسو گواہ بین لوکن ہدی یعنی برو ٹھین اُمتن پیٹھ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اتھ خصوصیتس کن نظر تھو تھہ کرو نمازہ ہنز پابندی کیازہ سوہہ افضل  
 عبادت بدنیہ، بیہ کبر والداز کوتہ کیازہ سوہہ افضل عبادت مالیہ۔ بیہ کرو باقی احکامن پیٹھ عمل زورہ تھپ  
 کرتھ معبود برتھس۔ امہ عزتہ کہ شکرانہ خیرہ۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ سوی ہجو نہد آغہ، مددگارتہ کار ساز  
 فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ نس کیازہ رت کار سازتہ کیازہ رت مددگار ہجو سو نہدہ خیرہ



## سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝<sup>۱</sup> الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ  
 خَشِعُونَ ۝<sup>۲</sup> وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝<sup>۳</sup> وَالَّذِينَ  
 هُمُ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝<sup>۴</sup> وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝<sup>۵</sup> إِلَّا  
 عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝<sup>۶</sup> فَمَنْ  
 ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۝<sup>۷</sup> وَالَّذِينَ هُمْ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ پڑھاٹ کامیاب سپد آخرتس اندر تم با ایمان یمن اعتقاد صحیح آتھہ تم  
 صفت تہ آسن الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ تجے با ایمان تم پنہ نین نمازان اندر، فرض  
 تہ نقلن اندر دل حاضر تھوان چھہ، خشوع و خضوع سان نماز پھر ان چھہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ  
 مُعْرِضُونَ بیہ تم بے ہودہ کتھو تہ کامیو نشہہ بیس طرفس کن تھہ پذران تہ دور روزان چھہ وَالَّذِينَ  
 هُمُ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ بیہ تم اعمالن، اخلاقن تہ اموائن پاک کران چھہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ  
 حَافِظُونَ بیہ تم سترہ چن جاین حرامہ نشہہ راجھہ کران إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
 مگرے پنہ نین حلال منکوہہ زنانن یا تمکن کینزن یہہند تم چانہ مالک آسن تمکن نشہہ حفاظت کرہ ون  
 آسنہ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ کس بیشک تمکن سیت ہمستری کرئس چھونہ کانہ الزام بشر طیکہ تمہہ زنانہ تہ  
 کینزہ آسن حیضہ تہ نفاسہ نشہہ خالی بیہ آسنہ فرض روزہ داری یاجھہ کس احرامس اندر مشغول بیہ ایہ نہ  
 مخصوص جاییہ و رای بیاکھ جای استعمال کرنہ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ کس کس  
 اکھاہ امہہ وراے بیہ کانہ جائے پھن شہوت پورہ کرنہ خیطرہ ژھانڈہ، کس چھہ تم حدہ نشہہ ڈلہ ون

لَأْمَنِيهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿۸﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۹﴾  
 أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿۱۰﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ ﴿۱۱﴾ وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿۱۲﴾  
 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً  
 فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْبًا فَلَكَسْنَا الْعِظْمَ  
 لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿۱۴﴾

وَالَّذِينَ هُمْ لِأْمَنِيهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿۸﴾ یہ اسم پنہ نین لائن تہ عمدن ہند رعایت کرہ ون آسن  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۹﴾ یہ یک پنہ نین نمازن رلہجہہ کرہ ون آسن یعنی وقت پابندی کرہ  
 وَنِ آسن۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ \* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۰﴾ تم با ایمان  
 منز اسم شہ صفت آسن تھے ہجہ وارث سپہ ون، تم جنت الفردوسک وارث بن تھے روزن تہہ منز  
 ہمیشہ وَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿۱۲﴾ یہ کور اسمہ نیز پائٹ انسان میوہ ہندس خلاص  
 یعنی غذاء س پیدہ (گوڈہ ہجہ آسان میوہ توپتہ چھو تہہ غذاء س سوادہ بنان تہہ انسان بنان چھو تھہ  
 جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿۱۳﴾ توپتہ بنو اسمہ سوتہہ نطفس بس اکس معین مد تھس تان اکس محفوظ مقاس  
 یعنی رحمس منز روزان چھو تھہ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ﴿۱۳﴾ توپتہ بنو اسمہ تہہ نطفس موٹ خون فَخَلَقْنَا  
 الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ﴿۱۳﴾ توپتہ بنو اسمہ تہہ موٹس خونس ماز چھولاہ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْبًا ﴿۱۳﴾ جس بناوہ اسمہ تہہ ماز  
 پھلس منز اوجہ فَكَسْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ﴿۱۳﴾ توپتہ وول اسمہ تم اوجن سوماز ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ﴿۱۳﴾ توپتہ  
 تہہ منز روح وادہ ناو تہہ بنو اسمہ بیا کھے مخلوقاہ بس بروٹھمیو حالاً تونشہ بد لے اوس فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ  
 الْخَالِقِينَ ﴿۱۴﴾ بس کیتھہ بوڈشان چھو اللہ تعالیٰ سندس سارنی کارگیرن کھست چھو تھہ ثُمَّ رَأَيْتُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ  
 لِكَيْتُونُ ﴿۱۴﴾ توپتہ چھو ہجہ اسمہ پنہ ضرور مرہ ون ثُمَّ رَأَيْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعُونَ ﴿۱۴﴾ توپتہ ایو ہجہ لوکھ ضرور

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿۱۵﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعُونَ ﴿۱۶﴾  
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿۱۷﴾  
 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهٖ لَقَادِرُونَ ﴿۱۸﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّ  
 أَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاوَاكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۱۹﴾ وَشَجَرَةً  
 تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِينَ ﴿۲۰﴾

قیامتک دوہ قبر و منزہ تلت زندہ کرنہ **وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ** بیشک بیہ کر پیدہ اسہ توہہ پیٹھ  
 کرن ستھ آسمان، تمن منز ملاکن ہندہ اورہ یور پختہ خیطرہ و تہ چھہ **وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ** بیہ چھہ  
 آس پنہ نیو مخلوق ہند یو مصلحتو لغتہ بے خبر **وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ** بیہ  
 کور نازل اسہ تہندہ بقاء کہ مکمل کرنہ خیطرہ آسمانکہ طرفہ زوداہ کہ اندازہ موجب، تو پتہ ٹھہر و وسو  
 ز مینس منز **وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهٖ لَقَادِرُونَ** بیہ چھہ آس تمہہ آہ کس و اہس نینس پیٹھ پور قدرتہ وال  
**فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَّأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاوَاكِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ** تو پتہ بناو  
 اسہ تہندہ خیطرہ امہ زودہ سیت خضر گلین تہ دچھہ اندر واریاہ میوہ یم تہہ تازہ تازہ کھیوان چھوہ تموی  
 منزہ چھوہ اڈ میوہ ہو کہ ناوان۔ سو چھوہ تہہ غذا بدلہ کھیوان **وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ**  
**بِالذَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِينَ** بیہ کور اسہ امی آہ سیت بیا کہ گلاہ پیدہ ٹس نیران چھو کہوہ طورہ منزہ  
 (یعنی درخت زیتون) سو چھو زینہ منزہ کسان تیل ہتھہ۔ بیہ کھینہ و لین ہندہ خیطرہ سُن ہتھہ۔ یعنی تمہہ  
 پھلہ منزہ چھہ دوشوے مطلب نیران۔ ژا جس تہ چھو تمیک تیل دزان مالش کرس تہ چھو سولگان، بیہ  
 چھو سہ بدلہ ژوچہ سیت تہ کھینہ یوان۔ ژوٹ پوان تھہ منز کڑو تھہ کھینہ **وَإِن لَّكُمْ فِي الْأَعْمَالِ لَعِبَرَةٌ**  
 بیہ چھہ تہندہ خیطرہ چارواں اندر، یعنی ڈونٹن، گپن تہ تیرن اندر غور کر نک موقع **نُصِيحَتِكُمْ وَمَتَانِي**  
**بُطُونِهَا** آس چھہ دوان توہہ چنہ خیطرہ سو چیز ٹس تہندہ یوشکو اندرہ چھو نیران یعنی دودھ **وَلَكُمْ فِيهَا**

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَتُسْقِيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا  
 مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۲۱﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿۲۲﴾  
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ  
 مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۲۳﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
 قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ  
 اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأَسْبِغْنَآ بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولَىٰ ﴿۲۴﴾ إِنَّ هُوَ

مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ بیہ چھہ تہندہ خیلرہ تمں چارپاعن اندر واریاہ فاندہ۔ تہنز مومن، بیری تہ  
 وال چھوہ تہہ استعمال کران، بیہ چھوہ تہندہ ماز کھیوان۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ بیہ چھوہ اکھ  
 تمں چارپاعن پیٹھ بیہ ناڈن تہ جہازن پیٹھ سوار یوان کرنہ توبہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ  
 فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ پڑپاٹ، بیہ سوزاسہ نوح علیہ السلام پتہ  
 نس تو مس کن پیغمبر۔ بس فرمودہ تمہو پتہ نس تو مس، ای میانیہ قومہ عبادت کردو معبود برحقہ سنزی پاڑ۔  
 نس در ای چھونہ معبود برحق آس نس لایق تہ سزاور کنہی۔ کیاہ تہہ چھوہ نانس در ای بیا کہ معبود بناو نس  
 اندر کھو ژانی فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نوح علیہ السلام سنز  
 بیہ تہہ بوز تہہ دوپ تہندہ قومہ منزہ تھو کافر و عام لو کن کن کہ بیہ شخص چھونہ مگر توبی ہیوا کہ انسانہ،  
 بیہ پیغمبر یا بزرگ شخصہ چھونہ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ بیہ چھوہ یژہان توبہ پیٹھ فضیلت حاصل  
 کرن، تہندہ زیتھ بنن وَأَوْشَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ہر گاہ اللہ تعالیٰ یژہہ ہا پیغمبر سوزن تلہ سوزہ ہاسو  
 کانسہ ملکس فَأَسْبِغْنَآ بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولَىٰ آسہ چھہ تہہ بوز مڑے بروٹھن مالمین بڈن بن  
 نشہ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ مِّثْلُكُمْ بیہ چھونہ مگر خوشبت لد انسانہ اکھ۔ تمی چھوہ دنیا کیکن لو کن خلاف تہہ  
 کران قَتَرُكُمْ وَآيَهُ حَتَّىٰ جِئْتُمْ بِسَآئِرِ قَوْمِكُمْ وَأَنْتُمْ كَافِرُونَ ہس بیار و تہہ اس اس و قس تان۔ وچھوہ اسد حال کیاہ آسہ۔ اکہ نتہ  
 اکہ دوہہ مڑہ بیہ۔ قصہ گڑہ ختم قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَوْمِي مُكَذِّبُونَ حضرت نوح کور دُعای میانیہ پرورد گارہ

الْارْجُلِ بِهِ جَنَّةٌ فَرَيْصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي  
 بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٢٦﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا  
 وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ  
 زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ  
 مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٢٧﴾  
 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ  
 الَّذِي نَجَّيْنَاكَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنزلاً مُبْرَكاً

مہ کریاری، کیا زہ سموزوس بو ایزور۔ سمن نشہ بہ زہ امیک بدلہ۔ اسہ کور تہند دعا قبول فأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ  
 أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا نہس سوزاسہ تمن کن وحی زہ تہہ بناوواکھ ناوہ اسہ برو تھہ کنہ بیہ  
 سانیو ہدایو موجب۔ وون بیہ اکھ طوفانہ، تہہ تہ بالیمان روزو تھی ناوہ ہندہ ذریعہ محفوظ فأذَا جَاءَ أَمْرُنَا  
 وَفَارَ التَّنُّورُ نہس یلہ سون حکم عذابک جاری سپدہ تنورہ منزہ بیہ آب نیرن فاسلک فیہا من کل  
 زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ نہس والیو کھ ناوہ منز پر تھہ قسمہ کیو جانور و منزہ سم انسانس کار آمد چھ  
 آسان، اکھ اکھ نر تہ اکھ اکھ مادہ یعنی زیز جانور، بیہ بن عیال إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ  
 مگر نہ عیالہ منزہ تم تمن ہندہ حقہ غرق سپد تک حکم برو نٹھی چھو کرنہ آمت یعنی تم کافر آسن ولا  
 تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَجُونَ بیہ تھہ بوزوارہ کہہ مہ انزہ رو بے تمن شخصن ہندہ حقہ  
 کانہہ تھہ سمو ظلم کور یعنی ٹھرو شرکس پیٹھ رود کیا زہ تمن چھو ضرور چھن فأذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ  
 مَعَكَ عَلَى الْفُلْكَ نہس یلہ وارہ بہو تہہ بیہ تم توہہ سیت چھہ اتھ ناوہ منز فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا  
 مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ نہس دہزہ تمہ ساتہ حمد یومین تس مغبود بر حقس تم اسہ نجات دیت ظالم لو کن  
 ہنزو کامیو نشہ بیہ تہندہ عذابہ نشہ وَقُلْ رَبِّ انزِلْنِي مُنزلاً مُبْرَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ بیہ پر زہ سمہ ساتہ بیہ

وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿۲۹﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَبَتِلِينَ ﴿۳۰﴾  
 ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۳۱﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا  
 مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ آلِهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۲﴾ وَقَالَ  
 الْمَلَائِكَةُ لِقَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَوَكَّدُوا بُوبُلِقَاءَ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ  
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ  
 وَيَشْرَبُ مِمَّا شَرِبْتُمْ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا

سیلاب سے بچنے میں تیرے ہی سے بہتر ہے، اسی مہینے پر وردگار ہمہ وال تھے برکتہ سان تھے با برکت جالیہ پیٹھے۔ ثری  
 چھو کہ تمہو ساروی آندرہ بہتر تم پہنہ نین مہمان تھے جالیہ عزتہ سان ٹھہراوان چھہ۔ اِنِّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ  
 وَلَئِنْ كُنَّا لَبَتِلِينَ نیز پاٹ پیٹھ واقس منز چھہ سانہ قدر تک بڈ بڈ نشانہ عقلہ والین ہمدہ خیرہ۔ بیشک  
 آس آس لوکن سمونشانوسیت آزمائش کرہ ون۔ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ تو پتہ کور پیدہ آسہ  
 تہن پتہ بیاکھ قومہ، تم گے قوم عادیاشمود فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ جس سوزاسہ تہن منزتہ پیغمبرہ  
 تموی منزہ یعنی ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام اِنِّ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ آلِهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ تم  
 پیغمبرن فرمود تہن یو ہے پیغام کہ عبادت تہ بندگی کرو معبود برحقہ سنزی۔ تہس ورا ی چھونہ توہہ کنہی  
 مغبود۔ کیاہ تہہ چھوہ تا تہ شریک آنہ تہس کھوژانی وَقَالَ الْمَلَائِكَةُ لِقَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَوَكَّدُوا بُوبُلِقَاءَ الْآخِرَةِ  
 اس پیغمبرہ سنزیہ تھہ یوز تھہ دوپ تہندہ قومہ کیوز ٹھیو، سمونکار کور خدا تہس، بیہ آس لہز زانان  
 آخرتہ کس ملکا قاتس خدا تہس بروٹھ گن واتس وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بیہ تہن آسہ اوس آرام و  
 آسائش وژ مژد نیانچہ زندگی اندرتے لگ پانہ وان پنہ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یہ پیغمبر یعنی حضرت ہود  
 چھونہ مگر تو ہی ہیو اکھ انسانہ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا شَرِبْتُمْ کیوان چھوہ تہی قسہمہ غدا لیہ تہہ  
 کیوان چھوہ بیہ چھوہ چوان تہی منزہ بیہ تہہ چوان چھوہ۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا  
 لَخَبِيرُونَ ہر گاہ توہہ پیروی کرو پانس ہوس انسانس اکسز تلیہ چھوہ تہہ نقصان زد و آندرہ بے

لَخَسِرُونَ ﴿۳۷﴾ أَيْعِدُكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ  
فُخْرُجُونَ ﴿۳۸﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿۳۹﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا  
حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِبَعْعُوثَيْنِ ﴿۴۰﴾ إِنْ هُوَ  
إِلَّا رَجُلٌ ائْتَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۴۱﴾ قَالَ  
رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبْتُ ﴿۴۲﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿۴۳﴾  
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبَعْدَ اللِّقَوْمِ  
الظَّالِمِينَ ﴿۴۴﴾ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿۴۵﴾

عقل سے بے وقوف آئیدُکمُ اذامتُّمُ وکُنتمُ ترابًا وِعظامًا انکمُ فُخْرُجُونَ کیا یہ یسوی چھوہ تو بہ وعدہ  
دوان کہ یلہ جہہ مرو تو پتہ سپد واؤجرہ تو پتہ ابو جہہ زندہ کرت قبر منزہ ہیہ کذہ ہہات ہہات لہما  
تُوَعَدُونَ تم وعدہ تم تو ہمہ سیت کرنہ یوان ہجہہ، تم ہجہہ عقلہ نشہ سیٹھاہ دور، سیٹھاہ دور ان ہی  
إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا یہ زندگی ہجہنہ مگر یہیہ ذنیاء ہج سان زندگی نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِبَعْعُوثَيْنِ  
مران ہجہہ آس ہیہ زندہ ہجہہ روزان آس ہجہہ ذنیاء س اندر۔ آکہ پھر ہ مر تھہ ہجھونہ آسہ ہیہ زندہ  
سپد تھہ تھودو تھن إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ائْتَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ یہ شخص چھونہ مگر اکھ  
شخصاہ تم لہز نور وواللہ تعالیٰ اس پیٹہ۔ مگر آس ایمان ان وال ہجہنہ منہ صورتس اندر قَالَ رَبِّ  
انصُرْنِي بِمَا كَذَبْتُ ہود علیہ السلام مونگ دُعا، ہد ورد گارامہ کزیاری تہ مدد۔ تمن نشہ ہیہ میون بدلہ  
کیازہ سموزوس بو ایزور قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ اللہ تعالیٰ ان فرموس صبر کرو۔ جلدے  
سپدن تم لو کہ اٹھ انکار س تہ نافرمانی پیٹہ ہشیمان چنانچہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ہس  
رٹ تم جبریل امینہ سزہ سخت کریکہ یوسہ ہزس وعدس موافق تہ مطابق آس۔ ہس بنا و تم آسہ اکھ  
ثہو ٹھاہ یعنی خس وخاشاکک پاٹھ پامال فَبَعْدَ اللِّقَوْمِ الظَّالِمِينَ ہس لعنت یومین ظالمین، کافرن تہ

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿۳۳﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا  
رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ  
بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعَدَ الْقَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۴﴾ ثُمَّ  
أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۳۵﴾  
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿۳۶﴾ فَقَالُوا  
أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُونَ ﴿۳۷﴾ فَلَمَّا كَذَّبُوهُمَا

نا فرمان نمود انشانان من بعدهم قرونا الخیرین تمہ پتہ یعنی قوم عاد و ثمود کہ ہلاک گزشتہ پتہ کرہ  
اسہ واریاہ امڑتہ قوم پیدہ مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ بروئھ بیجہ نہ گڑھت کا نہ قومہ  
تہ کا نہ امٹاہ پتہ نس ہلاکتہ کس مقر رہ و قس نہ بیجہ پتہ گڑھت تمہ نشہ۔ پتھ پانھ پتھو پر پتھ نہ اتھ  
ہلاک گڑھنہ خپترہ وقاہ مقر ر کرنہ آمت۔ الغرض تمہ امڑ آیہ گوڈہ پیدہ کرنہ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا  
توپتہ سوز اسہ تم ن نشہ پتہ پیغمبر پوئس پتھ ہدایت و ارشادہ خپترہ كَلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ  
تہنز حالت سہز یہ کہ یلہ یلہ کتھ قومس نشہ تہند خاص پیغمبر و اتان اوس خدایہ سند احکام پتھ تم آس نس  
ا پز اتان تہ انکار کرن۔ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ نس گال اسہ تم اکھ اس پتہ ٹوپتہ  
تھاوہ پتھ کن تہنزہ کتھہ یا تھہ قصے یات فَبَعَدَ الْقَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ لعنت یوسن تہن لو کن سہ نم کنس  
خدائس پڑھ کرن تہ ایمان ان ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ \* إِلَىٰ فِرْعَوْنَ  
وَمَلَئِهِ توپتہ سوز اسہ موسی علیہ السلام بیہ تہند برادر ہارون علیہ السلام پتہ آیات تہ سند پتھ  
فرعوس تہ تہندین ارکان سلطنت کن فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ نس کور تمو تصدق و اطاعت کرنہ  
نشہ شجمر بیہ آسہ تم مغرور تہ متکبری یات بلکہ آسجھ بنی اسرائیل مغلوب تہ غلام بناؤمت۔ فَقَالُوا  
أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُونَ نس لگ تم پانہ وان دپتہ کیاہ اس گردہ پڑھ پانسی ہون  
دون انسان بیہ سمن ہند قوم سان غلام تہ خد متگا رچھہ فَلَمَّا كَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ نس یلہ تموتہ



فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۹﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿۴۰﴾ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّو مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۴۱﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً

تمن دون پیغمبر انکار کور، تم تہ زانجھ اپن زبیر، بس سپد تم تہ گلہ و نیوتہ ہلاک سپدہ و نیو آندرہ و لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تہندہ ہلاک گزھنہ پتہ و ژا سہ یہ کتاب یعنی تورات موسیٰ علیہ السلام تہتمہ تم لو کہ تم باقی زود ہدایت لمن وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ یہ کراسہ پنہ نس کمال قدرتس یہ پنہ نس وحدائیس پیٹھ دلالت کرنہ خیطرہ یہ بنی اسرائیلن ہندہ ہدایتہ خیطرہ مریم علیہا السلامہ سُنْد فرزند علیسی علیہ السلام یہ تہتمز والدہ ماجدہ بڈ دلیل علیسی علیہ السلام سمعہ اعتبارہ کہ تم کراسہ بے پدر پیدہ۔ مریم علیہا السلام سمعہ اعتبارہ کہ سُوکتر اسہ خاندس یابہ کانسہ انس انس نزدیک سپدنہ و رای حاملہ تہ بچہ دار۔ یہ چھو یمن دوشن ہندہ خیطرہ بوڈ نشانہ۔ چونکہ علیسی علیہ السلام متعلق اوس سون ارادہ پیغمبر بناون۔ مگر اتھ شہر شامس اندر اوس اکھ ظالم پادشاہنس ناواوس ہیر دوس۔ نس اوس نجومیو و و نعمت کہ علیسی علیہ السلام سپد سرداری عطا۔ سُو پادشاہ اوس لو کچارہ پیٹھ تہند د دشمن سپد مت۔ سواوس تمن قتل کرنہ خیطرہ آادہ سپد مت تمہ موکھ دیت اسہ تمن تہ تہندس والدہ ماجدس پناہ اکس تہزہ جلیہ پیٹھ۔ یوسہ جای میوہ بکشرت آسنہ موکھ بسنس تہ قرار کر نس لایق آس۔ یہ تمہ منزہ دریاو جاری آسنہ موکھ، سر سبز و شاداب جلیاہ آس۔ یوتان تم (علیسی علیہ السلام) امن و اناس اندر جو ان سپد۔ تو پتہ آو تمن نبوت عطا کرنہ۔ تمس ظالم پادشاہ سہندہ مرنہ پتہ آہ مریم علیہا السلام مصبرہ پیٹھ یہ وانس شہر شامس کن۔ ماء معین چھہ ونان رود نیلہ ہندس آس۔ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّو مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اسہ تہتمہ پاٹ برو نٹھی نعمو استعمال کرنک تو بہ اجازت دیت یہ عبادت کرنک کھم کور، تہتمہ پاٹ فرمود اسہ سارنی پیغمبرن،

وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿۵۲﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا  
 كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۵۳﴾ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ  
 حِينٍ ﴿۵۴﴾ أَيْحَسِبُونَ أَنَّمَا يُنذِرُهُمْ بِهِ مِنْ قَالٍ وَبَيْنِينَ ﴿۵۵﴾ نَسَارِعُ  
 لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ

تہندہ ذریعہ تہنزن اُمتن ای پیغمبر و کھو ہتہ تہند اُمتی رت رت چیز۔ خدایہ سزہ نعمو۔ تمیک پھل تہ  
 رت شمرہ عطا وان ہذا اُمتکم اُمتہ وَاَحَدًا وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ سمہہ طریق اسہ بیان کورہیے پھتہ ہنز  
 طریق پھتہ پیٹھ توہر روزن پھو واجب تہ ضروری۔ سوچھ اکے طریق۔ حاصل تہ خلاصہ تمہہ طریق  
 چھو کہ یو پھو س تہند پروردگار، تہند مالک حقیقی، بیہ منعم حقیقی۔ لہذا کھو ژومے یوت، میانین حکمن  
 ہنز مہ کمر و مخالفت تمکن پیغمبرن ہنز ان اُمتن شو بہ ہاتھ اکسی طریقس پیٹھ مضبوط روزن مگر تمو کورنہ  
 تہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ بلکہ کور تمو پنہ نس دینس منز الگ الگ  
 و تہ کڈت اختلاف پیدا۔ چنانچہ تمکن منزیمہ جما ژازتہ موجود پھتہ، پریتھ جماعتس نشہئس نس دیناہ پھو  
 سوچھو تھتہ پیٹھ خوش تہ راضی۔ باطل آسہہ باوجود پھو تھتہ زانان پوز۔ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ  
 حِينٍ کس ترا یو کہ تہہ یار رسول اللہ پنہ نس جمالتہ کس حاکس پیٹھ۔ کانہہ غم مہ برؤ، تہند س اکس  
 خاص و قس تان۔ یعنی تہندہ مر نہ کس و قس تان۔ یلہ سو وقت و اتہ تمہ ساتہ سپدہ تم ساری حقیقت  
 معلوم۔ و سنئس یمن پیٹھ جلد عذاب نازل پھونہ سپدان، کیاہ امہ سیت چھا لو کہ یہ خیال کران کہ اس  
 یوسیہ تمکن مال و اولاد تہ بیہ دولت عطا کران چھہ، اس ماچھہ تمکن جلد جلد تہ ول ول فاندہ و اتاوان، اسہ  
 ماچھہ تہنز منہ کامن۔ یہ کتھ پھنہ ہر گز تمکن کو کن پھونہ امیک و جہی معلوم۔ امیک و جہ پھو استدر اج  
 یعنی تہنز ناو گو براون۔ یلہ ناو گو کتھ، یہ کدم پھن تم۔ غرض امیک انجام پھو سیٹھاہ کزوٹھہ اَیْحَسِبُونَ  
 أَنَّمَا يُنذِرُهُمْ بِهِ مِنْ قَالٍ وَبَيْنِينَ کیاہ تمکن پھٹا گمان کہ اسئس تمکن دیار تہ گبر دوان چھہ نَسَارِعُ لَهُمْ  
 فِي الْخَيْرَاتِ بیہ چھہ اس تمکن جلد جلد خیر و اتاوان نہ سوچھنہ حقیقت بَلْ لَا يَشْعُرُونَ بلکہ چھونہ

رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۵۴﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۵﴾  
 وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۵۶﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا  
 قُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ أَنْهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۵۷﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ  
 فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۵۸﴾ وَلَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا  
 وَلَدَيْنَا مَكْتُوبٌ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۵۹﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي  
 غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴿۶۰﴾

سمن فجری تران امہ منز کیاہ چھو سون مطلب کہ یہ تہ چھ ساندہ طرفہ اکھ آما بیشاہ۔ اِنَ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ  
 خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ پڑپاٹ یتھ منز چھونہ کانہہ شک کہ یم پنہ نس پروردگار سندرہ ہیبتہ تہ خوفہ  
 سبہ نمان چھہ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ یم پنہ نس پروردگارہ سندین آیاتن پڑھ چھہ کران  
 وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ بیہ سم اتھ ایمانس منز پنہ نس پروردگار س شریک چھنہ ٹھراوان  
 وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ بیہ سم خدلیہ سزہ وتہ کینہہ دوان چھہ، یوت پلان چھو کہ  
 ثیوت مگر تھہ منز تہ چھک دل نثرہ منز آسان۔ اَنَّهُمْ اِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ بیٹک چھو تین واٹن پنہ نس  
 پروردگار نشہ۔ خبر چھاسو کریاہ سون مال خرچ کران قبول کنہ نہ اُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ تہ  
 کیاہ گے تم لو کہ سم نیکن منز جلدی کران چھہ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ بیہ سم نیکن کن بروٹھ واندون چھہ  
 وَلَا تَكْلِفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا بیہ چھنہ اس کانہہ اکس تکلیف دوان تہ عبادتک بور کھاران۔ مگر توی ہن  
 یشی ہن تس بتر تہ طاقت آسہ وَلَدَيْنَا مَكْتُوبٌ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کیاہ اسہ نشہ چھو اکھ دفتر،  
 کتاباہ، یعنی نامہ اعمال محفوظ نیس پوز پوز سوزوی باوہ۔ بیہ بیہ نہ لو کن کئہ قسمہ ظلم کرنہ۔ خیرہ کس اکس  
 اکس ذرس پیٹھ لیہ تین ثواب عطا کرنہ۔ یہ اوس حال با ایمان ہند مگر کافر ن ہند حال چھونہ یتھ بَلْ قُلُوبُهُمْ  
 فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ بلکہ اتھ برعکس چھہ تھند دل سمہ دینہ  
 نشہ جمانس تہ شکس منز ہیبت۔ بیہ چھہ سمن امہ جمانہ ورا تہ بیہ بیچھ عملہ سمہ عملہ تم بدستور چھہ

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ﴿۱۷﴾ لَا تَجْرُوا  
 الْيَوْمَ مِنَ الْعَذَابِ وَأَنْتُمْ كَالَّذِينَ تَكْفُرُونَ ﴿۱۸﴾ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَلَنْتُمْ  
 عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ أَنْ تَنْكِصُونَ ﴿۱۹﴾ مُسْتَكْبِرِينَ تَقْتَرِبُونَ سِرًّا تَهْتَجُونَ ﴿۲۰﴾  
 أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَهُمْ بَأْسٌ بَلَّغْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ  
 أَتَقْوُونَ ﴿۲۱﴾ أَمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ﴿۲۲﴾ أَتَسْتَحْسِبُونَ  
 أَنْ يُدْرِكَهُمُ الْعَذَابُ لَمْ يَأْمُرُوا بِالْحَقِّ كَمَا آتَوْهُمُ ﴿۲۳﴾

کران۔ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ تا اینکه یلہ تمو آندره خوشحال کو کہ عذابس  
 گرفتار کرو کہ اس سمن نشہ نو کر چا کر چہ غریب غراباء تہ عام لو کن ہنز چہنہ تہس۔ غرض یلہ یمن  
 سارنی پیٹھ عذاب نازل سپدہ تان ہن تم کر یکہ ناد کرن۔ اس دپو کہ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ مِنَ الْعَذَابِ  
 مُتْرَفُونَ مہ تلو از کر یکہ ناد۔ تمو کر یکہ گو سیت بیونہ کینہہ۔ توہہ پیہ نہ ہرگز سانہ طرفہ مدد کرنہ۔ کیا زہ  
 ہنہ گوہ تا تہ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَلَنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ أَنْ تَنْكِصُونَ \* مُسْتَكْبِرِينَ بِه سِرًّا تَهْتَجُونَ پز  
 پاٹ دنیاس منز اس میان آیات توہہ پیٹھ پر نہ یوان حضرات انبیاء عنہ ذریعہ۔ ہنہ آسوہ پوت  
 پو توی ثلان۔ کمال مجہر آسوہ رات کیت اتھ قرآن مجیدس خلاف بکواس کر تھ یہ بوزنہ نشہ دور  
 روزان۔ کانہ اوس ونان تھ شعر کانہ اوس ونان تھ سحر۔ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَهُمْ بَأْسٌ  
 بَلَّغْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ کیاہ تمو کورنا تھ قرآن مجیدس منز غور تہ فخر۔ تمہ فخر گرہ ہن پائے مجھ مجھ بو زن  
 امیک مجرہ وہجھت انہ ہن ایمان کنہ یعنی نشہ ووت نو اکھ چیزاہ نس نہ تہمدین مالین بد تہن نشہ ووت مت  
 اوس۔ امی چہہ اتھ انکار کران أَمْ لَمْ يُعِزُّوا سُؤْلَهُمْ فَهُمْ لَمْ يَنْكُرُونَ کنہ تم زانی نہ پیغمبرس پنہ نس  
 تہن چہنہ خبری تہمدہ امانت و دیا تچ، راست گوئی ہنز تمی چہہ نس انکار کران أَمْ يَقُولُونَ بِهِ كِبْرًا  
 تمہ چہہ ونان انس پیغمبرس چھو جنون۔ تمو کھو آندره چہنہ کنہی تھہ۔ تم ساری اس منھہ طور تہمدہ  
 صدق و ماتک تہ دیا تک قائل یہ اوس تہن اتفاق کہ تہن برابر چھو نہ صاحب عقل کانہ تہ بَلَّغْنَا لَكُمُ

لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ مِنْهُمْ  
عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرَضُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رِبِّكَ خَيْرٌ  
وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾  
وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَكَاغِبُونَ ﴿٤٤﴾  
وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجَوَانِي طُعْيَانِهِمْ  
يَعْمَهُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ

بِالْحَقِّ وَأَكْفَرُوا بِالْحَقِّ كُفْرَانًا بلکہ چھو اصلی وجہ کہ یہ پیغمبر آؤ تمہیں نش پڑتھ ہیٹھ، مگر سمو اندرہ چھہ اکثر لوکن پڑچ نفرت۔ تمی چھہ قبول تہ تسلیم کران وَلَا تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رِبِّكَ خَيْرٌ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بیہ ہر گاہ پوز تابع روزہ تہنزن خواہن تلہ گوہن آسمان وزمین تباہ و بربادیہ تم ساری تم تمہن منزر روزان چھہ۔ کیا زہ ہر گاہ تہ لبندہ بیہ ہانہ پوز کیا روزہ ہا تابع تہنزن خواہن تیلہ سپدہ ہا سوزی عالم پڑ کفر و شر کہ سیت عالمس منزر پھیلہ ہا گرائی۔ تمیک نتیجہ نیرہ ہا اللہ تعالیٰ سُد غضب ایہ ہا بجوش، آسمان وزمین بیہ یم تمہن منزر روزان چھہ گوہہ ہن ہلاک تہ برباد بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ بلکہ آئی اس تمہن نش نصیحت تہ نفع تھ ہیٹھ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرَضُونَ مگر تم چھہ پندہ فاند چہ تھ نشہ تہ پھر تھن تہ روگردانی کران أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَجَ رِبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ حکمیہ کیکن بروظھمن و جھن علاوہ چھو بیہ بیاکھ وجہ کہ تمہن چھو خبہ تہ اندیشہ کہ تہہ ما چھوہ تمہن نش دین حق و اتاوندہ خیطرہ کیئہ معاوضہ ژھانڈان۔ توہہ کیاہ آس تیج ضرورت توہہ نیس معاوضہ خدایہ سندہ طرفہ حاصل سپدہ ون چھو۔ سوی چھو سیٹھہ بہتر زوزی دنہ وول وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ پڑپاٹ تہہ چھوہ تمہن راہ راستس، سیزہ وتہ گن نادووان وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَكَاغِبُونَ پڑپاٹ تمہن نہ آخربا پڑپاٹ چھہ تم چھہ سیزہ وتہ نشہ پتہ ژلان وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجَوَانِي طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ بیہ ہر گاہ آس تمہن پیٹہ رحم کر تھ، تمہن نیس تکلیف چھو سو دور تہ گرو، توہہ روزان تم

وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿۴۶﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ  
 إِذْ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۴۷﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ  
 وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۴۸﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي  
 الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۴۹﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ  
 وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۵۰﴾ بَلْ قَالُوا  
 مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۵۱﴾ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا

بدستور پندہ سرکشی تہ غمراہی اندر اورہ یور کران و لَقَدْ أَخَذْنَا لِيَوْمِ الْآخِرَةِ مِثْلَ مَا يَتَضَرَّعُونَ پزیاٹ اس اگر تم گرفتار کرو کہ عذاب جس کرنے تمو پندہ جس خدا جس کن عاجزی، نہ کو رکھ  
 زارہ پارہ جس حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذْ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ تا اینکه یلہ اسہ تمن کن  
 مُدَوَّرًا وَخَتَّ عَذَابًا دَرُوزًا تِلْكَ الْأَمْثِلُ لِمَنْ يُدْرِكُهُ الْيَوْمَ الضَّالِّينَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ  
 قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ سو معبود برحق گو سوی تم توہہ کن اچھہ تہ دل پیدہ کمر۔ بھہ تہہ آرام تہ کردہہ  
 دینس کن تہ خیال تھا و مگر سیٹھاہ کم چھوہ تہہ تمن نعمون پیٹھ شکر گذاری کرہ دن۔ کیا زہ اصل شکر  
 گذاری گئے یہ جس مُعْتَمِدٍ حَقِيقِي سُدِّسُنْدِ پندیدہ دین اختیار کرن۔ بہ پڑھہ گرن کہ جس بھہ قدرت مر نہ پتہ بہہ  
 زندہ کر جس پیٹھ۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بہہ گو سو پروردگار سوی تم تہہ  
 زمینس منز چھکروہ۔ بہہ ایو تہہ ساری قیامتک دوہ جس نشہ سونبر نہ تہ جمع کرنے تھی دوہہ کیا و چھو تہہ امہ  
 نکران نعمت کر نک مزہ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بہہ  
 گو سو پروردگار سوی جس سارنی زندہ کران چھو بہہ جس ماران چھو۔ بہہ چھو جس، یعنی تہہ ساری اختیارس  
 منز راتک تہ دُبُكْ مَنُ گُوھن، تہ سوئن تہ زبھن۔ کیا توہہ بھنا ایو تہن تہ فخرہ تہران۔ سیمہ دلیلہ بھہ  
 توحیدس تہ قیامتس پیٹھ دلالت کران مگر توہہ چھہ تم مانان بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ بلکہ  
 چھہ ونان تہ تہہ سیمہ کھہ برو تھمید کافر دُونہ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّا نَبْعَوُّونَ

وَعِظَامَنَا الْبَعُوثُونَ ﴿۸۲﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا  
 مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۸۳﴾ قُلْ لَيْسَ الْأَرْضُ  
 وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا  
 تَذَكَّرُونَ ﴿۸۵﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ  
 الْعَظِيمِ ﴿۸۶﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۸۷﴾ قُلْ مَنْ  
 بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ

تمو دوپ کیا اس لیے مر تو پتہ سپدو اس میں تہ اذہر کیا ہمتہ پتہ سموہ اس یہ زندہ کرتھ قبر ومنزہ تلمنہ  
 لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ہمیں پات وعدہ آو کر نہ اسہ  
 سیت امیک یہ ساین مالین بدین سیت سمہ بروٹھ تہ یہ چھونہ کینہ تہ مگر بروٹھمین لوکن ہنزہ ایزہ تہ  
 بے گندتھ تہ قصہ ہم نقل چھہ یوان کرنہ قُلْ فرما دیو کہ تہہ یار سول اللہ لَيْسَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ  
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ہر گاہ تہہ کینہ زمانہ چھوہ تلہ وینو زمین یہ ہم مخلوق اتھ منز چھہ ہم کہند چھہ۔  
 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ہم وزن ضروریو ہے جواب کہ یہ سو زوی چھو خدایہ سہ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ تہہ  
 فرما دیو کہ ادہ کونہ چھوہ غور تہ تا مل کران، لیس قدر تہ والیس یہ لوگ پیدہ کرن تس نغہ کیاہ عجائب چھو  
 چہ سرت یہ پیدہ کرن قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تہہ پر ٹھوک  
 ستن آسمان تہ عرش عظیم مالک تہہ چھو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ جواب دن تم کہ سمہ سارہ کوئی مالک  
 چھو اللہ تعالیٰ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تہہ فرما دیو کہ ادہ کونہ چھوہ تس کھو تان ادہ تھہ پات چھوہ تہہ  
 جہدس قدر تس، تہدین آیتن، آخر تس بروٹھ کن واتس انکار کران قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ  
 كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تہہ پر ٹھوک گس اتھ چھو پر تھہ چیزک  
 اختیار رسوئیس۔ بڑھان چھو تس چھو پناہ دو ان۔ تس مقابلہ یہیم نہ تس نغہ کا نہہ اکھاہ کا نہہ اکس پناہ دت  
 ہر گاہ توہہ کینہہ معلوم چھو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ جواب دین تم کہ ہم ساری صفت چھہ خدایکی یوت

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾ سَيَقُولُونَ بِاللَّهِ قُلٌّ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿۸۹﴾  
 بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۹۰﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ  
 وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذَّاهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ  
 وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۹۱﴾ عَلَيْهِ  
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۹۲﴾ قُلْ رَبِّ إِمَّا  
 تُرِيئِي مَا يُوْعَدُونَ ﴿۹۳﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ

قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ نہیہ فرما دیو کہ اذہ کتہہ چھو توہمہ پیٹھہ جود آمت کر نہ۔ نہیہ چھوہ منجوط الحواس  
 سپد مت۔ توہمہ چھوہ نہ فکرہ تران کینہہ۔ سیمہ سارے کتہہ چھوہ مانان مگر اصل کتہہ چھوہ نہ مانان۔ سوگو  
 توحید تہ مرنہ پتہ ہیہ زندہ سپدان بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بلکہ واتنا واسہ تہن نشیہ پرتکھ۔  
 مگر ایزیر چھہ تم پانہ کن چھو کھنہ پوزویشان تہ برداشت سپدان مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ  
 الْإِلَهِ إِذْ أَذَّاهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اللہ تعالیٰ ان چھوہ نہ کانہہ شخص پتہ بنو مت۔  
 ہیہ چھوہ نہ تس سیت بیا کہ محبوبادہ۔ ہر گاہ تہ آسماتیلہ نیہ ہا پرتکھ محبوبادہ تھہ ہیہ تم پیدہ کر مت آسمہا۔ ہیہ  
 آسن تم کہ اکس پیٹھہ حملہ کر تھہ کہ آسند مخلوقات زبردستی سیت نوان۔ مخلوقات آسن تباہ و برباد  
 سپد مت۔ چونکہ نظام عالم چھوہ بدستور قائم امہ اندرہ سپد ثابت کہ سو چھوہ منزہ تہ پاک شریک آسنہ نشیہ  
 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ بلکہ چھوہ سو منزہ تہ پاک تموساروی کھوہ نشیہ سیمہ تس کن لوک لاگان چھہ علیہ  
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ سو چھوہ زانہ ون سو زوی پو شیدہ تہ نون۔ تس نشیہ چھوہ نہ  
 پو شیدہ کینہہ ہیہ چھوہ سو سیٹھاہ بلند تہ تھوہ تمہہ شر کہ نشیہ ہیہ تس کن لوک لاگان چھہ۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا  
 تُرِيئِي مَا يُوْعَدُونَ نہیہ مگو خدا ہیہ ای میانہ ہر وردگارہ ژہ مہ ہاؤ کہ سو عذاب سیمک سمن وعدہ  
 تھانہ یوان چھوہ یعنی میانی زندگی منز کر کہ سمن پیٹھہ عذاب نازل رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ  
 الْكَاذِبِينَ اکی میانہ ہر وردگارہ چھہ نہ تھوہ کہ تمہہ وقتہ ظالم سیت شامل وَرَاتَاعَ عَلَىٰ أَنْ تُرِيئِكَ مَا



الظَّالِمِينَ ﴿۹۲﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُثْرِكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿۹۳﴾  
 إِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿۹۴﴾  
 وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿۹۵﴾ وَأَعُوذُ بِكَ  
 رَبِّ أَنْ يُخْضِرُونِ ﴿۹۶﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ  
 ارْجِعُونِ ﴿۹۷﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ

نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ یہ چھہ اس بیشک توہم سو عذاب ہاؤس پیٹھ قدرتہ وال سمہ عذابک اس تمن وعدہ تھاوان چھہ۔ یوتان نہ تمن پیٹھ سو عذاب نازل سپدہ توتان تھا ووتہہ تمن سیت اتھہ پاٹھ معاملہ کہ  
 إِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ہنزہ ہدی ہند مدافعہ آسوٹہہ کران۔ جتہ ورتا وہ سیت نئس سیدھاہ رت  
 تہ نرم آسہ پنہ ذلتہ خیطرہ مہ آسو تمن بدلہہ ہیوان بلکہ آسو معاملہ آسہ سپر دکران۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا  
 يَصِفُونَ اسہ پٹھو پور معلوم تم کیاہ چھہ وانان توہم نسبت۔ اگر ممقتضائے بشریت توہم تھہ بوزنہ  
 سیت تھہ آسہ کھسان جہنڈ گڑھہ تمہ سائہ ہران یہ دعا۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ \*  
 وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يُخْضِرُونِ ای میانہ پروردگارہ بو پٹھوس پناہ منگان شیطان ہند یو وسوسو نشہہ یہ چھوہ  
 سے پناہ منگان میانہ پروردگار ہندہ میہ پٹھہ بنہ نشہہ تم مہ واتاوان تہان کامہ کن یوسہ مصلحتس خلاف  
 آسہ۔ یہ روزن نہ پنہ کفر وانکارہ نشہہ پٹھہ۔ یہ دعا پر نہ سیت آسہ توہم سو تھہ دور سپدان حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ  
 أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ پٹھہ زود کافر تمن بنہ نہ کیہنہ یوتان نہ تمن اندرہ کانہہ مر نک وقت  
 واتہ، آخر تک معاینہ یہہ شروع سپدان تمہ سائہ بن نئس اچھہ مورا ونہ جھلس تہ کفرس پیٹھ سپدہ نادوم تہ  
 پشیمان۔ مرت ونہ سو کافر، پروردگار مہ سوزتہ بیہ دنیاس کن واپس لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ  
 پٹھہ بورثہ عملہ گرہ دنیاس اندر نئس مہ پٹھہ کن ترور۔ ملا کن ہندہ ذریعہ پئس اتھہ در خواستس رد کرنہ۔  
 دپنہ پئس کَلَّا تہ بنہ نہ ہرگز۔ یعنی دنیاس کن واپس گڑھن پٹھو نامکن إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا بیشک یہ  
 پٹھہ سو تھہ یوسہ اس وئی پٹھہ۔ اتھہ ونہ نئس پٹھو نہ امیہ نئس اعتباری کیہنہ مِن وَرَائِهِمْ بَرَزَاتُ إِلَىٰ

قَابِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَإِذَا نْفَخَ  
 فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿۱۰۱﴾  
 فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَمَنْ خَفَّتْ  
 مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ  
 خَالِدُونَ ﴿۱۰۳﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿۱۰۴﴾  
 أَلَمْ تَكُنْ أَلْتَمِ الْيَتَامَىٰ عَلَىٰ عِلْمِكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا كَذِبُونَ ﴿۱۰۵﴾ قَالُوا

يَوْمِ يُبْعَثُونَ تم ن پتہ چھو اکھ پرداہ تہ ٹھوراہ اکھ تھہ دوہس تان سمہ دوہہ بیہ تم دوبارہ زندہ کرنہ بن۔ ونہ  
 کیاہ وچہ تمہ۔ مرنہ سیت بانبرے تم یوت۔ تھہ چھو تم ن عالم برزخ یوان۔ توت واتھہ روزن تم پردس  
 منز دُنیا کین لوکن نشہ۔ آخرت تہ ولانہ تم ن برونھ کن البتہ آخرتجہ عذابک کم پھن نموناہ ولتہ تم ن  
 برونھ کن سمیک مزہ ٹلان روزن قیامت تان **وَإِذَا نْفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا**  
**يَتَسَاءَلُونَ** پتہ یلہ قیامت سپدہ چھو کہ بیہ ونہ پوغس منز تمہ ساتہ سپد ن تم تھس خوئس تہ پیتس گر قمارکہ  
 سوڑی مٹھہ تم ن منز تم اکھ اکس رشتہ دار آسن، تم رشتہ روزن نہ ٹھہ تہ یعنی کانہہ کرہ نہ کانہہ ہنز  
 ہمدردی۔ زن تم ڈپر ڈپر آسن۔ نہ آسہ کانہہ پر ٹھان۔ غرض تمہہ دوہہ نہ ایہ رشتہ داری بکار نہ  
 دوستی بس تمہہ دوہہ ایہ بکار فقط ایمان سمہ خیطرہ قائم بیہ کرنہ اکھ تر کراہ، تھہ منز ایمان و عمل بیہ تولنہ  
 فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سمسیدہ ایمانک تہ ٹیکن ہند تر کرہ پو تر گوب لگہ تے ہتھہ  
 کامیاب تہ رستگار **وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ** تم ن  
 ہندہ ایمان و عملہ ہند تر کرہ پو تر لوت آسہ بس تے گئے تم سمپان پانس نقصان تہ تاوان واتنہ۔ تم  
 آسن جہنم منز ہمیشہ **تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارَ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ** زالہ نار جہنم تہدین تھن ہیر یوم ڈٹھ  
 واتیکھ کلس تان۔ بونیوم ڈٹھ واتیکھ ٹولس تان تے آسن تھہ نار جہنم منز سخت بد شکل۔ تم ن بیہ  
 ونہ **أَلَمْ تَكُنْ أَلْتَمِ الْيَتَامَىٰ عَلَىٰ عِلْمِكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا كَذِبُونَ** کیاہ توہہ بیٹھ آس نامیان آیات پر نہ یوان۔

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿۱۰۶﴾ رَبَّنَا  
 أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿۱۰۷﴾ قَالَ اخْسُؤْ فِيهَا  
 وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿۱۰۸﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ  
 رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۰۹﴾  
 فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ  
 تَضْحَكُونَ ﴿۱۱۰﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ

توپتہ آسوہ تہہ تمہن اہیززنتھ انکار کران۔ یہ پھو تمھوی سزا قالوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ تم وہن ای سانہ پروردگارہ آس چھہ اقرار کران پنہ نس بجز مس۔ آس آس وملت شقلاوتن۔ بیہ آس آس واقعی وبتہ لغتہ وملت۔ آس چھہ درخواست کران۔ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ای سانہ پروردگار آسہ کڈتہ امہ جہنمہ آندرہ توپتہ سوزتہ بیہ دوبارہ دنیا س آس۔ تو پتے آس دوبارہ نافرمانی کردتیلہ چھہ آس واقعی ظالم۔ تمہ وقتہ گڑھہ آسہ پور سزادین قال اخْسُؤْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ اللہ تعالیٰ فرماوکیہ۔ دفع گڑھہ اتھہ تھنمس منز دزومہ سیت مہ کروکتھ۔ آس گزونہ جھنند درخواست منظور۔ توہہ چھہ نایاد إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ تہہ گونہ تا کہ میانیونہند و آندرہ آس اکھ جماعتھہ ہم بچار عرض کران آس اے سانہ ہر وردگارہ آسہ اولن ایمان لہس کر آسہ مغفرت بیہ کر آسہ پیٹھہ رحم۔ ثی چھو کہ ساروی آندرہ سیٹھارہم کرہون فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا لہس کورودہ توہہ اتھہ تھہ یوسہ قابل قدر آس ٹھٹھہ۔ تم زانو کہ توہہ ٹھٹھس لایق تمنی پیٹھہ لگوہ تہہ لسنہ گرنہ تھہ سیت زودوہ تہہ مشغول حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي یوتان تموکتھو توہہ میون یادتہ مشرودوہ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ بیہ آسوہ تہہ تم وہجت آسان تمو کور تھہ تھندس لکھیس پیٹھہ صبر إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ الْفَٰلِقُونَ بجز پات مہ کر عطا تمہن از تمہہ صبر بجز جزو۔ بیشک تھے سپد کامیاب قُلْ كَلِمَاتٌ فِي الْأَرْضِ عَدَدٍ سِنِينَ اللہ تعالیٰ

الْفَازِرُونَ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿۱۱۲﴾  
 قَالُوا الْبَيْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ فَسَلِ الْعَادِيْنَ ﴿۱۱۳﴾  
 قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۱۴﴾  
 أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿۱۱۵﴾  
 فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  
 الْكَرِيمِ ﴿۱۱۶﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ

پرڑھے یا پرڑھنا وہ تمن کافر تہہ کیتس کاس رُودوہ زمینس اندر و رہو موجب قَالُوا الْبَيْنَا يَوْمًا  
 أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ تم دین آس رُودوہس یا ڈس دوہس اسہ مجھونہ پورہ یاد۔ فَسَلِ الْعَادِيْنَ اسہ  
 مجھنہ کینہہ خیر تہہ پرڑھو عمرن ہند حساب تھوہ نین سلا کن قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ  
 تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ فرماو کیکہ تہہ رُودوہ مگر تم سی کاس۔ ہر گاہ تہہ تی زانہو دنیاس اندر کہ دنیاس منزہا  
 مجھو کس کاس روزن اسہ۔ تہہ بدل آسوہ تہہ زانان یجوی مجھو سو زوری بیہ نہ کینہہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا  
 خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیاہ توہہ اوسہ گمانہ کہ اس کیاہ کروہ تہہ پیدہ بے معنی گندناہ۔  
 بیہ کیاہ ایونہ تہہ اسہ کن و اہل اند۔ فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ کس سیٹھاہ بالائہ برتر مجھو اللہ تعالیٰ۔  
 سؤی مجھو بادشاہ پزپاٹ۔ تم کورنہ بے معنی تہ بے ہودہ کانہہ چیز پیدہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  
 الْكَرِيمِ کانہہ معبوداہ مجھونہ کس دران سو مجھو مالک عرش عظیمگ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا  
 آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ بیہ کس اکھاہ سمہ دلیلہ آتھہ خدا کس سیت بیہ  
 کانہہ معبود سنز عبادت گرہ مجھ پیٹھ نہ کانہہ دلیلہ چھہ تمسند حساب مجھونہ مگر تہندس ہروردگار س نشہ  
 إِنَّهُ لَا يُفْعِلُ الْكَافِرُونَ بیشک کامیاب ہدن نہ کافر بلکہ روزن تم ابد الابد عذابس اندر گرفتار وَقُلْ

لَهُ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُقْلِعُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۱۱۷﴾  
 وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ ﴿۱۱۸﴾

رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ ای پیغمبرِ نبیہ آسود دعا کران تہ منگان ای میلہ پروردگارہ مغفرت  
 گرمہ۔ سبہ گرمہ پیٹھہ رحم، معاش اندرتہ، توفیق طاعتس اندرتہ، نجات آخرتس اندرتہ۔ عطایہ جنتس اندرتہ۔  
 پیٹھہ رحم، معاش اندرتہ۔ تھی چھوک ساروی رحم کرہ نیواندرہ زیادہ رحم کرہ ون



## سُورَةُ النُّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ  
 تَذَكَّرُونَ ۝۱ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
 مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَ هَدَّ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ  
 مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۲ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ ہتھو اکھ سورہ اکھ سمیک الفاظ  
 اسی نازل کتر۔ یہ کراسی نازل تمیک معانی یعنی احکام یہ کراسی تھ اندروا صحت صاف صاف آیات نازل  
 ہتھ جہہ تم آیات زانو تہ مانو الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ زنا کرہون زنا نہ  
 زنا کرہون مرد، پر ہتھ اکس تمواندرہ لایو اکھ ہت ذرہ ہر گاہ تم یتھرہ واری آسن وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا  
 رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ توہہ گڑھہ نہ تم دوان پیٹھ خدا یہ سندس معاملس اندرا کہ ذرہ تہ رحم سن۔ سمہ سمیت تم  
 تراو ہو کہ یا سزاء اس منز کی کتر ہو کہ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ہتھوے جہہ پڑھ کران اللہ  
 تعالیٰ اس تہ پتھس دوہس یعنی قیاس۔ کیا زہ دوشون پیٹھ ایمان تہ پڑھ آسن جھہ منگان۔ اللہ  
 تعالیٰ سندس کھمس گڑھہ تعمیل سپن وَلَيْشَ هَدَّ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ سپن حاضر  
 تھندس اتھ سزاء اس جماعتھا اکھ بالیمان ہنز۔ یہ سز اچھو تم دوان مجر من۔ تم آزاد، عاقل تہ بالغ یہ  
 انہاری آسن تم غلام آسن تم پڑواہ ذرہ۔ تم نہ عاقل یا بالغ آسن تم چھنہ مٹھنی۔ تم نکاحہ وال  
 آسن۔ تھند سز اچھو رجم، سنگساری۔ یعنی تیڑہ کتہ لاینہ۔ موسیت تم مرن۔ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً

الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا الْأَزَانُ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى  
 الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَالَّذِينَ يُرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا  
 بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ  
 شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا  
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ  
 يُرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ  
 فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝

اَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا الْأَزَانُ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ زانی یعنی زناہ کرہوں  
 چھوئے نکاح کران مگر زناکار زانہ سیت یا مٹرک زانہ سیت۔ سیمہ زناکار زانہ چھنہ نیتھر کران مگر زناکار  
 مردس سیت یا مٹرک مردس سیت۔ یہ چھو حرام آمت کرنا با ایمان پیٹھ۔ وَالَّذِينَ يُرْمُونَ  
 الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا یہ تم  
 لو کہ بدکاری ہنز ہانزہ لاگن پاک دامن زنان توبہ کر نہ تم پیش ژور گواہ پنہ نس دعوی اس پیٹھ کس للیو  
 ہنہ تم لو کن شیتہ ڈرہ تھہ چھہ ونان حد قذیبہ مہ کروئنتہ معاملس اندر تہنر شہادت آیدہ زنہہ تہ قبول یہ تہ  
 چھو تہنہ حقہ اک حدہہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سے کیاہ گئے فاسق۔ تم اسہ آخر تیس منزہ سزافاسق  
 تہ نافرمان آسنہ مو کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مگر تم  
 لو کہ توبہ کران امہ تہمت لاگنہ پتہ خدا نس بروئنتہ کنہ یہ سنبھالن پنن حالت، تھہ صور تیس اندر چھو اللہ  
 تعالیٰ بیشک سنبھاہ مغفرت کرہون وَالَّذِينَ يُرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ  
 یہ تم لو کہ ہانزہ لاگن پنہ نین منکوہ زنان بدکاری ہنز توبہ آسنکھ تھہ پیٹھ ژور گواہ کینہہ تہ فَشَهَادَةُ  
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ کس چھہ تمموا اندر پریتھہ اک سز گواہی پیٹھ کہ سوڈہ ژورہ

## وَالْخَامِسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَيَدْرُوْنَ أَعْنَهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ إِنْ كَانَ

پھر ہر خدیجہ سیدہ ہوتی کہ بیشک سوچو پنے نس دعوائے اس اندر ہر زیور وَالْخَامِسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ بیہ ونہ بیہوشی نہ کہ بیشک ہتھ تہ پیٹھ خدیجہ سز لعت ہر گاہ سو لہڑ ونہ ونیو آندر ہتھو وَيَدْرُوْنَ أَعْنَهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ بیہ سپدہ نس زنانہ نشہ نس ہاژھہ نس آس امر لاگتہ عذاب یعنی سزائے جس، یا حد زنا دوریلہ سو ژورہ پھر ہتھ ہاوت گواہی دیہ کہ یہ مرد ہتھو یقینا لہڑ ونان وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ بیہ ونہ سو زنانہ بیہوشی نہ کہ بیشک ہتھو غضب خدا نس پیٹھ ہر گاہ یہ مرد پوزونان ہتھو۔ امہ طریقہ ونہ ناوس ہتھ ونان لعان یہ لعان ہتھو سپدان تھہ صور نس اندر کہ خاوند لاگتہ تہمت پنے زنانہ زنا ع۔ جس متعلق ونیس یہ ہتھو نی نہ میون۔ پنے منکوہہ زنانہ تہمت زنا لاگتہ سیت یں خاوند نس نشہ ژور گواہ ممکنہ۔ ہر گاہ تم ژور گواہ پیش کر تیلہ بیہ زنانہ پیٹھ حد زنا جاری کرنہ۔ اگر ژور گواہ بیجہ تم پیش کر تھ تیلہ بیہ ونہ نس تہ کہ تم الفاظ بیان۔ ہر گاہ تم تم الفاظ بیان کرنہ تیلہ بیہ سو قید کرنہ نس بیہ ونہ کہ یا کر تہ پنے نس ازیور آس اقرار نہ ون تم الفاظ۔ ہر گاہ تم پنے نس ازیور آس اقرار کور تیلہ بیہ نس حد کذف ونہ۔ ہر گاہ تم تم الفاظ ون تیلہ یں زنانہ نشہ تہ دویمہ قسمک الفاظ ونہ ناونہ۔ ہر گاہ سو تم الفاظ ونہ نشہ انکار کرہ تیلہ بیہ سو قید کرنہ نس پیٹھ بیہ جبر کرنہ کہ یا کر تہ مردس تصدیق یا ون تم الفاظ ہر گاہ تمہ مردس تصدیق کور نس بیہ تیلہ حد زنا ونہ۔ ہر گاہ سو تم الفاظ ونہ نس پیٹھ راضی سپز تیلہ یں تم الفاظ تسدہ چاہنہ ونہ ناونہ۔ تیلہ مردن تہ ون تم الفاظ تم نس ون آس، زنانہ تہ ون تم الفاظ یں نس ون آس تمن دون منر سپد لعان واقع، تہمت نکاح ژھیون۔ اہس مردس ہتھونہ جائز اہس زنانہ سیت صحت کرن یا تھپ کرن۔ تم ساری چیز سپد اہس پیٹھ حرام تو پتہ ہر گاہ اہس زنانہ طلاق دیہ تہ گوجان۔ ورنہ کرہ قاض تمن دون منر تفریق یعنی جدائی ہند حکم۔ امہ جدائی ہند حکم ہتھو طلاق بائین۔ اہس مردس ہتھونہ اہس زنانہ سیت زانہ نکاح کرن جائز مگرے ونہ مرد کہ مہ وون لہڑ تیلہ ایہ اہس مردس حد



## مِنَ الصِّدِّيقِينَ ۱۹) وَكَوَلَا فِضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۲۰) إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا

کذب دینہ۔ تمہارے پیٹھے چھو تمہیں دونوں پانہ وان نکاح کرنا جائز۔ وَكَوَلَا فِضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ بیہ ہر گاہ نہ توہمہ بیٹھے خدایہ سُنْد فضل تہ رحمت آسما، سُونر اوہ ہا حقیقت حال۔ تم کر پینتہ فضل و رحمتہ سیت توہمہ پردہ پوشی۔ پھر پیاٹ اللہ تعالیٰ چھو سیتھ توبہ قبول کرہ ون، سیتھہ حمتہ و ول  
إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ پھر پاٹ تم لو کہ نیو لوی اُپڑ ہیتھ آئی، یعنی ہانڑھ لاجھہ پاکہ  
سندس پاک وجودس، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ تم لو کہ تہ چھہ توبہ ہی اُندرہ اکھ  
لوکت جماعتھہا تمہن ہند تعداد کل ژور اوس تمو اُندرہ اوس اکھ مولیٰ شریہ۔ باقی آس تمسندی تابع۔  
امہ قصک خلاصہ چھوئی زہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلہ جنگ بنی مصطلقہ نغیرہ واپس آئے بس جنگ  
شہ (۱) ہجر بس منز سپد مت چھو، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تہ آس اتھ سفرس  
منز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیت۔ تمہ آسہ الگ اگس اوٹس پیٹھ سوار۔ اگس وونٹس پیٹھ اوس  
عماری یعنی ہودج یوان تھاوہ۔ تھہ عماری آس پردہ یوان تروانہ توپتہ آس تشریف تھاوان تھہ منز  
حضرت ام المؤمنین۔ امہ پتہ آس وونٹہ وال یوان تہیہ عماری تلمان توپتہ وونٹس پیٹھ تھاوت گمان۔  
اکہ دوہہ اوس قافلہ اگس مقاس پیٹھ ٹھہرت۔ قافلہ کہ رواگی بروٹھ پھن پیہ حضرت ام المؤمنین  
قضای حاجت ضرورت۔ تم درلیہ عماری منزہ ہناہ دور پھن قضای حاجت کرنہ خیطرہ اتفاق سپد تہ کہ  
اہنزہ ہٹہ چہ مالہ ژھیون ہن تہ سہ آہ چھکر اونہ۔ تموہیت تمک دانہ سونبر اون۔ اتھ سیت لوگ تمہن  
وقت توپتہ یلہ تم واپس آئے قافلہ اوس درامت۔ امہ جلیہ نغیرہ خبر کوت وونٹمت۔ وونٹہ وال آس آمت  
تمو آس۔ ہنز عماری چھو سمہ خیالہ کہ ام المؤمنین آس اتھ منز کیا زہ تہند بن اوس تمہن کی بیہ  
اوس تہند جسم تہ لوٹہ۔ بدن اوس نجیف۔ وونٹہ والین اوس نہ تہند گوہیر زیادہ کینہہ لگان۔ چنانچہ تمو  
تل تہند ہودج یہ خیال کرت کہ یم آسن اتھ منز توپتہ تھو وک اہندس وونٹس پیٹھ بند کرتھ۔ حضرت  
ام المؤمنین یلہ چھہ قافلہ درامت، تم ژور اتس اتھ جلیہ تمو وپ یلہ تم گنہ جلیہ واتھ مہ لہن نہ خود  
بخود واتن مہ ژھانڈان ژھانڈان واپس پتھ جلیہ لہذا پڑہ پتھ جلیہ قرار کرن۔ کینہہ کالاہ گڑھت کھوہ  
تمہن ہندر توپتہ شو نگ تم آتھ۔ حضرت صفوان بن معطل صحابہ صابو اُندرہ اکھ صاحبہ، تم آس

تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَئِذَا أُقْرِبُ مِنْكُمْ فَأَنفَسْتُمْ أَنَّهُ إِلَهٌ كَمَا أَنْفَسْتُمْ مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَشَرُّ عَشِيرَةٍ كَانُوا فِيهَا ۗ

تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَئِذَا أُقْرِبُ مِنْكُمْ فَأَنفَسْتُمْ أَنَّهُ إِلَهٌ كَمَا أَنْفَسْتُمْ مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَشَرُّ عَشِيرَةٍ كَانُوا فِيهَا ۗ

قافلہ پتہ پکان۔ کیا زہ قافلہ ما آسہ کانہ چیزاہ وس بیومت تم آس سو چیز تلمان۔ تم بلکہ اتھ جائے وات بیتمس ام المؤمنین شوکت آس تمن آو بوزنہ اکھ انساناہ شوکت، نزدیکہ یلہ وات اہندس بھس پیٹھ پیٹھ نظر سمو پرزہ نا تو پتہ پور تمو بڈہ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ یہ پرنہ سیت گبہ تم ہمشیار۔ و پھکھ صفوان بن مَعطَل۔ سر مبارکس پیٹھ ترودکھ رڈای مبارک۔ یہ صفوان بن مَعطَل زانما تمن پرڈک حکم نازل سپدنہ بروٹھ۔ چنانچہ تمو کور پیش ہن وونٹھ۔ عرض کور، بھکھ تہ سپد و حض اتھ پیٹھ سوار۔ امہ پتہ اولن تمو ہن وونٹھ سو بہ نوو کھ ام المؤمنین بروٹھ کنہ تمہ سپزہ تھ پیٹھ سوار پردہ کر تھ۔ وونٹھ سنز رزٹ صفوان بن مَعطَل اتھس منز، تو پتہ ہیو بھکھ بروٹھ بروٹھ کن یوتان قافلہ نشہ وات۔ عبداللہ بن ابی اُس منافق خمیث، دشمن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوس تمن حج یہ کتھاہ اکھ اتھس منز۔ تم ہیوت وای تباہی وورن۔ بعضی سیدین ساڈن مسلمانن پیٹھ تہ سپد تمسہ وورنگ اثر۔ تمو تہ ہیوت امیک تذکرہ کزن مثلاً حضرت مسطح تہ حضرت حسان مرد و آندرہ، حضرت حمزہ زانوا آندرہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بہ سارنی مسلمان صحابہ صابن، بہیہ خود بذات جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سپد امیک سخت صدمہ۔ اگس ریتس تان رودیہ قصہ تھکے پاٹ، اکہ ریتہ پتہ سپد تم آیات کریمہ ام المؤمنینہ سدس براءتس اندر نازل۔ اے مسلمانو لَّا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ تہنہ یہ لہڑ واقعہ تہ زانو پتہ خیطرہ پیٹھ تہ ناکارہ بلکہ چھویہ تہندہ خیطرہ رت تہ بہتر باعتبار انجام تہندہ خیطرہ چھونہ تہ اندر کانہ ضرر البتہ امیک چرچہ کرہ وین چھو ضرور امیک ضرر لَئِذَا أُقْرِبُ مِنْكُمْ فَأَنفَسْتُمْ أَنَّهُ إِلَهٌ كَمَا أَنْفَسْتُمْ مِنَ النَّارِ ۚ اگس چھوتیوت گناہ یوت تم اتھ اپرس منز حصہ نیومت چھو۔ زیوہ سیت۔ یہ قصہ مشہور کرن والین زیادے گناہ۔ بوزن والین دلہ سیت بدگمانی کرن والین پتہ پتہ مقدارہ موجب پر تھ اگس امیک گناہ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ یہ تم شخص اتھ منز بوڈ حصہ ہیوت تہندہ خیطرہ چھو بوڈ عذاب سو گو منافقن ہند زبٹھ عبداللہ بن ابی۔ تم یہ اپز خبر پھیلاو تس اندر سخت کوشش کر، تہندہ خیطرہ چھو سزاع نار جہنم لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا

هَذَا فَكُ مَبِينٌ ﴿۱۲﴾ لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءٍ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا  
 بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿۱۳﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ  
 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ  
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا  
 لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾ وَ  
 لَوْلَا إِذْ سَبَعْتُمْوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحٰنَكَ

هَذَا فَكُ مَبِينٌ توہمہ یلہ یہ خبر بوزلیوہ ایمان مردوتہ ایمان زمانو کونہ نیو دو پانہ وان پنہ ختہ رت گمان ہیہ  
 کونہ دیو و تمویہ چھو صرتح تہ نون لہز لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءٍ ہیہ کونہ آئی تم ہانژہ لاگہ و ن  
 ژور گواہ ہیہہ ہس اثبات زناء خیطرہ شرط چھو فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكٰذِبُونَ ہس یلہ  
 نہ تم ژور گواہ ہیہہ آئی۔ لہذا چھہ تھے شریعتہ کہ قاعدہ موجب خد اہس نغیر اپز زیر وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
 وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ہیہ ہر گاہ نے خد لہ سہ فضل تہ رحمت  
 توہمہ پیٹھہ دنیاء س تہ آخرتس منز آسہا، ای حسان، ای مسطح ای حسنہ۔ توہمہ رطہ ہاضر و اتھہ کامہ منز  
 اژنہ خیطرہ اتھہ منز شمولیت کرنہ خیطرہ بوڈ عذاب إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا  
 لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ یلہہ ہنہہ اکھ اکس و نان آسوہ پنہ نیوز یووسیت، تی اوس ہنہہ یو چائٹو نیر ان تج  
 نہ توہمہ خبری آس وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ہیہہ آسوہ ہنہہ زمانان سہلی کتھاہ لو کٹوی معاملہ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ  
 حالانکہ سو چھو خد اہس نغیرہ سیٹھاہ بوڈ چزینے گناہ کبیرہ۔ کیا زہ پاک زانہ ہمت لاگن ہیہ چھو گناہ کبیرہ۔  
 و ن لاگن ہمت نبی کریمہ سزہ مخترم گرواجنہ ہیہ کوتاہ گناہ چھو۔ تمہ علاوہ سید ہیہ سبب اذیت نبی کریم  
 صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ہیہہ واریاہ چیز سپد گناہن ہند باعث وَلَوْلَا إِذْ سَبَعْتُمْوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ  
 بِهَذَا ہیہہ ساتہ توہمہ ہیہہ بوڑوہ گوئی تی ساتہ کونہ نیو دو توہمہ کہ آسہ پزہ نہ پڑھ تھے کرن سُبْحٰنَكَ هَذَا  
 هَيِّنًا عَظِيمٌ خدانداژہ چھوک منزہ تہ پاک۔ ہیہ واقعہ چھو بالکل لہز تہ سیٹھاہ بوڈ ہستان يَعْطَلُ الْاَلَّةُ

هَذَا بَهْتَانٌ عَظِيمٌ ۱۶ يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوذُوا بِالْمَثَلَةِ أَبَدًا إِنَّ  
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۱۷ وَيَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۱۸  
 إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۱۹  
 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رءُوفٌ رَحِيمٌ ۲۰  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ  
 الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اَنْ تَعُوذُوا بِالْمَثَلَةِ اَبَدًا اللہ تعالیٰ بھو توہم نصیحت کران یتھہ دُوبارہ یرھ کتھ آسو کران اِن کُنْتُمْ  
 مُؤْمِنِينَ چھوے تہہ با ایمان وَيَبَيِّنُ اللہ لَكُمْ اَلآیَاتِ وَاللہ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بیہ چھو اللہ تعالیٰ یرھ  
 ناو تھ توہم احکام بیان کران۔ بیہ چھو اللہ تعالیٰ سو رُوی بوزہ ون سیٹھا حمتہ وول۔ اِن الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ  
 اَنْ تَشِیْعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِیْنَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ ہر پاٹ تم لو کہ تم واضح آیات  
 نازل سپدنہ پتہ تہ خواہش چھہ تھواو ان کہ بیچہ تھ گڑھ پھیلنہ تہ شائع سپدنہ مسلمان اندر تہمدہ خپترہ چھو  
 دُنْیَا وس اندر تہ آخر تس آندر دوو تہ دگ تلہ ون عذاب وَاللہ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بیہ چھو اللہ تعالیٰ  
 سو رُوی زانہ ون، تہہ چھو نہ زانان وَلَوْلَا فَضْلُ اللہ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ بیہ نے خدایہ سُنْد فضل تہ  
 رحمت توہم پیٹھ آسما وَأَنَّ اللہ رءُوفٌ رَحِیْمٌ بیہ نے اللہ تعالیٰ مہربان تہ رحمتہ وول آسہما تہہ چھو ہونہ  
 تہمدہ عذابہ نشہرہ یَا أَيُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ یَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ای با ایمانہ چھو  
 شیطانہ سزہ و تہ قدم بقدم تس پتہ پتہ۔ کیا زہ نیس شیطانہ سزہ و تہ پتہ پتہ تس پتہ پتہ قدم بقدم فَإِنَّهُ یَأْمُرُ  
 بِالْفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ شیطان بھو پز پاٹ پر تہہ کانہہ بیچہ کاٹین تہ بے حیائی ہند امر کران سیمہ سیتہ شخص  
 تباہ ویر باد گڑھان بھو وَلَوْلَا فَضْلُ اللہ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا بیہ ہر گاہ نے خدایہ سُنْد

وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۱﴾ وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن  
يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَلِيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿۱۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۳﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ

فضل سے رحمت تو بہ پیچھے آسے ہا تو بہ اندر سپدہ ہانہ کا نہ اکھاہا زانہ تہ پاک تہ صاف گھونشہ **وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ** لیکن اللہ تعالیٰ چھو تو بگ توفیق دت پاک و صاف کران بس یرتھ تہ نس۔ اللہ تعالیٰ چھو سو زوی بوزہ ون سو زوی زانہ ون **وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** بیہ مہ ہاون قسم تو بہ اندرہ دینی فضیلتہ وال تہ دنیوی وسعتہ وال، تم کیا آسن نہ مال پنن دو ان آشناؤن تہ مسکین بیہ مہاجرن سمو خدا یہ سنزہ وتہ اندر ہجرت کر مژ آسہ امہ اندرہ چھو مراد حضرت ابو بکر صدیق تر غیب دین کہ تم بس امداد پنہ نس آشنا حضرت مسطح دوان چھہ سو تھاوان جاری۔ امہ قصورہ موکھہ مہ کرن سوبند۔ تمس کرن قصور معاف **وَلِيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا** تھند گڑھہ معاف کرن در گذر کرن تھند قصور **أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** کیاہ جہہ چھوہ نا پسند کران کہ اللہ تعالیٰ کیا کرہ تھندین گنھن مغفرت۔ تیلہ آسوتھہ تہ بنن ہند قصور معاف کران۔ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ تم کرہ ون **إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ** پزپاٹ تم لوک بدکاری ہنز ہانژہ لا گن پاک تہ بے خیر با ایمان زنان تمن بیہ لعنت کر نہ دنیاءس تہ آخرتس اندر **وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ** بیہ چھو تھندی خیطرہ بوڈ عذاب **يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** تھہ ہڈس عذابس گڑھہ گن رفتار تمہ دوہہ سیمہ دوہہ گواہی دن تمن خلاف زیوہ تہنزہ بیہ اتھہ تھندیہ کھور تھندی تم سارنی

أَلَسْتُمْ وَايْدِيَهُمْ وَأَجْلُهُمْ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمْ  
 اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٣﴾ الْخَبِيثَاتُ  
 لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ  
 لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٤﴾  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا  
 وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا  
 فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا

کائین ہنزیں تم لو کہ کران آس یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وبعلمون ان اللہ هو الحق البین تمی  
 دوہہ ہیر تم اللہ تعالیٰ واجبی بدلہ۔ ہیر زان تم تمی دوہہ کہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو پوز فیصلہ کرہ ون پوز  
 پزراہ ون پریتھ تھ ہنز حقیقت نراوہ ون الخبیثات الخبیثین والخبیثون الخبیثات والطیبات للطیبین  
 والطیبون للطیبات ناپاک زنانہ چھہ ناپاک مردن ہندہ خیطرہ، ناپاک مرد چھہ ناپاک زنانہ ہندہ خیطرہ  
 پاک زنانہ چھہ پاک مردن ہندہ خیطرہ پاک مرد چھہ پاک زنانہ ہندہ خیطرہ اولئک مبررون  
 متایقولون تم پاک مردتہ پاک زنانہ چھہ بالکل بری تموتھوتہ ہانز ونسیرہ سمہ تھ لوک ونان لہم  
 مغفرۃ وریزق کریم تہندہ خیطرہ چھو یومغفرت ہیر عزتک رزق۔ یا ایہا الذین امنوا لاتدخلوا بیوتنا  
 غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلہا اکی باایمانوہ آسوا ازان عنہ گرس منز پنہ نیو گزورای  
 یوتان نہ گوہ اجازت آسویوان ہیر یوتان نہ سلام آسویوان گروالین پیٹھ ذلکم خیر لکم لعلکم  
 تذکرون ہیر چھو تہندہ حقہ سیٹھا رت ہیر تہہ زیتس تھاووہ فان لکم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها ہر  
 گاہے تہہ گران اندر کانہہ شخصہہ لیون توتہ مہ آسوتہہ تم گران منز ازان حتی یؤذن لکم یوتان نہ  
 توبہ اجازت آسہ یوان ونہ وان قیل لکم ارجعوا فالرجعوا هو اکی لکم ہیر ہر گاہ توبہ ونہ آسہ یوان

فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۳۸﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
 أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ  
 وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا  
 فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿۴۰﴾ وَقُلْ  
 لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ  
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا

وکنس چھونہ موقعہ ملا تا تک وانہں گدھو تیلہ گدھہ وانہں گدھن تی چھو تہندہ خیطرہ زیادہ صفائی ہند  
 باعث وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھوتہ سوزوی زانان یہ تہہ کران چھوہ۔ اگر خلاف حکم کانہہ  
 کاماہ کردتہ پیٹھ کھو سزا لیسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ توہہ چھونہ  
 کانہہ گناہ ہر گاہ تہہ اژدھن گزن اندر تہن منز نہ لو کہ عیال ہیتہ ہسان آسن تہن منز آسہ تہند کانہہ  
 سامانہ۔ سوگو مسجد، مدرسہ، سرائی، ہوٹل ہیو اتھین مکان اندر بلا اجازت اٹنس چھونہ کانہہ خرچ  
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللہ تعالیٰ چھو زانان یہ سوزوی یہ تہہ نر اوان چھوہ ہیہ نہ کھتہ تھادان  
 چھوہ پریتھ حاکس منز گدھہ کھو ژن خدا لیسَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  
 ذَلِكَ أَزْكى لَهُمْ فرماووتہہ یارسول اللہ بالیمان مردن تم وکن آہجہ پندہ، وودہ زانن کن نظر دینہ نشہ ہیہ  
 کرن راہجہ سترہ چن جاین پندہ نین وودہ زانن غیر منکوحن سیت یا لو کٹین سیت بدکاری کرنہ نشہ۔ نی  
 چھو زیادہ مفید تہندہ خیطرہ لِقَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ہمزپاٹ اللہ تعالیٰ اس چھہ خبر تمہہ سارچی یہ تم  
 کران چھہ۔ سو دیوہ یڑھن پیٹھ کما نین پیٹھ سزا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  
 ہیہ فرماووبا ایمان زانن کہ تمہہ تہ وکن آہجہ پندہ وودہ مردن کن نظر دینہ نشہ ہیہ گزن راہجہ پندہ نین سترہ  
 چن جاین بدکاری نشہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ہیہ نہ نراون تمہہ پندہ زینتہ چہ جاییہ مگرے تے  
 جاییہ سو اندرہ ہیر کن آسن، مجبوری آسہ تمہہ جاییہ نراونہ سوگو بٹھ اتھہ زہ ۲ تہ کھورزہ ۱ وَلْيَضْرِبْنَ

يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا بَعُولَتَهُنَّ أَوْ آبَاهُنَّ أَوْ آبَاءَ بَعُولَتِهِنَّ أَوْ  
 أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بَعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ  
 بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَمْلُوكَاتٍ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ  
 أَوْلِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى  
 عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ  
 زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۱﴾

بَعُولَتَهُنَّ عَلَى جِيْبِيَّتِهِنَّ بے کزن تمہ کلہ تہ سینہ پوشیدہ تھاوچ سیٹھاہ کوشش۔ تھہ سلیکس منزہو لازم  
 تمن کہہ پوژتہ سرژاور تراون تمہ پنہ تمن نالن تہ گریبان پیٹھہ یہہ سیت ہٹس تہ سینس آسہ ستر سپدان  
 وَا بِيْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا بَعُوْلَتَهُنَّ بے مہ نر اون گچھہ جاپہ پنہہ مگر پنہہ نین خاندان نشہ اَوِ اَبَائِهِنَّ یا پنہ  
 نین مالین نشہ اَوِ اَبَائِهِنَّ یا خاندان ہندین مالین نشہ یعنی ہسہرن نشہ اَوِ اَبَائِهِنَّ یا پنہ نین  
 پچوین نشہ اَوِ اَبْنَاءَ بَعُوْلَتِهِنَّ یا خاندان ہندین پچوین یعنی وورہ پچوین نشہ اَوِ اَخْوَانِهِنَّ یا پنہ نین باین نشہ  
 اَوِ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ یا باپہ تھرن نشہ اَوِ بَنِي اَخْوَاتِهِنَّ یا بیٹھرن نشہ اَوِ نِسَائِهِنَّ یا پنہ نین  
 زنان نشہ یعنی ہمہ مسلمان زنانہ یوان گوہان آسن بشر طیکہ بد چلن آسن نہ۔ کافر تہ غیر مسلم زنانہ گچھہ  
 ووپر مردس برابر۔ تمن نشہ تہ گوہہ ستر کزن۔ تھہ پاٹ دوپر مردس نشہ ستر کزنہ یوان ہجو اَوِ مَمْلُوكَاتٍ  
 اَيْمَانُهُنَّ یا پنہ نین کینرن نشہ اَوِ التَّبِيعِيْنَ غَيْرِ اَوْلِي الْاَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ تمن خدمت کڈارن نشہ تمن  
 نہ حاجت آسہ زنانہ ہند، مردو آندرہ، تمن آسن نہ حواس بجاتی آسکھہ نہ زنانہ کن رغبت تہ توجہ  
 اَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ یا تمن لوکٹین نشہ تمن نہ وندہ واقف آسن سپدمت زنانہ  
 ہندین پوشیدہ معاملاتن پیٹھہ، یعنی نابالغ لوکٹ بین سارنی نشہ ہجو جائز ہتھہ تہ اتھہ کھور نر اون  
 خاوندس نش گوہہ نہ بدنگ کا نہہ حصہ پوشیدہ تھاون اگرچہ خاص جای وچھن چھہ خلاف ادب وَا  
 يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِيَْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ بے گوہہ زنانہ ہند پر ڈک بوت خیال تھاون کہ پکان



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۳﴾  
وَلَيْسَتَّعِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْجِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ  
فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ  
إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا  
تَكْرَهُوا قِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنَّ أَرْدَنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ

پکان گمہ سن نہ کھور زورہ تراون پٹھ تمہہ زیورچ آواز و پر مردن ہندین کن گٹھہ نس زیور تمہہ پو شیدہ  
تھاوان چھہ یعنی پانزیب وَتُؤْتُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اِيَّاهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بیہ کرو توبہ تہہ ساری اللہ  
تعالیٰ اس گن ای با ایمانو تو ہے کینہہ کوتاہی آسہ گمہ احکامن اندر پٹھ تہہ کامیاب سپدور نہ مھسیت چھہ  
مانع کامیابی سپدان وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ بیہ کرو پٹھ تہہ تم توبہ اندرہ پٹھہ و رالی تہہ بے نکاح آسن۔  
ادہ تم مرد آستن یازنانہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ بیہ تم نکاح کرئس قابل آسن تہہند یو غلامو  
آندرہ بیہ کینز و آندرہ۔ بیہ گٹھہ یاد تھاوان کہ پنہ نس عزیز یا پنہ نس عزیزہ سندس خاوندہ سند فقیر آسن  
گٹھہ نہ مانع سپدان تمن ہندہ نکاحہ نشہ کیاہہ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ہر گے تم فقیر تہہ  
محتاج آسن اللہ تعالیٰ کرہ تمن پنہ فضلہ سیت مالدار نکاح کرنے پتہ یلہ تمن اندر روزی کماؤچ قابلیت  
آسہ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ پٹھو وسعت و ول۔ سوئس پٹھہ تس کرہ رزقس اندر وسعت۔ سو پٹھو  
سو روی زانوں سارنی ہند حال پٹھو تس معلوم وَلَيْسَتَّعِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْجِبَهُمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ بیہ روزن پاکدامن تم کو کہ تم نہ پٹھہ ہیکان چھہ تنگدستی ہندہ سببہ یوتان اللہ تعالیٰ مالدار  
کرہ تمن پنہ فضلہ سیت وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا بیہ  
تم خواہش مند آسن مالس بدل آزاد سپد تک، تہہند یو غلامو یا کینز و آندرہ تم بنا یو کہ کتاب تب ہر گاہ توبہ تمن  
منزگنہ خوبی و بہتری ہند آثار و علامت لبندین وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ بیہ آسو تمن امداد

الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا لِمَنْ الدِّينَ خَلَا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۴﴾ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ

کران، خدایہ سہ سہ تمہ مالہ منزہ کینہہ دوان نِس مال توہیہ تمی عطا کورمت چھو ولا تکرہوا تیتیکم علی البغاء  
 ان اردن تحسن التبعوا عرض الصیلة الدنيا بیه مہ کر یو کہ مجبور ہینہ کینہہ بدکاری پیٹھ ہر گاہ تمہہ یڑھن  
 تمہہ نشہ چن تہ پاک و پاکیزہ روزن کیا ہتہ چھو ہیہ پیچھ کام کرہ ناوت ژھانڈان دنیا چہ نا پائیدار زندگی  
 ہند سامانہ **وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ** بیه نِس تمن یہ پیچھ کوم کرہ نِس  
 پیٹھ مجبور کرہ، اللہ تعالیٰ کرہ تمن مجبور کر نہ پتہ مغفرت تہ رحم۔ مجبور کرہ و نِس کرہ سخت عذاب نِس گرفتار  
**وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا لِمَنْ الدِّينَ خَلَا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ** ہمز پات بیه  
 کمر اسہ نازل ٹہندہ ہدایتہ خیطرہ پیٹھ سورہ شریف منزر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہ ذریعہ توہیہ  
 گن ای مٹلماؤن آیات تہ احکام، بیه کینہہ مثالہ، مختصر حالات تمن لو کن ہند تم توہیہ بروٹھ گذر سمست  
 چھہ۔ بیه بد نصیحت کھوژوہو نین تہ پرہیز گارن ہندہ خیطرہ **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ** اللہ تعالیٰ ای  
 چھو نور ہدایت عطا کرہ و ن تمن سم آسمان منزر روزہ و ن چھہ بیه ہم زمین منزر روزون چھہ۔ یعنی  
 آسمان وزمین منزر ہمین ہدایت سپد تمن سارنی کور ہدایت اللہ تعالیٰ نی۔ آسمان وزمین منزر چھو مراد  
 سوزی عالم۔ نِس سم مخلوقات آسمان وزمینہ نشہ نیر چھہ مثلاً حاملان عرش وغیرہ تم ساری سپد اتھ منزر  
 شامل۔ **مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ** تہندہ نور ہدایت عیب حالت چھہ تڑھی کہ ٹہہ زانتو اکھہ طاقتہ  
 ہناہ تھہ پیٹھ چھو اکھ ژونگاہ **المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ** سوی ژونگ چھو اتھہ طاقتس پیٹھ اکس شیشوسی  
 قدیس منزر **الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ** یہ شیشو قدیل چھو ٹیٹھ صاف زن سوتارہ چھو زوتان

مُبْرَكَةٌ زَيْتُونَةٌ لِأَشْرَقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ لِيَكَادِزِيتهَا يَضِيءُ وَلَوْ  
 لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يُهْدِي اللَّهُ لِلنُّورِ مَنْ يَشَاءُ لَمْ يَضِرْبِ  
 اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۶﴾ فِي بَيِّنَاتٍ لَأَذِنَ  
 اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿۱۷﴾

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٌ لِأَشْرَقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ سُوْرُونِگ چھوڑالہ یوان الہ مفید تہ با برکت  
 کلہ کہ تیلہ سیت سُو کل گودرخت زیتون بس نہ مشرق فس کُن چھوڑہ مغربس کُن بلکہ چھوڑہ جلیہ ییتہ  
 کس تھہ پٹھہ دوی دوہس تاپ چھوڑواتان۔ تھہ درخت زیتونگ تیل چھوڑ آسان زیادہ لطیف تہ صاف  
 یِکَادِزِيتهَا يَضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ تمیک تیل چھوڑواتان تہ نہ نہ کران اگرچہ تھہ متہ ایتن نارہ  
 سیتِ ژکھ دنہ۔ ادہ یلہ تھہ نارہ سیتِ ژکھ تہ ایہ دنہ تیلہ سپدہ تمیک گاش دوگن سُو سپدہ نُورٌ عَلَى نُورٍ  
 اکس نورس پٹھہ بیاکھ نور۔ اکھ اوس یہ تیل بذات خود روشن بہ یلہ نارہ سیتِ آس ژکھ دنہ اچ روشن  
 گنیہ تیز مثال گنیہ ختم۔ تھہ پانھہ یلہ اللہ تعالیٰ چھوڑا ایمانہ سندس دس اندر ہدایتک نورواتوان تمس چھوڑ  
 دوہہ خونہ دوہہ قبول حقہ خیطرہ دل موزنہ یوان۔ پر تھہ وقتہ چھوڑ احکام الہی بجاننہ خیطرہ تیار روزان۔  
 نور علم حاصل سپدہ پتہ چھوڑ اس نور عمک تہ حاصل سپدان۔ تہ زہ نور یلہ جمع سپد تھہ پٹھہ آو صادق نور  
 علی نور یهدی اللہ لِلنُّورِ مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ چھوڑ پتہ بس نور ہدایتس کُن تھہ ہاوان کس یرٹھان چھوڑ  
 کس۔ یہ چھہ بڈمنت ہدایت لہ وینن پٹھہ اللہ تعالیٰ سپدہ طرفہ۔ تہندی توفیقہ سیت بنیو تہن ہدایت  
 وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ تھہ پانھہ ہدایتیہ مثال اللہ تعالیٰ ان بیان فرماتھہ پانھہ چھوڑ اللہ تعالیٰ لوکن  
 ہمدہ ہدایتہ خیطرہ مثالہ بیان کران تھہ لوکن پورہ فجر ترہ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھوڑ پتھہ چیزہ  
 پور زانہ ون۔ فِي بَيِّنَاتٍ لَأَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ تہن اللہ تعالیٰ ہدایتک نور عطا کران چھہ تم  
 چھہ تہمز عبادت کران۔ تہن گرن اندر تہن گرن ہند بلند کر تک اندر تہمدہ نام پانھہ یاد کر تک اللہ تعالیٰ  
 ان فر موومت چھوڑ، تم گرہ گئے مسجدہ۔ تہن گرن ہند پزہ سیٹھہ تعظیم واحترام کرن۔ توت گرہ نہ اٹن

رَجَالٌ لَا تُلْهِهُمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿۳۷﴾  
 لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ  
 مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ

بے غسلن تہ حیصہ واجہ نین زنائن ہند۔ توت گڑھ نہ واتاؤن کانہ ناپاک چیز۔ تہ گڑھ نہ لاگن عنہ  
 قسمگ شور تہ کر یکہ ناد۔ تہ گڑھن نہ کرنہ دنیوی تھہ **يَسْتَعْرِضُونَ فِيهَا الْغَدَاةَ وَالْأَصْلَ** پپاکی جھہ پانژن  
 وقن یاد کران تین گرن اندر نماز پر نہ سیت، صمک تہ شامس صمک جیہ صمخ نماز آصا کس اندر آی باقی  
 ژور وقت۔ پشٹن، دگر، شام تہ ہفتن کیا زہ اصل تہ آصال جھہ ونان دو پیرہہ آفتاب ڈلنہ پتہ ساری  
 رائس تان **رَجَالٌ لَا تُلْهِهُمُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ** تہ مرد تین نہ آور  
 جھو کران خدایہ سبہ یادہ نشہ، نماز قائم تھوانہ نشہ، زکوٰۃ ادا کرنہ نشہ، کانہ کار و بارانہ نہ کانہ تجارتانہ۔  
 امہ اندرہ جھو معلوم سپدان کہ مردن ہنز گڑھہ مسجدن اندر نماز پرین۔ زنان ہنز گڑھہ نماز پرین گرنی  
 اندر۔ حدیث شریفس اندر جھو امت زنان ہنزہ گری نماز پرئس واریاہ فضیلت تہمدہ خیطرہ جھہ گرے  
 مسجدہ **يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ** ہم لوک جھہ کھو ژان حمہ ڈہہ کس رنہ نس تہ  
 گڈئس سمہ دوہہ تلک پیٹھ سپدہ بعضی لوکن ہندین دن تہ اہتن دہشت و خوفہ سیت۔ **لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ**  
**أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ** انجام تین لوکن ہند آسہ کہ اللہ تعالیٰ دیہ تین رت بدلہ تہمز ن  
 رژن عملن ہند۔ سمہ عملہ تمو کر عوہ آسن۔ بیہ ہرہ راوکیہ مزور پندہ فضلہ سیت۔ **وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ**  
**بِعَيْرِ حِسَابٍ** اللہ تعالیٰ جھو عطا کران ئس یژھان جھو ئس حسابہ روستوی۔ یوتان آو بیان کرنہ  
 ہدایتک تہ اہل ہدایتن ہند حال۔ امہ پتہ جھو اللہ تعالیٰ فرماوان اہل ضلالتن ہند حال تہ مثال۔ اہل ضلالت  
 یعنی کافرن جھہ زہ قسم اکھ گے تم تین قیاق پڑھ جھہ۔ تین جھو جزاء و سزاءک تہ خیال یہ مثال جھہ  
 تہزنی **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يُحْسِبُهُ الظَّالِمُ مَاءً** یہ تم کافر جھہ تہمز ن عملن ہنز

بِقِيَعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّانُّ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ سَيْبًا وَ  
 وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابًا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝<sup>۳۱</sup>  
 كَظَلَمْتُ فِي بَحْرِ لَيْحِي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ  
 سَابٌ ظَلَمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ  
 يَرَهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ۝<sup>۳۲</sup> أَلَمْ تَرَ أَنَّ  
 اللَّهُ يَسْبِغُ لَهُ مَنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَاتٍ كُلِّ قَدَدٍ

مثال چھ تمہے سے ہنر مثال ہو سہ آگس میدا نس منز آسہ نس تا پہ سمیت زوتان و چو آسان، تریشہ ہوت  
 چو دورہ و چھت تھہ سیکہ آب خیال کران تو پتہ و چو تھہ کن دوران حتیٰ اذ آجاءہ لہم یجدہ سبباً  
 تا اینکه یلہ سو تھہ خیالی آس پیٹہ واتان و چو، سو چو نہ آس لبان کبھی آس و چو جسائی و روحانی صدمہ  
 واتان تہہ چھوات تھی تریشہ تریشہ کران مران و وجد اللہ عندہ بلکہ چھویہ لبان خدلیہ سندس  
 حکمس تھہ جاپہ یعنی مر بکس حکمس۔ فوقہ حسابہ واللہ سریع الحساب نس چو اللہ تعالیٰ اسنہ عمرہ  
 ہند حساب پورہ کران یعنی یہ چھو ختم ہد ان اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب موکلاہون او کظلمت فی بحر لیحی  
 یغشاه موج من فوقہ موج من فوقہ سباب ظلمت بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ دو سہہ قسمہ کین کافر ان ہنز  
 مثال چھہ تمہ انہ کنن ہنز سہہ سنن سمندر ان منز آسن۔ یمن پیٹہ ولنہ پیہ اکہ موج تھہ پیٹہ آسہ بیاکھ  
 موج تمہہ پیٹھکن آسہ ابر تہ۔ امی آسن جمع گمہہ واریاہ انہ گہ اکہ آگس پیٹہ اذ آخو ریدہ لہم یجدہ سبباً  
 ہر گاہ اتھہ حاکس منز مخفص تمہ انہ کنن منز سمندرہ کس زکس تل پن اتھہ نپہر کڈہ سوی ہنہہ و چھن سو  
 بیسہ نہ تھہ پنہ نس اتھس تہ و چھت تہہ آسہ انہ گہ و من لہم یجعل اللہ لہ نوراً فمآلہ من نورہ بیہ سمس  
 نہ اللہ تعالیٰ پن نور ہدایت عطا کرہ کس بیسہ نہ بنت کینہہ تہ نور تروشنی ا لہم تر ان اللہ یسبغ لہ من  
 فی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَاتٍ کیاہ ژہہ و چھت نا، ژہہ سپدی نامعلوم امی انسانہ کہ بیشک اللہ تعالیٰ اس  
 چھہ پیاکی یاد کران تم ساری مخلوق تم آسانن تہ زمین منز چھہ پیہ و ڈہون جانور تم پنہہ چھہ موراو تھہ

عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۴۱﴾ وَبَلَّوْا مُلْكَ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۴۲﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزَيِّجُ سَحَابًا مُمًّا  
 يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ  
 مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ  
 يَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿۴۳﴾

چھہ وڈان تہ پتھر ان۔ یہ چھہ وجود صاف نسیں پیٹھ عجیب دلیلاہ۔ کیا زہ تہن جانورن ہندین جسمن ہندہ  
 ٹھلکہ کہ باوجود چھہ تم ہو اوس پیٹھ معلق روزت اورہ یور پتھر ان کُنْ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ پر چھہ  
 اکس تمو جانور و آندرہ چھہ پن نماز تہ دُعا۔ پن پن تسبیح تہ وظیفہ، الہام خدائی سیت معلوم۔ باوجود آل  
 چھہ کیہنہ لوک خدایہ سیدس توحیدس انکار کران وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَفْعَلُونَ اللہ تعالیٰ چھو پورہ زانان تم  
 ساری چیز تم تم کران چھہ۔ سو دیہ تم تہن تہن انکار و اعتراض پیٹھ پور سزا وَبَلَّوْا مُلْكَ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اللہ تعالیٰ سزوی چھہ پادشہت تہ حکومت آسمان تہ زمین منز۔ از تہ بیہ  
 برو تھ تہ سارنی چھو پتولا کہ و ائن کس نسیہ۔ سو دیہ سارنی پنہ نین کامین ہنز مزور أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزَيِّجُ  
 سَحَابًا مُمًّا يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ کیا زہ چھہ ناخبر کہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو پکہ  
 ناوان ابرس توپتہ چھو ملناوان تہن تھہ اکھ اکس سیت۔ وار تہن ژر ٹین چھو کنوی کران توپتہ چھو تھہ اکھ  
 اگس پیٹھ تھوان۔ اتی چھو کہ زہ وچھان رُودنیر ان تمہ آندرہ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ بیہ  
 چھو اللہ تعالیٰ والان ابرہ منزہ تمہ کیو تمو بڈیو حصو منزہ ہم کوہ ہی چھہ ڈو تھہ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ  
 وَ يَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ توپتہ چھو سو ڈو تھہ تراوان کانہہ ہندس رُوس پیٹھ یازر اگس پیٹھ یا باغس پیٹھ  
 کس سو پشھان چھو۔ کانہہ چھو پچر اووان تمہ ڈو تھہ نسیہ۔ کس شخصہ سُنْدُ رُو، زراعت تہ بارغ چھو محفوظ  
 روزان۔ ایتہ لیسند سو پشھان چھو یکاڈ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ تمہ ابرہ منزہ چھہ نیر ان توھی و زملہ  
 کہ قریب چھو سپدان تم و زملن ہند گاش مانیہ اچھن ہندس گاش۔ کیاہ قدر تہ و ولہ چھو آہہ منزہ چھو

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۳۳﴾  
 وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّا فِينَهُمْ مِّن مَّيْمَنٍ عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ  
 مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا  
 يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۴﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَ  
 اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۵﴾ وَيَقُولُونَ امْتَنَّا  
 بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْقًا مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ  
 ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۶﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

تارہ و زملہ کڈان۔ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللہ تعالیٰ ای چھو پھر ان سے بدلاوان دوہس سے راس لائن فی  
 ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ بیشک تمہارا کس کس نہیں گنہمیں اندر چھہ عبرت سے قدرت سے چہ مجھ دلیلہ عقلہ  
 والین ہمدہ خیرہ واللہ خلق کل دابۃ من مائے بیہ چھو اللہ تعالیٰ ان پیدہ کورمت پر ہتھ حرکت کرہ و ناہ  
 آہہ نیشہ فینہم من کیشی علی بطنہ ہمدہ اندرہ چھہ بعضی ہم پکان چھہ پندہ ید سیت وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي  
 عَلَى رِجْلَيْنِ بیہ چھہ ہمدہ اندرہ بعضی ہم پکان چھہ دویدہ کوروسیت وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ بیہ چھہ  
 ہمدہ اندرہ بعضی ہم پکان چھہ ژور و کوروسیت يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللہ تعالیٰ چھو پیدہ کران یہ یرشہان چھو  
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہمزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ چیزہ پیدہ کرئس پیٹھ قدرت سے دول لَقَدْ أَنْزَلْنَا  
 آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ہمزپاٹ اسہ کرنازل ہم آیات ہم سوروی  
 نترہ و ان چھہ مگر اللہ تعالیٰ یعنی یرشہان چھو تمنی چھو و تھ ہاوان راہ راستس کن وَيَقُولُونَ امْتَنَّا بِاللَّهِ  
 وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا بیہ چھہ و نان منافق کو کہ اسہ کر پڑہ خدا یس بیہ پیغمبر خدا یس۔ بیہ مون اسہ ہمدہ ہم  
 دلہ سیت ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْقًا مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ مگر تو پتہ چھہ ہمدہ اندرہ اکھ جماعتہا ہتھ پھر ان  
 روگردانی کران خداور سولہ سیدس خمس وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ چھہ ہم کو کہ باایمان وَإِذَا دُعُوا إِلَى

لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِقُوا مِنْهُمْ مَعْرُضُونَ ﴿۳۸﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿۳۹﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ أَيْلُوكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۴۰﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۴۱﴾ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۴۲﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلُوبًا

اللہ ورسولہ لیکھم بینہم اذا فریقوا منہم معروضون بیہیلہ تمن نادھو یوان دنہ خدائیس تہ تہندس پیغمبرس کن بیجھ تم فیصلہ کرن تمن منز۔ الی جھہ اکھ جماعتھہا تمو اندرہ نجھ پھر ان تہندہ جھہ نغیرہ وان یکن لہم الحق یاتوا الیہ مذعنین توپتہ ہر گاہ فیصلہ تہندہ حقہ آسہا تیلہ بہن نبی کریم صلی اللہ علی وسلم نغیرہ کارنور اوت آفی قلوبہم مرض امارتابوا میں ماچھ وکن منز کانہہ بیمار یاہ۔ کنہ تم جھہ شجھہ کر ان امر یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ کنہ کھوژان جھہ کہ خدا تہ تہند پیغمبر ماکرہ بے انصافی۔ تم کیا زہ کرہ ہن بے انصافی بل اولیک ہم الظالمون بلکہ جھہ تے منافقے، سخت ظالم تہ بے انصاف إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا با ایمان ہند قول جھونہ سہ سہ سہ سہ سہ تمن خدائیس تہ تہندس پیغمبرس کن تمن منز فیصلہ کرنہ خیطرہ نادھو یوان دنہ گمراہ زہ تم جھہ ونان بخوشی بوزاسہ حکم تہوند مون اسہ فیصلہ تہند اولیک ہم الظالمون تے جھہ کامیاب تہ رستگار سپدہ ون۔ اسہ نغیرہ جھو قاعدہ گلیہ کہہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ بیہ لیس حکم مانہ خدا لہ سہ بیہ تہندس پیغمبرہ سہ، بیہ کھوژہ خدائیس بیہ چہ تہندہ مخالف تہ نغیرہ، لیس تے لوک جھہ مطلبس تہ مرادس وا تہ ون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ بیہ



تُقْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾  
 قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ  
 مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى  
 الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۵۴﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ  
 عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ

چھہ منافق زور دار قسم ہاوت خدایہ سند، ونان کہ ہر گاہ تہہ اسمہ کرم کروگرہ بارہ منزہ نیرنگ، ضرور  
 کرواں تہہ حکم تقیل گرہ بار تراوتہ تیر و قُلْ لَا تُقْسِمُوا تہہ فرماویو کہ ای منافقو قسم نہ ہاوو  
 طَاعَةَ مَعْرُوفَةً اسمہ چھہ تہزہ فرمانبرداری ہنز حقیقت معلومی إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ پز  
 پاٹ اللہ تعالیٰ چھو پور زانان تہ سو روی تہ چہہ کران چھوہ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا  
 فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ تہہ فرماویو کہ یارسول اللہ تھو سیت و سہ نہ تکھ کینہ تہ۔  
 فرمانبرداری کرو خدایہ سزہ بہ کرو فرمانبرداری پیغمبر خدایہ سزہ۔ کس ہر گاہ تمہو منافقو روگردانی کر، کس  
 چھوہ پیغمبر س تمیک کا نہ ضرر، کیا زہ تم چھوہ تمہ تلہ کزن سمیک بار تم پٹھ کھار نہ آمت چھوہ۔  
 توہہ چھوہ تقیل احکام تہ طاعت کزن سمیک بار توہہ پٹھ کھار نہ آمت چھوہ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا  
 ون اگر چہہ کس پیغمبر برحقہ سزہ فرمانبرداری کرو۔ تلہ پو تہہ ہدایت و۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ  
 الْمُبِينُ بیہ چھوہ پیغمبر س پٹھ مگر خدایہ سند حکم صاف صاف تہ تراوت لوکن وائت ناون وَعَدَّ اللَّهُ  
 الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ای ساروی  
 آیتہ، توہہ آندہ ہم ایمان اُن تہ رتہ کامہ کزن، ہدایت پور پیروی کزن، تم چھوہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماوان  
 کہ امہ اتباع کہہ برکتہ کرہ سو تم ز مینس اندر حکومت تہ سلطنت عطا۔ تہہ پاٹھ تم بر و تہ اہل ہدایت  
 لوکن عطا کر مش آس وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ بیہ حکومت و سلطنت دنہ آندہ چھوہ مقصود

مَنْ أَعْبَدَ خَوْفَهُمْ أَمَّا يُعْبُدُونَنِي لِأَشِيرُ كُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ  
 كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵۵﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ  
 آتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۶﴾ لَا تَحْسَبَنَّ  
 الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا أُولَئِكَ بِبَشَرٍ  
 مَبْصُورٍ ﴿۵۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ

کہ نئس دین اللہ تعالیٰ ان جہدہ خیرہ ہند کورتہ دیہ قوت تہندہ آخریکہ نفعہ خیرہ تہندہ توبہ بیٹھ کاسل  
 رحم کرنہ بیہ۔ وَلَیْبَدَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا بیہ بدلاوہ ضرور تہندہ خوف تہ بدامنئ امن وامن  
 سیت۔ یَعْبُدُونَنِي لِأَشِيرُ كُونَ بِي شَيْئًا بشر طیکہ ایمانہ سان کرن میان عبادت شریک ٹھہراونم نہ  
 کانہ چیزا ہئئہ چیزس اندر۔ یعنی نہ کرن شرک جلی نہ کرن شرک خفی یعنی ریاء وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وون نئس اکھاہ سمو وعدو تہ احسانا توبہ تہ ٹھہراون نعت گہہ ٹکے لوک جہہ فاسق  
 تہ نافرمان۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ای مسلمانو توبہ بیلم معلوم سپد  
 ایمان و عمل صالح کیا نتیجہ چھو، لہذا لہزہ توبہ پابندی سان نماز پرن، ماچ کوز کواہ او اکرن بیہ باقی احکامن  
 اندر تہ کھم مان پیغمبر برحقہ سئد تہندہ توبہ بیٹھ رحم بیہ کرنہ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي  
 الْأَرْضِ وَمَا أُولَئِكَ بِبَشَرٍ مَبْصُورٍ ای مخاطب تہہ مہہ گر خیال کہ کافر کیا ممکن اہہ عاجز کریتھ تہ  
 ہارہ ناوت زمینس منزعمہ طرفس گن ثرت تہ سانہ قرہ نغیرہ کیا ممکن تم پحت، بلکہ ہارن گے۔ بیہ سپدن  
 تم مغلوب تہ مقہور آخرئس اندر چھہ تہنز جای نار جنم۔ سو چھہ سیٹھاہ چھہ جای یوت تم واتن۔  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ای  
 باایمانو توبہ نشہ بیہ خیرہ آسن اجازت ہیوان تہندہ نوکر تہ غلام بیہ سم نہ بالغ آسن ونہ سپدمت تہندہ یو  
 لوکیوا اندرہ ترین وقتن مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَفِيهَا مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ

قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ  
 وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طُوفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى  
 بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۸﴾  
 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا  
 اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
 آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۹﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي

العشاء اگھ صبح نمازہ بروٹھ، بیہ ڈیہرس یلہ تہہ گرمہ سبہہ پلو آسو کڈان بیہ خشن نمازہ پتہ ثلث  
 عورت لکھ سم جھہ ترہ وقت تہہ پرڈہ کرنک وقت تمکن وقتن جھوہ تہہ آرام واستراحت کران۔ تمکن  
 وقتن جھوہ تہہ بے تکلفی ہندس حالتس منز روزان لہذا گروہن ہن غلام تہہ نابلق لوکت وارہ بوزہ ناول کہ اطلاع  
 دنہ وراہ تہہ اجازت ہینہ وراہ گروہن تہہ نہ لہ آٹرن۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن سمو  
 تریو و تو پتہ جھو نہ نہ توہہ نہ نہ حرج نہ جھو تمکن کانہہ حرج بلا اجازت توہہ نیش اندر طوفون  
 علیکم بعضکم علی بعض تم جھہ گرہ گرہ توہہ نش اوہ ون گروہن ون۔ توہہ اندرہ تہہ جھہ اڈاؤین  
 نیش اوہ ون گروہن ون کذالک یبیین اللہ لکم الایات واللہ علیہم حکیم تہہ پاتھ جھو اللہ تعالیٰ ویشہ  
 ناوہہ توہہ بیان کران احکام۔ کیاہہ اللہ تعالیٰ جھو بندن ہنزہ سارے کامہ زان ون، سیٹھاہ حمہ وول  
 وَاِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بِیہ یلہ  
 جہہ لوکت بالغ آسن سڈان لعل آسن تم تہہ زنانن نیشہ اژنہ خیطرہ اجازت حاصل کران تہہ پات تمکن ہند  
 زٹھ بالغ مرد اجازت ہوان جھہ کذالک یبیین اللہ لکم الایات واللہ علیہم حکیم تہہ پات جھو اللہ

لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ  
 شِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ  
 خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى  
 حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ  
 وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ  
 بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ  
 أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ

تعالیٰ و پشہ ناولت پنن آیات بیان کران توہمہ ای مسلمانو! اللہ تعالیٰ چھو سوزوی زانہ ون سبھاہ حمہ  
 دول۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ شِيَابَهُنَّ  
 غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ بیہ مجہ زانہ یکن نہ نیتھرج تہ پرنج برانتھاہ کینہہ آہ۔ تمن چھونہ کانہہ حرج ہر گاہ  
 تمہہ سترک پلو مثلاً برقعہ وغیرہ تلت پکان آسن مگر شرط چھو کہ نر او وہہ آسن نہ تمہہ پنن کانہہ گنہہ وَأَنْ  
 يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بیہ ہر گاہ تمہہ نشہہ نہ پتھی روزن، تی چھو تہنہہ خپرہ زیادہ  
 بہتر۔ اللہ تعالیٰ چھو سوزوی بوزہ ون، سوزوی زانہ ون لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ  
 حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ چھونہ آسن کانہہ حرج بیہ نہ لگس کانہہ حرج بیہ نہ پیاس کانہہ حرج کہ  
 تم کیہا کھن غذا کا شدران سبت، ارین انسان سبت، تندر ستن سبت وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا  
 مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ بیہ چھونہ توہمہ پاس تہ کانہہ حرج ہر گاہ تہہ کھیہ ہنیو گرو منز پینہ نن  
 مالن ہندن گرن منز أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ  
 أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَائِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مُقَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ

أَوْ بِيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بِيُوتِ خَلَّتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ  
 مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ  
 تَأْكُلُوا جَمِيعًا وَأَوْ شَتَاتًا وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا  
 فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ  
 طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۱﴾  
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا  
 مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا إِنْ

یا پنے نین ما جن ہند یو گرو منر، یا پنے نین با بن ہند یو گرو منر، یا پنے نین بن بن ہند یو گرو منر، یا پنے نین  
 پترن ہند یو گرو منر، یا پنے نین پو پھن ہند یو گرو منر، یا پنے نین ما من ہند یو گرو منر۔ یا پنے نین ما سن  
 ہند یو گرو منر یا تمو گرو منر۔ تم ن ہنزن کو نزن ہند جبہ مالک آسو یا یازن دو ستن ہند یو گرو منر  
 لیس علیکم جنانہ ان تا کلو اجمیعاً و اشتاتا کانہ حرج چھو نہ تو بہ ہر گاہ طعام کھیدان  
 آسویکہ و نہ یا الگ الگ فاذا دخلتم بیوتاً فسلّموا علی انفسکم تحیة من عند اللہ  
 مبارکة طیبہ نہس بلہ جبہ ای مسلمانوں نے گرس اندر اثر نلگ ارادہ آسو کران، تمہ وقتہ آسو سلام  
 کران پنے نین لو کن پیٹھ۔ ساری مسلمان چھ اکوی نفس اکوی ذات ہیوسوی سلام یوسہ اللہ تعالیٰ سندہ  
 طرفہ باہرکت نہ تر اسلام بھہ۔ سوگو السلام علیکم کذالک یبیین اللہ لکم الایات لعلکم تعقلون  
 پیٹھ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ کھلاو تھ نہ و پڑھ ناو تھ ہن ہدایات بیان کران، پیٹھ تو بہ فجرہ خبرہ تہ تہہ کرو  
 عمل إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بِالْإِيمَانِ كَمَلٍ مُّطْمَئِنِّينَ إِذْ تَخَرَّجْتُمُ  
 مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا بِيُوتِهِمْ أَوْ بِبُيُوتِ أَهْلِهَا أُولَئِكَ  
 سَلَامٌ عَلَيْهِمْ مِنْ اللَّهِ وَهُوَ مُسْتَجِيبُ دُعَائِهِمْ كَتَيْبَاتٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ

الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۶۲﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ  
الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ  
يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ

با ایمان لو کہ ہجرت تمہے مجلسہ منزہ نیران توتان یوتان نہ پیغمبر برحقس اجازت ہجرت ہوان۔ اِن  
الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پڑپاٹ تم لو کہ توہہ اجازت ہجرت ہوان  
یا رسول اللہ کے کیا ہجرت ایمان اتان خدا کے سے تہندس پیغمبر برحقس حقیقت پاٹ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ  
لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ کس یلہ تم اجازت منگان آسن توہہ یا  
رسول اللہ ہجرت منہ ضروری کامہ خیرہ کس آسوہہ اجازت دو ان تمو اندرہ کس یڑھان آسوہہ کس۔ یہ  
آسو اللہ تعالیٰ اس تہندہ خیرہ مغفرت منگان کیا زہ دنیا ج کام زان تمو مقدم دینچہ کامہ پیٹھہ اچ تلافی  
سپدہ تم تہندہ استغفارہ سبت۔ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ پڑپاٹ اللہ تعالیٰ کھو سیٹھہ مغفرت کرہ و ان،  
سیٹھہ رحم کرہ و ان لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ای مسلمانوہ آسو رسول  
کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہ نادین یلہ تم توہہ منہ اسلامی ضرورت خیرہ جمع سپن فرمان، معمولی  
نادین زانان۔ ہتھ پاٹ ہتھہ اکھ کس پانہ وان نادو پوان ہجرت ہسن نہ نہ من زانہو برابر ی بلکہ کھو تہندس  
نادس اجابت کرن واجب۔ یا گو معنی کہ مہ آسو خیال کر ان تہندہ دعائے خیر کرن توہہ منز ممولی کتھہ۔  
ہتھ پاٹ ہتھہ اکھ کس دعائے خیر کرن ہجرتہ بلکہ کھو تہندس دعائے خیر کر کس اندر سیٹھہ خیر و  
برکت۔ تہندہ دعائے جلد قبول سپان۔ یا گو معنی کہ مہ آسو ہتھہ تم کس آکو دو ان تھہ پاٹ ہتھہ پانہ  
پانہ وان اکھ کس آکو دو ان ہجرتہ نادہتھہ۔ بلکہ آسو تم کس آکو دو ان بعدہ رسالت، یا بعدہ نبوت۔ وان  
آسو یا رسول اللہ نہ یا نبی اللہ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا اللہ تعالیٰ کھو زانان تم

أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۳﴾ الْآلَاتُ لِلَّهِ مَا  
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ يَوْمَ  
 تَرجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۴﴾

لو کن ہنزہ حر کریم توہمہ اندرہ ژورہ ژورہ تہنزہ جلسہ منزہ نیرنج بلا اجازت کوشش کران ہجہ۔ تمن  
 وید اللہ تعالیٰ سزا بلہ یہ تہہ توہمہ معلوم سپرکہ اللہ تعالیٰ اس چھو معلوم **فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ  
 أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** نہس چھو ژن تم کوک سم مخالفت ہجہ کران رسول  
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہہ حج، سمہ تہہ نشیرکہ تمن ولتہ کانہہ بذ آفاہ ونباءس اندر یاواتیجہ دودوہ  
 ون عذابہ آخترس اندر **الْآلَاتُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** وارہ یوزو تہ یاد تھا ووپرپاٹ اللہ تعالیٰ  
 سزوی چھوتہ سزوی یہ آسمان تہ زمین اندر چھوتس چھوتہ ساری پیٹہ پورہ اختیار۔ **قَدْ يَعْلَمُ  
 مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ** یقیناً چھوتس معلوم تہند سو حال چھہ حالس پیٹہ ہجہ چھوہ **وَيَوْمَ يُرجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ  
 بِمَا عَمِلُوا** بیہ سمہ دورہ تم تس ن و اتانہہ ین سوویجہ تہ سزوی یہ سم کران آس **وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**  
 اللہ تعالیٰ چھو پریت چیزاہ پور زانان۔



## سُورَةُ الْفُرْقَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُوْنُ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا ۝۱  
 الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ  
 لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَاَخْلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيْرًا ۝۲  
 وَاَتَّخَذُ وَاوَمِنْ دُوْنِهِ الْهٰٓءَةَ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يَخْلُقُوْنَ  
 وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا

تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُوْنُ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا  
 یہ قرآن مجید نہیں پڑس تہ آپڑس منز فرق کرہ وں چھو پنے نس بندہ خاص پیٹھ یعنی حضرت محمد  
 پیٹھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیٹھ سو بندہ خاص سپدہ، عالمین، جن تہ انسان ہند خیرہ، کھوڑہ ناوہ وں خدا  
 سدہ عذابہ نشہ۔ بیہ نیم کرہ وں تمن تم نہ ایمان آن تہ پڑھ کرن کس خدا نس لِلَّذِيْ لَهُ مُلْكُ  
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کس ذات پاکہ سنز پادشہت تہ سلطنت چھ آسمان تہ زمین اندر وَّلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا  
 وَّلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ بیہ چھو نہ تم قرار ڈہتمت کانہ اکھاہ بن اولاد بیہ چھو نہ تس کانہ اکھاہ  
 شریک حکومت تہ سلطنتس منز وَاَخْلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيْرًا بیہ تم پریت چیزاہ پیدہ کور۔ توپتہ  
 کوزن پریت چیزک الگ الگ اندازہ۔ کہ چیزک خاصیت کوزن اکھاہ بیہ چیزک بیاکھ وَاَتَّخَذُ وَاوَمِنْ دُوْنِهِ  
 الْهٰٓءَةَ پیٹھ صاحب کمال خدا آہتہ تروو مشر کو تسد توحید۔ توپتہ بناو کہ تس ورا ای بے چیز ہن مغبود  
 تم نہ نمہ صور تس اندر مغبود آس قابل چھہ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يَخْلُقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ  
 لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا تم نہ کانہ چیز پیدہ ہسکن کر ت کیاڑہ تم چھہ پانہ پیدہ کرنہ آمت۔ بیہ چھو نہ



وَالْحَيٰوةَ وَالْاٰنْشُوْرَۃَ ۝۳ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَا اِلَّا  
 اِفْكٌ لِفِتْرَتِهٖ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۝۴ فَقَدْ جَاءُوْ  
 ظُلْمًا وَّزُوْرًا ۝۵ وَقَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ  
 تُثَمِّلُ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝۶ قُلْ اَنْزَلَهٗ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ  
 فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ اِنَّهٗ كَانَ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝۷ وَقَالُوْۤا

تمن اختیار پنہ نین پانن ہندہ خیطرہ نمئہ ضرر کہہ تہ نقصانکہ دور کر ٹک تہ کانہہ نفعاہ تہ فاندہہ حاصل  
 کر ٹک وَلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّالْحَيٰوةَ وَالْاٰنْشُوْرَۃَ بیہ چھونہ تمن اختیار کانہہ ہندہ مار ٹک یعنی کانہہ  
 جاندارس کیا بیکہ ہن زوکڈت، نہ کانہہ ہندہ زندہ تھاو ٹک یعنی کانہہ بیچائس کیا بیکہ ہن جاندار بناوت  
 نہ قیامتگ دوہ نہ مرنہ پتہ بیہ زندہ کر ٹک۔ امہ سارہ گوئی اختیار چھو اللہ تعالیٰ اس معبود آسک لو ازام  
 چھہ تے چیز۔ بس منز تم چیز چھہ، سوئی شو بہ معبود، بس منز نہ تم چیز چھہ سو چھونہ ہرگز معبود آسک  
 قابلِ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَا اِلَّا اِفْكٌ لِفِتْرَتِهٖ وَاَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ بیہ دون کافر وہ تہ  
 مشر گو قرآن مجیدس متعلق کہہ بیہ چھو بالکل اہز۔ بس تم، یعنی ام پیغمبرن پانے ٹھہر وومت چھو۔ بیہ لو کو  
 اس پیغمبرس بیہ اہز ٹھہر وئس اندر مدد کورمت۔ یعنی تمواہل کتابو تم مسلمان سپد مت آس، یا تم اہل  
 کتاب یم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن نشہ یوان گڑھان آس فَقَدْ جَاءُوْۤا ظُلْمًا وَّزُوْرًا بس تحقیق  
 یڑھہ تھہ ونہہ سیت کور سمو کافر و بوڈ ظلم بیہ وولجھہ سیٹھاہ بوڈ اہز وَقَالُوْۤا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اَكْتَتَبَهَا  
 اتھہ سیت چھہ یم کافر بیہ تھہ تہ دنان کہہ بیہ قرآن مجید چھو بے سند تھہ سمہ برو ٹھہن لو کن نشہ نقل چھہ  
 یوان کرنہ۔ بیہ لیجھناومزہ چھہ امی پیغمبرن عمدہ عبارئس اندر اتھہ وارہ سوچتھہ کجھہ صحابہ صائن ہندہ  
 اتھہ فَهِيَ تُثَمِّلُ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا بس چھہ تے تھہ لیجھناونہ یوان تمن نشہ محس تہ شامس قُلْ اَنْزَلَهٗ  
 الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ تمہ فرماو یو کہہ یارسول اللہ کہہ بیہ قرآن مجید کورنازل تم  
 پروردگارن بس زانان چھو ساری پوشیدہ تھہ۔ ادہ تمہ تھہ آسمانن منز آستن یا زمینن منز آستن۔ تمی

مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُ فِي الْأَسْوَاقِ  
لَوْلَا أَنْزَلِ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۚ أَوْ يُلْقَى  
إِلَيْهِ كَذِبًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ  
إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ  
الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ الَّذِي  
إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جِدَّتْ تَجْرِبِي

سببہ پھو یہ قرآن مجید فصاحت و بلاغتس منز ممتاز۔ اتھ ہجو کلام پیش کرنس اندر ہجہ جن سے انسان عاجز۔ اتھہ کلامس نسبت تہمزہ سمہ بچہ تھہ ونہ موکھ شوبہ ہاتھوہہ سخت سزادین مگر لائہ کان عَفُورًا زَحِيمًا بیشک سو پھو سیٹھارہم کرہ ون سیٹھارہ مغفرت کرہ ون۔ سو پھونہ جُرْمَن سیتی سزادوان۔ مگر یہ رحم و مغفرت پھوئہ خاص و قس تان۔ سو وقت کڈر تھہ من امہ فسچہ تھہ کرن وال غذائس گرفتار کرنہ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرَبُ فِي الْأَسْوَاقِ بیہ ہجہ سم کافر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یہ ونان کہہ تمس پیغمبرس کیاہ سید، یہ پھو سانی پاٹھ غذا تہ کھیوان بیہ پھو معاہل انتظام کرن خیطرہ بازرو منز پھیران لَوْلَا أَنْزَلِ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا تمس سیت کونہ آوسوزنہ کانہہ ملاکہ۔ سو تہ آسہ ہاتمس سیت روزت لوکن خدا یہ سندرہ عذابہ نغیہ کھوڑہ ناوان سے بیم کران اَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَذِبٌ سے کونہ آوتراونہ تمن کانہہ خزاناہ سمہ پیٹھ تم خرچ آسٹن کران۔ فخر معاہل روزہ ہانہ ضرورتھی اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا سے کونہ پھو تمن سیت کانہہ میوہ باغاہ تھی منزہ آسٹن تم کھیوان وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا بیہ ہجہ ونان سم ظالم کافر با ایمان، جہہ چھوہ نہ پتہ پتہ پکان مگر تھہ سی اگس شخصس یس پیٹھ بحر سے جو دکرنہ آمت پھو بیہ سیت تہمزہ عقل بحال چھنہ روزمثر اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ وچھو تھہ پاٹھ سم کافر توہہ پیٹھ عجیب عجیب مثالہ بیان کران فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تمن ہجہ پانس تھہ راومثر یس چھنہ بیان تم

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝۱۰ بَلْ كَذَّبُوا  
بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝۱۱  
إِذَا رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَبِعُوا لَهَا تَعْيِظًا وَزَفِيرًا ۝۱۲  
وَإِذَا الْقَوْمُ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَا هُنَا لِكَ  
ثُبُورًا ۝۱۳ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا  
كَثِيرًا ۝۱۴ قُلْ أَدْلِكُمْ خَيْرًا مِجَنَّةَ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ

و تھ لہ تھ۔ تَبْرَكَ الَّذِي اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جِدَّتْ تَخْوِيفٍ مِنْ تَحْتِهَا  
الْاَنْهَارُ عام چھ برکت اُس پروردگارہ سز سبھا تھو دھو جھنڈ شان۔ نَس ہر گاہ سو بڑھہ ہالہ باغ گیاہ  
چھ کھی پیشار امہ خوبتر رت رت باغ گرہ ہاتوہہ عطا سمومنز جو یہ پکان آسکن وَجَعَلَ لَكَ قُصُورًا  
بہ کرہ ہاسو تھنہہ خپتر ہ تمن باغن منز کم کہ جلیہ نہ مکان تیار مگر بعض جتن کن نظر کرت یو تھ نہ تہ  
اللہ تعالیٰ ان۔ تج آسنہ ضرورت تہ۔ کیا زہ آس چھنہ مجبور سمہ کتھہ ہند کہ تج فرمائش کافر کرن تہ کیا  
گزو آس پورہ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ اصل کتھ چھہ یہ کہ تم کافر چھہ قیاس لہز زانان۔ تمی چھہ تم  
بے فکری سبہ امہ کچھ کتھ کران۔ یہ یو تھ یوان چھو کھ تہ چھہ دوران وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ  
سَعِيرًا اُسہ تہ چھو تیار تھوومت قیامتہ کین مُعْرَن ہندہ خپتر ہ ذزہ ون نار۔ کیا زہ قیاس انکار کرنہ  
سیت چھو لازم یوان خدا اُس تہ پیغمبر خدا اُس انکار کرن۔ سو چھو اصلی سبب جھنم اندرو اتنگ اِذَا  
رَأَوْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَبِعُوا لَهَا تَعْيِظًا وَزَفِيرًا یلہ سونارو چھہ تمن مُعْرَن دوری یوزن تم تمیک  
خشمہ ہوت گر یوزن بہہ تجر ناگہ وَإِذَا الْقَوْمُ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ تو پتہ یلہ تروانہ ین تم تمہ  
منزہ نئہ تنگ جلیہ ہنزاکہ اُس سیت گنڈ پھر تھ یا تھہ کھور گردنہ سیت گنڈت دَعَا هُنَا لِكَ ثُبُورًا  
تھانڈن پنہ خپتر ہ ہلاکت تہ موت پائس کرن لیلہ تہ افسوس لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا  
ثُبُورًا كَثِيرًا ونہہ کچھہ ای کافر وای پھر ہمہ تھانڈوتہہ اُنہ پنہ خپتر ہ موت بلکہ تھانڈو وار بہہ پھر ہ

الْمُتَّقُونَ ۖ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيبًا ۗ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ  
 خَالِدِينَ ۗ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدٌ مَسْئُورًا ۗ وَيَوْمَ يَجْشُرُهُمْ  
 وَمَا يُعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ  
 عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۗ قَالُوا سُبْحٰنَكَ  
 مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَ  
 لَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا

قُلْ اذٰلِكَ خَيْرٌ اَمَّ جَنَّةِ الْخٰلِدِيْنَ وَعِدَ الْمُتَّقُوْنَ تہہ فرماديو کہ يارسول اللہ ای کافر وہ  
 افسوسناک حالت چھار ژ کینہ سو ہمیشہ روز نیک جنت و چھو بہتر سیمک وعدہ آو کر نہ، پر ہیز گارن،  
 خدائس کھوژہ ونین۔ کانت لہم جزاء و مصیبا سو جنت آہہ تہندہ خیرہ ر ژان عملن ہنز مزور۔ بیہ  
 آہہ تمن پتولا کہ اتھ جنس منز و ان لہم فیہا ما یشاءون خلدین تہندہ خیرہ آہہ تھہ جنس منز تہ  
 سو زوی بیہ تم یڑھن، ہمیشہ روزہ ون اسن تھہ جنس منز کان علی ربک وعدہ امسؤلا تمن پر ہیز  
 گارن ہند اتھہ جنس منز و ان چھو اکھ وعدہ اُس بطور فضل و عنایت مٹہ چھو تہندس پروردگار س پیٹھہ۔  
 بیہ چھو بیہ وعدہ قابل در خواست و یوم یجشرہم و ما یعبدون من دون اللہ بیہ پاو تمن ژ تیس  
 سمہ دوہہ اللہ تعالیٰ تمن سارنی کافرن بیہ تہندین معبودان باطلن تمن ہنز پرستش تم معبود بر حقس  
 و رای کران آس جمع کرہ پانس بروٹھہ کنہہ فیقول ءانتہم اضللتہم عبادی ہولاء امہم  
 ضلوا السبیل تو پتہ پر ژھہ تمن معبودان باطلن کیاہ توبی ڈالو کہ تم میان ہندہ سیزہ و تہ نشہ۔ کنہہ تم  
 ڈل پائے راہ راستہ نشہہ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء تم  
 ذہن پروردگار اژہ چھو کہ منزہ تہ پاک۔ سون کیاہ طاقت اوس اس کیاہ کرہ ہون ژہ و رای بیہ کانہہ کار  
 سازاہ مقرر۔ آدہ تم آس آہہ ہو یا بیہ کانہہ یلہ اس یقین چھہ زمانہ کہ معبود چھو ک ژی یوت بیہ نہ  
 کانہہ۔ اس تھہ پاٹ ہیچہ ہو لو کن شرک امر کرت یا تھہ پیٹھہ رضا مندی ظاہر کرت و لکن متعتہم

بُورًا ﴿۱۸﴾ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا اسْتَطِيعُونَ صَرْفًا  
 وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِّنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿۱۹﴾  
 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ  
 الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ  
 لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿۲۰﴾

وَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ تَسْمُوا الذِّكْرَ لیکن تم سپہ پائے گمراہ۔ سمو کور شکران نعمت بدل کھران نعمت۔  
 حقیقت ہتھ پیہ کبڑہ تاناو تھکھ تم بہر تہمد مال بڈب مال ذنیاءک تتع یوتان تم نفسہ جن خواہش تہ  
 لذتن اندر بوڈت گئے۔ تیوت کہ چون یادی مٹرو دکہ وکانوا قومًا بُورًا تم سپہ پائے برباد تہ ہلاک  
 فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ ای کافر و پزپاٹِ تم معبودان باطلن ہنز جنہہ پر ستش کران آسوہ، تمو  
 دژہ قرار ہنزہ سارے تھہ ایزہ۔ تمو تہ کورنہ توہمہ کانہہ مدد۔ توہمہ پیٹھ چھو کھسان پورہ پاٹ بزم قما  
 اسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا کس میکو تہ جنہہ پاس نعرہ عذاب دور کمر تھہ نہ میکوہ توہمہ کانہہ شخصہ مدد  
 کمر تھہ وَمَنْ يَظْلِمِ مِّنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا بیہ کس توہمہ اندر نافرمان یعنی مٹرک آسہ  
 سوز تہہ ناوون اس بوڈ عذاب وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ  
 يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ بیہ تم پیغمبر اسہ سوز توہمہ برو تھہ یار رسول اللہ تم ساری آس غذائہ کھیوان بیہ  
 آس باز رومنز معاش تلاش کرنہ خیطرہ پکان تہ پھیران۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ای  
 پیغمبر کریم، ای پیغمبر کریمہ سند یوتا جو تھنہ جنہہ کافران ہنز و تھو سیت غمگین آسو سپدان۔ کیا زہ اسہ  
 ہجھوہ جنہہ ساری کمر مت آکھ آئندہ خیطرہ آزمائش۔ حضرات انبیاء کمر اسہ لوکن ہندہ خیطرہ آزمائش  
 کم لوکھ کرن تہندس بشر آس کس کن نظر کرت تم انکار تہ کم لوکھ کرن تہندین نبوتہ کین کمالاتن  
 کن نظر کرت تم پڑھ تہ تصدیق أَتَصْبِرُونَ جنہہ تہ کمر و صبر یعنی تہند گڑھہ ضرور صبر کرن وَكَانَ  
 رَبُّكَ بَصِيرًا یہ تھہ ہتھہ یقینی کہ تہند پروردگار تھو سارنی ہند حال و چھان۔ مقررہ و قس پیٹھ دیہ سوز

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أُولَٰئِكَ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ  
 الْمَلٰٓئِكَةَ يُنزِلُونَ رِيبًا لِّقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا  
 كَبِيْرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِيْنَ وَ  
 يَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ  
 فَجَعَلْنٰهُ هَبٰٓءًا مِّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقْرًا  
 وَاَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمٰٓءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ

تمن ضرور سزا۔ لهذا کیا زہ چھوہ نہہ غم کیوان۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أُولَٰئِكَ نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ يُنزِلُونَ رِيبًا لِّقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا۔ تم کہتے ہو کہ تم کو کہ تم نے کانہہ اندیشہ چھو اسہ برو تھہ کنہ پیش سپد نک، تھہ مکر آسنہ موکھہ کہ اسہ پیٹھہ کونہ چھہ ملائکہ سوزنہ یوان تھہدہ تصدیقہ خطیرہ یا کونہ چھن اَس نہ ہن پروردگار و چھان، سؤی کرہ پانہ تھندس پیغمبر آس تائیدہ تصدیق لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا۔ تم لوکن چھہ یقینا پتہ جایہ ہن پان سیٹھہ ہڈ بوزنہ یوان۔ خصوصاً کو کہ خدا اِس و چھک، اَس سیت کلامہ کر نک تجویز پیش۔ اُمہ سیت درای تم کو کہ اناسیٹھ حدہ نشہ سیٹھہ نیبر۔ بیہ کمر سمو ہڈ سر کشی يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِيْنَ۔ دون سمہ دوہہ تم و چھن ملائکہ مہیب صورتن اندر مریمہ وقتہ یا قیامتگ دوہہ سمہ دوہہ آسنہ کانہہ خوشی ہنز کتھہ نصیب تمن نا فرمان، ملائکہ یلہ و چھن عذابک سامانہ ہتھ، سیٹھہ گابرن تمہ ساتہ و يَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا تھہ حالتس منز ون تمہ ساتہ پناہ بخدا، پناہ بخدا، اسہ گوڑہ مضبوط ٹھورہ اسن نشہ حاصل ہدن (سمہ ملائکہ یمن و چھتھہ تہہ بیٹھہ سنا خدا اِس و چھتھہ) وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبٰٓءًا مِّنْثُوْرًا۔ بیہ سپد و اَس متوجہ تمن کافرن ہنز رٹن کابین کن سمہ تم و نیاءس منز کر مڑہ آسن۔ اِس کر وہہ تمہ عملہ چھکنہ آمڑ گرد ہٹھہ۔ کانہہ ثوابہ آسنہ تمن ہند۔ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقْرًا وَاَحْسَنُ مَقِيْلًا جنتی یمن سم کافر ٹھٹھہ آس کران، آسن تمہ دوہہ سیٹھہ رت قیامگاہہ کن نہ، آرامگاہہ کن نہ

تَنْزِيلًا ۲۵) الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْخَبِيرُ لِلرَّحْمَنِ ۖ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى  
 الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ۲۶) وَيَوْمَ يَعِضُّ الظّٰلِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ  
 يٰلَيْتَنِيْ اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ۲۷) يُوِيْلَتِيْ لَيْتَنِيْ لَمْ  
 اَتَّخِذْ فُلًا نَّاٰخِلِيْلًا ۲۸) لَقَدْ اَصْلَبْنِيْ عَنِ الدِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِيْ ۗ  
 وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسٰنِ خَدُوْلًا ۲۹) وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ  
 اِنَّ قَوْمِيْ اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ۳۰) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ

یعنے جنت آسہ تہندہ قیام کرئج جای، آرام کرئج جای۔ تمہ کس رت آسس ہئھونہ ونئوی کینہہ۔ ویومہ  
 تَشَقُّقُ السَّمٰوٰتِ بِالْعٰمِ وَنُزُلُ الْمَلٰٓئِكَةِ تَنْزِيْلًا ۲۵) بیہ سہمہ دوہہ آسمان اکہ بڈہ ابرہ سمیت پھٹہ، بیہ سن والنہ  
 سارنی آسمان ہند ملائک پتس پتھ ز مینس پیٹھ بکشرت تمی وقتہ کرہ اللہ تعالیٰ حساب و کتابہ خیطرہ ہن  
 تجلی۔ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْخَبِيرُ لِلرَّحْمَنِ ۖ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ۲۶) یعنی حساب و کتاب تہ جزاء و سزاء س منز آسہ نہ کانسہ ہند دخل۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا  
 بیہ آسہ سووہ کافرن ہندہ حقہ سیٹھہ کڈرتہ کریوٹھہ وَيَوْمَ يَعِضُّ الظّٰلِمُ عَلٰى يَدَيْهِ ۲۷) بیہ ہیہ تمی دوہہ ظالم  
 تہ نافرمان اتھن پنہ نین ثرپ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ۲۷) تمی دوہہ ظالم، ای  
 کاش کیاہ رت گڑھہ ہامیانہ حقہ ہر گاہہ رٹھہ آسار سول خدانس سمیت روزت دتھ و تھہ يُوِيْلَتِيْ لَيْتَنِيْ  
 لَمْ اَتَّخِذْ فُلًا نَّاٰخِلِيْلًا ۲۸) افسوس، کاشکے مہ آسہ ہانہ فلان بدیارس سمیت دوستی لاجنہہ لَقَدْ اَصْلَبْنِيْ  
 عَنِ الدِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِيْ ۗ ۲۸) ہنرپاٹ تمی کم خٹن ڈوکس بو قرآن مجیدہ کین احکامن پیٹھ عمل کرنہ نشہ،  
 تم احکامنہ نشہ واتھہ۔ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسٰنِ خَدُوْلًا ۲۹) شیطان مجھو انسانس عین موقس پیٹھ مد  
 کرنہ نشہ پتھ ثلان وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ۳۰) بیہ فرماون تمہ دوہہ  
 پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ای میانہ پروردگارہ، ہنرپاٹ میان سم قومن زون یہ قرآن مجیدئس  
 واجب العمل اوس، بیہ ہودہ کلاماہ یاروڈ تم امہ نشہ دور، امہ موجب کرکھ نہ کانہہ عملہا، بیہ کوزکھ بالکل

نَبِيِّ عَدُوِّمِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿۳۱﴾  
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً  
 وَاحِدَةً ۗ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿۳۲﴾  
 وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿۳۳﴾ الَّذِينَ  
 يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سُرُّمَكَانًا ۖ وَأَضَلُّ  
 سَبِيلًا ﴿۳۴﴾ وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ

نظر انداز، اتھ کو رکھ نہ کا نہ التفاتہ، عمل کر کے چھتھی وکندک جعلنا کل نبي عداو من المجرمين  
 يتھ پاٹ يم لوکھ چھ تھند دشمن يتھ پاٹھ کمر اسہ نافرمانو اندرہ پر يتھ پیغمبر سند دشمن، یہ نوکٹاھ چھتھ  
 کینہہ۔ تمو پیغمبر ویتھ پاٹ صبر کور يتھ پاٹھ کمر وچہ تہ صبر وکفی بریک هاديًا نصیرًا بس متھو توہہ  
 پن پروردگار ہدایت کرہ دن۔ کافر وچہ ہمیشہ پیغمبرن ہنز مخالفت کمر مژ، لہذا گروہہ نہ امیک کا نہہ غم  
 کھيون۔ اللہ تعالیٰ سمسندہ حق ہدایت یڑھہ تس کرہ ہدایت، بس ہدایتہ نغمہ محروم روزہ توپتہ ہیہ سو توہہ  
 ایدانہ تکلیف وانہ ناؤن۔ دوشون جان اندر متھو اللہ تعالیٰ تھند رت، توہہ کافی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً ۗ وَاحِدَةً ۗ بیہ چھہ دپان کافر یہ قرآن مجید کونہ آو نازل کرنہ  
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کی پھرہ کذالک اسہ کور نازل یہ ہنہ ہنہ، آہستہ، آہستہ۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ  
 فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۗ يتھہ در راو او اس امہ سیت تھند ول۔ امی موکھ کور قرآن مجید اسہ نازل وارہ  
 وارہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۗ بیہ چھنہ سم دشمن توہہ نغمہ کا نہہ کٹھاہ یا مثالاہ  
 توہہ پیٹھہ یا قرآن مجیدس پیٹھہ طعنہ زنی خیطرہ پیش کران۔ مگر اس چھہ تھندہ بدل تمن تھن ہند پوز  
 جواب بیہ تمہ خونہ رت معنی بیان کمرت توہہ نغمہ واتاوان۔ یہ گو قوی جواب۔ وون بس عملی جواب لیہ  
 دنہ تمن سوگو الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ سُرُّمَكَانًا ۖ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۗ سم گئے تے  
 لوک يم کلہ وکر من کمرت يتھہ کھکھرہ ہن پکانوانہ تہ سونہراونہ جھتمس گن۔ تم آسن جاہہ کن سیٹھاہ ہد تر



وَزَيْرًا<sup>(۳۸)</sup> فَقُلْنَا اذْهَبْ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمْزَلْهُمْ  
 تَدْمِيرًا<sup>(۳۹)</sup> وَقَوْمٌ نُوْحٌ لِّمَا كَذَبُوا الرُّسُلَ اَعْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ  
 اٰیَةً<sup>(۴۰)</sup> وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا<sup>(۴۱)</sup> وَعَادًا وَّشَمُوْدًا وَّ  
 اَصْحٰبَ الرَّیْسِ وَقُرُوْبًا لِّیْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا<sup>(۴۲)</sup> وَكُلًّا ضَرَبْنٰهُ  
 الْاَمْثَالَ وَاَمْثَالَ وَاَمْثَالَ تَبْرُنَا تَبِيْرًا<sup>(۴۳)</sup> وَلَقَدْ اَتَوْا عَلٰی الْقَرْیَةِ الَّتِیْ  
 اَمْطَرْنَا عَلَیْهَا مَطَرًا سَوِيًّا اَفَلَمْ یَكُوْنُوْا یَرُوْنَهَا بَلْ كَانُوْا لَا

وہ کن سیٹھاہ ڈلتہ ولقد آیتنا موسیٰ الکتب وجعلنا معة اخاه هرون و زيرا تھیں یہ کمر اسہ عطا موسیٰ  
 علیہ السلام کتاب یعنی تورات۔ یہ کمر اسہ سنو کتاب عطا کرنے بروٹھ یوی ٹھند ہارون علیہ السلام تسند  
 وزیرتہ مدگار قُلْنَا اذْهَبْ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا تمہ پئے کور حکم اسہ تمن دوشون کہ گمہ جو ٹہ  
 دوشوے تبلیغ و ہدایت کرنے خیطرہ تمن لوکن نشہ سموا پوزان سان توحیدک آیات توپتہ گئے تم  
 دوشوے صاحب، کورکھ فرعونس تہ ٹھندس قومس تبلیغ مگر تمو مون نہ کینہہ تہ۔ فِدَمْزَلْهُمْ تَدْمِيرًا  
 ادہ گال تم اسہ مولہ مونجہ۔ چنانچہ ٹھند غرق سپدن چھو مشہور و معروف وَقَوْمٌ نُوْحٌ لِّمَا كَذَبُوا الرُّسُلَ  
 اَعْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ اٰیَةً یہ یلیہ حضرت نوحہ سند قومن انکار کر پیٹن برن اسہ پھاٹو تم آس اندر یہ  
 بناو اسہ تم لوکن ہندہ خیطرہ اکھ نشانہ یہ گودنیاء س اندر وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا یہ چھو اسہ  
 تیار تھوومت آخرس اندر تمن ظالمن تہ نافرمان ہندہ خیطرہ کڈر عذاب وَعَادًا وَّشَمُوْدًا وَّاصْحٰبَ  
 الرَّیْسِ وَقُرُوْبًا لِّیْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا یہ کور اسہ ہلاک قوم عاد، یہ قوم شمود یہ کیر وال (ر)س چھہ ونان عربی  
 پاٹ کیرس) یہ تمن منز باگ سمہ واریاہ نافرمان اُسو اسہ وَكُلًّا ضَرَبْنٰهُ الْاَمْثَالَ وَاَمْثَالَ وَاَمْثَالَ  
 تَبْرُنَا تَبِيْرًا یہ کمر بیان اسہ تمن سارنی ہندہ ہدایتہ خیطرہ عجیب عجیب تہ موثر مضامین۔ مگر یلیہ نہ تمو کینہہ  
 تہ مون ادہ گال اسہ تم ساری وَلَقَدْ اَتَوْا عَلٰی الْقَرْیَةِ الَّتِیْ اَمْطَرْنَا عَلَیْهَا مَطَرًا سَوِيًّا پڑیاٹ یہ پک تہ گذرے  
 سم مٹر کین عرب شامہ کس سفرس منز تمہ شہرہ کن تھہ منز قوم لوط بسان آس۔ تھہ شہرس اوس ناؤ

يَرْجُونَ نَشُورًا ﴿۳۰﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن تَيْخَذُ وَنَكَ الْأَهْزُؤَ أَهَذَا  
 الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿۳۱﴾ إِنَّ كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنِ الْهَيْتِنَا لَوْ  
 لَأَنَّ صَبْرَنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ  
 مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ﴿۳۲﴾ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ  
 تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ﴿۳۳﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ الْكُفْرَهُمْ يَسْمَعُونَ

”سدوم“ تمن آونافرمانی ہمدرہ سببہ آسمانچہ طرفہ سکنہ رُود کرنے یعنی سکنہ آیکھ تراونہ زودک پاٹھ آفگمہ  
 یَکُونُوا یَرَوْنَهَا کیاہ تم منک کافر جھناو چھان تم شر تالینکہ عبرت رٹ مَن بَلْ کَانُوا لَیَرَجُونَ  
 نَشُورًا عبرت نہ رٹک وجہ چھونہ یہ کہ تم کیاہ چھنہ تم شر و چھان بلکہ چھنہ تم مر نہ پتہ زندہ گونہ  
 کانہ امیدہ تہ پڑھاہ۔ کیا زہ تم چھہ آخر تس انکار کران۔ تم کافر چھہ ایت شریر کہ وَاِذَا رَأَوْكَ إِن  
 تَيْخَذُ وَنَكَ الْأَهْزُؤَ بلہ تم توبہ و چھان چھہ یار رسول اللہ ﷺ تمن چھنہ کانہ کاہ تمہ ساتہ توبہ نسبت  
 ٹھٹھہ کرنے ورانہ و نان چھہ تم اَهِذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا کیاہ یوسہ شخص سوزہ اللہ تعالیٰ ان  
 پیغمبر یہ چھونہ پیغمبری لایق۔ مگر کلام تہ کتھہ انمسنزہ چھہ سیٹھہ موثر ان کَادَ لِيُضِلَّنَا عَنِ الْهَيْتِنَا لَوْ  
 لَأَنَّ صَبْرَنَا عَلَيْهَا تمہ جادو بیانی سیت اوس قریب کہ یہ ڈالہ ہا اسہ پنہ نیو معبود ونشہ۔ ہر گاہ لے اَس  
 تمن معبودن ہزہ پر ستھہ پیٹھہ ثابت قدم روزہ ہو۔ پانس چھہ تم پانے زانان ہدایتس پیٹھہ۔ پیغمبرس چھہ  
 زانان ڈولمت۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان کہ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا  
 بروٹھہ مکن زانن تم مر نہ پتہ بلہ وارہ پاٹھ و چھن عذاب کہ کہہ اکھاہ اوس وتہ نغہ ڈولمت اَرَأَيْتَ مَنِ  
 اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ای پیغمبر تہہ و چھو ہز تس شخصہ سز حالت تم پن خد اچھو بنوومت پنہ نفع خواہش  
 اَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا کیاہ تہہ تلوہ پانس پیٹھہ ذمہ داری کہ تھین ہو اپر سنن کیاہ کمر وہ تہہ  
 ہدایت۔ یوسہ تھہ خواہشہ مطابق آیکھہ سنو کرن قبول، یوسہ نہ خواہش موافق آیکھہ تھہ کرن رد۔ از  
 و چھہ اکھ کنیاہ جان مکن تہ تھہ کہ کہ پر شش پگاہ و چھہہ بیا کہ کینہہ تمہ خوتہ جان مکن تھہ ہر کہ

أَوْ يَعْقُلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝۴۳  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ  
 جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝۴۴ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝۴۵  
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ  
 النَّهَارَ نُشُورًا ۝۴۶ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ  
 رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝۴۷ لِنُنْحِيَ بِهٖ بَلَدَةً

پرستش گران آمد محاسب آن اکثرهم یسعون اَوْ یَعْقُلُونَ کہ توبہ بہو کہ بہہ گمانہ زہ تموا ندرہ کیاہ  
 چہرہ زیادہ بوزان نہند کلام شریف یا کیا چھو کہ سو فخرہ تران کینہہ۔ سو کماے مہ کمر و تہہ۔ اِنْ هُمْ إِلَّا  
 کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا تم چہنہ مگر چار پاء ہی بلکہ چہر تھے چار پاء ان ہندہ خو تہ بیڑہ ڈلت و تہ  
 نغمہ اَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا کیاہ ژہ و چھت نا ای و چھو پنے نس  
 پروردگارہ سندس قدر تس کن کہ تہہ پاٹھ چھو ز شہر او ان سایہ، یلہ آفتاب چھو کھسان، تمہ ساتہ چھو  
 تم سارنی چیزن ہند سایہ ز یوٹھ آسان تم چیز و تھندہ آس۔ ہر گاہ سو بیڑہ ہاتھ سائس تھا وہ ہا کئی  
 جاہہ ٹھہراوت ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا تو پتہ کورایہ آفتاب امہ سایگ ظاہری علامت۔ آفتابہ  
 سیتی چھو بوزنہ یوان امہ سایگ ز ٹھن تہ ژھوٹن۔ آفتاب نے آسہایہ پیہ ہانہ بوزنہ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا  
 قَبْضًا يَسِيرًا تو پتہ چھن آس سو سایہ پانس کن رٹان ہتہ ہتہ۔ بالاخر چھو سو سایہ معدوم سپدان  
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا بیہ گو سو ہر ودگار سو ی تم رات  
 کمر تہندہ خیطرہ پر دک چیز، بیہ یم ندر کمر راحت و آرامگ چیز۔ بیہ تم دوہ کور زندہ سپد ٹک تہ اورہ  
 یور کرہ ٹک وقت وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ بیہ گو سو پروردگار سو ی۔ نس  
 واو تراوان چھو خو شہر بیتھ پنے رحمتہ بروٹھ یعنی رود تراونہ بروٹھ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا بیہ  
 تراوایہ آسانکہ طرفہ آب نس پاک و صاف کرہ ون چیزہ چھو لِنُنْحِيَ بِهٖ بَلَدَةً مَیْتًا بیہ آس زندہ

مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْ آسَى كَثِيرًا ۝۵۱ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِمْ لِيَذَّكُرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۵۲ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا ۝۵۳ فَلَا تَطِعِ الْكُفْرَيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝۵۴ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُورًا وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلْ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ۝۵۵ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا

کرون تمہ آہ سیتِ مومت زمین و نُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْ آسَى كَثِيرًا بیہ چادو کہ سو آب پنہ نیو مخلوقا ندرہ واریاہ چارپاء بیہ واریاہ انسان و لَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِمْ لِيَذَّكُرُوا پنز پائ اسہ کور تقسیم سو آب تمن لوکن منز بقدر مصلحت یٹھ تم غور تہ فکر کرن کہ تم چیز چھہ کانسہ قدر تہ وال سندس اختیار س اندر نیس سز اوار عبادت چھو۔ تمسزہ نعمہ ژیتس پاوت کرن شکر گذاری قَابِیْ اَکْثَرُ النَّاسِ اِلَّا کُفُورًا مگر اکثر لوکو کور نہ کینھ تہ کفران نعمتہ و رای و لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا بیہ ہر گاہ آس بیٹھہ ہو آس سوزہ ہون پر بیٹھہ شہرس اندر اکھ اکھ پیغمبرہ مگر اسہ سوزہ کانہہ پیغمبرہ کیازہ ٹہہ سوزہ اسہ یار رسول اللہ سارسی عالمس کن گنی صاحب قیاس تان۔ بیٹھہ توہہ پورہ امیک ثواب حاصل سپدہ امہ نعمتک شکرانہ چھو کہ فَلَا تَطِعِ الْكُفْرَيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ٹھہد گزہ سن نہ مانہہ کافر ہنزہ کھہ۔ تہنز خواہش چھہ کہ تبلیغ اسلام گزہہ نہ سپد نوئی یا گوژہ کم کم سپدن مگر تہنزہ گزہ سن نہ مانہہ تمن کافر ہنزہ کھہ بلکہ گزہہ تمن سیت ای قرآن مجیدہ سیت زبردست مقابلہ کرن وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ بیہ گو سو پور درگرسوی سیم ملہہ ناؤ مختلف زہ دریا ہذا عَذْبٌ فُورًا وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ائمہ دریاؤک آب چھو سیٹھاہ میو ٹھہ تہ تسکین بخش۔ بیگ آب چھو نون سیٹھاہ تروش تہ ٹیوٹھہ باجوہر اختلاف ظاہری چھو ہئہ آب پنہ نس حالس پیٹھہ بیہ آب پنہ نس حالس پیٹھہ وَجَعَلْ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا تمن دوکن دریاؤن منز کور اللہ تعالیٰ ان اکھ ٹھوراہ نیس نہ تمن اکھ اکس سیت رلہ

وَصَهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿۵۴﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿۵۵﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۵۶﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿۵۷﴾

دوان پنھنجو ۽ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ۖ بِهِ كُوسُو پروردگار سؤی تم آب نفطس کور انسان پیدہ۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَهْرًا ۖ تویته کوزن سؤ انسان خاندانہ وول۔ چنانچہ مول بُدب و غیرہ گو شرعی خاندان، مۇج، نان و غیرہ گو عرفی خاندان۔ یم تعلقدار پنھنس پیدہ سپدہ و نؤی پیدہ سپدان پتہ نیلہ اہس یتھر کرنہ یوان پنھنجو تمہہ سیت پنھنس بے رشتہ دار، ہنس، ہیوہر، ہہنہر و غیرہ پیدہ سپدان یہ پنھہ پروردگارہ سئدہ قدریچ دلیل تہ کہ لطفہ کیاہ چیز اوس۔ وئن کیاہ سپد۔ لہت رشتہ تہ تعلقات سپدس پیدہ۔ بہہ پنھہ یہ نعمت تہ۔ سمو تعلقا تو سیت پنھنجو اہس انسانس معاونت تہ مدد حاصل سپدان وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ای مخاطب چون پروردگار پنھنجو سیٹھاہ قدر تہ وول پنھنس کمالہ ولس خدیلہ سنزی شویہ باعبادت تہ بندگی کرن مگر افسوس وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ تہ انسان پنھہ پرستش کران معبود حقس ورا ی تعمی چیزن ہنز تم نہ تمن کا نہہ نفع ہیکن و اتاوت کا نہہ ضرر وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا واقعی پنھنجو یہ نافرمان انسان پنہ نس پروردگارس کن تھر پھر ان تہ مخالفت کران۔ سؤ تراوت پنھنجو بین ہنز پرستش کران۔ مگر تہمہد گروہہ نہ اٹھہ پیٹھہ یار سؤل اللہ غمگین سپدان کیا زہ و مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۖ اہہ نہ حض سؤزونہ توبہہ مگر خوشخبری بوزناونہ خیطرہ باایمان، بیم کرنہ خیطرہ کا فرن تہ نافرمان تہمہدہ ایمان نہ انہہ سیت تہ پڑھہ نہ کرنہ سیت پنھنجو نہ توبہہ کا نہہ نقصان لہذا کیا زہ سپد یونہہ غمگین قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا تہہ فرما یو کہ ای لو کو، بو پنھنجوس نہ منگان توبہہ اتھہ خوشخبری تہ بیم کرنس پیٹھہ کا نہہ مڑوریاہ مگر یو پنھنجوس خواہش کران کہ توبہہ منزہ ہیہ ناکا نہہ شخصاہ پنہ نس خدا اہس کن و تھہ، تہمہد قُرب ژھا نڈنہ خیطرہ ہیہ ہائجن،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ  
 بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٦٥﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا  
 بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ  
 بِهِ خَبِيرًا ﴿٦٦﴾ وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا  
 الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٧﴾ تَبَارَكَ الَّذِي  
 جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦٨﴾  
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُرَ

سنوی آس بس میان مُزور و تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ یہ کمر و نگہ اعتمادتہ ذکرتہ تہ تہلیغ کلمہ  
 اندر تس زندس پیٹھ نُس نہ زانہ مرہ و سَبِّحْ بِحَمْدِهِ و کفّی بہ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا یہ کمر و یاد نگہ  
 پاکی۔ یہ دیوس حمد۔ سو مٹھو پتہ نین بدن ہندین گنہن ہند پور واقف تہ خبردار لَ الَّذِي خَلَقَ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ہم پروردگارن آسمانہ تہ زمین بیہ یہ تمن منز مٹھو پیدہ  
 کور شیلن و ہن ہندس مد تس اندر کُ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ تم پتہ سپد مستوی عرش پیٹھ تھہ پاٹھ  
 تھہ پاٹھ تھندس شانس سز او ار مٹھو الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا سو مٹھو سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ نُس پر تھہ  
 تھہ شان تھند کانسہ زانہ و نُس سو باوی تھہ ہنز رحمت کا تھہ مٹھہ وَاِذْ اَقْبَلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا  
 وَمَا الرَّحْمَنُ یہ یلہ ونہ یوان مٹھو تمن کافر ن دیوس تھہ اُس رحمتہ و اُس خد اُس۔ دپان تھہ تم  
 رحمان کیاہ گو اَنْسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا کیاہ اُس و موہ سجدہ تَس، نُس تھہ دپٹو سجدہ دتلن۔ تمن  
 مٹھو یہ و ن زیاہہ دور کران۔ یہ بوزنہ سیت چھ تمن زیاہہ تھر کھسان تھر و عنادس اندر۔ تَبَارَكَ الَّذِي  
 جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا سیٹھاہ با برکت تہ عالیشان مٹھو سو ذات پاک  
 ہم آسمان منزہ باہ ہرج پیدہ کمر۔ بیہ کرن آسمان اندر آفتاب تھوگ۔ کیاہہ تھہ منز مٹھو نور تہ، گرمی تہ

أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿۶۲﴾ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ  
هُونًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿۶۳﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ  
لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿۶۴﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا  
عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿۶۵﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ  
مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿۶۶﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ  
يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿۶۷﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ

بہ کرنا زون نہیہ کرہ اون۔ تھہ منزوری یوت گرمی وراى وھو الذی جعل الکیل والنہار خلقتہ  
یمن اذ ان یدکر اواراد شکورا بہہ گوسو پروردگار سوسی تم رات تہ دوہ کوراکھ اوس پتہ اوہ وون تہ  
گوشہ وون خمس شخصہ سدہ فخرہ ترہ خیطرہ ہس شخص فخرہ تزن یشہہ یا یشہہ امس قدر تہ والس منعم  
حقیقیس یمن نعمون پیٹھ شکر دین۔ امہ قسمک لوکھ گے عباد الرحمن۔ امہ پتہ ہجھہ تہمد صفت بیان  
یوان کرنہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا حضرت رحمانہ سدہ خاص بندہ گے تمے تم  
پکان چھ زعیہ پیٹھ نرمی سان واذ اخطبہم الجاہلون قالوا سلما بہہ یلہ تمین سیت جاہل تہ نادان لوک  
گفتگو کرنہ لگان چھہ تم جھک پتہ طرفہ سلام کران۔ تہزن ناشایان تھن ہند چھہہ تم کانہہ جواب  
دوان والذین یبیتون لربہم سجدا وقيامًا بہہ تم رات گذاران چھہ پتہ نس ہر وردگار س گن سجدہ  
دوان تہ ووتھد نہ روزان یعنی نمازہ پران، باوجود آل چھہ پروردگار س کھوژان والذین یقولون ربنا  
اصرف عنا عذاب جہنم بہہ تم کھوژنہ منوکھ دعا چھہ کران ای سانہ پروردگارہ دور کر اسہ نشہ  
جہنمک عذاب ان عذابا کان غراما ہنز پاٹ تمیک عذاب چھو تہای تلمہ وون، لارت گوشہ وون  
انہا ساءت مستقرا و مقاما ہنز پاٹ سو جہنم چھو سیٹھاہ چھہ جای۔ روزنہ خیطرہ بہہ بسنہ خیطرہ  
والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلك قواما بہہ تم لوک تم یلہ خرچ کران  
چھہ مال یمن تھہ منز نہ چھہ زیادتی کران نہ چھہ کی کران بلکہ چھو تھند خرچ کران آسان تمین دون حالتن

مَعَ اللّٰهِ الْهٰٓخِرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا  
 بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اٰثَمًا ۙ ﴿۶۸﴾  
 يُضَعَّفُ لَهٗ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا ۙ ﴿۶۹﴾ اِلَّا مَنْ  
 تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ  
 حَسَنٰتٍ وَّكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۙ ﴿۷۰﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صٰلِحًا  
 فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ۙ ﴿۷۱﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَّ

منزباگ برابر برابر افراط و تفریط و راکی و الذین لایدعون مع اللہ الہاخر یہ ہم عبادت تہ پرستش  
 بہنہ کران خدا جس سیت بہی کانسہ معبودہ سز و لا یقتلون النفس الیٰ حرم اللہ الا بالحق یہ ہم  
 ناحق کانسہ شخص ماران تہ قتل بہنہ کران سمند مارن خدا میں حرام کورمت و چھو مگرے کانسہ شخصہ  
 تہہ مستحق آسہ سو چھ بادشاہ وقتہ سز کوم، عام لوکن ہنز گوہ نہ سو پنے نس اٹھس منزین۔ ولا  
 یزنون یہ ہم زنا بہنہ کران و من یفعل ذلک یلقی اثمًا نس اکھاہ سمسہ کانسہ کرہ یعنی شرک  
 بخدانہ، یہی قتل ناحق کرہ یہ زنا کرہ، چھ پاٹ منک مفرک کران آس سوتلہ تمیک سزا یضعف لہ  
 العذاب یوم القیامۃ و یخلد فیہ مہانا دو گناندہ یہی سندرہ خیرہ عذاب قیامتگ دوہ، یہی روزہ سوتہ  
 عذاب نس اندر ہمیشہ خوار تہ ذلیل۔ الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا مگر ہم شرک و معاصی نیشہ توبہ  
 گرن، ایمان انن، تویپتہ گرن رثرہ عملہ فاولیک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات نس تمن لوکن بدلا وہ اللہ  
 تعالیٰ گناہ جہنہ نیکن سیت و کان اللہ غفوراً رحیماً اللہ تعالیٰ چھو مغفرت کرہ ون۔ تمہہ موکھ مہانوان  
 جہنم گناہ۔ سینہاہ رحم کرہ ون تمہہ موکھ چھن تمن گنہو بدل نیکی۔ یہ اوس اوتان تمن لوکن ہندہ خیرہ ہم  
 گھرہ نیشہ توبہ کرن۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماون ہم با ایمان گنہو نیشہ توبہ کرن جہنم حال و من تاب  
 و عمل صالحا فانه یتوب الی اللہ متابا یہی نس با ایمان گنہو نیشہ توبہ کرہ، خدا نس ن رجوع عمرت  
 رثرہ عملہ گرہ یعنی آیندہ روزہ گنہو نیشہ چھ، سوتہ روزہ عذابہ نیشہ محفوظ۔ کیا زہ سوشخص چھو پھیران،



إِذْ أَمَرُوا بِاللَّعْمُورِ وَإِكْرَامًا ﴿۴۲﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ  
يَخْرُجُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعَيْنَانَا ﴿۴۳﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا  
مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿۴۴﴾  
أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿۴۵﴾

مُتَّوَجِّهٍ سِدِّ انْ خَدَائِسُ كُنْ۔ خاص طریقہ وَالَّذِينَ لَا يَتَّبِعُونَ الزُّورَ بِیہ تم شامل چھہ سِدِّ انْ ایزین تہ  
یہودہ معاملن تہ کھن اندر یعنی تم نہ ایزوتان چھہ۔ نہ ایز گوانہی ووان چھہ بچن۔ نہ لہو العجن تہ خلاف  
شرع مجلس منر گدھان چھہ وَ إِذْ أَمَرُوا بِاللَّعْمُورِ وَإِكْرَامًا بِیہ تم اتفاقاً، بلا قصد، لہو و لہب، فضول کامیو  
کن گڈران چھہ تمہ ساتہ چھہ گڈران شریفانہ طریقس منز تو کن التفات تہ خواہش کرنہ وراہی۔ وَالَّذِينَ  
إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعَيْنَانَا بِیہ بلہ تمن پنہ نس پروردگارہ سند یو آیا توسیت  
نصحت کرنہ یوان چھہ تمہ ساتہ چھہ تم زرہ تہ ان ہی و س پیوان بلکہ چھہ گوش و ہوش وارہ بوزان  
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ بِیہ چھہ پاٹھ تم پانہ وان اسلامک  
شیدائی چھہ پیٹھ پاٹ چھہ یرھان سان خُر باژ تہ گڑھہ دینک عاشق بن۔ چنانچہ دُعایہہ مَنگان ای سانہ  
پروردگارہ عطا کر اسہ بیہ پنہ نین زنانہ ہندہ طرفہ تہ اولاد ان ہندہ طرفہ سُو چیز سمہ سیت سانہ اچھہ  
شہلن تہ قرار رُن یعنی تم تہ کر چھہ دیندار، عبادت گذار تاکہ سانہ اچھہ شہلن تم و چھت وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا بِیہ کرتہ اسہ پر ہیز گارن ہند زبٹھ۔ یویلہ پنہ گڑک زبٹھ کورٹس میانہ گڑک باژ  
کر چھہ منٹی تہ پر ہیز گار بوسپدہ پایئ متقین ہند لام تہ زبٹھ۔ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ  
فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا یعنی لوکن بیہ مُروردنہ جنگ تھہ بگلہ۔ دُنیا س اندر دین و اطاعتس پیٹھ صبر کر نس  
تہ ثابت قدم روز نس بدل بیہ آسکھ تمن جتن منز ملاکن ہندہ طرفہ تعظیم تہ سلامہ کرنہ یوان  
خُلْدِينَ فِيهَا تمنی جتن اندر روزن تم ہمیشہ حَسَدَتْ مُسْتَقَرًّا أَوْ مَعَامًا کیاہ ر ژ جایاہ چھہ جنت روزنہ

خَلْدَيْنَ فِيهَا حَسَدَتْ مُسْتَقَرًّا أَوْ مَقَامًا ﴿۶۷﴾ قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ  
رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿۶۸﴾

خپړه ته بڼه خپړه قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ټپه فرماو و عام سارنی لویکن کن یار رسول الله  
میون پروردگارہ کره نه مخه قسمه کانه پروا هر گاه ټپه تسنن عبادت کرونه فَقَدْ كَذَّبْتُمْ تهقیق توپه کوروه  
احکام اللمین تم ایز زانت انکار فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا وون و جهو برو ننه پکن، سوا انکار ټپه ټپه توپه  
زنگن ولنه یعنی تمیگ سزاییه توپه ضرور ونه۔



## سُورَةُ الشُّعْرَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 طَسَّ ① تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْبَيِّنِ ② لَعَلَّكَ بَآخِعٌ  
 نَفْسِكَ ③ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ④ إِنْ تَشَاءُ نُنزِلْ عَلَيْهِمْ  
 مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ⑤  
 وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ  
 مُعْرِضِينَ ⑥ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مِمَّا كَانُوا بِهِ

طَسَّ سَمِ جَهْرٌ حُرُوفٌ مُقَطَّعَاتٌ سَمْنٌ بَمَدٍ مَعْنَى زَلَّ بِأَنَّهُ خُذَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْبَيِّنِ سَمِ  
 مَضَامِينِ سَمِ تَوْبَهُ يَبِيْطُهُ نَازِلٌ سَبْدَانِ جَهْرٌ، سَمِ جَهْرٌ آيَاتٌ تَمَّهٌ كِتَابِيَةٌ بَمَدٍ يُوَسِّعُ سُوْرُوِي نُرَاوَهُ وَنَ جَهْرٌ،  
 يُوْزَكِيَاهُ جَهْرٌ اِهْرُزْ كِيَاهُ جَهْرٌ - تَمِ لُوْكَ سَمِ بْرُزْ جَهْرٌ كِرَانِ، مَتَّ كَمْرَتِنَ - نَهْرٌ كِيَازُهُ جَهْرٌ يُوْتُ غَمَلِكِنِ سَبْدَانِ  
 لَعَلَّكَ بَآخِعٌ نَفْسِكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ شَائِدٌ نَهْرٌ مَاتِرَاوِيُوْنِ هَنْزٌ تَهْرٌ بَنْ پَانِ سَمِيَّةٌ غَمَّةٌ سَمِيَّةٌ كَمِ  
 كُوْنُهُ جَهْرٌ اِيْمَانِ اِنَانِ يَهْرٌ قِرَاْنِ مَجِيْدِسَ - نَهْرٌ مَهْرٌ كَهْبِيُوْمِيْكَ غَمِ اِنْ تَشَاءُ نُنزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ  
 آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ هَرْ گَاهِ اَسْ يَهْرٌ تَهْرٌ كَرُوْكَ جَبْرًا مُسْلِمَانِ يَهْرٌ پَاثِ كَمِ اَسْ  
 سُوْرُوْتَمِنِ يَبِيْطُهُ اَسْمَاكِهِ طَرْفُهُ اَكْ نَشَاْنَاهُ سَمِيَّةٌ سَمِيَّةٌ تَمِنِ اِخْتِيَارِي سَلْبِ سَبْدِهِ - تَهْمَزُهُ گِرُوْنَهُ تَمِنِ بِنُوْنِ كُنِ -  
 چَاْرَهُ لِكْحِيَّةٌ نَهْ كِيْنِيَّةٌ تَهْ اِيْمَانِ اِنْدِ وِرَايِ - مَكْرَ اَسْ گِرُوْنَهُ تَهْ - كِيَازُهُ تَهْ كَرْنَهُ سَمِيَّةٌ جَهْرٌ نَهْ اَزْمَا كِيْشِ تَهْ اِخْتِمَانِ  
 بَاقِي رُوْزَانِ مَكْرَ تَمِنِ هَنْزِ حَالْتِ جَهْرٌ كَمِ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ  
 مُعْرِضِينَ جَهْرٌ وَاْتَانِ تَمِنِ نَشْبِ حَضْرَتِ رَحْمَانِ سَبْدِهِ طَرْفُهُ كَانَهُ لَصِحْتَاهُ وِعَظَاهُ، نُوُوْتُهُ تَاَزَهُ مَكْرَ تَمِ جَهْرٌ  
 تَمِيَّةٌ نَشْبِ تَهْرٌ بَهْرُ اِنِ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ چِنَانِچِهِ يُوْتُ يَبِيْطُهُ وَاِثْرُ  
 نُوْبِتِ كَمِ سَمُوُوُوْنِ قِرَاْنِ مَجِيْدِ جَهْرٌ اِهْرُزْ اِعْرَاضُكُ هَبِيْرِ سَمِ دَرَجِهِ جَهْرٌ - اَتَهْرُ كُنِ نَظْرُ كَرْتِ وُوْنَجْهِ يَهْ

يَسْتَهْزِءُونَ<sup>۱۱</sup> أَوْلَهُمْ يَرَوْنَ إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ  
 ذَوْجٍ كَرِيمٍ<sup>۱۲</sup> إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ<sup>۱۳</sup>  
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ<sup>۱۴</sup> وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ  
 أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ<sup>۱۵</sup> قَوْمَ فِرْعَوْنَ الْأَيُّقُونَ<sup>۱۶</sup> قَالَ رَبِّ  
 إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَيِّدَ بُونُ<sup>۱۷</sup> وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي  
 فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ<sup>۱۸</sup> وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ<sup>۱۹</sup>

جھو اپن۔ امہ علاوہ کمرکہ اتھ قرآن مجیدس ٹھٹھ۔ وون وائے تمن نشہ خبر تمہہ حقیقتھ سم ٹھٹھ  
 کران آس یلہ عذابس گر فاردوھن اولہم یروالی الارض کم انبتنا فیہا من کل ذوج کریم کیاہ  
 سمو وچھنایت زمیں کن کہ کاتیاہ رتین رتین گلین ہند قسم کھا راسہ امہ زمینہ منزہ۔ ان فی ذلک لآیۃ  
 بیشک چھہ اتھ منزسانہ قدر تک نشانہ وماکان اکثرہم مؤمنین مگر سمو اندرہ چھہ اکثر سم نہ پڑھی  
 کران چھہ۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم ہنر پات ٹھند پروردگار جھو سیٹھاہ غالب سیٹھاہ رحمتہ وول  
 واذ نادى ربک موسیٰ تمن لوکن فرماوو تمہہ وکج قصہ یٹھ تم عبرت رٹن۔ یئلہ آلوذیت ٹھند  
 پروردگارن موسیٰ کلیم اللہس ان انت القوم الظالمین کہ تبلیغ کرنہ گدھو نا فرمان قوس قوم فرعون  
 یعنی فرعونہ سندس قوس الایقون کیاہ کھوژان چھنا تم سانس قہرس تہ غضبس۔ کیاہ پٹھ روزن  
 نا تم سانہ نا فرمانی نشہ۔ قال رب انی اخاف ان یکید بون حضرت موسیٰ ان دوپ خدایا بو جھوس گدھنہ  
 خیطرہ تیار مگر بیم جھم زہ تم مازن مہ اپز یور ویضیق صدری سمہ سمیت سپدہ تنگ دل میون ولا  
 یطریق لسانی مہ پھورنہ زیوہ کنی فارسیل الی ہارون کس سوز کھناژہ وحی میانس برادر ہارونس۔  
 سوتہ کرہ ہن پیٹیر تو پتہ پچہ ہا سوتہ مہ سمیت۔ ہر گاہ تم اپز یور زانہ ہن سو کرہ ہامہ تصدیق ولہم علی  
 ذنب فآخاف ان یقتلون بیہ جھومہ بیاکھ عرض کہ مہ پیٹھ جھو ٹھند اکھ جرمہ۔ مہ جھو خطرہ گدھان  
 تمہہ موکھ مازن تم مہ قال کلا اللہ تعالیٰ ان فرموس تہ بہ نہ ہرگز۔ ژہ بیکی نہ اتھہ لاگت کانہ۔

قَالَ كَلَّا، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿۱۵﴾ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ  
 فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ أَنْ أُرْسِلُ مَعَنَا نَبِيٌّ إِسْرَائِيلُ ﴿۱۷﴾  
 قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿۱۸﴾  
 وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۹﴾ قَالَ فَعَلْتَهَا  
 إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿۲۰﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي  
 رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۱﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ

اسہ کمر عطا ہارون علیہ السلا مس یغبری فاذھبا بایتنا انا معکم مستمعون پس گدھو توہیہ دوشوے  
 میان آیات ہتھہ آس تہ چھہ نصرت و امداد کرنہ خیطرہ توہیہ۔ سیت بوزان تہند گفتگو فاتیافرعون  
 فقولا انا رسول رب العالمین نھس واتو تہدہ دوشوے فرعونس نشہ۔ توپتہ ڈیوس اس دوشوے  
 چھہ ژہ گن یغبر پروردگار عالینہ سدہ طرفہ دعوت توحیدس سیت یہ حکم ہتھہ آمت کہ ان ارسیل معنا  
 بنی اسرائیل آزاد کر کہ ژہ بنی اسرائیل ظلمہ نشہ بہہ وہ ژہ تمن اصلی وطن شامس گن اسہ سیت  
 گرھہنہ۔ تم دوشوے گئے فرعونس نشہ۔ تس واتو وکھ یہ پیغام۔ فرعون بوزہ یہہ سارے تھہ توپتہ  
 دو تھہ موسی علیہ السلا مس گن اوہ ہو۔ تھہ چھوہ حض آمت۔ قال الم تر ربک فینا ولیداً ولبثت فینا  
 من عمرك سینین فرعون دو ٹھس ژہ ما چھگ سوی ٹھس اسہ زیوہ ونہ پانہ پیٹھہ پرورش کمر مڑ چھہ۔ بہہ  
 روڈ کہ ژہ اسہ نشہ پنہہ عمرہ ہندین وارہین و رہن و فَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ یہہ  
 کوڑت ژہ سو بڑم ٹھس ژہ کوڑتھہ (یعنی اکھ قبطی، سانہ قومگ اکھ شخص مور تھن) بہہ چھٹھہ ژہ توپتہ تہ  
 گھر ان نعمت کرہونیو اندرہ سان احسانات چھی نہ یادے۔ بہہ چھو کہہ از آمت مہ پٹن تابع بناونہ خیطرہ  
 قَالَ فَعَلْتَهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ موسی علیہ السلا من دو ٹھس واقعی مہ کمر سبو حرکت، مہ گنیہ سو  
 غلطی۔ عمد اکورنہ مہ سو شخص قتل بلکہ کر یومہ تس تہزہ غلطی پیٹھہ تہنہہ مگر سو موڈ تھی سیت۔ قصد  
 مورنہ مہ سو فَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ توپتہ بلہہ توہیہ

۲۳ ان عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۲۴ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۲۵  
 قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۲۶  
 قَالَ لِمَنِ حَوْلَهُ آلَاتُكُمْ ۲۷ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ  
 الْأَوَّلِينَ ۲۸ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۲۹  
 قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۳۰

کھو ژس یو ژولس توہمہ نشہ۔ بس کمر مہ عطاہن پروردگار عقل، علم تہ دانشمندی بیہ کورس یو پیغمبر و  
 اندرہ وِتِلْكَ نِعْمَةٌ كُنْتُمْ بِهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ کياہ بیہ چھا کانسہ نعمتھاہ سمیک ژہمہ پیٹھ احسان  
 چھو کہ تھاوان کہ میون قوم بنی اسرائیل بنو تھن ژہ بن غلام۔ تم تھاو تھکھ ژہ بدس ذلتس تہ ظلمس  
 اندر۔ تھندین لوکھن اوسکھ ماران۔ تھی موکھ ترودھس یو صندوقس منز دریاؤس اندر۔ ژہ برو تھکھن بلہ  
 یو پوگس ژہ کھور تھس یو تہ پتہ کمر تھم پرورش۔ امہ پرورشہ ہند اصلی وجہ چھو چون ظلم۔ امہ پرورشہ  
 ہند کياہ چھو کہ ژہمہ پیٹھ احسان تھاوان۔ بلکہ پڑہ ہی ژہ پنہ نین ناشایستہ حرکاتن تہ کچھ کائین پیٹھ نادام  
 تہ پشیمان سپدن۔ چھہ خبر کاتیاہ لوکھ مار تھکھ ژہ کوتاہ خون ناحق کوز تھ ژہ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ  
 الْعَالَمِينَ تھہ ڈالتھ دون فرعون سورت العالمین تھہ گوی۔ سمسدہ طرفہ تھہ سوزنہ آمت چھوہ قَالَ  
 رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ موسیٰ علیہ السلامن دوئس سوگو آسمانن تہ زمینن بیہ  
 تمہ سارگوی پروردگارہ تمہ منز باگ چھو۔ ہر گاہ توہم یقین کرن چھوہ تیلیہ چھوہ کافی پتہ رب العالمینہ  
 سُد قَالَ لِمَنِ حَوْلَهُ آلَاتُكُمْ فرعون لوگ ونہ تمہن لوکن سم تہس آتہ پک آس بہت چھوہ ناؤ زان  
 بیہ شخص کياہ چھو میانہ سوالک جواب وانان۔ میون سوال چھو کياہ تال، جواب چھو کياہ تال۔ قَالَ  
 رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ موسیٰ علیہ السلامن دوئس سو چھو تھند تہ بیہ تھندین مالین بدین ہند  
 پروردگار۔ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ فرعون لوگ دہنہ پنہ نین حاشیہ نشین کن  
 طعنہ دوان کہ بیہ تھند پیغمبر بس توہمہ کن سوزنہ آمت چھوہ چھو پز پاٹ موت تہ دیوانہ قَالَ رَبُّ

قَالَ لَئِن اِتَّخَذْتَ الْهَاجِرِي لَجَعَلْتَكُ مِنَ السَّجُونِ ۝۲۹  
 قَالَ اَوْ لَوْ جُنَّتْ بِشَىْءٍ مُّبِينٍ ۝۳۰ قَالَ فَاَتِ يَهَّ اِنْ كُنْتَ مِنَ  
 الصّٰدِقِيْنَ ۝۳۱ فَاَلْفَىْ عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تُعْبَانُ مُّبِينٌ ۝۳۲ وَتَزَعَّيْدَا  
 فَاِذَا هِيَ بِيضًا لِلنَّظِيْرِيْنَ ۝۳۳ قَالَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنَّ هٰذَا السَّجْرُ  
 عَلَيْكُمْ يُرِيْدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرٍ ۝۳۴ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ۝۳۵  
 قَالُوْا رَجِهْ وَاخَاهُ وَاَبْعَثْ فِي الْمَدٰٓئِنِ حٰثِرِيْنَ ۝۳۶ يَا تُوْكَ بِحُلِّ

الْمَشْرِقِي وَالْمَغْرِبِي وَابْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ دُوهُسُ سُوْهُوْ مَشْرُقٍ وَ مَغْرِبِكُ بِيَه  
 تَمَه سَارُكُوِي بِيَه تَهَّ دَرْمِيَانِ هُوْهُوْ رُدْرَاگَر - هَرگَاه تَوَهْمَه عَقْل هَهَه - تَمِي عَقْلَه سِيَت مَالُوِيَه تَهَّ قَالَ لَئِن  
 اِتَّخَذْتَ الْهَاجِرِي لَجَعَلْتَكُ مِنَ السَّجُونِ فَرَعُوْنَ وَوَتَه مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُنْ هَرگَاه تَهْمَه وَرَاي  
 بِيَاكُه مَعْبُوْدَاه طَهْرَاوَه بَن تَمِيَلَه سُوْرَت بُوْرَه قَيْد خَاسْ اَنْدَر - تَمَسْمَد قَيْد خَانَه اَوْس سِيَهَاه مَشْكَل - زَمِيَس  
 مَنزَاوَس اَكُه سَرُوْنَ هَجْمَا تَهَّ مَنزَاوَس دُوَان بَر تَهَّ قَيْدِس - تَمِيَه اَوْس سُوْمَرْ تَهَّ كَهَارَنَه يَدَا اِنْ قَالَ  
 اَوْ لَوْ جُنَّتْ بِشَىْءٍ مُّبِينٍ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ دُوهُسُ كِيَاه بُوْءَه تَه پَنَه نَسْ بُوْتَسْ پِيْطَه مَن دَلِيْل پِيْش گَرَه  
 تَوْتَه تَهْوَكَه تَهْمَه قَيْد خَاسْ مَنزَاوَس قَالَ فَاَتِ يَهَّ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ فَرَعُوْنَ دُوْجَه هَرگَاه تَهْمَه  
 پُوْرُوْنَه وَنِيُوْا اَنْدَرَه هَجْوَه كَمَر وَتَمِيَلَه دَلِيْل پِيْش فَاَلْفَىْ عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تُعْبَانُ مُّبِينٌ اَتِي تَرَاوَكُه مَن لَوْرَه بَن  
 هَهَه - كِيْدَم سِيْط تَهَّ وَارَه كَارَه بُوْذَا اَرْدَا - وَتَزَعَّيْدَا فَاِذَا هِيَ بِيضًا لِلنَّظِيْرِيْنَ بِيَه كُوْذَكُه نَالَه مَنزَه پَتُنْ  
 اَهَه - اَتِي اَدُوْ بُوْرَه سَارِنِي وَهَجَه وَنِيْن نِيْه نِيْه كَرَه وَن - لُوْكَ تَهَارَه تَه تَرَل قَالَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنَّ هٰذَا  
 السَّجْرُ عَلَيْكُمْ فَرَعُوْنَ لُوْگ وَنَه پَنَه نِيْن حَاشِيَه نَفْسِيْن، اَهْل دَر بَارَن، بِيْشَك بِيَه هُوْهُوْ رُوْر سِيَهَاه مَاهِر سَاجِر  
 يُرِيْدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرٍ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ اَمَسْمَد اِرَاوَه هُوْهُوْ كُه تَهْمَه كُوْذَه بِيَه پَنَه وَطَنَه مَنزَه هَسْ كِيَاه  
 هُوْهُوْ تَهْمَه مَشْوَرَه قَالُوْا رَجِهْ وَاخَاهُ وَاَبْعَثْ فِي الْمَدٰٓئِنِ حٰثِرِيْنَ تَمُوْدُوْهُسُ مَهْمَلَت دِه تَه اَهْس بِيَعْنِي مُوسَىٰ  
 عَلَيْهِ السَّلَامُ بِيَه اَمَسْمَدِس بَايَس - يَهْمَدِس مَارَسْ يَاقِيْد كَرَسْ اَنْدَرْمَه كَر تَه جَلْدِي - تَه سُوْرَت پَنَه نِيْن

سَحَارِ عَلَيْهِمْ ۖ فَجِئِمَ السَّحَرَةُ لِبَيِّنَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ ۖ وَقِيلَ  
 لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ۗ لَعَلَّنَا نَنْبِئُ السَّحَرَةَ إِن  
 كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۖ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِن  
 لَنَا لَأَجْرٌ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۗ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ  
 الْمُقَرَّبِينَ ۗ قَالَ لَهُمُ مُوسَى الْقَوْمَا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۗ  
 فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ  
 الْغَالِبُونَ ۗ فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۗ

مسلختہ کین مختلف شہرن کُن اک جماعتہا ہم ساحرن تہ جادوگرن سونبرن تہ جمع کُرَن یَأْتُواكَ بِحُلِّ  
 سَحَارِ عَلَيْهِمْ تم و اتاون ژہ نعمہ ساری مملکت سارہ تہ جادوگر فَجِئِمَ السَّحَرَةُ لِبَيِّنَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ تو  
 پتہ آی سونبرنہ ساری جادوگر تمہہ ڈوہہ کس و نفس پیٹھہ نُس مقرر کرنہ اوس آمت۔ سوگو کا جب وقت۔  
 ۱۰ المحرم روز عاشورائس تم یوم الزیبتہ، عید ہند دودہ اوس وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ بیہ آودنہ  
 مصرہ کین لوکن فرعونہ سندہ طرفہ کیاہ تجہہ تہ سپد یوہ جمع اتھہ جمعس سبت لَعَلَّنَا نَنْبِئُ السَّحَرَةَ إِن  
 كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ بیٹھہ آس فیصلہ کثرت جادوگرن ہنز پیروی کزوب ہر گاہے غالب سپد فَلَمَّا جَاءَ  
 السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ ادہ یلیہ سارہ آی تم لگ ونہہ فرعونس۔ آین لَنَا لَأَجْرٌ إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ  
 کیاہ اسہ میلیا ضرور مزور تہ انعام ہر گاہ آس غالب سپدو قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فرعون  
 ڈوپکھ اکھ مزور، بیہ سپد و تجہہ میانو مقر بوندردہ قَالَ لَهُمُ مُوسَى الْقَوْمَا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ حضرت موسیٰ  
 ان ڈوپ تم سحران تراو و کیاہ مجھوہ توہہ تراوان فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا  
 لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ توپتہ تراوہ تمہو پنتہ رزہ تہ پنتہ لورہ۔ سمہ جادہ کہ اثرہ سبت سرف، ہی معلوم سپدان  
 آس۔ بیہ لگ پنتہ فرعونہ سندہ اقبالک مجھوم قسم کہ اسی چھ زورس منز۔ فتح آسہ سانی فَالْقَى مُوسَى



فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ<sup>(٣٧)</sup> قَالُوا أَمْثَابُ رِبِّ الْعَالَمِينَ<sup>(٣٨)</sup> رَبِّ مُوسَى  
 وَهَارُونَ<sup>(٣٩)</sup> قَالَ أَمْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي  
 عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ هَلْ أَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ  
 مِنْ خِلَافٍ وَلَا وُصَلْبَتِكُمْ أَجْمَعِينَ<sup>(٤٠)</sup> قَالُوا الْأَضْيِرُّنَا إِنَّا إِلَى  
 رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ<sup>(٤١)</sup> إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ  
 الْمُؤْمِنِينَ<sup>(٤٢)</sup> وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِلَيْكُمْ مُتَّبِعُونَ<sup>(٤٣)</sup>

عصاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ توبه ترو موسى عليه السلام بن عصا حکم خدا۔ اتی ہیوت تم  
 تراوان تراوانی نیچھ لاوان تہ سوزوی یہ تموتیار کورمت اوس فَأَلْقَى السَّحْرَةَ لِمُجِدِّينَ یہ وجھتہ پئے  
 جادوگر و سٹھ سجدہ کس حاکس اندر قَالُوا أَمْثَابُ رِبِّ الْعَالَمِينَ دپنہ لنگ اسہ کمر پڑھ رب العالمینس۔  
 فرعون دوپک یہ چھو توبہ میونوی ونان تمودوئس رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ حضرت موسیٰ تہ حضرت  
 ہارونہ سندس پروردگارس قَالَ أَمْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ  
 فرعون دوپچھ توبہ چھوہ پڑھ کمر مرث حضرت موسیٰ اس میانہ حکم دنہ بروئس۔ پزپاٹ یہ چھوئند  
 بوڈسار۔ تم تہہ تہ پچھ نامت چھوہ بحر۔ وڈن سپدہ توبہ معلوم توبہ کیاہ بوہ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ  
 وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وُصَلْبَتِكُمْ أَجْمَعِينَ بوڈتہ تہند اتھ تہ کھور پھرت یعنی دچھن اتھ تہ  
 کھور کھور۔ یہ دم وہ تہہ ساری پھہہ قَالُوا الْأَضْيِرُّنَا تموسا حردوئس اسہ چھونہ تھ اندر کانہہ  
 نقصان تہ ضرر إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ اس چھہ بیشک پنہ نس پروردگارس نشہ واتہ ونن إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ  
 يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ اس چھہ یقینا امید تھاوان کہہ اسہ کرہ مغفرت پروردگارسون،  
 سائین سارنی گنہن۔ کیازہ اس چھہ گوڈی پڑھ کرہ ونن اس معبود برحقس۔ فرعونہ سدہ جماعتہ منزہ  
 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِلَيْكُمْ مُتَّبِعُونَ توبہ سوزاسہ حکم موسیٰ علیہ السلامس کہ نیرورات  
 گیت میان بندہ ہتھ یعنی بنی اسرائیل۔ پزپاٹ توبہ یہہ پتر دورنہ قَارِسَلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ

فَارْسَلْ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۵۳﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ  
 قَلِيلُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿۵۵﴾ وَأَنَا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ ﴿۵۶﴾  
 فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَدَّتِ وَعْيُونِ ﴿۵۷﴾ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ ﴿۵۸﴾ كَذَلِكَ  
 وَأُورِثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۵۹﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿۶۰﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ  
 الْجَمْعُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ الْمُدْرِكُونَ ﴿۶۱﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ  
 رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿۶۲﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

حَاشِرِينَ توپتے سوز فرعون شہن تہ گامن کن اکھ جماعتھاہ لوکھ سونبر نہ خیطرہ تہ تھے فوجس منز بھرتی  
 کرنہ خیطرہ۔ دپان اوسکھہ لائن ہؤلآء لشرذمۃ قلیون \* وانہم لنا لغایظون یہ موسی علیہ السلامہ سنز  
 جماعت ہتھہ سائین لوکن نسبت سیٹھاہ کم جماعتھاہ تھے ہجھہ آسہ تنگ کران تھک کھاران۔ وانالجمیعہ  
 حذرؤن بیہ ہجھہ آس ساری سلاح سامانہ پیرت اکھ فوجاہ اللہ تعالیٰ فرماوان فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَدَّتِ  
 تہ یعنی فرعون تہ تہنزہ لشکر مِّنْ جَدَّتِ وَعْيُونِ کموکمو باغو تہ ناگہ راڈو منزہ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ  
 بیہ کموکمو خزانو منزہ بیہ نفیس نفیس لریو جایو آندرہ کذالک اکھ گویہ وَأُورِثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ  
 تہ لرین جاین تہ باغن ہند مالک بنی اسرائیل فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ چنانچہ فرعون تہ تمسنز جماعت  
 تہ لشکر دورے بیہ تمن پتہ توپتہ وات تمن نضہ آفتاب کھسجہ وقتہ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ توپتہ یلہ  
 دوشون جمائون اکھ اکس پیٹھ نظر بیہ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ الْمُدْرِكُونَ دہنگ موسی علیہ السلام سہد  
 لوکھ آس آی تہدس آتھس اندرؤن کیاہ بنہ قَالَ كَلَّا موسی علیہ السلامن دوکھ تہ بنہ ہر گرگنہ  
 صور تھس اندر۔ آسہ ہیکن نہ تم ہر گزر تھہ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ہنز پات مہ سیت ہتھو میون پروردگار  
 سؤ ہاوہ مہ امہ دریاوہ اندرہ نیرنج وتھہ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ مہس سوز آسہ لحم  
 موسی علیہ السلامس کہ تھہ لایوہ اورہ سیت دریاوہ کس آتھس تھنڈ۔ اتی لای تموتھنڈ دریاوس فَاثَلَّتْ فَكَانَ  
 كُلُّ فِرْعَوْنَ كَالْقُرْطُ الْعَظِيمِ اتی سپد دریاوس باہ حصہ۔ پر ہتھہ حصاہ اوس یوڈ یوڈ کوہا بیو۔ وَأَزَلْنَاهُمْ

فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿۳۶﴾ وَاذْلَقْنَاهُمْ الْاٰخِرِيْنَ ﴿۳۷﴾  
 وَاَجْبِنَا مُوسٰى وَمَنْ مَعَهٗ اَجْبَعِيْنَ ﴿۳۸﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخِرِيْنَ ﴿۳۹﴾  
 اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۴۰﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ  
 لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۴۱﴾ وَاَتٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اِبْرٰهِيْمَ ﴿۴۲﴾ اِذْ قَالَ لِاِبْنَيْهِ  
 وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۴۳﴾ قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنٰمًا فَاَنْظِلْ لَهَا عَافِيْنَ ﴿۴۴﴾  
 قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ﴿۴۵﴾ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ ﴿۴۶﴾  
 قَالُوْا بَلِ وَّجَدْنَا الْاٰبَاءَ نَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ﴿۴۷﴾ قَالَ اَقْرَبِيْتُمْ مَّا

الْاٰخِرِيْنَ توپتے وائے تاواسطہ مجھ تو تنہی بیا کہ جماعت یعنی فرعون تہ تہنزل لشکر وَاَجْبِنَا مُوسٰى وَمَنْ مَعَهٗ  
 اَجْبَعِيْنَ بیہ ڈیت اسمہ نجات موسیٰ علیہ السلام تہ بیہ تم تمن سیت آس تمن سارنی تم اَغْرَقْنَا  
 الْاٰخِرِيْنَ توپتے پھاؤ اسمہ دو تم جماعت یعنی فرعون تہ تہنزل لشکر اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً پز پاپا اتھ منز  
 پھو خدا یہ سندہ قدر تک بوڈ نشانہ تھ پاپا گو غرق فرعون تہ تہنزل جماعت وَاَمَّا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ  
 آسنہ تموزہ زیادہ با ایمان وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ بیشک تھند پروردگاری پھو سیٹھاہ رحمتہ  
 وول، سیٹھاہ غالب گر فقاہ پھونہ کران مگر پنن دلیل تہ جتت پورہ کتر تھ وَاَتٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اِبْرٰهِيْمَ بیہ  
 بوزہ تاویو کہ حض ستم کافر حضرت ابراہیمہ سند قصہ اِذْ قَالَ لِاِبْنَيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُوْنَ یلیہ تمودوپ پنہ  
 نس سانس بیہ پنہ نس قومس بیہ تھہ چھوہ تھہ پرستش کران قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنٰمًا فَاَنْظِلْ لَهَا عَافِيْنَ تموزہ  
 دوئس آس چھہ عبادت کران پوتلین ہنز توپتے چھہ تمنی برو تھہ کنہ عبادتس منز دوہ کڈ اران قَالَ هَلْ  
 يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ ابراہیم علیہ السلام دو چھہ کیاہ سم چھا تھند بوزان یلیہ تھہ تمن کینہہ منگان  
 چھوہ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ کیاہ بیہ چھا تم توہر پرستش کر نس پیٹھ کا نہہ نفعاہ وائے تاوان با پرستش نہ  
 کر نس پیٹھ کا نہہ ضرراہ وائے تاوان۔ تمودوپگ یہ تھہ چھہ کہ یم کیاہ چھہ کینہ بوزان۔ یا نفع تہ ضرر

كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۵۰﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿۵۱﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ  
 لِيَ الْآرَبِ الْعَلِيِّنَ ﴿۵۲﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿۵۳﴾ وَ  
 الَّذِي هُوَ يَطْعَمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿۵۴﴾ وَإِذَا أَرْضَتْ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿۵۵﴾  
 وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿۵۶﴾ وَالَّذِي أَطْعَمَ أَنْ يَخْغُرَ لِي  
 خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿۵۷﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَارْحَمْنِي بِالضَّالِّينَ ﴿۵۸﴾  
 وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿۵۹﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ

واتناوان۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بلکہ وجہہ اسہ بن مال بڈب بٹھہ پاٹھ تمن پر ستش  
 کران قال اقریبتم ما كنتم تعبدون \* انتم و اباؤكم الاقدمون ابراہیم علیہ السلامں دوٹھہ ٹہہ و چھوہ  
 تمن ہنز حالت بغور تمن ٹہہ پر ستش کران چھوہ بیہ تمن ہنز پر ستش ٹھند مال بڈب کران آس۔ تم  
 ماٹھہ کنہ نفع و ضررک اختیارہ وال فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ الْآرَبِ الْعَلِيِّنَ بیشک تم معبودان باطل ہجھہ  
 میانہ حٹھہ باعث ضرر تہ نقصان۔ ٹھندہ حٹھہ تہ ہجھہ تم باعث ضرر تہ نقصان۔ غرض تہنز عبادت نیس  
 کرہ تسندہ حٹھہ ہجھہ تم باعث ضرر مگر نہ عالمین ہند پروردگار۔ سو ٹھو پتہ نین عبادت کرہ و نین ہند  
 دوست۔ تہنز عبادت کران ہجھہ باعث نفع تہ فائیدہ۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ تم بو پیدہ کورس  
 بیہ تم ساری پیدہ کورسوی ٹھو مہ میانین مصلحتن کن و تھہ ہاوان وَالَّذِي هُوَ يَطْعَمُنِي وَيَسْقِينِ بیہ نیس  
 مہ کھیوان تہ چاوان ٹھو وَإِذَا أَرْضَتْ فَهُوَ يَشْفِينِ بیہ یلہ بو بیمار پیوان ٹھوس سوی ٹھم ہلراوان تہ  
 شفا دیوان وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ بیہ نیس مہ اٹھہ دوہنہ مارہ توپتہ کریم دوبارہ بیہ زندہ قیامتک دودہ  
 وَالَّذِي أَطْعَمَ أَنْ يَخْغُرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ بیہ ہجھہ تمسنز مہ سیٹھاہ امید کہ سوکرہ مہ مغفرت  
 میانین گو نمن قیامتہ کہ دوہنہ۔ تم صفات و کمال خداہ سند بیان کران کران سپدا ابراہیم علیہ السلامں  
 حضورک مقامہ حاصل توپتہ ہیو ٹھہ مناجات کرن رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَارْحَمْنِي بِالضَّالِّينَ ای میانہ  
 پروردگارہ عطا کر مہ کمال علم بہ کمال عمل۔ بیہ ملناومہ قر بہ کن ٹھندین مقامن اندر۔ نیوکار ہندن

وَرِثَةَ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿۸۷﴾ وَأَغْفِرْ لِي رَبِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۸﴾  
 وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿۸۹﴾ يَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا  
 مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۹۰﴾ وَأَزْلَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۹۱﴾  
 وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ ﴿۹۲﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيَّمَاكُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۹۳﴾  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَبْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ﴿۹۴﴾ فَلَئِكُمْ فِيهَا  
 هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿۹۵﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿۹۶﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا

سیت، عالیشان انبیاءان سیتِ وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدِّقٍ فِي الْآخِرِينَ بیہ تھا میوں ذکر خیر پتہ ادہ  
 ونین اندر بیہ تم میان متابعت کرن، میانی و تہ یکن۔ مہ بہ تہ سیت زیادہ ثواب وَأَجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ  
 جَنَّةِ النَّعِيمِ بیہ کرمہ نعمتہ کین جنن ہند یو وارثو آندرہ وَأَغْفِرْ لِي رَبِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ بیہ  
 کر مغفرت میانس ماس ایماک توفیق دت کیاز سو چھو بیشک گر ہو آندرہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ  
 بیہ مہ مندہ چھادمہ قیامتجہ دوہہ سیمہ دوہہ ساری یکن بیہ زندہ کمرت قبر و منزہ تلمنہ۔ تمہ دوہے مول میوں  
 کافر ن سیت ووتھہ، جہنم سوزنہ بیہ سو چھہ میانہ خیطرہ سخت بے عزتی يَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ  
 سیمہ دوہہ نہ کانہ نفع تہ فاسیدہ دیہ نہ مال تہ نہ خُر مجر إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مگر فائدہ بہ تہ  
 ئس بیہ بیہ اللہ تعالیٰ اس بروٹھہ کن اور وللاہ، ئس دل، شر کہ نشہ، بگھر نشہ، نفاقہ نشہ تہ خلاف شرع  
 بیچھ عقاید و نشہ پاک آسہ وَأَزْلَفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ بیہ سیمہ دوہہ بیچھ بیہ انہ جنت پر ہیز گارن نشہ  
 وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ بیہ سیمہ دوہہ نیہر کڈنہ بیہ جہنم کمر ہن تہ کافر ن ہندہ خیطرہ وَقِيلَ لَهُمْ أَيَّمَا  
 كُمْ تَعْبُدُونَ \* مِنْ دُونِ اللَّهِ بیہ ایہ وننہ تہن کتہ چھوہ تم معبودان باطل تہن ہنز جہہ پرستش کران  
 آسوہ خدا ئس و رای هَلْ يَبْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ کیاہ تم بیچھ کوہ توہہ از کینہہ مدد کمر تھہ یا توہہ سیت  
 رُوِزَتِ يَلِيَّاسُ بیچھہ کانہہ فائدہ و اتا و تھہ، پُن پان بیچھہ بچاوت فَلَئِكُمْ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ توپتہ یکن  
 بیچھہ کن تراونہ تم معبودان باطل تہ تم گمراہ لوکھہ تہ تم تہنز پرستش کران آس نار جہنم س اندر وَجُنُودُ

يَخْتَصِمُونَ ﴿۹۶﴾ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۹۷﴾ اِذْ سُوِيْكُمْ بِرَبِّ  
 الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۸﴾ وَمَا ضَلٰكُنَا اِلَّا الْبُجُوْمُوْنَ ﴿۹۹﴾ فَمَا لَنَا مِنَ الشُّفَعٰيْنَ ﴿۱۰۰﴾  
 وَلَا صِدْقٍ حٰمِيْمٍ ﴿۱۰۱﴾ فَلَوَ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۲﴾  
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۳﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ  
 لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۴﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ اِلٰلِهٰرِسَلِيْنَ ﴿۱۰۵﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ  
 اٰخُوهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۰۶﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ﴿۱۰۷﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ

اِبْلِيسَ اٰجْمَعُوْنَ بے پیر تراوے جہنمیں اندر ابلیسہ سز ساری لشکر قَالُوا وَهُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُونَ دین تم  
 کافر یلہ تم نار جہنمیں اندر پنے نین معبودان باطلن سیت آسن گفتگو تہ ہرہ ہر کران تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي  
 ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ قسم خدا پڑ پاٹ آس آس نہ گمراہی پیٹھ اِذْ سُوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ یلہ اسمہ عباد آس منز  
 پروردگار عالمیں سیت توبہ برابر تھاوان آس وَمَا ضَلٰكُنَا اِلَّا الْبُجُوْمُوْنَ آس کمر نہ گمراہ مگر سمو بڈیو  
 جرموسم اصل پاٹ گمراہی ہمد بانی آس فَمَا لَنَا مِنَ الشُّفَعٰيْنَ \* وَلَا صِدْقٍ حٰمِيْمٍ وون چھو نہ سائے خیطرہ  
 کانہ شفاعت کرہ وناہ ئس اسمہ موکلاوہ ہا۔ بے نہ چھو اسمہ کانہ ولی دوستاہ ئس سون غم کھیہ ہا شریک غم  
 سپدہ ہا۔ فَلَوَ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وون ہے اسمہ بے دنیاء س گن وا ئس سوزہ بن آس بے ہو با  
 ایمانواندرہ یوتان گو ختم ابراہیم علیہ السلامہ سند تقریر۔ اسمہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ  
 لَاٰيَةً پز پاٹ پیٹھ قصص منزتہ چھو یوڈ نشانہ خدا یہ سندہ قدر ٹک پیہ بڈ عبرت حق ژھانڈہ و نین ہمدہ  
 خیطرہ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ بے آس نہ تمو مکہ کیو کافر و آندرہ زیادہ لوک با ایمان وَاِنَّ رَبَّكَ  
 لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ بے چھو یقینا ٹھند پروردگار سیٹھاہ زبردست تہ غالب۔ تمن بیجہ ہاسو گر قمار عذاب  
 کمر تھ۔ سیٹھاہ رحمتہ وول تہ چھو۔ تمی چھو مہلت ووان۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ اِلٰلِهٰرِسَلِيْنَ ساری پیغمبر  
 پز زانتہ کورا انکار نوح علیہ السلامہ سند قوم سنہ (اکس پیغمبر س انکار کزن گوساری پیغمبر س انکار کزن)  
 اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ یلہ تمن وون بای بن نوح علیہ السلامن، کیاہ ٹہہ چھوہ نا کھو ژان

أَطِيعُونَ ﴿۸۸﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ  
 الْعَالَمِينَ ﴿۸۹﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۹۰﴾ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ  
 الْأَرْذَلُونَ ﴿۹۱﴾ قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۲﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ  
 إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿۹۳﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۴﴾ إِنْ أَنَا  
 إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۹۵﴾ قَالُوا لَيْن لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحٌ لَتَكُونَنَّ  
 مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿۹۶﴾ قَالَ رَبِّ إِنْ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿۹۷﴾

خدا نَسِ اِنِّي لَمْ رَسُولٌ اَمِيْنٌ بيشک بو چھوس توہہ کن امانتدار بنیمبر۔ خدا یہ سُنَد پیغام چھوس بو توہہ  
 و اتنا وان پورہ پورہ کی زیادتی و رای۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا نَسِ کھوژ تو خدا نَسِ بیہ مائو میون حکم تھہ  
 منز تھہند فائیدہ چھو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ بو چھوس نہ توہہ مگان تبلیغہ خیرہ کا نہ مزوریہ اِنْ  
 أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میان مزور چھہ کا نہ مگر رب العالمین و رای فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
 بیہ چھسوہ و نان کھوژ تو خدا نَسِ بیہ مانو میان تھہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ تمولو کو دو نَسِ کیاہ  
 اَسِ کرو یہ ژہ پڑہ۔ حالانکہ چان پیر و چھہ کینہ لو کہ۔ شریفن چھو عار گنہان تمن سیت موافقت  
 کر نَسِ اندر قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حضرت نوحن دو چھہ مہ کیاہ چھہ خبر تمن ہنز کام نہ  
 کاروبار کیاہ چھو۔ دینس اندر چھہ شریف نہ کین برابر اِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ تمن نشہ  
 حساب ہیون چھہ میانس پروردگارہ سنز گوم۔ کیاہ رت گنہہ ہاہر گاہ توہہ زائن چھہ ہا وَمَا أَنَا  
 بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ بوہیکنہ ہرگز پانس نشہ دور کمرت با ایمان تہہ اَسُو یامتہ انتو اِنَا اِنَّا اِنَّا نَذِيرٌ  
 مُبِينٌ بو چھوس صاف صاف نتن پانہ بیم کرہون میون فرض منصبی چھو پورہ سپدان۔ تہہ و چھوپانہ  
 پن نفع و نقصان قَالُوا لَيْن لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحٌ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ تمودو نَسِ ای نوح ہر گاہ ژہ  
 پتہ روز کھنہ سمو کھون نشہ تیلہ پچہ ژہ ضرور سنگسار کرنہ۔ تو پتہ یلہ واریاہ کال گو تمن تھہ پاٹ اصرار  
 کران گھر و انکار س بیٹہ قَالَ رَبِّ إِنْ قَوْمِي كَذَّبُونِ حضرت نوحن کور دُعای میانہ پروردگارہ

فَأَقْتَرَبْتَنِي وَبَدَيْتَهُمْ فَتَحًا وَنَجِيًّا وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۸﴾  
 فَأَنْجَيْتَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿۱۱۹﴾ ثُمَّ أَخْرَقْنَا بَعْدُ  
 الْبَاقِينَ ﴿۱۲۰﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۱﴾ وَ  
 إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۲﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ بِالْمُرْسَلِينَ ﴿۱۲۳﴾ إِذْ  
 قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۲۴﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۲۵﴾  
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۲۶﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ

میون قوم چھونہ میون کینہہ تہ مانان فَأَقْتَرَبْتَنِي وَبَدَيْتَهُمْ فَتَحًا نہس کرژہ مہ منزتہ تمن منز کانہہ فیصلاہ۔ یعنی تم کڑکھ عذابس گرفتار وَنَجِيًّا وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تمہہ عذابہ نشیر دہہ نجات بہہ تمن لوکن تم مہ سیت چھہ بایمانواندرہ فَأَنْجَيْتَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ نہس کوراسہ ہندس دُعاس اجابت۔ نجات دیت اسمہ نوح علیہ السلامس بہہ تمن تم تمن سیت آس تھہ ناوہ اندریوسہ ، لوکو، حیوانوتہ جانوروسیت برت آس ثُمَّ أَخْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ توپتہ پھاٹواسہ باقی ساری اِنِّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ بیشک تھہ واقفس منزتہ چھہ ہڈ عبرت باوجود آل آس نہ تمہو مکہ کیوکافرواندرہ زیادہ بالیمان وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیشک چھو توہندوی پروردگار سیتھاہ غالب سوہیحہ ہاتمن گرفتار کثرت تہ سزاوت مگر سوچھو سیتھاہ رحم کرہ ون۔ تھی چھو سو تمن مہلت ودان كَذَّبَتْ عَادٌ بِالْمُرْسَلِينَ قوم عاذن تہ کور انکار۔ سارنی پیغمبرن۔ تم اپزیران تھہ۔ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ یلہ تمن فرموو بای پین ہود علیہ السلامس، کیاہ تہہ چھوہ نا کھوژان خدا نہس پز پاپٹ بوچھوس توہہ گن پیغمبرہ امانت دار فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا نہس کھوژو تہہ خدا نہس بہہ کمر و میان فرمانبرداری وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ بوچھو سونہ منگان توہہ امہ خیطرہ کانہہ مزوریہ یا کانہہ عوضاہ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میان مزور چھنہ کانہہ مکہ رب العالمینس ورا۔ اَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيٍّ آيَةً تَعْبَثُونَ کیاہ توہہ چھوہ پرستھہ تھڑہ جایہ پیٹھہ اکھ عمارتہ تہ



الْأَعْلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۷﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيٍّ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿۱۲۸﴾ وَ  
 تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿۱۲۹﴾ وَإِذَا ابْطِثْتُمْ بَطِثْتُمْ  
 جَبَّارِينَ ﴿۱۳۰﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۳۱﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا  
 تَعْلَمُونَ ﴿۱۳۲﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنٍ ﴿۱۳۳﴾ وَجَدَّتْ وَعْيُونِ ﴿۱۳۴﴾ إِنِّي  
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۳۵﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ  
 أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿۱۳۶﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳۷﴾ وَمَا

یادگار ہنواں یہ چھوہ اھ بہودہ کاہہ کران سمیگ نہ کانہہ فاندہ چھو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ یہ چھوہ چیرہ کرہ لہدان حالانکہ امہ خونہ کم جاین بیکہ ہاتوہہ آرام حاصل سیدت، زن توہہ ہتھ ذنیاع سی اندر ہمیشہ چھوروزن وَإِذَا ابْطِثْتُمْ بَطِثْتُمْ جَبَّارِينَ یہ یلہ توہہ کانہہ بیٹھ اتھہ تراوان چھوہ تیلہ چھون سوزان ظالمانہ تہ جابرانہ، چونکہ شرک تہ بیچہ اخلاق چھہ خدائس ناپسند۔ سمو چیزوسیت سید یونہہ عذابس گرفتار فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا لیس کھوژو خدائس یہہ ماؤمیون، کیاڑہ بوچھوس تھہہ پیغبر۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ یہہ کھوژوئس خدائس سم توہہ مدد کورودہ سمو چیزوسیت سم تھہہ زانان چھوہ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنٍ \* وَجَدَّتْ وَعْيُونِ مدد کورونہہ چارپاوعسیت، اولادوسیت یہہ باغو تہ ناگہ رادوسیت۔ نعمو عطا کرہون لیس آسہہ ہنر گڑھہ فرمانبرداری کرن تھہدین حکمن گڑھہ نہ مخالفت کرن إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مہ چھو خوف تہ اندیشہ تھہہہ حقہ کہ ہرگاہ تھہہ پتھ روزونہ نافرمانیوئسہ اللہ تعالیٰ کرودہ تلہہ گرفتار بڈہ دُخس عذابس سوگو قیامتک دودہ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ سمو لولو کوڈوپ ہس جواب آسہہ نشہ چھو دوشوے تھہہ برابر۔ ژہ وعظ پرتہ یا متہ پرتہ۔ آس روزونہ پنہ نیو کامیوئسہ پتھہ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ یہہ وعظ و نصیحت کمر تھہ کھوژہ ناؤن۔ یہہ چھونہ مگر بروئسہمین لوکن ہند عادت۔ پرتھہ و قس منز آی لو کہ ہنوئگ دعواے دتھہ تہہ تھہ دنان۔ ژہ چھوک آسہہ عذابس کھوژہ ناوان وَأَنْعَمُ بِمَعْدِيَيْنِ آسہہ لیہ نہ ہرگز عذاب

فَنُحْنُ بِعَدْبَيْنَ ۱۳۸ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ط  
 مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۱۳۹ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ط  
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۱۴۰ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ ضِلْعُ الْاِثْتَقُونَ ۱۴۱  
 ائِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اٰمِيْنٌ ۱۴۲ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنِ ۱۴۳ وَاَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ  
 مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عِلِّيُّنَ ۱۴۴ اَتُرْكُوْنَ فِيْ مَا هُمْ تَا  
 اٰمِنِيْنَ ۱۴۵ فِيْ جَنَّتٍ وَّعِيُوْنٍ ۱۴۶ وَزُرُوْعٍ وَّوٰغِلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ۱۴۷  
 وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ يُّوْتًا فَرِيْحِيْنَ ۱۴۸ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ ۱۴۹

کرنہ کیجئے۔۔۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَهُمْ یہں زون تموسو یعنی ہود علیہ السلام اپز زیور۔ ادہ گال اسہ تم لوکھ  
 عذاب صرصرہ سیتہ اِن فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً وَا مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ بیشک آتھہ معاہلس منز چھہ  
 بڈ عبرت کہ احکام الہین منز مخالفنگ انجام کیاہ چھو آسان۔ باوجود اَن آس نہ مکہ کیو کا فر و اندرہ زیادہ  
 ایمان نہ ون وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیہ چھو پز پات ٹھنڈوی پروردگار سیٹھاہ غالب سوہیجہ ہاتمن  
 عذابس گرفتار کر تھہ۔ مگر سو چھو سیٹھاہ رحم کر ہون۔ تمی چھو مہلت دوان کَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ  
 قوم ثمودن تہ زان پیغبر اپذیر اِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ ضِلْعُ الْاِثْتَقُونَ یلہ تمن وون بای پن صالح علیہ  
 السلامن کونہ چھوہ کھوژان خداہس ائِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اٰمِيْنٌ ہنز پات بو چھوس ٹھنڈ امانتدار پیغبر  
 فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ یہں کھوژو خداہس بیہ مانو میون وعظ و نصیحت وَاَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ  
 بو چھوس نہ توبہ منگان وعظ و نصیحت کر نس پیٹھ کانہہ مزوریاہ تہ عوضاہ اِن اَجْرِي اِلَّا عِلِّيُّنَ  
 میان مزور تہ عوض چھونہ کانہہ پیٹھ مہر رب العالیس وراے۔ اَتُرْكُوْنَ فِيْ مَا هُمْ تَا اٰمِنِيْنَ کیاہ تہہ ایوہ  
 تراونہ دنیاء کین چیزن اندر بے فکر فِيْ جَنَّتٍ وَّعِيُوْنٍ یعنی باغن تہ ناگہ رادن منز وَزُرُوْعٍ وَّوٰغِلٍ  
 طَلْعُهَا هَضِيْمٌ بیہ زراعتس تہ خضر باغن منز تمن ہنڈ میوہ چھو لطیف۔ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ يُّوْتًا

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۵۱﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿۱۵۲﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۵۳﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۵۴﴾ قَالَ هَذِهِ نَارُ اللَّهِ لَأَشْرُوبَ وَلَكُمْ شَرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ ﴿۱۵۵﴾ وَلَا تَسْهَوْا بِسُوءِ مَا أَخَذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۵۶﴾ فَعَقَّرُوهَا فَاصْبِحُوا نَادِمِينَ ﴿۱۵۷﴾ فَاخَذَهُمْ

فِرْهِينَ یہیہ چھوہ کھن کھن کو ہن منزہ تہہ گرہ ہناوان، خوش پاٹھ، تھکیان تھکیان۔ توہہ چھوہ خبر یوہے حال روزہ ہمیشہ فَاذِقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ہس کھوڑو خدا ہس بیہ مانو میون وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ بیہ مہ یوزو تمن لوکن ہنزہ کتھہ تم نافرمانی اندر حدہ ڈلت چھہ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ تم زم زمیس پیٹھ تباہی چھہ کران، مگنہ قسیمہ اصلاح چھہ کران قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ تموکا فرودوہس اسہ چھوڑان فخرہ ژہ چھوی جود کر نہ آمت۔ سمہ سیت عقلہ اندر فتور چھوی آمت۔ پیغمبری ہند دعوے چھو کہ کران مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ژہ چھو کہ نہ مگر آس ہیو اکھ انسانہ۔ انسان چھا پیغمبر آسان قَاتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ادہ ہاوتہ اسہ کانہہ نشانہ چھو گے ژہ یوزونہ و نیو آندرہ قَالَ هَذِهِ نَارُ اللَّهِ لَأَشْرُوبَ وَلَكُمْ شَرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ صالح علیہ السلام دو چھہ یہ وونین یوسہ ٹہنزہ خواہشہ مطابق میانہ دعاء سیت خدا من کہ پلہ منزہ پیدہ کمر۔ یہ چھو میانس پیغمبر آس پیٹھ بوڈ نشانہ تہ دلیل۔ اسندین حقوفن ہند کمر زہ خیال۔ اسندہ خیطرہ چھہ اکہ دوہہ تریش چھن وار۔ بیہ گنیہ ٹہندین جانورن ہندہ تریش چھن وار۔ بیہ دوہہ وَلَا تَسْهَوْا بِسُوءِ مَا أَخَذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ بیہ گنہنہ ٹہند گنہنہ تمکلیف واتاونہ خیطرہ ہس اتھہ تہ لاگن۔ ہر گاہہ کورودہ توہہ تیلہ رُؤہہ توہہ اکہ ہڈہ ہگ عذاب۔ تمونہ کور تہندہ رسالتک تصدیق نہ کور کہ اس دوونٹہ ہند کانہہ رعایت فَعَقَّرُوهَا بلکہ مارتموسو وونین نکہ نارژٹھ۔ توپتہ سپد تمن آثار عذاب ظاہر فَاصْبِحُوا نَادِمِينَ تم وچھت سپد تم نادم تہ پشیمان۔ فَاخَذَهُمُ الْعَذَابُ تمہ پتہ رٹ تم عذابن تمیک تمن وعدہ تھاونہ اوس آمت۔ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ

الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۵۸﴾  
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۵۹﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۶۰﴾  
 إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۶۱﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۶۲﴾  
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۶۳﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ  
 إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۴﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۵﴾ وَ  
 تَذُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿۱۶۶﴾  
 قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿۱۶۷﴾ قَالَ إِنِّي

پزپاٹ بیٹھ واقس منزتہ پتھہ بڈ عبرت وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ باوجود آل اُون نہ ایمان مکہ کیو  
 اکثر لوگو وَلَئِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ پزپاٹ تہند پروردگار پتھو سیٹھاہ غالب۔ سنوی یڑھہ  
 ہاتمن سارنی کرہ ہاعدانس گرفتار۔ سو پتھو سیٹھاہ رحمتہ وول تمہ سببہ دژن تمن مہلت كَذَّبَتْ قَوْمٌ  
 لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ قوم لوطن تیزان پیغمبر آپزیز۔ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ یلہ تمن ڈوپ  
 ہن ہای لوط علیہ السلام کیا تہہ پتھوہ ناخذانس کھوژان إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ بیشک بو پتھوس تہند  
 مانندار پیغمبر۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ہنس کھوژو تہہ خداانس بیہ سکر و تہہ میان اطاعتت نہ  
 فرمانبرداری۔ میانبو ہدایا تو موجب پتھو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ بو پتھوسونہ منگان توہہ امہ وعظ و  
 نصیحتہ خیطرہ کانہ مزور۔ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ میان مزور پتھنہ مطہ کانہہ رب العالمین  
 ورا۔ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ کیا تہہ چھوہ ساری دنیا منزہ مردن نکھ ییت ہن شہوت پورہ  
 کران وَ تَذُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بیہ چھوکھ تہہ پتھہ زنانہ سمہ تہند پروردگارن تہندہ خیطرہ  
 پیدہ گرہ مرہ پتھہ نظر انداز کران بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ تہہ پتھوہ واقعی حد انسانیتہ نشہ ڈلہ ون قومہ قَالُوا

لِعِبْلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿۱۳۸﴾ رَبِّ يَجْنِي وَأَهْلِي وَمَن يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾ فَجَبَّيْنَاهُ وَ  
 أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۴۰﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِينَ ﴿۱۴۱﴾ ثُمَّ دَرَمْنَا الْآخِرِينَ ﴿۱۴۲﴾  
 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءً مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿۱۴۳﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً  
 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۴۴﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴۵﴾  
 كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۴۶﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا  
 تَتَّقُونَ ﴿۱۴۷﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۴۸﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا عَمْرُو

لَئِنْ كُنْتُمْ تَتَّقُونَهُ يَلُوطُ التَّكْوُنَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ یہ لکس دہنہ تم لو کہ اے لوط ہر گاہ نے ژہ پتھ روز کہ اسہ نصیحت کرنے نشہ تیلہ کیک ژہ ضرور سمہ شہرہ منزہ نمیر کڈنہ قَالَ لوط علیہ السلامن دو پچھ بو چھوس نہ تہنہزہ امہ دھمکی سبہ توہہ نصیحت کرنے نشہ پتھ روزہ ون کیا ژہ اِنِّي لِعِبْلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ بو چھوس ضرور تہنہزہ سمہ پچھ کامہ ہند سخت دشمن۔ مہ چھو خطرہ خبر تھہ بلا یہ گوہو تہہ گرفتار۔ رَبِّ يَجْنِي وَأَهْلِي وَمَن يَعْمَلُونَ ای میانہ پروردگارہ مہ تہ میانین خاص متعلقین وہ نجات تمہ پچھ کامہ ہندہ سزاء نشہ یوسہ یم کزن۔ فَجَبَّيْنَاهُ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِينَ ہس ڈیت اسہ نجات لوط پتھہس یہ تہندین خاص متعلقن سارنی اکس مجہ زنانہ ورا ی یوسہ ات روزوزن والین منز۔ یعنی لوط علیہ السلامہ سزہ آشین ثُمَّ دَرَمْنَا الْآخِرِينَ تو پتہ گال اسہ باقی ساری وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا یہ تراوہ اسہ تمن پیٹھ کنہ رودک پاٹھ فَسَاءً مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ہس کوتاہہ پچھ اوس تمن لوکن ہند رود تمن گوڈہ خدلیہ سدہ عذابک بیم کرنے آیو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ہنہز پات اتھ واقفس منز تہ چھہ بڈ عبرت وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ باوجود آل اون نہ ایمان مکہ کیوا اکثر کافرو وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ یہ چھو ہنہز پات تہندوی پروردگار سیٹھاہ زور آور۔ سُوہیمہ ہاتمن سارنی گرفتار عذاب کسرت۔ سُوہ چھو سیٹھاہ رحمتہ وول تمہہ موکھہ وژنکھ مہلت۔ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ اپوزان انیکہ والیوتہ پیغبرہ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ یلہ تمن دُپ شعیب علیہ السلامن تہہ چھوہ ناخدا ہس کھوژان اِنِّي لَكُمْ

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۸۰﴾  
 أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿۱۸۱﴾ وَزُونُوا بِالْقِسطِ  
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿۱۸۲﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
 مُفْسِدِينَ ﴿۱۸۳﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَيَلَةَ الْأُولَىٰ ﴿۱۸۴﴾  
 قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۸۵﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا  
 وَإِنْ نَطَّلُكَ لَئِن الْكَذِبِينَ ﴿۱۸۶﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ  
 إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۸۷﴾ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸۸﴾ فَكَذَّبُوهُ

رَسُولٌ آمِينَ ہز پات بو چھوس تہد امانتار پیغمبر فاتقوا اللہ واطیعون کس کھو ژو خدا کس بیہ ماہو  
 میون و عظ و نصیحت و مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ۔ بو چھسوہ نہ مگان توہم اتھ پیٹھ کا نہ مژوریاہ تہ ہد لاہ  
 إِنْ آمِرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میان مژور چھنہ کا نہ مہ رب العالمین وراى اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا  
 تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ بو چھسوہ توہم وناں تہہ آسو پور بیناں۔ ہرگز مہ آسو لوکن چھون مینتھ  
 نقصان و اتاوان و زُونُوا بِالْقِسطِ الْمُسْتَقِيمِ بیہ آسو رت پاھنن تزکرہ سیت ٹولان۔ ڈنجہ  
 مہ آسو ماو دووان۔ ہرمانہ مہ آسو چھن تھواون و لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ بیہ مہ آسو لوکن ہندین چیزن  
 منز کی کران و لَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بیہ مہ آسو تھان ملکس منز قنتہ تہ فساد و اتقوا الَّذِي  
 خَلَقَكُمْ وَالْحَيَلَةَ الْأُولَىٰ بیہ آسو کھو ژان کس خدا کس سم تہہ تہ پیدہ کر ڈہ بیہ تم ساری لوکھ تم  
 توہم برو تھہ آس قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ تمولو کو کو دو پھس ای شعیب ژہ پیٹھ چھو بو ڈجوڈ کرنہ  
 آمت۔ سمہ سیت چاہہ عقلہ چھو فتور آمت تمی چھو کھ کران نبوتک دعولے۔ ژہ کیاہ خصوصیت چھہ  
 سانہ خوتہ و مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَطَّلُكَ لَئِن الْكَذِبِينَ ژہ چھوک اسی ہیو اکھ انساناہ آس چھت  
 ژہ زانان ضرور اپزونہ و ہوا ندرہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ کس تراوہ ناوتہ

فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظَّلَاةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۸۹﴾  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۹۰﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ  
 لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۹۱﴾ وَإِنَّهُ لَنُنزِلُ رُبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۹۲﴾ نَزَلَ بِهِ  
 الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿۱۹۳﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ لِبَلْسَانَ  
 عَبْرِيٍّ مُّبِينٍ ﴿۱۹۴﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُجُرِ الْأُولَىٰ ﴿۱۹۵﴾ أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَةٌ أَنْ  
 يَأْتِيَكُمُ الْعِلْمُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۹۶﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿۱۹۷﴾

اسم پیٹھ آسمان اگھ جھلاہ جھو کے ڈھ پوزونہ و نیو آندرہ۔ اسم سپرہ معلوم کہ واقعی جھو کہ ڈھ پیٹھ۔ قال  
 رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ حضرت شعبن دو جھ میانس پروردگار س جھ پور خبر تہنزن ساری کامین ہنز  
 کلابوہ فَاخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظَّلَاةِ کس یلہ تمو حضرت شعیب علیہ السلام تہ زون اپزورادہ رث تم  
 سانبانہ کہ دوہک عذابن۔ ابرس اکس تل آی ولنہ تمی منزہ پوتن پیٹھ نازک رُود تمی سیت دد تم  
 ساری إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ یہ اوس لہم بڈہ دُبک عذابہ تمن پیٹھ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةٌ پز پات  
 اتھ منز جھ عبرت وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ باوجود آل کرنہ مکہ کیوا کثر لو کو پشہ وَإِنَّ رَبَّكَ  
 لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیشک جھو تہند پروردگار سیٹھاہ غالب۔ سوئی یڑھہ ہاتمن محہ کین لو کن تہ گاہا۔ سو  
 جھو سیٹھاہ رحمتہ وول۔ تمی دژ لکھ مہلت وَإِنَّهُ لَنُنزِلُ رُبَّ الْعَالَمِينَ یہ جھو بیشک یہ قرآن مجید  
 پروردگار عالینہ سہہ طرفہ نازل کرنہ آمت نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ یوہے ہتھہ ووتھہ امانتدار ملکھاہ  
 اگھ سانہ حمہہ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ تو پتہ تر وون تہند س دس پیٹھ ہتھہ توہہ سپر یوہہ بیم  
 کرہ و نیو آندرہ بِلِسَانِ عِبْرِيٍّ مُّبِينٍ یوہے قرآن مجید جھو صاف عربی زبہہ فصیح وبلغ وَإِنَّهُ لَفِي  
 زُجُرِ الْأُولَىٰ بیشک یہ جھو آمت امہ قرآن مجید ک ذکرہ کرنہ بو ٹھین کتامن اندر أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَةٌ أَنْ  
 يَأْتِيَكُمُ الْعِلْمُ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ کیاہ تہندہ خیطرہ جھنا یہ کتھہ یوڈ نشانہ تہ بڈ دلیل کہ زانان جھہ اتھ قرآن  
 مجیدس یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیلن ہد عالم وَاَوْ لَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ \* فقراہ

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۹﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ  
 الْمُجْرِمِينَ ﴿۳۰﴾ لِيُؤْمِنُوا بِهِ حَتَّىٰ يُرَوِّعَ آدَابَ الْإِلِيمِ ﴿۳۱﴾ فَبَيَّنَّا لَهُمْ  
 بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۲﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿۳۳﴾  
 أَقْبَعَدْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۳۴﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿۳۵﴾ ثُمَّ  
 جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۳۶﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَعْوُونَ ﴿۳۷﴾  
 وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْبَىٰ إِلَّا هَا مُنْذِرُونَ ﴿۳۸﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا

عليهم ما كانوا مؤمنين بیه ہر گاہ نازل کرہ ہوں اس یہ قرآن مجید کانسہ عجبی شخص بیٹھ سوی یلہ  
 تم ن بیٹھ ہر ان آسہا س یہ انہ ہن نہ تم لو کہ ایمان عبادہ منو کہہ۔ کذالک سلکنہ فی قلوب  
 المجرمین نتیجہ پاٹ وھو اسہ انکار پکہ نوومت نافرمان ہندین وکن اندر لایؤمنون بہ حتی  
 یرو العذاب الایم تم کرن نہ پڑھ تھہ قرآن مجیدس یوتان نہ ڈیشن کڈر عذاب مر نکہ وقتہ یا عالم  
 برزخس منزیا آخرتس اندر فیاتیہم بغتہ وھم لاشعرون سوی عذاب پیکھ واتھہ ہجھہ تہ معہ۔ تم ن  
 ترہ نہ فخری یہ عذاب کتہ آوتہ کپار آؤ۔ فیلوواهل عن منظرورن تمہ ساتہ زپن کیاہ اسہ بیہ  
 نامہلتھہ ونہ۔ مگر تمہ ساتہ نہ آسہ وقت مہلتگ نہ قول ایمانگ اقبعدا بنا یستعجلون کیاہ تم  
 چھاسانس عذابس جلد ژھانڈان سمیک مطلب وھو انکار کران آفریت ان متعناہم سینین \* ثم  
 جاءہم ما کانوا یوعدون ژری ونہہ آئی بوزونہ ہر گاہ اس تم ن مہلت وت فاندہ ٹٹناو کہ وارینکن ورن تہ تو  
 پتہ ولتہ تم ن سو عذاب سمیک تم ن وعدہ تھاونہ اوس یوان ما اغنی عنہم ما کانوا یستعون کیاہ نفع دیہ تم ن  
 کنیون ورنین ہند فاندہ ٹٹناون۔ وما اھلکنا من قریۃ الا ہا منذرورن بیہ کمر نہ اسہ کتہ شہرک لوک  
 ہلاک۔ مگر گوڈہ آئے تم ن نعرہ بیم کرنہ خیطرہ پیچہر۔ یلہ نہ تمومون آدہ آو تم ن عذاب سوزنہ ذکری  
 وما کنا ظالمین تم ن لو کن ژتیس پاونہ خیطرہ۔ اس اس نہ کانسہ نسبت ظلم کرہ وان و ماتت کتہ یو  
 الشیطان \* وما ینبغی لہم وما یستطیعون بیہ سپدنہ یہ قرآن مجید ہیتہ نازل شیطان ہم کائن نعرہ یوان



ظَلِيمِينَ ﴿٢١٩﴾ وَمَا تَزَكَّتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿٢٢٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا  
 يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢٢١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعُزُولُونَ ﴿٢٢٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ  
 اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢٢٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ  
 الْأَقْرَبِينَ ﴿٢٢٤﴾ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٥﴾  
 فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرِمَىٰ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ  
 الرَّحِيمِ ﴿٢٢٧﴾ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢٢٨﴾ وَتَقْلِبَكَ فِي السُّجُودِ ﴿٢٢٩﴾

چھہ نہ ہرہ تمن کہ یہ کتاب ہتھ کیاہن کیاہہ یہ کتاب چھہ ہیرہ پیٹھ ہون تان ہدایت۔ شیطان چھہ ہیرہ  
 پیٹھ ہون تان ضلالت و گمراہی۔ اتھ چھونہ تمن سیت واٹھے کاہنہ۔ نہ ہیکن تم یڑھ کتاب ہتھ دستھ  
 اِنھُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعُزُولُونَ کیاہہ تم چھہ یہ قرآن مجید ہوزنہ نشہ دور آمت تھانہ۔ تمن چھو امہ نشہ  
 ٹھور آمت کرنہ۔ لہذا چھو یہ قرآن مجید خدایہ سندی طرفہ توہہ پیٹھ نازل آمت کرنہ یارسول اللہ  
 فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ کس مہ حض کمر و عبادت تہہ معبود برحق  
 سیت ہیرہ کانہہ معبودہ سنز۔ تمہ سیت ایوہ توہہ تہ عذاب کرنہ حالانچہ توہہ اندر چھونہ نعوذ باللہ نہ  
 شرکگ احتمال نہ عذابک۔ مگر ہر گاہ بفرض محال توہہ نسبت یہ حکم آو کرنہ یئن ہنز چھہ کتھے کاہنہ  
 وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ای موکھ کمر و تہہ نیم گوڈھ چھہ آشناؤن پنہ نین  
 لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہیرہ نمر او تہہ شفقت و مہربانی ہنز چھہ تمن لوکن ہمدہ خیلرہ سمو تہنز  
 متابعت کمر با ایمان آورندہ ادہ تم آشنا آستن یا متہ آستن فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرِمَىٰ مِمَّا تَعْمَلُونَ ہر گاہ تم  
 لوکہ تمن توہہ نیم کوروہ تہنز نا فرمانی کرن ادہ تم تہہ آشنا آستن یا متہ آستن تہہ فرماو کھہ یو چھوس  
 تہنز ہ کامہ نشہ سیٹھاہ ہیزار۔ مہ چھونہ توہہ سیت کاہنہ لین دین تہ تعلق وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ  
 ہیرہ کمر و تہہ اعتماد تہ ڈکھ کس پروردگار س پیٹھ کس سیٹھاہ غالب تہ سیٹھاہ رحمتہ و ول چھو۔ تہہہہ تکلیف  
 واتاؤ ک مہ کمر و کانہہ اندیشہ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ کس پروردگار توہہ و چھان چھو نمازہ ک

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۲۲۰﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿۲۲۱﴾  
تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿۲۲۲﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿۲۲۳﴾  
وَالشُّعْرَاءُ يُتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۲۲۴﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ  
يَهَيِّمُونَ ﴿۲۲۵﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿۲۲۶﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

ووتھمہ وقتہ وَقَلْبِكَ فِي السُّجُودِ بِہِم سہمہ ساتہ تہہ نماز پرہ وین سیت کھسان وسان ھھوہ رُكُوع و  
بُجود کران ھھوہ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیشک ہنر پات اللہ تعالیٰ ھھو سو روی بوزہ ون، سو روی زانہ ون  
هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ای لو کو کیاہ بو کرودہ توہہ خبر شیطان کس پیٹھ ھھوہ وسان تَنَزَّلُ عَلَىٰ  
كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ وارہ بوز توہم ھھہ وسان تمہی پیٹھ تم گوڈہ پیٹھہ اپزیرہ تہ بدکار آسن یُلْقُونَ السَّمْعَ  
وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ سم شیطان ہمدہ خبرہ وھمہ وقتہ کن دار تھ ھھہ تمہ تھہ تہ خبرہ بوزان۔ تو پتہ  
لو کن تمہ خبرہ وھمہ وقتہ پنہ طرفہ واریاہ اپزملہ ناوت تمہ تھہ ونان۔ نبی کریمہ سُنَدَات بابرکات ھھو  
تمہ نَشْرُ مَسْرُاتہ پاک۔ امہ سیت سُد تمہن نَشْرُ کما تَنگ خُبہ دُور۔ پتھ رود شاعر تیک خُبہ تھہ مُتَعَلِق ھھو اللہ  
تعالیٰ فرماوان وَالشُّعْرَاءُ يُتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ بیت ونن والین ہنزہ وتہ ھھہ پکان تھہ تم وتہ ڈلمت  
آسن۔ یعنی بیت تہ خیالی مضامین ونن، باتہ پاتھہ یا عبار تہس اندر یعنی نظم یا نثر ونن ھھو تمہ لو کن ہند کار۔  
سم تھہ قہقہ ورا ی خیالی مضامین ونان آسن۔ تمہن مضمون نہ واقف سیت کا نہ تعلق آسہ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ  
فِي كُلِّ وَادٍ يَهَيِّمُونَ ژہ ھھہ کھنا و چھان اے مخاطب تم شاعر ھھہ خیالی مضامین ہندس پر ہتھ میدانس  
منز حیران۔ کھونت کھووان مضمون تلاش کرنے خیطرہ۔ بلہ تمہن کا نہ مضموناہ بان ھھو، چونکہ سو ھھو  
آسان اکثر خلاف واقع وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ تمہی سببہ ھھہ تمہ ونان تی یہ نہ تمہ کران ھھہ۔  
مضامین قرانیہ ہتھ ہتھہ بآس متعلق آسن تمہ ساری ھھہ محقق۔ خیالی ہرگز ھھہ تمہ۔ لہذا نبی کریم صلی  
اللہ علیہ وسلم شاعر ونن۔ یہ گو محض جنون تہ دیوانہ گی۔ اللہ تعالیٰ ان دژ تہ سانس نبی کریم صلی اللہ  
علیہ وسلم منظوم کلام کر کس پیٹھ قدر تھی۔ چوہمہ تمہن آیات کریمین منز آیہ شاعران ہنز مدمت

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا  
ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿۲۸﴾

کرنہ تھے منز آئی ساری شاعر۔ چونکہ بعضی شاعران ہند کلام چھو عینِ حجت، بیہ پور محقق۔ تمہہ موکھہ  
سکر اللہ تعالیٰ ان تم مستحق فرموانے والا الذین امنوا وعملوا الصالحات مگر نہ تم شاعر سمو خدا بس پڑھ  
سکر تھ رزہ عملہ گرہ و ذکرُوا اللہ کثیراً بیہ کرکھ یاد معبود برحقہ سُد بکثرت وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا  
ظَلَمُوا بیہ ہیوت تمو بدلہ کافر نیشہ پنے نیوشعر وسیت تم ن پیٹھ ظلم سپد نہ پتہ۔ کیا زہ کافر و اوس  
تم ن رنگارنگ ظلم و اتناومت لہذا ہیو تک تمو تمیک بدلہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ  
برونٹھ مکن زان ظالم سمو خدایہ سُد تہ پیغمبر خدایہ سُد حق یا حقوق العباد ظلم کثرت ضایع کمر کہ تھ  
انقلابہ چہ جایہ بن تم و اتناونہ، مرنہ پتہ۔ سہو جای گنیہ نار جہنم۔



## سُورَةُ النَّازِعَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 طَسَّتِ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ① هُدًى وَبُشْرَى  
 لِلْمُؤْمِنِينَ ② الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ  
 هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
 زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ④ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
 لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ ⑤

طَسَّسَ تم چھہ حروفِ مقطعات یکن ہند معنی زانہ پانہ خدا تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ تم آیات توہہ پیچھہ نازل کرنہ آئی۔ تم چھہ آیات کریمہ قرآن مجید ک تہ واضح کتابہ ہند هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ تم آیات چھہ بوڈ ہدایت تہ بذبشارت بالایمان ہندہ خیرہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ تم لوکن ہندہ خیرہ تم نماز چھہ برپا تھاوان یوسہ بدنی عبادت تو آندرہ ہند عبادت چھہ، بیہ تم زکوٰۃ چھہ ادا کران یوسہ مالی عبادت تو آندرہ ہند عبادت چھہ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ بیہ چھہ تم آخر تک پور یقین تھاوان نیس تر یواصولو آندرہ اکھ اہم اصول چھو۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ بیشک تم لوکہ پڑھہ چھنہ کران آخر کس تہنزن چھہ کابین دیت آسہ زینت تمی چھہ تم گمراہی منر بوڈ مت، حیران سپد مت۔ نہ چھہ تہند عقائد درست نہ اعمال۔ تمی چھنہ تم قرآن مجیدس تہ مانان تہ پڑھہ کران۔ لہذا تہ پڑھہ قرآن مجید چھو بالایمان بشارت دوان تہ پڑھہ چھو کافر ن وعید بوزہ ناوان اُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ تہ لوکہ گئے تم بیہندہ خیرہ پیچھہ عذاب چھو دنیا س اندر مرچہ وقتہ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ بیہ آسن تہ

وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۖ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ  
لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نَارًا اسأتیکم منہا بخبرٍ أو ایتکم بشہابٍ قبسٍ  
لعلکم تصطون ۙ فلما جاءها نودی أن بُورک من فی النار  
من حولها وسبحن اللہ رب العالمین ۙ یوموسیٰ إنہ أنا اللہ

آخر کس اندر سے زیادہ تاوان زد۔ کیا زہ تم واثن نار جہنم اندر سے منترہ نہ زانہ سے موکہ لن۔ وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ مگر بیشک تو میرے ہجرت سے قرآن مجید سے سیٹھاہ حمتہ والہس خدایہ سہ طرفہ اتاوانہ یوان۔ امہ نعمت کس سرور سے اندر سے سپرد و نہ ہرگز ممکن إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نَارًا شریس یاو و تمہہ و تک قصہ یلہ موسیٰ علیہ السلام دوپ پنے نس عیاس یلہ تم شہر مدینہ پیٹھہ والہس یوان آس تو پتہ وات کوہ طور سے قریب آس جلیہ سردی ہمدہ وقتہ یلہ تمن مصریح و تھہ اتھہ آس نہ یوان۔ دوپیک واقعی مہ و چھہ کوہ طورہ طرفہ نارہ اکھ زواتان سأتیکم منہا بخبرٍ أو ایتکم بشہاب قبس لعلکم تصطون تھہ ٹھہرو۔ بوگوشہ توتش۔ یو یوودہ و تہ ہنز کانہ خبراہ ہتھہ۔ تہ تموودہ یوانہ رہاہ ہتھہ نثر زان پتھہ۔ تھہ تھہ تہو سے دشیر کھرو فلما جاءها نودی کس یلہ تم اتھہ نارس بھہ تہ وات، تمن گنیہ خدایہ سہہ طرفہ آواز أن بُورک من فی النار و من حولها ییہ آواز کہ تم ہتھہ نارس منزہہہ ملا نیکو آندہہ تمن پیٹھہ سے آسن برکت، تم اتھہ نارس آندہہ پک ہتھہ یعنی موسیٰ علیہ السلام تمن پیٹھہ سے بوئن برکت یہ چھو دوا بطور تحیت و سلام ہتھہ پاٹھہ انہ وول، یا کس زبہ یوان ہتھہ، سو چھو سلام کران۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اوس نہ معلوم کہ یہ نور چھو انوار الہی۔ تمہہ مٹوکھہ ہیوک نہ تمو تعظیم بجائت۔ اللہ تعالیٰ سہہ طرفہ سپدہ ہمدہ آنسہ خیرہ سلام و دوا ارشاد و سبحن اللہ رب العالمین منترہ سے پاک چھو معبود برحق، عالین ہند رب، حدود و زبہ، مقدارہ زبہ، رگ و زبہ۔ یہ نور کس تھہ و چھان چھوہ، یہ چھو تمو قیود و سیت مقتیدہ لہذا چھونہ یہ ذات باری تعالیٰ۔ یوموسیٰ إنہ أنا اللہ العزیز الحکیم ای موسیٰ بو چھو س معبود برحق۔ کس کلام کران چھو بے کیف، سیٹھاہ عزتہ وول

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۹) وَالْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ  
 وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَٰمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيْ  
 الْمُرْسَلِينَ ۱۰) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَبًا بَعْدَ سُوءٍ فَأِنِّي  
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۱۱) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضًا مِنْ  
 غَيْرِ سُوءٍ فَمَنْ تَسِعَ إِلَيْتِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا  
 قَوْمًا فَاسِقِينَ ۱۲) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا

سیٹھاہ رحمتہ وول وَالْقِ عَصَاكَ ای موسیٰ ژہ ترا وحض بہن لورہ ہن پتھر۔ سمویان سو تراؤ پتھر تہہ  
 بنیواژدھا فلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ اتی یلہ تہہ لورہ گن وچھ تمو، سمو وچھک حرکت کران سرفہ  
 سدپاٹ۔ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ حضرت موسیٰ ژول تھر پھرت۔ پوت نظر تہہ ڈرکھ نہ۔ اللہ تعالیٰ  
 ان فرموس یٰمُوسَىٰ لَا تَخَفْ اے موسیٰ کھوژمہ آسہ کبریٰ ژہ عطا پیغمبری اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيْ  
 الْمُرْسَلِينَ خلعت پیغمبر عطا سیدت چھنہ مہ بروٹھ کنہ پیغمبرا گھن چیزن، یم تہنہ نہ نبوت ورسالتہ  
 دلیلہ آسن، کھوژان۔ یعنی کھوژن لکھ نہ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَبًا بَعْدَ سُوءٍ فَأِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
 مگرے کانہ ہندہ دستہ کیہنہ قصور تہ لغزش لبہ آمر آسہ تس پیہ یاد سول لغزش توپتہ کھوژہ، تہہ چھوٹہ  
 کانہہ مضائقہ۔ لیکن تہہ متعلق تہہ چھوہیہ قاعدہ کہ اگر کانہہ ہندہ طرفہ کانہہ قصور لبہ ایہ توپتہ بدلاوہ  
 سوٹھ کنہ نیکی تہہ ژہ کامہ سیت یعنی گناہ کثرت کرہ توبہ بوچھوس تہند توبہ قبول کران تہندین گنہن  
 مُعَافِ کران۔ کیاہہ بوچھوس سیٹھاہ مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ ای موسیٰ اتھ عصاء کس  
 مُجْرَسِ سیت چھوسے بو بیا کھ مُجْرَسِ تہہ ژہ عطا کران سوگو کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضًا مِنْ  
 غَيْرِ سُوءٍ ژہ ترا اتھ بہن پنہ نس ناس منز، سونیری توره سفید پتہ نہ کرہ ون گنہہ قصورہ تہہ بیماری  
 ورا ی اِنِّي تَسِعَ إِلَيْتِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ تم دوشوے مُجْرَسِ تہہ تمو نوو و مجر و اندرہ تم بیتہ تہہ سوزنہ  
 یوان چھوہ فر عوس تہہ تہدس توس گن۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ کیاہہ تم چھہ حدہ ڈلہ و نیو لو کو

سَحْرُ مَبِينٌ<sup>(۱۳)</sup> وَجَحْدُ وَايِبَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا  
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ<sup>(۱۴)</sup> وَلَقَدْ اتَيْنَا دَاوُدَ  
سُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ  
الْمُؤْمِنِينَ<sup>(۱۵)</sup> وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمَنَا  
مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمَبِينُ<sup>(۱۶)</sup>  
وَحِشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِبِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَمَنْ يُوزَعُونَ<sup>(۱۷)</sup>

آندره فَاكْتَبَا لَهُمُ الْيَتْمَانَ مَبْرُورَةً اُدَّه يله وات تمن نشه سان آيات ته مُجْرَات سمه سبت تین اچمه  
مورنه آیه قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ دینر لگ یہ مھونون بحرا ته جوداه وَجَحْدُ وَايِبَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا  
أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا بیه کور تمو سمن آياتن انکار۔ حال بحیر یقین آس کر ان تھم پان کہ آيات  
بچھ واقعی خدایہ سندی طرف۔ مگر ظلمہ کن ته تکبره کن آسنه اقرار کران فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُفْسِدِينَ نھس وھو جوبھ کياھ آسہ بیچھ انجام مفسدن ہند۔ دنیاء س اندر سزاع غرق، آخر تس اندر  
سزای حرق وَلَقَدْ اتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا پز پات بیه کور آسہ عطا داود علیہ السلام سہ سلیمان علیہ  
السلام شریعتک ته پادشاہی ہند بو د علم وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ تمو  
دوشوی دوپ شکر و شاتہ حمد یون تس معبود بر حقس تم اسمہ فضیلت دیت پنہ نبو ہند و آندره وار تھن پیٹھ  
وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمَنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جانشین سپد سلیمان  
علیہ السلام داود علیہ السلام تھم ہدہ انتقالہ پتہ۔ بیه دوپ سلیمان علیہ السلام، ای لو کو آس آی پکھنا  
ونہ تھہ جانورن ہنزہ بیه امہہ ورا ی تین پادشھن میسر سپد۔ بیه آد آسہ عطا کرنہ تمو ساروی چیز و آندره سمن  
ہنز آسہ ضرورت آس، مثلاً فوج، لشکر، مال و دولت، آلات حرب وغیرہ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمَبِينُ  
پز پات بُوہے گو اللہ تعالیٰ سدنون فضل وَحِشْرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِبِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَمَنْ يُوزَعُونَ  
بیه بوسہ لشکر اہ جمع آیه کرنہ سلیمان علیہ السلام سہہ خیطرہ تھہ لشکرہ منز آس جن، انسان ته جانور سم

حَتَّىٰ إِذْ اتَّوَعَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا  
 مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِبَنَّكُمْ سَلِيمٌ وَجُودَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۸﴾  
 فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ  
 نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا  
 تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكِ الصَّالِحِينَ ﴿۱۹﴾ وَتَفَقَّدَ  
 الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَىٰ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿۲۰﴾

نہ بیہ کانسہ پادشہس مخر کر نہ امت آس۔ تھے آس قاعدہ موجب وارہ وارہ ٹھہر او ٹھہر اویوان پکاندہ  
 ہتھ تم تہ واتن برو ٹھہرن سیت حَتَّىٰ إِذْ اتَّوَعَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ حتی کہ بلہ واژسٹو لشکر یہ میدا س اندر  
 قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ ٹھہر یہ ڈوپ ہاریو، جلد آڑو پتہ نین آلین منز لَا يَحْطِبَنَّكُمْ  
 سَلِيمٌ وَجُودَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٹھہر سلیمان علیہ السلام تہ تہنز لشکر بجزی اندر تو بہ ماڈہ لہہ مونجہ  
 گرہ۔ یہ نوز سلیمان علیہ السلام۔ فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا تمولما وڈٹھ بیہ اوسکھ اس رہ ہنزہ یہ  
 تھ وٹہ سیت۔ بیہ کوزک تجب اس رہ ہندیوت لوکٹ جسم آتھ امہ قسچی ہشیاری تہ گانہ جازک۔  
 چنانچہ ہن فوج روٹھ پتھ یوتان سارے رہ ژا لیہ آلین منز۔ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ  
 الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ سلیمان علیہ السلام سدا احساس امہ نعمت کہ یووزہ نوس اللہ  
 تعالیٰ ان رہ ہند کلام۔ یہ نعمت تہ امہ ورا ی بیہ نعمہ ژتیس پیتھ مونگھ ڈعا کہ ای میانہ پروردگارہ توفیق  
 وہمہ بوکیا ڈہ چائین نعمون ہند شکر ہمیشہ۔ سمہ نعمو ژہمہ عطا کر پتھ بیہ میانس مالس ماجہ وَأَنْ أَعْمَلَ  
 صَالِحًا تَرْضَاهُ بیہ دم توفیق ہمیشہ رتھ عملہ کرنگ تکن پیٹھ ژہ راضی سپد کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي  
 عِبَادِكِ الصَّالِحِينَ بیہ واتناومہ پتہ رحمتہ سیت پنہ نین نیکو کار ہندن منز یعنی حضرات انبیاء ان منز  
 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ بیہ کورامہ دوہمہ معاینہ سلیمان علیہ السلام جانورن ہند تمہ ساتہ اوس سہ ٹت غیر  
 حاضر۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَىٰ دوٹھ مہ گس چیز سپد مان کہ بوٹھسن نہ سہ ٹت ڈچھان حاضر کیہہ



لَاعَدِبْتَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوَّلًا اذْبَحْتَهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۲۱﴾ فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَّتْ بِمَا لَمْ يُحْطِ بِهٖ وَ جِنَّتِكَ مِنْ سَيِّئَاتِنَا يٰقِيْنِ ﴿۲۲﴾ اِنِّى وَجَدْتُ اِمْرَاةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ﴿۲۳﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَرِيْنُ اِمِّ الشَّيْطٰنِ اَعْمَالُهُمْ فَصَدَّ هُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿۲۴﴾ اَلَا يَسْجُدُوْنَ لِلّٰهِ الَّذِى يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ

تہ کہ کان من الغائبین کنہ واقعى چھو سو غیر حاضر لاعدبته عذابا شديداً بۇ کره نۇس امه غير حاضرى خيتره سخت عذاب (تيره كندس لىمت) اولاد بحته ننه كرس كھش اولياتى بى سلطان مبین تے پیش کره مہ نشہ پنہ غیر حاضرى ہند معقول عذراہ تیلہ کروس درگذر فمکت غیر بعبید نھس رود تم اتھ حاکس منزکمہ سئی کالس کہ اؤسہ تھت۔ پد ژھہ ہس ژہ کیا زہ اوسکھ غیر حاضر بلا اجازت فقال احطت بما لم تحط به دوہن بو آس سووی تھہ معلوم کتر تھہ یوسہ نہ توہہ معلوم سپز مژ چھہ۔ و جنتک من سیئاتنا یاقین بو آس شہر سبا پیٹھہ آھہ تھقی خبرا ہیتھ ائی وجدت امراة تملکھم سیمک تفصیل چھو پیٹھہ پاٹھہ کہ مہ و چھہ زاناہ آھہ تمہ شہرہ کین لوکن حکومت کران۔ و اوتیت من کل شیء نھس چھو حکومتہ کیولوازمواندرہ سوڑوی کینہہ عطا کرنہ اومت و لها عرش عظیم بیہ چھوس تنہا آھہ سیٹھاہ پڑہ بوڑوی لعل و جواہر وسیت جہر تھہ وجدتھلوقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ بیہ و چھہ مہ سوزنانه بیہ تھہم قوم آفتابس سجدہ دووان تہ پرستش کران خدا نھس و رای وزین امم الشیطان اعمالهم فصدا هم عن السبیل فهم لا یھتدون بیہ چھو زینت و یمت شیطان تھنن گفرہ چن کا مین تھن چھہ پنہہ بیچھہ کامہ رژہ بوزنہ یوان۔ تم چھہ پیٹھہ رطمت شیطان سیزہ و تہ نشہ چھہ تہم پڑہ و تہ



حَتَّى تَشْهَدُونَ ﴿۳۲﴾ قَالُوا لَنْحْنُ أَوْلُوأَقْوَتَةٍ وَأَوْلُوأَبَائِيسٍ شَدِيدَةٍ  
وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرْ مِمَّاذَا تَأْمُرِينَ ﴿۳۳﴾ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ  
إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَظَةَ أَهْلِهَا آذِلَّةً، وَ  
كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿۳۴﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْهُ بِعَمِّ  
يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أَيُّدُونِ بِيَالٍ فَمَا

معرز لو کو تہہ ویو مشورہ مہ یتھ میانس معاملس اندر۔ میون کیاہ گڑھہ سلیمان علیہ السلا مس سیت یتھ  
معاملس اندر کرن ماکنت قاطعہ امرأحتی شْهَدُونَ بو تھس نہ زانمہ تہ عنہ معاملک فیصلہ  
کران یو تان نہ تہہ تہ مشورس شامل آسبو قَالُوا لَنْحْنُ أَوْلُوأَقْوَتَةٍ وَأَوْلُوأَبَائِيسٍ شَدِيدَةٍ تمودوئس آس  
چھہ پنہ طرفہ پریتھ وقتہ حاضر۔ ہرگاہ مقابلہ تہ جنگ کرنگ تجویز آسہ عمہ خیطرہ تہ چھہ آس تیار۔  
آس چھہ طاقتہ وال بیہ سخت قوتہ وال مقابلس اندر وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرْ مِمَّاذَا تَأْمُرِينَ مگر اختیار  
چھو تھی آتھ۔ تھی وچھہ کیاہ گڑھہ جان۔ ئس حکم تہہ کرکھہ آسہ آس چھہ تھہ حکمس کرنہ خیطرہ تیار  
قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَظَةَ أَهْلِهَا آذِلَّةً تمہہ بقیسہ دونھہ، یہ چھو  
پوز، مگر یتھ منزتہ چھونہ کا نہہ شھہ کہ پادشاہ یلہ کنہ شہرس منز فاتحانہ ازان چھہ تم چھہ تھہ شہرس تباہ  
کران بیہ چھہ تہہ کین معرزلو کن ذلیل کران، ذلیل لو کن بارس آنان۔ اسے تمن سیت مقابلہ کور۔  
ممکن چھو تہہ گڑھن آسہ پیٹھہ غالب۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ سم لوک تہہ کرن تی۔ لہذا چھہ مصلحت یہہ کہ  
تان تھاو آس جنگ کرن ملتوی۔ ویکئس چھومہ بوزنہ یوان کہ۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظُرْهُ بِعَمِّ  
يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ میان رای چھہ واتان کہ بوسوزہ تمن نغہہ کینہہ تھہ۔ تو پتہ وچھہ بوتیمک جواب  
کیاہ ہتھہ بین تم شخص سمن آتھہ آس سُو ہدیہ سوزو فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أَيُّدُونِ بِيَالٍ تو پتہ یلہ  
قاصدوت تم تھہ ہتھہ سلیمان علیہ السلا مس نغہہ۔ سلیمان علیہ السلا من دوئس کیاہ تہہ چھوہ پنہ مالہ  
سیت مہ مد کرن یڑھان فَمَا أَتَانِ اللَّهُ خَيْرًا مِمَّا آتَاكُمْ مہ چھنہ تھ ضرورت کینہہ تہہ کیاہ مہ یہ کینہہ ہاہ

اِنَّ رَبَّ اللَّهِ خَيْرٌ مِّمَّا اَنْتُمْ بِلِ اَنْتُمْ يَهْدِيْتُمْ تَفْرَحُوْنَ ﴿۳۷﴾ اِرْجِعْ  
 اِلَيْهِمْ فَلَنْ اَتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا  
 اِذْ لَّا لَهُمْ صَاحِبُونَ ﴿۳۸﴾ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ اِيْكُمْ يَا تُبَيُّ بَعْرَشَهَا  
 قَبْلَ اَنْ يَّاتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿۳۹﴾ قَالَ عَفْرُبَيْتُ مِنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيْتُكَ  
 بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيْ اٰمِيْنُ ﴿۴۰﴾

اللہ تعالیٰ اُن عطا کورمٹ، چھو تہ، چھو سینٹھا بہتر تمہہ خوتہ یہ تو بہرہ ڈیٹمت، چھو تہ۔ تو بہرہ چھو تہ ڈیٹمت  
 حکومت و دولتی یوت، مہ چھون عطا کورمٹ نبوت و سلطنت۔ تو بہرہ نعرہ چھو دنیاہ نعرہ چھو دین تہ۔  
 بَلِ اَنْتُمْ يَهْدِيْتُمْ تَفْرَحُوْنَ بلکہ چھو تہ تو ہی پتہ تحفہ سیت خوش (ویژان، چھو تہ نعرہ) اَسِرَ نعرہ چھو تہ  
 سمن چیزن اعتبار کینہہ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ ای قاصد واپس گروہہ تمنی نعرہ سمو سوز کہ تم ساری تحفہ دکھ  
 پھیرت فَلَنْ اَتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ہر گاہ تم اَسِرَ نعرہ فرمانبرداری سان حاضر سپدن تہ گوجان  
 ورنہ واتو اَسِ ترم نعرہ سمو لشکر ہتہ سمن سیت مقابلہ کر ٹک ترم طاقتی آسہ۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اِذْ لَّا  
 وَهُوَ صَاحِبُونَ بیہ کڈو کہ تم تمہہ شہرہ منزہ ذلیل کثرت تہ خوار گروہت، تم قاصدن یلہ تم تحفہ واپس  
 واتہ ناویہ باون سوزوی حال بلھیس نعرہ۔ سمو سوز سلیمان علیہ السلام سند یو کمالا تو سیت کافی متاثر، بیہ  
 سپدن یقین جہدہ پیغمبر آسک چنانچہ ارادہ کزن سلیمان علیہ السلام نعرہ حاضر سپدن، سلیمان علیہ  
 السلام سُد معلوم وحیہ سیت یا بیہ نعرہ ذریعہ کہ سمو سوز روانہ ترم نعرہ حاضر سپدن خیرہ قَالَ  
 يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ اِيْكُمْ يَا تُبَيُّ بَعْرَشَهَا قَبْلَ اَنْ يَّاتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ سلیمان علیہ السلام فر مو پتہ نین معزز  
 لو کن اہل دربارن، تو بہرہ آندرہ کہہ اکھا دیہ مہ نعرہ واتہ ناوت تسند تحت، تمسدہ فرمانبرداری سیت مہ  
 نعرہ واتہ بروٹھ۔ قَالَ عَفْرُبَيْتُ مِنَ الْجِنِّ اک قوی ہیکل جن اک دُوب اَنَا اَتِيْتُكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ  
 مِنْ مَّقَامِكَ بودن سو تحت تو بہرہ نعرہ انت، جہدہ دربارہ نعرہ ووتھنہ بروٹھ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيْ اٰمِيْنُ  
 مہ چھو تمکہ ٹٹک کافی طاقت۔ بو واتہ ناون سو تو بہرہ نعرہ امانتداری سان۔ سلیمان علیہ السلامن دو ٹھس۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ  
 أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ  
 هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ  
 شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ  
 كَرِيمٌ ﴿۳۰﴾ قَالَ نَكُرُوهُمَا وَعَرَّضْنَاهَا لِطَبْعِكُمْ لِمَا تَكُونُونَ  
 مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَلْكَذَا

امہ خود جلد پہن گوڑھ سوواتن قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اگہ شخصہ اوس تمس نشہ آسانی  
 کتابین ہند علم اوس۔ سوگو آصفت بن برحیا۔ تمودوپ اس جنس بس چون طاقت مہاتوی انا آتیک  
 بہ قبل ان یرتد الیک طرفک بوواتاون سوتخت ژہ نغمہ اس اچھہ ٹیٹھ اندر۔ بعضیہ فرمود الذا  
 عنده علم من الكتاب۔ امہ آندرہ چھومر ادپانہ سلیمان علیہ السلام۔ تموی واتوسوتخت اس اچھہ ٹیٹھ  
 اندر پنہ روحانی طاقتہ سیبت فلما رآہ مستقرا عندہ قال هذا من فضل ربی چناچہ یلہ تمویچھ  
 سوتخت پانس بروٹھہ کنہ، شکر دپان دوچھہ بہ چھو میانس پروردگارہ سوندوڈ فضل بہ مہربانی لیبلوونی  
 ؕ اشکرو ام اکفرو بیٹھ سومہ امتحان بہ آزمائش کرہ کہ آیا بو کر اتمسز شکر گزاری کہ نعوذ باللہ لو کرہ کفر ان  
 نعمت ومن شکرفا انما یشکر لنفسہ یہ کتھ چھ ظاہر کہ بس شکر گزاری کرہ۔ بس چھونہ تمیک  
 فاندہ مگر پانی۔ اللہ تعالیٰ اس چھنہ تمیک کانہ نفع ومن کفرو بیٹھ پاپ بس کفر ان نعمت کرہ۔ بس  
 بہ چھو تمیک نقصان پانی۔ اللہ تعالیٰ اس چھونہ تمیک کانہ نقصان فان ربی غنی کریم کیا زہ  
 میون پروردگار چھو بے نیاز لو کن ہندہ شکر گزاری نشہ۔ سو چھو کریم ناشکری عطا کرہ وین بہ چھو عطا  
 کران سو۔ قال نکروہما عرضناہنظر اہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون تمہ پتہ کور  
 سلیمان علیہ السلامن تجویرہ اتھ تخلص تمسبس بدلا و صورت۔ اس کرو تمسزہ عقلہ امتحان۔ اس  
 وچھو تمس بیوا تھ پین تحت پرزہ ناوس کن۔ کہ سوچھہ تمو لو کو آندرہ یکن نہ کانہ اتھ و تھہ چھہ یوان

عَرَشِكَ ط قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ  
 كُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿۲۲﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ط  
 إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۲۳﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ط  
 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا ط قَالَ إِنَّهُ

بے عقلی سبب۔ فلما جاءت قيل اهلکذا عرشک تو پتہ یلہ سو بلقیس آئی۔ ونہ آس بیٹھوی  
 چھا چون تحت قالت کائنہ هو دو من زن نہ سوی ہتھو وأوتینا العلم من قبلها و کنا مسلمین  
 بیہ دو من اسہ اوس یہ معجزہ وہجھنہ بروٹھی ٹھنڈہ پیغمبر آسک تصدیق سپد مت بیہ آس مطع و فرمانبردار  
 سپد مت۔ یلہ اسہ قاصدہ سندہ ذریعہ ٹھنڈ کمالات معلوم سپد مت آس۔ سیمہ معجز ج آس نہ چندان  
 ضرورت روز مشیہ معجزہ وہجھنہ بروٹھہ تمسند تصدیق کرن ہتھو دلالت کران تمسند کمال عقل و گاہ  
 جارس پیٹھ۔ تمی موکھہ کور اللہ تعالیٰ ان پتہ تسند س گاہ جارس تائیدیہ فرمانہ سیت کہ و صدھا  
 ما کانت تعبد من دون اللہ تمہ آسہ ایمان اوٹمت۔ مگر سو آس پتھ رٹھو ایمان انہ نشہ تمو  
 چیز و تمکن چیزن ہندہ پرستش کر ٹک خدا بس و رای عادت اوس سپد مت۔ سو عادت کیا زہ اوس  
 سپد مت انھا کانت من قوم کفرین کیا زہ سو آس کافر قومہ منزہ۔ تمہ پتہ یوٹھہ سلیمان علیہ  
 السلامن کہ اس بلقیسہ ہا و اوس معجزہ نہ شان نبوت ہاونہ پتہ پنہ سلطنتک شان تہ۔ تائیکہ بیٹھہ سو  
 زانہہ دنیا کیم اعتبارہ پٹن پان زانہ بوڈ۔ چنانچہ تمو بنووا کہ عظیم الشان شیشہ گراہ۔ ہتھہ پر ہتھہ طرفہ لاگنہ  
 آمت آس شیشہ شیشہ۔ تمہ کس صحنس منز اوس اکھ تلاواہ آمت بناونہ تھہ منز اوس آب صاف۔ بیہ  
 گاہہ تراونہ آمزہ۔ پیٹھہ اوس بیٹھہ تلاوس فرش ونہ آمت صاف و شفاف شیشہ ہند۔ ظاہرہ پاٹ آس نہ  
 تم شیشہ یوزے یوان۔ سو تلاو اوس آگنسن منز۔ سیمہ پیٹھہ شیشہ مجلس منز اژنہ خیطرہ ضرور پٹن اوس  
 یوان قیل لھا ادخلی الصرح فلما رأتہ اس بلقیسہ آونہ اژنہ سیمہ آجھنہ منز ہتھہ کرس اندر۔  
 یوہے کرہ ما کرک ژہ پند پنہ قیام گاہہ خیطرہ۔ بس یلہ تمہ سو آگن وچھ اندر اژت حسبتہ لجة

صَرَ مُسْرَدٌ مِّنْ قَوَارِيرُهُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ  
 أَسَلْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى  
 ثَمُودَ إِخَاهُمْ ضَلِيحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ  
 يَخْتَصِمُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ يُقَوْمُ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ  
 الْحَسَنَةِ ۗ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٥﴾

آجھہ کس تلاوس گوس خیالیہ باھجو دریاواتھ آگنسن منز وکشفنت عن ساقیہا نمی موکھہ کھارتمہ  
 ایزارنر گروزونشہ تھود۔ گروزہ تھاوین عنی یتھہ پاٹھ آس منز وسنہ خیترہ کانہ تھاون ھجو۔ قال  
 سلیمان علیہ السلامن دوئہس یلہ تمن نظر پیہ اٹھ پیٹھ اِنَّہ صَرَ مُسْرَدٌ مِّنْ قَوَارِيرٍ اِی بلقیس یہ ھجو  
 سوڑوی محل۔ آگن ہیتھ ھجو فرش کرنہ آمت شیشوسیت۔ تمہ ساتہ سُد معلوم بلقیسہ کہ یتھ ھجھہ ذنیوی  
 عجایب چیزتہ تمہہ قسک سم نہ مہ از تام و ھھمتی ھجھہ۔ چنانچہ تھمدس دس اندر سپز پر تھہ طریقہ  
 سلیمان علیہ السلامہ سنز پوروقعت تہ عظمت پیہہ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي تمہ ساتہ دوپ تمہ  
 پروردگارامہ کور ظلم پان پانس گھرہ تہ شر کہ سیت از تام و اَسَلْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
 از ھجھس یو مسلمان سپدان۔ ایمان اتان سلیمان علیہ السلامس سیت یعنی تھمدہ طریقہ موجب ھجھس پٹھ  
 کران تس معبود بر ھجھس بس عالمین ہمد رب ھجو بیٹے گویہ بلقیس۔ چنانچہ سلیمان علیہ  
 السلامن کور توپتہ تمن سیت نکاح و لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ إِخَاهُمْ ضَلِيحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ پز پان پیہ  
 سوز اسہ قوم ثمودس کن یوی تھمد صالح علیہ السلام یوسے پیغام ہیتھ کہ شرک تراوت کمر و تھہ عبادت  
 معبود بر ھجھہ سنز۔ تمن پزہ ہاساری انہ من تم ایمان وَاِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ بس سپزہ تم زہ  
 جماثر با ایمان تہ کافر تھے آس پانہ وان ہرہ ہرہ تہ قضیہ کران۔ تھمد قضیہ یلہ ووت صالح علیہ السلامس  
 یتھہ تمودیت فیصلہ با ایمان ہمدہ حقہ۔ کافر لگ وندہ سمہ عذابک نیم تھہ اسہ کران ھجھہ سو عذاب  
 اُوَجِدُ قَالَ يُقَوْمُ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ تمودوپیک اِی لو کو تھہ کیازہ ھجھہ توبہ

قَالُوا الظَّالِمِينَ يَا بَنِي آدَمَ مَن مَّعَكَ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بِئْسَ  
 أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ ﴿۷۸﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ  
 فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصِلِحُونَ ﴿۷۹﴾ قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا اللَّهُ لَنُنَبِّئَنَّهٗ وَ  
 أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَنقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَن مَّهَلَكَ أَهْلَهُ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۸۰﴾

کرنے سے ایمان آئے۔ بروٹھہ لیس رُت چیزاں جھٹھو، عذاب ڈھانڈان۔ لیس پیچھ چیزاں جھٹھو۔ توہمہ پڑہ ہاکہ  
 عذابک و عید بوزت ایمان اُنن تہ پڑھہ گرن۔ تھہ برعکس جھوہ ٹہہ عذابہ کوی درخواست کران۔ یہ  
 گو سیٹھا بے ہر والا اُن۔ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اتھہ بدل کونہ جھوہ ٹہہ اللہ تعالیٰ  
 اس گھرہ بھہ مغفرت منگان دیو توہمہ پیٹھہ رحم ایہہ کرنہ۔ عذابہ بھہ ایہہ ہو جھوٹا تھاو نہ قَالُوا الظَّالِمِينَ  
 وَيَمِينُ مَعَكَ تھو ڈوپ ہس اس جھت ژہ ہیہ تم ژہ سیت جھہ پھیل زانان کیا ژہ یہہ پیٹھہ توہمہ یہہ  
 نو ذمہ ب کو ڈوہ، ٹھنزیہ نو جماعت پیدہ سہزنتہ پیٹھہ سہز قومس منز بے اتھاقی۔ نا اتھاقی ہنزہ سمہ خرابیہ  
 جھہ تمہہ سہزہ سارے ظاہر۔ لہذا جھوہ توہی تم خرائین ہندہ ذمہ دار قَالِ صَاحِبِ السَّلَامِ  
 فَرَمَوْكَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تھہ نہہ نھوٹگ سبب جھو اللہ تعالیٰ اس معلوم۔ تھنزیہ کھر چہ نہ شرکیہ کامہ  
 جھہ اللہ تعالیٰ اس معلوم۔ سمہ تخلیہ جھہ یعنی کاین ہندہ شامتہ توہمہ واتان۔ چنانچہ سنوی نا اتھاقی جھہ  
 پیچھہ نہ مذموم یوسہ ہزس نہ جھس خلاف کرنہ سیت سپدہ۔ لہذا سپدہ نہ امیک الزام با ایمان پوٹھہ بلکہ جھو  
 امیک الزام کافرن۔ ونہ کوت واتوہ ٹہہ۔ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ بلکہ جھوہ ٹہہ تم لوک تم امہ کھرہ  
 سببہ عذابس گرفتارین کرنہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصِلِحُونَ تھہ پات  
 آس اتھہ شہرس اندر کافرن ہنز کثرت۔ لیکن تھند سر غنہ آس اتھہ شہرس اندر نو جماژ سمہ ملکس  
 منز تباہی کران آسہ۔ جھہ قسمہ سنبھالان آسہ نہ۔ بلکہ آس فسادی فسادی کران۔ چنانچہ اکہ پھر کوزکھ  
 یہ فساد کرک ارادہ قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا اللَّهُ ونہ لگ پانہ وان کہ ٹہہ ساری کھر وقسم خدایہ سُنَد تھہ کھہ پیٹھہ  
 کہ لَنُنَبِّئَنَّهٗ وَ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَنقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَن مَّهَلَكَ أَهْلَهُ آس گھوہورات کھیت تو پتہ گرو جملہ صالح



وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۱﴾ فَاَنْظُرْ كَيْفَ  
 كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ لَا اَنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ ﴿۵۱﴾ فِتْلِكَ  
 بَيُّوتُهُمْ خَاوِيَةً بِنَاظِلْمُوا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۵۲﴾  
 وَانجِبْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿۵۳﴾ وَلَوْ طَا اِذْ قَالَ  
 لِقَوْمِهِ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿۵۴﴾ اِنَّكُمْ

صمیس پیٹھ۔ تھ اندر مارون سو بیہ تہند اہل و عیال بیہ تہنز ساری جماعت۔ تمہ پتہ ہر گاہ تحقیقاً نوبت  
 آیہ اَسْ و نُو، تمسکس و لیس تہ تہندین وارثن، اَسْ اَسْ نہ شامل اَسْ تہ اسمدہ عیالہ کس مار اَسْ اندر  
 وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ سیت و نو اَسْ چھہ واقعی پوزونہ ون۔ اتھ پیٹھ آسہ نہ اسہ اختلاف موقتک کانہہ گواہہ۔  
 معاملہ دیہ بتہ تھے۔ تو پتہ درای تم اکہ شبہ یہ کوم کرنہ خیطرہ و مکر و امکر و امکرنا مکرنا و ہم لا یشعرون  
 تم اَس پتہ جا یہ امہ قسمک تدبیر کران۔ اَس تہ اَس پتہ جا یہ تہندہ گالنگ تدبیر کران۔ تمن روزنہ تج  
 خبری۔ سو گواہی کہ تم بلہ یہ کوم کرنہ خیطرہ پگان اَس کہہ کو بہ پیٹھ گواکھ بوڈ پلاہ ڈلہ لہے پیوسیو  
 دینی پیٹھ۔ تھ تل گھو ہتھہ مودساری۔ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَس وچہ ژہ ای وچھونہ کہ  
 تہندین تدبیرن ہند انجام کیاہ پد۔ اَنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ سو گو مئی زہ اسہ گال تمہ تہند قوم  
 سو زوی امہ علاوہ آسمانی عذابہ سیت فِتْلِكَ بَيُّوتُهُمْ خَاوِيَةً کیا چھہ گرہ تہند دیہ بیٹھمت، ویران گمت  
 بِبَاظِلْمُوا تہندہ ظلمہ یعنی کفر تہ شرک کہ بچہ سبہ۔ چنانچہ منک لوکھ چھہ شام گرہ چھہ وتہ اندر تمہہ  
 جا یہ وچھان اِن فِيْ ذٰلِكَ لَايَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ پتر پاٹ اتھ منز چھہ ہڈ حیرت زانہ و نین لوکن ہندہ  
 خیطرہ و انجبتنا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ بیہ دیت اسہ نجات تمن لوکن سمو ایمان اون بیہ اَس  
 خدا اَس کھو ژان۔ پتھ روزان شرک و کفر ہ نشہ۔ تمہ قتلہ نشہ تہ تمیک تمو مشورہ کریوہ۔ بیہ امہ قہری  
 عذابہ نشہ تہ۔ و لو طَا بیہ سو زاسہ لوط علیہ السلام پتہ اَس قومس ن۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُوْنَ  
 الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ بلہ تمودوپ پتہ اَس قومس کہ کیاہ تہہ ہچھہ یہ بیچھ کام کران۔ حال بچہ

لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
تَجْهَلُونَ ﴿۵۵﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُو آلَ  
لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿۵۶﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَ  
أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ قَدَّرْنَا مِنْهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۵۷﴾ وَأَمْطَرْنَا  
عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذِرِينَ ﴿۵۸﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ  
عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يَشْرِكُونَ ﴿۵۹﴾

نہہ چھوہ وچھان یہ کرہہ پیچھ کام ہجھہ۔ ایتکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء کیاہ نہہہ  
چھوہ مردن نعمہ یوان بن شہوت تہ خواہش پورہ کرنہ خیطرہ زنانہ تراوت تسمہ تمی خیطرہ ہجھہ پیدہ کرنہ  
آمرہہ بل انتم قوم تجھلون بلکہ چھوہ نہہہ قومہ جاہل۔ خبری چھوہ نہہہ امیک نتیجہ کیاہ نہہہ  
فماکان جواب قومہ الا ان قالوا پس اوس نہہہ تمن لوکن ہند جواب کیہہہ تہ مگر ای زہ ڈوپ تمویانہ  
وان کہہ اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون کڈیون لوط علیہ السلامہ سڈائل و عیال  
لوط علیہ السلام ہیتہ پنہہ شہرہ منزہ کیاہہ تم چھہ پانس شانت زانان۔ یلہ اوت پیٹھ کام واژاسہ کورتھہ  
توس پیٹھ عذاب نازل فانجیناہ و اہلہ الا امراتہ قد رنہا من الغابرین ہس ڈیت اسہ نجات  
لوط علیہ السلامس ہیہہ تمسیرس عیالس تہنہہ ہ اکس زنانہ و رای یوسہ اسہ ازلی مقرر کمر مژ آس ات  
روزت عذابس گرفتار سہہ و نیو آندرہ و امطرناعلیہم مطرا توپتہ تر وواسہ تمن پیٹھ عجیب قسمگ  
زوداہ ہتھہ منزکنہ اسہ فساء مطر المنذرین ہس اوس سیٹھہ پیچھہ تمن ہیم کرنہ آمتین ہند سورود قلی  
الحمد لله وسلم علی عبادہ الذین اصطفی دپو حمد نہہہ خدا ہس نافرا مان ہبوس ہلاک گرو ہنس پیٹھہ۔  
ہیہہ یوہن سلامتی ہمیشہ خدایہ سندین تمن ہندن پیٹھہ سم تم ژار تہہ برگزیدہ کمرن ءاللہ خیر  
آمائش رکون کیا خدا معبود برحق۔ تمسیر احسانات بیان کرنہ آی چھا بہتر، کنہہ تم معبودان باطل۔  
تمن تم خدایہ سند شریک ہجھہ ٹھر او ان۔ امیک تفصیل چھوہ پیٹھہ پانچہ کہہ ای لو کو نہہہ کمر تو خدایہ سندین

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ  
السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ  
لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ  
أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ  
لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ  
بَلَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ إِنَّ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

کمالائن اندر غور۔ تو پتہ و نیتو۔ تم پوئل پھٹھا بہتر اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ کینہ سُوذات پاک چھو بہتر، تم آسمان تہ زمین پیدہ کمر وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً یہ تم آسمانچہ طرفہ تہمدہ خیطرہ رود ترودو فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ تہی رُودہ سیت کھار اُسہ سر سبز باغن ہند کل۔ تم تر تازہ تہ ہر رونق چھہہ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْبِتُوا شَجَرَهَا اوسنہ توبہہ ممکن کہ تہہہ کیاہ کھالوکھ تہن باغن ہند کل پانے۔ یہ بُوزت و نیتو ؕ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ کیاہ اللہ تعالیٰ اس سیت شوبیاعبادتس اندر یہی کانہہ معبوداہ شریک (ہرگز نہ) مگر یم مُشْرک چھنہ توتہ مانان بَلَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ چھو توتہ بین مخلوقن خدائس سیت برابر تھاوان۔ معبود برحہہ سندہہ کمالات بُوزت و نیتو کہ کیاہ تم معبودان باطل چھا عبادتس سزوار اَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا کینہ سُوذات پاک چھو بہتر، تم زمین کور مخلوقن ہندہ روزنچ تہ قرار کرہنچ جایی۔ یہ تم تہمدہ زمینہ منزہ کولہ تہ دریاو پکناو۔ یہ تم امہہ زینچہ تہمدہ خیطرہ اتھہ پیٹھ سکوہ کمر پیدہ لنگر ہی۔ یہ یم دُون دریاوَن منز کور تھور تہمدہ قسمگ کہ لہہ دریاو ک آب چھونہ میلان یہہ دریاوہ کس آبس سیت۔ یہ بُوزت و نیتو۔ ؕ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ کیاہ اللہ تعالیٰ اس سیت ہیچیاہ بیاکھ معبود شریک آستہ، مگر مُشْرک چھنہ توتہ یہ تھہ مانان بَلَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ چھنہ تمبولو کو اندر وار سہن خبزی کیہنہ۔ خیر، تہ ذات پاکہ سندہہ کمالات بُوزت و نیتو کہ تم معبودان باطل چھا بہتر اَمَّنْ يُجِيبُ

وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ  
 قَلِيلًا مَاتَ كُفْرًا ۖ ﴿۶۲﴾ آمَنُ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْ  
 الْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بِشْرًا ابْنِ يَدِي رَحْمَتِهِ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ تَعَلَّى اللَّهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ ﴿۶۳﴾ آمَنُ يَبْدَأُ  
 الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ قُلُّ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ ﴿۶۴﴾

المُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ۖ كِنْدَةُ سُوذَاتِ پاك ۖ چھو بہتر نئس بیقرار تہ لاچارہ سندس معھ نس  
 اجابت چھو کران۔ یلہ سُوْتَسْ مَنگان چھو۔ بیہ نئس مُصِیبت تہ سختی چھو دُور کران وَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ  
 الْأَرْضِ ۖ بیہ نئس توبہ چھو کران ز مئس اندر صاحب تصرف تہ جانشین عَالَهُ مَعَ اللَّهِ ۖ بیہ بُوزت و نئو  
 تہہ اللہ تعالیٰ آس شریک عبادت آسئس لایق چھایہہ کانہہ معبود (ہرگز نہ) قَلِيلًا مَاتَ كُفْرًا  
 مگر سیٹھاہ کم چھو توبہہ امیک خیال تہ سمہہ تھہ یاد تھاوان۔ و دُن بُو زوتھہہ بے کمالات تو پتہ و نئو تم  
 معبودان باطل چھہ عبادتس سزوار آمَنُ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ كِنْدَةُ سُوذَاتِ پاك چھو  
 سزوار نئس توبہہ و تھہ چھوہ ہاوان خشکی تہ تری ہنز ن گئس اندر وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بِشْرًا ابْنِ يَدِي  
 رَحْمَتِهِ ۖ بیہ نئس سوزان چھو و اوس پتہہ رحمتہ یعنی باران رحمتہ برو تھہ خوشخبری ہتھہ۔ بیہ بُوزت و نئو  
 عَالَهُ مَعَ اللَّهِ ۖ باوجود آس ہیکھائس سیت کانہہ معبوداہ، شریک ہنت عبادتس اندر۔ ہرگز نہ۔ تَعَلَّى  
 اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ بلکہ چھو اللہ تعالیٰ تھہہہ شریکہہ نئسہہ سیٹھاہ بالا تہ تھو۔ نئس معبود برحقہ سند بے  
 کمالات بُوزت و نئو تہہ سم معبودان باطل چھہ بہتر۔ آمَنُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ كِنْدَةُ سُوذَاتِ  
 پاك چھو بہتر سم ساری مخلوقات گنڈوہ پیدہ کمر تو پتہ کر کیکھ سؤی دُوبارہ بیہ پیدہ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ  
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ بیہ نئس توبہہ رزق چھو عطا کران آسہیکھہ طرفہ رُود تراوتھہ تہ زعیجہ طرفہ غلہ تہ کل  
 کھارت۔ بیہ بُوزت و نئو عَالَهُ مَعَ اللَّهِ ۖ کیاہ معبود برحقس شریک عبادت آسئس لایق چھایہہ کانہہ

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ  
 وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿۶۵﴾ بَلِ ادْرَاكَ عَلَيْهِمْ فِي  
 الْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۚ بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ﴿۶۶﴾  
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبًا وَنَا إِلَهُاتِنَا  
 لَمُخْرَجُونَ ﴿۶۷﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن

معبودا۔ ہر گاہ تم یہ بوزت و سن کہ تہند معبودتہ چھہ مستحق عبادت قُلْ مَا تَدْعُوهُمَآ كُفْرًا كَانُوا  
 صِدِّقِينَ تمہ فرما یو کہ۔ یار سول اللہ انو تہ پیش کمر و سہو دلیل چھوے تہہ پو زونہ ون۔ تم لو کہ  
 قیامتک وقت معین پاٹ نہ وننہ سبہ قیامتس انکار کران چھہ تمن و نو تہہ جواب کہ تہندیہ ون چھو غلط  
 کیا زہیہ قیامتک مسئلہ چھو غیبیہ چو کتھو آندرہ۔ تہ تم مخلوقات آسمان وز مینس منز چھہ، تمو منزہ چھونہ

کانہہ تہ غیبیہ چہ کتھہ زانان خدائس و رای۔ ہر گاہ مہ نشہ تہ توبہ نشہ قیامتہ کہ وقوعک علم پو شیدہ رودہہ کیاہ  
 کتھہ چھہ۔ تمام عالمس منز تم مخلوق چھہ تمن نشہ چھہ امہ و رای تہ بیہ کاژا کتھہ پو شیدہ قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ  
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ توہ فرما یو کہ یار سول اللہ آسمان تہ زمین منز تم چھہ تمو آندرہ زلنہ نہ کانہہ  
 اکھاہ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ غیب خدائس و رای وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بیہ چھنہ لو کن کینہہ تہ  
 خبر کہ کرین تم بیہ زندہ کرنہ تہ قبر و منزہ ٹکنہ بَلِ ادْرَاكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بلکہ سپد ختم تہند  
 علم آخرتس متعلق تو پتہ وات نہ تم تہنجس پیٹھ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا چنانچہ تم چھہ ونہ تمکہ چھہ  
 شمعہ سی منز بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ بلکہ چھہ تم تمکہ حقہ ان تہ نابینا۔ کیا زہ تہتھہ پاٹھ انس چھنہ و تھہ  
 در نیٹھی یوان تمسند مقصدس و اتن چھو د شوار، تہتھہ پاٹھ واتن نہ تم تہ مقصدس وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 ۖ إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبًا وَنَا إِلَهُاتِنَا لَمُخْرَجُونَ بیہ دوپ تجہہ کن تمو لو کو تمو انکار کور قیامتس کیاہ اس تہ  
 بیہ سان مال بدب، یلہ اس میزہ سیت میزہ آسوگمت، تو پتہ بیوہ اس قبر و منزہ بیہ کڈنہ لَقَدْ وُعِدْنَا  
 هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ ہنر پاٹ اسہ سیت بیہ سائین مالین بد بن سیت چھہ تہتھہ وعدہ برو تھہ

قَبْلَ إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ قُلْ سِيرُوا  
 فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٣٩﴾  
 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٤٠﴾  
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤١﴾ قُلْ  
 عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٤٢﴾  
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

تہ کرنے آمت، کیا زہ ساری انبیاء آئی ہوئے وعدہ کران مگر نہ سید از تام سو وعدہ پورہ، نہ وون کانسہ کہ  
 کر آسہ سو قیامت۔ امہ اندرہ چھو معلوم سپدان کہ إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سمہ چھہ بے  
 سزہ تھہ سمہ برو تھمین نشہ نقل کرنے یوان چھہ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ  
 عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ بلہ قیامتہ کس ایمکاس پیٹھ عقلی دلیلہ تہ تمہہ کس وقوعس پیٹھ نقلی دلیلہ وارہین  
 جائن تہہ آدہ بوزانانہ توہہ پزہ نہ انکار کرون۔ ورنہ بہہ توہہ سوی حال نُس بین مُکرن۔ منیومت چھو۔ ہر گاہ  
 تمہن تھہ اندر شک چھو تہہ فرما یو کہ یارسول اللہ ای مُکرو، تہہ پھیر تو مُکَرِ قَوْمِن ہندین مُکِن اندر تو پتہ  
 و چھو تمہن مُکرن نافرمان ہند انجام کیاہ چھو سُدُمت، تم تھہ پاٹ چھہ عذابو سیت گانہ آمت ہر گاہ  
 باوجود سمو موثر لیفحتو تہہ و عظو تم توتہ تہندس مخالفتس پیٹھ کمر گنڈ تھی روزن وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ  
 وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ تہہ مہ حض ہیو تہند غم یارسول اللہ بیہ یہہ شرارتہہ کامہ تم کران  
 چھہ تمو سیت مہ سپدن تہند دل مبارک تنگ۔ بین انبیاء ان سیت تہ چھو یوہے معاملہ سُدُمت  
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بیہ چھہ تم مُکَرِ مُسْلِمَانِ و نان، کتہ چھو سو عذاب  
 سمیک وعدہ تھانہ یوان چھو، ہر گاہ تہہ پزہ چھوہ۔ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي  
 تَسْتَعْجِلُونَ تہہ فرما یو کہ یارسول اللہ، دیوہ جلدی وائہ توہہ نش تمہہ عذابک اکھ حصہ سمہہ جلد وائتک  
 تہہ مطالبہ کران چھوہ و نیک تان نُس تھہ منز تاخیر سُدُمتیک وجہ چھو کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى

يَشْكُرُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٤٣﴾ وَمِمَّا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْأَلْفِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٥﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٤٧﴾

الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون پنزا پات تہند پروردگار چھو لوکن ہمدہ کھہ فضلہ وول۔ مگر اکثر لوک جھنہ شکر گذاری کران۔ عذابہ کس تاخیرس تہ نمہلتس چھنہ غنیمت زانان۔ اتھہ نمہلتہ کس وقس شوبہ ہاتمن حق ژھانڈن، حق قبول کرن، تہ سپدہ ہاباعث تہندہ نجات ابدیک۔ تھہ بدل چھہ انکار کران تہ عذابک معاملہ ٹھٹھہ زابت تھہ منز جلدی ژھانڈان۔ لہذا مہ زان تم کہہ یکن تھن پیٹھہ کیا پیہ نہ تمہن ستر ہی دنہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ پنزا پات تہند پروردگار چھو پور زانان تہ سوزوی پیہ تم لوک پنہ نین سین تہ ولن منز کھیت تھوان چھہ، پیہ تہ سوزوی پیہ ستر وان چھہ۔ اللہ تعالیٰ اس کج خبر پور آسجہ علاوہ چھو ظاہری طور تہ باضابطہ دفتران اندر درج یوان کرنہ۔ تہنزن کامین ہنزی چھنہ کینہہ خصوصیت وَمِمَّا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْأَلْفِي كِتَابٍ مُبِينٍ بلکہ چھونہ کانہہ پوشیدہ چیزہ آسمان تہ زمین منز، نس نہ درج چھو نہ کتابہ اندر یعنی لوح محفوظ اندر إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ پنزا پات پیہ قرآن مجید چھو فیصلہ بیان کران بنی اسرائیلن پیٹھہ وار یکن تمہن چیزن منز تمہن اندر تمہ اختلاف کران چھہ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ بیشک قرآن مجید چھو ہایمان ہمدہ خیطرہ خاص ہدایت پیہ خاص رحمت۔ ہدایت باعتبار طاعات و اعمال۔ رحمت باعتبار ثمرات و نتائج اِتِّت رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ یلہ نہ تمومون عقلی تہ شرعی

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٤٩﴾  
 إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا  
 وَكُوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ  
 إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥١﴾ وَ  
 إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ  
 تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٥٢﴾

فیصلہ، بیشک وون کرہ ٹھنڈہ پروردگار عملی فیصلہ تمن اختلاف کرہ ونین منز پنہنہ لحمہ سیت قیامتک  
 دوہ۔ تھی دوہہ سپدہ تمن معلوم پوز کیاہ اوس تہ اپز کیاہ اوس۔ سو پروردگار چھو غالب تہ زبردست۔  
 سوزی زانہ ون۔ تس نش چھونہ پوشیدہ کہنی فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین بس  
 کمر وٹہہ توکل تمس معبود برحقس پیٹھ۔ بیشک ٹہہ چھوہ نئس پزس پیٹھ۔ پز زیارین چھو اللہ تعالی مدد تہ  
 یاری کران إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَكُوا مُدْبِرِينَ بیشک ٹہہ بیکیو کہ  
 نہ بوزہ ناوتھ مردہ، بیہ بیکیو کہ نہ بوزہ ناوت پنن آلو زندہ خصوصاً یلہ تم توہہ کن فھر کمر تہ ژلان آسن  
 وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ بیہ بیکیو نہ ٹہہ انین تہ نایمنان نمرانی نعرہ بچاوت، و تھ  
 ہاوتھ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ٹہہ بیکیو کہ نہ بوزہ ناوت مگر تھے تم  
 سائین آیتن پڑھ تہ یقین کران آسن۔ تھے لوک چھہ سان حکم مانہ ون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ  
 عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ بیہ یلہ وعدہ قیامت لوکن پیٹھ پور سپدہ ون آسہ۔ یعنی  
 قیامتک وقت یلہ نزدیک سپدہ آس کڈون ٹھنڈہ خیطرہ عجیب جانور اھ کہ زمینہ منزہ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ  
 كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ سوی جانور کرہ لوکن سیت تھہ۔ دپچھ کافر لوک چھہ سائین آیتن یقین  
 کران خصوصاً تمن آیتن سم قیامت متعلق چھہ۔ وون واثر قیامت نزدیک۔ چنانچہ اھ علامت اوس  
 تمیک میون ظاہر سپدن۔ چنانچہ اتھ کرن ساری تصدیق۔ پیغیر آسچھ فرماوان، تمن آس تکذیب



وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ  
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۸۴﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ وَقَالَ الْكَذَّابُ  
 بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾  
 وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿۸۵﴾  
 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الْآيَةَ لِيَسْكَنُوا فِيهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۸۶﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ

کران۔ دینتہ الارض یلہ نیرہ اہس کرن تصدیق۔ مگر اہمہ سائہ تصدیق کرنس آسہ نہ کانہ اعتبار و یوم  
 نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ بیہ پاوونہہ ژئیس لوکن سو  
 دوہ یمہ دوہہ آس پریتھہ اُمۃ منزہ اہہ اہہ جماعتھاہ جج کرون تمین لوکن ہنزہم سائین آیاتن اہز زانان  
 آس۔ تو پتہ ین تم الگ الگ تھاونہ۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ وَقَالَ الْكَذَّابُ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا  
 أَمَا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تالینکہ یلہ تم خدائس برونھہ کن واتن سو پڈ ژھیک کیاہ توہہ زانہ دوکھ میان  
 آیات اپز۔ حالاکھہ توہہ اوسوہ نہ تمین آیاتن ہند پور علم کینہہ تہ۔ تمین کن کوروہ نہ توہہ تدبیر۔ تہ فخر کرنہ  
 ورا ی کوروہ توہہ انکار تہ تکذیب تمین آیاتن بلکہ پاویو توہہ ژئیس اُمہ علاوہ کہ کہہ کہہ کامہ کوروہ توہہ۔  
 مثلاً انبیاءن تہ بایمان آسوہ دوران تکلیف۔ بیہ آسوہ ہفرہ کین عقائدن تہ اعمالن منز بیتا۔ نتہ ونونہہ  
 کیاہ آسوہ کران خدائس تہ جہدین آیاتن انکار کرنہ ورا ی وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا واقع سپڈ  
 تمین پیٹھہ عذابک حکم تہدہہ ظلمہ مٹوئھہ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ لہس ہمکن نہ تم تھہ کمرت۔ مرنہ پتہ بیہ  
 زندہ سپدنہ پتہ جھہ نقلی دلیلن ہدہہ علاوہ عقلی دلیلہ تہ مثلاً أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا الْآيَةَ لِيَسْكَنُوا فِيهِ  
 وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کیاہ وچھان چھہ تا تم سائہ قدر تک نوڈ نشانہ کہ  
 بیشک آسہ کمر رات گھٹ یٹھہ لوکھ تھہ منز آرام کرن۔ بیہ کمر آسہ دوہ روشن یٹھہ تھہ منز لوک کوم گھٹ  
 کرن راتس منز آرام کرن تہ شوگن۔ اتھہ جھو تشبہہ موتس سیت۔ دوہلہ وٹھن اورہ یور کرن اتھہ

فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ  
 إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دُخْرَيْنَ ۝۸۷ وَتَرَى الْجِبَالَ  
 تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ تَمْرٌ مَرَّ السَّحَابِ طُصَعَهُ اللَّهُ  
 الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ۝۸۸

چھو تشبیہ مر نہ پتہ بہ زندہ سپد نس سبت بیشک باایمان ہندہ خیرہ ہتھ اتھ منزجہ بحر دلیلہ و یومہ  
 یُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ یہ پاور لوکن  
 تیس تئمہ ذہک ہیبت ستمہ دہبہ پھو کھ دنہ پیہ پوغس منز تو پتہ گامرن تہ بانہرن۔ یس تہ ہوش۔ روزہ  
 نہ تم سارنی تم آسمان تہ زمین اندر ہتھ۔ ملا ہو تہ انسانا آندرہ مگر نہ تم سین ہند اللہ تعالیٰ یشہ۔ تم  
 روزن پتہ ذنجہ ہین تہ حواکن اندر۔ حدیث شریض منز چھو، تم گئے جبریل امین میکائیل، اسرافیل  
 تہ عزرائیل بیہ حاملان عرش و کُلٌّ أَتَوْهُ دُخْرَيْنَ تو پتہ ین ساری خدائس بروٹھکن عاجزتہ ذلیل  
 سپد۔ دنیاس منز چھو دستور کہ کھوژنہ وزہ چھو شخص زلان مگر تمہ دہبہ بیجہ نہ کانہ اکھاہ تہ جاہ  
 ثلث۔ چنانچہ تم زندہ آن تم مران، تم مومت آن تم سپدن بیوش یعنی تہند روح۔ یہ حال سپدہ  
 جاندارن۔ بے جان چیزن ہند حال چھو فرماوان اللہ تعالیٰ امہ پتہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا  
 وَهِيَ تَمْرٌ مَرَّ السَّحَابِ یہ چھو کہ وچھان ژہ ای وچھہ ونہ گمان چھو کہ کران کہ تم کوہ چھہ کسی  
 جاہ بند۔ تھہ پاٹھ تہ اتھہ حالسی پیٹھ ماروزن ہمیشہ مگر تھقیس منز آن تمہ دہبہ تم کوہ ابرک پاٹھ ادرہ  
 یورپکان۔ سترک پاٹھ آن دوندہ امت صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اتھ پیٹھ گڑھہ نہ کانہ  
 تعجب کرن۔ کیا زہ یہ چھہ خدایہ سنز کام تم یم ساری چیز مضبوط تہ محکم کمر۔ ابتداءس منز آن نہ تہ  
 چیزس منز مضبوطی۔ سو چیزیلہ تم قدر تہ وال پیدہ کور آدہ کرنس مضبوطی عطا۔ یم پردو گارن سو چیز  
 پیدہ کور تو پتہ وژنس مضبوطی سو پیجہ نس نشہ سو مضبوطی زائل کمر تہ بلکہ سو چیز ی یکدم ختم کمر تھ  
 إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ یہ چھہ یقین تھہ کہ اللہ تعالیٰ اس چھہ تہنر سارنی کامین ہنز پور خبر۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۰﴾ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَ هَاؤُلَاءِ كُلَّ شَيْءٍ وَأَمُرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۹۱﴾ وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمِنْ أُمَّتِي وَأَنَا يَهْتَدِي لِنَفْسِي

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ يُؤْمِنُونَ نِس اکھاہیہ تہس رشتہ نیکی یعنی ایمان بہتہ تسدہ خیطرہ چھو تمہہ خوتہ زت بدلہ۔ یعنی ایمان نہ نس پیٹھہ سمہ مزورہ ہند سو مستحق اوس تمہہ مزورہ خوتہ بہتر مزورہ بدلہ لہ نس عطا کرنہ بیہ آسن تم تمہہ دوہمہ خوفہ تہ پریشانی نشہ آسن اندر وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ بیہ تم لوک خدا نِس رشتہ بدی بہتہ یعنی کفر تہ شرک بہتہ سین بھتہ کن تراوندہ نارس اندر۔ ونہ اکیہ ہل تجزوں الاما کنتم تعملون توہمہ چھونہ بدلہ یوان دنہ مگر تمنی کا میں ہند سمہ تہہ کران آسوہ دنیاس اندر۔ بے وجہ چھونہ کانسہ عذاب یوان کرنہ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَ هَاؤُلَاءِ كُلَّ شَيْءٍ تہہ فرما یو کہ حض یارسول اللہمہ آوندہ کانہہ حکماہ کرنہ سمہ لحمہ ورا ی کہ یو کرہ عبادت سمہ شرہ کس مالکہ سنز تم اتھ شہرس عزت دیت۔ گوڑھس نابوتہنزی یاثر عبادت کرن۔ تمس خدلیہ سُد چھو پریتھہ چیزاہ۔ وَأَمُورْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بیہ آومہ حکم کرنہ کہ یو آسہ فرمانبر دار واندہ وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ بیہ آومہ بیہ تہ حکم کرنہ کہ بو بوزہ ناووہہ تہہ لوک قرآن مجید یعنی بو کروہ توہمہ تبلیغ احکام نِس نبوت نِس لازم چھو فَمِنْ أُمَّتِي وَأَنَا يَهْتَدِي لِنَفْسِي وَمَنْ صَلَّى فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ نِس نِس قرآن مجید یوزت میانہ تبلیغہ سبت وتہ پیٹھہ بیہ سو بیہ پنہ نی پانہ کہ فایدہ خیطرہ۔ یعنی نس چھو تمیک فاندہ پانس۔ بیہ نِس وتہ رشتہ ذلہ نس چھو تمیک ضرر پانس۔ تہہ فرما یو کہ یو چھوس نہ مگر نیم کرہ ونیواندہ۔ اکھ نیم کرہ وناہ، یعنی حکم بوزہ ناوہ ونیو پیٹھبر واندہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا بیہ دوساری تعریف شو بن خدا نِس

وَمَنْ ضَلَّ فَكُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿۹۲﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ  
سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾

یوت۔ مہ یہ کنیوہاہ منہ اوس تہ وول مہ مجھ۔ اللہ تعالیٰ ہاوہ توہہ پن نشانہ پانے یعنی قیامتک واقعات  
نہس ترہ توہہ پائے فخرہ قصہ کیاہ چھو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بیہ چھونہ ہرگز ٹھہد پروردگار بے  
خبر تمکو کامیونشہ یمہ ٹہہ کران چھوہ۔ لہذاویہ سوبا ایمان پنہ نین عملن ہند رت جزاء۔ کافرن تہ مکران  
دیہ بچھ کامین ہند پور سزا۔



## سُورَةُ الْقَصَصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 طسّم ① تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ  
 مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ③ إِنَّ فِرْعَوْنَ  
 عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً  
 مِنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ  
 الْمُسْفِينِ ④ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا

طسّم اسم چھہ حروف مقطعات۔ سمن ہند معنی زائد پانہ خدا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ اسم مضامین  
 اسم توبہ پیٹھ بطریق وحی چھہ سوزنہ یوان، اسم چھہ اسم کتابہ ہند آیات۔ سمک معانی بالکل واضح تہ  
 صاف چھہ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ سمو آیا تو منزہ ہتھ موقعس  
 پیٹھ آس موسیٰ علیہ السلام تہ فرعون سہ قصہ آندرہ اکھ حصہ توبہ پیٹھ ہر ان چھہ۔ بزپاٹ تمن لوکن ہند  
 نفعہ خیلرہ اسم پڑھ کرہ ون چھہ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ بیشک فرعون اوس کوپ لودمت مصرہ  
 کس سرز مینس منز وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا بیہ آرن تہہ کین لوکن مختلف قسم کرمت۔ قبطی آرن باعزت  
 تھاومت۔ سبطی یعنی بنی اسرائیل آرن بے عزت کرمت۔ سمیک تفصیل بیہ بیان کرنہ برونتھ  
 یَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ کمزور تہہ پست اوس زانان تمواندر اکس جماعتس یعنی بنی اسرائیل ہتھ  
 پاٹ کہ یُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ کھش اوس کرہ ناوان تہندین نچون اسم لوی زیوان آس  
 مارہ وا تلن ہندہ آتھ۔ زندہ اوس تھاوان تہنزن زانن، یعنی کورین یٹھ تمن آتھ خدمت کرہ ناون۔ بیہ  
 اوسکھ نہ کورین ہند خوف تہ خطرہ تہہ کہئی۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْفِينِ بیشک اوس سوتاہی کرہ ونبو  
 آندرہ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا وینی ونبوی احسان کرن تمن لوکن پیٹھ اسْتَضَعُّوا

فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ آيَةً ۖ وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝  
 وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا  
 مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۖ ۝<sup>۶</sup> وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ  
 أَرْضِعِيهِ ۖ فَاذْخِفْتِ عَلَيْهِ فَإَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا  
 تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَأَوُوهَ الْيَتِيمَ ۖ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝  
 فَالْقَطْعَةَ الِ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۖ إِنَّ

فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ آيَةً وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ہم کمزور زانند یوان آس اتھ ملکس یعنی سر زمین مصرس منز بیہ بناو دکھ آس تم دینک پیشوا۔ بیہ کرو دکھ تھے دنیا اس اندر سلطنتک وارث وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ بیہ دمو اس موقعہ من اتھ ملکس اندر حکومت کرنک وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ بیہ ہاؤوا اس فرعونس تہ ہا اس بیہ تمزہ لشکرہ بنی اسرائیلن ہندہ اتھ سو چیز تھ تم کھوژان آس۔ تفصیل امیک چھو بیہ کہ یلہ موسیٰ علیہ السلام اتھ خطرناک زمانس منز پیدہ ہدِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اسہ ترووالہام موسیٰ علیہ السلامہ سبوس والدس کہ تہ چاون بیہ فرزندود۔ ایس کالس تہ بیہ فرزند پو شیدہ بیہ کن تھاوت فَاذْخِفْتِ عَلَيْهِ فَإَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ اده یلہ تہ کھوژک تمسندہ تھہ کنہ تکلیفس تلہ تراون تہ سو دریای نیلس اندر صندوقس منز تھاوت وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي بیہ تھہ تہ کھوژک تمسندس پھٹس یا کانہ غم برکھ تمزہ جدائی ہند إِنَّا رَأَوُوهَ الْيَتِيمَ ۖ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک آس واتاودن سو فرزندواہلس تہ نغمہ۔ بیہ کرون آس سو پنہ نس ونس بیٹھ پیغمبرواندرہ۔ تو پتہ روز سو تین دودودوان اده یلہ اندیشہ ہد کہ راز سپدہ فاش تو پتہ تھاوک اس صندوقس منز۔ اتی ترو دکھ دریای نیلس منز خدایہ سند ناو ہتھ۔ امہ دریای نیلگ اکھ شاخ اوس فرعونہ سند یوشاہی علا قومنز پکان۔ بیہ صندوق ووت تپاری فرعونہ سندین علاقن اندر فَالْقَطْعَةَ الِ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا تو پتہ روٹ بیہ صندوق فرعونہ سند یولو کو۔ گھر

فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ﴿۸﴾ وَقَالَتِ  
 امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قَوَّيْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ  
 عَلَيَّ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَنْتَفِعَ بِهِ ۚ وَكَذَلِكَ هُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹﴾  
 وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمِيرٍ مُوسَى فِرْعَاوَانَ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ  
 لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا عَلَّى قَلْبَهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾  
 وَقَالَتِ لَأُخْتِهِ قُصِيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ

وایوب بی بی آسیہ بن سہولتہ ہامو کی علیہ السلامس پو پھہ کہ قولہ موجب بیٹھ سپدہ موتین لوکن ہندہ خیطرہ دشمن بیہ  
 نمگ تہ پریشانی ہند باعث اِن فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ پتر پات فرعون تہ ہامان  
 بیہ تہنز لشکر آس پنہ حقہ سخت غلطی کرہ ون۔ ہن دشمن رچھکھ پنہ کوجھہ کیتھہ وَقَالَتِ امْرَأَتُ  
 فِرْعَوْنَ قَوَّيْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ توپتہ وون فرعونہ سزہ آخینہ، آسین، فرعوئس بیہ فرزند چھو میانین تہ  
 چائین اٹھن ہند گاش۔ بیہ وچھنہ سمیت آسیہ سون دل پھولان لَا تَقْتُلُوهُ یہ متہ مارتون عَلَيَّ أَنْ  
 يَنْفَعَنَا أَوْ نَنْفَعَهُ وَلَا تَقْتُلُوهُ وَلَا تَقْتُلُوهُ دیکوہ بیہ آسہ بدتھہ فایدے واتا وہ۔ بلکہ بنا وون آس بیہ پتن  
 چو۔ کیا زہ آس چھہ لا ولد۔ تمکن آس نہ اوہ ونہ چانچ خبری کینہہ کہ بیہ چھو سوئی فرزند سمہ سہہ اتھہ  
 فرعونہ سزہ سلطنت ختم سپدہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمِيرٍ مُوسَى فِرْعَاوَانَ بیار سپزہ موسی علیہ السلامہ سزہ والدہ  
 سُنْدُ دل سخت بیقرار۔ اِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا عَلَّى قَلْبَهَا لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
 قریب اوس کہ سہو کرہ ہا ظاہر سارنی نشہ بیہ سو زوی حال، آس نے تمسند دل گدت تھاوت مضبوط کرہ  
 ہو بیٹھ سو آمہ پتہ کینہہ کالا گاہہ گزشتہ اطمینان تہ یقین کرہ و نیو آندرہ ہنہ۔ وَقَالَتِ لَأُخْتِهِ قُصِيهِ  
 فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تمہہ پتہ ڈوپ موسی علیہ السلامہ سزہ والدن تہنزہ پینہ  
 حضرت کلثومس ووتھہ ژہ کہ تمسند حال دریافت۔ توپتہ درایہ سو۔ واتان واتان واثر فرعونہ سُنْدُ گہرہ۔  
 تیتہ روز سو وچھان امس دوپرازی پات کہ تمین لوگ نہ تہنہ زہ بیہ چھہ آس چہ سزہ پینہ۔ وَحَرِّمْنَا عَلَيْهِ

لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۱ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَ لَكُمْ وَهُمْ لَكُمْ نَصِیْحُونَ ۝۱۲ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۳  
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ اتَّيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَٰلِكَ نُجَزِي الْمُحْسِنِينَ ۝۱۴ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ

الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ اسہ اوس بیا کہ تدبیر کورمت۔ اسہ آسہ رحموہ برو نھی پتھ موسیٰ علیہ السلام  
نہیہ دور دوه ونہ زنانہ۔ تموروت نہ کانسہ زنانہ ہند دود۔ یہ حال وچھت زون تمسزہ ہمشیرن موقعہ  
غیبت فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونہ لكم وهم لکم نصیحون کیاہ بونودہ توہیہ  
اکہ گرک پتہ۔ تم اس فرزندس ذمہ داری سان زہن۔ تم آسن آسند سیٹہاہ خیر خواہ۔ دوپ ہس  
جلد ہن گر تہ کنیہ ہاہ۔ سوڈوژہ تہ آن بہنز والدہ ماجدہ۔ تمویٹھوی پستان ہن تہندس آس منز ترو۔  
تان ہیوت تمودود چون۔ تمہ دوپ بونمن یہ گرہ۔ تہت رچھن۔ تمو کوزس تسلیم۔ فرددنہ الی امہ  
کی تقرأ عینہا ولا تحزن لہس سوزاسہ والہس موسیٰ علیہ السلام پنہ نس والدس نہیہ شہلن تہنزہ  
آہجہ یہہ پدن نہ تم فراقہ کس غم اس اندر بتلا ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون  
یہہ نہیہ سوزانہ کہ اللہ تعالیٰ سُدوعدہ وچھو حق تہ ہوز آسان۔ لیکن افسوس کہ واریاہ لوک یعنی کافر چھنہ  
یہ کتھہ زنانان۔ اتھ تھہ یقین کران وکتبا بلغہ اشده واستوی التینہ حکما وعلما توپتہ بلہ موسیٰ علیہ  
السلام دوت پنہ طاقت و قوتیہ وانسہ یہہ سپد پورہ جوان۔ قوت جسائی تہ قوت عقلی تہند سپد محمل، عطا  
کور اسہ تمن گاہہ جار تہ علم۔ فہم سلیم۔ عقل مستقیم، نبوتہ برو نھہ وکذالک نجزی المحسنین اس  
چھہ نیکو کارن تھہ پات رت بدلہ عطا کران۔ امہ اندرہ سپد معلوم کہ فرعونہ سُد مشرب اوس نہ تمویٹہ  
وقتہ اختیار کورمت بلکہ اس تمہ نہیہ تقرأ۔ امی زمانک اکھ واقعاہ سپد کہ موسیٰ علیہ السلام آس اکہ دوہنہ



أَهْلَهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ<sup>(۱۵)</sup> قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ<sup>(۱۶)</sup> قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرَ الْلَّجُورِ مِمَّنْ<sup>(۱۷)</sup> فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا

شہرہ نمبر۔ تو پتہ یلہ والہس آئے و دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا تو پتہ ژالے آتھ شہرس منز تھمہ وقتہ یلہ اتک لوکھ آس بے خبررات کیت شو تھہ یا دپہرس قیلولہ کران فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ تو پتہ وجھہ تمواتھ شہرس اندرزن جوراہ ہرہ ہر کران هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ اکھ اوس ممو منزہ تہندہ جماعتک یعنی نبی اسرا نیلو اندرہ بیاکھ اوس تہند یو دشمنو اندرہ یعنی فرعونہ سند یو متعلقو اندرہ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ کس موگک مدد تم شخص کس تہنزہ برداری ہند اوس کس شخصس پیٹھ کس تہند یو دشمنو اندرہ اوس۔ گوڈہ کرے ہس تموزبانی فہمائش۔ یلہ نہ تم کینہہ مون فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ کس لائے کس موسی علیہ السلام اکھ مکھالہ اتہ اتفا تاسپد سو ختم۔ یعنی سو مود تمی اکھ مکھالہ سیت۔ اگرچہ مارنکھ قصدہ لائے نہ تموسو مشقت بلکہ اوس غرض کس تہبہ کردن زہ سیتی سپد تہن امیک احساس۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ دوکھ یہ گنہیہ شیطانہ سز کوم۔ یہ کورنہ مہ جان إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ بیشک سو جھوٹراہ کرہون اُن دُشْمَنِ انْسَانٍ سُد۔ تھہ پاٹھ جھو سو اناس غلطی منز تراوان۔ چنانچہ خدا کس کورکھ رجون قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَهُ دوکھ ای میلہ پروردگارہ کو ظلم پان پانس کس تہہ مغفرت ہس کرکھ کس مغفرت إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ پزپاٹ اللہ تعالیٰ جھو سیٹھاہ مغفرت کرہون سیٹھاہ رحم کرہون قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرَ الْلَّجُورِ مِمَّنْ یہہ دوکھ میاہ پروردگارہ چونکہ ژہ کرت پتہ نعمت مہ عطا ہذا سپد نہ بوہر گز کانسہ

يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ  
 لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُبِينٌ<sup>۱۸</sup> فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ  
 بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي  
 كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا  
 فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ<sup>۱۹</sup> وَجَاءَ

جرم سند مدگار۔ امہ واقفک سپد شرس منز چرچہ۔ مگر یہ آس نہ کانسہ خبر کہ یہ قتل کم ہتھو کورمت۔  
 صرف آس خبر اسرا نیلیس۔ سمسن حمایت موسیٰ علیہ السلام کر۔ راتس اوس موسیٰ علیہ السلام  
 اندیشہ سی اندر فاصبح فی المدینۃ خایفًا یترقب پگاہ صمسن ووتھ موسیٰ علیہ السلام آتھ شرس اندر  
 خوف ووحشتہ کس حالس اندر تہ پیاران اوس خبر چھاوون کیاہ بنہ۔ فَاذَ الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ  
 یَسْتَصْرِخُهُ اتی آکھ بیہ سور امگ شخص نیس مدد منگان اوسکھ کر یکہ نادران مددہ خیطرہ قَالَ لَهُ مُوسَى  
 إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُبِينٌ موسیٰ علیہ السلام فر موو تمس ژہ چھو کہ پنز پاٹ بالکل ویتہ نشہ ڈولمت۔ دوہے  
 ہتھو کہ ژہ لوکن سیت لڑایہ کران۔ موسیٰ علیہ السلام سپد قرایہ سویت معلوم کہ ہتھ از کس قضیس  
 منز بہ ہتھ صاف فرعونی سندی طرفہ زیادتی فَاذَ الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ یَسْتَصْرِخُهُ اتی آکھ  
 بیہ سور امگ شخص سبہ رفنگ نیس سمن دو شون ہند دشمن اوس یعنی قبلی۔ اسرا نیلیس  
 گوگمان کہ زبانی کور حضرت موسیٰ ان مہ پیٹھ اظہار ناراضگی۔ وون مائل تمو عملی سزاو نہ خیطرہ مہ پیٹھ  
 دست مبارک قَالَ يَمُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ سولوگ ونہ ای موسیٰ  
 کیاہ ٹہہ ہتھو یژھان مہ تہ مارن ہتھ پاٹھ یوہ توہہ آکھ انسان مورہ ون ان تریدہ الا ان تکون جبّاراً فی  
 الأرض وما ترید ان تکون من المصلحین معلوم ہتھو سپدان ٹہہ چھو نہ یوہان مگر زبردست  
 بن۔ لوکن اندر اہرہ بہہ ناؤن۔ ٹہہ چھو نہ ہرگز یژھان اصلاح کرہ ونیو آندرہ آسن۔ یہ لفظ یلہ یوزام  
 قطن۔ پیارکن اوس تمس راتہ کس قبلی سبہ قتلگ شور و تھمت۔ قاتلس اوس ژھانڈ و لوگمت۔ سو

رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ  
يَأْتِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِيحِينَ ﴿١٠﴾  
فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾  
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ  
السَّبِيلِ ﴿١٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ  
النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ

گویند بیه فرعونس خبر دینہ خیرہ۔ تم کمر جمع مشورہ خیرہ ہین دربار۔ دربارس منز سید طے کہ موسیٰ علیہ السلام گودہ قتل کن کرنہ۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ امہ جملہ اندرہ ووتھ اکھ شخصہا نوس موسیٰ علیہ السلامہ سند یو مجبو اندرہ اوس شہر کہ بیہ اندہ پیٹھ بیہ مشورہ سپدان اوس اوسو نزدیک کوچو منز دوران دوران موسیٰ علیہ السلامس نشہ۔ قَالَ يُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِيحِينَ تمی شخصن دوپ ای موسیٰ پز پاپٹ فرعونہ سُد دربار چھو مشورہ کران ٹھنڈہ مارنہ خیرہ لہذا نیر وٹھہ سمرہ شہرہ منزہ جلد ہکن۔ پز پاپٹ یو چھوس ٹھنڈہ خیرہ رت یڑھہ دنیو اندرہ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ یہ یوزت در او موسیٰ علیہ السلام امہ شہرہ اندرہ کھوژان کھوژان، اندیشہ کران زہ پتہ ما آسیم کائنہ سپاہ لاران قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ نیر بھ وقتہ کوزک دعای میانہ ہروردگارہ نجات دہمہ سکن ظالم لوکن نشہ کنہ انچہ جایہ واناوت وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ تو پتہ یلہ تم شہر مدینس کن متوجہ سید خبر آسکھ نہ بوکوت چھوس پکان دوچھ دیوہہ ہن پروردگار انچہ جایہ کن سیز و تھ ہاوہ۔ چنانچہ تی سُد وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ تَمَّہ پتہ یلہ اٹھہ دوات شہر مدینہ کس اگس کر برس پیٹھ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ تَتَّہ وچھکھ پھلین ہنزاکہ جماعتھاہ چارواین تریش چاوان۔ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ بیہ وچھکھ تم کن لوکن ورا ای الگ اکس طرفس کن روزت زمانہ جوراہ پنہ نین چارواین تریش چنہ نشہ بھ

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ قَالَتَا لَأَنسَقِي حَتَّى يُصِدِّرَ الرَّعَاءُ وَأَبُونَا  
 شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿۲۳﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي  
 لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿۲۴﴾ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَتَشْتَى عَلَى  
 الْآخِيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا

رئان قَالَ مَا خَطْبُكُمْ ایہا الناس تم پر ڈھک ٹھند مطلب کیاہ وھو ٹھہ کیازہ چھوہ نہ پنہ نین چار پائین تریش  
 چاوان قَالَتَا لَأَنسَقِي حَتَّى يُصِدِّرَ الرَّعَاءُ تم دو دو زانو و بچھ آس نہ حض چھہ تریش چاوان یوتان نہ  
 ہم پہل و اہل گدھان چھہ پن تیر ہتھہ۔ توپتہ یوسہ آبہ ہن بچے مڑ آسان چھہ سو چھہ آس پنہ نین  
 تیرن دوان حیاء شرمہ ہمدہ وجہہ بیہ ٹھنہ مر دن سیت مزاحمت سپدہ۔ آس حض سمہ ہوی نہ مگر اسمہ  
 چھونہ گرس منز مرداہ کانہ تہ۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ بابہ صیب سون چھو بڈہ واریاہ وانسہ کن۔ گرس  
 منز چھونہ کام کرہ ون کانہ تہ۔ مجبور اچھہ آس پانہ یوان تیرن تریش چاوانہ۔ یہ یوزت آوموسی علیہ  
 السلام سدس دل مبارکس منز رحم۔ فَسَقَى لَهُمَا آتی لومکھ ارہٹس۔ توپتہ کھورکھ امہ کیرہ منزہ  
 آب۔ سوسی چاوکھ تہہ جانور تمن دوان زنانن پیونہ انتظارک تکلیف تلن ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ  
 رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ توپتہ گے موسی علیہ السلام کہ گلہ کس سائس تل توپتہ کورکھ  
 دعا۔ ای میا پے پروردگارہ یوسہ نعمتا تہہ مد سوزکھ کم یازیدہ یو چھوس تھہ کن سخت محتاج۔ کیازہ اتھ  
 سفرس منز آس واریاہ دوہ گامت۔ تمن اوس نہ کھینہ چینہ خیطرہ کینہہ تہ ہیر سپدنت۔ اللہ تعالی ان کور  
 تمیک سامان مہیا کہ تمہہ دوشوے زنانہ گنیہ گرہ پن۔ تمن ہڈ تھہ بابہ صینن از تھہ پاٹھ آیوہ ٹھہ دوہہ  
 خوتہ سلی پین۔ تمو کور بچھ سوزوی قصہ بیان فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَتَشْتَى عَلَى الْآخِيَاءِ تمو سوزاکھ کور  
 موسی علیہ السلامس نادس۔ سو یلہ تمن رنہہ مند چھہ مند چھہ شرم و حیاء سان آیہ، یہ شریف زادین  
 ہمد عادت چھو قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا دو پکھ میون والد بزرگوار چھو توہہ  
 نادوان تا یلکھ سو دیہ توہہ امہ احسانک بدلہ لیس توہہ اسمہ سیت کوروہ موسی علیہ السلام گئے آمندہ ونہ

فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لَا تَخَفُ نَحْوَتِ مَنْ  
 الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ<sup>(۲۵)</sup> قَالَتْ أَحَدُ مَا يَأْتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ  
 مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ<sup>(۲۶)</sup> قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ  
 إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ  
 عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَمْعِي وَإِنْ

موجب اہم سیت۔ و تہ پکان فر مووموسی علیہ السلام ان اہم دید صابہ زہ پھ مہ پتہ پتہ۔ یو یکہ زہ بروئھ  
 بروئھ۔ یو چھوس پیغمبر زادہ۔ ابراہیم علیہ السلامہ سند یو اولادو آندرہ۔ اس چھنہ وومہ زانہ کن بلا  
 ضرورت قصد نظر دین ہند کران۔ چنانچہ تھے پاتھ وات تم بہندس بابہ صائس نشہ فلتمآجاءہ  
 وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُ نَحْوَتِ مَنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اُدہ علیہ موسی علیہ السلام آوتہندس بابہ  
 صییس، شعیب علیہ السلامس نشہ توپتہ کوزکھ تم نشہ ہن سورئ قصہ بیان تمود ہنک تسلی۔ ڈوپیک  
 وون مہ بر وکانہ غم۔ تہ لبو نجات ظالم لوکن نشہ۔ یوت ہنک نہ تم واتھ۔ کیا زہ یہ شہر چھنہ فرعونہ  
 سزہ عملدار سی منز شامل۔ قَالَتْ أَحَدُ مَا يَأْتِ اسْتَأْجِرُهُ سمود یو زانو آندرہ وون اکہ زانہ شعیب  
 علیہ السلامس ای میانہ بابہ صابہ توہہ چھ ملازم رٹ فخر ضرورت۔ اس بڑے یہ وون سون چار واین  
 سیت تریش چاوانوہ خیلرہ ٹیرن چھونہ وکن مناسب۔ یہ رٹن پزہ تہہ ملازم۔ اِنْ خَيْرٌ مِّنْ  
 اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ہنر پات سم زہ ملازم رٹ ہنچہ تموا ندرہ چھو بہتر کس طاقتورہ مانندار  
 آسہ۔ سم دوشوے صفت چھہ تمکن اندر موجود قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ شعیب علیہ السلامن ڈوپ حضرت موسی اس یو چھوس یرشان بوکرہ توہہ نکاح سمو  
 پنہ نیو دو یو صا جزا دیو آندرہ اہم صا جزا ہ سیت یوسہ تہہ ہند کریون ہتھ شرطس پیٹھ کہ آٹھن  
 ورمین روزومہ نشہ ملازم فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ توپتہ ہر گاتہہ پورہ دہن ورمین روزو سو چھہ  
 تہنر مہرانی۔ میانہ طرفہ جبر تہ زور چھونہ۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ یو چھوس نہ یرشان توہہ پیٹھ

شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۲۸﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلِينَ  
 قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۲۹﴾  
 فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ  
 الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَعْلَمُ أَيُّكُمْ  
 مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۳۰﴾  
 فَلَمَّا أَنَّهُمْ آتَوْا مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ  
 الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنُ يُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۱﴾

بیتھ معاملس اندر د شوارى تہ مشقت تراون سجدتی ان شاء الله من الصالحین تہہ لنبومہ انشاء الله  
 رتبولو کو منزہ، رُت معاملہ کرہ ونیو اندرہ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ تمودو پھہ یہ سُد توبہ تہ مہ منز بختہ  
 معاہدہ مگر ایتما الاجلین قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ مہ جھو اختیار سمودو یومد تو اندرہ کس مدت بو پورہ  
 کرہ۔ مہ پیٹھ بیہ نہ کرنہ کانہہ زیادتی تہ جبر وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اللہ تعالیٰ چھو سانہ سمہ  
 معاہدک گواہ کافی فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ تمہ پتہ یلہ موسیٰ علیہا السلام ملاننگ  
 مدت پورہ کور دراولتہ شعیب علیہ السلام اجازت بیتھ پن عیال بیتھ مصرس کن یا شمس کن گوہہ  
 خیطرہ آنس من جانب الطور نارًا وتہ پکان لچھ اکھ تیر بیہ آکھ نہ لہ گتہ ہندہ سبہ وتھ اتھہ۔ اتی  
 وچھٹھ کورہ طور کہ طرفہ نارہ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَعْلَمُ أَيُّكُمْ مِنْهَا بِخَبْرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ  
 النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ باژن پنہ نین فرموؤ کہ تہہ ٹھہرہ ویتہ تھی۔ مہ وچھہ نارہ۔ بوگڑھہ تھہ  
 نارس نشہ۔ دیوہ یوموہ وتہ ہنز کانہہ خبرہ بیتھ یانارہ تیو نگلاہ بیتھ تھہ تہہ پان وشناو وتمہ نارہ سیت  
 فَلَمَّا أَنَّهُمْ آتَوْا مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنُ يُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ  
 رَبُّ الْعَالَمِينَ توپتہ یلہ موسیٰ علیہ السلام اتھ نارس کھ تل وات امہ میدانہ وچھنہ طرفہ بابرکت جلیہ

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى أَقْبَلُ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿۳۱﴾ أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمَرَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذُنُوبُهُ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِذْ أَنْتُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يُقَتِّلُونِي ﴿۳۳﴾

پیٹھ اکہ کلہ منزہ گوکہ آلو زہ ای موسیٰ بیشک بوی پھوس معبود برحق۔ عالین ہند رب۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ بیا کہ آلو گو کہ کہ لورہ ہن پن تراود پتھر فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ لورہ پتھر تراوتھ یلہ وچھکھ سنو لور زاولس سرفہ سہ پاٹھ ضر ضر کران۔ تہ وچھت تھارے تہ کھوژ۔ تھر پھرت ہیو چھکھ ژلن۔ عیالسن ہیو چھکھ گھوٹن۔ پوت نظر تہ ڈتھ کہ نہ۔ اللہ تعالیٰ اَن فرموس یَمُوسَى أَقْبَلُ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ای موسیٰ بروٹھ پھ کھوژمہ بیشک تہہ پھوہ امنس منز روزہ و نیو آندرہ۔ توہہ ولتہ نہ کانہہ تکلیف۔ یہ پھنہ کانہہ کھوژنچ کتھاہ۔ بلکہ پھوہ تہہہ مَجْرَہ۔ بیا کہ مَجْرَہ پھو تہہہ اَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ تراود تہہ اتھ پن ناکس پنہ نس منز۔ تو پتہ کڈو سُو اتھ نیرہ سفید نہہ نہ کرہ ون۔ کڈہ بیماری ورا کی۔ وَاضْمَرَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ اگر تہہ عصاء اس اژدہ بنہ سیت خوف پیدہ سپدہ سُو دُور کر نہ خیطرہ ملنا وویہ پن اتھ پنہ نس گھوہس سیت سُو سپدہ ہیہ تنھوی اتھ اوس اصلی حالتس اندر تمہ سیت ڈلہ توہہ خوف تہ کھوژن فَذُنُوبُهُ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ تے زہ چیز لور تہ سفید اتھ یعنی بد بیضاء پھ زہ بچہ دلیلہ تہہہس پروردگارہ سپدہ طرفہ فرعونس تہ تہہہ سن وزیرن تہ امیرن بشہ گھہنہ خیطرہ سمیک توہہ لحم کرنہ یوان پھو اِنَّمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ بیشک تم پھہہ جماعتاہ سخت نا فرمان قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يُقَتِّلُونِي موسیٰ علیہ السلامن ڈوپ، ای میاہہ ہروردگارہ بُو پھوس گھہنہ

وَإِخِي هَارُونَ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا  
يُصَدِّقُنِي وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَيِّدَ بُونَ ﴿۲۲﴾ قَالَ سَنَشُدُّ  
عَضْدَكَ بِإِخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَمَّا سُلْطَنًا فَلَا يَصِلُونَ  
إِلَيْكُمْ بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغُلُوبُونَ ﴿۲۳﴾  
فَلَمَّا جَاءَهُمُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ  
مُفْتَرَىٰ وَمَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَىٰ ﴿۲۴﴾ وَقَالَ  
مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ

خیطرہ چانس کھمس تعمیل کرنے خیطرہ تیار۔ مگر زہ پچھے خبری کہ مہ ہتھو مورمت ٹہند اکھ شخصہ لہذا ہتھو  
مہ خطرہ گڑھان کہ تم مازن تہند ہ بدل مہ۔ تبلیغ کر نگ ایہ نہ موقعے وَإِخِي هَارُونَ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي  
لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي مہ ہتھو گڑھان پھمیر زیوہ منز۔ میون لوی ہارون ہتھو میانہ خوتہ  
فصح زیوہ کن۔ سوتہ سوزن مہ سیت مدگار۔ سوکرہ ہامیانس تقریرس تائیدتہ تصدیق مفصل پاٹ ونہ  
ہاسو تمین میان تھہ۔ اِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَيِّدَ بُونَ کیا زہ لوی ہتھوس کھوژان تم گڑھہ نہ مہ اپن یور زان  
قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِإِخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَمَّا سُلْطَنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ ان  
فر موس کہ واقعی ضرور گروا س مضبوط ٹہنز۔ نر ٹہندس بای سندہ سیت بیہ دمووہ توہہ دوشون اکھ  
خاص شوکتھہ نہ ہیئتھہ۔ بیہ سوطا قتھہ سمہ سیت نہ توہہ تم کانہہ تکلیف ہیکن واتہ ناوت۔ بِآيَاتِنَا  
أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغُلُوبُونَ کس گڑھو سان آیات نہ معجزات ہیئتھہ ڈوشوے بیہ سم ٹہنز پیروی  
کرن۔ رُوذو ضرور تمین پیٹھہ غالب۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ مُفْتَرَىٰ  
وَمَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَىٰ توپتہ یلہ آو تم نیشہ موسیٰ علیہ السلام سان واضح تہ ن آیات ہیئتھہ،  
تم لگ ونہ بیہ ہتھو نہ مگر جوداہ، خدائیس پیٹھہ خواجواہ ٹھہراونہ آمت۔ اسہ ہتھنہ سمہ کتھہ بوزہ مڑے پنے



لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۷﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ  
يَأَيُّهَا الْمَلَأَمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي  
يَهَامُنْ عَلَى الطِّينِ فَأَجَعَلُ لِي صَرَخًا عَلِيًّا أَظْلَعُ إِلَى  
إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَكْظُمُهُ مِنَ الْكُذِبِ بَيْنَ ﴿۳۸﴾ وَاسْتَكْبَرَ  
هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُوا أَنَّهُمُ الْإِنبَاءُ  
لَا يَرْجِعُونَ ﴿۳۹﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ

نمین بر و تظہین مالین بڈ مین نغمہ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ  
عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ موسى عليه السلام فرمود کہ امیک جواب۔ میانس پد ورد گارس  
چھو پور معلوم کہ گمہ آوٹس نغمہ یو ڈ ہدایت بیتھ۔ بیہ چھہ اللہ تعالیٰ سی پور خبر گس شخصس سپدہ انجام بخیر  
ذنیاس اندر، بیشک ظالم، تم نہ ہدایتس نہ صحیح دینس پیٹھ آسن تم سپدن نہ ہرگز کامیاب نہ ذنیاس  
اندر، نہ آخرتس اندر۔ فرعونس سپد اندیشہ، تم بوزہ موسیٰ علیہ السلامہ سزہ دلیلہ کہ خبر چھامیان  
لو کہ ماسپدن مائل موسیٰ علیہ السلامس گن تم نہ کرنا و دربارک لو کہ جمع وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأَيُّهَا الْمَلَأَمَا  
عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي تمین لو کن ہیوٹن و ن ای امیر و تہ و زید و بو چھوس نہ زانان پانس و رای  
تھندہ خیترہ کانہ معبودہه فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنْ عَلَى الطِّينِ فَأَجَعَلُ لِي صَرَخًا عَلِيًّا أَظْلَعُ إِلَى إِلَهِ  
مُوسَى آے ہامان ژہ و ہ نار سیرہ کویدہ تو پتہ بناو میانہ خیترہ پوختہ سیرین ہنزا کہ تھنر۔ عمارتھہا تمی پیٹھ  
دہ بو نظر حضرت موسیٰ سندس خدائس گن وَإِنِّي لَأَكْظُمُهُ مِنَ الْكُذِبِ بَيْنَ لو چھس زانان سو اپزونہ  
دنیو آندہه وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُوا أَنَّهُمُ الْإِنبَاءُ لَا يَرْجِعُونَ سبجہ تہ  
غزورہ کن آس فرعون تہ تھنرہ لشکرہ ہاتق سر بلندی ہنوز مرز کرن۔ تم آس زانان کہ تمین چھونہ ذنیاس  
منزہ نیرت اسہ نغمہ و انبوی۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ اتھہ تکبرس تہ غزورس پیٹھ  
سزادہ خیترہ روٹ اسہ فرعون بیہ تھنر لشکر۔ تو پتہ دت برت دریا و س منز تو پتہ چھاو سو اسہ تھہ

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً  
 يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿۴۱﴾  
 وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ  
 مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۴۲﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ  
 مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَآئِرَ  
 لِلنَّاسِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۳﴾  
 وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا

منزل۔ فَاظْطُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ جس وچھو کیتھ پیچھ انجام سپد من ظالمن ہند وَجَعَلْنَاهُمْ  
 آيَةً يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ تم آس آسہ بناومت رئیس تہ زٹھ تم لوکن نادودان آس ناس کن وَيَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ قیامت دوہ آسن تم بالکل بے بس تہ بے گس کانہہ تہ کرہ نہ تہمن کانہہ مددہ  
 وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً پتہ تھاوا آسہ تہمن لوکن پیچھ دنیاء س منز تہ لَعْنَتِہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ قیامت دوہ تہ آسن تم بد حال لو کو آندرہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ  
 بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ  
 پتر پات آسہ کتر عطا موسیٰ علیہ السلام کتاب (یعنی تورات) بروٹھم نافرمان اقوام، قوم نوح، قوم عاد،  
 قوم ثمود، ہلاک کرنہ پتہ۔ پیچھ کتابہ منزل تہمن لوکن ہندہ خیرہ آسہ جہ دلیلہ بیہ یوڈ ہدایت بیہ ہند  
 رحمت۔ پیچھ تم نصیحت حاصل کرن وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا  
 مِنَ الشَّاهِدِينَ بیہ آسونہ تہہ یار رسول اللہ کوہ طور کہ مغربہ کی طرفہ تہتس آسہ موسیٰ علیہ السلام  
 احکام یعنی تورات عطا کتر۔ حکم کوزس فرعونس نشہ پیغام واتہ ناوگ۔ بیہ آسونہ تہہ تمہ وقتہ کیو لو کو  
 آندرہ کہ پانہ کیاہ آسہوہ حالاتن ہند مشاہدہ کورمت وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلُ عَلَيْكُمُ الْعُمْرُ بَلْکے کتر

كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۳۸﴾ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ  
 الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا  
 وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿۳۹﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا  
 وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَتْهُم مِّن نَّذِيرٍ  
 مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۰﴾ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمُ  
 مُّصِيبَةٌ لِّمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ  
 إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۱﴾ فَلَمَّا

پیدہ آسہ واریاہ قوم موسیٰ علیہ السلامس پتہ۔ تهنزے عمرہ سپرہ تمن پیٹھ زہجھہ۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي  
 أَهْلِ مَدْيَنَ بیه آسوه نہ توہہ شہر مدینہ کین لوکن منزلسہ وَان تَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا  
 مُرْسِلِينَ تا اینکه ہر دو تہہ تمن لوکن پیٹھ سان آیات بلکہ آس آس توہہ پیٹھیر ہلوت سوزہ ون۔ اسی سوز  
 توہہ گن تم حالات و واقعات ادہ ہیکوہ توہہ تم حالات و واقعات بیان کرت۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ  
 نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَتْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ  
 بیه آسوه نہ تہہ کوہ طور کہ طرفہ موجودیلہ آسہ آلودیت (یا موسیٰ انی انا اللہ رب العلمین) لیکن بیه تہہ  
 تہہ دس پروردگارہ سوز تہہ ہ حقہ ہڈ مہرانی کہ تہہ سخر نوہ نعی آخر الزمان۔ بیه کر نوہ باخبر تمو  
 واقعاتوسیت تہہ تہہ نیم کرد و تمن لوکن تمن نشہ نہ توہہ بروٹھ کا نہہ نیم کر و ن پیٹھراہ آمت ہچھو دیوہ  
 تم نصیحت رٹن وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمُ مُّصِيبَةٌ لِّمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا  
 رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آس سوز ہونہ گن گن پیٹھیر۔ ہر گاہ لے بے تہہ آسما کہ یلہ  
 تمن کا نہہ مصیبت تہہ بلایاہ و لہرہ ہاپنہ نین تمن پیٹھ کا مین ہندہ سببہ سہمہ تہہ دیو اتھو بروٹھ گن سوز مڑہ  
 آسکن اتی دیہ ہن تمہ سانہ خدایا تہہ کو نہ سوز تھن آسہ گن کا نہہ پیٹھراہ ہن آیات ہتھہ آس کرہ ہو تمن

جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا  
 أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ  
 قَالُوا سِحْرِن تَظَاهَرًا ۗ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كِفْرٍ  
 قُلُوبًا فَاتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ هُدًى مِّنْهُمَا اتَّبِعْهُ  
 إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ  
 يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ

چاین آیان ہنز بیروی۔ بیہ آسہو اس با ایمانوں اندرہ **فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا**  
**أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ** وہاں یلہ تم ن لہ ساند طرف امر حق یعنی رسول بر حق بیہ دین حق ووت  
 دینہ لگ تم اس پیغمبر کونہ آیہ توہہ کتابا عطا کر نہ اڑہہ موسیٰ علیہ السلا مس عطا کر نہ آیہ یعنی ا کہ  
 وٹہ ساری کتابا کی ساتہ **أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ** کیاہ تم کو کورانا انکار تہہ کتابہ  
 یوسہ عطا کر نہ امر آس برو تہہ موسیٰ علیہ السلا مس۔ سوی یکہ وٹہ اکی ساتہ نازل کر نہ امر آس۔  
**قَالُوا سِحْرِن تَظَاهَرًا** تم کافر آس وناں کہ سمہ دو شوے کتابہ (قرآن مجید تہہ تورات) ہتہہ بحر تہہ  
 جو دا کہ اس موافقت کران۔ **وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كِفْرٍ** بیہ آس دپان اس ہتہہ دو شون کتابتاں انکار  
 کران **قُلُوبًا فَاتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ هُدًى مِّنْهُمَا اتَّبِعْهُ** ان کنتو صدقین **إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** تہہ فرما دیو کہ  
 یار سول اللہ، ای مکر و تہہ کمر تو پیش خدایہ سدہ طرفہ کتابا یوسہ زیادہ و تہہ ہادہ وناں آسہ سمود دیو کتابو  
 خوتہ یوتہ کرہ تلمہ تمہہ چی بیروی ہتہوے تہہ یہ کتہہ پز وٹہ وناں کہ سمہ زہ کتابہ ہتہہ بحر تہہ جو دا **فَإِنْ لَمْ**  
**يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ أَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ** ہر گاہ نہ تم یہ کمر تہہ ہیکن ہس زانو کہ تم ہتہہ کتہہ  
 پز چ بیروی کران بلکہ ہتہہ تم پنہ نین نفسہ چین خواہن ہنز بیروی کران **وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ**  
**هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ** سمہ اکھا ہتہو گراہ اس شخصہ سدہ خوتہ ہس پنہ نفسہ خواہن ہنز بیروی  
 کرہ خدایہ سدہ طرفہ کتہہ ہدایہ ورا ای **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** پز پاٹ اللہ تعالیٰ ہتہو نہ

هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾  
 وَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾ الَّذِينَ  
 اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ أُتِيَ عَلَيْهِمْ  
 قَالُوا الْمَنَابِقُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٤﴾  
 أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَوَيْدُرَعُونَ  
 بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وَمِنَّا رَجُلٌ قَنُوقٌ ﴿٥٥﴾ وَإِذْ أَسْمِعُوا  
 اللُّغَا عَرَضُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا إِنَّا عَمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

و تھ ہاوان پتھین ظالم لوکن تم ہوزواضح تہ نون سپدت گمراہی نشہ بازیکن نہ ولقد واصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون بیشک اسہ واتنوتون لوکن پٹن کلام یعنی قرآن مجید پوٹس پتھ پتھ تم لو کہ بار بار تازہ تازہ ہوزنہ سیت نصحت رٹن۔ یعنی آس ہیجہ ہواکی ساتہ اکہ وٹہ سوزت مگر اسہ سوز سوزوارہ وارہ تھندی فاندہ خیطرہ آلکنین اتینہم الکتب من قبلہ ہم بہ یؤمنون تم لو کہ سمن اسہ سیمہ قرآن مجید ہزونٹھ کتاب عطا کر تمن اندرہ تم حق شناس چھہ تم ہجہ پتھ قرآن مجید س پڑھ کران ولذا ایتلی علیہم قالوا المنابق انہ الحق من ربنا اننا كنا من قبله مسلمين یلہ تمن بیٹھ یہ قرآن مجید پتھ پرنہ یوان، تم ہجہ دپان اسہ کٹر پڑھ اتھ۔ بیشک پتھویہ سانس پروردگارہ سندی طرفہ۔ آس آس اکہ نازل سپد نہ بروٹھی اتھ تسلیم کرہ وان اولئک یوتون اجرہم مررتین بما صبروا ویدرعون بالحسنۃ السیئۃ و منارن قنوقون امی قسمہ کین لوکن کیا لیہ دوگن مزور عطا کرنہ تھندہ صبر کرنہ خیطرہ بیہ ہجہ تم لو کہ نیکی سیت بدی ہند مقابلہ کران بیہ ہجہ خرچ کران تھی منزہ ٹس اسی تمن عطا کور خدایہ سنزن وتن اندر ولذا اسمعوا اللغوا عرضوا عنه بیہ یلہ تم ہوزان ہجہ پانس نسبت کا نہہ پیچھ کتھاہ مخالفین نشہ بے توجہ ہجہ سپدان تمہ نشہ زن نہ ہوزکھوی وقالوا اننا اعمالنا ولکم اعمالکم بیہ

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَأَنْتَبِعِيَ الْجَاهِلِينَ ۝۵۵ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ  
 أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ  
 بِالْمُهْتَدِينَ ۝۵۶ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُخَاطِفُ  
 مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا مِمَّا يُحِبُّ إِلَيْهِ فَشَرَّتْ  
 كُلُّ شَيْءٍ رِسْرًا قَائِمٌ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۵۷  
 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيْبَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَبَقِيَ قَتْلُكَ مَسْكِنُهُمْ

چھہ دیاں تم اسہ ولتر پنے نین عملن ہنز مژور توہہ تہ چھوہ پنے نین عملن ہنز مژور۔ اسہ پیہ بروئھہ تیہ  
 آس گرو۔ توہہ پیہ بروئھہ تیہ تہہ کمر و سَلَّمَ عَلَيْكُمْ میانہ طرفہ چھوہ سلام۔ آس گرو نہ توہہ مقابلہ تھہ  
 تھوہ سیت لَأَنْتَبِعِيَ الْجَاهِلِينَ آس چھہہ جاہلن سیت تھی کر ان اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ  
 اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ہنز پاٹ تہہ نہ حض ہیکون نہ وتہ پیٹھ اَنْتُمْ سُوْسِ توہہ خوش کر ہا۔ بلکہ اللہ  
 تعالیٰ بس یرھہ تہ گره ہدایت تہ آس راہ راستس پیٹھ۔ ہدایت کر ہج قدرت چھہہ کانسہ خدا بس  
 وراہی۔ ہدایت چھہہ تھی یہ تہ چھوہ کانسہ معلوم کہ کس بنہ ہدایت تہ کس بنہ نہ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ  
 بلکہ چھوہ سوئی زیادہ زانہ ون کہ ہدایت تہ تو تھہ لہ وان کم چھہہ وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُخَاطِفُ  
 مِنْ اَرْضِنَا یہہ چھہہ بعضی کافر و دان ہر گاہ آس تھہ نہ ہدایت پیروی گرو، دین اسلام قبول گرو تیلہہ سمو  
 آس پنے شہرہ منزہ چوب دت نہیر کڈنہ۔ پیٹھ بے وطنی ہند تکلیف تلو۔ یہہ سپدہ معاش تہ پریشانی اَوَلَمْ  
 نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا مِمَّا يُحِبُّ إِلَيْهِ فَشَرَّتْ كُلُّ شَيْءٍ رِسْرًا قَائِمٌ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یہہ ون  
 یہہ محض لغو کیا زہ اسہ چھہہ ناجای و تڑ متھہ حرمس منز تھہ منز امن و امان سان روزت چھہہ۔ کیاہ  
 ایمان آنت سپدیا تھن پیٹھہ بد امنی ہر گز نہ۔ پیٹھ خر مس ن و اتاوندہ چھوہ یوان پر پیٹھ تھہ قسمک میوہ۔ رزق  
 چھہہ عطا کر ان آس تھن پنے طرفہ کانسہ ہند ویتہ وراہی۔ مگر تمہو آند رہہ چھہہ واریاہ لو کہ یم نہ سمہ تھہ زانان  
 چھہہ۔ تھن ہند چھہہ خیال کر ان۔ بیا کہ سبب چھوہ تھہدہ ایمان نہ انہ نگ کہ تم چھہہ پنے خوش عیشی پیٹھہ ناز

لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿۵۸﴾  
 مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ سُوِّلًا يَلْتَمِسُوا  
 عَلَيْهِمُ الْيَتِيمَ ۖ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿۵۹﴾  
 وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا ۖ وَمَا

کران نہ تھی کان۔ یہ تہ چھہ تہنز حماقت کیا زہ وکذا اهلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا فیتلک مسلککھم  
 لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اسہ گال وارین شہرن ہند لو کہ سم فخر تہ سبیر  
 آس کران پتہ نس سامان عیش و آرامس پیٹہ۔ کیا چھہ تہند گرہ ویران یمت تہنز ان اچھن ڈیشمان۔  
 تمن پتہ آی نہ تم گرہ آبادی کرنہ زمانہ مگر کمہ سی کالس۔ پتھ پاٹھ کہ کانہ مسافرہ لھہ اتفاقا توکن پتہ  
 روزہ کم کینہہ کالاہ تھکھ کڈنہ خیطرہ یا تماشہ وچھہ خیطرہ پیہ تہ گرہہ۔ یا شمس کھنڈس روزہ تمن جانن  
 اندر۔ آخر کار زود آسی تہندہ ساری مال و دولتک مالک کیا زہ آس چھہ فناء و زوالہ نعیہ منزہ تہ پاک۔  
 بیا کہ شہ چھو تمن گوہان کہ ہر گاہ تہنز ہلاکت چھہ سبز مژ تہندہ ہفرہ سببہ تیلہ تمن موجودہ کافران یہ  
 واریاہ کال گوٹھر چہ کامہ کران تیلہ کونہ چھہ سم تہ ہلاک گوہان۔ امی شہہ مٹو کھہ چھہ سم ایمان اتان۔  
 امہ شہبگ جواب چھو کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ سُوِّلًا يَلْتَمِسُوا عَلَيْهِمُ الْيَتِيمَ  
 پروردگار چھو نہ منہ شہرہ کین لوکن تو تان گالان یو تان نہ تمن کن تہندس منہ بدس شہرس منز چھو  
 سوزان کانہ پیغمبرس نس تمن پیٹہ پران چھو سان آیات وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ تو  
 پتہ چھکھنہ آس شہرن ہند لو کہ گالان مگر تیلہ یلہ تم لوک کانہ ظلم و ستم یا شرارت کران ہین۔ اتھ  
 قانونس موافق آو تہہ سبت معاملہ کرنہ۔ نہ آوہ تہہ پیغمبرہ سہہ بینہ بروٹھ ہلاک کرنہ نہ پیغمبرہ سہہ  
 پتہ۔ بلکہ ویکھ تان آوہ نہ تہہ ہلاک کینہہ کرنہ۔ مگر دوکن گروہن کینہہ دوہ، ہر گاہ تہند یوہے رویہ رود  
 تیلہ چھو تہہ ضرور سزا کھیون۔ چنانچہ جنگ بدرس وغیرہ منز سپدتی۔ بیا کہ کتھہ تہ چھہ مانع ایمان انہ  
 نس سوگنہ پیٹہ کہ دُنیا چھو نقد امہ موکھ چھو مرغوب آخرت چھو وعدہ تمی موکھ چھو غیر مرغوب۔ لہذا  
 چھنہ دُنیا ک رغبت و لو نیشہ دور سپدان تمیک جواب چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ

عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۰﴾ اَمَّنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًّا  
 حَسَنًا فَهَوْلًا قِيَاهُ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿۶۱﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ  
 شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۶۲﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ  
 الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا  
 إِلَيْكَ مَا كَانُوا آلِيَانَا يَعْبُدُونَ ﴿۶۳﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ  
 فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ

فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا بے نئس مال توہمہ دنیا اس اندر عطا آو کر نہ سو چھو محض کیوں دوہن  
 ہمدہ خیرہ۔ دنیا چہ کم زندگی ہمد متاعہ تہ زینتھا عمرہ ہمدس دوبرئس سبت دوبرہ سوتہ و ما  
 عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى رثن کاین ہمد اجر تہ ثواب ئس اللہ تعالیٰ اس نغمہ نیکو کارن کیت چھو سو چھو  
 سیٹھا بہتر تہ سیٹھا پوشرہ ون تہ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیاہ توہمہ چھوہ نایرہ ہن تہ فخرہ خزان اَمَّنْ وَعَدْنَاهُ  
 وَعَدًّا حَسَنًا فَهَوْلًا قِيَاهُ کیاہ سو شخص ئس سبت اسہ رت وعدہ کورمت چھو۔ ئس ضرورتہ وعدس  
 حاصل کرہ ون چھو کَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سو چھائس شخص ہو ئس اسہ تمح تلہ نوو دنیاچہ  
 مختصر زندگی منز اکہ ناپائیدار متاعہ سبت۔ تُوهُوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ توپتہ بیہ سو قیامتک دوہ  
 گر فراق کتر حاضر کر نہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ بیہ چھو سو دوہ قابل  
 ذکر سمہ دوہمہ اللہ تعالیٰ تمن کافرن زبرد توئشہ پاٹ آلودت پر ژہہ ازتہ چھوہ تم تم تہہ میان شریک  
 زانان آسو کہ۔ شیطان ہمدہ ڈالہ سبت قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ دینہ لکن تم لو کہ تمکن پیٹھ  
 عذابک حکم محقق تہ ثابت ہدمت اسہ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا ای سانہ پروردگارہ تم لو کہ چھہ  
 بیشک تہ سموئس گمراہ کمر اغوینہم کما غوینا اس کمر تمو گمراہ چھہ پاٹ اس پانہ گمراہ سپدمت اس



كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿۶۳﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ  
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۶۴﴾ فَعَبَّيْتُ عَلَيْهِمُ الْآنِبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا  
 يَتَسَاءَلُونَ ﴿۶۵﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ  
 يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿۶۶﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا  
 كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۷﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ

تَبَّأًا إِلَيْكَ مَا كَانُوا يُعْبُدُونَ آس چھہ ژہ بروئھہ كئہ دست برداری وڈان۔ سم آس نہ آسہ  
 عبادت کران۔ تمن اوس نہ آسہ سبتِ كانہ تعلق وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ قَدْ عَوْهُمْ فَلَمْ  
 يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ تمہہ پتہ بیہ تمہن مشرک وند۔ ویو آلو تمہن  
 باطل معبودان تم شریک آسوکھ ٹھہراوان معبود برھس۔ توپتہ دیکھہ تم آلو۔ تم دیکھہ نہ تورہ کانہہ  
 جواباہ۔ توپتہ پیکھ نظر عذائس پیٹھ۔ ذہنہ لگن ای کاش کونہ آس آس ذنیاءس اندر سیزہ وڈتہ پیٹھ۔ پتھ  
 عذابس ماسپدہ ہو گر فثار۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ بیہ سمہہ دوہنہ تھدہ  
 آلودتھہ پر ٹھیکھ اللہ تعالیٰ ای لوکو توہمہ کیاہ جواب دژوہہ ذنیاءس اندر میانین پیٹہرن فَعَبَّيْتُ  
 عَلَيْهِمُ الْآنِبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ہس گڑھس ٹھہز وڈہوئہ ساری مضمون مشرت۔ نہ اپیکھ  
 پنہ نین دماغن منزیاد کینہہ تمہہ دوہنہ نہ پیکھ یاد ی پیٹہر کیاہ آس آسہ ونان نہ ہسکن اکھ اکس پر ٹھتہ کیاہ  
 ساری آسن پریشان فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ البتہ وڈان تم  
 اکھ ٹوبہ کور ذنیاءس اندر بیہ اوئن ایمان بیہ کرین رژہ عملہ تمہن لوکن ہجھہ امید کہہ تم آسن آخر کس  
 منزرتہ گاروتہ نوزو فلاح لبہ وینو اندرہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ٹھہد پروردگار چھو کئوی کمالہ  
 کیو صفتوسبت مٹھف۔ چنانچہ سوئتھہ چیزس پیدہ کرن یژھان چھو تھہ چھو پیدہ کران۔ تکوینی اختیار چھو  
 تش یوت۔ ہس کھم سو یژھان چھو تہ پند چھو کران سوئی چھو انبیاءن ہبہہ ذریعہ نازل فرماوان۔  
 تشریحی اختیارہ چھو کس یوت یعنی کینہہ چیز شریعت مقرر کرن مآکان لہم الخیرۃ تمہن لوکن چھو نہ

مَا تَكُنْ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِّمُونَ ﴿۳۹﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ طُكُّهُ  
 الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَكَهُ الْحُكْمُ وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ ﴿۴۰﴾  
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْبَيْلَ سُرْمًا إِلَى يَوْمِ  
 الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿۴۱﴾  
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سُرْمًا إِلَى يَوْمِ  
 الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِبَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا

احکام تجویز کر تک کا نہ تھا۔ بس لحم سویشہ سوی کرہ جاری۔ تم مشرک چھہ پنہ طرفہ شرک  
 جائز کر ان مگر سبحن اللہ وعلی غایتیرون سو چھو منزہ تہ پاک بالا و برتر تین لوکن ہند یو ساری  
 شر کو نشہ وربک یعلم ما تکن صدورہم و ما یعلنون تہند پروردگار چھو تیتھ کامل علمہ و ول کہ سو  
 چھو زمانہ تہ سو روی یہ تہند دل پوشیدہ تھاوت چھہ بیہ تہ سو روی یہ تم نراوان تہ ظاہر کر ان چھہ  
 و هو اللہ لا الہ الا هو طکک الحمد فی الاو لی والآخرۃ و کہ الحکم والیہ ترجعون بیہ چھو سوی معبود  
 برحق بس و رای نہ کا نہ معبوداہ چھو سوی چھو حمدس سزاوار دنیا اس منزہ آخرتس منزہ کیا زہ تہند  
 نصرفات چھہ دوشون عالمن اندر تنھی تم دلالت چھہ کر ان تہندس کماس پیٹھ تھہ دار و مدار چھو  
 حمدس سزاوار اسن بیہ چھہ تہندی حکومت دنیا و آخرتس منزہ بیہ چھو قوت تہ وسعت تہندہ سلطنت  
 تھوی کہ چھہ ساری ایو تس کن و اتاونہ۔ چھہ بیكونہ تس و رای بیہ کاسہ کن گڑھت۔ یو ہے چیز چھو سو سمہ  
 سیت تہندی الوہیت ثابت سہان چھہ قُلْ اَرَأَیْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْبَيْلَ سُرْمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  
 مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ فرماؤ کہ چھہ یارسول اللہ ای لو کو تلامہ و نتو چھہ ہر گاہ اللہ  
 تعالیٰ توہہ ہمیشہ خیطرہ تھاوہ راتھہ قیاس تان معبود برحقس و رای چھہ معبود بیچہ توہہ نیش آنت دہک گاش  
 بس چھو سوی قدرتس اندر تہ یکتا۔ بس چھوہ ناچہ توحید چہ سمہ صاف دلیلہ یوزان قُلْ اَرَأَیْتُمْ اِنْ جَعَلَ  
 اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سُرْمًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِبَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تَبْصُرُونَ

تُبْصِرُونَ ﴿۴۱﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا  
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۴۲﴾ وَيَوْمَ  
يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۴۳﴾  
وَتَزْعُمَانِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ  
فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۴۴﴾

ای اظہارِ قدرتِ خیرہ فرما دیو کہ تمہ ایک برعکس تمہ تلامہ و بنو ہر گاہ اللہ تعالیٰ توہم پیٹھ کرہ سوری  
وقت دہی دودہ ہمیشہ خیرہ قیاس تان۔ معبود برحق و راکی تمہ معبود ہیجہ توہم نشہ رات اکتھ ہیجہ منز  
تمہ آرام و قرار ہیجہ کمرت۔ کیاہ تمہ ہجوہ ناخداہیہ سنزیہ بذقت و دارہ و چجان۔ تمہ قدرتس اندر  
کنوی آسن ہجوہ منگان الوہیتس اندر تہ کنوی آسن۔ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ  
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سُو مہم ہجوہ تنہوی کہ یہ ہجہ ہنزہ رحمت تہ مہرانی کہ تم  
کمر تمہہ خیرہ رات تہ دودہ پیدہ۔ ہیجہ تمہہ راتہ منز آرام کمر وہیہ ہیجہ دوس منز تمہہ رزق ژہا ہنڈو۔ ہیہ  
ہیجہ تمہہ ہنزہ تمن دوشون نعمون پیٹھ شکر دپو۔ ہس اتھہ انعامس اندر تمہہ کنوی آسن تہ ہجوہ منگان  
تمہہ معبود آسس منز کنوی آسن۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ہیہ  
سمہ دودہ اللہ تعالیٰ مشرک بڈہ آلودت فرماوہ ہیجہ بے لوکہ تہ ہنزہ رسوائی بوزن۔ ای مشرک کوگوت گوہ  
تم معبودان باطل تم تمہہ میان شریک زانان آسوکہ وَتَزْعُمَانِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ہیہ انون آس  
برونہ کن پر ہیجہ امتہ منزہ اکہ اکہ گواہا یعنی تمہہ اٹک پیغمبر ہس ہر و نا فرمانی ہند سوری حال بیان کرہ  
فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ توبہ و نواس ساری امتن ہندین مشرکن کہ اے مشرک کو تلاش کیجہ جوازج  
کانہہ دلایاہ کمر و پیش فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تمہہ ساتہ زان تم کہ پوزاوس خداہیہ سندی فرماون ہس تم  
پیغمبرن ہندہ ذریعہ و اتا دیو۔ یعنی توحیدک پوز آسن تہ شرکک باطل آسن سپدہ تمن معلوم وَضَلَّ  
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تمہہ سارے اچہ تمہہ گروہن ناودہ ضائع تمن نشہ سمہ تم دنیاوس اندر

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ  
 مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ  
 إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿۵۱﴾  
 وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ  
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

ٹھہراوان آس کہ معبودان باطل کرن اسہ شفاعت إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ  
 قارونہ سند حال وچھو کہ تمس گس پھس آوٹھہرہ تہ نافرمانی سببہ۔ تس دیت نہ کانہہ نفع تہ فاندہ مال و  
 متاعن بلکہ سہ ٹھہرہ مال و متاع تس سیت تباہ و بُر باد۔ ٹھہرہ مختصر قصہ جھو پتھہ پاٹھہ کہ سواوس یقیناً  
 حضرت موسیٰ سیدہ قومہ منزہ یعنی بنی اسرائیلو منزہ۔ بلکہ اوس موسیٰ علیہ السلامہ سند پتر یوی سوی  
 لوگ مال و دولت زیادہ آسنہ موکھہ پنہ نس قوس پیٹھہ ظلم کرنہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ  
 لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ مان زیادتی اس تس تیدہ کہ اسہ آس تس سیت خزانہ مالک عطا کر مت کہ  
 تمن خزانہ ہنزہ گونزہ آسہ گوبراوان تہ تھکر اوان بڈس جماعتس، سم قوتہ وال آس۔ تمن زور پیوان  
 اوس لاگن تمہ گونزہ تلمنہ خیطرہ۔ وکن یلہ گونزہ ایڑہ آسہ۔ پائے گھہہ زان تم خزانہ کیت آسہن۔ یہ  
 محجزہ تہ غرور نر و تم تمہ ساتہ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ یلہ تس دون ہن  
 قومن نہمائش کر بچہ طریقہ۔ اکی قارون خوش مہ گھہہ تھیکان مہ آس دُنیا کہ مال و دولتہ سیت۔ ہنز  
 پاک اللہ تعالیٰ جھونہ پسند کران مال دُنیا سیت خوش گھہہ و نین تہ تھیکہ و نین وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ  
 الدَّارَ الْآخِرَةَ بیہ وئس ہن قومن یہ ژہ اللہ تعالیٰ ان مال و دولت عطا کور مت جھوی امہ مال و دولتہ  
 سیت کہ ژہ حاصل آخر تک گرہ تہ یہ مال آس کران خرچ تھندہ رضا خیطرہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ  
 الدُّنْيَا بیہ مہ مشر اوڑہ دُنیا منزہ ہن سوجہہ تس کھینہ چنہ تہ لباسہ خیطرہ ضرورت پیہ وَأَحْسِنْ كَمَا  
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ بیہ کہ ژہ تہ احسان نین لو کن نسبت پتھہ پاٹھہ احسان کور اللہ تعالیٰ ان ژہ نسبت

الْفُسَادِ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۵۰﴾  
 قَالَ إِنَّمَا أوتيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ  
 أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ  
 جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۵۱﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ  
 فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْلِيَّتْ لَنَا

وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ بِهِ مَهْ زھانڈ تباہی تہ بُردبادی زمینس منز خدایہ سزنا فرمانی کرنہ  
 سیت بہ سندر س پیمرہ سز مخالف ت کرنہ سیت۔ بہ امہ مالک واجب حقوق ضائع کرنہ سیت۔ إِنَّ اللَّهَ لَا  
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۖ ہنر پات اللہ تعالیٰ چھونہ پسند کران تباہی یزھن والین قَالَ إِنَّمَا أوتيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ  
 عِندِي ۗ بہ بُوز ت لوگ ونہہ قارون بہ مال و دولت چھومہ حاصل سپد مت پتہ چکنہ سیت ت ذاتی  
 ہنر مند ی سیت۔ یعنی مہ چھہ تم تدبیر نگان سموسیت مال و دولت کمانہ دیوان چھو۔ تم سیت چھومہ بہ  
 سوزوی جمع کورمت۔ میون ٹھیں چھو بجا۔ مہ چھونہ پتہ منز کانہہ غیبی احسانا و و ٹمت نہ چھو کانہہ ہند  
 اتھ اندر کانہہ چھاہ بہ چھومہ پتہ نیو اتھو جو کھمت زیومت۔ أَوَلَمْ يَعْلَمَنَّ اللَّهُ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ  
 الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا اتھ اسدس ونہ نس چھو اللہ تعالیٰ رد کران۔ فرماوان کہ  
 کیاہ ام قارون چھہ بیشار لوکن ہندہ ذریعہ بہ کتھہ بوز مژکہ ہنر پات اللہ تعالیٰ ان چھہ گالت اس بروٹھ  
 تم تم قوم ہم تمسدہ خود زیادہ سخت آس قوتہ کن یعنی نو کرو چا کرو کن بہہ آس زیادہ مال و دولتہ کن۔  
 ستوی یوت سپد نہ تھندہ چھہ کہ تم کیا آئے ہلاک کرنہ بلکہ تمن ایہ آخر نس اندرتہ ہر ٹھہ و رای عذاب  
 کرنہ وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ تمن گناہگارن نس یہ نہ سوال کرنہ نہ پر ٹھنہ۔ تمن ایہ  
 پر ٹھنہ سزاونہ کیا زہ تمن آسہ سزاعس مُسْتَحَقَّ اسْکَ علامت لحت۔ وونے تمن نشہ پتہ وقتہ سوال کرنہ  
 ایہ سو آسہ تہنر زسوالی تہ فحالت نراونہ خیطرہ چھو بہ علی قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ اکہ دوہ سپد اتفاق کہ  
 قارون در اوپنہ نس قومس بروٹھ کن سخت آرائش تہ ٹیٹھ کمر ت شیرت تہ پارت اکہ شانہ قَالَ الَّذِينَ

مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿۹﴾ وَقَالَ الَّذِينَ  
 أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا  
 وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿۱۰﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا  
 كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ  
 الْمُنْتَصِرِينَ ﴿۱۱﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَسُّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ  
 وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا تسمیہ برادری منزہ بعضے کو کہتم بالایمان آستہ سے آس دنیاژھانڈان۔ تم لگ  
 ونہ یلیت لنا مثل ما اوتی قارون اے کاش آسہ تے آسہائتھ مال تھتھ قارونس عطا آو کر نہ لائے  
 لذو حظ عظیم بیشک سوچھو یو ذو نصیبہ ڈول یہ ونہ سیت سپدہ نہ تہمدس ایمانس کانہہ خلل تھتھ پاٹھ  
 ازتہ کاتیاہ مسلمان بین غیر مسلم قومن ہنز ترقی وچھت تمناہتھ کران تمن تھتھ لمئی فخر آسان۔ وَقَالَ  
 الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا تمن لوکن خدلیہ سبہ طرفہ علم و فہج  
 دولت ونہ آس آمزتمو ڈوپ تمن حرلیص تہ طالع لوکن کہ افسوس تھتھ خدلیہ سبہ ثواب تھتھ بہتر  
 تہ رت آسہ مال دنیاخوتہ تہس عطا کر نہ تہہ تمن لوکن تھمو ایمان اولن تہہ کرکیہ رتہ عملہ وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا  
 الصَّابِرُونَ یہ ثواب تھتھونہ کامل طور عطا یوان کر نہ مگر صبر کرہ ونین۔ تم مال دنیا کہ حص و طمع  
 نشہ صبر کرہ ون آسن فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ تہس ڈول آسہ سو قارون تہہ تسمزہ کرہ جلیہ زمینس  
 تھل فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ تہس آس نہ تہس کانہہ  
 جماعتھہ یوسہ تہس مدد کمرت تہہجہ باخدا تہس وراہی۔ نہ ہیوک تم تہن پان پچاوت کانہہ ہند مدد حاصل  
 کمرت حالجہ تھس سبت آس ہنڈ جماعت مگر کانہہ تہ پوکس نہ بروٹھ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَسُّوْا مَكَانَهُ  
 بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ پگہ صبحس تسمدہ خسف واقعہ وچھت دون تمو لو کہتم آسہ بروٹھ تہن تمنا آس کران  
 قارونہ سبہ مال و دولتک تہہ تہس ہیو بنہ نک وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاؤُكُمْ لَأَيُّكُمْ لَا يُفْلِحُ  
 الْكُفْرُونَ ﴿۸۶﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا  
 يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۸۷﴾  
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا  
 يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۸﴾  
 إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

تجربہ چھو کہ اللہ تعالیٰ چھورز قس اندر وسعت کران پنہ نیوبندو آندره تمن تمن یثھان چھوبیہ چھو  
 سوی تنگی کران رز قس اندر تمن تمن یثھان چھو۔ لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاؤُكُمْ لَأَيُّكُمْ لَا يُفْلِحُ  
 الْكُفْرُونَ ہر گاہے اللہ تعالیٰ اسے پیٹھ متت تھاوہ ہاسے تہ نیہ ہاز مینس تل والست مال دُنیاہ  
 کہہ جرس وطمعہ مچو کہ۔ تجب چھو کہ کافر زانہ کامیاب سپدن نہ۔ ہر گاہ کینہہ کالاہ دُنیاہ س منز عیش تہ  
 گرن مگر پتولا کہ چھو تمن تاو اُس تہ خسر اُس گر قمار سپدن۔ فلاح و کامیابی چھہ مخصوص بالیمان ہندہ  
 خیطرہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا یہ عالم آخرت  
 سمجھہ ثواب مقصود اُس بیان آو کر نہ۔ ثواب اللہ خیر و نہ سیت سو چھو اسے خاص مقرر کورمت تمن  
 لوکن ہندہ خیطرہ سمہ دُنیاہ س اندر مالی اعتبارہ بوڈ مین یثھان چھہ نہ۔ بیہ چھہ فساد تباہی تہ بُربادی  
 یثھان وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ رت انجام تہ رت نتیجہ چھو خدا بس کھوڑہ و نین ہندہ خیطرہ تم ترک نوابین  
 سیت امتثال اوامر تہ اسن کران مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا قیامتگ دوہ بس اکھاہ خدا بس نشہ  
 نیکی بیٹھ بیہ تسدہ خیطرہ چھہ سوکی مزدوریو سہ تمہ خو تہ رت اسہ استحقاقہ خو تہ زیادہ اسہ وَمَنْ جَاءَ  
 بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بس اکھاہ بس نشہ تمہ دوہ بدی  
 بیٹھ بیہ بس بیٹھ نہ چھہ کاماہ کرہ و نین کانہ مزدور تہ سزا نہ مگر تمنی کامین ہنز تم تم گرہ و ن اسن زیادتی  
 ورا ای إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ تجبہ کمر وہ دشمنو تکلیفات و اتاوندہ سیت

قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ قِي ضَلِيلٍ  
 مُّبِينٍ ﴿۸۵﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ  
 إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿۸۶﴾  
 وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ  
 وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۸۷﴾

سخت ہدیشان۔ یہ تھ اندر توہم پیوہہ مجبور سہت ترک وطن کرن۔ سمجھہ مفارقت وجدانی ہند توہم سخت  
 صدمہ چھو۔ توہم سپدن تسلی سمہ کتھہ سیت کہ بیشک ہم پروردگارن توہم پیٹھہ یار رسول اللہ قرآنی  
 احکامن ہند تعمیل تہ تبلیغ کرن فرض کور سواتاودہ توہم ضرور پنہ نس وطن اصلیس یعنی مٹھ شریض  
 منز۔ تمہ ساتہ آسوتہہ آزاد تہ غالب۔ بیہ آسوتہہ صاحب سلطنت قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ  
 وَمَنْ هُوَ قِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ہم لوکھ توہم زانان چھہ غلطی پیٹھہ تہ پانس چھہ زانان پزرس پیٹھہ تہن  
 فرماو تہہ یار رسول اللہ کہ میون پروردگار چھو پورہ زانہ ون کہ کبہ آوتہندہ طرفہ پوزدین تہ یوڈ ہدایت  
 پیٹھہ۔ بیہ چھو سوسی زانان کہ کبہ چھو بتلانہ مگر انہی اندر۔ تہنزد دولت نبوت چھہ محض خدایہ سزنی مہربانی  
 وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ  
 توہم آسہ نہ پنہ کتھہ پیٹھہ برہنہ بروٹھہ کانہہ امید کہہ توہم کن کیا ایہ نازل کرنہ بیہ عظیم الشان کتاب یعنی  
 قرآن مجید۔ مگر سپز یہ کتاب نازل توہم پیٹھہ محض خدایہ سزہ مہربانی سیت۔ کس مہ آسوتہہ مددگار  
 بنان کافرن ہمدہ خیطرہ تہنزن کھن تائید کرنہ سیت۔ یہ تھہ پاٹ ازتان تہہ تہن نشہ الگ رُو دوہہ یہ تھہ پاٹ  
 گوٹھہ آیدہ تہ الگ روزن۔ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ بیہ یلہ خدایہ سہد  
 احکام توہم پیٹھہ نازل سہد۔ وئن مہ این لبینہ ترشہ کتھہ کہ ہم لوک کیارن توہم پیٹھہ سموا احکامو نشہ وَأَدْعُ  
 إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تہہ رُو زو بدستور لوکن پنہ نس پروردگارہ سندس دیش کن  
 نادروان۔ بیہ یہ تھہ پاٹ ازتام توہم مٹھ کن سیت کانہہ تعلق تھو وہ نہ تھہ پاٹ مہ تھاو و کانہہ تعلق تہن



# وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

سیت آئندہ تہ۔ یہ منہ سپد و شامل تہہ مُشرک سیت۔ بلکہ ہتھ پاٹ از تام تہہ شر کہ نغمہ مضمون تہ پاک  
رودوہ ہتھ پاٹ رُو زو ہمیشہ پاک تہ مضمون **وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ** یہ منہ دو تہہ ناد خدا ہنس سیت یہ  
کانہ معبودس **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** کیا زہ کانہ معبودا ہتھونہ تہس و رای **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ**  
پر ہتھ چیزا ہتھ ہلاک گوہہ ون تسنہ ذات پاک و رای۔ معذوم تہ ناؤ دسپدن ہتھو دلیل سمہ تہہ ہنز  
کہ سو ہتھونہ قدیم او سمت ییہ ہتھہ دلیل واجب الوجود نہ آہنچ۔ متحق عبادت آسنگ شرط ہتھو واجب  
الوجود آسُن یلہ نہ سو واجب الوجود ہتھو ہذا ہیچہ نہ سو ہرگز متحق عبادت آہتھ تمی ہتھو مضمون لا الہ  
ثابت **لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ** حکومت ہتھہ تہننز سمیک کامل ظہور سپدہ قیامتگ دوہ۔ تہس کن  
ایو تہہ ساری وائہس و اتانوہ۔ سارنی پیہ پنہ سکر تیک سزاو نہ۔ سمو آیا تو سیت ہتھو مطلب کافر تہ مُشرک  
نامید کرن تمہہ در خواستہ نغمہ نہس تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خد تہس منز پیش کران آس  
کہ تہہ پھیر تو سانہ سی دینس کن۔ اصل ہتھو روی سُن یمن آیات کریمن منز تمنی مُشرکن کن کہ ای  
مُشر کو تہہ ہتھوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمن در خواست کران پنہ نہس دینس سیت موافقت کرہ نگ۔ آتھ  
منز سپدو نہ تہہ ہرگز کامیاب۔ مگر عادت ہتھو یلہ کانہ پیٹھ ڈکھ، بیزاری تہ غمہ ہتھو آسان تمہ ساتہ  
ہتھونہ یوان تہس کن روی سُن کرنہ۔ بلکہ ہتھہ تہہ یوان تہس و اتانوہ ہنس کن لا ایت۔ تہس ہتھو تمی طریقہ  
آمت کرنہ۔ پنہ نہس محبوب خاصس کن و تہتھ ہتھو مُراد تہن دشمن تہتھ و اتانوی تم یہ در خواست کران  
آس۔ کیا زہ تم یلہ اللہ تعالیٰ ان سوزین لوکن ہزس دینس کن نادوہ خیطرہ یہ تہہ پاٹھ ہتھو ممکن کہ تم  
کیا سپدن نعوذ باللہ پانہ عفر و شر گس کن مائیل۔



## سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 اللَّهُمَّ ۱ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا  
 يُفْتَنُونَ ۲ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ  
 الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۳ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ  
 يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۴ مَنْ كَانَ  
 يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۵

اللہ تم چھہ حروف مقطعات یمن ہند معنی زانہ پانہ خدا أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ بعضے مسلمان چھہ کافر ن ہند یو تکلیفویت گابران تہ بانبران۔ کیا تم لوکن چھا تمنا کہ تم کیا یمن زیوہ سیت آناونت آزمائشہ وراکی تراونہ۔ یعنی تہ بنہ نہ۔ بلکہ امہ قسمک امتحانات تہ آزمائشہ یمن ضرور تم ن پیش وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ پیز پاٹ امہ چھہ تھوے واقعات سیت آزمائش کمر مژ تم ن لوکن تہ تم یمن برو تھہ چھہ کڈر سمیت مسلمان برو تھہ یمن اتن اندر۔ بٹھہ اللہ تعالیٰ تر اوہ تم ن لوکن ہند ایمان تم پیز زبیر چھہ ایمان انہ نس اندر بیہ تر اوہ سو تم ن لوکن ہند ایمان تم ایمان انہ کس دعوائے اس منرا پیز زبیر چھہ۔ چنانچہ تم لوکھ و تھہ واخبرہ ایمان اتان چھہ تم چھہ امتحان اندر ثابت روزان بلکہ چھو تھہ ایمان بخٹہ سپدان۔ و سن تم لوک و تھہ گلے چھہ ہران تم چھہ امتحانہ وقتہ اسلام تراوان بیہ کفر س کن پھیران۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا کہنہ گمان چھہ کران تم لوک تم چھہ کامہ چھہ کران (شرک تہ نافرمانی، مسلمان تکلیف رسائی) تم کیاہ بیکن ثلث امہ نشہ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ یہ خیال کر دن تھہ چھو سیٹھاہ بے ہودہ تہ تھہ۔ تم ن کافر ن بیہ ضرور امیک بدلہ ہینہ۔ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ

وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ  
 الْعَالَمِينَ ﴿۶﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ  
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷﴾  
 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهِدَاكَ  
 لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ط إِلَى

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کس شخص پس پورا امید آسہ آخرتس منز خدا ایس سیت ملاقات کرچ تمند گروہہ نہ  
 یتھیو حادثا تو سیت پریشان سپن بلکہ گروہہ تمسز تچ تیاری کرن۔ خدا ایس سیت ملاقات کرنگ وقت  
 چھو مقرر کرنہ آمت۔ سو وقت چھو ضرور پنہ نس موقس پیٹھینہ دول سمہ سیت ساری غم دور سپن۔  
 سو چھو سو روی بوزہ ون سو روی زانہ ون۔ تس نشہ چھونہ کانہ چیز پو شیدہ۔ نہ کانہ تھہ، نہ کانہ گوم۔  
 پس دیہ سو توہہ پریتھہ رثہ تھہ تہ پریتھہ رثہ کامہ ہند عوض تہ بدلہ۔ سمہ سیت ساری غم تہ غصہ دور  
 سپن **وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ** یہ گروہہ تھاون یادکہ آس  
 ایس توہہ محنت تہ مشقتن برداشت کرنگ ترغیب دوان چھہ اتھ اندر چھونہ آسہ کانہ مفادہ۔ بلکہ ایس  
 محنت چھو کران خدایہ سد احکام بجانہ نس اندر سو چھو محنت کران پنہ پانچہ فائدہ خیطرہ۔ ورنہ ہنر پات  
 اللہ تعالیٰ چھو ساروی لوکو نشہ بالکل بے نیاز۔ سو چھونہ کانہ گن محتاج **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ** یہہ سمولو کو ایمان اولان  
 یہہ کرکھہ رثہ عملہ آس گرو ضرور مغفرت تھندین گنہن یہہ دمو تمین استحقاقہ خوتہ زیادہ رت تہ زیادہ  
 بدلہ۔ تمین رثن کاین ہند یہہ کران آس تم دنیا اس اندر **وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا** یہہ  
 کور آسہ حکم انسانس ماس ماجہ نسبت رت سلوک تہ احسان کرنک۔ سیت ونس یہہ تھہ تہ کہہ **وَإِنْ  
 جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا** ہر گاہ مول موج زور گرہ لے سو چیز میون  
 شریک ٹھہراونہ خیطرہ سمسدس معبود آسکس پیٹھہ ژہ نشہ کہی دلیل چھنہ پس چھنہ ژہ تھند ما کھ کنس

مَرْجِعَكُمْ فَأَنْبِئْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿۶﴾ وَمِنَ  
النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ  
فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ  
لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَىٰ آلِهَةٌ بِاللَّهِ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ  
الْعَالَمِينَ ﴿۱۰﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

خدا ئیس شریک ٹھہراو کہ اِلٰی مَرْجِعَكُمْ فَأَنْبِئْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سے اُن جھو توہمہ سارنی رُجوع  
کرنے سے واپس مَن اُس کرودہ بُو توہمہ خبر تمہہ سارچی یہ جُہہ کران آہوہ رُت یا پیچہ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ توہمہ آندرہ سمولو کو ایمان اون سے رُتہ عملہ کرکچہ تم  
واتنا دو کہ اُس ضرور نیکو کارن سیت جشس۔ پیچہ پاٹ سم لو کہ پیچہ کامہ کرن تمن پیچہ سزا دنہ۔ لہذا اِس  
اکھاہ مالس ماجہ ہنزا اطاعت مُقدم تھاوہ خدایہ سندس اطاعتس پیچہ اُس سے پیچہ سزا دنہ یہ آہہ کریم جھو  
نازل سُدُمُت حضرت سعد بن ابی وقاصہ سندہ حقہ۔ تمن اِس مَوج اسلامہ لُغہ پھیر اُس پیچہ مجبور  
کران وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ بِیہ  
جھہ لو کو آندرہ بعضے تم ونان جھہ آہہ اُون ایمان خدائس۔ تو پتہ ہر گاہ خدایہ سزہ وتہ اندر کانہہ تکلیف  
واتان جھو کہ لوکن ہنہہ طرفہ تہہ لوکن ہندس تکلیفس جھہ زانان خدایہ سُد عذاب ہیو۔ یعنی سیٹھاہ  
پریشان چھہ سپدان وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ تو پتہ ہر گاہ ہندس پروردگارہ  
سندہ طرفہ مسلمان کانہہ مدواہ واتان جھو تمہہ ساتہ جھہ دپان اُسے تو ہی سیت اِس اَوْلَیَّسَ بِاللَّهِ بِأَعْلَمَ  
بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ کیاہ اللہ تعالیٰ جھنا پور زانہ ون تہہ ساری یہ عالمہ کین لوکن ہندس دکن  
منز جھو وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ تعالیٰ اِس جھو تر اون با ایمان ہند  
حال تہ۔ بیہ جھس تر اون مُناقض ہند حال تہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا اَتَّبِعُوا سَبِيلَنَا

الْمُنْفِقِينَ ۱۱ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا  
 سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَاهُمْ بِمُحْمِلِينَ مِنْ خَطِيئِهِمْ  
 مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۱۲ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ  
 أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۱۳  
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ  
 إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۱۴  
 فَانجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۱۵

وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ بپہ چھہ وان کافر بالیمان تہہ پجو دینس اندر سانہ وتہ۔ قیامتک دوہ تلو اس پائس پیٹھ  
 تہہد وبال تہ گناہ وَمَاهُمْ بِمُحْمِلِينَ مِنْ خَطِيئِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ حالہم تم تلن نہ ہرگز تہہد یو گنا  
 ہو اندرہ اکھ زہہ تہ تمہہ طریقہ سمہہ سیت تم تمو ٹھہو نشہہ آزاد سیدن۔ تم چھہہ یہ بالکل اپز ونان۔  
 وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ تم تلن سُرد  
 قیامتک دوہ پنہ نین گنہن ہند بور۔ بہہ تلن واریاہ بور پنہ نین بورن سیت۔ سو گو لو کن گمراہ کرہ عکین گنہن  
 ہند یور یہ بہہ تم سُرد پر ژھنہ قیامتک دوہ تین سارنی تھن ہند سمہہ تم پانے ٹھہراوان آس تو پتہ پتہ  
 سزا ونہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا بِہہ سوزاسہ نوح  
 علیہ السلام پیغمبر پنہ نس قومس گن۔ کس رود سو تین منز پننو (۵۰) ہو کم آگس ساس (سازن نون شتن)  
 وِرہس تبلیغ کران تو حیدس گن نادووان۔ مگر تہ کثرت تہ اون نہ تمو ایمان بلکہ کوزکھ انکار تہ تکذیب  
 فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اُدہ رث تم سیلابن تہ پھاٹون در حالہتہہ تم آس بدہ ظالم۔ فَانجَيْنَاهُ  
 وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ کس دیت اسہ نجات حضرت نوحس بہہہ سم تہہزہ ناوہ  
 اندر کھتہمت آس امہ طوفانہ نشہہ۔ بہہ تھو واسہ سو واقع اکھ نشانہ عبرتک عالمہ کین لو کن ہندہ خطیرہ

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۷﴾ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ مِنْ

سمن نغمہ امہ واقع خبر و اثر تمن تور فخرہ ہر بس مخالفت کر تک نتیجہ کیاہ چھو آسان و ابراہیمہ اذ قال لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ یہ سوز اسہ حضرت ابراہیم پیغمبر بناوت یلہ تمو فر موو پنہ نس قوس سم بت پرست آس ای قوم عبادت کمر و تہہ معبود برحقہ سنز۔ یہ کھو ژو نس شر کہ نشہ روز و پتہ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ چھو ٹہندہ خیطر ہ بہتر ہر گاہ توبہہ زائن مجھہ بخلاف شرک سو چھو بد طریقہ کیاہہ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا تہہ چھوہ معبود برحق تراوت پو تلین ہنز عبادت تہہ پرستش گرہ و ن تم عاجز تہہ نالائین چھہ۔ یہ چھوہ تہہ متعلق پائے ایزہ کتھہ ٹھہراوان کہ تہندہ سمیت سپدہ اسہ روزی روزگار س ترقی۔ یہ سوزوی چھو ٹھض اپز کیاہہ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سمن ہنز عبادت تہہ خدائس و رای کران چھوہ تم چھہ ہر گز مالک ٹہندہ کتھہ رزق۔ تمن آتھہ چھونہ رزق کانہہ اختیار۔ بلکہ چھو ٹھندہ روزیک مالک معبود برحق۔ نس ڈھانڈو تہہ نس نغمہ پن روزی تہہ رزق نس رزق مالک چھو۔ یہ یلہ رزق مالک چھو سو ہی تہزی کمر و عبادت۔ یہہ چونکہ از تام چھوہ تمی رزق عطا کورمت لہذا کمر و تہزی شکر گذاری۔ تو پتہ ابو تہہ ساری تنس ن نہ کانسہ ن وائس نہ۔ سو دیہ توبہہ ضرور شرک و کفر کرہ نس پیٹھہ سزاء وَإِنْ تَكْفُرُوا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ ہر گاہ تہہ ایزو روزانو مہ پتھہ کتھہ اندر کہ میون دعوی کیا چھو کہ

قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۸﴾  
 أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ  
 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۱۹﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ  
 فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ  
 النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰﴾  
 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿۲۱﴾

خدايہ سنز عبادت کرن چھه واجب آس شکر دین چھو لازم مرنه پتہ بیہ زندہ گزھن چھو حق تہ پوزیہ  
 نوکٹھاہ کنہ چھنہ۔ ہنز پاٹ توہمہ بروئٹھ تہ چھو وار بہو اوتو پنہ نین پیغمبرن تکذیب تہ انکار کورمت سمن  
 تھن۔ تھن پیغمبرن تمیک کیہنہ نقصانہ ووت نہ کیاہہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ  
 پیغمبرس چھونہ منہ مگر صاف صاف پاٹھ پیغام وانہ تاون۔ زورہ ماناون۔ تسز گوم چھنہ۔ کس سپد ساری  
 انبیاء تبلیغ کمرت کامہ نشہ سبکدوش تھنہ پاٹ سپدس یوتہ سبکدوش۔ تہیدہ نہ مانہ تک ضرر چھو توہمہ پانس  
 آسہ امیک کانہہ ضرراہ چھونہ اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ کیاہہ تم لوکھ چھنا  
 وچھان زہ اللہ تعالیٰ تھہ پاٹھ چھو مخلوقن گوڈہ پیدہ کران۔ عدم محضہ نشہہ بوجود اتان۔ توپتہ کرکھ سوسی  
 بیہ دوبارہ پیدہ اِنَّا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ بیشک یہ تھہ چھہ اللہ تعالیٰ آس نش سبٹھاہ سہل تہ آسان۔  
 بلکہ چھو ظاہرہ پاٹ دوبارہ پیدہ کرن گوڈہ پیدہ کرنہ خوتہ زیادہ سہل۔ اگرچہ پروردگارس نشہہ چھہ  
 دوشوے چیز برابر عجیب تھہ چھہ کہ سم لوکھ چھہ گوڈہ پیدہ کرنس اقرار کران مگر دوبارہ پیدہ کرنس چھہ  
 انکار کران قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ  
 الْآخِرَةَ تہہ فرمادیو کہ یارسول اللہ اے لوکو تہہ پھیر تویتھ ساری زمینس اندر توپتہ وچھو تھہ پاٹ  
 چھو اللہ تعالیٰ ان مخلوقات گوڈہ پیدہ کمرمت تھہ پاٹ کیاہہ کہہ اللہ تعالیٰ تھن دو تسمہ پھہہ قیامتک دوہہہ  
 پیدہ اِنَّا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیشک اللہ تعالیٰ چھو پر تھہ چیزس پیٹھ قدر تہ وول۔ يُعَذِّبُ







وَ اتَيْنَاهُ اجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَ اِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ  
 الصّٰلِحِيْنَ ﴿۲۷﴾ وَ لَوْ طَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ  
 الْفَاحِشَةَ مَسْبِقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾  
 اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ ۗ وَ تَاْتُوْنَ  
 فِيْ نَادِيْكُمْ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا  
 ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۹﴾ قَالَ رَبِّ

عليه السلام وَ جَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ الشُّبُوْحَةَ وَ الْكُتُبَ بيه تھوو اَسْمہ جاری تھندی ذُرِّيَّتِيس تہ  
 خاندانس اندر نبوت تہ کتابہ۔ یعنی توریت، انجیل، زبور، تہ قرآن مجید۔ وَ اتَيْنَاهُ اجْرَهُ فِي الدُّنْيَا  
 بيه کسر اَسْمہ تھن مزور تہ ثواب عطا دُنْيَا سی اندر وَ اِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ بيه اَسْن تم  
 آخِر اَس اندر تہ نیک بندو اندرہ وَ لَوْ طَا بيه سوز اَسْمہ پیغمبر بناوت لوط علیہ السلام اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ  
 اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ یلہ تمہو پنے اَس قَوْمَس دُوب بیشک تھہ ہجھوہ سیٹھاہ سخت ہجھہ کوم کران  
 مَسْبِقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ توبہ ہر دنتھ ہجھنہ یژھ ہجھہ کوم کسر مشاعرہ کیو لو کوجتو تہ انسانو  
 اندرہ کانسہ تہ اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَ تَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمْ الْمُنْكَرَ کیاہ تھہ  
 ہجھوہ زنانہ تراوت مردن لشہ قوت شہوانی تھورہ کرنہ خیطرہ نزدیک یوان۔ بيه ہجھوہ امہ علاوہ وتہ پکہ  
 وینن لوٹان۔ بيه ہجھوہ پنے نین مجلسن اندر ہجھہ کامہ کران۔ شراب چوان۔ ستیارہ وایان۔ نعمہ تہ گئین  
 لاگان۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ کس اوس  
 نہ کانسہ جو اباہہ تھندہ تھومہ طرفہ مگر ای زہ دو پک اَنُو اَسْمہ پیٹھہ خدایہ سُد عذاب ہجھوہ تھہ بیه تھہ و نہ اَس  
 اندر پوزونہ و نیو اندرہ کہ خدا ہجھوہ تھن تھن پیٹھہ ہیزار۔ بيه کیا ہجھوہ تھہ تھندہ طرفہ پیغمبر قَالَ رَبِّ  
 اَنْصُرْنِيْ عَلٰی الْقَوْمِ الْمُنْفِسِيْنَ لوط علیہ السلام کور دُعَا اے میانہ پروردگارہ مہ کریاری تہ  
 مدد تھن مفسد لوکن پیٹھہ سوز پین عذاب، تھی سیت گالھہ۔ تویتہ کور اللہ تعالیٰ اَن تھندہ دُعَا قبول کرنہ پتہ

انصُرْتِنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿۳۰﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا  
 اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرِى لَقَالُوْا اِنَّا مُهْلِكُوْا اَهْلَ هٰذِهِ  
 الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾ قَالَ اِنَّ فِيْهَا  
 لُوْطًا قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنَنْجِيْنَهُ وَاَهْلَهُ  
 اِلَّا امْرَاَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۳۲﴾ وَلَمَّا اَنَّ جَاءَتْ  
 رُسُلُنَا لُوْطًا سِىءَ بِهٖمْ وَضَاقَ بِهٖمْ ذُرْعًا وَقَالُوْا

عذابِ خبر دہ خیر ہ نہ خیر ہ ملائک مقرر۔ تمن ملائک تھاون بیاکھ کام تہ معنی کہ ابراہیم علیہ السلام فرماوئوئہ  
 بشارت اسحق علیہ السلام سندہ تولد سپدئ۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرِى چنانچہ تو پتہ یلہ  
 آئے تم ملک تم امہ سوزمت آس، ابراہیم علیہ السلام کن فرزندہ سز بشارت و خوشخبری ہیئہ۔  
 قَالُوْا اِنَّا مُهْلِكُوْا اَهْلَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ کتھن اندرون تمویہ تھہ تہ  
 تمن کہ بیشک آس چھہ ہلاک کرون سمہہ شرک لوکھ (شہر سدوک) کیا زہ امہہ شہر کہ تم لوکھ چھہ  
 سخت عالم تہ شریر قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا ابراہیم علیہ السلام دوئوئوئہ تھہ شہر س منزے میون باپہ  
 تھر لوط علیہ السلام چھو قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا تمویلو دوئوئوئہ امہہ چھہ پور خبر تھزئئئ تھہ  
 منز چھو لَنَنْجِيْنَهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ آس بچا دوکھ ضرور تم بیہ تھہ اہل و  
 عیال تھزہ آخیر وراکی۔ سہو آسہ مت روزت عذابئئ گر قار سپدہ ونیو آندرہ وَلَمَّا اَنَّ جَاءَتْ رُسُلُنَا  
 لُوْطًا سِىءَ بِهٖمْ وَضَاقَ بِهٖمْ ذُرْعًا ادہ یلہ سان سوزنہ امت ملک وات لوط علیہ السلام نشہ تم  
 سپد تھہہ ہ انہہ سیت ناخوش تہ دل تنگ۔ کیا زہ تم ملک آس سیٹھاہ جو بصورت لوکھن ہنزہ ٹکھہ۔ تمن  
 ملکن یلہ معلوم سپد کہ تم سپد سانہ بنہ سبہ تہ سخت پریشان وَقَالُوْا لَاتَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا

لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَاهْلِكَ إِلَّا  
 امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۳۳﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ  
 هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۳۴﴾  
 وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِثْلَهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۵﴾ وَإِلَىٰ  
 مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ  
 ارْحَبُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۳۶﴾

مُنْجُوكَ وَاهْلِكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ تمو ملکو دوہیک ٹہہ مہ ہز کھو ژو۔ ٹہہ مہ  
 بز وکانہہ عم۔ آس ہجہنہ انسان۔ آس ہجہہ عذابک ملک۔ آسہ ہجہہ ہلاک کران سمہہ شرک لو کہ آس  
 ہچا و وہ ٹہہ تہ ٹہہد عیال تمہہ عذابہ نشہ ٹہہزہ آشیہ وراکی۔ سہو آسہ تہت روزت عذابس گرفتار سپدہ  
 و نیو آندرہ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ آس ہجہہ آسماہجہ  
 طرفہ سمہہ شہرہ کین لو کن پیٹھ عذاب نازل کرہ ون۔ تمن پیٹھ کاین ہند سزا سمہہ تم کران آس۔ تو  
 پتہ کور آسہ تہہ شہرس تلک پیٹھ۔ پیٹھ ترا ویکھ آسہ کنہ ژودک پاٹھ۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِثْلَهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ  
 يَعْقِلُونَ ہنز پاٹ تھا و آسہ تمہہ شرک کینہہ ٹن نغانہ باقی تمن لو کن ہندہ عبرتہ خیلرہ سم کاٹل آس۔  
 چنانچہ منک لو کہ آس شہر شامہ کس سفرس آندرا و ون تہ گوشہ ون تمن ویران کاٹن شہرن و چجان۔  
 تمن اندریم عقلمہ وال آس تم آس یہ و ہجہت نہیب کھیوان۔ کھو ژت آس ایمان اتان۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ  
 أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْحَبُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ  
 بیہ سوز آسہ مدینہ کین لو کن گن یوی ٹہہد شعیب علیہ السلام پیغمبر۔ ہس دوہک تموا ی میناہ قومہ  
 عبادت تہ پرستش کمر و معبود برہتہ سنز تہ شرکہ نشہ روزو ہتھ۔ بیہ کھو ژو قیامتہ کس دوہس۔ بیہ مہ  
 پھیلا ووز مینس منز تہای۔ حقوق اللہ تہ حقوق العبادہ کمر وضایح کھر و شرکہ نشہ کم ٹولہ نشہ، کم میندہ  
 نشہ روزو ہتھ۔ فَكَلِّبُوهُ فَاِخْذْ لَهُمُ الرِّجْفَةَ فَاصْبِرْ لِي فِيْ اٰرَافِهِمْ جِثْمِيْنَ ہس زون تمو

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ  
 جِثْمِينَ ﴿۳۲﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِئِهِمْ  
 وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّ لَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ  
 وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿۳۳﴾ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَدْ  
 جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا  
 سَابِقِينَ ﴿۳۴﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِنَبِيٍّ فِيمَنَّهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ  
 حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا

شعیب علیہ السلام اپز پور۔ بیہ رُودنہ تم نافرمانیہ نشہ ہتھ۔ ادہ رث تم سخت ہنل۔ بس آس تم صبح  
 پنہ نین گران منز ہتھ کن پیٹہ موت۔ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْكِئِهِمْ بیہ گال آسہ قوم  
 عادتہ قوم ثمود۔ ہنز پات توہمہ آسہ وارہ نظرہ ہوان ای مکہ کیو لو کو تہند یو پچمہ و تہ منہم گامژ ولریو جالیو  
 منزہ۔ یلہ تہہ ملک شامس کن سفر کران ہتھوہ تہندہ تہانی ہند حال۔ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ  
 فَصَدَّ لَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ تہنز حالت آس ییہ کہ شیطان اوس تہنز ان پیٹہ کائین  
 زینت دیو تہمت۔ ورنہ آس تم ہشیار۔ مجنون تہ بے عقل آس نہ۔ مگر تمو ہنوز نہ پنہ عقلہ کام وَقَارُونَ  
 وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ بیہ گول آسہ قارون فرعون تہ ہامان تہندہ ٹکر تہ نافرمانی سببہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى  
 بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ حالانکہ تمکن تر شون نشہ آیو موسی علیہ السلام  
 نہہ دلیلہ ہتھ مگر تمو کر سر کشی زینس اندر توپتہ ہیکنہ تم سانہ عذابہ نشہ ٹرت فَكُلًّا أَخَذْنَا بِنَبِيٍّ  
 فِيمَنَّهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ  
 مَنْ أَخْرَقْنَا آسہ کور تمو پازو لہدرہ پر ہتھ اکھاہ گرفتار پنہ پنہ بزمکہ عذابہ سبت۔ چنانچہ تمو آندرہ  
 بعضین پیٹہ سوز آسہ تیز واؤ۔ تمہ آندرہ ہتھو مراد قوم عاد۔ بعضے رث خوفناک کر یکہ تمو آندرہ ہتھو مراد

بِهِ الْأَرْضُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ  
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۴۰﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بِئْتًا وَ  
 إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾  
 إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ  
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۴۲﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا

قوم مُمود۔ بعضے نے اسے والٹ زمیںس تک تسمہ اندرہ چھوڑا اور قارون۔ بعضے چھاؤ اسے دریاءس منز تسمہ  
 اندرہ چھوڑا اور فرعون نے ہامان و ماکان اللہ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ تعالیٰ  
 اوس نہ ٹیھتہ سہ سو کیا کرہ ہا تمں پیٹھ ظلم مگر تم آس شرارت تہ فساد کرنہ سیت پان پانس ظلم کران مَثَلُ  
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا بِئْتا تمں لوکن ہنز چھہ سمو  
 خدائس وراے ہیہ مخلوق زان ہن دوست تہ مددگار اُکس زلزلہ سنز مِثَالُ لُئْس پندہ خیالہ اگہ گراہ چھو بناوان  
 وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ حالہچہ ہتھ تھہ منز چھونہ شکھہ ساروی گرو اندرہ چھو سست  
 تہ ضعیف گرہ زلزلہ سندرہ۔ ہتھہ پاٹ زلزلہ چھو پندہ خیالہ پناچ جالے ہن زال تیار کران لُئْس نہ حقیقتس  
 اندر کا نہ پناہ بیکان چھو دت۔ ہتھہ پاٹھ چھہ مُثَرَك معبودان باطلن پندہ خیالہ پندہ پناچ جالے زانان  
 واقعتس تہ حقیقتس منز چھہ تم کہنی لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ہر گاہ تم حقیقت حال زانہ ہن تیلہ کرہ ہن نہ خبر  
 کچہ کامہ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ہنز پاٹ اللہ تعالیٰ چھو زانان تمں سارنی  
 چیزن ہندہ ضعف و سستی ہنز حقیقت تمں تمں ہنز پرستش کران چھہ تم معبود برہتس وراے  
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سو چھو پانہ سارسی پیٹھ غالب۔ سو چھو سیٹھاہ حمتہ وول۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ  
 نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ چوچہ آس چھہ سارنی چیزن ہنز حقیقت پور زانان۔ لہذا چھہ آس مِثَالہ بیان کران  
 لوکن فخرہ تارنہ خطیرہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ سمہ مِثَالہ تزن نہ فخرہ مگر عالمی حَلَقَ اللَّهُ

يَعْقِلَهَا إِلَّا الْعِلْمُونَ ﴿۳۳﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۴﴾  
 أُنْتُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ  
 إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ  
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۳۵﴾ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا  
 بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ ان کور آسمان وزمین پیدہ کہ صحیح مصلحتہ خیرہ سمیک  
 تمن اقرار چھو إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ بیشک آتھ منزجھہ جبر دلیلہ بالایمان ہندہ خیرہ  
 تھمدس معبود برحق تہ مستحق عبادت آسئس پیٹھ۔ اُنْتُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ  
 الصَّلَاةَ اے پیغمبر چونکہ تھہ چھوہ پیغمبر برحق لہذا پیروتھہ سو کتاب یوسہ توہہ کن وجیہ پاشٹھ  
 سوزنہ آیہ۔ بیہ تھاوونماز برپا۔ چھہ بے لوکھ تھنز متابعت کمر تھہ پابندی سان نماز برپا تھاون یعنی قولی  
 تبلیغ تہ کمر وقرآن مجید پر نہ سبت، فعلی تبلیغ تہ کمر و نماز پر نہ سبتے۔ سبچہ کامہ ہاؤلو کھ پانہ تمہ کامہ کمر تھہ  
 إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز چھہ پتھہ رٹان پیچھہ کامیوتہ ناجاز حرکتونہ۔ یعنی  
 بزبان حال چھہ نمازونان کہ کس معبود برحقہ سندیوت تعظیم تھہ چھگ کران، تسدہ خیرہ چھہ تھہ  
 یون نماز تہ کلہ زمینس پٹھ تھاون پیچھہ کامہ کرنہ سبتے تسنز بے تعظیسی کرن چھہ سیٹھاہ نازیاتہ ناروا تھہ  
 پاشٹھہ ییر تھہ کامہ نمازورائے چھہ تمہ گیہ یاد خدا کرن تمن پٹھہ تہ گڑھہ پابندی کرن وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ  
 بیہ چھہ خدیہ سندیاد سیٹھاہ یوڈ چیزاہ فضیلت وول چیزاہ لہذا گڑھہ تھہ پٹھہ تہ پابندی کرن وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا  
 تَصْنَعُونَ اللہ تعالیٰ چھہ زانان تہ سوروی بیہ توہ کران چھوہ لہذا اٹھہ کوم کریوتھہ لیو مزدور،  
 خیر کریوتہ خیری، پیچھہ کریوتہ پیچھہ۔ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بیہ مہ آہو اے  
 مسلمانو بحث کران اہل کتابن سبتے، مگر تہ طریقہ تمذیبہ سان۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر نہ

بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهَذَا وَالْهُكْمُ وَاحِدٌ  
 وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۳۷﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ  
 اتَّبَعُوا الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ط  
 مَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿۳۸﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ  
 مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُءُ بِبَيِّنَاتٍ إِذَا الْأَرْتَابَ الْمُبْطُلُونَ ﴿۳۹﴾  
 بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ

تمن سیٹے یم تمواندرہ ظلم یت زیادتی کرن۔ تمن و لو جواب یتھ شو یتھ یتھ یتھ۔ تھہ ھھنہ کانہ خرچ  
 و قولوا امتا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الھنا و الھکم و احدی سبھ مھذب طریقہ گو یو ہے  
 کہ تجے آسو تمن و نان کہ اسہ کمر پڑھ تھہ کتابہ یوہ سہ اسہ کن نازل آیہ کرنہ بیہ تھہ کتابہ یوہ سہ توہہ کن  
 نازل آیہ کرنہ بیہ ھھوہ تجے یتھہ تھہ تسلیم کران کہ سون معبود یتھہد معبود ھھہ گئے۔ و نحن لہ  
 مسلمون اس ھھہ تھہدی فرمانبردار۔ تھہدی کھمس گردن دارن۔ کیا زہ ایمانگ دار و مدار ھھہ تہ  
 کتابہ ہندہ خدایہ سہہ طرفہ منزل آسہس پیٹھہ۔ سانہ کتابہ ہند منزل من اللہ اسن ھھہ ثابت تھہزہ کتابہ  
 سیٹے یتھہ۔ لہذا ہزہ توہہ قرآن مجیدس ایمان ان یتھہ پڑھ کرن و کذلک انزلنا الیک الکتب یتھہ پاٹھ  
 کراسہ توہہ پیٹھہ نازل یہ کتاب یار سول اللہ یتھہ پاٹھہ برو تھہمین پیغمبرن پیٹھہ اسہ کتابہ نازل کرہ فالذین  
 اتبعتھم الکتب یؤمنون بہ پس یمن لو کن اسہ توہہ ہہ برو تھہ کتاب عطا کر تم ھھہ اتھہ تھہزہ کتابہ  
 پڑھ کران و من ہؤلآء من یؤمن بہ سہمولکہ کیولو کو اندرہ یتھہ ھھہ کینہہ مھصف مزاج تھہہ کتابہ پڑھہ  
 کران و ما یجحد بالیتنا الا الکفرون دلائل واضح سہنہ یتھہ ھھہ انکار کران سائین آیاتن مگر ضدی  
 کافر و ما کنت تتلو من قبلہ من کتب و لا تخطئہ ببینات اذ الارتاب المبطون تھہہ آسہوہ نہ بیہ  
 کتابہ برو تھہ کانہ کتابہ ہر تھہ ہیکان نہ آسہوہ تھہ سو کتاب لیٹھہ ہیکان پتہ اتھہ سیٹے۔ ہر گاہہ نہ آسہ ہاتیلہ  
 و رش آس ضرور شک تھہہ کہ کج گنجائش دشمن بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا



بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿۵۹﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ  
 إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۶۰﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا  
 عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ  
 يُؤْمِنُونَ ﴿۶۱﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۶۲﴾

يُحَدِّثُ بِالْآيَاتِ إِلَّا الظَّالِمُونَ بلکہ چھ یہ کتاب بذات خود باوجودیکہ یہ چھ کئی کتاب چونکہ امیک پرستہ  
 حصاہ چھ مجرہ تمہ اعتبارہ چھ یہ کتاب واریاہ واضح دلیلہ تم لوکن ہندین دلن اندر، یمن علم عطا آو  
 کرنہ، مگر باوجود ظہور اعجاز چھ یمن سائین آیاتن تہ دلیلن انکار کران مگر ضدی لو کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ  
 عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ بیہ چھ یم لو کہ باوجود اینکہ قرآن مجید چھ بوڈ مجرہ فرمان محض عنادہ کن کہ تمس  
 پیغمبرس پیٹھ کونہ آئی نازل کرنہ تمہدس پروردگارہ سندھ طرفہ تم مجرہ یمن ہنراس فرمائش چھ  
 کران قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ تمہ فرماو یو کہ یارسول اللہ مجرہ چھ مگر خدائس اتھ،  
 تہندسی اختیارس منز، بو چھس نہ مگر ن پاٹھ خدایہ سندہ عذابہ نشہ بیم کرہ ون۔ یعنی بہ چھس پیغمبر، پنہ  
 نس پیغمبر آسس پیٹھ چھ مہ نشہ واریاہ دلیلہ۔ بذلیل چھ یہ قرآن مجید أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ  
 الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ کیاہ تمہندہ خاطرہ چھنا کافی یہ بوڈ مجرہ کہ اسہ کرنازل توبہ پیٹھ یہ بذ کتاب یوسہ  
 تمس پیٹھ پر نہ چھ یوان۔ امہ خوتہ کہہ بوڈ مجرہ چھ تم ژھانڈان إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ  
 يُؤْمِنُونَ پزپاٹ اتھ کتابہ منز چھ بڈ رحمت بیہ بوڈ وعظ بالیمان لوکن ہندہ خاطرہ بڈ رحمت گیہ اتھ  
 منز چھ احکامن ہنز تعلیم، ہتھ منز نفی نفع چھ بڈ نصیحت گیہ اتھ منز چھو تر غیب وتر ہیب یہ تھ چھ  
 بین مجرہ منز یمن پزہ ہایہ غنیمت زانتھ ایمان اُن تہ پڑھہ کرن۔ ہر گادون توتہ یم ایمان اُن نہ قُلْ  
 كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا تمہ فرماو یو کہ تیلہ یارسول اللہ آخری جواب۔ ادہ سائتہ مان تو میون اللہ  
 تعالیٰ چھ بس گواہ۔ میہ منز تہ توبہ منز میانس پیغمبر آسس پیٹھ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سہ چھ

وَيَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ  
 وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۳﴾ يَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ  
 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۵۴﴾ يَوْمَ يُغَشَّاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ  
 فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۵﴾  
 يُعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾

زنان کہ سوروی یہ آسمان سے زمین منزجہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ایم لو کہ  
 اپزن کھن پیٹھ یقین جھہ کران معبودان باطلن چھہ پڑھ کران معبود برحقہ سزن کھن جھہ انکار کران  
 تے لو کہ جھہ تاوان زد وَيَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ بیہ جھہ تم کافر لو کہ توہہ عذاب جلد واقع سپدنگ  
 مطالبہ کران سے عذاب نہ بیہ مو کہ تھندس نبوتس پیٹھ شک سے جہہ کران وَكُلُّوْا اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ  
 الْعَذَابُ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ہر گاہ نے عذابہ خاطرہ وقت مقرر کرنہ آسہ ہا اُمت بین آسہ ہا  
 عذاب ڈیٹھ کنہ دو تھمت سہ عذاب پیہ واتھہ تمں ہجھہ سے معھہ تھے پانٹھ کہ تم ثرینہ نے نہ تمیک سن  
 يَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ایم جھہ توہہ نشہ عذاب جلدینک مطالبہ کران  
 حالانکہ عذاب گہ نار جنم جھہ تمں کافرن پر تھہ طرفہ احاطہ کرتھہ سہ رطہ تمں ثمنہ سے ثمنہ سائہ سے یوم  
 يُغَشَّاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ بیہ دوہہ عذاب تمں ولہ  
 ہیرہ بونہ کلو پیٹھ کنے سے کھوہ رو بونے گئے سے فرماویجھ اللہ تعالیٰ اے کافر وژہو تمں تھہ کائین ہند مزہ  
 بیہ ٹھے دنیاس اندر کران اسوہ يُعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ای میانو  
 بالیمان بندو، بیلہ تم کافر لو کہ توہہ دین حق اختیار کرنہ خیترہ بیہ احکام شریعت بجائنے خاطرہ ایذا چھہ  
 دوان۔ پڑے پاٹھے میون زمین چھہ کشادہ سے کھول۔ ہر گاہ سے روز تھہ جہہ عبادت چھوہ نہ ہیکان کر تھہ  
 رشتہ دارن سے دوستن سے و طخ مفارقت دشوار سپدہ سؤ مفارقت جھہ اکہ نٹہ اکہ دوہہ سپدہ وئے یکازہ۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ الْيُنَاثِرُ جَعُونَ ﴿۵۷﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُنُوزُهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿۵۸﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۵۹﴾ وَكَأَيُّنَ مِّنْ ذَا بَأْسٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶۰﴾ وَلَٰكِن

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ پریتھ شخصس جھہ کہ تہہ کہہ ڈوہہ مرہ ٹک مزہ ضرور ژہن تمہہ ساتہ گڑھہ بہر حال جدائی تھہر ایٹناثر جعون تو پتہ جھوہ توہہہ سارنہ اسی نغہہ واٹن نافرمان آستہہ آسہ نغہہ واتس جھوہ سز اٹھیک خطرہ۔ ہر گاہ یہ ترک و ظن سارہ رضامندی خاطرہ کرو تھہ منز سپد پوئہہ سانس و عدس مستحق تہ سزوار۔ سہ وعدہ گوئیوے کہہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُنُوزُهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرُفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ یمولو کو ایمان اون یہہ کر کیکہ رژہ عملہ رژو عملو اندرہ گو ترک و ظن کرن ٹھر کہ شہرہ نشہ ہجرت کرن تمن دمواس جای جنتہ کین بالا خان اندر، یمو تپل جو یہ پکان آسن تمنی جتن اندر روزن تم ہمیشہ۔ کیاہ رژہ مزور یاہ چھہ یہ جنت کام کرہ وینن ہندہ خاطرہ۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یم گئے تھے سمو ڈنیا ہس اندر اکھ تخمین پیٹھ، یکن منز ہجرت حتی تہ محسوب چھہ، صبر کرمیہ آس پنسہ پروردگارس پیٹھ اعتماد تہ توکل کران۔ ہر گاہ کہ نہہ وسوسہ سپدہ کہ ہجرت کر تھہ بین شہرن منز گڑھہ ہتھہ کیاہ کھم جو جمو، تم کرن نظر وارہ ہتھہ پیٹھ کہ وَكَأَيُّنَ مِّنْ ذَا بَأْسٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ واریاہ جانور چھہ تم، یم نہ تلتھہ تھاوان چھہ ہن روزی ٹمنہ جایہ۔ اللہ تعالیٰ ای ہتھہ تمن مفدہ رزق عطا کران۔ توہہ تہ ہتھہ سی مفدہ رزق و اتہ تاوان۔ ادہ بیتہ آسوئہہ تہ ستہہ۔ لہذا نہہ کروئہہ امیک وسوسہ بلکہ کرو خدا اٹس پیٹھ پور بھروسہ۔ سہ چھہ یقیناً بھروسہ کرنس سزوار کیا زہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سہ چھہ سوروی بوزہ ون، سوروی زانہ ون۔ ہتھہ پاٹھ چھہ سہہ سارنہ صفتن اندر سیٹھاہ کامل لہذا اٹس کامل الصفات چھہ سہ چھہ بھروسہ کرنس قابل وَلَٰكِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ

سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  
 لِيَقُولُوا اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۱۱﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  
 مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۲﴾ وَلَكِنْ  
 سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ  
 مَوْتِهَا لِيَقُولُوا اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُوا اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ یہ ہر گاہ تمہ تمہن کا فرماں پر ڈھو  
 آسمان سے زمین کم چھہ کورمت پادہ، بیہ کم لوگ کامہ آفتاب سے زون، ضرور دین تم اللہ تعالیٰ تمہن  
 اقرار کرت کت چھہ پت پھر ان ژلان تم، نس یوت عبادت کرنہ لغہ۔ یعنی توحید فی التکوین ماننہ کونہ  
 چھہ توحید فی الالوہیت مانان۔ بیٹھہ پانٹھ خالق اللہ تعالیٰ، بیٹھہ پانٹھ رازق سے سہی۔ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ  
 يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ چنانچہ اللہ تعالیٰ ای چھہ رزق اندر وسعت  
 کران۔ تمہن پڑھان چھہ تمہن پنہ نیوہند و اندرہ۔ بیہ چھہ سہی رزق اندر تنگی کران۔ تمہن پڑھان چھہ  
 تمہن۔ بے شک اللہ تعالیٰ سی چھہ پر بیٹھہ چیز ج پور خبر وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ  
 الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولُوا اللَّهُ یہ ہر گاہ چھہ پر ڈھو تمہن آسمانچہ طرفہ کم ترورود، تو پتہ  
 کورن زندہ تمہرورودہ سیتے زمین تمہ کہ مرنہ پتہ یعنی سرسبز کورن ہو کھنہ پتہ۔ ضرور دین امیک جواب  
 تہ کہ اللہ تعالیٰ ان ترورود، سہی چھہ زمینس مردہ گڑھتھہ بیہ زندہ کران یعنی خشک گڑھنہ پتہ سرسبز  
 کران قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ چھہ دپو حمد معبود برحقس۔ ایڑہ ہنہ تہ کورتمو اقرار مگر تم  
 لوکھہ چھہنہ مانان تہ تسلیم کران، بلچہ چھہ امہ خوتہ بیا کھتھہ کہ تمواندرہ چھہ اکثر تمہن نہ زانن تگان چھہ  
 کینہہ تہ نہ امہ موکھ کہ عقل کیا چھہ کھنہ بلکہ چھہنہ تم عقلہ کام ہیوان تم چھہنہ اتھہ منز غور کران کہ یہ  
 یہ کامہ بیلہ خدای پوت کران چھہ، تس ورا ای شو بیابہ کانسہ ہنز عبادت کران۔ غور نہ کرنہ موکھ چھہ  
 تمہن لغہ بدیگی تہ ظاہر چیز خفی تہ پو شیدہ روزان۔ سہ غور نہ کرنگ وجہ چھہ یم چھہ دنیا کین شغلن

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ  
لَهِىَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۶۳﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَا  
اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ  
يُشْرِكُونَ ﴿۶۴﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۚ فَسَوْفَ  
يَعْلَمُونَ ﴿۶۵﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ يَتَخَفَتِ النَّاسُ  
مِنْ حَوْلِهِمْ أَقْبَالَ بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿۶۶﴾

اندر حالانکہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ بے چھنے یہ دنیا ہیچ زندگی لہو لعبہ ورائے کینہہ تہ  
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَاةُ اصل زندگی گیہ عالم آخرتج زندگی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ہر گاہ تج  
خبر آسہا تم تیلہ کرہ ہن نہ ناپا سیدار زندگی اختیار۔ کئہ وقتہ چھہ تم توحید الوہیتک تہ اقرار کران۔ چنانچہ  
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اینزہ غیر مستقل مزاجی ہنز بیاکھ مثال چھہ، تم  
بیلہ سمندرس منز جہازن پیٹھ سوار سپد تھہ سفر کران چھہ تو پتہ چھہ ناوتہنز واوہ اولئس منز یوان، تمہ  
ساتہ چھہ تم خدایسی پیٹھ پورا اعتقاد تھاوت نجات منگان، مگر دنیا چین کابین اندر روزنہ سببہ چھہ تہ حال  
پوشان۔ چنانچہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ حتمہ پتہ یلیہ سہ نجات دت نفس سُن واتہ  
ناوان چھہ، آتی چھہ بے تس شریک ٹھراوان لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ بیتھ کفران نعمت کرن تم تھہ  
نفس یوسہ تمن آسہ عطا کر وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بے چھہ کینہہ کالادنیاس اندر تمتع تلن۔  
مگر بروٹھہ پئہن سپدیکھہ پائے معلوم آسہ ٹھران نعمتک انجام بین چھہ توحید قبول کرنہ نیشہ اکھ مانع  
دنیا س اندر بوڈن دیوم حیلہ چھہ یہ خیال کہ ہر گاہ اس توحید قبول کرو تیلہ مارن آسہ لوکھ بیتھ  
شہرس منز دن نہ آسہ بسہ ئے أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ يَتَخَفَتِ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ کیا تمہو لو کو بیٹے  
مکہ کیو کافر ووچھنا کہ آسہ بچو ٹھہد شہر حرمہ وول شہراہ، امن واما نگ شہراہ تمن اندی کپے سم لوکھ چھہ  
تم چھہ یوان رٹھہ نہ تہ مارنہ، تم چھہ آتھہ شہرس منز روز تھہ محفوظ اٹھہ مہربانی کر تھہ أَقْبَالَ بَاطِلٍ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ  
لَمَّا جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۶۸﴾ وَالَّذِينَ  
جَاهِدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۹﴾

یَوْمَئِذٍ وَيُنْعِمُهُ اللَّهُ بِكَفَرُونَ حق سے پوزیوت واضح آتھہ چھایم ایزین معبودن پڑھ کر ان بیہ چھہ اللہ  
تعالیٰ سزین نعمون بے قدری سے انکار کران معبود برحقس ہتھہ شریک ٹھہراوان شریک بخدا ان  
گو سخت ٹھہرا ان نعمت کرن۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ  
بیہ ٹھہ اکھاہ ہتھہ یڑھ ظالم سے ناانصاف ٹس شخصہ سبہ ٹو سے ہم ایز نو رزو معبود برحقس پیٹھہ بلا دلیل تس  
شریک ٹھہراونہ سیتہ یازان اہڈ پڑکٹھہ یلہ سوتس نعمہ واڑ با دلیل اَلْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ  
کیاہ جنم ہتھہ نارونج جای تمن کافرن ہندہ خاطرہ۔ واقعی ہتھہ بوڈسز ابدین مجر من ہندہ خاطرہ نار جنم  
وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ سمو لو کو سانبہ دینہ خاطرہ  
کوشش کر تکلیف برداشت کو رتمن ہاؤد اَس ضرور پنہ قریبہ و تہ حَقُّ و تھہ پڑ پاٹھہ اللہ تعالیٰ ہتھہ سیت  
سیت نیکو کارن غلوصہ والین بندن دنیاس اندر تہ آخر تس اندر تہ



## سُورَةُ الرَّؤْمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 اللَّهُمَّ ۱ غَلَبَتِ الرَّؤْمُ ۲ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ  
 عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۳ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۴ اللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ  
 قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۵ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۶  
 بِنَصْرِ اللَّهِ ۷ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۸ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۹  
 وَعَدَّ اللَّهُ ۱۰ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ۱۱ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

اللَّهُ ہم چھ حروف مقطعات۔ سمن ہمد معنی زانہ خدا غَلَبَتِ الرَّؤْمُ \* فِي آدْنَى الْأَرْضِ رومک  
 نصاریٰ سپد اس قریب جلیہ پیٹھ مغلوب تیس تم جنگ آس کران یوسہ جای فارسہ خوتہ ملک عربس  
 گھ تلمہ گھ تھہ جلیہ جھہ ناوازرعات تہ بصری ہم شامس منزہہ شہر جھہ حکومت رومس ماتحت آسنہ موہ کھہ  
 جھہ رومہ کس زمینس سیت شامل۔ تھہ جلیہ سپد اہل روم یعنی نصاریٰ فارسہ کین لوکن مقابلہ تم آتش  
 پرست آس، مغلوب۔ سیمہ سیت عربک مشرک خوش سپد۔ یکمازہ تم آس نصاریٰ ان اہل کتاب آسنہ  
 موکھ مسلمانہ نے سیت زانال۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِي بَضْعِ سِنِينَ پنتہ  
 مغلوب سپد نہ پتہ سپدن تم رومی جلدے ضرور غالب اہل فارسن پیٹھہ دو تمس مقابلس اندر کینون ورنن  
 تام۔ تریو رہو پیٹھہ کون تام اللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ یہ مغلوب سپدن تہ غالب سپدن جھہ  
 خدایہ سندس اختیارس منز۔ مغلوب سپدنہ بروٹھ تہ اوس اختیار خدایہ سے تہ خدایہ سی اٹھہ جھہ اختیار  
 گوڈہ تہ تہ پتہ تہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ \* بِنَصْرِ اللَّهِ تمہہ دوہنہ سپدن خوش با ایمان اللہ تعالیٰ  
 سہہہ تمہہ یاری تہ مددہ سیت يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ سہہہ جھہ یاری کران کس یڑھان جھہ کس  
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ سہہہ جھہ سیٹھہہ غالب سیٹھہہ رحم کرہ ون وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ

يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ  
 الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ﴿٧﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ط وَ  
 إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ لَكْفُرُونَ ﴿٨﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا  
 فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ط

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ بے چھہ خدایہ سدہ وعدہ۔ اللہ تعالیٰ چھٹہ بدل کران پنہ نس  
 وعدس مگر اکثر لوکھ چھٹہ تصرفات الہین زانان۔ تم چھہ صرف ظاہری اسبابن کن و چھٹہ قیاس آرائی  
 کران يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ایم چھہ زانان صرف دنیاچہ  
 زندگی ہند ظاہری حال مگر تم چھہ آخرتہ نشہ بالکل بے خبر۔ تمن چھٹہ معلوم آخرتس منز کیاہ آسہ  
 تہند حال۔ کیاہہ تمن چھٹہ کانہہ اندیشہ تمن چیزن ہند سمو چیز وسیت تم متہ عذابس گرفتار سپدن۔  
 مثلاً کفر شرک تہ نافرمانی خدا ورسول نہ چھہ تمن فخر تمن چیزن ہنز سمو سیت تمن نجات ہند ہا۔ سہ گو  
 ایمان تہ فرمانبرداری۔ تہزہ نظر چھہ فقط دنیا س کن أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى کیاہ آخر چھہ صحیح تہ حق آسچہ دلیلہ بوزتھ چھنا ایم  
 لوکھ پانس سیت غور تہ فکر کران کہ اللہ تعالیٰ ان کوریہ زمین تہ آسمان بیہ یہ تمن دون منز باگ چھہ  
 پیدہ مگر سبہ حکمتہ سے پیٹھ۔ بیہ اکہ متعین مدت خاطرہ سہ مدت گروہہ ختم پتہ آسہ قیامت یمہ دوہ بہ  
 لوکھ خدا بس بروٹھ کن پیش من کرنہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ لَكْفُرُونَ لیکن اکثر لوکھ  
 چھہ قیاس پنہ نس پروردگار سیت ملاقات سپدن انکارے کران۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ  
 فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کیاہ تم لوکھ چھناز مینس پیٹھ اورہ یور پھیرے مت۔  
 کیاہ تم چھنا گرو منز نیمبر درامت۔ ہر گاہ تم اورہ یور پھیرہ ہن تیلہ و چھہ ہن تم کہ کیاہ چھہ سپد مت انجام  
 قیامتہ گین تمن مکران ہند یم تمن بروٹھ آس۔ كَانُوا أَشْدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَخَادُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا



كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ  
 مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ  
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٩ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ  
 أَسَاءُوا السُّوْأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ١٠  
 اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١١ وَيَوْمَ  
 تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ١٢ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ  
 مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ وَكَانُوا إِشْرَكَائِهِمْ كُفْرِينَ ١٣

اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ جہنم حالت آس کہ تم آس جہندہ خود زیادہ قوت سے  
 طاقس اندر بیہ اوس تموز میں لوگمت بیہ اوسکھ سہ بیول ووتھ کرہ جایہ لد تھہ یہندہ خود زیادہ آباد  
 کورمت۔ تمن نعرہ تہ ووت پیغمبر ہند سانبہ طرفہ ن منجزات ہتھہ۔ مگر تمومون نہ کینہہ تہ توپتہ کھیو تمومو  
 تمہ نافرمانی ہند سزا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ تہ ہند ہانہ ہرگز کہ اللہ تعالیٰ  
 کیاہ کرہ ہا تمن ظلم مگر تم اس گھر وشر کہ سیت پیغمبرن انکار کرنہ سیت پان پانس ظلم کران ثُمَّ كَانَ  
 عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوْأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ توپتہ سپد تمن چھ کامہ  
 کرہ و نین تہ پیغمبرن انکار کرہ و نین ہند انجام تہ چھگی کیاہہ تموزان اپڑ خدایہ سند آیات بیہ آس تم  
 آیاتن ٹھہہ کران اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ تعالیٰ چھہ مخلوقاتن گوڈہ تہ  
 پیدہ کران۔ تمہ پتہ کرکھ سے بیہ دوبارہ پیدہ تمہ پتہ ایونہہ نس گن واتانہ حساب و کتابہ خاطرہ  
 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ بیہ سمہ دوہہ قیامت قائم سپدہ نا امید تہ حیران سپدن تمہ  
 دوہہ کافر تہ نافرمان کانہہ تھہ ہیکن نہ تم کر تھہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ  
 وَكَانُوا إِشْرَكَائِهِمْ كُفْرِينَ آسنہ بیہ تمن پنے نیو شریکو اندرہ تمن تم عبادتس اندر خدائس

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِدِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ ﴿۱۳﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿۱۴﴾  
 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ  
 فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ﴿۱۵﴾ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ  
 تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿۱۷﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ  
 الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ

شريك ٹھہراوان آس کا نہ تہ شفاعت کر تھہ مولا وہ نہا۔ تم سپدن تمہ وقتہ پانہ پنہ نین شریکن (یعنی  
 تمہن تم شریک خدازاتان آس) مکر وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِدِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ یہی ہمہ دوہہ قیامت  
 قائم سپدہ ہمہ دوہہ سپدن لوکھ الگ الگ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ  
 يُحْبَرُونَ سمولو کو ایمان لون یہ کر کیکہ رزہ عملہ تم آسن جنتہ کس بائس منز سیٹھاہ خوش فرحت وسرورس  
 اندر وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ یہی  
 سمو خدائس پا خدلیہ سندس گن آسن انکار کوربہہ زانجھہ اُپسان آیات یہی آخرتس اندراسہ سیت  
 ملاقات کرہ نس نئس من عذابس گرفتار کرنہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ  
 بلہ تہہ ایمان و عمل صالحک فضیلت معلوم سپدہ نئس کرو تہہ بہ پاکی یاد خدایمہ ساتہ توہ شام کران چھوہ  
 یہی ہمہ ساتہ توہ صبح کران چھوہ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کیازہ نس شوون ساری  
 تعریف یم کرنہ یوان چھہ آسمانن تہ زمین اندر وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ یہی کرو تہہ ٹھندوی یاد  
 دُبئس ہتمس حصس اندر۔ یہی ہمہ ساتہ توہ پیشہ کس و قس منز داخل چھوہ سپدان۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ  
 الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ سہ معبود برحق چھہ جان دارس کڈان بے جانس نشہ مثلاً لطفہ

مَوْتَهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿۱۹﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ  
 تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿۲۰﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ  
 لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾  
 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ  
 وَالْوَأْنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴿۲۲﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ  
 مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي

نشم انسان، ٹھولہ منزه جانورس۔ بیه ہجھہ بے جانس کڈان جاندارس نشہ۔ مثلاً لطف انسان نشہ  
 ٹھولس جانورس نشہ۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ بیه چھو سؤی زمینس زندہ  
 تہ سبز و شاداب کران تممہ مرنہ پتہ یعنی خشک گڑھنہ پتہ۔ تتھہ پاتھ بیو تھہ تہ قیامتک دوہ قبر و منزه ہمیر  
 کڈنہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ معبود برحقہ سند یو قدرتہ کیو  
 نشاؤ اندر چھہ کہ تھہ کرنوہ پیدہ میوہ تو پتہ چھوہ تھہ انسان بتھہ زمینس پیٹھہ چھہ کرنہ تتھہ پھیران۔  
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً بیه  
 چھہ تھندی قدرتہ کیو نشاؤ اندرہ ای زہ پیدہ کرین تھندہ خیطرہ تو ہی منزه تھنزہ زنانہ تتھہ تھہ قرار رٹو  
 تھن نشہ۔ بیه تروون توہہ دون باژن منر مجبت، شفقت تہ ہمدردی إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ پز پات اتھ منر چھہ بڈ بڈ نشانہ غور و فکھ کرہ و نین ہندہ خاطرہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَأْنِكُمْ تھندی قدرتہ کیو نشاؤ اندرہ چھہ آسمان و  
 زمینک پیدہ کرن۔ بیه تھنزہ زویہ یعنی لغت تہ تھندین بدن ہند رنگ مختلف آسن إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِلْعَالِمِينَ پز پات اتھ منر چھہ بڈ بڈ نشانہ زانن والین تہ عاکن ہندہ خاطرہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ

ذٰلِكَ لَايَتِ لِقَوْمٍ يَّسْمَعُونَ ﴿۳۳﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ  
خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهٖ الْاَرْضَ  
بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ﴿۳۴﴾  
وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ  
دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَلَهٗ مَنْ فِي  
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلِّ لَهٗ قَنُوتُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَهُوَ الَّذِي يَّبْدُوْا

بِالْبَلِّ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهٖ  
زیادہ۔ بے دہلہ سے جہد تھانڈن جہد فضل یعنی رزق تلاش کرن اِنَ فِيْ ذٰلِكَ لَايَتِ لِقَوْمٍ  
يَّسْمَعُونَ پزپاٹ اتھ منزہہ بڈ نشانہ توجہ سان بوزن والین ہندہ خیطرہ وَمِنْ اٰيٰتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ  
خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بے جھہ جہدہ قدرتہ کیونشانو  
اندرہ کہ سہ جھہ توبہہ نیم کرنہ خاطرہ بے امید نہ خاطرہ وزملہ ہاوان بے آسمانہ طرفہ رُود تراوتھ  
موتس یعنی خشک گاتس زمینس زندہ سرسبز وشاداب کران اِنَ فِيْ ذٰلِكَ لَايَتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ پز  
پاٹ اتھ منزہہ جھہ قدرتہ بڈ نشانہ عقلہ کام ہینہ والین ہندہ خاطرہ۔ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ  
وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ بے جھہ جہند یو قدرتہ کیونشانو اندرہ کہ آسمان سے زمین جھہ قائم جہندی حکمہ سے ارادہ  
سیت توبہہ جھوہ اکس خاص مقرر کرنہ موتس وقس تان زندگی بسر کرت زمینس اندر دفن کرنہ یوان۔  
ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ توپتہ بلہ سہ قیامتک دودہ توبہہ اکہ خاص قسمک آلو  
دیہ اتی نیر وجہہ ساری قبرومنزہہ وَلَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلِّ لَهٗ قَنُوتُوْنَ یم آسمانس سے  
زمینس منزہہ مخلوق جھہ تم ساری جھہ جہندی مملوک۔ ساری جھہ جہندی حکمس تابع سے فرمانبردار۔ امہ  
اندرہ سپد ثابت کہ۔ وَهُوَ الَّذِي يَّبْدُوْا الْحُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهٗا وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ سہ پروردگار گوسوی یم  
مخلوقات گوڈہ پیدہ کرتو پتہ کرکھ سہ بے دوبارہ پیدہ قیامتک دودہ۔ تمس نش جھہ دوبارہ بے پیدہ کرن زیادہ

الْخَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۗ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ  
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۶﴾ ضَرَبَ لَكُمْ  
 مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 مِن شُرَكَاءَ فِي مَارْتَرَاتِكُمْ فَاذْنَبْتُمْ فِيهِ سَوَاءً وَتَخَافُونَهُمْ  
 كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نَقِصُّ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۷﴾  
 بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي

آسان قدرت بشریہ کہ اعتبارہ۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تس مجھ تھہ صفت تہ  
 ٹھوڈشان ٹس برابر تہ ٹس ہیو جھہ کانہہ تہ آسان تہ زمین اندر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سنی چھہ غلبہ  
 وول قادر مطلق جھہ وول ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ اللہ تعالیٰ ان کور بیان توبہ شرک  
 مذموم تہ باطل آسن فخرہ تارنہ خاطرہ جھزے اکھ مثالا اکھ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارْتَرَاتِكُمْ فَاذْنَبْتُمْ فِيهِ سَوَاءً وَتَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ سُو مثال گیہ کیہ کہ وارہ  
 کرو جھہ غور کہ کیاہ جھہ چھوہ برابر مالک منہ قسمہ شریک تھہ ماس اندر ٹس اسی توبہ عطا کور مت جھہ۔  
 جھہ تہ جھہ غلام آسہ ہن تھہ ماس اندر برابر مالک۔ جھہ آسہ ہیو کھوڑان تمن غلامن تھہ ماس منز  
 تصرف کر ٹس اندر۔ جھہ پاٹھ جھہ پانہ وان اکھ شریک بیس شریکس نچہ کھوڑان چھوہ كَذَلِكَ نَقِصُّ  
 الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ جھہ پاٹھ جھہ آس ویشہ ناو تھہ بیان کران ہن آیات تمن لوکن ہندہ خاطرہ  
 سمن عقل چھہ یعنی جھہ یلہ نہ پنہ حقہ غلامن مملوٹن ہند شریک آسن برداشت کران چھوہ خدایہ سند  
 مملوک کیاہ جھہ جھو کہ جھہ شریک زانان یہ جھہ بوڈ ظلم بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ  
 بلکہ کر سمو ظالمو منہ صحیح دلیلہ ورا ی پنہ نین خیالات فایدن تہ نفسانی خواہش ہنز پیروی فَمَنْ  
 يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ سمس اللہ تعالیٰ اپزس اصرار کرنہ سبہ و تھہ راورہ ٹس جھہ اکھاہ بیسہ و تھہ تہ  
 ہدایت کر تھہ وَمَا لَهُمْ مِّنْ مُّجْرِبِينَ سمن گمر ہن یلہ عذاب بیہ کرنہ تمہہ ساتہ بیسہ نہ کانہ تمن منہ قسمہ

مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نُصَيْرِينَ ﴿۳۹﴾ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ  
 لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا  
 تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾ مَنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا  
 الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۴۱﴾ مِنَ الَّذِينَ قَرَعُوا  
 دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعَاءَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۴۲﴾

ہدایت نہ مدد کرتے۔ لہذا چہرہ پر ہتھ اکس بوزہ ونس یوان دینہ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ذرہ پدہ  
 پر ہتھ باطل دینہ نغمہ الگ۔ تو پتہ کر ذرہ ہن رخ دین حقس کن فطرت اللہ الٹی فطر الناس علیہا  
 ذرہ کرتا بتعت نہ بیروی تہہ قابلیتس ہتھ قابلیتس پیٹھ اللہ تعالیٰ ان ساری انسان پیدہ کرمت چہہ۔  
 مطلب امیک چہہ کہ اللہ تعالیٰ ان چہہ پر ہتھ شخصہ پیدہ کرمت پر ہتھ اکس چہہ استعداد عطا کرمت  
 کہ ہر گاہ سہ پرتہہ بوزن یڑہہ، فکرہ ترن یڑہہ، سہ بیجہ بوزت نس بیجہ فکرہ ترہہ۔ تہہ متابعت کرن گیہ  
 کہ تہہ استعدادس نہ قابلیتس ہیہ کام سہ ہتھ منگان چہہ تمہ موجب کرہ عمل لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  
 خدایہ سندس اتہ پیدہ کر قس چیزس، ہتھ پیٹھ تم ساری انسان پادہ کرمت چہہ گدہ نہ تغیر و تبدیل  
 کرن ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ بیہ ہتھ شیخ حکم و تہہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر لو کہ چہہ  
 بوجہ عدم تدبیر زمان تمہ موکہ چہہ تمیک اتباع کران مَنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
 وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ای لو کو جہہ کرو رجوع نس خدایس کن بیہ کھو ژو نس۔ چہندس  
 مخالفتس نہ مخالفت کس عذابس بیہ کرو دین اسلام قبول تو پتہ تھا و پر نماز پابندی سان بیہ مہ آبرو  
 مخر کو اندرہ مِنَ الَّذِينَ قَرَعُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعَاءَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ بیہ مہ آبرو جمو  
 مخر کو اندرہ سمو چہہلہ کرہ و دینس پنہ نس تہ بیجہ واریاہ جماژاک رث اکھ و تہہ ایزہ تہ باطل و تہہ واریاہ  
 سمو ترا و پوزتہہ ایزہ تہ باطل و تہ ترا و یکھ ای گو پنہ نس و دینس چہلہ کرنہ اک رث اکھ و تہہ، بے رث

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا  
 آذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۳۱﴾ لِيَكْفُرُوا  
 بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَسْتَعِزُّوا بِمَن وَدَقَّةٌ ﴿۳۲﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا  
 فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿۳۴﴾ وَإِذَا قُلْنَا لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَرِحُوا  
 بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ لِّمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿۳۵﴾

بیاکھ و تھ ائی سیت گیہ واریاہ جمائٹ۔ اگر پڑھ و تہ پیٹھ روزہ مَن تسلیم آسہائٹی جماعت۔ باوجود آجہ یہ سارے و تہ چھ باطل تہ ازہہ توتہ پٹھ جمل و نادانی کن تمواندرہ پرستھ اکھاہ پنہہ پنہہ و تہ پیٹھ ژینگان۔ خیال کران کہ بہ چھس صحیح و تہ پیٹھ حالانکہ یہ ام سہ خیال پٹھہ بالکل غلط۔ سیز و تھ و تھ توحید و تھ۔ تھ و تہ کن آس تمن نادوان چھہ عام طور پٹھہ تمن لوکن ہندہ حال و قالہ سیت ثابت سپدان کہ یوہے پٹھہ دین حق۔ کیا زہ اضطرار کہ وقتہ پٹھہ تم تہ اتھہ دینس تسلیم کران۔ یہ اندرہ ثابت پٹھہ سپدان کہ واقعی پٹھہ یوہے دین فطرت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پٹھہ فرماوان **وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ**۔ بیلہ لوکن کانہہ سختیہ واتان پٹھہ تمہہ ساتہ پٹھہ بیقرار سپد تھہ آلودوان پنہہ نے حقیقی پروردگارس تس کن رجوع کر تھہ توپتہ یلہ سہ تمن پنہہ رحمتک مزہ چھہ ہاوان سوختی دور کر نہ سیت ائی چھہ تمواندرہ اکھ جماعت پنہہ نس پروردگارس بیہ شرک آنان **لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ** پٹھہ گھران نعمت کرن تھہ نفس یوسہ آسہ تمن عطا کرے یہ **فَتَسْتَعِزُّوا** پس تل تموتحہہ کینہہ کالاہ **فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ** برونہہ پن زانوپائے امیک مزہ **أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ** کنہہ آسہ چھہ تمن پیٹھہ کانہہ دلیلاہ کانہہ کتابہ نازل کر مژ۔ سوی کیاہ پٹھہ تمن دپان شرکچہ تھہ تہ کامہہ کرو **وَإِذَا قُلْنَا لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا** یلہ اس لوکن پنہہ مہربانی ورحمتک مزہ چھہ ہاوان تمہہ سیت چھہ تم خوش گودھان۔ تمہہ سببہ چھہ غفلتس منز بوڈ تھہ شرکچہ کامہہ کران **وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ لِّمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ** توپتہ ہر گاہ تمن واتان پٹھہ کانہہ سختیہ تمن پیٹھہ

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ مُّؤْمِنُونَ ﴿۳۷﴾ فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَ  
 الْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ  
 اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۸﴾ وَمَا تَتَّبِعْتُمْ مِنْ رَبِّبَالْيَرْبُؤِ  
 فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا تَتَّبِعْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ

کامین ہندہ شامتہ سمہ جہندہ اتھ آمزہ چھ آسان اذامہ بیظون اتی جھہ تم نامید سپدان اولم  
 یروا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کیاہ تم چناؤ چھان کہ پڑیاک اللہ تعالیٰ ای پھہ رزق  
 اندر وسعت کران بس یشھان چھہ۔ بیہ پھہ سنی تنگی کران رزق اندر بس یشھان چھہ تس لاک فی  
 ذلک لآیت لقوم مؤمنون بے شک اتھ منزتہ چھہ بڈبڈ نشانہ خدایہ سندہ قدر تک تہ کن آسک  
 بایمان ہندہ خاطرہ فات ذالقربی حقہ و المسکین و ابن السبیل پس یلہ توحید چود لیلوسیت  
 معلوم سپد کہ رزق تنگی تہ وسعت پھہ خدایہ سی اتھ امہ سیت سز بیاکھ اتھ ثابت کہ نخل کرن پھہ  
 سیٹھاہ پھہ کیاہہ امہ سیت مقدرس اندر زیادتی بیجہ نہ سپد لہذا چھہ نخل کرن بے فائدہ اے مسلمانو  
 جہہ مہ آسو بجل کران بلکہ آسو قرابتہ والین واتاوان جہند حق بیہ مسکین بیہ مسافرن ذلک  
 خیر للذین یریدون وجہ اللہ و اولئک ہم المفلحون ای پھہ بہتر تمن لوکن ہندہ خیطرہ یم  
 ژھانڈان چھہ رضای خدایہ چھہ تے لوکہ رستگار تہ کامیاب۔ وما تبتعتم من رببالیربؤ فی اموال  
 الناس فلا یربؤا عند اللہ بیہ بس چیز جہہ دنیا خاطرہ تہ خرچ کران چھوہ یمہ غرضہ کہ سہ چیز ولتہ  
 لوکن ہندس ماس اندر تو پتہ سمہ ساتہ تمن سہ چیز واپس کرنگ وقت ولتہ تمہ ساتہ واتہ امہ نشہ سہ چیز  
 رت تہ زیادہ سپد تہ پھہ پاھہ ذنوبی رسومن اندر عام طور کرنہ پھہ یوان اتھہ ہینہ دس جھنہ اللہ اس  
 نشہ کانہ زیادتی سپدان کیاہہ خدایس نشہ پھہ سہ مال واتان نہ پھہ سہ زیادہ سپدان۔ بس نہ جہندہ رضا  
 خاطرہ آسہ ونہ آمت۔ چونکہ اتھہ ہینہ دس منز پھنہ خدایہ سندہ رضا بچ کانہہ نیت آسان لہذا چھہ نہ یہ



فَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿۳۱﴾ اللَّهُ الَّذِي  
 خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ  
 شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا  
 يُشْرِكُونَ ﴿۳۲﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي  
 النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَلَمْ يَعْلَمُوا بِرُجُوعِ  
 قُلُوبِ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

تہنہ، درگاہہ اندر قبول سپدان نہ مجھ اتھہ منزکینہہ زیادتی سپدان وَاَلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَدْعُونَ بِهِ سَعَةً لِيَأْتِيَهُمْ الرِّزْقُ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾

تھانڈان چھوہ تہہ خدایہ سندی رضا امہ قسمک لوکھ جھہ خدایس نشہ جمع کر تھہ ہن دینت مال ہرہ راوان زیادہ کران

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ مَعْبُودِ حَقِّي وَجْهَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۲﴾

ذات پاک ہم تہہ پیدہ کروہ توپتہ کورنوہ رزق عطا توپتہ چھوہ سے ماران توپتہ کردہ سے بیہ زندہ قیامتک دودہ سہ مجھ امہ قسمک قدرتہ دول ہل من شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ تُوہ و نتوکیاہ تہنہد یو شرکیواندرتہ چھاکانہہ تیتھہ یس تموکامیواندرہ کانہہ گماہ چھہ کر تھہ ہیکان سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

پس سپد ثابت کہ سہ مجھ منزہ تہ پاک بیہ بلند تر برتر۔ تمہ ساری شر کہ نشہ نئس شرک تم لوکھ تس گن لاگان جھہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَلَمْ يَعْلَمُوا بِرُجُوعِ قُلُوبِ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

طوفان خشکی اندرتہ تری اندرتہ یعنی ساری دنیا اس اندر لوگن ہنزو پیچھہ علموسیت تھہ اللہ تعالیٰ تمین مزہ ژہناوہ تہنزن بھنے کائین ہندیہ تموکرہ دیدہ تم پائس پین۔ تمویچھہ کامیونشہ روزن پتھہ۔ ہر گاہ تم مٹرگن اتھہ اندر کانہہ شک مجھہ۔ قُلُوبِ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿۳۱﴾ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ  
 الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ  
 يَصَّدَّ عُونَ ﴿۳۲﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا  
 فَلَا نَفْسِهِمْ يُهَدُونَ ﴿۳۳﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿۳۴﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ  
 أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ

مِنْ قَبْلِ نَبہ فرما یو کہ یار رسول اللہ ای لو کو نہہ پھیر تو سارے زمینس منز تو پتہ و چھو کیا ہ چھو  
 سپدنت انجام تین مشرک لوگن ہند سم توبہ بروئٹھ آس۔ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ تمواندرہ آس اکثر  
 مشرکے۔ نہہ و چھو کہ تم تھہ پانٹھے آے گانہ عذاب آسانی سیت یہ سیت صاف چھہ و ننان کہ شرک  
 چھہ بوڈ گناہ۔ بیلہ شرکک پیچھ آس ظاہر سپد پس ای مخاطب فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ  
 أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّ عُونَ پس تھاواڑہ ہن تھہ سیود محکم و نیس اسلامس  
 نہ توحیدس گن تھہ پیچھہ کر استقامت سہ دہہ بینہ بروئٹھ۔ بھتھہ خدا یہ سہہ طرفہ ہتھہ بروئٹھ ڈلن چھہ  
 بلکہ چھہ قطعاً تہ قیامت دہہ اوہون تہی دہہ سپدن لوگن عملن ہندہ اعتبارہ زہ حصہ اکھ واتہ جنتس بیاکھ واتہ  
 جہنمس بھتھہ پانٹھہ کہ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يُهَدُونَ نیس شخص  
 مگر چہ کامہ کران آسہ تس چھہ تمن کاین ہند سزا کھیون بیہ یم لو کہ رزہ عملہ کران آس تم چھہ پنہ  
 نین پانن ہنزہ کامیابی ہند سزہ سامان تیار کران لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ  
 فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ بھتھہ اللہ تعالیٰ پنہ فضلہ سیت رزہ مزور عطا کرہ تمن لوکن سموا ایمان اولن  
 بیہ کر بھتھہ رزہ عملہ کافر سپدن تمن بشرہ محروم کیا زہ اللہ تعالیٰ بھتھہ پسند کران کافر ن۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ  
 يُرْسِلَ الرِّيحَ بِیہ چھہ پروردگارہ سہد یو قدرتہ کیونشاؤ اندرہ کہ سہ چھہ واوان سوزان رُود پنہ بروئٹھ  
 رودج خوشخبری ہتھہ بیہ بھتھہ تہ ہاوا سوزہ پنہ رحمتک یعنی باران رحمتک مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ

الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾  
 لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ  
 بِالْبَيِّنَاتِ فَاَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا  
 عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۷﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ  
 فَتُنْفِثُ سَحَابًا مَبْسُوطَةً فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ  
 كَسَفًا تَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ

تَصَيَّبَهُ وَاجْتَرَى الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ ۚ بے ہتھ تمہ وادہ سیت چکن تہمدہ لحمہ سیت دریاؤن اندر جہ بجد ناوہ تہ  
 جمازہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ بے ہتھ تہمہ جہازن تہ ناؤن اندر سیر کر تھ تھانڈو تہ تلاش کرو تہمدہ فضل  
 یعنی روزی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ بے تہمہ شکر گزاری کرو تہمز۔ یہ نعمو آتھ تہ چھ مٹرک ناسپاسی  
 کران۔ شرک آنہ سیت، احکامن ہنز مخالفت کرنہ سیت پیغمبرن تہ با ایمان ایذاونہ سیت مگر  
 تہمہ مہ سپد و لمہ خاطرہ آزرہ تہ غمگین کیا زہ اس بھموتمن نشہ عنقریب ایک انتقام تہمہ پاٹھ بروٹھ تہ  
 تہمہ واقعہ سد مت چھ چنانچہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ  
 فَاَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۚ بے شک یلہ سوزاسہ تو بہ بروٹھ یار سول اللہ واریاہ پیغمبر پنے نین  
 قومن گن تو پتہ آی تم پیغمبر تمن نشہ نن مجزات تہ منہ دلیلہ ہتھ مگر تموزان تم اپز۔ پس ہیوت اسہ  
 تمن لوکن نشہ سمو نافرمانی کر انتقام وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ کیا زہ اسہ پیٹھ اوس مہ  
 با ایمان یاری کرن پندہ وعدہ موجب اللہ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُنْفِثُ سَحَابًا مَبْسُوطَةً فِي السَّمَاءِ  
 كَيْفَ يَشَاءُ ۚ معبود برحق چھ ہتھ قدر تہ وول تہ حکمتہ وول بس ولسوزان تھ۔ سہ و او تھہ ارس تلان تو  
 پتہ چھس آسمان کھارت نموہ راوان تہمہ پاٹھ سہ یڑھان تھہ وَيَجْعَلُهُ كَسَفًا تَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ  
 مِنْ خِلَالِهِ ۚ تو پتہ چھس تھوان تہمہ بہ تہمہ تو پتہ چھس تھہ و چھان رود چھ نیران تہمہ ابرہ منزہ  
 فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادِكُمْ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ۚ تو پتہ یلہ سہ رود اتناؤن تھہ پنے نیو

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۴۸﴾ وَإِنْ  
 كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿۴۹﴾  
 فَانظُرْ إِلَى الشَّرْحَتِ اللَّهُ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  
 إِنَّ ذَلِكَ لَمُنْجِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۵۰﴾ وَلَئِنْ  
 أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا الظُّلُومِ مِنْ أَعْدَائِهِ يَكْفُرُونَ ﴿۵۱﴾ فَإِنَّكَ  
 لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدْيُرِينَ ﴿۵۲﴾

ہندواندرہ تمن، سمن نشہ و اتناون یرھان چھہ آتی چھہ تم خوش گوھان تہ شادیانہ کران۔ وَإِنْ  
 كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ حالہ کہ تم آس یقیناً مہ رود کہ ینہ بروئہ بالکل  
 نامید تہ مایوس سپد مت فانظر إلى الشرحت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمنجى  
 الموتى وهو على كل شيء قدير پس وجھہ ژہ خدایہ سندہ رحمتک آثار تہ نتیجہ کتھ پاٹھ چھہ پنہ رحمتہ  
 سیت موتس یعنی خشک گاتس زمینس زندہ کران یعنی تروتازہ۔ بے شک یہ کتھ چھہ نعمت تہ دلیل  
 وحدت آسحہ علاوہ دلیل یمہ کتھ ہنز کہ اللہ تعالیٰ چھہ قدرت و ول لوکن ہندہ مرنہ پتہ تمن بیہ زندہ  
 کرنس پیٹھ۔ امہ سیت سپد ثابت کہ یوہے خدا چھہ یقیناً زندہ کران سارنہ مردن بیہ چھہ سی پرستھ  
 چیزس پیٹھ قدرت و ول وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا الظُّلُومِ مِنْ أَعْدَائِهِ يَكْفُرُونَ تو پتہ ہر گاہ سوزو اس  
 ٹھندس زراعتس پیٹھ مضر ہوا یمہ سیت تم و چھن تھہ زراعتس زرد سپدت خشک گوھان یک دم بدلہ ٹھند  
 حال تمہ پتہ ین تم ٹھران نعمت کرن۔ یمہ لغو سانہ روز نکہ نہ یادے۔ امہ سیت سپد معلوم کہ تم چھہ  
 محس تھندہ خاطرہ غم کیون چھہ بے کار فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدْيُرِينَ  
 ٹھہ نہ حض ہیکیو کہ نہ یوزہ ناو تھہ مردہ بیہ نہ حض ہیکیو کہ یوزہ ناو تھہ زہین آلو۔ خصوصاً صلہ تم توہہ ٹھ  
 تھر پھر تھہ توہہ نشہ دور ژلان آسن وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُيَيْنِ عَنْ صَلَاتِهِمْ بِيہ نہ حض ہیکیو نہ ٹھہ و تھہ  
 ہاو تھہ انین یلہ تمن و تھہ رادمز آسہ إِنَّ تَسْمِعُ الْأَمَّنَ يُؤْمِنُ بِالْيَتِيمَاتِ فَهَمْ مُسْلِمُونَ ٹھہ ہیکیو کہ نہ

وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمِيَّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ  
بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۵۶﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ  
ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ  
ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿۵۷﴾  
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ  
كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿۵۸﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَ  
الْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ذَهَابًا

بوزہ ناو تھ مگر یم پڑھ کر ان چھ سائین آیتن۔ تے چھ سائین حُکْمَن گروڈن دارہ ون بیلہ یم لوکھ مُشَابِہ  
چھ مُردن تہ زرین کس مہ تھا و چھ توقع تہ بر انتھ ایمانج تین نشہ نہ مہ کھیو تہندہ ایمان نہ انہ نلک کا نہ  
عَمَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا  
وَ شَيْبَةً معبود بر حق چھ سی ذات پاک یم تہ پیدہ کرنوہ کمزوری ہمدس حالتس منز سوگیہ انسانہ سزا بندائی  
حالتھ لوکھ چارچ حالتھ تو پتہ کورنوہ تمہ کمزوری پتہ قوت تہ طاقت عطا یجئے جوانی تمہ قوت پتہ کرنوہ بیہ کمزوری تہ  
بجز عطا یخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ سہ یہ یڑھان چھ تہ چھ پیدہ کران۔ پریتھ تصرفس چھ  
سہ پور زمانہ۔ تھ تصر فہ کس جاری تہ نافذ کرنس پیٹھ چھ پور قدرت تھاوان۔ سہ چھ سورے زانہ  
ون پور قدر تہ دول و يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ  
تمہ دوہہ قیامت قائم سپدہ کافر تہ نافرمان لوکھ ہاؤن تمہ دُہک ہوںناک حالات و چھ تھ قسم کہ قیامت  
آیہ سیٹھاہ جلد۔ اس رودنہ قبرن اندر یعنی عالم برزخس اندر مگر اکس گرہ تہ اکس ساتس۔ تھ پٹھاہ اس  
نا تم دُنیاہس منزہ ولہ پکان یعنی دنیاہس منزہ آس تم لوکھ غلط خیالات و کن منز جماوتھ پھر تھ کھ  
کران وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ تَمَن جُرْ مَن

يَوْمَ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۶﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ  
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۵۷﴾ وَقَدْ  
 خَرَبْنَا النَّاسَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتُمُ  
 بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿۵۸﴾

دن تم لو کہ یمن علم سے ایمان عطا کرنے آمت آسہ یعنی باایمان یمن شریعتہ کین چیزن ہند پتہ چھہ  
 اے کافر و جہہ ٹھہرے وہ قبرن اندر خدایہ سبہہ لیچھتمہ سے مقرر کرتہ وقتہ موجب برابر قیامتہ کس  
 دوہس تان فہذا یَوْمَ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کیا چھہ ازوارہ کارہ قیامتک دوہ مگر جہہ کہتہ  
 آسہہ یمہ ذہک یقین تھوان بلکہ آسہہ تکذیب سے انکار کران تمی انکارہ کہ شامتہ چھوہ از پریشان  
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ پس دیدہ نہ تمہ دوہہ کانہہ نفع سے فائدہ  
 تمن لو کن یمو شرکہ سے ٹفرہ سیت پانس ظلم کور عذر کران نہ یہہ تمن نشہ عذر پیش کر ٹک سے توبہ کر ٹک  
 یا خدا پس راضی کرہ ٹک مطالبہ کرنہ کیا زہ تمیک وقت آسہ گذر یومت۔ وَقَدْ خَرَبْنَا النَّاسَ فِي  
 هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بیہ کرہ آسہ بیان تھہ قرآن مجیدس منز لو کن فکرہ تارنہ خاطرہ بیہ تمن  
 ہدایت بنہ خاطرہ پر تھہ قسمیہ مثالہ سے پر تھہ قسمک مضامین یم پندہ کمال بلاغتہ سبہہ مقتضی آس کہ یمن  
 کافرن بنہ ہدایت مگر نہایت بغض و عنادہ سبہہ گورنہ تموسہ قبول۔ تمی سپندہ تمن کانہہ فائدہ حاصل۔  
 وَلَئِنْ جِئْتُمُ بِآيَةٍ تو پتہ ہر گاہ جہہ یا رسول اللہ تمن نشہ ابو تمو معجز و اندرہ کانہہ مجزواہ یمن ہنز تم  
 فرمائش چھہ کران لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ توتہ و ن ضرور کافر کہ جہہ ساری

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾ قَاصِرٌ  
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿۶۰﴾

چھوہ ازیار کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون بیٹھے پاٹھ چھ اللہ تعالیٰ نادان ہندین دلن پیٹھ مہر کران یعنی روز بروز چھ تہندہ قبول کرنگ استعداوست تہ ضعیف سپدان بغض و عنادک قوت قوی سپدان قاصیر ان وعد اللہ حق ولا یستخفک الذین لا یوقنون پس کروٹہ یار رسول اللہ تہندس تکلیف تہ ایذاءس پیٹھ صبر پز پاٹھ اللہ تعالیٰ ان کس یاری ہند وعدہ توہہ سیت کورمت چھ سوچھ حق تہ پوزیم مکرین قیامت مہ سپدان باعث توہہ بے صبری کرنس پیٹھ۔



## سُورَةُ لُقْمَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 اللَّهُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ۝  
 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ  
 يُوقِنُونَ ۝ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝  
 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ  
 اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝  
 وَإِذَا تَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلِيَ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ

اللہ ہم چھ حروف مقطعات۔ سن ہند معنی زانہ پانہ خدا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ہم آیات چھ  
 محکم یہ مضبوط کتابہ ہند ہُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ یوسہ کتاب بڈ ہدایت تہ بڈ رحمت چھ نیو کارن  
 ہندہ خاطرہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تم نیو کار گئے تھے  
 ہم نماز قائم تھاوان چھ یہ ہم زکوٰۃ ادا کران چھ۔ یہ ہم آخر تک پور یقین تھاوان چھ۔ اُولَئِكَ عَلَى  
 هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تھے چھ پنہ نس پروردگارہ سزہ سزہ و تہ پیٹھ۔ یہ چھ تھے  
 کامیاب تہ رستگار وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ یہ چھ  
 لو کو اندرہ بعضی لو کہ تمہ قسمک ہم عملی چھ ہیوان قرآن مجیدہ نشہ اعراض کر تھ و اہیات تہ فضول  
 قصہ تھ لوکن تم ڈالن فضول تھ دن دن خدا یہ سزہ و تہ نشہ نادانی سیت وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا یہ زانہ تھ  
 اکھ ٹھٹھاہ اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ تھے لو کہ گئے تم یہندہ خاطرہ خوار کرہ دن عذاب چھ۔



## فِي آذَانِيهِ وَقَرَأَ فَبَشَّرَهُ بِعَذَابِ الْبَلِيمِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا

وَإِذَا انشأ على عبده ألتناولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في آذانيه وقراً فبشّره بعذاب البليم .  
یہ پر نہ یوان چھہ تمس بیٹھ سان آیات تھر پھر تھ چھہ ژلان سبھرہ سان زن نہ بوزنے۔ زن تھندین  
کنن دون زر اوس۔ پس خبر دیوئس کڈرہ غذا بخ۔ سمہ آییہ کر میک شان نزول چھہ کہ اکھ شخصہ اوس  
کافر ن ہند بوز ٹھیواندرہ کس نصر بن حارث ناو اوس۔ سہ اوس گوشان ملک فارس گن تجارتہ خاطرہ  
تہ اوس تہ کین پادشہن ہند قصہ تہ تاریخ مثل ہیوان۔ تو پتہ اوس قریش اندر بہتھہ ونان کہ محمد صلی  
اللہ علیہ وسلم چھہ تو بہ ونان عا دو نمودن ہند قصہ ولو بہ بوزہ ناو وہ رستم اسفندیار بیہ عجمی پادشہن ہند  
قصہ۔ بعضے لو کہ آس دلچسپی سان تم قصہ بوزان۔ بیہ اس ام مثل ہر مژا کہ گیون واجن کینراہ۔ تو پتہ یلہ  
وچھان اوس کانہہ شخصس اسلامس کن مائل سپدان اتی اوس امس کینرہ تس نش سوزان۔ تس کینرہ  
اوس ونان زہ کھیوان چاؤن یہ شخصس بیہ بوزہ ناؤن پن گیون تو پتہ اوس تس شخصس ونان وچھان چھہ  
حال۔ ژہ ونہہ متھہ جھا لطف کنہ تھہ یچھہ گن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو کن ناو دو ان چھہ۔ تم چھہ ونان نماز  
پر و، روزہ دار روزو، زو ژوڈونیس پتھہ چنانچہ اتھہ بیٹھ سپدیم آیات کریمہ نازل یمن آیات کریمن منز  
چھہ اللہ تعالیٰ ذکر کران تمئن شقین ہنز حالتھہ ہم پنہ جمالت و شقاوتہ مؤکہہ قرآن کریمہ نشہ اعراض  
کر تھہ نزن گیون لہو وعب تماشہ وچھن یابیہ واہیات وخرافات بوزنس منز مستغرق آس تم چھہ کوشش  
کران کہ بین لو کن تہ ڈالن یعنی کامین سیت مشغول کر تھہ خدایہ سندہ وینہ نشہ وینہ چن کھن بیٹھ چھہ  
ٹھٹھہ تہ مذاق کران حضرت حسن بصری چھہ فرماوان لہو الحمد یش متعلق کہ کس چیز ژہ ڈالی خدایہ سندہ  
عبادتہ نشہ مثلاً قصہ ونن یا بوزن ٹھٹھہ مسخری کران گیون تہ باجہ بوزن یہ سورے گو دو داخل لہو الحمد یش  
منز شان نزول سمہ آییہ کر میک اگر چہ خاص چھہ مگر حکم چھہ عام۔ کس لہو وعب یا بوسہ کام دین  
اسلامہ نشہ یا حکام اسلامو نشہ پتھر رنگ باعث سپدہ سہ چھہ حرام إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ بے شک سمولو کو ایمان اون تہ ژہ عملہ کر کیکہ تھندہ خاطرہ چھہ نعمون ہند جنت  
خالدین فیہا تمنن جنتن منز روزن ہمیشہ۔ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا یہ چھہ خدایہ سہ بوز وعداہ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأُفُقِ  
 فِي الْأَرْضِ رَوَايَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ  
 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ②  
 هَذَا خَلَقُ اللَّهِ فَارُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ  
 الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ③ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ  
 لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سہ پٹھہ غالب تہ حمتہ وول خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا تہ  
 پروردگار آن کر پیدہ آسمان تھو وراوی۔ اُس جُہہ تہ وچھان چھوہ وَالْأُفُقِ فِي الْأَرْضِ رَوَايَ أَنْ  
 تَمِيدَ بِكُمْ بیہ تھو تم ز مینس پیٹھہ بڈ بڈ کوہ لنگر ہی تھنہ سوز مین تو بہ لوکن ہتھہ یون کن نمہ ووتل جہہ  
 کرہ۔ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ بیہ تراون چھکرت اتھہ ز مینس منز پر ہتھہ قسمک جانور وَأَنْزَلْنَا مِنَ  
 السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ بیہ کور اسہ نازل آسمانکہ طرفہ رود تو پتہ کھار اسہ تمہہ  
 زمینہ منزہ پر ہتھہ قسمک نباتات جورہ جورہ۔ رت رت چیز هَذَا خَلَقُ اللَّهِ فَارُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ  
 مِنْ دُونِهِ نئے فرماو یو کہ اے لو کو یہ گیہ خدایہ سنز پیدائش۔ پس ہاؤ تو جُہہ مہ خدایس وراوی یم  
 معبودان باطل جُہہ مقر کران چھو کہ تمو کیاہ کور پیدہ تا اینکه یوزنہ ایہ ہاتھنز کیا زہ گوشہ پر ستش کرن  
 بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ بلکہ چھہ ظالم نہہ گمراہی اندر مبتلا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ  
 وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ بیہ کور اسہ عطا لقمن علیہ السلا مس گانہ  
 جار۔ سہ گو و علم و عمل تو پتہ فرموس اسہ کہ شکر دپ خدایس جھنزن سار نے نعمون پیٹھہ خصوصاً  
 خمس پیٹھہ یوسہ بڈ نعمت چھہ کیا زہ اُس خدایہ سنز شکر گذاری چھہ کران تس چھہ تمیک فاندہ پنہ نس  
 پانس۔ یعنی نعمس اندر زیادتی سپدن اُس کفران نعمت چھہ کران سہ چھہ پنہ لے نقصان کران۔ پس بے  
 شک اللہ تعالیٰ چھہ بے نیاز سہ چھنہ۔ محتاج کانسہ ہنزہ شکر گذاری کن۔ سہ چھہ حمد پندہ آمت۔ چو نکہ

حَمِيدٌ<sup>۱۲</sup> وَإِذْ قَالَ لِقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لِشْرِكٍ بِاللَّهِ  
 إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ<sup>۱۳</sup> وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ  
 أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِي عَامِيْنِ إِنْ أَشْكُرْتَ لِوَالِدَيْكَ  
 إِلَىٰ الْبَصِيرِ<sup>۱۴</sup> وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ

لقمان علیہ السلام آیہ رحمت عطا کرنے بس سپد ثابت کہ تم چھ حکیم سے دانائے متھس حیمہ سبز تعلیم  
 چھ قابل عمل۔ لہذا کرو بیان تہمز و تعلیم تو اندرہ کینہہ **وَإِذْ قَالَ لِقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لِشْرِكٍ بِاللَّهِ**  
**إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** بیہ یلہ لقمان علیہ السلام پنہ نس پچوس و عظ و نصیحت کران دُوب  
 گو براتھ چھ بیہ کہ شریک ٹھمر اوزنہ معبود برحقس عنہ قسمہ پز پاتھ تس شریک ٹھمر اون چھہ بوڈ ظلم  
**وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ** بیہ کوراسہ تاکیدی حکم انسانس ماس ماجہ ہندہ حقہ کہ پریتھہ حاس اندر  
 گرھہ تہند ادب سے رعایت ملحوظ تھاون۔ کیاہہ تمو چھہ اس بچہ سندہ خاطرہ واریاہ مشقت سے تکلیف تلمت  
 خصوصاً ماجہ چنانچہ **حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِي عَامِيْنِ** نمل یہ انسان تم سبزہ ماجہ پنہ  
 یڈ منز۔ ضعف پیٹھ ضعف سے تکلیف پیٹھ تکلیف برداشت کر تھہ نون ریتن۔ اکھ اوُس یڈ منز تلمک  
 تکلیف تو پتہ پرینک تکلیف، دود چاویک تلمہ تراونک تکلیف۔ راتس دوہس پنن آرام سے آسایش راوہ  
 ران اس لہ وان سے سلہ وان تو پتہ چھہ اس بچہ سندہ دود ترہ نگ مدت دون ورمن تام یمن دون  
 ورمن سے چھہ یہ موج اس چس مشفقانہ خدمت کران چھہ مال سند سے چھہ آسان اشتراک عمل۔ موج  
 چھس کو چھہ منزہ تراوان سے مول چھس تلان۔ مول چھس تراوان سے موج چھس تلان یم دوہ شوے  
 چھس لولہ متہ لائے کران۔ امی موکھ کوراسہ پنہ نین حقوقن سیت ماس ماجہ ہند حق ادا کرنگ حکم  
 اس انسانس پیٹھ **إِنْ أَشْكُرْتَ لِوَالِدَيْكَ** میہ فرمو اس انسانس کہ کر تھہ شکر گذاری۔ اکھ میان بیہ  
 کر زہ یہ شکر گذاری پنہ نس ماس ماجہ ہنز اللہ تعالیٰ ستر شکر گزاری گیہ عبادت و اطاعت سیت ماس  
 ماجہ ہنز شکر گزاری گیہ خدمتہ سیت بیہ تہمد حقوق ادا کرنے سیت **إِلَىٰ الْبَصِيرِ** پتولا کہ چھوے نش  
 واتن تمہ سائے تھہ دوومت آسیتھ تیتھہ لوکھہ باوجود ایچہ ماس ماجہ ہند حق تھہ سیشاہ بوڈ مگر توحید ک

بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَمُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ  
 سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  
 تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ يُبْنِيٰ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ  
 فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا  
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۱۶﴾ يُبْنِيٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَامْرُ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ط

مسلمہ وحتوتیتہ عظیم الشان کہ دِلان جہلداک علی ان تشریک بی مالیس لک بہ علم فلا تطعمہما ہر گاہ  
 تم دو شوے یا تمواندرہ اکہ مجبور کرے بہ شریک ٹھہراوئس پیٹھ سہ چیز تک نہ ڈہ خبرے آسی سہ کتھ  
 مان زہ نہ ڈہ کینہہ ہرگز وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا یہ کتھ ہتھ ضروری کہ دنیا کین ضروریاتن اندر  
 روزہ ڈہ تمن سیت رتہ طریقہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ دینہ کس معاملس اندر کچھ ڈہ تس شخصہ  
 سزہ وہہ ئس مہ ئن رجوع کرہ ون آسہ یعنی میانین احکامن پیٹھ عمل کرہ ون آسہ۔ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ  
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تو پیہ وحتوہ تو بہ سارنہ کائین ئن رجوع کرؤن۔ بو کر وہہ تو بہ سارنہ خبر  
 تمن سارنہ کائین ہنزیمہ تہہہ کران آسہ۔ لہذا مہ کر و تہہہ میانس ئنہ کھمس خلاف ائمہ پتہ چھہ بیان  
 کران۔ بیہ لقمان حکمہ یعنی لقمان صابن فرمو پتہ نس فرزندس يُبْنِيٰ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ  
 خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اے  
 میانہ فرزندہ اللہ تعالیٰ سند علم تہ قدرت چھہ تیوت کہ اگر کانہہ ہنز عمل آسہ آسہ دانس برابر مقدرہ  
 کن سوی آسہ کنہہ بڈس پلس منز کھٹھ تھاونہ آمژنہ آسہ آسمان اندر لوکن نشہ دور ٹنہ جایہ یا آسہ زمینس  
 منزل پاتال یوت نہ کانہہ تہ واتھہ ہیچہ مگر خدایہ سند شان چھہ کہ سمو ساروے پو شیدہ جایو منزہ  
 کڈتھ اتھ سہ قیامتک دوہ حملبجہ وقتہ امی اندرہ چھہ سپدان تم سند کمال علم تہ کمال قدرت ثابت پیشک  
 اللہ تعالیٰ چھہ سیٹھاہ بوڈباریک بین سارچی خبر تھاونہ ون۔ تس چھہ پور خبر گس چیز کتہ نس چھہ۔ يُبْنِيٰ

إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝۱۷ وَلَا تَصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا  
تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝۱۸  
وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاخْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ  
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝۱۹ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ تَأَنِي السَّمَوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ

آقید الصلوٰۃ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْتَهْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰی مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ  
عملن متعلق فرمونس یہ نصیحت کہ اے میانہ فرزندہ نماز تھا اور پاپ۔ نماز چھ اعلیٰ درج عمل یہ اس رٹن  
کامین ہند امر کران بین لوکن تہ یہ اس پچھ کامیونہ لوکن منع کران۔ اتھ منزئس تکلیفہ تہ مصیبتہ  
وآئی پرتھہ مصیبتس پیٹھ اس صبر کران۔ پزپاٹ یہ صبر کرن چھ ممتہ چوکامیوندرہ۔ وَلَا تَصْعِرْ خَدَّكَ  
لِلنَّاسِ اخلاق وعاداتن اندر فرموئس یہ مہ اس لوکن نہہ بٹھ پئن پھران تکبرہ سبہ وَا تَمْشِ فِي  
الْأَرْضِ مَرَحًا یہ مہ اس زمینہ پیٹھ پکان ڈالہ ماران تمہ غرور و تکبرہ سان کیازہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
مُخْتَالٍ فَخُورٍ بے شک اللہ تعالیٰ چھنہ پسند کران کانہہ مغرورس ئس تھ کان آسہ وَاَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ  
وَاخْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ یہ اس میانہ زوی کران پنہ ئس پئکس اندر تہ مہ اس دور تلٹھ پکان تہ چھہ  
اکھ وقارس خلاف یہ چھہ تھہ اندر ڈوب لٹکک خطرہ نہ مہ اس تول تول پکان یہ چھہ مخممرن ہنز چال۔  
یہ کرپست آواز پن کرکھ مہ اس لاگان۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ پزپاٹ آواز اندرہ چھہ  
پچھہ آواز کھرہ سنز آواز۔ چھہ اندر نہ کانہہ فاندہ چھہ۔ لہذا انسان آتھ مہ بن کھر حضرت عکر مہ تہ حضرت لیث چھہ  
فرماوان کہ لقمان علیہ السلام آس نبی۔ مگر حکیم ترمذی چھہ نوادرس منز مرفوع اکھ حدیث شریفہ پیش  
کران کہ لقمان علیہ السلام آئے یہ خلافت پیش کرنے داؤد علیہ السلامس بروٹھ مگر تمودوپ ہر گاہ  
حکم ہتھم تیلہ ہتھم منظور بسر و چشم۔ ہر گاہ میانہ مرضی موجب چھہ تیلہ ہتھس بہ معافی منگان چنانچہ پتہ  
آیہ سہ خلافت عطا کرنے چنانچہ یہ روایت چھہ در منثورس اندر۔ اکثر علماء چھہ فرماوان کہ حضرت  
لقمان چھہ آسمت حبشک روزن وال اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ تَأَنِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ

مَنْ يُجَادِلْ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿۳۰﴾ وَ  
 إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْبَغُ مَا وَجَدْنَا  
 عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿۳۱﴾  
 وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۳۲﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا  
 يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ

عَلَيْنَا نِعْمَ ظَاهِرٌ وَأَبْلَغُ نَذِيرٌ کیا تو بہ چھوہ نامشاہدہ سیت تہ دلیلو سیت یہ کتھ معلوم کہ اے اللہ تعالیٰ  
 ان چھہ بواسطہ یا بلا واسطہ کامہ لاگت مسخر تہ رام کرمت تہمتہ فاندہ خاطرہ تم ساری چیزیم آسمان بیہ  
 زمین منز چھہ۔ بیہ کرین پتہ نعمہ پورہ تو بہ پیٹھ۔ ظاہری بنتہ نعمہ تہ۔ تمہ نعمہ یمہ ظاہری حواسو سیت  
 ثینہ یوان چھہ باطنی تہ پوشیدہ نعمہ تہ یمہ نعمہ عقلہ سیت ثینہ یوان چھہ۔ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي  
 اللَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ باوجود آل چھہ لو کو اندرہ بعضی تم لو کہ تم بحث تہ ججوزہ چھہ  
 لاگان خدایہ سندس کن آسنہ کس معاملس اندر علمہ ورائے واقفیہ ورائے تہ کتہ دلیلہ ورائے بیہ کتہ روشن  
 کتابہ ہندہ حوالہ ورائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْبَغُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا تو  
 پتہ یلہ وننہ یوان چھہ تمن پیروی کرو تھہ خمس نُس اللہ تعالیٰ ان نازل کو رد پان چھہ نہ بلکہ گر واس  
 پیروی تھہ طریقس تھہ پیٹھ آسہ ہن مال بدبب عمل کران وچھہ اُولُو كَانِ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ  
 السَّعِيرِ کیا ہر گاہ ہندین مالین بد بین شیطان نادووان اوس تھہ گر ابی کن نُس نارہ کس عذابس موجب  
 اوس توتہ کرن نہ تم تہمز پیروی وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  
 الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ بیہ نُس اکھاہ پز یوک اتباع کر تھہ پُخر اوہ ہن پان معبود برحقس تھہ  
 حاسک منز کہ سہ آسہ رتہ کامہ کہ وہن ادہ تمی کر تھہ محکم رزہ۔ تمی کر زورہ تھہ مضبوط ہانکھہ۔ پتولا  
 کہ چھہ سارے کامہ تہ سارے کامین ہند انجام خدایہ سے نعرہ واٹن وول۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ

عَلَيْهِمْ بُدَاتِ الصُّدُورِ ﴿۲۳﴾ نَسَبْتَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَّضْتُهُمْ إِلَى  
عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿۲۴﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۵﴾ لِلَّهِ مَا  
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۲۶﴾ وَلَوْ أَنَّمَا  
فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ

کفرہ الینا مرجعہم فنیبہم بما عملوا ان الله علیہم بدات الصدور بیہ یم شخصن باوجود اس  
وضاحت کفرہ انکارے کور تہم کفرہ انکارمہ حض کرن توبہ غم گین تہ آزردہ اسی لشعہ چھہ واثن  
رجوع کرن تہن سارنہ۔ اس کرو کہ خبردار تم تموساروے کامیوسیت سمہ تم دنیاہس منز کران  
آس۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہجھہ پورزانان تمہ سارے کتھہ بیمہ ولن منز کتھہ تہ پو شیدہ ہجھہ باقی کامین ہنز  
ہجھہ کتھہ۔ نَسَبْتَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَّضْتُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ تمسح تلمناو کہ اس تم دنیاہس منز کم کینہہ  
کالاہ تو پتہ واتا دو کہ اس تم جبراً سخت عذابس اندریمہ منزہ نہ تم نیر تھے ممکن۔ یتھہ توحیدس کن اس  
تمن نادووان چھہ تمہہ چن ابتدائی بعض کتھن چھہ تم تہ پانہ تسلیم کران چنانچہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ہر گاہ جہہ یارسول اللہ تمن پر ژھو آسمان تہ زمین کم گور پادہ ضرور سن کہ  
اللہ تعالیٰ ان گور پادہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ جہہ دپو محمد یوسن خدا بس کہہ یہ کتھہ ہجھوہ توبہ فخرہ تران۔ یوسہ کتھہ  
زیادہ ضروری اس سوسہز جہندی اقرارہ سیت ثابت دویم کتھہ یوسہ اتھہ سیت لازم آس کہ کس چیز  
مخلوق تہ پادہ کرنہ آمت آسہ سہ بیجیا معبود آستہ۔ یہ ہجھوہ نہ تگان زانن بیہ چھوہ نہ تران فخرہ بل  
اَکْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مگر تمواندرہ ہجھہ اکثر لو کہ تمن نہ ایشہن تہ زانن تگان ہجھہ خدا یہ سہد شان ہجھہ یہ  
کہ یتھہ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ خدا یہ سہد ہجھہ تہ سورے یہ آسمان تہ زمین  
منز ہجھہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہجھہ بدات خود تہ بے نیاز۔ سارنہ تعریفن سزاوار۔ سی ہجھہ سزاوار  
الوہیت۔ تمسز خوبیہ تہ تعریف ہجھہ تیت کہہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ

سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۷﴾  
 مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۲۸﴾  
 الْمَثَرَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ  
 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ اللَّهَ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۹﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ

بَعْدًا ۳ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۳ بیہ ہر گاہ تمن سارے کلین ہم تمام روی  
 زمینس پیٹھ چھہ تمن ین بدانہ قلم سونب حصہ تو پتہ آسہ سمندر میل لیکنہ خاطرہ سیاہی اکہ سمندرہ  
 پتہ ستہ وے سمندر تموے قلمو سیت یتہ تی میلہ سیت ین لیکنہ اللہ تعالیٰ سہ کلمات یعنی تمہ تھہ یمو  
 سیت تہندہ کمالات سن پھر نہ۔ ہم ساری قلم یتہ یہ سارے میل گھوہ ختم مگر تمہ تھہ گوہن نہ ختم ہممو  
 سیت تم کمالات بیان ین کرنہ بیشک اللہ تعالیٰ چھہ غالب سینٹاہ حمتہ وول۔ سہ چھہ قدرتس اندر یتہ  
 کامل علمس اندر یتہ کامل۔ تہنزے قدرت گیہ کہ سارے کرہ بیہ پادہ ہتھہ نافہم لوکھ دشوار زانان چھہ  
 حالانکہ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً اے لو کو تو بہ سارے ہند گوہ پادہ کرن بیہ مرت دوبارہ  
 زندہ کرن چھہندہ خدایس نشہ مگر تیتھہ تھہ اکس شخصہ سند ہو پادہ کرن چھہ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ بے شک  
 اللہ تعالیٰ چھہ سورے بوزہ ون سورے وچھہ ون سہ دیہ مرنہ پتہ بیہ زندہ گھہنہ کین مکنر ضرور  
 سزا۔ الْمَثَرَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ  
 آجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ کیاہ وچھان چھہ کھاثرہ اے وچھہ ونہ کیتھہ قدر یتہ وول چھہ سہ۔  
 سوئی چھہ راژ ہندس اکس حصس دوہہ کس حصس منزواتہ تاوان بیہ دوہ کس حصس راژ ہندس حصس  
 منزواتاوان بیہ تھاوتی آفتاب یتہ زون کامہ اندر لاگتہ۔ سمودو یواندرہ چھہ پریتھہ اکھاہ پکان تھہ و قس  
 تان نیس تہندہ خاطرہ مقرر کرنہ آمت چھہ۔ یعنی قیاس تان۔ بیہ چھو تاوہہ معلوم کہ اللہ تعالیٰ چھہ یتہ  
 سورے زانان بیہ تہہ کران چھوہ توہہ چھانمان زہ تہنزہہ شرکچہ کامہ کیا آسن تھہ نشہ پو شیدہ۔ سہ کیا دیہ نہ



مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ  
 الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ نَبَعْتَ اللَّهُ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي  
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ أَخَشِيَهُمْ مَوْجًا كَالظَّلِيلِ  
 دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ  
 فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝

توہمہ اتھ پیٹھ سزا ذلک بیان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان اللہ هو العلیٰ الکیبر  
 یمہ تھ یعنی آسمان پادہ کرن دوه ہر راتھ آکھ اس منروا تہ تاون آفتاب تہ زون کامہ لائن چھہ خاص اللہ  
 تعالیٰ سے یمہ موکھ کہ اللہ تعالیٰ ای چھہ پنہ ہستی تہ وجودس منز کامل سے چھہ واجب الوجود۔ لوکھ  
 تمکن چیزن ہنز پرستش کران چھہ تس وراے تم چھہ باطل۔ یمہ چھہ اللہ تعالیٰ ای عالی شان، تھودہ  
 بوڈ۔ تھندس تھرس تہ بجز واتنہ کہنے اَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ نَبَعْتَ اللَّهُ کیا ای  
 مخاطب تہ پٹھے ناتوحیدج یہ دلیل معلوم کہ بے شک جہاز تہ ناوہ چھہ پکان دریاون اندر خدا یہ سندی  
 فضلہ سیت لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ تھہ سہ توہمہ ہاوہ پنہ قدر تک نشانہ پز  
 پاٹ اتھ منز چھہ قدر تک۔ بڈ نشانہ صبر تہ شکر کہہ ون سندہ خاطرہ یعنی با ایمان ہندہ خاطرہ تے چھہ  
 مؤجن ہندہ ووتھہہ وقتہ صبر کران جہاز یا ناوہ بوٹھ لکھہ وقتہ شکر دپان وَإِذْ أَخَشِيَهُمْ مَوْجًا كَالظَّلِيلِ  
 دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ توپتہ یلہ تمن کافر ان سمندر ک موج تھود گھست سایہ بان ہند پاٹھے  
 ولدہ یوان چھہ تمہ ساتہ چھہ منگان خدا بس بندگی خالص تھندی خاطرہ امانت اعتقادہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى  
 الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ تمہ پتہ یلہ اللہ تعالیٰ تمن نجات دتھ  
 بھٹس تل واتاوان چھہ تمو منزہ چھہ بعضے در میان حالس پیٹھ روز تھ خدایہ سندیاد کران۔ یعنی شکر  
 تراوتھ تو حید اختیار کران مگر بعضے چھہ بالکل ساینن آیتن مشراوتھ ساینن قدر تہ کین نشانن انکار  
 کران۔ مگر تے لوکھ یم غدار تہ تھران نعمت کہہ ون چھہ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ  
عَنْ وَاوَلَدٍ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارِعٌ عَنْ وَاوَلَدٍ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ  
اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرِبْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبْكُمْ بِاللَّهِ  
الْغُرُورُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَ  
يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ عَدًّا ط  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۙ ۴۷

لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَاوَلَدٍ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارِعٌ عَنْ وَاوَلَدٍ شَيْئًا اے لو کو کھوڑو پروردگار سے نہ پس پتہ روز و تہمتہ نہافرمانی نغمہ بیہ شرک و کفر نغمہ بیہ کھوڑو تھہ دوہس یمہ دوہہ نہ کانہہ مولاہ جواب بیہہ و تھہ۔ عذاب پتہ بیہہ رتھہ پنہ نس پنچوس نغمہ نہ بیہہ کانہہ پنچواہ پتہ رتھہ پنہ نس ماس نغمہ کتھمک عذاب یہ دوہہ پنچہ یوہ ون ضرور۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ ان پنچہ امیک وعدہ کورمت اِن وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ پز پانچہ اللہ تعالیٰ سند وعدہ پنچہ حق نہ پوز تو اوس نہ عذابس متعلق فَلَا تَغْرِبْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ پس پنچہنہ دھوکہ دیہ توہہ دنیا عجز زندگی پتھہ سیت مشغول روز تھہ سپدو غافل تہہ دوہہ نغمہ بیہ پنچہنہ خدا یہ سندہ حقہ توہہ دھوکہ دیہ شیطان فریب باز نہ دھوکہ باز اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ عَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۙ بے شک اللہ تعالیٰ سے پنچہ قیامج خبر کہ سوگر سپدہ واقع بیہ پنچہ سنی رود تراوان بیہ پنچہ تس خبر اسباب و آلاتن ہندہ واسطہ ورائے کیاہ پنچہ زنانن ہنزن شکمن اندر کور چھکانہ پنچوہ بیہ پنچہنہ خبر کانہہ شخصس پگاہ گوسہ کام کرہ بہ بیہ پنچہنہ خبر کانہہ شخصس تھہ جایہ منزمرہ کہہ وقتہ بے شک اللہ تعالیٰ پنچہ سورے زانہ ون تس پنچہ سارنے چیزن ہنز پور خبر۔

## سُورَةُ الشُّجُرَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 ۱ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَأَرِيْبَ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝۲ اَمْ يَقُولُوْنَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اَتَتْهُمْ مِنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝۳ اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۝۴ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّالَا شْفِيْعُ

اللہ تم چھ حروف مقطعات۔ یمن ہند معنی زانہ پانہ خدا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَأَرِيْبَ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ یہ کتاب یعنی قرآن مجیدہ کس نازل سپد نس منز چھنہ کانہہ شکھاہ کیے چھ نازل سپدان رب العالمینہ سندہ طرفہ اَمْ يَقُولُوْنَ افْتَرَاهُ کیاہ مکر چھاوانان یہ ہتھہ پائے بلہ ٹھہر وومت حضرت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تہندون ہتھہ بالکل غلط۔ یہ ہتھنہ کانہہ بنوومت بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اَتَتْهُمْ مِنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ بلکہ ہتھہ یہ کتاب پز پاٹ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ نازل سپز مژتھہ تہہ امہ سیت تیم کروپروردگارہ سندہ عذابہ نشہ تمن لوکن یمن گن نہ توہمہ بروٹھ کانہہ پیغبراہ تیم کرہ ون آمت چھہ دیوہ تم لوکھ راہ راستس پیٹھین اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ اللہ تعالیٰ گوسئی ذات پاک تیم آسمان تہ زمین بسیہ تم مخلوقات تیم تمن دون منز باگ چھہ پادہ کر شین دون ہندس مدتس اندر۔ توپتہ سپد مستوی عرش پیٹھہ تمہہ طریقہ تیس تہندس شانس سزاوار تہ لائق ہتھہ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّالَا شْفِيْعُ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ سہ چھہ تیتھ بوڈتہ عظیم الشان کہ تہندہ رضاتہ اجازتہ وراے چھنہ تہند

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۵﴾ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ  
 يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿۶﴾  
 ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿۷﴾ الَّذِي أَحْسَنَ  
 كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿۸﴾ ثُمَّ جَعَلَ  
 نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿۹﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ  
 رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا

کانہ مددگار اہنہ کانہ سفارش کرہ وناہ البتہ تہنہہ اجازتہ سپہہ شفاعت۔ مگر نصرت و مددس متعلق  
 آسہ نہ اجازتہ۔ بس کونہ چھوہ نصیحت رتان کہ تنھس ذات پاکس بیجا شریک آستہ **يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ  
 السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ** سنی خدا چہہ نبجہ کہ آسمانہ  
 پیٹھ زمینس تام بیمہ کامہ چہہ تمن سار نے ہند تدبیرتہ انتظام کرہ و ن چہہ سنی۔ تو پتہ ین ساری معاملہ تہ  
 سارے کامہ تس بروٹھ کُن پیش کرنہ تہہ دوہس اندر سمہ ذہک مقدار تہنہہ گزرنہ موجب اکھ ساس  
 وری آسہ یعنی قیامتگ دہہ **ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ** سنی خدا چہہ زانہ و ن تہ  
 سورے کھٹھ چہہ بیہ یہ نون چہہ سیٹھاہ غلبہ و ول زبردست سیٹھاہ رحمتہ و ول **الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ  
 شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ** یم پروردگار ن سیٹھاہ رُت کور پر چہہ چیز اہ بیہ کور تم ابتداء  
 انسانہ سنزہ پیدا نشہ ہند میوہ نشہ **ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ** تو پتہ کرن پادہ تہنہہ نسل  
 تہ اولاد پتہ منزہ کلڈنہ آمتہ بے قدر ضعیف آبہ قطرہ نشہ۔ **ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ  
 لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ** تو پتہ کورن ماجہ ہندس سٹھس منز تہنہہ بدن  
 برابر۔ تو پتہ واتہ نوون تہہ منز بھو کھ دتھ پنن روح۔ بیہ کرن پادہ تہنہہ گن بوزنہ خاطرہ بیہ اچہہ  
 وہچنہ خاطرہ۔ بیہ دل زانہ خاطرہ۔ یم ساری چیز سموسیت تہنز کمال قدرت ثابت سپدان چہہ اس  
 میگان تہنز شکر گذاری کرین مگر سیٹھاہ کم چھوہ تہہ تہنز شکر گذاری کران **وَقَالُوا آءِذَا ضَلَلْنَا فِی**

تَشْكُرُونَ ① وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي  
 خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ⑩  
 قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ  
 تُرْجَعُونَ ⑪ وَكَوْتَرَىٰ إِذِ الْمَجْرُمُونَ نَاسُوا وُجُوهَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ  
 رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ⑫ وَ  
 كُوشِنَا لِآلَتِنَا كُلِّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي

الارض اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ قیامت کیانک مگر چھ دنان کیاہ یلہ اس میرہ سیت میرگہو کیاہ اَسہ  
 چھانوپادہ سپدن بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ایم چھنہ مرنہ پتہ بیہ زندہ سپدہ نَسے یوت عجائب  
 زانان۔ بلکہ چھ یم پنہ نس خدانس سیت ملاقات کرہ نَس سے تس بروٹھ کن حاضر سپدن سے مگر قُلْ  
 يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ نُهہ فرما یو کہ یار رسول اللہ توہہ چھنہ  
 معدوم سپدن بلکہ کڈہ تہندین روحن ملک الموت اُس خدایہ سدہ طرفہ مقرر کرنہ آمت چھہ۔  
 تہند روح کڈنہ خاطرہ۔ تو پتہ ایوتہہ واتا ونہ پنہ نس پروردگار س نغہ سہہ دیوہ عملن ہنز مزور۔ رژن  
 ہنز رژے پتھن ہنز پتھس وَكَوْتَرَىٰ إِذِ الْمَجْرُمُونَ نَاسُوا وُجُوهَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ہر گاہ نُهہ وچھو کہ یم  
 نافرمان تھہ پاٹھہ آسن قیامتک دوہ کلہ یون کن تراوتھ پنہ نس خدایس بروٹھ کنہ سخت شرمندگی اندر  
 نُهہ وچھو تہند عجیب حالہ ونان آس رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ای  
 سانہ پروردگارہ اَسہ وچھہ تہ تھہ اس انکار کران اس بیہ بوز اَسہ تہ سورے تھہ نہ اس کن تھوان اس  
 سانہ اچھہ تہ کن آے مشروانہ معلوم سپد کہ یہ کیڑہاہ پیغمبر فرماوان اس تہ سُورِی اُوس پوز پس سوز کھنا  
 ژہ اَسہ بیہ دنیا س کن اس کرہ ہونے تہہ رژہ عملہ بیشک چھہ اس دو نے پور یقین کرہ ون۔ مگر یہ  
 تہند ون اَسہ تہہ بالکل بیکار وَكُوشِنَا لِآلَتِنَا كُلِّ نَفْسٍ هُدَاهَا ہر گاہ اَسہ منظور اَسہ ہا س کرہ ہو پرتھہ  
 شخص س ہدایت دنیا س اندر ایما س تہ رژن عملن کن وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلِكَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۷﴾ فَذُوقُوا بِمَا  
 نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا  
 كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا  
 سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۹﴾ تَتَجَافَى  
 جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا  
 رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۲۰﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ مگر میان تہہ چہہ ازلی تہ لقدیری یوسہ میہ از لکہ دوہہ وار بہو حکمو موجب  
 محقق سہ۔ مژ چہہ کہ ضرور برن تہ ہر کرن بو جنم جو تہ انسا نو سیت۔ یم کافر اس یکہ و تہ۔ وون بیلہ  
 تہند و نیاء س کن گوٹن نامکن چہہ لہذا بیہ تمہن و نہہ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَكُمْ  
 وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وون تہ ہو تہہ سمیک مزہ کہ توہہ اوسوہ ناہن چہہ دوہس منز  
 سمکھن مژ وومت آسہ تہ مژ اووہ تہہ کیازہ رحمتہ نشہ کرووہ آس تہہ محروم۔ وون تہ ہو ہمیشہ گی ہند  
 عذاب کیازہ تہہ آسوہ ناترہ ہے کامہ کران اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا  
 بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ایمان ان نہ سائین آیاتن مگر تے لو کہ تمہن یکہ تم آیاتن تہیس  
 پاوہ چہہ یوان و عطا و نصیحت چہہ کہ نہ یوان متاثر سپد تہہ چہہ تم سجدس منز چہہ پنہ نس خدایہ سُد پیاکی  
 حمد و ثنایا کران۔ بیہ چہنہ تم ایمان آنہ نشہ عنہ قسمہ حکمر تہ غرور کران تہہ پاٹھ کافر چہہ حکمر کران یہ  
 گو تہہدہ اعتراف حال امہ پتہ چہو بیان تہندین اعمالن ہونہ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ  
 يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ایمان ان نہ سائین آیاتن مگر تے لو کہ تہنہ  
 لرہ و تہر نیو نشہ خشن نماز تہ تہدیج نماز پر نہ خاطرہ تمہ علاوہ چہہ منگان تم پنہ نس پروردگار س آلودی  
 دی عذابہ خوفہ تہ ثوابچہ امیدواری سان بیہ چہہ تم تمہ مالہ منزہ نس اسی عطا کور مت چہہ خرچ کران  
 خدایہ سزہ و تہ اندر فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ نس چہنہ

اَعْيُنٌ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ  
 فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿۱۸﴾ اَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ  
 جَنَّاتُ الْمَأْوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ وَاَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا  
 فَمَا لَهُمْ اِلَّا النَّارُ كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوا فِيْهَا وَ  
 قِيْلَ لَهُمْ دُوْعُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِى كُنْتُمْ بِهٖ تُكذِّبُوْنَ ﴿۲۰﴾  
 وَلَنْدِيْقَهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ

کانسہ اکس خبر تمن چیزن ہنزیم کھٹھ تھاونہ آمت چھ تہندہ خاطرہ غیبہ کس خزائن اندر سمو چیز وسیت  
 تہزہ اچھ شہلن تھے چیز آسن رٹمزور تہندہ خاطرہ تمن رٹن عملن ہنزیمہ تم کران اس دنیاء س  
 اندر اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ کیا نئس شخص با ایمان آسہ سہ چھا برابر نئس  
 شخص نئس نا فرمان تہ کافر آسہ۔ نہ ہرگز جھنہ سم زہ برابر اَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ  
 جَنَّاتُ الْمَأْوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس گے تم لوکھ سمو ایمان اُون بیہ کرکھ رٹہ عملہ تہندی  
 خاطرہ جھ روز نگ باغ بطور پیش کشی۔ تھہ پاٹ مہمان عزیزن چھہ تھیس تھیس چیز بکمال احترام پیش  
 کرنہ یوان تھہ پاٹھ نہ تھہ پاٹھ سائیل تہ محتاجس بے قدری تہ بے وقعتی سان دنہ یوان تھہ۔ تمن عملن  
 بدل یمہ تم کران آس دنیاء س اندر وَاَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا لَهُمْ اِلَّا النَّارُ كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوْا  
 مِنْهَا اُعِيْدُوا فِيْهَا وون سمو لوکھ نا فرمانی تہ کھر کور تہندہ روز نچ جائے تھہ نار جہنم۔ تھہ اندر واتھہ یلہ  
 یلہ تم تھہ منزہ نیرنک خیال آسن کران۔ بیہ آسن تھہ منز واپس واتاونہ یوان وَقِيْلَ لَهُمْ دُوْعُوْا  
 عَذَابَ النَّارِ الَّذِى كُنْتُمْ بِهٖ تُكذِّبُوْنَ وونہ آسکھ یوان تہ ہومزہ تھہ نار جہنمک تھہ تھہ انکار آسوہ  
 کران وَلَنْدِيْقَهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْاَدْنٰى دُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ بیہ تھہنا  
 ووکھ اس تم ہونجہہ درجک عذاب دنیاء س اندر قیامتہہ بڑہ عذاب برو تھہ دیو تم پائس پین کھرہ تہ کھر کہ  
 نعرہ ہوت پھیرن۔ تھین لوکن ہند عذابس گرفتار سہن چھہ عجائب کتھاہ کینہہ تہ کیا زہ وَمَنْ اَظْلَمُ

الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۶۱﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ  
بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿۶۲﴾  
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ  
مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۶۳﴾ وَ  
جَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِنَبْلُوَهُمْ أَهْلًا  
كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿۶۴﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ

مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ کوہ اکھاہ چٹھہ یز ظالم تس  
شخصہ سندہ خونہ کس وعظ و نصیحت آیہ کرنہ پنہ نس پروردگارہ سندہ آیاتوسیت توپتہ پھیر تم بٹھ تمو آیاتو  
بشہ لہذاکیاہ غبہ چٹھہ تہندس مستحق عذاب آسند اندر۔ ضرور ہموسا تمن نافرمان انقام۔ تہہ روزو  
مظنن یارسول اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى  
لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ بے شک امہ کر عطا تہندی پاٹھ موسیٰ علیہ السلام کتاب (تورات) یمہ کس  
اشاقس اندر تمن تکلیف برداشت کرن پیو۔ تھے پاٹھ کر امہ تہ توبہ کتاب عطا امہ کس اشاقس اندر چھو  
توبہ تہ تکلیف برداشت کرن۔ نس مہ روزو تہہ شمس تہ ترددس اندر امہ کتابہ ہندس عطا سپد نس اندر۔  
اتھ منز چھنہ کانہہ شک تہ غبہ یامہ کر و تردد موسیٰ علیہ السلام سیت در شب معراج ملاقات کرہ نس  
اندر توبہ کوروہ حقیقتہ پاٹھ تمن سیت ملاقات سہ کانہہ نظر بندی یا خیالی ملاقات اوس نہ بیہ کر امہ سوب کتاب  
یعنی توراہ بنی اسرائیل ہندہ خاطرہ سبب ہدایت تھے پاٹھ سپدہ تہنزہ کتابہ سیت تہ وارینن لوکن ہدایت تہہ  
روزو خوش وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِنَبْلُوَهُمْ أَهْلًا كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ بیہ  
کر امہ بنی اسرائیلو اندرہ واریاہ پیشوا۔ یم و تھ ہادان آس لوکن سانہ حکمہ موجب یلہ تمو صبر کور مبحر  
بن ہندین تکلیف پیٹھ بیہ آس تم سائین آیاتن پیٹھ یقین کران امہ سیت چھہ تسلی با ایمان کہ یلہ تم تہ  
اشاعت قرآنس پیٹھ صبر کرن تم تہ کرو کہ اس دنیا کہ امام تہ پیشوا بیہ گوو دنیا کہ اعتبارہ تسلی



يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۳۵﴾ أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ  
 كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَيشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفلا يَسْمَعُونَ ﴿۳۶﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ  
 الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ  
 أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفلا يُبْصِرُونَ ﴿۳۷﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى  
 هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بے شک تمہند  
 پروردگارے کرہ فیصلہ بنی اسرائیل منتر قیامتک دوہ تمہن سارے تمہن اندر تمہن منتر تم اختلاف کران  
 آس۔ سہ فیصلہ گوویوہے کہ باایمان و اتاوہ جنس اندر۔ کافر و اتاوہ جنس اندر۔ اَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ  
 كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَيشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ أَفلا يَسْمَعُونَ کیا  
 تمہندین دشمن یعنی مکہ کین کافر کرہ نار ہنمائی یہ تھہ کہ کاتیاہ لوکہ کر اسہ تمہن برو تھہ ہلاک گھر و انکارہ  
 سببہ اہندیو مکا نو تہ شہر و منزہ چھنہ تم آرتہ شہر شامہ کس سفر س اندر یوان گڑھان تمو جابو منزہ  
 گذران۔ پز پانٹھ اتھہ منز چھہ صاف صاف نشانہ یمہ تھہ ہند کہ اللہ تعالیٰ چھہ گھر س تہ کافر شر گس تہ  
 مؤخر کن پیٹھہ بیزار کیا تم چھنا تمہن تباہ و برباد گاتین لوکن ہند حال بوزان وون تمہن  
 شہہ چھہ قیاس تہ مرنہ پتہ بیہ زندہ سپدس متعلق اَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ  
 فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفلا يُبْصِرُونَ کیا تم چھنا و چھان کہ اس چھہ  
 خشک زمینس کن آب و اتہ ناوان دریا و ان ہند یا بارانک تمہہ پتہ چھہ اس تمہہ سیت سہ زراعت کھاران یمہ  
 منزہ تہند چار پابیہ تم پانہ تہ کھیوان چھہ۔ کیاہ تم لوکہ چھنا اتھہ سانس کمال قدر تس کن روز مرہ و چھان۔  
 تھہ پانٹھہ کیاہ کرو کہ اس مردہ بیہ زندہ۔ تو پتہ کڈو کہ زمینہ منزہ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ

# الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْمَانَهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۲۹﴾ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَانْتَظَرِ إِنَّهُمْ مُنْتَضَرُونَ ﴿۳۰﴾

صِدِّيقِينَ تم کافر چھہ ونان کر آسہ بیمہ فیصلک دوه ہر گاہ تہہ پوزونہ ون چھوہ **قُلْ يَوْمَ الْقِيَامِ لَا يَنْفَعُ**  
**الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْمَانَهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ \* فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَانْتَظَرِ إِنَّهُمْ مُنْتَضَرُونَ** فرما دیو کہ  
 یار سول اللہ فیصلہ کہ دوہہ دیہ نہ کانہہ نفع تہ فاندہ تہن کافرن پڑھ کرن تہن: بیہ نیہ نہ تہن تمہہ دوہہ کمنہ  
 قسمہ مہلت ونہ تہن پھرو تہہ روی مبارک تہن تہن نشہ یار سول اللہ۔ تہن تہن تہن ہندمہ کرو تہہ کانہہ  
 خیالہ بیہ کرو تہہ خدایہ سندہ حکم تہ فیصلک حقہ انتظار بیشک تم تہ چھہ تہہہہ تکلیف و ضرر ک انتظار  
 کران۔



## سُورَةُ الْأَحْزَابِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنْ  
اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۱ وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۲ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ  
وَكِيلًا ۝۳ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جُوفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ای پیغمبر خدا تہ  
کھوڑو حض خدا بس بیہ مہ کھوڑو کا نہ۔ کافر ن ایم ن پاٹ و نیس خلاف چھہ بیہ منافقن ایم کافر ن سیت  
منفق چھہ تہندس ونہ نس مہ ہز کرو اعتبار۔ تہزہ تھہ مہ حض مانوبہ شک اللہ تعالیٰ چھہ سوروی زانہ ون پور  
حکمہ دول۔ تہند ساری حکم چھہ فاندہ سیت برت وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنْ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا تہہ پھو تھی حکمہ موجب بس توبہ کن وحی سوزنہ یوان چھہ، تہندس پروردگارہ سیدہ طرفہ ای  
لو کو پڑپاٹ اللہ تعالیٰ چھہ پور زانان تہ سورے یہ تہہ کران چھوہ توبہ اندرہ بس اکھاہ سانس پیغمبرہ سنز  
مخالفت کرہ تمس سیت انزراو اس پانے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا بیہ کرو توکل خدا بس  
پیٹھ۔ پس چھہ اللہ تعالیٰ تہزہ کام پورہ کرہ ون۔ اتھہ مقابلہ بھہ نہ چلتھہ تمن لوکن ہند کانہہ تدبیر۔ محنتہ  
پھو حقیقی پھو زان تو پتہ تمسزہ طلاق ونہ آمزہ زانہ سیت نیتھر کرہ نس پیٹھ طعنہ زنی کرن اوس تیتھے غلط  
چیزہ مشہور، تھہ پاٹھ پندہ آئینہ موج ون یا ماجہ سیت تشبیہ و نس پیٹھ نکاح ژھین اوس خیال کرنہ یوان  
پاہر گاہ کانہہ شخصہ اوس سیٹھاہ ہشیار تہ عقلمند آسان دپان آس امس چھہ زہ دل سینس منز بین ترشون  
تھن ہند اصلاح کور اللہ تعالیٰ ان فرموون مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جُوفِهِ ۚ واقص منز کرنہ  
اللہ تعالیٰ ان کانہہ ہندس سینس منز زہ دل بیدہ تھہ پاٹھ فرموون وَمَا جَعَلَ أَدْوَابَكُمْ إِلَىٰ أَنْ تَنْظُرُوا

أَزْوَاجِكُمْ إِلَىٰ تَظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ  
 أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ  
 يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ۳۱ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ  
 فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَ  
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَدَّتْ قُلُوبُكُمْ  
 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ

مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ بے کرہنہ اللہ تعالیٰ اُن تہنزه زنانہ یمن سیت تمہ ظہار چہوہ کران یعنی پنہ نین محرماتن  
 سیت چہوہ کہ تشہبہہ روان تمہ چہنہ سپدان تہ کر نہ سیت تہنزه ماجہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ بیہ پاتھ  
 کر نہ اللہ تعالیٰ ان تہنہد محکمہ پتو حقیقتا تہنہد پتوے ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ بے کتھ تہنزه ہہ چہہ صرف  
 تہنہد یو چائید و منہ یوان۔ یمن نہ واقعس سیت کانہہ مشابہت چہہ بلکہ چہہ غلط تہہ چہنہ کانہہ واقعی امرہ  
 سپدان۔ لہذا محکمہ پتوے سزہ طلاق و نہ آمرہ زنانہ سیت نکاح کرنس پیٹھ طعن و تشنیع کرن چہہ محض  
 جمل وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ اللہ تعالیٰ چہہ پرتہہ فرماوان۔ سنی چہہ سیز و تہہ  
 ہاوان۔ چنانچہ سمن ترین غلطین ہند اصلاح کور اللہ تعالیٰ اُن یل نہ تم واقعس منز تہنہد پتو چہہ۔ بس مہ  
 آسوتہہ تس محکمہ مال سند پتو وان اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ محکمہ پتوین آسوتہہ  
 نادووان پنہ نین حقیقی مالین کن نسبت کرت سؤی چہہ زیادہ انصاف چہہ خدایس نیشہ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا  
 آبَاءَهُمْ فَاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ہر گاہ نے توبہ معلوم آسن تہنہد مال تلہ گئے تم تہنہد دینی  
 ہای آستھہ بیہ گئے تم تہنہد دوست تہ رفیق۔ تمی مناسبتہ آسو کانہہ موزول لفظہ استعمال کرت تمین  
 آلودوان وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ توبہ چہنہ کانہہ قصور ہر گاہ تہہ آتھ منزئہ وقتہ  
 و شفعہ گروہہ وَلَكِن مَّا تَعَدَّتْ قُلُوبُكُمْ ہر گاہ تہہ زانتھہ کرتھ عمد او قصد آتھہ چیز کریو تیلہ چہہ گوناہ۔  
 ہر گاہ تمہہ گونہہ نیشہ توبہ تہ استغفار کرو۔ تھہ کر وہ اللہ تعالیٰ مغفرت۔ کیا زہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَأَمْهَاتِهِمْ وَأُولَ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى  
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ  
تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿۶﴾  
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمَنْ نُؤْمِرْ بِهِمْ  
وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿۷﴾

اللہ تعالیٰ چھ سیٹھاہ مغفرت کرہ دن سیٹھاہ رحم کرہ دن اَللّٰہِیُّ اَوْلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ پیغمبر برحق چھ زیادہ تعلق تھاوان باایمان سیت تہند یوپانو خوتہ کیاہہ شخصہ سندان ہر گاہ پیچھ آسہ تیلہ چھہ ظاہرے کہ سہ چھہ بد خواہ اسند۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم چھہ خیر خواہ باایمان ہندہ خاطرہ ہمیشہ رت یشھان۔ ہر گاہ شخصہ سندان جانے آسہ توتہ ماہتھہ تمس خبر سارنے چیزن ہنز تھہ تھہ منز چھہ تمس نفع تہ فاندہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہن چھہ اللہ تعالیٰ ان سارنے مفید تہ نافع چیزن ہند علم عطا کورمت۔ بہر حال تہندہ طرفہ چھہ نفعی نفع۔ لہذا چھہ تہندی حق پانہ خوتہ تہ زیادے۔ تمی موکھ گڑھن تھے زیادہ ٹاٹھ آس قبیلہ کرانہ خوتہ ماس ماجہ ہندہ خوتہ بلکہ پندہ پانہ خوتہ تہ۔  
وَأَزْوَاجَهُمْ تہند ازواج طاہرات چھہ باایمان ہنزہ والدہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہند معنوی بابہ صاب آس چھہ لازم کہ تہند ازواج طاہرات گڑھن آسہ باایمان ہنزہ معنوی والدہ وجوب <sup>تظہیر</sup> اندر <sup>تظہیر</sup> وَأُولَ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ بیہ چھہ باایمان ہند قریبی رشتہ دار اڈاؤین زیادہ حقدار وراثتس اندر <sup>تظہیر</sup> فِي كِتَابِ اللَّهِ خدایہ سنزہ کتابہ اندر یعنی تہندہ شرعی حکمہ موجب <sup>تظہیر</sup> مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ باایمانو خوتہ بیہ مہاجر خوتہ <sup>تظہیر</sup> إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفًا مگرے تہہ پنے نین دوسن نسبت کانہہ احسانہ کرو تھہ چھہ کانہہ حرج یعنی بخشائیشہ پاٹھے یا وصیتہ پاٹھے دیو کینہہ چیزہ تہن <sup>تظہیر</sup> كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا یوہے حکم چھہ لوج محفوظس اندر لیچھہ آمت یعنی وراثت چھہ رشتہ دار نے اندر جاری کرن <sup>تظہیر</sup> وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ

## لَيْسَ الصُّدِيقِينَ عَنْ صُدُوقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودُ

وَمِنْ ثَمَرِهِمْ وَأَبْرِهِمْ وَعُوسَىٰ وَعُيَسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآخِذُوا بِمَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَافَهُوا

بہ چھ سہ وقت قابل ذکر  
یہ اسہ روٹ عہد پیغمبر ان نشہ خاص کرت توہہ نشہ یار رسول اللہ۔ بیہ نوح علیہ السلام نشہ بیہ ابراہیم  
علیہ السلام بیہ موسیٰ علیہ السلام بیہ عیسیٰ علیہ السلام بیہ مریم علیہا السلام سند فرزند چھہ۔  
تھہ کھہ پیٹھہ کہ ہنگی کرو خدایہ سنز۔ بیہ دیو لوکن تہ ناد تہنزی ہنگی تہ عبادتس کن۔ یوہے عمد روٹ  
آسہ تمن نشہ مضبوط عہدہہ لَيْسَ الصُّدِيقِينَ عَنْ صُدُوقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا تھہ اللہ  
تعالیٰ تحقیقات کرہ قیامت دوہ پزیرا بن نشہ یعنی پیغمبر نشہ تھہندہ پز یوک یمہ سیت تھہند شرف ظاہر  
سپدہ بیہ سپدہ ہجت تہ دلیل قایم مکنر پیٹھہ امی اندرہ سپد ثابت صاحب وحمس پیٹھہ چھہ واجب  
وحمس اتباع کرن۔ صاحب وحمس وراوی یم چھہ تمن پیٹھہ چھہ واجب صاحب وحی سند اتباع تہ پیروی  
کرن۔ بیہ چھہ اللہ تعالیٰ ان کافر تہ مکنر ہندہ خاطرہ تیار تھوومت دگ تہ دودتلمہ ون عذاب امہ پتہ  
چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان اکھ واقعاہ سہ گوویوہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو کور قبیلہ بنی  
نفسیرک یسود مدینہ شریفہ نشہ جلاوطن۔ تمن سپد حکم مدینہ شریفہ منزہ نیرنگ۔ توپتہ سونبہ راو تمو  
عربک مختلف قبیلہ قریب دہ باہ ساس لو کہ مدینہ شریفہ پیٹھہ حملہ کرنہ خاطرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ  
وسلمو کور حکم کہ مدینہ شریفہ انداند کھنو خندق۔ تمن ہندس کھنہ نس اندر بنفس نفیس تمو پانہ تہ کام  
کر۔ میہ سارک کہ پھڑاک اکس رتیس تان رود تم مدینہ شریفہ محاصرہ کر تھہ۔ تھہ منز آس کہ نہ کہہ  
جایہ دورہ دورہ لڑائے تہ سپدان بالآخر کر اللہ تعالیٰ ان مسلمان یاری۔ ظاہر پاٹھہ سپد اکھ تیز ہوا تم  
کافر ہند خیمہ دیر تھہ دت۔ خمین ہنزہ رزہ ژچن باطنہ پاٹھہ سوزن ملاکن ہنز لشکر سمو کافر ن چھلہ  
چھاگن کر۔ تم پوش نہ لڑہ نس۔ تمو کھیو بالکل شکست۔ تھہ جنگس چھہ ونان جنگ احزاب۔ حکمایزہ  
مختلف قبیلہ آس امت جنگ کرنہ بیہ تھس ونان جنگ خندق حکمایزہ مشورہ حضرت سلمان فارسی  
آسی بحکم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریفہ انداند خندق کھنہ نہ۔ امہ جنگ نشہ فارغ  
سپد سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یسودن ہندس قبیلہ بنی قریظس سیت جنگ کرنس کن متوجہ۔  
کیازہ تمو اوس خلاف معاہدہ بنی نفسیرن مدینہ شریفہ محاصرہ کرنس اندر مددگورمت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا أَلَمَتْ رَوَاهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرًا ۙ إِذْ جَاءَ وَكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ  
زَاغَتِ الْبَصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ  
الظُّنُونًا ۙ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۙ  
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۙ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا هَلْ

الْمَوْتُ أَذْكَرٌ أَوْ نِعْمَةٌ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا أَلَمَتْ رَوَاهَا اے ایمانور شیتیں  
یا واللہ تعالیٰ سز سز نعت یوسہ تم توہر عطا کر۔ یہ ساتہ توہر پیٹھ دشمن ہندواریہ فوج آئے حملہ کرنہ  
خاطرہ۔ پس سوز اسہ تمن پیٹھ تیز واؤ بیہ سبہ فوج ملائکن ہندئس نہ توہر بوزنہ اوس یوان وَكَانَ اللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللہ تعالیٰ اوس تہند تم ساری تدبیر و چھان یم تہہ تمہ ساتہ کران آسوہ خندق  
کھن ہیو بیہ ثابت تہ مضبوط روزن کافرن ہندہ مقابلہ خاطرہ تہ و جھتہ اوس اللہ تعالیٰ خوش گوشہاں توہر  
پیٹھ راضی سپدان تہ توہر مدد کران یہ واقعہ سپد تمہ ساتہ إِذْ جَاءَ وَكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ  
مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْبَصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا دشمن آئی توہر پیٹھ  
حملہ کرنہ توہر پیٹھ کن تہ یعنی میدا نکلہ ہیر مہ طرفہ توہر بون کن تہ۔ بیہ یلہ خوفہ سببہ تہنزہ اچھہ درہ بلہ  
دشمن کن بیہ آسوہ وانجہ واثر مثرہ ہرین پیٹھ بیہ آسوہ تہہ خدائس متعلق عجیب عجیب مختلف خیال کران  
هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اسی وقتہ آبیہ آزمائش کرنہ با ایمان۔ بیہ آئی تم دنہ ونہ  
دنہ ونہاہ سیٹھاہ سخت وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا  
بیہ ییمہ ساتہ ونہ لگ منافع۔ بیہ یمن لوکن ہندین دلن منز نفاق تہ شج بیماری اس اسہ سیت ئس وعداہ  
خدائمن تہ تہند پیٹھرن کور مت اوس سہ اوس نہ مگردھو کہ تہ فریب وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا هَلْ  
يَأْتِيكُمْ لَمَقَامَكُمْ فَادْرَجُوا بیہ یلہ تہنزہ ای اکھ منافقن ہنز جماعت ونہ لجا ای مدینہ کیولو کو توہر ہیو کوہنہ

يَتْرِبَ لِمَقَامِكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝۱۳ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُلِوا الْفِتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَاتَبَتُوا بِهَا الْاَيْسِيْرًا ۝۱۴ وَلَقَدْ كَانُوا عَاھِدُو اللّٰهَ مِنْ قَبْلِ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي بَارَكُوْكَ اَلَّذِي كَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا ۝۱۵ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ اِنْ قَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوْ الْقَتْلِ وَاِذَا لَمْ تَمْتَعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۱۶ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ

دشمنہ سند مقابلہ کرتے ہیں ہذا پھیر و پوت گزھو ہن گرہ واپس وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا بے ہیوت اک جمائش تمواندرہ نبی کریم ﷺ واپسی ہند اجازت مکن۔ تم اس دپان بیشک سان گرہ چھہ غیر محفوظ حالانکہ تم غیر محفوظ آس نہ مگر تم آس یرھان امی ہمانہ ژلن وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُلِوا الْفِتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَاتَبَتُوا بِهَا الْاَيْسِيْرًا ہر گاہ تم شہر س منز آستھہ شہرہ کیو طر فوکن کا نہہ غیماہ دشمنانہ ووتلھہ بیہ پا۔ تو پتہ بیہ ہاژھانڈنہ تم نغیہ فتنہ تہ فساد اسلامس خلاف برپا کرن ضرور سپدہ ہن تم گرہ بار تراوت تھہ قفس سیت شامل تو پتہ کرہ ہن نہ تھہ منز مگر کی تار۔ یعنی گھرن منز روزہ ہن نہ زیادہ کاس وَلَقَدْ كَانُوا عَاھِدُو اللّٰهِ مِنْ قَبْلِ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي بَارَكُوْكَ حالانکہ سمو لو کو اوس عمد گورمت امہ برونھہ خدا ایس سیت کہ تم آسن نہ پوت پھیر تھہ ژلان وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْئُوْلًا خدا ایس سیت ایس عمد کرنہ آمت آسہ تمیک بیہ ضرور بازہرس کرنہ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ اِنْ قَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوْ الْقَتْلِ وَاِذَا لَمْ تَمْتَعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا تہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ ہر گز دیدیہ نہ توہہ کا نہہ فاندہ ژلن ہر گاہ تہہ ژلو مر نہ نغیہ یا قلمہ نغیہ۔ ہر گاہ ژلو تہ، تو تہ تلونہ تہہ زندگی ہند فاندہ مگر کم سی کاس کیا زہ آخر چھو مرہ ئے قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ



أَرَادِيكُمُ سُوًّا أَوْ أَرَادِيكُمُ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ  
 اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۱۷﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ  
 لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۱۸﴾ أَشْحَةً  
 عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ  
 أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ  
 سَلَقُوكُم بِالسِّنَةِ جِدًا إِذْ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا

أَرَادِيكُمُ سُوًّا أَوْ أَرَادِيكُمُ رَحْمَةً فرمايو که تہہ یا رسول اللہ اے لو کو تمہہ اکھاہہ یہ کہ توہمہ بچاوت خدا بس  
 نغمہ ہر گاہ سہہ تہمدہ خاطرہ ہر گاہ سہہ تہمدہ سخی یا تہہ اکھاہہ یہ کہ تہہ سخی وائت ناوتہ ہر گاہ خدا یہ سندا ارادہ آسہ  
 توہمہ نسبت تہمہ مہربانی ہند وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا لہن نہ تم پندہ خاطرہ  
 خدا بس ورائے کانہہ دوستس نہ کانہہ مددگار س قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ  
 هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ تعالیٰ تہمہ توہمہ منزہ تہمہ منافقن پور زانان تم تہمہ  
 لوکن تہمہ جمادس منز شامل سید نہ نغمہ پتہ رتان سیدہ ہم پندہ نین بائمن وانان بھمہ آسہ نغمہ ایو جمادس مہ  
 سیدو شامل تم چھ تیت بڑل کہ پانہ تہ بھنہ لڑایہ منز شامل سیدان مگر کمی۔ تھہ منز تہ بھنہ نہ آسان  
 نیت صاف أَشْحَةً عَلَيْكُمْ بنجل چھ تم تہمدہ تھہ تمہہ شمولیتہ اندرہ بھو تہمدہ غرض آسان کہ  
 مسلمان گوڑہ نہ پورہ حصہ مال غنیمتک ترن۔ آس تہ روز وبل برائے نام شامل بھتہ آس تہ پتولا کہ مال غنیمتہ  
 حصک حق دار بنو فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يُنظَرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ  
 مِنَ الْمَوْتِ اودہ یلہ خوف ووقت واتان بھنہ تہ سائہ بھو کہ تہمدہ چھان تم توہمہ گن آر زمان پانٹھ نظرہ  
 دووان۔ اچھہ تہمزہ بھنہ نزان آسان۔ تس شخصہ سندا پانٹھ بس مرزن ڈھنٹھ پھیر مڑ آسہ فَإِذَا ذَهَبَ  
 الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِالسِّنَةِ جِدًا إِذْ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ اودہ یلہ خوف تہ خطرہ ژلان بھنہ تہ سائہ بھنہ تم  
 توہمہ تیز زیوہ سیت ایڈووان یعنی بچھ تھہ وانان سبٹھاہ حرلیص بھنہ تم مال غنیمت حاصل کرہ آس پٹھ

فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝۱۹ يَحْسِبُونَ  
 الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ أَنَّهُمْ  
 بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَسْبَابِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا  
 قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۝۲۰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  
 لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝۲۱ وَلَتَنَارًا  
 الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

تو بہ سیت چھٹھ یہ معاملہ خدا بس سیت چھ تہند معاملہ کہ اولیک لہ یومیوا فاحبط اللہ اعمالہم  
 وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا یم گے تے سمو چھنہ گوڈہ پیٹھے ایمان او نمت خدا بس۔ تمہ موکھہ چھہ کر مرہ  
 اللہ تعالیٰ ان تہزہ سارے عملہ بے کار تمن ہند ثواب تمن مئے قسمہ آخر تس منز حاصل سپد نہ۔ یہ تھہ  
 چھہ اللہ تعالیٰ اس نش آسان یعنی تہزہ عملہ بیکار کرنہ۔ تہزہ بزدلی ہنز حالتھ چھہ اژھہ کہ یحسبون  
 الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا تمن چھہ گمانہ کہ دشمن ہنزہ لشکرہ چھنہ ونہ واپس گا مرہ۔ حالانکہ تمو چھہ پن  
 محاصرہ تہ گھیرہ نمت وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَحْزَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَسْبَابِكُمْ  
 وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ہر گاہ بہ دوبارہ دشمن ہنزہ لشکرہ واپس یں تم کرن پنہ خاطرہ پسند  
 کہ گامن اندر روز تھ آسن کران تہند حالات بین لوگن نشہ دریافت، غالب بہہ گوو تہ مغلوب بہہ  
 گوپانہ سپدہ مہ نہ جھہ کین مشکلاتن شامل ہر گاہ بالفرض تو بہ سیت جگس شامل تہ روزن تو تہ کرن نہ  
 دشمن ہند مقابلہ مگر کی۔ بل ہاونہ خاطرہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ  
 يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا واقعی چھہ تہندہ خاطرہ ای مسلمانو پیغمبر خدا جگس اندر  
 ثابت قدیمی خاطرہ اکھ عمدہ نمونہ اکھ۔ تو بہ اندرہ تمن لوکن ہندہ خاطرہ یم امید چھہ تھاون خدا بس  
 سیت ملاقات کرنج۔ بہ یم امید چھہ تھاون آخر تس اندرہ بڈہ ٹوانج، بہ خدایہ سند یاد چھہ کران  
 سیٹھہ زیادہ تمن لوکن پڑہ کہ پر تھہ محاسن اندر حرکت و سکونس نشست و برخواستس اندر ہمت و

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٣٧﴾  
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ  
 مَنْ قَضَىٰ نَجْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا ﴿٣٨﴾ لِيَجْزِيَ  
 اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ  
 يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٩﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَأْتُوا خَيْرًا وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۗ

استقلالس اندر یکن تم تہندی قدمہ تہندی متابعتہ وَاَلْتَارَ الْمُؤْمِنُونَ الْاِحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا  
 اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا با ایمان کاملو وجہہ دشمن  
 ہنزہ واریاہ لشکرہ حملہ کرتھ یوان فہنہ لگ یوہے چھ سہ موقعہ سمیک وعدہ اسہ تہوومت اوس خدا لئک  
 تہ تہند پیغمبران پوزاوس فر موومت خدا لئک تہ تہند پیغمبران۔ یہ موقعہ پیش ینہ سیت ہر یونہ تم ن مگر تہند  
 ایمان تہ تہنزہ فرمانبرداری ہند جذبہ یہ وصف اوس سارنے با ایمان اندر مشترک بعضی اوصاف اس  
 بعضی با ایمان اندر مخصوص تم ن متعلق چھہ فرماوان اللہ تعالیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا  
 مَا عَاهَدُوْا اللّٰهَ عَلَيْهِ تہموی با ایمانو اندرہ وجہہ بعضی تم سمو پورہ کورسہ وعدہ جان نثاری ہندی نئس  
 تہموی کورمت اوس خدا لئس سیت فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَجْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيْلًا چنانچہ تہموی  
 اندرہ کرہ بعضی پورہ ہن ذمہ واری یعنی شہید سپد جنگ کران۔ بیہ چھہ تہموی اندرہ ہم تہمہ کس انتظار س  
 اندرہ وجہہ کہ کروا تہ اسہ تہ امیہ شہادتیہ سعادتک موقعہ۔ تہموی کورنہ تبدیل پنہ نس معاہد س اندر اکھ ذرہ  
 تہ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ یہ واقعہ سپد سمہ تہمہ موکھ بیٹھ اللہ تعالیٰ پزیر س پزچ مزور دیہ  
 وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِيْنَ اِنْ شَاءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ بیہ بیٹھ عذاب کرہ اللہ تعالیٰ تم ن منافقن ہر گاہ سہ  
 یژہہ تہ دیہ تم ن توبہ کر ٹک توفیق اِنّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھہ ہمیشہ سیٹھاہ  
 مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون تہمند تم ن نفعہ توبہ قبول کرن چھہ کینہہ بعید تہ دور وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ

وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۝ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ  
الْكِتَابِ مِنْ صِيَابِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا  
تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَ  
أَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝  
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسْرِحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝

کفر و ابعظیظکم لم ینالوا خیرًا اللہ تعالیٰ ان کورپنہ قدرت سے ت کافر دے کافردن مدینہ شریفہ نشہ شکہ تھے۔  
تمن پیوند پلہ کنہی۔ تم یہ مقصدہ آمت آس نہ مقصد سپد کہ نہ پورہ شکہ شرکھ پنہ نین کاؤین۔  
و کفی اللہ المؤمنین القتال اللہ تعالیٰ سپد کافی اتھ جگس اندر با ایمان تمن پیہ نہ جنگ کرنج  
ضرور تھے۔ جنگ نہ کرنے کور اللہ تعالیٰ ان کافرن ہند شر دے و کان اللہ قویا عزیزا اللہ تعالیٰ چھ  
ہمیشہ سیٹھا توتہ و ول سیٹھا غالب تس نشہ ہتھنہ کافرن امہ طریقہ شکست دین کہینہ عجائب تہ نو کتھاہ  
و انزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیابہم و قذف فی قلوبہم الرعب فریقًا تقتلون  
و تأسرون فریقًا بیہ سمو اہل کتابو یعنی یهود و سمو بد عمد یجر تھ کافرن مدد دہمت اوس تم وال اللہ  
تعالیٰ ان بیہ پنہ نیو فلایو اندرہ بون۔ یکن منز تم محصور اس۔ بیہ تروون تھندین ولن اندر سخت رعب تہ  
ہبت توبہ مسلمان ہند چنانچہ تمواندرہ مارو کہ توبہ بعضی لو کہ بعضی کرو کہ گرفتار و اورثکم ارضہم  
و دیارہم و اموالہم و ارضالم تطوہا بیہ کروہ تہ وارث تہ مالک اللہ تعالیٰ ان تھندین زمین ہند  
تھندین گرن ہند۔ تھندین ماکن ہند بیہ تمہ زینک پیارنہ تہہ حکمت تہ آسوہ زانہہ یعنی زمین خیر ک  
و کان اللہ علیٰ کل شیء قديرًا اللہ چھ ہمیشہ پریتھ چیزس پیٹھ قدرتہ و ول۔ یا ایہا النبی قل  
لازواجک ان کنتن تریدن الحیوة الدنیا و زینتھا فتعالین امتیعکن و اسرحکن سراحا جمیلا ای  
تینمیر برحق تہہ فرما و حض پنہ نین زنانن ہر گاہ تہہ ڈھانڈان چھوہ و نیاع ج زندگی بیہ تمہ زندگی ہند

وَلَنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ  
 اللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۲۹﴾ يٰنِسَاءَ  
 النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ  
 لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۳۰﴾  
 وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا  
 تُوْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿۳۱﴾ يٰنِسَاءَ

سازو سامان تلہ پکومہ نعمہ بیوپہ کرہ توہمہ دنیا ک مال و متاع عطا کر تھ رخصت رتہ طریقہ۔ طلاق و مہوہ  
 ہتھ بیتہ نس خوش کر وہ تہ نس گڑھتھ کر و تہ حاصل دنیا ک سازو سامان۔ وَلَنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ اللَّهَ  
 وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا نتے چھوہ تہہ ژھانڈان  
 خدا تہ تہند رسول یعنی یعنی موجودہ حالتے پیٹھ کر و تہہ قناعت بیہ کرو اختیار عالم آخرت یعنی جنگ  
 تھو درجہ یم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند حرم محترم آسنہ موکھ تہندہ خاطرہ مقرر کرنہ آمت ہتھ  
 نئس یوسہ توہمہ اندر نیکو کار آسہ تمسندہ خاطرہ چھ اللہ تعالیٰ ان تیار تھو مژ بڈمزور۔ اوتان لوس نبی کریم ﷺ  
 سندہ طرفہ حکم خدا ازواج طاہراتن کن خطاب امہ پتہ ہتھ اللہ تعالیٰ فرماوان تھن ازواج طاہراتن یٰنِسَاءَ  
 النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى  
 اللَّهِ يَسِيرًا ای بڈس پیغمبرہ سز و باژوتہ زانو یوسہ اکھاہ توہمہ اندرہ کانہہ بے ہودہ کاماہ کرہ یعنی  
 تیتھ معاملہ کرہ یمہ سیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل تنگ تہ پریشان گڑھن تئس بیہ آخر تئس اندر  
 دوگن عذاب کرنہ تہ چھ اللہ تعالیٰ اس آسان۔ تئس بیچہ نہ تمہ نغمہ کانہہ چیز پیٹھ رتھہ وَمَنْ يَّقْنُتْ  
 مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا تُوْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا بیہ یوسہ  
 اکھاہ توہمہ اندرہ فرماں برداری کرہ خدایہ سز بیہ تسندس پیغمبرہ سز بیہ کرہ ژ عمل تئس و مواس مزور تہ  
 دوگن بیہ چھ آسہ تسندہ خاطرہ عز تک روزی تیار تھوومت یٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُمْ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ اِن

النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ  
 بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۗ  
 وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى  
 وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
 إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۗ وَادْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ

اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا  
 اسے بدس بیغیرہ  
 سنزوز نانو تہمہ چھوہ نہ عام زنا نواندرہ کانسہ زمانہ ہمشہ بلکہ چھہ تہمہ مرتبہ سیٹھاہ تھود ہر گاہ تہمہ پر ہیز گاری  
 اختیار کرو۔ پس گڑھن نہ تہمزہ وو پر مردن سیت نرم تراہی نزاکتہ سان تھہ کرنہ۔ یلہ تھہ کرنج  
 ضرورت پیہ۔ ہتھہ سہ شخص یس دلس منز پچھہ خیالن ہنز ہیمارے آسہ توه نسبت پچھہ خیالچ خواہش  
 کرہ۔ بیہ آسو تھہ کران عام دستورہ مطابق۔ اشاروتہ کنایو ورائے وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ  
 تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى بیہ کرو تہمہ قرار پنے نین گرن اندر۔ بیہ مہ آسو برو تھمہ پاٹھ و دہر مردن زینت  
 ہاونہ خاطرہ شیرت ہیرت گرو منزہ نیر نیران۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
 وَرَسُولَهُ بیہ آسو سارے نمازہ برپا تھولان بیہ آسوز کواہرا کران۔ کیا زہ یم دوشوے چھہ اسلامک بد نشانہ بیہ  
 کرد فرمانبر داری خدایہ سنزیہ تہمہ س بیغیرہ سنز۔ تہمہ ساری احکام آسو بجانان یم احکام بجانہ نس اندر چھہ  
 تہمہ دی فاندہ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا یم  
 احکام بیان کرنہ اندرہ چھہ اللہ تعالیٰ سند ارادہ کینہہ تہ مگر توبہ نہ تھمہ نین ہنز کثافت دور کران ای بیغیرہ  
 سند یو گروہ والیوبیہ چھہ سہ یژھان توبہ پاک و پاکیزہ کرن وَادْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ  
 اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ بیہ کرو یا د خدایہ سند تم آیات یم پرنہ یوان چھہ تہمہ نین گرن اندر بیہ تہ عقلہ ہنزہ  
 تھہ یمہ بیان کرنہ چھہ یوان یعنی احکام خداوندی۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا تہ تھاوو خیال کہ پز

مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿۱۴﴾  
 إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
 وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ  
 وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَ  
 الْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِبِينَ وَالصَّائِبَاتِ وَالْحَفِظِينَ  
 فَرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذِّكْرِينَ وَالذِّكْرَاتِ اللَّهُ كَثِيرًا  
 وَالذِّكْرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۵﴾

پانچ اللہ تعالیٰ چھہ رازدان تس چھہ ساریچی پور خبر، لہذا گھوہہ ظاہر اوباطنا تمسندین حکمن ہند تعمیل کرن بیہ  
 گھوہہ تمسند یومنون چیز ونشہ پتھ روزن **إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
 وَالْقَنَاتِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ  
 وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِبِينَ وَالصَّائِبَاتِ وَالْحَفِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ  
 وَالذِّكْرِينَ وَالذِّكْرَاتِ** اللہ کثیرا و الذکرات اعد اللہ لہم مغفرة و اجرا عظیمًا بیشک مسلمان  
 مرد و مسلمان زنانہ ایماندار مرد بیہ ایماندار زنانہ بیہ پیار مرد و بیہ بیزارہ زنانہ بیہ صبر کرہ و ن مرد و  
 صبر کرہ و نہ زنانہ۔ بیہ خشوع و خضوع کرہ و ن مرد و بیہ خشوع و خضوع کرہ و نہ زنانہ، بیہ خیرات و  
 صدقات کرہ و ن مرد و بیہ خیرات و صدقات کرہ و نہ زنانہ، روزہ دار و روزہ و ن مرد و روزہ دار، روزہ و نہ  
 زنانہ۔ بیہ پنہ نین سترہ جن جاین راجھہ کرہ و ن مرد و نہ زنانہ، بیہ سیٹھاہ یاد خدا کرہ و ن مرد و سیٹھاہ یاد  
 خدا کرہ و نہ زنانہ، یمن سار نے ہدہ خاطرہ چھہ اللہ تعالیٰ ان بوڈ مغفرت تہ بڈ مزد و تیار تھا و مر۔ **وَمَا  
 كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ** بیہ جھنہ کانہ  
 ایماندار مرد و نہ کانہ ایماندار زنانہ گجائش یہ تھہ ہنز کہ یلہ خدا لہن بیہ جھنہ پیغمبرن کانہ حکماہ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ  
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ  
ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ۝ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ  
عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ  
مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا

جاری کور۔ اده کیاہ آسہ ہائس مردس یازنانہ اختیار تہہ لحمس اندر پنے گنہ حئمہ سیت مداخلت کرنچ یعنی  
برابری زانہ ہن تہہ لحمس تقیل کرنہ تہہ کرن ۔ بلکہ چہہ تمن واجب تہہ لحمس تقیل کرنہ وَمَنْ  
يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا نئس اکھاہ نافرمانی کرہ خدا یہ سندس پیغمبرہ سہد گنہ لحمس پز  
پاٹھہ سہ پیوونہہ گراہی اندر۔ یتہ نئس چہہ لفظ مؤمن کس عمومس اندر حضرت عبداللہ بن تحش بیہ لفظ  
مؤمنہ کس عمومس اندر حضرت زینب بنت تحش داخل بیہ امر ہم کس عمومس اندر حضرت زید بن  
حارثہ سیت نکاح کرن داخل۔ چنانچہ یم آہ کریمہ نازل سپدنہ پتہ سپدیہ نکاح منظور وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي  
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ بیہ پاوہ ژ تیس یلہ تہہ ای پیغمبر جرق بطور  
مشورہ ونان آسوہ تئس شخصس یس پیٹھ اللہ تعالیٰ ان مہربانی تہہ انعام کور کہ مؤخر ف باسلام کرون یوسہ  
دینی نعمت ہجھہ ، غلامی نشہ موکلوون یوسہ دنیوی نعمت چہہ بیہ نئس پیٹھ توہہ تہہ مہربانی تہہ انعام کور وہ کہ  
توہہ کورون سہ آزاد بیہ کروس دینچ تعلیم بیہ کوروس پنے پو پچترہ ہمیشرس سیت نکاح امہ اندرہ چہہ  
مراد حضرت زید بن حارثہ تہہ آسوہ تئس فرماوان ای زید بن آشین (یعنی بی بی زینب) رٹن پانس نشہ  
پنے نئس نکاحس اندر سومہ تراون نکاحہ اندرہ معمولی غلطیو سببہ۔ تمسرن غلطین گن مہ آس و چھان بیہ  
کھو ژ خدا یس تمسدرین حقوقن اندر مہ کمر و کوتاہی تہہ کسی وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ بیہ پاوہ تہہ تہ  
ژ تیس سوکھہ یوسہ تہہ آسوہ یار رسول اللہ پنے نئس پانس منز پوشیدہ تھاوان۔ ہجھہ آخر کار اللہ تعالیٰ نتر اوہ  
ون اوس یعنی توہہ آس خاہش دل مبارکس کہ ہر گاہ حضرت زید بن حارثہ پیٹھ زینبس طلاق دیہ تیلہ کرہ  
بوپانہ تمن سیت نکاح وَتُخْفِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ تہہ آسوہ سہ خیال نتر اوان لو کون ہنزہ



قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا وَجَنكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
 حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذْ اقْتَضُوا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ  
 اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۳۳﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ  
 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿۳۴﴾  
 الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا

طعنہ زنی سببہ۔ تجہ آسوہ لوکن ہنزہہ طعنہ زنی کھوژان۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اوس زیادہ سزاوار کہ تجہ کھوژ  
 ہو تس۔ چونکہ پیٹھ معاملہ اندراس فی الواقع اکھ دینی مصلحتتھا۔ لہذا تمہہ کرو تجہہ کا نہہ اندیشہ لوکن ہنزہہ  
 طعنہ زنی ہند فلکنا قاضی زید مینہا و طرا و جنکھا لکی لا یكون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم  
 إذ اقتضوا منہن و طرا اویہ یلہ زید بن حارث بن پور کور بن مقصد تہ تم دیت بی بی زینب س طلاق سمیک  
 سہ بروٹھ پیٹھ خواہش مند اوس تو پتہ موکلے یہ تمس پور عدت اسہ کور نکاح تو بہہ یار رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم تس بی بی زینب سیت یوہے گوو نکاح آسانی تھتھہ امہ سیت آئندہ بالیمان کا نہہ حرج واقع  
 سپدہ پنہ نین ممکن ہنزن زنان سیت نکاح کرنس اندریلہ تم مکتہ تہ تمس نشہ بن مقصد پورہ آس  
 کران۔ وکان امر اللہ مفعولاً خدایہ سند حکم اوس بہر حال پورہ سپدہ ون تھہ تھہ پاٹھے گڑھہ ہابدل  
 ماکان علی النبی من حرج فيما فرض اللہ لہ سنیۃ اللہ فی الذین خلوا من قبل کا نہہ حرج تہ الزام اوسنہ  
 تمس پیغمبر برحق سواکام کرنس اندریوسہ مقرر آس کر مدہ تہدہ حقہ اللہ تعالیٰ ان خدایہ سند چھہ  
 یوہے دستور رودمت تمس پیغمبر اندریم بروٹھ گدرے متہ چھہ۔ کہ تم نیمیہ کامہ ہند حکم آو کر نہ  
 سوہ کام آس تم کران کا نہہ ہندہ طعنہ زنی ہند خوف کرنہ ورائے۔ تھہ پاٹھے چھہ تمس پیغمبر برحقہ سند  
 شان تہ وکان امر اللہ قدا مقدورا خدایہ سندین یمن پیغمبر ہنزہہ امہ قسحہ یم کام آس تمس سارنے  
 کائین اندر تہ اوس خدایہ سند حکم بروٹھ پیٹھے مقرر کرنہ امت الذین یبلغون رسالات اللہ  
 یم ساری گزشتہ پیغمبر آس تہ یم زن پرورد گارہ سد احکامات آس لکن واتہ

اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝۳۹ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ  
وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمًا ۝۴۰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝۴۱ وَ  
سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝۴۲ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

ناوان۔ بیہ اس کلمہ وقتہ تبلیغ قوی خیطرہ مامور سپدان۔ تمہ ساتھ آس تبلیغ قوی کران۔ یہ ساتھ تبلیغ  
فعلی خیطرہ مامور سپدان آس تمہ ساتھ آس فعلی تبلیغ کران۔ بیش نہ سپد کلمہ نبی کریم کہ بروٹھم  
اکھ بے دلیل رسامہ پھرا اوٹھی پنہ فعلہ سیتہ سہ گوو کہ معتہ پنچوے سزہ زنانہ سیتہ کروٹہ عملاً نکاح تمی  
سیتہ پھٹہ یہ اکھ جاہلیتگ بے دلیل رسامہ وَيَشْتُونَ وَيَكْفُرُونَ أَحْلًا إِلَّا اللَّهُ تم پیغمبر آس  
اللہ تعالیٰ اس کھو ژان بیہ آس نہ کانہ کھو ژان اللہ تعالیٰ آس ورانے تہندہ مزید تسلی  
خاطرہ آس ونان وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ تعالیٰ ای چھہ اعمالن حساب ہینہ خاطرہ بس۔ وون کیاہ  
چھہ بیہ کانہ کھو ژان توہہ ہم لوکھ تعمیل احکام خداوندی کرنس پیٹھ طعنہ زنی کرن تمن نہ کرہ اللہ تعالیٰ  
عذابس گرفتار۔ لہذا مہ سپد و تہہ نمکین نہ پریشان مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ  
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا حضرت محمد ﷺ چھونہ توہہ مردواندرہ کانہ آسند بابہ  
صائب۔ زید بن حارثہ سندنہ کتھہ پاٹھے آسہ ہن پیغمبرہ سندرہ روحانی مرثیٰ آسنہ موکھ چھہ تم توہہ سارنی  
ہندے روحانی بابہ صائب اتھہ روحانیتس منز چھہ تمن کمالک درجہ حاصل کیاہ تم چھہ  
سارنہ پیغمبرن ختم کرہ ون۔ یعنی سلسلہ نبوتس آیہ تہندہ سیتہ مہر کرنہ ون بیچہ نہ آئندہ تمن پتہ  
کانہ پیغمبریتھ۔ حضرت عیسیٰ یہ آخر زمانس اندر بحیثیت اکھ امتیاء، بحیثیت پیغمبر یہ نہ۔ اللہ تعالیٰ چھہ  
پریتھ چیز کہ عدم وجود چ مصلحت پورہ زانہ ون۔ یہہ معاملہ کہ وجود چ نہ مصلحت آس تس خبرے نمی  
آویہ معاملہ وجودس اندر بی بی زینبہ سندنہ نکاح سپد با حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اے با ایمانواکھ کرو خدا یہ سندین عام احسانتن ہندیادیہ بڈہ احسان چ شکر  
گذاری سہ گوو وجود مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ احسانگ تہ کرو شکر ادا خدا یہ

لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿۳۳﴾  
 تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۗ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿۳۴﴾ يَا أَيُّهَا  
 النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۳۵﴾ وَذَاعِبًا إِلَى  
 اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿۳۶﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّن

سند کرو بکثرت یاد تمسجدین سارنے احکا من کرو تعمیل۔ وَسَيُخَوِّذُكُمْ بِذُكُورٍ وَأَصِيلًا بے آسوپا کی تہند  
 کران یاد صبحس نہ شامس نہ یعنی ہمیشہ دلہ سیت نہ زیوہ سیتہ نہ بد نہ سیتہ نہ ہواذنی یصلی علیکم  
 وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا سہ پروردگار چھہ بیٹھہ رحیم بس  
 توہہ بیٹھہ رحمت چھہ سوزان پانہ نہ بے تہندہ حکمہ تہند ملایک نہ بیٹھہ توہہ امہ رحمتہ برکتہ کدہ وہ  
 جمالت وضالت کیونکو منزہ علم و ہدایہ کس گاش گن امہ اندرہ سپد ثابت کہ سہ پروردگار چھہ ہمیشہ ایمان  
 دارن ہندہ حقہ رحمتہ وول دنیاس اندر۔ آخرتس اندر نہ اسہ تہمز رحمت تہن شامل۔ چنانچہ  
 تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ تعظیم و تکریم تہند اسہ تمہہ دوہہ ہمہ دوہہ تم تس سیت ملاقات کرن۔  
 سلامتی سان سلام تی گوو سلام قولاً من رب رحیم، حدیث شریفس منز چھہ کہ اللہ تعالی فرماو جنتین  
 السلام علیکم یا اہل الجنة۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا بے چھہ تہ تیار تھا و مز عزت چ مزور تہندہ خاطرہ  
 جئس منز یایُّهَا النَّبِيُّ ای بدہ پیغمبر تہہ مہ حض سپد وول آزرہ معمولی کیرن لوگن ہند یو طعنو سیت  
 اگر یمن بے و قوفن تہند تھو دمر تہہ در بیٹھے چھنہ یوان، متہ ای سچھہ، با ایمان ہمہ رحمہ نہ مہر بانہ اسہ  
 عطا کرہ یمن ہند واسطہ چھوہ تہہ تہندین مخالفن یہ سزاو نہ تہندس بیانس بیٹھہ توہہ نش یہ نہ تمیک  
 ثبوت معنہ کینہہ نہ۔ امی سیت سپد ثابت کہ تہہ کمہ درجہ چھوہ اسہ نشہ مقبول نہ محبوب اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ  
 بے شک اسہ ہز سوزو تہہ ہمہ تھدہ شانک پیغمبرہ کہ تہہ آسو قیامتک دوہ شہدًا اُمتہ خاطرہ پانہ  
 سرکاری گواہ تہندی بیانہ موجب یہ تہند فیصلہ کرن۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا تہی چھوہ با ایمان بشارت نہ  
 خوش خبری دوہون بے کافرن ہم کرہون وَذَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا بے سوزے وہ اسہ

اللَّهُ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿۳۰﴾ وَلَا تَطِعِ الْكٰفِرِينَ وَالْمُنٰفِقِينَ وَدَعَاؤُهُمْ  
 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۳۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا  
 نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
 فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِيعَتُهُنَّ  
 وَسِرَّهِنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿۳۲﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا

تہہ لو کن نادو وہ نے معبود برحقس کن تہدی حکمہ یہ بشارت تہ بیم کرن تہ دعوت دے چھہ بواسطہ  
 تبلیغ۔ مگر بذات خود چھوہ تہہ کمالا توتہ تھدیو صفتو عاداتوتہ عباداتوکے از سر تا پا ہدایتک نمونہ آئس  
 اندر اکھنہ نہ کہہ وں تہ پر یزلہ وں ژونگاہد از اوئے ساری غم تہہ روزو مشغول پنہہ کامہ سیت سوگیہ  
 یے کہ **وَيَسِّرُ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا** ونو خوشخبری ایماندارن کہ تہندہ خاطرہ چھہ  
 پروردگارہ سہدہ طرفہ تمہن پیٹھہ بوڈ فضل سپدہ وں تھہ پاٹھہ روزو تہہ بیم کران کافر تہ منافقن ہڈہ  
 عذابک **وَلَا تَطِعِ الْكٰفِرِينَ وَالْمُنٰفِقِينَ وَدَعَاؤُهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا** بیہ مہ مانو کافران  
 تہ منافقن ہنزہ تھہ بیہ مہ کمر و تہندہ تکلیف دنگ کانہہ پروا۔ ہر گاہ امیک خیال دل مبارکس منزبیہ  
 اعتماد کرو تہمہ وقتہ معبود برحقس پیٹھہ سہ رچھہ توبہہ پر تھہ ضرر نشہ بس چھہ اللہ تعالیٰ کار ساز آہنہ کن  
 کافی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ**  
**مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا** ای با ایمانو یلہ تہہہ با ایمان زنان سیت نکاح کرو تو پتہ دیو تمہن طلاق تھہہ  
 کرنہ تہ اتھہ لاگنہ یعنی تمہن سیتے ہم بستری کرنہ بروٹھے ادہ چھنہ توبہہ کانہہ حق تمہس عدتس منز  
 تھاونگ تاکہ گنزارا ہو تہہ تہندہ عدتک دوہ یعنی تمہن چھنہ عدتھہ۔ تمہن چھنہ پیارنوی۔ تمہہ ہیکن فوراً  
 بیس شخصس سیت نکاح کر تھہ **فَمِيعَتُهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا** پس واتا و تہمہن کانہہ  
 فائدہ یعنی تمہن دیو کینہہ لباس پوشاک حسب حیثیت۔ کینہہ ہاہ تھہ کرو تمہن رتہ طریقہ روختھہ۔  
**يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أَجْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ**

لَكَ أَرْوَاجِكَ الَّتِي اتَّيْتِ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ  
 مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَدَتْ عَمَّكَ وَبَدَتْ عَمَّتِكَ وَبَدَتْ  
 خَالِكَ وَبَدَتْ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمْرَاءَ  
 مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ  
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا  
 مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
 لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

اے بڑے پیغمبرہ بیشک آسہ کرہ حلال ٹہندہ خاطرہ تہنزہ تمہ زنانہ یمہ ون کینس ٹہندس خدس منز حاضر  
 چھہ۔ ٹہندس عقدس تل چھہ تکن توہمہ مرہ دیت وہ بیہ تمہ زنانہ یکن تہ مالک چھوہ سپد مت مملک  
 یمین یعنی کینزہ یمہ دشمن نفعہ مال غنیمتس اندر توہمہ اللہ تعالیٰ ان عطا کرہ مرہ چھہ و بَدَتْ عَمَّكَ وَبَدَتْ  
 عَمَّتِكَ وَبَدَتْ خَالِكَ وَبَدَتْ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ بیہ تہنزہ پترہ یمہ، بیہ پو پھترہ یمہ، بیہ  
 ماترہ یمہ بیہ ماسترہ یمہ ستمو خاندانی رشتہ دار زنانو اندہ چھہ حلال توہمہ پیٹہ تمہ زنانہ ستمو توہمہ سیت  
 ہجرت کر۔ وطن پن ترا تھہ آہیہ وَأُمْرَاءَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ  
 يَسْتَنْكِحَهَا بیہ کر آسہ ٹہندہ خاطرہ حلال سو با ایمان زنانہ یمہ پن پان پیغمبرس یعنی توہمہ مرہ  
 ورائے پیش کور تہ بخش۔ ہر گاہ پیغمبرس یعنی تہہ ارادہ کران چھوہ تس زنانہ سیت نکاح کرہ نگ  
 خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ یم ساری حکم چھہ خاص ٹہندہ خاطرہ، با ایمان ورائے ٹہندہ  
 خاطرہ چھہ بے احکام قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ  
 عَلَيْكَ حَرَجٌ تحقیق آسہ چھہ معلوم تم احکام یم آسہ فرض کرے با ایمان پیٹہ زنانہ تہ کینزن ہندہ چھہ  
 تہ گووای زہ کہ زوروز نانوخو تہ زیادہ چھنہ اجازت نکاح کرہ نگ کینزہ ایشہ خوش کرہ لکھ تہ ستنھنہ توہمہ

تُرْجَىٰ مِنْ نَشَأٍ مُّنتَهَنٍ وَتُؤْتَىٰ إِلَيْكَ مِنْ نَشَأٍ وَمِنْ ابْتِغَايَتِ  
مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ آيَاتِهِنَّ  
وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا  
فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ  
مِنْ بَعْدِ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

کنہ قسمہ وقت سپدہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ چھ ہمیشہ سیٹھا مغفرت کرہ دن سیٹھا  
رحم کرہ دن سہ چھ پنہ رحمتہ سیت احکامن منز مناسب سہولت فرماوان تُرْجَىٰ مِنْ نَشَأٍ مُّنتَهَنٍ  
وَتُؤْتَىٰ إِلَيْكَ مِنْ نَشَأٍ سم ازواج طاہرات توہہ نشہ موجود چھ تمواندرہ چھ توہہ اختیار تمونزہ ایس  
کالس توہ خوش کرہ پانس نشہ دور تھاوان یعنی نوبت تہ وار نہ دن سوہیکون جہہ دور تھاوتھہ یوسہ تہہ  
یڑھیون پانس نش تھاوان وار تہ نوبت تس عطا کرنے سوہیکون تھے پانس نشہ تھاوتھہ وَمِنْ ابْتِغَايَتِ  
مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ بیہ یوسہ تہہ دوبارہ پانس نزدیک آن یڑھیون تموزانواندرہ تہہ خاص مدتہ  
خاطرہ الگ آسوکھ تھاومزہ تھہ پیٹھ تہ چھنہ توہہ کانہہ گناہہ ذَلِكْ اَدْنَىٰ اَنْ تَقْرَأَ آيَاتِهِنَّ وَلَا يَحْزَنَ  
وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ یہ توہہ وارہ تہ نوبتس منز اختیار دسُن چھہ زیادہ نزدیک تہزنن اچھن  
شہار واتنہ خاطرہ۔ دلس سکون و قرار پادہ سپدنہ خاطرہ بیہ سپدنہ تہہ غم گین بیہ سپدنہ تہہ  
رضامندی ساری تہہ سیت یہ توہہ تمن عطا کورہ مالہ منزہ یا ألفت، محبت مای تہ شفقتہ منزہ۔ ای  
مسلمانویم خاص احکام یوز تھہ تھنہ توہہ خیال گڑھ کہ یم احکام کونہ سپد عام طور سارنہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللہ تعالیٰ چھہ زنان تہ سورے یہ تہندس دن منز چھہ۔ اللہ  
تعالیٰ چھہ ہمیشہ پنہ نین مخلوقن ہند حال پورزانہ ون سہ چھنہ یہ اعتراض کرہ ونین جلد گرفتار کران۔  
کیازہ سہ چھہ سیٹھاہ بردبار تہہ تحمل کرہ ون۔ کنہ چھہ سزاوان یڑکال تہہ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ وَلَا  
أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنَهُنَّ ای پیغمبر برحق تہندہ خاطرہ نہ حض چھنہ حلال از

حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿۵۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَبْظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَجِیْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَجِیْ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

کہ پتہ نوہ زنانہ بیاہ چھتہ توہمہ جائزہ بیاہ موجودہ سارنہ زنانہ بیاہ سوا اندرہ آجہ تراونہ تہ تمن بدل کران زنانہ سیتہ نکاح کران اگرچہ تہند حُسن و صورت سپدن توہمہ مرغوب تہ پسند إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مگر چھہ حلال تہ جائز توہمہ کنیزہ یعنی تہہ زنانہ بیاہ تہہ مسلک بیاہ مالک سپدو وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا اللہ تعالیٰ چھہ پر چھہ چیز چہ حقیقت تہ مصلحت پور نگرانی کران تہ سوری ژرژان يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَبْظِيرٍ إِنَّهُ ای بایمانو! تہہ مہ آسواژان نبی کریم ﷺ سندن گران اندر حجرات مہارکن اندر مگر تلہ بیلہ توہمہ نادیاہ دنہ کینہہ غذا کھینہ خاطرہ۔ سہ غذا کھینہ تہ گڑھہ بیاہ کھینہ کس و قس پیٹہ۔ وقتہ بروٹھہ گڑھہ نہ بیاہ تاکہ توہمہ بیاہ نہ انتظار کران غذا کس تیار سپدن وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَجِیْ مِنْكُمْ لیکن یلہ توہمہ ناداسہ یوان دنہ کہ غذا چھہ تیار تلہ آسواژان توہ پتہ یلہ تہہ کھیتہ چیتہ آسوا موکلان تو پتہ گڑھہ نیران تہہ گڑھہ نہ تمن سیتہ بیاہانہ وان چھن منہ مشغول روزن کیاہہ تہہ سیتہ چھہ نبی کریم ﷺ تکلیف و اتان تم چھہ توہمہ نشہ مند چھان۔ تم چھہ پانہ توہمہ فرماوتہہ بیاہان نیرنگ وَاللَّهُ لَا يَسْتَجِیْ مِنَ الْحَقِّ مگر اللہ تعالیٰ چھہہ پرتھہ ونہ نس اندر کانہہ ہند لحاظ کران۔ لہذا آو توہمہ واضح طور حکم کرنہ بیاہ چھہ از کہ پیٹہ حکم یوان کرنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند ازواج طاہرات کرن توہمہ نشہ پردہ لہذا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ

فَسَلُّوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ۗ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۗ  
 وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ  
 مِنْ بَعْدِهَاۗ اَبَدًا ۗ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿۵۴﴾ اِنْ  
 تَبَدُّوا شَيْئًا وَاَوْتُخَفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿۵۵﴾  
 لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ اَبَائِهِنَّ وَلَا اَبْنَاؤِهِنَّ وَلَا اِخْوَانِهِنَّ  
 وَلَا اَبْنَاۗءَ اِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَاۗءَ اَخْوَاتِهِنَّ وَلَا اِنْسَاءِ اِهِنَّ وَلَا

حجابت از کہ پیٹھ ید تہ نہ نبی کریم ﷺ سندین ازواج مطہراتن نشہ کانہہ چیز آسہ مگن سہ آسہ تمہن نشہ  
 منگان پردہ نہیر یعنی بے ضرورت پردس نزدیک سپدن تو پتہ تمہن سیت تھہ کرنہ تہ چھہ ممنوع لیکن  
 سخت مجبوری تہ ضرور چھہ وقتہ چھہ کتھہ کرنہ جائز مگر تمہن گن نظر دن چھہہ جائز ذلکم اطہر لقلوبکم  
 وقلوبہن یہ چھہ ہمیشہ خاطرہ تہمدین دلن تہ تہمدین دلن بیچھہ خیالاً تو نشہ پاک و صاف روز نکھہ اکھ بوڈ  
 ذریعہ۔ وماکان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہا ابدًا بیہ چھہ توبہ  
 جائز نہ صورتس اندر پیغمبر خدا ایس تکلیف و اتناون۔ بیہ چھہ توبہ ہر گز جائز تہمدین بائن یعنی ازواج  
 طاہراتن سیت تمہ پتہ مگن وقتہ نکاح کرن اِن ذلکم کان عند اللہ عظیمًا بیہ چھہ اللہ تعالیٰ اس نشہ  
 بوڈ گوناہ۔ تھہ پٹھنی یہ گوناہ چھہ تھہ پٹھہ چھہ امیک زیوہ سیتہ تذکرہ کرن یاد گس اندر امیک خیال کرن تہ  
 گوناہ اِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا وَاَوْتُخَفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا چنانچہ ہر گاہ تہ نہ راو و کانہہ چیز اہا  
 کھتھہ تھا و اللہ تعالیٰ چھہ ہم دوشوے چیز پور زانان کیا زہ سہ چھہ پر تھہ چیز اہ پورہ زانہ دن۔ سہ دیہ توبہ  
 ضرور تھہ پیٹھ سزا۔ اسہ یس یمہ پردک تہ حجاب حکم بیان کور تمہ منزہ چھہ بعضہ اشخاص مستثنی تہ  
 لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ اَبَائِهِنَّ وَلَا اَبْنَاؤِهِنَّ وَلَا اِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَاۗءَ اِخْوَانِهِنَّ وَلَا  
 اِنْسَاءِ اِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ کانہہ گناہ چھہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندین ازواج طاہراتن  
 پنہ نین مالین یا نجوین یا باین یا بابہ تھرن، یا مینہ تھرن یا پنہ نین زنانن یعنی مسلمان زنانن یا پنہ نین



مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ۚ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ

غلامن تہ کنیزان بشہ بے پردہ بروٹھ کن بیس تہ تھہ کرنس اندر **وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا** ای نبی کریم ﷺ سنزوزنانونڈ کورہ احکامن ہندس تعلیمس اندر کھوڑو خدایس۔  
 گنہہ کھمس منز مہ کرو خلاف ورزی۔ بے شک سہ چھہ پر ہتھ چیزس پیٹھ شاہد۔ ممکن چھہ خلاف  
 ورزی ہندس صورتس اندر دیہ سہ توبہہ سزا۔ **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** بے شک اللہ تعالیٰ بیہ تہند ملائک چھہ درود سوزان نبی کریم ﷺ  
 پیٹھ ای بابیمانوتہہ تہ سوزورودو سلام تمن پیٹھ بیہ کرو سلام و ژ سلام یعنی ونان آسوالسلام علیک ایہا  
 النبی ورحمة اللہ و برکاتہ یلہ بیہ آیہ کریمہ نازل سپد صحابہ صابو کور عرض نبی کریم ﷺ سندس خدقس منزیا  
 رسول اللہ خداین ہز کور آسہ کھم توبہہ پیٹھ درودو سلام سوزنگ سلام کرن توبہہ سو پچھہ آسہ وون پچھہ  
 ناوے تواسہ درودتھہ پاٹھ آسواسے پران توبہہ پیٹھ فرموو کھ تہہ آسوپران اللہم صل علی محمد  
 وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنک حمید مجید اللہم بارک علی  
 محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنک حمید مجید اللہ تعالیٰ سند  
 درود پران گور رحمت سوزان تمن پیٹھ یوسہ تہندس تھدس شانس مناسب آسہ ملائکن ہند درود سوزن  
 گوو خدایس سو خاص رحمت سوزنہ خاطرہ دُعا کرن ہتھہ پاٹھ آسہ کھم کرنہ آوتہہ خاص رحمتہ خاطرہ دُعا کرن  
 ملائکن ہندہ منگنہ سیت بیہ سانہ یعنی بابیمان ہندہ منگنہ سیت تہ دعا کرنہ سیت چھہ حضور نبی کریم ﷺ سندس  
 مراتب عالین اندر ترقی سپدان۔ ترقی در جاتن ہتھنہ کانہہ حدے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کور عام امتین  
 کھم بانگہ پتہ دعا وسیلہ منگنہ ک حضرت فاروق اعظمؓ فرموو کھ جس گرھنہ وقتہ اُشر کنا فی الدعاء اے عمر  
 آسہ تہ تھلوی زہ شامل پنہ نین دعاءن اندر امہ ساری اندرہ سپد ثابت ڈٹھہ کیتھ تے آسہ انسان سیٹھہ  
 تھو دمر تہہ وول تہ مگر خدایہ سندس فضل ورحمتس گن چھہ پر ہتھہ وقتہ محتاج چنانچہ حدیث شریفس منز چھہ پانہ  
 فرموومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانہہ دیہ نہ نجات پنن عمل یوتان نہ رحمت خد اشامل حال

يُؤذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ  
لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُؤذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
بِغَيْرِ مَا كُتِبُوا فَقَدْ أَحْمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝ يَا أَيُّهَا  
النَّبِيُّ قُلْ لَلْأَزْوَاجِكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ  
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكُمْ أَذَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ

آسیس عرض آھ کر نہ توہمہ نہ دیہہ نہ نجات عمل یا رسول اللہ فرمود کہ میہ نہ دیہہ نہ نجات عمل یوتان نہ ہیرہ ہونہ میہ اللہ تعالیٰ پنہ رحمتہ سیت ولہ یعنی یو پھس زیادے محتاج خدایہ سندس زیادہ رحمتس گن تہندہ خاطرہ اللہ تعالیٰ اس درود و سلام معھ نس اندر چھہ درود پرہ و نس نہ پنہ حقہ فاندے فاندہ کیا زہ رسول اللہ تعالیٰ ان چھہ فرمودت نس اکھاہ مہ پیٹھ آھہ درود پرہ اللہ سوزہ نس پیٹھ دہ رحمتہ اِنَ الَّذِيْنَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّبِينًا پڑی پانٹھے سم لو کہ ایذاون خدایس بیہ تہندس پیغمبرس ناشائستہ تھہ ونہ سیت اللہ تعالیٰ کرہ تمن لعنتس گرفتار دنیاہ س منزتہ آخرتس منزتہ۔ بیہ چھہ تہندہ خاطرہ تم تیار تھوومت ذلیل کرہ ون عذاب وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا كُتِبُوا فَقَدْ أَحْمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا تھتھے پانٹھ یم لو کہ ایذاون با ایمان مردن تہ با ایمان زنان تہندہ کانہہ جرم تہ قصور کرنہ و رائے پس بیشک تموئل پانس پیٹھ بڑہ اپڑیک تہ بڑہ گنہک بور يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَلْأَزْوَاجِكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ای پیغمبر برحق فرماؤ تہہ پنہ نین ازواج طاہراتن بیہ پنہ نین صاحبزادین بیہ نین با ایمان ہنزن زنانن کہ کلہ نشہ آسن بون گن الوند تراوان پنہ نیو پوڑوتہ ڈپو آندرہ آھہ حصہ پنہ نین تھین پیٹھ ذَلِكُمْ أَذَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ امہ طریقہ آسن تمہ جلد پر زہ ناونہ یوان کہ بیہ چھہ شریف تہ نیک بخت زنانہ ادہ آسکھ نہ ایذاواتا ونہ یوان۔ امہ سیت آسہ سپدان فرق کینزن تہ آزاد زنان اندر۔ اتھہ تھس ستر کرنس اندر ہر گاہ کہنہ وقتہ بلا قصد و ارادہ بے

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۵۹﴾ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَ  
 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ  
 لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَأِجْبُرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿۶۰﴾ مَلْعُونِينَ  
 أَيَّمَا تَقْفُوا أَوْ قَاتِلُوا تَقْتِيلًا ﴿۶۱﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي  
 الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿۶۲﴾  
 يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
 يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿۶۳﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ

احتیاطی سپدہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ چھ سیٹھاہ مغفرت کر وہ ان سیٹھاہ رحم کر وہ ان۔ تھہ  
 بے احتیاطی تہ کرہ سہ درگذرتہ مغفرت لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ  
 وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَأِجْبُرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ہرگاہ نے منافق بیہ تم لوکھ  
 یہ ہندین دلن اندر شہوت پرستی ہند مرض چھ تے چھ کینرن انان بیہ یم لوکھ شہرس منز اپزہ خبرہ  
 پھیلاوان چھ پنہ نیو چھ کتھوتہ حرکتونشم پتھ روزن تیلہ ہسہ راووہ نمی اس تمن پیٹھ اکہ نتہ اکہ دوہہ  
 یعنی اُس کر ووہ توہہ کُم تہندہ خاطرہ شہرہ ہیر کڈ ٹک۔ تو پتہ ہیکن نہ ادہ تم توہہ نکل تھہ شہرس منز  
 روز تھہ مگر کسے کالس مَلْعُونِينَ أَيَّمَا تَقْفُوا أَوْ قَاتِلُوا تَقْتِيلًا تمن آسہ پر تھہ طرفہ لعنت کرنہ  
 یوان۔ یتہ کس تم لہنہ ین تیس ین تم رٹنہ بیہ مارنہ تہ ژٹنہ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ یہ  
 چھہ خدایہ سُنَدِ دستور بروٹھن مفسد تہ شریر لوکن پیٹھ تہ جاری کرنہ آنت لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ  
 وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَأِجْبُرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا تہ لہجھ نہ خدایہ سندس دستور تہ طریقس منز کانہ ہندہ طرف سُنہ قسمہ تغیر و تبدیل یَسْأَلُكَ  
 النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عَلِمْتُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ای پیغمبر ہر حق  
 یم مخر لوکھ چھہ توہہ پر ژھان قیامتک کہ سوکر آسہ تہہ فرماو لوکھ جواب کہ تمہہ وچ خبر چھنہ خدایس

وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۖ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يُحْدُونَ وَلِيًّا وَلَا  
 نَصِيرًا ۖ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيِّنَّا اللَّهُ  
 اللَّهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ۖ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا  
 فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ۖ رَبَّنَا إِنْتَهُمْ ضَعُفَيْنَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَمِ  
 لَعْنَا كَبِيرًا ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا  
 مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ۖ

ورائے کانہہ تہ تو بہ کس چیز زانراوہ کہ شاید قیامت ما آسہ تھ کن نظر کر تھہ پڑہ ہا تمن قیامتس کھوژن  
 بیہ تمہ خاطرہ کانہہ سامانا پادہ کزن ان الله لعن الکفرین وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا پڑاٹھہ اللہ تعالیٰ ان ہتھہ  
 لعنت کر مژ کا فرن۔ تم چھن پنہ رحمتہ نشہ دور کر مت بیہ چھن تہندہ خاطرہ دزہ ون نار تیار تھوومت  
 خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يُحْدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا تھہ نارس منز روزن ہمیشہ نہ لین متہ کانہہ دوستس نہ  
 کانہہ مددگارس يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيِّنَّا اللَّهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ بیہہ دوبہ  
 کھکھرہ پکناو تھہ مین دار تھہ دنہ نارس منز۔ تھہ منزواتھہ آسہ تلک پیٹھ پھیر یوان دنہ تہندین تھین۔  
 دین تمہ ساتہ اے کاش آسہ کونہ کرے یہ فرمانبرداری خدایہ سز یہ کونہ کرے یہ فرماں برداری پیغمبر  
 خدایہ سز دنیاوس اندر ہر گاہ آسہ کرہ ہو تہمز فرماں برداری۔ تھہ مصیبتس گوشہ ہونہ گرفتار وَقَالُوا رَبَّنَا  
 إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا بیہ دین اے سانہ پروردگارہ بیشک آسہ کر فرمانبرداری پنہ  
 نین زٹھین ہنز تہ بڈین ہنز تمو ڈال اس سیزہ ویتہ نشہ رَبَّنَا إِنْتَهُمْ ضَعُفَيْنَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَمِ لَعْنَا  
 كَبِيرًا اے سانہ پروردگارہ تمن کرتہ ڈوگن عذاب بیہ کر تمن پیٹھ بڈلعنت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا اے بایمانو  
 تہہ مہ آسو تمن لوکن ہی سموا ایدایت اپز توہمت لاگنہ سیت موسیٰ کلیم اللہس۔ توپتہ کورسہ اللہ تعالیٰ  
 ان بری تہ پاک تمو تہمز وہانژونشہ پیچھ کھو نشہ اوس سہ موسیٰ کلیم اللہ خدا لیس نشہ عزتہ وول صاحبہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصَلِّهِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ

تمی موكھ كر تھی اللہ تعالیٰ ان تہنہز براءت ثابت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اے بایمانو کھوڑو اللہ تعالیٰ اس بیہ آسو سیزہ تہ پڑہ کھ کران یُصَلِّهِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ہر گاہ تہ کر وتلہ سنہالہ تہ شیرہ اللہ تعالیٰ تہنہزہ کامہ۔ تہنہز کامہ کرہ قبولیتس لائق بیہ کرہ توہہ گنہن مغفرت وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا بیہ نُس اکھاہ فرماں برداری کرہ خدا یہ سزہ تہنہز س پیغمبرہ سزہ بیشک تس بنے یہ بڈ سنگاری تہ کامیابی إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا پڑپاٹھ اسہ اولن احکام وشرایع ہندامانت آسمان زمین تہ کوہن بروٹھ کن تلمنہ خاطرہ۔ تمہن احکام وشرایع پیٹھ عمل کرنے خاطرہ تمو کو اور انکار یہ تلمنہ نغمہ بین احکام سن پیٹھ عمل کرنے نشہ۔ بیہ کھوڑ تم اتھ خبر چھامیک انجام کیاہ سپدہ میجوہ اس یہ بار تلکھ کنہ نہ آسمان زمین تہ کوہ پیدہ کرنہ پتہ آوانسان پیدہ کرنہ امس انسانس تہ آوامانت پیش کرنہ چونکہ یہ انسان اوس علم الایس اندر زمینس منز خلیفہ سپدہ ون نُس چیز بروٹھ پیٹھ مقرر کرنہ آمت اوس لہذا تمل تہ یہ بارامانت ہیون اچ ذمہ واری (آسمان بارامانت نتوانست کشید۔ قرعہ فال بنام من دیوانہ زند) بیشک یہ انسان اوس ظالم تہ جاہل (ظالم پنہ نس نفس پیٹھ یہ بارامانت تلمنہ سیت اور جاہل اوس املہ بار سیت) توپتہ سپدہ امہ پتہ زہ حال لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ  
 اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۴۳﴾

بتھ اللہ تعالیٰ عذابس گرفتار کرہ منافق مردن تہ منافق زنانن بیہ مشرک مردن تہ مشرک زنانن یم گئے تم لوکھ سمو احکام خداوندین ہند کانہ پرواکورنہ امانت ضائع کثرت بیہ کرہ توجہ پنہ رحمتہ سیت اللہ تعالیٰ باایمان مردن تہ باایمان زنانن یم گئے تم لوکھ سمو امانتس راجھہ کرا حکامن ہنزا پابندی کر چتھ روزتر یم جماعت بیو گوڈہ مخالفت کرہ مگر پتولا کہ سڈکھ احساس تو پتہ سپدی نادم تہ پشیمان تم تہ کری اللہ تعالیٰ ان شامل مؤمنین و مؤمناتن منز کیاہہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ چھ ہمیشہ سیٹھاہ مغفرت کرہ و ن سیٹھاہ رحم کرہ و ن۔





وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝۳ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝۴ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ۝۵ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝۶ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُبْدِيكُمْ إِذَا مَرَّكُمْ كُلُّ مَشْرَقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۷

نشہ چھنہ پو شیدہ تہ کھٹھہ کانہہ چیزاہ اکس ذرس برابر تہ آسمانن اندرنہ زمین اندرنہ اکہ ذرہ خوتہ لوکت کانہہ چیزاہ نہ اکہ ذرہ خوتہ بوڈ کانہہ چیزاہ۔ پریتھ چیزاہ چھہ تس نغمہ لیکھتھ نہ کتاب یعنی لوح محفوظ اندر لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ قیامت بیہ ضرور بیہ کتھہ خاطرہ کہ بیٹھہ اللہ تعالیٰ تمن لوکن رثمزور عطا کرہ تمو ایمان اون تہ رثہ عملہ کرکھہ جھندی خاطرہ چھہ بوڈ مغفرت تہ عزتگ روزی تہ جنتس اندر وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ بیہ یم لوکھ دورہ دورہ تہ کوشش کران آس سانین آیاتن تہ دلیل پھڑ اونہ خاطرہ تھنہہ خاطرہ چھہ سخت عذاب دگ تہ دودتلمہ ون وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ بیہ چھہ زنانان تم لوکھ یمن علم آو عطا کرہ (یعنی علماء اہل کتاب) تھہ کتابہ یوسہ توه پیٹھ نازل کرنہ آیہ تھندس پروردگارہ سُنِد طرفہ پز کتاب بیہ یوسہ پکناوان چھہ لوکن تس خدا یہ سنزوتہ بس غالب چھہ حمد پونہ آمت چھہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُبْدِيكُمْ إِذَا مَرَّكُمْ كُلُّ مَشْرَقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بیہ



أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا  
 بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَسْخَانِيفٌ  
 بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسِطٌ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
 لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝ وَلَقَدْ اتَّبَعْنَا أُودَ مِنَّا فَضْلًا  
 يُجِبَالٍ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّعَالُ الْحَدِيدُ ۝ إِنْ أَعْمَلُ

پھمہ و نمان کافر پانہ وان ٹھٹھہ پاٹھ اس ماہا و نو توہمہ سہ تحفص لیس عجیب خبرہ و نان چھہ زہ یلہ توہمہ میڑہ  
 منز پھتہ پھتہ نہ ریزہ ریزہ سپدہ توہ پتہ ایوٹھہ دوبارہ بیہ نوہ زندگی منز انہ **أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ**  
**جِنَّةٌ** کیاہ سنا تے شخص ٹھم و وہ خدا لیس پیٹھ اپر کھنہ تس چھہ مژرتہ جنون **بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ**  
**بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ** نہ چھہ افتزانہ چھہ مژرتہ۔ بلکہ چھہ تم لو کہ یم قیامت نہ آخر تس  
 معر چھہ ہڈس عذابس نہ جہ گمراہی منز گرفتار۔ **أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ**  
**وَالْأَرْضِ إِنَّ نَسْخَانِيفٌ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسِطٌ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ** **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ**  
 کیا سمو لو کو و چھنا آسمانس نہ زمینس گن لیس سمن بروٹھ کن نہ تھروکن یعنی پریٹھ طرفہ چھہ احاطہ  
 کرتھ۔ ہر گاہ اس یڑھو تم نمو کہ زمینس تل و اٹھ یاترا و تو تم پیٹھ آسمانچہ چھلہ تو پتہ گالو کہ تمی سیت  
 سائین آیاتن انکار کرنہ خاطرہ پزی پاٹھ اتھ منز چھہ بوڈ نشانہ پروردگارہ سہ قدر تہ و ول آسٹس پیٹھ  
 پریٹھ رجوع بخدا کرہ و نس بندہ سہہ خاطرہ **وَلَقَدْ اتَّبَعْنَا أُودَ مِنَّا فَضْلًا** بیہ کوراسہ عطا حضرت  
 داودس پنہ طرفہ ہڈ فضیلت تہ ہڈ نعمت **يُجِبَالٍ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ** بیہ کور حکم جانورن ٹھہ تہ اسو تم  
 سیت سیت تسبیح پران روزان چنانچہ حکم کوراسہ کوہن کہ توہ آسیو گرہ گرہ سمن سیت تسبیح پران۔  
**وَالنَّعَالُ الْحَدِيدُ** بیہ کوراسہ ٹھندہ خاطرہ شتر موم ہیوزم **إِنْ أَعْمَلُ سَبِيغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ**  
 حضرت داودس کور حکم ٹھہ آسو بناوان اتھ شترس زرباہ کشادہ کشادہ بیہ کرو پورا اندازہ کرین ہندس

سَبِغَتْ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ ۝۱۱ وَلَسْلَيْمَ الرِّيحِ غَدُوَهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحَهَا شَهْرٌ  
وَأَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ  
رَبِّهِ وَمَنْ يَبْزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُنْزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝۱۲  
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ  
وَقَدُورٍ لَيْسَتْ إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ

ملہ ناولس تہ واٹھ و نلس اندر وَاَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اے خاندان داوود تمہ ساری  
دو پوین نعمان پیٹھ حمد تہ شکر بیہ کرو تمہہ رزہ عملہ پڑ پٹھ بہ ہٹھس تہنزن سارنہ کامین پیٹھ پورا ف  
وَلَسْلَيْمَ الرِّيحِ غَدُوَهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحَهَا شَهْرٌ بیہ کور اُسہ سلیمان علیہ السلامس واومسح صمخس اوس  
سہ رتق و تھ طے کران شامس تہ اوس رتق و تھ طے کران۔ وَاَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ بیہ پکھ نو اُسہ  
تہندہ خاطرہ تراک ناگ ترام اوس گالتھ نیران آبک پٹھ پنہ کانہ منزہ تھ تم بنانہ ٹھ تیار کر نلس اندر  
سہولت سپدہ تمہ کی اُس تم جہ دیگہ تہ بڈ بانہ بناوان وَاَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ بیہ  
کر اسہ تمن مخر تہ تابع جوا اندرہ تم اشخاص یم تمن برو ٹھ کنہ خدایہ سندہ لحمہ سیت کام اُس کران  
وَمَنْ يَبْزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُنْزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ بیہ نلس اکھاہ تمو اندرہ سانہ لحمہ رزہ روگردانی کرہ  
سہ ژہہ ناوان اُس آخرتس اندر نارہ کہ عذابک مزہ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ وَجَفَانٍ  
كَالْجَوَابِ وَقَدُورٍ لَيْسَتْ تم جن اُس بناوان تہندہ خاطرہ تم تم چیز یم تم ژشہ بن جہ جہ قالب لرہ  
ہشہ۔ بیہ کلین تہ کو بن ہنزہ شگلہ۔ بیہ بڈ ٹھٹھل تلاو بیہ جہ جہ دیگہ۔ بیہ اکسہ جایہ ٹھرت اسہ آسان  
إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا اُسہ کور حکم حضرت داودہ سندس خاندانس کہ یمن نعمان پیٹھ دو پو شکر۔ شکر  
گذاری کرور ژ عمل کرنہ سیت وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ میانو بندواندرہ چھہ کے شکر گذاری کرہ  
وَأَن قَلْبًا قَاضِيًا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةَ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ اودہ یلہ اُسہ

الشُّكُورُ ﴿۱۳﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ  
 إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ  
 أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِئُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۱۴﴾  
 لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ  
 كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ

حضرت سلیمانہ سندہ مرٹک حکم جاری کور تہ تم گئے یہ عالمہ تختس پیٹھ بہتھ لور آسکھ تھامتر ہونجہ  
 تل، تھہ پاٹھ کور تھند روح مبارکن پرواز اتھ حلتس اندر رودے تم آس وریس تانے جن آس  
 وچھان تمئن تختس پیٹھ بہتھ کانہ اوس نہ جرات ہیکن کر تھ کھ تل تھہ نظر دلس۔ کئہ چیزان ڈیت نہ  
 پتاہ تمئن جنن سلیمان علیہ السلامہ سندہ مرٹک مگر کھوڑہ کیم اک بس تھنہ لورہ اندر اندرے کوران تہ  
 کھیوان اوس فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِئُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ادہ یلہ  
 سولور کھو کھ گیہ تہ پیہ دستھ تم تہ آے وکرانہ یون گن اتھ تختس پیٹھ ادہ سپد معلوم جنن تھندہ یہ عالمہ  
 گرشہ ٹک دپنہ لگ کہ ہر گاہ ٹچ خبر آسہ ہاتیلہ ما آسہ ہن تم وریس ذلتہ کس عذابس منزگرفار لَقَدْ  
 كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ بے شک آس قوم سبأ خاطرہ تھندس وطنس اندر خدا یہ سزاطاعت تہ فرماں  
 برداری کرنس پیٹھ بڈے بڈے نشانہ تہ دلیلہ موجود جتئن عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ تمونشانواندرہ اوس  
 اکھ نشانہ کہ زہ باغ آسکھ سڑکہ دچھن تہ کھو فرے قطار در قطار یعنی تھندس علاقس اندر آس عام  
 شاہراہ تہ سڑکہ دچھن کھو فرہ دور تان کھ کھ باغات یمن منز کم میوہ آس بکثرت آمدنی تہ آسکھ  
 کافی رونق تہ سایہ تہ اوسکھ کمال آسہ ونہ نوو تمئن انبیاءن تہ ناصحن ہندہ ذریعہ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ  
 وَاشْكُرُوا لَهُ کھیو پنے نس پروردگارہ سند عطا کورمت رزق توپتہ کرو تھنہ شکر گذاری تہ فرماں  
 برداری۔ کیا زہ دو یہ قسمی نعمہ کرہ نوہ عطا بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ اکھ کورنوہ عطا دنیاعس منز یہ  
 شہر سبأس نہایت رت شہراہ چھہ آب و ہوا کہ لحاظ بیا کھ نعمت کورنوہ عطا آخر تہ کہ اعتبارہ پروردگارہ

غُفُورٌ ۱۵) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ  
 بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ الْأَيْمَنِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ  
 قَلِيلٍ ۱۶) ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكُفُورَ ۱۷)  
 وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً  
 وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ۱۸)

چھ سیٹھاہ مغفرت کرہوں۔ ہر گاہ نہ قسمہ کو تاہی بیہ لب نہ تہندہ کنہ تھہ کر وہ در گذر فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا  
 عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ الْأَيْمَنِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ تموزان  
 نہ اتھہ نفیس قدر بلکہ پھیر تموسانیو حکمونشہ بٹھ ادہ کوراسہ تم ن پیٹھ پن قمر نازل جاری کوراسہ تم ن  
 پیٹھ بوڈیپ تہ سیلاب نئس توتان بنداوس۔ یمہ سیت تہند تم ساری باغات تباہ و برباد گئے بیہ بدلاواسہ  
 تہندین دون باغن بدل بیہ قسمک زہ باغ یمن منزیم چیز پتھ گن رود بد مزہ میوہ دار کل۔ بیہ میوہ  
 ورائے جنگلی کل۔ بیہ جنگلی بریہ کل کینہہ کے یمن منز نہ مزہ تہ لطافت اس ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا  
 وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكُفُورَ یہ سزاؤیت اسہ تم ن گھر سببہ کفران نعت کر نہ سببہ اس چھا تھہ سزاؤوان  
 کفران نعت کرن والین ورائی بیہ کانسہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً بیہ  
 کراسہ اہل سباعن منز تہ بیہ شامہ کین تم ن شہرن منز یمن منز اسہ پیداوار بج برکت کر مژ آس واریاہ  
 شہر آباد کھ کھ یم بربل سڑک آس یم سارنے پکہ ونین بوز نہ یوان آس۔ یموسیت نہ مسافرن  
 سفرس منز کنہ قسمک وحشت پیدا سپدان اوس یہ نس تم ن ٹھمر نچ خواہش سپدان اس تہ نس آس تم  
 و تھہ ٹھمر تھہ ہیکان وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ مقرر اوس کورمت اسہ اکہ خاص اندازہ موجب تموشہر  
 و منزے لوگن ہندین گڑھن سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فر موومت اوسکھ اسہ کہ کرو سیر رات  
 کیت تہ ڈولہ تہ امن و امانس اندر چنانچہ ساری لوکھ آس سمنہ پیٹھ شام و اتان سمنوے آباد شہر و منز  
 کوچ اکس شہرس تہ کال میں شہرس منز کھیوان ساری فقیر تہ دنیا دار آس کھن چین پانس سیت تلنہ

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ  
 أَحَادِيثَ وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَسْرِقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ  
 صَبَّارٍ شَكُورٍ ۱۹) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ  
 إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۲۰) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطٰنٍ  
 إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنهَا فِي شَكٍّ ط وَ  
 رَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۲۱) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّن

ورائے امہ و تہ پکان دینار و دون ہتھ منز چھنہ سانے شان بوزن یوان تم لگے دعا کرنہ فقَالُوا رَبَّنَا  
 بعد بین اسفارنا کہ پروردگار ادوری تراوڑہ سانین سفرہ کین منزلن اندر۔ منزہ منزہ کرکھ بعضے  
 شہر غیر آباد تا اینکه امہ آسہ یوان سامانہ سیت تلنہ تہ حفاظتہ خاطرہ نوکر چاکر مسلح سامانہ سیت تلنہ  
 وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ پس کور تمو ظلم پانے پانس بنی اسرا یجلن ہندے پاٹھ لوکھ کھینہ منزہ ووگس فَجَعَلْنَاهُمْ  
 أَحَادِيثَ چنانچہ تھاوہ امہ پتھ کن تہنزہ تھہ باقی پتہ اوہ نین ہندہ خاطرہ وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَسْرِقٍ بیہ کر  
 آسہ تمن چھلہ چھاگرت قبیلہ وات دور دور مختلف شہرن اندر ثلاثان ثلاثان إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ  
 صَبَّارٍ شَكُورٍ بے شک یہ امہ بیان کور اتھ منز چھہ بڈ بڈ نشانہ عبرت رٹہ تک پر ہتھ صبر تہ شکر کرہ  
 و نین ہندہ خاطرہ یعنی با ایمان تہ فرما بردارن ہندہ خاطرہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا  
 فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ پڑ پاٹھ تصدیق کور ابلیس تمن منز پنہ نس خیالس چنانچہ تمو کر پور پیروی تہنز  
 مگر روز پتھ تس پیروی کرنہ نشہ اکھ کے جماعتہاہ با ایمان ہنزیم کامل الایمان آس تم زود بالکل محفوظ  
 یم ضعیف الایمان آس تمو کرنہ اگرچہ شرک و کفر س منز تم سنز پیروی مگر معاصین اندر کورکھ تم  
 سندا اتباع وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطٰنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ  
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ بیہ اوس نہ ابلیسہ سند تمن پیٹھ کانہ زور تہ جبر مگر یہ اوس امہ نبرہ راوان کہ گس  
 چھہ آخر تخریچ پڑھ تمو لو کو آندرہ بیہ کمن چھہ آخر تک شک تہ ترد و لن اندر ہتھ زن پر ہتھ اکس مناسب

دُونَ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي  
 الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مَنْ ظَهِيرٌ ﴿۲۳﴾  
 وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ  
 عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ

سزاییہ دنہ ٹھنڈ پروردگار چھہ پرستھہ چیزس پیٹھ نگہبان ۛ راجھہ سارکوی چھہ تس پور اطلاق۔ قُل  
 ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فرماو یو کہ تہہ یار سول اللہ اے لو کو تہہ دیتو ناد تمں یم تہہ معبود  
 زانان چھوہ کہ معبود برحقس ورائے مجھہ تو تہہ تمں پن حاجات۔ معلوم سپدہ پانے تمں اتھہ کیاہ پھہ  
 تہنز حقیقی حالتھہ چھہ کہ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ تم چھوہ نہ مالک تہہ چیز ک  
 اکس ذرس برابر تہہ آسمان اندرنہ زمین اندر وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مَنْ ظَهِيرٌ ۛ یہ  
 چھہ تمں آسمان وزمین پیدہ کرنس منز خدایس سیت کانہہ شر اکٹھہ بیہ چھہ تمو اندرہ کانہہ اکٹھہ  
 خدایہ سند مددگار تہہ چیزس اندر وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۛ تھہ پائٹھہ تم پانہہ بیکن نہ  
 کانہہ کاماہ کر تھہ تھہ پائٹھہ بیکن نہ خدایس و تھہ یعنی سفارش ۛ شفاعت کر تھہ کرہ ناوہ ہن کانہہ کاماہ  
 چنانچہ یم معبودان باطل بے جان چھہ کنہہ وغیرہ ہشہ تمں ہنز چھہ کتھہ تم کیاہ شفاعت بیکن کر تھہ تمں  
 منز چھہ نہج قابلیتھہ تھہ پائٹھہ یم جاندار تہہ چھہ مگر اللہ تعالیٰ اس نشہ چھہ تم مقبول ۛ قابل اعتبار شیطان  
 وغیرہ ہی تم ۛ کیاہ شفاعت بیکن کر تھہ بلکہ یم ذی روح جاندار آتھہ مقبول ۛ باعتبارہ بندہ چھہ ملائک  
 ہی یمن مُشْرک خدایہ سزہ کورہ و تھہ مستحق عبادت زانان چھہ تم تہہ بیکن نہ کانہہ تخصص خدایس نشہ  
 سفارش ۛ شفاعت کر تھہ خدایس نشہ چھہ نہ کانہہ ہنز سفارش ۛ شفاعت کام ووان مگر تس شخصہ سیدہ  
 خاطرہ سیدہ حقہ شفاعت کرہ و نس اللہ تعالیٰ شفاعت کرہ نگ اجازت دیہ دلایلو سیت چھہ ثابت کہ  
 شفاعت کرہ و نین ایہ شفاعت کرہ نگ اجازت و نہ گنہ گار با ایمان ہندہ خاطرہ فقط کافرن ۛ مُشْرکین  
 ہندہ خاطرہ ملائک ۛ بیکن نہ کانہہ اکس بلا اجازت سفارش کر تھہ تہمہ غلبہ ہنچ حالتھہ چھہ بیہ کہ حَقِّ  
 إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ۖ چنانچہ یلہ خدایہ سیدہ طرفہ تمں پیٹھہ کانہہ حُجْمَاہ

الْكَبِيرِ ﴿۲۳﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَ  
 إِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۴﴾ قُلْ لَا تَسْأَلُونَ  
 عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۵﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَقِرُ  
 بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿۲۶﴾ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ الْحَقُّمُ

جاری چھ سپدان تمن چھ نٹھ ووتھان ادہ یلہ سونٹھ تہندہ یود لو نٹھہ ژلان چھ اکھ اکس چھہ پر ژتھان  
 کیاہ فر مو وٹھند پروردگارن یم زیادہ مقرب چھ آسان تم ہتھکھ ڈپان فلانے پوز حُم فر مو و خدا ین۔  
 تس برو نٹھ کنہ ملائکن یتھ حال سپدان کیاہ عجب ہتھہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ واقعی سہ چھہ عالی شان  
 سارنے ہندہ خوتہ بوڈ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَ إِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي  
 ضَلَالٍ مُّبِينٍ تہہہ پر ژتھو کہ یار رسول اللہ بیا کہ تھہہ یمہ سیت یمہ بن توحیدک تحقیق سپدہ اے لو کو تو ہہ  
 تہہہ چھہ رزق ووان آسان ہندہ طرفہ رود تراوتھہ زمین ہندہ طرفہ زراعت کھارتھہ چونکہ امیک  
 جواب چھہ تمن نشہ تہہہ متعینہ لہذا فرما یو کہ تہہہ اللہ تعالیٰ چھہ رزق عطا کران۔ اتھہ تھہہ چھہ تم تہہہ اقرار  
 کران یمہ تہہہ فرما یو کہ کہ تھہہ مسئلہ توحیدس اندر چھہ اس یا تہہہ ضرور سبزہ و تہہہ پیٹھہ یا صریح گمراہی اندر یمہ  
 تھہہ چھہ ناممکن کہ توحیدہ وائل تہہہ توحیدک مخر کیا آسن دوشوے پزس پیٹھہ یا کیا آسن دوشوے غلطی پیٹھہ  
 یمہ چھہ لازمی تھہہ کہ دو یومنز آسہ اکھ پزس پیٹھہ اکھ آپزس پیٹھہ۔ اکھ جماعتھہ ہدایتس پیٹھہ بیا کہ گمراہی  
 پیٹھہ۔ توحیدہ چن دلین پیٹھہ غور کرنہ سیت چھہ ثابت سپدان کہ اہل توحیدے چھہ پزس پیٹھہ قُلْ  
 لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ یمہ تہہہ فرما یو کہ تہہہ یار رسول اللہ کہ اگر اس خطا کار آسو  
 تو ہہہ یمہ نہ پر ژتھنہ سائین جرمن ہند۔ یمہ یمہ نہ آسہ تہہہ پر ژتھنہ تمن کا ین ہند یمہ تہہہ کران چھوہ۔ تھہہ  
 نہ امہ سیت تو ہہہ خیال گتھہ کہ پر ژتھنہ مایہ نہ کانہہ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَقِرُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ  
 الْعَلِيمُ فرما یو کہ تہہہ یار رسول اللہ سون پروردگار کہہ قیامت دوہ آسہ دوشوے فریقن جمع تو پتہ کہہ سہ  
 فیصلہ آسہ منزرت فیصلہ کیاہہ سہ چھہ ژھین کہہ دن رتہ فیصلہ سیت۔ سہ چھہ سورے زانہ دن۔ تس  
 نٹھہ چھنہ کینہہ تہہہ پو شیدہ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ الْحَقُّمُ بہ شُرَكَاءَ كَلَّابٍ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فرما یو کہ تہہہ

بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۷﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً  
 لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾ وَيَقُولُونَ  
 مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۹﴾ قُلْ لَكُمْ مَبْعَادُ يَوْمٍ لَا  
 تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۰﴾ وَقَالَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ  
 نَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

تخلامہ تہ ہا تو کہ تم ایم تو بہ خدا بس سیت ر لا و تھ تہند شریک ٹھہراوے و کہ تجے کیاہ میجو کہ میہ تم  
 ہاوتھ۔ ہرگز چھنہ تس کا نہہ شریک بلکہ واقف منز چھہ سہ معبود بر حق شریک آسنہ نشہ منزہ تہ پاک  
 سیٹھاہ غالب تہ زبردست سیٹھاہ حمتہ و ول وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
 لَا يَعْلَمُونَ بیہ سوزوہ نہ آسہ تہہ مگر پیغمبر سارنے لوکن ہندہ خاطرہ بلکہ جنن تہ بشارت دوہ ونے  
 باایمان بیم کرہ ونے کافرن۔ لیکن واریاہ لو کہ چھنہ پُئن نفع و نقصان زنان۔ جمالتہ سیت چھہ انکار کران  
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بیہ چھہ ونان کافر مسلمانن کہ یہ قیامت سمیک تہہ ونان  
 چھوہ یہ وعدہ کر سپدہ پورہ چھوے تہہ پوزوان قُلْ لَكُمْ مَبْعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا  
 تَسْتَقْدِمُونَ تہہ فرماو لو کہ یارسول اللہ تو بہ سیت میہ ڈہک وعدہ چھہ سہ چھہ ضرور یوہ ون۔ تمہہ نغمہ نہ  
 ایو تہہ پتہ کڈنہ نہ ایو بروٹھ آنہ تہندہ پر ڈھنہ اندرہ چھہ ننان تو بہ چھہ تھہ انکار وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ  
 نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ بیہ چھہ ونان مٹکر کہ ہرگز انونہ آس ایمان تھہ قرآن مجید س  
 نہ تمن کتائن میہ امہ بروٹھ آسہ۔ میہ کتھہ چھہ تمن پھوران تھہ دنیاسی اندر قیامتک دوہ گڑھہ کھ میہ  
 سارے کتھہ مشھہ وَلَوْ نَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ہر گاہ تہہ وچھوسہ وقت میہ وقتہ ایم ظالم  
 تہ نا فرمان ایستادہ یں کر نہ پنہ نس پروردگار س بروٹھ کنہ جواب دی خاطرہ تہہ وچھو اھ ہولناک  
 منظر اھ کہ یُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ اھ آسہ بیس الزام ووان يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا الَّذِينَ



إِلْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَلَا أَنْتُمْ  
لَكِنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنْخُنُ  
صَدَدُكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿۳۲﴾  
وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْإِيلِ وَالْ  
النَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا  
الْتَدَامَةَ لِمَارَاوِ الْعَذَابِ وَجَعَلْنَا الْأَعْلَىٰ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ

اسْتَكْبَرُوا وَلَا أَنْتُمْ لَكِنَّا مُؤْمِنِينَ چنانچہ ادنیٰ درجہ لو کہ ون یم تابع آسن اعلیٰ درجہ کین لو کن یم  
متبوع آسن کہ ہمدی وجہ گئے اس بر باد تہہ نے آسہ ہو اس آسہ ہو ایمان قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا  
لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنْخُنُ صَدَدُكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ اتھ پیٹھ ون تم سر کش  
لو کہ ادنیٰ درجہ کین لو کن کیاہ آسہ رٹوہ تہہ ہدایتس پیٹھ عمل کرنہ نشہ پتھ زورہ۔ یلہ سہ ہدایت وارہ کارہ  
توہہ نش ووت بلکہ اسوہ تہہ پاند نافرمان تہ مجرم کہ حق واضح سپدنہ پتہ تہ کوروہ نہ توہہ سہ قبول وون  
چھوہ آسہ کن لاگان۔ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ الْإِيلِ وَالْ  
النَّهَارِ توپتہ ون ادنیٰ  
درجہ لو کہ تمین سر کش لو کن۔ بلکہ رٹ آس پتھ حق قبول کرنہ نشہ تہمد راتس تہ دوہس مکر تہ فریب  
کرہ ن لڈَاتَا مُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا یلہ تہہ لو کہ آسہ ونان آسوہ کنس خدا جس انکار کرن  
بیہ تس شریک ٹھراون۔ اتھ گفتگو اس اندر اگرچہ ون یم اکھ اس الزام مگر پتہ جایہ زانن کہ قصور  
پتھ واقعی سونے۔ گمراہ کروون دین واقعی اسی آس یمن کفر وشرکک تجویز کران تم بوئمہ درجے لو کہ  
دین اگرچہ یم اسے آسہ غلط و تھ ہاون مگر اسہ تہ پزہ ہاتن نفع و نقصان و چھن آس کیا زہ رود تمین تابع  
سون چھ زیادے قصور وَأَسْرُوا الْتَدَامَةَ لِمَارَاوِ الْعَذَابِ مگر یہ ندامت تہ پشیمانی تھا ون اکھ اس نشہ  
پوشیدہ یلہ پنہ نین عملن پیٹھ عذاب و چھن وَجَعَلْنَا الْأَعْلَىٰ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا آسہ آسن  
جہنمک ہنزہہ تمین کافرن ہنزن گردن منتر او مت جہد اتھ کھور آسن آسہ ہانکو سیت زور بند

كُفَرُوا وَاهْلٌ يُجْرُونَ ۚ اِلٰمًا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۳۲﴾ وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ  
 مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالُ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اَرْسَلْتُمْ بِهِ كُفْرُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَ  
 قَالُوْا مَخْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالِا وَاَوْلَادِا وَاَمَّا مَخْنُ بُعَدَ بَيْنَ ﴿۳۴﴾ قُلْ  
 اِنَّ رَّبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ  
 لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۵﴾ وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُ بِكُمْ  
 عِنْدَنَا زُلْفٰى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ

کرے مت تھے پاٹھین ژو پیدل کر تھے چھنمس منردار تھہ دنہ هل جُزُونَ اِلٰمًا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ تمن  
 ییہ نہ سزاندہ مگر تمن کا میں ہندیہ تم کر ان اسی تھے دوومت او سکھ تھے کونن اے پیغمبر برحق یمن  
 کافرن ہندیو مگر اہانہ کامیوسیت تہ جاہلانہ کتھوسیت مہ سپدن تھہندے ذل مبارک آزرده یہ نوکٹھاہ  
 کانہہ چھنہ بلکہ وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالُ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اَرْسَلْتُمْ بِهِ كُفْرُوْنَ سوزنہ آسہ کنہ  
 شہرس منز کانہہ بیم کرہ ون پیغمبراہ مگر تمہہ شہرہ کیو خوشال لوکو ڈوپ تمن از کین کافرن ہندے  
 پاٹھ اس چھہ تھہ سارسی انکار کران یہ ہتھ تھہ سوزنہ آمت چھوہ وَقَالُوْا مَخْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالِا وَاَوْلَادِا وَاَمَّا  
 مَخْنُ بُعَدَ بَيْنَ بیہ اس تم دنان اسے چھہ تھہندہ خوتہ زیادہ مالہ وائل تہ اولاد وائل۔ امہ اندرہ چھہ سپدان  
 معلوم زہ خدا چھہ آسہ نشہ خوش اسے چھہ تس نش مقبول تہ قابل احترام لہذا کرہ نہ سہ آسہ ہرگز عذاب  
 تھہ چھوہ آسہ ہنل کھوژہ ناوان قُلْ اِنَّ رَّبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ  
 تھہ فرماو کیو کہ یار رسول اللہ جواب کہ وسعت رزق چھہندہ دلیل مقبول عند اللہ آج بلکہ چھہ یہ محض تھہند  
 یڑھن بے شک میون پروردگار چھہ وسعت کران رزق اندر یمن یڑھان چھہ بیہ چھہ سئی کمی کران  
 رزق اندر یمن یڑھان چھہ تمن یہ چھہ تھہندس خوش آسس یا ناخوش آسس پیٹھہ دلیل۔ لیکن اکثر  
 لوکہ چھہندہ یہ تھہ زمانن تمن چھہ خیال مال تہ اولاد بکثرت آس چھہ کینہہ شرفی وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلَا  
 اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُ بِكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الصَّعِفِ بِمَا

جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿۳۷﴾ وَ  
 الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْاِيتِنَامِ مُعْجِزِينَ اُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ  
 مُخَضَّرُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  
 مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ  
 يُخْلِفُهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۳۹﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا  
 ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ﴿۴۰﴾  
 قَالُوْا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيْنَا مَنْ دُوْنِهِمْ بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ

عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ اَمِنُونَ مگر البتہ سبھو ایمان اون بیہ کر کیہ رتھہ عملہ پس تمنے لوکن ہندہ خاطرہ  
 چھہ دوگنا تھہ مزور بیہ آسن تے جنتہ کین بالاخان تہ بگلن منز آرام واطمینانہ سان بہتھہ  
 وَ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْاِيتِنَامِ مُعْجِزِينَ اُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ دون ہم لوکھ اتھہ بدل محض  
 مال واولاد آسنہ سیت مغرور آسن ایمان و عمل صالح اختیار کرن نہ بلکہ آسن سائین آیاتن پھڑاونہ تہ  
 باطل کرنہ خاطرہ کوشش کران بہتھہ آسہ یاسائین پیغمبرن عاجز کرن تمہین نار جہنمکس عذابس گرفتار  
 کرنہ خاطرہ حاضر کرنہ قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ تہہ  
 فرما یو لوکھ یار رسول اللہ بے شک میون پروردگارہ چھہ وسعت کران رزقس اندر یمن یرشان چھہ پنہ  
 نیوبندواندرہ بیہ چھہ سنی رزقس اندر تنگی کران یمن یرشان چھہ پنہ نیوبندواندرہ لہذا جھنہ خرچ نہ کرنہ  
 سیت رزق ہر ان خدایہ سنزن وتن اندر خرچ کرنہ سیت چھہ رزق کم سپدان وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ  
 فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ بیہ یہ کینہہ ہاتھہ خرچ کران چھہہ رزن وتن اندر تے سندہ حکمہ  
 موجب سہ چھہ تمیک بدلہ عطا کران دنیا س اندر تہ آخرتس اندر تہ بیہ چھہ سنی رت رزق عطا کرہ ون  
 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِهٰٓؤُلَآءِ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ بیہ بیہ دوبہ اللہ تعالیٰ  
 سارنہ میدان محشرس منز جمع کرہ توپتہ پر تھہہ ملائکن کیاہ ہم لوکھ آسہ توہی عبادت تہ بندگی کران  
 قَالُوْا سُبْحٰنَكَ ملائک دین ای سانہ پروردگارہ تھہ چھکھ منزہ تہ پاک شریک آسنہ نشہ اَنْتَ وَلِيْنَا

الْجِنَّۃَ اَکْثَرَهُمْ بِهٖم مُّؤْمِنُوْنَ ﴿۳۱﴾ قَالَ یَوْمَ لَا یَمْلِکُ بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ نَّفَعًا وَّلَا ضَرًّا وَّنَقُولُ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ذُقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِیْ کُنْتُمْ بِهَا تَکْذِبُوْنَ ﴿۳۲﴾ وَاِذَا اُتِیَ عَلَیْهِمْ اٰیٰتُنَا بَیِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا اَرَجُلٌ یُّرِیْدُ اَنْ یَّصِدَّکُمْ عَمَّا کَانَ یَعْبُدُ اَبَاؤَکُمْ وَّقَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا اِفْکٌ مُّفْتَرٰی وَّقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۳۳﴾

من دُوْنِهِمْ ژے چھٹھ سون مولا اَسْمَہ چھ ژے سیت تعلق۔ یمن لوکن سیت چھنہ کانہہ تعلق بَلِّ کَانُوْا یَعْبُدُوْنَ الْجِنَّۃَ اَکْثَرَهُمْ بِهٖم مُّؤْمِنُوْنَ بلکہ اَس تم بندگی کران جنن ہنز۔ تمواندرہ اکثر و اوس تنے ایمان اومت قَالَ یَوْمَ لَا یَمْلِکُ بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ نَّفَعًا وَّلَا ضَرًّا اللہ تعالیٰ فرماوہ از چھنہ تو بہ اندرہ کانہہ اختیار نہ کانہہ فائدہ و اتاؤنگ نہ کانہہ ضررتہ نقصان و اتہ تاؤنگ وَّنَقُولُ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ذُقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّتِیْ کُنْتُمْ بِهَا تَکْذِبُوْنَ بیہ نو اَس تمن ظالم یعنی کافران ژہو مزہ تمہ نار جہنمک تمہہ عذابک سیتہ ژہہ ایڈ زمان آسہ وَاِذَا اُتِیَ عَلَیْهِمْ اٰیٰتُنَا بَیِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا اَرَجُلٌ یُّرِیْدُ اَنْ یَّصِدَّکُمْ عَمَّا کَانَ یَعْبُدُ اَبَاؤَکُمْ بیہ یلہ تمن پیٹھ پر نہ یوان چھ سان واضح نہ آیات، دپان چھ یہ شخص چھنہ مگر اسی ہیومو ہیواہ اسی ہیوانساناہ بس پانس پیٹھیر دپان چھہ یہ چھہ یڑھان تو بہ پتھ رٹن تمن معبودن نشہ یمن معبودن نشہ یمن ہنز پر سٹش ٹھندے مال بدبب کران آس وَّقَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا اِفْکٌ مُّفْتَرٰی بیہ اَس دپان یہ قرآن مجید چھہ اپزہ ٹھراونہ آمت اچ نسبت خدایس کن صحیح چھنہ وَّقَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ بیہ آس ونان کافر تھہ پزس یعنی قرآن مجیدس یلہ سہ تمن نشہ و اتان اوس یعنی پر نہ یوان اوس دینہ اوسکھ یوان یہ یلہ ٹھراونہ آمت اپز چھہ ادہ کیازہ چھہ عاقلن نہ کاٹلین امہ سیت اثر گڑھان تمیک جواب آسے ونان یہ چھہ مگر نون جوداہ تہ سحرہ تمی چھہ لوکن پیٹھ امیک اثر سپدان تمزہ عقلہ چھہ مغلوب سپدان وَمَا اَتٰنٰهُمْ مِنْ کُتُبٍ

وَمَا اتَيْنَهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ  
 مِنْ نَذِيرٍ ۗ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَبَلَغُوا مِعْشَارًا  
 مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۗ قُلْ إِنَّمَا  
 أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفُرَادَى شُجْرًا  
 تَتَفَكَّرُونَ ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ ۗ

یَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ یمن پڑھہا قرآن مجید چہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 سز سیٹھاہ قدر کرن کیا زہہ ہیندہ خاطرہ آسہ یمہ دوشوے لغوہ غیر مترقبہ یمن ہنز نہ تمن کانہہ شاکھے  
 آس کیا زہہ آسہ نہ تمن پیٹھہ امہ قرآن مجیدہ بروٹھہ کانہہ آسانی کتاب نازل کر مٹھو سہ تم پر ان تہ  
 پرہ ناوان آسہ ہن بیتھہ پاٹھہ سوزنہ اسہ تمن گن توبہہ بروٹھہ کانہہ بیم کرہ ون پیغمبر اہ واریاہ کالہ پیٹھہ۔  
 ٹھہدہ خاطرہ اوس پیغمبر یعنی تھہد ذات مبارک تہ بد نعمت امہ نجات تہ شوبہہ ہا تمن قدر کرن مگر تمو کرنہ  
 کانہہ قدر اہ بلکہ کور کھ انکار تہ بھکذیب۔ مگر یہ بھکذیب کر تھہ بھنہ تمن فکرے روزن کیا زہہ بھکذیب کرہ  
 نگ سزا بھہ سیٹھاہ سخت وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَبَلَغُوا مِعْشَارًا مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي  
 فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ چنانچہ یمن بروٹھہ یم کافر آس تمو تہ کور پتہ نین پیغمبرن تہ تھہدس وھس انکار  
 حالانکہ یم کافر واتہ ہن نہ تمہ کس دھس حصص تہ یہ اسہ تمن عطا کور مت اوس مال و دولت و انس تہ  
 طاقت تمہ پتہ تہ بلہ تمو میانین پیغمبرن انکار تہ تہمز نا فرمانی کرادہ چھہ ژیہ خبرے میون انکار کیتھہ اوس  
 یعنی تھہدہ انکار ک مڑا کیتھہ دیت میہ تمن تیوت مال و دولت آتھہ ما او تمن لحاظ کرنہ یمن از کین  
 کافرن بھنہ تمیک دھیم حصہ تہ یمن کمیک غرور تہ پندار چھہ کہ یم چھہ کران سانین آیاتن تہ سانین پیغمبرن  
 انکار قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفُرَادَى شُجْرًا تَتَفَكَّرُونَ ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ  
 مِنْ جِنَّةٍ ۚ تہہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ تہ بھسوہ توبہہ اکے مختصر کتھہ و نان یمہ سیت واضح تہ روشن سپدہ  
 توبہہ پیٹھہ معاملہ کہ تہہہ و تھیو محض خدا یہ سندہ خاطرہ بیتھہ اندر نفسانیت یا تعصب آسہ زیزن یا الگ

بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿۳۷﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ  
 فَهَؤُلَاءِ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
 شَهِيدٌ ﴿۳۸﴾ قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ﴿۳۹﴾  
 قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿۴۰﴾ قُلْ إِنْ  
 ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُحْيِي  
 إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿۴۱﴾ وَكَوْتَرَأَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَافُوا

الگ اکھ اکھ زون تو پتہ کر تو وارہ فکر تہ غور تہندس رفیقس نئس گرہ گرہ توبہ سیت آسان چھہ یعنی میہ پانس ماچھہ کئہ قسمہ مژر عقلہ اندر کئہ قسمہ خلل نقصان تہ کمی۔ بلکہ چھہ میہ کمال عقل عطا کرنہ آمنت ان ہوا لاندیدہ لکم بین یدئی عذاب شدیدا یہ صاحب چھہ مگر تہندہ کمال شفقتہ موکھہ توبہ نیم کران اکہ اوہ ونہ سخت عذابہ نشہ۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهَؤُلَاءِ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ یہ فرماو یو کہ تہہ یار رسول اللہ کہ بیہ توبہ کانہہ مزوریہ، معاوضہ منگان چھہس دین حق و اتا ونہ خاطرہ سو مزور تہ معاوضہ گووہ توبہ مہ چھہنہ کج کانہہ ضرورتہ۔ میان مزور چھہ خدایہ سے مہ سہ چھہ پر تہہ چیزس پیٹھہ مطلع تہ گواہ قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ تہہ فرماو یو کہ بے شک میون پروردگار چھہ اپزس پیٹھہ پوزدارت دوان یمہ سیت اپزگان چھہ۔ سہ چھہ سورے غاب زانہ ون قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ تہہ فرماو یو کہ پوزدین حق او اپزدین روندنہ کئہ کامہ ہند معبودان باطل نہ بیکن گوڈہ کانہہ چیزہ اپادہ کر تھ نہ بیکن دوبارہ کانہہ چیزہ اپادہ کرتھ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُحْيِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ یہ تہہ فرماو یو کہ تہہ کہ یلہ دین اسلامگ پوز آسن ثابت سپد ہر گاہ بالفرض ڈولمت آسہ اوہ تمیک نقصان چھہ میانسے ذاتس پیٹھہ ہر گاہہ اتھ پزس دینس پیروی کرتھ سبزہ ون تہ پیٹھہ چھہس ادہ تہ چھہ تمہ کی برکتہ یہ کئیرہ ہاہ پروردگار میون مہ کئن وحی سوزان چھہ پز پانٹھہ سہ چھہ سورے بوزہ ون سیٹھہاہ نزدیک پر تھ

وَإِخْذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝ وَقَالُوا الْمَثَابَةُ إِنْ أَتَىٰ لَهُمُ  
التَّنَاوُسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ  
وَيَقْدِرُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا  
يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ۝

اک سُنْدِ حال چھتس معلوم پریتھہ اکس دیہ سُنہ پندہ عملہ موجب مزور وکو تَرَى اِذْ فِرْعَوْنُ اَفْلَاقًا قَوَّتْ  
وَإِخْذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ہر گاہ تہہ وچھو یار رسول اللہ سہ وقت یہہ ساتہ قیامتک دوہ کافر قیامتک  
احوال وچھتھہ بانبر بیت آسن خوفہ سبہہ آسن تمہ ساتہ اورہ یور کران ثلہ نچ آسکھ نہ کانہہ صور تھاہ  
فور این تم رنہہ گرفتارین کرنہ وَقَالُوا الْمَثَابَةُ وَإِنِّي لَهُمُ التَّنَاوُسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ تم ساتہ دین  
تم کافر قیامتک خوفناک حال وچھتھہ اسہ اولن ایمان دین حقس پیٹھہ وون سپدن سون توبہ قبول سہ کتہ سنا  
بنہ تمن ایمانس گن تمہ ساتہ اتھہ زیتھر اون دورہ جایہ پیٹھہ ایمان اُنہ نچ جائے اُس دنیاہ کیازہ سہ اوس  
دار العمل آخرت چھہ دارالجزاء۔ اُنہ نہ ییہ ایمان قبول کرنہ نہ ییہ کانہہ عمل قبول کرنہ نہ ییہ توبہ قبول  
کرنہ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ حالانکہ بروٹھہ دنیاس اندر موقعہ وزہ کورکھ تھہ انکار وَيَقْدِرُونَ  
بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ \* وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ  
ٹھور آو کرنہ تمن منزبہہ تہزن تمن خواہشاتن منزبتھہ پاٹھہ کرنہ آویوہے ورتاوتھندین ہم مشر بن  
سیت یمو توہ بروٹھہ گھر وشک کور۔ کیازہ تم تہ آسے ناجیران کرہ ولس بڈس شمس اندر مبتلا ایم تم  
تردوس منزاس تراومت۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلِكَةِ رُسُلًا  
 أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّتَنَّىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ بَزِيدٌ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ  
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ  
 لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهَا ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②  
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰئِکَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اَجْنَحَةٌ مَّتَنٰی وَتِلْکَ وَرُبْعٌ ساری حمد  
 ثناچھ تس معبود برحقس سزاوار یم گوڈہ پادہ کور آسمان تہ زمین بس ملائکن چھ بناوان قاصد یم ملک چھ  
 بعضہ زبہ پکھ وائل بعضہ ترہ ترہ پکھ وائل بعضہ ژور ژور پکھ وائل ژورن پیٹھ چھنہ بس کران بزید فی الخلق  
 مايشاء بلکہ چھ ہرہ راون پیدا ایشہ اندریہ یژشان چھ تہ بعضہ ملکن چھ امہ خود تہ زیادہ پکھ عطا کران۔  
 جبریل امیس چھن عطا کرہ مژہ ژوتھ پکھ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھ پریتھ  
 چیزس پیٹھ قدر تہ وول کانہ ہندہ مزاحمتہ ورائے مَا یَفْتَحُ اللّٰهَ لِلنّٰسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِکَ لَهَا وَمَا یُمْسِکُ  
 فَلَا مُرْسِیْلَ لَہُ مِنْ بَعْدِہَا وَہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ یوسہ رحمتہا مژہ راوان چھ اللہ تعالیٰ لوکن ہندہ خاطرہ تھ  
 بیحہ نہ بندہ کر تھ کانہ تھ سہ بند کرہ تھ بیحہ نہ پتہ یلہ تراوتھ کانہ۔ سئی چھ سبھاہ غالب حمتہ  
 وول يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے لو کو یاد کرو خدا یہ سزہ تمہ بیشار نعمہ یمہ توہہ تم عطا  
 کرہ نوہ تمن نعمان ہند شکر کرواد۔ سہ شکر گوویوہے کہ شرک تراوو۔ توحید کرو اختیار، چنانچہ اسہ  
 کروہ تہے باخبر دوویو بجو نعمتو سیت سوگیہ نعمت خلق تہ نعمت رزق نعمت ایجاد تہ نعمت بقا هَلْ مِنْ خَالِقٍ  
 غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کیاہ چھا کانہ پادہ کرہ وناہ معبود برحقس ورائے بس توہہ رزق



بِرِزْقِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِإِلَهِ الْإِلَهِاتِ تَتَوَكَّلُونَ ﴿۵﴾  
 وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ  
 الْأُمُورُ ﴿۶﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ  
 الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿۷﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ  
 عَدُوًّا إِنَّهَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿۸﴾ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ

سوزان چھ آسمانہ تہ زینچہ طرفہ یلہ تے اتھہ تمہ دوشوے کامہ چھہ لہذا لِإِلَهِ الْإِلَهِاتِ کانہہ معبوداہ  
 چھنہ تس وراے سئی چھہ سزوار عبادت یلہ معبودیت تسدے حق چھہ فَاكُنْ تَوَكَّلُونَ ادہ تھہ کنہ چھوہ  
 تہہ شرک کر تھہ پوت پکانوہ یوان وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ  
 اے پیغمبر بحق ہر گاہ توہمہ ہمہ مکہ ہک لوکھ اپز پوز زانان چھہ ادہ یہ کانہہ نوکتھاہ چھنہ توہہ بروٹھہ ہم پیغمبر  
 آس تمہن تہ چھہ بھکدیب کرنہ آمت لہذا ہمہ سپدو تمہ امہ سیت آزر دہ دو ہم چھہ یہ تھہ کہ سارے کامہ  
 ین خدایہ سے گن واتوانہ تے نشہ پیش کرنہ سہ انزرا وہ پانے یہ سوری توہہ مہ بروکانہہ غم۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ  
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ اے لوکو یہ بوز تھہ کہ خدایہ سے  
 گن ین واتوانہ ساری امور بیتھنہ توہہ دنیاچ زندگی دھو کہ دیہ تھہ منز بوڈ تھہ سپدو غافل قیامتہ نشہ بیہ  
 بیتھنہ توہہ دھو کہ باز شیطان بیتھہ دھو کس منز تراوہ کہ اللہ تعالیٰ چھہ غفور تہہ رحیم سہ کہ نہ توہہ کینہہ تہ  
 عذاب إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ہمزے پاتھہ یہ شیطان (تمسز پٹھہ ذکر آئیہ) چھہ تھہ دشمن  
 تہہ تہ زانیوں سہ ہن دشمن۔ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ سہ چھنہ پنہ نس جماعتس  
 نادر و ان شرکس تہ کفرس گن مگر بیتھہ تم تہ سپدن جنہمہ اندرہ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ ہم لوکھ  
 کافر سپدے میو شیطان سندس نادس اجابت کور تھہم س دھو کس منز آئے تھہدہ خاطرہ چھہ سخت  
 عذاب آخر تس اندر وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ بیہ سمو شیطانہ سز مخالفت



بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النَّشُورُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ  
جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَ  
الَّذِينَ يَبْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ

قدرت و ولئس رود تراوند بروئنه و اوسوزان چھہ ، تم و اوچھہ ٹلان او برن تو پتہ چھہ اس تم او بر پکھہ  
ناوان کنہ مردہ تہ خشک ز مینس کن تو پتہ چھہ اسی سہ زمین تمہ رودہ سیت زندہ تہ سر سبز کران تھہ پاٹھہ  
کیاہ کرو کہ آسہ لو کہ تہ قیامتک دوہ دوبارہ بیہ زندہ یلہ لو کن قیامتک دوہ دوبارہ زندہ سپدن چھہ تمہن پزہ  
متہ چہ ذلت و خواری نشہ بچہ نچ کا نہہ فکرہ کرن مُشرک چھہ شیطان سہہ اغوا سیت معبودان باطلن  
زاتان ذریعہ تمہ ذلتہ نشہ بچہ خاطرہ چنانچہ تم اس و نان ہؤ لاء شفعا نا عند اللہ یعنی یم معبودان  
باطل چھہ آسہ سفارش کرہ و ن خدائیس نشہ دنیا کین حاجتن اندر تہ آخرتس اندر تہ تھہ متعلق چھہ اللہ  
تعالیٰ فرما و ان مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا لیس اکھاہ ژھانڈان آسہ عزت دنیا و آخرتس اندر  
سہ ژھانڈان عزت خدایہ سنز فرمانبرداری کرنہ سیت تھند حکم مانہ سیت کیاہ سوروی عزت چھہ  
بالذات خدایہ سے بین چھہ عزت بالعرض لیس چیز بالعرض آسہ چھہ ہمیشہ محتاج آسان تس لیس  
متصف بالذات آسہ پس چھہ ساری محتاج عزتس اندر خدائیس یا خدائیس نفسیہ عزت حاصل کرن قولاً  
تسنز اطاعت کرنہ سیت خدائیس نشہ چھہ یکے چیز پسند چنانچہ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ خدایہ سی کن چھہ  
واتان رُت کلام تہ رت کلمات سی چھہ تمہن قبول کران۔ رتس کلامس اندر آو کلمہ ء توحید بیہ ساری  
اوراد و اذکار۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ بیہ چھہ رتہ عملہ تہ ہیور کھاران قبولیتہ چہ درگاہ منز سارے  
عملہ چھہ قبول سپدن توحیدہ سیت وَالَّذِينَ يَبْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ یم لو کہ اتھہ خلاف  
طریق اختیار کر تھہ تهنز مخالفت چھہ کران یوسہ عین مخالفت گیہ خدایہ سنز کرنے تو پتہ چھہ بچھہ بچھہ  
تدبیر کران توہہ تکلیف و اتاوند خاطرہ۔ تھندہ خاطرہ چھہ آخرتس اندر سخت عذاب لیس تمہن ذلتک  
باعث بنہ تھند معبودان باطل بیکن نہ تمہن عہہ قسمک عزت عطا کر تھہ بلکہ سپدن تم تمہن برخلاف  
وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْذَرُ تھند ساری تدبیر فند تہ فریب گڑھن بے کار۔ چنانچہ تی سپد تہ تم اس یشھان تہ  
کوشش کران اسلامکہ ختم کرہ نچ تھہ منز گے تم پانہ ختم اسلامس و ژا اللہ تعالیٰ ان روز بروز ترقی و اللہ

يَبُورُ ۱۰) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ  
 أَزْوَاجًا وَمَا تَحِبُّ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا عَلَيْهَا وَمَا يَعْمَرُ مِنْ  
 مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۱۱)  
 وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَ  
 هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لِحَمَاطٍ يَا وَيْلَتَا أَلَمْ تَخْرُجْنَ  
 حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ

خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا بے کر وہ توہ اللہ تعالیٰ ان پادہ در زمین پیدا ایش آدم  
 علیہ السلام میزہ۔ تو پتہ کرے نوہ مُستقل طور شوہہ پادہ آہ قطر س مئی ہندس تو پتہ کر نوہ تہہ جورہ  
 جورہ مردتہ زنانہ وَمَا تَحِبُّ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا عَلَيْهَا بے چہہ تہند علم امہ قسمہ کہ چہنہ کانہہ زنانہ  
 باردار سپدان بے چہنہ کانہہ زنانہ پریسان مگر سوری چہہ سپدان اللہ تعالیٰ سیدہ علمہ موجب وَمَا  
 يُعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ تہہ پائٹھ چہنہ کانہہ ہنز عمر زیادہ کرنہ یوان نہ چہہ کانہہ  
 ہنز عمر کم کرنہ یوان مگر تہہ سوری چہہ لوح محفوظس اندر لیکھتہ اللہ تعالیٰ ان پتہ علم قدیمہ موجب تہہ  
 منز لیکھتہ تھوومت إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ بے شک یر کامہ چہہ اللہ تعالیٰ اس پیٹھ سیٹھاہ آسان  
 کیازہ تہوند علم چھو ذاتی، قبل از وقوع برابر تہہ یکساں، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ سَائِغٌ  
 شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وچہہ ژہ قدر تہہ دلیلہ کہ آب چہہ اکوی مادہ باوجود آل چہہ تہہ منز  
 اختلاف۔ چنانچہ زہ سمندر چہہ بوزنہ یوان ہی مگر اکہ سمندر کہ آب چہہ مؤڈر میوٹھ تہہ مزہ دار شیریں  
 تہہ خوشگوار تریش ہمہ راوہ ون چہہ آسان تمیک ہٹہ بون والہن کیازہ طبیعت چہہ تہہ قبول کران۔ بیا کہ  
 سمندر، تمیک آب چہہ نن ثوش تہہ ٹیوٹھ تمیک اکہ دام تہہ چہنہ ہٹہ بون وسان تہہ پتہ چہہ تہندہ  
 قدر تک بے بے نشانہ کہ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لِحَمَاطٍ يَا وَيْلَتَا أَلَمْ تَخْرُجْنَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا سمو دوشوے  
 دریاو منزہ چھوہ تہہ گاڈہ رٹان تہہ تہند تازہ ماز چھوہ تہہ کھیوان بے چھوہ دوشوے دریاو واندرہ گھنہ

فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۲﴾ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ط  
ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا  
يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْبِيرٍ ﴿۱۳﴾ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ  
سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ط

کذاں یعنی محنت سے لہر تہہ کوئی گنہہ چھوہ پانس پاراں وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِرًا تَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ  
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بیہ جھٹک تہ اے مخاطب وچھان ناوہ تہ جہازہ اتھ سمندر س منز تھہ پاٹھ جھہ تم  
آبس ٹٹان پکان ہتھ تھہ تمن منز سفر کر تھہ ٹھانڈو۔ خدایہ سُنڈ فضل تہ روزی سہ روزی حاصل  
کر تھہ کرو تہنز شکر گذاری بیہ چھوہ تہنزہ بیہ قسمہ نعمو مثلاً يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ  
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى سہ معبود برحق چھہ راژ ہندین اجزاء ان وائے ناوان  
دُہیہ کین اجزاء ان منز بیہ چھہ دُہیہ کین اجزاء ان وائے ناوان راژ ہندین اجزاء ان منزیمہ سیت تم نفع  
حاصل سپدان چھہ یم دُہیہ کس تہ راتہ کس بدنس تہ تھوٹہ نس منز حاصل سپدان چھہ بیہ چھہ تم آفتاب  
تہ زون کامہ لاگہ مت، تممواندرہ چھہ پر ہتھہ اکھاہ پکان وقت مقرر رس تام یعنی قیاس تان روزن پکان  
ہتھہ پاٹھ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ یوہے پروردگار یم سندہی شان چھہ کیاہ گوو تھند پروردگار سمسز  
ساری سلطنت چھہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْبِيرٍ تس ورائے یم معبودان باطل  
چھہ یمن ہنز تھہ پرستش کران چھوہ یمن تھہ آلودوان چھوہ خدایس ورائے تم جھنہ مالک خضر آنچہ  
ہندس دیس یا تہہ کس منزہ مس پس إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ  
ہر گاہ تھہ تمن ناودوان چھوہ تم جھنہ تھند نادبوزان ہر گاہ بوزہ ہن تہ توتہ بیجہ ہن نہ تم توبہہ کانہہ مدد  
کر تھہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ تھہ چھوہ تمن خدایہ سند شریک ٹھہراوان قیامتک دودہ کرن  
تم تھندہ شرکہ نشہ انکار وَلَا يُبَدِّلُكَ وَمِثْلَ خَبِيرٍ اللہ تعالیٰ چھہ پر ہتھہ کہ چیزج حقیقت زانان اے



الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
 وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۱۸﴾  
 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿۱۹﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿۲۰﴾  
 وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿۲۱﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ  
 إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءُ ۗ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي  
 الْقُبُورِ ﴿۲۲﴾ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿۲۳﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

کرنہ سیت تمہن چھہ اکہ نتہ اکہ دوہہ ضرور امہ انکارہ سبہ ضررتلن اِنَّمَا تَنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ نَبْہ نہ حض کھوڑہ ناووکھ نہ مگر لوکھ یم پنہ نس خدا یس وجھنہ وراے کھوڑان آس بیہ یم نماز گذار آس نماز آس پابندی سان وقتہ ادا کران وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۗ نَس اکھاہ ایمان انتھہ پاک سپد شرک و معاصیو نشہ سہ چھہ سپدان پاک پنہ فائدہ خاطرہ نَس نہ ایمان آنہ سہ تلہ تمیک نتیجہ پانے کیاہہ سارنہ چھہ پتولا کہ واتن اللہ تعالیٰ اس نشہ تہ تلن تم پانے پنہ نین عملن ہند پھل تہ نتیجہ ضرور وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ یمن لوکن نشہ کیاہہ توقع بیہ تھاونہ یمن ہند ادر اک چھا با ایمان ہند ادر اک یہ چھا ممکن یم نہ کیاہہ کرن با ایمان ہند پاٹھ قبول یوز تھہ کیاہہ با ایمان ہنز مثال چھہ قبول حق کرہ نس اندر گاشدارہ سنز تہنز مثال چھہ قبول حق نہ کرہ نس اندر اعماء س نہ ناہینا سنز لہذا چھہ برابر اون تہ گاشدار وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۗ تھہ پاٹھہ با ایمان یوسہ و تھہ اختیار کر تھہ نورج کافر ن یوسہ و تھہ اختیار کر تھہ مثال چھہ تاریکی ہنز لہذا چھہ برابر گھہ تہ گاش وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۗ تھہ پاٹھہ یس نتیجہ تہ ثمرہ کفر س پیٹھ مرتب سپدہ ون چھہ تھہ مثال چھہ تہہ تا تھگ لہذا چھہ برابر خوشگوار شہل تہ توت تا پھہ تا پہ ژنڈہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۗ بیہ چھہ برابر زندہ تہ مردہ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءُ ۗ پتڑ پاٹھہ اللہ تعالیٰ چھہ بوزہ ناوان نَس یڑھان چھہ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۗ بیہ نہ حض بیکو کھنہ نبھہ بوزہ ناو تھہ تم

بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿۲۲﴾  
 وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ  
 رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۲۳﴾ ثُمَّ  
 أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۲۴﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ  
 اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا  
 أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ

یہم قبرن منز مردہ ہجھہ کافر تہ بوزی توکھ تمنے مردن ہو پتھ رود تمن ہندہ متاثر نہ سپدہ مٹو کہ تھند غم  
 کھیون تچ ہجھہ ضرورت کینہہ تہ کیا زہ ان انتی الا نذیرو یہ بیم کرن تمن چھنہ توہہ پنہ طرفہ بلکہ  
 چھہ یہ توہ سانہ طرفہ کیا زہ انا اسلنک بالحق بشیرا و نذیرا بے شک اسی سوزوہ تہہ  
 پوزدین ہیتھ بشارت فرماوہون بایمان فرمانبردارن بیم کرہون کافرن تہ نافرمانن یہ امہ شانہ سوزن نو  
 کتھاہ ہجھہ وان من امة الا خلا فیہا نذیر بلکہ کانہ امٹاہ ہجھہ گذرے مژمین منز نہ اکھ بیم کرہ  
 وناہ ہجھہ او سمت وان یکنذیبوک فقد کذب الذین من قبلہم ہر گاہ ہم کافر توہہ اپر گزران ہجھہ یہ  
 تہ نو کتھاہ ہجھہ بیشک تمولو کو تہ ہجھہ اپرے گزراومت ہم یمن بروٹھ اس پنہ وقتک پیغمبر جآءتہم  
 رسلہم بالبیّنات وبالزبیر والکتاب المنیر تمن نغمہ تہ والے تھندے بعضے پیغمبر نہ دلیلہ ہیتھ  
 بعضے پیغمبر صحیفہ ہیتھ، بعضے پیغمبر نورانی کتابہ ہیتھ تمویلہ تمہ کتابہ اپزہ زانہ تہ تمن انکار کورٹھ اخذت  
 الذین کفروا فکیف کان نکیر تو پتہ کر میہ گرفتار تم کافر اوہ ہیتھ ثریہ خبری میون انکار کیتھ اوس  
 یعنی تمہ انکار ک سزا کیتھ اوس الم تران اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا  
 الوانها کیاہ ثریہ وچھت نالے مخاطب بے شک اللہ تعالیٰ ان ترود آسمان کہ طرفہ رود۔ تو پتہ کڈاسہ  
 تمہ رودہ سیت زمینہ منزہ مختلف رنگن ہند میوہ ومن الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها  
 و غرابیب سود بیہ چھہ ہیتھ پاٹھ کو ہواندرہ تہ مختلف حصہ اڈے ووزل۔ تمواندرہ تہ مختلف اڈخت سفید



أَلْوَانَهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿۲۵﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ  
 وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ  
 مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿۲۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ  
 يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا  
 رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿۲۷﴾  
 لِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ

تہ سخت وزل اڑے کے سفید تہ کے دوزل۔ بیہ بعضے کوہ سخت کرہن۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ  
 وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ بیہ لو کو اندرہ تہ جانو اور و اندرہ چار و ایو اندرہ تمن ہندے رنگ تہ  
 مختلف ہتھے پاٹھہ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ خدا میں چھتھہ کھوڑان  
 تہند یو بند و اندرہ مگر تمے عالم تہ زان و ال تہ سمجھ دار بندہ یم دلائل قدرت و چھتھہ تمن منز غور تہ فکر  
 چھہ کر ان تہند ین دلن اندر چھہ تہنزہ عظیمتک علم حاصل سپدان پز پاٹھہ اللہ تعالیٰ اس کھوڑان چھہ  
 در ذات خود ضروری کیا زہ سہ چھو ز بردست سہ بیہ سورے کر تھہ بیہ چھہ غایت مقصودہ کہ اعتبارہ تہ  
 ضروری کیا زہ سہ چھہ پانس کھوڑہ و نین بدن سیٹھاہ خشخشاہ و ن پانس چھہ تس کھوڑان عزتک مقتضی تہ  
 غفور تیک مقتضی تہ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
 سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ بے شک یم لو کہ پیر ان چھہ قرآن مجید تو پتہ چھہ تمہ موجب  
 عمل تہ کر ان بیہ چھہ خصوصیت و اہتمامہ سان پر ان نماز برابر وقتہ پابندی سان بیہ چھہ خرچ کر ان تمہ  
 مالہ اندرہ بس اسی چھہ عطا کور مت کھٹ تہ تن پاٹھہ تہ۔ ہتھہ پاٹھہ ممکن سپد کھہ تم چھہ خدا یہ سندہ وعدہ  
 موجب امیدوار تھہ نجالت ہتھہ ہمیشہ دائمی نفع تہ فائدہ چھہ۔ ہتھہ منز نہ زانہ تہ نقصان تہ گائہ آسہ  
 کیا زہ امہ سودا ک خریدار کانہہ مخلوقاہ چھتھہ بلکہ چھہ امیک خریدار پانہ خالق کردگار۔ سہ چھہ محض  
 لو کن فائدہ و اتاؤ نہ موکھ امہ معالج قدر کر ان لِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ

شُكْرٌ ۳) وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا  
 لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۴) ثُمَّ أَوْرَثْنَا  
 الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ  
 وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ

شُكْرٌ ۳) اللہ تعالیٰ تمہیں پورے مزور دیے تھنزن عملن ہنزیبہ دیہ تمہن پتہ فضلہ منزہ بیہ بکن زیادہ مزورہ  
 پز پاتھ سہ چھ بخش ہارتہ قدر دان تھنزن عملن اندر یوسہ کمیہ آس روز مشوکری اللہ تعالیٰ ان پورہ  
 مزورہ علاوہ دیتن تمہن انعام تہ قرآن مجیدس پیٹھ عمل کر نکہ برکتہ بنیو و تمہن اجر تہ فضل تہ کیا زہ بیہ  
 قرآن مجید چھ تڑھ کتابہہ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
 بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۴) بیہ یوسہ کتاب آسہ توہہ پیٹھ نازل کر سوچھ پز کتاب یوسہ تصدیق تہ تائید چھ  
 کران تمہن بتائین بیہ تمہہ بروٹھ چھ نازل کرنہ آثرہ کہ تمہہ کتابہ تہ چھ خدایہ سدی طرفہ نازل آثرہ  
 کرنہ۔ اگرچہ تمہہ پتہ آو تمہن کتابن تحریف کرنہ اوڈملناونہ تہ اوڈ کڈنہ بے شک اللہ تعالیٰ ہتھہ پتہ نین  
 بندن ہنزی پور خبر تھاوہ ون۔ تھنزن مصلحتن چھ وارہ وچھ ون۔ لہذا یڑھہ کامل کتاب نازل کرن آس  
 تسنر مصلحت منگان۔ کامل کتابہ ہند پورہ عامل تہ چھہ کامل مزورہ ہند مستحق بلکہ اجر تہ تہ فضل تہ بیٹھ  
 گن نظر کر تھہ کر آسہ بیہ کتاب توہہ پیٹھ نازل یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ  
 اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا توپتہ واتاواسہ بیہ کتاب تمہن لوکن ہندس آتھس اندر یم آسہ پتہ نیو ساروے  
 بندواندرہ باعتبار ایمان پسند کرے۔ امہ اندرہ چھہ مراد اہل اسلام تمہم امہ ایمانکہ حیثیتہ تمام دنیا کیو لوکو  
 اندرہ خدایس نشہ مقبول چھہ اگرچہ تمواندرہ آس پیچھہ عملہ سببہ بعضے لوکھ قابل ملامت تہ مطلب چھہ  
 کہ سو کتاب واتاواسہ مسلمان ہندس آتھس اندر توپتہ چھہ تمہن مسلمان اندر برگزیدہ تہ پسندیدہ  
 آسہہ باوجود تریہ قسم فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ  
 هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۵) تمواندرہ بعضے چھہ کانہ گناہ کرنہ سببہ پتہ نین پانن پیٹھ ظلم کرہ ون۔ بعضے چھہ

هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿۳۳﴾ جَنَّتْ عَدْنٌ يَدُّ خُلُونَهَا يُحَلَوْنَ  
 فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿۳۴﴾  
 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا  
 لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۵﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ  
 لَا يَبْسُتُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَسْتُنَا فِيهَا الْغُوبُ ﴿۳۶﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ

گناہ کران نہ چھ رٹن عملن اندر ضرور یا تو نشہ تجاوز کران بلکہ چھ متوسط درجس اندر روزان بعضے چھ  
 نیکی ہیتھ بروٹھ گڑھہ ون خدایہ سندہ توفیقہ سیت گھو نشہ پتھ روزان۔ فرایضو علاوہ چھ نوافل تہ ادا  
 کران۔ غرض یہ کتاب واتنا واسہ بین تریثونی قسمن ہندین آتھن اندر۔ یہ کامل کتاب بین تریثونی  
 قسمن عطا کرنہ ذلک ہوا الفضل الکبیر یوہے گو خدایہ سند بوڈ فضل۔ امہ پتہ چھ امہ اجر و فضلک  
 تفصیل جَنَّتْ عَدْنٌ يَدُّ خُلُونَهَا يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ  
 سو بڈ ضرور کیہ ہمیشہ روزنک باغ تمنی منزواتن تم تریثونی قسمن ہندے لوکھ تہہ بیجھ گمنہ لاگنہ سونہ  
 سُنْدے کُڑے بیہ موختہ۔ بیہ آسہ پُوشاک تھند جنس اندر پوٹ توت و آتھہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي  
 أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ توت اثر تھہ دین تم جنتی تھہ یوڈ محمد یوین تس معبود برحقس یم دور کر اسہ  
 نشہ ہمیشہ خاطرہ ساری غم إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ پڑے پاتھ سون پروردگار چھ سیٹھاہ مغفرت  
 کرہ ون سیٹھاہ قدر دان الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَبْسُتُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَسْتُنَا فِيهَا  
 الْغُوبُ یم پروردگارن بساواسہ ہمیشہ تھمر نیچہ جایہ پنہ فضلہ سیت بیتہ نہ اسہ واتہ آئندہ کانہہ مشقتا نہ  
 واتہ اسہ پتہ کانہہ تکلیفا نہ تھنہاہ یہ اوس قرآن مجیدس پیٹھ عمل کرہ ونین ہند حال وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا وون سمو لوکو ہن  
 برخلاف تھر کور تھندہ خاطرہ چھ نار جہنم تمن پیٹھ نہ بیہ موتک حکم کرنہ زانہہ تا اینکہ تہی مر نہ سیت

عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿۳۶﴾ وَهُمْ  
 يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ  
 الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ  
 تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ﴿۳۷﴾  
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمُ نُذَاتِ  
 الصُّدُورِ ﴿۳۸﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلْقًا فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ

کیا وہ موملہ بن امہ عذابہ نشہ نہ پیچھ جہنمہ کس عذابس اندر تخفیف نہ کمی کرنہ کذالک نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿۳۶﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا تہہ پاٹھ کیا چھ اسے سزا دوان پر تہہ کافر س وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا تم لوکھ آس جہنم س منز کر یکہ دوان نہ و نان رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ اے سانہ پروردگارہ اہہ کڈیمہ جہنمہ اندرہ اُس کرہ ہوون سبٹھاہ رتھہ عملہ تم س عملن بدل یہ اُس کران آس اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ اللہ تعالیٰ فرما یو کہ کیا اہہ کرے یہ نا توہہ سُو عمر عطا تہہ منز نصیحت رتھہ ہا بس نصیحت رٹن آسا صرف آہہ نہ توہہ عمرے یا ز عطا کرنہ بلکہ تمہ علاوہ آو توہہ نشہ سانہ طرفہ نیم کرہ ون تہہ یعنی پیغمبر۔ مگر توہہ بوزوہ نہ کی نہہ تہہ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ وون تھہ پونہ نا فرمانی ہند مزہ۔ تھین ظالم س جھنہ بیہہ کا نہہ مدد گارہ اُسے کر وہہ مدد کیا زہ اس چھہ توہہ نشہ بے زار اہہ ورائے تہہ کرہ نہ توہہ کا نہہ مدد۔ کیا زہ تم س جھنہ مدد کرہ نس پیٹھ قدر تھہ راضی آس تن یا متہ آس تن إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمُ نُذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ تعالیٰ ای چھہ زانہ ون آسان س تہہ زمین ہندے پوشیدہ چیز س پی چھہ پور زانہ ون وکن ہنزہ سارے تھہ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلْقًا فِي الْأَرْضِ سئی گو سہ پروردگار۔ تم تہہ زمینس پیٹھ آباد کر وہ بساوے وہ یمن دلیلن تہہ نعمش ن کن نظر کر تھہ پڑہا توہہ تس شکر و شادمان۔ مگر تھہ بدل چھہ بعضے توہہ اندرہ ہُفرو انکار س پیٹھ ڈاڈ کر تھہ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا

فَعَلِيهِ كُفْرًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا  
 مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿۳۱﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ  
 شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا  
 مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا  
 فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ بَلْ إِنَّ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ  
 بَعْضًا الْإِعْرَاقَ ﴿۳۲﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

مَقْتًا پس جس اکھاہ کفر کرہ تمسندہ کفرک دوبال چھہ تس پانس۔ بیس کانسہ کیاہ بیکن تم بگار تھہ تہ نقصان کر تھہ کافرن ہرہ راونہ کفر کن خدا بیس نشہ کینہہ تہ بیزار ی ورائے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا بیہ ہرہ راوہ نہ کافرن کفر تہند آخر تس اندر کینہہ تہ تاوانہ نقصانہ ورائے سہ گو وجنتہ نشہ محروم سپدن جہنمک سئدہ ہُن قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یمن لوکن یم کفر و شرکس پیٹھہ اصرار کر تھہ چھہ فرما وونجہہ یار رسول اللہ اے مشرک۔ میہ دن تو تہہ تمن شرکیکن ہند حال یمن ہنہہ معبود برحقس ورائے پر سٹش کران چھوہ۔ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ میہ ہا تو تموگس حصہ چھہ زینک یادہ کور مت کنہہ کانہہ شر اکھاہ چھہ تمن آسمان ہندس یادہ کرہ نس اندر تہکہ کنہہ عقلی دلیلہ سیت سپدہ ہاتہند عبادتس مستحق آسن ثابت اَم آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ کنہہ اسہ چھہ دژ مشرک تمن یمنن کانہہ کتاباہ ہتھہ منز شرکسہ درست آسنک تذکرہ چھہ سہمہ چہ کنہہ دلیلہ پیٹھہ تم قائم چھہہ بَلْ إِنَّ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْإِعْرَاقَ بلکہ چھہ نہ یم ظالم اڈے اڈین وعدہ کران مگر محض دھوکہ تہ فریبک کہ تہند یو بڈیو چھہ تمن بے دلیل اکھ کھاہ دن مشرکہ یم معبودان باطل کرن تمن خدا بیس نشہ سفارش حالانکہ تم معبود چھہ بے اختیار محض۔ لہذا اتھہ پاٹھہ بیکن تم مستحق عبادت آستھہ البتہ مختار مطلق چھہہ ذات باری تعالیٰ سنی چھہ سزاوار عبادت۔ چنانچہ پروردگارہ سندہ مختار آسن تہ ورائے یم چھہ تہندہ بے اختیار آپنود لیلو منزہ چھہ اکھ مختصر تھہ بیان

أَنْ تَرْوُلَاہُ وَلَکِنَّ زَالَتَانِ أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ  
بَعْدِہٖ إِنَّہٗ كَانَ حَلِیْمًا غَفُورًا ۝۱۱۱ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَہْدَ  
أَیْمَانِہُمْ لَیْنِ جَاءَہُمْ نَذِیْرٌ لَّیْکُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى  
الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَہُمْ نَذِیْرٌ قَاذَہُمْ الْإِنْفُورَ ۝۱۱۲ اِسْتَبْکَارًا  
فِی الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّیِّئِ وَلَا یَحِیْقُ الْمَکْرُ السَّیِّئُ إِلَّا

یوان کرنے کہ تہہ وچھتو اِنَّ اللّٰهَ یُمسِکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَرْوُلَا یعنی تھ تھ چھ کہ اللہ تعالیٰ چھ  
آسمان تہ زمینس پنہ قدرتہ سیت تھھ کر تھ۔ تھھہ تم موجودہ حالت تراؤن وَلَکِنَّ زَالَتَانِ  
أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِہٖ إِنَّہٗ كَانَ حَلِیْمًا غَفُورًا بیہ ہر گاہ تم موجودہ حالت تراؤن تہ تمن  
ہیکیا کانہہ اکھاہ تھھہ کر تھہ تہ بیہ پنہ نس حالش پیٹھ قائم تھاوتھہ تس ورائے یلہ نہ عاج حفاظت کانہہ  
ہندگن بیچہ سپد تھہ پادہ کہہ سچ ہھنہ کھتھہ تہ حاجت روائی ہنز ہھنہ دلیلہ لہذا تھہ کن نظر کر تھہ یں تم زانہہ  
مستحق عبادت وونے شرک باطل آسحہ باوجود لاشریکس شریک ٹھہراون یہ اوس منگان مشرکن  
گوڑھہ فوراً سزاؤنہ یں۔ مگر چونکہ سہ چھہ سیٹھاہ حلیم تمہ موکھ چھہ سہ تمن مملت ووان کیا زہ کانہہ  
مایہہ تموا ندرہ سیزہ ووتہ کن بیہ چھہ سہ غفور سہ کرہہ بروظھن سارنہ گنہن مغفرت وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَہْدَ  
أَیْمَانِہُمْ لَیْنِ جَاءَہُمْ نَذِیْرٌ لَّیْکُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ بیہ اس کافر قریشواندرہ قبل از  
بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوردار قسم ہاوان کہ ہر گاہ تمن نشہ وائہ کانہہ بیم کرہ وں پیغمبرہ  
پیشک تلہ آسن تہے یعنی اسی پریتھہ امتہ اندرہ زیادہ ہدایت قبول کرہ ونے فَلَمَّا جَاءَہُمْ نَذِیْرٌ قَا  
ذَہُمْ الْإِنْفُورَ \* اِسْتَبْکَارًا فِی الْأَرْضِ ادہ یلہ ووت تمن نش بیم کرہ وں پیغمبر یعنی حضرت  
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھندس نفر تس سپد ہریر کیا زہ تم آسہ پانس بوزانان نفر تہ سے پیٹھ  
آس نہ اکتفا کران بلکہ آسہ تمن تکلیف تہ ایذا وائہ ناوان تہ تمہ خاطرہ بیچھہ بیچھہ تدبیر کران یم لوکھ یم  
یم تدبیر آس سانس پیغمبرس ایذا و اتا وائہ خاطرہ کران تمن ہند ضرر اوسحہ پانس پنان کیا زہ

بِأَهْلِهِ ۖ فَهَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ  
لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿۳۳﴾  
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۗ وَمَا  
كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ  
إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿۳۴﴾ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا

وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِثُّ الْمَكْرَ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ تکیف رسائی خاطرہ بچھ تدبیر کرن چھنہ ولنہ  
یوان مگر تم نے ایم سو تدبیر کروون آسن فَهَلْ يُنظَرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ کیاہ یم کافر چھاپنہ حقہ تھہ  
چیزس پیاران اُس چیز بروٹھمین کافرن ہندہ حقہ آواستعمال کرنہ یعنی تھہ پاٹھ تم گانہ آئے تھہ پاٹھ  
گڑھن یم تہ گانہ ین فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا تی بہ ضرور  
کیازہ توہہ لبونہ خدایہ سندس طریقس منز کانہہ تبدیلیاہ بیہ لبونہ تہہ خدایہ سندس اتھہ دستورس منز  
کانہہ تغیراہ تہ تبدیلیاہ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً کیاہ تم چھناہ پھیران ملکس منز۔ اُس وچھہ بن کیاہ چھہ انجام سپد مت تم  
لوکن ہند یم تمکن بروٹھ آس۔ یم آسے پھندہ خوتہ زیادہ قوتہ کن باوجود آس آئے گانہ تہ ختم کرنہ  
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ اللہ تعالیٰ چھنہ تھہ اُس کیاہیکہ عاجز کر تھہ کانہہ چیزاہ فی  
السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ آسمان اندریازمین اندرکیازہ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا بے شک سہ چھہ  
سورے زانہ ون سارے پیٹھ قدرتہ وول۔ علمہ سیت چھہ سہ پن پر تھہ ارادہ نافذ کران۔ دویم چھنہ  
کانہہ اکھاہ تھہ۔ لہذاہیکہ نہ اُس کمنہہ اکھاہ مغلوب کر تھہ۔ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ  
عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَنْبَةٍ ۚ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ہر گاہ اللہ تعالیٰ یمن لوکن گھرہ

كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهِا مِنْ دَابَّةٍ وَّالَكِنْ  
يُؤَخِّرُهُم إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝۳۵

جبن کابین پیٹھ رٹہ ہاگر فگار کرہ ہاتلہ چھڑبانہ ز مینس پیٹھ کانہہ حرکت تہ صرصر کرہ ونس جاندارس  
کیازہ نافرمان گیو پوزے فرمانبردار تہ بہن بیمہ دنیا منزہ بیس عالمس منزواتناوندہ حیوانات تہ بہن ختم  
کرنہ کیازہ تم ساری چھ انسان ہندی خاطرہ ہتھ دنیا س منز۔ لیکن سہ چھ لوکن مہلت دو ان اکس  
مقرر کرنہ آمتیس وقتس تان **فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا** ادہ یلہ تم ن پن مقرر  
کرنہ آمت وقت ولتہ، پس چھ اللہ تعالیٰ پنہ نین بندن ہند سوری حال پورڈ چھ ون۔ تمس چھ ساری  
بندہ نظری۔ پس تم یہ کورمت آسہ تم ن دیہ سہ پانے تچ مزور رٹہ کامہ رٹمزور بچھ کامہ بچھ مزور۔







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 یس ۱ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ ۲ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ ۳ عَلٰی صِرَاطٍ  
 مُسْتَقِیْمٍ ۴ تَنْزِیْلِ الْعَزِیزِ الرَّحِیْمِ ۵ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اُنذِرَ  
 اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۶ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی اَکْثَرِهِمْ فَهُمْ  
 لَا یُؤْمِنُوْنَ ۷ اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَافًا فِیْ اِلٰی  
 الْاٰذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ۸ وَجَعَلْنَا مِنْ اَیْدِیْهِمْ

یس یم چھ حروف مُقطعا تو اُندرہ زہ حرف۔ امیک معنی زان پانہ پروردگار وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ قسم  
 چھ مضبوط و محکم با حکمت قرآن مجید اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ بے شک چھوہ تے اے محمد پیغمبر  
 و اُندرہ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ سیزہ و تہ پیٹھ۔ یس تہمز پیروی تہ متابعت کرہ سہ و اتہ خدا یس نش۔  
 تَنْزِیْلِ الْعَزِیزِ الرَّحِیْمِ نازل چھ یہ قرآن مجید کورمت تے خدا لیں یس سیٹھاہ غالب چھ یس سیٹھاہ  
 رحمتہ و ول چھ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اُنذِرَ اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ تہ اوہ پیغمبر سوزنہ تہ تہ تمہ یم کرو  
 خدا یہ سدہ عذابہ نشہ گوڈہ تہ قومس یمن ہندین مالین بذبن اوس نہ امہ عذابک یم آمت کرنہ  
 تمہی چھ تمہ دین حقہ نشہ بے خبر لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی اَکْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ بے شک تمہو  
 اندرہ چھ اکثرن پیٹھ از لکہ تقدیر چ تہ برابر آمر تہ موکھ اتن نہ تم ایمان اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ  
 اَغْلَافًا فِیْ اِلٰی الْاٰذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ تہنز مثال چھ زن اسہ چھ تراومت تہنز ان گردن منز  
 غول تم غول چھ تہ ہو تھنن تان۔ یہ سبہ تم کلہ ہور گن تھا و تھ و تھ چھ تھنہ بوزنہ یوان تہندہ  
 ایمانہ دُور آچ چھ بیا کھ مثال۔ وَجَعَلْنَا مِنْ اَیْدِیْهِمْ سَدًّا وَاَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَعْشٰیٰهُمْ فَهُمْ

سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ ⑨  
 وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑩  
 إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ  
 فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ⑪ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى  
 وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي  
 إِمَامٍ مُّبِينٍ ⑫ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ

لَا يَبْصُرُونَ بے زن اسے قائم کو رمت چھتہ تمن بروٹھ کنہ اکھ دیوارہ۔ بے تہنزہ تھر کنہ تہ بیاکھ دیوارہ تو پتہ چھ ولت اسے تم پر پتھ طرفہ پس چھن تمن بوزنی یوان کینہہ دوشونے مثالن ہند حاصل چھہ ای کہہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ہشی تھہہ چھہ ٹوہہ تمن بیم کر تو یا متہ کر تو۔ تم ایمان ان نہ ہرگز إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ تہہہ کرویم تس لیس نصیحتہ موجب پکے بے کھوڑہ حضرت رحمانس وہجھہ ورانے فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ تھس شخص دیوتہہ بشارت گو نهن ہندہ بدہ مغفر تہ۔ بے طاقت و عمل کر نس پیٹہ رتہ معاوضہ۔ ای اندرہ سپد معلوم کہ یم تھہ پھرن تہ گرا ہی اختیار کرن تم چھہ مغفر تہ رتہ عوضہ نشہ محروم۔ اگر چہ امہہ جزاء و سزاء ک ظہور دنیا س منز سپدن لازم چھنہہ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ کیا زہ اس کرو کہ اکھ دوہہ ساری مردہ زندہ تہی دوہہ سپدہ امیک ظہور بے چھہ اس تمہہ سارے عملہ لیکھان یمہ تمہو بروٹھ کن سوزہ بے چھہ اس لیکھان تمہہ عملہ تہ یمہ تمہہ کن تراوان چھہ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ بے چھہ اسے پر پتھ چیزا لیکھتھ تھوومت واضح کتابہ منز یعنی لوح محفوظ منز تہندہ عملہ اندر انہہ بروٹھ۔ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ بےہہ کرو تہہہ بیان تمن کافرن بروٹھ کنہ (تھہہ تانسید سپدہ تھندس رسالتس بے سپدہ تھندس انکار توحید و رسالت کرہ نس پیٹہ حجت قائم) مثال اکھہ گامہ کین لوگن ہنز نیلہ اتھہ ہستی منز سوز اسہہ کینہہ پیٹہر

جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۳﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا  
فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿۱۴﴾ قَالُوا  
مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ  
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿۱۵﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ  
لَمُرْسَلُونَ ﴿۱۶﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۷﴾ قَالُوا  
إِنَّا نَطِيرُنَا يَوْمَئِذٍ لَكِن لَمْ تَنْتَهُوا الْزُّجُمَكُمْ وَلَيْسَتْ لَكُمُ  
مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۸﴾ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ يٰ كُوْهُنِ سُوْرَةِ تَمِيْمِ  
نِشْرَه زه پيغمبر تموزان تم دوہ شوے اپز تو پتہ کور اسہ تمں دون پيغمبرن مدد تر تمس پيغمبره سده سیت تمو  
تریشوے پيغمبر و دوپ تمں لوکن بیشک چھ آسے تو بہ گن خدا یہ سده طرفہ پيغمبر۔ تہہ کرو تو حید اختیار ت  
پرستی تراو قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ  
تمو لو کو دوپ ہکھ تو بہ منز کیاہ خصوصیت چھ پيغمبر آسہ نغ تہہ چھوہ نہ مگر اسی ہوانسان خدائے  
رحمان چھنہ آرتان کانہہ چیزے کتاب یا احکام نازل کر مت تہہ تریشوے چھوہ بالکل اہزونان قَالُوا  
رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ تمو پيغمبر دوو پیک سانس پروردگار س ہتھ معلوم کہ بے شک تہ  
یقیناً چھ اس تو بہ گن تہدی طرفہ بطور رسول سوزنہ آمت وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ آسہ  
پیٹھ چھنہ مٹہ مگر شتھ واتہ ناون پورہ پورہ سو کام کر آسہ وون چھ مان یا نہ مان تہنز کام قَالُوا إِنَّا  
نَطِيرُنَا يَوْمَئِذٍ لَكِن لَمْ تَنْتَهُوا الْزُّجُمَكُمْ وَلَيْسَتْ لَكُمُ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تہہ پورہ تہندہ تحریک سیت لوکن منز تفرقہ تہ فساد لکین لَمْ تَنْتَهُوا الْزُّجُمَكُمْ وَلَيْسَتْ لَكُمُ مِنَّا عَذَابٌ  
أَلِيمٌ ہر گاہ نے تہہ پتہ روزویہ تبلیغ کرنہ نشر یہ تھ و نہ نشر اس لا یوہ تو بہ گنہ یہ واتہ تو بہ سانہ

ذُكِرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿۱۹﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا  
 الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۰﴾  
 اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۲۱﴾  
 وَمَالِي لَأَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَالَّذِي تُرْجَعُونَ  
 إِلَيْهِ مِنْ دُونِهِ إِنَّهُ أَلِيمٌ ﴿۲۲﴾

طرفہ سخت عذاب تہ رنگارنگ تکلیف قَالُوا اطَّيَّرْكُمْ مَعَكُمْ أَلَمْ يُدْخِلْكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ پیغمبر دو پیکھ ٹھنز نحوستھ چھ توہہ گوڈہ بیٹھے پانس سیت کیا زہ ساری تکلیف چھ توہہ حق قبول نہ کرنہ موکھ ہر گاہ ٹہہ ساری دین حق قبول کر تھ متفق سپدہ ہوتیلہ نہ آسما توہہ پانہ وان جنگ وجدال نہ فتنہ تہ فساد نہ آسہو ٹہہ قحط سالی تہ در اگس مبتلا۔ کیاہ ٹہہ چھوہ تھہ تھہ نحوستہ زنانان یوسہ نصیحت سعادتک کن تہ بنیاد چھ واقفس منز یہ نحوست بھنہ بلکہ چھوہ ٹہہ عقلم ہندہ تہ شرعک حدہ زشمہ ڈلوان تہ مخالفت شرعہ سیت واثر توہہ یہ نحوست امہ گفتگو اوج خبریلہ شہرس منز شائع سہز وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى توپتہ آوشہر کہ اندرہ بیٹھہ اکھ شخصہ اوس مسلمان اوس دوران دوران بیتھنہ یم لوکھ پیغمبرن کینہہ تکلیف واتناون یمہ سیت تو مک تو م تباہ گوڈہ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ \* اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ تم شخصن دو پیکھ ای لو کو پیغمبرن ہنز کرو پیروی۔ ٹہہ پکوضرور تہنزہ وتہ یم نہ توہہ سیزو تھ ہاونہ خاطرہ ٹنہ قسمہ معاوضہ منگان چھہ بیہ چھہ تمپانہ سیزہ وتہ پیٹھ تمکن کانہہ خودغرضیاہ بھنہ اتھ اندر۔ وَمَالِي لَأَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَالَّذِي تُرْجَعُونَ مینہ زشمہ کیاہ عڈر بھنہ تہ مینہ کیاہ گو کہ بہ کیاہ کرنہ بندگی تس پروردگارہ سزیم ہم بہ پادہ کورس۔ وئن اوس اہس توہہ کیاہ گووہ ٹہہ چھوہ نہ پروردگارہ سز عبادت کران ہم ٹہہ پادہ کمر نوہ یہ وون امی پانہ سے بیٹھ نہ مخاطبن باعث اشتعال سپدہ۔ بیہ چھوہ توہہ سارنہ تس کن رجوع عکرن، پتولا کہ واٹن موجودہ حالتس کن نظر کتر تھ گمہ بھنہ بیجو تہہ تس برونٹھ کنہ بھنہ دتھ ءَأَخِذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرِيدِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا

شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقَدُونَ ﴿۳۳﴾ اِنِّي اِذَا الْفِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿۳۴﴾ اِنِّي  
 اَمْنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿۳۵﴾ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لَيْلِي قَوْمِي  
 يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ بِمَا غَفَرْتَنِي رَبِّي وَجَعَلْتَنِي مِنَ الْمَكْرَمِيْنَ ﴿۳۷﴾ وَمَا  
 اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهِ مِنْ اَبْعَدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿۳۸﴾  
 اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خُمُودٌ ﴿۳۹﴾ يُحْسِرَةُ عَلٰى

تَنْعَمِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقَدُونَ کیا بہ ہیکہ تھند پاتھ تھس ورائے تم تم چیز معبودز آنتھ تم  
 ہندہ عجز کیفیت یہ چھ کہ ہر گاہ خدای رحمان مہ نسبت کا نہہ تکلیفہاہ وائتہ ناؤن یشہ تم معبودان  
 باطلن ہنز سفارش ہیچہ نہ میہ کا نہہ فایدہ وائتاؤ تھہ نہ ہیکن تم پانہ پتہ قدرتہ سیت تہ طاقتہ سیت میہ  
 تمہ تکلیفہ نعہ موہ کلاؤ تھہ اِنِّي اِذَا الْفِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ہر گاہ بہ پتھ نابہ کار پنی معبودز اکھ تلہ تھس بہ  
 تھہ نمراہی منز اِنِّي اَمْنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ میہ چھ تھندس پروردگار س پیٹھ ایمان اوئمت۔ ٹوہہ تہ  
 بوڑویہ میان تھہ وارہ۔ مگر تم لوکن پیٹھ پیوندہ آس شخصہ سنزن تھن ہند کا نہہ اثر بلجہ روچھ تو پتہ  
 موڑکھ۔ کتھ لائی کوڈہس جان یازو لکھ تارس اندر یا چور ہس ہوٹ۔ بہر حال یمو تریہ طریقو آندہ  
 اکہ طریقہ کوڑکھ شہید قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ شہید سپدو نے سپد تھس خدایہ سندہ طرفہ ارشاد کہ اے  
 باایمانہ گھہ اٹھ جنس قَالَ لَيْلِي قَوْمِي يَعْلَمُونَ \* بِمَا غَفَرْتَنِي رَبِّي وَجَعَلْتَنِي مِنَ الْمَكْرَمِيْنَ سُو باایمان  
 لوگ امہ ساتہ تہ ونہہ کاشمہ میانس قومس سپد ہا معلوم میون حال، کہ مہ کرہ مغفرت میان پروردگارن  
 ایمان و اتباع رسول کہ برکتہ بیہ کورنس بہ باعزت لو کو آندہ۔ یہ بوڑ تھہ انہ کن تم تہ ایمان۔ تم تہ بیہ  
 ہاتھ پاتھ مغفرت کرنہ تہ عزت دنہ۔ یلہ امہ شہرہ کیولو کو پیٹھنر تہ تھندین تابعن سیت بیٹھ معاملہ  
 کور۔ اسہ ہیوت تم امیک انتقام ہینہ خاطرہ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهِ مِنْ اَبْعَدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا  
 مُنْزِلِيْنَ وائل نہ اسہ تھس باایمانہ سندس قومس پیٹھ تھندہ شہید سپد نہ پتہ سہ قوم گال نہ خاطرہ کا نہہ  
 لشکرہ ملاکن ہند آسماجہ طرفہ نہ اس آسہ تیج ضرورت کیا زہ تھند ہلاک کرن اوس نہ محتاج عینہ جہ لشکرہ

الْعِبَادَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۱﴾ أَلَمْ يَرَوْا  
 كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۳۲﴾ وَإِنْ  
 كُلُّ لُكَّا جَمِيعٍ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۳۳﴾ وَإِنَّ لَهُمُ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ  
 أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿۳۴﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَاتٍ  
 مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿۳۵﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ  
 ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ

کن ان کانت الایصیة واکدۀ فاذا هم خميدون بلکہ اوس سہ سزا کہ۔ سخت آوازہ جبریل امینہ سز  
 یابیہ کانسہ ملکہ سز۔ یان سوہ کرکھ کئیہ تان شیلے تم ساری یحضرہ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا  
 کانوا بہ یستہزؤن افسوس تھین بدن ہندس حاس پیٹھ یکن نشہ یلہ ووت کانہ پیغمبرہ تیلہ آس تم  
 تس پیغمبرس لسنہ تہ ٹھٹھہ کران آلہروا کما اھلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون کیاہ تمو  
 وچھہ ناسہ کاژاہ جماژتہ کاژاہ امو کرہ تمن بروٹھ ہلاک محض امی موکہ کہ تم آس سائین پیغمبرن  
 ٹھٹھہ کران تہ اپزیری زانان یم نہ زانہ تمن نشہ واپس بیکن چتھ دُنیاہس گن۔ اتھہ تھہ اندرے تم  
 ذرا غور کرہ ہن ممکن اوس کہ تکذیب واستہزاء نشہ روزہ ہن ہتھہ وَإِنْ كُلُّ لُكَّا جَمِيعٍ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ  
 چھٹھہ تمو اندرہ کانہ تہ بس نہ قیامتک دوہ سارنہ لوگن سیت آسہ بروٹھ کتہ حاضر کرنہ بیہ۔ وَإِنَّ لَهُمُ  
 الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ بیہ چھو لوکن ہندہ خاطرہ سانہ قدر تک بوڈ نشانہ  
 بیہ توحیدج بدلیل۔ مردہ زمین بس اسی زندہ چھن کران رودہ سیت تو پتہ چھہ اسی کڈان تمہ زمینہ منزہ  
 غلہ تہ اتاج۔ تمہہ منزہ چھہ لوکہ کھیوان وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ  
 بیہ کر اتھہ زمینس منزہ آسہ خضر کلین ہند بیہ دچھہ رائٹھن ہند باغ۔ تمنے منز کور جاری آسہ ناگہ رادہ  
 کولہ لیا کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ بیٹھ لکھ کھن اتاجک پاٹھ تمیک میوہ تہ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ تم  
 چیز کرنہ پادہ تہند یوا تھو اگرچہ بیول وہہ سگ دچ کلام کر تمو ی مگر پھل تہ غلہ پیدا کرن چھہ اللہ تعالیٰ

الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُخْتِطُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾  
 وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ سَلَخَ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿۳۷﴾  
 وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۳۸﴾ وَالْقَمَرَ  
 قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿۳۹﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي  
 لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

سزے کام بیہ نہ کانسہ ہنز۔ کیا ہر ذہ قدر تجہ دلیلہ و جھتہ تہ کرن نام شکر گذاری سمیک گوڈہ نیک  
 ہیرہ پووجہ توحید مَبْنُ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُخْتِطُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ منزہ تہ  
 پاک چھ سہ ذات پاک سم پیدہ کر پندہ قدر تہ سیت سارنہ چیزن ہندے جورہ تہ مقابلہ تمو چیز واندرہ  
 یمن کھاران چھ زمین نباتا تو اندرہ بیہ جھہ بے کیفیت خود تمن ہندیو پندہ نیوڈا تو اندرہ یعنی بشر تہ  
 انسانو اندرہ چھ اڈ موہنوی آجہ زنانہ۔ بیہ تمو چیز زواندرہ یمن ہنز نہ تمن خبرے چھ کینہ۔ غرض کیاہ  
 خدایہ جھہ ساری مخلوق کرن پادہ اکہ اک سندے مقابل پانہ چھ خالق یکتا مقابل تہ جورہ آسنہ نشہ منزہ  
 تہ پاک وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ سَلَخَ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ بیا کہ نشانہ چھ لوکن ہندہ خاطرہ خدایہ  
 سندہ قدر تک، راتک وقت۔ تاریکی اصل آسنہ موکہ جھہ آفتابک گاش تھہ پیٹھہ اکہ مسئلہ ہیو۔ تمی راژ  
 پیٹھہ یلہ آس والان چھ دُبھمہ گاشک سہ مسئلہ سم اتی جھہ لوکہ واتان بیہ انہ گئی منز وَالشَّمْسُ تَجْرِي  
 لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ بیا کہ نشانہ جھہ محبوبو برحق سزہ قدر تک آفتاب۔ بس پکان چھہ  
 پندہ مقررہ جلیہ پیٹھہ۔ بیہ جھہ اندازہ کورمت سیٹھاہ زبردست، سیٹھاہ زانن والی خدانن وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ  
 مَنَازِلَ بیہ کراسہ زونہ ہندہ خاطرہ پڑاومقرر۔ یم اٹھوہوہ جھہ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ تائینکہ  
 پکان پکان چھہ سوہ بیہ گڑھان ہو چھہ مژ پراَن خضر چہ مور ہش لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ  
 وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبِقُونَ اسہ چھہ زونہ تہ آفتابہ پکہ تک تیتھہ اندازہ تھوومت،  
 بیہ چھہ اسہ رات ودبھمہ بیہ گڑھہ تک سہ انتظام کورمت کہ نہ بیہمہ آفتاب زونہ رتھہ کیاہ سہ چھہ اکس

يَسْبَحُونَ ﴿۳۶﴾ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿۳۷﴾  
وَحَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿۳۸﴾ وَإِنْ نَشَاءُ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ  
لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقذُونَ ﴿۳۹﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿۴۰﴾ وَإِذَا  
قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۴۱﴾ وَمَا

آسمانس پیٹھ یہ چھ بیس آسمانس پیٹھ۔ نہ ہیچہ راتھ بروٹھ گوتھتھ دوہ ہس پریتھ اکھاہ چھہ یواندرہ اکس  
اکس آسمانس منزٹھانٹھ وایان یعنی پکان۔ پریتھ اکھاہ چھہ پنہ نس پنہ نس دایرس منز حسابہ موجب  
تمہ طریقہ پکان اکھ اکسندس حسابس منزتہ انتظامس منز ہیچہ نہ کانہہ اکھ خلل تر آوتھ یعنی آفتاب ہیچہ  
نپانے پنہ اختیارہ تمہ ساتہ طلوع عکرتھ، پنہ روشنی سیت زمین روشن کرتھ۔ سمہ ساتہ آفتاب آہ  
زمینس پنہ روشنی سیت نورانی گران حدیث شریفس منز چھہ کہ آفتابک مستقر چھہ عرش مجیدس  
تل۔ یہ چھہ غروبہ وقتہ سجدہ دوان تھ منز حکم دریافت کران بیہ دہکے طلوعک۔ اکہ دوہہ بیہ تس حکم  
کرنہ کہ طلوع مہ کر۔ واپس گوتھ تپاری پیار اکھ۔ تمہ دوہہ کھسہ آفتاب مغربہ کہ طرفہ۔ سہ چھہ  
قیامتہ چونشانو اندرہ اکھ نشانہ **وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ** خدایہ سندہ قدر تک  
بیا کہ نشانہ چھہ لوکن ہندہ خاطر کہ اسہ تل تھند آباء واجداد تھ ناوہ منز یوسہ برتھ آس ضروریاتو سیت  
**وَحَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ** بیہ کراسہ پادہ تمن ہندہ خاطرہ تھس ناوہ ہشہ بیہ ناوہ یکن منز تم سوار  
سپدان چھہ۔ بیہ تھ ناوہ ہی بیہ تم چیز یکن پیٹھ تم سوار سپد تھ خشکی ہند سفر کران چھہ یعنی وونٹھ  
وغیرہ۔ چنانچہ عرب چھہ ونان وونٹس سفینتہ البر خشکی ہنز ناوہ۔ اتھ منز چھہ شامل تمہ سوارہ ہیہ نوہ ایجاد  
آیہ کرنہ۔ ریل موٹر، ہوائی جہاز، راکٹ وغیرہ ہشہ **وَإِنْ نَشَاءُ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقذُونَ**  
ہر گاہ اس یٹھ ہو تم پھاٹھ وھو کہ تمونان ووسان۔ پس آسہ نہ تھندہ خاطرہ تمون معبودان باطلواندرہ سمن  
تم شریک خدازانان چھہ کانہہ فریادرس وایتہ وناہ۔ نہ ین تم بچاونہ پھٹنہ کیو حادثاتونٹھہ **إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا**  
**وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ** مگر چھہ تم پختھ سانی مہربانی سیت بیہ چھہ تم تمتع تہ فایدہ تلہ ناوان دنیاجہ زندگی ہند





تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿۵۱﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاذَاهُمْ  
 مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿۵۲﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا  
 مِنْ مَرْقَدِنَا ۗ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿۵۳﴾  
 إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاذَاهُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۵۴﴾  
 فَالْيَوْمَ لَأَنْظِلَّ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۵﴾ إِنْ  
 أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ ﴿۵۶﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ

پیاران مگر کنی سخت کریکہ یعنی نفخہ اولی یوسہ تمن ہجھہ تہ معھ رطہ۔ تم آسن پانہ وان تمہ وقتہ حسب معمول پنہ پن معاملاتن اندر ہرہ ہرے کران تہ آوازہ سینگی گڑھن تم ختم فلا یستطیعون تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ پس ہیکن نہ تم تمہ ساتھ شریں باژن ہمدہ خاطرہ کانہ وصیتاہ کر تہ۔ نہ ہیکن پنہ نس عیالس گن وائس ہی تہ۔ ئیس پتہ نس آسہ سہ مرہ تہتی تہ۔ یہ گوہ گوہ ڈہ نیک پھوکہ۔ یہ سیت ساری مران وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ توپتہ یہ تہ تہ تہ و ہر بیا کہ پھوکہ دنہ پوغس منز سہ سیت ساری یہ دوبارہ زندہ سپدن یان سہ پھوکہ پیہ دنہ تام نیران قبر و منزہ توپتہ ہیکن پنہ نس خدائس گن دوران دوران۔ توپتہ یلہ تہ ہولناک تہ ہیبت ناک حالات و تہن قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ۗ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ حیران سپد تہ ون آک اگس ہائے افسوس آس کی سناٹل نندرہ ہنزہہ جلیہ نشہ یعنی قبر و منزہ۔ ملایک ونہ نکہ۔ ہیکن چھہ سو قیامت سہیک وعدہ حضرت رحمن اوس فرماوان پوز آس فرماوان پیغیر مگر تہ آسوہ نہ مانان۔ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاذَاهُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ بہر حال سہ نفخہ ثانیہ یعنی دو تم پھوکہ آسہ گنی سخت کریکہا یان سوسپدہ تان یان تم ساری جمع سپد تہ آسہ برونٹھ گن حاضر کرنہ فَالْيَوْمَ لَأَنْظِلَّ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پس تمہ دوپہ یعنی قیامتگ دوہ پیہ نہ کانسہ شخصس گنہ قسمہ ظلم کرنہ یہ ایوہ نہ توہہ جزاتہ بدلہ دنہ مگر تمے کان من ہمدیہ تہہ دنیاء ہس منز کران آسوہ یہ گوونارہ کیکن لوکن ہند

عَلَىٰ الْأَرَائِكِ مُتَّكُونَ ﴿۵۷﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴿۵۸﴾  
 سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿۵۹﴾ وَامْتَاذُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿۶۰﴾  
 أَلَمْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ بَنِيَّ أَدْمَانَ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  
 مُّبِينٌ ﴿۶۱﴾ وَإِنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۶۲﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ  
 مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿۶۳﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي  
 كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۶۴﴾ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۶۵﴾ الْيَوْمَ

حال إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكُهُونٌ بے شک جنتی آسن تمہہ دو بہہ واریہن شغلن سیت  
 خوش دل ہوں وَاذْذُوا جَهَنَّمَ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكُونَ تم تہزہ ہبہ زانہ آسن ساین تل۔ مزمین  
 تہبہ آرایش کرنہ آستین پلنگن پیٹھ بھجیہ و تہ بہتہ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ تہبہ خاطرہ آسن  
 تمن جتنن منز کم میوہ بیہ آسہ تہبہ خاطرہ سوزے تہ تم خواہش تہ رغبت کرن سَلَامٌ قَوْلًا مِّن  
 رَبِّ رَحِيمٍ بیہ بوزن تم سلام رحمتہ والس پروردگارہ سہہ طرفہ۔ پانہ فرماوہ تمن سلام رحمتہ وول  
 پروردگار تمن لفظن اندر السلام علیکم یا اہل الجنۃ وَامْتَاذُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ حکم سپدہ موقفس منز  
 اصحاب نارن کہ جداروز وازبا ایمان نشہ ای کافر و کفر و شرنگ جزم کرہ ویوہ لوکو۔ کیا زہ با ایمان بین  
 سوزنہ جتنس کن۔ تہبہ ایوسوزنہ نار جہنمس کن۔ تمی وقتہ بیہ تمن بطور زجر و ملامت ونہہ أَلَمْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ  
 بَنِيَّ أَدْمَانَ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ای بنی آدم موکیاہ میہ آسوہ ناتہرہ عمدہ کرہ ناومت۔  
 بیہ اوس نامیہ تاکیدی حکم کورمت کہ تہتہ تہہ پرستش تہ عبادت کمریو شیطانہ سز کیا زہ سہہ تہبہ  
 نون دشمن وَإِنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بیہ آسموہ ناعمدہ کرہ ناومت کہ عبادت کری زہ میانی  
 یا تہبہ ہتھوہ سبیز و تہہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ بے شک تم ڈال توہبہ  
 اندرہ واریاہ لوکہ۔ کیا تہہ آسوہ ناریہن تہ زانان کہ اگر آسن ایس شیطانہ سندہ گراہ کرنہ سیت ڈلو تہ  
 گراہ سپدو آسن تہ عذابس مستحق هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ کیا گو سہہ جہنم سمیک توہبہ وعدہ

نَحْتُمْ عَلَىٰ أَقْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَكْسِبُونَ ﴿۱۵﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى  
يُبْصِرُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا  
مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۷﴾ وَمَنْ نُعِِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا  
يَعْقِلُونَ ﴿۱۸﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ  
مُبِينٌ ﴿۱۹﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۲۰﴾

یوان اوس کرند۔ اِصْلُوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ اُتْرُو اَتْهہ جہنمیں اندر پہنچے تو بہہ انکار آسوہ کران الْيَوْمَ  
نَحْتُمْ عَلَىٰ أَقْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تمہہ دوہہہ کرو اُس موہر تہندین  
چائین پیٹہ تو پتہ کرن کتھ اُسہ سیت تہند اتھ۔ بیہ دن گواہی تہند کھور تین سارے کائین ہنزیمہ سم  
کران اُس دنیاس اندر۔ یہ عذاب سپدہ تین آخرتس اندر وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ  
فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ہر گاہ اُس بڑھ ہو دنیا سے منز دمہ ہو اُس تین تھرک سزا۔ گاشہ روستوی کرہ ہو کہ اچھ  
تہزہ۔ اچھی تھادہ ہو کہ نہ تہنہ۔ تو پتہ تہن تم وتہ کن پکن نہ دورن۔ سوکتہ سنالیہ تھہ وتھہ بوزنہ۔ اچھو  
ورائے یا اچھن ہندہ گاشہ درائے وَلَوْ نَشَاءُ لَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ  
امہ خوتہ زیادہ بیہ ہر گاہ اُسے بڑھ ہو تھرہ کس سزاس منز تہن مسخ صورت کرن ضروریکہ ہو کہ مسخ  
صورت کمر تھہ۔ یتہ نس آسن تے نس گروہن روز تھہ۔ پس بیکہ ہن نہ برو تھہ پتھہ نہ پوت پھیر تھہ۔  
مسخ صورتس سیت سپدہ، تھہ ژو کھور۔ اکسہ جلیہ گڑھہ ہن روز تھہ۔ یہ گڑھہ نہ کینہہ عجایب زانن کیا زہ  
انچ اکھ نظیر بھہ موجود وَمَنْ نُعِِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ بیہ نس تھخص اُس زیادہ عمر بھہ  
دوان تھس چھہ اُسے صورتس منز تبدیل کران۔ کیا بیہ حالت وچھت تہ چھنا تہن فکرہ تران وَمَا  
عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ سم کافر، یم نبوتس انکار کرنہ خاطر حضرت  
محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر و دان بھہ بیہ تہند دن چھہ محض باطل، کیا زہ اُسہ بھنا ونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مَا عَمِلَتْ أَيْدِيئَانَا مَا فُهِمَ لَهُمَا لِيَكُونَ ﴿٤١﴾  
 وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٤٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ  
 وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٤٣﴾ وَاتَّقُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ  
 يَتَصَرَّوْنَ ﴿٤٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ ﴿٤٥﴾ فَلَا

بآ تھ وٹن۔ نہ چھ تھندس شانس سزاوار کیا زہ تم چھہ اعلیٰ درجہ تھق۔ مضامین شعر یک بنا چھہ  
 محض تخیلاتن پیٹھ آسان۔ یمن دون کھن منز چھہ کافی تانی تہ تافض یہ تم بیان کران چھہ تہ چھنہ مگر  
 نصیحک کلام۔ بیہ احکام الہی سنہ راہون قرآن مجید لَیْسَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَصَرَّوْنَ  
 یٹھ تم بیم گرن تس شخصس تم سندا دل زندہ آسہ۔ بیہ یٹھ کافرن پیٹھ عذائے نبی تحت قاسم سپدہ۔ تمن  
 بیہ ونہ باجودا یں کہ خے بوزوسان احکام مگر بوزتھ کتر وانکار أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مَا عَمِلَتْ أَيْدِيئَانَا  
 فَمِنْهَا لِيَكُونَ کیاہ تمو مشرک لو کو کتر نا یٹھ ٹن نظر کہ آسہ کور تھندہ فایدہ تہ نفعہ خاطرہ پنہ نیو اتھو  
 سیت بناوے متوجیہر و آندرہ چارواے پاہ۔ چنانچہ سان مالک بناونہ سیت بنائے تم تمن چاروا لکن ہند  
 مالک وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ بیہ کتر آسہ تم چاروا آے رام تہ مسخر تھندہ خیطرہ۔ پس  
 چھہ تمو آندرہ اڈین پیٹھ سوار سپدان بیہ چھہ تمو آندرہ اڈین تم کھیوان وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ  
 أَفَلَا يَشْكُرُونَ بیہ چھہ تھندہ خاطرہ تمن چاروا یں منز واریاہ فایدہ بیہ دوو چنہ چہ جاہ۔ کیاہ اتھ پیٹھ تہ  
 کرن تا تم شکر گزار می سان یٹھ منز ساروے چیز و آندرہ اہم تر اقدام اوس توحید قبول کرن۔ مگر تمو  
 کور شکرہ تہ توحیدہ چہ جاہہ ٹھر تہ شرک اختیار وَاتَّقُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يَتَصَرَّوْنَ بیہ یسہ  
 مہر بانیہ عطا کتر تھ ٹھر او تمو معبود برحقس ورائے اپز معبود۔ یٹھ دوو میز پیٹھ کہ دیوہ تمن معبودان  
 باطلن ہندہ طرفہ واتہ کا نہ مدواہ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ مگر تم یسکن نہ تمن ٹنہ قسمہ مدد کتر تھ۔ مدد کرہ  
 نچ کیاہ تھ چھہ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ حالانکہ تم تہ یں ٹھند فون یٹھ یجہ وٹہ جبر حاضر کرن۔ تو پتہ  
 کرن تھنزے مخالفت تمن خلاف دن بیان دیکھ نہ آسونہ آسہ عبادت کران۔ دون یلہ تم لوکھ تمن

يَخْرُجُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ وَمَا يَعْلَنُونَ ﴿۱۰﴾ اَوْ كَمْ رِيَ الْاِنْسَانُ  
 اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿۱۱﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ  
 نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿۱۲﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي  
 اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿۱۳﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن

واضح ہے صاف امور ان خلاف کران چھہ فلا یخْرُجُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ وَمَا يَعْلَنُونَ پس منہ حض  
 کمران غمگین تو بہ یار رسول اللہ حمزہ کتھہ توحید و رسالت متعلق۔ کیا زہ آزدگی چھہ سپدان امیر ہنزہ  
 جلیہ۔ دو میز ہنزہ جلیہ چھہ آسان سے مخاطب کس عقل و انصاف آسہ۔ ہم لو کہ چھہ غبی۔ لہذا چھہ  
 تمن عقل۔ بیہ چھہ تمن لو کن غبار لہذا معاندس نشہ انصافک توقع تھا ون چھہ غلط۔ لہذا چھہ تمن محل  
 امیدے۔ تھہ کن نظر کمر تھہ چھہ غم کھیٹک تہ کا نہہ موئے۔ بے شک اس چھہ زانان تہ سورے یہ تم  
 کھٹھہ کران چھہ دن اندر۔ بیہ یہ ظاہر کران چھہ تم زیو و سیت۔ وقت و اتن تمن بیہ تمہ ساتہ پور سز اذ نہ  
 اَوْ كَمْ رِيَ الْاِنْسَانُ اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَاذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ بیہ و چھنا ام انسان کس مرنہ پتہ۔ بیہ پیدہ سپدنس  
 انکار چھہ کران کہ آسہ کورسہ پادہ آگس حقیر آہ قطر س۔ لازم او س تس انسانس تمنن یہ ابتدائی حالت  
 ژیتس پاو تھہ انہ ہائے زیر نظر تمنن حقارت تہ پنہ نس خالقہ سز عظمت تو پتہ کرہ ہائے جزأت انکار کرہ  
 ٹک۔ نہ کرہ ہاگتانی اتھہ پیٹھہ اعتراض کرہ ٹک۔ شرمندہ گی سیت گلہ ہاندر اندری بیہ کرہ پایا نے پنہ  
 نس اتھہ حالس پیٹھہ نظر کمر تھہ مرنہ پتہ زندہ سپدنس اقرار تہ پڑھ۔ تہ کورن نہ بلکہ لوگ تن پاٹھہ  
 اعتراض گرنہ۔ بلکہ کورن آسہ سیت مقابلہ کمر تھہ قیاس انکار وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ  
 يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ بیہ لگ بیان کرہ سانس شانس منز عجیب عجیب مثالہ سمہ سیت انکار قدرت  
 چھہ لازم یوان۔ تمن اصلیت گمیس بخندے۔ یاد رودس نہ۔ حقیر قطرہ آتھہ بنو آسہ انسان۔ یوہے چھہ  
 دپان، کوہ بیہ زندہ کمر تھہ دودرے مژہ اڈے جہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ  
 تھہ فرمایوس یار رسول اللہ تمن دودرے مژن گڑہ زندہ سنی ذات پاک۔ تم ہم پادہ کرہ گوڈنچہ لہ

الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿۸۰﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي  
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ  
 الْخَلِيقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۱﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۸۲﴾  
 فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۳﴾

یلہ نہ یہ کنھی اوس یلہ یہ حیاتہ نشہ سیمشاہ دور اوس۔ وون چھہ ام کہ لکہ حیات وز ندگی قبول کورنت۔  
 وون پادہ کرن کیاہ عجائب چھہ۔ سہ چھہ پرستہ طریقہ پادہ کرن پور زمان۔ ابتداء تہ۔ دوبارہ تہ۔ تس نشہ  
 چھہ کنھی مشکل لِذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ سہ گوئے قدرتہ  
 وول بس ٹہمدہ خاطرہ سبز اسبز کلہ منزہ نار چھہ پادہ کران۔ ادہ چھوہ تہہ تمہ سیت تھہ ووان تہ ہرہ  
 ہیوان۔ چنانچہ کلیو منزہ چھہ بعضہ کل سمن ہنزہ کہ چہ ستے پس چہ گھہر دھہ نار چھہ نیران۔ اَوَلَيْسَ  
 الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کیاہ سہ ذات پاک تم آسمان تہ زمین تم بڈ  
 مخلوقات پادہ کمر چھہا قدرتہ وول سہ کیاہ کرہ انسانس ہوس لوکس مخلوقس دوبارہ بیہ پادہ بلی  
 وَهُوَ الْخَلِيقُ الْعَلِيمُ البتہ سہ چھو بوڈ پادہ کرہ وون پادہ کرن پور زمان إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ  
 كُنْ فَيَكُونُ ٹہنز قدرت چھہ تہہ کہ یلہ سہ ارادہ چھہ کران ٹہہ چیز کہ پادہ کرہ نگ۔ سہ چھہ بیان  
 تہہ چیزس سپد پادہ۔ اتی چھہ سہ چیز پادہ سپدان۔ تس نشہ کوسہ تھہ چھہ وون مشکل فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ  
 مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اترہو کھو سیت سپد نکاہت کہ سہ معبود چھو منزہ تہ پاک تم سندس  
 اٹھس منز سارنے چیزن ہند اختیار چھہ۔ سہ چھہ کٹہ چیزس اندر کٹہ قسمہ عاجز۔ ٹہہ ساری بیو تس گن  
 پتولا کہ قیامتک دوہ و اتاوند۔



## سُورَةُ الصّافاتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 وَالصّٰفّٰتِ صَفّٰٓٔا ۝۱ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۝۲ فَالتّٰلِیٰتِ ذِکْرًا ۝۳  
 اِنَّ الْهٰکِمَ لَوٰحِدٌ ۝۴ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَبَیْنَهُمَا وَرَبُّ  
 الْمَشٰرِقِ ۝۵ اِذَا زَیَّتَا السَّمٰءَ الدُّنْیَا بَرِیْنَةً لِّلْکَوٰکِبِ ۝۶ وَحِفْظًا  
 مِّنْ کُلِّ شَیْطٰنٍ تَّارِدٍ ۝۷ لَا یَسْتَمْعُوْنَ اِلٰی الْمَلٰٓئِکَةِ وَیَقْدُوْنَ  
 مِّنْ کُلِّ جَانِبٍ ۝۸ دُخُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝۹ اِلَّا مَنْ خَطَفَ

وَالصّٰفّٰتِ صَفّٰٓٔا قسم چھہ تمن ملائکن ہند تم عبادت کریمہ وقتہ یا حکام الہی بوزیمہ وقتہ صف دی دی  
 چھہ ایستادہ روزان فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا بیہ چھہ قسم تمن ملائکن ہند تم ذوتہ و نین تارکن ہندہ ذریعہ  
 آسانی خبرہ اندہ نین شیطان گر نزلہ لار کران چھہ فَالتّٰلِیٰتِ ذِکْرًا بیہ چھہ قسم تمن ملائکن ہند تم یاد  
 خدا تسبیح و تقدیس ہران چھہ۔ تم تر یہ قسم چھہس بہ ہاوان چھہ کتھ پیٹھ کہہ اِنَّ الْهٰکِمَ لَوٰحِدٌ بے شک  
 تہند معبود چھہ اکوے رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَبَیْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشٰرِقِ کج دلیل چھہ بتکے کہ سہ چھہ  
 پروردگار آسمان تہ زمین ہند۔ بیہ تمہہ سارے یہ آسمان تہ زمین در میان چھہ۔ بیہ چھہ سے پروردگار  
 تمن سارے جانے ہند تمن جانے ساری ستارہ طلوع کران چھہ اِذَا زَیَّتَا السَّمٰءَ الدُّنْیَا بَرِیْنَةً لِّلْکَوٰکِبِ پز  
 پاٹھ اسہ ڈیت زینت تہ اسی کر آرائش چھہ آسمان ستارن ہندہ سیت وَحِفْظًا مِّنْ کُلِّ شَیْطٰنٍ تَّارِدٍ  
 بیہ کتر حفاظت تہ آچھہ سمویہ تاروسیت آسانی خبرن پر چھہ سرکش تہ شریر شیطانس نشہ لَا یَسْتَمْعُوْنَ  
 اِلٰی الْمَلٰٓئِکَةِ وَیَقْدُوْنَ مِّنْ کُلِّ جَانِبٍ \* دُخُوْرًا چنانچہ تمی موکھ چھہ تم شیطان ہیکان نہ گن دتھ  
 ملاء اعلیٰ اس یعنی ملائکن ہنزن مجلس۔ بلکہ چھہ ہز تھ یوان دنہ تم پر چھہ طرفہ۔ دکہ دی دی چھہ تم



الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَائِبٌ ۱۰ فَاسْتَفْتِيَهُمْ أَهْمُ أَسَدٌ خَلَقَا مِمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ ۱۱ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۱۲ وَإِذَا ذُكِرُوا بِالْأَيْدِ كُرُوفًا ۱۳ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ۱۴ وَقَالُوا لَئِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۱۵ إِذْ أَمْتَنَا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ ۱۶

دور یوان کرنے۔ یہ گو تو تین دنیاءس اندر سزا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَمِبٌ۔ بیہ چھ تہندہ خاطرہ آخر تیس اندر ہمیشہ گی ہند عذاب نار جہنم س اندر لَأَمِنْ خُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَائِبٌ مگرے کانہہ شیطانہ تھہ تھوسہ کانہہ خبراہ بیتہ ژلان چھہ۔ تیس چھہ پئے لار ان کہ نارہ ریاہ اکہ زوتہ ون تہ پرزلہ ون۔ سوے چھہ تیس گالان فَاسْتَفْتِيَهُمْ أَهْمُ أَسَدٌ خَلَقَا مِمَّنْ خَلَقْنَا تھے پر ژھو تین مگر ن یار رسول اللہ یم انکار چھہ کران قیاس تہ مرنہ پتہ بیہ زندہ سپد تیس، تم لاجواب گر بچہ طریقہ کہ کیاہ تم پادہ کرن چھا سخت کنہ تم مخلوق تم آسہ پادہ کمر، تین ہنز ذکر کرنہ آسہ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ تم لوکھ چھہ آسہ پادہ کمر منبت لار تھہ گزھہ ونہ تہ پھاجہ میزہ۔ تھہ نہ کانہہ قوتھاہ تہ طاقتھاہ چھہ تیس یلہ آسہ طاقت تہ قدرت چھہ ابتداء قوی تہ سخت مخلوقات پادہ کرہ تیس پیٹھ، ضعیف تہ سست مخلوقات بیہ دوبارہ پادہ کرن کیاہ مشکل چھہ آسہ نشہ۔ مگر باوجود اژھہ واضح دلیلہ بیان کرتھہ تہ چھہ تم لوکھ مرنہ پتہ بیہ زندہ سپد تیس پڑھہ گران بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ تھہ چھوہ بلکہ یہ ہندس حاسل پیٹھ تعجب کران کہ تین کونہ

چھہ بیہ صاف تھہ فخرہ تران۔ تم چھہ انکار کر بچہ علاوہ تہزن کنھن پیٹھ تمسخر تہ ٹھٹھہ کران وَإِذَا ذُكِرُوا بِالْأَيْدِ كُرُوفًا یلہ تین فخرہ یوان چھہ تارنہ، فہمائش تہ نصیحت چھہ یوان کرنہ تین چھہ کنہ قسمہ فخرہ تران وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ بیہ یلہ وہجان چھہ تم کانہہ مگر اہ تیس تین ثبوت نبوت خاطرہ ہاونہ یوان چھہ تھہ چھہ ٹھٹھہ تہ تمسخر کران وَقَالُوا لَئِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ بیہ چھہ دپان بیہ معجزہ چھہ صاف جودتہ سحر إِذْ أَمْتَنَا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ کیاہ سنایلہ آسہ مرو تہ میزہ گزھہ او بچے یاژھہ روزو توپتہ سمو آس دوبارہ زندہ کمر تھہ تھو دتکنہ اَوَابًا وَكُنَّا الْأَوَّلُونَ کیاہ سان برو تھم مال بڈ ب تہ بیہ

أَوْ آبَاؤَنَا الْأَوَّلُونَ ﴿۱۴﴾ قُلْ نَعْمَ وَأَنْتُمْ دُخْرُونَ ﴿۱۵﴾ فَأَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ  
 وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۱۶﴾ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿۱۷﴾ هَذَا  
 يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿۱۸﴾ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا  
 وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿۱۹﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى  
 صِرَاطِ الْجَنَّةِ ﴿۲۰﴾ وَقَفُّهُمْ إِيَّاهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿۲۱﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ ﴿۲۲﴾ بَلْ  
 هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿۲۳﴾ وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۲۴﴾  
 قَالُوا لَنْكُمُ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿۲۵﴾ قَالُوا بَلْ كُنْتُمْ نُومًا مُمِينِينَ ﴿۲۶﴾

یہ زندہ کرنے قُلْ نَعْمَ وَأَنْتُمْ دُخْرُونَ تمہے فرمائیو کہ یا رسول اللہ اوہ تمہے چہ ضروریہ زندہ کرنے۔ یہ  
 سپد تمہے ذیل سے خوار فَأَمَّا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ قیامت چہنہ مگر گنی کریکھاہ۔ یاں سو کریکھ  
 گڑھہ آتی نیرن لوکھ زندہ گڑھتھ قبر ومنزہ تو پتہ لگن حیران سپد تھ وچہنہ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ  
 یہ دین افسوس سانہ خاطرہ اوہو، یہ چہہ جزاءک دودہ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ونسہ پتہ کھ  
 اوہ یوہے کیاہ گو فیصلک سہ دودہ پتہ تھے انکار کران آسوہ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ \*  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَنَّةِ حکم سپدہ ملائکن کہ سونہر آویو کہ تم لوکھ سمو ظلم کو رپان  
 پائس شر کہ سیت، یہہ تمہد تابع تہ ہیر وہیہ تہند مجبودان باطل بہنہز تم عبادت کران آس مجبود بر حقس  
 ورائے یعنی شیطان تہ پوتل تو پتہ ہاویو کہ چہنہ سچ و تھ یعنی وابتاویو کہ جہنم آندر وَقَفُّهُمْ إِيَّاهُمْ  
 مَسْئُولُونَ سردست ٹھہر آویو کہ تم دودھہ ذہہ تھاویو کہ تم تمہن چہہ کینہہہ پر ژھن مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ  
 دپنہ پتہ کھ توہہ کیاہ گووہ، تمہے چھوہ نہ اکھ آگس مدد کران بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ بلکہ آسن تم تمہہ  
 دودہہ اکھ آگس ٹھولہ دودہو نے تہ اکھ آگس نشہ بے توجہ سپد ہونے وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ تو  
 پتہ پھیرن تم اڈے اڈین گن۔ اکھ آگس گن متوجہ سپد تہ گرن سوال و جواب قَالُوا لَنْكُمُ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿۳۱﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا  
 قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّآ لَذٰۤاۤئِقُوْنَ ﴿۳۲﴾ فَاَعُوْٓبِكُمْ اِنَّا كُنَّا حٰوِيْنَ ﴿۳۳﴾ فَاِنَّهُمْ  
 يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿۳۴﴾ اِنَّا كُنَّا لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿۳۵﴾  
 اِنَّكُمْ كَانُوْۤا اِذْ اَقْبَلْ لَكُمْ لَالٰهَۃٌۭ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَيَقُوْلُوْنَ  
 اِنَّا لَتَارِكُوْا الْهَيْۤتَۃَ الشّٰعِرِۙ مَجْنُوْنٍ ﴿۳۷﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ  
 الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۳۸﴾ اِنَّكُمْ لَذٰۤاۤئِقُوْا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴿۳۹﴾ وَمَا تَجْزَوْنَ الْاِمَا

عَنِ الْيَمِيْنِ چنانچہ تابع دین متبوع عن اُس کمرے وہ تو ہی گمراہ۔ کیا زہنہ آسوہ آسہ نشہ زبردستی سان  
 ڈالنے یوان۔ آسہ پیٹھ آسوہ دباؤ زور تر آو تھ آسہ گمراہ کران قَالُوْۤا بَلْ كُنَّا نُوْمِنُ بِمَنْ تَمَّ مَتَّبِعِيْنَ  
 دیکھ سون زور اوس نہ توہم پیٹھ کینہہ تہ۔ بلکہ آسوہ نہ نہی پانہ ایمان نہ دن وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ  
 بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ بیہ اوس نہ توہم پیٹھ سون کانہہ زور تہ جبر۔ بلکہ آسوہ تہی پانہ سر کش توہاہ فَحَقَّ  
 عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّآ لَذٰۤاۤئِقُوْنَ معلوم چھہ سپان کہ اُس ساری اُس ازلی محروم ایمانہ نشہ۔ تمہی سپز آسہ  
 پیٹھ ازلی تھہ محقق تھہ گن نظر کمر تھہ چھہ آسہ سارنے عذابک مزہ ضرور ژہنن فَاَعُوْٓبِكُمْ اِنَّا كُنَّا حٰوِيْنَ  
 آسہ ڈال وہ نہہ۔ اُس آس پانہ تہ ڈع لمتے راہ راستہ نشہ فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ کس آسن تم  
 ساری تمہہ دوہہ عذابس اندر شریک اِنَّا كُنَّا لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ اُس چھہ نافرمان جرم کارن سیت یوہ  
 ہے سلوک کران اِنَّكُمْ كَانُوْۤا اِذْ اَقْبَلْ لَكُمْ لَالٰهَۃٌۭ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ہم گے تھے تمن نہ توحید چ پڑھ  
 آس نہ رسالت۔ ونہ اوس یوان تمن دنیاس اندر ہنر ولالہ الا اللہ۔ تورہ آسے سر کشی تہ تکبر کران  
 وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّا لَتَارِكُوْا الْهَيْۤتَۃَ الشّٰعِرِۙ مَجْنُوْنٍ دپان آس کیاہ اُس ترا وکھ پنے معبود اُس شاعر س تہ  
 دیوانس اک سندہ ونہہ موجب۔ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان یہ پیغمبر برحق نہ چھہ شاعر تہ نہ چھہ دیوانہ بَلْ  
 جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِيْنَ بلکہ چھہ پیغمبر برحق آؤسہ تمن نشہ پوزدین بیتھ۔ بیہ چھہ سہ  
 بروٹھمن پیغمبر تہ تصدیق تہ تائید کران اِنَّكُمْ لَذٰۤاۤئِقُوْا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ اے مشرکوتہ کافر توہم

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾ الْإِعْبَادَ لِلَّهِ الْبُخْلِصِينَ ﴿۳۲﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ  
 مَّعْلُومٌ ﴿۳۳﴾ قَوَائِمٌ ۚ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿۳۴﴾ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿۳۵﴾ عَلَى سُرُرٍ  
 مُتَقَابِلِينَ ﴿۳۶﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۚ بَيْضَاءَ لَدَانَةٍ  
 لِلشَّرِيبِ ۚ لَافِيهَا عُورٌ ۚ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزِفُونَ ﴿۳۷﴾ وَعِنْدَهُمْ قُصِرَاتُ  
 الطَّرْفِ عِينٌ ﴿۳۸﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مِّثْقَالُ ذَرَّةٍ ۚ فَاذْبُقْهُنَّ عَلَى بُعْضٍ

سارنے یعنی تابعین سے متبوعین سے چھ دگ تلوہ ونہ عذابک ضرور مزہ ڈھن و ما تجزؤن الا انما کنتم  
 تعملون اتھ منزہتھ توہہ پیٹھ کا نہ ظلم کیا زہ توہہ بیہ نہ سزا دہہ مگر تم نے کائین ہند یہ تہہ کران آسہ  
 الاعباد اللہ البخلصین مگر چھہ محفوظ عذابہ نشہ پروردگارہ سند خاص کرنہ آمت، ڈار نہ آمت نہ  
 شرکہ نشہ صاف و پاک کرنہ آمت بندہ۔ مراد چھہ تمو اندرہ اہل ایمان۔ تمو کمر پزنج پیروی۔ اللہ  
 تعالیٰ ان کمر تم مقبول نہ مخصوص بندہ اُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ لہذا چھہ تہہہ خاطرہ سے رزق تیار  
 تھا ونہ آمت سمیک حال قرآن مجیدہ کین بن سوزن اندر معلوم چھہ سُد مت قَوَائِمٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ  
 یعنی کم کم میوہ بیہ بیہ تمن سیٹھاہ عزت کرنہ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ نعمون ہندین باغن اندر علی سُرُرٍ  
 مُتَقَابِلِينَ تختن پیٹھ آسن رو برو اکھ آسن کن بٹھ کمر تہہ بہتہ۔ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ پھرہ  
 ناوندہ بن تمن نشہ پیالہ ہم پکہ ونہ تہ جاری شراب طہورہ سیت بز تہہ آسن۔ بَيْضَاءَ لَدَانَةٍ لِلشَّرِيبِ سنی  
 شراب آسہ سفید، صاف و شفاف۔ لیس چنیں اندر چینہ والین سیٹھاہ لذیذ معلوم آسہ سپدان لَافِيهَا  
 عُورٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزِفُونَ نہ آسہ تہہ شرابس منز کلہ دودتہ نہ بے ہوشی تہ نہ عقلہ ہند نور وَعِنْدَهُمْ  
 قُصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ تمن نشہ آسن بیہ تہہ جورہ تم نہ پنہ نین مردن ور آے کانہہ کن آچھہ نلان  
 آسن۔ تم آچھہ آسکھ و تھہہ و تھہہ۔ کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مِّثْقَالُ ذَرَّةٍ تہہ جورہ آسن سفیدر آچھہ کرنہ آمت پھرہ  
 تنک ٹھول ہشہ۔ یعنی گردوغبارہ نشہ محفوظ۔ تو پتہ یلہ تم با ایمان آگس جلس، مجمعس منز جمع آسن  
 فَاذْبُقْهُنَّ عَلَى بُعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ کس پھیرنہ متوجہ سپدان اڈے اڈین کن تہہ اکھ آگس ہین دنیاہ ک

يَتَسَاءَلُونَ ۝۵۰ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۝۵۱ يَقُولُ  
 إِنَّكَ بَيْنَ الْمُدَدَيْنِ ۝۵۲ إِذْ امْتَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا  
 ءَأَنَا الْكَاذِبُونَ ۝۵۳ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُونَ ۝۵۴ فَاطَّلَمَ  
 فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝۵۵ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لِتُرْدِيَنِ ۝۵۶  
 وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضِرِينَ ۝۵۷ أَفَبِمَنْ حَنُنِ  
 بَيِّنَاتٍ ۝۵۸ إِيَّاكُمْ تَتَّبَعُوا الْاَوَّلَىٰ وَمَا خُنُّ بِعَدِيْبٍ ۝۵۹ إِنَّ

حالاتھ پر ژھنہ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ تمو منزہ ونہ اکھ وَاَنْ وولاه زہ دنياع س اندر اوس  
 ميہ اکھ ملاقاتيا، مُشْرِك سى اوس ميہ بطور تعجب پر ژھان يَقُولُ إِنَّكَ بَيْنَ الْمُدَدَيْنِ سہ اوس  
 دپان ميہ كياہ ژہ چھکھ چھکھ تھہ تصديق کران ءَاذِ امْتَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ءَأَنَا الْكَاذِبُونَ اس يلبہ  
 مرو تو پتہ سڀدو ميتر تہ اُدجہ تہ پتہ سموہ اُس بيہ زندہ کرنہ۔ كياہ تو پتہ بيا سہ جزاوسز اوينہ۔ سہ ميون  
 ملا قاتى اوس مر نہ پتہ بيہ زندہ سڀدس مُشْرِك سہ آسہ ضرور جہنم س و تومت۔ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُّطَّلِعُونَ  
 اللہ تعالٰى سُنْد ارشاد سڀدہ کہ اے جنتيو كياہ تہہ چھونہ سہ كافر و چھن يژھان اگر يژھان چھوہ توہہ چھوہ  
 تميگ اجازت فَاطَّلَمَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ اتى ديبہ نظر سہ جنتى، وچھہ تس مُشْرِك ملا قاتيس  
 جہنم س منز باگ دزان قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لِتُرْدِيَنِ دپيس قسم خدا ژيہ هيہو تھس بہ تباہ کرن، ڈلہ  
 تر لون كھوہ ڈس منز۔ ژيہ هيہو تھس بہ تہ قيامت مڪر بنون۔ از آسہ ہابہ تہ ژے سيت عذابس گرفتار  
 وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضِرِينَ ہر گاہ نے ميانس پروردگارہ سز ميہ پيٹھ مہر آنى تہ فضل  
 آساہوہ تہ آساہوہ تہ سيت عذابس گرفتار۔ مگر خداين كور ميہ پُن بوڈ فضل۔ بوہ تھووس صحیح اعتقاد س  
 پيٹھ قائم۔ تو پتہ ونہ يہ جنتى پنہ نين اہل مجلسن كُنْ أَفَبِمَنْ حَنُنِ بَيِّنَاتٍ كياہ وون وچھنا اسے جنتى  
 مرہ و نين اندر زانہہ إِيَّاكُمْ تَتَّبَعُوا الْاَوَّلَىٰ مگر سہ مران نيس برونٹھ کہ پھر دنياع س اندر لبہ آو۔ وَا  
 خُنُّ بِعَدِيْبٍ بيہ بيہ نہ آسہ عذاب تہ کرنہ زانہہ إِنَّ هَذَا لَهُمْ أَقْوَرُ الْعَظِيمِ اللہ تعالٰى چھہ فرماون

هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۶۱﴾ لِيُبْتَلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعِبْلُونَ ﴿۶۱﴾ أَذَلِكَ خَيْرٌ تُزَلُّ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوِمِ ﴿۶۲﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿۶۲﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿۶۳﴾ طَلَعَهَا كَأَنَّه رُءُوسُ الشَّيْطَانِ ﴿۶۴﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَا لَئُونٌ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿۶۴﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴿۶۵﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ ﴿۶۶﴾ إِنَّهُمْ أَقْوَابُ آبَاءِ هُمْ ضَالِّينَ ﴿۶۷﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ

کہ جنس اندر و انتہہ روحانی تہ جسمانی لغوہ حاصل سپدہ، بے شک بھنے نگہیہ بڈر ستگاری لیبتل ہذا فلیعمل العبلون یرھی کامیابی خاطرہ گوشہ عمل کرہ و نین ہنز عمل کرن، ایمان اُن تہ اطاعت کرن اذک خیر تزلل اَمْ شجرۃ الزقوم یہ جنت تہ سمہ جلتیہ لغوہ چھا بہتر دعوتہ کن با ایمان ہندہ خاطرہ کہ نہ زقوم کل سمیک میوہ بیوہ تہ پھک لہ پھک کافر ن ہندہ خاطرہ انا جعلناہا فتنۃ للظالمین بے شک آسہ کورسہ زقوم کل آخرتس اندر عذابگ ذریعہ بناوچہ علاوہ ظالم ن ہندہ خاطرہ امتحانگ تہ آزمایشہ ہند سبب کہ سہ کل بوزت کرنہ سم تھہ پڑھ کہہ انکار تہ استہزاء۔ چنانچہ تموک کافر و کور استہزاء، تہ انکارے۔ دہنہ لگ کہ کتہ پھہ بوزمت از تاں نارس اندر کل آسن۔ اللہ تعالیٰ پھگ فرماوان انا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم سوچھہ اکھ کلاہ نئس کھوئمت چھہ جہنمہ کہہ کتہ تلہ نارہ منزے نازک کل کھوئمت۔ پتھہ پاتھہ دنیاس اندر نارس اندر کہہ خاص قسمک لگر پادہ سپدان تہ نوان چھہ تم ن لگرن چھہ ”سمندروان“ طلعاہا کاتہ رؤس الشیطان تمیک پھل تہ میوہ آسہ سرفہ کلہ ہی بد شکل تمی سیت پیہہ کرنہ ظالم ن ہنز دعوتہ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَا لَئُونٌ مِنْهَا الْبُطُونَ بوجھہ سیت یلہ بے تاب آسن سپدان پس آسن تم یوہے پھل کھیوان۔ تمی سیت آسن یڈ بران ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ توپتہ یلہ تریش آسیکہ لگان تم آسن تھہ پیڈہ بلہ نانہ آمز سر سخت تیز گرم آب پتھہ سیت پال تہ پا کہہ ملہ نانہ آمت آسہ تریشہ بدل چاوند یوان ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ توپتہ آسہ

يُهْرَعُونَ ﴿۴۰﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۴۱﴾ وَلَقَدْ  
 أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿۴۲﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
 الْمُنْذِرِينَ ﴿۴۳﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۴۴﴾ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ  
 فَلْنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿۴۵﴾ وَجَجِبْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۴۶﴾  
 وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿۴۷﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۴۸﴾  
 سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿۴۹﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۰﴾

سمن بیہ و اہل سن نارِ جسمس منز۔ یعنی تمت روزن بدستور۔ یہ بیٹھ عذاب کیا زہ سنا بیٹھ کرنہ۔ تم کیا  
 آس نہ خدایہ سندہ ہدایہ موجب پکان بلکہ اِنَّهُمْ الْفَوَا اَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ تمولب بمن مال بدب  
 ذلت فہم علی اشرہم یہرعون کس آس تم تہ تمنے پتہ پتہ آچھ و بیٹھ دوران سمن اُتہ وقتہ کین کافرن  
 بروٹھ تہ و لَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ بے شک ذلت آس بروٹھمہ اندرہ اکثر لوکھ و لَقَدْ  
 أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ تو پتہ سوز آسہ تمن منز بیم گرہ ون پیغمبر فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
 الْمُنْذِرِينَ کس و چھ زہ تمن بیم بیم کرنہ آستین ہند انجام کیا ہ پد۔ کتھ پاٹھ گئے تم عذابس گرفتار  
 کس عذاب تمن پیٹھ دنیا سے منز کرنہ اَوَّ الْأَعْبَادِ اللَّهُ الْمُخْلِصِينَ مگر بچائے تمہ عذاب دنیوی نشہ  
 اللہ تعالیٰ سند خاص کرنہ امت بندہ و لَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلْنِعْمَ الْمُجِيبُونَ تقہیق بیہ کور آسہ نشہ فریاد  
 نوح علیہ السلام یاری تہ مدتہ خاطرہ۔ یعنی دُعَا مَوجِکھ۔ کس کمر آسہ تمن فریاد سی کیا زہ آسہ ہجھ رث  
 فریاد سی کرہ ون وَجَجِبْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ تو پتہ ذیت آسہ نجات تس بیہ تہمدین تابعین جہ  
 پریشانی تہ غمہ نشہ یعنی کافرن ہندہ ایداء و تکلیفہ نشہ۔ بیہ انکار تکذیبہ نشہ۔ طوفانہ سیت کمر تم کافر  
 غرق۔ تمن تہ تہمدین تابعین ذیت نجات وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ تو پتہ کمر آسہ تہمز ذریت پتہ  
 کُن باقی روزہ ون۔ بیہ کانسہ ہند نسل رودنہ ہجھ کُن باقی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ آسہ تھو و تھندہ ذر کزیم  
 پتہ یوہ نین منزوار جسمس کالس تان سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ پر بیٹھ طرفہ آسہ لوکن ہنزن

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۱﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرِيثَ ﴿۸۲﴾  
 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِابْرَاهِيمَ ﴿۸۳﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۸۴﴾  
 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿۸۵﴾ إِنِّي كُنَّا لِلَّهِ  
 تَرْبِيدُونَ ﴿۸۶﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿۸۸﴾  
 فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿۸۹﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿۹۰﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِتِهِمْ

زیون پیٹھ یہ کتھ جاری کہ سلامتی بوین حضرت نوحس عالین منز۔ خدا کثر ان کہ تم تمام جن انسان تہ ملا یک روز ان تمن پیٹھ سلام سوزان اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ اَسے جھہ تھئے عوض نیکو کارن دوان اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ سہ نوح علیہ السلام جھہ سانیو با ایمان بند و آندرہ ﴿۸۱﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاَخْرِيثَ تُو پتہ پھا تواسہ باقی ساری لوکھ سموتہنز نا فرمائی کتر۔ ﴿۸۲﴾ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِابْرَاهِيْمَ بیہ جھہ بے شک نوح علیہ السلام سزہ وتہ یکہ و نیو آندرہ۔ تمن سیت اصولن اندر اتفاق کرہ و نیو آندرہ ابراہیم علیہ السلام تہ ﴿۸۳﴾ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ تھند قصہ تہ جھہ قابل ذکر۔ یلہ سہ پنہ نس پروردگار س گن متوجہ سپد صاف دلہ سیت نئس بچھہ شرکی اعتقاد وتہ ریاء لشہ پاک اوس جھہ منز خالص توحید تہ کامل اخلاص موجود اوس ﴿۸۴﴾ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ یلہ سموتہنز نئس مالس بیہ پنہ نس قومس دوپ یم بہت پرست آس کہ تہہ کتھ و اہیات چیزس جھوہ پرستش کران اِنِّي كُنَّا لِلَّهِ تَرْبِيدُوْنَ کیاہ اپزین مہزہ یں باطل معبودن چھوہ تہہ معبود بناؤن یژھان معبود برحقس ور آے ﴿۸۵﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ تھند کیاہ خیال جھہ رب العالمینس متعلق۔ توبہ ہے چھوہ تہس عبادت کرن تراثر توبہیہ چھا تھندس معبود آسئس منز کا نہہ شک۔ سہ شک کتر و دور۔ امی قسمگ بحث و مباحثہ اوس تمن منز آسان۔ اکہ وقتہ ووت تمن اکہ میلک تہ عرسک موقہ۔ تمولو گو وون تمن کہ تہہ تہ سپد و نا تھہ سانس میلس منز شامل۔ تھند غرض اوس کہ تمن پیٹھ پیہ مالہ کہ شان و شونکک اثر ﴿۸۶﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ توپتہ دژاکھ نظر اہ ابراہیم علیہ السلامن ستارن گن ﴿۸۷﴾ فَقَالَ اِنِّي سَقِيْمٌ توپتہ دوپکھ بہ جھئس بیمار لہذا ہیجھنہ بہ میلس تھندس شامل



فَقَالَ آلَا تَأْكُلُونَ ﴿۱۱﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿۱۲﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ  
 ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿۱۳﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿۱۴﴾ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا  
 تَشْحَنُونَ ﴿۱۵﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا  
 فَأَلْفُوهُ فِي الْبَحْرِ ﴿۱۷﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿۱۸﴾

سپد تھ۔ یہ ہند ارادہ اوس کہ تم گڑھن تہ میہ یہیہ موقعہ تہندین پوتلین مسما کرہ ٹک۔ تمی موکھ کورکھ  
 حیلہ ستارن گن وژکھ نظر۔ تمن لوکن اوس ستارن ہند اعتقاد۔ تمہ موکھ ہیوک نہ تمو کینہہ جواب  
 ویتھ۔ یہ ہند غرض اوس حضرت خالق حقیقی سز کمال عظمت مستحضر کرن فتو لواعنہ مدیرین تو  
 پتہ گے تم لوکھ تمن تے تر آوتھہ پنہ کامہ گن فَرَاغَ إِلَى الْيَمِينِ تو پتہ ژاوا ابراہیم علیہ السلام تہندس  
 بت خاس منز پوتلین نشہ تمن نشہ وچھکھ واریاہ کھینہ چینک چیز لو کو تھنومت فَقَالَ آلَا تَأْكُلُونَ  
 پوتلین گن دوچھ ٹہہ کیا زہ چھوہ نہ تم چیز کھیوان۔ یلہ نہ تمو تورہ کینہہ تہ جواب دوچھکھ مَا لَكُمْ لَا  
 تَنْطِقُونَ توہہ کیاہ گووہ تہہ چھوہ نہ کینہ کتھاہ کران فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ تو پتہ ہیوچھکھ تمن  
 دچھنہ تھہ سیت زورہ لائن۔ یوتان تمن ٹیک کورکھ مکڑہ سیت فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ تو پتہ آے تم  
 لوکھ وائس تمن گن دوران دوران بانبر سیت تہ ژکھ ہتھہ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَشْحَنُونَ ابراہیم علیہ  
 السلامن دوکھ اے لو کو کیاہ تہہ چھوہ پرستش کران تمنے چیزن ہنز تمنہ پائے پنہ نیوا تھوگران چھوہکھ۔  
 ئیس چیز پانہ توہہ گن محتاج آہہ سے شو با خدا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ حال اللہ تعالیٰ ان چھوہ تہہ  
 تہ ہیہ تم چیز تہہ بناوان چھوہکھ تم تہ پادہ کتر مت۔ تم گئے لاجواب۔ تمن پھورنہ کینہہ تہ قَالُوا ابْنُوا لَهُ  
 بُنْيَانًا فَأَلْفُوهُ فِي الْبَحْرِ پانہ وان لگ تم دہنہ وون کتر و تیار ام سدہ خاطرہ کو نودہ دش اکھ عمار تھاہ۔  
 یتھ منز زالونار۔ تو پتہ تر آویون سہ تھہ زہ وئس نار س منزہ۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ پس  
 یرھو تموا ابراہیم علیہ السلام نسبت اکھ حیلہ گرن تکلیف و اتاوانگ مگر اسہ کتر تم ذلیل تہ خوار۔ سہ نار  
 سپد سانہ حکمتہ سیت تمن پیٹھ گل تہ گلزار پنہ قومہ امہ ورتاؤہ سیت یلہ ابراہیم علیہ السلام تمن نشہ

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهْدِينِ ﴿۱۱﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۲﴾ فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ ﴿۱۳﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۴﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنَ ﴿۱۵﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيْمُ ﴿۱۶﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۷﴾

ما یوس سپدِ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَّهْدِينِ تمودوپ وون کره یوسمه شہرہ رُغمہ ہجرت۔ بوگدھہ پنہ نس پروردگار س رُغمہ۔ سہ ہاوہ میہ و تھ کنہ رڑہ جلیہ کن۔ توتے گدھہ بہ۔ تمہ پتہ و اتناوی تم اللہ تعالیٰ ان شہر شامس منز۔ توت و اکتھ کور تمودو عا رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصّٰلِحِيْنَ پدوردگار امیہ کرتہ وون فرزندہ عطا نیوکا زواندرہ فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ توپتہ فرموواسہ تمین بشارت اگس نرم مزاج فرزندہ سبز فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ادہ یلہ سہ فرزندہ ووت تمین سیت اورہ یور پھیر پچہ عمرہ دوپ ہس اے فرزند میہ وچھ خواہس منز زن بہ ثیہ کھش کران خدایہ سندہ لحمہ وونی وچھ تہ چانی راے کیاہ پچھہ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ فرزندن دوگدھہ اے میانہ بابہ صابہ تہہ کمر و حض سو کام سمیک توبہ لحم کرنے آو۔ میون مہ بر و اندیغمہ کینہہ تہ۔ خدائے یوژھ میہ لبوتہہ صبر کرہ و نیواندرہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنَ توپتہ یلہ تمودو شوے خدایہ سند لحم مون توپتہ سو و تمودو فرزندن ز کر نہ خاطرہ پچھہ کنی تو پتہ ہنہ کہ گردنہ شر اکھ و اینی وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيْمُ \* قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ تان کو زاسہ آلو تمین اے ابراہیم مر حبا۔ بے شک توبہ ہووہ پین خواب عملاً پوز۔ وون چھہ اس لحم کران وون تراویون اسماعیل علیہ السلام تمودو سہ۔ تہند زوپتو تمہ علاوہ سپد تمین دوشونی مآل پتھرن تھند مرتبہ حاصل۔ اس چھہ تھے کنہ ر ژ مزوری ووان نیوکا رن إِنْ هٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِيْنُ

هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿۱۳۷﴾ وَقَدْ يَنْهَ يَذْبَحٍ عَظِيمٍ ﴿۱۳۶﴾  
 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۳۸﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿۱۳۹﴾ كَذَلِكَ  
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴۰﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۱﴾ وَبَشَّرْنَاهُ  
 بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۴۲﴾ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَ  
 مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿۱۴۳﴾ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ  
 مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۴۴﴾ وَجَعَلْنَاهَا قَوْمَهَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۱۴۵﴾  
 وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۱۴۶﴾ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿۱۴۷﴾

بے شک تحقیق منزاوس یہ تہندہ خاطرہ اکھ بوڈ امتحان۔ ہتھ منز تم کامیاب سپد وَقَدْ يَنْهَ يَذْبَحٍ عَظِيمٍ  
 یہ دیت آسہ اکھ بوڈ جانورہ تمن بدلہ ذبح کرنے خاطرہ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ یہ تھو واسہ باقی پتہ  
 یوہ وئین ہندہ خاطرہ تہندہ ذکر خیر۔ تم آسن ونان سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سلام بوین حضرت ابراہیم  
 پیٹھ۔ چنانچہ ازتان جھہ تمن پتہ یوہ ون تہندہ نام مبارکہ پتہ ونان علیہ السلام کَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  
 ہتھ کندہ جھہ آس نیوکا رن مزور تہ صلہ ووان اِنَّا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بیشک جھہ سہ سانبو ایمان  
 دار بند و آندرہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ یہ دژ آسہ بشارت تمن حضرت ائٹھ سنز۔ سہ تہ  
 آسہ پیغمبر نیوکا ر و آندرہ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ یہ کرہ اسہ تمن پیٹھ یہ اسحاق علیہ السلام پیٹھ  
 برکثہ نازل وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ یہ کمر آسہ تہندہ ذریہ آندرہ بعضے نیوکا رتہ بعضے  
 تم یم جھہ عملو سببہ پنہ نس پانس تنن پائٹھ ظلم گرہ ون آس وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ پنز پائٹھ یہ  
 کمر آسہ احسان موسیٰ علیہ السلام یہ ہارون علیہ السلام پیٹھ وَجَعَلْنَاهَا قَوْمَهَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ  
 یہ دیت نجات آسہ تمن دو شون یہ تہندس قومس یعنی بنی اسرائیلن پڈہ غمہ اکھ نغیرہ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا  
 هُمُ الْغَالِبِينَ یہ کمر آسہ تمن یاری تہ مدد فر عونس مقابلہ۔ پس سپد تم تمی تس دشمنس پیٹھ غالب

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۱۸﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي  
 الْآخِرِينَ ﴿۱۱۹﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۲۰﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي  
 الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۲۱﴾ إِنَّهَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۲﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ  
 لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۲۳﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۲۴﴾ أَتَدْعُونَ  
 بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿۱۲۵﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ  
 الْأُولَىٰ ﴿۱۲۶﴾ فَكَذَّبُوهٗ فَانْتَبَهُوا كَمُحْضَرُونَ ﴿۱۲۷﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ  
 الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۲۸﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۲۹﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ

وَأَيْنَمَا أَكْتَبَ الْمُسْتَقِيمَ \* وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بے کسر عطا سے تمہیں دو شوقی واضح کتاب  
 بے ہاو کہ تمہیں سز دتھہ و تَرَکْنَا عَلَیْهِمَا فِی الْآخِرِیْنَ بے تھو و تہنہ دہ خاطرہ پتہ یوہ و نین منز و کبر  
 خیر۔ پتہ یوہ و ن ہجھہ و نَان سَلَّمَ عَلَیْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ سلام بوین حضرت موسیٰ اس تہ حضرت  
 ہارونس بیٹھہ اِنَّا کَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ اس ہجھہ بیٹھہ کنہ نیکو کارن مزوری عطا کران اِنھما مِن  
 عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِیْنَ تم تہ ہجھہ دو شوے سانیو ایمان دار بند و آندرہ وَاِنَّ الْیَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ بے ہجھہ  
 حضرت الیاس تہ بیٹھہ و آندرہ اِذْ قَالَ لِقَوْمِہِ اَلَا تَتَّقُوْنَ بیلہ تمودوپ قومس پنہ نس کیاہ تہ ہجھہ  
 نا کھوژان خدائس۔ اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَتَذَرُوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِیْنَ کیاہ تہ ہجھہ چھوہ اگس پو تلس (نہس  
 ناوہجھہ بعل پرستش کران تہ ناودوان۔ اُس پروردگار ت پادہ کرہ و ن چھہ تس پرستش کرن چھوہ  
 تراوان۔ اللہ رَبُّکُمْ وَرَبُّ اَبَائِکُمُ الْاُولٰٓئِیْنَ سوگو و معبود بر حق اُس تہند پروردگار تہ تہندین مالین بد  
 بنن بند ہر و دگار چھہ فَکَذَّبُوْہُ فَاَنْتَبَهُوْا کَمُحْضَرُوْنَ تموتہ زون سہ اپز۔ پس ین تم تہ گر قار کتر تھہ  
 عذابہ خاطرہ حاضر کرنہ قیامتک دہہ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِیْنَ مگر ین نہ رتنہ ژار نہ آمت بندہ  
 وَتَرَکْنَا عَلَیْہِ فِی الْاٰخِرِیْنَ بے تھای اسہ باقی پتہ یوہ و نین اندر تہند ذکر خیر تم اس و نَان سَلَّمَ عَلَیٰ

إِلْ يَاسِينَ ﴿۱۴﴾ إِنَّكَ ذَٰلِكَ تُجْزَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۵﴾ إِنَّهُ مِنْ  
 عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۶﴾ وَإِنَّ لَوْطًا لِّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۷﴾  
 إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۸﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿۱۹﴾ ثُمَّ  
 دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿۲۰﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿۲۱﴾ وَبِالْأَيْلِ  
 أَفْلَا تَعْقِلُونَ ﴿۲۲﴾ وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۳﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى

إِلْ يَاسِينَ سلام بویں حضرت الیاس پیٹھہ إِنَّكَ ذَٰلِكَ تُجْزَى الْمُحْسِنِينَ پیٹھہ پانچواں حصہ آس نیو  
 کارن رثمزوری عطا کران إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ سہ حضرت الیاس تہ چھہ سانیو ایمان دار  
 بند و آندرہ وَإِنَّ لَوْطًا لِّمِنَ الْمُرْسَلِينَ بیہ چھہ پز پانچھہ حضرت لوط تہ پیٹھہ آندرہ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ  
 أَجْمَعِينَ یلہ آسہ تمن بیہ ٹھنڈس سارسے عیاس نجات ڈیت۔ عذابہ نشہہ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ  
 مگر نہ تہمز، وزانو، اہل بیتہ آندرہ آکس جہہ زنانہ۔ سوروز تہتی عذابس منزوزن والین سیت۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا  
 الْآخَرِينَ تو پتہ کڈ آسہ باقی لوکن ہنز بخ۔ تم گال ساری تمن کور تلگ پیٹھہ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ  
 مُصْبِحِينَ \* وَبِالْأَيْلِ أَفْلَا تَعْقِلُونَ تو پتہ چھوہ آئی مکہ کیولو کو تہمز، ہستیکر کس یارات گیت پکان یلہ  
 ٹہہ شامس کن سفر کران چھوہ۔ کیاہ توہہ چھنا فکرہ تران نافرمان لوکن ہند انجام کیاہ چھہ سپد مت و لاق  
 يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بیہ چھہ یونس علیہ السلام تہ بے شک پیٹھہ آندرہ۔ ٹھنڈ تہمہ و فکک قصہ تہ چھہ  
 قابل ذکر۔ یلہ تمو پتہ نس قومس ایمان نہ انہ موکھ خدایہ سندہ حکمہ عذاب یتک وعدہ کور۔ تو پتہ درای  
 پانہ تمہ شہہ نشہہ سمہ دوہہ عذابگ وعدہ اوس تمہ دوہہ یلہ عذاب نازل سپدنگ آثار ہمتن سپدن قومن  
 ہیوت یونس علیہ السلام ژھانڈن ایمان اہجہ ارادہ یلہ نہ یہ تم لیکھ کنہ تہ ساروے کور منھقہ طور رجوع  
 بخدا سیٹھاہ کمر کہ گریہ وزاری۔ بیہ اوچھہ بصدق دل ایمان، بچمل پانھی۔ چنانچہ عذاب در او پتھہ۔ یونس  
 علیہ السلامس سپز امہ واقع خبر تم وراے پتہ اجتمادہ سیت خدایہ سندہ صریح اجازتہ درائے تو پتہ کور کہ  
 ارادہ کنہ دور جاہہ گڑھہ نگ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ تو پتہ گئے ژلٹھہ امہ جاہہ نشہہ۔ وات آکس  
 مسافر و سیت بڑ تھہ ناوہ پیٹھہ۔ تمن ہوو کہ اشارہ۔ تمورث ناوہ۔ تو پتہ سپد تم تھہ ناوہ منز سوار ہناہ کنہیہ۔

الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿۳۰﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿۳۱﴾  
 فَالْتَمَتَهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مُيَلِّمٌ ﴿۳۲﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿۳۳﴾  
 لَلِيتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۳۴﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ  
 سَقِيمٌ ﴿۳۵﴾ وَأَبْتَنَّا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿۳۶﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ

یقدم ووتھ سمندر س منز طوفان۔ ناوہ ہانزو و نمکھ آسہ منز چھہ کس تام نئس تازہ قصور وار چھہ۔ سہ شخص بیہ آسہ ناوہ نغمہ الگ کرن۔ اوہ ہمہ طوفان نتہ چھہ آسہ سار نے پھٹ نک خطرہ  
 فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ سہ قصوروار معین کرنہ خاطرہ ترا ویکھ چیرہ۔ چیرین  
 اندر دراو پونس علیہ السلامی خطاوار۔ توپتہ کور۔ تمو پئن پان دریاوس منز تراونہ خاطرہ پیش۔  
 دوپہکھ واقعی چھس بوی پنہ نئس آغس نغمہ بلا اجازت ژولت۔ تراوومیہ آبس اندر تمن اوس خیال  
 دریاوک کنارہ چھنہ زیادہ دور۔ یہ وایہ ژھاٹھ توپتہ کھسہ بکھس پیٹھ۔ چنانچہ تم آے تراونہ حسب  
 معمول دریاوس اندر۔ مگر تھتے تمو دریاوس اندروٹھ لائے۔ خدایہ سدہ لحمہ آہ اکھ گاڑا۔ تہی  
 کور تمن لقمہ تہ توپتہ نغمہ لاون۔ یک دم پچ ناو۔ فَالْتَمَتَهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مُيَلِّمٌ توپتہ نیگل تم اکھ گاڑہ  
 بیٹھ حائل کہ تم آس پانس سلامتھ کران پنہ نئس قصورس پیٹھ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ کس نے  
 تم آسن تسبیح پرہ و نیو اندرہ یعنی نماز پرہ و نیو اندرہ۔ چنانچہ گاڑہ ہندس کرینہہ ماڑس پیٹھ ڈیت تمو سجدہ  
 تھہ منز پور کھ لا الہ الا انت سبحانک ائی کنت من الظالمین لَلِيتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ  
 نتہ روزہ کن تم گاڑہ ہنزہ یڈ منز قیامت تانی۔ سمہ دوہہ لکھ قبر ومنزہ کڈنہ یکن۔ تمو بیلیہ زیوہ سیت تسبیح  
 واستغفار پور ولہ سیت ندامت تہ توبہ کور قَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ توپتہ تراوی آسہ تم تمہ کی  
 برکتہ میدا نئس ن۔ بیٹھ منز نہ کانہ کلاہ سائیک کانہ چیزاہ اوس بحالیجہ تم آس گاڑہ ہنز یڈ منز آب و  
 ہوا تہ ضروریات زندگی خاطر خواہ میتر نہ سپنہ موکھ۔ بیمار سپد مت وَأَبْتَنَّا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ  
 بیہ کھور آسہ تمن نغمہ تاپہ نغمہ محفوظ روزنہ خاطرہ۔ مشادی اکھ کل۔ کیا زہ تمک و تھر چھہ بڈتہ کشادہ  
 آسان۔ بیہ واتناو آسہ تمن نئس اکھ جنگلی ژھاو، یوسہ تمن دو درچاوان اس وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مَائِدَةِ الْإِنْفِ

مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ زَيْدُونَ ﴿۱۵۲﴾ فَأَمَّنُوا فَمَنَّنَاهُمْ إِلَىٰ جِئِن ۖ ﴿۱۵۳﴾  
 فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبِّيكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿۱۵۴﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ  
 إِنَاثًا وَهُمْ شُهُودُونَ ﴿۱۵۵﴾ إِلَّا أَنَّهُمْ مِّنْ أَفْئِدِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿۱۵۶﴾  
 وَكَدَّ اللَّهُ وَرَأَتْهُمْ لَكِنِ بُونَ ﴿۱۵۷﴾ أَصْطَفَىٰ الْبَنَاتِ عَلَىٰ الْبَنِينَ ﴿۱۵۸﴾  
 مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۱۵۹﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۶۰﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ  
 مُّبِينٌ ﴿۱۶۱﴾ فَاتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿۱۶۲﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ  
 وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا ۗ وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۱۶۳﴾

اَوْ زَيْدُونَ تو پتہ سوز اسہ تم پیغمبر اکھ لکھ خوتہ زیادہ لوکن کن سم شہر نینو آس منز آس بس شہر  
 موصلس قریب جھہ۔ یہند تعداد اکھ لکھ تہ ترہ ساس (۱۳۰،۰۰۰)۔ اوس فَأَمَّنُوا فَمَنَّنَاهُمْ إِلَىٰ جِئِن  
 تمولو کو اون ایمان گوڈہ آثار عذاب و جھتھ۔ ایمان مجمل تو پتہ تفصیلی ایمان۔ یلہ یونس علیہ السلام  
 واپس آئے تمن کن۔ بس تلہ ناواسہ تم متع، عیش کرہ ناوا ایمانجہ برکتہ اس مدتس تام یعنی یوت تان تم  
 زندہ رود فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبِّيكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ بس پر ژتھو تمن تم دیان جھہ ملائک جھہ خدایہ  
 سنزہ کورہ۔ کیاہ نہندس پروردگارہ سدہ خاطرہ گیا کورہ تہ تمن گئے پانس کتھ گبر۔ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ  
 إِنَاثًا وَهُمْ شُهُودُونَ کنہ اسہ کرہ پادہ ملائک کورہ تمن تھی۔ تم آسیا تمن بناو جھہ وقتہ حاضر تہ موجود  
 تمن و جھان إِلَّا أَنَّهُمْ مِّنْ أَفْئِدِهِمْ لَيَقُولُونَ وارہ چھوہ بوزان، تم جھہ پنہ نیوا پرڈ کتھو منزہ یہ تہ اکھ کتھ  
 ونان کہہ وَكَدَّ اللَّهُ اللہ تعالیٰ اس زائے اولاد و رَأَتْهُمْ لَكِنِ بُونَ تم چھہ بالکل اپر ونان أَصْطَفَىٰ الْبَنَاتِ  
 عَلَىٰ الْبَنِينَ کیاہ تمو کر یا پسند کورے پچوین پیٹھ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ کیاہ گووہ تو بہہ تھہ یے  
 ہودہ تجویز جھوہ کران أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیاہ تو بہہ جھوہ نا غور کران أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ کنہ تو بہہ  
 نیشہ جھہ ننی کانہہ دلایاہ اتھ پیٹھ فَاتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ انو تو بہہ پنی کانہہ کتاباہ جھوے

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۱۵۶﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۵۷﴾  
 فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿۱۵۸﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِينَ ﴿۱۵۹﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ  
 صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿۱۶۰﴾ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴿۱۶۱﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ  
 الصّٰقُوتُونَ ﴿۱۶۲﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿۱۶۳﴾ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿۱۶۴﴾  
 لَو أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۶۵﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿۱۶۶﴾

توہیہ پوزو نہ ون و جَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا بیہ چھہ ٹھہر وومت تمو خدا نَسَبًا تہ جنن منز اکھ رشتہ۔  
 دپان چھہ جن چھہ خدایہ سند داماد وَاَلَّذِي عَلِمَتِ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمْ يَحْضَرُوا حَالًا نكہ تھتھق جن چھہ پانہ بیہ  
 نكہ زانیتھ کہ تم تہ بین گرفتار کتر تھہ عذابہ خاطرہ حاضر کرنہ قیامتک دودہ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ اللَّهُ  
 تعالیٰ چھہ منزہ تہ پاک سموسار و پونکھو نَشْرہ، یلہ سم لوکھ ونان چھہ نَس خُلاف لِّلْعِبَادِ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ  
 مگر چھہ محفوظ تھمہ گرفتاری نَشْرہ اللہ تعالیٰ سندی ژارنہ آمت بندہ۔ سم جَو اندرہ اَس تَن یا انسانو اندرہ  
 فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ \* مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنِينَ جس اے مکھ کیو کافر و توہیہ تہ بیہ تم ساری تمکن ہنز توہیہ  
 پرستش کران چھوہ بیہ کو نہ خدائس نَشْرہ کانہہ اَنَس دھوکہ دتھہ پائس گن پھر تھہ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ  
 مگر جس جس جہنمس گن واتہ ون آسہ ازلہ۔ یہ گوہ جنن ہند حال۔ ملائکن ہند حال چھہ، تم چھہ ونان پانہ  
 وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ آسہ منز چھہ کانہہ تہ لیس نہ جایاہ چھہ مقرر کرنہ آمز اکھ درجہ مَعْن  
 کرنہ آمت وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّٰقُوتُونَ بیہ چھہ اَس صحن منز ووتھہ نہ روزن وائل دست بستہ کھمس تعیل  
 کرنہ خاطرہ۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ بیہ چھہ اسی بے شک تسبیح ہزن وائل۔ خدایہ سنز پاک ی بیان  
 کران۔ غرض اسی چھہ پرستھہ طریقہ محکوم وون یلہ ملائک پانہ پنہ نس بندہ آسَس اقرار چھہ کران۔  
 تمہہ باوجود تمہہ معبود زان کاژاہ بے وقوفی چھہ۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ \* لَو أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ \*  
 لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ بیہ اَس سم عرکی کافر ونان نبی کریمہ سندہ تشریف انہہ بروٹھہ ہر گہہ آسہ  
 نَشْرہ آسہا کانہہ نصیحت گروہن کتاباہ بروٹھن لوکن ہندی پاٹھ۔ استہ آسہو خدایہ سند خاص بندہ تو پتہ یلہ  
 تمہن بروٹھن وائر نصیحت کرہ ون کتاب پیغمبرہ سندہ ذریعہ قَلَّمُوا وَإِيَّاهُمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تھہ کور کھ تو



فَكَفَرُوا بِهٖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۷۸﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا  
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۷۹﴾ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿۸۰﴾ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ  
 الْغَالِبُونَ ﴿۸۱﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۸۲﴾ وَاَبْصَرْتُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿۸۳﴾  
 اَفِيعَدَاۤ اِنَّا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿۸۴﴾ فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ  
 الْمُنْذَرِيْنَ ﴿۸۵﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۸۶﴾ وَاَبْصَرْتُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿۸۷﴾  
 سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۸۸﴾ وَسَلٰمٌ عَلٰى  
 الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۸۹﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۹۰﴾

پتہ انکار وہ ان زانن بروئہ پہن پانے کہ کیا نہ تمہن **وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ** تحقیق یہ  
 ہجہ مقرر کرنے آمت سون حکم خاص بدن یعنی پیغمبرن متعلق لوح محفوظ اندر **اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ**  
 کہ بے شک تمہنی چھہ یقیناً یاری تہ مدد کرنے آمت تمہن یہ غلبہ دنہ **وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ**  
 بے شک سان اسلامی لشکر چھہ یقیناً غالب سپہ دنہ **فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ** پس پھر و تمہن مکہ کین کافر ن  
 نیشہ توبہ ہن ہجہ بیس طرفس گن یار رسول اللہ کینہہ کالاہ **وَاَبْصَرْتُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ** یہہ و چھو توبہ تمہتہ  
 و چھن بروئہ پہن کیاہ نہ تمہن **اَفِيعَدَاۤ اِنَّا يَسْتَعْجِلُوْنَ** کیاہ تم چھہ سانس عذابس جلد مگان **فَاِذَا نَزَلَ  
 بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ** ادہ یلہ سہ عذاب تمہن آگن منزا آتھہ یہہ ادہ سپہہ سیٹھاہ پیچھہ  
 تمہن بیم کرنے آمتین لوکن ہند صبح یعنی روز بڈہ پیچھہ **وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ** \* **وَاَبْصَرْتُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ** بلہ یہ  
 تھہ یقینی چھہ کہ تمہن پیٹھہ واتہ ضرور عذاب۔ توبہ تھادو تسلی کینہہ کالاہ تان کرو توبہ صبر۔ تمہنہ تکلیفہ تہ  
 ایذا گ مکہ بڑو کانہہ غم۔ تمہن حالت روزو و چھان۔ عنقریب و چھن تمہتہ ہن حالتہ کیاہ نہ تمہن  
**سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ** مٹزہ تہ پاک چھہ تمہن پروردگار بس عزتہ دول پروردگار  
 چھہ تمہن ساروی تھو نیشہ سمہہ تھہ تس گن لاگان چھہ دشمن **وَسَلٰمٌ عَلٰى الْمُرْسَلِيْنَ** \* **وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ  
 رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ** یہہ بوین سلام پیغمبرن پیٹھہ یہہ چھہ ساری حمد و ثنامز او ار رب العالمینس



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ ۝۱ بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوا فِی عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۝۲  
 کَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَُوا وَآلَاتٍ حِینَ مَنَاصٍ ۝۳  
 وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ  
 کَذَّابٌ ۝۴ أَجَعَلَ الْإِلٰهَةَ الْهَاءَ وَاحِدًا إِنَّا هَذَا شَيْءٌ مُّجَابٌ ۝۵  
 وَأَنْطَلَقَ الْمَلٰٓئِمَةُ أَنْ أَمْشُوا وَأَصْبُرُوا عَلٰی إِلٰهَتِكُمْ إِنَّا هَذَا

ص وَالْقُرْآنِ ذِی الذِّکْرِ حرف ص چھ حروفِ مقطعات تو آندرہ۔ امیک معنی زانہ پانہ اللہ تعالیٰ۔ قسم چھٹس بہ ہاوان قرآن مجیدک۔ یس نصیحتہ سیت ہر چھہ۔ یعنی تھہ منز بے شمار نصیحتہ تھہ تھہ تھہ تھہ تھہ تھہ تھہ ہر گز چھنہ تمہ تھہ پڑہیمہ بيم کافر و نان چھہ کہ خدا یس و رای کیاہ چھہ بیہ معبود یا سمہ تھہ رسالتس خلاف و نان چھہ۔ بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوا فِی عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ بلیمہ سمولو کو شرک و کفر س پیٹھہ کمر گو نڈمٹ چھہ تم چھہ پیچیرس، تعصبس تہ بیہ مخالفس منز بوڈمت۔ امہ تھہبگ تہ مخالفنک سزاییمہ دنہ تمین اکہ دوہہ ضرور کَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَُوا وَآلَاتٍ حِینَ مَنَاصٍ تھہ پٹھہ اسہ چھہ تمو بروٹھہ کا تیاہ لوکھ عذابو سیت گال مت یس کریو، تمو ہلاکتہ کہ وقتہ کریجہ نادیتہ زارہ پارہ مگر سہ اوس نہ عذابہ نشہ آزاد سیدنگ موقہ۔ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ سم قریش چھہ تعجب کران تھہ تھہ پیٹھہ کہ تموے منزہ آو تمین نشہ بيم کرہ ون پیچیراہ یعنی بشرہ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ کَذَّابٌ تو پتہ لگ دینہ کافر یہ پیچیر چھہ معجزان اندر جادوگر، دعوائے نبوتس اندر اپز زیور۔ کیاہ یہ شخص ہیچیا زیور اتھہ أَجَعَلَ الْإِلٰهَةَ الْهَاءَ وَاحِدًا امی تمو وار یسین معبودن ہنزہ جلیہ گئے معبودو باقی سارنہ چھہ کران انکار إِنَّا هَذَا شَيْءٌ

لَسْتُمْ تَرَادُّوْنَ مَا سِعْنَا بِهَذَا فِي الْاٰخِرَةِ ۗ اِنَّ هٰذَا اِلَّا  
 اَخْتِلَاقٌ ۗ اَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ  
 ذِكْرِيْٓ بَلْ لَتَايْدُوْا قُوَاعِدَآبٍ ۗ اَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَاۤءِنٌ رَّحْمَةً  
 رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ۗ اَمْرُهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا  
 بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْاَسْبَابِ ۗ جُنْدٌ مَّا هُنٰلِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنْ

عَجَابِ بے شک یہ ہے کہ عجیب چیز ہے وَاَنْطَلَقَ الْبَلَاغَةُ اَنْ اَمْشَوْا وَاَصِدُّوْا عَلٰی الْهَيْتِكُمْ اِنَّ هٰذَا لَسْتُمْ تَرَادُّوْا بے ہیوت نیرن وعلیہ چہ مجلسہ منزہ تہند یوز ٹھیوز ٹھیو۔ باقیں تہ دوچھہ پکونیو، مضبوط تہ قاسم روزوپنہ نین معبودن ہندس عبادتس پیٹھ۔ بے شک ہتھ منز چھہ امس پیغمبرس خبر کیاہ ذاتی مطلبہہ بروٹھمس مذہبس اندر۔ یہ چھٹھہ کینہہ تہ مگر پانے ٹھہر وومت چیزہ اَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا کیاہ اَسہ ایقو منزہ سپدہ اسی بوت پیٹھ نازل نصیٹک کلام۔ ہر گاہ کانسہ ہڈس موہوس کانسہ رئیس پیٹھ سپدہ ہاتوتہ اَس بیاک تھہ۔ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان کہ یہ ہند یہ وئن کہ امس پیغمبرس پیٹھ کیازہ سپدہ نازل کلام الہی، اَسہ منزہ کانسہ ہڈس شخصس پیٹھ کونہ سپدہ نازل یہ چھٹھہ امہ خاطرہ کہ ہر گاہ تی سپدہ ہاتیلہ کیاہ کرہ ہن تم پڑھہ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِيْٓ بَلْ لَتَايْدُوْا قُوَاعِدَآبٍ بلکہ ہتھ تہن میانس کلامس پیٹھ وحی سوزنی اندر شک بلکہ تہن تم وونہ میون عذاب اَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَاۤءِنٌ رَّحْمَةً رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ تہ ماہتھ تمنہ لغتہ ٹھہندس زبردست تہ فیاض پروردگارہ سندسین رحمن ہند خزانہ جمع تمن منز نبوت تہ شامل چھہ۔ بس تمن خوش کرہ بس ون نبوت بس نہ خوش کر کیکہ بس دن نہ کینہ۔ اَمْرُهُمْ مُّلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوْا فِي الْاَسْبَابِ کہنہ جنہز حکومت چھہ زمین تہ آسمانن منز۔ یہہ یہ تمن دون منز باگ چھہ تھہ منز اگر تمن کانہ اختیارہ ہتھ آسمان وز مینس پیٹھ بس کھس تن ہیر لاکھ آسمانس۔ تور کھتھہ بدلاوئن تمن نبوتک حکم۔ جُنْدٌ مَّا هُنٰلِكَ مَهْزُوْمٌ مِّنْ الْاَحْزَابِ یہ چھہ کہ مختصر جماعتہہ ٹھہندین

الْأَحْزَابِ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَارِ ۝  
 وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ۝ إِنَّ  
 كُلَّ الْإِلَهِاتِ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُولَ فَحَقَّ عِقَابُ ۝ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ  
 إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝ وَقَالُوا رَبَّنَا  
 عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا  
 يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

مخالفین ہنز بر و تھمیدو شکرست خوردہ جماعتوں اندر یہ تہ کہ جماعتھاہ۔ بہنز، وکتھو تہ حرکتو سیت کیا زہ چھوہ  
 توہیہ غمگین سپان کذبت قبلہم قوم نوح و عاد و فرعون ذوالاوتار پیغمبرن ہتھ تکذیب کورمت مکہ  
 کین کافرن بروتھ قوم نوحن، قوم عادن، بیہ قوم فرعونن بس میںہ وول اوس۔ بس سزاوندہ کہ وقتہ  
 اتھن تہ کھوزن اوس بحر من میںہ تھکان و ثمود و قوم لوط و اصحاب لیکہ اولیک الاحزاب بیہ قوم  
 شمودن، بیہ قوم لوطن بیہ شہر ایکہ کیو لوکو۔ تے ایزہ جماژ تہ لو کہ سمو شکرست کھیوو پیغمبرن ہندس  
 مخالفین اندر ان کل الالہات الرسول فحق عقاب سمو ساروی کور تکذیب پیغمبرن۔ بس سپد  
 تمن پیٹھ میون عذاب ثابت و ما یظنر ہؤلآء الا صیحة و اجدہ ما لہا من فواق سم ملنک  
 کافر ہتھنہ پاران مگر تھتھ کئی کریجہ تھتھ منز نہ شہہ تھتھنہ موکہ تھین آسہ بلکہ آسہ کئی شہہ سیت سہ  
 چھو کہ وقالوا ربنا عجل لنا قطننا قبل يوم الحساب بیہ ہتھہ ونان سم کافر تھتھہ یا تھہ اے سانہ  
 پروردگارہ جلد بہن و اتہ ناوتہ آسہ ہن حصہ عذابک حسابک دوہینہ بروتھ اصبر علی ما یقولون  
 وادکر عبدنا داود ذا الاید انہ اواب ہتھہ کمر و صبر یار رسول اللہ تمن تھن پیٹھ سمہ تم کافر ونان  
 ہتھہ۔ بیہ یا دیون تھتھس سون بندہ داود علیہ السلام بس قوتہ وول تہ صبرہ وول اوس عبادتس تہ دشمن  
 ہندس تکلیف پیٹھ۔ تم آس خدایس کن سینٹھار رجوع کرن و آل۔ آسہ آسہ کمر تھہ بین بیہ نعمتہ عطا  
 اناسعزنا الجبال معہ یسببھن بالعیسیٰ و الاشرار آسہ آس مخر تہ رام کمر مت کوہ یم تمن سیت

إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعِثِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝<sup>۱۸</sup>  
 وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ آوَابٌ ۝<sup>۱۹</sup> وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ  
 وَفَصَّلَ الْخُطَابِ ۝<sup>۲۰</sup> وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضَمِ إِذْ سُورُوا الْحُرَابِ ۝<sup>۲۱</sup>  
 إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمِينَ بَغْيِ  
 بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى  
 سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝<sup>۲۲</sup> إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً وَمِ

اِس تِسْع مَدَان شامس سے صمّس وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ آوَابٌ بیہ کمری تمّن مسخر جانور سونیر نہ اسی  
 آمنت تمّن نشہ ساری کوہ سے جانور اِس تہندہ وجہہ ذکرہ سیت مشغول روزان وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ  
 الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخُطَابِ بیہ کمر آسہ مضبوط سے محکم تہنز سلطنت بیہ کمر آسہ عطا تمّن حجت گاہہ جار بیہ  
 فیصلہ کرہ وان کلام لیس نہایت واضح سے جامع اوس وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضَمِ إِذْ سُورُوا الْحُرَابِ بیہ چھاوا اثر مثر  
 توہمہ نشہ مقدمہ والین ہنز خبر یلہ زن جوراہ تمّن نشہ مقدمہ تہہ آے راتھہ گیت سمہ وقتہ تم خلوت  
 عبادت خاُس منز مشغول اِس خدا یہ سندس یادس سیت۔ پھرہ والیو تہہو تراونہ تم سیدہ دروازہ کن بے  
 وقت ینہ موکھ۔ مگر تم تراے تمّن نشہ دیوارہ پیٹھ دوٹھ دتھ۔ تو پتہ وَاَتَتْ تم داؤد علیہ السلامہ سندس  
 عبادت خاُس منز إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ یلہ تم تراے داود علیہ السلامس نشہ  
 لیس کھوڑا تمّم تمّن نشہ تہندہ بے وقت ینہ کہ سبہ تمودو پتھ کھوڑومہ حض خَصْمِينَ بَغْيِ بَعْضُنَا عَلَى  
 بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ اِس چھہ تنازک زہ فریق۔ آسہ آندرہ  
 کمر اک ہمیس پوٹھ زیادتی۔ لیس کمر و تہہ آسہ منز فیصلہ پڑہ سیت۔ تہتھہ بے انصافی کمر و۔ باو و سیز و تھہ تو  
 پتہ دوپ تمودو آندرہ اک زن مقدر ج صور تھہ حض چھہ پتھ یا تھی اِنَّا هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعَجَةً  
 وَمِ لوی۔ اِس نشہ چھہ نمہ ۹۹ نمٹھ گجہ۔ میہ حض پتھ صرف اکے گجہ ہن۔ یہ لوی چھہ میہ دپان یہ اکھ گجہ ہن

نَجَّةٌ وَاحِدَةٌ ۖ قَالُوا لَنْ نَجِدَ لَهَا غَافِلِينَ ۗ وَاعْزُرْنِي فِي الْخُطَابِ ۖ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجَّتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ ۗ يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ط

تہ ذہ شہ می۔ یہ حض چھم تھو سیت غالب سپدان۔ میہ چھنہ تھہ تہ دو ان کرنہ **قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجَّتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ** تم دو دیکھ یہ چھہ بقینا تہ پیٹھ ظلم کر ان چان اکھ گجر ہن منکھ سیت یوہ مہ ملہ ناوہ ہاپنہ نین کین سیت **وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ** اکثر شریک چھہ زیادتی کر ان اکھ اگس پیٹھ مگر چھنہ کر ان تم سمو ایمان اون یہ کر یکہ رثہ عملہ۔ تمہ قسمک لوکھ یعنی ایماندار چھہ کمنے **وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ** تو پتہ آو دو او علیہ السلام خیال کہ یہ مقد مہ میہ نغہ بیگانہ وقتہ پیش کرنس اندر چھہ ییہ حکمت کہہ اسہ کور امہ سیت ٹھہد امتحان مہ آس و چھو کو تاہ صبر و تحمل گرہ ون چھہ داو دو علیہ السلام۔ کیا زہ تھس ہڈس جلیل القدر پادشاہ سندس خلوت خانس بلا اجازت کانہ ہند واٹن تو پتہ امہ بے ر بطی سیت کلام کر ان یٹھ منز کافی گستاخی آس تہ ٹھہد تھہ ساری پیٹھ صبر و تحمل کر ان۔ چنانچہ تمو مونگ مغفرت پنہ بس پر و در گارس۔ یہ نئی یہ بون گن یہ کور رکھ رجوع بخدا **فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ** جس بخش اسہ تمن سہ معاملہ سمہ خاطرہ امتحان کرنہ اکھ۔ یہ چھہ بے شک تمن اسہ نغہ خاص قریب مقام یہ رت انجام **يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ** اسہ

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا  
يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿۳۷﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمابَيْنَهُمَا بَاطِلًا  
ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿۳۸﴾  
أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ  
أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿۳۹﴾ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ

فرمود تمین اے داؤد اَسْمَ بنو وہ کہ ژہ حاکم ز مینس اندر۔ جس کر ژہ حکم آئیدہ لوکن اندر انصافہ سیت۔  
یتھہ پاٹھہ از تان کر ان رو دکھ۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بیه یتھہ پاٹھہ از تام نفع پیروی  
کمر وہ نہ یتھہ پاٹھہ مہ کمر و پیروی نفعیہ خاہیہ ہنز۔ نفع پیروی کرن ڈالوہ توہمہ خدایہ سزہ و تہ نشہ إِنَّ  
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ پنز پاٹھہ ہم لو کہ ڈالان چھہ  
خدایہ سزہ و تہ نشہ تہندہ خاطرہ چھہ سخت عذاب کیا ژہ تمو مشرو و حسابک دوہ یعنی قیامت وَمَا خَلَقْنَا  
السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمابَيْنَهُمَا بَاطِلًا بیه کمر نہ اسہ آسمان تہ زمین بیه یہ تمن دون منز چھہ پیدہ بے ہودہ  
خالی از حمت ذَلِكْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ چھہ خیال کافر ن ہند فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ کافر ن  
ہندہ خاطرہ چھہ آخر نس اندر بد خرابی سہ گوہ جہنمک عذاب کیا ژہ انکار کرنہ سیت سانس اگس بدس  
حتمس تہ انکار کران۔ کیا ژہ بد لائل نقیہ و قطعیہ چھہ اسہ بتقرت بیان کورمت کہ قیامتس اندر چھہ یہ  
حکمت کہ یتھہ اَس نیکو کارن جزاء تہ مُفْسِدِن سخت سزا دو۔ دون نس قیامتس انکار چھہ کران سہ چھہ  
خدایہ سندس اتھ حتمس انکار کران بلکہ چھہ سارنہ برابر زانان۔ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان أَمْ يَجْعَلُ  
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیاہ اَس کرو کہ تم سمو  
ایمان اون بیه کر کیہ رژہ عملہ تمین لوکن ہی سم ز مینس پیٹھہ کفر و نافرمانی کمر تھہ دُنْيَاءِ س منز فساد تہ  
بتاہی کران چھہ بین الفاظن اندر گوہ یتھہ پاٹھہ کہ بیه کرو کہ اَس پر ہیز گار تہ خدائس کھوٹھہ ون تہ بدکار  
برابر۔ یتھہ پاٹھی توحید تہ بعث دلیلو سیت ثابت چھہ پاٹھی چھہ نبوت و رسالت تہ بدلیل ثابت۔

لَيْدَبْرُوَايْتِهٖ وَلَيْتَذَكَّرُوا لَوَالِالْاَلْبَابِ ۝۱۹ ۞ وَوَهْبِنَالِدَاوُدَ سَلِيمِنِ ط  
 نِعَمَ الْعَبْدِ اِنَّهٗ اَوْاَبٌ ۝۲۰ ۞ اِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِثِي الصَّفِيْنُ  
 الْجِيَادُ ۝۲۱ ۞ فَقَالَ اِنِّي اَجَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى  
 تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝۲۲ ۞ رُدُّوْهَا عَلٰى فُطَيْقٍ مَّسْحًا بِالسُّوْقِ

کُنْبُ اَنْزَلْنَهٗ اِلَيْكَ مُبْرَكٌ لَيْدَبْرُوَايْتِهٖ وَلَيْتَذَكَّرُوا لَوَالِالْاَلْبَابِ یہ قرآن مجید چھ کتابہ یوسہ آسہ  
 نازل کتر یار رسول اللہ توہم گن، بابرکت کتابہ یمہ کین الفاظن، حرفن ۲۲ معاین اندر چھ پور برکت یتھ  
 لو کہ یمن آیتن اندر غور ۲۲ فکر کرن بیہ یتھ عقلہ والی تمہ سیت نصیحت رٹن وَوَهْبِنَالِدَاوُدَ سَلِيمِنِ  
 نِعَمَ الْعَبْدِ اِنَّهٗ اَوْاَبٌ بیہ کہ آسہ عطا دود علیہ السلامس فرزند سلیمان علیہ السلام۔ کیاہ رُت بندہ چھ  
 سہ سلیمان علیہ السلام۔ پر یتھ وقتہ خدائس گن رُجوع کرہ ون۔ چنانچہ ٹھند قصہ چھ قابل ذکر اِذْ  
 عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِثِي الصَّفِيْنُ الْجِيَادُ یلہ کہ دوہہ تمن پیش آی کر نہ شامکہ وقتہ عمدہ تیز رفتار گُر  
 سم جمادہ خاطرہ تھانہ امت آس ٹھندس و چھنس ۲۲ ملاحظہ کرہ نس اندر لوگ واریاہ وقت۔ نمازہ  
 گووژیر۔ چنانچہ جلال و ہیبت سببہ ہیوک نہ کانسہ جرأت کتر تھ کہ تمن کرہ بن اتھ پیٹھ مطلع تو پتہ سپد  
 تمن پانہ سے امیک خیال فَقَالَ تُوپتہ لگ فرمانہ اِنِّي اَجَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ  
 بِالْحِجَابِ افسوس میہ کور اختیار مالگ محبت سمہ سیت بہ غافل سپدس پنہ نس پروردگارہ سندہ عبادتہ  
 نِشہ یوتان آفتاب کھٹھ رود شامہ کس ہر دس تل رُدُّوْهَا عَلٰى فُطَيْقٍ مَّسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْحِجَابِ  
 فرموؤ کہ بیہ اینو کہ واپس سم گری میہ نِشہ۔ تو پتہ ہیو چھ تمن گرین گروزن ۲۲ گردن پھش دین  
 شمشیرہ سیت۔ یعنی تم کتر کہ ساری ذبح۔ کیا زہ نس مال خذلیہ سندہ یادہ نِشہ غافل سپد نک سبب سپدہ  
 سہ مال گزہ نہ پانس نِشہ روزن۔ کہ قصہ ٹھند گوویہ۔ بیا کہ قصہ چھ۔ متفق علیہ چھ حدیث شریفکہ  
 کہ لٹہ سپد سلیمان علیہ السلام پنہ نین امراء لشکرن نِشہ جمادہ کس آگس معاملس اندر آزدہ۔ تو پتہ  
 فرموؤ کہ ازرات کیت سپدہ بہ پنہ نین ستہ تن زنانن سیت ہم ہسٹر تمن نِشہ سپدن پیدہ ستھ فرزندیم



وَالْأَعْنَاقُ ۝۳۱ وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَ أَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ  
 أَنَابَ ۝۳۲ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكًا لَّيَبْتَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ  
 بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝۳۳ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ  
 رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝۳۴ وَ الشَّيْطَانَ كُلَّ بَنَاءٍ وَ عَوَاصٍ ۝۳۵ وَ الْآخِرِينَ  
 مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝۳۶ هَذَا عَطَاؤُنَا وَمَنْ لَّنُ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ

مجاہد سپدن انشاء اللہ ہرگز گو کہ مشق۔ نتیجہ در او کہہ کانسہ زنانہ رود نہ امہ شبہ حمل۔ صرف رود اس زنانہ  
 نانہ پیاد یعنی ناتمام چہ۔ سہ ناتمام چہ ہتھ آیہ دای تو پتہ ترو نکھ تھنس پیٹھ و لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَ أَلْقَيْنَا  
 عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ تھنقن بیہ سکر اسہ آزمائش تہ امتحان سلیمان علیہ السلامس بیہ ترو و اسہ  
 تھندس تھنس پیٹھ بدناہ، بے روح تو پتہ کور تمور رجوع بخدا بیہ کور کہ انشاء اللہ نہ پرہ نس پیٹھ تو بہ  
 موگھھ دُعا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكًا لَّيَبْتَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ دُعا کور کہ ای  
 میاہ پروردگارہ میہ کر مغفرت پتہ مین گو نمہن۔ بیہ کرم عطا آیندہ خاطرہ سو سلطنت یوسہ نہ کانسہ اس  
 میہ ورائے اسہ۔ بے شک ژے پکھ سورے عطا کرہ ون۔ ژیہ نغہ جھنہ یہ دُعا قبول کرن کینہہ دشوار  
 فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ نھس کور اسہ واؤ تمن مُسَخَّرٌ تالبع۔ سہ واواوس پکان  
 تھمدہ حکمہ وارہ وارہ یوت تمن واتنگ ارادہ آسان اوس۔ سمہ سیت تمن گرین ہنز چنداں ضرورت  
 روزنہ وَ الشَّيْطَانَ كُلَّ بَنَاءٍ وَ عَوَاصٍ بیہ تھواو تالبع تہ مُسَخَّرٌ اسہ تمن شیطان یعنی جن۔ تم ساری سم دسمل  
 آس بیہ ڈونگل آس سمندره منزہ غوطہ دتھ موختہ کھاران وَ الْآخِرِينَ مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ بیہ تمن  
 وراے بے جن یم ہانکو سیت بند آس کرنہ آمت قید تھاونہ آمت عدول حکمی سببہ۔ خدمات مفوضو  
 نغہ سم جن ژلان آس تعیل حکم آس نہ کران۔ تمن اوس امی قسمہ سزاندہ یوان هَذَا عَطَاؤُنَا وَمَنْ لَّنُ  
 أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حَسَابٍ اسہ فر مووس اے سلیمان یہ چھٹی ژیہ سانہ طرفہ اکھ عطیہ بے پادشاہ جھنہ  
 آسان ملکہ کین خزان ہند مالک۔ بلکہ جھہ تم آسان ملکہ ناظم۔ مگر تہہ سکر وہ اسہ مالک تمام خزان

حَسَابٍ ۳۹) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ۴۰) وَإِذْ كُرِعْنَا  
 أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۴۱) ط  
 أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۴۲) وَوَهَبْنَا لَهُ  
 أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۴۳)

ہندس خوش کردہ کس دیو۔ ہر گاہ پانے نعرہ تھا وو۔ سانہ طرفہ چھنہ کانہہ باز خواست وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا  
 لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ امہ دنیاء کہ سامانہ علاوہ چھہ تہندہ خاطرہ اسہ نعرہ خاص قرب۔ بیہ نہایت اعلیٰ  
 درج نیک انجامی۔ سمیک ظور آخر کس منز سپہ۔ وَإِذْ كُرِعْنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ  
 الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ بیہ پایون ترمیس سون بندہ ایوب علیہ السلام۔ یلہ تمویپنہ کس ہر دور دگار س  
 ہد اکورای میانہ ہر ورد گارہ شیطان چھہ وانوان میہ ایذاتہ تکلیف۔ سہ تکلیف اوس یوہ کہ کہ اکہ دوہنہ  
 سٹھہ و تہ پکان شیطان تہندین باژن طیبہ سزہ شگلہ منز۔ تمو کور خیال یہ چھہ حکیم۔ اس اتھ کرہ ناوو  
 ایوب علیہ السلامس علاج۔ تمی دو پچھہ بہ کرہ تہن علاج۔ تھہ شر طس پیٹھہ کہ ہر گاہ شفا نہ تہن۔ تہند گڑھہ  
 دہن کہ تے دیتھہ تہن شفا۔ امہ درائے چھس نہ بہ کانہہ معاوضہ توہہ نعرہ یڑھان۔ تمو کور امیک  
 تذکرہ ایوب علیہ السلامس نعرہ۔ تمو فر موو کہ بی بی ژ یہ پٹھہ ناخبر یہ کس چھہ یہ چھہ شیطان۔ تہن سپد  
 امیک سخت رنج۔ تمو دوپ میانہ بیماری سببہ لوب شیطان موقہ میانہ گروا نہ اتھ تھہ شرک کلمات  
 ونہ ناوتک۔ لہذا ہوو کہ قسم کہ بہ لایہ پنہ نین باژن ہتھہ تمچ۔ اللہ تعالیٰ ان کمر تہندس معھہ کس  
 اجابت۔ فر موو چھہ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ اے حضرت ایوب لٹھ دیوپنہ کھورہ  
 سیت زمینس۔ اتی دراوتہ کس ناگہ راد۔ اللہ تعالیٰ ان فر مووس اے حضرت ایوب یہ آب چھہ تہندہ  
 سران کرنہ خاطرہ، تہن آب۔ بیہ چھہ تہندہ چنہ خاطرہ۔ چنانچہ تمویان امہ آبہ سیت غسل کور، بیہ  
 چوکہ سہ آب تانی سپد کہ سوزی تکلیف دور وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي  
 الْأَلْبَابِ بیہ کمر اسہ عطا تہن گرک باژ۔ ہم مکانہ کس پیش تل گرہ تھہ موومت اس یہ تہن ہی تہن سیت

وَحَدُّبَيْدِكَ ضَعْفًا ضَرْبُ بِهِ وَلَا تَحْتُّ إِتْنَا وَجَدْنَهُ صَابِرًا  
 نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۳۶﴾ وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ  
 أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿۳۷﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى اللّٰهُ  
 وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لِنَ الْمُصْطَفِينَ الْآخِيَارِ ﴿۳۸﴾ وَأَذْكُرُ اسْمِعِيلَ وَ  
 الْيَسَعَ وَذَ الْكِفْلَ وَكُلُّ مِّنَ الْآخِيَارِ ﴿۳۹﴾ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ

بہے باثر ہے، پنہ خاص مہربانی سیت بہیہ عقل مندک ہندہ خاطرہ اکھ یادگار روزہ۔ یعنی عقلہ والین ہند گتھہ یاد تھاؤن کہ صبر گرہ و نین کتھہ رت جزاء چھہ اللہ تعالیٰ ووان۔ امہ پتہ کور ایوب علیہ السلام ارادہ کہ پٹن قسم کرہ ہن تم پورہ یعنی الہین پنہ نین لایہ ہن ہتھہ قمیہ۔ مگر چوچہ تموا س ایوب علیہ السلام سیٹھاہ خدمت کمر مژ خصوصاً تھہ بیمارہ اندر بہیہ آس نہ تھہندہ طرفہ خاص کا نہہ نافرمانیہ آمرش کرنے لہذا کمر اللہ تعالیٰ ان پنہ مہربانی سیت تھہندہ خاطرہ اکھ خاص حُماہ نازل سمہ سیت تھہندہ حقتہ اکھ تھیفہاہ سڈ بہیہ فر موواسہ ایوب علیہ السلام وَحَدُّبَيْدِكَ ضَعْفًا ضَرْبُ بِهِ وَلَا تَحْتُّ رُؤُوبُہ اُتھس منز مورہ بودارہ ہتھہ منز اکھ ہتھہ مورہ آس تمی سیت لایوٹھہ ژنڈا باژن پنہ نین قسم مہ پھٹہ راؤو۔ چنانچہ تی کور ایوب علیہ السلام من امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ فرماؤن ایوب علیہ السلام تعریف کہ اِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ بیشک امہ لوب سہ صبر کرہ و ن بندہ۔ کیاہ رت بندہ چھہ سہ۔ بے شک سہ چھہ سیٹھاہ رجوع کرہ و ن پنہ نس خدا بس کن وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ بہیہ کمر و یاد سامین بدن ہند، ابراہیم علیہ السلام سہند، اسحاق علیہ السلام سہند بہیہ یعقوب علیہ السلام سہند۔ تم اٹھو کھوڑو سیت اسی بندگی کران۔ اچھو سیت آس آثار قدرت و چھتھہ مغفرت حاصل کران۔ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى اللّٰهُ امہ آس تم مخصوص کمر مت کہ خاص تھہ سیت۔ سہ گوو آخر تک گھرہ بکثرت یاد کرنے سیت وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لِنَ الْمُصْطَفِينَ الْآخِيَارِ بہیہ چھہ تم حضرات امہ نشہ یقیناً ژارنہ آتیور تیوبند و آندہ وَأَذْكُرُ اسْمِعِيلَ وَ الْيَسَعَ وَذَ الْكِفْلَ وَكُلُّ مِّنَ الْآخِيَارِ

لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَا بٍ ﴿۵۹﴾ جَدَّتِ عَدْنٌ مُّفْتَحَةً لَّهُمُ الْآبْوَابُ ﴿۶۰﴾  
 مُتَّكِبِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿۶۱﴾  
 وَعِنْدَهُمْ قَصْرَاتُ الطَّرْفِ أْتْرَابٌ ﴿۶۲﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ  
 الْحِسَابِ ﴿۶۳﴾ إِنَّ هَذَا الرِّزْقُ مِمَّا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿۶۴﴾ هَذَا طِرَانٌ  
 لِلطَّالِعِينَ لَشَرِّ مَا بٍ ﴿۶۵﴾ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فِئْسَ الْبِهَادُ ﴿۶۶﴾ هَذَا

بہ کر یوں یاد اسمعیل علیہ السلام بیہ الیخ علیہ السلام، بس صاحب الیاس علیہ السلام بن نایب  
 سوڑمت اوس بنی اسرائیل کن۔ پتہ سہز تین نبوت عطا۔ بیہ ذوالکفل علیہ السلام۔ تم ساری تہ چھہ  
 رتوبند و آندرہ ہذا ذکر یہ چھہ نصیحت کلاما۔ یہ سپد ختم امہ پتہ چھہ بیان جزاء و سزاء ک۔ تمیگ  
 تفصیل چھہ پتہ پاٹھی کہ وَإِنَّ الْمُنْتَقِينَ لِحُسْنِ مَا بٍ بیہ چھہ پر ہیز گارن ہندہ خاطرہ آخرتس منز  
 رث جاہہ روزنہ خاطرہ جَدَّتِ عَدْنٌ مُّفْتَحَةً لَّهُمُ الْآبْوَابُ یعنی ہمیشہ روزنک باغ تین ہند دروازہ و تھ  
 آسن تراونہ آمت تین پر ہیز گارن ہندہ خاطرہ مُتَّكِبِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ  
 تکیہ و تھ آسن بہتہ تین جہنمن منز۔ طلب آسن کران تین جنتہ کین خدمت گارن نشہ تین جہنمن  
 واریاہ قسمک میوہ بیہ واریاہ قسمک چنہ چیز۔ وَعِنْدَهُمْ قَصْرَاتُ الطَّرْفِ أْتْرَابٌ بیہ آسنکہ بروٹھہ کنہ  
 خوب صورت تہ خوش شکل زنانہ یعنی حورہ بیہ بون کن نظر تھاونہ آسن۔ تم آسن اکی عمرہ ہم سن ونہ  
 بیچہ ہذا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ اے مسلمانو سمہ چھہ تمہہ نعمتو تین ہند توہہ وعدہ اوس تھاونہ  
 یوان قیامتک دوہ نیس پیٹھہ إِنَّ هَذَا الرِّزْقُ مِمَّا لَهُ مِنْ نَفَادٍ بے شک یہ چھہ سون رزق۔ اتھہ چھونہ زانہ  
 تہ و و برن تہ ختم تھوٹھن بیہ چھہ دائمی نعمتہ ہمیشہ پوشہ ونہ بیہ مضمون گوو ختم بس اہل سعادتن متعلق  
 اوس۔ وون بوڑ و امہ پتہ اہل شقاوتن ہند حال ہذا وَإِنَّ الطَّالِعِينَ لَشَرِّ مَا بٍ بیہ چھہ کرس تہ نافرمان ہندہ  
 خاطرہ سیٹھاہ بیچہ روزنچ جائے جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فِئْسَ الْبِهَادُ سو جای گیہ جہنم بیچہ منز تم داخل سدن۔  
 بس چھہ سیٹھاہ بیچہ جائے ہذا فَلْيَدْعُوا حَيْمَرًا وَعَسَاءُ وَنہ بیچہ اے جہنمیوہ چھوہ رسر بیہ پال تہ

فَلْيَذُوقُوا حَسِيمًا وَغَسَاقًا ﴿۵۷﴾ وَآخَرِينَ سَكَلَهُ آزَوَاجُهُ ﴿۵۸﴾ هَذَا  
 فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿۵۹﴾ قَالُوا  
 بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّجْرِبُونَ ﴿۶۰﴾ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَيَسِّرْ أَلْفًا  
 قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا أَفْرِدُوهَ عَنَّا بَصِغْنَا فِي النَّارِ ﴿۶۱﴾  
 وَقَالُوا مَا لَنَا لَاتْرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ﴿۶۲﴾  
 أَخَذْنَاهُمْ سِجْرًا أَمْ رَأَيْتُ أَنْذَرْتَهُمْ الْبَصَارَ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ

پاک۔ اتھ تہ وچھو مزہ۔ وَآخَرِينَ سَكَلَهُ آزَوَاجُهُ بیہ آسن اتھ ہی واریاہ چنک تہ کھنک چیز۔ سم سیٹھاہ  
 بیچہ، ناگوار تہ تکلیف دہ آسن هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ یلہ زہن تہ  
 متبوعن ہنز جماعت جہنم منزد اخل سپدہ توپتہ بین آنہ تہ داخل کرنہ تہمدی تابع۔ تم دہن پانہ وانی  
 یکیا آہہ بیاکہ جماعت یم توہمہ سیت عذابس اندر شامل سپدہ خاطرہ جہنم اندر ٹریل کمر تھہ چھہ  
 اثران۔ خدا زن تمن بلائے تمن مہ بن کشادہ جائے تمنہ۔ تمن تہ چھہ اثران نارس اندر قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ  
 لَا مَرْحَبًا بِكُمْ تم دہچھہ تورہ بلکہ مہ یمن کشادہ جائے تمنہ توہی کن خدا بندہ بلائے أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَيَسِّرْ  
 أَلْفًا پس کاثرہ بیچہ جائے چھہ یہ جہنم نس اسہ تہمدہ وجہہ پیش آؤ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا أَفْرِدُوهَ  
 عَنَّا بَصِغْنَا فِي النَّارِ پانہ وان اکھ آگس پیٹھ چھاوہ داسی کمر تھہ کمرن دُعا، اے سانہ پروردگارہ سموہ  
 عذاب تہ مصیبت اسہ بروٹھکن ترودتہ و اتنا تمن کرتہ ژہ زیادہ عذاب دوگنا و تھہ نارس اندر وَقَالُوا مَا لَنَا  
 لَاتْرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ توپتہ دہن ساری جنمی کیاہ سناؤ بیچہ چھہ آس چھہکھہ و چھان  
 یتہ تم لوکہ سم آسی گنزران آسکھہ بیچہ تہ ناکارہ لو کو اندرہ یعنی مسلمان أَخَذْنَاهُمْ سِجْرًا أَمْ رَأَيْتُ أَنْذَرْتَهُمْ  
 الْبَصَارَ کیاہ آس اسہ تمن ناحق ٹھٹھہ کران۔ تم آس نہ فی الحقیقت نارس لایق۔ کنہ جنہمس اندر چھہ  
 تم تہ موجود، مگر سانہ نظرے چھہ تمن نشہ ڈجہ مرثہ یت اتھہ چھہ اسہ در ینٹھی یوان عذابس سیت چھہ  
 یہ ٹھہ سانہ حقہ باعث حسرت إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَافُكُمْ أَهْلِ النَّارِ بے شک یہ چھہ واقعی سپدہ ون یعنی

تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿۷۶﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَنِ الْوَالِي إِلَّا اللَّهُ  
 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۷۷﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ  
 الْغَفَّارُ ﴿۷۸﴾ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ﴿۷۹﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿۸۰﴾ مَا  
 كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِاللَّيْلَةِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يُخْتَصِمُونَ ﴿۸۱﴾ إِنْ يُؤْتِي  
 إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۸۲﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي

جہنمن ہنزپانہ وانی ہر ہر کرن قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ تہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ ای لو کو تہہ نیس توحید و  
 رسالتس انکار کران چھوہ، امیک ضرر چھوہ توبہ پانس۔ میہ تہہ قسمتہ امیک ضرر چھنہ کیا زہ بہ چھس  
 توبہ کہ نیم کرہ وناہ خدایہ سندہ عدلہ نشہ وَمَنِ الْوَالِي إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ بیہ فرما یو کہ تہہ پاتھ  
 میون پیغمبر تہہ نیم گرہون آسن کہ امر واقعی چھہ تہہ پاتھ چھہ توحید تہہ کہ پوز تہہ واقعی امرہ یعنی خدایس  
 ورائے نیس تہہ غالب چھہ چھنہ کانہہ اکھاہ عبادتس لایق رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ  
 الْغَفَّارُ نیس آسمان تہہ زمین ہند پروردگار چھہ بیہ تہہ تمن دون منز چھہ تمہہ سارکے پروردگار تہہ مالک  
 سیٹھاہ زبردست تہہ سیٹھاہ چھنہار چھہ ہندن ہندین بے شمار گو تہن قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ \* أَنْتُمْ عَنْهُ  
 مُعْرِضُونَ تہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر یعنی اللہ تعالیٰ سدین توحید و شراعتین ہنز  
 تعلیم کرنہ خاطرہ بوسوژن، یہ چھہ کہ عظیم الشان مضمونہہ سمیک توبہ سیٹھاہ اہتمام کرن شوہہ ہاگر  
 افسوس تہہ چھوہ امہ نشہ سیٹھاہ بے پروا سپدان۔ املہ عظیم الشان آنک وجہ چھہ یوہے کہ امہ ورائے  
 چھہ سعادت حقیقی حاصل پدن محال مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِاللَّيْلَةِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يُخْتَصِمُونَ میہ اس نہ کہین  
 خیر عالم علوی ہنزین مجلس ہنز۔ یلہ ہم یعنی ملا علی اکب لو کہ آدم علیہ السلامہ سزہ ہاد ایٹہ متعلق بحث  
 آس کران۔ میہ آہہ خبر کرنہ بعض تمن معاملن ہنز وجہ ذریعہ إِنْ يُؤْتِي إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ  
 میہ گن چھنہ وحی یوان نازل کرنہ مگر ای زہ بہ چھس کہ پیغمبر اہ نین پاتھ نیم کرہون چنانچہ تمہو معاملو  
 اندرہ گووا کہ معاملہ تہہ منز ملا علی اس منز بحث اوس یوان کرنہ۔ آدم علیہ السلامہ سند پادہ کرن۔ یہ

خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴿۴۱﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ لِسْعِدِينَ ﴿۴۲﴾ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿۴۳﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۴۴﴾ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿۴۵﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿۴۶﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿۴۷﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ

تہ سپد میہ معلوم و جیحہ کہہ ذریعہ۔ بیاکھ کانہہ ذریعہا میہ نغمہ چھنہ۔ یوہے چھہ ثبوت میانہ نبوت و رسالتک۔ لہذا پڑہ توبہ میا نیس پیغمبر برحق آسبس پڑہ کرن۔ تفصیل تمہ گفتگوک چھہ اذ قال ربک للملائکة ائی خالق بشرًا من طین سہ گفتگو سپد تمہ وقتہ یلہ فرمود تہندی پروردگار کن ملائکن اے ملائکو میون ارادہ چھہ بہ گرن پادہ میڑہ آکھ بشرہ

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ لِسْعِدِينَ تویپتہ یلہ سہ بہ وارہ پور بناؤن یعنی تہند اعضاء مکمل گرہ بہہ واتاودہ بہ تہس منز پینہ طرفہ روح لیس نمزہ چھہ تہس برو تھ کینہ سجدہ دو ان تویپتہ اللہ تعالیٰ ان سہ تیار کور فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ساروے ملائکو دیت تہس سجدہ یکہ دوئہ إِلَّا إِبْلِيسَ مگر دیت نہ سجدہ ابلیس اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تم کور سبجرتہ غرور بہہ سپد سہ کافر و اندرہ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ اللہ تعالیٰ ان فرموس اے ابلیس کم چیزن رو کھہ ژہ چھہ تہس سجدہ دنہ نغمہ لیس میہ پنہ نیوا تھو پیدہ کور۔ یہ کور تھہ ژہ سبجرتہ غرور، بوڈنہ آتھ کینہ واقعی اوسکھ ژہ تھدہ درجہ کیولو گو اندرہ تمکن نہ سجدہ کرن زیباوس قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ابلیس لوگ دینہ کہہ یہ دویم کھہ چھہ ثابت یعنی بہ چھس تہندہ خوتہ بہتر۔ یہ کور تھس پادہ نارہ نغمہ۔ سہ کور تھس پادہ ریبہ نغمہ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللہ تعالیٰ ان فرموس نیر سمہ آسانہ نغمہ نیر بے شک امہ عدول حکمہ سببہ چھکھہ ژہ مردود۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ

لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿۸۵﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ  
يُبْعَثُونَ ﴿۸۶﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿۸۷﴾ إِلَى يَوْمِ  
الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿۸۸﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۸۹﴾  
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿۹۰﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿۹۱﴾  
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۹۲﴾ قُلْ

الدِّينِ بیہ چھہ ژہیہ پیٹھ میاں لعنت قیامتہ کس دوہس تان۔ تمہ پتہ چھنہ مرحوم سپد نک امکانے۔  
قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ البیس دوپ اے پروردگارہ ہر گاہ آدم علیہ السلام سدہ  
وجہ بہ مردود کور تھس تلہ دتہ میہ مملت مر نہ نشہ قیامتہ کس دوہس تان پیٹھ بہ تمہ نشہ بیہ تہدین  
اولادن نشہ پورہ بدلہ ہیہمہ ہا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اللہ تعالیٰ ان فر مووس یلہ ژہ مملت چھکھ  
منگان گڑھہ ادہ کیا ژہ آئی موبل تھہ دنہ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ تمہہ دوہس وقس تام بس مقرر  
چھہ۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ دہنہ لوگ یلہ میہ مملت آئیہ  
دنہ تلہ چھم چانہ عزتک قسم کہ یم ساری بنی آدم ڈالکھ بہ ضرور سیزہ وتہ نشہ مگر نہ تموا اندرہ چان  
برگزیدہ بندہ یم ژہیہ میانہ اثرہ نشہ محفوظ تھاوتھکھ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ \* لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ  
وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ اللہ تعالیٰ ان فر مووس بس چھنہ پڑیئے کتھ کہ بہ چھس ہمیشہ پوزے  
ونان کہ یقینا بہ گرن ہر جہنم چانہ سیت بیہ چانین سارے بیرون تہ تابن ہندہ سیت قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ  
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ فرما دیو کھ تو ہیہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوگو بہ  
چھنہ تو ہیہ مکان دین حق واتا ونہ خاطرہ کانہہ مزدیہا۔ بیہ چھس نہ بہ زورہ ہن پان پیٹھ بناوٹ کہ  
طریقہ کرہ ہا بہ نبوتک دعوی۔ غیر قرآن ونہ ہا بہ قرآن۔ بلکہ چھہ فی الواقع یہ قرآن مجید کلام الہی  
إِنَّ هُوَ الْأَذْكُرُ الْعَلِيمُ یہ قرآن مجید چھہ ساری جماعہ خاطرہ اکھ وعظاہ تہ نصیحتہا سمکہ تبلیغہ



مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿۸۶﴾ إِنَّ  
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿۸۸﴾

خاطرہ مہ نبوت عطا کرنے آئیے۔ منجہ منزه ہندی خاطرہ بوڈ نفع تہ فایدہ چھہ۔ ہر گاہ توہہ پوز واضح سپدنہ پتہ  
تہ مانونہ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ توہیہ زانو پائے ضرور کنیہ وودو ہو پتہ امیک پورہ حال۔ مرنہ پتے  
سپدہ توہیہ پورہ حقیقت ظاہر۔



## سُورَةُ الزُّمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۱ اِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ  
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَأَعْمِدِ اللَّهُ مَخْلَصًا لِّلَّذِينَ ۲ اَللَّهُ الدِّينِ  
 الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ  
 إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ یہ جہتہ نازل کرنے امر کتاب اللہ تعالیٰ سندہ طرفہ نہیں غالب  
 تہ حمتہ وول جہتہ۔ غالب تہ زبردست آسن تہمد اوس مکان کہہ نہیں جہتہ کتابہ انکار کرہ ہائس گوتہ  
 سزاندہ یں فوراً مگر حکیم آسن تہمد جہتہ مکان کہ تمن گوتہ مہلت دہنہ یں۔ اِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ  
 بِالْحَقِّ فَأَعْمِدِ اللَّهُ مَخْلَصًا لِّلَّذِينَ اسی کمر نازل یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توہہ پیٹھ یہ کتاب  
 (قرآن مجید) پتر پاٹھ۔ بس روزو توہہ خدایہ سنز عبادت کران قرآنی تعلیمہ مطابق خالص اعتقاد  
 کمر تہہ پیٹھہ پاٹھی ازتان توہیہ کران رودو اَللَّهُ الدِّينِ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ  
 اے لو کووارہ بو زویوسہ عبادت خالص شر کہ نشہ آسہ سو جہتہ سزوار خدایہ یس۔ یعنی توحید جہتہ واجب  
 سارنے پیٹھہ بلہ توہہ پیٹھہ تہ یہ واجب تہ منہ جہتہ بین ہنز جہتہ کتھہ۔ وونی سمولو کو خالص عبادت تراوتہ  
 خدایس ورائے شریک تجویز کمری سمن متعلق تم و نان جہتہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ  
 اسی جہتہ تہنز پرستش کران مگر یہی خیالہ کہہ تم و اتناون آسہ خدایس نزدیک، سان عبادت تہ مطالبات  
 کرن پیش خدایس نشہ۔ پیٹھہ پاٹھی دنیاس اندر جہتہ وزیر و اتناوان پادشہمن نشہ لو کن ہندی معاملات  
 اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بیشک اللہ تعالیٰ کرہ عملی فیصلہ تمنی منزبہ تہمد یں  
 مقابلن اہل ایمانن منز تمن سارنے کتھن سمن منز تم اختلاف کران جہتہ۔ سہ فیصلہ گو کہہ اہل توحیدن

يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿۱۰﴾  
 اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا الْأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهُ  
 هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۱﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ  
 يَكُوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ  
 وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْعَفَّارُ ﴿۱۲﴾

وانت ناوہ جنس اندر اہل شرک و اتناوہ دوزخس اندر۔ تہہ مہ کھیو تہندس نہ مانہ نس پیٹھہ کانہہ غم۔  
 سمیک تہ مہ کمر و تعجب کہ یم کونہ ہجھہ باوجود نہہ دلیلہ آتھہ سیزہ و تہہ پیٹھہ پکان۔ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي**  
**مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ** بے شک اللہ تعالیٰ ہجھہ کا میابی ہنز و تھہ ہاوان تس نس قولاً پز یور آسہ بیہ نس  
 اعتقاد یعنی نس زیوہ پز یور آسہ بیہ آسہ کفر چہ تھہ و نان۔ دلہ کنی آسہ ٹھری اعتقاد ا پیٹھہ ڈاؤ ٹھہ تھہ۔  
 بعض مشرک آس اللہ تعالیٰ آس کن اولاد لاگان۔ ملائکن آس دپان تمہ ہجھہ خدایہ سزہ کورہ تمن ہجھہ  
 اللہ تعالیٰ رڈ کران۔ **لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا الْأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهُ هُوَ اللَّهُ**  
**الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ** ہر گاہ اللہ تعالیٰ بالفرض یڑھہ ہا کانسہ اولاد بنوان پنہ نیوے مخلوقہ آندرہ نس یڑھہ ہا تس  
 گرہ ہا امہ خاطرہ منتخب۔ مگر سہ ہجھہ پانہ خالق تس وراے تم ہجھہ تم چھہ مخلوق۔ غیر جنس اولاد آس  
 ہجھہ عیب۔ اللہ تعالیٰ ہجھہ ساروے عابونعہ پاک۔ لہذا ہجھہ مخلوق آندرہ ولدیتہ خاطرہ کانہہ منتخب کردن  
 محال۔ لہذا ہجھہ ارادہ بحال کردن تہ محالے۔ سہ ثابت کہ سہ ہجھہ معبودا ہن۔ شریک بالفعل تہ ہجھہ نس  
 کانہہ بیہ ہجھہ سہ زبردست۔ تس ہجھہ شریک بالقوہ تہ کانہہ۔ **خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ**  
**يَكُوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ** سہ ہجھہ راتچہ تاریکی ولان دچہر روشنی پیٹھہ سمہ سیت  
 دوہ ہجھہ غائب سپدان تہ رات ہجھہ یوان۔ دچہ روشنی ہجھہ ولان راتچہ تاریکی پیٹھہ بیمہ سیت راتھ ہجھہ  
 ختم سپدان تہ دوہ ہجھہ یوان **وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ** تم ہجھہ لاگمت کامہ آفتاب تہ زون **كُلِّ يَجْرِى**  
**لِأَجَلٍ مُّسَمًّى** آسہ ہجھہ عزیز العفّار تم آندرہ روزہ پر تھہ اکھاہ پکان آکس مقررہ و قس تام سمود لیکو

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ  
 مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقَكُمْ فِي بَطُونٍ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ  
 بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا  
 هُوَ فَا تَنصَرَفُونَ ﴿٦﴾ إِنَّ تَكْفُرًا وَاقِفَاتٍ اللَّهُ عَنِّي عَنْكُمْ وَلَا  
 يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

پتہ تہ توحیدس انکار کرنس چھہ اندیشہ عذاب اللہ تعالیٰ اس چھہ تھہ پیٹھ قدرت کیا زہوارہ بوزوسہ چھہ  
 زبردست۔ ہر گاہ کانہہ انکار کر تھہ توحید تسلیم کرہ تہس کرہ نہ ہتھ گزشتہ انکارس پیٹھ عذاب۔ کیا زہ  
 سہ چھہ سیٹھہہ مغفرت کرہ ون۔ بیا کہ دلیل چھہ تہندہ توحید چ۔ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ تہہ  
 لو کہ کثرونہ پادہ انس شخصس نشہ۔ سہ گوو آدم علیہ السلام ثُمَّ جَعَلْ مِنْهَا زَوْجَهَا توپتہ کرن پادہ آدم  
 علیہ السلامس نشہ تسنز زنانہ سوگیہ حوا علیہا السلام توپتہ پھیلاون تمن دوشونی نشہ ساری بنی آدم وَأَنْزَلَ  
 لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمِينَةَ أَزْوَاجٍ بیہ کثرون پادہ تہندہ فایدہ خاطرہ چاروایدہ آندرہ آٹھ نرودادہ۔ وونٹھ، گادہ،  
 ژھاوول، کٹھ، يَخْلُقَكُمْ فِي بَطُونٍ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ سہ پروردگارہ چھہ توہمہ  
 اے انسانو پادہ کران ماجن ہندین شیکمن آندرا کہ کیفیت پتہ ہمیس کیفیتس پیٹھ۔ تمہہ کیفیت پتہ ہمیس کیفیتس  
 پیٹھ۔ گوڈنچ کیفیت چھہ نطفہ یعنی آب منی آسان دویم کیفیت چھہ، موٹ خون آسان، ترمیم کیفیت  
 چھہ ماز پھول آسان۔ بیہ چھوہ توہمہ پادہ کران ترین گٹن اندرید ہنزگٹھ، بچہ دانہ ہنزگٹھ، ٹھیلگٹھ ہتھ منز  
 چہ آسان چھہ۔ مختلف گینتین پیٹھ پادہ کزن چھہ تہندس کمال قدرتس پیٹھ دلالت کران۔ ترین  
 تاریکین منز پادہ کزن چھہ تہندس کمال عکس پیٹھ دلاتھہ کران ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ یوہے اللہ  
 تعالیٰ چھہ تہندہ ہروردگار۔ تہوندے چھہ سورے ملک، تہنزے چھہ سارے سلطنت تہ حکومت لآلہ  
 إِلَّا هُوَ کانہہ اکھاہ چھنہ عبادتس سزوارتس ورے فَا تَنصَرَفُونَ یژھہ دلیلہ تہندس معبود  
 برحق آسٹس پیٹھ آتھہ کوت چھوہ تہہ پھر نہ یوان إِنَّ تَكْفُرًا وَاقِفَاتٍ اللَّهُ عَنِّي عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ

وَذُرَّاخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَرُّجِعْكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ  
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ عَارِبٌ مِّنْهُ  
مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ  
مِّنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ مَتَّعُ

الکفر اے لوگو تمہے بوزوکہ کفر و شرک چھ محض باطل۔ ہر گاہ تمہے اُمہ پتہ کفر و شرک کمر و پس اللہ تعالیٰ اس چھ تھمیک کا نہ ضرر۔ کیا زہ سہ چھ توبہ کن یا تھمیدس عبادتس کن محتاج۔ تس و لتہ تہ تھمیدہ عبادت نہ کرن یا توحید اختیار نہ کرنہ سیت کا نہ ضرر۔ مگر یہ تھہ چھ ضرور کہ تس چھہ بدن ہند کفر کرن پسند۔ کیا زہ تھمیدہ کفر نہ سیت چھہ تھن پانس ضرر۔ **وَلَنْ تَشْكُرُوا بَرِّضَةً لَّكُمْ** ہر گاہ شکر گذاری کمر و تھمیک بوڈ فردتہ باقی افرادن ہند موقوف علیہ چھہ ایمان، تھہ چھہ سہ تھمیدہ حقہ پسند کران۔ اُمہ نشہ چھہ اکھ قاعدہ مقرر کہ **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** کا نہہ اکھاہ تلیہ نہ کا نہہ پندین گو سن ہند بور پانس پیٹھ۔ پرستھہ اگس چھہ پائے پنہ نین گو سنن ہند بور تلن۔ لہذا آکھہ نہ کا نہہ ہند خیال کرن تہ کفر کمر تھہ کیا یہ سون کفر لیکنہ بیہ سندس نامہ اعمالس اندر تہ سپدو تھہ نشہ بری۔ نہ تھکن تابعن ہند جرم متبوع برداشت کمر تھہ تہ تلٹھہ۔ یا کا نہہ ونہ کا نہہ زہ گریہ کام امیک گوناہ چھہ میانہ ذمتہ۔ غرض یہ بنہ نہ کنہ صورتس اندر۔ بلکہ چھہ پرستھہ اگس پنہہ جرمگ سز پانہ کھیون **ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَرُّجِعْكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** تو پتہ چھہ توبہ پنہ نس پروردگارس کن رجوع کرن۔ پس کرہ سہ توبہ خبر تھن سارنے کا مین ہنزمیہ تہہ کران آسہ۔ سئی ویہ توبہ پیچھہ کا مین ہند سزا **إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** بے شک سہ چھہ ہر زنون ولن ہنزہ تھہ **وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ عَارِبٌ مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ** بیہ یلہ مخرک انسانس کا نہہ سختیاہ و اتان چھہ مڈگان چھہ تمہ ساتہ پنہ نس حقیقی پروردگارس پروردگارس کن بے معبود چھس تھہ ساتہ مشان تو پتہ یلہ سہ تس عطا چھہ کران پنہہ طرفہ کا نہہ نعمتہ، امن و آسایشاہ مشان چھہ تس، تہ یہہ خاطرہ سہ مڈگان اوس امنہ برو تھہ بالکل چھہ غافل سپدان **وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ** تو پتہ چھہ یہ تھہر او ان معبود

بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۗ أَمْنَ هُوَ قَائِلٌ  
 أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ  
 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا  
 يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ قُلْ يُعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا  
 رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ

برحقش شریک۔ بٹھ لوکن ڈالہ تہنزہ وتہ نشہ۔ یعنی پانہ گمراہ سپد تھ جھہ بین لوکن ڈالان تہ گمراہ  
 کران۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ فرماو دو توبہ یار رسول اللہ تس شخصس ای  
 شخصہ نکل ژہ فایدہ پنہ کفر کم کینہہ کاکس تان۔ آخر کار جھہ ژہ تارہ کیو لوکو بندرہ۔ امہ پتہ جھہ اللہ  
 تعالیٰ فرماوان اہل توحیدن ہند مدح۔ أَمْنَ هُوَ قَائِلٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو  
 رَحْمَةَ رَبِّهِ کیاہ سہ شخصس نئس اہس مٹر کس بر عکس عبادت آسہ کران رات ٹیٹ نئس وقت عموماً  
 غفلتک جھہ آسان سجدہ تہ قیامہ سیت، کھوژان آسہ آخر تس بیہ آسہ امیدوار پروردگارہ سدس  
 رحمتس۔ سہ چھا برابر تس شخصس سیت نئس نافرمان تہ بے نماز آسہ۔ ہرگز نہ بلکہ جھہ عبادتس پیٹھ شب  
 وروز مداومت تہ ڈاؤ کرہ ون، محمود تہ مقبول، مشرک تہ بے نماز مطرود تہ مردود۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي  
 الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ فرماو کہ جہہ یار رسول اللہ برابر چھا تم  
 لو کہ تم عالم تہ زانہ ون آسن بیہ تم سم جاہل آسن کینہہ تہ آسن نہ زانان۔ سمہ بیانہ سیت اگرچہ سپد ثابہت  
 کفرک تہ کافران ہند مذموم آسن بیہ ایمانک تہ اہل ایمان ہند محمود آسن، مگر توتہ رٹن نصیحت تہ تم سم  
 صاحب عقل سلیم آسن۔ قُلْ يُعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا  
 حَسَنَةٌ فرما وومیانہ طرفہ بالیمان، ای میانو بالیمان ہندو جہہ کھوژو پروردگارس پنہ نئس مداومت  
 کمر و طاعتن پیٹھ۔ پتھ روزو گنہو تہ نافرمانیو نشہ۔ سم سمہ دنیا س اندر نیکی کرن جہندہ خاطرہ جھہ رُت  
 صلہ تہ رُت بدلہ آخر تس اندر وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ہر گاہ توبہ و طمن اندر کانہہ چیز عبادت کرنہ نشہ

وَإِسْعَاءُ إِتْمَايُوتِي الصَّبْرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑩  
 قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ⑪ وَأُمِرْتُ لِأَنْ  
 أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ⑫ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ  
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑬ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ⑭ فَأَعْبُدُوا مَا  
 شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ  
 أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑮ لَمْ يَنْ

مانع چھتہ، تہلکہ کمر و ہجرت کیا زہ خدایہ سُنڈ زمین چھتہ کھول تہ وسع۔ اگس جالیہ نے دشمن ہندہ وجہہ  
 خدا ہیوں سرت، بیس شہرس منز گوتھ سز یوں پُن خدایہ دینس پیٹھ روز و صبر و استقلالہ سان اِتْمَا  
 یُوتی الصَّبْرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ مستقل روزہ و نین تہ صبر کرہ و نین یہ مزور دنہ بے حساب و  
 بے شمار قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ تہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ میہ آود خدایہ سہدہ  
 طرفہ حکم کرنہ کہ بہ کرہ عبادت خدایہ سز یوسہ عبادت خالص تہندی خاطرہ آسہ۔ تہتھ منز نہ شریک  
 اکہ زمش تہ آسہ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ بیہ آومیہ حکم کرنہ کہ بہ آسہ تہمہ امتہ کیو گوڈہ  
 بیجو مسلمانو آندرہ یعنی اسلامس دین حق تسلیم کرہ و نیو آندرہ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ  
 تہہ فرما یو کہ پتہ کہ ہر گاہ بہ پنہ نس پروردگارہ سز نافرمانی کرہ تہلکہ چھتہ میہ اندیشہ بڑہ ڈہیکہ عذاب سہ  
 گو قیامتک دوہ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي تہہ فرما یو کہ بہ چھس بندگی کران خدایہ سزے یاڑ۔  
 یہ زانتھ کہ بندگی شوہہ خاص تسی یاڑ۔ توہہ تہ پڑہ ہاڑھے عبادت کرن تہنہ۔ لیکن ہر گاہ تہہ تہ مانان  
 چھوہ نہ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ تلہ کمر و تہہ عبادت نس ورانے سکن ہنز خوش کرہ۔ تمیک  
 نتیجہ تلو توہہ پائے قیامتک دوہ۔ قُلْ إِنَّ الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 پتہ فرما یو کہ تہہ کہ بے شک تاوان زد گے تے سکن تاوان چھو پتہ نین پانن تہ پنہ نس عیاس قیامتک  
 دوہ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ وارہ بوزو تہ یاد تھا و یہ تھہ کہ یوہے کیاہ گو و ن تاوان تہ بوڈ نقصان

فَوَقِهِمْ ظُلْمٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ تَحْتَهُمْ ظُلْمٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ  
 عِبَادَهُ طِيعَادٍ فَاتَّقُوا ۞ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ  
 يَّعْبُدُوها وَأَنبُؤا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ ۞ الَّذِينَ  
 يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ  
 وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ۞ أَمَّنْ حَقٌّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ط  
 أَفَأَنْتَ تُتَّقِدُ مَنْ فِي النَّارِ ۞ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا لَهُمُ الْغُفْرانُ مِنْ

تج کیفیت چھ تھ پاٹھ کہ اَمَّنْ مِنْ فَوَقِهِمْ ظُلْمٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ تَحْتَهُمْ ظُلْمٌ تہندہ خاطرہ چھہ تمن پیٹھ  
 کن تہ نارہ شعلہ، ورن تہ نارہ کئے تہ تمن بون کن تہ چھہ نارہ کی شعلہ یعنی وٹھرن تہ نارہ کئے۔ پریتھ  
 طرفہ آسن تمن احاطہ کتر تھ نارہ کی شعلہ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادًا یہ گوئی عذاب سمہ سیت  
 کھوڑہ ناوان چھہ اللہ تعالیٰ پنہ بنن ہندن، امہ عذابہ نشہ چٹنگ تدبیر تہ چھہ بیان کران۔ سہ گووین حقس  
 عمل گرن یُعْبَادُ فَاتَّقُوا فرماوان چھہ کھہ اکی میانیو ہندو، کس کھوڑو میہ یعنی میانس عذابس۔ میانی  
 مہ کتر ونا فرمانی۔ دین حقس پیٹھ کتر و عمل۔ یہ اوس کافرن تہ مشرکن ہند حال۔ امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ  
 فرماوان با ایمان ہند حال وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَّعْبُدُوها وَأَنبُؤا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ  
 عِبَادِ یہ تم لوکھ پتھ رود شیطانس پرستش کرنہ نشہ یعنی معبودان باطلن ہنز پرستش کرنہ نشہ، یہ  
 کوڑکھ رجوع اللہ تعالیٰ اس کن تم چھہ مستحق خوش خبری بوزہ ناوس۔ پس فرماو و بشارت تہ خوش خبری  
 میانین تمن ہندن الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ تم بوزان چھہ خدایہ سندا کلام کن دار تھ  
 تو پتہ چھہ تمہ چن رٹن کھن پیروی کران تمہ چھہ سارے کھہ رتھہ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ  
 هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ تمے لوکھ کیاہ گئے تم تمن اللہ تعالیٰ ان رتھو تھ ہا۔ یہ گئے تمے خاص کر عقلہ وال تہ  
 گائل أَمَّنْ حَقٌّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُتَّقِدُ مَنْ فِي النَّارِ کیاہ کس پیٹھ عذاب حکم ثابت سپد  
 کیاہ ٹوہہ بیکیونہ موکاو تھہ سہ شخص کس حکم الہی نارس منزو تھت آسہ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا لَهُمُ الْغُفْرانُ



فَوْقَهَا عُرْفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَا اللَّهُ لَا يَخْفَى  
 اللَّهُ الْبَيْعَادَ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ  
 فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا  
 ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝  
 أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ

عُرْفٌ مِّنْ فَوْقَهَا عُرْفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لیکن تم لو کہ تم کھوڑ ہروردگار س پنہ نس تو پتہ  
 رود پتہ ہندہ نافرمانی نشہ، ہندہ خاطر چھ جنک بالاخانہ یمن پیٹھ کن بے بالاخانہ بناؤمت آسن تمو  
 بالاخانہ بون کن پتہ کولہ تہ جو یہ پکان وَعَدَا اللَّهُ لَا يَخْفَى اللَّهُ الْبَيْعَادَ امہ کئے چھہ اللہ تعالیٰ ان وعدہ  
 کورمت اللہ تعالیٰ پتہ وعدس بدل کران اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ  
 کیاہ ثیہ و پتہ تھنا لے و چھو نہ پتہ کن کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان ترود آسپتہ طرفہ رود تو پتہ یکہ ٹوون سہ  
 آب ناگو تہ کیر یون ز مینس اندر ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا تو  
 پتہ چھہ تہی آبہ سیت کھاران زراعت۔ سمیک قسم مختلف چھہ آسان۔ تو پتہ چھہ سہ زراعت خشک  
 سپدان نس چھہ سہ و چھان تہ زرد سپدان۔ تو پتہ چھہ تھہ اللہ تعالیٰ چورہ کران اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي  
 لِأُولِي الْأَلْبَابِ بے شک چھہ تھہ زراعت کس ابتدائس تہ انتہاس منز ہنڈ نصیحت گالین ہندہ  
 خاطرہ۔ یعنی حالتہ چھہ بعینہ انسان ہنزہ دنیوی زندگی ہنز۔ اتھ زندگی اندر مشغول سید تھہ ابدی  
 راحت و آرامہ نشہ پن پان محروم کمر تھہ ابدی مصیبتن گرفتار چھہ ہڈ حماقت تہ نادانی۔ اگرچہ سون  
 بیان چھہ سیٹھاہ بلغ مگر بوزن وال پتہ ساری ہوی آسان أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ  
 عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ چنانچہ سہ شخص یم سند سینہ اسلام قبول کرنہ خاطرہ اللہ تعالیٰ ان مزہ روو یعنی  
 اسلامہ حقیقتنک پد نس یقین، سہ چھہ پکان پنہ نس ہروردگارہ سندہ عطا کمر متہ گاشہ موجب یعنی  
 عمل کران ہندو یو بدلائو مطابق۔ تس شخص برابر چھہ سہ شخص نس کفرہ چین تاریکن منز بودمت

لَلْقِسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۲﴾ اللَّهُ  
 نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ  
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ  
 اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ  
 فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۲۳﴾ أَفَمَن يَتَّبِعِ بَوَاجِهَهُ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۳۴﴾ كَذَّبَ

آسہ فَوَيْلٌ لِّلْقِسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ پس سیٹھاہ خرابی ۾ افسوس چھہ تمن لوکن بہند دل سخت درچھہ خدایہ سزہ ذکرہ نشہ۔ دنیا س منز چھہ تھے لوکھ نہ گرا ہی منز بتلا نہ گرفتار امہ پتہ چھہ تمہ نورک ذکرہ بیان اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اللہ تعالیٰ اُن کور نازل سیٹھاہ رت کلام یعنی قرآن مجید کتاباہ یک مضامین اکھ اگس ہی چھہ پھیر پھیر بیان کرنہ آمت۔ تھہ منز لوکن فخرہ تارنہ خاطرہ چھہ بعضے بعضے مضامین تھہ تکرار س منز باوجود فائدہ تاکید دلس منز مدعا تہ مطلب راسخ سپد چھہ بے بے خاص لطائف موجود چھہ۔ امہ کلامہ سیت چھہ تیرہ کنڈی پھشان تمن لوکن ہندین بدن تم کھوڑان چھہ پنہ نس ہر ورد گارس ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو پتہ چھہ نرم سپدان تہند بدن تہ دل خدایہ سندس یادس کن متوجہ سپدن سیت یعنی قرآن مجیدہ موجب عمل گرہ نس گن متوجہ سپدان ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ یہ قرآن مجید چھہ خدایہ سند ہدایت امہ سیت چھہ سہ و تھہ ہاوان تمن تمن ہندسہ یزھان چھہ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ کس اللہ تعالیٰ و تھہ راورہ کس چھنہ کانہہ و تھہ ہاودن أَفَمَن يَتَّبِعِ بَوَاجِهَهُ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ کیا سہ شخص نس بچاورہ پن پان تھہ سیت جہنمچہ سخت عذابہ نشہ قیامتگ دوہ، عام دستور چھہ کہ انسان چھہ پن پان بچاوان تکلیفہ نشہ اتھو سیت قیامتگ دوہ آس ظالم ہندی اتھ پتھ گن گند تھہ تی موکھ بچاوان تم پن پان تھہ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۵﴾  
 فَآذَاهُمْ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةَ  
 أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾ وَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا  
 الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۷﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ  
 ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۲۸﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ  
 شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا

سیت عذابہ نشہ تو پتہ یہی تم ن ظالمی و ن نہ ژہومزہ تم ن پیچھ کائین ہند یمہ نہہ کران اسوہ دنیاس اندر۔  
 کیاہ امہ قسمک ظالم تہ یہی تم بالیمان یم جٹن اندر ہمیشہ تہ آرامہ سان آسن بہتھ چھا برابرے ہرگز نہ  
 کذآب الذین من قبلہم فاتہم العذاب من حیث لا یسعرورن تکذیب ہتھ کورمت حضرات انبیاء  
 ن تمولوکوتہ یم تم ن آزکین کافر ن برونتھ اسی تو پتہ ہتھ وانہتھ پیومت تم ن خدایہ سُد عذاب۔ تہ تہ تہ  
 تم ن خیال تہ اوس نہ۔ فَآذَاهُمْ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةَ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  
 نہس ژہہ ناوی تم اللہ تعالیٰ ان رسوائی ہند عذاب دنیاچہ زندگانی اندر یہہ ہتھ ضرور آخر تک عذاب  
 سیٹھاہ بوڈتہندہ خاطرہ۔ ہرگاہ تم ن معلوم آسہا۔ وَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ  
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بے شک یہہ گمراہ اسوہ لوکن ہندہ ہدایتہ خاطرہ ہتھ قرآن مجیدس اندر پرہتھ قسمک  
 مثالہ تہ پرہتھ قسمک مضمون ہتھ تم نصیحت رٹن قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تہ محفیفت  
 ہتھ یہ کہ یہ قرآن مجید ہتھ بزبان عربی ہتھ مز نہ نئہ تہ کمی تہ پیچدیگی ہتھ ہتھ تم لوکھ امیک مضامین بلینہ  
 بوژتھ کھوژن ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ چنانچہ اللہ تعالیٰ  
 ہتھ موجدو مٹرکن متعلق اکھ مثال بیان کران۔ اکھ شخصہا ہتھ غلام۔ سنی چتھ مشترک وارہن  
 بد مزاج شریکن ہند۔ بیاکھ موہوواہ ہتھ غلام اکے شخصہ سُد ہل یستویین مَثَلًا کیاہ یمن دون ہنز  
 حالتھ ہیکجا برابر ہتھ۔ ہرگز نہ بلکہ گوڈنیک شخص ہتھ ہمیشہ حیرانی اندر گر قذاکہ کُند مانہ تہ کُند مانہ نہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ  
 مَيِّتُونَ ﴿۴۰﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿۴۱﴾  
 فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ  
 إِذْ جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۴۲﴾ وَالَّذِي جَاءَ

دویم شخص چھہ آرامس اندر۔ اکیسی آغس سیت چھس تعلق۔ گوڈوچ مثال گنیہ مشرکہ سنز۔ مٹہ چھہ سہ  
 آغس چیزس پر سٹش کران تہ ٹنہ بیس چیزس۔ موجد چھہ پر سٹش کران اکیسی معبود برحقہ سنز۔ یہ کتھ  
 کرن تسلیم سم مشرکہ تہ الصِّدْقِ حَقُّ سِدِّ ثَابِت لہذا ابوبین حمد وثا معبود برحقس باوجود آل کرن نہ  
 سم لو کہ یہ کتھ قبول بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ چھہ اکثر کافر زانان یہ صاف کتھ۔ یلہ پر چھہ  
 اعتبارہ خشک فیصلہ سِدِّ مگر مخالفوہ فاصلہ قبول کورنہ۔ دون چھہ باقی قیامتگ آخری فاصلہ۔ سمہ فاصلہ  
 نِشہ نہ کانہ تہ بیجہ سر تابی کمر تھ۔ تمیک ابتداء چھہ موت سیت اے پیغمبر برحق ہر گاہ سم لو کہ دنیا  
 س اندر یہ معقول فیصلہ تسلیم کرن نہ ٹہ مہ کھیو، تمیک غم کیا زہہ إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ  
 دنیا اندرہ چھہ توہہ تہ سُر تھ نیرن۔ تم تہ چھہ دنیا ہ اندرہ سُر تھ نیرن۔ دنیا س اندر روزن  
 کانہ چھہ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ توپتہ چھہ توہہ دوشون فریقن قیامتگ دوہ  
 پن مقدمات ہیہ پنہ نس پروردگارس بروٹھ کنہ حاضر سِدِّن تمہ دوہہ گرہ سہ عملی فیصلہ۔ سہ فیصلہ گو  
 ناحق پر ستن جہنمک عذاب تہ حق پر ستن اجر عظیم یعنی جنت۔ یہ کتھ چھہ ظاہر کہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ  
 كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ کس شخصہ سدہ خوتہ  
 گس اکھاہ چھہ زیادہ بے انصاف۔ ہم اپز نور و معبود برحقس پٹھ۔ زانانہ، پٹو تہ کورہ شریک ٹھہراونہ  
 سیت۔ یہ کورن تکذیب تہ انکار پزرس کلامس یعنی قرآن مجیدس یلہ سہ قرآن مجید ووت تس نِشہ  
 بواسطہ پیغمبر برحق۔ پیٹھس شخصہ سِدِّ ظالم آسن چھہ ظاہر۔ اظلمہ سِدِّ مستحق عذاب عظیم آسن تہ چھہ  
 ظاہر۔ سہ عذاب عظیم گو نار جہنم۔ کیاہ مٹھن کافر ن ہنز جائے شوہہ نار جہنم وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ

بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۹﴾ لَهُمْ مَا  
 يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۰﴾ لِيُكَفِّرَ اللهُ  
 عَنْهُمْ اَسْوَا الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ  
 الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۴۱﴾ اَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ  
 بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۴۲﴾  
 وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ اَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ

وَصَدَقَ بِهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ تم بدل گے تم لو کہ تم خدایہ سندہ طرفہ یا پیغمبرہ خدایہ سندہ طرفہ پوزیتھ آئے۔ یہ کورکھ پانہ تہ تھ ہر س صدیق۔ تھے لو کہ چھہ یقیناً متقی تہ پر ہیزگار۔ تہند فیصلہ چھہ کہہ لہم ما یشاءون عند ربہم تہند خاطرہ چھہ تہ سورے یہ تم ہر ہن پنہ نس پروردگار س نثرہ ذلک جزاؤ المحسنین کیے چھہ مزدور تہ بدلہ نیو کارن ہند۔ تہندہ خاطرہ سپد بہ تجویز لیکفر اللہ عنہم اسوا الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون تہند اللہ تعالیٰ دور کرہ تہمزہ پچھہ عملہ یہ تھہ رز موزور عطا کرہ تم عملن ہنزیمہ رزہ عملہ تم کران آس الیس اللہ بکاف عبده کیاہ اللہ تعالیٰ پھننا کافی پنہ نس بندہ خاص (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) حفاظت کرنہ خاطرہ۔ سہ چھہ سارن ہندہ حفاظتہ خاطرہ کافی پنہ نس بندہ خاصہ سندہ خاطرہ گوثرہ نا اسن و یخوفونک بالذین من دونہ تم کافر چھہ امہ قسمک احمق کہ خدایہ سزہ حفاظتہ نش تجاہل کتر تھہ چھہ توہمہ کھوثرہ ناوان معبودان باطلن ہندہ سیت تم تمو خدا یس ورائے چھہ پائے ٹھہر او مت۔ حالانکہ تم چھہ پانہ بے جان تہ عاجز۔ ہر گاہ قادر تہ آسہ ہن توتہ کیاہ چلہہ ہا تم خدایہ سزہ راچھہ تہ حفاظتس مقابلہ۔ یہ چھہ تم و تھہ راومرثہ وَمَنْ يُضِلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ایس اللہ تعالیٰ و تھہ راورہ نس چھہنہ کانہہ تہ و تھہ ہاوہ و ن تہ ہدایت کرہ و ن وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ایس اللہ تعالیٰ و تھہ ہاوہ نس پھنہ کانہہ و تہ نثرہ ڈالہ و ن تہ گمراہ کرہ و ن اَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي اِنْتِقَامٍ کیاہ تم

ذِي انْتِقَامٍ ﴿۱۵﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ  
 ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ  
 حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۶﴾ قُلْ لَيَقومِ  
 اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾

تھنا خیال کہ اللہ تعالیٰ چھ زبردست انتقام ہینہ وول۔ تعجب چھ کہ تمن چھ پانس تہ تمہ تھہ ہند تسلیم  
 کہ اللہ تعالیٰ چھ پنہ نین بندن نصرت کرہ نس پیٹھ کافی۔ قدر تس اندر چھ سیٹھاہ کال چنانچہ وَلَئِنْ  
 سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ہر گاہ تہہ تمن لوکن پر تھو کہ آسمان تہ  
 زمین کم کر پادہ ضرور ون تم کہ اللہ تعالیٰ ان کمر پادہ ہتھ ہڈا جرام فلکی از عدم بوجود اُن چھ دلالت  
 کران جہدس کمال قدر تس پیٹھ اتھ پیٹھ بنا کر تھ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ  
 أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ پر تھو تہہ  
 تمن اے کافر ومیہ و نوتو تہہ تمن معبودان باطلن ہنز تہہ پر ستش کران و جھوہ خدا بس وراے۔ ہر گاہ  
 اللہ تعالیٰ میہ کانہہ تکلیف وائے ناؤن یڑھہ کیاہ تم معبود ہینہ سہ تکلیف میہ نعمہ دور کمر تھہ یا ہر گاہ اللہ  
 تعالیٰ میانہ حقہ یڑھہ کانہہ مہر بانیاہ کیاہ تم معبود ہینہ سو مہر بانی پتھر رتھہ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ تہہ  
 فرما یو کہ امہ اندر ہ سپد ثابت ای آیو گوڈہ تہ بیان کرنہ۔ چو بچہ سہ چھ تھہ قدر تہ وول تہ تھہ مدد کرہ  
 ون مہ چھ بس سے اللہ تعالیٰ عَلِيهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ لہذا چھہ تس پیٹھ توکل کرہ و نی توکل  
 کران۔ بہ تہ پتھس تس پیٹھ توکل کران۔ تہزہ مخالفتک تہ دشمنی ہند پتھس نہ بہ کانہہ پروا کران قُلْ  
 لَيَقومِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ بالاخر فرما یو کہ تہہ یار رسول اللہ اے لوکو  
 ہر گاہ اتھ پیٹھ تہ توہہ کینہہ ماؤنہ تیلہ زانو توہہ تہ کار زانو۔ توہہ گوڈہو کام کران پنہہ جایہ پیٹھ۔ بہ تہ

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۳۹﴾  
 اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمِنْ اَهْتَدَى  
 فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ  
 بِوَكِيلٍ ﴿۴۰﴾ اَللّٰهُ يَتَوَقَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ  
 تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ  
 يُرْسِلُ الْاٰخِرَىٰ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ

بھٹس پنے طورہ عمل کران۔ بروٹھ مکن زانو توہہ پائے مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ سہ کس شخص آسہ نئس نش وائے دنیا عس اندر سہ عذاب نئس نئس خوار و ذلیل گرہ۔ بیہ کس پیٹھ بیہ آخر نئس اندر سہ عذاب نئس ہمیشہ دائم تہ پوشہ ون آسہ اِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ پنز پاٹھ آسہ کمر نازل توہہ پیٹھ یہ کتاب ہتھ منزہ زے پوزہتھ لوکن ہندہ نفعہ فایدہ خاطرہ۔ تھنز کام ہتھ بیہ وائے ناون فَمِنْ اَهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا تمہہ پتہ نئس آگس و تھہ آسہ امہ قرآن مجیدہ سیت نئس ہتھ تمیک فاندہ نئس پانس۔ نئس اکھاہ و تہ نئسہ ڈول سہ ڈلہ نہ مگر پنتہ پانہ کبہ ضررہ خاطرہ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ توہہ نہ حض ہتھوہ نہ لوکن ہند ذمہ دار زورہ کیاہ انبوکہ تم سیزہ و تہ پیٹھ۔ لہذا کیا زہ توہہ تہندہ گراہی ہندہ سببہ ننگلین سپدان اَللّٰهُ يَتَوَقَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا اللہ تعالیٰ اکی ہتھ قبض کران تمن روحن ہندہ مرہ نئک وقت و تہمت آسان ہتھ۔ بیہ تمن روحن تمن نہ ونہ مر نئک وقت و تہمت و ہتھ آسان۔ تمن تہ ہتھ قبض کران ہند رہ اندر فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْاٰخِرَىٰ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى نئس ہتھ رٹان تمن روحن تمن پیٹھ مر نئک حکم تم جاری کورمت آسان ہتھ۔ بیہ ہتھ وانئس سوزان باقی روحن آگس مُعَيَّن تہ مقرر کرنہ آتس و قس تان یعنی عمرہ ہندس مدتس تام اِن فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ بے شک اتھ مجموعہ تصرفس منزہتھ خدایہ سندہ قدر تچہ تہندہ منفرد فی التصرف آسہ واریاہ دلیلہ تمن لوکن ہندہ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۳﴾ اَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ ط قُلْ  
 اَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَّ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۲۴﴾ قُلْ لِلّٰهِ  
 الشُّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَّ الْاَرْضِ ثُمَّ اِلَيْهٖ  
 تُرْجَعُونَ ﴿۲۵﴾ وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحَدَّاهُ اشْمَاَزَتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ

خاطرہ تم فکرتہ تامل کران آسن اَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ شُفَعَاءَ کیاہ تم مشرک لو کو چھا باوجود  
 واریاہ دلیلہ توحید چہ قائم آسکھ خدا ئس ورائے بیہ معبود قرار دتیمت تمین متعلق تمین خیال چھہ کہ تم  
 کرن اسہ سفارش قُلْ اَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَّ لَا يَعْقِلُونَ توبہ فرماو یو کہ یارسول اللہ اے  
 لو کو کیاہ اگر تمین کچھ چیزس پیٹھ اختیار تہ قدرت نہ آسکھ بیہ کانہہ چیزانہ زانٹھ چھوہ توبہ تمین زانان ہن  
 سفارش کرہون۔ حالانکہ سفارش کرہ نس گڑھہ آسن قدرت تہ علم بے جان چیز چھہ تمودوشوے چیزو  
 نیشہ خالی۔ وون ہر گاتم و ن آس چھہ کھنہ تم بے جان چیزنی نفسہ زانان شفاعت کرہون بلکہ چھہ آس تمین  
 زانان شفاعت کرہون تمین ہنزہ بیمہ شکھہ چھہ۔ تم چھہ ذی روح تمین منز چھہ قدرت تہ تہ علم تہ۔ اللہ  
 تعالیٰ چھہ تھہ رد فرماو ان آمہ پتہ قُلْ لِلّٰهِ الشُّفَاعَةُ جَمِيعًا تہہ تارو یمن وارہ فکرہ یہ کتھ کہ سفارش  
 ہند سورے اختیار چھہ خدایہ سے یوت۔ تہندہ اذنہ تہ اجازتہ ورائے ہیچہ نہ کانہہ تہ کانہہ سفارش  
 کمر تھہ۔ اذنہ خاطرہ چھہ زہ شرط۔ اکھ گڑھہ شفیع مقبول آسن بیہ ئس شفاعت بیہ کرنہ سہ گڑھہ قابل  
 مغفرت آسن۔ تمین ارواحن ہنزہ تم پر ستش کران چھہ تم اگر شیطان چھہ تیلہ چھہ تمین منز دوشوے  
 شرط مفقود ہر گاہ تم ملا نکہ چھہ تیلہ چھہ دو تم شرط مفقود۔ لہذا سپہ۔ تہنز شفاعت کرن باطل امی موکھ  
 آس یوان تم معبود قرار نہ لہذا سپہ تہند معبود آسن باطل امی سیت سپہ اللہ تعالیٰ سہ معبود برحق آسن  
 ثابت ئس معبود برحقہ سہ نشان چھہ کہ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَّ الْاَرْضِ آسمان تہ زمین ہنزہ سارے  
 حکومت چھہ تس آتھہ ثُمَّ اِلَيْهٖ تُرْجَعُونَ پتولا کہ سورے عالم ختم گڑھہ پتہ ایو تہہ ئس کن واتاوندہ  
 وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحَدَّاهُ اشْمَاَزَتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ کافرن تہ مشرکن ہند حال چھہ کہ



لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ  
يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۳۵﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا  
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۳۶﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ  
جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ ۖ وَبَدَّ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿۳۷﴾

یلع خدایہ سُنْدے یوت یاد کرنے چھہ یوان تمہی معبود برحق تَس چھہ تصرف سارنے کائین پیٹھ تمہہ  
ساتہ چھہ تمہن لوکن ہندول چوگر اونہ یوان تمہن نہ پٹھہ چھہ آخرتچ کیا زہ تمہن چھہ توحیدچ نفرت  
وَأَذْکُرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ سمہ ساتہ تذکرہ چھہ کرنے یوان تمہن ہندیم تَس معبود  
برحقس ورانے چھہ، تمہن تم شریک خدازانان چھہ، تم چھہ خوش گزہاں کیا زہ تمہن چھہ شرک ٹوٹھ  
قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۝ تہہ مہ سپدیارسول اللہ تہزہ دشمنی  
سیت غمکین۔ ٹوہہ کمر و دعا۔ خدائس مگو یا اللہ تے چھٹھ آسمان تہ زمین ہند پادہ گرہون تے چھہ  
سورے پوشیدہ تہ نون زانہ ون أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ تے کرکھ  
قیامتگ دوہ فاصلہ پنہ نین ہندن منز تمہن تمہن ہند تمہن منز تمہ پانہ وان اختلاف کران اس تمہ فیصلہ کہ  
وقتہ سپدہ حال کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ  
الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ہر گاہ تمہن لوکن نیشہ ہمو ظلم کور شرکہ تہ گزہ سیت سہ سورے مال آسہ، تیس  
سارسی زمینس منز چھہ بیہ تھہ سیت بیہ تیوت مال تہ دولتھ ضروردن تمہ سہ سورے مال، تم تامل  
تہ تار کرنے ورانے پن پان موکلانہ خاطرہ قیامتگہ دوہہ کہ سخت مشکل عذابہ نیشہ وَبَدَّ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ  
مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ۝ تمہن نن تمہہ دوہہ اللہ تعالیٰ سندہ طرفہ تمہ حالاتھ تمہن ہند نہ تمہن وہم و  
گمانے اوس وَبَدَّ اللَّهُ سَيِّئَاتِكُمْ مَا كَسَبُوا وَاحِقًا بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ بیہ سپدن ظاہر

وَبَدَّ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ  
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۸﴾ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَشْرًا اِذَا  
خَوْلٰهُ نِعْمَةٌ مِّمَّا قَالِ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ طَبْلُ هِيَ فِتْنَةٌ  
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۳۹﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
فَمَا آغْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ﴿۴۰﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتِ  
مَا كَسَبُوا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتِ  
مَا كَسَبُوا وَاَهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۴۱﴾ اَوْ لَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ

تمہ دوہہ تمہ سارے پیچھے کامہ تمہہ تمو کر مرہ آسن۔ یہ یہی وہ نہ تھن نہ عذاب تھہ تم ٹھٹھہ کر ان آس  
فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَشْرًا اِذَا خَوْلٰهُ نِعْمَةٌ مِّمَّا قَالِ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ  
سیت جھہ دل چھپی تھوان تمہہ ساتہ آس مشرک انسانس کانہہ سختیہ و اتان جھہ اتی جھہ تمہ ساتہ باقی  
ساری تراو تھہ آسے نادووان نشر اِذَا خَوْلٰهُ نِعْمَةٌ مِّمَّا قَالِ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ  
تس کانہہ نعمتھہ عطا کران چھہ تمہہ ساتہ جھہ یہ نعمت خدا ئیس کن منسوب کرنہ نعمہ گریز کران۔ دہنہ جھہ  
لگان کہ یہ نعمت بنے یہ میہ پنہہ تدبیرہ سیت آس انسانہ سُنَدِیہ زان جھہ غلط بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ  
اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ بلکہ جھہ یہ نعمت آزمائش تہ امتحان کہ آیایہ نعمت واتھہ مشر او پایہ انسان آسہ کنہ  
امہ نعت شکر گذاری گرہ مگر لو کہ جھنہ یہ تھہ زانان قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا آغْنٰى عَنْهُمْ  
فَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ نتیجہن اِثْمہ تھہ جھہ و نعمہہ تمولو کو تہ تم سمن برو تھہ آس (قارون وغیرہ) آس دیت  
نہ کانہہ فایدہ تھن تمو چیز ویم تمو حاصل کر مت آس فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا  
مِنْ هٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتِ مَا كَسَبُوا وَاَهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ یہہ سمولو کو ظلم کور سمومکہ کیولو کھواندرہ۔  
تھن تہ ولتہ عنقریب تھن پیچھہ عملن ہند پیچھہ نتیجہ یہہ تمو کرہ مرہ جھہ۔ تم ہیکن نہ خدا ئیس عاجز کر تھہ۔

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
 يُؤْمِنُونَ ﴿۵۷﴾ قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ  
 لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا  
 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۵۸﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِنْ  
 قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۵۹﴾ وَابْتَغُوا أَحْسَنَ

چنانچہ جنگ بدرس منزهو تھو کانی سزا اولم یعلموا ان الله یسسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لِقَوْمٍ یؤْمِنُونَ بے شک اتھ کی زیادتی کر نہ کس اندر چھہ واریاہ نشانہ خدایہ سندہ قدر تک تمن لوکن ہندہ خاطرہ سمو پڑھ کمر نہ ایمان اون معبود برھس قُلْ یُعْبَادِی الَّذِیْنَ اَسْرَفُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ فرماو توہہ میانین ہندن سم پر ژھان چھہ کہ ہر گاہ اس اسلام آو سائین گو نہن کیا ہنہ۔ اے میانو بندو سمو گناہ کر نہ سیت پنہ نین پانن پیٹھ زیادتی کمر کہ نا امیدمہ سپدو اللہ تعالیٰ سندہ رحمتہ نعمہ ان الله یغفر الذنوب جمیعاً اللہ تعالیٰ کرہ تھندین سارنہ برو ٹھین گو نہن بخشایش۔ ادہ اس تن تم گوناہ شرک نہ کفرے۔ یہ آیہ کریمہ چھہ اعلان کران حضرت ارحم الراحمینہ سندہ بے شمار چمگ بیہ تھندہ غفودر گزر کر چھہ تھدہ شانگ۔ بیہ ہر گاہ کانہ سخت مایوس الطلاج گو نہن ہند ہمارا آسہ تسندہ حقہ چھہ یہ آیہ کریمہ اکسیرک حکم تھاوان۔ مشرک، ملحد، زندیق مرتد یہودی، نصرانی، مجوس، بدعتی، فاسق، فاجر آس تن یہ آیہ کریمہ بوڑتھ گنھہ نہ تھند خدایہ سندہ رحمتہ نعمہ مایوس سپدن۔ کیاہہ اللہ تعالیٰ کس یرٹھہ کس کرہ مغفرت سارنہ گو نہن۔ تسند ارادہ بیہ نہ کانہ نہ چھہ رٹھہ انہ ہوا الغفور الرحیم واقعی سہ چھہ سیٹھاہ بخشہار، سیٹھاہ رحمتہ وول، چو بچہ امہ معانی نہ بخشایشہ ہند شرط چھہ توہہ نہ مسلمان سپدن وانیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون لہذا کمر و ٹھہ رجوع نہ توہہ پنہ کس پدورد گارس گن بیہ کمر و تھمز تابعداری، توہہ پیٹھ عذاب آلمی نازل سپدنہ برو ٹھہ عذاب نازل سپدنہ پتہ بیہ نہ توہہ کانہ مدد

مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ  
بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۵۷﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُحَسِّرُنِي عَلَى  
مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ ﴿۵۸﴾  
أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۵۹﴾ أَوْ  
تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۰﴾ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ  
وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿۶۱﴾ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا

کرنے کا نہ ہندہ طرفہ **وَابْتِغُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً**  
**وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ** یہ کسر و پیروی تمن رتین کھن سم توبہ کن نازل آے کرنہ ٹھندس پروردگارہ  
سندہ طرفہ ہنکھ تہ منکھ عذابس گرفتار سپندہ بروٹھ۔ توبہ آسہ نہ تمیک وہم وگما نے منکھ قسمہ۔ **أَنْ**  
**تَقُولَ نَفْسٌ يُحَسِّرُنِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ** منکھ نہ ہنہ ہنہ کہ  
توبہ آندرہ ونہ کانہ شخصہ افسوس تہ میانہ کوتاہی پیٹھ یوسہ میانہ طرفہ آہ خدایہ سنزہ فرماں برداری  
اندر۔ واقعی بہ اوس ٹھٹھ کرہ ونیو آندرہ تمن تھن پیٹھ دنیاس اندر **أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي**  
**لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ** یا ونہ کانہ شخصہ کہ ہرگاہ اللہ تعالیٰ ان میہ ہدایت کورمت آسہ ہابہ تہ آسہ ہا  
پرہیزگار و آندرہ **أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ** نتہ ونہ  
کانہ شخصہ سمہ سائہ نظر نہیں عذابس پیٹھ کاش کہ میہ ہے دنیاس کن وائس وکن گوشہ ادہ ہنہ ہا بہ نیو  
کار و آندرہ **بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ** کس یہ ونہ البتہ تحقیق  
ژیہ نعرہ وات میان آیات تم زان تھتھ ژہ اپز۔ ژہ کوزتھ تم مانہ نعرہ منکھ تہ غرور۔ یہ اوسکھ ژہ

عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى  
لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا  
يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٦٣﴾ قُلْ  
أَغْيَرِ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ

ہمیشہ کافر نے سیت و یوم القیمۃ تیری الذین کذبوا علی اللہ قیامتہ دوہوجہ بہتجہ ذہ تم لو کہ تم  
اپنوزورواللہ تعالیٰ اس بیٹہ۔ یہ کتھہ خدا من فرماوہ نہ تمہ لاجتھ تس یہ کتھہ تم فرماوہ تمن کو رکھ  
انکار۔ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ کتھہ تہندی آسن کرن سیاہ۔ اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ  
کیاہ جنم چھنارونج جائے تمن منجھرن ہندہ خاطرہ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ یہ دیر  
اللہ تعالیٰ نجات رستہ گاری تہ کامیابی سیت تمن لو کن تم بہتجہ رود شرک و کفرہ نعرہ یہ رودتجہ ہنزہ  
نا فرمانی نعرہ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تمن وایتہ نہ کانہ تکلیف، نہ آسن تم منگلین اللہ  
خالقِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللہ تعالیٰ ای چھہ پریتجہ چیزک پیدہ کرہ ون۔ یہ چھہ سئی  
پریتجہ چیزک ذمہ دار لہ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تس اتجہ چھہ کوزہ آسمان تہ زمین ہندین خزان  
ہنزہ۔ سئی چھہ موجہ سارگوی۔ باقی تھاوہ ون تہ حافظ پریتجہ چیزک۔ سئی چھہ متصرف پریتجہ چیزک  
آسمان وزمین ہندین خزان ہنزہ کوزہ چھہ تسئی اتجہ۔ لہذا اتجہ کمالک صفت آسہ ونس شو بیاشریک  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ تم لو کہ باوجود آل انکار چھہ کران خدا یہ سندین  
آیاتن تے لو کہ چھہ تاوان زد تہ سیٹھاہ نقصان تلہ ون۔ تم لو کہ آس پانے کفر و شرکس بتلا۔ مگر تم چھہ  
امہ قسمک بے حیاء کہ یہ چھہ توہہ تہ فرمائش کران نعوذ باللہ پنہ نس طریقس پیٹھہ عمل کرکج قُلْ  
أَغْيَرِ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ توہہ فرماو کہ یارسول اللہ کیاہ توحید ثابت سپد تھہ تہ

أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَالِىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ أَشْرَكْتَ  
 لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۶۵﴾ بَلِ اللّٰهُ  
 فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِينَ ﴿۶۶﴾ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ  
 قَدْرِهِ ۗ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ  
 مَطْوِيٰتٌ بِيَمِيْنِهِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۶۷﴾  
 وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

شرک باطل سپد تھ چھوہ توبہ میہ دپان معبود برحقس ورائے بین ہنز عبادت کرن۔ اے نادانو تہ  
 جابلو، ای پیغمبر برحق توبہ نغمہ تمھ پاتھ یکھ نعوذ باللہ شرک وکفر صادر سپد تھ سمیک تم احمق توقع چھہ  
 تھوان کیاہہ و لَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَالِىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ  
 وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تھمیں وحی آسوزنہ توبہ کن تم توبہ برونھ آس کہ پنہ نین امتین و نو  
 توبہ پر تھہ اکس فردا فردا کہ ہر گاہ تہ شرک بخدا اکھ چان سارے کام گڑھہ ضایع۔ بیہ سپد کہ تہ  
 ضرور نقصان تلمہ و نیواندرہ۔ لہذا تھنہ کافران ہندہ بار بار و نہ سیت متاثر سپد تھ شرکس کن مایل سپدو۔  
 بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِينَ بلکہ کمر و خدایہ سزے یاثر عبادت بیہ آسوتس شکر دپہ  
 و نیواندرہ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيٰتٌ  
 بِيَمِيْنِهِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ افسوس تم لو کو کر نہ خدایہ سز قدر و عظمت تھہ یژھ  
 تس شوہہ ہا۔ حالانکہ تمسند شان چھہ کہ سوزے زمین آسہ ہمزہ موچھہ منز قیامتک دوہ ساری آسمان  
 آسن و تھہ تھندس دچھس اتھس اندر۔ منزہ تہ پاک بیہ تھود تہ بلند چھہ شرکہ چوساروے تھو نغمہ سمہ  
 کتھہ لو کہ تس ٹھہراوان چھہ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اَلَا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ  
 قیامتک دوہ بیہ پوغس منز چھو کہ دنہ۔ تمہ سیت سپدن بے ہوش تم ساری سم آسمان تہ زمین منز  
 آسن۔ یم زندہ آسن تم مرن۔ یم موت آسن قبرن منز تھند روح سپدن بے ہوش۔ مگر تمن ہند اللہ

اِلٰمَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نَخَرَفِيْهِ اٰخَرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ ﴿۷۸﴾  
 وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّيْهَا وَوَضِعَ الْكِتٰبُ وَجِئْتُ بِالنَّبِيِّينَ  
 وَالشُّهَدَآءِ وَقَضٰى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۷۹﴾ وَوَقِيَتْ  
 كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۸۰﴾ وَسَيُقَ  
 الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَآءَ وُهَا فُتِحَتْ  
 اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ  
 يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُوْنَكُمْ لِقَآءِ يَوْمِكُمْ

تعالیٰ یزہد تم روزان اُمہ بے ہوشی سے مر نہ نشہ محفوظ ثُمَّ نَخَرَفِيْهِ اٰخَرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ تو  
 پتہ پیہ پو غس منز بیا کہ پھو کہ دنہ۔ سہ پھو کہ یان دنہ پیہ تان ساری ہوش منز روحن ہند تعلق سپہ  
 بدن سیت۔ تو پتہ دو تھن قبر ومنزہ تھوہ۔ پر تھ طرفہ لکن وجھنہ۔ یتھ پاٹھ کنہ حاججہ وقتہ انسان سہند  
 عادت چھہ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّيْهَا تو پتہ کرہ اللہ تعالیٰ حسابہ خاطرہ پن تجلی نزول زمینس  
 پیٹھ زمین سپہ روشن پنہ نس پروردگارہ سہند نورہ سیت۔ وَوَضِعَ الْكِتٰبُ وَجِئْتُ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَآءِ  
 وَقَضٰى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ پیہ ین پریتھ اگس بروٹھ کنہ تھانہ عملن ہنزہ کتابہ یعنی نامہ  
 اعمال۔ پیہ ین پیش کرنہ پیچنبر پیہ تھند گواہ۔ تو پتہ پیہ فیصلہ کرنہ تھن منز بعدل۔ تھن پیہ نہ کنہ قسمہ ظلم  
 کرنہ وَوَقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ پیہ پیہ پورہ پورہ دنہ پریتھ اگس تھیک بدلہ  
 یہ تم کورمت آسہ۔ اللہ تعالیٰ چھہ زیادہ زانہ ون تمہ سارے کلمہ یہ لو کہ کران چھہ۔ تمہ بدلگ بیان  
 چھہ یتھ پاٹھ کہ وَسَيُقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَآءَ وُهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ  
 لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ تالینکہ یلہ جھنمسن نشہ وان تمہ  
 ساتہ بن مزراونہ تمک دروازہ پیہ دیکھ تمہ ساتہ بطور فضیحت و ملامت جھنمک داروغہ کیاہ تو بہ نش

هَذَا طَقَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۴۱﴾  
 قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى  
 الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۴۲﴾ وَسَيَقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا  
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا  
 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿۴۳﴾ وَقَالُوا  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ

واثر اے تا پیغمبر تم تو ہی منزه آس۔ ہم پرہ من بوزہ ناوہ من توہر تہندس پروردگارہ سند آیات  
 وَيُنذِرُوكُمْ لَعْنَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ یہ کرہ من نیم توہر سمہ  
 دہمہ پیش بیک۔ تم دین بے شک آے پیغمبر اسمہ نچہ تمو بوزہ ناوہ سند آیات۔ تم آس اسمہ سمہ ذہک ہم  
 کران۔ لیکن عذاب و عدہ سید کافرن پیٹھ پورہ من منزاس نہ داخل چھہ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ  
 فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ وندہ پیٹھہ اثر و جنم کیو دروازو منز۔ آتھہ جہنم منز چھہ توہہ ہمیشہ  
 روژن عرض خدایہ سند یو احکامو نچہ جہنم کرن والین ہندہ خاطرہ کاٹراہ پیٹھہ جای چھہ یہ جنم۔ وَسَيَقَ  
 الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا یہ یں بکمال عزت پکانوہ تم لوکھ ہم پنہ نس پروردگار  
 کھوژان آس، جنس کن، سمیک گوڈمیک مرتبہ ایمان گو دجاژو جماژو حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ  
 أَبْوَابُهَا تَالِيَةً يَلِيهِ تَم تھہ نزدیکی واتن سمیکی دروازہ آسن مشرانوہ امت بروٹھے تھنہ تمن پیازن یہہ وَقَالَ  
 لَهُمْ خَزَنَتُهَا یہہ ون تمن جنک باغوان سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ سلام بوین توہہ آے جنم۔ تُوہہ  
 روز و عیش و آرامس منز۔ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ نس آژو نچہ تمن جنن اندر ہمیشہ روزنہ خاطرہ  
 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ  
 فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ جننی ون جنن منز اثر تھہ، حمد بوین نس معبود برحق ہم اسمہ من وعدہ پوز کور۔ اس بناون



نَتَّبُوا مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿۴۳﴾  
 وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ  
 رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۴﴾

وارث تہ مالک جنت کبہ نر زینک۔ جائے زلواں سمہ جنت منزہ بتین خوش گرہ امہ۔ غرض کیاہر ژمزوریاہ تہ رت بدلاہ  
 چھ جنت عمل تہ محنت کروئین ہمدہ خاطرہ **وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ**  
 بیہ وچھو کہ تمہ یارسول اللہ ملایک صاحبہ اجلاسہ کہ وقتہ عرش مجیدس آنداند گھیر کمر تھ ، حلقہ کمر تھ روز تھ تسبیح  
 تہ حمد پران پنہ نس پروردگارہ سُنْد **وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ** بیہ سبہ لوکن منز فیصلہ کرنہ ہز یک تہ انصافک **وَقِيلَ**  
**الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** امہ رتہ فیصلہ پتہ سہن پر تھ طرفہ نعرہ ہای تحسین بلند۔ دنسبہ سارے خوبسہ تہ  
 تعریف چھ سزاوار معبود برحقس ئیس عالمین ہند پروردگار چھ۔ ہم رت فیصلہ لوکن منز کور سبب نعرہ  
 ہائے تحسین پیٹھ سیدہ دربار برخواست۔



## سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 ۱ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۲ غَافِرِ الذَّنْبِ  
 وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۳ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
 إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۴ مَا يَجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا  
 يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۵ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ  
 الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ

لحمہ سم زہ حروف چھ حروف مطلقاً تو آندرہ۔ تمن ہند معنی زانہ اللہ تعالیٰ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ  
 اللہ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ کتاب قرآن مجید چھ نازل کرنے آمت اللہ تعالیٰ سندہ طرفہ نُس سیٹھا غائب تہ  
 سیٹھاہ زانہ ون چھہ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ  
 سہ گوناہ بخشہ ون توبہ قبول کرہ ون، سخت عذاب کرہ ون کافر ن تہ مُشْرِكِن، قدر تہ دول کا نہہ معبوداہ  
 چھہ تہس ورائے نُس کُن چھہ سارنے پتولا کہ واتن مَا يَجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا  
 يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ اللہ تعالیٰ سندین آیاتن منز چھہ بحث تہ اختلاف کران مگر تے لو کہ  
 سموس انکار کور۔ پس مہ تراون توبہ دھو کس تہ شہس منز چھہند اورہ پور گران، پھیرن تہ تھورن شہرن  
 منز تجارت کرنے خاطرہ۔ تمن کونہ چھہ کفرہ سببہ کینہہ نقصان گڑھان۔ توبہ روزو مطمئن کہ کُننہ تہہ تہہ  
 وقتہ بین سم گرفتار کرنے کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ تمن مکہ کین کافر ن  
 بروٹھ تہ چھہ انکار کورمت نوح علیہ السلامہ سند قومن بیہ واریہو جماژ تمن پتہ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ  
 بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ بیہ کر پرتھہ اتس اندر

لِيَأْخُذُوهُ وَجَادُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ  
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ  
كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ  
حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ  
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ  
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

ارادہ پڑھ نہ کر دینو لوگو کہ تم گمراہ بن پنے نس پیغمبرس گر فتنہ تھ قتل کرنک، بیہ کور تمواپن پوکتھو  
سیت تازہ ہتھ تم تمہ اپڑہ سیت پڑس باطل گرن۔ ادہ رٹ میہ تم فکیف کان عقاب ادہ تھے خبر  
میون سزائیتھ اوس تہندہ حقہ۔ تھہ پاٹھ تمن دنیاس منز سزا آؤد نہ وکذالک حقت کلمت ربک علی  
الذین کفروا انھم اصحاب النار تھے پاٹھ تھہ سارنے کافرن ہندہ حقہ تھندس پروردگارہ سہد حکم  
ازلی ثابت سپد مت کہ تم آن ضرور آخرتس اندر نارس اندرو اتہ دن یعنی تمن سپدہ بیتہ تہ سزاتہ بیتہ  
آسہ تمن ابدی سزائیتھ پاٹھ بہ تمن موجودہ وقتہ کین ہند حال اتھ بدل تم باایمان تہ مؤحد تھہ تم تھہ  
خدائس نشہ تھنی محترم تہ محترم کہ ملائکہ مقر بین تھہ مولا سندس تسبیح و تقدیس سیت وظیفہ مقرر  
آمت تھاونہ باایمان ہندہ خاطرہ دعاواستغفار کرن۔ سمہ سیت ظاہر تھہ سپدان باایمان گمہ قسمہ تھہ  
اللہ تعالی اس نشہ محبوب تہ مقرب۔ چنانچہ اللہ تعالی تھہ فرماوان الذین یحملون العرش ومن حوله  
یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون بہ تم ملائک عرش مجیدس تلتھ تھہ بیہ تم ملائک تم تھہ آند آند  
روز تھہ چھہ یا طواف کران تھہ تم تھہ تسبیح تہ حمد پان پنے نس پروردگارہ سہد بیہ تھہ تس بیٹھ پور پڑھ  
سرتھہ ویستغفرون للذین امنوا بیہ تھہ تم ملائک مغفرت منگان تمن لوکن ہندہ خاطرہ سموا ایمان  
اولن۔ دپان چھہ ربنا وسعت کل شیء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم  
عذاب الجحیم اے سارہ پروردگارہ پریتھہ چیزس تھہ واتھہ چان رحمت تہ چون علم پس کر تہ



اِثْنَتَيْنِ وَ اٰحْيَيْتَنَا اِثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى  
 خُرُوجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝۱۱ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ  
 كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُشْرَكَ بِهٖ تُؤْمِنُوْا فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ۝۱۲  
 هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا  
 وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَن يُنۡبِئُ ۝۱۳ فَاَدْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيۡنَ لَهُ  
 الدِّيۡنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝۱۴ رَفِيعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ

تو بہ انکار کران قالوا رَبَّنَا اٰمَنَّا اِثْنَتَيْنِ وَ اٰحْيَيْتَنَا اِثْنَتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ اِلَى خُرُوجٍ  
 مِّنْ سَبِيْلٍ تم دین اے سائے پروردگارہ، مارتھ ژبہ اُس دویہ پھرہ اکہ پادہ سپدنہ بروٹھہ بہہ دنیاچہ  
 زندگی پتہ۔ زندہ تہ کمر تھہ ژبہ اُس دویہ پھرہ اکہ دنیاچ زندگی دویم آخروج زندگی۔ سمہ گنہیہ  
 ژور حالٹہ۔ سموا ندرہ اُس اُس انکار کران اُسکی حالٹہ سہ گو مرنہ پتہ بہہ زندہ سپدنہ۔ پس چھہ اُس  
 اقرار کران پنہ نین گونہ۔ وون چھہ کینہہ و تھہ سمہ جنمہ منزہ نیرنج۔ دنیاچ س اندروا تھہ گرہ ہوا اُس  
 سم سارنہ گونہ ہند تدارک جواب یکھہ دنہ کہ ہر گزنہ۔ تھندہ خاطر چھنہ نیرنج کمنہ صور تھہ۔  
 تھندہ خاطر ہچھہ ہمیشہ یق روز تک حکم جاری اُمت کرنہ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَاِنْ  
 يُشْرَكَ بِهٖ تُؤْمِنُوْا فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ یہ سز لھتھہ تو بہہ امی موکھ دنیاچ س منزلیہ کمنہ سے خدا اُس  
 ناداوس یوان دنہ تو بہہ اسوہ تھہ انکار کران ہر گائس شریک ٹھہراونہ اس یوان تھہ اسوہ کران تھہ ہچھہ تہ  
 تسلیم۔ از چھہ اُس خدایہ سز حکو متھہ اُس تھووتہ بوڈ چھہ تس پٹھکن چھنہ کانہہ تہ اُس تھہ س کھس  
 پھرہ اوہ ہا۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَن يُنۡبِئُ سہ گووسی  
 اُس تو بہہ ہواون چھہ پنہ قدر تک نشانہ بہہ چھہ سوزان آسمانکہ طرفہ تھندہ خاطرہ رزق۔ سوزن تہ چھہ تھندہ  
 قدرتہ کیونشانو ندرہ اکھ نشانہ۔ ہم نشانہ وچھنہ سیت رطہ نہ نصیحت مگر سوس اُس خدا ایس گن رجوع کر نک  
 ارادہ آسہ تھواون۔ وون یلہ توحیدس پیٹھہ دلیل قاسم چھہ فَاَدْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيۡنَ لَهُ الدِّيۡنَ وَلَوْ كَرِهَ

يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ  
يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ ۗ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ  
مِنْهُم شَيْءٌ ۗ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۗ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾  
الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى  
الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۗ هُمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَبِيبٍ ۗ وَلَا شَفِيعَ

الْكُفْرُونَ اے لوگو کفر و شرک تراو تھے مگر توہم معبود برحقس، تسی یاژ بندہ گی مخصوص زانتھ  
اگرچہ کھرتن تہ ناگوار گذرتن ممکن تہ کافرن رفیع الذکرت ذوالعرش یلقى الروح من امرہ  
عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ سہ چھ تھو در درجہ اول۔ بالیمان ہند درجہ چھ ہند  
کرہ ون۔ عرش مجیدک مالک چھ سہ۔ سہ چھ سوزان وحی پنہ لحمہ سیت۔ پنہ نیوبند واندرہ کس پیٹھ  
سہ یشھان چھ، چھ سہ بندہ خاص لوکن نیم کرہ قیامتہ ڈہک۔ سمہ دوہہ ساری جمع سیدن یومہم  
بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُم شَيْءٌ ۗ ییمہ دوہہ تم ساری لوکھ قبر ومنزہ نیرن نیر، توپتہ سیدن  
جمع خدا کس برونھ نہ کھتھ روزہ نہ ٹہنز کا نہ کتھہ اللہ تعالیٰ اس رفیعہ نہ ٹہند کا نہ چیزاہ۔ اللہ تعالیٰ فرماوہ  
لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۗ از کہنز سنا حکومتھ چھ۔ کا نہ تہ ہیچہ نہ جواب دتھ۔ پائے فرماوہ اللہ تعالیٰ لِلَّهِ  
الوَاحِدِ الْقَهَّارِ از چھ حکومتھ کسی خدا یہ سنز۔ کس قرہ اول تہ غلبہ اول چھ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ  
بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ از پیہ پر چھ اکس بدلہ دنہ عمہ سار کیویہ تم کورمت  
آسہ دنیاس اندر۔ از پیہ نہ کا نہ نسبت کتھ قسمہ ظلم کرنہ۔ بیشک اللہ تعالیٰ چھ جلد حساب ہیوہ  
ون۔ تھہ پاٹھ سارنہ پیغبرن او حکم کرنہ کہ قیامتہ ڈہک کور لوکن نیم تھہ پاٹھ چھ توہہ تہ حکم کرنہ  
یوان وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۗ ٹہہ تہ کور و حض نیم لوکن یار رسول  
اللہ کہ نزدیک یوہونہ مصیبتہ ڈہک یلہ وانچہ آسن لوکن واژ مرہ ہر س پیٹھ۔ تے آسکھ غمہ سیت ہر

يُطَاعُ ۱۸) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۱۹)  
 وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ ۲۰) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا  
 يَقْضُونَ شَيْئًا ۲۱) إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۲۰) أَوْلَمْ  
 يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ  
 كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ۲۲) كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي  
 الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۲۳) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ  
 مِنْ وَاقٍ ۲۴) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ

مَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ حِينِهِمْ وَلَا سَفِيحٍ يُطَاعُ تمہ دہہ آسہ مٹر کن تہ کافر ان کا نہ ولی دوستانہ  
 کا نہ سفارش کرہ و ناہ سمنز سفارش مانہ بیہ با یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور اللہ تعالیٰ  
 ہجہ زانان اچھن ہندس خیائس بیہ تم ن سار نے کھن تم ن دل کھینٹھ تھواون چھہ۔ بیہ کھ سین منز  
 پوشیدہ آسان ہجہ تم ن بیٹھ نہ کا نہ واقف سپدان ہجہ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ سُد علم چھہ  
 کابل۔ سہ کرہ پوز فاصلہ تمہ دہہ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا ۲۰) إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ  
 الْبَصِيرُ بیہ تم ن باطل معبودن یم لو کھ خدایس ورائے آلودوان ہجہ تم ن تم ن نہ کئیہ قسمہ فاصلہ کمر تھہ  
 کیا زہ بیشک اللہ تعالیٰ اے ہجہ سہ سوزی و ہجہ ون۔ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ  
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ کیا ہ تم لو کھ چھنا پھیر مت شام و سمنہ کس ملکس اندرتا نیک و چھہ  
 ہن تم کیا ہ ہجہ سپد مت انجام تم ن نافرمان لو کن ہند یم تم ن بروٹھ آس کَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً  
 وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ تم آس تھنہ خوتہ زیادہ قوتہ کن بیہ تمو تراوتھ کن  
 زمیس اندر جہ عمارث۔ تو پتہ رث تم اللہ تعالیٰ ان کمر ن گرفتار عذاب تھند یو گو نہوسبہ وَمَا كَانَ  
 لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ تو پتہ تہ اوس نہ تم ن کا نہ بجاون و ولاہ خدایہ سندہ عذابہ نغمہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

فَكَفَرُوا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۲﴾ وَقَدْ  
 أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۲۳﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ  
 هَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ ﴿۲۴﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ  
 بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
 وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿۲۵﴾  
 وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي  
 كَأَنِّي مُّؤْتَمِرٌ مَّا يُؤْتَمِرُونَ

كَانَتْ تَأْيِيهِمْ رُسُلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ یہ عذاب سید تم  
 پیٹھ سمہ موکھ نازل کہ تم نبرہ اس تمہد واتان ہند پیٹھ نبرہ دلیلہ ہتھ۔ تو پتہ اس تم انکار کران۔ کس کمر  
 تم گرفتار اللہ تعالیٰ ان عذابس۔ بیشک سہ چھہ سیٹھاہ قوتہ دول سخت عذاب کرہ ون لَقَدْ أَرْسَلْنَا  
 مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ہنز پاٹھہ ہوزاسہ موسیٰ علیہ السلام ہن آیات تہ نبرہ دلیلہ ہتھ  
 إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ فرعونس ہانسن تہ قارونس کن دوپ تمو  
 یہ چھہ جادوگر تہ ایزبور فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
 وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ توپتہ یلہ آو موسیٰ علیہ السلام عام لوکن نبرہ سانہ طرفہ پوزدین ہتھ تمو  
 منزہ اون ایمان بعضہ لوکو۔ تم کافر اس تمو دوپ پانہ وان بطور مشورہ کہ مارو کہ تم لوکن ہندی  
 لوکت تمو ایمان اون حضرت موسیٰ آس سیت۔ ہتھن تم لوکن ہند قوت زیادہ سپدہ ورنہ چھہ اندیشہ  
 سلطتھہ زوالک۔ کورہ ہنز تھاو یو کہ زندے کیاہہ تمہہ بن خدقس تہ کامہ کوچہ بکار۔ یہ سوچ تمو غلبہ  
 موسویچہ بندشہ ہند تدبیر وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ کافران ہند تدبیر چھن مگر بالکل بے اثر  
 وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ یہ دوپ فرعون میہ تراوو۔ بہ مارن موسیٰ۔  
 غالباً آسہ ہن الہل دربارتس تڑھ حرکت کرنہ نبرہ پتھ رٹان۔ گڑھن سہ کمرن فریاد پنہ نس خدا یس بہ  
 وچھہ سہ کتھہ پاٹھہ بچاوہ نس إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ



أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ  
 الْفُسَادَ ﴿۲۶﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ  
 مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿۲۷﴾ وَقَالَ رَجُلٌ  
 مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا  
 أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ  
 وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ  
 بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ

میں یہ خطہ گڑھان کہ سہ بدلا وہ دین ٹھنڈ۔ یہ مابھیلا وہ ملکس منز تہای سمہ سیت سان سلطنت کرہ  
 ختم وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ موسیٰ  
 علیہ السلام دوپ پنہ نس قومس توہ مہ بز وہر وکینہ بہ چھنہ کھوژان فرعونہ سدس خوف دس۔  
 میں چھ پناہ ہیوت مت پنہ نس تہ ٹھنڈس خدایہ سندہ سیت پرستہ مغرور شخصہ سندہ شرہ نشہ کس نہ پڑھ  
 چھ حسابچہ دُج وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ  
 اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ توپتہ وون اک باایمان مردن کس اتھ مشورچہ مجلسہ  
 منز اوس فرعونہ سندہ خاندانہ منز، کس پن ایمان کھٹتہ تھاوان اوس اے لوکو کیاہ تہہ چھوہ نہ اکھ شخصہ  
 محض سمہ تھہ خاطرہ ماران کہہ سہ چھہ دپان میون معبود چھہ اللہ تعالیٰ حالانکہ سہ چھہ توہہ نشہ نہ دلیلہ  
 پیش کران پنہ نس ہرورد گارہ سندہ طرفہ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ اگر سہ بالفرض اہزوانان  
 آسہ تس چھہ تمیک ووبال پانس وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ہر گاہ سہ پزوریور  
 آسہ تلہ ولتہ توہہ ضرور تمہ منزہ کینہہ تمیک سہ توہہ وعید چھہ کران إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ  
 مُسْرِفٌ کذاب اللہ تعالیٰ چھنہ وتھ ہوان کس شخص کس حدہ ڈلہ ون تہ سخت اپزوریور آسہ يَقَوْمٌ لَكُمْ

كَذَابٌ ۝۲۸ يَقَوْمٍ لَكُمْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَهْرَيْنَ فِي الْأَرْضِ ذُو  
 فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ  
 مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝۲۹  
 وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ رَأَىٰ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ  
 يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۝۳۰ مِثْلَ ذَابٍ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَشُعُوبٍ  
 وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۝۳۱  
 وَيَقَوْمِ رَأَىٰ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۝۳۲

الْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَهْرَيْنَ فِي الْأَرْضِ اے قوم از چہ تہہ توہہ سلطنت تہ حکومت۔ تہہ چہوہ غالب تہہ  
 مملکتس اندر فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا ہر گاہ تہہ حضرت موسیٰ شہید کریوں۔ تمہ  
 پتے خدایہ بندہ طرفہ کانہہ بلایاہ والتہ پیہ تمہ ساتھ تہہ گرہ آسہ مدد تہ یاری۔ کبہہ بچاوہ آسہ تمہہ بلایہ نشہ  
 قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ یہ بوز تہہ وون فرعون بہ  
 چہسنہ توہہ مشورہ دیوان مگر تمی تہہ ہند یوس میہ پانس جان آہہ بوز نہ سہ گو موسیٰ قتل کرن بہ چہسنہ توہہ  
 ہاوان مگر سوی وتہ یوس سیز چہہ تہہ منز عین مصلحت چہہ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ رَأَىٰ أَخَافُ  
 عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ بلہ تم با ایمان شخص و چہہ کہ نرم تقریرہ سیت بنیونہ کینہہ، تم ہیوت  
 زور دار تقریر کرن۔ تو پتہ وون تم با ایمان مردن اے قوم مہ چہہ خطرہ گدھان تہہ تہہ حہہ توہہ پیٹہ تہہ  
 مایہہ تہہ دوہ تہہ برو تہہ لوکن پیٹہ آمت چہہ مِثْلَ ذَابٍ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَشُعُوبٍ وَالَّذِينَ مِنْ  
 بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ تہہ حال بیہومت چہہ قوم نوحس، قوم عادس، قوم ثمودس،  
 پیہ تم لوکن یم تم پتہ آس۔ اللہ تعالیٰ چہہ بندن پیٹہ ظلم کرن یژھان وَيَقَوْمِ رَأَىٰ أَخَافُ

يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ مَّا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضِلِلِ  
 اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۳۶﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ  
 بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قَلْبُكُمْ  
 لَنْ تَبْعَتَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ  
 مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿۳۷﴾ وَالَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ  
 أَتَاهُمْ كُتُبًا مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ

عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ای میانہ قومہ بہ چھس کھوڑان ٹھندہ خاطرہ تھہ دوہس سچھ منزورایاہ آلوپین دنہ۔  
 گوڈینگ نداگوپوٹس منزبہ پھوکھ دنہ سمہ آوازہ سیت ساری مردہ زندہ گڑھن۔ بیہ پیہ پریتھہ اگس  
 شخصس پنہ ماجہ سیت نسبت کمر تھہ ندا کرنہ یَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ سمہ دوہہ تہہ ژلان آسو تھر  
 پھر تھہ حسابہ کہ موقعہ نشہ دوڑخس گن۔ مَّا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ تمہ ساتہ آسہ نہ کانہہ تہ توہہ  
 خدایہ سندہ عذابہ نشہ بچاوه ون۔ بیہ مضمون اوس سیٹھاہ غایت درجہ ہدایتس متقضی وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ  
 قَمَالَهُ مِنْ هَادٍ مگر یس خداؤ تھر راورہ اُس چھنہ کانہہ تہ وتھہ ہادہ ون وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ  
 مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ تھتھنہ بیہ آو توہہ گن موسیٰ علیہ السلا مس برونھہ  
 یوسف علیہ السلام نہہ دلیلہ ہتھہ۔ اُس رودوہ توہہ ہمیشہ شک کران تھہ منزبہ سہ توہہ گن ہتھہ آمت  
 اوس خدایہ سند پیغام حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قَلْبُكُمْ لَنْ تَبْعَتَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا تا ایچھہ بلہ تم گئے سمہ عالمہ  
 تہہ لہہ وہ ونہہ پائے ون سوزہ نہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام پتہ کانہہ بیغمبر س كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ  
 مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ تھتھہ پائھ چھہ اللہ تعالیٰ و تھر راوران تہ غلطی منز تھوان تھن لوکن یم حدہ  
 چھہ ژلان انکار کرنس اندر بیہ سم شک چھہ کران وَالَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَاهُمْ  
 تم گئے تہ سم بحث تہ قضیہ چھہ لاگان اللہ تعالیٰ سندین آیاتن اندر تہہ دلیلہ ورائے یوسہ تھن  
 نشہ و اثر مژ آسہ ہا۔ كُتُبًا مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ اس چھہ سیٹھاہ نفرت امہ کج

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكِدِّرٌ جَبَّارٌ ﴿۳۵﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا مَعْ لِي صِرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿۳۶﴾ ۞ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ آلِ اللَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لِأَكْظَمُهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا كِيدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿۳۷﴾ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ اتَّبَعُونَ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿۳۸﴾ يَوْمَ اتَّيَاهُنَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ

بخش ہنز۔ با ایمان نشہ تہ چھ اچ نفرت کذلک یظعم اللہ علی کل قلب متکدیر جبار یتھ پاتھ اللہ تعالیٰ ان جھدین و لن پیٹھ موہر کر مز چھ یتھ پاتھ چھ اللہ تعالیٰ موہ ہر کران پر یتھ متکدیر تہ سر کھتھ سندس و کس پیٹھ۔ یہ اوس تقریر تس با ایمان مردہ سندیس پن ایمان کھتھ تھاوان اوس۔ امہ تقریرہ پتہ کور تم پن پان ظاہر۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا مَعْ لِي صِرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ فرعون یلہ یہ لاجواب تقریر یوز تمس با ایمانس بیجو کن نہ کینہہ ونٹھ پنہ نس سابقہ جہالتس پیٹھ قائم روز تھ لگ پتہ خیالہ دلیل قائم کرنہ خاطر ہانئس کہ اے ہان میانہ خاطرہ بناوڑہ اکھ تھود مکاناہ دیوہ بہ تھ پیٹھ کھتھ وائت آسانہ جن و تن پیٹھ۔ اسباب السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ آلِ اللَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لِأَكْظَمُهُ كَاذِبًا یعنی آسان کھنہ جن و تن پیٹھ تو پتہ و چھہ بہ موسیٰ علیہ السلامہ سندس خدائس گن۔ بہ چھس زانان سہ چھویہ و نہ نس اندر اپز یور۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ یتھ پاتھ آوزینت و نہ فرعونہ سندہ خاطرہ تمسزن پچھ کائین۔ بیہ آؤسہ پتھ رٹھ سیزہ و تہ نشہ۔ تم کر یہ موسیٰ علیہ السلامس مقابلہ واریاہ بڈتد تیر وَمَا كِيدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ مگر فرعونہ سند پر یتھ تدیراہ گوو ضایح تہ بے کار۔ گنہ تدیرس منز پند نہ کامیاب وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ اتَّبَعُونَ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ تم با ایمان شخص یلہ و چھ کہ فرعونس پھورنہ کانہہ معقول جواباہ تم کور یہ تقریر۔ تم دوپ ای میانہ قومہ تہہ پچو میانہ و تہ۔ تہہ کمر و میان پیروی۔ بہ ہاووہ توہہ رثو تھ۔ یعنی سمیل الرشاد چھ میانی و تھ فرعونہ سنز

الْقَرَارِ ۳۳) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْمَوْنَ فِيهَا بغيرِ حِسَابٍ ۳۴) وَيَقَوْمٌ مَّالِيٍّ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ۳۵) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِنِّي أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ۳۶) لَأَجْرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَإِنَّ مَرَدَّنَا

و تھ پھنہ۔ تم سدا دعوه چھہ اہڑ یقوم ائما ہذہ الحیوۃ الدنیامتاع وان الآخرة ہی دار القرار اے میانہ قومہ یہ دنیاء چ زندگی پھنہ مگر کینوں دوہن فایدہ تلج۔ اصل روزہ نک گرہ گوو آخر تک گرہ۔ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْمَوْنَ فِيهَا بغيرِ حِسَابٍ ہم اکھ پچھ کوم کتر تس بیہ نہ تمیک سزا دنہ مگر تھہ برا برس اکھاہر ش عمل گرہ مر دویا زانو اندرہ با ایمان آنتھ تے لوکھ اژن جنس اندر۔ تھہ پچھہ رزق عطا کرنہ حسابہ روستے وَيَقَوْمٌ مَّالِيٍّ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ای میانہ قومہ یہ کہوہ کتھاہ پھنہ کہ بہ چھسوہ توہہ نادوان نجاس کن تہہ چھوہ میہ نادوان نارس کن تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ تہہ چھوہ میہ نادوان معبود بر حقس انکار کرنس تہ شریک ٹھہر اوئس کن تمج نہ میہ نشہ کا نہہ خیراہ چھہ، دلیلاہ چھہ۔ بہ چھس توہہ نادوان تس معبود بر حقس کن ئس سیٹھاہ چھنہا چھہ لَأَجْرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ یہ تھہ چھہ ظاہر کہ ئس پرستش کرنس کن تہہ میہ نادوان چھوہ سہ پھنہ

إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿۳۲﴾ فَسْتَدْكُرُونَ  
 مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفِوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ  
 بِالْعِبَادِ ﴿۳۳﴾ فَوَقَّهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَمَكْرُوهٍ وَأَوْحَى  
 بِاللَّيْلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ ﴿۳۴﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا  
 غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ  
 فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿۳۵﴾ وَإِذْ يَتَحَاكَمُونَ فِي النَّارِ

قابل نہ دنیاءس اندر کفہ حاجت وزہ نادوس نہ آخرتس اندر دفع عذابہ کہ وقتہ کیا زہ نادوئج صلاحیت  
 چھہ تمس کس قدرت و علم آسہ۔ ہم دو شوے چیز چھہ غیر اللہس نشہ مفقودہ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ  
 الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ یہ چھہ یقینی کتھ کہ آسہ سار نے چھہ واپس رجوع کرن اللہ تعالیٰ اس  
 گن۔ یہ تہ چھہ یقینی کتھ کہ حدہ نشہ ڈلہ ون یعنی غیر اللہس عبادت کرہ ون چھہ نارس اندروانہ ون  
 فَسْتَدْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ میان کتھ چھہ تومہ بہان پیوہ توہ ژیتس سوکتھہ۔ یوسہ بووان چھوس مگر  
 بروٹھ پن۔ وَأَفِوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بہ چھس پن معاملہ پُشر او ان  
 اللہ تعالیٰ اس بے شک اللہ تعالیٰ چھہ پاندو چھان پنہ نین بندن ہند حال فَوَقَّهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَمَكْرُوهٍ  
 وَحَقَّ بِاللَّيْلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ کس روچھہ سہ با ایمان بندہ اللہ تعالیٰ ان تھند یو مضر تدبیر و  
 نشہ۔ پوت پھیر تھہ آؤ ولہ عذاب فرعونہ سندین لوتین پوتین چنانچہ فرعون تہ تھند قوم پھوٹ  
 دریائے قلمس اندر۔ موسیٰ علیہ السلام تہ تھند یو تابو لوب نجات۔ آل فرعونہ منزہ ہم با ایمان اس  
 تمو تہ لوب موسیٰ علیہ السلامس سیت غرق سپدہ نشہ نجات النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا  
 عالم ہرز خس منز چھہ تم صُحُصَس تہ شامس نارس بروٹھ کتھہ آنتہ یوان تم چھہ ونہ یوان کہ قیامتگ دوہ کیاہ  
 بیوٹھہ اتھ نارس منز داخل کرنہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ  
 قیامت قاسم سپدہ تمہہ دوہہ بیہ حکم کرنہ وانہ ناویو کھ فرعون تہ تھند قوم سخت عذابس اندر وَاذْ

فَيَقُولُ الضُّعْفُو الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ  
تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿۳۴﴾  
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ  
بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿۳۵﴾ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ  
ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿۳۶﴾  
قَالُوا أَوْلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ  
قَالُوا فَاذْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿۳۷﴾

يَتَحَاكِمُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفُو الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ  
مُعْتَدُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ سُنَّه وقت تہ چھہ قابل ذکر یلہ کافر نار جہنم اندر پانہ وان ہر ہ ہر  
گرن تو پتہ ون کمزور لوکھ تم لوکن ہم مغرور تہ سرکش اُس اس تو ہی تابع۔ کیا ہر جہہ بیجوہ نازک  
کانہ حصہ اُسہ نشہ دور کر تھہ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ  
مغرور تہ سرکش لوکھ ونہ ککھ اُس ساری چھہ نارہ سے منز (اُس ہر گاہ تو ہہ کیہنہ کمر تھہ بیجہ ہو گوڈہ کرہ  
ہو اُس پانہ سے) بیشک اللہ تعالیٰ ان کو رفاصلہ بدن منز۔ وون بیجہ نہ تیجہ فاصلس منز بدل سپد تھہ۔  
تھہ فاصلس منز آئے اُس ساری نار ی قرار وندہ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ  
يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ تمہ پتہ ون تم ساری لوکھ ہم جہنم منز دزان اُس جہنمہ کین  
داروغن، جہہ محکو سائہ خاطرہ خدا اُس سہ کرہ ہاکنہ دوہ عذابس منز سہل قَالُوا أَوْلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ  
رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تم دیکھہ کیا ہر تو ہہ نش اُس نالیوان پیغمبر تھہند نہ دلیلہ ہتھہ جہنمہ کہ عذاب نشہ کچ  
کانہ طریقہ تہ صور تھہ ہتھہ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا بَلَىٰ اُوہ یوان اُس مگر اُس اُس نہ تھہد مانان قَالُوا  
فَاذْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ تم دیکھہ تورہ تھہ محکو پانہ اُسہ چھہ کافر ن سفارش

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿۵۱﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ  
مَعذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿۵۲﴾ وَلَقَدْ  
آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ﴿۵۳﴾  
هُدَىٰ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿۵۴﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ  
اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

کرہ نچ ممانعت۔ مگر تھے منگنس یہ کہ نہ تھا نتیجہ نیر یونہ کیا زہ کافر ن ہند ممکن پھنہ مگر بیکار تہ بے اعتبار۔  
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اس پھہ یاری تہ  
مدد کران پنہ نین پیغمبرن بیہ بالیمان دنیا چہ زندگی اندر بیہ سمہ دوہہ گواہ یعنی تم ملائیک، تم نامہ  
اعمال لیکھان آسن گواہی خاطرہ تھو دوو تھن۔ تم دن گواہی پیغمبرن ہندہ تبلیغ بیہ کافر ن ہندہ انکار چ  
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ سمہ دوہہ نہ کہ نہ  
فایدہ دیہ ظالم ن یعنی مثر کن تہ کافر ن عذر تہ ہمانہ پیش کرنہ تہ ہندہ خاطرہ پھہ لعنت (یعنی خدایہ سندہ  
رحمتہ نعمہ دوری) بیہ پھہ تہ ہندہ روزنہ خاطرہ بیچہ مکان وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي  
إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدَىٰ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ تحقیق توہہ بروئہ کور اسہ عطا موسی کلیم  
الہس بوڈ ہدایت یعنی تورات بیہ کمر بنی اسرائیل اسہ وارث کتابہ ہندی یعنی توراتک اس تورات ہدایت و  
نصحت پھہ عقلہ والین تہ گالین ہندہ خاطرہ۔ بے عقل تم اس تمن ووت نہ تمہ کتابہ ہند کہ نہ فایدہ۔ تہ تہ  
چھوہ موسی علیہ السلامہ سند پائٹھ صاحب رسالت ووحی۔ تہ ہندین آتین اندریم گائل تہ عاقل چھہ تم تہ  
کرن تمہ کتابہ ہنز یوسہ توہہ عطا کرنہ آیہ خدمت تہ اشاعت۔ بے عقل تم چھہ تم کرن اتھ کتابہ انکار  
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ مگر تہ  
کمر و تھہ پیٹھ صبر یار سول اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سُد و عدہ پھہ پوز۔ بیہ مچو مغفرت پنہ نین گونن ہندہ خاطرہ



بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝۵۶ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ  
 اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمُ الْإِكْبَرُ  
 مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ  
 الْبَصِيرُ ۝۵۷ لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْكَبْرُ مِنْ خَلْقِ  
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۵۸ وَمَا  
 يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ

ہیہ روز و تو بہ تھے کلمہ سیت مشغول سمہ سیت نہ غمس کن التفاتے سپدان آسہ۔ سہ گو کہ جہہ ابرو تسبیح تہ  
 حمد پتہ نس پروردگار ہندہ خاطرہ پران شامس تہ صبحس تہ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ  
 سُلْطَنٍ أَتَهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمُ الْإِكْبَرُ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ بے شک تم لو کہ بحث تہ قضیہ جھہ  
 کران خدایہ سندین آیاتن اندر کعبہ دلیلہ ورائے یوسہ تمن نعبہ واثر مژ آسہ ہا، جہدین دکن اندر جھنہ کینہہ  
 تہ بڑی یعنی سبج و غرورہ ورائے۔ تمن سمہ بڑی ہند خیال چھہ تھہ ممکن نہ وا تھہ یعنی سوہ سپد نہ تمن  
 حاصلہ زانہہ بلکہ گڑھن تم خوار و ذلیل فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ بلکہ منگ ٹو جہہ  
 اللہ تعالیٰ اس پناہ تمن لو کن ہندہ شرہ نعبہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ سورے بوزہ ون، سورے ذہجہ  
 ون۔ تم لو کہ انسان ہندس دوبارہ پادہ سپد نس انکار کران جھہ تم جھہ سیٹھاہ بے عقل، کیا زہ لَخَلَقُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْكَبْرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ آسمان تہ زمین  
 ہند پادہ گرن چھہ زیادہ کام انسان دوبارہ کرنہ خوتہ لو کن ہنزہ نظرہ اندر یلہ بڈ کام کرنس پیٹھ نس پور  
 قدرت جھہ لو کٹ کام کرن کیاہ عجایب جھہ تس نش۔ مگر باوجود آں جھنہ اکثر لو کن یہ تھہ فخرہ تران۔  
 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمَسِيءُ قَلِيلًا  
 مَا تَتَذَكَّرُونَ بیہ جھہ پاٹھ برابر جھنہ اون تہ گاشدار تھہ پاٹھ جھنہ برابر تم لو کھہ سمو ایمان اکتھ رتہ  
 کامہ گڑہ بیہ تم بدکار آسن۔ سیٹھاہ گم جھوہ تہہ فخر کران ورنہ روزہ ہمیوہ تہہ اعلیٰ تہ بدکار إِنَّ السَّاعَةَ

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا النَّسِيُّ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿۵۸﴾  
 إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵۹﴾ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ط  
 إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ  
 دُخْرَيْنَ ﴿۶۰﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ  
 وَالتَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ  
 لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۶۱﴾ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ

لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ قیامت ہجھ ضرور پوہون تمہ کس بیش منز  
 ہجھنہ کانہ شکھاہ۔ لیکن واریاہ لوکھ ہجھنہ مانان نہ پڑھ کران کیاہہ تم ہجھنہ تمہ چن دلیان اندر تہہ نہ غور  
 کران۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ بیہ ہجھ فرماون تہہ پروردگارے لوکو مگو توبہ سے۔  
 بہ گرہ تہہہ پرہتھ جائزہ درخواستہ قبول إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ  
 دُخْرَيْنَ میہ وراے مہ مگوین حاجت کانہہ تہ۔ بیشک تم لوکھ ہجھنہ چہہ کران میانہ عبادتہ نشہ یعنی  
 میہ منگنہ نشہ میہ وراے تین ہجھنہ منگان، میہ ہجھنہ چن حاجت منگان، تم اثنین جہنمیں ستر تھ خوار گویہ تھ  
 اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالتَّهَارَ مُبْصِرًا معبود برحق گووسی یم راتھ کمر تہہہ  
 فایدہ خاطرہ ہجھنہ تہہ منز آرام کمر و، بیہ کمرن دوہو ہجھنہ خاطرہ روشن ہجھ تکلیفہ وراے تہہ معاش  
 حاصل کمر و إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ بے شک  
 اللہ تعالیٰ چھہ سیٹھاہ فضل کرہون لوکن پیٹھ۔ لیکن واریاہ لوکھ ہجھنہ تمن نعمون ہنز شکر گذاری کران  
 بلکہ چھہ تہہ بدل شرک کران۔ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تُوَفَّوْنَ بِه چھہ  
 اللہ تعالیٰ تہہہ پروردگار تہہہہ ذکر کر نہ آو۔ تم چیز نہ یم توبہہ پانے چھو کہ ٹھہراوان۔ سنی چھہ پرہتھ

كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنِّي تُؤْفِكُونَ ﴿۶۲﴾ كَذَلِكَ  
يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۶۳﴾ اللَّهُ  
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ  
فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ  
اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَرَّكُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۴﴾ هُوَ  
الْحَيُّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۵﴾ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ

چیزک پادہ کرہ و ان کا نہ معبوداہ چھنہ تس و رآے۔ توحید ثابت سپد نہ پتہ کوت چھوہ تہہ شرک کر تھہ  
پوت پھیران كَذَلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ نتیہ پآٹھ آس یوان  
و تھہ راوہ راونہ تم ن یم سائین آیاتن آس انکار کران اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ  
بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَاَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ معبود برحقے گوو سئی یم تہندہ خاطرہ  
کور روزنچ تہ قرار کرہ نچ جای زمین۔ بیہ کورن آسمان ہیر مہ طرفہ پشاہ ہیو۔ بیہ کرنوہ عطا توہیہ صور تھہ  
سوی صورت سمرن رث صور تھہ۔ بیہ کورن توہیہ رزق عطا۔ رت رت چیز کھنہ خاطرہ۔ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ  
رَبُّكُمْ یوہے گوو تھند ہر و در گار فت تبرک اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ پس جھہ اللہ تعالیٰ سیدشاہ عالی شان۔  
سئی جھہ عالمین ہند رب هُوَ الْحَيُّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ سے چھہ ازلی تہ ابدی زندہ روزہ و ان کا نہ معبوداہ چھنہ تس و رآے۔ اے لو کو پس معگو تہہ  
ساری تس، خالص اعتقاد کمر تھہ، شریک مہ ٹھمر اوو تس عنہ چیز س اندر عبادت تہ بندگی خالص سز لوازان تھہ بیہ  
نہ کانہ۔ ساری حمد و ثناء سارے خوبیہ چھہ تسئی معبود برحق سز لوازیں رب العالمین جھہ قُلْ إِنِّي  
نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ نَهْمہ فرما ویو کھہ یا رسول اللہ یمن مشرکن  
کہ میہ آو منع کرنہ بہ کیاہ کرہ پرستش تممن معبودان باطلن ہنز یمن تھی

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ  
 مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۱﴾  
 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ  
 ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شِيُوخًا  
 وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ  
 تَعْقِلُونَ ﴿۶۲﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّا  
 يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۶۳﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي

پرستش کران بچھوہ معبود برحق ورائے لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ  
 الْعَالَمِينَ یمہ زن میہ نش میانس پروردگارہ سندہ طرفہ واضح دلیل چھہ آشرتہ مہ آو حکم کرنہ کہ بہ  
 نومراوہ کلہ عبادتس اندر فقط رب العالمینس بروئٹھ کنہ ہُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ  
 مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شِيُوخًا سہ پروردگار گووسی یم نہہ  
 پادہ کمری نوہ گوڈہ میڑہ یعنی ٹھند جدا علی آدم علیہ السلام توپتہ ٹھند نسل آبہ قطرس توپتہ خونہ دتہ تو  
 پتہ کڈی نوہ ٹہہ پچہ سزہ ہ شکلہ اندر ماجہ ہندہ شکمہ اندرہ۔ توپتہ چھوہ توہمہ زندہ تھاوان ٹھٹھ ٹہہ واتوپنہ  
 جوانی ہندس و قس توپتہ چھوہ توہمہ زندہ تھاوان ٹھٹھ ٹہی بڈہ سپدو وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ بیہ چھہ  
 توی اندرہ کلہہ اتھ جوانی یا بجرہ کس و قس واتنہ بروئٹھ مران وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى بیہ چھہ سہ  
 توہمہ زندہ تھاوان ٹھٹھ ٹہہ واتوپنہ نس مقرر گرنہ آتس و قس تان وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ سوزے کور  
 آسہ ٹھٹھ توہمہ فکرہ ترہ خدایہ سند تو حید بیہ یہ کہ مضر تھ ہیجہ سہ پروردگار آسہ بیہ زندہ کمر تھ یم آس بتو  
 دور و سنری کڈاری هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سہ گووسی



تَفَرَّحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿۵۵﴾  
 ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوَى  
 الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۵۶﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرَبِّكَ  
 بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْ تَوَفِّيكَ وَإِنَّا لَيُرْجِعُونَ ﴿۵۷﴾  
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ  
 وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ  
 بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ

بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ یہ سزا پہلے توہمہ سے من تھیں ہند کہ تمہ اسوہ دنیا سے اندر ناحق شرک سے  
 سیت نہ کفر سے خوش گزہاں۔ یہ اسوہ تمہہ بخیر سے غرور کران۔ امہ بروٹھ آسہ تمہہ ہتھ حکم  
 سڈمت ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا اُترو جہنمہ کیو دروازو منز توہمہ چھو ہمیشہ آتھ منز  
 روزن فَبئسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ پس کاڑھ پیچھ جایی چھہ یہ جنم متکبران ہنزیلہ انتقامیہ سزایی دنہ  
 فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ پس کمر و تمہہ کینہہ کالاہ صبر یار رسول اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ سُنَد وعدہ چھہ  
 پوز فَاِمَّا نُرَبِّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعُدُّهُمْ أَوْ تَوَفِّيكَ وَإِنَّا لَيُرْجِعُونَ ستمہ عذاب اس تمن  
 وعدہ چھہ کران تمہہ اندرہ کانہ حصا ہر گاہ اس توہمہ ہاودوہ یعنی تمہہ سے وقس اندر گرو اس تمن پیچھ عذاب  
 نازل یاسہ عذاب نازل کرنہ بروٹھے نمودوہ اس تمہہ ستمہ عالمہ منزہ بہر حال چھہ تمن واتن اس نفعہ تمہہ ساتہ  
 سڈن تم یقیناً عذابس گرفتار وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ  
 نَقْصُصْ عَلَيْكَ تھقن یہ سوز اسہ واریاہ پیغمبر توہمہ بروٹھ تمو اندرہ چھہ بعضے تم تمن ہند حال  
 اسہ بیان کور توہمہ پیچھ مجمل پاٹھیا بتفصیل۔ یہ چھہ تمو اندرہ بعضے یہ ہند حال نہ اسہ بیان کور توہمہ نفعہ مگر  
 یہ کتھ چھہ سارنہ اندر مشترک کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ

هُنَالِكَ الْمُبْطُلُونَ ﴿۸۵﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ  
لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۸۶﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ  
لِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ  
تَحْمَلُونَ ﴿۸۷﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿۸۸﴾  
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً

تَفْصِي بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطُلُونَ کانسہ رسول سوس اوس نہ مقدور کہ سو کیا نہ ہا کا نہہ نشانی مگر یہ کہ  
اللہ تعالیٰ سندہ اجازت سے ت اوہ بلہ خدایہ سند حکم عذاب سے متعلق ولتہ ذنیاس اندریا آخرتس اندر تمہ  
ساتہ سپدہ فیصلہ پرہ سے ت۔ تمہ وقتہ روزن اہل باطل اپزیر خسارس تہ تاوانس اندر اللہ الَّذِي جَعَلَ  
لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللہ تعالیٰ ای گووہہ یم پادہ کمر تہندہ خاطرہ چاروائے  
بیتھ تمواآندرہ بعضین پیٹھ تہہ سوار سپدہ تمواآندرہ بعضین ہند ما زکھیو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ لِتَبْلُغُوا  
عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ بیہ چہہ تہندہ خاطرہ تمن منز واریاہ فایدہ۔ بیہ بیتھ تہہ تمن پیٹھ کھسبتھ  
سوار سپدہ تھ واتو تمن مظلین یم تہندین دکن منز آسن وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ بیہ چہوہ تہہ  
اکھ تمن چاروائین پیٹھ بیہ ناؤن اندر تلنہ یوان تہ سیر کرہ ناو نہ یوان وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ  
تُنْكِرُونَ اللہ تعالیٰ چہہ توہہ پتہ قدر تک نشانہ ہاوان۔ پتہ نس پروردگارہ سندس تھ تھ نشانس بیہو  
تہہ انکار کمر تھ یم لو کہ یم دلائل قائم سپد تھ تہ چہہ توحیدہ نغیرہ انکار کران کیاہ تمن چھنا شرسکھ دو باج  
خبر أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیاہ تم چہنا پھیر  
مت ملکس اندر۔ پس وچھ ہن تم کیاہ سپد مت ہچھ انجام تمن مکران ہند یم تمن بروٹھ آس شرسکھ سبہ  
کَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ حالانکہ تم بروٹھم لو کہ آس تہندہ خوتہ زیادہ  
عزودہ کن۔ بیہ آس تہندہ خوتہ زیادہ قوتہ کن، بیہ تمن نشان اندر یم تموز میس پیٹھ پتھ کن تراوی جہ جہ







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 ۱ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ ۲ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا  
 عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ ۳ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ  
 لَا يَسْمَعُونَ ۝ ۴ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكْتُمَاتٍ مَّتَدُّعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيَّ  
 أَذَانِنَا وَقُرْءُومِنَّا وَبَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ إِنِنَّا حَالِمُونَ ۝ ۵  
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا أُلْهِمُ اللَّهُ وَاحِدٌ

لحم زم زه حرف ہجھہ حروف مقطعات تو آندرہ۔ سخن ہند معنی زانہ پانہ اللہ تعالیٰ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یہ کلام ہجھہ نازل دیوان کرنہ تس خدلیہ سندہ طرفہ لُحْنِ رَحْمَنِ وَرَحِيمِ ہجھہ کِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ یہ کلام ہجھہ کتابہ۔ ہمک آیات صاف صاف تہ ویرشہ ناوتہ آمت ہجھہ۔ یہ ہجھہ قرآن مجید عربی زیوہ اندر سمجھ دار لوکن ہندہ خاطرہ۔ یُتَّحْتَمِنُ آسانی سان فخرہ ترہ اگرچہ مختلف ہجھہ ساری لوکھ مگر نفع تہ فایدہ ہجھہ واتان سمجھ دار لوکنے بَشِيرًا وَنَذِيرًا بشارت ودوہون ہجھہ یہ قرآن مجید مانن والین یہ ہجھہ نیم گرہ وون نہ مانہ ونین۔ لازم اوس تھین صفین کن نظر کتر تھہ کہ ساری گوہ اتھ مانن تہ تسلیم کرن۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ مگر وارہ بہو لو کو کتر روگردانی۔ لُحْنِ ہجھہ تم یہ قرآن مجید بوزان۔ بلہ خبہ تمین یہ قرآن مجید بوزہ ناوان ہجھہ۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكْتُمَاتٍ مَّتَدُّعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيَّ أَذَانِنَا وَقُرْءُومِنَّا وَبَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ إِنِنَّا حَالِمُونَ تم ہجھہ دیان سان دل ہجھہ تھیلن تہ گوڑین منز ہند نمہ نغمہ یُتَّحْتَمِنُ لُحْنِ آسہ ناد ہجھہ دووان۔ یہ ہجھہ سائین کنن دوگہ تہ زم سبہ موکھ سائین کنن منز تھنز آوازے ہجھہ واتان۔ یہ ہجھہ آسہ منز تہ توہہ منز ٹھور سبہ سبہ آسہ منزہ کانہ اکھ آگس سیت ملیتھ ہیجھہ نہ۔ لہذا اکثر ونبہ پن کام۔ آس تہ ہجھہ کران پن کام۔ یہ مہ تھاد ونبہ تہ تھے

فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۖ الَّذِينَ  
لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ  
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۗ قُلْ أَيْنَكُمْ  
لِتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ  
أندادا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۗ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاْسِي مِّنْ قَوْقِهَا

کہ آس سید و تہیز و تھوہ لے لھو سیت متاثر قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ اِلَىَّ اَنْ اَتَاكَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَاحِدًا  
فَاسْتَقِيمُوا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ تُوہ فرما یو کہ یار رسول اللہ اے لو کو میہ جھنہ قدرت کہ بہ زبردستی  
کیاہ کرہ ناوودہ بہ ٹہہ توحید قبول۔ کیا زہ بہ تہ پھس تو ہی ہوا کہ انسانا تہ بشر اہ مگر اللہ تعالیٰ اُن جھہ میہ  
انتیازی شاناہ عطا کورمت کہ میہ کُن جھہ وحی یو اُن سوزنہ۔ سُی وحی اُس عقلہ کُن قابل قبول جھہ۔ سہ وحی  
جھہ ای کہ جھنہ معبود جھہ کئے معبود۔ اُس روز و تہہ متوجہ عبادتس اندر تس کُن۔ تس و رای مہ کمر و کانسہ  
ہنز عبادت۔ از تان کانسہ ہنز عبادتس تس و رای کمر مژ جھوہ تہہ مگیوس مغفرت۔ یعنی توحید کمر و  
قبول شر کہ نشہ کمر و توبہ ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ \* الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ سیٹھاہ  
بذخرابی جھہ تمین مٹر کُن ہبہہ حقہ ہم نہ مضمون ثبوت نبوتسہ وجوب اتباع بوز تھہ ہن روش تراؤن  
بیہ ہم ماچ زکوة ادا کر نہ۔ بیہ ہم آخر تس جھہ بدستور انکار کر ان ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ  
لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرٌ مَّمْنُونٍ سمکن بر خلاف ہم لو کہ رسالتہ کس حق آسئس پڑھ جھہ کر ان بیہ ہم لو کہ سمو  
ایمان اون بیہ کر یکہ رثہ عملہ تہندہ خاطرہ جھہ آخر تس اندر سمو زور یوسہ نہ زانہہ ختم سہہ موکلہ تہ  
موقوف سہہ قُلْ اَيْنَكُمْ لِيَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا نَّہہ  
فرما یو کہ یار رسول اللہ تمین لو کُن اے لو کو کیاہ ٹہہ جھوہ تس خدایہ سندس تہ کُن آسئس انکار کر ان ہم یہ  
یوت زمین پادہ کور دون دو ہن اندر۔ بیہ جھوہ تمسی خدائیس شریک ٹھہر اون ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ  
یوہے جھہ ساری عالمک تہ جماٹک رب۔ سُی جھہ معبود تہہ۔ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاْسِي مِّنْ قَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا

وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً  
 لِّلسَّائِلِينَ ۝۱۰ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ  
 لَهَا وِلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ۝۱۱  
 فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سِنِينَ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا  
 وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ  
 الْعَلِيمِ ۝۱۲ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ

وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ یہ کفر تھی اللہ تعالیٰ ان پادہ زمینس پیٹھ کو بہن  
 ہندی لنگر۔ یہ تھاون آتھ زمینس منز فاندک چیز بہ کوزن آتھ پیٹھ روزن والین ہندہ خاطرہ روز کل  
 تجویز۔ پریتھ زمینس الگ الگ قسمٹ غذا۔ پریتھ قسمٹ غلہ تہ میوہ کوزن پادہ۔ یہ سورے سڈ ژورن  
 دوہن اندر۔ سارنہ مگن والین ہندہ خاطرہ برابر ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا  
 وِلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ تو پتہ سڈ اللہ تعالیٰ متوجہ آسمان پادہ کرہ نس گن۔  
 سہ اوس دوہ ہا اکھ زمین پادہ کرنہ بروٹھ۔ بس فرموون آسمانس تہ زمینس ٹہہ دوشوے ایوسانس کھمس  
 گن۔ بس حکماہ اس فرماوہ سہ مانو۔ وون چھہ توہہ اختیار خوشی سان مان تو یاز بردستی سیت مان تو۔ تمو  
 دوہ شوے دوپ اس چھہ احکام مانہ خاطرہ دوشوے حاضر نہایت خوشی سان فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سِنِينَ  
 فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا چنانچہ بس بناون تھہ اگس آسمانس تھہ آسمان دون دون ہن اندر تو پتہ  
 کرن جاری پریتھ آسمانس منز تہ کین ملائگن ہندہ خاطرہ ہم آسمان منز بسہ ون تہ روزہ ون چھہ ہن  
 ہن حکم وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا یہ دیت اسہ زینت آسمان دنیاہس ستارو سیت، یہ کفر اسہ  
 راجھ شیطان ہندہ گن ونہ نشہ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ چھہ تجویز زبردست واقف الکل خدایہ  
 سڈ بس عبادتس لایق چھہ۔ یوہے چھہ کامل الصفات خدانہ کہ تم چیز ہم ناقص الذات تہ چھہ تہ ناقص  
 الصفات تہ چھہ۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عاد و نَمُود بس اگر یہہ دلیلہ بوڑ تھہ

عَادٍ وَثَمُودَ ۝۱۳ اِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ  
خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ قَالُوْا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَانْزَلَ  
مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝۱۴ فَاَمَّا عَادُ فَاَسْتَكْبَرُوْا فِى  
الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مَنَاقِبَةً اَوْ لَمِيْرًا وَاِنَّ اللّٰهَ  
الَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۝۱۵  
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ اَيَّامٍ مَّحْسٰتٍ لِّنَذِيْقَهُمْ

تہ تم لو کہ توحیدہ نشہ پیٹھ پھیرن ادہ فرما دیو کہ تہہ یارسول اللہ اے لو کہ یہ مہسوسہ توہہ نیم کران تہہ  
ترہ ہند یوسہ ترٹھ قوم عاڈس تہ قوم ثمودس پیٹھ شرک و کفر گرنہ سببہ واقع سہز اذ جآءتھم الرسل من  
بین ایدیہم ومن الخلفہم الا لعبدوا الا اللہ ۱۳ یلہ یوان اس تمن نشہ پیٹھ پتہ بروٹھ بلکہ پر پیٹھ  
طرفہ پیٹھ تھہ ونان کہ ہالو کو عبادت مہ کمر وکانہ ہنز معبود برحقس وراے قالو لو شاء ربنا لانزل  
ملائکة فانابما ارسلتکم بہ کفرون تمو کافر و دو پیٹھ تہہ چھوہ یہ کٹھ غلط ونان تہ اس سوز اللہ تعالیٰ ان۔  
اگر سانس ہروردگارس یہ منظور آسہا میلہ سوزہ ہانسہ کانہہ ملکس توہہ پیٹھ کیا زہ واتہ ہانومت۔ لہذا بہہ  
اس تھہ سارے سے یہ تہہ بہتھ سوزنہ آمت چھوہ انکار کران فامتا عاڈ فاستکبروا فی الارض  
بغیر الحق وقالوا من اشد مناقبہ پس ہس قوم عاڈاس تم لگ محبہ تہ غرور کرنہ ملکس منز ناحق۔  
بہہ دیکھ سانہ خوتہ گس بہتھ زیادہ قوتہ کن۔ سہ تہہ حادثہ بہتھ نہ اس مدافعت ہیہ کو کمر تھ اولمیروان  
اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوتہ کیاہ تمن آونا بوزنہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہم تم پادہ کمری، سہ بہتھ  
سیٹھاہ زیادہ تہہہہ خوتہ قوتہ کن۔ سہی پیٹھ تمن پیٹھ عذاب واقع کمر تھ وکانوا بالیتنا یجحدون مگر  
باوجود آن اون نہ تموا ایمان بلکہ رد تم سائین آیاتن انکار کران۔ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام  
محسات لئذ یقہم عذاب العزی فی الحیوة الدنیئا پس ترویلہ اسہ تمن پیٹھ تیز واؤ تھین دوہن  
اندر تم دوہ بوجہ نزول عذاب الہی تہہہہ ہٹھ منحوس تہ پھیٹھل آسی ٹھہ اس تم تہہ ناو کہ خوار ہی ہند

عَذَابَ الْحِزْبِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۱۶﴾ وَأَمَّا شُودُ فَهَدَيْتَهُمْ فَاسْتَجَبُوا لِعَلِيٍّ عَلَى الْهُدَىٰ فَآخَذَتْهُمْ صِعْقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۷﴾ وَبَعَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۱۸﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۱۹﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۰﴾ وَقَالُوا الْجُلُودُ هِيَ لَمْ شَهِدْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ

عذاب دنیاچه زندگی اندر و لعذاب الآخرة اخزی و هم لا یبصرون بیه وجه آخر تک عذاب زیاده رسوا کره و ن توپتہ بیہ نہ تمن تمہ وقتہ بمنہ قسمہ مدد گر نہ و اما شود فہدینہم فاستجبوا لعلی علی الہدی فاخذتہم صیعقۃ العذاب الہون بہا کانوا یکسبون وون لیس قوم شموداوس تمن ہوو اسمہ بیغیرن ہندہ ذریعہ سیز و تہ۔ مگر تمو کتر اختیار گرا ہی ہدایتس مقابلہ کس رت تم خوار کر وہ نہ عذابہ ترطہ۔ بنیل او تمن تہہ سیت آس کر کبہ سمہ کر یکہ سیت جہندے جگہ پھرت۔ تمن کا میں ہندہ سببہ یمہ تم کران اس و بعینا الذین امنوا و کانوا یتقون اسمہ دیت نجات تمہ عذابہ نشہ تمن لوکن سمو ایمان اون بیہ اس تم شرکہ نشہ ہتھ روزان سانس عذابس کھوژان و یومہ یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون تمن لوگن پاو تہہ تریس سہ دودہ سمہ دودہ خدایہ سند دشمن ین جمع گر نہ نار جہنم تراونہ خاطرہ توپتہ ین تم آکسی جالیہ ٹھہراونہ تہ پیارہ ناونہ ہتھ ساری سمن۔ سمہ ین تراونہ جہنم آندر حتیٰ اذا ما جاء و ہا شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بہا کانوا یعملون تا یحکمہ یلہ تم جہنم کھ تل واتن گواہی دن تمن پیٹھ کن تہند اہجہ تہنز ہدیہ مسلمہ تہند تمن سارنہ کا میں ہنز سمہ کامہ تم کران اس دنیاہ س اندر۔ و قالوا الجلود ہم لم شہدنا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء توپتہ و ن

الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ  
 تُرْجَعُونَ ﴿۳۱﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ  
 سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ  
 لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي  
 ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۳۳﴾ فَإِنْ  
 يَصْبِرُوا فَإِنَّ آثَارَهُمْ لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ  
 الْمُعْتَبِينَ ﴿۳۴﴾ وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَآبِينَ

تم پہنہ نس مُسلس تہ پہنہ نین تانن توبہ کیا زہ وژوہ گوانی اسہ خلاف۔ اسی تہجدی خاطرہ و دنیا س منز  
 سورے کینہہ کران آس زیوہ سیت اوُس بہ سارنے گوئہن انکار کران۔ توبہ کس مُصیبت اوہ توبہ  
 ہژوہ تھہ گرنہ۔ آخریمہ تھہ کرنہ کم پھناؤ توہ توبہ۔ تم دیکھہ جواب آس کرہ ناؤ تھہ تم خدا نین نس  
 سارنے تھہ گرہ و نین چیزن تھہ کرہ ناوان ہھہ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم کردہ  
 توبہ پادہ گوڈچر لہ۔ یہ چھوہ دوبارہ زندہ کر تھہ کس کن و اتناوندہ یوان وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ  
 عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ توبہ اسو و دنیا س اندر غیر نشہ پوشیدہ روز تھہ گوناہ  
 کران۔ یہ اسو نہ خیر کہ توبہ بیٹھہ کیاہ دن گوانی کن تہند اچھہ تہنہ بہ مسلہ تہند وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ  
 لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ لیکن توبہ اوس گمان کہ اللہ تعالیٰ اس چھنہ خبرے وار نین چیزن  
 ہنز تموجیز و اندرہ تم توبہ کران اسوہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ  
 الْخَاسِرِينَ اکی تہند خیال ن نس توبہ پنہ نس پروردگار س متعلق اوس کیاہ کردہ توبہ تباہ تہ بر باد نس  
 سپدوہ توبہ تاوان زڈو اندرہ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَإِنَّ آثَارَهُمْ لَهُمْ کس ہر گاہ تم صبر گرن توبہ ہھہ تہنز  
 جاے نار جنم وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ یہ ہر گاہ تم کینہہ عذرو معذرت کرن،

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمِّهِ  
 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا  
 خَبِيرِينَ ﴿۲۵﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَأَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ  
 وَالْغَوَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ ﴿۲۶﴾ فَلَمَّا يُقَنَّ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَكُنْزِيَّتَهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا  
 يَعْمَلُونَ ﴿۲۷﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا  
 دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۲۸﴾

معانی مگن زارہ پارہ گرن تمن بیہ نہ ہرگز معافی ونہ کنہ صور تہس اندرہ وَفَقَضْنَا لَهُمْ فُرْتَاءً فَرَزَيْنَا لَهُمْ  
 مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ بیہ آس آسہ دُنیا س آندر تمن سیت روزن واکل شیطان مقررہ کر  
 مت تمواوس ہمزہ ن پتہ مین بروظھن عملن زینت دُستمت تمنی کالین پیٹھ آس تم ڈاؤ کر تھہ گھس پیٹھ  
 اصرار تہ ڈاؤ کرنہ موکھ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمِّهِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ  
 إِنَّهُمْ كَانُوا خَبِيرِينَ کس سہد تمن پیٹھ خدلیہ سُدوعدہ عذاب پورہ تمن لوکن سیت سیم تمن بروظھ  
 گذرے مت چھہ جنوتہ النساءو آندرہ بے شک تم ساری آسن تاوان زُدو آندرہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَأَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ بیہ چھہ سیم کافر پانہ وان ونان بیتھ قرآن  
 مجیدس متھ آوگن سیمہ ساتہ پیغمبر قرآن ہر ان آسہ ہیوان تُو بیہ آسُو شور لاگان۔ شاید امہ طریقہ سپدو  
 نہہ غالب فَلَمَّا يُقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَكُنْزِيَّتَهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ  
 کس امہ نالائق حرکتہ موکھ تہہ ناووکھ آس سیم کافر سخت عذابگ مزہ بیہ دمو آس تمن سزا تمن پیٹھ  
 کالین ہند سیمہ تم کران آس ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ یوہ پٹھ سزا خدلیہ سندین دشمن ہند یعنی  
 نار لہم فیہا دار الخلد جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ تہمہدہ خاطرہ چھوا تھہ نارس اندر

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ آذَلْنَا مِنَ الْجِنِّ  
 وَالْإِنْسِ نَجَعَلُهُم تَحْتِ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿۲۵﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ  
 الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ  
 تُوعَدُونَ ﴿۲۶﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ  
 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿۲۷﴾ نَزَّلْنَا مِنْ

ہمیشہ روز نگ گھر ہمزاء امہ کے کہ تم اس کران سائین آیان انکار وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا  
 الَّذِينَ آذَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجَعَلُهُم تَحْتِ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ بیہ ون کافر اسے  
 سائے پروردگار اسے ہاویجھ تم زہ شخص سمواں گمراہ کری جیو تہ انساو آندرہ۔ اس تھاوہ ہو کہ تم پنہ نین  
 لتن تل بیجھ تم ساری تل کن واتہ ہن۔ بیہ آسہ گمراہ کرہ ونین بیجھ تم نیکہ سخت غصہ تہ ڈکھ۔ إِنَّ  
 الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي  
 كُنتُمْ تُوعَدُونَ بے شک تم لو کہ تمودلہ سیت اقرار کور کہ سون حقیقی پروردگار بیجھ صرف اللہ تعالیٰ  
 تو پتہ کر کہ بیجھ بیجھ استقامت تہ کور کہ بیہ اتھ اقرار اس شو بہ ترو کہ نہ بیہ خیال بیجھ صورتس اندر تم  
 بیجھ دس ملاکھ اک مرتبہ وقتہ بیہ قبرن منز بیہ قبر و آندر نبر بیہ کہ وقتہ بیجھ دپنگھ تو بیہ مہ کھو ژواخر تہ  
 کین ہولناک حالاتن۔ بیہ مہ بیرو تہہ غم و نیاء کس تراونس بیجھ کیا زہ تو بہ بیہ تمہ خود تہ تہ رت چیز۔  
 بشارت بولن تو بہ تمہ بیجھ تمہیک تو بہ بیجھ برن ہندہ واسطہ وعدہ یوان اوس تھاوند نَحْنُ أَوْلِيَاكُمْ فِي  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اس چھہ تہندرفیق دنیاچہ زندگی اندر تہ۔ بیہ روز و اس تہندرفیق آخرتس  
 اندر تہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ تہندہ خاطرہ چھہ بیجھ جنس اندر تہ سوزی  
 موجود بیجھ کن تو بہ خواہش گرتہ۔ بیہ چھوہ تو بہ کیت تہ سوزے بیہ تو ہی مگو۔ ساری چیزین تھاوند تو بہ  
 مہیا نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ بیہ چھہ گوڈ بیجھ ضیافت تہندہ خاطرہ غفور و رحیم ہروردگار ہندہ طرفہ بیمہ



غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿۳۲﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ  
صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۳۳﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ  
لَا السَّيِّئَةُ يُدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ  
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿۳۴﴾ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا  
يُلْقُهَا إِلَّا آذٌ وَحِظٌّ عَظِيمٌ ﴿۳۵﴾ وَإِنَّمَا يُرِثُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ  
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۶﴾ وَمِنُ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ  
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدْ لِلَّهِ

نعموین توہم عطا کر نہ کمال عزت و احترام تمہہ کن معزز تر زمین چھہ بروٹھہ کین انہ یوان و مَن أَحْسَنُ  
قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بیہ کہہ اکھاہ چھہ زیادہ رُت کلامہ  
کن تسنہہ خوتہ یم لوکن نادیدت معبود برحقس کن بیہ کرین پانہ تہ رتہ عملہہ بیہ دوہن اظہار اطاعت  
کران کہ بہ چھس فرمانبردار و اندرہ یعنی بہ چھس خدایہ سز بندگی کرن فخر زانان تمہہ ان ہند پانٹھ  
چھس نہ عار زانان وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ يُدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بیہ چھہ نیکی تہ بدی برابر بلکہ  
چھہ پر ہتھہ کنیک اثر الگ الگ۔ یمہ بیہ کتھہ محقق سہڑون کز و توہہ مع اتباع بدی ہند مدافعہ تمہہ طریقہ بس  
بہتر آسہہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تمیک نتیجہہ نیرہ کہ سہہ شخص بس منزتہ  
توہہ منز عداوت و دشمنی آسہہ سہہ نہ شہہ بیٹھہ زن سہہ دوست جانی آسہہ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا  
يُلْقُهَا إِلَّا آذٌ وَحِظٌّ عَظِيمٌ بیہ کتھہ چھہ تمنی لوکن نصیب سہڈان ہم تو اہک اعتبارہہ سیٹھاہ خوش نصیب تہ  
نیک بخت آسن وَإِنَّمَا يُرِثُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تھس و قس اندر  
ہر گاہ توہہ شیطانہ سندہہ طرفہ غضبک تہ خشمک کانہہ و سوسہ پیدہ سہڈان بیہہ تمہہ ساتہہ آسوفور اچناہ منگان  
اللہ تعالیٰ آس۔ بیشک سہہ چھہ سورے بوزون سورے زانون وَمِنُ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ آيَاةً تُعْبُدُونَ ﴿۲۵﴾ فَإِن اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ  
عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿۲۶﴾<sup>السجدة</sup>  
وَمِن آيَاتِهِ أَن تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ  
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُجِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۷﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ

بہ چھ خدایہ بند یو قدر تہ کیوتہ توحیدہ کیونشاؤ اندرہ رات تہ دوہیہ آفتاب تہ زون لاسجودوا  
للسنن ولا القبر واجودوا للذی خلقهن ان کنتم ایاة تعبدون اے لو کو تو بہ مہ دیو سجدہ نہ  
آفتاب نہ زونہ بلحہ دیو سجدہ تس معبود برحقس سیم تم پادہ کر چھوہ ٹوہہ تس یوت عبادت کران یعنی  
مشرک سیم خدایہ سندہ عبادتک دعوہ چھہ کران تم چھہ عبادتس اندر شرک اتان۔ سچہ عبادتس اندر  
شرک آسہ حقیقتس منزگیہ نہ سو خداوند کریمہ سنز عبادت۔ بلکہ تہندسہ دعوہ چھہ باطل۔ خدایہ سنز  
عبادت چھوہ کرن تیلہ کریوس عبادت شرک تراوتھ تہ شرکہ وراکی فَإِن اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ  
عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ توپتہ ہر گاہ تم لوک غرور تہ تکبر کرن تس  
عبادت کرنہ نشہ سو چھہ تہنز حماقت تس کیاہ پرولھتھ تمیک۔ تم ملایک سیم تہندس پروردگارہ سند  
مقرب چھہ سیم شان و عظمتس منز ساسہ گنہ زیادہ چھہ راتس تہ دوہ سیم تہنز پاکی بیان کران۔ توپتہ چھہ  
تم عنہ قسمہ عنہ وقتہ تھکان وَمِن آيَاتِهِ أَن تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ  
الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُجِي الْمَوْتَى بہ چھہ تہندہ قدر تہ کیوتہ توحیدہ کیونشاؤ اندرہ اکھ نشانہ ژہ چھہن و چھان  
اے مخاطب یہ زمین تہ میومت تہ ہو کھت۔ خشکی ہندہ وقتہ چھہ ہوالج کر دھان تہ چھہکر او ان آتی یلہ اس  
تراوان چھہ تھ پیٹھ رود آتی چھہس تازگی پھیان بہ چھہ پھولان تہ سر سبز سپدان بے شک یم  
پروردگارن یہ زمین مرتھ بہ زندہ کورسئی پروردگار چھہ مردن زندہ کرہ ون۔ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ بے شک سہ چھہ پر چھہ چیزس پیٹھ قدر تہ دول یم پروردگارن یہ مردہ زمین زندہ کورسہ بیچہ

اَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَنْ يَأْتِي اِمْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْمَلُوا مَا  
 سَأَلْتُمْ ۗ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۴۱﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا  
 جَاءَهُمْ ۗ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿۴۲﴾ لَا يٰۤاَيُّهَا الْبٰطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ  
 وَاَلَمْ يَخْلَفْهُ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حٰكِمٍ حَمِيْدٍ ﴿۴۳﴾ مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا  
 قَدْ قَبِلَ لِلرَّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ

نامرده انسان ہندین بدن اندر روح و اتنا و تھ، تمن دوبارہ زندہ کمر تھ۔ کیاہ سہ قادر مطلق ہیجہ  
 ناموتین و لن زندہ کمر تھ پنہ نور توحیدہ سیت بے شک سہ ہیجہ سوزی کینہ کر تھ۔ سہ چھہ پر تھہ  
 چیزس پیٹھ قدر تہ وول اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِي الْاٰيٰتِ لَا يَغْفِرُوْنَ عَلَيْنَا بے شک تم لوکھ سان آیتن  
 منز تم آیت توحیدس پیٹھ دلالت کران چھہ تمنی منز چھہ ہول پکان یعنی تمن منز چھہ شک تہ شبہ  
 پاہہ کران۔ تم لوکھ چھنہ آسہ نشہ کھٹھ۔ آسہ چھہ تہند سوزی حال معلوم۔ تمن و مواس سزای نار اَفَمَنْ  
 يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَنْ يَأْتِي اِمْنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ کیاہ سہ شخص اُس نارس منز تر و انہیہ چھا بہتر کین سو اُس  
 قیامتک دوہو امن و اما س اندر ولتہ اَعْمَلُوا مَا سَأَلْتُمْ ۗ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ یہ خوش کر وہ تہ کمر و بے  
 شک اللہ تعالیٰ چھہ تہ سوزی وارہ و چھان یہ توہہ کران چھوہ ساری عملن ہند دیوہ سہ سزا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  
 بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۗ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ بیشک سمولو کو انکار کور قرآن مجیدس یلہ سہ تمن نشہ دوت تم تہ  
 و چھن تہند انجام کیاہ آسہ تمن چھہ نقص تہ کی پانس اندر۔ تھہ قرآن مجیدس اندر کانہہ کیاہ چھنہ۔ یہ  
 قرآن مجید چھہ باعزت و باوقعت کتاباہ لَا يٰۤاَيُّهَا الْبٰطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَاَلَمْ يَخْلَفْهُ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حٰكِمٍ  
 حَمِيْدٍ اتھ ہیجہ نہ آپز تہ غیر واقعی تھہ نکھ پچھہ نہ بروٹھ کن تہ نہ تھر کن یہ چھہ نازل آنت کرنہ حمتہ  
 و اُس تہ حمد پنے آتس خدایہ سندہ طرفہ مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قَبِلَ لِلرَّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ توہہ چھنہ یوان  
 ونہ مگر تمہ تھہ تم ونہ آثرہ و چھہ تمن پیئبرن یم توہیہ بروٹھ اُس۔ یہ نوکٹھاہ کانہہ چھنہ۔ تمو پیئبرو  
 کور تمن تھن پیٹھ صبر۔ تہہ تہ کمر و صبر۔ سمہ تھہ سیت تہ کمر و تہہ تسلی حاصل تہ۔ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ



بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿٢٥﴾ مَن عَمِلَ صَالِحًا  
 فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلِيَهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٦﴾  
 إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ  
 الْأَشْجَارِ وَمَا تُحْمَلُ مِنْ أُثْقَالٍ وَلَا تَصْعَقُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ط وَيَوْمَ  
 يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا أذْكَأَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٢٧﴾

منز وَاِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ہم کافر چھہ باوجود دلائل، عذاب موعودہ کس شکس اندر ایم سم  
 تر دس منز تراومت چھہ سمک چھہ عذابک یقینے یوان حالہک فیصلہ چھہ ضرور واقع سپدہ ون۔ تمہ  
 فیصلک حاصل چھہ ای کہ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلِيَهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ  
 ئس شخصہ رث عمل گرہ تمیک فاندہ چھہ ئس پائس یعنی تمیک نفع تہ فاندہ تلہ سہ آخر ئس اندر۔ یہ ئس  
 شخصہ بچھہ عمل کرہ تمیک نقصان تہ ضرر چھہ ئس پائس تہند ہروردگار چھہ بندن پیٹھ ظلم گرہ ون إِلَيْهِ  
 يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ سمہ بروئٹھ سمہ قیامتک ذکر آمت چھہ کرنہ کہ تھہ منزایہ تمن جتلادہ تمہ  
 قیامتہ علمک حوالہ چھہ خدایہ سی دنہ یوان۔ یعنی سمہ سوالک جواب کہ قیامت کریہ۔ چنانچہ کافر آس  
 یہ سوال کران انکارہ خاطرہ۔ امہ سوالک جواب چھہ یوہے کہ امیک علم چھہ خدایہ سی بوت۔ مخلوقن  
 تمیک علم نہ آسنہ موکھ چھہ لازم یوان کہ قیامت کیا آسی نہ۔ قیامتہ کہ وقوع علم کیاہ تھہ چھہ۔ ئس  
 ذات پاک سند علم چھہ محیط پر تھہ چیزس۔ حتی کہہ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ الْأَشْجَارِ وَمَا تُحْمَلُ  
 مِنْ أُثْقَالٍ وَلَا تَصْعَقُ إِلَّا بِعِلْمِهِ کانہ بھل تہ میوہ چھہ پنہ ٹورہ یعنی نچھہ منزہ نبر نیران۔ نہ چھہ کانہ  
 مادہ گوہ گھورہ روزان یعنی باردار سپدان نہ چھہ کانہ مادہ پر بیان مگر یہ سورے ٹھو تہندہ علم واطلاعا  
 موجب سپدان یہ چھہ تہندس توحیدس تہ گن آسئ پیٹھ دلیلِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا  
 اذْكَأَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ سمہ دوہہ اللہ تعالیٰ مثرکن آلود تھہ فرماوہ سمک توہہ میان شریک قرار  
 دیوان آسوہ ازکتہ چھوہ تم شریک۔ تمن دیو آلو۔ تم موکلاوہ نوہ مصیبتہ ئشہ۔ تم دین از چھہ آسی گذارش

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنَ  
 عَيْصٍ ۖ لَئِيسَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ  
 فَيَوَسُّ فُنُوقًا ۖ وَلَئِنْ آذَقْتَهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ  
 مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَىٰ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ  
 رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَاَلَّذِي يُقْتَلُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۖ وَإِذَا

کران کہ اسے منزہتھنہ کانہہ تہ امہ عقیدک مدعی۔ اس چہہ از پتہ غلطی ہند اعتراف کران۔ از نیواسہ  
 سورے و ضلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنَ عَيْصٍ بیہ سپدن غایب تمین نشہہ  
 تم ساری تمین پرستش کران اس دنیاء س اندر تمہ بروٹھہ بیہ زائن تم یقینہ پاٹھ تہندہ خاطرہ چہنہ  
 کانہہ موکلج تہ بیخج صورتھہ۔ امہ پتہ چہہ اللہ تعالیٰ فرماوان لَئِيسَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ کہ  
 شرک و کفرک اثر چہہ انسانی طبیعتس بیٹھ پچوان کہ بس شخص توحید و ایمانہ نشہ بے بہرہ چہہ آسان،  
 تسد اخلاق، اعمال تہ عقاید چہہ تھی خراب آسان کہ آرام و سختی ہندس حالتس منز چہہ تس انسانس  
 ترقی ہنزہ خواہشہ نشہ یڈوان کمال حرصہ موکہ وَاِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَوَسُّ فُنُوقًا یلہ تمس کانہہ تکلیفہ  
 چہہ واتان تنگی و غیرہ ہش آتی چھہ بدل تہ نامید سپدن وَاَلَّذِي يُقْتَلُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ  
 لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَىٰ بیہ یلہ اس تس عنہ سختی پتہ پتہ مہربانی ہندہ مزہ چہہ ہاوان عنہ ساتہ چہہ ونان بیہ اوس  
 میانی خاطرہ کیازہ میون تدبر، لیاقت تہ قابلیت اوس اتھ منگان۔ بیہ گیہ غایت درنج ناشکری تہ بحیر  
 وَاَمَّا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً بیہ چھہ دپان میہ کتہ چہہ گمانہ کہ قیامت کیاہ سپدہ وَاَلَّذِي رُجِعْتُ إِلَىٰ  
 رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ہر گاہ بفرض محال بیہ تہ قیامت توپتہ سمہ بہ پتہ بس خدا بس نش و اتاوانہ  
 تہ بیشک میانہ خاطرہ آسہ تس نش ضرور رتے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَاَلَّذِي يُقْتَلُ مِنْ  
 عَذَابٍ غَلِيظٍ بس خبر گرو اس ضرور کافران پتہ نین کر توتن کائین ہنز۔ بیہ ژہناو کہ اس تم سخت

انْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبِجَانِيهِ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودُوعَاءٍ عَرِيضٍ ۝۵۱ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرَتْكُمْ بِهِ مِنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ۝۵۲ سُرِّيهِمُ الْيَتَنَانِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ

عذابک مزہ وَاِذَا انْعَمْنَا عَلٰی الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاْبِجَانِيهِ بے یلہ اُس تھس انس نعت عطا کران چھہ تمہہ ساتہ چھہ سانیو حکمو نشہ پھر پھر ان دور ژلان تھر پھر تھہ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودُوعَاءٍ عَرِيضٍ تو پتہ یلہ اُس کا نہہ تختیاہ و اتان چھہ تمہہ ساتہ چھہ کران زبٹھہ زبٹھہ دعاء قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرَتْكُمْ بِهِ مِنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ تو بہ فرماو یو کہ یار رسول اللہ کہ اے مکر و قرآن مجیدہ کس حق تہ پوز آسٹس پیٹھہ سمہہ دلیلہ قائم چھہ مثلاً تمیک معجز آسن، تجہ غابہ چہ خبرہ دینہ۔ ہر گاہ تو بہہ تمہہ دلیلہ عدم تدبرہ سبہہ مورث یقین زانان چھہ نہہ تہ کم از کم مورث احتمال تہ چھو کہ ضرور زانان کیا زہہ تمہہ کس نفیس پیٹھہ چھہ تو بہہ نش کہنہ دلیل۔ لہذا تھہ احتمالس پیٹھہ بنا کر تھہ و نتو تو بہہ کہ ہر گاہ یہ قرآن خدایہ سے نشہ اُمت آسہ تو پتہ کرو تو بہہ تھہ انکار، تھس شخصہ سندہ خونہ کبہہ اکھاہ آسہ غلطی منزئیس پزہ نشہ دور دور از مخالفتس منز پیومت آسہ سُرِّيهِمُ الْيَتَنَانِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْاَلْحَقُّ عنقریب ہاؤو اُس تمن پتہ قدرتک نشانہ تم دلالت اُس کران قرآن مجیدہ کس پوز آسٹس پیٹھہ۔ تمن گرد و نواح تہ ہاؤو اُس تم نشانہ کہ اقطار عرب سپدن ساین پشمن گوئین مطابق فتح۔ بیہ ہاؤو خود تھندین پانن اندرتہ نشانہ کہ تم بین مارنہ تہ قتل کرنہ جنگ بدرس منز۔ تھند شتر خود مکہ شریف تہ سپدہ فتح سہہ بیہ مسلمانن ہندس اٹھس اندر۔ تا یجہ تمن ننہ کہ یہ قرآن مجید چھہ بالکل ہز اچہ پشمن گو بیہ چھہ پزہ اَوْلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ کیاہ تھندس پروردگارہ سنز یہ کتھ چھنا کافی تھندس ہزس پیٹھہ آسچہ گواہی خاطرہ بیہ تھندہ تسلی خاطرہ کہ سہ چھہ

اِنَّهُ الْحَقُّ اَوْلَمَ يَكْفِ بِرَبِّكَ اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۵۳﴾ اَلَا  
 اِنَّهُمْ فِيْ مَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿۵۴﴾

پرستہ واقعی چیزس پیٹھ گواہ اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ مَرِيَّةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ وارہ بوزو کہ  
 تم لوکھ چھہ پنہ نس ہر و ردگار سیت ملاقات کرہ نس اندر شمس منز بتلا تمی چھکھنہ دلن منز کانہ  
 خوف یمہ سبہ تم ہز کی طلب گار آسہن بیہ بوزوارہ کہ سہ چھہ پرستہ چیزس پنہر علمہ سیت احاطہ  
 کر تھ۔ سہ چھہ تہندس شک و شبہس نہ زمانان۔ تھ پیٹھ دیہ سہ تہن پورہ نزاہ۔





## سُورَةُ الشُّورَىٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 ۱ عَسَىٰ ۲ كَذَلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ  
 اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۳ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ  
 الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۴ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ  
 يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۵ إِنَّ  
 اللَّهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ۶ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ

حَمَّ \* عَسَىٰ تم چھہ حروفِ مقطعات تم ہند معنی زانیہ پانہ خدا کَذَلِكَ یُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تھہ پانھہ سورہ شریفہ بڈین فاندن تہ اصول دینن ہندہ تھیقہ خاطرہ توبہہ پیٹھ نازل کرنہ آو، تھہ پانھہ کور اللہ تعالیٰ ان ئس سیٹھاہ غالب ہتھہ ، سیٹھاہ جمتہ وول ہتھہ دینی اصولن ہندہ تھیقہ خاطرہ توبہہ پیٹھ بہہ تم پیٹھ برن پیٹھ تم توبہہ بروٹھہ اَس وَحی نازل ئس خدایہ سُد شان ہتھہ کہ لہ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تھہ دوی ہتھہ تہ سورے یہ آسمان تہ زمین اندر ہتھہ ۔ سئ ہتھہ ساروے خوتہ بوڈ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ تم سد س عظمت و شانس اگرچہ بعضے اہل زمین متہ زان تن، متہ مان تن مگر آسمانس اندر ہتھہ سد شان زانن وال۔ یعنی ملائکہ تیت کبشرت کہ کینہہ دور ہتھہ نہ کہ تم آسمان کیاہ پھٹن پنہہ ہیر مہ طرفہ ملائکن ہندہ گو برہ تیت چنانچہ حدیث شریفس منز ہتھہ آمت اطت السماء وحق لها أن تخط ما فيها موضع أربعة أصابع الاو ملك واضع جبهته ساجد الله (رواہ الترمذی وابن ماجہ) فر مونبی کر تمکن صلی اللہ علیہ وسلم آسمانس ہتھہ کر کر گڑھان ،

حَفِیْظٌ عَلَیْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیْلٍ ۝۶ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا  
 إِلَیْكَ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لِّنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ یَوْمَ  
 الْجَمْعِ لَا رَیْبَ فِیْهِ فَرِیقٌ فِی الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ ۝۷ وَلَوْ  
 شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن یُدْخِلُ مَنْ یُشَاءُ

تھ پڑھ کر کرگڑھن کیا زہ تھ منز چھہ آکس چپس برا برتہ جای خالی یتہ نس نہ اکھ اکھ ملک بن ککھ  
 تراو تھ اللہ تعالیٰ اس سجدہ دووان چھہ۔ تم ملائک چھہ تسبیح تہ حمد پنس پروردگارہ سندہ ان ہیہ چھہ زینہ  
 کین لوکن ہندہ خاطرہ مغفرت منگان۔ وارہ بوزوسہ پروردگار چھہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم  
 گرہ ون وَالَّذِیْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءَ اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَیْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیْلٍ بیہ سمولو کو ٹھہر اووی  
 مت چھہ نس وراے دوست تہ مددگار اللہ تعالیٰ چھہ تہنزہ سارے کامہ ژرژان۔ نہ دیہ پائے وفس  
 پیٹھ تم سزاء۔ توہ نہ حض چھوہ نہ یار رسول اللہ تم لوکن پیٹھ کانہ اختیارا کہ سمہ ساتہ خوش کرہ ہا  
 تمہ ساتہ کرہ ناوی ہو تم پیٹھ عذاب نازل۔ امیک اختیار چھہ خدایہ سے تہ توہہ مہ سپد غمگین  
 تہندس ایمان نہ انہ نس پیٹھ، کیا زہ تہنز کام چھہ صرف تبلیغ کرن نہ حکم و اتاوان۔ چنانچہ وَكَذَٰلِكَ  
 أَوْحَيْنَا إِلَیْكَ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لِّنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ یَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَیْبَ فِیْهِ اس سوزیتھ پاٹھ  
 توہہ کن قرآن مجیدیتھ پاٹھ توہہ وچھان چھوہ عربی زیوہ اندر۔ تھ توہہ۔ بیم کرد سارے بروٹھ مکھ  
 کین لوکن بیہ تم لوکن سمیتھ انداندلسان چھہ تہ روزان چھہ بیم تہ کرہ یو کھ سمجھہ ڈک یعنی قیامتہ  
 کہہ ڈک سمہ دوہہ ساری اولین و آخرین جمع کرنہ ینیتھ منز نہ شکھہ چھہ سمہ دوہہ یہ فاصلہ کرنہ بیہ  
 کہہ فَرِیقٌ فِی الْجَنَّةِ وَفَرِیقٌ فِی السَّعِیرِ تمہ دوہہ گڑھن لوکن زہ حصہ اکھ حصہ جنس منز۔ بیا کھ حصہ  
 جہنم منز۔ تہنز کام چھہ محض امہ دوہہ نشہ لو کھ کھوژہ ناوان۔ باقی لوکن ہندہ ایمان انہ نک یانہ انہ  
 نک، اتھ سیت کیاہ چھہ توہہ یہ سوزے چھہ خدایہ سدس یشھن تان وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً  
 وَاحِدَةً وَلَٰكِن یُدْخِلُ مَنْ یُشَاءُ فِی رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ قِیٰی وَلَا نَصِیْرٍ ہر گاہ خدا نس منظور

فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَبِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝۸۱ أَمْ اتَّخَذُوا  
 مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ  
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۸۲ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ  
 إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝۸۳  
 فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
 وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَكُمْ فِيهِ لَبَاسٌ مِمَّا تَحْتَسِبُونَ وَهُوَ

آسمانہ کرہ ہاتھن سارنے لوکن ہندہ خاطرہ آکے و تھاہ یعنی سارنے کرہ ہا ایمان نصیب۔ مگر وارہین  
 حتمن کن نظر کرتھ سپدنہ تس یہ منظور لیکن سہ بس یشھان چھہ تس ہھہ ایمانس کن و تھہ ہاوتھہ واتنا  
 وان پنہ نس رتھس منز تھن یشھان ہھہ تھن ہھہ کفر و سرکش منز مبتلا کر تھہ پنہ رحمتہ نھیہ نیر کڈان تہ  
 دور کران۔ چنانچہ تھن ظالمکن آسہ نہ قیامتگ دوہ نہ کانہہ دوستاہ تہ نہ کانہہ مددگارہ اَم اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ  
 اَوْلِيَاءَ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کیاہ تمہو لو کو چھار و تھمت معبود  
 برتھس ور آے بدل دوست تہ مددگار پس اگر کانہہ کار ساز تہ دوست بناون ہھہ سہ ہھہ اللہ تعالیٰ ای  
 یوت ہیہ نہ کانہہ۔ سہ چھہ مردن زندہ کرہ و ن ہیہ ہھہ سہ پر ہتھہ چیزس پیٹھہ قدر تہ و ول وَمَا اخْتَلَفْتُمْ  
 فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ توہہ فرما و تھن لوکن تھم توہہ سیت توحیدس اندر اختلاف کران ہھہ  
 کہ ہیہ ہتھہ ہتھہ چیزس اندر تہہہ پزیرا بن سیت اختلاف ہچوہہ کران۔ توحیدس وغیرہ چیزن اندر، تمیک  
 فیصلہ چھہ تسی سپر د۔ دنیا س اندر صحیح دلیلو سیت آخرتس اندر فریق فی الجنة و فریق فی السعیر  
 سیت ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ یہ اللہ تعالیٰ سمسہ شان یہ ہھہ، ہھہ میون رب۔  
 تس پیٹھہ ہھس بہ توکل کران تس کن۔ ہھس بہ سارنے دینہ جن تہ دُنیا جن کما بن اندر رجوع کران۔  
 فَاطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا سہ ہھہ آسمان تہ  
 زمین ہند پادہ کرہ و ن تھی کہ تھہہہ خاطرہ توہی منز تھہہہ جورہ ہتھہ پاتھہ کرن چاروا بن اندر تہ پادہ جورہ

السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿۱۱﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ  
الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۲﴾ شَرَعَ لَكُم  
مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا  
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ  
لَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ  
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿۱۳﴾ وَمَا

جورہ یدرؤکم فیہ لیس کثیرا شئیٌ وهو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ سُبْحٰنَہٗ اتھ ز منس منزہ ہر او ان ،  
تہند نسل بڑاوان تہس ہیو بھنہ کانہ۔ سُبْحٰنَہٗ سُوْرَے بُوْرہ ون ، سُوْرَے وچھ ون کہ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ تہس اتھ چھ آسمان تہ زمین ہندین خزان ہنزہ کوزہ۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ  
سُبْحٰنَہٗ رزق زیادہ کران تہس یرشھان چھہ ، بیہ چھہ سُبْحٰنَہٗ رزق کم کران تہس یرشھان چھہ۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ بے شک سُبْحٰنَہٗ چھہ پرستہ چیزہ پوز زانہ ون شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي  
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ اللہ تعالیٰ  
ان کور توبہ لوکن ہندہ خاطرہ سُبْحٰنَہٗ دین مقرر سہمیک حکم فرموون نوح علیہ السلام بیہ تہس اسہ  
توبہ کن وحی مگر بیہ تہج وصیت اسہ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کر بیہ موسیٰ علیہ السلام  
بیہ عیسیٰ علیہ السلام۔ تہنزن امتن تہ فرموا سہ اتھ دینس پیٹھ روز و قائم اتھ منزہہ کرو تفرقہ۔  
مراد چھ امہ اندرہ اصول دین ایم سارنہ اندر مشترک چھہ مثلاً توحید، رسالت تہ معاد۔ پس  
اوس لازم لوکن کہ اتھ کرہ ہن قبول مگر افسوس کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ سیٹھاہ دشوار  
چھہ گزارن مشرکن پیٹھ سوٹھ تھہ کن توبہ تمن ناد چھوہ دو ان یعنی توحید اتھ سیت چھہ تھہ تہ کہ  
اللہ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ اللہ تعالیٰ چھہ درسہ دو ان پانس کن ننہ خاطرہ تمن یمن یرشھان چھہ۔ یعنی  
دین حق قبول کر تہک توفیق چھہ دو ان وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ بیہ چھہ تھہ ہاوان پانس کن تمن  
تہم تہس کن پھیران تہ رجوع کران چھہ۔ وَمَا تَفَرَّقُوا فِيهِ لَمَّا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعَثْنَا إِلَيْهِمْ سُون

تَفَرَّقُوا الْأَمْنَ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بِنَبِيِّنَهُمْ وَلَوْ لَا  
 كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ  
 إِنَّ الَّذِينَ أُوْرثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝۱۴  
 فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ  
 وَقُلْ أَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ  
 بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا

حکم جس بروٹھمن امتن اوس کہ آقینوا الذین ولا تتفرقوا فیہذا واریاہ لو کہ رودنہ اتھ خمس پیٹھ قائم تم  
 سپدے اکھ اگس نغہ جد الیکن امیک سبب اوس نہ نغہ قسمگ اشتباہ تہ شک کیا اوس تمن بلکہ سپد تمن نغہ  
 علم صحیح واتتہ پتہ محض اکھ کہ سندہ ضدہ تہ عداوتہ **وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى**  
**لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ** ہر گاہ نے تھندس پروردگارہ سندہ طرفہ اکھ حکم (یعنی تمن مہلت دن اگس معین  
 وقس تان بروٹھ جاری سپد مت آسہا۔ نتہ بیہ باتمن منزدنیاسی منزا فاصلہ کرنہ۔ یعنی تم یہن تنھس  
 عذابس گرفتار کرنہ سمہ سیت تم ملہ موجبہ گانہ یہن **وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْرثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ**  
**مِنْهُ مُرِيبٍ** بے شک تمہہ لو کہ تمن کتاب آیہ دنہ بروٹھمن امتن پتہ (امہ اندرہ چھہ مشرکین  
 عرب۔ تمن آئے یہ کتاب یعنی قرآن مجید بواسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنہ) تم چھہ  
 ضرور تمہہ کتابہ ہندس تھس اندر بدس شمس اندر تراونہ آمت جس تمن تر دوس منزا تراوان چھہ  
**فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ** لہذا مہ سپد تو بہہ دل شکستہ کانسہ ہندہ انکار  
 کرنہ سیت بلکہ دیو تو بہہ ناد تمن اتھ قرآن مجیدس گن برابر۔ بیہ کرو تو بہہ پانہ تہ استقامت تھہ پیٹھ تھہ  
 پاٹھ تو بہہ حکم آو کرنہ تہنزن خواہش ہنزمہ کرو پیروی۔ تم چھہ یشہان مخالفت کرنہ سیت ایو تو بہہ عاجز  
 تو پتہ تراوو تو بہہ تمن تبلیغ کرنہ۔ مگر بیتھہ ٹو بہہ تہ کرو ہرگز **وَقُلْ أَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ**  
**وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ** اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لكم اعمالکم بیہ فرما یو کہ ٹو بہہ بویتھ تھہ

حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿۱۵﴾  
 وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ  
 دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿۱۶﴾  
 اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْبِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ

اُن توبہ نہاد چھس دووان بو چھس پانہ تھہ عمل کران۔ چنانچہ میہ کر پڑھہ تمن سارنہ کتابن یمہ اللہ تعالیٰ اُن نازل چھہ کرہ مزہ۔ بیہ اومیہ حکم کرنہ کہ توبہ منزگرہ تھمن دین اختلافان عدل وانصافہ موجب فیصلہ یعنی بس چیزہ توبہ پیٹھہ واجب مقرر کرہ سہ چیز زانہ پانس پیٹھہ تہ واجب۔ یہ کتھہ چھنہ کہ توبہ تراوہہ لکھیس اندر تہ پانہ روزہ آزاد۔ سمہ کتھہ آسہ سلیم الطبعن ہندہ خاطرہ رغبت تہ شوق دوہونہ ہر گاہ تمن سمو کتھو سیت تہ کینہہ ہنہ نہ تیلہ ونیو کھ آخری کتھہ کہ معبود برحق چھہ سون مالک تہ تہ تھند مالک تہ سہ چھہ سارنہ ہند حاکم سارہ عملہ چھہ آسہ پانس، ٹہنزہ عملہ چھہ توبہ پانس لاجحہ بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر۔ آسہ منز تہ توبہ منز چھہ کانہہ بخشے۔ اللہ تعالیٰ بس آسہ سارنہ ہند مالک چھہ سہ سومبر اوہ آسہ سارنہ قیامتگ دوہ۔ اتھ منز چھہ کانہہ شکھہ کہ بس اُن چھہ آسہ سارنہ واٹن۔ سہ کرہ سارنہ ہند فاصلہ عملہ موجب۔ ون کئیس توبہ سیت بحث کرن چھہ فضول مگر تبلیغ روز و اس توبہ کران وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بیہ سم لوکھ بحث چھہ لاگان خدایہ سدس دئیس اندر مسلمان سیت سمہ کتھہ پتہ کہ سہ دین او تسلیم کرنہ کیا زہ واریاہ عاقل و داناسدی مسلمان سمو کور اقرار دین اسلامہ حق آسنگ۔ وونی سم امہ پتہ تہ بحث لاگن تھنزہ دلیل چھہ تھندس پروردگار س نشیہ بالکل باطل۔ تمن پیٹھہ چھہ خدایہ سہ غضب واقع سپدہ ون۔ تھندی خاطرہ چھہ قیامتگ دوہ سخت عذاب سپدہ ون۔ تمہ عذابہ نشیہ چٹک ذریعہ چھہ اللہ تعالیٰ اس پڑھہ کرن۔ تھند دین پوز زان گو و قرآن مجید تھہ منز حقوق اللہ تہ حقوق العباد و یرشہ ناوتھہ بیان کرنہ آمت چھہ واجب العمل زان کیا زہ اللہ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْبِيزَانَ معبود برحق گووسی یم پز پانھی کتاب نازل کر۔ خصوصاً

لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿۱۷﴾ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ  
 الْآيَاتِ الَّذِينَ يُبَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿۱۸﴾  
 اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿۱۹﴾

نہیں حکم تھے منز انصافگ چھہ بیہ تر کر سیمہ سبت عدل و انصاف کرنہ یوان چھہ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ  
 السَّاعَةَ قَرِيبٌ سیم لو کہ سیم قیامتک واقعات بوز تھ توہمہ نشہ تمکھ وقتک تعین یشھان چھہ توہمہ کیاہ  
 چھہ تج خیر مگر خیر نہ آسنہ سبت یا خبر نہ کرنہ سبت چھہ لازم یوان سو کیاہ آسی نہ بلکہ چھہ تمیک وقوع  
 دلہلو سبت ثابت تعین و قس متعلق چھہ ایڑن کافی کہ عجب چھہ سو قیامت ماسہ نزدیکہ یَسْتَعْجِلُ  
 بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا سمن لو کن نہ چھہ پڑھ چھہ تم چھہ باوجود تمکھ یقینی نہ نزدیکہ آسنہ کھوڑانی  
 بلکہ چھہ بطور استہزاء و انکار تمکھ وقوع تقاضا کران وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ  
 سمولو گو ایمان اون تم چھہ کھوڑان تمکھ بیہ چھہ اعتقاد تھاوان کہ قیامتک دوہ چھہ حق نہ پوز الْآيَاتِ الَّذِينَ  
 يُبَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وارہ بوزو کہ بے شک یم لو کہ قیامتس مکر آتھ ہر تہ قضیہ  
 چھہ لاگان تمہ کس یس منز یقینا چھہ تم زبچھہ نہ دور و دراز گراہی اندر بتلا اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ  
 مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ سیم مکر سیم دنیا چن نازو نعمن پیٹھ ویشھان چھہ تمنے منز بوڈ تھ چھہ آخر تہ  
 نشہ غافل تہ بے خبر سپدے مت۔ امہ پنہ نازو نعمن اندر آسنہ سبت چھہ تم استدلال کران کہ سون  
 مسلک چھہ پسندیدہ اگر تہ آسانہ تھ سانس مسلکس پیٹھ آسہ ہا خدا میزار۔ تیلہ کیا زہ تھاوہ ہا سہ عیش و  
 آراس اندر۔ یہ چھہ تہمز حماقت کیا زہ یہ چھہ رضا مندی ہنزہ دلیل بلکہ چھہ امیک وجہ ای زہ اللَّهُ  
 لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ اللہ تعالیٰ چھہ دنیا س منز سینٹھاہ مہربان پنہ نین بدن پیٹھ۔ عام طور ای رحمت عامہ  
 سبت چھہ سہ سارنے روزی عطا کران۔ اگرچہ مصلحتہ موجب چھہ تھ منز کی زیادتی تہ سپدان یَرْزُقُ  
 مَنْ يَشَاءُ نیس یوت یشھان چھہ تس چھہ تیوت دوان۔ مگر نفس رزق چھہ سارنے منز مشترک۔ امہ  
 لطف فی الدنیا اندرہ چھہ لازم یوان کہ جہنم مسلک کیاہ چھہ خدا نیس پسند۔ تمن کیا بیہ آخر تس اندرہ تہ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ  
 كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ  
 مِنْ تَصِيبٍ ۲۰ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ  
 مَآلَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ  
 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۲۱ تَرَى الظَّالِمِينَ

لطف و مہربانی عطا کرنے بلکہ آسن تم آخرتس اندر بوجہ ایسکے تم آس باطلس پیٹھ کڈرس عذابس گرفتار  
 دنیاس اندر۔ تم عذابس گرفتار کرن چھنہ کینہہ مشکل کتھاہ کیاہزہ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ سہ چھہ سیٹھاہ  
 قوت و ول، سیٹھاہ زبردست تمکن سارنہ خرابین ہندوجہ چھہ دنیاء سیت گدھن۔ لوکن پزہ نہ  
 دنیاء سیت مغرور گدھن بلجہ پزہ ہاتمن آخرت ژھانڈن تمن پزہ وارہ بوزن کہ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ  
 الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ تَصِيبٍ  
 ئس شخصہاہ یٹھان آسہ آخرتک زراعت گرن یعنی آخرتکہ تو ابک طالب آسہ آخرتہ خاطرہ کرہ رتہ عملہ  
 بامید ثواب آس دموترقی ئس جہدس تھہ زراعتس اندر یعنی رٹن عملن پیٹھ دموا آس ئس رت ثواب۔

بلکہ گرو آس تھہ ثوابس اندر تس زیادتی۔ آس عملہ کروس ادنی درجہ ذہہ گنہ ثواب عطا۔ بہ ئس اکھاہ  
 یٹھان آسہ دنیاءک زراعت ئس دموا آسہ اگر آس یٹھو کینہہ تمہہ دنیاء، آندرہ مگر آخرتس اندر آسہ نہ  
 تس کیت کانہہ حصہ۔ کیاہزہ سہ چھہ مشروط ایمانس سیت حاصل چھہ ئس اکھاہ عمل کرہ دنیائی مطلب  
 حاصل کرنے خاطرہ تس یہہ دنیاء عطا کرنے مگر تتوی یوت آس یٹھو تو پتہ چھہ سہ آخرتکہ ثوابہ نشہ محروم۔  
 دین حق کور اللہ تعالیٰ ان مشروع و مقرر مگر تم لوکھ اگر سہ دین چھنہ مانان اَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوا  
 لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَآلَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ  
 أَلِيمٌ کیاہ تمو چھاخذ ئس شریک ٹھراوی مت سمو شریکو تھہہ خاطرہ کانہہ دیناہ مقررہ کورمت  
 چھہ۔ تمیک اجازت اللہ تعالیٰ ان تمن دیتمت چھہ۔ ہر گاہ خدایہ سندہ طر نہ اکھ قول فیصل مقرر



مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقَعُ بِهِمْ وَالَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا  
 يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿۲۲﴾  
 ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ

آسمانہ کرنے آمنت نہ گواہی نہ اصل عذاب سپدہ تمن پیٹھ مر نہ پتہ نہ بیہ ہا دنیا سے اندر تہند عملی  
 فیصلہ کرنے۔ بیشک یمن ظالمین ہندہ خاطرہ ہجہ آخرتس اندر دودتہ دن عذاب تَرَى الظَّالِمِينَ  
 مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقَعُ بِهِمْ تمہ دہندہ وچھو کہ توہ تم تا فرمان تہ ظالم سیٹھاہ کھو ژان  
 تمو کا میو سببہ یمہ تمو کرہ مرہ آسن یمہ تم تمن کا یمین ہند عذاب وچھن ٹس عذاب تمن پیٹھ یقینا سپدہ دن  
 ہجہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ یمہ  
 سمو لو کو ایمان اون تہ رزہ عملہ کر یکھ تم آسن جنتہ کین باغن اندر داخل تہندہ خاطرہ ہجہ تہندس  
 ہروردگار س نشہ تہ سورے یمہ تم یڑھن ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یوہے گوو خدلیہ سند بوڈ فضل، بوڈ  
 انعام۔ اتھ مقابلہ ہجھنہ دنیا ک عیش و عشرت کہی ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ یمہ گیمہ خوشخبری یوسہ فرماوان ہجھ اللہ تعالیٰ پنہ نین بدن سمو ایمان اون تہ رزہ عملہ کر یکھ  
 چوہمہ کافر آس مضمون پور بیان کرنے بروٹھے زیوہ پیٹھ ژان تر آو تھ، چون کجرتھ تکذیبہ چہ کتھ کران تمی  
 او تینس بشارتک مضمون پور بیان کرنے بروٹھے جملہ معترضس منز تکذیب کرن۔ وکنہ خاطرہ سہ  
 مضمون بیان کرنے سمہ سیت تہندی دل ویلگہ ہن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمس آو حکم کرنے قُلْ لَا  
 أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ توہہ فرماو تمن اے لو کو بوچھنہ توہہ نغیرہ کانہہ مطلبہا ژھانڈان  
 توہہ سیت بہ کتھ بات کرنس اندر رشتہ داری ہندہ محبتہ ور اے یعنی سیتہ تھس بہ توہہ نغیرہ ژھانڈھان کہ  
 میان تہ تہندہ تعلقات رشتہ داری سمہ ہجھہ سم ساری قریشین سیت وابتستہ ہجھہ بلکہ تمام عربہ کین لوکن

حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۱﴾ أَمْ يَقُولُونَ  
 افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ  
 اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۲﴾  
 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

سیت پیوستہ چھہ تم دور چھہ یا نزدیک تم تعلقان ہندین حقوقن ہند تھاوی تو تھی خیال۔ تم تعلقات چھہ متفقہ پیچھہ کہ تمہ ہو میانس مخالفتس اندر جلدی کران۔ بوزنہ بروٹھے شور لانگن بلجھہ چھہ تم تعلقات مکان کہ نہایت اطمینانہ سان، سودلہ بوزو توہہ گوڈہ بہ کیاہ چھس توہہ ونان توپتہ تولیون سومیان کتھ عقلہ ہنزہ ٹکرہ اندر توپتہ پرکھا دیون وارہ سوکتھ غور و تاملہ سیت ہر گاہ کتھ اندر کانہ شہماہ نہ اشکالاہ گزہ ہوسہ نہ کرد صاف۔ ہر گاہ سومیان کتھ غلط آسہ تہہ تارومیہ وارہ فکرہ بوہر گاہ ڈلتھ آسہ توہہ آئیومیہ سیزہ ڈتہ پیچھہ غرض یوسہ کتھ آسہ سو آئن خیر خوانی پیچھہ، یہ چھہ دستور کہ میہ دیونہ توہہ ونہ نے نہ فوراً ہیو توہہ شور و غل لانگن۔ آشنائی ہندین تعلقات ہر گاہ توہہ نشہ کانہ احترام چھہ تیلہ بوز تو میان کتھ پیچھہ منز تہند خاطرہ سیٹھاہ فائدہ چھہ

وَمَنْ يَعْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۱﴾ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ فرماں بردار ہندین گونہن سیٹھاہ بخشہ نار۔ تہزن نیکن سیٹھاہ قدر دان نہ رت ثواب عطا کرہ ون

وَمَنْ يَعْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۲﴾ کیہاہ سہہ لکھ چھا توہہ نسبت ونان زہ تمو چھہ یہ قرآن مجید خدا بس پیچھہ اُپڑ ٹھہر وومت نعوذ باللہ یعنی نبوتک نہ وحیک خلاف واقعہ دعو کو کرمت۔ اتھ صورتس اندر چھہ خدا بس قدرت کہ ہر گاہ سہ یڑھ تہندس دس پیچھہ کرہ سہ مہر۔ یہ چھہ اللہ تعالیٰ سند یہ طریقہ / فطرت کہ سہ چھہ نہاوان اپز نہ پوز چھہ پز اوان غالب نہ ثابت پنہ نیوا حکامو سیت پزی پاٹھ سہ چھہ دلہ چن کھن ہنزتان پور خبر تھاوان

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۳۱﴾ بے چھہ سہ تیجھہ رحیم کہ پنہ نین ہند ہند توہہ چھہ تمہہ کیوشر طوسان قبول کران

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۲۵﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿۲۶﴾ وَلَوْ  
 بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ  
 مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿۲۷﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ  
 مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۗ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۲۸﴾

ہاں اگر کانہہ کافر توبہ کرتے مسلمان سپدہ سہ چھ تہند ایمان اُن قبول کران بیہ چھ سئی توجہ برکتہ پنہ  
 نین بدن ہندین گو من غفو کران۔ بیہ چھ سئی تہ سورے زنان یہ توبہ کران چھوہ نس چھ معلوم کہ  
 کم کور توبہ مخلص دل تہ کم کور توبہ خلوصہ ورآے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ  
 مِنْ فَضْلِهِ بیہ چھ سئی تمن لوکن ہندس دعاء س اجابت کران سمو ایمان اون تہ رثہ عملہ کر کیہ۔ بیہ  
 چھ تمن زیادہ عطا کران ہن فضل وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ہم کافر نفس پیٹہ اصرار کرن اسلام  
 ان نہ تمن ہندہ خاطرہ چھ مقرر سخت عذاب۔ اللہ تعالیٰ سدہ صفت رحمتک اثر چھ کہ سہ چھند  
 سارنے لوکن زیادہ مال عطا کران کیاہہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ہر گاہ اللہ تعالیٰ  
 پنہ نین بدن روزئس اندر وسعت گرہ ہاتیلہ کرہ ہن تم زمینس اندر سرکشی تہ شرارت۔ عام طبیعتن  
 ہندہ اعتبارہ چھ لوکن ہنزہ پستی ہند سبب اکھ آگس کن محتاج آسن۔ مال دارن چھ کامہ منزد حاصل  
 کرنے خاطرہ مزورن تہ کاری گرن کن حاجتہ۔ فقیرن چھ پونسہ حاصل کرنے خاطرہ مالدارن کن  
 حاجت۔ پیٹھ پاٹھ چھ دنیاک کارخانہ پکان وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ لیکن سہ چھ روزی نازل کران  
 تمہ اندازہ موجب ئس سہ یثہان چھ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بے شک سہ چھ پنہ نین بدن ہند  
 سورے زنان، سورے وچہان وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ  
 الْحَمِيدُ سہ پروردگار چھ ٹیٹھ حکیم کہ سہ چھ رود تراوان لوکن ہندہ نامید گروہنہ پنہ۔ بیہ چھ سئی پنہ  
 رحمتک آثار عالمس منزواتاوان یعنی رود پر پیٹھ جایہ واتاوان۔ پر پیٹھ جایہ چھ زمینس سر سبز کران بیہ

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ  
 وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذْ يَأْمُرُ بِالْقَاتِلِينَ ﴿۲۹﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا  
 كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿۳۰﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ  
 فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۳۱﴾  
 وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿۳۲﴾ إِنَّ يَتَّسِبَكُنَّ الرِّيحُ  
 فَيُظَلَّنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ

چھ ساری سارے ہند کارسازتھ کار سازی پیٹھ چھ سے قابل حمد و ثنا و مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذْ يَأْمُرُ بِالْقَاتِلِينَ یہ چھ تہمدہ قدرت کیونشانواندرہ آسمان سے زمین  
 ہند پادہ کرن یہ تمن جاندارن ہند پیدہ کرن سم آسمان سے زمینس منز چھکر آوی مت چھن۔ سنی چھ  
 تمن سارے مخلوقا تن دوبارہ زندہ کر تھ قیامتگ دوہ سومبرس سے جمع کرنس پیٹھ یلہ سہ تمن جمع کرن  
 یڑھ۔ پور قدرتہ دول۔ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ یہ چھ سہ منتقم  
 آسکھ باوجود عفو تہ درگذر کر ہون۔ چنانچہ کس مصیبتاہ توبہ واتان چھ اے گنہ گاروسہ چھ حقیقتا واتان  
 توبہ تمو چھ عملو سببہ توبہ یم پنہ نیو آتھو کران چھوہ۔ توتہ چھوہ سہ وار تمن گونن عفوے کران  
 وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ یہ بھیکیون نہ توبہ زمینہ کس  
 تمہ چھس منز پناہ حاصل کر تھ تہ روز تھ۔ اللہ تعالیٰ عاجز کر تھ۔ نہ چھ تھ حاس اندر تہمدہ خاطرہ  
 کانہہ مددگارہ تیاری کر ہوناہ خداکس ور اے وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ یہ چھ تہمدہ  
 قدرتہ کیونشانواندرہ ناوہ تہ جہاز یہ دریادون تہ سمندر ن منز پکان چھ۔ یہ تہمدین کوکون سببہ چھ۔  
 تمن بڈین جہازن ہند سمندر س منز پکن چھ تہمدی قدرتہ سیت إِنَّ يَتَّسِبَكُنَّ الرِّيحُ فَيُظَلَّنَ  
 رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ہر گاہ سہ یڑھ واوس ٹھراوہ تمہ ناوہ تہ جہاز یہ واوہ سیت پکان چھ۔ تمہ گردھن  
 روز تھ اچہ تھر پیٹھ یعنی سمندرہ کس سطحس پیٹھ۔ یہ چھ تہمزے کام واوس چھ پچہ ناوان۔ تمہ سیت

شُكُورٍ ۳۳) أَوْ يُوقِفُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ۳۴) وَيَعْلَمَ  
الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّخِيبٍ ۳۵) فَمَا أَوْتَيْنَاهُمْ  
مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى  
لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۳۶) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ  
كِبْرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۳۷)

جہہ جہازتہ پکان اِن فی ذلک لآیت لکل صبار شکور بے شک اتھ منز جہہ واریاہ قدرتک نشانہ۔ پرستھ  
سیٹھاہ صبر کرہ ونہ سہہ تہ شکر دیہ ونہ سہہ خاطرہ۔ یعنی باایمان ہندہ خاطرہ اَوْ يُوقِفُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا  
وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ یاہر گاہ سہ یژھ سخت تیز واور ترواہ تمن جہازن اندر سارنہ سوارن گالہ تہزہہ پیچھ  
عملو سببہ۔ یعنی پھاٹہ وکپھ وریاوس اندر۔ واریمن لوکن گرہ در گزریعنی تمن پھاٹوہ نہ تمہ ساتہ مگر آخرتس  
اندر بیہ تمن عذاب کرنہ۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّخِيبٍ اُمہ تباہی ہندہ وقتہ سچھ  
زائن تمن لوکن سم کج حشی چھہ کران سانین آیاتن اندر کہہ تہندہ خاطرہ چھنہ کانہہ ژکن جلیاہ ساتہ عذابہ  
نشہ چنہ خاطرہ فَمَا أَوْتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى اُمہ اندرہ سپد  
معلوم کہ مطلوب بناوس قابل چھنہ دُنیا بلکہ جھہ آخرت مطلوب مقدر بناوس قابل۔ وون یہ  
کیہہ ہاہ دنیاء کیو چیز و اندرہ توہہ عطا کرنہ آوتہ چھہ محض چند روزہ دنیاء کہ زندگی ہندہ اکھ متع تلنک  
چیز اہ بس عمر خم گڑھن ہنس پیٹھ خم گڑھہ۔ بیا کہ گوویہ کیہہ ہا اللہ تعالیٰ اس نشہ تہندہ خاطرہ چھہ تہ چھہ  
رُت تہ پوشہ ون۔ لہذا گڑھہ دنیا طلبی تراوتھ آخر تک طالب سپدن۔ مگر سہ سپدہ حاصل ایمان و اعمال  
صالحو سیت بیہ شرک و کفرہ نشہ پتھ روزنہ سیت چنانچہ سہ ثواب مذکور چھہ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ  
يَتَوَكَّلُونَ تہندہ خاطرہ سمو ایمان اولن۔ بیہ کوز کہ پنہ نس پروردگار س پیٹھ اعتماد تہ بھروسہ وَالَّذِينَ  
يَجْتَنِبُونَ كِبْرَ الْأَثَمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ بیہ یم لو کہ بڑو گناہو نشہ چھہ چھہ  
روزان بیہ پیچھہ کامو نشہ بیہ سم ژک کھستھ ژک کھارہ ونین معانی ووان چھہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ  
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ  
الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۳۹﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ۗ  
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾  
وَلَمَنْ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ  
سَبِيلٍ ﴿۴۱﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ  
يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ یہہ سمو حکم مون پنہ نس پروردگارہ سُنَدِیہ تھاو کہ نماز قائم پابندی سان .....  
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہہ آسہ تہنزہہ پریتھہ کاماہہ تھہ منزہہ شرعی حکماہہ بیان آسہہ  
کرنہہ آمت پانہ والی مشورہہ کر تھہ پورہ سپدانہ۔ یہہ آسن تم تمہہ مالہ منزہہ نیس آسی عطا کوز کہ خرچ کران  
وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ یہہ تم لو کہ تمہہ پیٹھہ سمہہ ساتہ کانسہ ہندہ طرفہ ظلم  
کرنہہ آسہہ یوان، تم اگر بدلہ آسن ہیان سہہ آسن برابر برابر ہیان۔ زیادتی آسن نہ کران۔ بدلہ ہینک  
اجازت ہجھہ آسی تمہہ دہشتت کہہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا بدی ہند سزا ہجھہ بدی تھہ ہش فَمَنْ  
عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ تمہہ پتہ یعنی انتقامک اجازت دینہ پتہ نیس اکھاہہ معاف  
کرہہ ظالمس یہہ کرہہ معاملس منزہہ اصلاح۔ سمہہ سیت دہشتنی دور سپدہہ دوستی پادہ سپدہہ تمیک ثواب ہجھہ حسب  
وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَىٰ اس مینہ۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہجھہہ پسند کران ظالمس۔ وَلَمَنْ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ  
مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ وون تم لو کہ بدلہ نہ انتقام ہین ظالمن نشہہ تہندہہ ظلم کرنہہ پتہ نیس ہجھہہ تمہہ  
لوکن پیٹھہ کانسہہ الزامہہ نہ باز خواستہہ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ  
بِغَيْرِ الْحَقِّ بلکہ ہجھہہ باز خواستہہ نہ الزام تمہہ لوکن پیٹھہہ ہم ناحق لوکن ظلم کران آسن۔ یہہہ آسن

اَلَيْمٌ ﴿۳۳﴾ وَلَكِنْ صَبْرٌ وَغَفْرَانِ ذَلِكَ لِمَنْ عَزَمِ الْأُمُورَ ﴿۳۴﴾  
 وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِهَا وَتَرَى الظَّالِمِينَ  
 لَمَّارًا وَالْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴿۳۵﴾ وَتَرَاهُمْ  
 يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الدَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ  
 وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَبِيرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَّا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴿۳۶﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ

سرکشی سے بغاوت کران زمینس منز ناحق اولئک لہم عذاب اَلَيْمٌ تھین لوکن ہندہ خاطرہ چھہ  
 مقرر عذاباہ دگ سے دودتکہ ون وَلَكِنْ صَبْرٌ وَغَفْرَانِ ذَلِكَ لِمَنْ عَزَمِ الْأُمُورَ بے شک کس شخص  
 کانہہ ہندس ظلمس پیٹھ صبر کرہ، انقاس ڈر پے روزہ نہ عفو نہ در گذر کرہ بے شک صبر سے در گذر کرن  
 چھہ بڈہ ہمتہ چو کامیواندرہ یعنی عفو سے در گذر کرن چھہ سیٹھاہ بہتر۔ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ قُرْبَىٰ مِنْ  
 بَعْدِهَا یہ اوس اوت تان حال متمدین ہندون چھہ امہ پتہ ضالینن ہند حال بیان کرنہ یوان کس اللہ  
 تعالیٰ وتھ راوہ راوہ تس چھہ نہ دنیا س منز تس پتہ کانہہ چارہ سازاہ نہ مددگارہ کس تس وت پیٹھ انہ ہا۔  
 قیاس اندر سے آسہ کس سیٹھاہ چھہ حال وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّارًا وَالْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ  
 وجھو کہ تہہ تم ظالم سے کافر یلہ تم عذاب و چھن قیامتگ دوہ۔ دہنہ لکن نہایت حسرتہ سان کیاہ ساد دنیا  
 س کن و اہس گڑھہ نچ چھنا کانہہ صورتھاہ سے کرہ ہو اس تعمیل احکام سے نیک بنہ ہو وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ  
 عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الدَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ بیہ چھو کہ تہہ تم تمہہ ساتہ یلہ تم نار چھنمس  
 بروٹھ کن انہ یں کلہ بون کن تراوتھ آس خجالت و رسوائی ہندہ سببہ و چھان آس نار چھنمس کن اچھہ  
 بون کن تراوتھ تلی نارہ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَبِيرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تمہہ  
 ساتہ دین بایمان پنہ نس چھہ نس پیٹھ شکر دپنہ خاطرہ کہ بیشک تاوان زد گئے تھے سمونا فرمایو سیت  
 تاوان پیو پنہ نین پان پنہ نین شرین باژن از قیامتگ دوہ أَلَّا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وارہ بوزو

مِّنْ أَوْلِيَاءٍ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ  
 مِنْ سَبِيلٍ ﴿۴۷﴾ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ  
 مِنَ اللَّهِ ط مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ مُنْجِيٍّ ﴿۴۸﴾ وَإِنْ أَعْرَضُوا  
 فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا  
 الْإِنْسَانَ مِتْرَاحَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ  
 أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿۴۹﴾ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط

یاد تھا و کہ ظالم یعنی کافر نے تا فرمان لو کہ آسن دانمی عذابس اندر گرفتار و ما کان لهم من اولیاء  
 یَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ بے آسہ نہ تمن متہ کا نہ مدد گارہ نِس تمن مدد تہ یاری کر تھ میجہ با خدا نِس  
 و رَأَى وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ بے نِس خداؤ تھ را ورہ تس ہجھنہ نجاتج کا نہ و تھاہ اسْتَجِيبُوا  
 لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ای لو کو حکم ملاو پنہ نِس پروردگار سُنہ - ایمان اَنو  
 فرمانبرداری کرو سہ دوہینہ برو تھ دوس ہتھ نیرہ نچ صورتھ ہجھنہ خدا یہ سہہ طرفہ مَا لَكُمْ مِنْ  
 مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ مُنْجِيٍّ آسہ نہ تمہہ دوہہ کا نہ ہجھنہ جلیاہ نہ آسہ تمہہ دوہہ ہجھنہہ خاطرہ خدا نِس  
 کا نہ باز خواست کر ہوناہ نہ آسہہ توہہ سب تہ انکار کر ہ نچ صورتھ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا  
 إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ اے پیغمبر برحق تہہ بوزہ ناویو کہ تم پس ہر گاہ تم لو کہ یہ بوز تھ تہ ہجھنہ پھر ان تہ  
 ایمان اَن نہ اوہ ٹہی مہ روزو غم تہ فکرہ اندرہ آسہ چھوہ نہ سوز مت تہہ ہجھنہ شجھد ر تہ ر اچھہ پیچھ کامیو  
 نشہہ کیار ٹیو کہ تہہ زورہ ہجھنہ - توہہ ہجھنہ مہ مگر سون حکم و اتناون نِس تہہ با حسن وجہ انجام دوان چھوہ -  
 یہہدہ خدا نِس نشہہ اعراض کر ہ نلک وجہ ہجھنہ کہ تمن ہجھنہ خدا نِس سیت کمل تعلق تہ ہجھنہ ہجھنہ پاٹھ  
 ننان کہ وَاِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِتْرَاحَةً فَرِحَ بِهَا آس یلہ ہجھنہ انسان ہجھنہ پنہہ رحمتک مزہ ژھناوان  
 تمہہ ساتہ ہجھنہ سہ ژینگان تمہہ نعمتہ سیت - ویرٹان چھنہ سُنہہ مگر غم س پیٹھ نظر کر تھ ہجھنہ نِس شکر و ثنا  
 دپان وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ تو پتہ یلہ تمن انسان کا نہ سخنیانہ تہ



يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يُهَبُّ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ شَاءَ إِنْ شَاءَ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ  
 أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا نَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ  
 قَدِيرٌ ۝ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِ  
 حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذُنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ  
 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِمَّنْ آمَرْنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ

تکلیفہا و اتقان بہتہ تمویجہ کا میوسبہ ستمہ تمویجہ پنہ نیو آشوکرہ مرہ آسان ہتھہ تمہہ ساتہ ہتھہ خدایہ سنزہ  
 شکایت تہ گراو کران بے شک انسان ہتھہ سیٹھاہ احسان فراموش تہ ناشکر گزار اللہ ملک السموات  
 و الارض خدایہ سنزہ ہتھہ پادشہتہ آسان تہ زمین ہنزہ یخلق ما یشاء پادہ ہتھہ کران یہ یڑھان ہتھہ  
 یہب لِمَنْ یشاء اِنَّا نَجْعَلُ لِمَنْ یشاء الذکور دوان ہتھہ تمن یڑھان ہتھہ کورہ بیہ چھہ دوان تمن  
 یڑھان ہتھہ گہر اویز و جہم ذکر انا و انا یا ہتھہ تمن عطا کران پنچوتہ کورہ تہ۔ و نجعل من یشاء عقیما بیہ  
 ہتھہ کران تمن یڑھان ہتھہ ہانٹھہ یعنی بے اولاد، اولاد نثیہ محروم اِنَّہ علیہ قدیر بے شک سہ ہتھہ  
 سورے زان ون۔ پور قدر تہ وول و ما کان لبشر ان ۱۱ کلمہ اللہ الا و حیاً او من و رآی حجاب بیہ چھہ  
 کانہہ انسان یہ جسم عنصری تھاوتھ موجودہ توئن ہندہ اعتبارہ یہ طاقتھ تھاوان کہ دنیا عس منز کیاہ کرہ  
 تس بروٹھ ستمہ اللہ تعالیٰ تس سیت کلام۔ مگر ہتھہ یہ ممکن تمویجہ صورتو اندرہ لمحہ صورتہ یا بلا واسطہ بلا  
 حجاب بطریق الہام کانہہ ہندس و کس منزواتہ تاوان کانہہ رتھ کتھاہ بیداری منزیا خواہس منز۔ یا بلا واسطہ  
 مگر پردہ تل اویز و جہم رسولاً فیوحی بآذنیہ ما یشاء یا چھہ سوزان کانہہ پیغام و اتاوتہ نس سنی ہتھہ و اتاوان  
 خدایہ سدہ حمہ تمہ کتھہ بیہ سہ یڑھان ہتھہ کانہہ بندہ خاص نثیہ اِنَّہ علیٰ حکیم بے شک سہ ہتھہ  
 سیٹھاہ عالیشان تہ سیٹھاہ تھود، سیٹھاہ حمہ وول و کذالک اوحینا الیک روحاً مِمَّنْ آمَرْنَا یٹھہ پاٹھ سوزا سہ  
 توہم کن یارسول اللہ کلاماہ یعنی قرآن مجید پنہ طرفہ۔ بیہ ہتاوی وہ آسہ تہہ پیغمبر خاص لوکن بلکہ خاص  
 الخاص لوکن سیت۔ سانہ کلام کرچہ صورتہ چھہ تہ صورتہ۔ بلکہ توہم سیت باوجود صلاحیت یوہے

وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا  
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۶۷ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا  
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ الْآلَاءُ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۝۶۸

سلسلہ جاری چھہ باقی عام لوکن سیت کھہ پانھ گرواَس نہ وانہ بطریق مشافہہ و معاینہ کلام۔ پتھہ پانھ وحی  
سوزنہ سیت سپدے توہمہ بے مثل علوم حاصل ورنہ مائتت تدری نا الکتب و لا الیمان و لکن جعلنہ  
نوراً تھدی بہ من نشاء من عبادنا لیکن اسہ کور توہمہ عطا نبوت و قرآن۔ یہ قرآن مجید کور اسہ اول  
تہندہ خاطرہ دوم توہمہ وراکی بین لوکن ہندہ خاطرہ اکھ نورہ اسمہ سیت اس و تھہ چھہ ہاوان تمن تمن  
ہند اس یڑھان چھہ پنہ نیوبند و اندرہ علوم و اعمال کن و اناک تھدی ایل صراط مستقیم تہہ تہ چھوہ  
بیشک امہ قرآن مجیدہ سیت و تھہ ہاوان عام لوکن راہ راستس کن صراط اللہ الذی لہ ما فی السموات و ما  
فی الارض اس خدایہ سنزہ و تہ کن کیند تہ سورے چھہ یہ آسمان تہ زمین منز چھہ الال الی اللہ تصیر  
الامور اے لو کو و ارہ بوزوہ سارنے کائین ہند انجام تہ مرجع چھہ اللہ تعالیٰ سہ دیہ سارنے  
عملن، پتھہ یہ شوبہ، موزور۔



## سُورَةُ الزُّحُرُفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 حَمْدٌ ① وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ② إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ  
 تَعْقِلُونَ ③ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ④ أَفَنْصَرِبُ  
 عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ⑤ وَكَمْ أَرْسَلْنَا  
 مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ⑥ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ

حکم سے ہم چھ حروف مقطعات سے منہ ہند معنی زانہ پانہ اللہ تعالیٰ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ قسم چھہ سمہ  
 قرآن مجید ک سمک معنی بالکل واضح چھہ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اسہ کر یہ کتاب  
 عربی پاتھ قرآن۔ تھہ توبہ اے عربہ کیولو کو باسانی فجرہ ہرہ۔ تہندہ واسطہ پچھن ساری دنیا کی اقوام  
 یہ مقدس کتاب وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ بیشک یہ قرآن مجید چھہ لوح محفوظ اندر اسہ  
 نشہ وجوہ اعجاز اسرار عظیم من مشتمل آسنہ موکہ سینہا تھدس مرتس اندر تبدیل و تحریفہ نشہ محفوظ  
 آسنہ موکہ سینہا محکم تہ مضبوط۔ امیک احکام چھہ ساری نبی برحمت۔ امیک مضامین چھہ اصلاح  
 معاش و معادہ خاطرہ اعلیٰ ترین ہدایاتن پیٹھ مشتمل لوح محفوظ اندر چھہ یہ قرآن مجید سارنئے  
 آسانی کتابن پیٹھ کہہ لیکھنہ آمت۔ یشہ جلیل القدر کتاب گدھ ضرور مان۔ لیکن اگر تہہ ماؤنہ توتہ چھہ  
 آس یہ کتاب توبہ بوز ناندہ خاطرہ ضرور نازل کرن۔ تہہ ماؤن تویامتہ ماؤن تُو أَفَنْصَرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ  
 صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ اے مکر و کیاہ توبہ چھا خیال کہہ اُس رٹون یہ نصیحت نامہ قرآن مجید  
 توبہ نشہ پتھہ سمہ کتھہ موکہ کہہ تہہ کیاہ چھوہ حدہ روئے نافرمانی گرہ وکن امہ خیالہ نشہ نیر و وَكَمْ أَرْسَلْنَا  
 مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ اسہ سوز کا تیاہ پیغمبر بروٹھن لوکن منز۔ تہندہ انکار تکذیبہ کہ باوجود یہ کورنہ  
 اسہ کہہ تہندہ تکذیبہ موکہ گرہ ہو اُس پیغمبر سوزنگ سلسلہ ہند۔ تھہ پاتھ اسہ تہندہ تکذیب کرہ نگ

يَسْتَهْزِءُونَ ۝ فَاَهْلِكُنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَّمَضَىٰ مِثْلُ  
 الْاَوَّلِينَ ۝ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَّالْاَرْضِ لَيَقُوْلُنَّ  
 خَلَقْنَهَا الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ  
 جَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ  
 السَّمٰوٰتِ مَاءً يُقَدِّرُ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَدَاةَ مِيْتًا كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝  
 وَالَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَّالْاَنْعَامِ

کانہ ہر واکور نہ تھے پاٹھ مہ کرو تہہ تہہ کانہ ہر واتہ غم کیا زہ سمن برو تھہ سم لو کہ اس تہند حال تہ اوس  
 تھے و ما یا تہہم من تہی الا کا توابہ یستہزؤون تم لو کن نثر اوس نہ واتان کانہ پیغمبر اہ نس نہ  
 تم ٹھہ اس کران ف اهلکنا اشد منہم بطشا و مضی مثل الاولین پس گال اسہ تم لو کہ سم از  
 کین کا فرن ہندہ خوتہ زیادہ طاقتور آس۔ چنانچہ تم برو تھہن لو کن ہندہ تباہ و بر باد گر دھہ تک واقعات  
 آی بیان کرنہ آیات کریمن اندر۔ یہ تہند حال سہدی سپدہ ازی مخرن ہند حال تہ و لئن سالتہم من  
 خلق السموات و الارض ليقولن العزیز العلیم یہ ہر گاہ تہہ سمن لو کن پر تہوزہ آسان تہ  
 زمین کم کور پادہ ضرور و سن تم کہ پادہ کر تم ہی خداین نس سیٹھاہ زبردست، سوزی زانہ ون چھہ  
 الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ یہی خداین تہندہ خاطرہ زمین  
 کور فرشاہ تھہ پیٹھ تہ آرام چھوہ کران یہ کران تہندہ اورہ یور پچیر نہ خاطرہ، منزلی مقصودس تان  
 واتنہ خاطرہ تھہ منزوتہ تھہ تہہ تمو و تو پچھہ مطلبس تہ مقصدس واتان آس و الَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمٰوٰتِ  
 مَاءً يُقَدِّرُ یہہ سم خداین تروہ آسماچہ طرفہ روداہ اندازہ کر تھہ حسب مشیت و رحمت ف اَنْشَرْنَا بِهٖ  
 بَدَاةَ مِيْتًا پس کور اسہ تہ رودہ سیت زندہ مومت زمین کذالک تُخْرَجُوْنَ تھے پاٹھ کیاہ یہو قبر و  
 اندرہ تہہ تہہ زندہ کر تھہ نیر کڈنہ قیامتک دوہ وَالَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا یہہ یہی خداین پادہ کر  
 مختلف قسمک چیز و جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَّالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ یہہ تہندہ خاطرہ ناوہ تہ جہاز یہہ چار پاپادہ

مَا تَرْكَبُونَ ﴿۱۱﴾ لَيْسَتْوَاعَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿۱۲﴾ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿۱۳﴾ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿۱۴﴾ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفُكُم بِالْبَنِينَ ﴿۱۵﴾ وَإِذَا ابْتِشَرَّ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ

تسمن پیٹھ تہہ کھسان تہ سوار سپدان چھوہ۔ لَيْسَتْوَاعَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ پیٹھ تہہ وارہ ہوتہندین پیشن پیٹھ توہتہ پاوڑ تیس پنہ نس ہروردگارہ سزہ یہ نعمت یلہ تھہ سواری پیٹھ وارہ روزان آسہ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ تمہ وقتہ آسہ ہران یہ مضمون کہ منزہ تہ پاک ہٹھ سہ پروردگار ہم تابع تہ رام کر یہ سواری سانہ خاطرہ ورنہ فی الحقیقت آس آس نہ پانہ یہ قابلیت تھوان کہ آس کیا لہہ ہواہس سواری پیٹھ قابو۔ کیا زہ سہ جانور ہٹھ سانہ خونہ زیادہ طاقتور آسان یہ ہٹھ محض مہربانی اللہ تعالیٰ سزہ پیٹھ پاٹھ ہیکہ ہونہ آس آس پیٹھ جہاز تہ ناوہ پکہ ناوہ تھ۔ اللہ تعالیٰ تہ آسہ جہاز تہ ناوہ بناوہ تک توفیق دت تو پتہ تمہ آس پیٹھ پکہ ناوہ تک تدبیر تہ ہٹھ ناوہ ہا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ان کر خشکی تہ دریائی سوارین ہنز ذ کر ہٹھ آسہ کر تمس منز امہ آندرہ ہٹھ سپدان معلوم کہ ناوہ گھسہ ون تہ گڑھہ ہران سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ بیہ ہٹھ آس پنہ نس ہروردگار سُن واپس رجوع کرہ ونی وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا توحیدس پیٹھ بے شمار دلیلہ آسہ باوجود ہٹھ ٹھہراوان لوکھ خداہس تہندوے بند و آندرہ کورہ تہ ہر تسمن جزء بناوان ہٹھ خدیہ سندی۔ حالانکہ نس اجزاء آس ہٹھ محال تسدہ خاطرہ مجرء قرار دین گوو نعوذ باللہ تسند حادث ماُن نس بوڈ کفر تہ ناشکری ہٹھ۔ اکھ خرابی ہٹھ اتھ منز یہ بیاکھ خرابی ہٹھ اتھ منز کہ تم لوکھ ہٹھ کورین ناقص زانان تو پتہ ہٹھ خداہس سیت تم نسبت ٹھہراوان إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ بے شک انسان ہٹھ نن پاٹھ ناشکری گڑہ ون أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفُكُم بِالْبَنِينَ کیا تم چھاپنہ نیو

لِلرَّحْمَنِ مَثَلًاظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ<sup>۱۷</sup> أَوْ مَنْ يُنْشِئُوا  
 فِي الْحَلِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ<sup>۱۸</sup> وَجَعَلُوا الْمَلِيكَةَ  
 الَّذِينَ هُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّا شَاهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ  
 شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ<sup>۱۹</sup> وَقَالُوا الْوَسْءَاءُ الرَّحْمَنِ مَا عِبَادُهُمْ

مخلو تو اندرہ پتہ خاطرہ کورے کورہ زحموہ تہ تہہ کمر نوہ خاص پتو یوسیت حال لہجہ تو بہہ ہجھوہ کورہ تیرہ  
 ناہندہ واد ایشرا احد ہم ہما ضرب للرحمن مثلا ظل وجہہ مسودا و هو کظیم چنانچہ یلہ تموا اندرہ  
 کانہہ خبر ہجھہ یوان دنہ تمہہ سیتی یہ تمو ٹھہر اور حمتہ و اس خدائیں یعنی کور، تمہہ ساتہ ہجھہ سپد ان ہجھہ  
 تہید سیاہیہ ہجھہ غمہ سیت بر نہ یوان اومن ینشوا فی الحلیۃ و ہو فی الخصاص غیر مبین کیاہ خدائیں کریا  
 اولاد بناونہ خاطرہ کورے پتہ یوسہ ضعیف ہجھہ رایہ کن تہ عقلہ کن تہ غرض تس ہجھہ سیم خدای قدوس  
 سندی مجزو ٹھہر او ان یوسہ گنہ پاتہ سے منز ہجھہ ہلان تس ہجھہ زینت و آراشہ گئے خیال آسان تس  
 تہدہ ضعف رایہ ہند علامت ہجھہ۔ بیہ ہجھہ مقابلہ کہ وقتہ سہ مطلب ہن ظاہر ہیکان کر ہجھہ تس ضعف  
 عقلہ ہند علامت ہجھہ کیا زہ تمن ہجھہ قوت فکر تس منز ضعف تہ سستی۔ لہذا ہجھہ سوختہ کہ وقتہ مکمل بیان  
 تہ ہجھہ ہیکان کر تہہ۔ یا ہجھہ تمہہ قسمہ چہ کتھہ کر ان تمن نہ اصل مطلبس سیت کانہہ تعلق آسان ہجھہ سمہ  
 سیت مقصد بیان کر تس اندر خلل واقع سپد ان ہجھہ تر سم خرابی ہجھہ اتہ اندر کہہ وجعلوا الملیکۃ الذین  
 ہم عبد الرحمن اناننا تریم خرابی ہجھہ اتہ اندر قطع نظر لزوم شر کہ نغیرہ کر تہہ کہ بیہ ہجھہ لو کو ملا تک  
 سم حضرت رحمانہ سندی خاص بندہ چہہ، تہہ ہجھہ زامت بلاد دلیل زنانہ اشہدوا خلقہم کیا سنا تم  
 آسہ تہندہ پادہ کر نکہ وقتہ موجود تو پتہ آسہ تم و چھان تہنز کیفیت و حقیقت مرد آسہ کنہ زنانہ آسہ  
 ستکتب شہادۃہم ویسئلون تہنز ہیرہ بے بنیاد کتھہ چہہ یوان لیکتھہ تھاونہ تہندین نامہ اعمال اندر تو  
 پتہ پیکھ تمن کتھن ہند پر ژہنہ قیامتک دوہ وقالوا الوساء الرحمن ما عبدہم بیہ ہجھہ ونان سم کافر کہ  
 ہر گاہ حضرت رحمان یژہہ ہاس گرہ ہونہ تمن ملا کن ہنز پر شش ما لہم بذلک من علیہ ان ہم

مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۳۰﴾ أَمْ أُنذِرُكُمْ  
 كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿۳۱﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا  
 آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿۳۲﴾ وَكَذَلِكَ مَا  
 أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا  
 إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿۳۳﴾  
 قُلْ أَوْ كُفَيْتُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا

الْأَخْرُصُونَ تم جنھ اوج خبرے کہیں۔ تم جھہ بل تھیقہ ور اے کتھ کر ان اندازہ لگاوان اَمْ اُنذِرُكُمْ  
 کِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ کیاہ آسہ جھا تم کا نہ کتاباہ اُمہ قرآن مجیدہ۔ برو نھ عطا کر مثر  
 اتھ دعویٰ اس اندر کیاہ جھہ تم تمی سیت استدلال کر ان حقیقت جھہ یہ کہ نہ جھہ تم عقلی دلیلاہ  
 اتھ پیٹھ نہ نقلی دلیلاہ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ بلکہ جھہ تم  
 کر ان پیروی برو ٹھمن ہندین رسن ہنز۔ ونان جھہ کہ آسہ وچھہ مال بڈب پننن آسہ طریقہ پکان آسہ جھہ  
 پکان تہندوے نقش قدم موجب وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا  
 إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ پیٹھ پاٹھ سوزنہ آسہ توہہ برو نھہ یار سول اللہ کنہہ  
 شہرس منز کا نہ پیغمبرہا تمن بیم کرنہ خاطرہ۔ مگرو نان آسہ تمہہ شہرک لوکھ مالدارتہ آسودہ حال کہ آسہ  
 وچھہ پنی مال بڈی بب اکہ وتہ پکان آسہ جھہ تہند نے نقش قدم پیٹھ جتھ تہنز پیروی کر ان قُلْ  
 أَوْ كُفَيْتُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ تہند تم پیغمبرن فر موو تم  
 کیاہر گاہ بہ توہہ نشیرہ پیش کرہ سوو تھہ یوسہ زیادہ مطلبس واتاہ ون آسہ تمہہ وتہ خوتہ تھہ پیٹھ توہہ و  
 جھو کہ ہن مال بڈب توہہ پکوتہ تہہ تمی وتہ۔ تم لگ دہنہ عنادہ کنی تہہ رُئس دیناہ تھہ سوزنہ آمت چھوہ  
 آس جھنہ سہ دین مانانی۔ بلکہ جھہ آس تھہ انکار کر ان۔ یلہ تہند عنادا تھہ در جس ووت فَاَنْتُمْ بِمَنْهُمْ  
 فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ کس ہیوت آسہ تم پور، انتقام۔ کس وچھو کیاہ سپدا انجام تم نہ

بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كُفْرًا ۖ فَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ  
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿۱۵﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي  
بِرَأْيِكُمْ مَتَّعِدُونَ ﴿۱۶﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿۱۷﴾ وَ  
جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ ﴿۱۸﴾ بَلْ مَتَّعْتُ  
هُوَآءَ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿۱۹﴾ وَلَمَّا  
جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿۲۰﴾ وَقَالُوا لَوْلَا

ماند و نین ہند۔ ہر گاہ تم آباء و اجدادہ نے ہنز متابعت بہتھ کرن تیلہ شو بہ متابعت کرن تہس جد اعلیٰ  
سزیم مسلم و معظم ہتھہ سار نے عربن نشہ۔ تم و جھو تھس مضبوط تہ محکم آس توحید س پیٹھ **وَإِذْ قَالَ  
إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بِرَأْيِكُمْ مَتَّعِدُونَ** یہہ پاؤ یو کھ تہیس قصہ ابراہیم علیہ السلام بیلہ فرمود  
تمو پنہ نس ماس تہ پنہ نس قومس بے شک بہ چھس یزار تم سار نے ہنز عبادت کرنہ نشہ یمن ہنز  
پرستش کران چھوہ **إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ** مگر تہس ذات پاکس سیت تعلق تھادان  
یم بہ پیدہ کورس بے شک سہ ہتھہ میانہ دینی و دنیوی **مُضَلِّئِن كُن مِيه رهنمائی کران تہ و تھہ ہاوان**  
**وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ** یہہ قائم روزہ و ان کتھ تراؤ تمو باقی پنہ نین اولادان منز  
بہتھ تم ہزس کن رجوع کرن۔ یعنی تمو کر پنہ نین اولادان وصیت شرک تراوہ تہس تہ توحید پالہ تہس  
متعلق مگر سم لو کھ جھنہ شرک نشہ باز یوان **بَلْ مَتَّعْتُ هُوَآءَ وَاَبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ**  
بلکہ تہلہ نامیہ سم لو کھ یہہ تھنہ مال ہڈب زچھہ عمر ہ تہ بیٹھہ رزقہ سیت تمح۔ یوتان و اثر تم نشہ ہز  
کتاب یہہ سوڑی نزاوہ و ن تہ صاف بیان کرہ و ن پیٹھہر خدایہ سندہ طرفہ **وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا  
هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ** تو پتہ یلہ ووت تمہ یہہ پوز قرآن مجید تمہ ہزہ ہا شکرو شادمن تھہ بدل  
دیکھ یلہ ہمیک معجزات و چھتھ کہ یہہ چھہ تہر تہ جوہ۔ آس چھہ اتھہ انکار کران یہہ و و کھ قرآن مجید س  
نسبت **وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبِينَ عَظِيمٍ** یہہ لگ نہتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ



نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ ﴿۳۱﴾ اَهُمْ  
 يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنْ نَقْسِمَ بِأَبْنِهِمْ مَعْشَرَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
 الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
 بَعْضًا سُلُوفًا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۳۲﴾ وَكُلًّا آتَيْنَا  
 نِسْرًا وَرَحِمْنَا الْبَارِئِينَ وَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ  
 لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿۳۳﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ

و سلمن متعلق کہ یہ قرآن مجید کو نہ آنازل کرنے سمودوہ یو شہر و منزہ مکہ و طائفہ کیو لو کو منزہ کانسہ  
 بدس شخص بیٹھ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ کیاہ تہندس پروردگارہ سنز خاص رحمت یعنی نبوت چھا  
 تم پائے تقسیم کرن تہ باگرن یشہان۔ یہ چھہ سراسر تہنز نادانی۔ تمن کیاہ حق چھہ اتھ منز دخل  
 دنگ کیاہہ لَنْ نَقْسِمَ بِأَبْنِهِمْ مَعْشَرَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اس چھہ تقسیم کران تہ باگران تمن منز تہند  
 رزق تہ روزی دنیاچہ زندگی اندر وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ تھہ تقسیم اندر کور اسہ تمو  
 آندرہ اڈین ہند درجہ تھود اڈین بیٹھ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلُوفًا تھہ تمہ سیت یہ مصلحت حاصل  
 سپدہ کہ تمو آندرہ اڈین کوم اڈین نشہ تمہ سیت روزہ عالمک نظام قائم وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ  
 توپتہ چھہ یہ تھہ ظاہر تہ یقینی کہ تہندس پروردگارہ سنز رحمت یعنی نبوت چھہ بدرجما بہتر تہ افضل تمہ  
 مال دنیاخوتہ بس تم سونبر اوان چھہ یعنی یلہ یہ دنیوی معیشت بس ادنی درجک چیز چھہ تمیک تقسیم  
 کردہ اسہ تہنز ہرلیہ موجب، کیاہ نبوت بس اعلیٰ درجک چیز چھہ تمک مصالحتہ چھہ اعلیٰ درجی تمیک  
 تقسیم تھہ پاٹھ گرو اس تہنز ہرلیہ موجب تھہ روز تہچہ صلاحیتک بناعتہ چھہ نہ نشہ مال و ریاست، دُنْيَاک  
 مال و دولت جاوہ حشمت چھہ اسہ نشہ حقیر و ذلیل تمہ قسم کہہ وَكُلًّا آتَيْنَا نِسْرًا وَرَحِمْنَا الْبَارِئِينَ  
 لِيَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ بیہ ہر گاہ یہ تھہ آسہانہ  
 کہ ساری لوکھ کیاہ نہ بن گئی جماعت کافر ن سیت موافقت کر تھہ نہ کہہ ہو اس حضرت رحمانہ سنندین

أَبَوَابًا وَسُرًّا عَلَيْهَا يُكْتُونُ ﴿۳۳﴾ وَزُخْرُقًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا  
 مَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۴﴾  
 وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿۳۵﴾  
 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۳۶﴾  
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ

مُحَرَّن، جہندین گرن ہندی نیش تہ تالوروپہ سندھیہ تمہ ہیرہ تمہو پیٹھ ہور کھسان تہ یون وسان چھہ تمہہ  
 تہ گرہ ہو کہ روپہ سزے وَاِلْيَوْمِئِذٍ اَبَوَابًا وَسُرًّا عَلَيْهَا يُكْتُونُ \* وَزُخْرُقًا بیہ کرہ ہو کہ تہندین کھین  
 ہندے دروازہ بیہ چار پایہ تمکن پیٹھ تم ڈو کہ دتھ بہان تہ آرام کران چھہ روپہ سندتے چیز گرہ ہو اُس سو  
 نہ سند تیوت چھہ آسہ نشہ مال دُنیا بے اعتبار تہ بے قدر وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ یہ سوڑے کینہہ چھہ مگر ناپا کدار دنیا چہ زندگی ہندا کھ ساماناہ پاسدار  
 آخرت بیہ آخر تک پوشہ ون سازو سامان چھہ تہندس خدا بس نشہ تمکن لوکن ہندہ خاطرہ تم تمس  
 کھوژن شرکہ نشہ پتھ روزن وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ بس اکاھہ حضرت  
 رحمانہ سندہ نصیحتہ نشہ یعنی قرآن مجیدہ نشہ چھہ زانتھہ کر تھہ اون بنان چھہ پاٹھہ تم کافر چھہ شافی دلیلہ  
 آتھہ تمہو سیت علم ضروری حاصل سپدان چھہ تجاہل تہ تعاضل کران اُس چھہ تمس پیٹھ مقرر کران اکھ  
 شیطانہ بس تمس سیت سیت روز تھہ کتھ چیز چہ کامہ کن آتھہ و تھہ چھہ دو ان وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ  
 السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ بے شک تم شیطان چھہ تمکن لوکن سیزہ وتہ نشہ پتھہ رٹان مگر تمکن  
 چھہ پتھہ جایہ گمانہ کہ تم چھہ سیزہ وتہ پیٹھہ تمکن ہنزہ گمراہی ہنزہ صورت آسہ تہندہ وتہ پیٹھہ یکہ نچ کیاہ  
 امید بیہ کرنہ تہند غے کیاہ چھہ کھون حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَسْ  
 اَلْقَرِينُ يوت تام قیامتگ دوہ پتھہ شخص آسہ نشہ ولتہ سہ آسیس سیت۔ آسس سپدہ پتھہ غلطی ہند  
 احساس۔ آسس شیطانس کن لکھہ ونہہ کاشکے میہ منز تہ ثیہ منز آسہا دُنیاہ س منز تیوت دور یریوت

فَيْسَ الْقَرِينُ ﴿۳۸﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكَ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ  
 مُشْتَرِكُونَ ﴿۳۹﴾ أَفَأَنْتَ تُسَبِّحُ الضَّمَّةَ أَوْ تَهْدِي الْعُمَىٰ وَمَنْ كَانَ  
 فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۴۰﴾ فَإِنَّمَا نَذْرٌ لِّكَ وَإِنَّمَا نَذْرٌ لِّكَ  
 أَوْزُرِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلِيمٌ مُّقْتَدِرُونَ ﴿۴۱﴾ فَأَسْتَمْسِكُ  
 بِالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۴۲﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ

مشرقس سے مغربس منزجھہ کیا زہ پچھ سیٹھاہ پچھ رفیق ثبیہ کور تھس بہ گمراہ۔ مگر اکی سندیہ وئنیہ نہ  
 ائس کئی بکار امہ ساتہ وئنیہ پچھ وَلَنْ يَنْفَعَكَ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ یلہ توبہ دنیا س  
 اندر کفر کرنہ سیت ظلم کوروہ۔ پتھ پاٹھ نہ از توبہ افسوس و حسرت کرنس کانہ فاندہ چھہ پتھ پاٹھ  
 چھہ پتھ کتھہ تہ تہندہ کتھہ کانہ فایدہ کہ توبہ کیاہ چھوہ عذابس اندر اکھ اکی سندی شریک یعنی پتھ پاٹھ  
 دنیا س اندر کتھہ بلا یہ گرفتار گھنہ سیت اکھ ائس ائس کج لوژر محسوس آس سدان تہ آسہ نہ تہہ بلکہ  
 آسہ جہنمک عذاب شدت امہ کجک امہ کتھہ ہند ہوشی آسہ نہ کانہ سہ کیاہ گرہ ہئس کانہ کن التفات تہ  
 توجہ۔ پرتھ اکھہ آسہ پنہ نس حالس اندر بتلا أَفَأَنْتَ تُسَبِّحُ الضَّمَّةَ أَوْ تَهْدِي الْعُمَىٰ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ  
 مُّبِينٍ اے پیغبر توبہ یلہ بہنزہہ حالتھ معلوم سہز کیاہ تہہ ہیکو کھ زبوزہ ناو تھہ یا ہیکوہ آئین و تھہ ہاوتھہ۔  
 بہہ ہیکو نہ سہ شخص ئس منہ گمراہی منز پیومت آسہ و تہ پیٹھ اٹھہ۔ یعنی تہند ہدایت چھہ تہندہ اختیارہ نشہ  
 نہر۔ لہذا مہ کھیو تہہ تمیک غے۔ تم ہنزہہ سر کشی تہ نافرمانی بہہ نہ نظر انداز کرنہ بلکہ بہہ تم نشہ امیک  
 ضرور انتقام ہنہ۔ ادہ سہ تہنزہہ موجودگی اندر آس تن یا تہندہ سمہ عالمہ گھنہ پنہ آس تن وَإِنَّمَا نَذْرٌ لِّكَ  
 فَإِنَّمَا نَذْرٌ لِّكَ مُنْتَقِمُونَ کس ہر گاہ آس تہہ بیمہ عالمہ نموہ توتہ چھہ آس تم نشہ ضرور انتقام ہیوہ ون  
 أَوْزُرِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلِيمٌ مُّقْتَدِرُونَ تہہ ہاوہ توبہ تہہ سہ عذاب سمیک آسہ تم و عدہ کورمت  
 چھہ سہ گرو آس تم نازل تہنزہہ موجودگی اندرے۔ بہر حال آس چھہ تم پیٹھ پرتھہ طریقہ پور  
 قدرت تھادان فَأَسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کس روزو تہہ پورہ اطمینانہ مان

لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿۳۴﴾ وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا  
 مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا  
 يُعْبَدُونَ ﴿۳۵﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  
 فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۶﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذْ هُمْ

اتھ قرآن مجید س بیٹھ قائم۔ اُس تو بہ بیٹھ وجہ کہ ذریعہ نازل آو کر نہ۔ تہہ چھوہ بیٹھ سیزو تہہ بیٹھ  
 وَأِنَّ لَكَ لَأَكْزُوكَ لِوَلَقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ یہ قرآن مجید چھہ شرف تہہ عزت تہہ ہدہ خاطرہ ہدہ تہہ ہدہ  
 قومہ خاطرہ تہہ ہدہ خاطرہ چھہ سمہ موکہ کہ تو بہ گن چھہ بلا واسطہ اتھ اندر خطاب تہہ ہدہ قومہ خاطرہ  
 چھہ امہ موکہ کہ تم چھہ تہہ ہدہ واسطہ مخاطب عام پادشمن ہدہ طرفہ خطاب سپن چھہ باعث کمال  
 شرف و عزت وون چھہ تھہ یلہ ملک الملوکہ سندہ طرفہ خطاب آسہ۔ سہ کوتاہ باعث کمال شرف و  
 عزت و چھہ قومہ اندرہ ہدہ مراد قریش یا ساری عربک لوکہ یا ساری امتی۔ تو بہ سارے سبب یہ پر تھہ  
 پتہ پتہ ذمہ داری ہندین حقوق متعلق تھہ منز تمکو کوتاہی کر مژ آسہ یہہ پر تھہ تبلیغ متعلق بائین  
 نسیہ یہہ پر تھہ تعمیل احکام متعلق تھہ منز تمکو کوتاہی کر مژ آسہ۔ وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ  
 رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ یا رسول اللہ ہر گاہ تو بہ خوش گرہ تھی پر تھہ تہہ  
 دریافت کمر تو تم نسیہ سم آسہ تو بہہ برو تھہ پتہ نیو پیغمبر و اندرہ سوزی لوکن گن کیاہ آسہ چھا حضرت  
 رحمانس و رآے یہہ معبود مقرر کر مت تمکن ہنز پر ستش کرنیہہ بالجنے ہنز و تھہ تہہ چھہ سوے یوسہ تین  
 حضرات انبیاء ہنز آس۔ شریکچ تعلیم چھہ کانسہ پیغمبرن و تھہ تہہ چھہ اللہ تعالیٰ ان کئیہ دینس منز یہہ  
 تھہ جائز قرار دتھہ کہ خدائس و رآے کیاہ یہہ بہ کانسہ ہنز پر ستش گرنہ۔ خدایہ سندیہ ارشاد گرن کہ تھی  
 پر تھہ پیغمبرن، سہ گو و سمہ وقتہ تمکن سیت ملاقات سپدہ مثلاً شب معراجس اندر۔ یا و چھہ تھہ ہنز  
 کتابن اندر۔ بہر حال اُس اُس ذریعہ تو بہہ ممکن سپدہ سہ کر تو تہہ استعمال۔ تو بہ سپدہ صاف معلوم کہ کئیہ  
 آسمانی دینس اندر چھہ کئیہ وقتہ شریک اجازت نہہ امت و لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  
 فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ پز پانچہہ سوز آسہ موسیٰ کلیم اللہ پینن آیات ہتھ فرعونس تہہ تہہ دین

مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿۲۷﴾ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةِ الْإِلَهِ الْأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِهَا وَ  
 أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۸﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا  
 السَّاجِدُونَ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿۲۹﴾  
 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿۳۰﴾ وَنَادَى فِرْعَوْنُ  
 فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ  
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۳۱﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ

اہل کارن کین تو پتہ فر موو تم نفعہ بیتھ تمواکی فرعون بہ چھس پیغمبر رب العالمین سدہ طر نہ توہیہ  
 لوکن ہدایت کرنہ خاطرہ مگر فرعونؑ تہ تمی سند یولو کو مون نہ فلما جاءهم بالآيات إذا هم منها يضحكون  
 ادہیلہ موسیٰ علیہ السلام ووت تم نثرہ سان آیات یعنی آیات تسعہ نو آیات بیتھ۔ یکبار لگ تم لو کہ تم  
 آیات وچھتھہ اسنہ تہ ٹھٹھہ کرنہ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةِ الْإِلَهِ الْأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِهَا بیہ آس نہ آس تم کا نہ مجزہ  
 ہاوان مگر سہ اوس بیہ مجزہ خوتہ بوڈ آسان وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اسہ کرے تم گرفتار  
 مختلف عذابو سیت دیوہ تم نافرمانیو نثرہ بازیتھ خدائس کن رجوع کرن وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاجِدُونَ لَنَا رَبِّكَ  
 بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ بیہ دوپ تمو موسیٰ علیہ السلام عذابو سیت تنگ بیتھ اے جادوگرہ  
 سانہ خاطرہ معتہ پنہ نس پروردگار س کیا زہیہ پٹھہ تم قبولیت دعاءک وعدہ کورمت۔ بے شک آس  
 چھہ وتہ پیٹھ یوہ وان ہر گاہ آس تمو عذابو نثرہ نجات لبو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کور تہندہ خاطرہ دُعا  
 عذاب سپد تم نثرہ دور فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ادہ یلہ اسہ تم نثرہ عذاب تل تہ  
 دور کور یکبار ہیوت تمویہ سہ وعدہ پھر لاون بیہ ہر کہ نافرمانی کرن۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ  
 يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ بیہ کرفرعونؑ کرکیتہ تہ منادی  
 پنہ نس قومس منز غالبیہ خیال کر تھ کہ خیر چھا موسیٰ علیہ السلامہ سندواریہ مجزہ وچھت ماسپدن عام  
 لو کہ متاثر سپد تھ مسلمان منادی اندر ونہ نوو کہ اے میانہ قومہ کیو لو کوھو قطبوی میہ چھنا سمہ مصرج

مِهِينٌ ۙ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿۵۲﴾ فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ  
 أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿۵۳﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ  
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿۵۴﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ  
 أَجْمَعِينَ ﴿۵۵﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سُلْفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿۵۶﴾ وَلَقَدْ ضَرَبَ

حکومت تہ سلطنت یہ چھنا مایانو مکانوتہ باغو منز سمہ جو یہ تہ کولہ پکان یہ دریای نیلہ نشہ کڈنہ آمرہ  
 چھہ۔ کیاہ تہہ چھوہ ناو چھان تم چیز۔ موسیٰ علیہ السلا مس نشہ چھنہ کہین۔ وون ویتو تہہ بہ چھہ بہتر تہ  
 قابل اتبا عنہ موسیٰ علیہ السلام چھہ امر اتا خیرین ہذا الذی ہو مہین و لا یکاڈ بین بلکہ چھس بوی  
 بہتر اہس شخصہ سدرہ خونہ یس نہ کہنے اعتبار تہ عزت چھہ بہ چھنہ سہ کتھ تہ وارہ پاٹھ کر تھہ ہیکان۔ زیوہ  
 ہدہ پھہرہ سبہ **فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكَةُ مُقْتَرِنِينَ** ہر گاہ یہ شخص خدایہ  
 سندر فرستادہ آسہ ہا۔ ادہ کونہ آئی تروانہ تمس پیٹھ خدایہ سندہ طرف سونہ سند کر۔ پتھ پاٹھ پاد شہین ہنز  
 طریق چھہ تم بلہ کالہ شخص پیٹھ مہربان آس چھہ تم چھہ تس شخص سونہ سند کر لاگان اگر تمس  
 شخص تہ نبوت عطا کرنہ آسہا آمر تلہ آسہ ہن اہس تہ امت لاگنہ سونہ سند کر۔ یا کونہ چھہ تمس سیت  
 سیت ملایک پکان پر پن اکھ اکس ستی ملہ ناو تھ **فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ** تہ  
 تھہ ونی کہین عقل پتہ توج تم آئی امی سندس دھوکس منز تمو کر آمد سز ن تھن پیٹھ عمل۔ بے شک تم  
 آس برو تھ پیٹھ شرارتہ ہت۔ نافرمانی کرہون۔ **فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ** ادہ یلہ  
 تمولو کو برابر کھر و عنادس پیٹھ اصرار کر تھہ آسہ ٹکھ کھار آسہ ہیوت ترن پورا انتقام۔ چنانچہ پھا لو آسہ تہ  
 ساری دریائے قلز مس اندر **فَجَعَلْنَاهُمْ سُلْفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ** تو پتہ بناو آسہ تم گا مٹر گذرے مثر جماعتھا  
 اکھ یہ مثالاہ پتہ یوہونین ہدہ عبرت رفتہ خاطرہ۔ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو یہ آسہ کریمہ تلاوت  
 کور **إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ** مشرکین عرب لگ دہنہ کہ  
 نصاریٰ چھہ عیسیٰ علیہ السلا مس سز عبادت کران لہذا چھہ تم تہ سمہ آسہ کریمہ کس غمو مس اندر داخل  
 سہدان۔ لہذا اگر سان معبود تہ اتھ منز داخل سہدان کیاہ ہش کتھاہ چھہ بعضے رواتین اندر چھہ کہ نبی

ابن مریم مثلاً اذ اقومك منه یصدون ﴿۵۷﴾ وقالوا الهتنا خیر  
 أم هو ما ضربوه لك الإجدال بل هم قوم خصمون ﴿۵۸﴾ إن هو  
 إلا عبد أنعمنا علیه وجعلناه مثلاً لبنی اسرائیل ﴿۵۹﴾ ولو  
 نشاء لجعلنا منكم مملکة فی الارض یخلفون ﴿۶۰﴾ وإنه لعلم  
 للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم ﴿۶۱﴾

کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ دوہمہ لیس آحد یعبد من دون اللہ فیہ خیر مشرک لگ ہینہ کیاہ  
 مسیح علیہ السلام منزہ ہنہہ کا نہہ خیر یہ تہہ ہنہہ ظاہر کہ آیہ کریمگ تہ نبی کریمہ سندین بین  
 الفاظن ہند مطلب ہنہہ تین چیزن متعلق بین چیزن ہنز پرستش کرنہ یوان ہنہہ تم ہنہہ تین پرستش  
 کرہ و نین ثمنہ ہنہہ پتہہ رتان تہہ ممانعت کران۔ مگر بین اعتراض کرہ و نین ہند مطلب ہنہہ فقط جگرہ  
 کرن تہہ قضیہ لاگن تمی موکہ ہنہہ تم معنی پیدا کرن سمہہ مکہہ سندس مقصدس خلاف ہنہہ آسان  
 و لتا ضرب ابن مریم مثلاً اذ اقومك منه یصدون بیہ یلہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام متعلق اکہ  
 عجیب مضموناہ آویان کرنہ معترضہ سہہ طرفہ آتی ہیوت تہند قومس سہہ مضمون بوز تہہ کریکہ نادکرن  
 شور تئن تہہ اظہار خوشی کرن وقالوا الهتنا خیر أم هو ہینہہ لگ سان معبود چہا بہتر کنہہ عیسیٰ علیہ السلام  
 ما ضربوه لك الإجدال تمہو کرنہ عیسیٰ علیہ السلامہ سنز مثال پیش توہہ برو تہہ کنہہ مگر محض قضیہ لاگنہ  
 خاطرہ توہہ سیت بل ہم قوم خصمون بلکہ ہنہہ تم ہنہہ عادتہ موجب قضیہ لاگہ ون لو کہہ ان ہو  
 إلا عبد أنعمنا علیه وجعلناه مثلاً لبنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام ہنہہ محض اکہ ہند اکہ لیس پیٹہ  
 اسہ مقبولیت و کمالات نبوتہ سیت ہنن احسان تہہ انعام کور ہیہہ کر اسہہ تم بنی اسرائیلن تہہ بین لو کن ہندہ  
 خاطرہ ہنہہ قدر تک اکہ نمونہ آسی ہنہہ امہہ خود تہہ زیادہ عجیب و غریب امور ظاہر کرہ کس پیٹہہ قادر۔  
 چنانچہ ولو نشاء لجعلنا منكم مملکة فی الارض یخلفون ہر گاہ اس یژہہ ہو توہہ ہنہہ تہہ گرہ ہو کہ  
 ملائک پادہ ہنہہ پتہہ ہنہہ ہنہہ توہہ ہنہہ پادہ سہدان۔ یا آسانہہ پیٹہہ والو کہہ توہہ بدل ملائک۔ تہہ ہساو کہہ

وَلَا يَصِدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿۶۲﴾ وَ  
لَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ  
لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۶۳﴾  
إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۶۴﴾  
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ  
عَذَابِ يَوْمِ إِلْيَاسَ ﴿۶۵﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ

ز میںس منزراکھ آگس پتہ وراثتہ لعلہ لالشاعة فلا تفترون بہا واطیعون بیہ چھہ عیسیٰ علیہ السلامہ سندیہ  
پد پادہ سپدن آکھ بوڈنغانہ تہ یقینک ذریعہا قیامتہ حق آسک۔ کس مہ کرو تہہ لوکھ قیاس منزکنہ قسمہ  
شک تہ خرد۔ بیہ کرو مانی پیروی تہ تابعداری ہذا صراط مستقیم بیہ چھہ سیز و تہہ یوسہ بہ توبہ  
ہاوان چھسورہ و لا یصدتکم الشیطان انہ لکم عدو مبین بیہ چھہ شیطان توبہ آتھ سیرہ و تھہ  
پیٹھ پختہ نغیر پتھ رتہ تہ ڈالہ کیا زہ بے شک سہ چھنا تہند نون دشمن و کتابا عیسیٰ بالبینات قال قد  
جئتم بال حکمۃ و لا یبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ توبتہ یلہ پانہ آو عیسیٰ علیہ السلام نن مجزات تہ  
ننہ دلیلہ ہتھ۔ لوکن دوہن بہ آس توبہ نغیر عقلہ ہنز پختہ دلیلہ ہتھ۔ بیہ آس بہ توبہ نغیر ہتھ بہ صاف  
گرہ تم مسئلہ تہ احکام سمن منز توبہ اختلاف تہ قضیہ کران چھوہ فاتقوا اللہ و اطیعون کس کھو ژو  
خدا یہ سدس عذابس۔ میان مخالفت مہ کرو۔ میانس نبوتس مہ کرو انکاریہ کرو میان فرمانبرداری لاق  
اللہ ہوربتی و ربکم فاعبدوہ ہذا صراط مستقیم بے شک اللہ تعالیٰ اکی چھہ میون پروردگار تہ تہند  
پروردگار تہ۔ کس کرو تہنزے یاتر عبادت تہ پرستش بیہ چھوہ توحید، پرہیز گاری، فرمانبرداری، سیز  
و تھہ مگر باوجود وضاحت فاختلف الاحزاب من بینہم کس کور تمو منزہ وارہ ہو جاتر اختلاف عیسیٰ  
علیہ السلامہ سدس حقس منز۔ اوڈو پوسہ چھہ خدا یو پوسہ چھہ خدا یہ سنہ پتو۔ یو دوپ تریو خدا یو  
منزہ چھہ سہ آکھ خداہ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم الیاس کس سمن ظالمین یعنی مشرکین اہل



بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۷۶﴾ الْأَخْلَاءُ يُومِنُونَ بِبَعْضِ  
 عَدَاؤِ الْاَلْمُتَّقِيْنَ ﴿۷۷﴾ يُعْبَادُ الْاَخَوْفُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ  
 تَحْزَنُونَ ﴿۷۸﴾ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿۷۹﴾ اَدْخُلُوا  
 الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿۸۰﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصٰفٍ  
 مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ وَّفِيْهَا مَا شَتَّهِيَ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ  
 الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُونَ ﴿۸۱﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ اُوْرثْتُمُوْهَا

کتابن وغیرن ہندہ خاطرہ ہجھہ دودنلہ وہہ عذابن سخت خراکی سہدہ ون ہل ینظرون الا الساعۃ ان تاتیہم  
 بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ہم لوکہ ہم باوجود حق واضح نہ صاف آسکھہ باطلس پیٹھہ اصرار کرتھہ فقط  
 قیامتک انتظار ہجھہ کران کہ سوگوشہہ تمہن پیٹھہ ہجھہ نہ منگہ وانگھہ بن تھگھہ تمہن روزہ نہ خبرے تمہہ قیامتک  
 واقعات ہجھہ ہمہ قسمک کہہ الْأَخْلَاءُ يُومِنُونَ بِبَعْضِ عَدَاؤِ الْاَلْمُتَّقِيْنَ تمہہ دوہہ آن دنوی  
 ساری دوست اڈاؤین ہند دشمن۔ مگر نہ خدا بس کھوڑہ ون یعنی اہل ایمان، ہمہ ہنز دوستی محض خدایہ  
 سہدہ رضا خاطرہ آسہ۔ تمہنز دوستی روز قیامتک دوہہ نہ باقی تمہن فرماوہ اللہ تعالیٰ يُعْبَادُ الْاَخَوْفُ عَلَيْكُمْ  
 الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُونَ اے میانو بند و از ہجھہ توہہ پیٹھہ واقع سہدہ ون نہ کانہ خوف کھانہ سہدہ و ہجھہ  
 تمگنن کئہ چیزہ سیت الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ میان بندہ گئے تھے ہمہ میاہ نین ایاتن پیٹھہ  
 ایمان اون۔ یہہ ہم میانین کھن گردن داران آس اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ تمہن یہہ ونہ  
 اے میانو بند و از و جنس منز تہہ یہہ تمہزہ با ایمان زنانہ عزت و فرحتہ سان يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصٰفٍ  
 مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ جنس اندر وانگھہ آن تمہن بروٹھہ کئی پھر ناوہ یوان نہ پیش یوان گرنہ سونہ  
 سزہ رکابہ کھینہ چیز ہتھہ یہہ سونہ سند آب خور چنیہ چیز ہتھہ وَفِيْهَا مَا شَتَّهِيَ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ  
 تمہن جنس منز سہدن حاصل تمہن تم ساری چیز تمہن گن میل گھوان آسہ تمہن یوان کن یہہ ہمہ کہہ و ہجھہ  
 سیت اہنن آسکھہ لذت حاصل سہدان۔ ونہ آسہ تمہن یوان وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُونَ اے با ایمانو توہہ

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۴۲﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا  
 تَأْكُلُونَ ﴿۴۳﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۴۴﴾  
 لَا يَفْتَرِعْنَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۴۵﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ  
 لَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿۴۶﴾ وَنَادُوا إِلَيْكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا  
 رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُكْشُونَ ﴿۴۷﴾ لَقَدْ جُنْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ  
 أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ﴿۴۸﴾ أَمْ أBRُمُوا أَمْ رَافِقَانَا مُبْرَمُونَ ﴿۴۹﴾

چھ تین جنن اندر روزن ہمیشہ ابد الآباییہ تکھ ونہ وِتْلِكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  
 یہ جنت نُس توہمہ وراشتہ پاتھ ونہ آؤ تمک تہہ مالک بناونہ اوہیہ چھہ توہمہ بدلہ تمن عملن ہند سہمہ ٹہی  
 دنیاء س منز کران اسوہ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ تہند خاطرہ چھہ آتھ جنس  
 اندر واریاہ میوہ تمبوے منزہ چھوہ تہہ کھیوان یہ گوو با ایمان ہند حال امہ پتہ چھہ کافر ن ہند حال بیان  
 یوان کرنہ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ بے شک نافرمان یعنی کافر روزن جہنمہ کس  
 عذابس منز ہمیشہ لَا يَفْتَرِعْنَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ سوڑا ونہ تہ کم یہ نہ کرنہ تمن نغیر سہ عذاب۔  
 بلکہ تم روزن تھہ عذابس اندر مایوس نہ نا امید وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ اسہ کورنہ  
 تمن پیٹھ ٹہہ قسمہ ظلم لیکن تم اس پائے ظالم کفر و شرک کرنہ سببہ وَنَادُوا إِلَيْكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ  
 آلودن تم نافرمان لوکھ (جہنمہ کس داروغس) اے مالک تہہ مجھہ پنہ نُس پروردگار سہ کہہ با حکم سائہ  
 مرنگ دیوہ تمہہ سیت ستمہ عذابہ نغیرہ موکلہ ہو قَالَ إِنَّكُمْ مُكْشُونَ سہ دیکھ جو اب تہہ چھوہ روزہ ون  
 ہمیشہ آتھ عذابس اندر نہ چھوہ توہمہ مرن نہ نہ چھوہ امہ منزہ نیرن لَقَدْ جُنْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ  
 أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ بیشک اسہ و اتنوہ توہمہ نغیرہ پیغمبرن ہندہ ذریعہ پوزدین مگر توہمہ آندرہ وارہن لوکن  
 اوس پوزدین کھران أَمْ أBRُمُوا أَمْ رَافِقَانَا مُبْرَمُونَ پیغمبرس تکلیف و اتاوندہ خاطرہ کورتمو کا نہہ انتظام  
 درست لہذا کور اسہ تہہ اکھ انتظام درست یہ تھہ چھہ ظاہر کہ خدائی انتظامس مقابلہ کیا چلہ تہند انتظام۔

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَنَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ  
يَكْتُبُونَ ﴿۸۰﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ ﴿۸۱﴾  
سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۸۲﴾  
فَذَرَهُمْ يَتَوَضَّؤُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿۸۳﴾  
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ  
الْعَلِيمُ ﴿۸۴﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

چنانچہ تم روڈی محفوظ تہمہ شرہ نغیر۔ تہمہ دشمن سپدی ناکام پنہ نین تہمیر ان اندر۔ اَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَنَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ کیاہ تمہن چھا گمانہ کہہ اُس کیاہ جھنہ بوزان تہنزہ پوشیدہ تہ لوتہ لوتہ کتھ بیہ تہنزہ پھسرایہ تہ خفیہ مشورہ بے شک جھہ اُس بوزان تہمہ سوزے بلیٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ یَکْتُبُونَ بلکہ جھہ سانی خفیہ پولس ملک تہمہ سوزے تمہن کتھ تل روز تھہ لیکتھ تھوان قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ فرماو کتھ تہہ یارسول اللہ ہر گاہ رحمتہ و اُس خدائس اولاد آسہ تہن بہ اوس تیلہ گوڈہ نیک پرستش کرہ ون تہس۔ مگر اللہ تعالیٰ جھہ تمہہ نغیر منزہ تہ پاک سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ منزہ تہ پاک جھہ سہ آسمان تہ زمین ہند مالک اُس عرش مجید مالک تہ جھہ، تموساروے کتھون نغیر یہہ تھہ کافر تہس کُن لاگان جھہ فَذَرَهُمْ يَتَوَضَّؤُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ تہس تراو کتھ تم آتھ پنہ تہس شغلس اندر یوتان تم سمکھن تھہ دوہس تہمیک تمہن وعدہ کرنہ یوان جھہ یعنی قیامتگ دوہ تہہ دوہہ تہن پانے۔ یعنی تہمہہ مخالفگ مہہ کرو کا نہہ اندیشہ۔ تہمہہ ایمان نہہ انہ تک مہہ کھیو کا نہہ غم وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ سہ پروردگار گووسے تہس آسمان اندر تہہ معبود جھہ اہل سماواتن ہند۔ زمین اندر تہہ معبود جھہ زمینہ کین لوکن ہند بیہ جھہ سے بوڈ حمتہ وول سیٹھاہ زانن وول وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا بیہ جھہ سیٹھاہ عالی شان سہ ذات پاک تہس آسمان تہ زمین ہند بیہ تہمہ

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۵﴾ وَلَا إِلَيْكَ الَّذِينَ  
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى  
يُؤْفَكُونَ ﴿۸۷﴾ وَقِيلَ لَهُ رَبِّ إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾  
فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۸۹﴾

سارے یہ تین منزباگ چھہ حاکم تہ پادشاہ چھہ۔ تم سزے سلطنت چھہ قائم پر چھہ جاہ تہند علم چھہ  
تھے کامل کہ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ قیام خبر تہ علم چھہ خاص تسی یوت یہ چھہ تیج خبر کانہہ اُس۔  
یہ چھہ سزے جزاء و سزاء ک مالک وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ چنانچہ تہ ساری ایومرنہ پتہ یہ زندسپد تہ حساب  
دنہ خاطرہ تِسُن و اتانہ وَلَا إِلَيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ یہ چھہ کانہہ اختیارہ تہن معبودان باطلن تہن تم خدا تِسُن و رائے معبودانان چھہ سفارش  
کرہ تک تہ مگر کرن شفاعت تھے لو کہ سمو گوانی و ژمژ آسہ پزج یعنی پزس خدا تِسُن آسکھ اقرار کورمت  
در حالیتہ کہ تم آس پور زانان یعنی دلن اندر تہ آسکھ پور پڑھ۔ تھے کرن شفاعت فقط با ایمان گنہ گارن۔  
مشر کن تہ کافر ن چھہ تو تہ کانہہ فائدہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ یہ  
ہر گاہ تہی تہن کافر ن پر ژھویار رسول اللہ تم کم کمر پادہ ضرور دینوہ جواب کہ اللہ تعالیٰ ان کتر آس  
پادہ۔ یہ اکھ مقدمہ سُد ثابت تہندہ تسلیم کرنہ سیت دویم مقدمہ چھہ بدیکی۔ عبادتس سزوار چھہ مگر  
سے تِسُن قادر آسہ پادہ کرہ تِسُن پیٹھ۔ بدیکی تہ چھہ مُسلے ہیو، تِسُن چھہ تِسُن لو کہ مقدما تِسُن مانان۔ مگر  
مطلوب مانہ کہ وقتہ خبر کو تِسُن چھہ گدھان وَقِيلَ لَهُ رَبِّ إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ مہ چھہ قسم پیغیر  
برحقہ سندہ یارب ونہ نک، بیشک تِسُن لو کہ چھہ تِسُن سجدل کہ ہم ہرگز ایمان ان نہ فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ  
سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تِسُن پھر و تہ تہن نشہ روی تِسُن یعنی تراؤ و تہن تبلیغ مزن۔ تہن دپو میان چھہ  
سلام۔ میہ چھہ توہہ سیت کانہہ تعلق۔ برو تہ تہن زان تہ پائے تہن کیاہ بنہ اتھ روگردانی کرہ تِسُن  
پیٹھ۔

## سُورَةُ التَّحْنَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱  
 حَمْدٌ ۱ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ  
 اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۳ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۴  
 أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۵ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ اِنَّهُ  
 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۶ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنَّ  
 كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۷ اَلَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ الْاَبَاءِ كُمْ

لحہ اسم چھ زہ حرف مقطعا تو آندرہ۔ سخن ہند معنی زانیہ پانہ پروردگار وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ \* اِنَّا  
 اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ قسم چھہ سمہ مقدس کتاب ہند یوسہ بیان کرہ وئی چھہ  
 احکامن حلال و حرامس تہ حق و باطلس۔ بیہ سحر اسہ سو کتاب یعنی قرآن مجید نازل لوح محفوظہ پیٹھ آسمان دنیا  
 س گن بابرکت شبس اندرہ کیا زہ اس چھہ لوکن تہندہ شفقتہ موکھ اتھ قرآن مجیدس اندر تم چیز بیان کرہ وئی سم  
 تمن مضر چھہ، پندہ عدلہ سیت کھوڑہ ناوہون وِفِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اتھ شمس اندر چھہ پریتھ  
 حکمتہ وول معاملہ سانہ پیشی تلہ حکم صادر سپد تھ طے پوان کرنہ اَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا ای چھہ سپدان سانہ  
 حمہ سیت اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ \* رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ اسی آس بوجہ رحمت یوسہ تہندس پروردگارہ سندہ  
 طرفہ چھہ توہہ پیغمبر سوزہ وون پیٹھ تہندہ واسطہ لوکن پورا اطلاع سپدہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیشک سہ  
 چھہ سیٹھاہ بوژن دول تہ سیٹھاہ زان وول رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِس مالک چھہ آسمان تہ  
 زمین ہند۔ بیہ تمہ سارکے یہ تمن منز باگ چھہ اِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ اگر تہہ یقین کرہ وون چھوہ اَلَا اِلَهَ  
 اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ الْاَبَاءِ كُمْ الاولین کانہہ معبوداہ چھہ تَس ورائے سنی چھہ بدہ تَس منز  
 زوواتہ ناوہون، سے چھہ بدنہ منزہ زو کڈہ وون۔ بیہ چھہ سنی تہندہ پروردگار تہندس مالین بدین ہند مالک تہ

الْأُولَیْنَ ۵ بَلْ هُمْ فِي شَاكٍ يَلْعَبُونَ ۶ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ  
 بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۱۰ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۱۱ رَبَّنَا اشْفِنَا  
 عَذَابَ الْعَذَابِ إِنَّنَا مُؤْمِنُونَ ۱۲ أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ  
 رَسُولٌ مُّبِينٌ ۱۳ لَمْ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ۱۴ إِنَّا

پروردگار بَلْ هُمْ فِي شَاكٍ يَلْعَبُونَ بلکہ چھہ تم توحید وغیرہ ہزد و تھو نے شمس منز۔ دنیاء کس محمد نس  
 درو کہ نس سیت مصروف۔ آخر تج چھکنہ کا نہ فکرے۔ وون یلہ ہم لو کہ پوزوا صحت صاف سپد تھہ  
 مأن نہ کیہہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ کس پیاروتہہ ہندہ خاطرہ ہتھہ دوہس سمہ دوہہ  
 آسماہ طرفہ اکہ وہ ہاوزنہ یہہ نس سارنہ در ینھی آسہ یوان یَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ سہ یہہ  
 ولہ لوکن تم دمن یہہ چھہ عذابہ دگ تلہ ون۔ امہ اندرہ چھہ مرادسہ قحط ہتھہ منز اہل مکہ بیتلا سپد۔  
 سمیک سبب اوس بدو عا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہ یلہ تمبو سخت تکلیف ہیوت دین نبی  
 کر سمس صلی اللہ علیہ وسلم یہہ مسلمان۔ ظاہری سبب سپد امہ قحط کہ حضرت ثمامہ ہم شہر یمامگ  
 بڈی رئیس اس سپدے مسلمان۔ مکہ کیو کافر وہنہ تم سخت ملا تھہ کرن تھہ پیٹھ۔ تمو کور شہر یمامہ پیٹھ  
 کس گن غلہ سوزن بند۔ مگس گن اوس یمامہ پیٹھ غلہ یوان۔ پیاری کن سپز بارش تہ ہند مکک لو کہ ہین  
 بوچھہ سیت مزن قایدہ چھہ سخت بوچھہ ہندس حاس اندر خشک سالی ہندس و قس اندر چھہ ہوزنہ  
 یوان آسماکہ طرفہ وہ تھان۔ غرض مکک لو کہ یلہ سخت تنگ سین قحط سببہ تم لگن عاجزی کرنہ تم ہین  
 دعا کرن رَبَّنَا اشْفِنَا عَذَابَ الْعَذَابِ إِنَّنَا مُؤْمِنُونَ اے سائہ پروردگارہ دور کرتہ امہ نشہ یہہ قحط عذاب۔  
 بے شک اس آوون ضرور ایمان۔ چنانچہ یہہ پیشین گوئی سپز ہتھہ پاشی پورہ کہ ابو سفیان یہہ بھنیہ قریشو  
 یٹھہ نبی کر سمس صلی اللہ علیہ وسلم سہ ہتھہ کہ تو دعائے خیر یہہ کر تو ثمامہ یمانیس فہماش سہ سوزہ ہابہ  
 غلہ۔ یہہ کور ابو سفیان وعدہ ہندہ مسلمان سپد نگ۔ چنانچہ امہ برو تھہ گن چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان سہ وعدہ  
 اوس نہ ہصدق دل أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ہم لو کہ تھہ پاشہ رتہ ہن نصیحت

كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿۱۵﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ  
الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ  
جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿۱۷﴾ أَنْ أَذْوَ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ  
أَمِينٌ ﴿۱۸﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۱۹﴾ وَإِنِّي

امہ عذابہ سیت سیمہ سیت تہمدہ ایمانگ توقع بیہ ہاتھانہ حالانچہ تمن نشہ واژو پیغمبرہ تھدہ شانگ  
ویرھہ نادون نَمْرُؤًا عِنْتَهُ وَقَالُوا مَعْلُومٌ تُوپتہ تہ کمر تموتس پیغمبرس نشہ سرتابی تہ ای لگ  
ونہ کہ بیہ ہتھ موتاہ کم تان سیمہ تھہ ہچھہ نوومت اِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَائِدُوْنَ اسی گروحت  
پورہ کرنہ خاطرہ کہینہہ کالاہ تمن نشہ بیہ عذاب دور مگر تھہ کمر و بیہ تی یہ کران آسہو کھر تہ نافرمانی۔ چنانچہ  
یہ پیشین گوئی سہز ہتھہ پانچہ پورہ کہ نبی کریمو صلی اللہ علیہ وسلم کور دُعا توپتہ پیو و رود۔ بیہ لیوکھکھ شمامہ  
یماشس تم سوز غلہ۔ مکہ کین لوکن سہز فارغ البالی میسر پریشانی کیچھ دور۔ مگر سہ تھہ سنا کرہ ہن تم ہن  
وعدہ پورہ بیہ ہیوکھکھ تی کزن یہ کران آس یَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰی اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ اودہ سیمہ دوہہ زٹوکھ  
اَس تَمَّہ بوڈ سخت زٹو ناہ تَمَّہ دوہہ ہتھو دکھ نہ۔ اَس گئے تَمَّہ دوہہ پور انتقام ہنہ وائل وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ  
قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيْمٌ البتہ بیہ کمر اسہ آزمائش تمن بروٹھ فرعونہ سدس قوس سیمہ  
طریقہ کہہ آو تمن نشہ پیغمبرہ عزتہ دول یعنی موسیٰ علیہ السلام اَنْ اَذْوَ اِلٰی عِبَادِ اللّٰهِ اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِيْنٌ  
تمم فرمو دکھ اے قوم فرعون کریوکھ میہ حوالہ خدایہ سند بندہ بنی اسرائیل توہہ رنگارنگ تکلیبن  
چھوکھ کمر مصت۔ پنہ غلامی نشہ کریوکھ تم آزاد۔ بہ چھس خدایہ سندہ طرفہ پیغمبرہ امانت دار۔ بہ  
ہتھسو نہ کانہہ کتھاہ پنہ طرفہ دنان میہ ئس حکم خدایہ سندہ طرفہ واتان ہتھ بہ چھس سہ حکم توہہ نش  
واتان۔ لہذا پڑہ توہہ تعمیل احکام کزن۔ اَنْ لَا تَعْلُوا عَلٰی اللّٰهِ اِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ بیہ فرمو دکھ  
کہ مہ کمر و سرکشی خدائس نشہ۔ بہ چھس توہہ نشہ آمت نمبئی دلیل ہتھ پنہ نبوتج یعنی عصا تہ ید بیضا۔ یلہ  
فرعون تہ تہمد قوس مون نہ بلکہ ہیوکھکھ مشورہ کزن موسیٰ علیہ السلام سہہ تملک تہ مارنگ و اِنِّي

عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ﴿۳۰﴾ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاغْتِزِلُونِ ﴿۳۱﴾  
 فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ لَكُمْ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿۳۲﴾ فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا  
 إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿۳۳﴾ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ هُوَ أَتَاهُمْ حِنْدٌ مَعْرُوفُونَ ﴿۳۴﴾  
 كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعَيْوُنٍ ﴿۳۵﴾ وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۳۶﴾  
 وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ﴿۳۷﴾ كَذَلِكَ تَفَاوَرَّتْهَا قَوْمًا اٰخِرِينَ ﴿۳۸﴾

عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ یہ جھس پنہ نس خدائس نس تہند خدائتہ چھہ پنہا منگان تہہ کیا کر ومیہ شہید کنہ لالی لالی وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاغْتِزِلُونِ ہر گائوہہ میہ پڑھ کر ونہ تیلہ روز ومیہ نغمہ الگ۔ یہ وَتَنَهَتْ رُودْتَمُ مَوْسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَكْلِيفًا وَاتَّوَاانَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ لَكُمْ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ پس مونگ دعا موسیٰ علیہ السلام پنہ نس پروردگار س یا اللہ تم چھہ سخت شری لو کہ۔ میہ وہ نجات یہندہ شرہ نغمہ۔ اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ اے موسیٰ اسہ کور تہند دعا قبول۔ وون ووت یہندہ فاصلک وقت فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ پس کر اسہ حکم موسیٰ علیہ السلام کہ تہہ نیرہ میان بندہ بنی اسرائیل ہیتہ را تری منز۔ برو تھہ یہ وتہ اندر توہہ دریاو۔ تہہ لالی زہ تھہ دریاوس لورہ سیت ژنڈ۔ سہ سپدہ خشک۔ سہ دیہ توہہ پور تر نہ خاطرہ وتھہ تہہ یلہ بنی اسرائیل ہیتہ پور تتر ودریاو روزہ اتھہ حاکس پیٹھ۔ تہہ کمر زہ نہ کانہہ فکر خبر چھہ فرعون تہہ مایہ سہ تہہ ماوسہ اتھہ دریاوس اندر توپتہ ماترہ اپور۔ ان فخر تہہ اندیشہ کمری زہ نہ تہہ کینہہ تہ۔ کیا زہ توہہ پتے نیرہ فرعون لشکر ہتھہ توہہ گرفتار کرنہ خاطرہ۔ رات راتی نیرہ سیت ہیکہ سہ توہہ رتھہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ هُوَ أَتَاهُمْ حِنْدٌ مَعْرُوفُونَ بے شک سوشکر چھہ دریاوس منز واتھہ پھٹہ ونی تہہ لشکر تہہ دریاوس منز وسہ۔ اِنَّهُمْ حِنْدٌ مَعْرُوفُونَ غرق سپدہ ونی۔ توپتہ یلہ تم پھٹتہ ہلاک گئے كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعَيْوُنٍ \* وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ تھہ گن تراو تھو کا تیاہ باغ میہ کا تیاہ ناگہ راد۔ کوتاہہ زراعنگ زمین یہہ کا زاہ عمدہ جلیہ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ عیش و آرامگ سامان چھہ منز خوشالی آس آسان كَذَلِكَ تَفَاوَرَّتْهَا قَوْمًا اٰخِرِينَ



فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿۳۱﴾ وَلَقَدْ  
 بَعَثْنَا نَبِيًّا إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۳۲﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ  
 كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ اخْتَرْتَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَيَّ  
 الْعَلَمِينَ ﴿۳۴﴾ وَاتَّيْنَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهَا بَلَاءٌ مُبِينٌ ﴿۳۵﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ  
 لَيَقُولُونَ ﴿۳۶﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَمْوَاتُنَا الْأُولَىٰ وَمِمَّا عَنَّا يُنشَرِينَ ﴿۳۷﴾  
 فَاتُوا يَا بَنِي آدَمَ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ أَهْمُ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۗ

یوہے معاملہ کران **وَآتَيْنَاهُمَا قَوْمًا آخَرِينَ** امہ ساری تہجدہ مال و دولتک وارث بناو امہ بیہ لوکھ یعنی بنی  
 اسرائیل **فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ** کس وود نہ تمن پیٹھ نہ آسمان تنہ زمین  
 بیہ آس نہ تم ٹھلت دنہ آمتی یعنی تمن آس نہ مزید ٹھلت دنہ **وَلَقَدْ بَعَثْنَا نَبِيًّا إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ  
 الْمُهِينِ** البتہ ذیت امہ پیٹھ پاٹھ نجات بنی اسرائیل سخت ذلتکہ عدلیہ نشہ **مِنْ فِرْعَوْنَ** یعنی فرعونہ  
 سدہ ظلم وستمہ نشہ **إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ** بے شک سہ اوس سخت سرکش سیٹھاہ حدہ نشہ ذلہ  
 و نیواندرہ۔ اکھ نعمت کتر امہ بنی اسرائیل پیٹھ یہ کہ نجات دیکھ فرعونہ سدہ شرہ نشہ امہ علاوہ کتر کہ  
 بیا کہ نعمت **وَلَقَدْ اخْتَرْتَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَيَّ الْعَلَمِينَ** بیہ وژ امہ فوقیت بنی اسرائیل تمہ زمانہ کین بین  
 لوکن پیٹھ پنہ علم و حمتہ موجب **وَآتَيْنَهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهَا بَلَاءٌ مُبِينٌ** بیہ دست امہ تمن پنہ قدر تک  
 تھے نجانہ کن منز تہجدہ کہ تنی انعامات آس من و سلوی وغیرہ **إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ \* إِنَّ هِيَ إِلَّا أَمْوَاتُنَا الْأُولَىٰ  
 وَمِمَّا عَنَّا يُنشَرِينَ** بیشک تم کافر چھہ قیامتک و عید بوز تھہ قیاس انکار کران۔ تو پتہ چھہ و نان سان  
 اخیرى حالت چھہ کیہ کہ امہ چھہ پیٹھ دنیاس لدر مران۔ تو پتہ چھہ امہ بیہ زندہ سپدن۔ یعنی اخیرى  
 حالت سان حیات اُخروی چھہ بلکہ چھہ اخیرى حالت موت و نبوی۔ امہ چھہ مگر اکی لکہ مران تو پتہ  
 سمونہ آس بیہ زندہ کرنہ **فَاتُوا يَا بَنِي آدَمَ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** اے مسلمانو ہر گاہ تمہ مرنہ پتہ بیہ زندہ  
 گروہنہ کس اعتقادس منز پز زیر چھوہ زیادہ انتظار کیاہ چھہ کزن تیلہ ان توکھ سان مال بدلہب تم سپدن

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۲۵﴾ وَمَا  
 خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴿۲۶﴾ مَا خَلَقْنَاهَا إِلَّا  
 بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۷﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ  
 مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۲۸﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا  
 هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۲۹﴾ إِلَّا مَنْ رَجَعَا اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۳۰﴾  
 إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقْوِمِ ﴿۳۱﴾ طَعَامٌ الْأَشْيُو ﴿۳۲﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي

بیہ زندہ اَمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمٌ بُكِبَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیاہ سناتم قریش چھا قوتس تہ شوئس منز زیادہ زندہ  
 تیج (سمہ کس پادشاہ) سمد قوم یا تم لوکھ تم برونٹھ آس عاود شو موود غیرہ اھلکناھم انھم کانو امجرمین  
 اسہ وچھ نہ تم کینہہ۔ اسہ کمر تم ہلاک تہ برباد۔ کیا زہ تم آس سخت نافرمان۔ ہر گاہ یم قریش منک  
 کافر نافرمانی نغہ با زمین نہ سم تھہ کنتی بچاون سانہ عذابہ نغہ بن پان وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
 وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ بیہ گرنہ اسہ پادہ آسمان تہ زمین بیہ یہ تم منز چھہ سمہ طریقہ کہ آس کیاہ آس آکھ  
 عبث تہ بے ہودہ کاماہ کران مَا خَلَقْنَاهَا إِلَّا بِالْحَقِّ اسہ یلہ تک سم تھہ بد مخلوق پادہ کرن اسہ نئس کیاہ  
 عجایب چھہ انسان مر نہ پتہ بیہ زندہ کرن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوکھ چھہ زانان اِنَّ  
 يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ پنز پاٹھ فیصلک دوہ یعنی قیامتگ دوہ چھہ سارن ہندہ دوبارہ زندہ  
 سڈ تک بیہ جزاء و تک وقت مقرر کرنہ امت يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ سمہ  
 دوہ نہ کانہ تعلق دار کانہ تعلق اس بکار بیہ نہ ہیجہ کانہ ہندہ طرفہ کانہ مددے کانہ واتھہ إِلَّا  
 مَنْ رَجَعَا اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ مگر تم پٹھ اللہ تعالیٰ ان رحم کورمت اسہ یعنی باایمان تم بیہ  
 یاری تہ مدد کرنہ یہ گرن تم تہ مدد آکھ اگس شفاعتہ سیت۔ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ غالب تہ زبردست۔  
 سہ ہیہ کافر نغہ انتقام۔ کس سہ وکرہ تہ ہزار آسہ کس ہیجہ نہ مدد کمر تھہ کانہ بیہ چھہ سہ رحمتہ دول  
 تم تہز رحمت شامل حال آسہ تم دیہ سہ شفاعتگ مرتبہ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقْوِمِ \* طَعَامٌ الْأَشْيُو \*

فِي الْبُطُونِ ۞ كَغَلِي الْحَمِيمِ ۞ خُدُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ  
 الْحَمِيمِ ۞ ثُمَّ صُوبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۞  
 ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ  
 تَمْتَرُونَ ۞ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينٍ ۞ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۞  
 يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ۞ كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ  
 بِحُورٍ عِينٍ ۞ يُدْعَوْنَ فِيهَا بِحُلٍّ فَاكِهَةٍ أَمِينٍ ۞ لَا يَدْخُلُونَ

کالمهل یعنی فی البطون \* کغلی الحمیم ہنر پانٹھ زونو کھل چھہ نافرمان ہند غذا۔ سمیگ رنگ  
 آسہ ہلکے ہند۔ سنی آسہ گریکان تہزن یڈن منز ہتھہ پانٹھ آہہ رسر ہتھہ دیجہ منز گروہہ نہ کران۔ خدوہ  
 فاعتلوہ الی سوائہ الحمیم اللہ تعالیٰ فرماوہ عذابہ کین ملکن ریون یہ کافر تو پتہ نیون کھکھرہ۔  
 تراویون منز باگ جہنمئس ثُمَّ صُوبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ تو پتہ تراو اہس کلہ بیٹھی  
 سورسراہ سمہہ سیت زیادہ عذاب واتیس۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ عذابک ملکہ ونہ نس وچھہ  
 مزہ سمہ عذابک۔ بے شک ژہ او سٹھنا پنہ نس تو مس منز بوڈہ نہ زٹھہ پانس زانان یہ پٹھہ ژیہ تعظیم و  
 تکریم کرنہ یوان۔ ہتھہ پانٹھی ژہ پنہ نس پانس معظمہ و معزم زانٹھہ سائین احکامن تحقیر نہ عار او سٹھ  
 کران جہنمن یہ ونہہ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ بے شک عذاب کیاہ گووسی ہتھہ تو بہہ شٹھہ آسوہ  
 کران إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينٍ بے شک تم خدائس کھو ژہ ون آسن تم آسن امن و آراچہ جلیہ  
 منز محفوظ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ یعنی باغن نہ ناگہ رادن منز يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ نال  
 لاگن تم زاول نہ موٹہ پانک جامہ اکھ اگس سیدہ سیود آسن بہتھ۔ كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ یہ  
 گرو آسن تم نیتھر جلدہ جن حوران سیت یمہ پرینہ نہ اچھہ و ہتھہ کمر تھہ آسن يُدْعَوْنَ فِيهَا بِحُلٍّ فَاكِهَةٍ  
 أَمِينٍ معھہ ناوان آسن تم جنن منز اطمینان سان پر ہتھہ میوہ لَا يَدْخُلُونَ فِيهَا الْمَوْتِ إِلَّا الْمَوْتَةَ  
 الْأُولَى ژہن نہ تہہ موٹک مزہ مگر سنی گوڈینک موت سمیگ مزہ تمو دنیا عس منز ژہمت آسہ یعنی تہہ

فِيهَا الْمَوْتِ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝  
 فَضَلَّامِن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝  
 بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝  
 فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ۝

مرن نہ تم زانمہ تہ ووقَّعَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ بہ زحہہ تمَن اللہ تعالیٰ جہنمہ کہ عذابہ نَشْرَ فَضَلَّامِن رَّبِّكَ یہ سورے آسہ تمَن تہندس پروردگارہ سُنْد فضل تہ مہربانی ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ سیکے گنیہ بڈرستگاری تہ کامیابی فَاتَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ یہ قرآن مجید کور آسہ سہل تہ آسان امی موکھ تہندہ لَغْنِ یعنی بزبان عربی تہہ تمَن لوکن فکرہ تہر تہہ تم نصیحت رُشَن یلہ نہ اُمہ سیت تہ تمَن کینہہ بہر فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ پس پیار یو تہہ تمَن کیاہ بہر تم تہہ پیارہ ون تہہ تہندہ حال کیاہ سیدہ۔ تہندہ حقہ سیدہ عذاب، تہندہ حقہ آسہ نُصرت ویاری



## سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 ۱ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۲ إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ۳ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ  
 آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۴ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ  
 اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ  
 تَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۵ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا

لحہ سم زہ حروفِ مقطعات و آندرہ۔ من ہند معنی زلہ پانہ خدا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  
 سمہ کتابہ ہند نازل ہون سے اللہ تعالیٰ سے ہر طرف سے سیٹھا غالب چھہ سیٹھا جمعہ و ول چھہ۔ لندا  
 گوہن امک مضامین بوزن توجہ سان اِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ بے شک آسمان سے  
 زمین منزمیہ یہ تم من چھہ تھے من چھہ واریاہ نشانہ قدر تک سے توحیدک بالایمان ہندہ استدلال کرنہ  
 خاطرہ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ یہ چھہ پٹھے پاٹھ تھیں س پادہ گرہ نس منزمیہ  
 حیوانات س پادہ کرہ نس منزم، سم تمخی زمینس من چھہکر اوی تم سارنے من چھہ بڈ بڈ نشانہ خدایہ  
 سہہ قدر تک تم لوکن ہندہ خاطرہ سم یقین سے پڑھ تھواون چھہ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ  
 اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ پٹھے پاٹھ  
 چھہ راتہ کس سے ڈہہ کس اکھ اگس پتہ پٹس گوہہ نس منزم، تھے رزقہ کس ہارس منزمس آسمانہ طرفہ اللہ  
 تعالیٰ تراوان چھہ یعنی رود سمہ سیت مردہ گاقس زمینس زندہ گران چھہ۔ پٹھے پاٹھ واول ہندس اورہ پور  
 پھیر نس منزم چھہ بڈ بڈ نشانہ تم لوکن ہندہ خاطرہ سم گائل چھہ۔ من عقل سلیم چھہ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ

عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فِيمَا نِي حَدِيثٌ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَتُهُ يُؤْمِنُونَ ④  
 وَيَلُّ لِكُلِّ أَقَاكٍ آئِيهِ ⑤ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنَلُّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا  
 كَانَ كَمَا يَسْمَعُهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ آيِهِ ⑥ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا  
 اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ⑦ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ  
 وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ تَكْسِبُوهَا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ  
 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑧ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ

نَتَلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ يَمَّ جَهَنَّمِ خَدَايَه سِدِّ صَحِيح صَحِيح آيَاتِ سَمِ اسْ بِرَانَ جَهَنَّمِ تَوْبَهُ پِيْطِه سَمُو سِيْتِ نَبُوْتِ  
 ثَابِتِ سِدِّ اِنْ جَهَنَّمِ - لِيَكِنْ هَرْ گَاهِ جَهَنَّمِ تَوْبَهُ مَا نُوْنَه فِيمَا نِي حَدِيثٌ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَتُهُ يُؤْمِنُونَ پَسِ اللّٰهُ تَعَالَى بِه  
 جَهَنَّمِ يُوْتَقِيهِ آيَا تُوْبَتِه تَهَّ سَنَاتِه يُوْسَه اَمَه خُوْتَه بَدَّ اَسَه اَنْ تَمَّ اِيْمَانِ وَيَلُّ لِكُلِّ أَقَاكٍ آئِيهِ بِهْ خُرَابِي جَهَنَّمِ  
 پَرِيْتِه تَهْتَهشْ شَخْصَه سِنْدَه خَا طَرَه نَسْ عَمَقَايِدِ اِنْ دَر اِيْزِيُوْر اَسَه - عَمَلِنِ اِنْ دَر نَا فَرْمَانِ بَدَّ كَارِ اَسَه يَسْمَعُ آيَاتِ  
 اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَانَ كَمَا يَسْمَعُهَا نَسْ بَا وِجُوْدِ اِيْجَه بُوْزَانِ اَسَه خَدَايَه سِنْدِ آيَاتِ سَمِ نَسْ  
 بَرُوْتَه كُنَه بَرَنَه يُوْنِ جَهَنَّمِ تُوْبَتِه تَه جَهَنَّمِ سَه سَجْمَرِ وِغُرُوْر كَمَرِ تَه كَفْرَسْ پِيْطِه اَذْ كَرَانِ زَنْ نَه تَمَّ تَمَّ آيَاتِ  
 بُوْزِي مَتِي جَهَنَّمِ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ آيِهِ پَسِ وُتُوْبَتِه تَهْتَهشْ شَخْصَه كُدْرَه عَزَانِ بَشَارَتِ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا  
 شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا يَلِه سَه سَانِيُوْ آيَا تُوْ اَنْ دَرَه كُنَه آيَجِ خَبْرِ جَهَنَّمِ بُوْزَانِ تَه جَهَنَّمِ نَهْتَه تَه مَخُوْلَه كَرَانِ  
 أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ سَمِيْنِ لُوْگِنِ مَهْدَه خَا طَرَه جَهَنَّمِ اَخْرَسْ اِنْ دَر ذُلُّكِ عَذَابِ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ  
 وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ تَكْسِبُوهَا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ تَمْنِ جَهَنَّمِ بَرُوْتَه يُوْنِ جَهَنَّمِ تَمَّ سَا تَه دِنِ نَه  
 تَمَّ جِيْزِ تَمْنِ كَانَه نَفْعِ تَه فَايِدَه يَمَّ جِيْزِ تَمُوْدِ نِيَا كَسْ مَنَزَرِ حَا صِلِ كَمَرِ مَنَظَرِ اَسْنِ مَالَه تَه عَمَلُوْ اَنْ دَرَه - نَه دِكْه  
 مَعْبُوْدَانِ بَا طِلِ كَانَه نَفْعِ تَه فَايِدَه - سَمْنِ مَعْبُوْدِ بَرَهْتَسْ وِرَا عِي تَمَّ پَهْنِ مَدَّ كَارِتَه كَارِ سَا زَانَانِ اَسِ  
 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ جَهَنَّمِ خَا طَرَه جَهَنَّمِ بُوْذِ عَذَابِ - اَمَه عَذَابُكِ وَجَه جَهَنَّمِ اِيْ زَه هَذَا هُدًى بِه

عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ آيَةٍ ۱۱ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ  
فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۱۲ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا  
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۱۳ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ  
آيَاتِ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا لِّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۱۴ مَن عَمِلَ صَالِحًا

قرآن مجید چھ سر اسر لوڈ ہدایت سے واجب التسلیم والذین کفرُوا بِالْآيَاتِ مِمَّا رَزَقْنَا مِنْ رَّجْزِ آيَةٍ  
تم لو کہ انکار چھ کران پنہ نس پروردگار سندین آیتن۔ تہندہ خاطرہ چھ عذاب دگ سے دودنک وینہ  
عذاب منزہ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ معبود برحق گووسی تم تہندہ نفعہ خاطرہ  
مختر قدرت کمر دیاو۔ تہندہ ناولہ سے جواز کن تہندہ منز تہندہ حکمہ سیت وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  
بیہ تہندہ تمن جہازن منز سوار سپد تہندہ ژہانڈ و تہندہ خدایہ سُنْدُ فَضْلٍ سے رزق بیہ تہندہ تہندہ سہ رزق حاصل  
کر تہندہ شکر گذاری کمر و تہندہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ تہندہ پاتھ تم چیز آسمان سے زمین اندر چھ تم ساری چیز کرن پنہ حکمہ سیت سے پنہ  
فضلہ سیت مختر قدرت تہندہ تہندہ نفعک سے فایدک سبب بن۔ پنہ پاتھ اتھ منز چھ بد نشانہ سے آیات  
تمن لو کن ہندہ خاطرہ تم فکر کرن سے غور کرن کہ تم چیزیلہ سانہ خاطرہ چھ کامہ لگبت اسہ سے ما پڑہ  
ہاپنہ تہندہ کامہ سیت سمہ خاطرہ آس خداین پادہ کمر مت آس لہندہ روزن قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا  
يَغْفِرُ وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ آيَاتِ اللَّهِ فرماو تہندہ یارسول اللہ بالیمان کہہ درگذر تہندہ عفو کرن تمن لو کن تمن  
نہ پڑھہ سے امید چھ اللہ تعالیٰ سندین اخروی معاملن ہنہ یعنی تم آخر تک منکر چھ۔ بیہ اللہ تعالیٰ نیکو  
کارن ر ژمزوری عطا کرہ سے نافرمان عذابس گرفتار کرہ لِيَجْزِيَ قَوْمًا لِّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تہندہ اللہ تعالیٰ  
اگس قومس یعنی بالیمان تمن ر ژن عملن ہند ر ژت ثواب عطا کرہ سمہ تم کران آس کیا زہ تس نش چھ  
قاعدہ کلیہ کہ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ لَس ا کھاہ ر ژ عمل کرہ تمیک نفع سے ثواب چھ تس پانس وَمَن

فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿۱۵﴾ وَلَقَدْ  
 آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
 وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ وَآتَيْنَهُم بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا  
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيَابَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ  
 يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۷﴾

اَسَاءَ فَعَلِيَهَا یہ نِس اکھاہ مجھ عمل گرہ تمیگ ضرر مجھ نِس پانس لُحُوْا اِلٰی رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ تُوپتہ الیوتہنہ ساری واتوانہ پنہ نِس پروردگار س بُشہ تہہ تہہ تہہ تہہ تہہ رثان عملکن تہ رتین اخلاقن ہند رت بدلہ عطا کرنہ۔ نھندین مخالفن یہ کفر وشرک تہ معاصین ہند مجھ عذاب کرنہ۔ لہذا پڑہ نہ توہمہ معاملہ پنہ نِس اُتھس منز تہہ تمن بیتہ کُنہ قسَمک سزا دینن توہمہ ہزہ درگذر تہ عفوے کرن۔ البتہ اگر اعلائی کلمتہ اللہ خاطرہ تمن سیت باقاعدہ جہاد پیہ کرن تجھ جھنہ کانہ چارہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ نبوت جھنہ کانہ نووچزہ اتہہ انکار۔ یہہ کرنہ۔ چنانچہ اُتھہ بروتھ کُتر اَسہ عطا بنی اسرائیلن اُتھ کتاب آسمانی یہہ حکمت یعنی علم احکام یہہ نبوت یعنی تموا اُندرہ کُتر اَسہ پیغمبر پیدا۔ یہہ کھیادی اَسہ تم پاک و پاکیزہ نفیس نفیس غذا میدانن نہیںس منز کور اَسہ تمن پیٹھ من وسلای نازل۔ یہہ بناوی اَسہ تم ملک شاکم مالک نِس برکات ارضیک منج جھہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یہہ دُیت اَسہ تمن فضیلت پنہ وقتہ کین سارنہ لوکن پیٹھ بعضے چیز و سیت مثلاً بحر قلمز مس باہ کوچہ کرنہ سیت۔ یہہ او برہ کہہ سانبانہ سیت وَآتَيْنَهُم بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ یہہ دژہ اَسہ تمن دینہ کس معاملس منز نہہ دلیلہ یعنی تمن ہاونی معجزات۔ نِس پڑہ ہا تمن پورا طاعت تہ فرماں برداری کرن فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيَابَيْنَهُمْ مگر تموا کور اختلاف پانہ وان علم حاصل سپنہ پتہ اُتھ اک سندہ سنیدہ تہ عداوتہ موکھہ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بے شک نھند پروردگارہ کرہ فاصلہ تمن منز قیامتک دوہ تمن سارنہ چیزن منز تمن منز تمن اختلاف کران اَس۔ توپتہ بنی اسرائیلن اندر



ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ  
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ  
إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹﴾  
هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۲۰﴾ أَمْ  
حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مِّثْيَاهُمْ وَمِمَّا كَفَرُوا مَا يَجْحَدُونَ ﴿۲۱﴾

دورہ نبوت ختم گزشتہ پتہ۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ توپتہ ڈیبت اسہ نبوت توہہ۔ اسہ کمر وہ  
تہہ یار رسول اللہ دینہ کس اہس خاص طریقس پیٹھ فاتیبعہا ولا تاتبیعہا اہواء الذین لایعلمون لہذا یجہو  
تہہ تہہ طریقس پیٹھ یعنی عملہ کن تہہ تہلیغہ کن تہہ۔ تہہ مہ کرو پیرو وی تمہ لوکن ہمز تمن نہ حقیقت حاج  
کہنی خبر چھہ۔ تہزہ خانہ مہ موجب مہ پکو تہہ۔ تہزہ خا ہش چھہ کہ تہہ تراوہ تبلیغ کران ﴿۱۸﴾ لَن يُغْنُوا  
عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا بے شک تم ہیکن نہ کانہہ فایدہ و اسناو تہہ توہہ خدا ہس زہہ نہ ہیکن تہزہ کانہہ کاماہ  
کرتہہ و اِن الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین بیشک ظالم یعنی مشرک چھہ اڈی اڈین  
ہندی دوست اکھ اکی سزہ تہہ مانان۔ اللہ تعالیٰ چھہ دوست پر ہیز گارن تہہ اہل تقویٰ ان ہند۔ اہل  
تقویٰ چھہ خدایہ سُدے حکم مانان۔ تہہ چھوہ رئیس المتقین۔ توہہ تہہ پزہ اللہ تعالیٰ سُد حکم مانن ہذا  
بصائر للناس و ہدی و رحمة لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ یہ قرآن مجید ہس توہہ عطا او کرنہ یہ چھہ عام لوکن ہندہ  
خاطرہ عقلہ تہہ دانش مندی ہند سبب یہ ہدایتک بوڈریعہ یقینہ والین ہندہ خاطرہ بدرحت اَمْ حَسِبَ  
الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کیاہ تم قیاس انکار کرہون لوکہ  
تم پیچہ کامہ شرک و کفر تہہ ظلم و مہصیت چھہ کران تمن چھا خیال کہ تم کیاہ تھاو کہ اس برابر تمن  
لوکن سیت سمو ایمان اون بیہ کرکیر رتہ عملہ سَوَاءً مِّثْيَاهُمْ وَمِمَّا كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ تہند مرن تہہ زیون  
کیاہ اسہ برابر یعنی با ایمان ہند مرن تہہ زیون کیاہ چھہ سمہ معنی برابرے کہہ تہہ پاتھہ تم دنیا س

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَيَجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۳۲﴾ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۳۳﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَانُ نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمُ بِذَلِكَ

اندر عقوبت و سزاؤ نشہ محفوظ اس تیجہ پاٹھ کیا روزن تم مرنہ پتہ تہ محفوظے۔ تہ ہرگز بند نہ۔ سیٹھاہ پیجھ  
 چھہ تہ تیمگ تم حکم کران چھہ۔ کیا زہ صحیح دلیوسیت چھہ امیگ باطل اسن ثابت سپد مت۔ حیات  
 اخروی چھہ امی خاطرہ کہ تیجھ پر تیجھ اکھاہ پنہ نین نیک و بد عملن ہند ثمرہ تہ نتیجہ حاصل کرہ۔ رثان  
 عملن رث موزور۔ پیجھ عملن پیجھ موزور وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ بیہ کمر اللہ تعالیٰ ان آسمان  
 تہ زمین پادہ حکمت۔ سو حکمت چھہ بیہ کہ وَلَيَجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ بیہ تیجھ بدلہ بیہ دنہ پر تیجھ  
 شخصس تیمگ بیہ تم کورمت آسہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ لوکن بیہ نہ ظلم کرنہ کنہ قسمہ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ  
 هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْوَةً وچھان چھوہ تس شخصہ سندس  
 حالتس ان یم معبود پنہ بنو مت چھہ پنہ نفیج خواہش۔ بیہ دس منز یوان چھس تس چھہ پیروی کران۔  
 اللہ تعالیٰ ان کورسہ گراہ۔ حالہجہ سہ اوس زان چھان تھوان یعنی پوزاوس سہ بوزان تہ فخرہ اوس  
 تران۔ مگر نفسہ چہ خاہشہ اتباع کرنہ سیت سپد سہ گراہ۔ تم بوزہ ان تہ فخرہ ترہ ان دینس نہ کانہ فایدہ  
 بلکہ کمر اللہ تعالیٰ ان تہندین کنن تہ تم سندس دس پیٹھ موہر تہنزن اچھن پیٹھ ترودن پردہ تہ ٹھور۔  
 امی اتباع ہو اے شامتہ، چنانچہ حق قبول کرہ نگ بس کم زیادہ استعدادہ تس اوس سہ سپدس مضمحل تہ  
 کمزور فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ پس سہہ اکھاہ بیجھ پیٹھس شخصس و تھہ ہاوتھ خدایہ سدہ گراہ کرنہ  
 پتہ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیاہ تم بیانات بوز تھہ تہ چھوہ ناتوہہ فخرہ تران تھہ پاٹھ پیٹھہ پاٹھ توہہ نفعاہ تہ  
 فایدہ و اتناوہہ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَانُ نَمُوتُ وَنَحْيَا بیہ چھہ ونان قیاس انکار کرہ ون کہ سیمہ دنیا

مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۲۴﴾ وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ  
 مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابَا بَنِي آدَمَ كُنْتُمْ  
 صَادِقِينَ ﴿۲۵﴾ قُلِ اللَّهُ يُجِيبُكُمْ ثُمَّ يُبَيِّنُ لَكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ  
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾  
 وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِذِ يَخْسِرُ

چہ زندگی در اے مہنہ بہہ کا نہہ انخروی زندگیہ۔ موت تہ زندگی چھہ ہتھہ دنیاوی زندگی سیت وابستہ۔  
 زندگی تہ چھہ اکے موت تہ چھہ اُسے وَمَا يُهَيِّئُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكُوفِيَّةُ بِہہ چھنہ امہ ماران مگر صرف زمانک  
 گردش وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ حقیقتس منز چھنہ تمن اُن کا نہہ خبر اہ۔ سم چھنہ  
 یہ کتھہ و نان مگر پتہ طرف بے دلیل اھہ رایہہ قائم کران۔ یعنی آخر تجہ زندگی ہندس انکارہ کرہ اُس پیٹھہ  
 چھنہ تمن اُشہہ کا نہہ دلیلہ نہہ چھہ ہیکان تم اہل حقن ہنزہہ دلیلہ ہند کا نہہ جوابہہ پیش کمر تھہ۔ چنانچہ  
 وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابَا بَنِي آدَمَ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یلہہ  
 پرنہ یوان چھہ تمن پیٹھہ اتھہ متعلق سان روشن تہ صاف آیات تمن منز مرمنہ پتہ بہہ زندہ سہد تک  
 مضمون چھہ آسان تہ ہدہہ طرفہ چھنہ کتھہ انکار کرئس پیٹھہ کینہہ تہ دلیل آسان مگر سٹے کہ دہنہ لگان چھہ  
 کمر تو کہ زندہ سان آباد اجداد اگر دوبارہ زندہ کرئس پیٹھہ پوزوان چھوہ۔ قُلِ اللَّهُ يُجِيبُكُمْ نُہہ فرما دیوا  
 رسول اللہ یمن لوکن اللہ تعالیٰ چھہ توہہ (منہہ وقس تام ہتھہ عالس منز) زندہ تھوان ثُمَّ يُبَيِّنُ لَكُمْ امہ  
 پتہ دیہہ سہ توہہ موت تھہ يَجْمَعُكُمْ امہ پتہ کرہ سہ توہہ جمع الی یَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامتس دوہس تام  
 لَا رَيْبَ فِيهِ اتھہ منز چھنہ کتھہ قسک کا نہہ شک و خبہ یعنی قیامتس نیس تہ ہندس امہ دوہہ جمع  
 آسئس منز چھنہ کا نہہ شک تہ خبہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر لو کہ چھنہ یہ زنان تہ  
 کتھان۔ اکثر لوکن ہندہ انجان لاگنہ سیت یانہ کتھہ سیت یانہ زندہ سیت پیہ نہ قیامتس حق آسئس پیٹھہ  
 کا نہہ اثر۔ یا اتھہ منز گروہنہ کا نہہ شک تہ خبہ پیدہ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بیہہ (چھہ یہہ حقیقت

الْمُبْطُلُونَ ﴿۲۵﴾ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِئَةً تَسْكُلُ أُمَّةً تَدْعِي إِلَىٰ كِتَابِهَا  
 الْيَوْمَ تُحْجَرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۶﴾ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ  
 بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۷﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا  
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ  
 الْمُبِينُ ﴿۲۸﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا أَقْلَمُ تَكُنْ أَلَيْسَ لَكَ عَلَىٰ مَا كُنْتُمْ  
 فَعَسَا كُنْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۲۹﴾ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ

زہ) آسمان سے زپخ بادشاہی چھ اللہ تعالیٰ بس۔ ساری آسمان سے زمین چھ تمس ماتحت دَیْمُ تَقْوَمُ  
 السَّاعَةُ سے سمہ دہہ سوگر یعنی قیامت برپا سپد یَوْمَئِذٍ يُخْرِجُ الْمُبْطُلُونَ تمہ دوہہ گوشہ گائے گائے  
 آپس پیر و کران والین۔ یعنی یم حق تراو تھ کنہ مصلحتہ خاطرہ چھ آپس ساتھ دوان۔ آپس چھ پیروی  
 کران۔ تمں پیہ سے تاون وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِئَةً سے ژہ و چھمن پریتھ کانہ آمت ہیبتہ سے خوف سیت  
 کوٹھن پیٹھ نمٹھ كُلَّ أُمَّةٍ تَدْعِي إِلَىٰ كِتَابِهَا پریتھ کانہ آمت پیہ بلاونہ پنہ کتابہ یعنی اعمال نامس کن  
 پریتھ اتس پیہ ہاونہ سہ کارنامہ نس امہ کورمت آسہ۔ ائی پیس ونہ الْيَوْمَ تُحْجَرُونَ ازپیہ توہہ پورہ  
 جزاونہ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تھ سارسے کارس تمں سارنے کامین یہ توہیہ دنیا بس منز کران آسہ وہ  
 هَذَا كِتَابُنَا یہ چھ سانی کتاب سانی رجسٹر۔ یَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ یہ چھ توہہ خلاف پوز پوز دوان  
 إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ اس اس درج تھوان کر تھ اتھ رجسٹری منز پنہ جایہ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سے سورے  
 یہ توہے کران آس وہ یعنی تھند سورے قول و فعل اوس اسہ نس سے درج سپدان لئذ ایہ از توہہ اتھ  
 سارسے قول و فعلس جزاونہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وون سموا ایمان اون سے اتھ مطابق  
 کرکھ رژہ عملہ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ سے تمں ولہ اللہ تعالیٰ پنہ رحمت سیت ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ  
 الْمُبِينُ پیہ چھنن کامیابی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وون رود تم یموٹھر کور۔ یمو حق سے پوز نامس انکار کور  
 أَقْلَمُ تَكُنْ أَلَيْسَ لَكَ عَلَىٰ مَا كُنْتُمْ فَعَسَا كُنْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ یس پیہ پرژہنہ کیا توہہ آے نامیان پیغام پر تھ بوزاونہ فَاَسْتَكْبَرْتُمْ

اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَارِيْبٌ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ  
 اِنْ نَظُنُّ الْاِظْثًا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿۳۲﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا  
 عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا يَهْتَفُوْنَ بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۳﴾ وَقِيْلَ الْيَوْمَ  
 نُنَسِّكُمْ كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا وَمَا وَاكُلُوْا التَّارُوْمَا لَكُمْ  
 مِّنْ نُّصْرِيْنَ ﴿۳۴﴾ ذٰلِكُمْ بِاَنكُمُ اتَّخَذْتُمْ اٰلِهَٔ هٰرُوًّا وَغُرَّتْكُمْ

توہ آے میان پیغام تہ احکام بوزانہ مگر توہہ کورہہ تکبر توہہ تھوونہ زانہہ کن وکنتم قومًا  
 مُّجْرِمِيْنَ نہہ آسودہ اہہ مجرم کرن وول قوم اللہ تعالیٰ سُنَد پیغام بوز تھہ آسودہ نہ پڑھہ کران بلکہ  
 آسودہ کبر تہ نحو تہ سیت اتھہ انکار کران تہ بوزہ ناون والین ٹھٹھہ تہ مذاق کران رنگہ رنگہ ایذاہ تہ تکلیف  
 دوان وَاِذَا قِيْلَ بِهٖ يٰلَهٗ وَنَهٗ اَوْسِ يٰوَانَ اِنْ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا زہ اللہ تعالیٰ سند وعدہ ہجھہ پوزاتھہ بیسہ نہ  
 خلاف سپد تھہ وَالسَّاعَةُ لَارِيْبٌ فِيهَا تہ قیامت چھہ پزے اتھہ منز ہجھہ کنہ قسمک کانہہ شک تہ خجہ  
 یہ سپدہ ضرور برپا قُلْتُمْ توہے آسودہ اورہ نوان مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ اس ہجھہ زانان زہ یہ قیامت  
 کیاہ گیہ اِنْ نَظُنُّ الْاِظْثًا اس ہجھہ زانان صرف اہہ خیالا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ تہ اس ہجھہ یقین  
 تھوان وَاَلِ یعنی اسہ ہجھہ یقین زہ کیون لکن ہند یہ گمان زہ قیامت سپد برپا چھہ پوز۔ اسہ ہجھہ قیامت  
 پیٹھہ کانہہ یقین وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوْا تہ یمن مجرم نن ناکارہہ پاٹھہ ہجھہ نیچہ کار وَحَاقَ بِهِمْ  
 ولہ تم نال مَا كَانُوْا يَهْتَفُوْنَ بِهٖ تہ تھہ تم ٹھٹھہ اس کران یعنی ہجھہ عذابس تہ ہجھہ سزا اس تم  
 پڑھہ نہ آسکھہ سبہ ٹھٹھہ اس کران سے عذاب تہ سزا ولہ یمن نال وَقِيْلَ بِهٖ يٰلَهٗ وَنَهٗ اَوْسِ يٰوَانَ  
 الْيَوْمَ نُنَسِّكُمْ از چھہ اس توہہ مشراوان كَمَا نَسَيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ہجھہ پاٹھہ توہہ آسودہ مشرومت  
 تہندہ ہجھہ دوہک سُن یہ تہ آسہ برو نہہ سُن جزا تہ سزا ہجھہ حاضر سپدن وَمَا وَاكُلُوْا التَّارُوْمَا وون چھہ تہنز چھین  
 جائے نار یعنی جنم وَمَا لَكُمْ مِّنْ نُّصْرِيْنَ بِہٖ ہجھہ تہندہ ہجھہ کانہہ مددگار و منزہ توہہ آسودہ مشرومت  
 قیامتک برپا سپدن اسہ سیت ملاقات کرن، عملن ہند جزا یا سزا حاصل کرن۔ یہ تعلیم یلہ توہہ ہاونہ آہہ

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۳۵﴾  
 فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۶﴾  
 وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۷﴾

توہ کروہ نہ اتھ پڑھ توے کروہ لا پروائی۔ لہذا چھ اس تہ از توہ سیت لا پروائی ورتاوان۔ توہہ ہتھ پنہ  
 نن پچھ کارن ہندا انجام نارو چھن تہ توہہ بیجہ نہ کانہہ تہ امہ نش چئس منز مدد کر تھ ذکرکم یاکتھ  
 اتْعَدْتُمْ لِبَيْتِ اللَّهِ هُرُوجًا ۖ تہندیہ پچھ انجام چھ نتیجہ یہ کتھ ہندزہ توہے آسؤہ اللہ تعالیٰ سندین پیغامن  
 مذاق زانان وَخَرَجْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ بیہ دیت توہہ دوکھ دنیاچھ زندگی یعنی دہسہس منزئس عیش تہ  
 عشرت توہہ حاصل سپد امہ سیت لوگ توہہ دوکھ توہہ گنہیہ رائے زہ یہ عیش تہ عشرت مؤکہ لی نہ  
 زانہہ تہ توہہ جھوسئی روزن فَاَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ۖ لہذا این نہ از نبر کڈنہ امہ نارہ منزہ یعنی از  
 قیامتک دوہ چھ یمن ضرور نارس منز ایذاہ تکن وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۖ تہ نہ بیہ یمن کانہہ عذر قبول کرنہ  
 فَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۖ لہذا شو بن ساری حمد تہ تا اللہ تعالیٰ ہس رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ ۖ ئس رُب چھ  
 آسمان ہند بیہ ئس رب چھ زینک رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ ئس رب چھ سارنہ عالمن ہند وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ تہ تمس چھ بجر تہ طاقت آسمان تہ زمینس منز وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ تہ سوی  
 چھ زبردست طاقتہ وول تہ حمتہ وول۔



## سُورَةُ الْأَحْقَافِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
**حَمْدٌ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ②**  
 مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ  
 مُّسَمًّى ③ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ④ قُلْ أَرَأَيْتُمْ  
 مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ  
 أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ⑤ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ

حَمْدٌ ہم چھہ حروفِ مقطعات۔ خدایہ سے چھہ معلوم تمن ہند معنی تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ قرآن مجیدک نازل سپدن چھہ تس معبود برحقہ سندر طرفہ تس غالبہ حمیتہ وول چھہ لہذا گرهہ امہ کین مضمون پیٹھ پور غور کران۔ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اسہ کمر نہ پادہ آسمانہ زمین بیہہ تمن منز چھہ، مگر حکمت بیہہ اکہ مقررہ متعین مدتہ خاطرہ۔ سہ مدت گو وقت قیام قیامت۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ مگر تم لو کہ کافر چھہ تمن سمو چیز وسیت توحیدہ کس انکار کرہ نس پیٹھ بیم چھہ کرنہ یوان تم چھہ تھہ کن کنہی توجہہ تہ التفات کران۔ توحید چھہ قبول کران قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ٹہہ فرماو یو کہ یار رسول اللہ تمن ٹہہ خدایہ سز عبادت تراوتھ چھوہ عبادت کران تمن ہندس مستحق عبادت آسئس پیٹھ کیاہ دلیل چھوہ توبہہ نغہہ۔ اگر عقلی دلیل چھوہ میہ ہا تو زینک ٹہہ حصہ چھہ تمو پادہ کورمت۔ بکنہ آسمانہ کس پادہ کرنس منز چھہ تمن کانہہ شر اکتھہ۔ یہ کتھہ چھہ ظاہر کہ ٹہہ چھو کہ نہ تم خالق مانان۔ بلکہ چھو کہ ٹہہ تم تہ مخلوقے مانان۔ مخلوق آسئس چھہ معبود آسئس بالکل منافی دلیل عقلی نغہہ ختم۔ اگر توبہہ نغہہ دلیل نقلی چھہ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا میہ نغہہ ان

أَشْرَةً مِّنْ عِلْمٍ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۷﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ  
 دُعَائِهِمْ غٰفِلُونَ ﴿۸﴾ وَإِذَا حِشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَ  
 كَانُوا لِإِعْبَادِهِمْ كَافِرِينَ ﴿۹﴾ وَإِذَا اتَّعَلَّ عَلَيْهِمُ ابْتِغَاءُ بِنَاتٍ  
 قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۰﴾

تو تیلہ کا نہ صحیح کتابا۔ یہ منز شریک لحم آسہ یوسہ کتاب سمہ قرآن مجیدہ بروئٹھ نازل کرنہ آمز  
 آسہ اؤ اشْرۃ مِّنْ عِلْمٍ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یا اگر کتاب آسہ نہ توتہ کر تو پیش معتبر علمی کا نہ مضمونہ،  
 رواہتہاہ یوسہ منقول آسہ، چھوے نہ شریک دعوائے کرہ نس اندر پوزونہ ون۔ یہ کتھ چھہ ظاہر کہ  
 یزہہ دلیل ہیجہ نہ کا نہ تہ پیش کمر تھہ مگر نہہ چھوہ نہ امہ پتہ تہ باطل کتھہ نشہ باز یوان۔ وَمَنْ أَضَلُّ  
 مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کبہہ اکھاہ چھہ س شخصہ سندہ خوتہ زیادہ گراہ  
 نس دلیل پیش کرنہ نشہ چھہ عاجز۔ باوجود آل چھہ معبود برحق تراوتھہ تمن باطل معبودن آلودوان  
 سم نہ قیاس تان تہندس ناس تہ آلوس جوالبے میکن دتھہ۔ تمن چھہ تہندہ آلودنچ خبرے کینہہ کیا زہ  
 تمن چھہ تمیک شعورے تمن چھہ خبرے سجدہ کم دیت تہ لتھ کم دژ۔ وَمَنْ عَنِ دُعَائِهِمْ غٰفِلُونَ تم  
 چھہ تہندہ آلودنہ نشہ بالکل بے خبر۔ جمادات یعنی نہ تہ بے جان چیزن ہند چھہ ظاہرے کہ تمن چھہ  
 قوت سامع کینہہ۔ باقی ذوات الارواح، ملائکہ، حضرات انبیاء، بیہ اولیاء اللہ تم چھہ سوے کتھ  
 بوز تھہ ہیکان یوسہ اللہ تعالیٰ بوزہ ناویکھ۔ سوی کام ہیکان کمر تھہ تمیک اجازت تہ قدرت تمن اللہ تعالیٰ  
 دیہ پانس تمن بذات خود کا نہ اختیارہ چھہہ وَإِذَا حِشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا لِإِعْبَادِهِمْ  
 كَافِرِينَ چنانچہ یلہ لوکھ محشرہ کس میدانس منزع بین کرنہ حساب دنہ خاطرہ تمے معبودان باطل  
 آسن، تمن تم نادتہ آلودوان آسن، تہند دشمن۔ بیہ آسن تمے تہندس عبادت تہ پرستش کرہ نس منکر۔  
 دپکھ آسہ چھہ خبرے نہہ کیاہ آسہہ آسہ عبادت کران وَإِذَا اتَّعَلَّ عَلَيْهِمُ ابْتِغَاءُ بِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا



أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ  
لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۗ كَفَىٰ بِهِ  
شَهِيدًا ابْنِي ۖ وَبَيْنَكُمْ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۵﴾  
قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنَ الرُّسُلِ ۖ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ  
إِنْ أَتَيْتُمُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ ۖ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۶﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ

للحَقِّ لَتَأْتَأَهُمْ هَذَا صَحْرٌ مُّبِينٌ یہ بیلہ پر نہ جھ یوان تم ن پیٹھ سان صاف صاف تہ واضح آیات ،  
دنان جھہ تم کافر اتھ پڑس قرآن مجیدس کہ یہ جھہ نعوذ باللہ نون سحر تہ جود اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ  
قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ کیاہ تم لوکھ چھادنان کہ یہ قرآن مجید ٹھہر دو آم پیٹھہر ن پائے۔ تہہ فرماو یو کہ یا  
رسول اللہ ای لو کو ہر گاہ میہ یہ قرآن مجید پائے پتہ طرفہ بنوومت آتھہ خدا ایس کن لوگمت آسہ ہاتیلہ  
کہہ ہا اللہ تعالیٰ پتہ عادتہ موجب میانس اُپزد عوی نبوت کہہ نس پیٹھ میہ ہلاک۔ تو پتہ بیلہ سہ میہ (نعوذ  
باللہ) ہلاک کرن ہیمہ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تہہ لوکھ باباتی لوکھ ہیکونہ میہ خدایہ سندہ عذابہ  
نشرہ بچاوتھہ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ تہہ س جھہ پور خبر تہہ کہہ کہہ تھہ جھوہ اتھہ قرآن مجیدس  
متعلق کران کفی یہ شَهِيدًا ابْنِي ۖ وَبَيْنَكُمْ بس جھہ س گواہ میہ منز تہ توہہ منز۔ تہہ جھہ آسہ  
سار نے ہند حال پور ، معلوم تہہ جھہ صادق تہ تہہ جھہ کاذب وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سہ جھہ سیٹھاہ  
مغفرت کہہ ون سیٹھاہ رحم کہہ ون۔ سہ جھہ کافرن دنیا س اندر عذابس گرفتار کران۔ مگر تم ن  
عذابس گرفتار نہ کرن جھہ دلالت کران تہندس پڑس پیٹھ آسٹس قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنَ الرُّسُلِ تہہ  
فرماو یو کہ یا رسول اللہ اے لو کو بہ نو پیٹھہراہ جھس نہ۔ میہ برونتھہ تہ جھہ ہیمہ تہ واریاہ خدایہ سندہ احکام  
ہیتہ آمت۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ یہ جھہ میہ خبر میہ سیت کیاہ معاملہ سپدہ آئندہ۔ پتہ نین  
آئندہ حالاتن ہنزلہ نہ میہ خبر جھہ بن مُغْتِيبَاتِن ہند عوی کتھہ پاتھہ ہیمہ بہ کمر تھہ۔ تم ن حالاتن ہند  
میہ بذریعہ وحی علم سپد تم ن ہند جھہ واقعی علم کاسل إِنْ أَتَيْتُمُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ ۖ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ بہ

إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ قَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكَارٌ قَدِيمٌ ﴿١١﴾ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِمَا نَزَّلْنَا بِالنَّبِيِّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّهُمْ وَبَشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾ إِنَّ

چھنہ علم و عملہ اندر پیروی کران مگر تھے یہ مہی عن وحی نازل یوان چھہ کرنہ۔ پانہ پنہہ طرفہ کانہہ چیز ٹھہر اونچ چھنہ صور تھے کانہہ بیہ چھس نہ بہ مگر تن پاٹھ نیم کرہ ون قُلْ اٰوَدَعْتُمْ اِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَ كَفَرْتُمْ بِهِ وَ شَهِدَ شَآهِدٌ مِّنْ بَنِي اِسْرَآئِيْلَ عَلٰی مِثْلِهِ قَامَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ فرما دیو کہ تھے یار رسول اللہ ای لوگو مہی ون تو ہر گاہ یہ قرآن مجید واقعی طور خدایہ سندر طرفہ آتھ تھے اتھ انکار کر ویہ آسہ بنی اسر ایلو اندرہ تہ کانہہ معتبر گواہ گواہی دوان یڑھ کتابہ ہندہ نازل سپدنج، تھ پیٹھ ہانکر تھ آسہ سہ تھہ ایمان اتان تہ پڑھ کران مگر تہہ روز و محجرتہ غرورہ سبہ امہ کس انکار س پیٹھ، تھہ صورتس اندر گہہ اکھاہ چھہ تھہہ خوتہ زیادہ بے انصاف تہ ظالم۔ لَٰنَ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ تعالیٰ چھنہ بے انصافن تہ ظالمن تھہ ہاوان بلکہ چھہ تم ہمیشہ مگر انہی تہ ضلالتس اندر روزان۔ مگر انہی ہند انجام چھہ نار جہنم۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ بیہ چھہ تم کافر وان با ایمان ہندس ایمان آنہ نس نسبت کہ ہر گاہ یہ قرآن مجید تھہ تم پڑھ کر مر چھہ رت آسہ ہا، تیلہ گوشن نہ تم کم درجک لو کہ اتھ دینس عن آسہ بروٹھ۔ یہ گو تھند کمال درجک استکبار تہ غرور فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِنْكَارٌ قَدِيمٌ یلہ نہ امہ غرورہ تہ استکبارہ سبہ تمن امہ قرآن مجیدہ سیت دینس خھس عن تھہ آسہ لئذا چھہ تمن ونہ نے کہ بیہ چھہ پرانیوا ہزدو تھو منزہ اکھ اپز کتھاہ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِمَا نَزَّلْنَا بِالنَّبِيِّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّهُمْ وَبَشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ حالانکہ سمہ

الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ ﴿۱۳﴾ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ  
كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ

قرآن مجیدہ برؤنٹھ آس حضرت موسیٰ سز کتاب یعنی تورات نازل آمر کر نہ یوسہ اُمتِ موسیٰ یہ  
خاطرہ بالعوم و تھ ہاودون آس، اہل ایمان ہندہ خاطرہ بالخصوص بڈرحت آس، یہ قرآن مجید تیج  
پیشین گوئی تورا آس منز تہ چھ، تہ چھ کتابہ نمہ کتابہ ہنز پیشین گوئی تصدیق کران یوسہ عربی زیوہ  
منز چھ، بیٹھ یم گرہ تمین لوکن سمو ظلم کور یعنی شرک تہ کفر کر نہ سیت۔ یہ چھ بڈبشارت نیو کارن  
ہندہ خاطرہ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بیشک سمو لوکو  
بصدق دل اقرار کورزہ سون پروردگار چھ اللہ تعالیٰ تو پتہ رود اتھ اعتقادس پیٹھ آخرس تان، یہ  
اعتقاد تروو کہ نہ زانہ نہس چھ نہ تمین آخرتس اندر کانہ خوفاہ واقع سپدہ ون نہ آس تم ختہ عمگین  
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یم لو کہ چھ جنتی، یم ہمیشہ روزن تمین  
جنتن اندر۔ یہ چھ تمین رت جزا تمین رتھن عملن ہند تم کران آس دنیاس اندر یعنی ایمان تہ استقامت  
بر ایمان تہ پٹھ پاٹھ اسہ پٹھن حق بندن پیٹھ واجب کمر سیمیک ذکر کر نہ آویٹھے پاٹھ کور اسہ حقوق العبادتہ  
واجب چنانچہ تموا ندرہ گوو سیٹھاہ بوڈ حق مالس ماجہ ہند وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ  
كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا تمی مو کہ کور اسہ انسانس تاکیدی حکم پنہ نس مالس ماجہ نسبت احسان کرہ نک۔  
بالخصوص ماجہ نسبت زیادہ احسان کرہ ٹگ حکم۔ کیا زہ یہ موج آس نہایت شفقتہ سان تلان اسس  
انسانس پنہ یم منز تو پتہ تروون یہ یم منز نہایت ختہ سان وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا اسس انسانہ  
سند ماجہ ہمزہ یم منز روزہ ٹگ مدت بہہ دو ڈر نہ ٹگ مدت چھ اکثر تر بہن رتین یعنی ڈاین و این پورہ  
سپدان۔ نمہ پتہ چھ نہ نشوونمالبان۔ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشْدَدًا وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً تا ایچہ یم نہ نشوونما

أَشَدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ  
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ  
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۵﴾  
أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ  
فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۱۶﴾ وَالَّذِي  
قَالَ لَوْ أَلِدِيهِ أَفٍّ لَكُمَا اتَّعَدَ نَبِيُّ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ

لہاں چھہ ، پننہ جوانی ہندس قوتس واتان چھہ یعنی جوان چھہ سپدان تو پتہ چھہ واتان ژ تچھن ہنزہ عمرہ ،  
ئس سعادت مند چھہ آسان قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّْ وَأَنْ أَعْمَلَ  
صَالِحًا تَرْضَاهُ سہ چھہ دپان ای میانہ پروردگارہ دہ چھہ کتھہ پٹھہ مد اومت گرہ نک توفیق کہ بہ کیاہ کرہ  
شکر گذاری تمہہ نچہ یوسہ ژہ میہ عطا کر تھہ بیہ میانس ماس ماجہ عطا کر تھہ بیہ دہ میہ توفیق تمیک زہ بہ  
کیاہ کرہ رتھہ کامہ بیہ ژہ پسند آسہ ئے ، سمویت ژہ راضی گوھکھہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي بیہ کر  
صلاحیت پادہ میانہ نفعہ خاطرہ میانین اولادن منز۔ نفع دنیوی گو دیوہے کہ بہ کیا آسہ تم وچھتھہ  
پھولان۔ نفع دینی گو دیوہے کہ میہ تہ آسہ اجر و ثواب حاصل سپدان إِنِّي بُنْتُ إِلَيْكَ بیہ چھس توبہ  
کران تمو کو تاہیہ نشہ سیمہ میانہ طرفہ آہ چانین حقوقن یا چانین بندن ہندین حقوقن اندر وَإِنِّي مِنَ  
الْمُسْلِمِينَ بیہ چھس بہ چالس کھمس گردن دارہ و نیو آندرہ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا  
وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ سہ لوکھ گے تم سمن ہنزہ رتھہ  
عملہ آس قبول کر دہیہ گرو آس تہند خطا معاف سہہ طریقہ کہ تم آسن جنویہ آندرہ ، تمہہ پڑہ وعدہ کہ وجہہ  
ئس تم سیت دنیاء س اندر کرنہ اوس یوان وَالَّذِي قَالَ لَوْ أَلِدِيهِ أَفٍّ لَكُمَا اتَّعَدَ نَبِيُّ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ  
الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي بیاکھ گو سہہ شخص سیم حقوق اللہ تہ حقوق العباد ضایع کتر تھہہ پاتھہ اس شخصہ سندھ  
حالہ سیت معلوم چھہ سپدان ، سیم ماس ماجہ ، بیہند حق حقوق العباد و منزہ نہایت موکد اوس ، خصوصاً

مَنْ قَبْلِي، وَهِيَ اسْتَيْغِيثُ اللَّهِ وَبَيْتِكَ اِمْنًا اِنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا،  
 فَيَقُولُ مَا هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ ﴿۱۷﴾ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ  
 الْقَوْلُ فِيْ اَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ  
 كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿۱۸﴾ وَلِكُلِّ دَرَجٰتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا وَاُولٰٓئِكَ فِيْهِمْ اَعْمَالُهُمْ  
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلٰى الشَّارِطِ

یلع تم مسلمان آسن، خصوصاً یلع تم اہس تہ اسلامک تبلیغ کران آسن، اہس آس حقوق ادا کرہ نک  
 واریاہ ذرائع حاصل ہیلہ تم اہس دین حقس کن دعوت دوان آس ام دو پنکھ آف، توہہ اونوس بہ عاجز  
 عجیب کتھ ون ون کیاہ تہہ چھوہ میہ ونان قیامتگ دوہ سپد کہ تہہ یہ زندہ سپد تھہ تھہ تہہ تہہ تہہ تہہ تہہ تہہ  
 منزہ کڈنہ حالہجہ میہ بروٹھ گذرے یہ واریاہ اٹزہ سمن پرستھہ وقتہ پنن پیغمبریتھہ وعدہ دوان آس مگر  
 از تا م سپد نہ ٹنہ وعدک ظہور امہ اندرہ چھہ معلوم سپدان زہ سمہ تھہ کتھہ یا تہہ وَهِيَ اسْتَيْغِيثُ اللَّهِ  
 وَبَيْتِكَ اِمْنًا اِنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا تم دو شوے یعنی مول تہ موج اُسنہ، اُسنہہ انکارہ تہ کُھر عظیمہ سبہ  
 سخت دولتھہ لگ تم اللہ تعالیٰ اس فریاد کرنہ۔ اہس پنچوس لگ وننہ درد مندی سان۔ وال بوسنے تہہ ان  
 جلد ایمان بیہ زان قیامت برحق۔ بیشک خدایہ سُد وعدہ چھہ حق تہ پوز۔ مرنہ پتہ چھہ ضرور بیہ زندہ  
 گدھن سارنہ۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا اِلَّا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ سہ چھہ تورہ تین ونان کہہ یہ کتھہ چھہ بالکل بے  
 سُد۔ بروٹھن لوکن نشہ نقل یوان کرنہ اُولَئِكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْ اَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ  
 الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ سنے گئے تم لو کہ یہ ہدہہ حقہ عذابگ حکم مقرر سپد مت چھہ تین  
 اُمتن سیت یہہ تین بروٹھ آسہ جنوتہ انسانو اندرہ۔ بیشک تم آس از لے تاوان رُد وَلِكُلِّ دَرَجٰتٍ  
 مِّمَّا عَمِلُوْا سمن دوہ شونی فریقن ہدہہ خاطرہ چھہ تہنز و مختلف عملن ہدہہ اعتبارہ الگ الگ درجہ مقرر  
 کرنہ آمت۔ اہس فریقس جنس منز پیس فریقس جنس منز، تمو کامیو موجب یہہ کامہ تمو کرہ مژہ  
 آسن دنیاس اندر وَاُولٰٓئِكَ فِيْهِمْ اَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ کتھہ اللہ تعالیٰ تین سارنہ تہزن عملن ہند

أَذْهَبْتُمْ طِبْبَتَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَنْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ  
تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي  
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿۱۰﴾ وَأَذْكَرَ أَخَا  
عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ الشُّدُرُ مِنْ  
بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ

بدلہ پورہ عطا کرہ بیہ بیہ نہ کانہہ آگس تموا آندرہ مئے طریقہ ظلم کرنہ ویومر یعرض الذین کفرؤا علی  
النار بیہ بیمہ دوہہ کافر بروٹھہ کن آنہ من نار جہنم وندہ بیجہہ اذھبتکم طیببتکم فی حیاتکم الدنیا  
واستنتعتم بہا آے کافر توہہ وجھوہ پندہ دنیاچہ زندگی منزرتین نعمون ہمد بن حصہ حاصل کورمت بیہ  
جھوہ تہن ہمد پورہ تمسح تہ فایدہ توہہ تلت بیتہ سپدہ نہ توہہ نہ کانہہ نعمتاہ حاصل فالیومر تجزون عذاب  
الھون بہا کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبہا کنتم تفسقون دون بیہ توہہ ازیتہ  
بدلہ دنہ خواری ہمد عذاب کیا زہ نمہ آسوہ نادنیاس منزحکمر تہ غرور کران ناحق۔ بیہ تمہہ موکھہ کہ تہہ  
کیا آسوہ سخت نافرمانی کران۔ ناحق آوونہ امی موکھہ کہ مخلوقس ہزہ نہ حکمر کرن۔ نس جھنہ مئے وقتہ حق  
حکمر کرہ ٹگ خصوصاً زمینس پیٹہ۔ یہ جھہ انسانہ سدہ حقہ زیادے مذموم واذکر اخا عاد اذ  
انذرت قومہ بالاحقاف بیہ کور و نمہ سمن کافران نعہ قوم عادان ہمدس برادر ہود علیہ السلامہ  
سزوز کریلہ تموپنہ نس قومس تم تھہ جلیہ پیٹہ بسان آس بیتہ خمدار سکہ بند تودہ آس تھہ جلیہ جھہ ونان  
احقاف۔ یہ جھہ اکھ وادیہ تمس منز حضر موس نزدیک۔ سوی ہن قوم کھوڑہ نووکھ خدلیہ سدس  
عذابس۔ فرماوان آسکھہ تھنہ توہہ عبادت کمر و کانہہ ہنز خدالیس وراے ورنہ گہو عذابس گرفتار۔ یہ  
جھہ تھہ کھہ کہہ وقد خلت الشدور من بین یدیه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله کہ بے شک  
ہود علیہ السلامس بروٹھہ تہ تمن پتہ تہ آی امی مضمون خاطرہ واریاہ کھوڑہ ناؤن وال پیغمبر اتان۔ ہود  
علیہ السلامن فرموونہ نس قومس کہ عبادت مہ کمر و کانہہ ہنز معبود برحقس وراے۔ اذکر اخا عاد

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۲۱﴾ قَالُوا آجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا  
عَنِ الْهَيْئَةِ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۲﴾  
قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَابْلَغْكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي  
اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿۲۳﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِيَّتِهِمْ  
قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّطْرِنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيْحٌ  
فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۴﴾ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا  
فَاَصْبَحُوْا الْاَيْرٰى اِلَّا مَسْكِنُهُمْ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ بہ چھٹس کھوڑان ٹھہرہ حقہ کہ بڑہ دوہنہ کس عذابس یعنی قیامتجہ دوہہ کس  
عذابس قَالُوا آجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنِ الْهَيْئَةِ تمودوہس اے ہود کیاہ ژہ چھٹھہ آمت اسہ نشہ امی  
خاطرہ کہ ژہ کیاہ پھر کہ اسہ پنہ نیو معبودو نشہ۔ اس پھیران وال چھنہ۔ قَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ  
مِنَ الصّٰدِقِيْنَ دون ہرگاہ ژہ پوزونہ و نیو منزہ چھٹھہ تیلہ واتناوسہ عذاب سمیک ژہ اسہ بیم کران چھٹھہ  
قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَابْلَغْكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ہود علیہ السلام  
فرمود کہ عذابجہ شیخ خبر چھہ خدلیہ سے یا ژہ بہ چھٹس توہہ واتناوان سہ پیغام بس ہتھہ بہ سوزنہ آمت  
چھٹس۔ مگر بہ چھٹسہ توہہ وہچھان اکھ قومہ خالص جمالتہ چہ۔ چھہ کران یلہ نہ تموئنہ طریقہ حق تسلیم  
کور اتی بن عذابک آثار شروع سپدن گوڈہ فی کھوت اوراہ اکھ قَلَمًا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِيَّتِهِمْ اڈہ  
یلہ تموئہ اوروچھہ بس پکان اوس یہند سے زمینس زراعتس کن قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّطْرِنَا بَلْ  
ہیہ اور تراوہ رود اسہ پیٹھہ۔ ڈپنہ آکھ یہ رود تراوہ ون اور بر چھنہ بلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ بلکہ چھہ یہ  
سُ عذاب بس توہہ دل دل ژھانڈان اسوہ اتھہ اور بس منز چھہ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ واواہ چھہ  
سیت نڈر عذاب چھہ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا الْاَيْرٰى اِلَّا مَسْكِنُهُمْ یہ عذاب گالہ

الْمُجْرِمِينَ ﴿۲۵﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا آتَيْنَاهُمْ مَكَّنًا مِّنْ قَبْلِهِمْ  
 وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَآبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ  
 سَمْعُهُمْ وَلَا آبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ إِذْ  
 كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ  
 يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۲۶﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ  
 وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۷﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمْ

پرستھ چیزس پنہ نس خدایہ سدہ حمہ سیت۔ چنانچہ سہ واولیلہ در او تم تھوونہ کانہہ چیزاہ باقی گالہ  
 ورائے۔ پس سہ ختم کانہہ چیزاہ اوس نہ در پیشی یوان تہنر و لریو جالیو ورائے کذلک نَجْزِی الْقَوْمَ  
 الْمُجْرِمِينَ نتیجہ پاٹھ کیاہ چھہ اُس نافرمان سزاوان وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا آتَيْنَاهُمْ مَكَّنًا مِّنْ قَبْلِهِمْ  
 وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَآبْصَارًا وَأَفْئِدَةً بے شک اُسہ اوس تہن طاقت و تہمت تہن تہن کامین ہند  
 تہن ہند طاقت تو بہ چھنہ و تہمت۔ تمہ اندرہ چھہ مراد تم تصرفات تم جسمانی قوتس تہ مالی قوتس پیٹھ  
 موقوف چھہ۔ یہ اُسہ تہن گن اچھہ تہ دل دہمت۔ سموسیت تم بڈین بڈین مشکلاتن ہند مقابلہ اُس  
 کران۔ مگر کیلہ تہن سون عذاب ووت تھہ مقابلہ ہیو کچھ نہ کینہہ تہ کمر تھہ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ  
 وَلَا آبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ اُس ویت نہ تہن کانہہ فائدہ نہ کونہ اچھو تہ نہ ولو کونہ  
 چیزک اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ کیاہہ تم اُس انکار  
 کران خدایہ سندین آیاتن۔ تو پتہ آدولہ تہن سنی عذاب پیٹھ تم ٹھٹھ تہ محول کران اُس وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا  
 مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اے مکہ کیو لو کو تہمتن گال اُسہ تہن  
 شہرن ہند لو کھ تم تو بہ اُتہ پک چھہ کفر و شرک سببہ۔ قوم تہود تہ قوم لوط، اُسہ واتناوے یہ تہن نشہ  
 پتہ دلیلہ پھیر پھیر دیوہ تم کفرہ تہ شرکہ نشہ پتھ روزن مگر تم رودنہ پتھ کینہہ تہ۔ تمہ موکھ گے تم  
 عذابس گرفتار فَلَوْلَا نَصْرُهُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةٍ پس کونہ سنا کور تہن



# الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ صَلَّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذَلِكَ أَفْكَهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۸﴾ وَإِذْ صَرَفْنَا

مدد تمومعبدوان باطلو اسم معبود برحقس وراے معبود بناوی مت آس خدایہ سُد قرب حاصل کرنے خاطرہ کہ تم بن اسمہ مصیبتیکہ وقتہ بکار۔ جس کونہ سنا آے تم تمین بکارسمہ عذابیکہ ہلاک گوھیکہ وقتہ بَلْ صَلَّوْا عَنْهُمْ مدد کرہ کج کیاہ چھ کتھے بلکہ ژل تم تمین پیٹھ عذاب وَسِعَہ وقتہ وَذَلِكَ أَفْكَهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ یہ سورے تہند تم معبود زائن یا شفیع زائن اوس اہوئیس سموپانے دلہ نڈا اکھ ٹھہر وومت اوس بروٹھمین آیات کریمین اندر آویان کرنے کہ کافرین پیہ وننہ عذابس گر فگار سپدیکہ وقتہ کہ یہ ذلتک عذاب چھہ توبہ ( بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ) تہہ کیاہ آسوہ دنیا س منزنا حق سبخر کران پیہ کیاہ آسوہ تہہ نافرمانی کران۔ سبخر ونا فرمانی ہنز مدت بوزاننہ خاطرہ آوکافرین وننہ کہ وچھو کہ جن اسم سبخر س اندر انسان ہندہ خونہ زیادہ چھہ۔ تمو ترو و سبخر، تہ کفرہ نشہ دست بردار سپد تھ کور تموا سلام قبول۔ مگر توبہ انسان آستہ چھوہ نہ تہہ سبخر تہ کفرہ نشہ بازیوان۔ تمین جن ہندہ مسلمان سپد کج پیٹھ آہ کر تمس منز ذکر چھہ تہند قصد چھہ حدیث شریفین منز پیٹھ پاٹھ آمت کہ یلہ بعثت نبویہ کہ وقتہ جن آئی آسمانی خبرہ بوزنہ نشہ ستارن ہندہ شعلہ سیت پیٹھ رنہ تم سپد حیران کہ یہ کیاہ سنا سپد۔ امیگ ہزہ اسمہ تحقیقات کرن۔ دریافت گوھہ کرن کہ دنیا س اندر کبہ سنا واقعہ سپد نمودار اسمہ سبہ آس آے پتھ رنہ۔ چنانچہ جن ہنزہ مختلف جماثر در آہ مختلف طرفن جن امیگ تحقیقات کرنے تمومے اندرہ اکھ جما تھ واژمکہ شریف۔ تمہ دہنہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ صابن سیت اکس جایہ پیٹھ بطن نخلہ ناواوس۔ اتہ پیٹھ اوسکھ سوق عکاظس جن بغرض تبلیغ دین و اشاعت اسلام تشریف نیک ارادہ۔ اتھ جایہ آس صبح نماز ہران۔ جن ہنزہ جما تھ تہ واژا تھ جایہ بوزکھ وارہ تہند قرآن مجید ہران۔ دہنہ لگ سونو کتھ سمہ کہ دریافت کرنے خاطر آس درامت چھہ۔ سو پتھ پیہ سمہ سبہ نہ آس آسمانی خبرہ بوزتھ ہیکان چھہ۔ بروایت عبد اللہ ابن عباس ہونہ۔ چھہ کہ تم جنات یلہ اوت وات آتہ بوزکھ قرآن مجید۔ دہنہ لگ ژھوپ لگو وارہ بوزویہ قرآن مجید۔ تمہ پتہ یلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازہ نشہ فارغ سپد سم جن سپد مسلمان تو پتہ گئے پنہ

إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ  
 قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّندِرِينَ ﴿۲۹﴾  
 قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَبِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا  
 لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۳۰﴾ يَا قَوْمَنَا  
 إِن جِئْتُمُودَاعِيَ اللَّهُ وَآمَنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ  
 مِّن عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿۳۱﴾ وَمَنْ لَا يُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَإِيسَٰءٌ لِّعِبَادِي

نِس قَوْمِسُن واپس تمن سے کر کے اچھ خبریہ لکھ دنہ ترغیب ایمان انہ نس کن وَاذْهَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ  
 الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ بیہ کمر و تمن لوکن نشہ ذکر تمہ و تک قصہ یلہ اسہ توہہ کن سوزاکہ جماعتہا  
 جہو اندرہ۔ یوت واتھہ لگ تم بوزنہ قرآن مجید سمہ ساتہ نہہ صبح نمازہ اندر قرآن مجید پران آسہ  
 فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا تم یلہ ساری جمع سپد تھہ جایہ یتہ قرآن مجید پر نہ اوس یوان اکھ اگس  
 لگ ونہ ژھوپہ کمر تھہ بوزدیہ کلام فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّندِرِينَ تمہ پتہ یلہ قرآن ہزن  
 ختم سپد تمہ پتہ گئے تم واپس پنہ نس قومس کن یہ سوری واقعہ بیان کرنہ خاطرہ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَبِعْنَا  
 كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ چنانچہ پنہ نس قومس لگ دینہ اے قوم اس آے بوز تھہ اکھ عجیب کتابہ  
 ہند اکھ مضمونہا یوسہ کتاب نازل پچھہ آمزہ کرنہ موسیٰ علیہ السلام یتہ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  
 إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ سوی کتاب پچھہ تصدیق کران تمن کتابن یمہ تمہہ بروٹھہ نازل کرنہ  
 آمزہ پچھہ۔ سوی کتاب پچھہ و تھہ ہاون دینن حقس کن بیہ پچھہ رہنمائی کران سیزہ وتہ کن يَا قَوْمَنَا إِن جِئْتُمُودَاعِيَ  
 اللَّهُ اے میانو بھایو اجابت کمر و تہ ماو خدا انس کن نادودہ و نس یعنی قرآن مجید س یا نبی کریم  
 صلی اللہ علیہ وسلم۔ تہندس ونہ نس اجاہت کران گوکہہ وَاَمْتُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ  
 مِّن عَذَابِ أَلِيمٍ ایمان آو تہ پڑھہ کمر و خدا انس۔ تمہہہ برکتہ کر وہہ تہندس کن گونہن مغفرت۔ بیہ رتھو نہ

الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۳۳﴾  
 أُولَئِكَ يَوْمَئِذٍ يَخْلُقُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزِمْ  
 بِمُخْلِقَتِهِنَّ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُسْجِعَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۴﴾  
 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا  
 بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۵﴾ فَاصْبِرْ  
 كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ

توبہ آخر صحیحہ کڈرہ عذابہ بشرہ وَمَنْ لَا يُحِبُّ دَارِئِي اللَّهُ قَلِيْسَ يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ نَسِ اَكْهَاءِ اجابت كره  
 نہ خدایہ سب سے نادو وہ ناس اودہ سہ بیچہ نہ زمینہ کس منہ حصص منز گزہوت تہ زلجھ۔ خدائس رفنہ بشرہ عاجز  
 کمر تھ پٹن پان بچاوتھ۔ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ نہ ہتھ تہنہ ہ خاطرہ خدائس وراے کانہہ حمایت  
 کرہ وناتہ مددگارہ اُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ امہ قسمک لوکھ تمکن پتہہ جایہ خیال آسہ کہ اسہ کیاہ بیچہ  
 بچاوتھ تہ مولکوتھ کانہہ تم ہتھ نہہ گرائی اندر اُولَئِكَ يَوْمَئِذٍ يَخْلُقُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
 وَلَمْ يَعْزِمْ بِمُخْلِقَتِهِنَّ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُسْجِعَ الْمَوْتَىٰ کیاہ یہ کتھ ہتھنا زمانان تم کہ یم پروردگارن آسمان تہ زمین  
 پادہ کر توتہ تھوکنہ سہ تم پادہ کرنہ سیت نس پروردگار س ہتھ پور، قدرت قیامتک دوہ مردہ لوکھ بیہ  
 زندہ کرہ نس پیٹھ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ گوژہ نانہ تھ پیٹھ قدر تہ دول آسن۔ سوے پریتھ  
 چیزس پیٹھ قدرہ دول ہتھ۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ بیہ سمہ دوہنہ کافرین نار ہتھنہ  
 بروٹھکن انہ دپنہ بیچہ اَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ کیاہ یہ دوڑن ہتھنا پوز تہ امر واقعی اتھ آسودہ دنیاس اندر  
 نفی وانکار کران قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا دین خدایہ سنزدرے واقعی ہتھ پوز تہ برحق قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ  
 بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اللہ تعالیٰ فرماوکیہ دون ژہو توبہ امہ ہتھنہ عذابک مزہ۔ کیاژہ تہہ آسودہ ناتھ  
 انکار کران فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ یلہ معلوم سہد کہ تمکن بیہ امہ کفر و  
 انکارک انتقام ہینہ لہذا کمر و تہہ صبر یار رسول اللہ کافرین ہندس تکلیفس پیٹھ ہتھ پاتھ صبر کور ہمتہ والیو

# يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ط بَلَغُوا فَعَلٌ يُّهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ۝۳۵

یومِ غمروز، تمہے سے ڈھانڈو دیکھنے پر خاطرہ جلد انتقام سے تمہیں عذاب الہی سے گرفتار سپردن کا لگھڑی یومِ میرون ما یوعدون لکم یلبثوا الا ساعۃ من نهار بلوغ فعل یھلک الا القوم الفاسقون سمہ دوہہ وچھن تم تھے عذاب الہی سے تمہیں وعدہ یوان چھہ کرنے تمہے دوہہ پیہ بوزنہ تمہن زن تم دنیا سے منرود مت آس اکہ سے گرہ۔ یہ آس تمہن کتھاہ واتہ ناون۔ سو آکھہ واتا ونہ۔ تباہ تہ ہلاک چھنہ یوان کرنے مگر نافرمان تہ کافر۔



## سُورَةُ مُحَمَّدٍ مِّنَ الْقُرْآنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 الَّذِیْنَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝<sup>۱</sup>  
 وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ  
 وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَتْ عَنْهُمْ سَبِیٰتِهِمْ وَاَضَلَّ بِاللّٰهِمْ ۝<sup>۲</sup>  
 ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا  
 اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذٰلِكَ یَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ۝<sup>۳</sup>

الَّذِیْنَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ سم لو کہ ہوس دینس انکار کرنہ سیت پانہ کافر  
 سہدی بیہ رجھ لو کہ تہ پتھ خدایہ سنزہ وتہ نشہ پتھ پاتھ کافرن ہند زیتھ کران آس، ضائع کرہ اللہ تعالیٰ  
 ان تہزہ سارے رتھ عملہ ایمان قبول نہ کرنہ مو کہ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نَزَّلَ  
 عَلٰی مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرَتْ عَنْهُمْ سَبِیٰتِهِمْ وَاَضَلَّ بِاللّٰهِمْ تم بدل گے تم لو کہ سمو ایمان  
 اون کئس خدائس بیہ کر یکھ رتھ عملہ۔ بیہ او کہ ایمان تھ سارے یہ نازل او کرنہ حضرت محمدؐ پیٹھ  
 تہ زو کھ سورے پز پاتھ پنہ نس خدایہ سند طرفہ۔ اللہ تعالیٰ کرہ تھدین گو نمن مغفرت بیہ سنبھالہ تہ  
 رت کرہ تھمد حال دنیا تہ آخرتس اندر۔ دنیا س اندر تمن توفیق طاعات دنہ سیت، آخرتس اندر  
 نجات و کامیابی عطا کرنہ سیت ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ  
 مِنْ رَبِّهِمْ یہ چھہ امی مو کہہ کہ بے شک سمو لو کو انکار کور تم پک غلط وتہ پیٹھ۔ بیہ سمو لو کو ایمان اون  
 تہ پڑھ کھر کہ تم پک صحیح وتہ یوسہ تھمدس پروردگارہ سیدہ طرفہ آس۔ غلط وتہ پکن باعث ناکامی  
 آس تہ صحیح وتہ پکن باعث کامیابی آس چھہ ظاہر کذٰلِكَ یَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ تھے پاتھ چھہ



سَيَهْدِيَهُمْ وَيُصْلِحُ بِاللَّهِ ۝ وَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةُ عَرَفَهَا اللَّهُ ۝  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ  
أَقْدَامَكُمْ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا أَعْمَالَهُمْ ۝  
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ  
مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهُمْ ۝

تمن و تھ منزل مقصودج بیہ تھا وہ تھند حال وارہ پر تھ قبر منزہ میدان محشرس منزہ پہل صراطس  
پیٹھہ، باقی مواقعن اندر تہ **وَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةُ عَرَفَهَا اللَّهُ** بیہ و اتا وہ تمن تھ جنٹس منزہ سج زان تمن  
پورہ پورہ کرہ تاکہ بروٹھم مغفرت تہ زان نہ آسجہ باوجود اولتہ پر تھہ جٹیگاہ پنہ جلیہ پنہ بس پنہ بس  
منزل و مقاس تکلیف یا ژھانڈنہ تہ تلاش کرنہ و رآے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ**  
**وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ** اے بالیمانو اگر تھہ خدایہ سدس دیس، (تھندس پیغبرس) مدد کمر و سوتہ کر  
توہہ مدد بیہ در اوہ تھند کھورد شمن سیت مقابلہ کر بیجہ وقتہ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ**  
بیہ سمولولو کو انکار کور تھندہ خاطرہ چھہ بلہ تم دنیا س اندر بالیمان سیت مقابلہ کرن تباہی تہ پساہی۔ بیہ  
کرہ تھزہ عملہ اللہ تعالیٰ آخرتس اندر ضائع تہ برباد **ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا**  
**أَعْمَالَهُمْ** یہ خسران دارین تھہ تمن امی موکھہ کہ تمو کورنا پسند سہ دین تہ تم احکام تم اللہ تعالیٰ  
آن نازل کمر تہی موکھہ کرہ اللہ تعالیٰ تھزہ عملہ ضائع **أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ**  
**عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ** کیاہ تم چھنا پیچیر متی اورہ پورز مینس منز تالیجہ و چھہ بن کیاہ انجام بھہ  
تمن نافرمان لوکن ہند سپد مت تم تمن بروٹھہ آس **دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهُمْ** اللہ تعالیٰ  
آن گال تم مولہ موجبہ تمن کافرن ہمدہ خاطرہ تہ تھہ تہی قسٹک معاملہ **ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ**  
**آمَنُوا وَإِنَّ الْكُفْرَانَ لَمَوْلَى لَهُمْ** یہ تھہ ام موکھہ زہ اللہ تعالیٰ تھہ مدد گارہ تہ کار سازہ بالیمان تھی





أَنْهَرُ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ اسِنٍ وَأَنْهَرُ مَنْ لَبِنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَرُ  
 مِنْ خَبْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ هَ وَأَنْهَرُ مَنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ  
 فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي  
 النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ  
 إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ  
 مَاذَا قَالَ إِنْغَا ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ

سیت سمن پنہ نین پیچہ عملن زینت دنہ آو تو پتہ کمر تمو پتہ نین نفسہ چن خواہش ہنز پیروی۔ مثل  
 الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ اسِنٍ حلیق مقیم تہ پر ہیز گارن سیمک وعدہ کرنہ آو  
 تہج کیفیت ہتھہ بیہنہ کہ ہتھہ منز آسن واریاہ کولہ تہ جو یہ تمہہ آبہ چہ نئس آب نہ مزہ ڈولمت آسہ ہتھہ نہ اکھ  
 ذرہ تغیر سپد مت آسہ۔ نہ مزس منز نہ مشتکس منز نہ رخکس منز وَأَنْهَرُ مَنْ لَبِنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ بیہ آسن  
 واریاہ کولہ تہ جو یہ تمہہ دودہ چہ سیمک مزہ تہ ذائقہ نہ خراب گو مت آسہ وَأَنْهَرُ مَنْ خَبْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ  
 بیہ آسن واریاہ کولہ تہ جو یہ شرابہ چہ ہتھہ منز سیٹھا لذت آسہ چینہ والین ہندہ خاطرہ وَأَنْهَرُ مَنْ عَسَلٍ  
 مُصَفًّى بیہ آسن واریاہ کولہ صاف کرنہ آمتہ بلنجہہ چہ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ  
 بیہ آسن تہمدہ خاطرہ پر ہتھہ تہ قسمک میوہ۔ بیہ پنہ نئس پروردگارہ سندہ طرفہ بوڈ مغفرت تہہ منز اثرہ  
 برو تھہ۔ ہم لوکھ چھا کمن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ تین لوکن ہی سم ہمیشہ  
 آسن نار جہنم اندر۔ تو پتہ یکن تم چاونہ رسرہ وون نئس آندر من دوتہ دوتہ کر کیہ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ  
 إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ بیہ ہتھہ بعضہ لوکھ یعنی منافق سم تہمدہ تبلیغ و وعظکہ وقتہ ظاہرہ پاٹھ  
 کن وارتھہ تہمد کلام بوزان ہتھہ۔ ای محمد ﷺ تالیفکہ یلہ تم تہمزہ مجلسہ نشہ ووتھان ہتھہ تہ نیران ہتھہ قَالُوا  
 لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ إِنْغَا پر ژھان چہ بعضہ علمہ والین صحابہ صابو آندرہ یہ کیاہ سافر مونی ﷺ  
 کر تمن وونی یلہ آس ہتھہ مجلسہ منز ہتھہ آس، گو یا ہتھہ ظاہر کران کہہ سو تھہ آس نہ قابل توجہ۔ آسہ کورنہ

وَاتَّبِعُوا أَهْوَاءَ هُمْ ﴿۱۶﴾ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿۱۷﴾ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ  
فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ ﴿۱۸﴾  
فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

تو کن توجہ اُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ سم گئے تھے لو کہ تم من موہر کٹر اللہ تعالیٰ ان تہمدین وکن پیٹھ۔ تم موکہ رود تم ہدایتہ نشہ دور۔ یہ پک تم پنہ نفسہ جن خواہش پتہ پتہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ بیوے منزہ تم لو کہ راہ راستس پیٹھ چھہ تم چھہ اللہ تعالیٰ زیادہ ہدایت عطا کران یہ چھہ پر ہیز گاری ہند توفیق عطا کران یعنی تم چھہ خدیہ سندین احکامن پیٹھ پور عمل کران۔ امہ پتہ چھہ منافقن ہند حال بیان یوان کرنہ کہ تم چھہ قرآن مجیدہ احکام و دلائل بوزت تہ نصیحت مانان فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا معلوم چھہ سپدان کہ تم چھہ انکار کران قیامتس۔ سو کیاہ گڑھہ بن تم ہنکہ معکہ ادہ رٹن تم نصیحت ہر گاہ تی چھہ تیلے قیامتہ نزدیک چھہ کیاہہ تمک ڈیٹھ کتی علامتہ ظاہر سپد سمہ چھہ۔ چنانچہ خود بعشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھہ علامت قیامت، شق قمر چھہ علامت قیامت۔ نبوٹک اپزد عومے کرہ وین ہند ظاہر سپدان چھہ علامت قیامت فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ سمہ سائہ سو قیامت تم نشہ ولتہ تمہہ سائہ کتھہ پاٹھ ہیکن تم نصیحت رٹھہ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ یلہ توہہ فرماں بردارن تہ نافرمان ہند حال بوزوہ لند آگڑھہ تہند گذشتہ زمانک پاٹھ آئینہہ زماںس منزتہ یہ کتھہ ہند پور یقین تھاؤن کہ کانہہ معبوداہ چھہ اللہ تعالیٰ اس ورائے۔ اتھ پیٹھ روزوٹھہ قائم یہ روزوٹھہ مغفرت منگان پنہ نین صوری خطا عاں ہندہ خاطرہ یعنی تہندہ معصوم آسجہ وجہہ آسہ نہ سہ فعل فی الحقیقت خطا مگر سمہ وجہہ کہ سہ آسہ سپد مت نخل تمہہ خوتہ افضل کامہ سیت مشغول سپدنس۔ لہذا آسہ سہ تہندس شان ارفعس کن نظر کٹر تھہ ظاہری صورتس منز خطالنبہ یوان۔

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ<sup>۱۹</sup> وَيَقُولُ الَّذِينَ  
 آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا  
 الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ  
 الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ<sup>۲۰</sup> طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ  
 فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ<sup>۲۱</sup> فَهَلْ

بہ آسو منگان مغفرت با ایمان مردن بہ با ایمان زنان ہندہ خاطرہ تاکہ تدارک روزہ سپدان تمن چیزان  
 تم گل چھہ ٹھندہ شانہ کس کمال دین یا ٹھندین آستین ہندس کمال دینس وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ  
 وَمَثْوَاكُمْ اللہ تعالیٰ چھہ تھندہ پچنگ، یکک بہ گھہہ تک، ٹھہر تک بہ روزہ تک سوزی حال زمانان  
 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ بہہ چھہ ونان تم لوکھ سموا ایمان اون تم پریتھہ وقتہ چھہ  
 آسان سمہہ کتھہ ہند مشتاق کہ کونہ چھہ کانہہ نوو سورہ شریفہ نازل گھہان تاکہ آس بوزہ ہو کلام خدا  
 ایمان گھہہ ہا تازہ بہہ بوزہ ہو تازہ احکام تمن ہند ثواب بہ کہہ ہو حاصل۔ خصوصاً ہر گاہ جمادک حکم بہ تھہ  
 منز آسہا آس گرہ ہو خدیہ سزہ وتہ اندر جماد **فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ** تو پتہ یلہ  
 نازل چھہ یوان کرنہ کانہہ مضبوط ناقابل نسخ، صاف صاف مضمونک کانہہ سورہ شریفہ تھہ منز چھہ اتفاقاً جماد  
 کرنہ تک حکم بہ آسان **رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ**  
 تھہ ساتہ گھہہہ نظر دن تمن لوگن گن بہ ہندین وگن اندر نفاق بیسار چھہ۔ تمن چھہ وہ گھہان دستھ۔ تم  
 چھہ وچھان توہہ گن یار رسول اللہ زن موتن پان چھہ آسان ہو موت تمہہ سیت چھہ وہ ژھٹھ آسان  
 پھیر مژساری سے پانس **فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ** تمن آہہ شہمت۔ تم سپدن عنقریب بلاہہ گرفتار۔ اگرچہ تم  
 چھہ فرصت کہہ وقتہ واریاہ کتھہ اطاعتچہ بہ فرماں برداری ہنزہ کران لیکن تھندہ اطاعتچہ بہ تھن ہنز حقیقت  
 سہز معلوم جمادک حکم نازل سپدنہ سیت **طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ** تھندہ خاطرہ اوس بہتر ٹھنہز  
 فرمانبرداری کرن بہہ توہہہ رت جواب پیش کرن۔ سمعنا واطعنا دمن **فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُوا اللَّهَ**



فِي بَعْضِ الْأُمْرِ وَاللَّهُ يُعَلِّمُ أَسْرَارَهُمْ ﴿۳۷﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ  
 الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿۳۸﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا  
 مَا آسَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿۳۹﴾ أَمْ حَسِبَ  
 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿۴۰﴾  
 وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَبِيهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ  
 الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿۴۱﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ

سیت کہ سمو منافقو دوپ تمن لوکن تمن ناہند چھہ قرآن مجید ک نبی کر سمس پیٹھ نازل سپدن یعنہ  
 یسودن کہ اسی گرو تہنز فرمانبرداری بعضے معاملن اندر۔ اس چھہ پن پان بظاہر مسلمان تہز وان مگر  
 اندرونی چھہ اسی تو ہی سیت۔ یمہ کتھہ چھہ سم منافق ژورہ پاٹھ کران۔ مگر اللہ تعالیٰ چھہ زانان تہنز ہ  
 سارے کنہ پھسرایہ پورہ پاٹھہ کفیف اذ اتو قتھم الملائکۃ یضربون ووجوہہم وادبارہم نہس کیاہ سنا  
 حال آسہ ٹہند سمہ سارے زو کڈن تمن ملایک۔ تے آس تہندین تھن تھاپرہ لایان بیہ تہنز چھہ دگان  
 ذلک یا انہم اتبعوا ما اسخط الله وکرہوا رضوانہ فأحبط اعمالہم یہ امہ طریقہ ٹہند مران چھہ اسی  
 موکھ کہ تم پاک تمہہ و تہ تھہ بیزار چھہ اللہ تعالیٰ بیہ کرہ سمو نا پسند تمہہ عملہ سمو سیت خدایہ سزہ  
 رضامندی حاصل سپدہ چھہ نہس کرہ اللہ تعالیٰ ان تہنز ہ سارے عملہ ضایع۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي  
 قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ کیاہ تم لوکھ بہندہ ین وکن اندر نفاق بیمار چھہ تمن چھا  
 گمان کہ اللہ تعالیٰ کیاہ کر نہ تہندین وئی عداوتن تہ بفضن ظاہر وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ ہر گاہ اسی یڑھو اسی  
 ہاووہ توہیہ تم لوکھ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَبِيهِمْ توہیہ چھو کہ تم ہرزہ ناومت تہند یو علامتو سیت۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ  
 فِي لَحْنِ الْقَوْلِ بیہ پرزہ ناویو کہ تہہ تم تھن ہندہ طرزہ سیت کیا زہ تہنز ہ کتھہ چھنہ پرزہ دلہ پیٹھ  
 دو تھان۔ بیہ چھہ پزیک اُتدلس پیٹھ پوان وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ اللہ تعالیٰ اس چھہ خبر تہنزن  
 سارے کائین ہنز۔ سہ ویہ مسلمان پنہنہ اخلاص مزور۔ منافقن نفاق تہ دھوکچ مزور۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى

مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ لَوَبَلَوْا أَخْبَارَكُمْ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا  
 تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرَّوَاللَّهَ شَيْئًا وَسَيَحْطُ أَعْمَالُهُمْ ۗ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا  
 أَعْمَالَكُمْ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ  
 مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۗ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى  
 السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۗ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَ أَعْمَالَكُمْ ۗ

تَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ بے گرواؤں ضرور توہمہ سارنے آزما نیش مشکل تہ  
 سخت احکامو سیت۔ بیٹھ ظاہر سپدہ توہمہ منزہ کم ہتھہ جماد کردن بے کم ہتھہ جمادہ کین تکلفین پیٹھ صبر  
 کردن تہ ثابت قدم روزہ دن۔ بے گرواؤں تحقیقات تہندین سارنے حالائن ہند۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرَّوَاللَّهَ شَيْئًا وَسَيَحْطُ  
 أَعْمَالُهُمْ بے شک سمولو کو کفر کور بے رتھہ ہتھہ لو کہ خدایہ سزہ وتہ نشہ لوکن دیتھہ نہ دین اسلام  
 قبول کرنے بے کتر کہ مخالفت تہغیر خدایہ سز تہن نشہ ہدایت صاف ظاہر سپدہ پتہ، تم ہمکن نہ کانہہ نو  
 نقصان واتہ تاوتھ خدائس کتھہ چیزہ سیت۔ اللہ تعالیٰ کردہ تہزہ سارے کامہ ضائع تہ برباد یَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اے باایمانو تہہ کتر وفرماں برداری خدایہ سزہ  
 بے تہغیر خدایہ سز بے کتر وپتہ عملہ ضائع۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ  
 كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ بے شک سمولو کو کفر کور بے کتر کہ خدایہ سز توہہ بندہ، لوکن دیتھہ نہ تہمہ  
 وتہ پتہ توپتہ مود تم اتھہ حاس پیٹھ ادہ اللہ تعالیٰ کردہ نہ ہرگز تہندین گونہن مغفرت فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا  
 إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَ أَعْمَالَكُمْ پس اے مسلمانو تہہ مہ سپد وپتہ

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا بُيُوتَكُمْ  
 أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْئَلُكُمْ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّ يَسْئَلُكُمْ هَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخُلًا  
 وَيُخْرِجُ أَضْعَانَكُمْ ۚ هَٰئِنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ عَنْ نَفْسِهِ ۗ

ہمت تہ سست۔ تہہ مہہ دیو کافر ن دعوت یوزے صلحس کن تمہہ سیت ہجھہ ذلت تہ پستی ننان تہہ چھوہ  
 تھہ تہ غالب ہیہ چھوہ توہہ پانہ خدایاری تہ مدد کرنہ خاطرہ سہ کرہ نہ ہر گز تہنزن عملن ہندس ثوابس  
 اندر کی إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا بُيُوتَكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْئَلُكُمْ أَمْوَالِكُمْ یہ  
 دنیا ج زندگی چھہ مگر گنڈن تہ تماشہ۔ اگر کانہہ پن جان و مال ای دنیا خاطرہ بچاوہ تہ یہ جمع کیتہ کالہ  
 خاطر چھہ تہ امیک حاصلہ کیاہ چھہ آتھ بدل ہر گاہ تہہ ایمان آوہ تہ خدائس کھو ترویحے ایمان و تقوی اختیار  
 کمر و تھہ منز جہاد بالنفس و المال شامل چھہ سہ کرہ توہہ پتہ طرفہ پور مزدور عطا۔ ہیہ چھہ سہ توہہ نشہ  
 کنہ نفعک تہ فایدک طلب گار۔ توہہ نشہ چھہ مکان مال تہندئس تمئی عطا کورمت چھوہ ان  
 يَسْئَلُكُمْ هَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخُلًا وَيُخْرِجُ أَضْعَانَكُمْ ہر گاہ اللہ تعالی توہہ نشہ سہ مال معہہ تہ زبردستی سان،  
 تہہ کمر و تھہ منز بخل، توہہ سپہہ مال خرچ کرن ناگوار۔ اللہ تعالی کڈہ تہ ظاہر کرہ تمہہ سیت تہندین دلن  
 ہند خیالات یعنی مال خرچ کرہ بچ ناگواری هَٰئِنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ  
 يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ عَنْ نَفْسِهِ توہہ بوزووارہ کہ توہہ گوہ ناتسے یکن نادایوان چھہ دنہ  
 خدایہ سزہ ہو تہ اندر مال خرچ کرہ کس اندر حالانکہ تمیک اوس توہہ پانس نفع لیس بخل کران چھہ خرچ  
 کرہ کس اندر سہ چھہ بخل کران مگر پانس یعنی پن پان چھہ نفع داکئی نشہ محروم کران وَاللَّهُ الْعَزِيزُ

وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا  
غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝

وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ورنہ اللہ تعالیٰ جھنہ بے نیاز۔ سہ جھنہ محتاج کانسہ کن بلکہ چھوہ نمی کن محتاج  
وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ہر گاہ تہہ بتھ پھر و تہنزہ فرماں برداری لٹھہ  
سہ آنہ توبہ بدل بھیں اگس قومس یم نہ تمہ پتہ توبہ ہی آسن۔ بلکہ آسن نہایت فرماں برداریہ کام ہیہ  
تمہی لٹھہ ہیہ۔





## سُورَةُ الْبَنَاتِخِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ  
 مَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝  
 وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي  
 قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۝ وَاللَّهُ جُنُودُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

بے شک اسہ کور توہمہ عطا یار سول اللہ نین فتح یعنی صلح حدیبیہ۔ نئس سبب سپد سارنے فتح ہند لئغفر لک اللہ ماہتلم من ذنئک وما تاآخر مئتھ اللہ تعالیٰ مغفرت کرہ توہمہ بروظھمن تہ پئتمن صوری خطاءن وئتم نعتہ علیک وئھدئک صراطا مستقیمًا بیہ سم پن احسانات اللہ تعالیٰ توہمہ نسبت کران رود مثلاً نبوت، قرآن مجید بیہ واریاہ علوم، واریہن اعمالن ہند ثواب تمن احسانن اندر کرہ بیہ زیادتی تہ تکمیل بیہ کرہ توہمہ یہ نعمت تہ عطا کہ تہمدہ واسطہ سپدن واریاہ لوکھ مسلمان تمہ سیت سپدن تہمدی درجات تھد۔ توہمہ سپدہ اجر و ثواب و قرب زیادہ عطا بیہ مئتھ توہمہ پکنان وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ راہ راتئس پیٹھ کانسہ ہندہ مزاحمتہ وراے۔ وئصُرک اللہ نَصْرًا عَظِيمًا بیہ مئتھ اللہ تعالیٰ توہمہ دشمن پیٹھ یاری کرہ۔ سوے یاری مئتھ منزعت تہ غلبہ آسہ۔ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ سہ معبود برحق گووسی سم پادہ کور با ایمان ہندین دن اندر سکون قرار تہ تحمل۔ مئتھ تمن ایمانس پیٹھ ایمان ہرہ تہ زیادہ سپدہ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہروردگارہ سنزے ہتھ آسمان تہ زمین ہنز لشکر۔ ملائکہ وغیرہ مخلوقات۔ ہر گاہ سہ یڑھہ آنا فنا منز بیہ سہ کافر ن

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ وَيُعَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ ذَائِرَةُ السَّوْءِ ۝ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

زبردست انتقام مگر **وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا** اللہ تعالیٰ ہرچھ سورے زانہ ون، پورحمتہ وول۔ تس ہجھ خبرکہہ ساتھ ہجھ لڑائی کرن مفید تہ کہہ ساتھ ہجھ صلح کرن مفید۔ سہمہ ساتھ جنگ کرہ نس منز مصلحت آسہ تہمہ ساتھ ہجھ تہمہ کوئے حکم فرماوان۔ تہنز گڑھہ چون وچراورائے تہہ منز شمولیت کرن۔ سہمہ ساتھ صلح کرہ نس منز مصلحت آسہ تہمہ ساتھ ہجھ تہمہ کوئے حکم فرماوان۔ تہند گڑھہ نہ تہہ اندررن و افسوس کرن۔ تہنز گڑھہ پریتھہ حاکس منز اطاعت کرن **لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا** تہہ تہمہ اطاعت و فرماں برداری سیت ولتہ ناوہ اللہ تعالیٰ باایمان مردن تہ باایمان زنان تہمن جتنن منز سہمو منز کولہ تہ جوہہ پکان آسن۔ تمنے جتنن منز روزن تم ہمیشہ۔ بیہ تہہ اللہ تعالیٰ امہ اطاعت سیت تمن باایمان ہندی گناہ دور کرہ۔ بیہ بیان کرنہ آو۔ سہی ہجھ اللہ تعالیٰ اس نشہ بڈا میابی **وَيُعَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ** بیہ تہہ اللہ تعالیٰ منافق مردن تہ منافق زنان، بیہ مشرک مردن تہ مشرک زنان تم گمان بد آس تھوہ ون خدا لیس نسبت کہ خدا کرہ نہ مدد تہ یاری حضرت محمدس تہ مسلمان **عَلَيْهِمْ ذَائِرَةُ السَّوْءِ** بیہ پیچہ مضیبت پنے تمن پانس۔ تمن ہجھ عنقریب پوت کھوریوہ ون۔ چنانچہ مشرک سپد تہمہ پتہ کینہ ون دوہن تان ختم۔ منافقن کنبہ عمر ڈاکی افسوس و حسرتس اندر۔ اسلام رود۔ روز بروز ترقی کران۔ منافق رُودر روز بروز خوار و ذلیل گڑھان۔ بیہ گوکہ دنیا س اندر **وَحَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا** بیہ ہجھ آخرس اندر تہندہ

وَاللَّهُ جُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ①  
 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا أَوْ مُبَشِّرًا أَوْ نَذِيرًا ② لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ③  
 إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ  
 فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ  
 اللَّهُ فَمَنِّي وَبِهِ جَزَاءُ عَظِيمًا ④ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلْفُونَ مِنْ

خاطرہ ای زہ اللہ تعالیٰ آسہ تمن بیزارتہ غضبناک بیہ کرہ سہ تمن پندرہ رحمتہ نشہ دور۔ بیہ تھوون تھندہ  
 خاطرہ تیارنار جنم یوسہ سیٹھا بیچہ جای بچہ تھندہ واتنہ خاطرہ وَاللَّهُ جُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ  
 اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا پروردگارہ سزے بچہ آسمان تہ زمین ہنز لشکر۔ سہ چہ سیٹھا جمتہ دول تہ لہذا  
 چہ سہ تھندس عقوبتس اندر توتف کران إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا أَوْ مُبَشِّرًا أَوْ نَذِيرًا بے شک آسہ سوزہ  
 تہہ یار رسول اللہ امتہ جن عملن ہند گواہ قیامت دوہ بشارت فرماوہ ون باایمان تہ بیم کرہ ون کافرن۔  
 اے مسلمانو آسہ سوز تم پیغمبر لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ بیٹھ تہہ ایمان انوخد ایس۔  
 بیہ تھندس پیغمبرس۔ بیہ بیٹھ تہہ تھندس دینس مدد کتر وہیہ بیٹھ تہہ تھند سیٹھا تعظیم کتر۔ اعتقاد  
 تھا وکہ سہ چہ موصوفہ صفات کمال۔ مزہ تہ پاک نفا بیہ نشہ۔ بیہ کتر و تہنز اطاعت وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً  
 وَأَصِيلًا بیہ بیٹھ تہہ پیاکی تھند یاد کران آسہ جس تہ شامس إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ  
 پز پاتھ تم لوکہ توہہ سیت یار رسول اللہ حدیثہ کہ دوہہ جہادہ خاطرہ بیعت آس کران تم آس فی الحقیقت  
 بیعت کران خدا ایس سیت۔ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ گویا خدا یہ سندا تھہ چہ تھندین اتھن پیٹھ فَمَنْ  
 نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ پس ایس اکھاہ یہ معاہدہ پھڑ اوہ یعنی بجای اطاعت کرہ مخالفت تمہ عمد  
 پھڑ اونک وبال تہ گوناہ چہہ تس پانس وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنِّي وَبِهِ جَزَاءُ عَظِيمًا بیہ ایس اکھاہ  
 پورہ کرہ تھہ عمدس ایس تم خدا ایس سیت کور تس دیہ سہ عنقریب بد مزور سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلْفُونَ



أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝۱۳ ۝ وَبِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝  
يَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۝ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۴  
سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا  
ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُل لَّن  
تَتَّبِعُونَا كَذٰلِكَ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَمَيَّقُونَ

وعدہ بوز تھ ایمان آؤ تہ گو وجان ورنہ و مَن کُم نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا  
تم نہ و عید بوز تھ تہ پڑھ کرن خدا ئس تہ تہندس رسولس ، ادہ متہ کرن۔ اُسہ چھہ تم پڑھ نہ کرہ  
و مین تہ منکرن ہندہ خاطرہ دزہ ون نار تھوومت۔ با ایمان تہ کافر ن ہندہ خاطرہ الگ الگ قانون مقررہ  
کرہ ئس پیٹھ گوہہ نہ تعجب کرن و بِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ  
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ سے چھہ حکومت تہ سلطنت آسمان تہ زمین ہنز۔ سہ چھہ اختیارہ و ول ئس  
خوش کر لیس ئس کرہ مغفرت۔ ئس خوش کر لیس ئس کرہ عذابس گرفتار۔ با ایمان ہندہ خاطرہ چھہ تہ  
یوڑھت مغفرت کرن۔ کافر ن ہندہ خاطرہ عذابس گرفتار کرن۔ سہ چھہ سیٹھہ مغفرت کرہ ون ،  
سیٹھہ رحم کرہ ون۔ ہر گاہ کافر تہ توبہ کرن تہ ایمان انن تم تہ کرہ مغفرت سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ  
إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ وون و ن توبہ اے مسلمانو تم ہم سفر حد ہیئس  
نہہ چھہ روزہ ون لوک آنن تمہ ساتہ نہہ ہیو پکن جنگ خیبرس کن تیک مال غنیمت حاصل کر نہ خاطرہ  
کہ اُسہ تہ ویو نہر نیر نہ۔ اسی پکو توبہ ہی سیت خیبرس کن یُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ تم چھہ یڑھان  
امہ سیت خدایہ سندس کلامس بدل کرن۔ خدایہ سند حکم اوس کہ تم لوکھہ سفر حد ہیئس شامل اس تمین  
ورائے گوہہ نہ جنگ خیبرس کانہہ تہ نیرن قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذٰلِكَ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ نہہ  
فرما دیو کہ اے لوکو نہہ ہیو نہ اُسہ سیت ہرگز شامل سپد تھ تھہ پائٹھ چھہ اللہ تعالیٰ ان بروٹھ  
فرموومت فَمَيَّقُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا تم دنیوہ تورہ توبہ چھوہ سانہ فایدک از زون یوان ، اُسہ

بَلْ تَحْسُدُ وُنَّابِلٌ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ①  
 قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّ عَوْنٍ إِلَى قَوْمِ أُولَىٰ بِأَيْسٍ  
 شَدِيدٍ ثِقَاتٍ لَوْ نَهَمُوا وَيُسَلِّمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا  
 حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ②  
 كَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ  
 حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

سیت وچھوہ حسد کران۔ بَلْ تَحْسُدُ وُنَّابِلٌ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا از رزون تہ حسد وچھنہ۔ بلکہ وچھنہ تمہن اصل  
 مطلب فکر ی تران۔ یہ وچھنہ تم زنان کہ یہ ماچھہ تمہن سفر حدیبیہ نشہ بے وجہ پتھ روز نگ سزا۔ تمہ  
 علاوہ وچھنہ تمہن فکرہ تران کہ یہ حکم سپد نازل وحیہ کہ ذریعہ اتھ منز وچھنہ حسد آسس تعلقے قُلْ  
 لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّ عَوْنٍ إِلَى قَوْمِ أُولَىٰ بِأَيْسٍ شَدِيدٍ ثِقَاتٍ لَوْ نَهَمُوا وَيُسَلِّمُونَ تہہ فرماو و یا  
 رسول اللہ تمہن یم حدیبیہ نشہ پتھ روزہ و تین بدوین، ای لو کو ہر گاہ توہہ جنگ خیبر س منز شامل  
 سپد نہ، تہ کیاہ تمہہ چھہ۔ ہر گاہ توہہ واقعی پز پاٹھ شوق وچھہ جہاد کرہ ٹک ثواب حاصل کرنہ خاطرہ سن  
 توہہ واریاہ موقعہ چنانچہ عنقریب بیہ توہہ ناددہ آگس توہس سیت جہاد کرنہ خاطرہ تم سخت جنگ کرہ  
 ون آسں مراد وچھہ امہ قومہ اندرہ فارس تہ روم۔ تمہہ کرہ تمہن سیت جہاد یوتان تمہن آن مانن اسلام  
 قبول کرنہ سیت یا جزیرہ ونہ سیت فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا پس ہر گاہ تہہ تمہہ ساتہ خدیلیہ سُد  
 حکم مانو، جہاد س نیر و اللہ تعالیٰ کرہ توہہ رث مزوری عطا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا  
 أَلِيمًا ہر گاہ تہہ تمہہ ساتہ تہ روگردانی کمر و، وچھہ پاٹھ توہہ بروٹھ تہ روگردانی کر مشر وچھوہ اللہ تعالیٰ کرہ  
 توہہ کڈر عذاب۔ البتہ جہادہ نشہ وچھہ بعض لو کہ مستثنیٰ تہ کَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ  
 حَرْجٌ چنانچہ وچھنہ انس پیٹھ کانہہ گوناہ بیہ وچھنہ لگس پیٹھ پیٹھ یار س پیٹھ کانہہ گوناہ ہر گاہ تم  
 جہاد س شامل سپد نہ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ پس فرماں برداری

الْأَنْهَرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعِدُّ بِهِ عَدَا بَابِ الْإِيمَانِ ۙ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ  
 الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ  
 فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۙ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً  
 يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۙ وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ  
 كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ  
 عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۙ

کرہ خدا یہ سزہ ہے تہمت پس پیغمبرہ سزئس و اتا وہ اللہ تعالیٰ تمن جتن منز سمو منز رنگارنگ تہ قسم قسم کو  
 لہ پکان آسن وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعِدُّ بِهِ عَدَا بَابِ الْإِيمَانِ لیس روگردانی کرہ، احکاموں نے بیٹھ پھرہ تس کرہ اللہ تعالیٰ  
 کڈر عذاب لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ تھتق راضی تہ خوش سُن اللہ  
 تعالیٰ با ایمان پیٹھ یلہ تم توبہ سیت یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت آس کران بحر کلس نل،  
 کافرن سیت ثابت قدمی سان جہاد کرہ نس پیٹھ پُن پان اسلامس پیٹھ فد کرہ نس پیٹھ فَعَلِمَ مَا فِي  
 قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ تعالیٰ آس اوس تہ معلوم یہ تہمت دکن منز  
 اوس، اخلاص تہ عزم وفاداری ہند۔ پس ترود اللہ تعالیٰ ان تمہ وقتہ تمن پیٹھ اطمینان تہ سکون سمہ  
 سیت نہ تمو حکم خدا مانہ نس اندر کئے قسمہ پس و پیش کور۔ یہ دینکھ انعام امہ پتے بد فتح یعنی فتح خیبر  
 وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا بیہ کور کھ عطا سیٹھاہ مال غنیمت تہ پیٹھ تمو  
 قبضہ کور۔ اللہ تعالیٰ چھہ سیٹھاہ غالب تہ قدر تہ وول، سیٹھاہ حکمتہ وول۔ سہ چھہ پتہ قدر تہ سیت حکمتہ  
 سیت نس یرشہان تس مناسب و تس پیٹھ فتح عطا کران فتح خیبر سے پیٹھ چھہ معاملہ ختم بلکہ وَعَدَّكُمْ  
 اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ اللہ تعالیٰ ان چھہ وعدہ کور مت توبہ سیت اے با ایمان  
 وار سکن مال غنیمت ہند تم توبہ حاصل کرہ سمو منزہ جلد پکن سردست یہ فتح خیبر عطا کر نوہ وَكَفَّ  
 أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بیہ پیٹھ یہ واقعہ بیہ مال غنیمت

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ  
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿۲۱﴾ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا  
 الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُجِدُونَ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۲۲﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي  
 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿۲۳﴾  
 وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ  
 مِنْ بَعْدِ أَنْ أظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿۲۴﴾

حاصل سُپَدَن اَکھ بوڈ نشانہ تہ نمونہ بنہ با ایمان ہندہ خاطرہ پروردگارہ سندین پزین وعدن پیٹھ تہ حضرت  
 رسول کریمہ سزین ہزن پیشینگو تین پیٹھ بیہ بیٹھ اللہ تعالیٰ تھاوہ توہمہ حکم تہ مضبوط راہ را تہس پیٹھ۔  
 تہی آسہو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس پیٹھ پورا اعتماد کران **وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ**  
**اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا** بیہ بیٹھ کرہ اللہ تعالیٰ توہمہ عطا بیا کہ فتح یعنی فتح مکہ یوسہ نہ ونہ تہندس قابو  
 اس منز آمزہ چٹھہ مگر اللہ تعالیٰ سندس علس تہ تہندس احاطہ قدرتس اندر چٹھہ آمزہ۔ یلہ سہ بیٹھہ تمہہ  
 ساتھ کرہ سہ توہمہ عطا سو فتح۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ چٹھہ ہمیشہ پر بیٹھہ چیزس پیٹھ۔ قدر تہ وول **وَلَوْ قَاتَلَكُمُ**  
**الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلَوُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُجِدُونَ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا** بیہ ہر گاہ کافر توہمہ سیت صلح کرہ ہن نہ  
 لڑائی کرہ ہن ضرور پھیرہ ہن تم پوت شکست کھیٹھہ کیا زہ تہندہ مغلوب سپد تک وجوہ اس موجودہ ہم بروٹھ  
 بیان کرنہ یں۔ توپتہ لبہ ہن نہ کانسہ اکس حمایت تہ مدد کرہ ون **سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ**  
**تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا** کافرن شکست تہ با ایمان فتح بیہ چٹھہ قانون خدایہ سُپَدَن بروٹھ پیٹھہ جاری  
 کہ مقابلہ کہ وقتہ چٹھہ اہل حق غالب تہ اہل باطل مغلوب سپد ان تہہ لبونہ یار رسول اللہ اتھ خدایہ  
 سندس قانونس تہ دستورس منز ہر گز تغیر و تبدیل کئہ وقتہ امیک بدل سُپَدَن چٹھہ مئی کئہ چٹھس پیٹھہ  
 آسان **وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ** سہ  
 پروردگار گووسی تم کافرن ہند اتھ پٹھہ رٹ توہمہ تکلیف و اتاوندہ نشہ یعنی توہمہ قتل کرنہ لٹہ بیہ ہم تہند



هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ  
 مَعْكُوفًا اَنْ يَّبْلُغَ حِمْلَهُ وَاُولَا رِجَالٍ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ  
 لَّمْ تَعْلَمُوْهُمُ اَنْ تَطُوْهُمُ فَنُصِيبِكُمْ مِنْهُم مَّعْرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ  
 لِيَدْخُلَ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ لَوْ تَرَى اِلَّا الْعَذَابَ لَبَنَّا الَّذِيْنَ

اتھ ہتھ رٹ تمن تکلیف واتا ونہ نشہ یعنی تم تہندہ اتھ مارہ گوہنہ نشہ عین مکہ شریفس نزدیک یعنی حد پینس منز توہہ تمن پیٹھ غلبہ دتھ تم آس تمہ وقتہ تہندس قابواس منز آمت ہر گاہ امہ وقتہ جنگ سپدہ ہاسہ روزہ ہاوار پینس کاس جاری۔ بیمہ جموعہ سپدس منز آسہ تمہ سپدہ ہن ضائع وکان اللہ ہما تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا اللہ تعالیٰ اوس تہزہ کامہ وچھان تمواندرہ تھہ پانھی آئے یکی شیتھ زنی توہہ تکلیف واتا ونہ خاطرہ۔ توہہ کرودھ تم گرفتار توپتہ آئی دوکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن بروٹھ کین۔ تمودوڑ بھ معانی۔ اللہ تعالیٰ اوس تمہ وقتہ تہزہ سارے کامہ وچھان۔ تمن کائین ہندین اثرا تن اوس زانان، تھی وژنوہ نہ توہ کام کرنہ تمہ سیت جنگ دو تھ ہا۔ **هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا اَنْ يَّبْلُغَ حِمْلَهُ** تم مکب لوکھ گئے تھے سمو خدا میں نسبت کفر تہ انکار کور۔ بیہ رٹ ہوہ تمہ ہتھ عمرہ کرہ نہ نشہ۔ مسجد حرامس اندر خانہ کعبس طواف کرنہ نشہ بیمہ رجھہ ہتھ تہندی قربانی ہندی جانور، سم مقام حد پینس اندر آئی بند کرنہ۔ تمن دیتھ نہ واتنہ قربان گرہن جانن اندر یعنی ٹہلی اس منز ٹہس مسجد حرامہ کیو تو ابوعواندرہ چھہ سم چیز آس منگان کہ مسلمانن لیہ ہا اجازت دنہ جنگ کرنہ نک تا لیجہ سم کافر سپدہ ہن مغلوب۔ لیکن بعضے حکمو سہزہ مانع امہ نشہ **وَاُولَا رِجَالٍ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمُ اَنْ تَطُوْهُمُ فَنُصِيبِكُمْ مِنْهُم مَّعْرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ** بیہ ہر گاہ واریاہ با ایمان مردتہ واریاہ با ایمان زنانہ آسہ ہن نہ مکہ شریفس منز تمن ہنز نہ توہہ خبرے آس خطرہ اوس کہ تم کر ہوکھ ہنہ جھہ کہ وقتہ لتہ مونجہ پس واتنہ ہا توہہ بے خبری منز سٹھاہ ضرر توہہ بیہ ہا ضرور جنگ کرہ نک اجازت دنہ مگر سہ اجازت آونہ دنہ کیا زہ **لِيَدْخُلَ اللّٰهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَّشَاءُ** ہتھ اللہ تعالیٰ داخل کرہ ہا پانہ نس رحمتس منز

كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَاةً ابَا الْيَمَانِ ۗ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَبِيَّةَ الْحَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَاَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۙ

لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُوْلَهُ الرَّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللهُ اٰمِنِيْنَ لَمْ يَخْلِقِيْنَ رِءُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ


نہیں بیڑہ ہاتھ اس اسلحہ مشرف سید نہ سیت لَوْ تَرَىٰ اُولَئِكَ الْعَدُوِّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَاةً ابَا الْيَمَانِ ہر گاہ تم با ایمان مردہ با ایمان زنانہ ہم مکہ شریف منہ آس تم شہرہ منہ اورہ پورگن گا متی آسہ ہن تہیلہ کرہ ہو اس تمن لوکن ہموکھر کور مکہ کیو لو کو آندہ مسلمان ہند یو اتھو سیت کڈر عذاب اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَبِيَّةَ الْحَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ یہ واقعہ گوو تھی ساتہ ہسمہ ساتہ کافر و تھو دپنہ بین دن اندر سخت تعصب تہ جاہلانہ جوش۔ ہسمہ سببہ اشتعال انگیز تھہ ہیو کھ کرنہ سہ تہ اوس باعث کہ مسلمان کرہ ہن مشتعل سید تھہ جنگ شروع۔ یہ گوو تھی وقتہ یلہ صلح حدیبیگ مسودہ لیجھہ یوان اوس بسم اللہ تہ رسول اللہ لیجھس پیٹھہ کر تمو کافر و مسلمان سیت ضد تہ ہت دھرمی فَاَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُوْلِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ نہس کور اللہ تعالیٰ ان پتہ طرفہ صبر و تحمل تہ سکون پتہ نہس پیٹھہ برس یہ با ایمان پیٹھہ ہسمہ سیت تمو ضبط کور تمن کلما تن ہندس لیجھس پیٹھہ کور کھ نہ اصرار تا یجھہ صلح مکہ مکمل کافر پنچے مارہ گدھنہ نغہ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا اللہ تعالیٰ ان تھو تم مضبوط تہ محکم تقویٰ کس کس پیٹھہ سہ گوو کلمہ طہیس پیٹھہ یعنی توحید و رسالت پڑھ پیٹھہ یوسہ مقضیٰ چھہ خدا و پیٹھہ ہندس کھمس اطاعت کرہ نہس واقعی آس تم تھہ تقویٰ کس کس دیاعس اندر مستحق یہ آس امہ کس ٹو اُس لایق آخر نہس اندر وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا اللہ تعالیٰ ہتھہ پڑتھہ چیزہ پورزانہ دن لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُوْلَهُ الرَّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللهُ اٰمِنِيْنَ لَمْ يَخْلِقِيْنَ رِءُوسَهُمْ

لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا  
 قَرِيبًا ﴿۲۷﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ  
 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿۲۸﴾  
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ

وَمُقَدَّرِينَ ﴿۲۹﴾ لَا تَخَافُونَ اللہ تعالیٰ ان ہو پونہ نس پیغمبرس پوز خواب لیس تمو سفر حد پیبہ بروئٹھ وچھمت اوس لیس واقص سیت مطابق اوس زہ ضرور اژوئٹہ ساری مسجد حرامس منز بعضے آسن مس کاسٹھ تہ بعضے آسن مس کر پتھ خوف و خطرہ ورائے، امن و امانہ سان۔ امہ اندرہ چھہ مراد عمرہ تھہ منز چھہ آسان حلق و قصر یعنی مس کاسن تہ مس کر ہن تہ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا پس زان تم یٹھ مصلحت صلحس اندر پوسہ مصلحت نہ جہہ زانہ ہو۔ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا پس کر اللہ تعالیٰ ان مکنس منز فاتحانہ اژنہ بروئٹھ اتھ پیٹھے بیاکھ فحہ عطا یعنی فتح خیبر دویمہ وریہ در اوخوابک تعبیر اللہ تعالیٰ ان کور تمن فتح عطا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا سہ پروردگار گوئے یم سوز ہن پیغمبر بڈہ ہدایتک سامان ہتھ یعنی قرآن مجید ہیہ پوز دین یعنی اسلام ہتھ ہتھ تھہ دینس غالب کرہ سارنہ دین پیٹھ باعتبار حجت و دلیل ہمیشہ مگر باعتبار شوکت و سلطنت اہل اسلام بشرطیکہ تمن منز آسہ تج صلاحیت سو صلاحیت آسہ صحابہ صانن اندر لہنہ یوان۔ بس چھہ اللہ تعالیٰ امیک گواہ سہ چھہ تہندہ رسالتک تصدیق کران۔ اللہ تعالیٰ سنز گواہی دن گیہ کہ تمی کرہ دلیلہ قائم تہندس رسالتس پیٹھ ہس سپد دلائیلو سیت ثابت کہ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ حضرت محمد ﷺ ہتھ خذلیہ سند پیغمبر امہ سیت سپد تسلیاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس دل مہدگس کہ ہر گاہ صلح حد تیس منز کافر تہندس نام مبارکس سیت لفظ رسول اللہ چھنہ ووان لیکھنہ جہہ مہ حض گڑہ ہو آزر دہ آس چھہ قرآن مجیدس منز تہندس نام مبارکس سیت یہ لفظ لیکھان ہس قیاس تان باقی روزہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ وَرَعًا سَجِدًا سم لوکھ اہس پیغمبرس سیت چھہ یعنی صحابہ صاب ساری تم چھہ کافر ن ہدہ حقہ سخت تیز تہ زور آور۔ پانہ وان چھہ یعنی مسلمان سیت سیٹھاہ رحم دل تہ

تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي  
 وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي  
 الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى  
 عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۶﴾

مہربان۔ وچھہ ہتھ ڈھ اے مخاطب تم رکوع کران تہ سجدہ دو ان یعنی نماز پر ان یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ  
 وَرِضْوَانًا تھانڈان چھہ تم پروردگارہ سُنْد فضل یعنی ثواب بیہ یعنی قرب خدا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ  
 أَثَرِ السُّجُودِ علامت تھند ہتھ تھندین تھن پیٹھ سجدہ کہ اثرک یعنی تھندی تھس ہتھ نورانی ذلک مَثَلُهُمْ  
 فِي التَّوْرَةِ تم صفت تھندی ہتھ توراس اندر وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ  
 فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ بیہ ہتھہ انجیلس اندر تھند یوسے صفت۔ تھنز مثال ہتھہ  
 زراعت مثال نِس كَذَان ہتھہ گوڈہ ہن لوٹک شاخ تھہ طاقنت دو ان یوتان سہ ویٹھان تہ پوٹھان ہتھہ ،  
 ایستادہ ہتھہ روزان پنہ نِس دَس تہ گوڈس پیٹھ۔ پنہ نشوونما سیت ہتھہ حیران کران زمیندارن۔ یوحال  
 ہتھہ صحابہ صائن ہند۔ ابتداءس اندر آس تم کی وارہ وارہ وڈکھ اللہ تعالیٰ ان ترقی لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ  
 یٹھہ تھہ تھہ دیاوہ تھندہ سیت کافرن۔ تم دزن حسدہ کہ نارہ سیت وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وعدہ تھو واللہ تعالیٰ ان تم لوکن سمو ایمان اون بیہ کر کیہ  
 رتھہ عملہ صحابہ صابو اندر ہڈہ مغفر تک بیہ بچہ مزورہ ہند



## سُورَةُ الْحَجَرَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ  
اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا  
أصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ  
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ② إِنَّ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے باایمانو پیشابنی مہ کمر و خدایہ سندس بیہ  
تہندس پیغمبرہ سندس کھمس ٹنہ تھہ منزیاٹنہ کامہ منزیعنے یوتان نہ جہند اجازت آسہ توتان گوشہ نہ پانے  
گفتگو گران پانہ وان۔ امہ آیہ کریمگ شان نزول ہٹھہ یہ کہہ کہ دوہہ آس قبیلہ بنی تمک کینہہ لو کہ آمنت  
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدقس اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق تہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما  
ان در میان سپدا تھہ جلسہ منز گفتگو ہتھہ تھہ اندر کہہ تمن لو کن ہند حاکم کہہ کرون مقرر (ابو بکر صدیق ہتھہ،  
تم آس دپان ققاع بن معبدس نسبت، عمر بن الخطاب آس دپان اقرع بن حابس نسبت، گفتگو اس اندر  
سبزہ تہنزہ آوازہ بلند تھہ پیٹھہ سپدی تم آیہ کریمہ نازل وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بیہ کھوٹو  
خدائس۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہٹھہ تہنزہ سارے تھہ بوزہ ون، سارے کامہ زانہ ون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ اے باایمانو بلند مہ آسو کران آواز ہمنن نبی کریمہ سزہ آوازہ پیٹھہ  
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ بیہ مہ آسو تمن سیت بڈھ تھہ کران ہتھہ پآھ تہہ بڈھ  
تھہ چھوہ کران اکھ آگس سیت۔ یامہ آسو تمن آلو دو ان نام مبارکہ سیت یا ٹینتہ سیت ہتھہ پآھ آگس پس تہہ  
آلو دو ان چھوہ بلکہ آسو آلو دو ان تمن تہندہ نبوتہ سیت یا عمدہ رسالتہ سیت۔ وان آریو رسول اللہ تہہ یا  
نبی اللہ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ہتھہ تمہ سیت ضالچ گوشہ تہنزہ عملہ توہرہ روزہ نہ خبرے

الَّذِينَ يَعْضُونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
 امْتَعَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۳﴾ إِنَّ  
 الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۴﴾  
 وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
 رَحِيمٌ ﴿۵﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن  
 تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿۶﴾ وَعَلِمُوا

إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَعَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ  
 مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ بے شک ہم لو کہ پنہ آواز چھ پست کران پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم برو تھ کتہ  
 تہندی دل کمر اللہ تعالیٰ ان خالص تقویٰ و پرہیزگاری خاطرہ۔ تہندی خاطرہ پتھ مغفرت تہ  
 بدمزوری آخرتس اندر إِنَّ الَّذِينَ ينادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ہم لو کہ توہر یا  
 رسول اللہ آلودان جھ حجرات شریفو نمبر کن تمواندرہ واریاہ لو کہ جھ بے عقل وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا  
 حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ہر گاہ تم ذرا صبر تہ انتظار کرہ کن یوتان تہ پائے تمن نشہ نیرہ ہوتہ  
 اوس تہندہ خاطرہ یش جان۔ ہر گاہ تم لو کہ ونہ تہ توبہ گرن تمن پیہ مغفرت کرنہ کیازہ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
 رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ پتھ سیٹھہ مغفرت کرہ ون، سیٹھہ رحم کرہ ون تہندہ حقہ تمن پنہ غلطی ہندا احساس  
 سپد تھ ندامت یادہ سپدہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا اے ایمانور ہر گاہ کانہ  
 شریر شخصہہ توہر نش کانہ خبر اہ و اتاوان آسہ کانہہ خلاف تھ آس زہ تہہ گوڈہ تحقیقات کران کہ سوچھا  
 پز خبر کنہ آپز أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ تھہ تہہ کنہ قوس یا جاتس پیٹھ  
 بے خبری منز کانہہ تکلیفہہ و اتہ نا و سہ سبہ تہہ سپد و پنہ غلط کارروائی پیٹھ پتولا کہ نادم تہ پشیمان۔ سہہ  
 آہہ کر سہگ قبصہ نزول پتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوزی ولید بن عقبہ بنی مصطلقن نشہ زکوٰۃ  
 وصول کرنہ خاطرہ۔ ولیدس تہ تھہ قبیلس منز اوس زمانہ جاہلیتس منز عداوت ولیدس سپد توت گزھہ

أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ  
لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ  
الْكَفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ فَضَلَا  
مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۸

نس اندر اندیشہ۔ سمویلہ ولیدہ سیدہ بیگ بوز، تم در ای تس استقبالس تمس گوو گمان کہ ہم ہمارای تمس  
قتل کرنے خاطرہ۔ سہ آواکس مدینہ منورہ۔ توت وکتھ وون پنہ خیالہ موجب کہ تم حض بہمہ مخالف  
اسلام سپدی مت۔ حضر تو سوز خالد بن ولید تحقیقاً خاطرہ۔ تمو کور تحقیقات وارہ پاٹھ توہتہ کور کہ  
عرض تم حض چھہ مکمل طور اسلامس پیٹھ ثابتہ مت محکم۔ بعضے روایتن اندر چھہ کہ تم اہل قبیلہ آئے  
پانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشہ۔ پتھ پاٹھی سپد نازل یہ آیہ کریمہ **وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ**  
بہ زانو کہ توہہ منز چھہ موجود پیغمبر خدا۔ تہہ مہ آسوا پز معاملہ پتھ تم نشہ یوان۔ اللہ تعالیٰ چھہ تم  
اصل حالاتن پیٹھ مطلع کران۔ بہہ چھہ یہ تہمدہ خاطرہ پروردگارہ سزہ بد نعمت۔ امہ نعمتک شکر چھہ ای  
زہ تہہ مہ کرو تم خلاف سنے معاملس اندر آدہ آس تن سہ دنیاوی معاملے تہہ مہ تھاوویہ خیال کہ تم کرن  
دنیوی معاملس اندر پائے لہر رہی سنی موافقت کیا زہ **لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ** واریاہ کتھ  
چھہ تمہہ قسبحہ آسان کہ ہر گاہ تمن منز تم تہنڈ زمان، توہہ سیت موافقت کرن تمہہ سیت وائتہ توہہ سخت  
ضرر **وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ** لیکن  
اللہ تعالیٰ ان بچاؤے وہ تہہ مصیبتہ نشہ۔ پتھ پاٹھے کہ ایمان کاملک محبت کور نوہ عطا سہ حاصل کرن  
کوژن تہمدین دل اندر مرغوب تہہ پسندیدہ کفر تہہ فسق یعنی گناہ کبیرہ بہہ مطلق گونسن ہنز کرن توہہ  
نفرت سمہ سبہ تہہ پر پتھ وقتہ چھہ تلاش آسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سزہ رضامندی حاصل  
کرہ تک **أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ** سنے با ایمان تم تکمیل ایمانک دلدادہ چھہ، چھہ راہ راستس پیٹھ  
**فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** پروردگارہ سیدہ فضلہ سیت تہہ مہر بانیہ سیت **وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** اللہ تعالیٰ چھہ

الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَاهُمَا عَلَى  
 الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ  
 فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ①  
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
 تُرْحَمُونَ ② يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ  
 يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا

سورے زاندون تہ سیٹھاہ حمزہ وول وکان طابفتن ومن المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن  
 بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله بیه ہر گاہ باایمان ہنزہ زہ ہما شپانہ  
 وأن لڑائے گزن تہہ کمر و تمن منر صلح، نئس چیز باعث ہٹھ لڑایہ ہندسہ کرودور۔ نئس ہر گاہ تمودویو  
 آندرہ اکھ جماتھ بیس جماعتس پیٹھ زیادتی کرہ تہہ کروئس زیادتی کرہ وئس جماعتس سیت مقابلہ یوتان  
 تم رجوع کرن خدایہ سندس خمس کن فان فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب  
 المقسطین پس ہر گاہ سو جماعتھ سموزیادتی کرے یہ رجوع کرن خدایہ سندس خمس کن، ادہ کرو  
 تمن منر اصلاح عدل و انصافہ سیت بیه آبو پریتھ معاملس اندر عدل و انصافک خیال تھاوان بے شک  
 اللہ تعالیٰ اس چھہ عدل گرہ و نے بندہ ناٹھ۔ اس نئس توہہ اصلاح حکم کورامیک وجہ ہٹھ کہ إنما  
 المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون  
 آسنہ سبہ پانہ وانے بائے بائے۔ یمن آندر ہٹھ یہ اشتراک فی الدین نسب معنویاہ اکھ۔ پس کرو تہہ  
 اصلاح پنہ بین باسن منر۔ بیه کھوژ واللہ تعالیٰ اس کانہہ ہنز طرف داری کرہ نئس یا انتقامی جذبئس کام  
 بیئس آندر، ہٹھ توہہ پیٹھ رحم بیه کرنہ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم اے بایمانو توہہ منرہ  
 مہ آسن کانہہ مرد مردن پیٹھ آسان تہ ٹھٹھ کران عسی أن یکنوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسی  
 أن یکن خیرا منهن شاید ما آسن ٹھٹھ کرہ وئین ہندہ خوتہ تے یمن ٹھٹھ چھہ یوان کرنہ بہتر تہ



مِنْهُمْ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ  
 الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۱﴾  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ  
 إِثْمٌ ۚ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ  
 لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲﴾

افضل خدا ئيس نيشہ۔ بيہ مہ آسن زنانہ ٹھٹھہ کران بين زنانن کيازه شايد ٹھٹھہ کره و نين زنانن بندہ خوتہ ما  
 آسن تہ زنانہ بہترتہ افضل خدا ئيس نيشہ سمن ٹھٹھہ چٹھہ يوان کرنہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ بيہ مہ آسبو  
 اے مردو تہ اے زنان اکھ آگس طعنہ دوان تہ عاب ژاران وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بيہ مہ آسبو اکھ آگس  
 ناوتہ ريژہ کڈان بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ايمانہ پتہ گوئہک ناو لگن چٹھہ سيٹھاہ پچھہ۔ يعنى  
 ئيس پيس شخصس ريژہ کڈہ سہ چٹھہ پانہ گوئہگار سپدان۔ تہ پھنہ با ايمانہ سندہ خاطرہ جان يا پچھہ مراد امہ  
 منزہ کہ يلمہ کانہ ايمان اونمت آسہ گوئہونيشہ توبہ کورمت آسہ تس گزہنن نہ پامہ دنہ بروئھنن ٹھن تہ  
 کامين ہنزہ۔ يا آسہ کانہ شخصاہ، نس آسہ پيدائش کانہ عاباہ تس تہ گزہنن نہ تہک طعنہ دنہ تہ منز  
 کياہ چٹھہ تم سندا قصور۔ سہ چٹھہ تھتھہ پتھہ کرالن تھور۔ تہہ چيزس تھس طعنہ دنہ چٹھہ بے عقلی وَمَنْ لَّمْ  
 يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ سمن لوکھ نہ سمنو چيز ونيشہ توبہ کرن تم چھہ ظلم کره و نيواندرہ يعنى حقوق  
 العباد تلف تہ ضائع کره و نيواندرہ ئيس سزاظالمن بيہ دنہ سزايہ تہ دنہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ اے با ايمانو پچھہ روزو گمانو نيشہ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ کيازه بعضے گمانہ چٹھہ گوانہ  
 آسان وَلَا تَجَسَّسُوا ژر ژران مہ آسبو کانہہ يعنى کانہہ اک سندين حالاتن در پے مہ آسبو روزان وَلَا  
 يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا نہ آسن توبہ اندرہ اڈى اڈين ہنز غيبت گران نہ عاب گزيران اَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ  
 يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا کياہ توبہ اندرہ چھا کانہہ ئيس پنہ نس مُردہ باى سندا کھيتہ ہيچہ فَكَرِهْتُمُوهُ  
 اچ چٹھہ توبہ يقيناً نفرت آتھہ غائتھہ کرن تھہ پاٹھہ چٹھہ توبہ پندہ۔ تہ گو اگہ قسمہ موگر تہ مردہ


يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۱۳﴾  
قَالَتِ الْأَعْرَابُ امْنَأْ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا  
يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ

ماز کھيون۔ اچھے گڑھے توہمہ نفرت آسن مثابھتک وجہ چھہ یوہے کہ ہتھ پاٹھہ بائی سندا ماز کھيون تس بائی  
سندہ تکلیفک باعث چھہ بنان تھہ پاٹھہ چھہ تسز۔ آبروریزی تہ تہندہ خاطرہ تکلیفک باعث بنان۔ اگرچہ  
غایبانہ تہمزہ نامرغوب تھہ پھر نہ سیت چھہ تس تکلیف واتان مگر در ذات خود چھہ یہ امر سخت تکلیف  
دہ۔ امی سببہ فرموو کہ مشبہ بہ آسنس اندر لفظ بیتا **وَأَتَقُوا اللَّهَ** کھوژو اللہ تعالیٰ اس، کانسہ ہنز غایتھہ  
کرنی تراوو، تمہہ نشہ کرو توبہ **إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ** بے شک اللہ تعالیٰ چھہ سینھا توبہ قبول کرہ و ن تہ  
سینھاہ رحم کرہ و ن **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا** اے لو کو کھہ  
ساری کرہ و اسہ پادہ اگس مردس تہ آس زناہ نشہ یعنی آدم علیہ السلام تہ حوا علیہا السلام نشہ۔ اتھہ  
منز چھو جہہ ساری برابر توپتہ تھہ کھہ منز فرق چھہ توبہ اندر سوہ گہیہ کہ اسہ کمر توبہ اندر مختلف قوم  
تہ مختلف قبیلہ تہ خاندان۔ تہ چھہ محض سہہ کھہ خاطرہ تھہ جہہ اگس پر زہ ناوتھہ بیکو۔ اگس پیٹھہ  
فخر کرنہ تہ تھینہ خاطرہ نہ۔ پر تھہ اگس چھہ بوڈ فخر شونت تہ پر ہیز گار آسن **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ**  
**أَتْقَىٰكُمْ** بے شک توبہ اندرہ چھہ زیادہ عزت و ول خدا س نشہ سے تس زیادہ شونت تہ پر ہیز گار اسہ  
**إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ** بے شک اللہ تعالیٰ اس چھہ پر تھہ اک سنزہ پر ہیز گاری ہنز پور خبیر۔ تس چھہ  
پور علم س کیتھہ چھہ **قَالَتِ الْأَعْرَابُ امْنَأْ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ**  
**فِي قُلُوبِكُمْ** یم بعض دینی لکھہ بنی اسد وغیرہ چھہ و نان توبہ نشہ حاضر سپد تھہ کہ اسہ اون ایمان مگر یہ  
چھہ تم وٹھہ و نان، و کس چھہ کھہ اچ پڑشاہ کہینہ تہ، ٹہی فرماو یو کہ اے لو کو توبہ اونو نہ و نہ ایمان کیا زہ  
تھک آثار چھہ توبہ منز بہ چھہ ایمان موقوف تصدیق قلبس پیٹھہ۔ لیکن جہہ و نو کہ و ون سپدے اس  
مطبع سہہ معنیہ کہ و ون تراو اسہ مخالفت کرن۔ و نہ کتہ سپد ایمان داخل تھندین دن اندر۔ لہذا مہہ کرو



# هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۷﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِصِيرَاتِكُمْ خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾

سیٹھاہ پریشانی کرتھ۔ یہ گیارہ ہنزہ سیٹھاہ گستاخی۔ ہنہ فرماو یو کہ یار سول اللہ اے لو کو میہ پیٹھ مہ تھا و پینہ  
مسلمان سپدنہ سیت منت تہ احسان قطع نظر کترتھ ہنزہ گستاخی نشہ، تہنہہ اسلام آنہ سیت کیاہ نفع تہ  
فائدہ ووت میہ تہ تہنہہ اسلام نہ آنہ سیت کیاہ ضرر اوس میہ۔ ہر گاہ ہنہ پز زیار آہوتیلہ چھوہ امیک نفع  
آخرتس منز توہہ پائس۔ دنیوی نفع کہ ہنہ کیا بچے وہ قتل و قیدہ نشہ، یہ تہ چھہ توہہ پائس۔ میہ پیٹھ  
احسان تھاون گوو محض جہل بلکہ چھہ اللہ تعالیٰ سنز توہہ پیٹھ بڈمنت تہ بوڈ احسان کہہ تھی ہا و ہ توہہ  
ایمائس کن و تھ، ہر گاہ ہنہ پوز و نان چھوہ **إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِصِيرَاتِكُمْ خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ**  
بیشک اللہ تعالیٰ چھہ زانان آسمان تہ زمین ہنزہ پوشیدہ کتھ۔ یہ چھہ سہ و چھان وارہ تہ  
سوزے یہ ہنہ کران چھوہ۔ تھی موجب دی وہ سہ توہہ جزاء۔ تس بروٹھ کنہ اپزہ مہزہ کتھ کرنہ آندرہ کیاہ  
فائدہ چھہ۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۱ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ  
 فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۲ ءَاذِمْتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ءَ  
 ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۳ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا  
 كِتٰبٌ حَفِیْظٌ ۴ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَمَنْ فِيْ اٰمْرِ رَبِّیْ ۵ ○

ق یہ حرف چھ حروف مقطعاتو آندرہ۔ امیک علم چھہ خدائیس وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ تمہہ قرآن مجید چ درے پتھہ مجد و شرف چھہ بین کتابن پیٹھہ کہ اسہ سوزوہ جتھہ قیامتہ عذابہ سیت لوکن کھوڑوانونہ خاطرہ مگر تمولو کو مومن نہ تہند بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ بلکہ سپد تہن تعجب پتھہ کتھہ پیٹھہ کہ کتھہ پاٹھہ آو تموے منزہ اکھ شخصہاہ نس بشر چھہ، بیم کرہ ون پیغمبر، تم تہی قیامتہ دہ بہ سیت کھوڑوہ ناوی فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ اٹھ پیٹھہ لگی ونہہ کافر کہ یہ چھہ اکھ عجب قصاہ گوڈوہ نی چھہ بشرہ سُنْدِ پیغمبر بہت سُنْ عَجِيبٌ تو پتہ تم سُنْدِ یہ وُنْ کہ مرنہ پتہ پیو تہہ بہ یہ زندہ کرنہ ءَاذِمْتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ کیاہہ اَسْ مَرُو تُو پتہ سپد و اَسْ میڑہ سیت میڑہ کیاہہ تُو پتہ بیوہ اَسْ یہ دوبارہ قیامتک دوہ زندہ کرنہ۔ یہ دوبارہ بہ زندہ سُنْدِ چھہ عقلہ نشہہ تہ امکانہ نشہہ سیٹھا دور۔ اَمْرٌ دعوائے محالہ سیت چھہ بہ مَن پیغمبری ہند دعوائے کمزور سپدان۔ اللہ تعالیٰ چھہ امکانہ کہ ثبوتہ خاطرہ فرماں وان کہ امکانہ نشہہ کیاہہ چھہ بعید۔ ہر گاہ محل ہنزہ نا قابل حیات آسنہ موکھ چھہ تہندہ خیالہ تہ چھہ یہ بالکل باطل کیاہہ محل اندر چھہ حیات بالفعل موجود۔ ہر گاہ باعتبار فاعل چھہ یہ ناممکن کہ اللہ تعالیٰ اَسْ کیاہہ چھہ تہ اجزاء متین ہند علم یا کیا پتھس نہ تصرفس پیٹھہ قدرت، سانہ علمک شان تہ حال چھہ پتھہ کہ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتٰبٌ حَفِیْظٌ اسہ چھہ معلوم کہ کم کم اجزا چھہ زمین موزون نشہہ کم کران تہ کیوان،

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا  
 مِنْ فُرُوجٍ ④ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ وَأَبْنَيْنَا  
 فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ⑤ تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ⑥  
 وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَبْنَيْنَا لَهُ جُدَّتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ⑦

زُوجِ چُھ موجود آتھ بلکہ اُس یشھو بہ پادہ گرن، تم ساری چیز کرو کہ اُس بہ جمع، یہ تھ چھنہ کہ اسہ کیاہ  
 چھہ از تمن اجزان ہنز خیر بلکہ سون علم چھہ تمن اجزاءن متعلق قدیم۔ چنانچہ اسہ چھہ تمن اجزاءن ہند  
 ساری حالات درج کری مت اُس کتابہ اندر تھہ ناو چھہ لوح محفوظ سو کتاب چھہ اسہ نشہ از تان برابر  
 محفوظ، تھہ منز موزدن ہندین اجزاءن ہنز جای، مقدار تہ ساری صفت موجود چھہ۔ مگر ہم لو کہ کرن  
 توتہ اتھ اندر تعجب بلا وجہ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ یہ تھ چھنہ یوسہ تم ونان چھہ  
 بلکہ چھہ حقیقت کہ تم کو انکار پزس بلکہ تمن نشہ پوزوت غور تہ فکر کرنہ ور اے۔ پس چھہ تم ولنہ  
 آمتی اُس پیچیدہ معالسا اندر۔ کُنہ وقتہ چھہ تعجب کران تہ کُنہ وقتہ چھہ انکار کران سانہ قدر تک شان  
 چھہ بالکل ظاہر أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ کیاہ وچھان چھنا تم  
 لو کہ ہم قیاس تہ مرنہ پتہ بہ زندہ سپدنس انکار چھہ کران آسمانس گن بس تمن بیٹھی کن چھہ، تھہ پاٹھی  
 بنو اسہ تہ تھووتہ بلند، تھہ پاٹھی دیت اسہ تھہ زینت ستار و سیت۔ بہ چھنہ تھہ غابت درجہ مضبوط  
 آسہ مو کہ کُنہ جایہ کا نہہ کھر پچھاہ تہ پھر اٹھاہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ وَأَبْنَيْنَا فِيهَا مِنْ  
 كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ بہ چھہ زمیںس منز سان یہ قدرت ظاہر کہ تہ زمین و ہر و اسہ۔ بہ ترا و اسہ تھہ  
 پیٹھ کوہ بارہ خاطرہ لنگر ہی بہ کھاری اسہ تھہ زمینہ اندرہ پر تھہ کھمی خوشنما چیز یہ سورے کور اسہ  
 تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ عبرت تہ بینائی دانائی ہند اکھ ذریعہ اسہ گن رجوع کرہ و بس پر تھہ  
 بندہ سندہ خاطرہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا فَأَبْنَيْنَا لَهُ جُدَّتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ بہ چھہ سان قدرت  
 ظاہر تھہ سیت کہ تر و اسہ آسمانچہ طرفہ برکتہ وول رود تو پتہ کھار اسہ تھی سیت باغ بہ تم پھل تہ

وَالنَّخْلَ بَسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۝۱۰ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ  
 بَلَدًا مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝۱۱ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ  
 الرَّسِّ وَثَمُودُ ۝۱۲ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۝۱۳ وَأَصْحَابُ  
 الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ۝۱۴  
 أَفَعَيَّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۱۵

غلات سم لونه چھہ یوان وَالنَّخْلَ بَسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ بیہ کھار تمہ ستیہ اسہ زیتھ زیتھ خضر کل  
 سمن ہندی گردن پوٹھس پیٹھ اس سیت دھتھ چھہ آسان رِزْقًا لِلْعِبَادِ پنہ نین بندن رزق دنہ  
 خاطرہ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدًا مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ بیہ کوراسہ تمی رودہ سیت زندہ مومت زمین۔ ستھ پاتھ  
 کیاہ نیزان قیامتک دوہ زمینہ منزہ ساری لوکھ یلہ سمن بڑین چیزن پیٹھ سان قدرت ثابت سپزہ موردہ  
 زندہ کرہ کس پیٹھ گزہ هنا سہ قدرت آسن۔ پس یلہ مقدور ممکن بیہ فاعل عالم صاحب قدرت آسہ اتھ  
 صورتس منز کیاہیہ چھہ تجب دکنذیب کرہ نگ موقعہ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ  
 وَثَمُودُ ستھ پاتھ مکھ کیوکافر و قیامتس انکار کوریتھ پاتھی چھہ انکار کورمت بین برودتھ نوح علیہ السلامہ  
 سند قومن بیہ کیر والیبویہ قوم ثمودن وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ بیہ کور انکار قوم عادن، بیہ فرعونہ  
 سند قومن بیہ قوم لوطن وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ بیہ کلین تل روزہ دنیو لوکو۔ بیہ تیج سند  
 قومن۔ کُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ سمسو ساروے کور پنہ کس پنہ کس پیٹھ برس توحید و رسالتس، بیہ قیامتس  
 انکار فَحَقَّ وَعِيدِ کس سپدہ تہندہ حقہ عذابک وعدہ برابر تہ محقق۔ ستھ پاتھی سپدن یم منکر تہ عذابس  
 گرفتار۔ دنیاءس اندر تہ، آخرتس اندر تہ یا صرف آخرتس اندر یقینا أَفَعَيَّنَّا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ  
 فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ کیاہ سنا اس تھمہ مخلوقات گوڈیچر لہ پادہ کرنہ سیت کہ وون کیاہ سچو کہ نہ  
 قیامتک دوہ بیہ ڈبارہ پادہ کر تھ سم اتھ انکار کران چھہ تین نیشہ چھہ کانہہ دلپلاہ بلکہ چھہ سم لوکھ ڈبارہ  
 پادہ کرنہ کس شکس اندر مبتلا سپدی مت کس نہ دلائیلن مقابلہ قابل التفات چھہ۔ پیٹھ آویبان کرنہ کہ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُمَّا تَوْسُوسٌ بِهِ نَفْسَهُ ۖ وَخَنُ أَقْرَبُ  
 إِلَيْهِ مِنْ جَبَلٍ الْوَرِيدِ ﴿۱۷﴾ اذِنتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ  
 الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿۱۸﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿۱۹﴾ وَنُفِخَ  
 جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ ﴿۱۹﴾ وَنُفِخَ

مرنے پتہ پر زندہ سپد تک امکان چھہ ثابت بروٹھ چھہ بیان یوان کرنے تمیک وقوع چوہجہ تمہہ وقوعک  
 غایت یعنی مجازات چھہ موقوف پٹھہ جزاء دودہ ونس گزہہ اعمال ہند علم تہ عاملس پیٹھ قدرت  
 آسن۔ لہذا چھہ گوڈہ تی بیان یوان کرنے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُمَّا تَوْسُوسٌ بِهِ نَفْسَهُ تحقیق آسہ کور  
 پادہ یہ انسان یوسہ بڈ لیل چھہ سانس قدرتس پیٹھ یہ چھہ آسہ معلوم تم سندس دلس منز کم کم خیالات  
 چھہ یوان تم سزہ زیوہ پیٹھ یاتانوسیت یمہ کتھ کامہ لبنہ یوان چھہ تمہہ تہ چھہ آسہ بدرجہ اولی زانان۔ یہ  
 چھہ آسہ تہندین احوال ہند تھے علم کہ کس چھہ پانس تہ تمن احوال ہند تیوت علم پس چھہ آسہ انسانس  
 باعتبار علم قریب بلکہ اقرب **وَعَنِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلٍ الْوَرِيدِ** بلکہ چھہ آسہ زیادہ قریب اس انسانس  
 گردنہ ہنزہ شہ رگہ خوتہ یمہ رگہ ہندہ ژنہ سیت انسان ختم چھہ سپدان **اذِنتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ**  
**وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ** تمن لوکن کرو بیان یلہ زہ رٹن والی ملکھ چھہ اہس انسانہ سزہ عملہ ضبط کران تہ  
 رٹان یمہ عملہ تہ کامہ کس نشہ چھہ صادر سپدان تہ لبنہ یوان تے ملکھ چھہس اکھ دچھہ طرفہ تہ بیاکھ کھو  
 فرہ طرفہ بھتھ آسان **مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ** یہ انسان چھہ آسہ ہنزہ کانہ کتھہ کڈان  
 کانہ لفظاہ ونان مگرتان چھہ کس نشہ سان رچھہ تہ مگرانی کرن دول سہ لفظ لیکنہ خاطرہ تیار آسان۔ سہ  
 ہر گاہ نیکی ہنز کام آسہ کران تیلہ چھو سو کام دچھہ طرفک ملکھ لیکھان۔ اگر بدی ہنز کام آسہ کران  
 تیلہ چھہ سو کام کھو فرہ طرفک ملکھ لیکھان **وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ** یہ آسہ مونتج سختی  
 نزدیک حقیقتا یعنی پریتھ شخصس پٹھ موت قریب **ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ** تمہہ ساتہ کیاہ یہ ونہ  
 اس انسانس یوہے کیاہ گووہ موت سمہ نشہ ژہ ژلان اوسکھ **وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكِ يَوْمَ الْوَعِيدِ** یہ



فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ ۚ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ  
 وَشَهِيدٌ ۚ لَقَدْ كُنْتُمْ فِي خَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمُ  
 فَبَصَرُكُمُ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۚ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ۚ  
 أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ۚ مِّنَّاءٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ۚ  
 إِلَّادِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ۚ  
 قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَّغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۚ قَالَ

یہ دو ستم بھرا پھوکہ دنہ پوئس منز ستم سیت ساری بیہ زندہ گڑھن یو ہے دوہ کیاہ گووو عیدک ستمہ  
 سیت لوکھ آس کھوڑہ نادنہ یوان **وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ** یہ بیہ تسمہ دوہہ پر تھ  
 اکھا میدان محشرس منز سیت آسیس اکھ ملگھ پکناونہ خاطرہ، بیاکھ ملگھ امہ سزمن کا مین ہند گواہ تہ  
 شابد۔ حدیث شریفس منز چھ کہ ہم زہ ملگھ آسن تھے تم دنیا س منز امہ سزہ رزہ تہ بیچھ عملہ لیکھا  
 آسن تم کافر آسن تمن بیہ ونہ **لَقَدْ كُنْتُمْ فِي خَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمُ فَبَصَرُكُمُ الْيَوْمَ حَدِيدٌ**  
 تحقیق اے انسانہ ژہ اوسکھ از کہ دوہہ نشہ غفلتس منز پیومت۔ از کیا تمل اسہ ژہ نشہ ٹھور تہ پردہ۔ وون  
 چھہ چان نظر از تیز۔ اے کاش دنیا س منز تہ ہے یہ غفلت تراوڑ اسہ ہی، از ما بیہ ہا بیہ روز بد پیش  
**وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ** بیہ دیس سہ ملگھ بس ام سزہ عملہ لیکھتھ تھوان اوس یکیا چھہ آئی  
 سدا نامہ اعمال میہ نش مکمل پاشی تیار **أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ \* مِّنَّاءٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ** اللہ  
 تعالیٰ فرماوہ تمن دون ملکن تراویون پر بیچھ سہ شخصہ بس کفر کرہ وون تہ پوزیک د شمن آسہ، رژو کا میونشہ  
 پتھ رڈ وون آسہ، حدہ ڈلہ وون آسہ، دینس منز خبہ تہ شک پاوہ کرہ وون آسہ نار جھنمس اندر **إِلَّادِي**  
**جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ** ستم خدا بس سیت بیاکھ معبوداہ تجویز کور مت آسہ  
 بیچھ شخص تراویون سخت عذابس منز۔ چوہیہ ستمن گرا کرہ وونین اندر آسہ شیطان تہ **قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا**  
**مَا أَطَّغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ** سہ شیطان بس اس انس سیت سیت روزان اوس دپہ اے سانبہ

لَا تَخْتَصِمُوا لَدَائِي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۝<sup>(۲۸)</sup> مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ  
لَدَائِي وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝<sup>(۲۹)</sup> يَوْمَ نَقُولُ لِبَعْضِ هَلِ امْتَلَأَتْ  
وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ۝<sup>(۳۰)</sup> وَأَزْلَفَتْ الْجَنَّةُ لِّلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝<sup>(۳۱)</sup>  
هَذَا مَا تَوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۝<sup>(۳۲)</sup> مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ

پروردگارہ میہ بنوونہ سرکش یہ شخص جبراً بلکہ اوس یہ پائے پختہ اختیارہ زتہجہ گمراہی منز بوڈومت اگرچہ میہ  
تہ کسرس اتھہ گمراہی اندر مددہ ہن۔ لہذا اگرچہ نہ اکی سزہ گمراہی ہند اثر میہ پیٹھ بیون **قَالَ**  
**لَا تَخْتَصِمُوا لَدَائِي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ** اللہ تعالیٰ فرمادیکھ میہ بروٹھ کنہ منہ کرو لڑایہ ہنزہ تھہ۔  
سمہ تھہ چھ بے سود، میہ ہٹھ بروٹھ توہمہ سمہ عذابک نیم کتانن تہ پیغمبرن ہندہ واسطہ کورمت کہ بس  
کفر کرہ پائے یا کانہ ہندہ گمراہ کرہ سیت جبر آیا بلا جبر، سارنے دمہ بہ سزانا جہنمہ سیت **مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ**  
**لَدَائِي وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ** میہ نشہ بیہ نہ تبدیلی کرہ تھہ خمس بس جاری کرہ آمت ہٹھ توہمہ  
سارنے چھ جہنم اندر دزن۔ بیہ خمس نہ بیہ تجویز کرہ بس اندر پنہ نین بدن پیٹھ ظلم کرہ ون بلکہ  
کرہ تموپانے تہہ ناشایان کامہ تمکن ہند سز از تم تکان ہٹھ **يَوْمَ نَقُولُ لِبَعْضِ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ**  
**مِنْ مَزِيدٍ** سہ دوہ پادو تھی ژیتس تمکن لوکن سمہ دوہہ پر ڈھو اسی جہنم یلہ ساری مجرم تھہ منزواتا  
ونہ آسن آمت، برنہ آکھ؟ سہ دیہ بیہ چھاکینہہ؟ حدیث شریفس منز چھہ آمت کہ اللہ تعالیٰ تھاوہ  
جہنم پیٹھ ہن قدم۔ تمہ پتہ دیہ جہنم، بس بس وون سُدس ہد، وون آس برنہ **وَأَزْلَفَتْ الْجَنَّةُ**  
**لِّلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ** بیہ ہٹھ جنگ بیان کہ جنت بیہ متقین تہ پرہیزگارن لکھ تل آنہ دور آسہ نہ دپنہ  
یکھ **هَذَا مَا تَوْعَدُونَ** یوہے کیا گووسہ جنت سمیک توہمہ وعدہ یوان اوس تھاونہ کہ یہ جنت آسہ  
**لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ** پرہتھ خمس شخصہ سدہ خاطرہ بس خدا بس کن دلہ سیت رجوع کرہ ون آسہ یا تم  
اپزہ نشہ پزس کن، نافرمانی نشہ فرمانبرداری کن، شر کہ نشہ توحیدس کن بدعتو نشہ شمس کن رجوع  
کورمت آسہ۔ بیہ سارنے حقون راجھہ کرہ ون سندہ خاطرہ، اعمال و طاعاتن پیٹھ پابندی تہ ڈاڈ کرہ ون

وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿۳۳﴾ اِدْخُلُوْهَا سَلِيْمًا ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿۳۴﴾  
 لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدِيْنَآ مَزِيْدٌ ﴿۳۵﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ  
 مِنْ قَرْۢنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ اِهْلًا مِنْ مَّحِيْضٍ ﴿۳۶﴾  
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ  
 شَهِِيْدٌ ﴿۳۷﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ  
 اَيَّامٍ ۗ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ﴿۳۸﴾ فَاَصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ

سندہ خاطرہ من خشى الرحمن بالقييب وجاء بقلب منيب نيس کھوڑہ حضرت رحمانس وپھنہ ورائے،  
 بيہ ليس تس نغمہ ہیتہ آوزجوع کرہ وون دلاہ تمن بيہ ونہ اِدْخُلُوْهَا سَلِيْمًا اُڑوہنہ اتھ جنٹس منز  
 سلامت ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ يوہے پٹھہ ہيشگی ہند حکم جاری کرہ نگ دودہ از کہہ دوہہ تمن ہندہ  
 خاطرہ سمہ جايہ ہند تجویز آو کر نہ تمن پٹھہ تھہ جايہ ہميشہ روزن۔ باليمان ہميشہ جنٹس اندر، کافر ن  
 ہميشہ جنٹس اندر لَهُمْ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدِيْنَآ مَزِيْدٌ جنٹن ہندہ خاطرہ پٹھہ تمن جنٹن اندر تہ  
 سورے بيہ تم يڑھن، تچ تچ خواہش گرن۔ اسہ نشہ پٹھہ تمہ خوتہ سيٹھاہ زيادہ نعمو تمونعمو خوتہ تمن  
 ہنز تم خواہش گرن وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْۢنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ اِهْلًا مِنْ مَّحِيْضٍ  
 بيہ گال اسہ تمن مکين کافر ن بروٹھ وارياہ جماڑ مکر ن ہنزہ سم تہندہ خوتہ قوتس اندر زبردست  
 آس۔ پس ييلہ تہندہ انتقامک وقت دوت تم ژائے وار يين شہر ن اندر گنہ جايہ ہنہ نا پٹھن جايہ مگر تم  
 ہيک نہ خدایہ سندہ عذابہ نشہ پنہ نين پانن گنہ جايہ بچاوتھ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ  
 اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِِيْدٌ بے شک مين عبر تاک واقعا تن منز پٹھہ بوڈو عظ تمن لوکن ہندہ  
 خاطرہ تمن فجر کرہ وون دل آسہ ياسم نصيحت وو عظک کلام بوژن وارہ کن دار تھ، دل حاضر تھا و تھہ  
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۗ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ بے شک بيہ کر اسہ پادہ  
 آسمان تہ زمين بيہ بيہ تمن منز پٹھہ شين دوہن ہندس مدتس منز توپتہ سپز نہ بيہ پادہ کر نہ سیت تھکن تہ

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ<sup>(۳۱)</sup> وَمِنَ اللَّيْلِ  
 فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ<sup>(۳۲)</sup> وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ  
 قَرِيبٍ<sup>(۳۳)</sup> يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ<sup>(۳۴)</sup>  
 إِذَا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاللَّيْلَا الْمَصِيرُ<sup>(۳۵)</sup> يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ

ماندگی یادہ دون کیاہ عجایب چھہ آسہ نشہ دبارہ پیدہ کرن تو پتہ تہ ہر گاہ ہم لوکھ انکارے گرن فاصید  
 علی مایقولون ہتہ کمر وژید دشمن ہزن تھن پیٹھ یار رسول اللہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ  
 الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ بیہ کروٹہ خدلیہ سندیاد، تمسز پائی تم سندیاد تہ تعریف بیان کرنہ سیت  
 آفتاب کھسنہ بروٹھہ بیہ آفتاب لوسنہ بروٹھہ امہ اندرہ ہٹھہ مراد صبح نمازیہ پیشمن تہ درگرمناز۔ وَمِنَ اللَّيْلِ  
 فَسَبِّحْهُ بیہ کروٹھندیاد راؤ اندرہ ہتہ آگس وَأَدْبَارَ السُّجُودِ بیہ آسو تھندیاد کران فرض نمازوپتہ یعنی  
 سنت تہ نفل ادا کرنہ سیت وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ بیہ بوزاے مخاطب گن دار تھہ بیہ  
 کتھہ کہ سمہ دوہہ سارنہ مورڈن آلودیہ آلودوہ ون کتھ تلہ جاہ پیٹھ یعنی اسرافیل علیہ السلام پوغس  
 يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ سمہ دوہہ بوزن ساری سو کرکھ وارہ پاٹھی ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ سے  
 دوہہ کیاہ آسہ لوکن قبر و منزہ پیر نیرہ نگ دوہہ إِذَا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاللَّيْلَا الْمَصِيرُ آس چھہ بیہ نہ کانہ  
 سارنہ زندہ کران بیہ سارنہ ماران۔ بیہ چھہ آسی نشہ سارنہ پتولاکہ واٹن يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ  
 یسواھا سمہ دوہہ زمین مثر نہ بیہ سمن پیٹھہ تم نیرن تمہہ منزہ دل دل ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْكُمْ يُسِيرُ بیہ  
 تھن ہند سو نیراؤن تہ جمع کرن چھہ آسہ نشہ سہل تہ آسان غرض قیامتگ واقع سیدن آو بیان کرنہ  
 تبکار۔ امہ پتہ تہ ہر گاہ ہم لوکھ مانن نہ ہتہ مہ بروکانہ غم تہ فکر کیاڑہ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ آس  
 چھہ زانان تمہ سارے کتھہ سمہ ہم دشمن تھندیان چھہ آس زانوپائے سمن سیت وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ

سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿۳۴﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا  
 أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴿۳۵﴾

﴿جَبَّارٍ﴾ جہہ چھوہ نہ خدایہ سدہ طرفہ تمن کن زور تہ جبر کرہ ونِ آمت سوزنہ کہ تم ہا یو لکھ ہتہ  
 زورہ مسلمان۔ ٹہنز کام ہتہ وعظ ہرن تہ نصیحت کرن۔ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ کہس  
 پتر و تہہ وعظ قران مجیدہ سیت تمن لو کن تم کھوژن عذابہ کس وعیدس۔



## سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالذَّرِيَّتِ دَرُورًا ۱۱ فَالْحَلِيَّتِ وَقْرًا ۱۲ فَالْجَرِيَّتِ يُسْرًا ۱۳ فَالْمُقْسِمَاتِ  
 أَمْرًا ۱۴ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ ۱۵ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۱۶  
 وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ ۱۷ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ ۱۸ يُؤْفِكُ عَنْهُ  
 مِنَ الْوَيْفِكِ ۱۹ قَبْلَ الْخُرُوصِ ۲۰ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۲۱  
 يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ۲۲ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۲۳ ذُوقُوا

وَالذَّرِيَّتِ دَرُورًا تمن واولن ہند قسم تم گرد چھکر او ان چھہ فَالْحَلِيَّتِ وَقْرًا تمن او برن ہند قسم تم رو دک بورتلہ ون چھہ فَالْجَرِيَّتِ يُسْرًا تمن ناون تہ جہازن ہند قسم یم نرمی سان آہستہ آہستہ پکان چھہ فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا تمن ملائکن ہند قسم یم زینہ کین لوکن منز حکم خدا چیز تقسیم کران چھہ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٍ بے شک قیامتک بس وعدہ توہمہ سیت کرنہ یوان چھہ سہ چھہ بالکل ہز قُلَانِ الدِّينِ لَوَاقِعٌ بیہ چھہ عملن ہیندہ جزاءک دوہ ضرور واقع سپدہ ون وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْحُبُكِ بیہ چھہ قسم آسانک چھہ منز ملائکن ہندہ پچنہ خاطرہ و تہ چھہ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ بے شک توہمہ سارنہ ہنزہ تھہ چھہ قیامتس متعلق مختلف۔ کانہہ چھہ تھہ تصدیق کران، کانہہ چھہ انکار کران يُؤْفِكُ عَنْهُ مِنَ الْوَيْفِكِ سے چھہ امہ قیامتہ کہ وقوعہ اعتقادہ نشہ پھیران بس کلیتا خیر وسعادتہ نشہ پھیران آسہ قَبْلَ الْخُرُوصِ تباہ تہ بر باد گوہن بے سند تھہ کرہ ون یم قیامتس چھہ انکار کران دلیلہ ورآے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ سم جہالتس منز بوڈ تھہ غافل چھہ سپدہ بیت يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ سم پر ژہان چھہ ٹھہہ پاٹھ قیامت جزاءک دوہ کر آسہ۔ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ دیکو کھ تھی دوہہ

فَتَنَّاكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۳﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ  
وَعِيُونٍ ﴿۱۴﴾ اخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ  
مُحْسِنِينَ ﴿۱۵﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿۱۶﴾ وَبِالْأَسْجَارِ هُمْ  
يَسْتَغْفِرُونَ ﴿۱۷﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿۱۸﴾ وَفِي  
الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۹﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۲۰﴾ وَفِي  
السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿۲۱﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ

سمہ دوہرہ تم نارس پیٹھ بوزنہ بن جہنمک داروغہ دیکھہ ڈوٹووا فتناکم ژہوٹہ مزہ پینہ عزاءک ہذا  
الذی کنتم بہ تستعجلون یہ چھہ سے عذاب نئس توہرہ جلد ژہانڈان آسہہ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ  
وَعِيُونٍ بے شک خدایس کھوژہون آسن باغن تہ ناگہ رادن منر اخذین ما آتاهم ربهم حاصل  
کرہون آسن تہن مہربانین تہ تھہ ٹواہس سمہ تہن پینن پروردگارن عطا کرہ مژہ آسن انہم کانوا  
قبل ذلك محسنين بیشک تم آس سمہ بروٹھہ دنیاہس منر نیوکا کار کانوا قلیلًا من اللیل ما یہجعون  
تم آس فرائض وواجباتن علاوہ نوافل تہ ڈاڈکتر تھہ پران سمہ خاطرہ رات کیت تہ سیٹھاہ کم بندر کران  
آس وبالأسجار هم يستغفرون بیہ آس تم باوجود آل تحرکہ وقتہ خدایس مغفرت منگان، پنہ نئس  
عبادتس پیٹھہ اوسکھنہ غرور تہ نازسپدان وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ بیہ اوس تہندس مائس  
اندر حصہ مکھہ ونین تہ نہ مکھہ ونین محتاجن ہندہ خاطرہ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بیہ چھہ زمینس  
منزجہ جہہ دلیلہ قیامت قائم کرہ عکس قدرت آسکس پیٹھہ، یقین کرہ نئس پیٹھہ کوشش کرہ ونین ہندہ  
خاطرہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ بیہ چھہ خود تہندین ذاتن تہ نفس منر تہ قدرتکی بڈی نشانہ۔  
تہندین ظاہری وباطنی مختلف احوالن منر تہ چھہ دلیلہ امکان قیامتس پیٹھہ کیاہ توتہ چھنا توہہ بوزنہ یوان  
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ بیہ چھہ آسانہ نے اندر تہند رزق بیہ تم چیز تہن ہند چھہ قیامتس متعلق  
وعدہ تھاونہ یوان چھہ تہن سارنے چیزن ہند معین وقت چھہ درج لوح محفوظس اندر نئس آسانس پیٹھہ

مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ ﴿۳۲﴾ هَلْ أَنْتَ حَدِيثٌ ضَيْفٌ إِبْرَاهِيمَ  
 الْمَكْرُمِينَ ﴿۳۳﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿۳۴﴾  
 فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿۳۵﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا  
 تَأْكُلُونَ ﴿۳۶﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْضُرْ وَبَشِّرُوهُ بِعِلْمٍ  
 عَلَيْهِ ﴿۳۷﴾ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي حَصْرَةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ

ہتھ۔ زمینس پیٹھ آونہ تمیک یقینی علم نازل کرنہ کنہہ خاص مصلحتہ سببہ فُورِتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَشَدِيدٌ  
 مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ کس ہتھ آسمانن تہ زمین ہندس پروردگارہ سُنْدِ قَسَمِہ یہ جزاء ک دودہ ہتھ  
 حق تہ پوزہ ہتھ پاتھی ہنزہ ہتھ گرہہ ہتھ یقینی، اللہ تعالیٰ ان دیت قیامتہ کس واقعہ سُنْدِس تشبیہہ ہتھ  
 کر نس سیت یعنی ہتھ پاتھ انسان اکہ کتھ کران ہتھ توپتہ چھوڑھوپہ کران توپتہ چھو بیا کتھ ہیوان  
 کمرن ہتھ پاتھ کرہ اللہ تعالیٰ مرتھہ یہ لوکن زندہ هَلْ أَنْتَ حَدِيثٌ ضَيْفٌ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرُمِينَ  
 اے محمد کیاہ توہمہ نشہ چھاوتمت ابراہیم علیہ السلامہ سندن معز زپڑھین ہند قصہ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ  
 فَقَالُوا سَلَامًا یلہ تم ژاے تمن نشہ توپتہ کرکھ تمن سلام قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ابراہیم علیہ السلامن  
 تہ فرمودکھ سلامہ ہند جواب سلام۔ یہ لگ ونہ ابراہیم علیہ السلام تم کم ساودہر موہو ہتھ معلوم  
 سُنْدِ اَن فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ توپتہ ژاے تم جلد باژن نشہ تورہ آے ہتھ وڑھی سُنْدِ  
 مازنس گیوس منزاوس تلنہ آمت فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ توپتہ تھوڈکھ تمن بروٹھ کنہ تمویلہ  
 نہ توکن توجہ کوردوہتھ ہتھ کونہ چھوہ کھیوان۔ توپتہ تہ یلہ نہ تمو کھیو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً تمہ سیت  
 گا برے تہ خوف زدہ سپدے تم تمن نشہ اندری کن دوپ تموکھ خبر چھا تم ما آن دشمن ادہ کونہ ہتھ تم  
 کھیوان مگر تمو پڑھیو ژیون ہتھ گا برن تہ خوف زدہ سُنْدِ اَن قَالُوا لَا تَحْضُرْ وَبَشِّرُوهُ بِعِلْمٍ  
 کھو ژو۔ اُس نہ حض ہتھ انسان اُس ہتھ ملگھ۔ وَبَشِّرُوهُ بِعِلْمٍ عَلَيْهِ سیت ون ہتھ بشارت اُس عالم  
 فرزندہ سز نُس بیغبر آہہ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي حَصْرَةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَفِيمٌ توپتہ آہہ



عَقِيمٌ ﴿۳۹﴾ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۴۰﴾  
 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۴۱﴾ قَالُوا إِنَّا  
 أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۴۲﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِّن طِينٍ ﴿۴۳﴾ مُّسَوَّمَةً  
 عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿۴۴﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۵﴾  
 فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۴۶﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً

آتھ حاس منز برونھ کن تهنز آشین بی بی سارہ علیہا السلام یوسہ تہ تہ تھہ یمہ کتھہ بوزان آس، آیہ شور  
 تلان۔ تو پتہ لائن ڈیکس پنہ نس ژنڈا، بیہ لچی ذہنہ اکھ پتھس بہ بڈہ بیہ پتھس ہانٹھ سہ کتھہ سنپا ٹھی زیوہ  
 میہ پتھہ حاس منز میہ اولاد زیون پتھہ عجیب کتھہہ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ تمودوپ ہس تجب  
 مہ کرژہ آس چھاکنہہ بن وٹان بیہ فرمود پتھہ پاتھہ چآن پروردگارن إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ بے شک  
 سہ پتھہ سیٹھہ حمتہ وول سیٹھہ علمہ وول سہ پتھہ کمال قدرتہ وول تس نعہ پتھہ کتھہ عجائب۔ ابراہیم  
 علیہ السلام سہ معلوم نبوتہ کہ فرستہ سیت کہ تم ملکن پتھہ امہ بشارتہ علاوہ بیہ تہ کیاہ تان مقصد۔  
 تھہ کن نظر کر تھہ قَال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ پرژہ ابراہیم علیہ السلام سن ملاکن،  
 اے سوزنہ آتیو ملکو ہتہ گمہ ضروری کامہ خاطرہ چھوہ بیہ یور آمت قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ  
 مُّجْرِمِينَ تمودوپ پتھہ آس حض پتھہ سوزنہ آمت نا فرمان قوس آس کن یعنی قوم لوٹس کن  
 لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِّن طِينٍ پتھہ ترا و آس تم پتھہ کھلگرن ہندکتہ پھلن تم نار س منز پنہ آمت  
 پتھہ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ تم کن پتھہ پھلن خاص نشانہ تھونہ آمت اوس تھندس پروردگار س  
 نشہ نا فرمانی اندر حدہ ڈلہ وین ہدہ خاطرہ نشانہ اوسکھہ امی خاطرہ کہ سمہ گوٹن لکتہ تمہہ یم عقلہ تہ دینہ  
 کہ فطر تہ کہ حدہ نعہ ڈلت پتھہہ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ یلہ تم کن پتھہ عذابگ  
 وقت دوت بس کر یو واسہ ارادہ آس کڈو کہ تمہہ شہرہ منزہ تم لو کہ تم با ایمان آسن تم تھا و کہ آس علیہہ  
 فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ پس لوب نہ آسہ تھہ شہر س اندرا کہ گرہ و آسے کا نہ گراہ

لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۳۷﴾ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۳۸﴾ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْبِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿۳۹﴾ فَآخَذْنَاهُ وَجُودًا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿۴۰﴾ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَةَ ﴿۴۱﴾ مَا تَدْرُمْنَ شَيْءٌ آتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ ﴿۴۲﴾ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۴۳﴾ فَتَعَتُوا عَنِ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَاخَذَتْهُمْ الصَّعِقَةُ

مسلمانوں آندرہ، سہ گره اوس لوط علیہ السلام سُنْد تم تھا ڈاسہ عذابہ نشہ محفوظ۔ باقی کمر آسہ ساری ہلاک وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ بیہ تر و آسہ تمن سنگ بارال کرتھ۔ تھہ شرس منز ہمیشہ خاطرہ بغانہ اکھ، تمن لوکن ہمدہ خاطرہ تم کھوژان آسن سانس کڈرس عذابس توپتہ آسن سمہ واقعہ نشہ عبرت رثان وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ بیہ ہتھہ عبرت موسیٰ علیہ السلام سندس قصص اندرتہ بلہ آسہ سوز تم فر موسیٰ کن نہ دلیل یعنی مَجْرُہ ہتھہ قَتَوٰلِي بِرُكْبِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ بس پھیر ہتھہ تم بیہ تم سند یوارکان سلطنتو، سہ لوگ موسیٰ علیہ السلامس پنہ بیہ ہتھہ جادوگریا دیوانہ فَآخَذْنَاهُ وَجُودًا فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ پس روٹ آسہ سہ بیہ جہند فوج توپتہ دیت دآرتھہ دریاوس اندر ہتھہ منز سہ غرق گوہ و لشکر ہتھہ۔ سہ اوس سیٹھاہ قابل ملامتھہ کفر و شرک تہ نافرمانی ہمدہ سببہ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَةَ بیہ ہتھہ قوم عادہ کس ہلاک کرہ کس اندرتہ عبرت مکی مقام بلہ پھیر آسہ تمن پیٹھہ بھش تہ وجہ واو، بس خالی اوس خیرہ نشہ یعنی تھہ منز اوس جہدہ خاطرہ شرے شر مَا تَدْرُمْنَ شَيْءٌ آتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالرَّمِيمِ سہ واواوس نہ تراوان عنہ چیزس سمہ پیٹھہ سہ پکہ ہاگر تھہ اوس چورہ چورہ کران، ناس تہ ڈاس کران وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ بیہ ہتھہ قوم ثمودہ کس گلنس اندرتہ عبرت تک مقام بلہ ونہ آیو تمن یعنی صالح علیہ السامن فرما یو و تمن نمل تو تمح تہ فائدہ زندگی ہند کم کینہہ کالاہ یعنی کفر و شرک نشہ نے باز ایو تیلہ

وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۲۴﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَصِرِينَ ﴿۲۵﴾  
 وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿۲۶﴾ وَ  
 السَّمَاءَ بَيْنَهُمَا يَدُّوْنَ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿۲۷﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا  
 فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ ﴿۲۸﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ  
 تَذَكَّرُونَ ﴿۲۹﴾ فَفَرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۰﴾

بھتہ توہم ہلاک سہن فَعَتَوَاعِنَ اَمْرِدِّيْهِمْ فَاخَذَتْهُمْ الصُّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ توپتہ تہ کرتمو سرکشی تہ  
 نافرمانی پنہ نس پروردگارہ سندس کھمس پئس رث تم اکہ خوفناک کریجہ وچھان وچھان۔ یعنی عذابک  
 آثاریلہ ظاہر سپد تم آس تم آثار وچھان فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَصِرِينَ پئس ہیوک نہ تمو  
 تھو دو تھتھ کھ وکرسن کھر تھ مودساری۔ نہ ہیوک تمو اسہ نفسہ تمیک بدلہ ہیجہ۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ  
 اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ بیہ کراسہ سمن بروئجہ ہلاک تہ بر باد نوح علیہ السلامہ سند قوم بے  
 شک تم آس سینھاہ نافرمان لوکھ وَالسَّمَاءَ بَيْنَهُمَا يَدُّوْنَ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ بیہ کورپادہ اسہ آسمان پنہ  
 قدرتہ سیت۔ بے شک سان قدرت چھہ سینھاہ وسیع وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ بیہ دہرو اسہ  
 زمین فرشک پائٹھ۔ پس کیاہ رت ووتھر اوہون چھہ آس۔ یعنی اتھ ز مینس منز کم کم نفع تہ فایدہ تھادی  
 آس وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ بیہ کوراسہ پریتھ چیزہ پادہ جورہ جورہ، زرقم۔ امہ آندرہ چھہ  
 مراد پریتھ چیزس مقابل تھوؤ اسہ بیاکھ چیز، مثلاً آسمان تہ زمین، جوہر تہ عرض، گرمی تہ سردی،  
 مودر تہ ٹیوٹھ، لوکت تہ بوڈ، خوشماتہ بد نما، سفید تہ سیاہ، گاش تہ گمہ وغارہ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تھتھ توہم  
 سمومصنوعا تو سیت خدا سئد کن آسن فکرہ ترہ کہ موجودات چھہ زہہ تہ جفت خالق موجودات چھہ کئے  
 طاقت تہ فرد فَرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اے پیغمبر برحق تھی فرما دو لوکن سبیلہ سم  
 موجودات و مصنوعات حضرت خالق سندس کن آسئس پیٹھ دلالت کران چھہ پس پڑہ توہم کہ جہہ  
 دور وئس خدا یہ سندس توحیدس گن۔ بے شک بہ چھسبہ تھندی طرفہ توہم فکرہ تارہ خاطرہ نئن پائٹھ

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنَّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۵۱﴾ كَذَلِكَ  
 مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سِحْرٌ وَأَوْحَانٌ ﴿۵۲﴾  
 اتُوا صَوَابِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿۵۳﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنْتَ بِسَلُومٍ ﴿۵۴﴾  
 وَذَكَرْنَا لِلذِّكْرِى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۵﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ  
 إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

بیم کره ون۔ وضاحتہ سان چھسوہ و نان کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنَّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ بیہ مہ  
 ٹھہراوین اللہ تعالیٰ اس سیت کانہہ بیا کہ معبوداہ۔ بے شک بہ چھسوہ تو بہ تہندہ طرفہ بیم کرہ ون نین  
 پاٹھ اتھ منزسز زیادہ وضاحت کہ فہروالی اللہس منز چھ توحید ک حکم، تھہ چھہ لازم نہی عن  
 الشکر۔ سہ گوو وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ اتھ سیت آویہ تاکیدہ خاطرہ وننہ بہ چھسوہ نین  
 پاٹھ خدایہ سدہ طرفہ بیم کرہ ون اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان اے پیغمبر برحق جہہ چھوہ بیشک نذیر مبین۔  
 لیکن تم تہند مخالف چھہ تھہ جاہل کہ تم چھہ تو بہہ سآحرتہ مجنون وان۔ تہہ کمر و اتھ پیٹھ صبر، یہ  
 نوکتھہ چھہہ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سِحْرٌ وَأَوْحَانٌ تھہ پاٹھہ تم کافر  
 سمین برو تھہ کڈرے تین نشہ آونہ کانہہ پیغمبر اہر دو تھس یہ چھہ جادو گریامت تہ دیوانہ اتُوا صَوَابِهِ  
 کیسا تم آہہ اہر اس اوج وصیت کران تھی یہ تھہ برو تھہوہ و نموہ چھہ تھہ چھہ تم کافر تہ وان بَلْ  
 هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ بلکہ آس تم ساری سرکش تہ نافرمان۔ یعنی یہ تھہ ونہ تک سبب چھہ سرکش  
 تہ طغیان فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنْتَ بِسَلُومٍ تھس پھر و تین نشہ پن توجہ۔ تین گن مہ کرو کانہہ التفات تو بہہ  
 پیٹھ چھہہ کانہہ الزام تھہہ کرو تین کام تو بہہ وان تو وہہ پیغام حق وَذَكَرْنَا لِلذِّكْرِى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ تھہ  
 روز و اطمینانہ سان پننی کام کران۔ تھہ روز و لوکن نصیحت کران تین فخرہ تاران۔ بے شک و عظ و  
 نصیحت کر تھس چھہ سیٹھاہ فائدہ بالایمان ہبہہ تھہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ بیہ کر میہ پادہ  
 جن تہ انسان خاص امی خاطرہ کہ تھہ تم میانی عبادت کران مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

يُطْعَمُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۝ فَإِنَّ  
 لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝  
 قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ۝

يُطْعَمُونَ بہ چھنہ تمہن نشہ رزق ڈھانڈان۔ نہ چھس بہ یرھان میہ کھیان تاکینہ لَئِنَّ اللَّهَ  
 هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ بے شک اللہ تعالیٰ چھ سارے رزق عطا کرے اور قوت و ول سے مضبوط  
 فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ہنس تمہن لوکن ہندہ عذابہ خاطرہ سے  
 چھہ و آری ہنن مقرر خدا ہنس نشہ سمپان پانس کفر و شرکہ سیت ظلم کور۔ چھہ پاٹھہ برو نھنن کافر  
 ہندہ خاطرہ و آری چھہ مقرر ہنس مہ کرن تم بانبر یعنی عذاب طلب کرنس اندر مہ کرن جلدی۔ سو ہنن  
 و آری ولتہ تمہن ضرور قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ پس چھہ بڈ خرابی سے  
 افسوس تمہن لوکن ہندہ خاطرہ سمو کفر سے شرک کور تمہہ دوہہ۔ سمہہ ڈہک تمہن وعدہ تھاونہ یوان چھہ۔



## سُورَةُ الطُّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 وَالطُّورِ ۝ وَكُتِبَ مَسْطُورٍ ۝ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ ۝ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۝  
 وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۝ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۝ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝  
 مَّآلَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝  
 قَوْلٍ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَلَّبِينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۝ يَوْمَ  
 يَدْعُونَ إِلَى نَارِهِمْ دَعْوًا ۝ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكذَّبُونَ ۝

وَالطُّورِ کوہ طور ج درے وَکُتِبَ مَسْطُورٍ بیہ لیکھنہ آثرہ کتابہ ہنزدرے فِی رَقٍّ مَّنشُورٍ یوسہ  
 مژرنہ آقس کاغذس پیٹھ لیکھنہ آثرہ چٹھہ۔ تمہ اندرہ چٹھہ مرادنامہ اعمال وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ بیت  
 المعمورچی درے۔ سہ گوولایکن ہمدہ عبادتک گرہ۔ لُس ستمس آسمانس پیٹھ چٹھہ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ  
 بیہ تھدہ پٹھ درے۔ یعنی آسمان وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ بیہ دریاسے پٹھ درے لُس آہہ سیت برتھ چٹھہ  
 إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ بے شک چانس پروردگارہ سہ عذاب چٹھہ کافرن تہ معبرن پیٹھ ضرور واقعہ  
 سہہ و ن تآلہ مِنْ دَافِعٍ کانہہ چیزاہ چھنہ، کانہہ ہمد طاقت چھنہ تھ عذابس پٹھ رٹن۔ یوسہ  
 عذاب سہہ واقعہ تمہہ دوہہ یَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا سمہہ دوہہ آسمانس تھہ تہ تھرہ دو تھہ، سخت تھہ، سمہہ  
 سیت تھہ پھر اٹھہ تہ شکاف گوہن وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا بیہ سمہہ دوہہ وڈن کوہ عجیب طریقہ پنہہ جلیہ لغہ  
 لُن قَوْلٍ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَلَّبِينَ لُس بوین وال تہ افسوس تمہہ دوہہہ انکار گرہ ونین، یم توحیدس  
 رسالتس تہ قیاسس انکار کران آس الَّذِينَ هُمْ فِي حَوْضٍ يَلْعَبُونَ یم تکذبیہ کس شغلکس منزبے ہودگی  
 سان بوڈی مت آس يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى نَارِهِمْ دَعْوًا سمہہ دوہہہ تم لوکھ زورہ پکناونہ ین جہنمس لُن بیہ

اَفْسَحْرُ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ﴿۱۵﴾ اِصْلُوْهَا فَاَصْبِرُوْا وَاَوْ لَا تَصْبِرُوْا  
 سَوَاءٌ عَلَیْكُمْ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾ اِنَّ  
 الْمُتَّقِیْنَ فِیْ جَنَّتٍ وَّ نَعِیْمٍ ﴿۱۷﴾ فَكِهٰیۙنَ بِمَا اٰتٰهُمُ رَبُّهُمُ وَّوَقَّاهُمْ  
 رَبُّهُمُ عَذَابَ الْجَحِیْمِ ﴿۱۸﴾ كُلُّوْا وَاَشْرَبُوْا هٰنِیْٓ اِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾  
 مُتَّكِیْنَ عَلٰی سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ وَّزَوْجًاۙتُمْ بِحُوْرٍ عِیۙنٍ ﴿۲۰﴾ وَالَّذِیۙنَ  
 اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِاٰیْمٰنٍ اَلْحَقْنَاۙ بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَا

دوان تہ دکہ دوان ونہ بیجھ ہذہ النار الیٰ کنتم بہا تکذبون یوہے کیاہ گووہہ جنم تہہ تہہ لہز زمانہ  
 آسوہ۔ بین آیتن منزاج خبر آس آسان تمن آیتن آسوانکار کران دیان آسوتم آیات جہہ سحر افسحرو  
 ہذہ اٰم انتم لا تبصرون یہ جنم تہ ماچھ تہندہ خیالہ سحر تہ جوہ۔ وارہ وہتھتھ ونوکنہ توہہ جہنہ در منٹھی  
 یوان کینہہ تہ اِصْلُوْهَا فَاَصْبِرُوْا وَاَوْ لَا تَصْبِرُوْا سَوَاءٌ عَلَیْكُمْ اِثواتھ جہنمسن اندر، ادہ جہہ صبر کر توایمتہ  
 کر توہندہ خاطرہ جہہ دوشوے چیز برابر اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ ہٹھہ مگر تہے کایمن  
 ہند بدلہ یمہ توہہ کران آسوہ دنیاس اندر اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ جَنَّتٍ وَّ نَعِیْمٍ بے شک پر ہیزگار آسن  
 جتن نعمون تہ سامان عیش منز فَكِهٰیۙنَ بِمَا اٰتٰهُمُ رَبُّهُمُ خوش تہ خرم آسن تمو نعموتہ مہربانیوسیت  
 سمہ یمن عطا کرہ مژہ آسن پروردگارن وَّوَقَّاهُمْ رَبُّهُمُ عَذَابَ الْجَحِیْمِ بیہ آسن تم رہمت پن  
 پروردگارن جہنم عذابہ لثہ ونہ بیجھ کُلُّوْا وَاَشْرَبُوْا هٰنِیْٓ اِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کھیہ تہ چویہ چھوہ بدلہ تمن  
 کایمن ہند یمہ توہہ کران آسوہ دنیاس اندر مُتَّكِیْنَ عَلٰی سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ وَّزَوْجًاۙتُمْ بِحُوْرٍ عِیۙنٍ تم جنتی  
 آسن تکیہ دی دی تھن پیٹھ سم لکھ لکھ تھاونہ آسن آمت۔ بیہ کروکھ تھتر حورن سیت سمن اچھہ ویکھہ  
 ویکھہ آسن یہ گووعام باایمان ہند حال۔ امہ پتہ ہٹھہ خاص باایمان ہند ذکر یمن ہند اولاد تہ آسن باایمان  
 وَالَّذِیۙنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّیَّتُهُمْ بِاٰیْمٰنٍ اَلْحَقْنَاۙ بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَا تہہ  
 سمولو کو ایمان اون تو پتہ پتک تہند اولاد تہ تہے پتہ پتہ ایمان آسن اندر اگرچہ عملہ کر لکھ نہ تہزہ ہشہ

التَّانُمُ مِّنْ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلِّ امْرِيٍّ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿۲۱﴾  
 وَاَمَدَدْنَهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿۲۲﴾ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا  
 كَاَسًا لَّا لَغُوْفِيْهَا وَلَا تَأْتِيْمٌ ﴿۲۳﴾ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ  
 كَاَنَّهُمْ لُوْلُوْءٌ مَّا كَانُوْنَ ﴿۲۴﴾ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ  
 يَّتَسَاءَلُوْنَ ﴿۲۵﴾ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْ اٰهْلِنا مُشْفِقِيْنَ ﴿۲۶﴾ فَمَنَّ  
 اللهُ عَلَيْنَا وَاَوْقِنَا عَذَابَ السَّوْمِرِ ﴿۲۷﴾ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ

آس ملہ ناووکھ تہند اولاد تمنے سیت تہندہ اکرام و تعظیمہ خاطرہ۔ بیہ یتھ تہند دل قرار رٹن۔ بیہ گرو نہ  
 آس تہزن عملن اندر کنج کمی۔ مگر شرط ہجھ اولاد گروہن با ایمان آس نہ ہر گاہ تہ آسن تیلہ ہجھ کافر  
 اولادن ہند با ایمان مالین نشہ واتن ناممکن کیا زہ کُلِّ امْرِيٍّ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ پر یتھ اکھ شخصہ ہجھ پنہ  
 نین گھرہ چن کا مین سیت نارس اندر بند کرنے آمت سہ روزہ مجبوس تہ ماخوذ تھن اندر کیا زہ کفر نشہ  
 نجات ہنہ نج ہجھ نہ کانہ صورتہاہ وَاَمَدَدْنَهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ بیہ ہرہ روو اسہ تمن جنتین  
 میوہ تہ مازسمہ قسمہ مازج تم خا ش تہ رغبت گرن پر یتھ دو بہہ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاَسًا لَّا لَغُوْفِيْهَا وَلَا  
 تَأْتِيْمٌ بیہ آسن تم خوش طبعی پاٹھ تھپ تھپ تہ اکھ آس نشہ نج کوشش کران شرابہ کس تھ  
 پیالس تھ منز نہ بکواس آسہ نہ کانہ بے ہودہ کتھاہ آسہ عقل و متانتس خلاف وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ  
 غِلْمَانٌ لَهُمْ كَاَنَّهُمْ لُوْلُوْءٌ مَّا كَانُوْنَ بیہ آسن تمن جنتین نشہ میوہ و غارہ چیز بروٹھ کن انہ خاطرہ پھیران  
 تہ اورہ یور کران۔ خوبصورت، لوکت یم تہند خدمتہ خاطرہ مخصوص آسن تے آسن خوبصورتی تہ  
 حُسن و جمائس اندر پنے پے کران ہاجتہ منز محفوظ تھونہ آمت موختہ ہی۔ تمن جنتین آسہ روحانی مسرت  
 تہ چنانچہ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ متوجہ سپدن تمو آندرہ اڈی اڈین کن تھ ہاتھ  
 کرنے خاطرہ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْ اٰهْلِنا مُشْفِقِيْنَ اثناء گفتگو س اندر دہن تم آس آس نادنیاء اس منز  
 پنہ نس عیالس منز خدلیہ سدس عدائس کھوژان فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَاَوْقِنَا عَذَابَ السَّوْمِرِ پس تھو بد



نَدُّعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿۳۸﴾ فَذَكَرْنَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ  
 بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿۳۹﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَّبِعُ بِهِ  
 رَبِّبَ الْمُتُونِ ﴿۴۰﴾ قُلْ تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿۴۱﴾  
 أَمْ تَأْتُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿۴۲﴾ أَمْ يَقُولُونَ  
 تَقْوَاهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۴۳﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا

مِتِ اسے پیٹھ خدائے اس رحمن جہنم کے عذابہ نے لاکھا من قبل نَدُّعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ہے  
 شک اس آس از کہہ بروٹھ دنیا اس منزسی دعا منکان۔ بے شک سہ چھہ سینہا احسان کرہ ون، سینہا  
 مہربان۔ توہہ نشیلہ اسے اسے قسمک مضامین سوز یمن منزجتہ کین لوکن تہ جہنمہ کین لوکن ہند حال  
 بیان آو کر نہ فَذَكَرْنَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ جس تھے مضمون بیان کر نہ سیت تارو  
 فجرہ یار رسول اللہ لوکن کیا زہ توہہ چھوہ نہ ہر گز خدایہ سنزہ مہربانی و فضلہ سیت کاہن تہ دیوانہ ہتھہ  
 پاٹھ تم مشرک و نان چھہ۔ توہہ چھوہ بے شک پیغمبر برحق۔ پیغمبرہ سنز کام چھہ مداومت کرن و غط و  
 تہلینس پیٹھ اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَّبِعُ بِهِ رَبِّبَ الْمُتُونِ کیاہ تم چھا توہہ شاعر زائتھ و نان اس  
 پیار و یمن زمانہ کین حادثات ہتھ پاٹھ بے شاعر ستر ستر ختم گئے تہ مودتھہ پاٹھ گوہن تم تہ سمہ عالمہ  
 قُلْ تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ توہہ فرما دیو کہ یار رسول اللہ جان گو پیار و توہہ کہہ تہ تھس  
 توہی سیت پیارہ و نیو آندرہ و چھو کہند کیتھ انجام سپدہ توہہ و چھو میون انجام کیتھ آسہ۔ میہ چھہ امید میون  
 انجام آسہ کامیابی تہ تہند انجام آسہ ناکامی اَمْ تَأْتُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ کیاہ تم چھا  
 عقلہ تہزہ تمیک تمن دعوی چھہ یہ تھہ پیٹھ ناوان کنہ تم چھہ سر کش تہ شری قوم کنہ رائدہ چھہ بینت  
 اَمْ يَقُولُونَ تَقْوَاهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ کیاہ تم چھا و نان کہ یہ قرآن مجید چھہ آخضر توپانے بنوومت تہ  
 چھہ ہر گز بلکہ چھہ تم عنادہ سببہ اتھ قرآن مجیدس پڑھ کران۔ ہر گاہ بالفرض تی آسہ فَلْيَأْتُوا  
 بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ تیلہ ان تن تم تہ اتھ قرآن مجیدس ہو کا نہ کلاماہ تم تے عربی

صَدِيقِينَ ﴿۱۱﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿۱۲﴾ أَمْ خَلَقُوا  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ﴿۱۳﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ  
 أَمْ هُمُ الْمُضِيِّطُونَ ﴿۱۴﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ  
 مُسْتَمِعَهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُبِينٍ ﴿۱۵﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿۱۶﴾ أَمْ  
 تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّعْرُومٍ مُتَّقِلُونَ ﴿۱۷﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ

کلام کرہ نس بیٹھ قادر چھہ، فصیح و بلیغ چھہ چھہ تم اتھہ دغوی اس اندر پر زیر اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ  
 اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ کیاہ تم چھا پادہ کرنہ آمت عنہ چیزہ وراے۔ یعنی پائے چھا پادہ سہ مت کالنہہ خالق  
 وراے کنہ تھے چھہ پائے پانس پادہ کرہ وئی تہ خالق اَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ کیاہ  
 تموے کرہ آسمان تہ زمین پادہ۔ بلکہ چھہ تم بوجہ جمالت توحید ک یقینی کران تہن چھہ پڑھے سج  
 اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ اَمْ هُمُ الْمُضِيِّطُونَ کیاہ تہن لوکن نشہ چھا تہندس پروردگارہ سندین رحمن  
 تہ نعمتون ہند خزائن سمونعمون تہ رحتو اندرہ نبوت تہ چھہ کہ تہنہرہ خائے مطابقتس سونبوت عطا کرن  
 یزھن تس کمرن عطا کنہ تم چھہ تمہہ محکم زٹھ تہ میٹھ بنے متس خوش کرکھ تس دیاؤن نبوت  
 اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعَهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُبِينٍ کیاہ تہن نشہ چھا کانہ ہیراہ تھہ بیٹھ

کھتھہ تم بوزان چھہ آسانچہ خبرہ۔ ہر گاہ تہ چھہ تیلیہ کمرن پیش تم خبرہ بوزہ ون کانہ نہ دیلاہ سمہ  
 سیت ثابت سپدہ کہ تم کیاہ چھہ واقعی بوزمت وحی الہی اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ توحیدس انکار کرہ  
 ون چھہ ملائکن دپان خدلیہ سزہ کورہ۔ اے کافر و کیاہ خدائس کیا کورہ تجویز کرنہ سمہ توہہ پانس  
 نامر غوب تہ ناپسند چھہ تہ توہہ گوہ پنہہ خاطرہ پنچو اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّعْرُومٍ مُتَّقِلُونَ کیاہ توہہ  
 چھہ ہار رسول اللہ منگان تہن دین حق و اتادہ خاطرہ مزور تہ معاوضہ۔ تمہ نقصانگ بور کیاہ چھہ ہیکان  
 تم برداشت کمر تھہ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ کیاہ تہن نشہ چھا علم غیب پوشیدہ تھہ واثر مژہ تمہ  
 کیاہ چھہ تمو لیکھت تھاوتھہ محفوظ تھاوتھہ وون چھہ تہن کج ضرورتھہ۔ تہنہ غیبہ چن تھن بیٹھ اطلاع

فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿۳۱﴾ أَمْ يَرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ  
 الْمَكِيدُونَ ﴿۳۲﴾ أَمْ لَهُمْ آلَةٌ غَيْرَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾  
 وَإِنْ تَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ ﴿۳۴﴾  
 فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿۳۵﴾ يَوْمَ  
 لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۶﴾ وَإِنَّ  
 لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾

آسنہ موکہ کیا ہے تم قیاس! انکار کران۔ اَمْ یُرِیدُونَ کَیْدًا۔ فَالَّذِیْنَ کَفَرُوا هُمْ الْمَکِیْدُونَ۔ کَیْدٌ تم صاحب رسالتس نسبت کا نہ آزار یہ تکلیف وادہ تاؤن یرھان۔ کس سہم لو کو کفر یہ انکار کورٹے سپدن تھہ آزارس یہ تکلیفس منزبانہ گرفتار۔ چنانچہ تم سپد تھہ منزنا کام جنگ بدرس منزگے واریاہ ڈاعمر کافرن ہندماہہ اَمْ لَهُمْ آلَةٌ غَیْرَ اللَّهِ کیاہ تمین چھامعبود برحقس ورائے یہہ کا نہ معبوداہ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ چھہ منزہ یہ پاک تموساروے چیز و نشہ یم چیز تم لو کہ کس شریک ٹھہراوان چھہ مخالف لو کہ یعنی مٹرک آس رسالتس متعلق وٹان کہ آس مانون یہ صاحب نبلی پیغمبریلہ تم آسانکہ طرفہ آسانچ آھ چھلاہ تراوہ تاؤن وَإِنْ تَرَوْا کِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا یَقُولُوا سَحَابٌ مَرْکُومٌ ہر گاہ تم وچھن یہ آسانچ آھ چھلاہ وس پیوان توتہ ائن نہ تم ایمان۔ دہن یہ چھہ پیوٹھس پیٹھہ تھونہ آمت آھ اوبرہ ژروٹاہ۔ وون بیلہ تم لو کہ امہ قسمک طاعی یہ باغی چھہ تمین لوکن نغیرہ ایمانک توقع تھاون چھہ بے کار فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ یُلَاقُوا یَوْمَهُمُ الَّذِیٰ فِیْهِ یُصْعَقُونَ کس تراؤلو کہ حض یارسول اللہ تم لو کہ پنہ کس پیٹھہ یوتتان تم سمہ کھن پنہ کس تھہ دوہس سمہ دوہہ تمین جس یہ ہوش وڈن یعنی قیامتک دوہ یَوْمَ لَا یُغْنِی عَنْهُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا وَلَا هُمْ یُنصَرُونَ یہہ دوہہ نہ تمین کا نہہ فائدہ دیدہ پن مکر یہ فریب کس تم اسلامہ کس مخالفس منز دنیاوس اندر کران آس نہ پیچھ کٹھہ طرفہ کا نہہ مددہ کتر نہ وَإِنَّ لِلَّذِیْنَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُونَ یہہ چھہ پڑی پاتھہ مین ظالمین ہندہ خاطرہ

# وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۗ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝

اگہ عذابہ قیامتہ عذابہ بروٹھے دنیا س منز مگر تموا ندرہ جھنہ اکثرن سہ معلوم۔ یلہ توہہ معلوم سپد کہ تہندہ خاطرہ چٹھہ اگہ وقاہ معین کرنہ آمت **وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ** توہہ کرو حض پنہ نس پروردگارہ سندس خمس انتظار کرہ نس پیٹھ صبر توہہ مہ کرو اندیشہ اتیس کالس یکن پیٹھ عذاب نازل سپدہ۔ اتیس کالس ماوا تہ ناون تم توہہ کانہ تکلیفہ تمہ نشہ روزو توہہ بے فکر کیا زہ توہہ چھوہ آسہ نظرہ تکل سانس حفاظتس تہ ر اچھ اندر۔ ہر گاہ توہہ تہندہ کفر ک غم دلس پیٹھ یوان آسہ تمیک علاج چھہ کہ مجالس ونشہ وو تھنہ وزہ یانیدر نشہ بیدار سپد نہ نشہ آسہ توہہ پنہ نس پروردگارہ سند یاد کران تسبیح و تحمیدہ سیت **وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ** بیہ آسہ وراتہ کس کنہ حصس منز تہ تہندہ تسبیح پران مثلاً اٹھنہ کہ وقتہ۔ بیہ تارکن ہندہ لوسنہ پتہ تہ یعنی صبح نماز آسہ پران۔ غرض ہن دل آسوخد لہ سبب یادس سیت مشغول تھوان۔ ادہ آسہ نہ غمن تہ فکرن ہند غلبہ روزان۔





# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝ ذُو

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم مجھ میہ ستارک ینلہ سہ لوسان مجھ۔ مجھ پاٹھ پستارہ مجھ پنہ نس ساری سے مساقس اندر، طلوع پیٹھ غروبس تان اورہ پورڈلہ ورآے سیوڈے پکان مجھ پاٹھ چھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پنہ نس ساری عمر شریفش ابتداء پیٹھ انتہاءس تان گراہی وضلالہ لغیر محفوظ۔ چنانچہ یوہے مجھ جواب قسم یعنی اتھ کتھ پیٹھ مجھ قسم ہاونہ آمت **مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ** یہ تہند پر مجھ وقتہ سیت تہ بروٹھ کنہ روزن وول پیغمبر، یہ مدین سارنہ احوال تہ افعالن ہنز توہہ خبر مجھ، نہ ڈل تم راہ راستہ لغیر نہ کرکھ بچ ڈتھ اختیار۔ ضلال گوسیز ڈتھ زانتھ چہ وتہ بکن۔ غوایت گوسوسیز ڈتھ تراو تھ بہ وتہ بکن **وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ** نہ مجھ تم پنہ نفسانی خواہشہ موجب کلام فرماوان مجھ پاٹھ توہہ ونان چھوہ **إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ** تہند ارشاد مجھ خالص وحی آسان نس تمن کن سوزنہ یوان مجھ خدایہ سیدہ طرفہ خواہ سہ الفاظن ہندوحی چھ مجھ قرآن ونان چھ، خواہ صرف معانین ہندوحی مجھ مجھ سنت ونان چھ اصل مقصد مجھ نفی کرن تھ خیال نس کافر ونان اس کہ نعوذ باللہ تم کیاہ چھ خدایس کن نسبت کران غلط تھن، تہ ہرگز چھہ امہ پتہ مجھ اللہ تعالیٰ وحیک واسطہ بیان کران کہ **عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ** کہ تہن مجھ امہ وچ تعلیم کران سہ ملک یعنی جبریل امین نس سٹھاہ طاقتہ وول مجھ سہ طاقت مجھن نہ حاصل کورمت بلکہ **ذُو مِرَّةٍ** چھ جس سہ طاقت ذاتی تہ پیدایشی۔ مجھ پاٹھ آکس روا تیس اندر پانہ جبریل امین پنہ طاقتک بیان کورمت مجھ کہ میہ مجھ قوم لوٹجہ بستی ژرہ تلہ کھار تھ آسانس تانیواتا وہ مرہ۔ آسانس قریب واتا و تھ مجھ تلگ پیٹھ کورمت۔ یوت چھ سہ طاقتہ وول۔ آکس سے طاقتہ واکل سیدہ ذریعہ مجھ یہ مقدس کلام توہہ تان واتا ونہ آمت نعوذ باللہ کانہہ شیطانہ سیدہ

مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۗ ثُمَّ دَنَّىٰ فَقَدَّتْ لِي ۙ  
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۖ فَأَوْخَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْخَىٰ ۗ

ذریعہ چھنہ و اتانہ اُمت تاکہ تہیدہ کا ہن آسک آسہا احتمال۔ بلکہ چھہ ملائین ہندس سردارہ سندہ ذریعہ و اتانہ اُمت۔ سمہ تہہ ہند چھنہ احتمال کہ و اتانومت کیاہ چھہ ملکنے مگر خبر چھاوتہ ما آسہ تہس پیٹھ تصرف کورمت کانہہ شیطانن کیاہہ تہس ملکنس کور اللہ تعالیٰ صفت شدید القویٰ سیت۔ امہ اندرہ چھہ مطلب کہ شیطانہ سند مجالے چھنہ کہ سہ کیاہیچہ کنہ قسمک تصرف کمر تہہ اہس قوتہ و اہس ملکنس پیٹھ و حیک سلسلہ ختم سپدنہ پتہ چھہ پانہ اللہ تعالیٰ اَن اُمہ قرآن مجیدہ کہ حفاظتک، امہہ بعینہ ادا کرنگ ذمہ ہیوتمتتہ وعدہ کورمت اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ وونی چھہ بیاکھ شبہ کہ اہس و حیرتس واسطس ملکنس سیت چھا تہمو تہہ ہندس اصلی صورتس منز ملاقت کورمت۔ تہہ متعلق چھہ ای زہ و واقعی تہہ چھہ لبنہ اُمت۔ متعدد دفعہ چھہ تموجریل امین و چھتتہ بیس صورتس منز فاستوی پس سپد سو سیود ایستادہ اکہ بھرہ چھہ لبنہ اُمت کہ اصلی صورتس منز تہہ آوسہ تہن بروٹھ کن وھو بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ در حالیکہ سہ اوس آسانہ کین بلند کنارن پیٹھ آسانہ کین افقن نزدیک چھنہ چیز صاف بوزنہ یوان۔ وسطہ آسانس کن نظر دن چھہ باعث تکلیف سپدان افق اعلیٰ اس پیٹھ و چھن چھہ آسان تہی موکھ رود جبریل امین افق اعلیٰ اس سیدہ سیود۔ یہ گووتہی دوہہ سمہ دوہہ تمو خواہش کر جبریل امینس نشہ کہ اے جبریل میہ ہاوڑہ پن اصلی صورت چنانچہ امام ترمذی سندہ روایتہ موجب آوودہ کرنہ کہ کوہ خراہس نکھ تل، موضع جبارس منز یہیہ یہ بھل۔ پس اون تشریف نبی کریمو صلی اللہ علیہ وسلم تہہ جاہہ تہہ پیٹھ و چھتھ جبریل

امین مشرقی افقن پیٹھ شبہ تہہ ہر مژرا و تہہ تہے آس و اُمت مغربی افقن تان یہ و چھتھ سپدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش توپتہ پے ز مینس پیٹھ۔ توپتہ آو جبریل امین تہن نکھ تل انسانی صورتس اندر تسکین دنہ خاطرہ تہہ ذکر چھہ امہ پتہ۔ الحاصل جبریل امین آو گوڈہ افق اعلیٰ اس پیٹھ اصلی صورتس منز یہیہ تم بے ہوش سپدے توپتہ آوسہ تہن نزدیک انسانی صورتس منزنی گوو ثُمَّ دَنَّىٰ فَقَدَّتْ لِي توپتہ آو جبریل امین تہن نکھ تل فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ تہس آس تہن دون مزدون کمان یا تہہ جائے بلکہ تمہ خوتہ تہہ گئے عربک عادت اوس کہ یلہ زہ شخص پانہ و ان کمال اتحاد و اتفاقہ خاطرہ



## إِذْ يُعَشِّي السِّدْرَةَ مَا يُعَشِّي<sup>(۱۶)</sup> مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى<sup>(۱۷)</sup>

اس کھتلت۔ تو پتہ چھہ و اتانوانہ یوان تمہہ عملہ تہہ پیٹھہ بعالم بالا۔ اتھ سدرة التہمی اس تل چھہ جبریل امینہ سُد مقام۔ روایا تو سیت چھہ معلوم سپدان کہ امہ سدرة التہمی ءک مول چھہ شہہ مس آسمانس اندر شاخ تہ لجنہ چھس سمس (۷) آسمانس پیٹھہ پتھہ پاٹھی جنتہ کین میون متعلق تہ تھہ چھہ کہ تمن چھہ دنیا کین میون سیت صرف لفظی اشتراک حقیقت چھہ سیٹھاہ مختلف۔ تنک میوہ سین نہ قیاس کرنہ دنیا کین میون پیٹھہ۔ دنیا کین میون چھہ مناسبتہ کا نہہ تمن میون سیت۔ تھہ پاٹھہ چھہ سدرة التہمی اچ کیفیت سوی یوسہ دنیا کلین بریہ کین ہنز چھہ بلکہ چھہ تمن منز فرق یوس ز مینس تہ ستہ مس آسمانس منز چھہ

عِنْدَ مَا جَنَّتْ الْمَأْدَى اتھ سدرة التہمی اس نکھ تہہ چھہ با ایمان تہ نیک بندن ہندہ روز نچ جائے یعنی سہ جنت تہہ منز با ایمان نیو کار اخروی زندگی بسر کرن۔ امہ اندر ہ سپد معلوم کہ با ایمان ہند مقام چھہ جبریل امینہ سندس مقاس نکھ تہ۔ الغرض کہ دو سہمہ بھرہ و چھہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سدرة التہمی اس نکھ تل۔ امہ پتہ چھہ یوان بیان سہ وقت سہمہ وقتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین اصل صورتس منز چھہ۔ **إِذْ يُعَشِّي السِّدْرَةَ مَا يُعَشِّي** یلہ سدرة التہمی دول تمو چیز و سمول۔ یعنی اللہ تعالیٰ سند انوار تہ تجلیات اس تھہ پیٹھہ ولنہ آمت۔ ملائکین ہنز کثرت تہ ہجوم اوس تیوت کہ ہر پتہ و تھرس پیٹھہ اوس اکھ اکھ ملکھہ روز تھہ۔ اگس روایتس منز چھہ آمت کہ ملائکواوس اللہ تعالیٰ اس اجازت ہو تمت کہ اس تہ و چھہ ہون محبوب خدا اس تہ کرہ ہو جنز زیارت۔ اللہ تعالیٰ اُن دیت تمن اجازت تھی موکھ آئے سدرة التہمی اس پیٹھہ سونہ سندین پنہ پونہرن ہنزہ ٹکلہ اندر۔ ابن کثیرن چھہ حضرت مجاہدس نعہ یم عبداللہ ابن عباسہ سندی خاص شاگرد اس سہمہ آہہ کریمہ کس تفسیرس منز یم الفاظ نقل کر مت کان أغصان السدرة لؤلؤاً و زبرجداً یعنی سدرة التہمی اوس تیوت خوبصورت تہ خوش رنگ، سہ و چھہ سیت اوس دل و پھر ان۔ تمہہ وقتہ اوس امہ کلیک رونق تہ حُسن و جمال تمہہ قسمک کہ کانسہ مخلوقہ سُد طاقتہ چھہ سہ کیاہ کرہ بیان الفاظن اندر۔ شاید حضرت صاحب المعراج صلی اللہ علیہ وسلمہ سند دیدار خدا چھہ می آہہ کریمہ کس اشارس اندر درج آمت کرنہ سدرة التہمی بہہ تمیک بے انتہاء رونق بہہ بے شمار ملائکین ہند اجتماع بہہ جبریل امینہ سنز اصلی صورت و شکل و چھہ **مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى** دول نہ تھند نظر مبارک یعنی پتہ ڈول نہ تہ و چھہ نفعہ



لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿۱۸﴾ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿۱۹﴾  
 وَمَنْوَةَ الثَّلَاثَةَ الْآخَرَىٰ ﴿۲۰﴾ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿۲۱﴾  
 تِلْكَ إِذْ أَسْمَعُ ضِيْرِي ﴿۲۲﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ

سمجہ وچھنک حکم سپد کھ۔ نہ زینتھو تہند نظر مبارک تم چیز و پھنس کن سمن چیزن کن وچھنک حکم او سکھ  
 نہ۔ یعنی مستقل مزاجی سان۔ تہند مزید استقلال بیان کرنہ خاطرہ فرمود اللہ تعالیٰ ان لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ  
 آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ بے شک وچھ تہمو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنہ نس پروردگارہ سہدہ  
 قدرتک بڈ بڈ عجائبات معراج شریفہ کین حدیث شریفن منز ہجھہ آمت کہ تم عجائبات گئے  
 حضرات انبیاء ان ہند ملاقات ارواحن ہند ملاقات۔ جنک معائنہ جہنک ملاحظہ وغیرہ وغیرہ ہم  
 عجائبات خدایہ سے چھ معلوم کیاہ ہو نکھ۔ مگر تم ساری چیز و پھنس اندر اوس شان مازاغ البصر و  
 ماٹھی قائم۔ اے کافر و، مثر کو حضرت رسول کریمہ سہ پیغمبر حق آئن، صاحب وحی آئن سہ متعدد  
 عقلی دلیلوسیت ثابت۔ تمی وجیہ موجب ہجھہ تم توحیدک حکم فرماوان مگر توہہ چھوہ توتہ پوتلین ہنز  
 پرستش کران۔ **أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ \* وَمَنْوَةَ الثَّلَاثَةَ الْآخَرَىٰ** کیاہ توہہ چھوہ یمن پوتلین لات  
 عزئی تہ ملوۃ سہدس حاکس منز تہ زانہہ غور کورمت تاکہ توہہ سپدہ ہا معلوم ہم چھا قابل پرستش کہ نہ  
 لات، عزئی تہ منات، ہم آس مثر کن ہندین پوتلین ہندی تاؤ۔ لات اوس شہر طایف کین لوکن ہند بوڈ  
 پوتل۔ منات اوس قبیلہ، اوس و خزرج بیہ حزا عین ہند بوڈ پوتل۔ تہیم تہ ترسمہہ درجک پوتل اوس مکہ  
 شریف نشہ دور مدینہ شریفس متصل اکھ پوتلاہ۔ عزئی آس آس قریش تہ بیہ پئی کنانہ ہمودوشوے خوتہ  
 بوڈ پوتل زانان نس مکس نزدیک موضع غلخس منز اوس۔ یا قوت حوی ہجھہ وان معجم البلد انس منز کہ  
 کافر آس یمن پوتلین خدایہ سزہ کورہ وان۔ بیہ آس بعض کافر ملائکن تہ خدایہ سزہ کورہ زانہہ معبود  
 زانان اللہ تعالیٰ چھ فرماوان کہ **أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ** کیاہ تہندہ خاطرہ گہ پچوی خدایہ سہدہ  
 خاطرہ گیہ کورہ۔ یعنی ہمہ کورہ توہہ پنہہ خاطرہ ناپسند کران چھوہ تمہ گیا لگہ خدایس۔ سہ ہجھہ کورہ تہ  
 کبر آسنہ نشہ مبر انتہ پاک **تِلْكَ إِذْ أَسْمَعُ ضِيْرِي** یہ ہجھہ بے ربط تہ لغو تقسیمہ رُت چیز گووہ توہہ پانس  
 پچھہ تہ خراب چیز گووہ نعوذ باللہ خدایس۔ یہ ہجھہ بنا بر عرف و نہ آمت ورنہ خدا تعالیٰ چھ اولاد آسنہ نشہ

وَابَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ  
 إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ  
 الْهُدَى ﴿۱۳﴾ أَمْ لِلإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ﴿۱۴﴾ فَلِللَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴿۱۵﴾  
 وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ

مبرا لہ پاک نہ چھہ، تس پھوی تہ نہ کوری اِن ہي الْأَسْمَاءُ سَتَيَّبَتْهُمُ أَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ  
 بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ سمہ معبودات چھہ مگر ناوے یات سم توہہ تہ تہند یو مایو تہ بڈ بڈ پانے ٹھہر آوی  
 مت چھوہ۔ اللہ تعالیٰ اِن چھہ نہ سکن ہندہ معبود آج کا نہہ دلیلاہ نازل کر مثر اِن یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا  
 تَهْوَى الْأَنْفُسُ بلکہ چھہ سم بہندس معبود آس منصر ف بے بنیاد خیال نہ تہ نفسہ چن خا ہش ہنز  
 پیروی کران۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى حالانکہ تمن نشہ چھہ دو تمت تہندس پروردگارہ سندہ  
 طرفہ تس پیغمبر برحقہ سندہ واسطہ لیس پوز فرماوہ ون تہ خدا یہ سندس و حیس پیروی کرہ ون چھہ بوڈ  
 ہدایت یعنی پنہ نس دعویٰ اس پیچہ چھہ تمن کا نہہ دلیلاہ۔ تہہ بدل لیس دعویٰ پیغمبر خدا کران چھہ تم  
 چھہ بوزان مگر تو تہ چھہ مانان تہ تسلیم کران یہ امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان کہ سم لکھ چھنا سائین  
 معبودان باطلن ہنز عبادت تہ پرستش کران یہ خیالہ کہ تم کیاہ کرن تمن شفاعت تہ سفارش  
 أَمْ لِلإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى کیاہ انسان بنیاتی سُمیک سہ تمنا کرہ تہ نہ نہ ہرگز کیاہہ فَلِللَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى  
 پر تہ تمنا چھہ خدایہ سندس اختیار س منز آخر تک تمنا تہ دنیا ک تمنا۔ پس بسدہ حقہ سہ یڑہ تس  
 کرہ تہند تمنا پورہ۔ یہ تھہ چھہ آثر بیان کرنہ کہ اللہ تعالیٰ کرہ نہ تہند یہ باطل تمنا زانہہ تہ پورہ تم  
 معبودان باطل نہ ہیکن دنیا س اندر تمن شفاعتہ کر تھہ حاجت کڈنس منز نہ ہیکھ نکھ آخر تس اندر  
 شفاعتہ کر تھہ نجات دس اندر۔ سم پو تل تہ بے جان چیز کیاہ ہیکن شفاعتہ کر تھہ تمن منز چھہ تہج  
 اہلیت تہ قابلیتہ۔ تھہ دربارس منزیم لو کہ اہل تہ قابل تہ چھہ تم تہ ہیکن نہ بے اجازت کینہہ کرہ نگ  
 جراتہ کر تھہ چنانچہ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا واریاہ ملائکہ چھہ موجود آسمان

بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى<sup>(۳۷)</sup> إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ لَيَسْتَوُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى<sup>(۳۸)</sup> وَاللَّهُم بِهِ مِنْ  
 عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنَى مِنَ الْحَقِّ  
 شَيْئًا<sup>(۳۹)</sup> فَأَعْرَضُ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا الْحَيَاةَ  
 الدُّنْيَا<sup>(۴۰)</sup> ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ  
 ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى<sup>(۴۱)</sup> وَبِاللَّهِ مَا فِي

اندر۔ تہمذشان تھود آسحہ باوجود آیہ نہ تہنز شفاعت بکارکنہ چیزہ خاطرہ إلا من بعد ان یاذن اللہ  
 لِمَنْ یَشَاءُ وَیَرْضَى مگر خدایہ سبہ اجازتہ پتہ نیس نہ شفاعت کرنہ خاطرہ راضی آسہ إِنَّ الَّذِينَ  
 لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْتَوُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى بے شک یمن لوکن آخرتجہ تہ قیامتجہ پڑھہ جھنہ بلکہ  
 تھہ انکار کرنہ سبہ جھہ تم سزاتہ باز مہ سہ نعمہ بے فکر سپد تھہ سیٹھاہ گستاخانہ تھہ کران چنانچہ دپان چھہ  
 ملائکن کہ تمہ جھہ زنانہ خدایہ سزہ کو رہہ (نعوذ باللہ) یہ جھہ تہنز محض جمالت ملائکن کیاہ سنا تعلق چھہ  
 مردیا زنانہ آسہ سیت۔ خدائس اولاد آسہ سیت کیاہ تعلق چھہ وَاللَّهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ حالانکہ  
 تمن نعمہ جھنہ اتھ پیٹھہ کانہہ دلیلاہہ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ تمہ جھنہ پیروی کران مگر بے اصل  
 خیالاتن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا بے شک بے اصل خیالات جھنہ پزس مقابلہ کانہہ  
 فائدہ بخشان یلہ یہنہ عناد ثابت سہد معابدس نعمہ۔ قبول حج امید جھہ بیکار فَأَعْرَضُ عَنْ مَنْ تَوَلَّى  
 عَنْ ذِكْرِنَا پس پھر توہہ پن توجہ تس شخص نعمہ ہم جھہ پھیر سانہ و عظ و نصیحتہ نعمہ وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا الْحَيَاةَ  
 الدُّنْيَا یس نہ کانہہ خیالاہہ جھہ دنیاچہ زندگی ورائے یہ وجہ تس آخرتجہ پڑھے جھنہ آخرتجہ سزا  
 و عذابہ نعمہ جھہ تم بے فکر ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ تہمذہ ملک تہ فہمک نہایت جھہ یوہے دنیاہے  
 یوت یہ نہ کینہہ۔ یلہ یہنہہ فہم و اللعہ ہند حال یہ جھہ ہذامہ برو توہہ تہنز کانہہ فکرہہ۔ تہمذ معاملہ  
 پھر آو توہہ خدائس إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى بے شک تہمذ

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا  
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ۗ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ  
وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ  
أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا

پروردگارے چھہ یژانڈون کہ ٹہہ چھہ تہزہ وہ تہ نشہ ڈولمت۔ سئی چھہ یژانڈون تس سم و تھ لب راہ  
را تس ن۔ امی سیت سڈ ثابت تہند کمال علم و لله ما فی السموات وما فی الارض بیہ چھہ خدایہ  
سند سے اختیار س منزہ سورئی یہ آسمان اندر تہ زمین اندر چھہ۔ امہ سیت سڈ ثابت تمسنز کمال  
قدرت۔ وون یلہ سئی چھہ صاحب کمال علم تہ صاحب کمال قدرت تہ تم سندن احکامن تعمیل وعدم  
تعمیل کہ اعتبارہ سڈ مکلفین اندر تہ قسم اڈی گے ضال تہ گمراہ اڈی گے ممتد تہ ہدایت یاب لِيَجْزِيَ  
الَّذِينَ اسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ احْسَنُوا بِالْحُسْنَى بیٹھ سہ بیچھ کامہ کرہ وین عوض تہ بدلہ  
دیہ تمیک یہ تموکور۔ بیہ بیٹھ سہ بدلہ تہ عوض دیہ تم سمرور تہ کامہ کرہ رتہ مزورہ تہ جزایت۔ لہذا  
چھہ تہند یہ شان منگان کہ تس گڑھہ سورے منگ تہ ہٹراون الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشِ  
إِلَّا اللَّمَمَ تم لوکھ گئے تے سم بڑو گنہو یعنی گناہ کبیر و نشہ بیہ بے حیائی ہنز و تھو نشہ چھہ پتھ روزان  
مگرے تہندے کن لوکٹ لوکٹ گناہ آمت آسن إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ بے شک تہندس  
پروردگارہ سڈ مغفرت چھہ سیٹھاہ وسیع سہ کرہ تم گنہن مغفرت هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
سہ زانہ پور توہہ تہ تہندین حالاتن تہ پیٹھ پیٹھ تہ یعنی تہند جد بزرگو آدم علیہ السلام میوہ پاہہ  
کورن۔ تہندس ضمنس اندر چھوہ تہہ میوہ نشی پاہہ سڈ مت وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ بیہ چھہ  
سئی تہہ خوب زانان یلہ تہہ ماجن ہنز ن یڈن منزچہ آسہ۔ تم دوشونی حالن اندر چھوہ نہ توہہ پتہ پانچ  
کینہہ خبر۔ اسہ چھہ تہندین تمک وونہ و ن وقتن ہند حال پور، معلوم وئی کینس تہ تہند پن حال نہ زان  
سون تہند حال پور زان۔ یہ عجیب تھہ تھہ بلکہ چھہ یہ حقیقت فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ یلہ تھہ کیے چھہ

أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى ۚ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۖ وَأَعْطَى  
 قَلِيلًا وَأَكْدَى ۚ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يُرَى ۚ أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ  
 بِبَاقِي صُحُفِ مُوسَى ۖ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۚ أَلَا تَزِرُ  
 وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۚ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۚ

ہمس مہ آسو ہنکن پان مقدس تہ قابل تعریف زانتہ پانے ہنکن تعریف کران ہوا علمک بین اتقی پروردگارے زانہ پورہ پاٹھ تہن سم متقی تہ پرہیزگار ہتھہ تہس ہتھہ خبر کہہ شخص ہتھہ متقی تہ تہہ ہتھہ ادہ آسن تہن دو شونی نعتہ افعال تقویٰ ظاہر سیدان افروعت الذی تولى توہہ بوزوہ اوتان نیک لوکن ہند صفت۔ وون بوزو تہن بدل بین لوکن ہند حال۔ کیاہ توہہ وہتھونہ یار سول اللہ نہ شخص سم دین حقہ نعتہ روگردانی کرتہ ہتھہ پھیرہ واعطی قلیلاً واکدی بیہ سم وعدہ کتر تھہ کم کینہہ مال ذیت بیہ لوڈن اتھہ پیٹھہ۔ امام مجاہد وغیرہ چھہ فرماوان کہ سم آیات ہتھہ نازل سپدی متی ولید بن مغیرس متعلق۔ تمس پیٹھہ سپر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ وعظ و نصیحتک اثر۔ نہ سپر دو مالک ایمان اندہ نس گن۔ اک کافرن دون تہس بیہ مکر تہہ۔ چان ساری گناہ تلہ بہ پائس پیٹھہ چانہ حقہ نس سزا تجویز سید تھہ دمہ بہ ہن پان۔ بشر طیکہ تہہ دکھ مہ یوت مال۔ تم کورس اقرار۔ نس رقم مقرر آو کر نہ تمہ منزہ ذیت نس اکھہ قسط۔ بیہ کور نس باقی رقم دنہ نعتہ انکار اعندہ علم الغیب فہو یرى کیا تہس شخص نعتہ چھا علم غیب تھہ کیاہ ہتھہ نہ وچھان سمکھہ ذریعہ تہ معلوم سید کہ فلاں شخص سپدہ میانہ بدل عذابس گرفتار۔ املہ ینبأ بباقی صحف موسی \* و ابرہیم الذی وفی کیاہ تمس چھنا خبر کر نہ امر تہمہ مضمون چائس موسیٰ علیہ السلامہ سندین صھن منزہ ہتھہ بیہ نس مضمون ابراہیم علیہ السلامہ سندین صھن اندر ہتھہ سمو ہن قول و قرار پورہ کورمت ہتھہ یعنی سمو خدایہ سند ساری احکام پورہ پاٹھہ بجا نیت ہتھہ نہ مضمون گوویو ہے کہ آلا تزر وازرۃ وذر اخری کانہہ شخص تلہ نہ کانہہ شخصہ سندین گوہن ہند بور سمہ طریقہ کہ گوناہ کرہ ون کیاہ سپدہ گو نہون نعتہ بری۔ بیہ ہتھہ تہن صحیفن منزیہ مضمون کہ وان لیس

وَأَنَّ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَىٰ ﴿٣١﴾ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴿٣٢﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٣٣﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَ أَحْيَا ﴿٣٤﴾ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٥﴾ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٣٦﴾ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٣٧﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَىٰ

إِلِلَّ الْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ بے شک انسان سپدہ حاصل تی یہ تم پانہ کموومت تہ زیومت آسہ وَأَنَّ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ بیہ مضمون کہ بے شک اہس انسانہ سُد جدوجہد تہ سعی وتلاش تعیل احکامس اندر بیہ ملاحظہ کرنہ۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَىٰ تو پتہ بیہ کس تمیک پور بدلہ دنہ۔ باوجود آل چھانہ شخص سعی و کوشش کرنہ نشہ غافل وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ بیہ چھہ بیہ مضمون تمن صحیفن اندر کہ سارنی لوکن پتولا کہ واتن تہمد سی پروردگار س نشہ لہذا تھہ پاٹھ چھہ بیہ شخص بے خوف تہ سوکھہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ بیہ چھہ بیہ مضمون کہ تہمد پروردگارے چھہ آسہ ناوان تہ ودہ ناوان وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَ أَحْيَا بیہ چھہ سے ماران تہ زندہ کران وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ بیہ چھہ بیہ مضمون کہ سے چھہ دوشونی کسمن نرومادس پادہ کران مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ اہس منی ہندس قطر س یلہ سہ قطرہ چھہ برحمس یعنی سچہ دانہ اندر و اتاوندہ یوان۔ کس پروردگار اہس منی ہندس قطر س نرومادہ پادہ ہیکہ کمر تھہ کس نش کیاہ مہکل چھہ دوبارہ پادہ کرن وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ بیہ بیہ مضمون کہ دوبارہ پادہ کرن تہ چھہ تہمدہ وعدہ موجب تنس مہ یعنی یہ چھہ تہمدہ طریقہ ضروری تہ تھہ پاٹھ کانہہ کانہہ کاماہ مہ آسہ وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَىٰ وَأَقْنَىٰ بیہ بیہ مضمون کہ اللہ تعالیٰ ای چھہ مالدار تہ غنی کران سے چھہ مال ودولت محفوظ تھاوان یعنی مال ودولت تہ خزانہ تہ جائداد منقول چھہ سے دوان۔ بعضے مفسرو فرموو واقنی بمعنی أفقر یعنی سنی چھہ مال عطا کران، سی محتاج و فقیر بناوان۔ ہر گاہ گوڈنیک معنی مراد بیہ بوزنہ تلہ گوڈنیک مقابل اہلک یس بروٹھ پین بیان بیہ کرنہ تیلہ گوڈنیک مطلب کس پروردگار مال ودولت عطا کمر تھہ چھہ نافرمانی ہمدہ سببہ ہلاک و برباد کران وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ السَّمْعَىٰ بیہ چھہ بیہ

وَاقْنِي ﴿۴۸﴾ وَأَنْتَ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى ﴿۴۹﴾ وَأَنْتَ أَهْلَكَ عَادًا لِأُولَىٰ ﴿۵۰﴾  
 وَتَبُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ﴿۵۱﴾ وَقَوْمٌ نُورٌ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ  
 وَأَطْغَىٰ ﴿۵۲﴾ وَالْبُؤْتُفَكَةُ أَهْوَىٰ ﴿۵۳﴾ فَعَشَاهَا مَا عَشَىٰ ﴿۵۴﴾ فَيَأْتِي الْآءَ  
 رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿۵۵﴾ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأُولَىٰ ﴿۵۶﴾ أَمِنْ فَتٍ

مضمون کہ سنے پروردگار چھ ستارہ شعری اک مالک۔ یہ ستارہ چھہ اک بوڈرتارہ بیٹھ عر بک بعضے لوکھ  
 آس پرستش کران یہ ذاتھ کہ عالمہ کین اکثر احوال اندر چھہ امیک تاثیر۔ یہ نس آویان کرنہ کہ امہ  
 ستارہ شعری اک مالک تہ چھہ اللہ تعالیٰ ای۔ دنیا بک ساری تغیرات چھہ اللہ تعالیٰ سدس دست  
 قدر تس اندر۔ یہ ستارہ شعری تہ چھہ اگس اونی مزورہ سندی پاٹھ تسمند حکم بجانان۔ تس منزہ چھہ  
 مستقل طور بذات خود کانہ تاثیر تہ اختیار۔ وَأَنْتَ أَهْلَكَ عَادًا لِأُولَىٰ بیہ چھہ یہ مضمون کہ تمہی  
 پروردگار نکر ہلاک بروٹھم قوم عاد یعنی ہود علیہ السلامہ سند قوم تہندہ کفر و نافرمانی ہندہ سببہ وَتَبُودًا  
 فَمَا أَبْقَىٰ بیہ کورتی ہلاک قوم ثمود صالح علیہ السلامہ سند قوم۔ پس تھوون نہ تمو منزہ کینہہ تہ باقی  
 وَقَوْمٌ نُورٌ مِنْ قَبْلُ تمین بروٹھہ کوزن ہلاک نوح علیہ السلامہ سند قوم إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ  
 وَأَطْغَىٰ بے شک تم آس سارنے خوتہ زیادہ ظالم تہ شریرتہ سرکش وَالْبُؤْتُفَكَةُ أَهْوَىٰ بیہ کرین  
 ہلاک تلک پیٹھ کرنہ آمزہ بستی ہند لوکھ یعنی قوم لوط علیہ السلام۔ تم دین ہمیرہ پیٹھ بون دار تھ  
 فَعَشَاهَا مَا عَشَىٰ توپتہ ول تم تمہی چیزن ہم ول یعنی پیٹھ اوتمین کنہ رود کرنہ۔ تھہ تل آس تم گالہ  
 امہ پتہ چھہ بمن سارنے مضمون ہونند نتیجہ بیان کران کہ اے انسان یکہ ژہ امہ باخبر کرکھ سمو  
 مضمونوسیت تم ذریعہ ہدایت آسجہ وجہ بجای خود خدایہ سزاکہ اک نعمتہا چھہ لہذا فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكَ  
 تَتَمَارَىٰ پنہ نس پروردگارہ سند یونعمو آندرہ کتھ نقس کرکھ ژہ شک تہ انکار۔ تم کنیہ تم مضامین  
 سم صف ابراہیم علیہ السلام تہ صف موسیٰ علیہ السلام من آس هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّذْرِ الْأُولَىٰ یہ بیٹمبر  
 برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہ چھہ نافرمان اک عظیم الشان بیم کہہ وناہ بروٹھم بیم کہہ

الْأَرْزَاقُ ۵۹ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۶۰ أَفَمِنْ هَذَا  
الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۶۱ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۶۲ وَأَنْتُمْ  
سَيِّدُونَ ۶۱ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۶۲

دنیا آندرہ۔ یہ پیغمبر مآنیوں جلد کیا زہ آرن فَتِ الْأَرْزَاقُ نزدیک یوہون قیامت ہیون کھہ بن۔ تم ہبہہ  
پیغمبر آخر الزمان۔ تمو فرموو بعثت انا والساعة هكذا بو تہ قیامت آس سوزنہ آمر ہتہہ پاشی عہہ عہہ اشارہ  
ہوؤ کھ دو یوا لگشت مبارکو سیت۔ اکھ شہادتہ او گجہ سیت بیہ منز مہ او گجہ سیت لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ  
کَاشِفَةٌ۔ بیلہ سو قیامت پنہ نس مقررہ و قس پیٹہ بیہ ہتہہ چہنہ کانہ اکھاہ خدائس ورا کی ہتہہ کڈہ و ان  
پس چہنہ کانہ پیٹہ بھر وسہ کر تہہ بے فکری ہنز گنجائش أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ کیاہ بیہ خوف  
ناک تہہ بو ز تہہ تہ چہوہ تہہ ہتہہ خدایہ سیدس کلام پاکس نسبت تعجب کران وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ  
کیاہ بیہ چہوہ تہہ استہزاء تہہ تھٹھہ پآٹھہ بیہ قرآن مجید بوز تہہ آسان۔ عذابک خوف کھتہ کونہ چہوہ تہہ  
ودان تہہ روان وَأَنْتُمْ سَيِّدُونَ بیہ چہوہ تہہ اطاعت و فرمانبرداری کرنہ نیشہ تکبر کران۔ امہ  
تکبر تہہ غفلتہ نیشہ بیو باز کس پیغمبر برحقہ سہہ تعلیمہ موجب فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا تکبر تہہ غرور  
تراو و ہنی کلہ تراووز مینس پیٹہ معبود برحقہ سہہ خاطرہ ہنزے کبر و کانہہ اکس تس شریک تھاونہ  
ورائے عبادت روایاتن اندر ہتہہ آمنت سمہ ساتہ بیہ سورہ نحم پور حضرت رسول کر تمن، تمودیت بیہ  
آیہ کریمہ پتر تہہ سجدہ۔ بیہ یم لو کھہ اتھ منز مسلمانو اندرہ بیہ کافر و آندرہ آس، تمو ساروے تہہ دیت بے  
اختیار پآٹھہ سجدہ۔ صرف اوس اکھ بد بخت کافر، تمی ج اکھ میوہ موٹھاہ، سوی لاجن ڈیکس۔ دہنہ  
لوگ میہ ہتہہ ایڑے ہن کافی۔







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝<sup>۱</sup> وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا  
 سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝<sup>۲</sup> وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أُمَّرٍ مُّسْتَقَرٌّ ۝<sup>۳</sup>

ہجرت بروٹھ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوہہ بازار منامس منز تشریف تھاوتھ۔ کافرن ہندتہ  
 اوس اکھ بوڈ جمعہ تہہ موجود۔ تھ اندر کری کافر و تمن نشہ معجزہ طلب۔ تمو فر موو کہ ای لو کو آسمانس  
 کن دیو نظر۔ اتی وچھ تمو ساروے کہ زونہ گئے زہ اڈ۔ اکھ حصہ پیو مغرئس کن بیاکھ حصہ پیو مشرقس  
 کن۔ یمن دون حصن سپدی کوہ حائل۔ یلہ ساروے لو کو وچھ یہ معجزہ۔ توپتہ میلی سیم دو شوے حصہ یہ  
 پاند وان۔ کافر لگ دہنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیوت زونہ پیٹھ جود کرون۔ ہتھ معجزس جھہ وان شق  
 القمر۔ امام طحاوی محدث یہ علامہ ابن کثیر وغیرہ جھہ فرماوان ہتھ واقص منز تو اتر یعنی یہ جھہ حدیث  
 متواتر۔ یہ واقعہ جھہ تاریخ فر شمس منز موجود۔ ہندوستانس منز جھہ مہاراجہ مالہ بارہ سبہ اسلام آنہ تک  
 یوہ وجہ سہد مت۔ اللہ تعالیٰ جھہ فرماوان اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ قیامت آیہ نزدیک۔ زونہ  
 گئے زہ اڈ۔ شق قمر جھہ نبی کریمؐ سند یو معجزہ و آندرہ اکھ بوڈ معجزہ امہ کس واقع سپد نس اندر جھنہ کانہہ  
 شکھاہ۔ اتھ جھہ صحابہ صابو آندرہ روایت کمر مژ حضرت علی مرتضیٰ ان عبداللہ بن مسعودن انس بن  
 مالک، عبداللہ بن عباس۔ حذیفہ بن الیمان، جبیر بن مطعم، عبداللہ بن عمر، بیہ تہ واریہو صحابہ  
 صابو آندرہ روایت کر مژ۔ اتھ واقص متعلق جھہ حدیث شریف بخاری شریف مسلم شریفین بین  
 حدیث شریفہ جن کتابن اندر۔ بخاری شریف اندر جھہ بروایت عبداللہ ابن مسعود سمہ کتھہ ہنز  
 صراحت کہ صحابہ صاب آس امہ واقعہ وزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیت حاضر لفظ حدیث جھہ  
 ہتھ پاٹھ کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آس آس پیغبر خدائیس سیت بازار مئی  
 اس اندر تمہ ساتیلہ یہ واقعہ سہد۔ امام بیہقی سندس روایتس اندر جھہ کہ ژورو طر فویم لوکھ مکہ شریف

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْإِنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۖ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۗ فَمَا  
 تُغْنِ الشُّذُرَ ۗ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ تُكْرَهُ ۗ  
 خُسْعًا ۗ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ ۗ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۗ

وات تمودوپ کہ آسہ تہ وچھہ و تہ زونہ زہ حصہ سپدان پنے نیو اہجھو۔ لوکن اوس لازم ہتھ مجرہ وچھتھ متاثر سپدان لیکن تہنز حالت چھہ یہ کہ **وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَوْرٌ** اگر ہم کافر کا نہہ معجزہ وچھان چھہ سہ وچھتھ تہ چھہ تم ہتھ پھر ان بیہ چھہ دپان یہ چھہ جوداہ اُس نبوتک دعویٰ کرہہ و نیوپتہ و تھ پیش کورمت چھہ۔ ہتھہ پاتھہ بروٹھین مدعیان نبوتن ہندس جادس تہ سحرس کینہہ دراونہ، جلدے گوو ختم ہتھہ پاتھہ نیرہ نہ ہتھہ تہ کینہہ کال یہ تہ گورہہ جلدے ختم **وَكَذَّبُوا وَابْتَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ مُّسْتَقِرَّةٌ** یہہ تموکافر ولہزس پٹھہ اصرار کمر تھہ پزس انکار کوز بیہ کرکھ پنے نین نفسانی خائش ہنز پیروی۔ تمی موکھ زو کھ پوزاپز۔ معجزن دووٹھہ سحر تہ جود یمن ہند اثر جلدے ختم گورہہ ون چھہ۔ پر ہتھہ کتھاہہ چھہ پنے نین اصلی حالاتن پیٹھہ قرار کرہہ و نی یعنی کینہہ کالاہ گورہتھہ منہ پانے پزیک پوز آسن اپزیک اہز آسن۔ پانے چھہ لوکن زان فانی تہ گلہ ون کیاہ چھہ، باقی تہ پوشہ ون کیاہ چھہ **وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْإِنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ** تحقیق واثرہ مرہہ چھہ تمن لٹھہ بروٹھین امتن ہنزہ تمہہ خبرہ تمن منز کافی عبرت آس **حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۗ فَمَا تُغْنِ الشُّذُرَ** یعنی تمن خبرن منز آسہ پورہ حکمتہ چہ تہ دانائی ہنزہ تھہ مگر تموتل نہ کا نہہ فایدہ تمو کتھو سیت پس چھہ کا نہہ فایدہ دووان تمن نیم کرہہ و نین ہند نیم کرن۔ بیلہ تہنزہ حالتھہ یہ چھہ۔ **فَتَوَلَّ عَنْهُمْ** کس تراوونہ تہند خیال۔ ہن توجہ بھر و تہہ تمن لٹھہ۔ یعنی ہتھہ قرآن مجیدس منز چھہ چھتھہ تہ عقلہ ہنزہ کتھہ۔ کا نہہ شخصاہہ اگر اتھہ کُن نیک نیتی سان توجہ کرہہ تہندس ولس پیٹھہ پیہ ضرور اثر۔ مگر ہم لوکھ چھہ ہتھی سنگ دل تہ بد بخت، یمن چھہ کا نہہ اثر سپدان۔ لہذا تراوونہہ تہ تہند خیال۔ سمہ وقتہ تمن امکہ عقوبت و عذابک وقت ولتہ سمیگ تمن نیم کرنہہ یوان چھہ تمہہ ساتہ و چھن تم امیک مزہ پانے **يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ تُكْرَهُ** سمہ دوہہ اکھ آلودہ ون ملکھ اکھ آلودیہ اگس ہنماک ناگوار چیزس اگس کُن **خُسْعًا أَبْصَارُهُمْ** تہنزہ اچھہ آسن خوفہ تہ ہیبتہ سیت بولن کُن۔ **يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ ۗ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ** قبر و منزہ نیرن تم تھہ پاتھہ زن تم چھہ کہ نہہ امت ہالو آسن۔ **مُطْعِبِينَ إِلَىٰ**

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝۹ كَذَّبَتْ  
 قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُّوحٌ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُوْنٌ وَّازْدَجَرَ ۝۱۰  
 فَدَعَارِبَةٌ اٰتٰى مَغْلُوْبٌ فَاْتَصَرَ ۝۱۱ فَفَتَحْنَا الْاَبْوَابَ السَّمٰوٰتِ بِمَآءٍ  
 مُّسَهَبٍ ۝۱۲ وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالتَقَى الْمَآءُ عَلٰى اٰمْرِ قُدْرَةٍ ۝۱۳  
 وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذٰاتِ الْاَوَاجِ وَّوَدَّوْا سِرًّا ۝۱۴ تَجْرِى بِاَعْيُنِنَا جَزَآءٌ لِّمَن كَانَ

الدَّاعِ قبر واندھر نیر تھ ہین تم دورن آلودہ ونس کن یعنی حساچہ جلیہ جمع سپدنہ خاطرہ آلودہ ون  
 آلودوان آسہ۔ متہرچہ بے شمار تخلیہ وچہت يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ کافر آسن دنان یہ دودہ چھہ  
 سٹھہ سخت كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُّوحٌ یمن لوکن بروٹھہ چھہ کورمت انکار پنہ نس بیغیرس نوح علیہ  
 السلامہ سندے قومن فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُوْنٌ وَّازْدَجَرَ پس کورتمو انکار سانس بندہ خاص نوح  
 علیہ السلامس بیہ وکھہ تمن نسبت کہ یہ چھہ موت تہ دیوانہ۔ بیہ آسہ تمن دھسکی تہ دنہ۔ تم آس تمن  
 دنان کہ ای نوح ہر گاہ ٹہہ امہ تہلیغہ نشہ بہتہ روزونہ آس کرووہ تھی سنگسار۔ فَدَعَارِبَةٌ اٰتٰى مَغْلُوْبٌ  
 فَاتَصَرَ ادہ مونگ نوح علیہ السلامن پنہ نس پروردگارس دُعا کہ میانہ پروردگارہ بو آس عاجز یمن  
 لوکن فمائش کران تہ وعظ و نصیحت کران۔ تمن چھتھہ کینہہ تہ بنان۔ وون ہییہ ڈے یمن نشہ پنہ  
 دینگ تہ پنہ نس بیغیرہ سُد انتقام زمینس پیٹھہ تراون تمواندرہ اکھ تہ زندہ۔ بو پوشہ نہ تمن ڈے پوشہ  
 بچھ۔ نس کمر آسہ تہندس منگنس اجابت فَفَتَحْنَا الْاَبْوَابَ السَّمٰوٰتِ بِمَآءٍ مُّسَهَبٍ نس مژراوی آسہ آسمانن  
 ہندی دروازہ پیاری کئی رودہ شرانہ وژھہ وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا بیہ کمر آسہ جاری زینک ساری  
 چشمہ، ناگہ راد۔ فَالتَقَى الْمَآءُ عَلٰى اٰمْرِ قُدْرَةٍ نس رلیو (آسمانک تہ زینک) آب سوکام پورہ کرنہ  
 خاطرہ یوسہ نوح علیہ السلامہ سُد قوم ہلاک تہ تباہ کرنہ خاطرہ مقررہ مقررہ کرنہ آس آمر۔ چنانچہ تم  
 ساری کافر سپد ہلاک وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذٰاتِ الْاَوَاجِ وَّوَدَّوْا سِرًّا نوح علیہ السلامس امہ طوفانہ نشہ نجات دنہ  
 خاطر کھور آسہ سہ تھہ ناوہ منز یوسہ پچو تہ میخوسیت تیار کرنہ آس آمر تَجْرِى بِاَعْيُنِنَا یوسہ ناؤ پکان

كُفِرَ ۱۴) وَلَقَدْ تَرَكُنَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْكِكَ ۱۵) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي  
 وَنُذُرِي ۱۶) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِكَ ۱۷) كَذَّبَتْ  
 عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ۱۸) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا  
 فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ۱۹) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ  
 مُنْقَعِرٍ ۲۰) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ۲۱) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا

آس سائین اچھن تل آہ پیٹھ امن واطمینان سان۔ تم ساری ہیتھ سمو نوح علیہ السلام ہوشہ کمر مژ  
 آس جڑاؤن کان کُفِرَ یہ سورے کو آسہ تس شخصہ سُنْد بدلہ ہینہ خاطرہ نُس بے قدری تہ انکار کرن  
 آہ۔ اُمہ اندرہ ہتھ مراد نوح علیہ السلام۔ کیا زہ خدایہ سدس پیغمبرس انکار کرن گوو خدائس انکار کرن  
 وَلَقَدْ تَرَكُنَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدْكِكَ بیشک آسہ تھا سو نوح علیہ السلام پتہ وار یس کالس باقی پتہ  
 قدر تک اکھ نشانہ ہتھ لوکھ نصیحت تہ عبرت رُثن۔ پس چھاسنا کانہ اُمہ واقعہ سیت عبرت تہ نصیحت  
 رٹہ وناہ۔ یم فکر کرن کہ خدائس نافرمانی سیت کوسہ تباہی تہ بربادی چھ گروہان یا گوو معنی کہ یہ واقعہ  
 تھو واسہ قصن تہ تذکران اندر جاری۔ ہتھ لوکھ یہ بوز تھ عبرت رُثن عبرت رٹھ زان تم فَكَيْفَ  
 كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي پس کیتھ اوس میون عذاب بہ کیتھ پوزدراو میون نیم کرن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ  
 لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِكَ بے شک بہ کو آسہ یہ قرآن مجید ہتھ منزای قسمک قصہ چھ سہل تہ آسان  
 نصیحت رٹہ خاطرہ پس چھاکانہ تیار نصیحت حاصل کرنہ خاطرہ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي  
 قوم عادن تہ کو پنے نُس پیغمبر ہود علیہ السلام انکار پس بوز تہ تہند قصہ تہندہ خاطرہ کیتھ اوس  
 میون عذاب تہ میون نیم کرن۔ سہ قصہ چھ ہتھ پاٹھ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ  
 مُسْتَمِرٍّ کہ آسہ سوز تہن پیٹھ اکھ تیز واواہ اکھ پُوشہ ونہ کس پھیشل دوہس اندر یعنی سہ زمانہ اوس تہندہ  
 حقہ پھیشل۔ چنانچہ سونحو سٹھ وژھہ نہ تہن نشہ یوتان نہ تم ساری ہلاک تہ برباد سپد تَنْزِعُ النَّاسَ  
 كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ تمو آس ہتھن پان شسترہ وین کو ٹین ستی ہانکو ستی بند کمر مت۔ تم

الْقُرْآنَ لِلَّذِي كُفِرَ مِنْهُ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۖ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۖ (۲۳)  
فَقَالُوا أَبَشْرًا مِّمَّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذْ الْفِي ضَلِيلٍ وَسُعِيرٍ ۖ (۲۴)  
ءَالْقَى الَّذِي كُرِحَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ۖ سَيَعْلَمُونَ  
عَدَاؤَنَا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ ۖ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ

کوٹ آسکھ بند کر متی۔ باوجود اس اوسکھ سہ واو زینہ منزہ کڈان تو پتہ کوئیو سان ہیور کھاران۔  
ہیور کھارتھ ز مینس پیٹھ ٹھاسہ وان۔ کلہ ہیرہ آسکھ ژھنان باقی بدن ٹھند اوس ز مینس پیٹھ یوان  
زن سہ مولہ کڈنہ آمت خضر کل ہیو آسان اوس اتھ اندر چھہ بیاکھ تشبیہہ تھندس دراز قد آس  
اندر۔ باوجود تو مند تہ قد بلند آسکھ تراوتم واؤن پتھر مولہ کڈنہ آمت خضر کلی ہو۔ فَلَکَيْفَ كَانَ  
عَدَاؤِي وَنُذُرٍ ۖ پس چھکھ وچھان ژہ کہ کیتھہ لوس میون عذاب، میون بیکرن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ  
لِلَّذِي كُفِرَ مِنْهُ مِنْ مُّذَكِّرٍ بے شک کور آسہ قرآن مجید نصیحت حاصل کرنہ خاطرہ سہل تہ آسان۔ پس  
چھاکانہ نصیحت رٹہ وناہ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ قوم ثمودن تہ کور نیم کرہ و نین پیغمبرن انکار یعنی  
صالح علیہ السلام۔ افس پیغمبرس انکار کرن گوسار نے پیغمبر انکار کرن فَقَالُوا أَبَشْرًا مِّمَّنَّا وَاحِدًا  
نَتَّبِعُهُ تم لگ دینہ کیاہ آس کر وہ چھہ سے افس شخصہ سنز پیروی تہ متابعت یس اسی منزہ آکھ انسانہ  
مجنون زن چھہ۔ سیت چھس نہ کانہ تہ۔ نہ چھس نو کر چاکر۔ نہ چھس پیر و کار آس ہر گاہ آئی سنز  
پیروی کرو إِنَّا إِذْ الْفِي ضَلِيلٍ وَسُعِيرٍ یقیناً چھہ آس تیلہ چہ غلطی اندر بلکہ مژرس تہ جنونس اندر واقع  
سپدہ وئی۔ خیل تھاہ چھہ ءَالْقَى الَّذِي كُرِحَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ بلکہ چھہ یہ دعوائے کرنس اندر  
بوڈاپوز یور۔ یہ چھہ بوڈ بن یڑھان۔ سردار قوم بن یڑھان اللہ تعالیٰ ان فر موو صالح علیہ السلامس بین

دیونجہ وورنہ۔ غم مہ برو کیونہہ سَيَعْلَمُونَ عَدَاؤَنَا مِنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ بین سپدہ چھہ معلوم کہ بوڈاپز  
یور شیخی باز کہہ اوس۔ سم لوکھ یس مجزہ طلب کران چھہ کہ پلہ منزہ گڑھہ اونٹن نیرنی۔ إِنَّا  
مُرْسِلُوا النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ آس چھن تھزی فرمائشہ تہ درخواستہ موجب کنہ منزہ ووٹن کڈان تمن



عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسِحْرِ ۱۳ نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا  
 كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۱۴ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا  
 بِالنُّذُرِ ۱۵ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنِ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا  
 عَذَابِي وَنُذُرِي ۱۶ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةٌ عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۱۷ فَذُوقُوا  
 عَذَابِي وَنُذُرِي ۱۸ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ  
 مُّذَكِّرٍ ۱۹ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۲۰ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا

مگر نہ لوط علیہ السلامہ سندس عیال۔ تمن ڈیت اُسہ نجات سحرہ کہ وقتہ پاس آخرس تمہ شہرہ منزہ  
 نبیر کڈنہ سیت نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا محض پتہ فضل تہ مہربانی سیت کَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ تہ پتہ پاٹھ  
 ہجہ اُس بدلہ دوان با ایمان تہ شکر گزار بدن۔ تم جھکھ اسی پتہ قہرہ نیشہ بجاوان وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ  
 بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ \* وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنِ ضَيْفِهِ بیشک عذاب یہ بروٹھ کھوڑہ ناوے تم لوط علیہ  
 السلامن سانہ گرفتاری نیشہ مگر تو تہ لگ تم تورہ بحث کرنہ سیت تہہ بیم کرنس انکار کرنہ۔ یلہ لوط علیہ  
 السلامس نیشہ سانی ملکھ خوب صورت لوکٹین ہنزہ شکہ مہمان ہتھ آئے۔ تو پتہ بوز تمولو کو تم آے  
 دوران دوران تمن نیشہ۔ بے شک کتر تمولو علیہ السلامس آرفتاری تہہ دین تمن پڑھین ہندہ خاطرہ  
 کہ کڈنہ پاٹھ نمہ ہو کہ تم تمن نیشہ پتھ کامہ خاطرہ۔ گوڈہ کیے لوط علیہ السلام سخت پریشان۔ مگر تم مہمان  
 آس ملکھ۔ اُسہ کور تمن لحم تو پتہ ڈول جبریل امین ہن اتھ تہزن اتھن پیٹھ۔ تمن پیووانیو۔ فَطَمَسْنَا  
 أَعْيُنَهُمْ پس نیو اُسہ تہزن انچھن ہندگاش فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي وَنہ آو تمن دونی ژہو گوڈہ تہہ میانہ  
 عذابک تہ میانہ کھوڑہ ناوہ مزہ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةٌ عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ تو پتہ پوکھہ وایتھ صبحس سلی  
 پوشون عذاب تو پتہ آکھ بیہ ونہ کہ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ژہو مزہ ہلاک کرہ ونہ عذابک وَلَقَدْ  
 يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ بے شک اُسہ کور قرآن مجید نصیحت رنہ خاطرہ سہل تہ  
 آسان پس چھاکا نہ نصیحت رنہ وناہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ بے شک بیہ آئی فرعونس تہ تہہ دین

فَأَخَذْتَهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ ﴿۳۲﴾ الْفَارُكُمُ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلِيكُمُ  
 أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿۳۳﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ ﴿۳۴﴾  
 سَيَهْمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿۳۵﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ  
 أَذَىٰ وَأَمْرٌ ﴿۳۶﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿۳۷﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ

لوکن کن کھوڑہ ناوکی تہ بيم کرہ کی واریاہ چیز یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بیہ معجزات وغیرہ  
 سوزنہ کڈبوا بالیتنا کلہما مگر تمو تہ زان اپزسان ساری آیات تہ نشانہ یم تمن نشن واتمت آس  
 فَأَخَذْتَهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ ہنس رٹ تہ گرفتار کر آسہ تم تھہ پآٹھ پآٹھ پآٹھ پآٹھ آگس زبردست قدر تہ  
 والہس ہزہ ہلہ تھہ گرفتار کرہ آس تہ رٹہ آس کا نہہ تہ بیجہ نہ یلہ تراوتھہ تہ چھوڑ تھہ الْفَارُكُمُ خَيْرٌ مِّنْ  
 أَوْلِيكُمُ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ توہیہ بوزوہ بروٹھین منکرن تہ کافرن ہند قصہ تمن کیاہ کڈر یوہ  
 کفر و نافرمانی ہندہ سببہ۔ کیاہ توہیہ اندر تم کافر چھہ تم چھارو ٹھین تمن کافرن ہندہ خوتہ جانے تا اینکه  
 یمن کیاہ بیہ پاس کرنہ۔ تم کیاہ گزن نافرمانی تہ گھر آس کروکھ نہ کنہی کنہ تہندہ خاطرہ چھہ آسمانی کتابن  
 اندر کنہ قسمہ معافی تہ آزادی ہند پروانہ آمت لیکنہ کہ تہہ کمر ویہ خوش گروہ تہ توہیہ چھنہ کانہہ  
 بازخواست اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ کنہ تہند گفٹ چھہ کہ آسہ تہہ بیجہ نہ مقابلہ کا نہہ کمر تھہ۔  
 آس چھہ بڈجماعتھہ اکھ پریتھہ کانسہ نشہ بدلہ ہیوہ و ان آمہ کین تلہ نیرن تم سَيَهْمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ  
 الدُّبُرَ عنقریب کھیہ بیہ جماعت سخت شکست۔ بیہ ژلن تم میدان جگہ نشہ تھر پھر تھہ۔ چنانچہ آسہ  
 پیشین گوئی ہند ظہور سڈ جنگ بدرس تہ جنگ احزابس اندر بیہ گوہو نیاس اندر۔ حتی یوت چھنہ بیہند  
 سزا بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ بلکہ سڈن تم بڈس عذابس گرفتار قیامتک دوہ۔ اصلی عذابگ وعدہ چھہ  
 تمن سیت سئی دوہ وَالسَّاعَةُ أَذَىٰ وَأَمْرٌ قیامت مہ زان ژہ معمولی چیزاہ بلکہ چھہ قیامت سیٹھاہ  
 سخت تہ سیٹھاہ بیٹھہ تہ تلخ سوی قیامت چھہ ضرور واقع سپدہ و ان إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ بے  
 شک یم مجرم یم آسہ قیامتہ کس وقوعس انکار کران چھہ تم چھہ سخت گمراہی تہ جنونس اندر پے مت بیہ  
 گمراہی تہ جنون سپدہ تمن ظاہر تہہ دوہہ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ یمہ دوہہ تم



فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿۵۸﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ  
 بِقَدَرٍ ﴿۵۹﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿۶۰﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا  
 أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿۶۱﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿۶۲﴾ وَ  
 كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿۶۳﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿۶۴﴾  
 فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿۶۵﴾

کھکھرہ یں پکناونہ تھھ کن تہ دار تھ یں دنہ نار جھنمس اندر توپتہ بیٹھھ ونہ ذوقوا مس سقر تہہ ونہہ اے  
 کافرونارچہ زنجی ہند مزہ۔ ہر گاہ تمن شبہ جھھ کہ ادہ کونہ جھھ سو قیامت یوان تمیک جواب جھھ کہ اِنَّا  
 كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ اسہ جھھ پریتھ چیز اہ پادہ کورمت اکہ خاص اندازہ موجب بیتھ منز وار بہن  
 چیزن ہند خصوصاً ونگ تہ زمانک اعتبار تھونہ آمت جھھ۔ ئس اسہ پنہ ئس علمس منز مقررہ متعین  
 کورمت جھھ۔ لہذا یوتان تہ سہ وقت وائتہ توتان تھھ پائٹھ سپدہ تمیک وقوع۔ یکہ تمیک وقت وائتہ وَمَا  
 أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ سون حکم اسہ تمہ کس وقوعس متعلق ئے جھماہ۔ ئس جاری سپدہ ائس  
 آجھہ بیٹھہ اندر۔ اسہ جھھنہ کانہہ چیز پادہ کرہ ئس اندر یاتاہہ دوبر باد کرہ ئس اندر زیادہ کال لگان وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا  
 أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ بے شک اسہ گال تو ہی ہی واریاہ کافر تہ نافرمان لوکھ۔ ئس چھا توہہ اندرہ  
 کانہہ نصیحت رٹہ وناہ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ئس ئس چیز تم کران آس تہ سورے اوس خدا ئس  
 معلوم باوجود آل آوتہ سورے لیکھنہ تہندین نامہ اعمالن اندر یہ کتھہ جھنہ کہ کینہہ آسہا لیکھنہ آمت۔  
 کینہہ اسہ ہالیکھنہ رودمت نہ بلکہ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ پریتھ لوکٹ کتھہ تہ بڈ کتھہ جھھ تھہ اندر  
 وارہ لیکھنہ آثر یہ گوو کافر ن تہ جُر من ہند حال۔ اسہ پتہ جھھہ با ایمان تہ متقین ہند حال۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ  
 فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ بے شک تم ٹھہرہ نغمہ نافرمانی نغمہ چہ ون جھہ تم آسن جنتہ کین باغن اندر تہ جوئین پیٹھہ  
 فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ حقیقی عزتہ جاہہ بڈس باد شہمس جھھہ ئس کل کائناتس پیٹھہ اقتدار  
 چھو تم پنہہ پڑھہہ برکتہ خدا و پیغمبر خدا یہ سندہ پڑہ و عدہ موجب آسن اکھ ائس عمدہ تہ پسندیدہ مقاس  
 اندر

## سُورَةُ الرَّحْمٰنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 الرَّحْمٰنِ ۝۱ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝۲ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝۳ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝۴  
 الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝۵ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝۶ وَالسَّمَاءُ  
 رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝۷ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝۸ وَاَقِمْوْا  
 الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝۹ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا

الرَّحْمٰنِ \* عَلَّمَ الْقُرْآنَ رحمتہ ولس خدایہ سزہ چھ بے شمار نعموہ۔ آجہ روحانی۔ آجہ جسمانی آجہ  
 دنیوی آجہ اخروی۔ روحانی نعمتو آندرہ گنیہ اکہ نعمت کہ تمہی پچھہ ناؤ قرآن مجید یعنی تمی کور نازل قرآن  
 مجید بیچھہ تہند بندہ تہس بیچھہ ایمان آنتھہ، تمیک علم حاصل کمر تھہ تمہہ موجب عمل کمر تھہ تمیک نفع تہ  
 فایدہ تکلن۔ تم سزہ بیاکہ نعمت گنیہ جسمانی یوسہ موقوف علیہ چھہ روحانی نفع سو گنیہ یہ نعمت کہہ  
 الْاِنْسَانَ \* عَلَّمَهُ الْبَيَانَ تمہی کور پادہ انسان تو پتہ پچھہ نوون سہ تھہ کرنہ یعنی دلک حال تہ خیال ظاہر  
 کرن کتھو سیت تہ اتھو سیت یعنی تقریر و تحریرہ سیت۔ تمی سیت چھہ سہ قرآن مجید پانہ پران تہ تین پرہ  
 ناوان بیاکہ نعمت گنیہ آفاتی سو گنیہ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ آفتاب تہ زون چھہ پکان اکہ منظم حسابہ  
 موجب سمہ سیت دودہ تہ راتھہ وجودس منز یوان چھہ۔ یمن سیت بدن ہنزہ ہنگی تہ عبادتس سیٹھاہ  
 تعلق چھہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ تہ ک تہ تھرہ تہ کلی یعنی گوڈہ روستی کل تہ گوڈہ ولی کل چھہ مشغول پنہ  
 ہس مولی سجدس سجدس سیت وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا تمہی حضرت رحمان کور تھود تہ بلند آسمان۔ وَوَضَعَ  
 الْمِيزَانَ تمہی کمر قائم دنیاس اندر ترکر اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ بیچھہ تہہ تولنس اندر کی و زیادتی  
 کمر و۔ امہ نعمتگ شکر گووای زہ وَاَقِمْوْا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ بیہ تھادو قائم انصافہ  
 موجب پریتھہ چیزک وزن بیہ منہ آسوکران کی تولنس تہہ قسمہ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاِنْسَانِ بیہ تھادو تمی

لِلْأَنَامِ ۝۱۰ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝۱۱ وَالْحَبُّ  
 ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝۱۲ فَبِأَيِّ آيَاتِنَا تُكذِّبُونَ ۝۱۳  
 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝۱۴ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ  
 مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ۝۱۵ فَبِأَيِّ آيَاتِنَا تُكذِّبُونَ ۝۱۶ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ  
 رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝۱۷ فَبِأَيِّ آيَاتِنَا تُكذِّبُونَ ۝۱۸ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

زمین مخلوق ہندہ فائدہ خاطرہ و ہر اوتھہ **فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ** بیٹھ ز مینس منز چھہ کم  
 کم میوہ بیہ خضر کل تمن ہند میوہ چھہ آسان گوژرین تہ غلائن منز ولتھہ **وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ**  
**وَالرَّيْحَانُ** بیہ چھہ اتھہ زمینس منز پریتھہ قسمک غلہ بیٹھ غلّس سیت چارولین ہندہ کھینہ خاطرہ گاسہ تہ  
 چھہ آسان۔ بیہ پریتھہ قسمک خوشبودار پُوش سمو سیت داغ چھہ سپدان **مُعْطَرٍ فَبِأَيِّ آيَاتِنَا تُكذِّبُونَ**  
**تُكذِّبُونَ** پس تھہ تھہ نفّس پروردگارہ سبّس کمر و تھہ انکار ای جنو تہ انسانو۔ اگس حدیث شریفس  
 کُنْ نَظَرَ كَرِهَتْهُ فَرَمُوهُ عَالَمُوهُ كَيْلَهُ كَانَهُ شَخْصًا يَهِيَ آيَةُ كَرِيمَةٍ يُؤْتِيهِ تَمَسُّدٌ كَرِهَتْهُ جَوَابُ دِينٍ لَا بَشِيْعٌ مِنْ  
 نَعْمِكَ رَبَّنَا نَكْذِبُ فَلَكَ الْحَمْدُ اے سانہ پروردگارہ چانیو نعمتو آندرہ عنہ نفّس ہیچہ نہ آس انکار کمر تھہ  
 ہنس ساری حمد شوبہ نے تہے **خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ** بیاکھ نعمت گئیہ کہ تمی گر پادہ اگس  
 انسانہ سندا اصل اول یعنی آدم علیہ السلام تھہ میوہ یوسہ ہو چھہ کترہ ہند یا تھہ ترن ترن کرت وزان آس  
**وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ** بیہ کر تمی پیدہ جنن ہیوند اصل اول نارہ چہ رہہ بیٹھ نہ دہ شامل آسان  
 چھو۔ یمن دشوین مخلوق کمر وجود چ نعمت عطا تمی پروردگارن **فَبِأَيِّ آيَاتِنَا تُكذِّبُونَ** اے جنو تہ  
 انسانو خدایہ سنزو نعمتو آندرہ تھہ تھہ نفّس کر یو تہ انکار **رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ** بیہ چھو سوی  
 معبود برحق دون مشرقن تہ دون مغربن ہوندا مالک حقیقی آفتاب چھو وندس تہ رتہ کالس مختلف جایو  
 نشہ طلوع سپدان تہ کھسان بیہ مختلف جایو کن لوسان تہ غروب سپدان تمی اعتبارہ آوونہ مشرقین تہ  
 مغربین، آفتابچہ مختلف جایو ہنس لوسن امہ سیت چھہ موصم بدلان تھہ اندرہ چھہ بے شمار فائدہ تہ **مصلحو**،

يَلْتَقِينَ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَنَّ ﴿٢٠﴾ فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٢١﴾  
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿٢٣﴾  
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ رَبِّكُمَا  
تُكذِّبِينَ ﴿٢٥﴾ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ ﴿٢٦﴾ وَيَسْمَعُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ

زمینہ کین لوکن ہندہ خظیرہ امہ سارکوی مالک نہ اختیارہ دول چھو سوی پروردگار فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ رَبِّكُمَا  
تُكذِّبِينَ پس پنہ نس پروردگار سند یو نعمتو اندر کتھہ کتھہ نفس کر یو تُوہ انکار ای جنوہ انسانو۔ مَوَجِّ  
الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ \* بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ تمی پروردگارن پکناو زہ دریادو اکھ میو ٹھہ نہ بیا کھ ژوش۔ یے  
زہ دریادو چھہ اکھ اکس سیت ظاہرہ پاٹھ میلٹ پکان۔ مگر تحقیق منز چھو یمن در میان اکھ ٹھورہ اُس نہ  
یمن اکھ اکس پیٹھ غلبہ دو ان چھو کرنہ، میو ٹھہ سپدہ ہا ژوش ژوش سپدہ ہا میو ٹھہ۔ یہ چھہ نعمت نہ بیہ  
قدر ٹک اکھ بوڈ نشانہ نہ۔ فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ پنہ نس پروردگارہ سنز یو نعمتو اندرہ کتھہ نفس، بھو  
توہ انکار کرت ای جنوہ انسانو یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ یو دو دوشوی دریادو منزہ چھو نیر ان اکھ حنہ  
بیہ لدرہ۔ فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ پنہ نس پروردگارہ سنزہ نعمتو اندرہ کتھہ نفس ہو توہ انکار کرت ای  
جنوہ انسانو وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ تم سنزے چھہ تمہ ناوہ نہ جمازیمہ تھزہ نہ بھہ چھہ  
سمندر منز کو بہن سومبہ یمن پیٹھ سوار سیدت توہ اکھ ملکہ نشہ بین ملکن واتان چھو ضروریات نہ  
مال تجارت واتانوان چھوہ۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا آندرہ گو اشارہ تمن نعمون کن ییمہ سمندرہ نہ دریادو تلہ  
نیر ان چھہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ آندرہ چھو اشارہ تمن نعمون کن ییمہ آہہ پٹھ کن سطح نشہ حاصل  
سپدان چھہ آہہ پٹھ کن نہ نعمو۔ آہہ تل نہ نعمو فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو  
اندر کتھہ نفس ہو توہ انکار کرت ای جنوہ انسانو واتان یمن نعمون ہیوند ذکر کرنہ اولازم چھو تمن  
نعمون گزہہ توحید و طاعتہ سیت شکر دین کفر و معصیت سیت گزہہ نہ ناشکری و ناسپاسی کرن۔ کیا زہہ ہتھ  
عالمس چھو فنا سپدن ییمہ پتہ چھو بیا کھ عالم اوہون۔ ہتھہ عالمس منز ایمان و کفرس پٹھ جزا و سزا ییمہ ونہ۔  
یسوی مضمون چھہ اللہ تعالیٰ فرماون كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ \* وَيَسْمَعُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ یمن جن

وَالْأَكْرَامِ ﴿۲۵﴾ فَيَأْتِي الْأَرْضَ رِبْكَمَا تَكْذِبِينَ ﴿۲۶﴾ يَسْتَلُّهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿۲۷﴾ فَيَأْتِي الْأَرْضَ رِبْكَمَا تَكْذِبِينَ ﴿۲۸﴾  
سَنَفَعُكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَيْنِ ﴿۲۹﴾ فَيَأْتِي الْأَرْضَ رِبْكَمَا تَكْذِبِينَ ﴿۳۰﴾ يَمْعُشَرُ  
الْحَبْرَ وَالْإِنْسَ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ

تہ انسان اتھ زُوی ز مینس ہٹھ چھ موجود تم ساری چھ گلہ وین تہ فانی سپدہ ون۔ باقی روزہ ون چھو فقط  
تھندس پروردگارہ سُنْدَات پاك نُس عظمیہ وول تہ احسانہ وول ہٹھ، یم چھ زہ صفت اللہ تعالیٰ سند، اکھ  
چھو ذاتی بیاکھ چھو اضافی۔ اکثر اہل عظمت چھو پنے نس عظمس سیت آسان بین گن چھنہ کانہ توجہ  
کران مگر معبود برحق چھو باوجود کمال عظمت، صاحب اکرام تہ پنے نین بندن پیٹھ ہٹھ تہمز رحمت و  
فضل جاری۔ چونکہ امہ مضمونچ خبرون چھ موجب ہدایت، لہذا چھ بیٹہ نعمتو آندرہ اکھ آخروی نعمتہ  
فَيَأْتِي الْأَرْضَ رِبْكَمَا تَكْذِبِينَ پنے نس پروردگارہ سند یو نعمتو آندرہ تھ نفس کریو تہ انکار ای جنوتہ انسانو۔  
امہ پتہ چھو اکھ خاص طریقہ تھندس عظمت واکرامس متعلق مضمون بیان یوان کرنہ یَسْتَلُّهُ مَنْ فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سو چھو تھوی باعظمت کہ تس نشہ چھ مگان بیون بیون ہن ہن حاجت تم ساری  
یم آسان اندر چھ بیہ یم زمین اندر چھ ساری چھ محتاج تس گن سو چھ ساری ہونند محتاج الیہ نبوی چیز  
چھو دلالت کران تھندس کمال عظمس پیٹھ۔ صاحب اکرام آسن تمسند چھو ننان یمہ سیت کہ کُلِّ  
يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ پرت وقتہ چھو سو کامہ اندرئی۔ یعنی عالمن اندر یمہ کنیزہا واقعہ ہان تہ چھو سپدان  
تھندی تصرف سیت تنے تصرفاتن اندر آئے۔ تم تصرفات تہ یم دلالت چھ کران تھندس اکرام و  
احسانس پیٹھ مثلاً پیدہ کرن عافیت و صحت عطا کرن رزق عطا کرن اولاد عطا کرن۔ ہدایت تہ علم۔  
توفیق عمل۔ پس باوجود عظمت یو تھ اکرام و احسان کرن یمہ گیہ نصی فَيَأْتِي الْأَرْضَ رِبْكَمَا تَكْذِبِينَ پنے  
نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندرہ تھ نفس کریو تہ انکار ای جنوتہ انسانو۔ سَنَفَعُكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَيْنِ  
اس دموپور توجہ تہ حساب ہنس گن ای جنوتہ انسانو۔ یہ برو نصی تہ ای جنوتہ پتہ چھو سان نعمت تہ  
مہربانی یو تھ تہ تیاری ہونند خیال پیدہ گوہہ فَيَأْتِي الْأَرْضَ رِبْكَمَا تَكْذِبِينَ پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتو

وَالْأَرْضِ فَاَنْقَذُوا وَاَلْتَعَذُّوْنَ الْاِسْلٰطِيْنَ ﴿۳۶﴾ فَبِآيِ الْاٰءِ  
 رَبِّكُمَا تُكذِّبِيْنَ ﴿۳۷﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّ مَحَاسٌ فَلَا  
 تَنْتَصِرِيْنَ ﴿۳۸﴾ فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِيْنَ ﴿۳۹﴾ فَاِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ  
 فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿۴۰﴾ فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِيْنَ ﴿۴۱﴾  
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ ﴿۴۲﴾ فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمَا

آندره تھ تھ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو لِمُعْتَسِرِ الْعَيْنِ وَالْاِنْسِ اِنْ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ  
 اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَاَنْقَذُوْا وَاَلْتَعَذُّوْنَ الْاِسْلٰطِيْنَ ای جن تہ انسان ہنز و جہاژو ہر کہ توه طاقت  
 تہ قدرت چھوہ توه کیا بھجو آسمان وز میٹیکو بنا رویشہ نبر نیرت تکا نیر تو اس تہ و تھہو۔ ہر گز بھجو نہ توه  
 نیرت مگر کونہ طاقتہ سیت۔ سو طاقت چھوی نہ توه نہ بھجو دنیا س اندر نیرت نہ ثلث کونہ طرف س کن  
 بیے حالت آسہ توه ہنز قیامتک دوہ سترہ تہ بھجو نہ کن ثلث۔ یہ تھہ باون تہ چھوہ سان نعمت فَبِآيِ الْاٰءِ  
 رَبِّكُمَا تُكذِّبِيْنَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھ تھ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ توه چھوہ  
 حساب و نس اندر تہ عاجزی عذاب و عقاب س اندر تہ عاجزی يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّ مَحَاسٌ فَلَا  
 تَنْتَصِرِيْنَ ای جنوتہ انسانو آندره مجر مو توه پیٹھ یں قیامتک دوہ تراونہ نازک شعلہ بیہ دہ بیٹھ نہ توه نیشہ  
 کانہ تہ دفع بھم کرت یہ ونون تہ چھو ذریعہ ہدایت آسنہ کہ اعتبارہ نعمت۔ فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِيْنَ پنہ  
 نس خدایہ سنزو نعمتو آندره تھ تھ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ فَاِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ  
 وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ادہ یلہ قیامت ایہ تھ منز آسمان پھن پس سپدہ آسمانک رنگ ووزل والہ ہیو۔ اچ  
 خبر دن تہ چھہ اکھ نعمتہ فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِيْنَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھ تھ نفس کریو  
 توه انکارای جنوتہ انسانو۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ پس ایہ نہ تمہ دوہ گوڑنی پر ژھنہ  
 تہ سوال کرنہ اطلاع حاصل کرنہ خیطرہ کانہ انسانس تہ کانہ جنس۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ اس چھہ خبری  
 ساری ہنز۔ اچ خبر دن تہ چھہ اکھ نعمتہ فَبِآيِ الْاٰءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبِيْنَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھ

تَكْذِبِينَ ﴿١٠﴾ يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسَيِّئِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالتَّوَصِيِّ وَ  
 الْأَقْدَامِ ﴿١١﴾ فَيَأْتِي الْأَرْبَعَةَ كَمَا تَكْذِبِينَ ﴿١٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكذِّبُ  
 بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿١٣﴾ يُطَوَّفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيبِ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٤﴾ فَيَأْتِي الْأَرْبَعَةَ  
 رَبِّكَ تَكْذِبِينَ ﴿١٥﴾ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿١٦﴾ فَيَأْتِي الْأَرْبَعَةَ  
 رَبِّكَ تَكْذِبِينَ ﴿١٧﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿١٨﴾ فَيَأْتِي الْأَرْبَعَةَ كَمَا تَكْذِبِينَ ﴿١٩﴾ فِيهَا  
 عَيْنٌ مُتَجَرِّبِينَ ﴿٢٠﴾ فَيَأْتِي الْأَرْبَعَةَ كَمَا تَكْذِبِينَ ﴿٢١﴾ فِيهَا مِنْ كُلِّ

تھ نفس کریو توه انکارای جنوۃ انسانو يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسَيِّئِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالتَّوَصِيِّ وَ الْأَقْدَامِ پرزہ  
 ناونہ بن مجرم لوک پنہ نیو علاما تو سیت تہوند بو تھ آسہ کر بن تو پتہ بن رنہ تم کاڑھ کلہ کہ مستہ سیت  
 بیہ کھوروسیت تو پتہ بن دارت دنہ جہنمیں اندراج خبردن تہ چھہ اکھ نعمتہ فَيَأْتِي الْأَرْبَعَةَ كَمَا تَكْذِبِينَ  
 نس پروردگارہ سند یو نعمتو آندرہ کمہ کمہ نعتک کریو توه انکارای جنوۃ انسانو جہنمیں منز تراوندہ پتہ ایکھ دنہ  
 نہ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہوی کیا گو سو جنم ہتھ مجرم (یعنی توه) انکار کران آس  
 يُطَوَّفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِيبِ إِبْرَاهِيمَ پھیران تہ اورہ پور آسن کران تھ جہنمیں تہ تجہ زسرہ و انس اندر یوسہ  
 سیٹھاہ گرم آسہ گرمی ہندس آخری در جس منز گرم آسہ۔ اکہ ساتہ جھموک عذاب بیہ ساتہ جھمک  
 عذاب اچ بروٹھے خبردن تہ چھہ اکھ نعمتہ۔ فَيَأْتِي الْأَرْبَعَةَ كَمَا تَكْذِبِينَ پنہ نس پروردگار سنزو نعمتو اندر  
 تھ نفس کریو توه انکارای جنوۃ انسانو وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ وون ایس شخص کھوڑہ پنہ نس  
 پروردگار س بروٹھ کئہ استادہ سپد نس پرت ساتہ کھوڑت رود پتھ گہوۃ تا فرما نیو نعرہ تہندہ خیطرہ چھہ زہ  
 عالی شان جنت یہ گو خاص بدن ہندہ خیطرہ فَيَأْتِي الْأَرْبَعَةَ كَمَا تَكْذِبِينَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو  
 اندر تھ نفس کریو توه انکارای جنوۃ انسانو ذَوَاتَا أَفْنَانٍ تمے جتن اندر آسنن سہتاہ لجہ دار کول  
 تے لجہ آسن برت میوسیت فَيَأْتِي الْأَرْبَعَةَ كَمَا تَكْذِبِينَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو اندر تھ نفس  
 کریو توه انکارای جنوۃ انسانو۔ فَيَأْتِي الْأَرْبَعَةَ كَمَا تَكْذِبِينَ تہ دوں باغن اندر آسن زہ ناگہ راو یکن ہوند





الْإِحْسَانُ ۱۰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۱۱ وَمِنْ دُونِهِمَا  
 جَبْتَيْنِ ۱۲ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۱۳ مُدَاهِمَتَيْنِ ۱۴  
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۱۵ فِيهِمَا عَيْنِينَ نَضَّخَتْنِي ۱۶  
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۱۷ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ۱۸  
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۱۹ فِيهِنَّ حَيْرَاتٌ حِسَانٌ ۲۰ فَبِأَيِّ آلَاءِ  
 رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۲۱ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ۲۲ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

کرنے آخرتس اندر روت ثواب میں کانہ ہنزه اچھو و جھمت آسہ کانہ ہندکنن بوزمت آسہ کانہ  
 ہندس دلس رای گمہو آسہ یہ چھو محض خدا یہ سنفصل و کرم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنہ نس  
 پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھہ تھہ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ وَمِنْ دُونِهِمَا جَبْتَيْنِ نمودویو  
 باغورای جھہ بہ زہ باغ تموخوتہ دستھ عام با ایمان ہندہ خیطرہ پرت با ایمانس زیر باغ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا  
 تُكَذِّبِينَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھہ تھہ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو مُدَاهِمَتَيْنِ تم  
 دوشوے باغ آسن شوخ سبز کر ہیرہ سان سخت سبز آسہ موکھ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنہ نس  
 پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھہ تھہ نفس کریو انکارای جنوتہ انسانو۔ فِيهِمَا عَيْنِينَ نَضَّخَتْنِي تمس دون  
 باغن منز چھہ زہ ناگ یمن ہوند آب چھو زورہ سان ہیوزکن شولہ ماران۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ  
 ادہ تھہ تھہ نفس پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره کریو توه انکارای جنوتہ انسانو فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ  
 وَرُمَّانٌ تمس دون باغن اندر آسن میوہ۔ خضر۔ بیہ دین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ادہ تھہ تھہ نفس  
 پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ فِيهِنَّ حَيْرَاتٌ حِسَانٌ تمس باغن  
 ہنزن لرین اندر چھہ رثہ زنانہ خوب صورت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ادہ تھہ تھہ نفس کریو توه انکار  
 پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندرای جنوتہ انسانو۔ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ تے زنانہ آسن اچھہ دیتھہ  
 کرت نورانی بوتھہ کرت خمین اندری روزن واجنہ اورہ یور پھیرونہ آسن نہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

تَكْذِبِينَ ﴿۴۲﴾ لَمْ يَطِئْتُهُنَّ إِسْرُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ ﴿۴۳﴾ فَيَأْتِي الْأُمَّرِيكُمَا  
تَكْذِبِينَ ﴿۴۴﴾ مُتَكِبِينَ عَلَى رَفْرِفِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿۴۵﴾ فَيَأْتِي  
الْأُمَّرِيكُمَا تَكْذِبِينَ ﴿۴۶﴾ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿۴۷﴾

تَكْذِبِينَ اُدھ تھ تھ نفیس کر یو تو یہ انکار پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره ای جنوتہ انسانو۔ لَمْ يَطِئْتُهُنَّ  
إِسْرُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ ہم بستری آسنہ کر مژ تمں سیت یو جنیتو بروٹھ نہ کانسہ انسانن نہ کانسہ جن  
فَيَأْتِي الْأُمَّرِيكُمَا تَكْذِبِينَ اُدھ تھ تھ نفیس کر یو توہ انکار پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره ای جنوتہ  
انسانو۔ مُتَكِبِينَ عَلَى رَفْرِفِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ تے آسن تکیہ دتھ سبز مخلی قالیسن پٹھ بہت بیہ نہ  
پہ کر وہ نین رتین فرشن پٹھ بہت۔ فَيَأْتِي الْأُمَّرِيكُمَا تَكْذِبِينَ اُدھ تھ تھ نفیس پنہ نس پروردگارہ سنزو  
نعمتو آندره کر یو توہ انکار ای جنوتہ انسانو۔ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ بابرکت چھو نام پاک  
تھوندس پروردگارہ سندیار رسول اللہ نس پروردگار عظمتہ وول تہ احسانہ وول پھو۔ یہ سارے دنیوی  
نعمو چھ تسزے یہ یلہ نام پاکج بרכת گیہ اے آندره گتھ زان کہ ناوہ وول کیو تھ آسہ تہندہ ذات  
پاکچہ بרכת کثر کتھ آسن کیڑاہ آسن ظاہر اچھو سپدان معلوم کہ باایمان جن تہ انسانن دوشوین چھو  
واتن جنٹس۔ دوشوین سپدان حاصل جتپتہ نعمو دوشوین ین عطا کرنہ جتپتہ حورہ۔ لَمْ يَطِئْتُهُنَّ إِسْرُ قَبْلَهُمْ  
وَلَا جَانُ آندره چھو مراد کہ یہ حورہ انسان جنٹین ین عطا کرنہ تمں حورن نزدیک آسنہ آمت تمں  
انسان جنٹین بروٹھ کانسہ انسان کیاہ تہ حورہ آسن انسانن ہندہ خیطرہ مخصوص آمژہ کرنہ۔ تھ پٹھ  
جن جنٹین یہ حورہ عطا کرنہ ین تمں حورن آسنہ نزدیک آمت تمں جن جنٹین بروٹھ کانسہ جتہ کیاہ  
تہ حورہ آسن جن جنٹین ہندی خیطرہ مخصوص آمژہ کرنہ۔ گوڈنک زہ جنت یمن ہنز ذکر گوڈہ آہ  
کرنہ تمں ہندہ افضل بہتر آسٹس کن آوتر تمں اندر اشارہ کرنہ۔ وین چھ تہجہ دلیلہ بیان یوان کرنہ۔  
تفسیر در منشورس منز چھو حدیث شریف کہ فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنتان  
من ذہب للمقربین وجنتان من ورق لأصحاب الیمین یعنی تم زہ جنت چھ سونہ سندی۔ مقر بن  
ہندہ خیطرہ۔ بیہ زہ جنت چھ روپہ سند تمں ہوند سوری سامانہ چھو روپہ سندوی تم چھ اصحاب تمین  
ہندہ خیطرہ۔

## سُورَةُ الْوَاقِعَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝<sup>۱</sup> لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝<sup>۲</sup> خَافِضَةٌ  
 رَافِعَةٌ ۝<sup>۳</sup> إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝<sup>۴</sup> وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝<sup>۵</sup>  
 فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۝<sup>۶</sup> وَكُنُفًا أُرْوَاغًا ثَلَاثَةً ۝<sup>۷</sup> فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝<sup>۸</sup>  
 مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝<sup>۹</sup> وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝<sup>۱۰</sup> مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝<sup>۱۱</sup>  
 وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ ۝<sup>۱۲</sup> أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝<sup>۱۳</sup> فِي جَنَّتٍ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ یلہ قیامت واقع سپدہ لیس لوعتہا کاذبہ ۝ نہ تمہ ساتھ کہ امس واقعہ سپدنس اندراوسنہ کانہہ شہجہاہ تہ خلافا، بلکہ اوس امیوک واقع سپدن بالکل صحیح تہ پڑ، یہ آسنہ ٹھٹھ باشاہ، خافضة رافعة ۝ قیامت چہ بعضے لوکن پست کرہون، بیہ بعضے لوکن بلند کرہون، یعنی تہی دوہہ سپدہ کافرن ہندہ ذلت و پستی ہیوند تہ با ایمان ہندہ رفعت و بلندی ہیوند ظہور إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا یلہ بونیول ایہ زمینس سیٹھہ سخت بونیولہ، یعنی وسراونہ بیہ سوزورہ، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا بیہ آیہ کوہن ریزہ ریزہ کرنہ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا پس سپدن کوہ پھسرنہ آمرگردی، وَكُنُفًا أُرْوَاغًا ثَلَاثَةً توہہ سپدنوسارنی لوکن اولینن تہ آخرین تہ ترہ جہاز، اکہ جماعت گیہ دوزخی، بیاکہ گیہ عام جلتین ہنز، بیاکہ گیہ خاص جماعت مقربین ہنز، یم جنتہ کین اعلیٰ درجن منز آسن، امہ کوی تفصیل چہ اللہ تعالیٰ فرماوان، فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ پس چھویو آندرہ اکہ قسم دچھنہ طرفک لوک، کیاہ رت چہ تم دچھنہ طرفک لوک، تم گئے تہی یمن نامہ اعمال ایہ دینہ دچھنہ اتھس رتھ، دویم قسم گو لوکن ہیوند وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ کھوفرہ طرفک لوک، تم کھوفرہ طرفک لوک کیتیاہ پچھ پچھ، مراد چہ تمو آندرہ تم لوک یمن نامہ اعمال ایہ دنہ کھوفرس اتھس کیتھ، یعنی کافر، وَالسَّبِقُونَ

التَّعِيمِ ۱۲ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ۱۳ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۱۴  
 عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۱۵ مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ۱۶  
 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۱۷ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ  
 مِّن مَّعِينٍ ۱۸ لَا يُصَدَّ عُنُقُهَا وَلَا يُنْفُونَ ۱۹ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا  
 يَتَخَيَّرُونَ ۲۰ وَحَمِيرٍ مِّمَّا يَشْتَمُونَ ۲۱ وَحُورٍ عِينٍ ۲۲ كَأَمْثَالِ

الطُّبُوعُونَ تریوم قسم گو برو ننگہ گدھ و نین هیوند، تمئے گئے برو ننگہ گدھ و ن اعلیٰ درجک لوک، اُولَئِكَ الْمَتَّوِّبُونَ تم گئے خدا ایس سیت خاص قرب تہ نزدیکی تھو و ن لوک، فِي جَنَّاتِ التَّعِيمِ یم مقرب لوک آسن نعمت کیں باغن اندر، عیش و آرامس منز ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ \* وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ یمن مقرب لوکن ہنز بڈ جماعت آسہ برو ٹھمبو لوکو اندرہ کیازہ تموند تعداد چھو زیادہ کم جماعت آسہ پتہ اودہ و نیو اندرہ، برو ٹھمبو اندرہ چھو مراد آدم علیہ السلامس پیٹھ عیسیٰ علیہ السلامس تان، پتہ اودہ و نیو اندرہ چھہ مراد پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سندہ پوٹھ، قیاس تام، عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ تم مقرب لوک آسن بہت تمن تخن پیٹھ یم سونہ سنزو تاروسیت و ونہ آسن آمت، بیہ آسنکھ لعل و جو اہر جرنہ آمت، مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ تمنی تخن پیٹھ آسن تکیہ دت بہت، اکھ اکس کن بوتھ کر ت، يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ یوان گدھان آسن تمن نشہ خوب صورت لوکٹ لوکٹ خدمت گار، یم اکسی حالس تہ عمرہ پیٹھ روزن ہمیشہ پاکو اب و اباریق تمنی آسن تمن نشہ انان زہدار آب خور، بیہ قربہ نارہ، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بیہ پیالہ یم شراب طہورہ سیت بربر آسن، اُس شراب قدرتی طور ناگو تہ چشموسیت اندرہ نیرت جاری آسہ، لَا يُصَدَّ عُنُقُهَا وَلَا يُنْفُونَ یمہ شراب طہورہ سیت نہ کرہ تمن کلہ دودز انہ، نہ اکیہ عقلہ منز قورزانہ، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ بیہ ین تم خوب صورت لوکٹ تمن برو ٹھکن تم میوہ ہیئت یم تم پسند کرن، وَحَمِيرٍ مِّمَّا يَشْتَمُونَ بیہ انکھ ہیئت وڈہ و نین جانورن ہیوند بوز مت ماز یمن ہیوند تم میل تہ خواہش کرن، وَحُورٍ عِينٍ بیہ آسن تمن جنتین ہندہ

اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُونُ ﴿۳۳﴾ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۴﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا  
لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهِمَا ۖ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَامًا ﴿۳۵﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۖ لَهُمْ مَا أَصْحَابُ  
الْيَمِينِ ﴿۳۶﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿۳۸﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿۳۹﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿۴۰﴾ وَ  
مَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿۴۱﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿۴۲﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿۴۳﴾

خپره تمن جنن اندر تمے زنانہ میہ پر نہ آسن، اہنزه اچھہ و پچھہ آسن، کَامَثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ تمے  
آسن محفوظ تھاو نہ آمت محبتہ ہشہ صاف و شفاف، نہ نہ کران، جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ اکیہ بدلہ  
عطا کرنہ تمن رژن کاین هیوند میہ تم دنیا اس منز کران آسن، لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهِمَا  
سو جنک شراب طهور چت یا تمہ و رای نہ بوزن نہ تمن جشن اندر کانہ بے ہودہ کتھاہ، یا ناگوار کلاماہ،  
میہ سیت تموند عیش متعفن سپدہ ہا، إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَامًا مگر آسہ پر تھہ طرفہ یوان تمن سلامتی ہنز  
آواز، حق تعالیٰ کرہ تمن سلام، سلام، قولان رب رحیم، ملایک آسن کران تمن سلام، والملايحتہ  
ید خلون علیہم من کل باب، سلام علیکم طبتم پانہ وان نہ آسن اکھ اس سلام کران محبتہم فیہا سلام،  
غرض کہ روحانی و جسمانی پر تھہ قسمک اعلیٰ درجک لذت آسہ تمن حاصل یہ گوسا یقینن ہیوند حال،  
امہ پتہ چھو بیان یوان کرنہ اصحاب الیمینن ہیوند حال وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ بیہ یم دھنہ  
طرفک لوک چھہ، کیاہ رت چھہ تم دھنہ طرفک لوک، فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ تم آسن بریہ کلین ہندین  
باغن اندر یمین نہ کند آسن وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ بیہ کیلہ کولین ہندین باغن اندر، یمین کیلہ لگت آسن پو  
ٹھوس پیٹھہ، وَظِلِّ مَمْدُودٍ بیہ آسن زہٹھہ، زہٹھس سالیس تل، تیوت زیوٹھہ سایہ کہ ہر گاہ تیز رفتار  
گر اس تہس ورہس ٹھنی دور تلہ، توتہ و برنہ سوسایہ، نہ آسہ تھہ سالیس اندر گرمی نہ آسہ سردی، نہ  
آسہ تاریکی نہ نہ لنگہ، نہایت خوشگوار نہ معتدل آسہ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ بیہ آسہ تمن باغن اندر آب  
جاری، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ بیہ آسن تمن باغن اندر بکثرت میوہ، لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ یمینہ ختمتی  
گروہان آسن زانہہ دنیا کین میون ہند پائٹھہ، کہ موسم ختم سپدہ سیت کیا آسہ ہن میوہ نہ ختم سپدان،

وَفُرُشٍ مَّرْقُوعَةٍ ۚ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً ۖ وَجَعَلْنَهُنَّ أَجْبَارًا ۗ<sup>۳۶</sup>  
 عُرْبًا اِتْرَابًا ۗ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ۗ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ ۗ وَثَلَاثَةٌ<sup>۳۷</sup>  
 مِّنَ الْآخِرِينَ ۗ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ هُمَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۗ فِي سَمُومٍ  
 وَحَيْمٍ ۗ وَظِلٍّ مِّن يَمُومٍ ۗ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا اقْتَبَلِ  
 ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۗ ۝ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ۗ وَكَانُوا

بیہ آسن نہ تم میوہ ٹھاک کر نہ آمت، و فُرُشٍ مَّرْقُوعَةٍ بیہ آسن تھند تھند و تھرن، تمنی و تھرنین پیٹھ  
 آسن خوب صورت انہر شہ زنانہ اِنَّا اَنْشَاْنَهُنَّ اِنِشَاْءً اسہ آسہ تمن زنانہ ہنز پیدائش کر مرخص  
 طریق، وَجَعَلْنَهُنَّ اَجْبَارًا تمہ آسن اسہ کر مرثہ سارے انہر شہے، حورہ، دنیا چہ زنانہ، بیہ دنیا س  
 اندر آسہ بن سہز مرثہ حجہ، اَنہ تہ کانہ، تمنی آیہ جلتیس اندر نوزندگی تہ نولو کہ چار عطا کرنہ، تمن آسہ نہ  
 سوانہر شر پنہ نین خاندان زن ہندہ ہم بستری کرنہ سیت تہ ژلان نہ زایل سپدان، عُرْبًا اِتْرَابًا تمنی آسن  
 دلربا تہ تہلاوہ ونہ، یعنی خاندان پنہ نین نازو تہ عشووسیت پانس گن مایل کرہ ونہ، بیہ آسن اکی وانسہ،  
 غرض تموند حسن و جمال، نازو انداز، حرکات و سکنات، ساری چیز آسن دلکش لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ یم  
 ساری چیز آسن دہجنہ طرفہ کین لوکن ہندہ خیطرہ، ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ \* وَثَلَاثَةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اصحاب  
 تکمین ہنز ہند جماعت آسہ برو تھمیو لو کو اندرہ، بیہ آسہ ہند جماعت اھنز پتہ اوہ و نیواندرہ وَأَصْحَابُ  
 الشِّمَالِ هُمَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ بیہ یم کھوفرہ طرفہ لوک چھہ، تم کھوفرہ طرفہ لوک کیتیاہ بچھہ چھہ، فِي  
 سَمُومٍ وَحَيْمٍ تم لوک آسن نارس تہ رسر منز، وَظِلٍّ مِّن يَمُومٍ بیہ سخت سیاہ دھہ کس سائلس تل،  
 تھہ منز نہ در ینٹھی کینہ یوان آسہ، لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ نہ آسہ سووہ شہول، نہ آسہ سوکنہ قسمہ خوش منظر تہ  
 راحت ولہ ناوہ ون، بیہ یو تھہ عذاب کیازہ سا آسہ تمن، إِنَّهُمْ كَانُوا اقْتَبَلِ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ بے شک تم آسنا یمہ  
 برو تھہ یعنی دنیا س اندر عیش و آرامس منز، بیہ سببہ فکر می کھسان اوسکھنہ کینہہ، تھہ خوشحال اندر  
 آس غرق گمت، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ تمی آس تم ڈاڈ کرت اکس ہڈس گنہس پیٹھ یعنی

يَقُولُونَ لَا إِلَهَ مِثْلَنَا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ ﴿۷۷﴾ وَأَبَاؤُنَا  
 الْأَوَّلُونَ ﴿۷۸﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿۷۹﴾ لَمَجْمُوعُونَ ۗ إِلَى  
 مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿۸۰﴾ ثُمَّ إِنكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿۸۱﴾  
 لَا تَكُونُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُقُومٍ ﴿۸۲﴾ فَمَا لَتُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿۸۳﴾  
 فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿۸۴﴾ فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ﴿۸۵﴾  
 هَذَا نَزَّلْنَاهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿۸۶﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ ﴿۸۷﴾  
 أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿۸۸﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿۸۹﴾

شرکس تہ کھرس پیٹھ وکلاؤا یقولون بیه آس تم دان، ایلامتنا وکنا ترابا و عظاما انا لبعوثون کیا  
 اس بلہ مرو تو پتہ دودرو، اس روز نہ کینہہ تہ مرہ تہ اذ جو و رای، تہ گہ هت یموہ اس دوبارہ بیه زندہ کرنہ،  
 اواباؤنا الاولون کیا بیه ینہ سان برو تھم مال بو ڈبب تہ زندہ کرنہ۔ اھنز حالت سانہ خوتہ تہ بدتر  
 آسہ گھو، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ \* لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ توه فرما یو کہ یارسول اللہ  
 بے شک تہنز کیا چھ کتھی، اولین تہ آخرین، ساری ین جمع کرنہ تہ سونبراونہ اکہ دوہہ اس معین کرنہ  
 آتس و قس پیٹھ، یعنی قیامتگ دوہ، سمیوک وقت اللہ تعالیٰ سندس علس اندر مقرر چھ ثُمَّ إِنكُمْ أَيُّهَا  
 الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ تپتہ چھو توه ای وتہ ڈلیو، ای پزس ایزانہ ونیو لاکلون من شجر من زقوم آسہ  
 توه ضرور کھیون، زقومہ کہ کلہ منزہ فمالئون منها البطون تھی زقومہ سیت آسبو توه پنہ نہ یڈ برہ و سن  
 تہ ہر کرہ و سن، فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ تھ پیٹھ آسہ توه چن چن رسر فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ  
 سوی رسو چھو توه، تریشہ ہنچن ووشن ہند پاٹھ، هَذَا نَزَّلْنَاهُمْ يَوْمَ الدِّينِ بیہ آسہ گوڈنچ ضیافت تہنز  
 قیامتگ دوہ، نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ اسہ کروہ توه ساری پیدہ، گوڈنچہ لٹ، تھ توه تہ چھوہ تسلیم  
 کران، دویمہ لٹہ پیدہ کرنس کونہ چھوہ توه تسلیم تہ تصدیق کران، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ \* أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَنْ  
 نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ  
 النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ أَأَنْتُمْ  
 تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا  
 فَظَلَمْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُعْرِمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ توہ و توئیس منی یعنی نطفہ توہ وائے ناوان چھوہ زنانہ ہندین شکمن تہ بچہ دانین اندر، کیا توہی چھوہ تھہ لطفس انسان بناوان، کنہ اس چھہ انسان بناوان وال، یہ کتھہ چھہ ظاہر کہ بناوان وال تہ پیدہ کرن وال چھہ اسی، منی اندر تراونہ پتہ چھہ تہہ چہ کنہ کامہ پیٹھہ تہوند کانہہ تصرف، یہ چھہنہ اسہ وراى کانہہ ہنز کوم، نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ اسی چھوہ مقرر کرمت توہندہ خیطرہ مران، یعنی سانی کوم پیدہ کروں، توپتہ اکس خاص و قفس تام زندہ تہاون، توپتہ اکس معین و مقررہ و قفس پیٹھہ مارن، یہ چھہ سارے کامہ سائے، وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ اسہ چھہنہ ہرگز عاجز علیٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ سمہ کتھہ نشہ کہ اس کیا بدلاووه توہ، توہی ہیوین بین لوکن سیت، بیہ وائے ناوہ توہ تھہ عالمس منز، بیوک نہ توہہ پتہ ہی آسہ، یا بناووه توہ تمی قسمک مخلوق یمن ہنز نہ توہ خبری آسہ، یعنی توہ سپدہ مخ صورت، واندرن تہ سورن ہنز شکل، اسہ بیچہ نہ تمہ نشہ کانہہ تہ پتھہ رتھہ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ بے شک توہ چھہ سانہ گوڈہ پیدہ کرنج خبری، ادہ کونہ چھو توہ یاد ہیوان تہ فکرہ تران کہ قیامتگ دوہ تہ آیوہ توہ اتھہ پاٹھہ بیہ دوبارہ پیدہ کرنہ، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ \* اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ توہ و نتوای لوکوئیس توہہ غلاتن ہیوند بیول زمینس منز ووان چھوہ، کیا توہ چھوہ تھہ بیالس زمینہ منزہ گل کھاران، کنہ زراعت تہ کل کھارہ و کن چھہ اس، سوزراعت کھیت تہ چھوہ سوسائسی اختیارس اندر، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَمْتُمْ تَفَكَّهُونَ ہرگاہ اس یڑھو سو زراعت کروں اس ہاشہ گو مت، ئیس پنہ پنہ سو روی وس پیہ، پنہ وراے آسہ کنہ، پس سپد یو توہ حیران



أَفْرَاءَ يَتَمُّ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ  
 الْمُنْزَنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا  
 تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفْرَاءَ يَتَمُّ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنْتُمْ  
 أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً  
 وَمَتَاعًا لِلْمُقِيمِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ فَلَا  
 أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

تہ پریشان دینہ لگیو توه، اِنَّا الْمَعْمُورُونَ بے شک چھ اس نقصان زدہ تادان زو، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ  
 نقصان چھنہ کتھی، بلکہ چھ اس بالکل محروم، اسہ رودنہ کئی، أَفْرَاءَ يَتَمُّ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ توه  
 ونزوی لوکو تہ آس متعلق یس توه چوان چھوہ، ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُنْزَنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ  
 کیا توی چھوہ سو آب ابر منزہ تراوان، کہینہہ سو آب تراوان وال چھ آسی، سوباران تراوت تہ چھوہ سو  
 آسان سانی اختیار س اندر، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ہر گاہ اس یشو سو کرون اس  
 نمکین تہ ٹیوٹھ، بالکل بد مزہ، تہ بیگون کرت، وَاَنْ چھوہ یہ سان ہڈ مہربانی کہ اس چھوہ نہ سو آب  
 ٹیوٹھ اوان، ادہ کونہ چھوہ توه شکر گذاری کران بیاک بوڈ فرض چھو شکر تراون تہ توحید پان، أَفْرَاءَ يَتَمُّ  
 النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ای لوکو توه وننویس نار توه روشن کران چھوہ، ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ  
 الْمُنْشِئُونَ کیا توه کروکہ تم کل پیدہ میومنزہ تم سبز آتھہ سونا چھو نیہ انیس تہنزن نجن اکھ اس  
 سیت کھرن دنہ کہ وقتہ ظاہر سپدان چھو، کنہ اسی چھہ تمن کلین ہند پیدہ کرہ و سن، تمومنزہ سو شعلہ تہ  
 رہ کرہ و سن، نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقِيمِينَ اسہ کر یہ دنیاک نار آخر تک نار دوزخ تہ تیس  
 پاوتک اکھ چیزہ پیدہ، بیہ اکھ فایدک چیزہ مسافرن ہندہ خیطرہ، سو نفع تلن تہ چھو موقوف خدایہ  
 سندس قدرتس پیٹھ، لہذا سمنز یہ قدرت چھہ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس کر یو توه تس پنہ نس  
 بڈس پروردگارہ سندہ نام پاکک تسبیح تہ تمجید، فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ بوٹھس قسم ہاوان تارہ کن

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿۸۷﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿۸۸﴾ لَا يَسْمَعُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿۸۹﴾  
 تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۹۰﴾ أَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهُنُونَ ﴿۹۱﴾  
 وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿۹۲﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُقُومَ ﴿۹۳﴾  
 وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿۹۴﴾ وَمَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا

ہنزن لوسنہ جن جاین، ہوند وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعَلَمُونَ عَظِيمٌ پڑھا تھ یہ چھو قسماہ سیٹھاہ بوڈ ہر گاہ توه  
 خبر آسا کیا زہ خدا سمیوک قسم باوہ سوچھا معمولی کتھاہ، قسم چھو تھ کتھ پیٹھ کہ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿۸۷﴾ فِي كِتَابٍ  
 مَّكْنُونٍ بے شک یہ قرآن مجید نئس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ نازل سپدان چھو، تمہ کہ منزل  
 من اللہ آسنہ موکھ چھو سو سیٹھاہ مکرم و معظم قرآن مجید نئس اکس محفوظ کتابہ اندر بروٹھ پیٹھے درج  
 چھو، یعنی لوح محفوظ اس اندر، لَا يَسْمَعُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ اتھ جھنہ لاگان تھ لوح محفوظ اس، مگر پاک و  
 پاکیزہ ملگ، شیطان چھنہ ممکن، اتھ، کھ پکن یا تھ لاگن، امہ کین معنن پیٹھ مطلع سپدنچ چھنہ تھس،  
 بعضے مفسرین جھنہ لاسمہ، راجع کران قرآن مجید سُن، یعنی تھ قرآن مجید س جھنہ تھ لاگان مگر  
 پاک لوک یعنی آھند دل صاف چھنہ اھند اخلاق پاکیزہ چھنہ، یکن و تھ چھ یوان امہ کین علوم و صنایین  
 گن، یا چھو یہ نفی یعنی نہی گو مطلب اتھ قرآن مجید س مہ آسن اتھ لاگان مگر پاک لوک یعنی بے  
 طہارت آسن نہ اتھ لاگان یا تھپ کران، چنانچہ حدیث شریفین اندر چھو تھ متعلق بیان فرمودت  
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن مجید چھو نازل کرنہ آمت رب العالمین  
 سندہ طرفہ أَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهُنُونَ کیا اتھ کلام پاکس سیت چھو توه سو معمولی کتھاہ زانت  
 خلاف کران، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ امہ مد اہتہ علاوہ چھو توبہ بنود مت اتھ قرآن مجید س  
 انکار کران نہ سو اپن زان پنون غذا، تمی جھوہ توحید س نہ قیامتہ کس دوہس انکار کران، ہر گاہ یہ انکار  
 کردن تو ہندہ پڑ چھو، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُقُومَ ادہ کونہ چھو توبہ تھ وقتہ کنہ ہیکان کرت یمہ وقتہ  
 تو ہندس کانسہ رشتہ دارس، عزیز س مرنہ وزہ زوہر س پیٹھ واتان چھو، مو تہ چہ سختی گرفتار سپدان  
 چھو، وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ توه چھوہ حسرتہ چو نظر و تس و چھان، تمسز بے بسی تہ درماندہ گی ہوند

تُبْصِرُونَ ﴿۸۵﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿۸۶﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ  
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۸۷﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۸۸﴾ فَرَوْحٌ وَ  
 رَيْحَانٌ لَّهِ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ﴿۸۹﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۹۰﴾  
 فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۹۱﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ

تماشہ وچھان، وَعَنْ أَقْرَبٍ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصِرُونَ اس تہ چھہ تس مرن والس شخصس توہندہ  
 خونہ زیادہ نزدیک آسان توہ چھو وچھان تھوند ظاہری حالی یوت، اسہ چھو معلوم تھوند باطنی حال تہ،  
 مگر توہ چھوہ نہ سون تس نزدیک تہ قریب آسُن وچھان فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر فی الواقع توہ  
 قیامتک دوہ دوبارہ بیہ زندہ اُیونہ کرنہ توہ حساب اُیہ نہ ہیہ، توہ کانسہ ہندس اختیارس منز چھوہ نہ  
 تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تلہ کونہ چھوہ اس مرن والس شخصسہ سند روح واپس اتان، یا کیا زہ چھوہ  
 تھندس روحس نیرنہ دیوان، چھوئے توہ اتھہ خط وخیالس یعنی قیامتہ کس انکارس اندر پزیر، معلوم  
 سہد کہ قیامتک وقوع چھو حق تہ پز، لہذا ایلہ سہ قیامت قائم سہدہ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پس بس  
 شخصس آسہ تمہہ دوہہ مقرب بندو آندرہ، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ تلہ چھو تھندی خیطرہ مکمل  
 آرام، بیہ فراغتک غذا، یا جتک بوی خوش، بیہ نعمون ہند باغ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَن  
 بس آسہ دچھنہ طرفہ کیولو کو آندرہ، تس اُیہ ونہ، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ چانہ خیطرہ چھو اس  
 وامان پر تھہ آفتہ بشرہ، کیا زہ تہ جھگ اصحاب سیمو آندرہ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ وَن  
 بس شخصس آسہ پزس انکار کرہ و نیو آندرہ، و تہ ذلیو آندرہ، فَتَنْزِيلٌ مِنْ حَيْثُ مِنْ \* وَتَصْلِيَةٌ جَدِيدٌ پس ایہ  
 تس گوڈنی پیش کرنہ سچ رسر، تو پتہ گوس واتن تہ داخل سپدن دزہ ونس نارس اندر، ہمیشہ روزنہ

الضَّالِّينَ ﴿۱۳﴾ فَتُنزَّلُ مِنْ حَيْمٍ ﴿۱۴﴾ وَتَصْلِيَةٌ جَاحِدٍ ﴿۱۵﴾ إِنَّ  
هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿۱۶﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۱۷﴾

خاطرہ کہ اِنَّ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ بے شک یہ ہے چھ ہنرت یعنی کتبہ، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لہذا  
بہندس اختیار و تصرف منزمہ سارے کتبہ چھ، تس عظیم الشان پنہ نس پروردگارہ سندہ نام پاکہ سیت  
کریو توہ تمونڈیاد، پران آسیو سبحان ربی العظیم یلہ یہ آیہ کریمہ نازل سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ  
وسلمس پیٹھ فرمووک اجعلوہا فی رکوعکم یہ تھاویو توہ ہن ونطیفہ نمازہ ہندس رکوعس اندر، یعنی  
رکوعس اندر آسیو پران یہوی تسبیح سبحان ربی العظیم یلہ یہ نازل سپد سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ  
تمہ ساتہ فرمونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوہا فی سجودکم یہ تھاویون توہ پنہ نس سجودس  
اندر، یعنی سجودس اندر آسیو پران سبحان ربی الاعلیٰ۔



## سُورَةُ الْحَجَّارِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① لَهُ مُلْكُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ②  
 هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ③  
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى  
 عَلَى الْعَرْشِ يُعَلِّمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ سزپاکی چھ بیان کران ساری مخلوق یم آسمان منزہ  
 زمین منزہ چھ اڈ زبان قال، اڈ زبان حال، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سو چھو سیٹھاہ زبردست سٹھاہ حکمتہ دول  
 لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تہوندوی راج تہ حکومت چھو آسمان تہ زمین اندر، يُحْيِي وَيُمِيتُ  
 سوی چھو زندگی عطا کران سوی چھو ماران، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیہ چھو سوی پر تھ چیزس پیٹھ  
 قدر تہ دول هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ سوی چھو سارنی مخلوقن برو تھ، سوی چھو سارنی  
 مخلوقن پتہ، سوی چھو دلین ہندہ اعتبارہ ظاہر تہ نون سوی چھو بیہ اعتبارہ کہ تہندہ ذاتک مٹنہ تہ ادر اک  
 کیا بیہ نہ کانہہ تہ کرت باطن تہ پوشیدہ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سوی چھو پرت چیزاہ پورہ زانہ دن،  
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ سوی چھو تیو تھ قدر تہ دول کہ تم کرو آسمان تہ زمین  
 پیدہ، شن دوہن ہندس مدتس اندر، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ تو پتہ سپد مستوی عرش پیٹھ تھ پٹھ  
 اتھ پٹھ تھندس شانس شوبہ، يُعَلِّمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا سُوی چھو زنانان تہ سُوَری یہ وسان  
 واتان تہ آزان چھو زمینس اندر، بیہ تہ سُوَری یہ تہ تمہ منزہ کھسان تہ نیران چھو، وَمَا يَنْزِلُ مِنَ

مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>۴</sup> لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ  
الْأُمُورُ<sup>۵</sup> يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ  
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ<sup>۶</sup> اٰمَنُوۤا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖۤ وَاٰنْفِقُوۡا مِمَّا  
جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيۡنَ فِيْهِۦۚ فَاَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنْكُمْ وَاٰنْفِقُوۡا

السَّمَاءِ وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا بیه تہ سوروی یہ وسان چھو آسمان کہ طرفہ بیه تہ سوروی یہ کہ کھسان چھہ  
توکن، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ چنانچہ سوچھو علم واطلاع کہ اعتبارہ توه سیت سیت ادہ یہ توه آسیوتہ  
تت وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بیه چھو سو معبود برحق توه ہنزہ سارے کامہ وچھان، توبہہ ہیکونہ کنہ جایہ  
تس نیشہ ژورہ تہ کھٹت روزت لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ تہزی سلطنت تہ  
حکومت چھہ آسمان تہ زمین منز پیٹھہ تہ آویان کرنہ لہ ملک السموات والارض، حتہ نس چھو مراد  
احیاء ولمات، یعنی زندہ کرنگ تہ مارنک مسئلہ جھنہ تس ورا ی کانہ ہندس اختیارس اندر ہیتس  
فر موو کہ بیه لہ ملک السموات والارض یوتھ ثابت تہ محقق پدہ کہ مرنہ پتہ بیه پیدہ کرن تہ چھو  
تہند سنی اختیارس اندر، لہذا جھنہ اتھہ آیہ کر تھس اندر تکرار کینہ تہ، يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ  
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ سوی چھوراژ ہندین حصن دوہہ کین حصن منز ملناوان، ییمہ سیت دوہ چھو بزوان، سوی  
چھو دوہہ کین حصن راز سیت ملناوان ییمہ سیت رات چھہ بزوان، اتھہ قدر تس سیت چھو تہوند علم تہ  
قسمہ کامل، کہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ سہ چھہ زانان لوکن ہندین دلن ہنزہ تھہ تہ رایہ تان تہ، وکن  
یلہ ہنزہ وحدانیت مکمل طور ثابت سپز، اٰمَنُوۤا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ ای لو کو ایمان اینو تہ پڑھہ کر یوکنس  
خدا یس، سوز اینون منزہ تہ پاک مٹہ چیزس اندر شریک آسنہ نیشہ، بپہ کر یو پڑھہ تھندس پیغمبرس، کیا زہ  
تھندس رسالتس پڑھہ کرنہ ورا ی جھنہ توحید نجات دیوہ وکن تس شخصس، یس پیغمبرہ سنز خبر و اثر  
آسہ، بلکہ چھو لازم اقرار الوھیتس سیت اقرار رسالت تہ کرون، امہ پتہ فر موو کہ اصلی حکم سیت

لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ  
 لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝  
 هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ  
 الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

فرعی حکماء سے، سوگو و آنفقوا ميثا جعلکم مستخلفين فيه بيه کريو خرچ تمہ مالہ اندرہ، میک توہ اللہ تعالیٰ ان خلیفہ تہ قائم مقام کروہ، تہمدی خیطرہ کیازہ تہنزہ وہتہ اندر مال خرچ کرن چھو علامت کہ توہ چھوہ پورہ پڑھ خدایہ سنز تہ تہمدس پیغمبرہ سنز، بیه سپدہ مال خرچ کرنہ سیت اشاعت اسلام یس مقصود اعظم چھو، یعنی پانہ تہ انیو ایمان خدا یس تہ تہمدس پیغمبرس، بیه کریو کوشش بین لوکن ہندہ ایمان آنہ نج، مہما جعلکم مستخلفين فيه فرمانہ سیت کہ کہ اشارہ تہ تہ کتھ کن کہ یہ مال اوس توہ برو تھ بیه کانہ نش، توہ بناوہ تہمد خلیفہ، وکن آیتس کالس توہ نش چھو بیه مال، تہمبہ تہتیس کالس امہ سیت فاندہ، رثان کا مین اندر خرچ کرنہ سیت، توہ پتہ واتہ بیه مال بیه کانہ نش، سوسپدہ خلیفہ امہ مالگ، بیه مال پوشہ ون چھنہ، یہ آتہ تھاون، جمع کرت تھاون، ضروری مصر فن اندر خرچ نہ کرن چھ محض حماقت، اتھ کن نظر کرت فالذین المؤمنونک و آنفقوا لہم اجر کبیر ۝ یمولو کو توہ اندرہ ایمان ان خدا و پیغمبر خدا یس بیه کہ کہ مال خرچ تہنز و تن اندر، تہمدہ خیطرہ چھو بوڈ ثواب یمولو کو ایمان ان نہ تمسن چھ اس پر تھان وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بیه کیاہ وجہ چھو کہ توہ چھو نہ پڑھہ کران معبود برحقس بیه تہمدس رسول برحقس، حالانکہ تمک قوی اسباب تہ دعوی چھوہ ساری موجود وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ یہ بوڈ پیغمبر چھو توہ ناددیوان کہ کریو پڑھہ پنہ نس پروردگارس دویم دعوی گوہ یہ کہ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ پانہ چھو توہند پروردگارن توہ نشہ ایمان انہ نس پیٹھ ميثاق آست کہ دوہہ عمد رثمت، یموک اجمالی اثر توہندس فطرتس منز موجود تہ چھو تگ یاد دہانی پیغمبران کر اموتہ توہ کر مز چھ وقتا فوقتا، اگر توہ ایمان ان چھو ہم چیز چھ توہندہ حقہ کافی هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلٌ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۱۰﴾

سو معبود بر حق چھو تھوی رحمتہ دول کہ سو چھو پنہ نس بندہ خاص محمد صلی اللہ علی وسلم پیٹھ صاف صاف تہ نن آیات نازل کران، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ یو تھ سو بندہ خاص توه لوکن کفرہ چو تہ جہلمہ چو تاریکیو نشہ کڈ تھ ایمان و عرفانہ کس نورس کن و اتنا ناوہ، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھو توه نسبت سٹھاہ مہربان تہ سٹھاہ رحم کرہ ون، یم توه کن شفقتہ وول یو تھ پیغمبر بر حق سوز، تھ اندر اوس سوال ایمان نہ اتہ نس پیٹھ، امہ پتہ چھو سوال یوان کرنہ مال خرچ نہ کر نس پیٹھ، یعنی مال کونہ چھوہ خرچ کران، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیہ کیاہ وجہ چھو کہ توه چھوہ نہ مال خرچ کران خدایہ سزہ و تہ اندر، دلہ چہ خوشی سیت و لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ امہ توه بندہ مالچ کیاہ چھہ کھٹی، سوروی آسمان تہ زمین سپدہ پتولا کہ خدایہ سندوی، یلہ ساری عارضی مالک مران تہ ختم سپدن، سوروی واتہ مالک حقیقیس نشہ، دنیا عس اندر چھو بیہ مال توه اکہ تہ اکہ دوہہ تراوہ نوی، لہذا کونہ دیو تہ بندہ رضا خیطرہ، یمہ سیت توه ثوابہ تہ اجراہ حاصل سپدہ، خرچ کر نس اندر تہ چھو واریاہ فرق تہ تفاوت، لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلٌ برابر چھنہ تم لوک یمو مال خرچ کر اللہ تعالیٰ سزہ و تہ اندر، یا جہاد کر اللہ تعالیٰ سزہ، و تہ اندر فتح مکہ بروٹھ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا یم لوک چھہ درجہ کن سٹھاہ تھ، تمن لوکن ہندہ خونہ یمو خرچ تہ جہاد کر، فتح مکہ پتہ کیاہہ فتح مکہ بروٹھ آس زوتہ مال خرچ کر نس خدایہ سزہ و تہ اندر زیادہ قدر، کیاہہ مسلمان آس کم دشمن آس واریاہ، مال غنیمت اوس نہ یوان نمہ طرفہ، لہذا آس جہاد کر نس تہ مال خرچ کر نس زیادہ قدر، فتح مکہ پتہ سپز یمین چیزان اندر واریاہ فرق، فتح مکہ پتہ آس لوک پرت طرفہ برضا و رغبت دین اسلامس اندر داخل سپدنہ خیطرہ، فوجو فوجو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ تھ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ



مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له وله أجرٌ كريمٌ ۱۱ يوم تَرى المؤمنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرًا لَكُمْ الْيَوْمَ جَبْتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۱۲ يَوْمَ يَقُولُ

ان ثواب عطا کرنگ وعدہ سارنی سیت کرمت وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ اس چھ توبہ نزن سارنی عملن ہنز پور خبر، کس کو ت اخلاص چھو ل س اندر، سودیہ تمی موجب سارنی مزدور، مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له وله أجرٌ كريمٌ میں لوکن فتح مکہ بروٹھ مال خرچ کرنگ موقعہ آونہ تمسن تہ چھو اللہ تعالیٰ دینہ جن کائین اندر مال خرچ کرنگ ترغیب دیوان فرماوان چھو کہ چھا کانه شخصاه ئس اللہ تعالیٰ اس قرض دیہ اتھ طریقے، یعنی خلوصہ سان تس ہورہ اللہ تعالیٰ دو گناوت، بیہ چھ تہندہ خیطرہ مزدور یاہ باعزت، یوصہ حسب مدعاو مطلب آسہ، امہ قرضک مطلب چھو کہ جہادہ کہ وقتہ پائے جہادس نیرن تمہ کین ضروریاتن منز خرچ کرن، تو پتہ پائے مال غنیمت حاصل کرن، یہ گو دنیا س اندر، آخر تس اندر گو تھد مرتبہ حاصل کرن، يَوْمَ تَرى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ سودوہ تہ چھو قابل ذکر یہ دوہہ توہ وچھوہ با ایمان مردن تہ با ایمان زنانن ہیوند نور تمسن بروٹھ بروٹھ بیہ تمسن وچھن کن دوران، یہ ساتہ محشرہ کہ میدانہ بشرہ ہل صراطس کن لوک گدھن، تمہ ساتہ آسہ سخت تاریکی تہ اندگھ، تمہ وقتہ آسہ ایمانج تہ نیک عملہ ہنز روشنی پر تھ اکس سیت، یوت ایمانس تہ عملہ اندر قوت آسیس تیز آسیس تھ گائس اندر زیادتی ایمانک نور آسیس بروٹھ بروٹھ، عملن ہیوند نور آسیس دچھنہ طرفہ، بعضے روا تین اندر چھو آمت کھوفرہ طرفہ تہ آسہ نور، تمسن با ایمان مردن تہ با ایمان زنانن ایہ ونہ بُشْرًا لَكُمْ الْيَوْمَ بشارت بوین توہ از کہ دوہہ، جَبْتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا تمسن باغن ہنز یو منزجہ بجہ کولہ پکان چھہ، میں منز توہ ہمیشہ روزن چھو، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یہیہ گیہ ہز کامیابی، کیا زہ جنت چھو اللہ تعالیٰ سزہ خوشنودی تہ رضاء ک مقام، لیس توت ووت، سو سپند پنہ نین سارنی مطمئن اندر

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَفْسًا مِّنْ نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورَةٍ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿۱۳﴾  
يُنَادُوا وَهُمْ أَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ

کامیاب، یہ گو سوی دودہ یَوْمَ یَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَفْسًا مِّنْ نُورِكُمْ  
یہ دودہ منافق مردہ منافق زنانه دن مسلمانن بل صراطس پیٹھ، ای مسلمانو اسہ پیار توہناستہ کرہ ہو  
توہند گاش حاصل توپتہ پکہ ہو توہندی گاشہ سیت، قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا وندہ اکیہ توه  
پھیر یوپانس پتھ کن، تہی کریوتلاش گاشک، تفسیر در منثور س منز چھو کہ اسہ پتھ کن پھیر نہ اندرہ چھو  
مراد سو جای سیتس سخت نہ سکتہ گوہت بل صراطس کھنہ کہ وقتہ نور تقسیم سپدیو، یعنی تھہ نور تقسیم سپد  
نہ چہ جایہ گوہیو، تہی ژھانڈ یو گاش، چنانچہ تم گوہن توت، سیتہ تہ یلہ نہ نہ گاشاہ حاصل سپد کیہ، توپتہ  
ہین بیہ یں مسلمانن کن فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورَةٍ بَابٌ پس ایہ کھارنہ تہ قایم کرنہ مسلمانن تہ تمن  
منز کہ دیواراہ تہ قلاباہ، تھہ آسہ دروازہ تھہ دروازس آسن زہ حال، بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ  
قِبَلِهِ الْعَذَابُ سیمیک اندر یوم طرف بس با ایمانن کن آسہ سو آسہ رحمت تہ نور، تمیک نبر یوم  
طرف، بس تمن منافقن کن آسہ، سو آسہ عذاب تہ نہ سکتہ، یُنَادُوا وَهُمْ أَلَمْ يَكُنْ مَعَكُمْ تم منافق دن  
آلو تہ آواز مسلمانن، ای مسلمانو، اس آساننیاء س اندر توہ سیت اعمال و اطاعت کران، از تہ گوہہ اس  
پانسئ سیت رثن، قَالُوا بَلَىٰ مسلمان دپکھ واقعی آسو توہ دنیاء س منز اسہ سیت آسان، مگر کیہ شرف  
تھہ سیت آسہ، توه آسہ ظاہرہ پاٹھی، اسہ سیت، توہندہ باطن حالت آس کہ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ  
أَنْفُسَكُمْ توه اوسوہ ترددس منز پھوسوومت ہن پان گراہی اندر، سہ گراہی گیہ سببہ کہ توہندین دلن  
اندر اوس عداوت پیغمبر برحقہ سہد بیہ با ایمان ہیوند، وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ توه آسہوہ

عَزَّكُمُ بِاللَّهِ الْعُرُورُ ﴿۱۴﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا مَا أُولَئِكَ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۵﴾  
الَّذِينَ آمَنُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ  
مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ

پیاران سے تمنا کران تمس گروہہ کا نہہ تکلیفہ سے مصیبتہ واثن، بیہ اوس توه اسلامہ کس حق آسس منز  
شک سے تردد، بیہ آسوه توبے ہودہ آرزو اودو کس منز تھاومت، توه اوس خیال کہ اسلام گروہہ جلدی  
ختم، حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ اِتْھ پیٹھ رودوہ توه عمرہ، یوتان خدایہ سندہ حکم ووت توه بندہ خیطرہ یعنی  
مرکب لحم، وَعَزَّكُمُ بِاللَّهِ الْعُرُورُ بیہ دیوت توه دھوکہ باز شیطان خدایہ سندہ حقہ دھوکہ، یوکوفریا  
توسبہ رودیونہ توه اتھ قابل کہ پتہ سے کیاروزھیو توه اسہ سیت، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا پس ایہ نہ رٹنہ از کہ دوہ نہ توه نشہ سے نہ کافر نشہ کٹھ قسمہ بدلہ سے عوض، گوڈوہ چھنہ توه  
نش عوض پیش کرنہ خیطرہ کئی چیز، دویم ہر گاہ آسمانہ توه نشہ کا نہہ چیز، سو ایہ ہانہ قبول کرنہ، کیازہ بیہ  
عالم چھو دار الجزاء، بیہ چھنہ دار العمل، تمہ تھہ گذرے بیہ دنیا س اندر، مَا أُولَئِكَ النَّارُ توه سارنی  
مناقش سے کافر ہندہ روز نچ جای چھہ نار جنم ہی مَوْلَاكُمْ یسوی نار جنم چھوپتہ توه ہند رفیق سے سیت  
سیت روزہ ون، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ کثیرہ ایچھہ جای چھہ بیہ نار جنم بیہ سیت سپد ثابت کہ زیوہ ہندس  
اقرار س چھنہ کا نہہ اعتبار، یوتان نہ دلہ سیت تصدیق آسہ امہ پتہ چھہ فرماوان کہ تھہ ایمانس سیت  
ضروری اعمالن ہنز کی آسہ سو تہ چھو کمزور سے نامکمل لہذا چھو اللہ تعالیٰ فرماوان بطریق عتاب مسلمان  
حکم کہ تھہ کمی کریو پوریہ اَلَّذِينَ آمَنُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا با ایمان آندرہ یم  
لوک طاعات ضروری یعنی فرائض اندر کوتاہی، پہلو تھی سے سستی کران چھہ تمس دو تاونہ وقت بیہ تھہ  
ھیونکہ تھہند دل کیاسپدہ ہن نرم خدا تیس پینہ سیت وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ بیہ اُس دین حق خدایہ  
سندہ طرفہ نازل سپد تمک ساری احکام بجاننہ سیت یعنی دلہ سیت کر ہن پور عزم طاعات و عبادات

عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَكَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۱۶﴾ اَعْلَمُوا أَنَّ  
 اللَّهُ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۷﴾  
 إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ  
 لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿۱۸﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمْ

ضرور یہ پابندی سان ادا کر ٹک، بیہ روزہ ہن نافرمانیو تہ معصیو نغمہ پتھ، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ  
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَكَسَتْ قُلُوبُهُمْ بیہ سپدہ ہن نہ تو بس تہ استغفار س منز تاخیر  
 کرنے سیت تمّن لوکن ہی یمن تمّن برو تھ آسانی کتاب عطا کرنے آئی، یعنی یہود و نصاریٰ، یم تمّن  
 کتابن خلاف نفسہ چن خواہش تہ گنہن منز رود، تو پتہ گذر یووتھ حالس اندر تمّن واریاہ وقت کنہ قسمہ  
 تمّن احساس پیدہ سپدہ نہ توبہ و استغفار کر ٹک، تمیوک نتیجہ در او کہ تہند دل سپد سٹھاہ سخت تہ در،  
 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ تمہ قساوتک نتیجہ در او کہ تمواندرہ چھ از تہ واریاہ لوک فاسق۔ الغرض مسلمان  
 پڑہ جلد پائس بیون تہ توبہ کرون تم مہ کرن خیال کہ اس چھ گنہ گار، توبہ سیت کیاہ اصلاح ہیجہ سپد تہ  
 اسہ بلکہ اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا یہ تھ زانیو وارہ کہ اللہ تعالیٰ سندشان چھویمہ قسمک کہ  
 سو چھ خشک گیتس زمینس بیہ زندہ کران، سر سبز تہ شاداب کران، اُتھے پاٹھ کرہ سو گنہ گار ہندن پنہ نہ  
 رحمتہ سیت مردہ گمت دل بیہ زندہ، کیاہہ فَذَرَيْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ بہ تحقیق اسہ کرہ بیان اچھ  
 مثالہ یوتھ توبہ فکرہ ترہ اسہ پتہ چھ فرماوان بیہ مال خرچ کر ٹک فضیلت خدا یہ سز ن و تن اندر، إِنَّ  
 الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ بے شک سیٹھاہ صدقہ دیوہ و ن مرد بیہ سٹھاہ صدقہ دیوہ ونہ زنانہ،  
 وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا بیہ یم قرض دیوہ و ن چھ اللہ تعالیٰ اس بکمال خلوص رُت قرضاہ يُضَعْفُ  
 لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ بیہ یہ تمّن دو گناوت عطا کرنے، بیہ چھ تہندہ خیطرہ باعزت مزور، یعنی یم لوک  
 اللہ تعالیٰ سزہ و تہ اندر مال خرچ کرن آنیت خالص، محض تہندی رضا مندی تہ خوشنودی خیطرہ  
 پروردگار س و رای آسن نہ بیہ کانہ نغمہ تمیوک عوض تہ بدلہ یا شکر یہ ژھانڈھاں، تم زن اللہ تعالیٰ

الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾ اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ

اس قرض چھ دیوان، تم تہاوں اطمینان کہ تہوندو یو تمت مال ضایع گھونہ بلکہ کرہ تمنن اللہ تعالیٰ عطا تمہ خوتہ واریاہ گن، امہ پتہ چھوبیہ ایمانک فضیلت بیان یوان کرنہ، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ بیہ یم لوک اللہ تعالیٰ اس بیہ تہندین پیغمبرن پورہ پاٹھ پڑھ چھ کر ان تہند احکام چھ عملاً بجائان، بے شک تمے لوک چھ پڑپاٹھ با ایمان، بیہ چھ تمے لوکن ہو ند حال پنہ نس پروردگار س نعرہ باہ ورن نہ گواہی دیوہ ورن، لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ تہندی خاطرہ چھہ جنس اندر تہنزہ خاص مزدور نہ ثواب، بیہ چھو تہندی خطرہ ہل صراطس پیٹھ خاص نور نہ گاش، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ سمو لوکو کفر نہ انکار، بیہ زانک اپڑسان آیات، تمے لوک چھ جنسی، اَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ای لوکو توہ زانیویہ کتھہ وارہ کہ آخرتس مقابلہ چھہ دنیاہج زندگی ہرگز تہو تھ چیزاہ، چھہ سیت مشغول زوزن مقصود آسن گوڑھہ، کیا زہہ حج حقیقت چھہ کہ لوکہ چارس منز چھو گند نس سیت وقت ضایع گھونہ، جوانی منز چھہ زینت و آرائش نہ بین ہم عمرن پیٹھ تھیکش کن فخر آسان، بو بجزس منز چھہ مال ودولت نہ خر گبر گزراونس نہ سبر اونس کن فکر آسان، یم ساری چیز چھہ فانی گھونہ وکن مقاصد، بیہ محض خواہاہ نہ خیالہہ حج مثال چھہ کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا تمہ رُودج بس پوان چھو، تمہ سیت زراعتک کھسن چھو ز میندارن سیٹھاہ پسند یوان نہ خوش کران، تو پتہ چھو زراعت خشک سپدان بس چھو کن سوو چھان ژہ، لیدرہ رنگہ، تو پتہ چھو تمبوک گاسہ ہو کھان،

مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُرُورُ ﴿۳۰﴾  
 سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ  
 الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ  
 يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۳۱﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ  
 فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَنْ نَبْرَاهَا إِنَّ

تھے چھو چورہ گواہان، اُسے پٹھ چھو دنیاک بہار کئیوں دوہن آسان تو پتہ چھو تھے زوال تہ اضمحلال  
 سپدان، یہ گو دنیاہ وَفِي الْأَرْضِ قَدْ أَخَذْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ مَّغْفِرَةً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ آخر تس اندر چھو کافرن ہندہ  
 خیطرہ عذاب شدید اہل ایمان ہندہ خیطرہ مغفرت تہ رضامندی یم دو شوے چھہ باقی، پس چھہ  
 آخرت تہ باقی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ الْعُرُورُ دنیوی زندگانی چھہ مگر دھوکھل اکھ سامانہ، وُسْن  
 یلہ متاع دنیا چھو فانی آخرتچ دولت چھہ باقی یوسہ ایمانکہ برکتہ حاصل ہیمہ سپدت، لہذا پزہ توه کہ  
 سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دور تلیو توه، یعنی جلدی کریو پتہ  
 نس پروردگارہ سند مغفرت حاصل کرنہ خیطرہ، بیہ دور یوسوجنت حاصل کرنہ خیطرہ، سمیوک پناہ چھو  
 تیوت، یوت آسمان وزمین اکھ اکس سیت ملناوت، بنہ یہ گو ہنہی زچھر تموک زانہ پانہ اللہ تعالیٰ،  
 أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یسوی جنت چھو تیار کرنہ آمت تمسن لوکن ہندہ خیطرہ یمن پور  
 پڑھہ چھہ خدا یہ سزہ بیہ ہمدین پیغمبرن ہنز، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ یہ مغفرت تہ رضای  
 خدا چھو خدا یہ سند فضل سو چھو یہ فضل عطا کران تس یس یوہان چھو، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ  
 تعالیٰ چھو بوڈ فضلہ وول مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَنْ نَبْرَاهَا کانہ  
 مصیبتہ چھہ دنیاہ س تہ ملکس اندر، یا تو ہندین زون اندر واقع سپدان، یعنی خارجی تہ داخلی مصیبت،  
 مگر سو مصیبت چھو لیھت اکس کتابہ اندر یعنی لوح محفوظس اندر تم تو ہند زوپیدہ کرنہ بروٹھ، لِأَنَّ ذَلِكَ  
 عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ یہ تھہ، یعنی پیدہ کرنہ بروٹھ لیھت تھاون چھو اللہ تعالیٰ اس بچہ سہل تہ آسان کیا زہ

ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ ﴿٢٦﴾ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا  
 آتٰكُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٧﴾ اِلَٰلِٰدِيْنَ يَبْخُلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ  
 النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٨﴾  
 لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ  
 وَالْمِيزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ

تس چھو سوری علم غیب حاصل یہ تھہ وین اسہ توه یمہ موکھ ، لیکیلًا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما  
 آتاکم یو تھہ توه زیادہ رنج تہ غم کھیو تھہ چیزس ، کس توه نیشہ ازدست گو ، صحت ہیو ، مال واولاد ہی ،  
 تا اینکه سورنج و غم کھیون سپدہ توه مانع آخرتجن کاین اندر مشغول روزنہ نیشہ ، بیہ خدایہ سندر ضاٹھانڈنہ  
 نیشہ ، ہر گاہ رنج طبعی سپدہ تھہ چھنہ کانہہ حرج ، بیہ یو تھہ توه تمہ چیزہ سیت ، کس کھی عطا کردہ ٹیجگیو  
 خوش گڑھیو تہ مغرور سپد یو ، بلکہ گڑھہ زائن کہ یہ کمر عطا اللہ تعالیٰ ان محض پنہ فضلہ سیت ، واللہ  
 لا یحبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اللہ تعالیٰ چھنہ پسند کران کانہہ ٹیجہ و نس نہ تھیجہ و نس شخصس ، اِلَٰلِٰدِيْنَ  
 یَبْخُلُوْنَ وَاِیْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ یم تمہ قسمک لوک چھ کہ مال دنیا کہ محبتہ سببہ چھہ پانہ تہ بخل کران  
 پرورد گارہ سزنا و تن اندر خرچ کرنہ نیشہ بیہ چھہ بین لوکن تہ بخل کرنج تعلیم کران ، یسوی محبت دنیا  
 چھو تمن باعٹ سپدان پڑہ دینہ نیشہ اعراض کرنگ و مَنْ یَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ لیس اکھاہ  
 دمن حقہ نیشہ اعراض کرہ ، کر تن ، اللہ تعالیٰ اس چھنہ تمیوک کانہہ ضرر ، کیاہہ سوچھو بے نیاز ، پنہ کس  
 ذاتس تہ صفاتن اندر کامل ، بیہ سزوار حمد وثنا ، سوچھنہ محتاج لوکن ہندس بدنی عبادتس یا مالی عبادتس  
 کن ، لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ بے شک اسہ سوز بہنن بینغیر لوکن ہندہ اصلاحہ خیطرہ ، نن تہ واضح  
 احکام ہیئت وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ بیہ دژاسہ تمن سیت بہنن کتاب ، بیہ کراسہ نازل  
 تر کر بینے عدل انصافک احکام و اسباب ، تمن ہیوند تعلق چھو حقوق العبادن سیت لِيَقُوْمَ النَّاسُ  
 بِالْقِسْطِ یو تھہ لوک خدایہ سندین حقن تہ بدنن ہندین حقن اندر اعتدالس پیٹھہ قایم روزن ، وَاَنْزَلْنَا  
 الْحَدِيْدَ فِيْهِ يَاسُ شَدِيْدٌ بیہ دول اسہ شترتھہ منز چھو کافی قوت تہ طاقت وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ

بَأْسٍ شَدِيدٍ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۱۷﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۱۸﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ

چھ تھے اندر لوکن ہندہ خیطرہ واریاہ فائدہ تہ نفع، الحاصل یم لوک آسمانی کتاباوسیت سیزہ و تہ پیٹھین نہ، بیہ یم نہ میزان عدل دنیاس منز قائم تہاوں ہندہ خیطرہ چھ ضرورت تمن گوشالی کرنہ خیطرہ بیہ ظالمین تہ ہول یکہ و نین راہ راستس پیٹھ انہ خیطرہ، خداور سولہ سنیدن احکامن ہیوندوقار قائم تہاوںہ خیطرہ شمشیر کوم چنخسہ تہ چھ تہ ساتھ اکھ دینی کوماہ، جہاداسہ کوم کیہ ہینہ آتھ شسترس، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ تعالیٰ زانہ کہ کس اکھاہ چھو اللہ تعالیٰ اس تہ تہندین پیغمبرن یعنی تہندس دینس وچھندہ وراوی مدد کران تہندہ دینہ کہ تھزرہ تہ بلندی خیطرہ جہاد کران، اگرچہ سو چھندہ محتاج لوکن ہندس مددس کن، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ کیاہہ سو چھوپانہ سٹھاہ طاقتہ دول تہ غلبہ دول مگر سو چھو پڑھاں لوک گڑھہ اشاعت دین کرنہ سیت ثواب حاصل کرن۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ بے شک بیہ سوزاسہ امی اشاعت دینن حق کرنہ خیطرہ نوح علیہ السلام بیہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر بناوت وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ بیہ تہوواسہ جاری تمن دون ہندین اولادان اندر پیغمبری تہ کتاب یعنی تہند یو اولادواندرہ کتر اسہ بعضے پیغمبر بعضے مرسل تمن کتر کتاب تہ عطا، فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ تمولو کو اندرہ آس بعضے یمن ہدایت نیو، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ واریاہ آس تمواندرہ نافرمان ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا تہ پتہ سوزاسہ تمن پتہ پنکن پیغمبر اکھ اکس پتہ، یم مستقل صاحب شریعت آس نہ بلکہ آس تابع بیس صاحب شریعت پیغمبرس، وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ توپتہ سوزاسہ تمن پتہ اکھ صاحب شریعت پیغمبر عیسیٰ فرزند بی بی مریمہ سُنَد علیہا السلام، تمن کتر عطا اسہ کتاب ہتھہ انجیل ناوچھو، تہندس اتھس سہزہ ججاٹا، اکھ جماعت تمن پیروی



اتَّبِعُوا رَافَةَ وَرَحْمَةَ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا  
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا  
فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۲۷﴾

تہ متابعت کر وہ زمین ہنز بیا کہ جماعت یسوی تمس انکار کر، وَجَعَلْنَا قُلُوبَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَافَةَ وَرَحْمَةَ  
یسوی لو کو تہوند اتباع تہ پیروی کر یعنی گوڈیج جماعت، اسہ تراو جہدین دل اندر شفقت تہ مربانی تم چھ  
خدا یہ سندین مخلوقن نسبت محبت و شفقتک بر تاؤ کران، اتھ پاٹھ اللہ تعالیٰ ان صحابہ صمیم ہندہ حقہ  
فر موور جماعت تہ ہم چونکہ است عیسویس پیٹھ اوسنہ جماد فرض تمہ مؤکھ فر مووکھ تہوند صفت اشداء علی  
الکفار کنہ تہ، سو آو صحابہ صمیمی ہیوند صفت بیان کرنہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان کہ سانہ طرفہ اوس اُمت  
عیسویس پیٹھ صرف اتباع احکام کر کوی یوت لحم وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ لِيَكُنْ تَمُ  
اندرہ بعضے شخصو نور او پانے رہبانیت، یعنی گوشہ نشینی، لوکن سیت نہ ملہ ژار تہوان، ترک نکاح کران  
ترک لذات کران، یہ ایجاد کر تک وجہ سہز تمس یہ تھہ کہ عیسیٰ علیہ السلامہ سندہ رفعہ پتہ تراو بعضے لو کو  
احکامو موجب عمل کرن، تمس اندر آس بعضے لوک اہل حق تہ، تم روو بدستور اظہار حق کران، یہ  
تھہ سپنر ناگوار ہوا پرستن، تموگر تمہ وقتہ کس حکوتس درخواست کہ یم لوک گوہن مجبور کرنہ ین  
اسہ سیت موافقت کرنس پیٹھ، تم یلہ اتھ پیٹھ مجبور کرنہ آی تموتہ دیوت درخواست کہ اسہ دیو  
اجازت کہ اس تہاودنہ یمن لوکن سیت کانہہ تعلق، نہ آسواس تمس احکامن پیٹھ عمل نہ کرنس پیٹھ  
کانہہ اعتراض کران، اس روز ولوکن لغہ الگ، اس کرو گوشہ نشینی تہ سیر و سیاحتس اندر پختہ عمرہ  
صرف، چنانچہ تمس آو تمکوئی اجازت دنہ، غرض تموگر تہ پانے ایجاد اکھ چیزہ، اسہ گرنہ تمس پیٹھ یہ  
تھہ واجب کینہ تہ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ مگر تمو کر یوویہ اختیار اللہ تعالیٰ سندر رضا حاصل کرنہ خیطرہ،  
کہ امی سیت روزہ سون دین محفوظ، مگر یمورا ہواندر آس تم لوک زیادہ، فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا تَمُ  
کرنہ اتھ رہبانیتس پورہ رچھ، یمہ غرضہ خیطرہ تمویہ اختیار کرے یہ سوگیو خدا یہ سندر رضا ژہانڈن،  
تموک گرنہ تمو پورہ اہتمام کنہ تہ، تمس راتن سہزہہ جماژ، اڈگے تم یمور رعایت تہ رچھہ کر، اڈگے تم  
یمونہ کانہہ رعایت کر، تمونزہ یمو پیغمبر آخر الزمانہ سند وقت لب تہمدہ حقہ اوس حق رعایتک شرط،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ  
 كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تمشونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٨﴾ لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ  
 عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ  
 يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٦٩﴾

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ان سے پڑھ کر سن و دل یوں تمہیں پڑھ کر، تم گئے رعایت کرہ دن، بیونہ  
 تمہیں پڑھ کر تم گئے نہ رعایت سے راجحہ کرہ و سن تھ رہا نہیں، تی چھو فرماوان اللہ تعالیٰ فَاتَيْنَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ پس کراسہ عطا تمواندرہ، تمہیں یوں ایمان ان سے پڑھ کر حضور  
 صلی اللہ علیہ وسلم تہند حصہ مزور سے اجر تمہیں کہ اسہ تمہیں وعدہ کرمت اوس مگر تم اس کئی، زیادہ  
 آس تمواندرہ فاسق سے نافرمان، بیونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ان سے پڑھ کر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ای تم لو کو یوں ایمان ان عیسیٰ علیہ السلام پیٹھ خدائیں کھوڑیو، سے کریو یہ تس  
 کھوڑن سزاوار چھو، یعنی وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ ایمان انیو تہندس پیغمبرس حضرت محمد صلی اللہ  
 علیہ وسلم يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ اللہ تعالیٰ کرہ توہ پنہ نہ رحمتہ سیت زہ حصہ تو ایک عطا،  
 وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تمشونَ بِهِ بیہ کرہ توہ تو تھ نور عطا، پس توہ سیت سیت روزہ۔ یہ پیٹھ پل صراطس  
 تان، وَيَغْفِرْ لَكُمْ بیہ کرہ اللہ تعالیٰ توہ سارنی گنہن بخشائیں، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو  
 مغفرت کرہ دن رحم کرہ دن، لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بیہ زہ  
 مہربانیہ کرہ اللہ تعالیٰ بیہ موکھ عطا، یو تھ تم اہل کتاب بیونہ پڑھ کر حضرت پیغمبر آخر الزماں صلی  
 اللہ علیہ وسلم یہ سٹھ وارہ زان کہ تمہن چھنہ خدایہ سندہ فضل منزہ عنہ چیزس پیٹھ کانہہ اختیارہ،  
 وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ بیہ سپدہ تمہن یہ سٹھ معلوم کہ سوروی فضل چھہ خدایہ سی  
 اتھ، سو چھو سو فضل عطا کران پس یشھان چھو سے تس، چنانچہ تم یوڑھ سو فضل مسلمان عطا کرن،  
 پس سترن تمہنی عطا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ چھو یو فضلہ وول

## سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ  
 تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ  
 الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ

یمن آیات کریمین هیوند شان نزول چھو کہ اکھ شخصہ صحابہ صیو اندرہ، نیس ناواوس اوس بن صامت، تمودپ زنانہ پنہ نہ تکھ اندر کہ ژہ پھک ماجہ ہیجز تھر ہش مہ پیٹھہ حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندہ مبعوث سپد ہنہ بروئھ، زمانہ جاہلیتس اندراوس یہ لفظ ونہ سیت زنانہ ہمیشہ خیطرہ حرام سپدان بلکہ اوس یہ لفظ طلاقہ خونہ زیادہ سخت تصور یوان کرنہ تحقیق حکم کرنہ خیطرہ آہیہ دید صاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خد قس اندر، تمو فر مووس مہ چھو یوان لبتہ کھ ژہ سپز کھ پنہ نس خاندارس پیٹھہ حرام، یہ بوزت تل تمہ شور سٹھان لچ کرنہ واویلا دپنہ لچ میون تہ میانین بچن ہیوند گذارہ کھ سپدہ، میان خاندارن ہیوتنہ طلا کک لفظ زیوہ پٹھی یہ کھ پانٹھ بیو و طلاق، اللھم انی اشکو الیک، خدایا بو پٹھس ڈی نش پنون مشکل پیش کران اتھہ مکلس کرم ڈی حل، آئی سپدیم آیات کریمہ نازل،

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ

بے شک اللہ تعالیٰ ان بوزہ تس زنانہ ہنزہ کھ، یوصہ توہ سیت یار سول گفتگو کران آس خاندارہ سندس معاملس اندر، دپان آس تم ہیوتنہ طلا کک لفظی زیوہ پیٹھہ، بو کھ پانٹھ سپزس تس پیٹھہ حرام، پنہ نہ امہ رنج و غم شکایت آس کران خدایس نشہ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اللہ تعالیٰ اوس بوزان توہند گفتگو

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

بیشک اللہ تعالیٰ چھو سوری بوزہ ون سوروی وچھ ون، سوی چھو فریادس واوتہ ون، امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماون ظمارک حکم الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ای مسلمانو توہ اندرہ تم

إِلَّا إِلَىٰ وَكَلَّمَہُمْ وَإِنَّہُمْ لَیَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللہَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۝ وَالَّذِينَ یُظْهِرُونَ مِن نِّسَابِہِم مَّا تَعْمَلُونَ لِيَا قَالُوا أَفَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ یَتَّמَسَا ذَٰلِکُمْ تُوعَظُونَ بِہِ ۗ وَاللہُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَمَنْ لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامٌ شَهْرَیْنِ مُتتَابِعَیْنِ مِّن قَبْلِ أَنْ یَتَّمَسَا فَمَنْ لَّمْ یَسْتَطِعْ فَاطْعَامٌ

ظہار کران آسن یعنی پنہ نین زنانن آسن ونان انت علی کظہر امی یعنی ژہہ بھک مہ پیٹھ حرام ماجہ ہیوند پشت نہ تھر ہش، تمہ منکوہہ زنانہ جھنہ فی الحقیقت تہزہہ ماجہ، **إِنَّ اللہَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ**، **إِلَّا إِلَىٰ وَكَلَّمَہُمْ** تہزہہ ماجہ جھنہ مگر تمہ زنانہ یمن تم زامت چھہ **وَإِنَّہُمْ لَیَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا** بے شک تم لوک یم زنانن چھہ ونان مونج یا ما جن سیت چھک تشبیہ دیوان، تم چھہ بے ہودہ تہ اپز تھہ ونان لہذا چھہ تم گنہک مرنکب سپدان ہر گاہ اتھ گنہس تدارک کرنہ آہ، اتھ سپدہ معانی تہ، **وَإِنَّ اللہَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ** کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ عفو کرہ ون سٹھاہ مغفرت کرہ ون **وَالَّذِينَ یُظْهِرُونَ مِن نِّسَابِہِم مَّا تَعْمَلُونَ لِيَا قَالُوا أَفَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ یَتَّمَسَا** بیہ یم لوک پنہ نین زنانن ظہار کرن تو پتہ یڑھن تم سوی کو م کرن سٹھہ متعلق تمو نیو واس کر ونہ یعنی تعلقات زوجیت تلہ چھو مہ مرد س اکھ غلام یا کنیرہ آزاد کرن، اورہ یور دون باژن ہنز اکھ اس تھپ کرنہ بروٹھہ، یعنی ہم بستری کرنہ بروٹھہ، **ذَٰلِکُمْ تُوعَظُونَ بِہِ** بیہ کفارہ کہ حکمہ سیت چھہ توہ نصیحت یوان کرنہ، یعنی امیوک فائدہ چھو کہ یوتھہ توہ آئندہ اٹھہ بے ہودہ تہ لغوتھہ کریونہ، **وَاللہُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ** اللہ تعالیٰ اس چھہ تو ہنز سارنی کامین ہنز پور خبر، سو چھو زنانن کہ تعمیل احکام کوہ چھو کران کوہ جھنہ کرن، اتھ کفارہ دنس اندر چھہ زہ حکمہ، اکھ گنہن ہنز بخشالیش، بیہ آئندہ خیطرہ جذبہ احتیاط پیداہ کران **فَمَنْ لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامٌ شَهْرَیْنِ مُتتَابِعَیْنِ مِّن قَبْلِ أَنْ یَتَّمَسَا** ون یسنہ بنہ غلام یا کنیر، آزاد کرنہ خیطرہ تس چھو مہ ایچ کفارہ دنہ خیطرہ دون رتین تپوس تھہ روزہ وار روزن، اکھ اس تھپ کرنہ یعنی ہم بستری کرنہ

سَيِّئِينَ مَسْكِينًا ذَلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
 كَيْتُوا كَمَا كَيْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَ  
 لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ  
 بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

بروٹھ، **فَمَنْ لَمْ يَنْتَظِرْ فَإِنَّهُ سَيِّئِينَ مَسْكِينًا** پس اُس شخص سے تپوس ہتھ روزہ دار ہیکہ روزت، تہندہ  
 خیطرہ چھہ کفارتِ ظہار شیئیں مسکین کھین دیوں، **ذَلِكَ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ** یہ حکم آدبیان کرنہ  
 یوتھ۔ توہ عملن متعلق مصطوح حاصل کرنہ کہ علاوہ، خدا یس نہ تہندس پیغبرس پور پڑھہ کریو، **وَتِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ** یم احکام چھہ خدا یہ سند حد مقرر کرنہ آمت، تہند قانون نہ ضابطہ لیکنہ آمت، یموحد  
 دلہہ گوہنہ نیر نیرون حدہ ذلہ ون گئے کافر، **وَاللَّكِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ** کافرن ہندہ خیطرہ چھو، سم نہ  
 احکام الہین ہیوند تصدیق و تعمیل کرن، سخت دودتکہ ون عذاب، یہ سزا ہتھ نہ تھہ خمس خلاف کرنہ  
 خیطرہ خاص، بلکہ **إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَيْتُوا كَمَا كَيْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ  
 بَيِّنَاتٍ** یم لوک خدا یس نہ تہندس پیغبر سز مخالفت عنہ خمس منز کران چھہ، تم ین خوارو  
 ذلیل کرنہ دنیا س اندر تہ تمں لوکن ہند پانٹھ یم تمں بروٹھہ آس، گوہنا تم عذابو سیت خوارو ذلیل  
 ین کرنہ بے شک اسہ سوز تمں کن صاف نہ واضح آیات، تمں آیاتن پڑھہ نہ کر ین بلکہ انکار کردون  
 چھوللا محالہ موجب سزا اُس دنیا س اندر تمں دنہ آو، **وَاللَّكِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ** تمہ علاوہ چھو  
 کافرن نہ منکرن ہندہ خیطرہ آخر تس اندر خوار تہ ذلیل کرہ ون عذاب، سو عذاب کر سپدہ تمں **يَوْمَ  
 يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا** یمہ دوہہ تمں سار نبی اللہ تعالیٰ دوبارہ بیہ زندہ کرہ تو پتہ ونہ  
 تمں تمہ کامہ یمہ تمو کر مرثہ آسن دنیا س اندر **أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ** تمہ سارے کامہ آسن اللہ  
 تعالیٰ ان کہہ کہ لیکن تہ محفوظ تہا ونہ و مرثہ، تمں آسن نہ پانس تمہ کامہ یادگی، مشت آسکھ گمہوہ،

الْمُتْرَانَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ  
 نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذَنِي  
 مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيِنٌ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۹۰ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ  
 النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنُّجُودِ  
 وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَتَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحِبِّكَ بِهِ اللَّهُ

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۹۱ اللہ تعالیٰ چھوپانہ پرت منہ چیزس پیٹھ پور مطلع تہ باخبر، اَلَمْ تَرَ اَنَّهُ يَعْلَمُ  
 مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کیا توہ چھپانہ تھہ زہر نظر کہ اللہ تعالیٰ اس چھوتہ سوروی معلوم، یہ  
 آسمان اندر چھو، بیہ تہ سوروی یہ زمین منز چھو، بوڈیا لوکت چیز، بڈہ بڈہ تھہ یا لو تہ لو تہ تھہ، بلکہ کن تھہ  
 تان تہ، چنانچہ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ چھنہ آسان ترین  
 شخص ہنزہ کن تھہ منہ جاہہ یمن سیت نہ اللہ تعالیٰ چھہ ژور یوم آسان اتھہ پاٹ چھنہ آسان پاژن  
 شخص ہنزہ کن تھہ یمن سیت نہ شیوم چھو آسان اللہ تعالیٰ، وَلَا آذَنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ  
 مَعَهُمْ آيِنٌ مَا كَانُوا نہ امہ عدہ خوتہ کم، زہ یا ژور، نہ امہ خوتہ زیادہ، شہہ یا تھہ، مگر پر تھہ حاس اندر  
 چھو اللہ تعالیٰ تمن سیت آسان ادھہ تھہ جاہہ آسن تہ تھہ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ توپتہ ونہ  
 سو تمن سارنی قیامتک دوہ، تمہ سارنہ کامہ، یہہ تم کران آس دنیا س اندر، اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھو پر تھہ کتھہ تہ پر تھہ چیزاہ پور زانان، اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ  
 النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ کیا توہ چھوہ ناتمن لوکن کنن و چھان یمن منع آیو کرنہ کن تھہ کرنہ  
 نَشہ، مگر تو تہ چھہ تم سوی کوم کران، یہہ نَشہ تمن منع آیو کرنہ، وَيَتَنَجَّوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنُّجُودِ  
 وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ زیادہ افسوس ناک تھہ چھہ یہہ کہ تم چھہ کن تھہ کران گنہن متعلق سرکش متعلق بیہ  
 پیئمبر برحقہ سزہ نافرمانی متعلق وَإِذَا جَاءُوكَ حَتَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحِبِّكَ بِهِ اللَّهُ یم یہود چھہ تھہی کہ یلہ تم

وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسِبْتُمْ أَن نَّجْهَنَّمُ  
 يَصْلَوْنَهَا فِئْسَ الْبَصِيرُ ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ  
 فَلَا تَنَاجُوا بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا  
 بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ إِنَّمَا التَّجْوِي  
 مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا  
 بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ

توہ نش یوان چھ یار رسول اللہ توہ چھ تم سلام کران تمی لفظ سیت یمہ لفظ سیت نہ اللہ تعالیٰ ان توہ سلام  
 کمر اللہ تعالیٰ ان کمر توہ یمہ، بین پیغمبرن نہ سلام، بلفظ سلام، چنانچہ فرموان السلام علیک ایہا النبی  
 بیہ فرموان سلام علی المرسلین، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تم چھ ونان السام علیک، سام گو موت،  
 وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ توپتہ چھ تم پانہ وان پانس سیت ونان کہ اگر یم پیغمبر چھ  
 تلہ کونہ چھواسہ اللہ تعالیٰ لیمہ لفظ ونہ نس پیٹھ رٹان نہ سزادیوان، کیاہہ اتھ اندر چھ سراسر بے ادبی،  
 حَسِبْتُمْ أَن نَّجْهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا تہمدہ سزاخپڑہ، چھوکانی جنم، تھہ منز چھو تمن ضرور داخل سپدن  
 فِئْسَ الْبَصِيرُ صہ چھ سٹھہ چھہ جای تہمدہ واتنہ خپڑہ، يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجُوا  
 بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ای با ایمانویلہ توہ منہ ضرور نہ وزہ کن تھہ آسیو کران تلہ مہ  
 آسو کران منافقن ہند پاٹھ، منہ گنہس متعلق یاسر کشی متعلق یانہی کریمہ سزہ نافرمانی متعلق، وَتَنَاجُوا  
 بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ بلکہ آسیو توہ کنہ تھہ کران لوکن نفع واتہ ناوس متعلق بیہ پرہیز گاری متعلق،  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بیہ کھوڑیو خدا لیس، لیس بروٹھہ کنہ توہ ساری سبراونہ آیو حسابہ خپڑہ،  
 إِنَّمَا التَّجْوِي مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا منافقن ہنزہ کن تھہ مگر شیطانہ سندہ ڈالنے سببہ،  
 یوتھہ با ایمان غمس نہ تکلیفس منز تراون، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ حالانکہ شیطان ہیچہ نہ  
 با ایمان کنہ قسمہ ضرور واتہ ناوت خدا لیمہ سندہ حمہ ورا ی، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ با ایمان پڑہ

أَمْوَالًا إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ  
لَكُمْ وَإِذْ قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِ مُوَابِقِينَ يَدَىٰ

پر تھ کامہ اندر اللہ تعالیٰ سئی پٹھ توکل سے اعتماد کرن، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي  
الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ای باایمانو یلہ توه وننه آیه یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
فرمان توه یوالی الامر آندره یا واجب الاطاعت لو کو اندرہ دنہ توه کا نژاہ، کہ جایہ اندر کریو وسعت، نکھ  
بکھ ہو، یوتھ بین لوکن سے آیه موقعہ کلام خدا، سے وعظ ونصیحت بوزنک، تمہ ساتہ آسیو توه جایہ اندر  
کشادہ گی کران، بین ینہ والین آسیو جای دیوان، اللہ تعالیٰ کرہ توهنزی تنگی سے کشادہ، سومژراوہ توه کن  
رحمتک دروازہ، وَإِذْ قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا ہر گاہ منہ ضرورتہ کہ وقتہ توه وننه آیه کہ تھودو تھیو، بیس  
ینہ والس تراویو جای، فور آژہ تھودو تھن سے بیس جای تراون، پانہ ہمیں جایہ ہون، یہ حکم چھو نبی  
کر تمس ورا ای بیہ کانہ ہندہ خیطرہ سے باقی، نئس عنہ مجلسہ ہیوند صدر مجلس آسہ، اتھ پیٹھ چھود دلالت  
کران لفظ قیل، یعنی یلہ توه وننه یوان آسہ، سووند ون ادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آستن، یا کانہ  
واجب الاطاعت شخص آستن البتہ اہل مجلسو اندرہ، یا کانہ پتہ ادہ ونس پھنہ جائز کہ کانہ شخص تلہ ہا  
مجلسہ منزہ تھود، ہنزہ جایہ ہمہ بلانہ، یا ہسناوہ ہا بیہ کانہ، يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ  
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ اللہ تعالیٰ کرہ اتھ حکم تقییل واطاعت کرنہ سیت تمن لوکن ہند (یوموتو  
اندرہ ایمان ان) آخرتس اندر درجہ بلند بیہ تمن لوکن باایمان اندرہ، یمن علم دین عطا کرنہ او، زیادہ  
تھند درجہ عطا کیا زہ آہنز اطاعت سے تقییل حکم چھ زیادہ پر خلوص، عملہ اندر نیوت زیادہ خلوص آسہ  
تیوت چھو ثواب زیادہ عطا یوان کرنہ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ اس چھ توهنزن سارنی  
عملن ہنز پور خبر نئس چھ خبر کہنز عمل چھہ خالی از ایمان، کہنز عمل چھہ ایماندار ی سان، کہنزہ عملہ منز  
چھو کوتاہ اخلاص يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِ مُوَابِقِينَ يَدَىٰ ای



بِحَوْلِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْرُقَانٌ لَمْ تَعْبُدُوا وَإِنَّا اللَّهُ  
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶﴾ ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ  
 صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ  
 آتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَاهُمْ مِنْكُمْ وَلَا

بالیانو یلہ توہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیتی برہ تھہ کرنہ آسن، جہند گوبہ تمہ پنہ نہ سرہ تھہ تمہ  
 سیت کرنہ بروٹھ فقیرن مسکین کنیو ہادیون بطور صدقہ تمیوک مقدار چھنہ مقرر کرنہ آمت، مگر  
 آسن گوبہ سو معتد ہی **ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْرُقَانٌ** یہ چھو توہندہ ثواب تہ اجر حاصل کرنہ خیطرہ بیہ توہ  
 گنہو لہم پاک کرنہ خیطرہ رُت ذریعہ، **وَإِنَّا لَمْ تَعْبُدُوا وَإِنَّا اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** دُن ہر گاہ توہ صدقہ جورہ  
 نہ تلہ چھو توہ معاف، بس بے شک اللہ تعالیٰ چھو سٹھہ مغفرت کردہون سٹھہ رحم کردہون، **ءَأَشْفَقْتُمْ**  
**أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ** کیاہ توہہ اندرہ بعضے متوسط لوک کھوڑوہ نبی کریم صلی  
 اللہ علیہ وسلم سیت برہ تھہ کرنہ بروٹھ صدقہ دس، **فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ** خیر یلہ نہ  
 توہ پور وسعت۔ نہ آسنہ موکھہ صدقہ ہیوکوہ دتھہ اللہ تعالیٰ ان کز توہندس حالتس پیٹھہ رحم کرت توہ  
 صدقہ دیون معاف مگر بین ضروری عبادتن اندر کریو توہ پابندی **فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ**  
**وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ** پس تہادیو قائم نماز پابندی سان بیہ آسیودیوان زکوٰۃ پابندی سان، بیہ آسیو  
 فرماں برداری کران خدایہ سنز بیہ تہندس پیٹھہ سنز، **وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ** اللہ تعالیٰ اس چھہ پور  
 خبر تمہ سارچی بیہ توہ کران چھوہ، تس چھہ توہنز ظاہری حالت تہ معلوم باطنی حالت تہ معلوم، **أَلَمْ**  
**تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ** کیا توہ چھنا وچھان یار سول اللہ چھونا تمہ لوکن کن یو  
 یار تہ دوستی چھہ لاجھو تھنئی لوکن سیت یکن پیٹھہ اللہ تعالیٰ سند غضب چھو، تم گئے یہود تھنئی سیت  
 آس دوستی لاجھو منافقو، **مَاهُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْكُمْ** یم منافق چھنہ کانسہ ہند، نہ توہند نہ چھہ جہند،

مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا  
شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ اِتَّخَذُوا آيَاتِنَا هُجُوعًا  
فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۱۶﴾ لَنْ نُنْفِئَهُمْ  
أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ  
كَأَنَّهُمْ لَكُمْ وَعَسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُمْ

وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ تمَن چھ پنے نہ کھو چرچ نہ حبث بائج خبرئی، مگر باوجود آن چھ  
اپزس پیٹھ قسم ہاوان سواپز گوہیوی کہ مسلمان چھ قسم ہاتھ دپان اس چھ توہی سیت اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ  
عَذَابًا شَدِيدًا اللہ تعالیٰ ان چھوتہمدہ خیطرہ تیار تہودمت سخت عذاب، اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
کیازہ بے شک تم آس سٹھاہ پیچھ تھہ کامہ کران چنانچہ کفر و نفاقہ خوتہ کوسہ ہش کوم چھ زیادہ پیچھ،  
تموی پیچھ کامیواندرہ گیہ اکھ۔ پیچھ کوم کہ اِتَّخَذُوا آيَاتِنَا هُجُوعًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ  
مُهِينٌ تمیو کثیر ہن تمے اپز قسم، پنے نہ بچاؤہ خیطرہ سپر، یہ موکھ کہ مسلمان زانن اسہ مسلمان سانس  
مال و جانس لاگن نہ اتھ، پیارکن آس لوکن خدایہ سزہ و تہ نشہ یعنی دین اسلامہ نشہ پتھ رٹان، امہ  
موکھ تھہ تہمدہ خیطرہ خوار و ذلیل کردون عذاب، لَنْ نُنْفِئَهُمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا اَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا  
یلہ یہ عذاب تمَن کرنہ آہیہ، تمہ ساتہ آہیہ نہ تمَن بکار خدایس نشہ، نہ مال تہوند، نہ گبر تہمد تم کیا  
موکلاوہ تھہ امہ عذابہ نشہ، اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ مُرَّفِعًا خَالِدُونَ بلکہ چھہ تمے جنسی، تمئی چھواتھ  
جہنمس اندر روزت دزن ہمیشہ، يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا یہ عذاب آسہ تمَن تمی دوہہ یہہ دوہہ اللہ  
تعالیٰ تمَن بیہ باقی تمام مخلوق اتن دوبارہ بیہ زندہ کرہ، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَأَنَّهُمْ لَكُمْ وَعَسَبُونَ أَنَّهُمْ  
عَلَى شَيْءٍ پس ہاون تس بروٹھ کتہ تہ اپز قسم، اتھ پاٹھ توہ بروٹھ کتہ چھہ قسم ہاوان، یکن آسہ خیال  
کہ تم ہاچھ کرنہ رس حالس پیٹھ، یوہاپز یو قسم سیت مالبن تم نجات، اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُونَ وارہ

الْكَذِبُونَ ۝۱۵۱ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ط  
 اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝۱۵۲  
 اِنَّ الَّذِيْنَ يُحٰذِرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ فِي الْاٰذَلٰٓئِن ۝۱۵۳  
 كَتَبَ اللّٰهُ لَآءِلِيْنَ اَنَا وَّرَسُوْلِيْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝۱۵۴ لَا تَجِدُ قَوْمًا  
 يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

بوزیو کہ بیشک تم نے چھ بیڈاپرزیر، کیا زہ تمو کر نہ خدا ایس بروئٹھ کہ نہ اپروئٹھ نظر کا نہہ وایہ، تمہن ہنزہ تمہ  
 کامہ یکن ہیوند پیٹھ ذکر کر نہ آو کر تک وجہ چھو ائی کہ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ  
 شیطان چھو تمہن پیٹھ پور تسلط نہ غلبہ لب مت، تو پتہ چھکھ تہی خدایہ سند یاد مشروومت یعنی  
 تہندین احکامن تعمیل کرن، اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ واقعی ہم چھ شیطانہ سز جماعت، اَلَا اِنَّ  
 حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُونَ وارہ بوزیو شیطان سز جماعت چھ بر باد نہ خراب گدھ وکن۔ اِنَّ  
 الَّذِيْنَ يُحٰذِرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ فِي الْاٰذَلٰٓئِن بے شک ہم لوک مخالفت چھ کر ان خدایہ سز  
 بیہ تہندس پیئمہ سز، تم چھ سخت ذلیل لوک خدا ایس نظر، تہند ذلت کس عذابس گرفتار سپدن کیاہ  
 عجایب چھو، اللہ تعالیٰ ان اتھ پاٹھ تہندہ خیطرہ ذلت تجویز کر مرثہ رثہ مشچھ، تھے پاٹھ چھ تہی یوژ  
 ہمت نہ تجویز کر مت فرماں بردار بدن ہندہ خیطرہ عزت، كَتَبَ اللّٰهُ لَآءِلِيْنَ اَنَا وَّرَسُوْلِيْ یہ کتھہ چھ  
 اللہ تعالیٰ ان حکم ازلیس اندر لیکھت تھاو مرثہ ٹو نہ میان پیئمہ روزو غالب حقیقتس اندر چھو یسوی بوڈ  
 عزت تنس چھو مقصود اللہ تعالیٰ اس بیان کرن پیئمہن ہیوند غلبہ، منس ذکر فرموان پیئمہن ہیوند  
 شان نہ شرف نراونہ خیطرہ، وکن یلہ پیئمہ باعزت چھ، تمہن متابعت نہ پیروی کرہ وکن نہ گئے  
 باعزت تھس، اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھو قدر نہ وول نہ غلبہ وول آتھی سویس رثہ تس  
 نہ دیہ غلبہ دشمن پیٹھ، لَآءِلِيْنَ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ توہ نہز  
 لبون نہ کا نہہ جماعتہ یکن فی الواقع پور پڑھ آسہ خدایہ سز نہ قیامتہ وچ، تم کیا لاگن دوستی تمہن

وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنَّا وَيَدْخُلُهُمْ جَدَّتْ  
تَجْرِبِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا  
عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۷﴾

لو کن سیت یم خدا یه سند ته سندس پیغمبره سند مخالف ته دشمن آسن۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ  
أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ اده آستن تم مخالف مال جهد، یا پچو جهد یا بابی جهد، یا قبیله جهد، کیازه  
أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنَّا جهدین دن اندر چهو کھومت اللہ تعالیٰ ان  
ایمان، بیه چهن جهدین دن پنہ فیضه سیت قوت دیو تمت تمہ فیضه اندره چھو مراد نور، بتھ نورس  
ہدایت مقتضی چھو، سمیک نشانہ چھو ظاہرس اندر عمل صالح باطنس اندر سکون قلب، چونکہ یه چھو  
سبب معنی زندگانی ہندہ زیادتی هیوند امہ موکھ تھو کہ اتھ ناوروح، یه دولت ونعت گیه تمن دنیاوس  
اندر، آخرتس اندر گو تھند خیطرہ وَيَدْخُلُهُمْ جَدَّتْ تَجْرِبِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيدِينَ فِيهَا بیه واتاوه تمن  
لوکن تمن جستن اندر بیویون کن نمرہ ته کولہ آسن پکان تمینئی جستن منز روزن تم ہمیشہ ابد الآباد،  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللہ تعالیٰ چھو تمن نشہ راضی تم چھ تس نشہ راضی، أُولَئِكَ حِزْبُ  
اللہ بیہ گیه اللہ تعالیٰ سز جماعت الْأَلَان حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وارہ بوزیوکہ اللہ تعالیٰ سز  
جماعت چھ کامیاب سپدہ وسن۔





هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ  
 لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ ثَانِعَتْهُمْ حُسُومُهُمْ  
 مِنَ اللَّهِ فَأَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي  
 قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُجْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ

کرنہ آمت یمن دوشونن جلاوطن چھوونندہ آمت حشر اول تہ حشر ثانی تہیدہ پاٹھ آواتھ مضمونس  
 شروع کرنہ تسبیح سیت سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خدایہ سزپاکی چھ  
 بیان کران تم ساری لوک ایم آسمان تہ زمین منز مخلوقات چھ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ  
 الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ تہمدہ علوشاک قدرت کاملک تہ کمال حکمتک اثر چھویہ کہ سوگوسوی  
 ایم کفار اہل کتاب یعنی بنی النضیر کڈپنہ نیوگر واندہ نمبر، گوڈنچہ لہ اکہ وٹہ سنہرت یعنی یہ مصیبت آؤ  
 تمن بنت گوڈنچی لہ یہ چھو تمن تمنی کابین ہونند سزایہ تم کران آس مخالفت تہ دشمنی پیغمبر  
 آخر الزماں سز صلی اللہ علیہ وسلم، تہہ منز چھواکھ لطیف اشارہ اکس پیشگوئی کن، سہ گیہ بکنے کہ تہمدہ  
 خیطرہ چھو آئندہ تہ اتھوی انقلاب آوہون چنانچہ حضرت عمرن رضی اللہ عنہ کڈپنہ نس خلافتس اندر  
 ساری یہود جزیرہ عربہ اندرہ، مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ای مسلمانو تہ او سنہ گمان یمن یہودن ہونند  
 سامانہ تہ شوکت وچھت کہ تم کیانیرن سیدہ سیدہ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ ثَانِعَتْهُمْ حُسُومُهُمْ مِنَ اللَّهِ تمن یہودن تہ  
 اوس پنہ نہ جایہ گمان کہ تہمد قلائی بچاون تمن خدایہ سندہ انتقامہ لغہ یعنی تمن تہ اوس پنہ نین قلاین  
 ہنزہ مضبوطی تہ حکمی پیٹھ بڑہ ناز، فَأَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا پس پیواتھ تمن خدایہ سند  
 عذاب توہمی جایہ کن سیموک نہ تمن وہم وگمان تہ اوس تہ اندرہ چھو مراد کہ مسلمان ہندہ اتھہ آی  
 تم کڈنہ تہ جلاوطن کرنہ یمن مسلمان ہنزہ بے سر و سامانی کن نظر کرت تہ یہودن ہندس باسلاح  
 و سامان آس کن نظر کرت اوسنہ کانسہ ہندس وہم وگمانس منز یوان کہ تم کیاسدن یمن پیٹھ غالب،  
 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ بیہ ترود اللہ تعالیٰ ان یہودن ہندین دن اندر مسلمان ہونند رعب تہی  
 رعبہ سببہ کہ تم پوائنن نیر تک ارادہ چنانچہ ہنزہ حالت سز تو قسمتہ کہ یَجْرِبُونَ بِيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۚ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ  
 الْجَلَاءَ لَعَذَّبْتَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ النَّارِ ۝  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ پنہن گره آس لوران پانے پنہ نیواتھو بہہ مسلمان ہندیواتھو سیت فاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ  
 الْأَبْصَارِ پس ریو عبرت توہ یہ حال وچھت ای عقلیہ والیو وچھو شرک کفر ظلم تہ بد عمدی کرنگ  
 انجام کیو تھ چھو آسان تم خدا یہ سزہ تہ تہندس پیغمبرہ سزہ مخالفت چھہ کران تمن چھو اللہ تعالیٰ بعض  
 اوقات دنیا س منزرتہ کروٹھ سزادیوان، وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبْتَهُمْ فِي الدُّنْيَا  
 ہرگاہ نئے اللہ تعالیٰ ان تہمدہ حقہ جلاوطنی ہیوند حکم لیوکھمت آسانتہ دیہا تمن تہ دنیا سئی اندر سزہ  
 قتل کرنہ سیت! تھہ پاٹھ تمن پتہ بنی قرظن سیت معاملہ کرنہ آو، ہرگاہ تم دنیا س اندر عذاب قتلہ  
 نعرہ بجای تہ مگر وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ النَّارِ تہمدہ خیطرہ چھو آخرتس اندر نارک عذاب تیار،  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ سزہ دنیا س اندر جلاوطنی ہیوند آخرتس اندر عذاب نارک  
 چھو تمن ای موکھہ کہ تمویا کتر مخالفت خدا یہ سزہ بہہ تہندس پیغمبرہ سزہ، وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ پس شخص خدا یہ سزہ مخالفت کران چھو سوی گیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سزہ  
 مخالفت کمرن پس اللہ تعالیٰ چھو سخت سزہ دیوہ دن یہ مخالفت تہ جرم یہودن ہیوند اوس دو یہ قسمہ آکھ  
 نقض عمد سیت تمویک سزہ آکھ دینہ جلاوطنی سیت بیاکھ جرم اوس ایمان تہ اُن تمویک سزہ چھک  
 نارجمنک عذاب امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان یہودن ہندہ آکھ طعک جواب اُس تمویکل ژٹنک تہ  
 زالنک دژو کہ کیا یہ گونافساد تہ تباہی تولمن بیہ کریو بعضہ مسلمانو کل ژفندہ نعرہ ہراسے یہ خیال کرت  
 کہ یم کل سپدن تہ واتن مسلمانئ نعرہ لہذا کیا زہ واتہ ناووپان پانس نقصان، بعضیو کز خیال کہ امہ سیت  
 واتہ یہودن تکلیف تہ رنج لہذا گوہن یم کل ضرور ژٹن، اللہ تعالیٰ اُن کردو شوئن جماعتن ہنزہ کامہ

أُصُولَهَا فَيَاذَنَ اللَّهُ وَليُخْرِىَ الْفَاسِقِينَ ﴿۵﴾ وَمَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى  
رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كِنٍ  
اللَّهُ يَسْلُطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۶﴾  
مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ  
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكُمْ لَا

تائید چنانچہ فرمودن مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْ مَا قَاطَمَةٌ عَلَىٰ أُصُولِهَا فَيَاذَنَ اللَّهُ ای مسلمانوں  
خضرہ کولاء توہ ژئیتھ ترودن یازولون یا تمون پنہ نین مولن پیٹھ استارے یعنی ژئیتھ ترودن نہ کہنہ  
دوشوے چیز کروہ توہ اللہ تعالیٰ سنزی حکمتہ تہ رضامندی موافق یو تھ مسلمانن اللہ تعالیٰ عزت تہ  
آبرودیہ، وَلیُخْرِىَ الْفَاسِقِينَ بیہ یو تھ ذلیل تہ خوار کرہ کافرن وَمَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا  
أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ بیہ ئیس تمسن یودن ہیوند مالہ اللہ تعالیٰ ان مال غنیمت بناو تھ واتہ  
نوہ پنہ ئیس پیغمبرس نعرہ تھ منز پیہ نہ تہ کانہہ مشقتہ تولسن نہ چئے توہ تمہ خیطرہ گرتہ دو نٹھ دورہ ناوسن  
یعنی نہ پیوہہ توہ سفر کزن کیازہ مدینہ شریفہ پیٹھ آس سہ جای زی میل دور نہ پیو توہ جنگ کزن لہذا اہجھنہ  
تھ اندر توہند کانہہ حق وَ لَکِنَ اللَّهُ یَسْلُطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ یَشَاءُ لیکن اللہ تعالیٰ سند طریقہ چھ کہ سوچھو  
پنہ نین پیغمبرن خاص غلبہ دیوان پنہ نیود شمنواندرہ یکن پیٹھ یرشان چھو یعنی محض رعبہ سیت غلبہ  
دیوان بیتھ منز نہ کانہہ مشقتہ واتان چھ چنانچہ تمو پیغمبر واندرہ وتن غلبہ حضرت محمد مصطفیٰ اس  
واتہ نوون تمسن نعرہ یکن یودن ہیوند مال لہذا اہجھنہ اتھ مالس اندر توہ کانہہ حق بلکہ چھواتھ پیٹھ مالکانہ  
تصرف کر نک تمنی پورہ اختیار، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ اس چھہ پر تھ چیزس پیٹھ پور  
قدرت اتھ پاٹھہ بنی نصیرن ہندہ مالک حکم بیان آو کر نہ اتھئے پاٹھہ چھو حکم کہ مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ  
مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ئیس مال اللہ تعالیٰ  
ان بطریق مال غنیمت واتہ نوہ پنہ ئیس پیغمبرس نعرہ اتھئے پاٹھہ یعنی محنت و جنگ کرنہ ورا ی کافرن ہنزو



يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَلْتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ  
يَبْتَغُونَ فُضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

یو بستو منزہ مثلاً فدک بیہ سرتھ منز بیہ پھنہ توہ کا نہ استحقاق مالک بہ نہ نک بلکہ چھہ سو حق رسول کریمہ سند اللہ تعالیٰ ان چھو تمن تھ پیٹھ مالکانہ تصرف کرنک حق دیو تمت لیس خوش کر کیکھ تس ہیکن عطا کرت بیہ چھو تھ اندر جہنم دین اہل قرابتن رشتہ دارن ہیوند حق بیہ یتیم مسکین تہ مسافرن ہیوند حق یعنی یم ساری چھ امہ مالک مصارف ہر گاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مناسب زانن یہ حکم آویہ موکھ کرنہ کے مَنِّي لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ یو تھنہ سومال غنیمت واتہ توہندین مالدارن ہندس قبض منز فقیر تہ مسکین سپدن محروم اتھ یا تھ جاہلیہ کس زانن منز سپدان اوس کہ مال غنیمت وغیرہ محاصل جنگ آس کھیوان اقتدارہ وال لوکھی فقیر تہ مسکین لوک آس محروم سپدان امی موکھ تھو واللہ تعالیٰ ان امہ مالک خرچ کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنزہ رایہ پیٹھ تمہ علاوہ کمر اللہ تعالیٰ ان تمک مصارف بیان گویا فرموون کہ باوجود اینکہ توہ پچھ اتھ اندر مالکانہ حیثیت مگر توہ گروہہ محتاجن تہ مصالحہ عامن ہندین مواقن ہیوند خاص خیال تھاوتھ تمن پیٹھ صرف کرن ای مسلمانویہ توہ معلوم سپد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سزہ رایہ پیٹھ تھاوتس منز چھ حکمت لہذا وَمَا أَلْتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یہ کنیہ ہاہ دنوتہ عطا کرنوہ توہ رسول کریم تہ ریٹو بیہ یہ چیزہ کہ رفتہ رفتہ تم توہ پتھ رشن تمہ رفتہ آسبورو زان پتھ یوسوی حکم زانیو افعال واحکامن منز تہ لفظ ”ما“ عام آسنہ موکھ، وَاتَّقُوا اللَّهَ بیہ کھوڑیو اللہ تعالیٰ اس اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ تعالیٰ چھو مخالفت کرنس پیٹھ سخت عذاب کرہون تہ سزاء دیوہون لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ اگرچہ مال غنیمتس منز چھو مطلق مسکین ہوند حق آتھی مگر فقیر تہ حاجت مند

أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ  
 قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ  
 حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ  
 خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

مہاجرین ہیوند حق تہ چھو خصوصاً تہہ منزیم مہاجرینہ نیوگروتہ مالوواندرہ جبرأتہ ظلماً گڈنتہ تہ جدآ کرنتہ  
 آئے کیا زہ تم سکر کافر و توت تنگ تہ پریشان کہ تم سپد گھرہ بار ترا نلس پیٹھ مجبور یبغون فضلاً من  
 اللہ و رضواناً یہ ہجرت کرنہ سیت چھہ تم ژھانڈان محض خدایہ سہ فضل تہ تہنر رضامندی تہنہ  
 دنیوی غرضہ خطرہ کرکنہ ہجرت و ینصرون اللہ و رسولہ بیہ چھہ تم خد اور سولہ سندس دینس مدد  
 کران اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ تمئے لوک چھہ پز پانٹھ بالیمان، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ  
 قَبْلِهِمْ بیہ چھواتھ مال غنیمتس اندر حق تمن لوکن ہیوند یمو قرار کردار الحجر تس تہ دار الایمانس  
 اندر کی یعنی مدینہ منورس اندر مہاجرین ہندہ اتہ واتتہ بروٹھ یعنی تم آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 سزہ ہجرت کرنہ بروٹھی مدینہ شریفس منز مسلمان سپد مت تموا آسہ تہ مسجدہ بنا کر مژہ یہ اوس  
 تہوند کمال باوجود موانع و مخالفت، یحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ یم مدینہ شریفک لوک چھہ محبت تہوان  
 تمن لوکن ہیوند یم یمن گن ہجرت کرت یوان چھہ۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا  
 مال غنیمتہ منزہ یہ کبترہ ہاہ دنہ یوان چھہ مہاجرین تمہ سیت و چھہ تم پنے نس دلس اندر کنتہ قسمک طلب تہ  
 رغبت محسوس کران بلکہ چھہ زیادہ محبت تمن بیگر اوان بلکہ چھہ تمن کھیوان چاوان و یؤثرون علی  
 أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ تہہ اندر چھہ تمنی مقدم زمانان تہ ترجیح دیوان پنے نین پانن پیٹھ  
 اوہ آستھ پانس و پستی یعنی پانہ چھہ روزان بسا اوقات فاتی تمنی چھہ کھیوان وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ واقعی یم لوک پنے نہ نفس و طبیعتہ کہ خللہ نعہ محفوظین تہوانہ یعنی یمن اللہ  
 تعالیٰ توفیق دیہ یعنی تہند دل تہا وہ لالچہ حرصہ تہ خللہ نعہ محفوظ تمنی لوک چھہ کامیاب تہ با مراد سپدہ و کن

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا  
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ  
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝۱۰ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا  
يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ  
أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ  
قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۱ لَئِنْ أُخْرِجُوا

کیا زہ لاپچی تہ بخیل انسان تھہ پاتھہ کرہ بایس پیٹھہ ایثار سوکر گدھہ خوش بای سیدھہ خوش حالی سیت  
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ بیہ چھو تممن لوکن ہیوند تہ اتھہ مال غنیمتس اندر حق یم اسلا مس اندر،  
یا بھرتس اندر دنیاس اندر یمن مہاجرن تہ انصارن پتہ آی یا پتہ ین، يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا  
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ یم یا نس سیت ملہ و تھہ یمن مہاجرن تہ انصارن دعای خیر چھہ  
کران دپان چھہ ای سانہ پروردگارہ سائین گنھن کر بخشائیش تہ مغفرت، بیہ سائین باین یمواسہ بروئھہ  
أَنْ إِيْمَانٍ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا بیہ مہ تھواسائین دلن اندر کتھہ قسمہ کینہ تہ بغض  
کانسہ بالیمانہ سبڈ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ای سانہ پروردگارہ بے شک ڈھہ چھہ شھہ مہربان شھہار حم  
کرہ ون۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا کیا توہ وچھونا یمن منافقن عبداللہ بن ابی وغیرہ ہیوند حال  
يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تم چھہ ونان پنہ نین ہم مذہب باین یم اہل  
کتابو اندرہ کافر چھہ، یعنی بنی النھیران لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ قسم خدا اس چھہ پر تھہ حاس  
اندر توہی سیت ہر گاہ توہ پنہ نہ وطنہ منز جبر اُلیو کڈنہ اس تہ نیر وپنہ نہ وطنہ منزہ توہی سیت، وَلَا نُطِيعُ  
فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ بیہ مانونہ اس توہ متعلق کانسہ ہنز تھہ زانہہ تہ ہرگز بیہ ہر گاہ  
توہ سیت لڑائی تہ جنگ کرہ کانسہ اس نیر و ضرور توہندہ مددہ خپرہ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ

لَا يُخْرَجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَيَنْصُرُوهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ  
لَيَكُونَنَّ الْأَدْبَارُ لَهُمْ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿۱۳﴾ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً  
فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۱۴﴾  
لَا يَقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ  
جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ

تعالیٰ چھو گواہی دیوان کہ یم منافق چھ اپزیر، محض چھ یہودن مسلمانن خلاف تائنه خیطره یمہ تھہ  
وئان یمہ زیووسیت وئان چھہ تھہ کرن نہ تم زانہہ تہ عمل، لَئِنْ أُخِرْتُمْ لَا يُخْرَجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ  
قُوتِلُوا لَيَنْصُرُوهُمْ قسم خدا ہر گاہ یم یہود پنہ نیو شہر و اندرہ کڈنہ ین، یم منافقن نیرن نہ تمن سیت  
ہر گز بیہ ہر گاہ تمن سیت جنگ آو کرنہ یم یمئہ قسمک تمن مدد کرن نہ، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيَكُونَنَّ  
الْأَدْبَارُ لَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ہر گاہ بفرض محال تمن کئہ قسمک مدد تہ کران لڑایہ منز سپدن شریک  
عین وقت وزہ ژلن تم میدانہ منزہ تمن کُن تھر پھرت یمن منافقن ہندہ موقعس پیٹھ ژلنہ پتہ ہیہ نہ  
کانہہ تہ تمن مدد کرت چنانچہ اُتھے پاٹھ سپد واقع یمہ ساتھ بنی النخیران صحابہ صیبوی محاصرہ تھندس  
قلایس یتھہ منز لڑایہ ہیوند احتمال اوس منافقواندرہ آونہ اکھ تہ تمن بروئٹھ کن تو پتہ یمہ ساتہ کڈنہ  
آی تم کانہہ تہ دراونہ تمن سیت، صدق اللہ مولانا العظیم یمہ خداین فرموتہ سوروی دراوپز تہ حق  
لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ بے شک توہ لوکن ہیوند خوف و حراس چھو تمن  
منافقن ہندین دلن اندر خدایہ سندہ خوفہ خوتہ تہ زیادہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ امیوک  
وجہ چھو کہ تمن جھنہ کفرہ سببہ خدایہ سنز عظمت فکری تران یم ساری یہودی النخیر و غیرہ یمہ منافق  
تہ ہیکنہ الگ الگ توہ سیت مقابلے کرت تہ جھنہ تمن سکتھی، لَا يَقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ  
مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ یم لوک ہیکن نہ توہ سیت جنگ تہ مقابلہ کرت اکہ وئہ ساری میل تہ  
نہ وائہ میدانس اندر مگر ہیکن جنگ کرت یتھہ شہرس منز اندر اندر یتھہ پر تھہ طرفہ فلای آسہ کھارنہ

شَيْءٌ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۴﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
 أَلِيمٌ ﴿۱۵﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْكُفْرُ فَلَمَّا كَفَرَ  
 قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾

آمت متہ میکن جنگ کرت کہہ دیوارن تہ دوسن ژہایہ ، بِأَنَّهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تمنہ چہ پانہ وان  
 سخت لڑائی تہ اختلاف مسلمانن مقابلہ چہنہ یم کنہی ، تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقَلُوبُهُمْ شَتَّى ای بوزونہ  
 ژہ چہو، بچہ یم زانان متفق تہ کنہی یہ چہو ظاہرہ پاٹھی حقیقتس اندر چہ ہند دل بیون تہ الگ الگ چہلہ  
 چہاگرہ گرفتار ، ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ یہ چہو ای وجہ کہ تمنہ چہنہ دینچ عقل یوسہ یمن  
 متفقہ تہو ہایمن بنی النخیر تہ منافقن ہنز چہہ اکھ مثالا بنی النخیر ہنز مثال چہہ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ  
 قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تمن لوکن ہنز ہش مثال یم یمن بروٹھ کئی  
 کہہ کالا آس یمودنیاءس اندر تہ پنہ نین بد اعمالن ہیوند مزہ وچہہ بیہ آخرتس اندر تہ تہندہ خیطرہ چہو  
 کڈر عذاب سپدہون۔ تم گئے یود بنی قیہقاع تہوند قصہ چہو اتھ پاٹھ کہ تمو کمر بد عمدی نبی کریم صلی  
 اللہ علیہ وسلم ۲ ہجر لیس اندر جنگ بدرہ پتہ تمو پھڑو عمد تمہ پتہ درای جنگ کرنہ تھہ جنگس اندر  
 سپد مغلوب و مقهور پتہ یلہ قلاہی منزہ درای نیر تہ پتہ آوسارنی گنڈ پھرنہ تہ پتہ آوتہندہ خیطرہ عبد اللہ  
 بن ابی منافق تم کمر سخت زارہ پارہ دہنن یم نیرن پانئے ییہ شہرہ منزہ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 تمو کمر یہ تھہ منظور تہ پتہ درای تم یود مدینہ شریفہ منزہ تہ وات ملک شامس منز اس جایہ تھہ اذر  
 عایت ونان چہہ یمن یودن ہیوند سوروی مال و جاہداد آومال غنیمتک پاٹھ صحابہ صہین اندر تقسیم کرنہ  
 منافقن ہند حال تہ سپد یکی كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْكُفْرُ شیطانہ سنز مثال یلہ سوگوڈہ  
 چہو ونان انسانس کافر سپد ، فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ پس یلہ انسان اسند ونہ موجب کفر ج  
 کانہہ کوماہ کرت کافر سپدان چہو اس چہو ناوہ والان ناوہ والبتہ چہس ناوہ نمس و کہہ دیوان تہ پتہ چہو یہ

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ  
 جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۱۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ  
 نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ  
 أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۱۹﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ

انسان تمہ کس کنہ پیچہ شمس گرفتار سپدان یہ انسان چھو تمہ ساتہ شیطانس مدد مگان تمہ ساتہ مہس  
 سونان مہ چھنہ ژہ سیت کانہ واسطے بو چھس ژہ نشہ الگ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ بو چھس  
 کھوژان خدایس نئس رب العالمین چھو، فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا پس چھو یمن  
 دو شوئن ہیوند انجام اکی زہ ہم دو شوئے چھہ واتہ وئن نار چھنمسن اندر ہمیشہ ہمیشہ چھہ روزن یمن دو شوئن  
 تہہ اندر، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ یسوی چھو ظالمین ہیوند سزاء شیطان اتھ پاٹھ انسانس چھو ڈالان  
 تہ گمراہ کران وقتہ وزہ چھس توپتہ دور ہیوان تہ ژلان اتھے پاٹھ کر سُمومنا فقو گوڈنی دیکھ بنو نصیرن کہ  
 یوتھنہ توہ شہرہ منزہ نیر یو توپتہ رود عین موقعس پٹھ کھٹت تمن دیو توکھ دھو کہ توپتہ گئے دو شوئے  
 گرفتار بلا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ای بایمانو توہ بوزوہ کہ  
 نافرمان ہیوند انجام کیاہ سپد لہذا کھوژو توہ خدایس توہ اندرہ پر تھ اکھاہ وچھن لگاہ قیامتہ خیطرہ کیاہ  
 سامانہ چھو تم سوزمت یعنی رژن عملن اندر کر یو کوشش یئہ توہندہ خیطرہ سامان آخرت ہنہ بیہ۔ اتھ  
 پاٹھ طاعات تہ اعمال صالحہ حاصل کرنس اندر تقوی و پرہیزگاری ہیوند حکم چھو اتھے پاٹھ چھو گنہو تہ  
 پیچہ کامیو نشہ پتھ روزنس اندر تہ توہ حکم کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کھوژو یو  
 خدایس بے شک اللہ تعالی اس چھہ پور خبر توہندن کامین ہنز، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ  
 فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ توہ مہ بنو تمن لوکن ہی یو مشراو اللہ تعالی سندا حکام بے پروا سپد تمون نشہ چنانچہ  
 احکام تراو تھ کر لیکھ تمہ کامیہ یون نشہ ممانعت آسکھ امیو کہ نتیجہ دراو کہ اللہ تعالی ان مشراو تمن ہنن

النَّارِ وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۵۹﴾  
 لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا  
 مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا  
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۶۰﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

پان یعنی تمو کر نہ تمہ کامہ یوسیت تم پنہ نین پانن موکلاوہ ہن آخر تکہ عذابہ بشرہ اولیک ہم  
 الْفَائِزُونَ سمے لوک کیا گئے نافرمان بین چھو نافرمانی ہیوند سزا کھیون، پیٹھ آؤ ذکر کرنہ دوہہ قسمہ  
 کین لوکن ہیوند حال اکھ قسم گو متیقین تہ پرہیز گارن ہیوند، بیاکھ قسم نافرمانن تہ حکم نہ مانہ وینن ہیوند  
 ہیوند نہ چھو اکھ قسم جنتی، بیاکھ قسم جنمی، لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ برابر چھنہ  
 نارن اندروانہ وئن تہ جنس اندروانہ وئن، أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ بلکہ چھ جنس اندر  
 وانہ وئی کامیاب تہ رستہ گارنارہ وال چھ ناکام توہنز گتھہ کوشش کرن جنتی بہ نچ جنمی بہ نچ گتھہ  
 ہرگز کوشش کرن یمہ مفید تہ رٹ نصیحو چھ تہ واتان قرآن مجیدہ کہ ذریعہ سو قرآن گو کہ لَوْ أَنْزَلْنَا  
 هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ہر گاہ اس نازل کرہ ہون  
 یہ قرآن مجید گنہ کو ہس پیٹھ تو پتہ تمہہ ہواس تھہ گو ہس منز شعور و فہمک مادہ تہ بیہ آسانہ تھہ اندر  
 شہوات و خواہشاتن ہیوند ماہای انسانہ یقیناً و چھ ہن ژہ سو کوہ تھہ گتھہ ہاژس بیہ گتھہ ہس چھلہ یعنی  
 قرآن مجید چھو در ذات خود تو تھہ مؤثر تہ قوی فاعل مگر انسانس چھ بوجہ غلبہ شہوت سہ قابلیت تباہ  
 گتھو یمہ سببہ تمس چھنہ قرآن مجیدک کانہ اثر سپدان لہذا پزہ انسانس خدا و پیغمبرہ سزا نافرمانی تراوت  
 پیون قوہ شہوانی مغلوب کرت فرما نبرداری خدا و رسول کرت طاعات و عبادت تو سیت پیون پان پاک  
 کرن، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اس چھ یمہ مثالہ تہ یم  
 مضمون بیان کران لوکن ہندہ نفعہ خیطرہ ہو تھہ تم غور و فکر کرن اوتان آہیہ بیان کرنہ قرآن مجید چ  
 عظمت وئن چھ بیان یوان کرنہ اللہ تعالیٰ سز عظمت تہند یو اسماء حسنی و سیت، هُوَ اللَّهُ الَّذِي

الْاَهُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۳۱﴾  
 هُوَ اللهُ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ  
 الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ  
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۲﴾ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ  
 الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۳﴾

لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ سوپروردگار گو سوی لیس و رای نہ کا نہ ا کھا چھو معبود آسئس قابل عِلْمُ الْغَيْبِ  
 وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ سوی چھو زانن وول پوشیدہ چیز تہ نن چیز سوی چھہ سٹھاہ  
 مہربان سوی چھو سٹھاہ رحمتہ وول هُوَ اللهُ الَّذِي لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ سوی پروردگار چھو لیس و رای نہ  
 کا نہ ا کھا چھو معبود بنہ نس قابل۔ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ  
 الْمُتَكَبِّرُ سو چھو پادشاہ ساروی عیبو نشہ پاک گذشتہ زمانس اندر ساروی عیبو نقصانوشہ پاک و سالم  
 آئندہ زمانس اندر پنہ نین بدن چھو ساروی خوفناک چیز و نشہ امن و امان دیوہ و ن پنہ نین بدن چھو  
 ساروی خطرناک چیز و نشہ راجھہ کرہ و ن زبردست تہ غالب چھو خرابی تہ نقصان پورہ کرہ و ن چھو سٹھاہ  
 عظمتہ وول چھہ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ تہو نشان چھو کہ سو چھو منزہ تہ پاک تہو ساروی کتھو نشہ  
 یمہ کتھہ لوک تس گن لاگان چھہ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى سوی چھہ  
 معبود بر حق سوروی پیدہ کرہ و ن سوروی حکمت پیدہ کرہ و ن پرت چیزس صورت و شکل عطا کرہ و ن  
 تس چھہ رت رت ناو يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ساری چیز یم  
 آسمانن تہ زمینن منز چھہ یم چھہ تہنر پاکیا بیان کران سؤی چھو زبردست تہ غالب کمال حکمتہ وول پس  
 اُتھس با عظمت خدایہ سندین احکامن ہیوند تعمیل چھو سٹھاہ ضروری۔





## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ

یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کرنے خیطرہ جہاد کرنگ ارادہ کر صحابہ صبیو اندرہ اک صاحبین لیو کہ خط مکہ کین لوکن کہ حضرت رسول کریم چھ عنقریب توہ پیٹھ حملہ کرنگ ارادہ کر ان آس صاحبس اوس ناوحاطب بن ابی بلتعہ جنگ بدرہ کیو صحابہ صبیو اندرہ اک صاحب یم آس اصلی سمک باشندہ مگر یمو آس مکہ معظمس منز سکونت اختیار کر مژ چنانچہ مول بوی اولاد اہل و عیال اوسکھ مکہ شریفہ سی منز سوی خط اوسن دیو تمت اس زانہ اتھہ سہ آس سوخط ہتھ گزہان مکہ شریف نبی کریم سپد وجیہ کہ ذریعہ یہ معلوم تم فر موو حضرت علی مرتضیٰ اس یہ کیون صحابہ صبیون کہ توہ نیو یو فلاں جایہ سکھیوہ توہ سہ زانہ تمس نشہ کر یو سوخط وصول چنانچہ تم دورے اس زانہ پتہ تس نشہ کر کہ سوخط وصول گوڈہ تہا دیو تمہ زانہ پوشیدے مگر پتہ کر کہ تس تلاشی تمہ اوس تہوومت سوخط کلس پیٹھ متس و تھ بہر حال ان سوتمو کر کہ پیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدس اندر تہوانہ نوواد تھ حضرت حاطب فر موو ہس توہ کیا زہ سوزوہ یہ خط مکہ کین لوکن کن تمو کر عرض واقعی ہز سوزمہ یہ خط مگر خدانہ کردہ مہ نہ حض سوزنہ یہ خط اسلامہ کہ مخالفتہ خیطرہ بلکہ مہ حض اوس یقین کہ اللہ تعالیٰ دیہ اسلامس بہر حال غلبہ توہ کرہ ضرورت عطا مہ خطہ سیت واتہ مہ اکہ نفاعہ تہ فاندہ کہ مکہ ہک لوک روزن مہ نشہ ممنون و مشکور تمہ موکھ واتہ نون نہ میانس عیالس کانہہ تکلیفانہ ضرراہ کیا زہ مہ چھ تہ کانہہ سیت کانہہ قرابتہ تہ رشتہ داریاہ بلکہ چھس بوتہ اکہ اجنبی تہ پردیسی شخصاہ اتھہ حالس اندکھوت حضرت عمرس سخت غصہ تمو کر عرض مہ دیو حض اجازت بود مہ تمس حاطبس گردن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر مووس کہ یہ شخص چھو جنگ بدرہ کیو صحابہ صبیو اندرہ اللہ تعالیٰ بن چھہ جنگ بدرہ کین لوکن سارنی گنہن بخشایش کر مژامی وقتہ سپد یمہ سورہ شریفک یم آیات کر یمہ نازل،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَهَّدُوا

إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ  
وَأَيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ جِهَادًا فِئ سَبِيلِي وَ  
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا  
أَعْلَمْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ① إِنْ

دشمن چھ پن دوست اگرچہ توہندین دن منزئ آسہ تمیوک خیال ثلثون ایلم بالموڈو مگر  
ظاہر چھو کران دوستی ہیوند برتاو تمن سیت بیتہ مہ کریو وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ حالانکہ بس  
ہزدین توہ نشر ووت تھہ کرتمو صرت انکاریہ گیہ خدا بس نسبت دشمنی، يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَأَيَّاكُمْ أَنْ  
تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ بیہ گئے یم لوک تمئ یمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہ توساری مسلمان پنہ نہ  
شہرہ اندرہ کڈہوہ رنگارنگ ایذا تہ تکلیف وائے ناوت محض بیہ تھہ سبہ کہ توہ کیا زہ کروہ کنس مجبود  
برحقس پڑہ لیس توہ سارنئ ہند رب چھویہ گیہ توہ نسبت دشمنی غرض اتھن ذلیل لوکن سیت گروہیا  
دوستی تھاون إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ جِهَادًا فِئ سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ہرگاہ توہ گرومنزہ درامت چھوہ میانہ  
وتہ اندر جہاد کرنہ خیطرہ بیہ میان رضامندی ژھانڈنہ خیطرہ تلہ شوبیا توہ کافرن ہنز رضامندی  
ژھانڈین توہ کروہ دشمنی سارنئ سیت میانہ رضامندی خیطرہ وکن تمنی دشمن سیت دوستی ہیوند سلسلہ  
قائم کرن تھنز رضامندی ژھانڈنہ خیطرہ یکن دون تھن چھنہ واطھنی پنہ وان قُدُونِ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤَدَّةِ  
توہ چھوہ زورہ زورہ کٹھہ مٹھہ تمن سوزان دوستی ہنزہ پٹھہ تہ پیغام گوڈہ چھہ تمن سیت دوستی تھاون بیچھ  
توپتہ پوشیدہ تہ کھٹھہ پیغام سوزن بیہ چھو زیادے بیچھ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ حالانکہ مہ چھو  
تمن سارنئ چیزن ہیوند پورہ علم یم چیز توہ کٹھہ چھوہ کران بیہ یم چیز توہ ن پٹھہ چھوہ کران اتھ کن  
نظر کرت تہ پڑہ ہانہ توہ تمن سیت دوستی ہیوند سلسلہ قائم کرن، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ  
السَّبِيلِ لیس اکھاہ توہ منزہ اٹھہ حرکت کرہ پس تحقیق سوڈول سیزہ وبتہ نشر ڈلہ ونین ہیوند انجام تہ  
عاقبت چھو توہ معلومئ تم مہ زانیو کہ توہ دوست بلکہ چھہ تم توہند تھنی دشمن کہ إِنْ يَفْعَلْهُ

يَتَّقُوا الْكُفْرَ أَهْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّنَدَهُمْ  
 بِالسُّوءِ وَوَدُّوا الْكُفْرَ هُونَ ۚ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۗ  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ  
 أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هَٰؤُلَاءِ  
 بِرَاءٌ وَإِذَا مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كُفْرًا بِنَابِكُمْ وَبَدَائِنَا

يَكُونُوا الْكُفْرَ أَهْدَاءً ہر گاہ تمں لوکن توه بیٹھ موقعہ لکھ فوراً نراوان تم پھنن دُشمنی توه سیت وَبَسْطُوا  
 إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّنَدَهُمْ بِالسُّوءِ بیہ مہوراون توه ضرورتا تانہ خیطرہ پھنن اتھ تہ پتہ زیوہ یہ گودنیوی  
 ضرر تہوند دینی ضرر تہوند گو وَوَدُّوا الْكُفْرَ هُونَ تمں چھو تمنا کہ توه تہ گہہیو کا فر سپدن اُتھی لوکھ  
 چھادوستی قابل اگر توه اظہار دوستی کرنہ اندرہ پتہ اہل و عیالک خیال چھوتتہ متعلق بوزیوارہ کہ لَنْ  
 تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ توه ندرشتہ دار آشنا اولاد تہ گہردن نہ توه کا نہ نفع تہ فایدہ  
 قیامتک دوہ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ اللہ تعالیٰ ای کرہ توه منز فیصلہ تمہ دوہہ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ  
 تعالیٰ چھو توه ہنزہ سارے کامہ پورہ و چھان پس کرہ سو پرت کامہ ہیوند فیصلہ وارہ پاٹھ ہر گاہ توه ہنزہ عملہ  
 آسن عذابس تہ سزاس قابل تمہ عذابہ نیشہ ہیکنوہ موکلا تھ آشنا تہ گہر لہذا تمں ہیوند رعایت کرن  
 خدایہ سندس حکمں نافرمانی کرنہ سیت یہ چھو سٹھاہ پیچھ تہ قابل مذمت قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي  
 إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ای مسلمانو توه ہندہ خیطرہ اوس اکھ رت نمونہ پیروی کرنہ خیطرہ ابراہیم  
 علیہ السلام بیہ تم با ایمان یم تمں سیت ایمان و طاعتس اندر شریک کار آس یعنی اتھ بارس اندر گوٹھ  
 کافرن سیت سوی برتاو کرون پس ابراہیم علیہ السلام تہ تہند یوتا بعو کر۔ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هَٰؤُلَاءِ  
 بِرَاءٌ وَإِذَا مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یلہ تموساروی مختلف وقن اندر پتہ نس قومس دوپ اس چھ  
 بیزار توه نیشہ بیہ یکن ہنزہ توه پرستش کران چھوہ معبود برحقس و رای كُفْرًا بِنَابِكُمْ وَبَدَائِنَا

وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَاةً إِلَّا  
 قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ  
 مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۴۰﴾  
 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفُ رَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ

الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَاةً اس چھ توہندتہ توہندین باطل معبودن ہند منکر  
 اسہ منزتہ توہ منسپد عداوتتہ بغض زیادہ ظاہریہ عداوت روزہ اسہ تہ توہ منز ہمیشہ یوتان نہ توہ کنشی  
 خدایس ایمان انبو تہ پڑھ کر یو غرض ابراہیم علیہ السلام تہ تہند یوتا باجو کٹر کافر نیشہ بالکل قطع  
 تعلق صاف پاٹھہ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لیکن  
 ابراہیم علیہ السلامہ سنز تھہ یوسہ تمو فرماو پنے نس ماس یمہ منزہ ننان چھو کہ تمن اوس تس سیت کنہ  
 قسمہ تعلق باقی دوپس کہ یومچہ مغفرت چانہ خیطرہ خدایس امہ استغفارہ علاوہ چھنہ مہ اختیار خدایس  
 نیشہ کنہ چیزس پیٹھہ یمہ چھنہ مہ آتھہ کہ بوکیاہ کرہ ناوہ یمہ دعا ضرور قبول اتہ بیجہ نہ ہتھہ کہ چانہ ایمان انہ  
 ورا ی کیا پڑاوت بوڑھ عذابہ نیشہ یو توی یوت اوس ابراہیم علیہ السلامن و نمت یمہ اندرہ بعضہ لوکن  
 مطلق استغفارہ فکرہ تر حالانکہ یتنس چھہ استغفارک بدلہ سوگو طلب ہدایت سمیوک پرتھہ اکس  
 اجازت چھونی الواقع چھہ سو قطع تعلق کرنس خلاف تہ کنہ وریہ پتہ کٹر ابراہیم علیہ السلامن دعا۔  
 رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ای سانہ پروردگارہ کافر ن اطہار عداوت کرنس اندر  
 چھہ اس تے پیٹھہ توکل کران تھی گن چھہ اسی پرتھہ معاملس اندر رجوع کران سون اعتقاد چھو کہ  
 تے گن چھو سارنی پتولا کہ واٹن اتھہ اعتقادس گن نظر کرت یوسہ اسہ کافر نیشہ بیزار ی ظاہر کٹر سو  
 کمر دلہ کہ تہ محض خلوصہ سان کنہ دنیوی غرضہ ورا ی بیہ ہاونہ تہ تھیندہ ورا ی رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً  
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا ای سانہ پروردگارہ اسہ متہ کرتہ کافر ن ہندہ ظلم و تشددک تختہ مشق اسہ کٹر ظاہر تہندہ  
 باطل دینہ تہ باطل معبودان نیشہ بیزار ی و سن یوتھنہ تم اچ کسر کڈن اسہ پیٹھہ ظلم و تعدی کرنہ سیت  
 وَاعْفُ رَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ای سانہ پروردگارہ بیہ کٹر اسہ کھنن مغفرت بے شک تہ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ  
 يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَّوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝  
 عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَادْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً  
 وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۝ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ لَا يَتَّبِعُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ كُمُ  
 يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ

بھگ زبردست حمیت و دل ڈے چھئے پرت قسمہ قدرت یم زہ دعاء چھہ پئین دعاء ن ہند غرض و  
 غایت اکھ غایت باعتبار دنیا یا کھ غایت چھو باعتبار آخرت چنانچہ لا تجعلناس چھو تعلق و دشوئن سیت  
 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ بے شک تمئن لوکن اندر چھو  
 یعنی ابراہیم علیہ السلام تہ تہندین تاہی اندر تو ہندہ خیترہ (یعنی تمہین لوکن ہندہ خیترہ) زت نمونہ یم  
 لوک اعتقاد چھہ تماوان خدا ئس بروئھہ ئن واتوک بیہ قیامتک دوہ قائم سپدنگ وَمَن يَتَّوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ  
 هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ئس شخص یمہ لحمہ رُشہ روگردانی کرہ تس واتہ پائس امیوک ضرر کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو  
 بے نیاز تس ہجھہ پروا نئہ چیزک تس منز ساری کمالات جمع آسنہ موکھ چھو سوسز اواد حمد و ثناء سیتھی تس  
 ہجھہ ضرورت مخلوق ن ہندہ عبادتچ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ مسلمان ہندہ تسلی خیترہ بطور بشارت اکھ  
 پیشین گوئی فرمادان عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَادْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً یہ کتھہ ہجھہ کنہ عجایب  
 کہ اللہ تعالیٰ کرہ توہ منزہ بیہ تمئن لوکن منز یمئن سیت توہ مذہبی دشمنی چھہ دوستی تہ بھگ سلسلہ قائم  
 تہندہ مسلمان سپد نہ سیت کیا زہ تمئن یلہ اللہ تعالیٰ مشرف بشرف اسلام سپدنگ تو نئق دیدہ دشمنی روزہ  
 نہ کنہ وَاللَّهُ قَدِيرٌ یہ ہجھہ خدا ئس رُشہ نئہ دور کیا زہ تس چھہ پرتھ چیزس پیٹھہ بڈ قدرت چنانچہ فتح  
 منک دوہ سپد واریاہ لوک پنہ نہ خوشی سیت مسلمان وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ازتان ہر گاہ کانسہ شخصس اتھہ  
 اندر خطا گو مت چھو تہ وئن چھو سوتہمہ خطا نئہ توہ کران اللہ تعالیٰ چھو تسندہ حقہ سیٹھاہ مغفرت کرہ  
 ون سیٹھاہ رحم کرہ ون لَا يَتَّبِعُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ كُمُ يُقَاتِلُكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن

وَتَقْسَطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ اِيْمَانِيَةً بِكُمْ اللَّهُ عَنِ  
 الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ  
 إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ①  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ  
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ  
 إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهِنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتَّوهُمْنَا

تَبَرُّوهُمْ وَتَقْسَطُوا إِلَيْهِمْ اللہ تعالیٰ بھنہ توہ منع کران تمن لوکن سیت احسان تہ انصاف کر تک  
 بیونہ دینہ کس معاملس اندر توہ سیت لڑائی کر بیہ بیونہ توہ گرو منزہ نبیر کڈوہ تمن سیت احسانک تہ  
 انصافک برتاؤ کرن چھو جایز اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ بے شک اللہ تعالیٰ چھو انصافک برتاؤ کرہ  
 ونین محبت تماوان تہ پسند کران اِيْمَانِيَةً بِكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ  
 وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ البتہ اللہ تعالیٰ چھو صرف منع کران تمن کافرن سیت دوستی لاگنہ نشہ بیو توہ  
 سیت دینہ سببہ جنگ کرمت آسہ بیہ بیو توہ پنہ نیو گرو منزہ نبیر کڈوہ بیہ بیو توہ ندس گرو منزہ کڈنس  
 مدد کرمت آسہ اَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَنْ يَم لُوك تمن کافرن سیت  
 دوستی لاگن تم چھہ سخت گار تہ ظالم ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ  
 ای بالیمانویلہ توہ نشہ بالیمان زنانہ دار الحربہ پیٹھ ہجرت کرت و اتان آسن توہ آسیو تمن واقعی مسلمان  
 آسنگ امتحان کران، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ تھندہ حقیقی بالیمان آسنگ پور علم چھو خدا ایسی یوت، فَإِنْ  
 عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ پس ہر گاہ توہ امتحان کرت معلوم سپد تھوند بالیمان آسن نس  
 مہ سوزیو کہ تمہہ واپس کافرن کن کیا زہ۔ لَأَهِنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ نہ چھہ تمہہ زنانہ حلال  
 تمن کافرن ہندہ خیطرہ نہ چھہ تم مرد حلال تمن کافرن زنان ہندہ خیطرہ، وَاتَّوهُمْنَا اتھ  
 صورتس اندر نئس مرد وغیرہ تمو کافرو تمن زنان پیٹھ خرچ کرمت آسہ ہو کر یو توہ تمن اد ا۔

أَنْفَقُوا وَأَلْجَبَانَكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا تَيْتَمَوْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ  
وَلَا تَسْئَلُوا بِعِصَمِ الْكَافِرِ وَسْئَلُوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مِمَّا  
أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَعْزِمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑩  
وَلَنْ فَاتِكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبَتُهُمْ فَاتُوا  
الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ⑪ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ

وَأَلْجَبَانَكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا تَيْتَمَوْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ توه جھنہ کا نہ مٹناہ تمن زنان سیت نکاح کرنس اندریلہ توه حسب قاعدہ تمن مہر دیو وَلَا تَسْئَلُوا بِعِصَمِ الْكَافِرِ ای مسلمانو توه مہ تہادیو کافر زنان سیت تعلقات باقی کیاہہ یمہ زنانہ توهنہزہ دارالحر بس اندر روزہ کفرہ کسی حالتس پیٹھہ توهنہہ مسلمان سپنہ سیت دارالاسلامس کن ہجرت کرنہ سیت ژھیون سونکاح توهندون ژودنہ باقی توهند کا نہہ تعلق تمن زنان سیت وَسْئَلُوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا اتھ صورتس اندر بس رقم توه تمن زنان ہندس مہرس اندر خرچ کرمت آسہ سو معیو توه تمن کافرن نشہ اتھہ پاٹھہ یہ تمو خرچ کرمت آسہ سو مکن تم توه نشہ۔ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَعْزِمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یہ کنیہ اہ بیان آو کرنہ یہ چھو خدا یہ سندہ حکم اتھہ کریو تعمیل سو معبود بر حق چھو اتھہ مناسبت فیصلہ توه منزر کران اللہ تعالیٰ چھو سٹھاہ زانہ ون سٹھاہ حمتہ وول تمی علم وحمیتہ موجب چھو احکام مقرر فرماوان وَلَنْ فَاتِكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ بیہ ہر گاہ توه ازدست گزھن توهنوز زنانواندرہ کا نہہ زنانہ سوی وایتہ کافرن نشہ تمہ پتہ سپنہ نہ سہ توه دستیاب نہ سپنہ توه تہوند مہر وغیرہ وصولیالی بس توه تس پیٹھہ خرچ کرمت آسہ فَعَاقِبَتُهُمْ توه پتہ آہہ توه تمن کافرن سیت جنگ کرنگ موقع توه پتہ کریو توه تمن نشہ مال غنیمت وصول کائوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا پس دیو توه تمن مسلمان اہنہزہ زنانہ ازدست گیہ تمہ مال غنیمتہ پیٹھہ تیوت رقم یوت تمن خرچ گومت آسہ تمن زنان پیٹھہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا  
يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ  
أَيْدِيْهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعُهُنَّ  
وَاسْتَغْفَرَ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

بہ کھوڑیو تہس خدائیس نئس توه پڑھ کر مرث چھو تھندین حکمن اندر مہ تراویئمنہ قسمہ خلل امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرت فرماوان **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ بِبَايَعَتِكَ** ای بیغیریلہ مسلمان زنانہ توه نقشہ یمہ غرضہ خیطرہ حاضر سپدن کہ تمہ کیاہ کرن توه سیت بیعت یمن کھن پیٹھ **عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ** کہ شریک ٹھراوان نہ تمہ معبود برحقس کانہہ چیزاہ بہ کرن نہ ڈور بہ کرن نہ فسق و فجور یعنی زنانہ بدکاری بہ مارن نہ پنہ نین اولادن۔ **وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ** بہ ٹھراوان نہ اپز اولادیس بنوومت آسہ تموپنہ نین اتھن تہ کھورن منز باگ یعنی بچہ آسکھ حاصل کرمت فسق و فجور کرت بے سندی سوی لاگن خاوندس گن یا میس زنانہ ہیوند اولادانن فند فریب کرت سوی لاگن پانس گن حدیث شریفس منز چھو کہ یس بے سند بچہ لاگہ پانس گن یا یس پنہ نس مالس و رای لاگہ پنون پان میس شخصس گن تس پیٹھ چھو جنت حرام **وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ** بہ کرن نہ تونہزنا فرمانی تہ مخالفت شرعہ کس گنہ کھمس اندر اتھہ آسہ ساری احکام شریعت یس ہر گاہ تمہ زنانہ یمن شرطن قبول کرن یمن ہیوند اعتقاد شرط ایمان چھو یمن پیٹھ پابندی سان عمل کرن شرط کمال ایمان چھو **فَبَايَعُهُنَّ وَاسْتَغْفَرَ لَهُنَّ** تلہ کرہ ناویوکھہ تمہ زنانہ بیعت بہہ مکیہ تھندہ خیطرہ اللہ تعالیٰ اس مغفرت **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** بے شک اللہ تعالیٰ چھو سٹھاہ مغفرت کرہون سٹھاہ رحم کرہون یعنی یلہ تمہ زنانہ یم احکام زانن پزیر تہ واجب العمل تلہ زانیوکھہ تمہ زنانہ مسلمان بیوی گو بیعتک آہہ کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نقشہ یلہ کانہہ زنانہ بیعت کر نہ خیطرہ حاضر سپدن آس تس آس اتھہ مضمونس پیٹھ اقرار کرہ ناوان بیعت کر نہ



# اَمْوَاالَاتَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَبِئْسَ الْكٰفِرِيْنَ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ۝۱۳۰

وہ لو سنہ کا نسہ زمانہ ہیوند اتھ لگان تھندس دست مہار کس سیت یمہ بروئٹھ آیات کر یمن منز فرماو اللہ تعالیٰ ان ممانعت مطلق کافرن سیت دوستی ہیوند تعلق تہاونہ نشہ امہ پتہ چھو فرماوان ممانعت یسودن سیت دوستی ہیوند تعلق تہاونہ نشہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِئْسَ الْكٰفِرِيْنَ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ** اے باایمانو تممن لوکن سیت تہامہ تہاو یودوستی ہیوند تعلق یمن پیٹھ اللہ تعالیٰ ان غضب فرموو یعنی یسود یمن ہنز کثرت مدینہ منورس منز آس تم چھہ آخرتہ کہ ثواب ذخیرہ نشہ نامید تہ مایوس اتھ پاٹھ کافر تم قبرن اندر دفن چھہ کرنہ آمت چھہ آخرتہ کہ خیر و ثوابہ نشہ مایوس تہ نامید کیازہ قبرن اندر واتھ چھو کافرن عالم آخرتک معاینہ سپدان یقین پھٹک سپدان کہ سانہ خیطرہ نجاتج کا نہہ صور تہاہ جھنہ اتھ پاٹھ او س یسودن پور یقین کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھہ بے شک پیغبر آخر الزماں مگردید و دانستہ آس انکار کران لہذا چھہ یسودن تہ کافرن ہنز حالت نجات نہ لبس اندر سنی۔



## سُورَةُ الصَّفِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا  
 عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ  
 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُم بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ۝

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ تعالیٰ سزپاکی چھ بیان کران تم ساری مخلوق یم آسمان اندر چھ یم زمین اندر چھ سوی چھو سٹھاہ زبردست سٹھاہ حکمتہ دول و نُن لیس یو تھ عظیمتہ دول تہ جلالہ دول آسہ تہنز گشہہ پر تھ کھمس اندر فرماں برداری کرن جہاد تہ چھو تہند یو کھمو اندرہ اکھ کھماہ لیس تھ سورہ شریفس منز ذکر کرنہ آمت چھہ یمہ کہ نازل سپدنک سبب چھو سپدنمت کہ اکھ دوہہ آس بعضے صحابہ صیب پانہ وان تذکرہ کران کہ ہر گاہ اسہ معلوم سپدہ ہاتشہ عملہہ یوصہ خدایس آسما سٹھاہ ٹاٹھ سہ کرہ ہواس تہ امہ بروٹھ آس بعضے صحابہ صیب جنگ اُحدس منز جہادہ نشہ واپس آمت۔ بیہ یمہ سائہ جہادک کھم نازل سپدنمتہ سائہ اوس بعضے صحابہ صیین پیٹھ گران گذر یومت اتھ پیٹھ سپدنازل یم آیات کر یمہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ** اے بایمانوتشہ کتھ کیاہہ چھو کران چھنہ پانہ عمل چھوہ کران **كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ** اللہ تعالیٰ اس نشہ چھو تہنزہ ناراضگی ہیوند بوڈ سبب کہ توہونیو تہ کتھ یمین پیٹھ نہ پانہ عمل کر یو **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُم بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ** بے شک اللہ تعالیٰ چھو تمن لوکن پسند کران یم تہنزہ و تہ اندر تھ پانٹھ جہاد کران چھہ صف دی دی خدایہ سندین دشمن سیت اذن تم مجاہد چھہ آسان

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ لِمَ تَأْتُوا رَبِّي وَقَدِ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ① وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَيْنَ يَدَيِّ إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا

کارت ناگ تراونہ آنت دیوار ہی صفو منزہ چھنہ اورہ یورڈ لان تہ پتھ نیران توہے چھوہ وٹان کہ اسے معلوم سپدہ ہاساروہ عملواندرہ کوسہ عمل چھ زیادہ ٹاٹھ اللہ تعالیٰ اس امہ چھہ یے عمل جماد کرن خدایہ سزہ و تہ اندرادہ کیاہہ اوس توہ پیٹھ شاق گذران یلہ جمادک حکم نازل سپدان اوس بیہ کیاہہ ژبے وہ جنگ اُحدس منز اُتھ چیز کہ تھ و ن یہ ون کہ اسے معلوم سپدہ ہا اُحب الاعمال کوسہ چھہ اس تہ کرہ ہو سہ عمل بیہ چھوژھوروی دعویٰ ای یوت اتھ پیٹھ چھوہ نہ توہ عمل کر مژکا فرچھہ مستحق قتل و قتال تہ جنگ و جدال امی موکھ کہ تم چھہ پروردگارہ سندین آیاتن اپڑ زانان پیغمبرن ہنز مخالفت کران تمہن ایذاء تہ تکلیف وائے ناوان اُتھ مناسب چھو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام بیہ عیسیٰ علیہ السلام سند قصہ بیان فرماوان **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ لِمَ تَأْتُوا رَبِّي وَقَدِ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ** سو وقت تہ چھو قابل ذکر یلہ موسیٰ علیہ السلامن فرمود پنے نس قومس ای میانہ قومہ مہ کیاہہ چھوہ توہ ایذاء دیوان حالانکہ توہ چھو معلوم کہ بوچھس خدایہ سُنہ طرفہ توہ کُن سوزنہ آمت پیغمبر **فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** پس یلہ تم فمائش کرت تہ ہجر سئی پیٹھ رود ایذاء و مخالفت رود بدستور کران اللہ تعالیٰ ان تہ ڈال تہندہ دل ہمیشہ خیطرہ پوز قبول کرنہ نشہ بہنہ زیادہ اُتھ پاٹھ نافرمانی پیٹھ مداومت تہ ڈاڈ کرنہ سیت چھہ دلچ سیاہی زیادہ سپدان اللہ تعالیٰ سند دستور چھو کہ سوچھنہ اُتھین نافرمانن سیزو تھ ہاون اُتھے پاٹھ چھہ ازک کافر حضرت رسول کریمہ سز پر تھہ رنگہ مخالفت کران ایذاء وائے ناع ان تمہن تہ چھو روز بروز گرانہی تہ حسدس اندر ترقی سپدان پس آو عالمہ نشہ فساد تہ تہاہی گالہ خیطرہ مصلیتہ تمہن جمادو قتالک حکم کرنہ **وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَيْنَ يَدَيِّ إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ** اُتھے پاٹھ چھو سو وقت تہ قابل ذکر یلہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلامن فرمووا

بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا  
 هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۖ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ  
 يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ يُرِيدُونَ  
 لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝

بنی اسرائیلو بو جھس خدایہ سند پیغمبر توہ کن سوزنہ آمت تصدیق کرہ ون جھس بوتھہ کتابہ یوسہ مہ  
 بروئھہ نازل آمز چھہ کرنہ یعنی تورات وَمَبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحَدٌ بیہ جھس بو خوش  
 خبری تہ بشارت دیوہ ون اکس عظیم الشان پیغمبر سنز کنس مہ پتہ تشریف انہ نام مبارک تھونہ آسہ احمد  
 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ پس یلہ عیسیٰ علیہ السلام تمن نشہ یم مضامین بیان کرت پنہ نہ  
 نبوتہ کہ اثباتہ خیطرہ ہنہ دلیلہ ہیئت آی تم لوک لگ ونہ نہ تمن دلیلین تہ معجزان نسبت کہ یہ چھونون تہ  
 صاف جو دینے تھندس نبوتس لگ تکذیب تہ انکار کرنہ اتھہ پاٹھہ عیسیٰ علیہ السلامس پتہ یلہ پیغمبر  
 آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمو تشریف ان تمہ ساتہ لگ موجودہ عربک کافر تمن  
 انکار و تکذیب کرنہ بیہ لگ تمن ایذاء تہ تکلیف واتہ تاوندہ یہ گو ظلم عظیم امہ ظلمک مہلک اثر واتہ نگ  
 خطرہ اوس بین لوکن تہ سو خطرہ دور کرنہ خیطرہ آو مصلحتا جہادک حکم کرنہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى  
 اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ بیہ کوہ اکھاہ چھویش ظالم تس شخصہ سندہ خوتہ نُس اللہ تعالیٰ اس  
 پیٹھہ اپز نور اوہ حالانکہ تس چھوناد دعوت یوان کرنہ دین اسلامس کن نبوتس تکذیب تہ انکار  
 کرنوی گو اللہ تعالیٰ اس پیٹھہ اپز نور اون بیٹھہ اللہ تعالیٰ ثابت چھو کران تھہ کرن نفی بیٹھہ نفی  
 چھو کران تہ کرن ثابت یوی گو خدا یس پیٹھہ اپز نور اون زیادہ افسوسناک تھہ چھہ کہ تس چھونواتہ یوان  
 دنہ اسلامس کن توتہ چھہ سوتھہ کن توجہ کران یہ گوزیادہ ظالم لاکن وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ  
 تعالیٰ چھہ ظالم قومس کامیابی تہ نجاتس کن وتھہ ہاوان امی خیطرہ تہندہ خیطرہ سزای قتالی تجویز کران  
 اللہ تعالیٰ دیہ پزس غلبہ باطل سپدہ مغلوب یُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ یم کافر چھہ یژہان خدایہ  
 سند نور تھہ کرن پنہ نیوجا نیوسیت پھو کہ دت یعنی تم چھہ تھہہ تھہہ کرنہ بیوان یوسیت دین جھس

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِنْ عَذَابِ إِلَهٍ ﴿١١﴾ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾ يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

فروغ سے ترقی سپدہ ہانہ واللہ میتہ نورہ ولوکورہ الکفورون حالانکہ اللہ تعالیٰ چھوپنے نس اتھ نورس بہر حال پورہ کران سے کمالس وانہ ناون یشھان اگرچہ کافرنا ای تن سے ناخوشی ہوا الذی ارسل رسولہ بالہدی ودين الحق ليطهره على الدين كله ولو كره المشركون چنانچہ سو معبود برحق گو سوی ایم امی اتمام نورہ خیطرہ سوزین پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایتک سامان یعنی قرآن مجید ہیئت بیہ پوزدین یعنی دین اسلام ہیئت دنیا اس کن یو تھ اتھ دنیس باقی تمام دین پیٹھ غلبہ دیہ ای گوا تمام نور کرن ادہ ای تن مشرکن ناخوشی یا ایھا الذین امنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم ای باایمانو کیا بوماہوہ توہ تیو تھ کاروبارہ تھہ سوداگریاہ تیو تھ تجارتھائس توہ نجات دیہ سے بچاؤہ اکہ دردناک عذابہ نشہ تومنون باللہ ورسولہ وتجاهدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم سو گویکی کہ توہ انبو ایمان بیہ کریو پو شہ کنس خدایس بیہ ہندس پیغمبرس بیہ کریو جہاد خدایہ سنزوتہ اندر مال پنن خرچ کرنہ سیت سے جان پنن فدا کرنہ سیت ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہ چھو توہندہ خیطرہ شہار رت ہر گاہ توہ زامہو یلہ توہ یہ کریو یعفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتھا الانهار ومسکن طیبہ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم اللہ تعالیٰ کرہ مغفرت توہندین گنہن بیہ وانہ تاوہ توہ جنتہ کین تمنا باغن اندر یمو یون کن کولہ سے نہرہ جاری آسن بیہ بساؤہ توہ تمنا رتین گرن اندر ایم گرہ سے مکان ہمیشہ پو شہ و نین باغن اندر بنا کرنہ آسن آمت یہیہ گیبہ ہڈ کا میالی سے رستہ گاری۔ واخری تحموتھا ناصرون اللہ وکفر قریب

وَأُخْرَىٰ يُجِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  
لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ  
اللَّهِ فَأَمَنَّا طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ  
فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿۱۴﴾

وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بے چہرہ امہ اُخروی کا میاں بی علاوہ تو ہندہ خیطرہ بیا کہ دنیوی کامیابی یوصہ جلدی پنہ نہ  
مُوکہ توہ پنہ نہ محبوب چہ سہ گیہ پروردگارہ سندہ طرفہ یاری نہ مددگاری بے نزدیک فتیابی ای پیغمبر  
برحق توہ فرما یو یمن سارنی چیزن ہنز بشارت نہ خوش خبری با ایمان امہ خوشخبری ہیوند ظہور سپدان  
اولی کین مسلمان سیت تج سارنی خبر چہ از کہ وقتے تے مسلمان وژہد و آجہ صحیح معین اندر ایمان نہ  
جمادی سمیل اللہ اس اندر قائم روزن ہندہ خیطرہ نہ چہ فتح و نصرت پر تہہ وقتے سیت سیت امہ پتہ چھو  
اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سندین حواریین ہیوند قصہ بیان کرت با ایمان دینس مدد کر نگ ترغیب  
دیوان یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ ای با ایمانو توہ سپدیو پروردگارہ سند دینک مددگار تمہ طریقہ  
ئس تو ہندہ خیطرہ مقرر کرنہ آمت چھو سو گو جماداتھ پاٹھ حواریین پنہ نہ طریقہ موجب دینک  
مددگار سپدیلہ عیسیٰ علیہ السلام بکثرت دشمن و تلہہ اکی کَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ  
أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ تمہ پتہ اتھہ پاٹھ عیسیٰ علیہ السلام فرمو حواریین  
کہ میون مددگار کوہ بنہ خدایہ سندہ رضا خیطرہ توہ اندرہ حواریو دپ اس چھہ خدایہ سندہ و نیک مددگار  
چنانچہ تمو حواریو کو پنہ ئس دینس مدد تمہ کہ اشاعج کر کہ پور کوشش تمہہ تمہزہ کوششہ پتہ فَأَمَنَّا  
طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ پس ان ایمان بنی اسرائیلو اندرہ بعضے لو کو بعضے لو کہ رود  
کفر سئی پیٹھ تو پتہ سپد تمس منز مذہبی اختلافہ سببہ عداوت نہ خانہ جنگی فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ  
عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ پس کراسہ مدد تمواندرہ با ایمان ہندین دشمن پیٹھ پس سپد تے غالب  
تھے پاٹھ کر یو توہ تہ دین محمدی خیطرہ کوشش نہ جمادی با ایمان مسلمانو۔

## سُورَةُ الْجُمُعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ  
 الْحَكِيمِ ① هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ  
 وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ  
 مُّبِينٍ ② وَأَخْرَجْنَا مِنْهُمْ لَمَّا يَلِخْتَوَابَهُمْ ③ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ④ ذَلِكَ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللہ تعالیٰ سزپاکی چھ بیان کران تم ساری چیزیم آسمان اندر چھہ بیہ تم ساری چیزیم زمین منز چھہ سوی چھو بوڈا دشاہ منزہ تہ پاک ساروی عیونشہ سوی چھو شہاہ زبردست شہاہ حکمتہ وول، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سوگو سوی پروردگار یم عربہ کین ان ہر لوکن گن سوز پیغمبر ہندی قومہ منزہ یعنی عربی ہس پیغمبر پران تہ بوزہ ناوان چھو تمن اللہ تعالیٰ سند آیات بیہ پھگ باطل عقاید و نشہ پچھہ اخلاقونشہ پاک کران بیہ پھگ پچھناوان خدایہ سز کتاب بیہ عقلہ ہنزہ کتھ پتھہ منز ساری علوم دینیہ شامل سپد وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ تم لوک آس تہندہہ مبعوث سپدنہ بردتھ نہہ گمراہی اندر یعنی شرکس تہ گرس اندر مبتلا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهُمْ لَمَّا يَلِخْتَوَابَهُمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بیہ سوزان یمن از کین لوکن علاوہ بین لوکن گن تہ پیغمبر یم نہ ونہ تمن سیت شامل سپد مت چھہ یا یمہ موکھ کہ ونہ چھنہ تموا اسلام امنت یا یمہ موکھ کہ ونہ چھنہ تم پیدے سپد مت اتھہ منز آئی تہندی ساری امتی یم قیامتس تان پیدہ سپدون چھہ عربک تہ بچمک تہ سوی پروردگارہ چھو زبردست حکمتہ وول تمئی سوز پنے نہ قدرت و حکمتہ سیت یوتھہ جلیل القدر پیغمبر۔ ذَلِكَ فَضَّلَ اللَّهُ يَوْمَئِذٍ مَن يَشَاءُ سمس پیغمبر برحقہ سندہ ذریعہ کفر و شرکچہ گمراہی منزہ کڈن کتاب و حکمت تہ ہدایتہ کس نورس کن واتہ ناؤن بیہ چھو خدایہ

فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۴﴾ مَثَلُ  
الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ كَفَرُوا كَمَا كُنْتُمْ الْجَاهِلِينَ أَسْفَارًا  
بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
الظَّالِمِينَ ﴿۵﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ

سند بود فضل سولیس یژهان چھو تس چھو یوہ فضل عطا کران وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ چھو بود فضلہ وول ہر گاہ سوسار نی فضل پنون عطا کرہ تمسدرس فضل منز کمی چھنہ مگر سو چھو پنہ نہ حمہ سیت لیس یژهان تس عطا کران لیس یژهان تس محروم کران چنانچہ ناخواندہ یعنی ان ہر جماعت تمن کران پنون فضل عطا تموان ایمان یوودواندرہ عالمن تہ پر متین ہنز جماعتھا تم سپد محروم امہ فضلہ نفعہ مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ كَفَرُوا كَمَا كُنْتُمْ الْجَاهِلِينَ أَسْفَارًا مثال تمن لوکن ہنز یم تلنا ونہ آئی تورات یعنی یمن حکم آئیو کر نہ تورات موجب عمل کرن تو پتہ تلنہ تمو سو یعنی تمہ موجب کر کھنہ عمل چھ تس کھرہ سنز مثال یم کتابن ہیوند نور ثمت آسہ تھر پیٹھ مگر تمن کتابن ہندہ نفعہ نفعہ آسہ محروم اتھنہ پاٹھ چھو اصل مقصد علمہ اندرہ عمل صرف تحصیل کرنچ تہ حفظ کرنچ محنت کرن کر نہ ایہ بکار بلہ نہ عمل آسہ کھرہ سنز مثال آیہ بیان کرنہ امی موکھ کہ کھر س برابر چھنہ جانور و اندرہ کانہ تہ بے وقوف امہ سیت سہزیہ ہن رٹ بے عمل عالمن ہنز بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ سٹھاہ پیٹھ مثال چھ تمن لوکن ہنز یوواپز زانت انکار کر خدایہ سنرین آیاتن، اتھہ پاٹھ یوودو کھر وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ چھنہ اتھن ظالمن ہدایتک تو نینق دیوان یوودن اندر آسہ تھنی ظالم کہ کتاب آس پران دلن اوسکھنہ کنہ تہ اثر سپدان کیازہ تم آس زانت کرت نبی آخر الزمانس نسبت حسد تہ عناد کران تمن ہر گاہ توراچ پڑھ آسہائلہ کرہ ہن تمہ موجب عمل سو عمل کرن گیوو کہ نبی برحق صلے اللہ علیہ وسلم انہ ہن ایمان پس تھوند ایمان نہ ان چھو مستلزم تورا تہ موجب عمل نہ کرنس اگر امہ باوجود تم ونن کہ اس چھہ پروردگارہ سنم مقبول بندہ۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ



مَنْ دُونَ النَّاسِ فَتَمَوُّ الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦﴾  
 وَلَا يَتَمَوَّنَ أَبَدًا إِبَاقًا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٧﴾  
 قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ  
 إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا  
 الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ  
 ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا

زَعَمْتُمْ أَنتُمْ أَوْلِيَائِ اللَّهِ مِنْ دُونَ النَّاسِ فَتَمَوُّ الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ توه فرما دیو کہ یارسول اللہ  
 ای یسودو ہر گاہ توهند دعویٰ چھو کہ تویی کیا چھو اللہ تعالیٰ سند دوست ساری لو کو اندرہ تله کریو توه امہ  
 دعویٰ کہ تصدیقہ خیطرہ موتک تمنا ہر گاہ توهہ اتھ دعویٰ اس اندر پزیر چھو، وَلَا يَتَمَوَّنَ أَبَدًا إِبَاقًا  
 قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ اس چھہ توه اتھ سیت، ایت وانان کہ تم کرن نہ زانہہ تہ موتک تمنا تمنن چھہ نھہ  
 تمنن کا میں ہندہ سزاء کھینچ یمہ کامہ تمورونھ کن سوزہ مژہ چھہ کفر وانکار وعناد وغیرہ۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
 بِالظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ اس چھو پور علم میں ظالمین ہندہ حالک یمہ ساتھ مقدمک تاریخ واضحہ قیامتک  
 دوہ فرد جرم بوزہ ناوتھ اکیھ سزاء دنہ تمہ سزاء کہ وعدہ کہ تائیدہ خیطرہ، قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي  
 تَفْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فرما دیو کہ توه یہ کتھ نہ کہ یمہ موتہ نشہ  
 توه ژلان چھوہ سوموت سمکھ توه ضرور کہ تہہ آکہ دوہہ توپتہ آیو توه وانہ ناوہ تس پروردگار س رشہ لیس  
 سووی پوشیدہ نہ نن زانہ ون چھو فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ توپتہ باو وہ سوتہ سووی یہ توه کران  
 آسوہ دنیا س اندر تھی موجب دیوہ سوتوہ سزاء۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ  
 الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ای با ایمانویلہ بانگ آسہ دنہ یوان نمازہ خیطرہ جمعہ کہ دوہہ جمعہ  
 نمازہ خیطرہ تان آسیو فوراً لڑن ہیوان توه خدا یہ سندس یادس کن یعنی نماز پر نس تہ خطبہ بوز نس کن بیہ  
 آسیو خریدو فروخت کرن یک دم تراوان بیہ تمہ سارے کامہ تراوان یمہ پتھ رٹ ونہ آس ادای جمعہ

قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتِغَوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا  
لَا نَفْسًا لِيَّهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ  
وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿۱۱﴾ ع

نشدہ ذلک خیر لکم ان کنتم تعلمون سارے کامے تراوت جمعہ نماز ہندوی سز کران چھو تو ہندہ خیطرہ  
زیادہ بہتر ہر گاہ توہ خبر آسہا کیا زہ امیوک نفع یتہ فاندہ چھو پوشہ ون خرید و فروخت وغیرہ کامین ہیوند  
نفع چھو فانی یتہ نہ پوشہ ون فاذا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتِغَوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پس یلہ  
نماز جمعہ موکلان آسہ یعنی توہ آسیو تمہ نفعہ فارغ سپدان پس نیر یوتہ پھیر یوئس یوکن گزہن آسہ  
سوگزہن توکن بیہ ژھانڈیو یتہ تلاش کریو خدایہ سندر زق مگر غفلتس منز مہ روزیو بلکہ واڈکروا اللہ  
کثیرا لعلکم تفلحون اتھہ حالس منز یتہ کریو خدایہ سند یاد بکشرت یوتھہ تمحہ برکتہ توہ رزق  
ژھانڈنس اندر کامیاب سپدیور نہ چھو بعضے لوکن ہیوند حال کہ واڈا رآوا تجارۃ اؤلہوا لا نفصوا لیئہا  
وتروکوک قایما تم یلہ وچھان چھہ کانہہ تجارت یاسو چیزئس بیس طرفن گن ڈالان چھو تان چھہ تھہ  
طرفس گن دوران توہ چھہ تراون و تھہدی خطبہ پر نہ کس حالس اندریہ چھو اتھہ پاٹھہ واقع سپد مت کہ اکہ  
جمعہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پران تمی وقتہ آونبرہ پیٹھہ اکھ تجارتی قافلہ غلہ ہیئت تھہ  
قافلہس سیت اوس اعلان کرنہ خیطرہ نقارہ واینہ یوان تمہن دہن آس اتھہ شہرس اندر راناج کمی یم لوک  
نماز جمعہس شامل سپد نہ خیطرہ آمت آس تم آس خطبہ بوزان تمہ وقتہ اوس نماز جمعہس منز یتہ عید ہند  
پاٹھہ خطبہ پتے یوان پر نہ لوکو آس نماز پر مژوئن آس تم خطبہ بوزان اتی پک نبر کن بیہ قافلہ ڈمڈم وایان  
لوکو کور خیال کہ نماز چھہ ادا کر مژ ہر گاہ خطبہ بوزنئے اس و تھو تھہ آسنہ کانہہ حرج اتی و تھہ لوک یتہ درای  
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیت رود صرف باہے صاحب یمن منز چہا یار صفاتہ بیہ کینہہ صاحب  
آس تمی ساتہ سپدیہ آیہ کریمہ نازل قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ  
توہ فرما یو کہ یارسول اللہ لیس چیز اللہ تعالیٰ اس نشدہ باعث ثواب یتہ قرب چھو سو چھو امہ تماشہ خو یتہ  
امہ تجار یتہ خو یتہ بدر جہا بہتر افضل بیہ چھو اللہ تعالیٰ ساوی اندرہ بہتر روزی یتہ رزق عطا کرہ ون۔

## سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
 إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ① اتَّخَذُوا  
 آيَاتِهِمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ②

اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ بیلہ توه نعرہ منافق یوان چھہ دپان چھہ اس حض چھہ دلہ  
 سیت گواہی دیوان کہ توه چھو بے شک پیغمبر خدا یمن آیات کر یمن ہونہ شان نزول چھو کہ اس  
 ججس اندر سہز انصارن تہ ماجرن منز ہرہ ہر ہش تہہ اندر لگ منافقن ہونہ نزو یو تھہ عبداللہ بن ابی  
 اشتعاس منز ونہ نہ انصارن کہ توه چھو کہ یم پردیسی لوک ژوچہ کھیا وکھیا و خراب کر مت تہ بھن  
 کھالت و ن بیلہ مدینہ شریفن منز و اتو توه کر یو یمن ماجرن خرچ دیون بند نیم نیرن پانے تگ سیت  
 یمہ شہرہ منزہ تہ پنہ نین ملکن گن گزھن بیہ لگ ونہ کہ اس چھہ عزتہ وال یم ذلت لد لوک کڈو کہ اس  
 پنہ نہ شہرہ منزہ تہہ اس منافقہ سزبوز صحابہ صیواندر حضرت زید بن ارقم ن تم آی تہ کہ کہ عرض  
 حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدقس اندر تموان نادوت ابن ابی تہ بیہ تمسد ہم خیال  
 منافق تو پتہ ہڈ ژھہک توه آسہ یمہ قسچہ تھہ کران تم لگ قسم ہا و ہا صرتح انکار کرنہ زید بن ارقم گذر  
 یو سٹھہ مشکل اھونہ انکار کرن تہہ موقفس پیٹھ سپد یم آیات کر یمہ نازل وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ  
 اللہ تعالیٰ اس چھہ بیہ تھہ معلومسی کہ توه چھوہ تسد پیغمبر وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ باوجود آن  
 چھو اللہ تعالیٰ گواہی دیوان کہ یم منافق چھہ بیہ ونہ نس اندر بالکل اپزیر کہ اس چھہ دلہ سیت گواہی  
 دیوان کیا زہ تہنز سو گواہی چھہ محض زویہ سیت دلہ کہ اعتقاد نہ کینہہ تہ۔ اتَّخَذُوا آيَاتِهِمْ جُنَّةً فَصَدُّوا  
 عَن سَبِيلِ اللَّهِ بمولو کو چھو قسم ہاون کر مت اھ سپراہ پنون مال و جان بچاونہ خیطرہ کیا زہ اظہار  
 کفرہ سیت نہ تہنز حالت تہ بین کافرن ہنز ہش یمن سیت تہ ایہ باجماد کرت قتل و غارت کرنہ تو پتہ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۳﴾  
 وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُحِبُّكَ أَجْسَامَهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ  
 خُشْبٌ مِّنْ سِنْدَةٍ يُحِبُّونَ كُلَّ صِیْحَةٍ عَلَيْهِمْ طَهُمُ الْعَدُوُّ وَقَا حَذَرُهُمْ  
 قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنْى يُؤْفَكُونَ ﴿۴﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولٌ

پھو اہنزہ تھ لازمی خرابی سیت بیا کہ متعدی خرابی تہ کہ تم چھہ بین لوکن تہ خدا یہ سزہ وہ تہ کن یینہ نشہ  
 پتھ رمان اِنَّمَا سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بے شک اہنزہ کامہ چھہ سٹھاہ خراب، ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ  
 كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ تم نسبت یہ حکم چھو بیٹھ کن نظر کرت کہ تم لو کو ان  
 ظاہرہ پاٹھ گوڈہ ایمان تو پتہ یلہ پنہ نین شیطان نشہ گئے تہ کر یکھہ بیہ کفر چہ کامہ اتھ کن نظر کرت  
 آو حکم کرنہ اِنَّمَا سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یعنی اہندس نفاس کن نظر کرت امی نفاقہ کہ سببہ آیہ  
 تھمدین دلن پیٹھ مہر کرنہ پس چھنہ تم پنہز تھہ فکرہ تران وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُحِبُّكَ أَجْسَامَهُمْ بیہ چھہ تم  
 ظاہرہ پاٹھ پیٹھ تہ مدرہ تھہ کران چنانچہ یلہ تہ ڈچھہ ہک تم ظاہری شان و شوکت تہ قدو قامت و چھت  
 مٹے بوزنہ تم تہ جان تہ دل پسند وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ بیہ یلہ تم تھہ بین کرنہ سٹھاہ فصاحتہ تہ شیرینی  
 سببہ روزک تہ کن داریت تھوند کلام بوزنہ مگر یہ سوروی چھونیر نہری اندرنہ حقیقتا ہکنہ تہ تمی چھو تھوند  
 حال، كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مِّنْ سِنْدَةٍ زن تم موند چھہ بہ سیت ڈھکراوت آمت تھاونہ تہ و توش اندر  
 جان موٹ موٹ مگر اندرہ بے جان چونکہ ایمان و اخلاصہ نشہ چھہ تم بالکل خالی امہ سببہ پھک پر تھہ  
 وقتہ اندیشہ تہ خطرہ روزان کہ مسلمان ماسپدہ سون حال معلوم کانہہ شخصہ سندہ اطلاع دنہ سیت یا اسہ  
 متعلق وحی نازل سپدنہ سیت تم نیرن امہ سیت تہ کافرن ہند پاٹھ جماد کرنہ امی خیالہ موکھ پھکھہ پرت  
 وقتہ ٹھہ تہ تھر آسان تمی سببہ چھہ یَحِبُّونَ كُلَّ صِیْحَةٍ عَلَيْهِمْ پر تھہ مشورہ تہ کر یکھہ وزہ ادہ آستن  
 سو یہ سببہ مگر تم چھہ خیال کران آیہ ماس کانہہ بلا یاہ و کرت هُمُ الْعَدُوُّ وَقَا حَذَرُهُمْ تھقیقتس اندر چھہ  
 تے تو ہند دشمن لہذا بیجو تم نیشہ ہشیار روزو پور تھنہ کنہ تھہ پیٹھ مہ آسیو اعتماد کران قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنْى  
 يُؤْفَكُونَ اللہ تعالیٰ گالن تم ن کو تسناہ تھہ دین حق تر واتھہ دور ژلان تھنہہ سببہ و شرارتج کیفیت چھہ

اللَّهُ لَوَّارُهُ وَسَمُّهُ وَرَأَيْتُمْ يُصْذَوْنَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۝ وَإِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالَّذِينَ الْمُنْفِقِينَ لَيَفْقَهُونَ ۝ يَقُولُونَ لِنَبِيِّنَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۝ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ

یہ کہ وَاذْقِلْ لَهُمْ تَعَالَىٰ تَسْتَفِرُّ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ أُرَادَ وَسَمُّهُ یلہ ونہ چھویوان تمن کہ پچھو یورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمن نشہ تم مگن مغفرت خدا یس تو ہندہ خیطرہ تم چھ یہ بوزت ہمنن کلہ پھران انکار کرنہ کس اندازس منز، وَرَأَيْتُمْ يُصْذَوْنَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ توہ وچھو کہ تم کہ تم چھ نصیحت کرہ ولس نشہ توہ پھران تکبر کرت ہندہ کفرنج حالت یلہ امہ قسچ چھ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لہذا چھ ہند حقہ دوشوئے کتھ برابر خواہ توہ ہندہ خیطرہ مغفرت مگنویامتہ مگنوں، لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اللہ تعالٰ کرنہ ہرگز تمن مغفرت إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ بے شک اللہ تعالیٰ ہندہ اتھن نافرمان لوکن ہدایتک توفیق دیوان هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ہم گئے ناتے ہم ونان چھ کہ توہ مہ کریو یمن مہاجر ن پیٹھ نہہ خرچ تا اینکه تنگ دست سپت ژلن ہم پانٹے ہمہ شہر منزہ یہ ونن ییونہ چھو محض جہالت کیاہہ یمن ہندہ خبر کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ خدایہ سندی چھ آسمان سے زمین ہند ساری خزانہ لیکن منافق ہندہ فکرہ تران يَقُولُونَ لِنَبِيِّنَا رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ہم منافق چھ ونان اتہ کہ اس یلہ مدینس منز واپس واتو توت واتھ کڈہ ضرور عزتہ دول شخص ذلیل شخص یعنی اس کڈو کہ ہم پردیسی لوک پنہ نہ شہرہ منزہ ہیر یمن ہمونہ اس بسنہ پنہ نس شہرس منزہن پان کر کہ عزتہ وال مسلمان مہاجر کر کہ ذلتہ وال اتہ ونو کہ محض جہالتہ سببہ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ

وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّيِّنَاتِ الْمُنِيفَاتِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۹﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ

وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّيِّنَاتِ الْمُنِيفَاتِ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ چھو عزت خاص اللہ تعالیٰ اس بالذات بیہ ہندس پیغمبرس بواسطہ تعلق باخدا یہ چھو عزت مسلمانن بواسطہ تعلق باخدا اور سول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مگر منافق چھنہ زمانا یہ کتھ بلکہ چھو تمن نشہ عزتک دار و مدار فانی تہ ناپایدار چیزن پیٹھ حضرت زید بن ارتمن یلہ اس عبد اللہ بن ابی سزہ میہ کتھ بوز تم آی در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تموانہ نو و سوناد تھ تو پتہ پڑھہ ہس تم کر قسم ہاوت صرح انکار لو کو ہست زید بن ارتمس دن طعنہ بیہ لکھہ کرنہ لسنہ تم سپد شرمندہ تہ تادم اتی یلہ سپدیم آیات کریمہ نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود زید بن ارتمس کہ خوش روز چون پوز پز ورو اللہ تعالیٰ ان **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ** ای با ایمانو توہ مہ کرن آور تہ غافل مال تہ اولاد تو ہند یعنی دنیا خدایہ سندہ یادہ نشہ تہ طاعتہ نشہ یعنی وینہ نشہ مراد چھو کہ دنیا س اندر مہ بڈیو توت کہ دینہ چن کازن اندر سپد یوہ خلل واقع، **وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ** ہس اکھاہ تہ کہہ تم لوک سپدن ناکام تہ تاوان زد کیا زہ دنیا ک نفع تہ فائدہ چھو سورہ ون تہ خم گتھ ون آخر تک ضرر چھو ہمیشہ روزہ ون طاعات و عبادت اتواندرہ چھہ اکھ عبادت مال خرچ کرن خدایہ سز ن وتن اندر **وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ** لہذا کر یو خرچ تمہ مالہ اندرہ ہس اسی توہ عطا کرمت چھو خدایہ سز ن وتن اندر توہ اندرہ کانسہ مرنگ وقت واتتہ بروٹھ **فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ** تمہ ساتہ لکھہ دینہ حسرت و تمنا پاٹھ ای میانہ پروردگارہ مہ کونہ دژا ہتھ ژہ مہلت تہ فرصت بیہ کنہ کالہ تان **فَأَصْحَابُ الْأَنْعَامِ مِنَ الصّٰلِحِينَ** تاہیکہ یو تہ کہہ ہا صدقات و خیرات بیہ بنہ ہاوتہ نیکو کارواندرہ مگر

قَرِيبٍ لَّا فَاصِدًا قِيَامًا وَأَكْنَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۰﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ  
نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾

تمسندیہ حسرت و تمنا کرن دینہ نہ تہس کانسہ فاندہ کیا زہ و لکن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها اللہ تعالیٰ چھنہ کانسہ اکس مہلت دیوان یلہ عمر ختم سپدنس پیٹھ تمسندہ مرنگ وقت واتان چھو واللہ خیر بما تعملون اللہ تعالیٰ اس چھ پور خبر تمہ سارچی یہ توہ کران چھوہ۔



## سُورَةُ التَّغَابِنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
يَسْبِحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ  
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ  
فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ② وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ③  
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ  
وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ④ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ

يَسْبِحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خدا یہ سزپاکی چھ بیان کران تم ساری چیزیم آسمان اندر چھ  
بیہ یم چیز زمین اندر چھ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تهنزی چھ سلطنت بیہ شو  
بن تس ساری تعریف بیہ چھوسوی پر تھ چیزس پیٹھ قدر تہ دول تمس یلہ اتھ کمالک صفت چھ لہذا  
چھ تهنز اطاعت واجب بیہ چھ تهنز نافرمانی تہ معصیت بیچھ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ  
مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ سو گو سوی ذات پاک یم توه ساری پیدہ کر یوتھ گن نظر کرت پڑہ ہا تو بہ ساری تس پڑھ  
کرن تہ ایمان ان، تمہ باوجود چھ توه اندرہ بعض کافر بیہ چھ بعض با ایمان، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  
اللہ تعالیٰ چھو توهنرہ سارے کامہ ایمانچہ کامہ تہ کفرہ چہ کامہ تہ وچھان پر تھ کامہ مناسب دیوہ سو توه  
جزا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تمی کر آسمان تہ زمین پیدہ بندیر تہ حکمت وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ  
صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ بیہ کرتی توهند نقشہ تہ صورت ای انسانوپس کرون سیٹھاہرت توهند نقش  
تہ توهنرہ صورت تس گن چھو پتولا کہ سارنی واتن يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْتَرُونَ  
وَمَا تُعْلَنُونَ سو چھوزانان تن سارنی چیزیم آسمان اندر تہ زمین اندر چھ، بیہ چھو سو تم ساری چیز



مَا تَسْتُرُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۴﴾  
 اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَدَافُوا بِأَلْأَمْرِ هُمْ  
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۵﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ  
 بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشْرٍ يَلِدُ وَأَنَا فَكُفَّرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَعْجِنَى  
 اللَّهُ وَاللَّهُ غَفِيٌّ حَمِيدٌ ﴿۶﴾ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ  
 يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا

زنان ایم توہ پوشیدہ نہ کھٹت کران چھوہ بیہ یم چیز توہ نن پاٹھ کران چھوہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  
 اللہ تعالیٰ چھوہ دن ہنزہ تھہ تان پور زنان ایم ساری چیز چھہ منگان کہ توہ کریو تھنز اطاعت نہ فرماں  
 برداری اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ امہ علاوہ چھناوا اثر مر توہہ تمن لوکن ہنز خبر یمو توہ  
 بروٹھ کھر وانکار کر فَاذِفُوا بِالْأَمْرِ هُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ پس ژوہ تمو پینہ نین کامین ہنزہ سختی ہیو  
 ندمزہ دنیاس اندر بیہ چھوہ تمہ علاوہ تھندی خیطرہ آخر تس اندر دودہ دگ تلہ ون عذاب ذَلِكَ بِأَنَّهُ  
 كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشْرٍ يَلِدُ وَأَنَا فَكُفَّرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَعْجِنَى اللَّهُ یہ دنیاک وبال  
 نہ آخر تک عذاب چھوہ تمن امی موکھ کہ تمن نش آس یوان تھند پیغمبر واضح نہ نہ دلیلہ ہیبت تم آس  
 تمن پیغمبر نسبت ونان کہ کیا یم اسی ہی انسان ہاونہ آہہ و تھہ تمن کیاہ فوقیت چھہ اسہ پیٹھ بہر حال تمو  
 کر کھر نہ اعراض اللہ تعالیٰ نہ سپد تمن نشہ بے نیاز تم بُرنہ تموند کا نہہ پروان بلکہ کزن تمن ہین قبر  
 وَاللَّهُ غَفِيٌّ حَمِيدٌ اللہ تعالیٰ چھوہ سارنی نشہ بے نیاز تعریف کرنہ اُمت تس ہجھہ کہ ناسہ ہنز ضرورت نہ  
 ہر لیس لوکن ہنز طاعت و فرماں برداری سیت کنہ نہ چھنیں لوکن ہنزہ نافرمانی سیت کنہ یم  
 فرمانبرداری کرن تمن چھوپانس تمبوک فاندہ یم نافرمانی کرن تمن چھوپانس تمبوک ضرر زَعَمَ  
 الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا انکار رسالتک پاٹھ چھہ یم کافر منہ پتہ بیہ زندہ سپدس نہ انکار کران  
 دعویٰ چھہ کران کہ تم ین نہ بیہ دوبارہ قیامتک دودہ زندے کرنہ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ

عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ  
 وَالتُّوْرَ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا وَاَللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝  
 يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۚ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ  
 وَيَعْمَلْ صٰلِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ  
 مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَ  
 الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

بِسْمَاعِلْتُمْ تُوہ فرمایو کہ یا رسول اللہؐ مہ چھو قسم پنہ نس پروردگارہ سند کہ واقعی ایو تُوہ مر نہ پتہ بیہ  
 پیدہ کرنہ تو پتہ کیہ تُوہ تہ سوروی باونہ یہ تُوہ کرمت آسوہ دنیا س اندر تو پتہ کیہ تُوہ تمیوک سزاء ونہ  
 وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ بیہ یہ پیدہ کرن تہ جزا و سزاء دیون چھو اللہ تعالیٰ اس نعرہ کمال قدرت آسنہ  
 مو کہ بالکل سسل تہ آسان پس یلہ آت چیز چھ منگان ایمانس فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالتُّوْرَ الَّذِيْ  
 اَنْزَلْنَا پس اینو تُوہ ایمان تہ کریو پڑھ معبود برحقس بیہ تہندس پیغمبر برحقس بیہ تھ نورس نُس اسہ  
 نازل کر بیئے قرآن مجیدس وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ اللہ تعالیٰ اس چھ تو ہنزن سارنی کا مین ہنز  
 پور خبر يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ بیہ پا یو سودوہ ژتیس بیہ دوہہ تُوہ سارنی جمع کرہ سو  
 جمع سپنہ کس دوہس منز سو گو سوی دوہہ تنھ منز ظاہر سپدہ کم کیاہ زیون تہ کم کیاہ ہور با ایمان زمین اتھ  
 دوہس منز کا فر مناق تہ مشرک ہارن امہ دوہہ چنانچہ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صٰلِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ  
 پس اکھاہ ایمان انہ کُنس خدا پس بیہ کرہ رتہ عملہ اللہ تعالیٰ کرہ تس نعرہ دُور تسد گناہ وَيُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ  
 تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا بیہ وا تہ ناوہ تس جنتہ کین تمس باغن اندر یو منز جو بیہ تہ  
 کولہ پکان آسن یمن جننن منز ہمیشہ ہمیشہ تم روزن ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ بیہ گیہ بڈ کامیابی تہ رستہ گاری  
 وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمِنْ الْمَصِيْرُ یومو لو کو کھر کرمت آسہ بیہ  
 آنھ سان آیات زامتہ اپن تم لوک گئے دوزخک لوک تم روزن تھ منز ہمیشہ سہ چھ سیٹھاہ بچھ جایاہ

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ آيَةٌ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ وَمَنْ  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ  
أَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝  
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عِدًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ ۚ

تہمدہ اسے خیر ہے! تھ پٹھ کفر چھو مانع سپدان آخر تچ رسدہ گاری حاصل سپد نہ نشہ آتھ پٹھ چھو مصیبتیں  
اندر بوڈن مال و دولتہ چہ فکرہ اندر روزن یا زنانن تہ اولادن سیت مشغول سپدت خدایہ سندھ یادہ نشہ  
غانل سپدن تہمدین احکامن ہنز تعمیل کرنس اندر کوتاہی تہ سستی کرنن تہ مانع سپدان آخر تچہ فلاح  
درستگاری نشہ ہند گڑھ مصیبتیں متعلق یہ خیال کرن کہ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ کانہ  
مصیبتاہ پھنہ واتان کانہ اس خدایہ سندھ حمہ و رای یہ تھہ فکرہ تارت گڑھہ مصیبتیں پیٹھ صبر کرن  
راضی روزن خدایہ سندس یشہنس وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ بیہ بس اللہ تعالیٰ اس چھو پور پڑھ  
کران تسدس دلس چھو اللہ تعالیٰ و تھہ ہوان صبرس تہ رضا کس ن وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ  
چھو پڑھہ چیزاہ وارہ زنان کہ کم کرہ صبر و رضا اختیار کم کرہ اختیار پر تھہ اس چھو حسب حکمت جزاء و  
سزادیوان۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ خلاصہ چھو ای زہ پر تھہ کامہ اندر (مصیبت تہ چھو تمو کامیو  
اندرہ اکھ کام) کریو فرماں برداری خدایہ سنز بیہ کریو فرماں برداری پیغمبرہ سنز صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ  
تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ہر گاہ تہ اطاعتہ نشہ بو تھہ پھر یو کانہ پروا چھہ تموک تلہ تہاویو  
توہ یادہ تھہ کہ سانس پیغمبرس چھو منہ صاف صاف پیغام سون وانہ ناؤن بس تمو واتہ نوور تہ طریقہ  
تمن پھنہ کانہ نقصان تہ ضرر اتھہ منز بلکہ چھو بوڈ نقصان تہ ضرر اتھہ منز توہ پانس۔ اللَّهُ لَا إِلَهَ  
إِلَّا هُوَ توہند گڑھہ وارہ زنان کہ اللہ تعالیٰ اس و رای پھنہ کانہ اکھاہ معبود آسہنس لایق پس زانیون سوی  
پن معبود وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ باایمان ہیو ند گڑھہ مصیبتیں اندر اللہ تعالیٰ سئی پیٹھ توکل

وَأَنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۴﴾ إِنَّمَا  
أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَآ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾ فَاتَّقُوا

کرن۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ أَدْرَاكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ اے ایمانوالو! تمہا پاتھ توہ  
حکم کرنے آو کہ مصیبتیں اندر گدھ صبر کروں یوتھ بے صبری کرن مانع سپدہ توہ فلاح آخرتہ نشہ ایتھے پاتھ  
چھوہ توہ حکم یوان کرنے کہ نعمن اندر مہ آسیو بوڈت گڑھان کیاہہ یعنی اندر بوڈت گڑھت خدا یس نشہ  
غافل سپدون اے چھو مانع سپدن آخر تک فلاح حاصل کرنے نشہ لہذا گڑھ توہند خیال تہاون کہ توہنزہ  
بعضے زنانہ بیہ بعضے اولاد چھ توہند دشمن پس روزہ یوتہ تمن نشہ ہوشیار تہند یں تنہیں حکمن تہ فرمائش  
پیٹھ مہ کریو عمل بسا اوقات چھو انسان زنانہ تہ اولاد ہندس مجتہس اندر گرفتار گڑھت خدا یس تہ  
خدا یہ سندین حکمن مشراوان تہند یں تعلقاتن ہندہ سببہ وار ہین گنہن ہوندر تکب سپدان یہ سببہ سو  
وارہ یمو چیز نشہ محروم چھو سپدان زنانہ تہ اولاد ہنزہ فرمائشہ تہ ناز بردار یہ چھنہ مردس سوٹھی  
دیوان اتھ فکرہ اندر روزنہ سببہ چھنہ تس آخرت ژتیبسی یوان یہ کتھ چھ ظاہر کہ یوتھ عیال تہ امہ  
قبسک شربا ژیم ایتہ نقصان عظیمک سبب بن یم چھنہ حقیقتس اندر دوست ونہ نس سزاوار بلکہ چھہ تم  
بدترین دشمن اہنزہ دشمنی ہوند چھنہ کنہ وقتہ احساس تہ سپدان تمی موکھ فرمو اللہ تعالیٰ ان کے امہ  
قسمہ کین دشمن نشہ روز یو ہوشیار سو طریق مہ کریو اختیار سمبوک نتیجہ یہ نیرہ کہ توہ کریو تہوند دنیاو  
آخرت سنبھالنے خیطرہ ہین دین و آخرت بُرباد مگر امبوک مطلب چھنہ کہ دنیا س اندر چہ سارے  
زنانہ تہ ساری اولاد امی قسمک آسان بلکہ چھو واریاہ زنانہ تہ اولاد یم پنہ نین خاندن تہ مالین چھہ دینہ  
چن کا یں اندر معین و مددگار بنان **وَأَنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** و سَن ہر گاہ تمو  
توہ سیت دشمنی کمر دینی یاد نیوی کا نہہ نقصانہ واتہ نوو تمبوک نتیجہ گڑھنہ یہ نیرن کہ توہ سپد یو تمن  
انتقام ہمیس در پے تمن پیٹھ ہیو توہ کا نہہ سختیہ شروع کرن یمہ سیت دنیاک نظام در ہم بر ہم سپدہ بلکہ  
ایشرھن توہ پلہ تیڑھن گڑھ توہنز عقلہ کوم ہیئت تہند یں قصورن تہ خطائُن در گزر کرن ٹھنزہ کوتاہیہ  
معاف کرنے یوتھ سلوک تمن سیت ورتاونہ سببہ کرہ اللہ تعالیٰ توہندن گنہن مغفرت توہندس حالس  
پیٹھ رم کیاہہ سو چھو سٹھاہ مغفرت کرہون **إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ** توہند مال تہ توہند اولاد چھہ

اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ  
 وَمَنْ يُؤَقِّ شَخْرَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۴﴾ إِنَّ  
 تَقْرُضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ  
 شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۵﴾ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۶﴾

توہندہ آزمائشہ خلیطہ اکلہ چیزاہ یوتھ اس وچھو کہ کوہ چھو مال واولاد نهنز فکرہ منر بوڈتھ خدایہ سند  
 حکم مشراوان کوہ چھویاد تہاوان بس شخص مال واولاد آستھ احکام خداوندی چھویاد تہاوان وَاللَّهُ عِنْدَکَ  
 أَجْرٌ عَظِيمٌ تہندہ خلیطہ چھو اللہ تعالیٰ اس نشیہ اجر عظیم یعنی بڈ مزور فَأَتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا  
 وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ یمہ سارے کتھ بوزت کھوڑو اللہ تعالیٰ اس بئوت میکو تہ توت بیہ بلز  
 یوتھند حکم وارہ پاٹھ تو پتہ مانیتو تم حکم بیہ کریو مال خرچ تمں جاین اندر یمن منر خرچ کرنگ حکم اووہ  
 کرنہ ای چھو توہندہ حقہ بہتر وَمَنْ يُؤَقِّ شَخْرَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یس اکھاہ نفسانی حرصہ  
 نشہ محفوظ تہاوندہ آوتی قسمک لوک چھہ آخرتس اندر ستہ گاری تہ فلاح حاصل کروہن إِنَّ تَقْرُضُوا  
 اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ہر گاہ توہ اللہ تعالیٰ اس قرض دیورتہ طریقہ یعنی خلوصہ  
 سان سوزتھ اندر توہندہ خلیطہ زیادتی کران بیہ کرہ توہ گنہن مغفرت وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ اللہ  
 تعالیٰ چھو سٹھاہ قدردان کہ رزہ عملہ چھو قبول کران سو چھو تحمل تہ زید کرہ وڈن نافرمانین تہ بیچھہ عملن  
 پیٹھہ جھنہ سیتی رٹان تہ گرفتار کران عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سو چھو پویشیدہ تہ نہ عملہ  
 زانہ وڈن زبردست چھو سٹھاہ حکمتہ وول چھو



## سُورَةُ الطَّلَاقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ  
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ اِی پیغمبر بزرگ توہ فرما دیو لو کن کہ  
یلہ توہ تمن زنانن طلاق دیوان آسیو یمن سیت توہ خلوت صحیحہ کر مت آسوہ پس دیو تمن طلاق حیضہ  
کہ زمانہ بروٹھہ طہرس اندر بیہ تھا دیو طلاق دنہ پتہ یاد عدت یعنی مردتہ زنانہ تماوان عدت تک حساب  
یادوا حصو فر موکہ بصینہ جمع مذکرامی موکہ کہ زنانن چھہ سپدان اکثر غفلت لہذا اکثرہ مردن ہوندتہ  
امیو کہ خیال تماوان وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بیہ کھوژ یو اللہ تعالیٰ اس نئس توہند پروردگار چھو تہندین حکمن مہ  
آسیو خلاف ورزی کران کہ وٹہ مہ آسیوترہ طلاق دیوان حیضہ کس حالس اندر مہ آسیو طلاق دیوان۔  
یمہ چیز و نشہ چھہ حدیث شریفس منز ممانعت فرماو مژ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ بیہ مہ آسیو کہ تمہ زنانہ تموگر واندہہ نبر کڈان یمن منز تمہ بسان آسن  
کیازہ طلاق دنہ آٹرہ زنانہ بسنہ خیطرہ جای دن چھو واجب تھہ پاٹھ منکوہ زنانہ ہندہ خیطرہ چھو  
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ نہ گزہ تمن زنانن ہوندیانہ نیرن تموگر واندہہ کیازہ تمن بسنہ  
خیطرہ جای دن یہ پھنہ حق العبدی یوت بلکہ چھویہ حق الشرع تہ سوہیچہ نہ ساقط ہدت تمندہ رضا  
مندی سیت مگر امہ قسچہ زنانہ کنہ نہ بے حیاء مر محب سپدن مثلاً بدکاری کرن یا ژور کرن تھہ صورتس  
اندرین تمہ کڈنہ بطور سزاء بعض علماءن نشہ چھو کہ ہر گاہ زبان درازی بیہ پر تھہ وقتہ ہر تہ قضیہ لاگہ  
تلہ تہ چھو جایزہ زنانہ گرہ منزہ نبر گڈن وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ایم ساری چیز چھہ خدایہ سندی مقرر

حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ  
 أَمْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ  
 بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ  
 يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ

کرمت احکام، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لیس اکھاہ خدایہ سند یو احکا مونشیہ تجاوز کرہ تم  
 کر بے شک پنے نس پانس بیٹھ ظلم یعنی سوسپد گھکارامہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ ترغیب دیوان کہ طلاق توہنہ  
 چھو طلاق رجعی بہتر لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۚ نہ چھہ نہ خبرای طلاق دیوہ ونہ شاید اللہ  
 تعالیٰ ما کرہ امہ طلاق دنہ پتہ کانہہ نوکٹھاہ چانس دس منز پیدہ یعنی ۷ہ ما سپدہ کہ طلاق دنہ پتہ نادم تہ  
 پیشمان پس ہر گاہ ۷ہ طلاق رجعی دیو تممت آستھ تھہ اندر ہیہہ اتھہ علاج بنت بیہ رجوع کرنہ سیت ۱۰۰؎  
 بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پس یلہ تمہ زنانہ یکن طلاق رجعی دنہ آمت  
 آسہ پننن عدت و برنس نزدیک واتن تمہ ساتہ چھو توہ دون کھن ہیو ند اختیار یارٹو کہ تمہ باقاعدہ  
 رجعت کرت پنے نس نکاحس اندر یارٹو یو کہ قاعدہ موجب یلہ یعنی عدت و برنس تان مہ کریو تمس گن  
 رجعت ترم صورت مہ کریو کہ توہ آسبونہ سہ بساوس غرض خواہ مخواہ تکلیف دنہ خیطرہ تمسز عدت  
 زیشتر اونہ خیطرہ کریو تمس سیت رجعت ناحق کانسہ ایذاء دیوان تہ چھنہ مناسب تھہ چھو خدا بیزار  
 وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ یہ کنیہ ۱۰۰؎ توہ کریو پانس نشہ رٹہ اندرہ یایلہ ترادنہ اندر تھہ  
 تہاویو کہ پنے نیواندرہ ۷ہ مؤتمتر شخص شاہد تہ گواہ یو تھنہ آئندہ کٹھہ پیٹھہ اختلاف پیدہ سپدہ ای گواہو ہر  
 گاہ گواہی دنچ ضرورت پیہ توہ ذرہ پنز پنز گواہی خدایہ سندہ خیطرہ کانسہ ہیوند طرف کرنہ ورا ی ذَٰلِكُمْ  
 يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ مضمونہ سیت چھہ نصیحت کرنہ دیوان تس شخصس لیس  
 پور پڑھ آسہ کنس خدایہ سز بیہ آس یقین چتمہ دوہک یعنی قانتک کیا زہ ایمان واری چھواسہ نصیحتک  
 فاندہ بیکان تلت اگر چہ نصیحت چھہ سارنسی ہندہ خیطرہ بروٹھہ لیس حکم تقویٰ اس متعلق بیان کرنہ آؤ۔

يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا<sup>۲</sup> وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا<sup>۳</sup>  
وَالَّذِي يُبَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْ هُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا<sup>۴</sup> ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ

وَسَنَ جَه تَه متعلق احکا من در میان فضائل بیان یوان کرنے گوڈ نیو کہ فضیلت گو و مَن یَتَّقِ اللَّهُ یَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا اُس شخص اللہ تعالیٰ اس کھوڑہ اللہ تعالیٰ چھو تہندہ خیرہ مضر تو نشہ نجات لہج صورت پیدہ کران وَیَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا یَحْتَسِبُ بیہ چھو تقویٰ کہ برکتہ تس رزق وانہ ناوان تزہی جاہیہ سمیو کہ نہ تس برانت تہ گمانے چھو آسان بیہ چھو امہ تقویٰ اک اکہ شاخ توکل تمیو کہ خاصیت چھو وَمَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یس اکھاہ اللہ تعالیٰ اس پیٹھ توکل کرہ سو چھو تس اصلاح مہمات ہندہ خیرہ کافی سو چھو پندہ کافی آسک اثر خاص ظاہر کران اصلاح مہمات کرنے سیت إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ بے شک اللہ تعالیٰ چھو پننن کوم اتھ پاٹھ خوش کر یس تھہ پاٹھ پورہ کران تھہ پاٹھ چھو اصلاح مہمات کر نک وقت تہ موقوف تہندس ارادس پیٹھ کیاہہ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللہ تعالیٰ ان چھو پر تھہ چیز خیرہ اکہ اندازہ پنہ نس علمس اندر مقرر کرمت تمی موجب چھو سو چیز حتمس مطابق واقع کران امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ بیہ طلاقہ کین احکا من متعلق تفصیلی بیان فرماوان وَالَّذِي يُبَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْ هُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ توہنزن طلاق دنہ آثرن زنانن یمہ زیادہ وانسہ آسنہ موکھ خون حیض انہ نشہ نامید آسن سہز مڑہ ہر گاہ توہہ تہندس عدتس منز خبہ آسہ (چنانچہ خبہ چھو او سمت یمہ سببہ پر ژھنہ آو) تہنزن عدت چھو ترہ ریتھہ تھہ پاٹھ یکن زنانن نہ نابالغ آسنہ موکھ دنہ خون حیض یکن شروع سپد مت آسہ تہنزن عدت تہ چھہ ترہ ریتھہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ بہ یمہ زنانہ حملہ واجنہ آسن تہنزن عدت گیہ یوتان تہہ پرسن حملہ نشہ فارغ سپدن وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ



أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سِبَّاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا ⑤  
 اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا  
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَادًا فَحَمَلْنَ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِمُّوا إِلَيْكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
 تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ الْآخَرَى ⑥ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ

يَجْعَلُ لَهُ مِنَ امْرِئِهِ إِسْرًا ⑦

نفس شخص خدا پس کھوڑہ تس کرہ اللہ تعالیٰ پر تھہ کامہ منز آسانی دنیاچہ کامہ  
 تہ آخرتچہ کامہ تہ ذلک امر اللہ انزلہ الیکم یہ کنیہ باہ بیان کرنہ آویہ چھو اللہ تعالیٰ سند حکم نفس تم توه  
 کن سوز وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سِبَّاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا ⑤ نفس اکھاہ یمن معاملاتن اندر تہ بین احکامن اندر  
 تہ خدا پس کھوڑہ اللہ تعالیٰ کرہ دور تس نشہ تسند گناہ بجو بجو سختیوشہ ر پھس بیہ کر یس عطا بڈ مزور یعنی  
 بڈ فائدہ تہ نفع واد تہ ناوس اسکنوہن من حیث سکنتم من ووجوہکم بیہ چھہ طلاق دنہ آمر زنانن ہند توه  
 پیٹھ بیہ تہ کنہ حقوق سوگو تمں گڑھہ بسنہ تہ روزنہ خیطرہ جای دن پنے نہ طاقتہ تہ وسعتہ موجب یتہ توهہ  
 پانہ بسان آسیوت تہ گڑھہ تمں تہ جای دن یعنی عد تس اندر چھہ طلاق دنہ آمرہ زنانہ جای دن واجب البتہ  
 ہر گاہ طلاق باین آسہ دنہ آمت تلہ کسی کو ٹھس اندر تمں دون ہیوند روزن پھنہ جائز بلکہ گڑھہ منزہ کنہ  
 ٹھور آسن ضرور وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ بیہ مہ واد تہ ناویو تمں تکلیف بسنہ کس معاملس اندر تمہ  
 تنگ کرنہ خیطرہ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَادًا فَحَمَلْنَ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ بیہ ہر گاہ تمہ طلاق دنہ آمرہ زنانہ  
 حملہ واجنہ آسن تلہ کر یو تہ ہندہ کھینہ چنہ خیطرہ تمں پیٹھہ خرچ برداشت یوتان تمہ پر سن حملہ نشہ فارغ  
 سپدن فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ہر گاہ تمہ زنانہ یمن توه طلاق دیو توه عد تہ پتہ توه ہندین ٹھرین  
 (یم ٹھری تمں بروٹھی توه ہند آسن یا آسیکھہ عدت خم گمہ شریزینہ سینق دودھ دن توه ہندہ خیطرہ اجر تس  
 پیٹھہ توه دیو تمں سہ اجرت یوسہ توه پانہ وان مقرر کر یو وَأَتِمُّوا إِلَيْكُمْ بِمَعْرُوفٍ بیہ کر یو اتھہ اجر تس  
 متعلق پانہ وان مشورہ مناسب طریقہ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ الْآخَرَى ⑥ ہر گاہ توه اکھ اس پیٹھہ تنگی تہ

قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكِلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَدَّتْ عَنْ أَمْرِ  
 رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّبْنَاهَا عَذَابًا شَكْرًا ۝  
 فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۝ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ  
 عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ

سختی کر یو تله چاوه تس چس دوده بیه کانسه زنانه لِيُنْفِقْ دُوسَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَسَعَتِ وَال كرن امس  
 ۲۸ س پيښه خړج پنه نه وسعته موجب وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وين تمس تنگی آمر آسه  
 كرنه رزقس اندر بینه آمدنی اسیس كم سو كرن آمرس ۲۸ س پيښه خړج تې منزه بیه تمس دیو تمس آسه الله  
 تعالی ان یعنی امیر شخص كرن خړج پنه نه حیثیه موجب فقیر كره خړج پنه نه حیثیه موجب لَا يَكِلُفُ اللَّهُ  
 نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا الله تعالی هغه کانسه شخصس تكلیف دیوان مگر تې موجب بیه تمس عطا كرن تنگ دست  
 شخصه سُنْدُ كُوهْ هغه خیال كرن كه هر گاه بوا مس زنانه پيښه خړج كره تله ماروز سمنه پانس كسې سَيَجْعَلُ اللَّهُ  
 بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا الله تعالی كره عنقریب سختی ته تنگی پته وسعت ته آسانی۔ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَدَّتْ عَنْ أَمْرِ  
 رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّبْنَاهَا عَذَابًا شَكْرًا وار بیه بستی ته شهرن هند یو لوكو كرن فرماني پنه  
 نس پرورد گاره سندس خمس بیه خدایه سندی ن پیغمبرن هند بھن كھن پس هیوت اسم تهنزن عملن هیوند  
 سخت حساب یعنی تهنز وكفر چوكا میواندره كرنه اسمه کانسه كاماه تمن معاف بلكه كرسا نگی كامن پيښه سزا  
 تجویز بلكه كراسه تمن سو عذاب نس نه تمود و هتھو اوس فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا  
 پس ژوه تمود پنه نین پیچھ عملن هنده و بالک مزه بیه اوس تهنزه كامه هیوند انجام تاوان ته نقصان بیه گو كه  
 دنیا س منز أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا اسم علاوه چھو الله تعالی ان تهنده خیطره تیار تمومت آخر تس  
 اندر سخت عذاب ون یله نافرمانی هیوند عذاب بوزو فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا كھو ژبو  
 الله تعالی اس توه ای عقله والیو میوا ایمان ائمت چھوه کیازه ایمان ته چھواتھ منگان خدالیس كھو ژون گو كه  
 تهنز کر یو فرماں برداری اطاعت و فرماں برداری هنز طریق ہاونه خیطره قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا \* رَسُوْلًا

أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۖ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝۱۱ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝۱۲

سوز اللہ تعالیٰ ان توه کین اکھ نصیحت نامہ سوزن اکھ جلیل القدر پیغمبرہ یتلوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ نِس پران تہ بوزہ ناوان چھ توه اللہ تعالیٰ سند آیات ویرہناوت لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ یوتھ سو پیغمبر برحق تمن لوکن یو ایمان ان تہ رزہ عمل کر یکھ کفرہ تہ جہلمہ چوتاریکو منزہ کڈہ ایمان تہ علمہ وعملہ کس نورس گن۔ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لیس اکھاہ پڑھ کرہ خدا لیس بیہ کرہ رزہ عملہ اللہ تعالیٰ وانہ ناوس جنتہ کین تمن باغن منز یو بون کن کمہ کمہ جوی تہ کولہ آسن پکان تمہی جنتن منز روزن تم ہمیشہ ابد الآباد، قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا بے شک اللہ تعالیٰ ان دیوت تس رت رزقاہ ہمیشہ پوشہ ون اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اللہ تعالیٰ گو سو معبود برحق یم سٹھ آسمان پیدہ کمر بیہ کرن تہمدی پاٹھ سٹھ زمین چنانچہ صحیح ترمذی منز چھو حدیث شریف کہ اکس زمینس تل چھو بیا کہ زمین تھ تل چھو تر یوم زمین اتھے پاٹھ چھ اکھ اس تل سٹھ زمین یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ اللہ تعالیٰ سند احکام تکلیفیہ تہ تکوینیہ چھ یمن ستن آسمان تہ ستن زمین منز نازل سدان لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا یوتھ توه معلوم سپدہ کہ اللہ تعالیٰ چھو پر تھ چیزس پیٹھ قدر تہ وول بیہ چھو اللہ تعالیٰ پر تھ چیزس احاطہ کرت پنہ نہ علمہ سیت اتھ گن نظر کرت چھو واجب اللہ تعالیٰ اس اطاعت تہ فرماں برداری کرن



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ① قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ صحیح بخاری شریف سے بین حدیث شریفہ جن کتابن اندر چھو  
بروایت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہو نعدادت شریفہ اوس  
کہ تم آس پرت دوہہ دگر نمازہ پتہ ازواج طاہراتن ہندین حجرات شریفن اندر تشریف اتان و دندہ و دئی  
آس مختصر توقف کرت تمہن تفقہ حالات فرماوان اکہ دوہہ تہو کہ حضرت زینبہ سندس حجرہ شریفہ  
منز معمولہ خوتہ زیادہ کالس تشریف کیا زہ تمو کہ ہکھ پیش مانچہ سوی کرو کہ تناول تمہ کس تناول  
کر نس لگ کند کالہ معمولہ خوتہ زیادہ حضرت عائشہ چہ فرماوان کہ مہ گوامیوک مُٹک مہ کر حضرت  
حفصہ اس سیت مشورہ کہ اسہ اندرہ بس نشہ نبی کریم امہ پتہ تشریف اتن تمسند گدہ عرض کرن کہ  
توہ چھوہ ہز مغافر نوش فرمومت (مغافیر چہ ونان اکہ کلہ کس تہہ ماوس کس زیرہ کراکھ صیو چھو  
آسان یا صمغ بیور یا تو تہ مانچہ ہیو۔ تہہ چھو آسان مُٹک ناپیندہ یعنی پھک چنانچہ بیے عمل کر باقی  
ازواج طاہراتو تو پتہ فرمودہ تمومہ چومانچہ استعمال کرمت بو کیا زہ کہہ ماغافیر استعمال تمہ کر ہک عرض  
شاید مانچہ تلمر ما آسہ بیٹھو مغافیرس پیٹھ تہندس ما تھس تہ آسہ ترمت تمیوک پھک یہ بوزت ہو و قسم  
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانچہ استعمال کرنس پیٹھ اتھ موقس پیٹھ سپد نازل یم آیت کریمہ  
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ اِی بڈہ پیغمبرہ توہ کیا ہز چھو قسم ہاوت پانس پیٹھ سو چیز حرام  
کران بس چیز اللہ تعالیٰ ان توہندہ خیطرہ حلال کرمت چھوہ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ تمی چھوہ  
کران پنہ نین باثنی ہنز رضا مندی تہ خوشنودی حاصل کرنہ خیطرہ اگرچہ کند مباح چیزک ترک کردن  
چھوہ مباح تو پتہ تہہ ترک مباحس تاکید کردن قسمہ سیت تہہ چھوہ مباح مگر خلاف اولیٰ چھوہ ضرور

اَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۲﴾ وَإِذْ أَسْرَأَ  
النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ  
اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ

خصوصاً یلہ تمیوک موجب تہ باعث آسہ معمولی تہ غیر ضروری اکھ چیزا ہو گو گرہ کین باژن ہنز خوشنودی تہ رضامندی حاصل کر نین وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو بخشنہار سو چھو گنہس تان تہ بخشایش تہ معاف کران توہ نشہ سپدنہ کانہہ گناہ تہ صادر یہ پھنہ توہ پیٹھ کانہہ عتاب بلکہ چھو اتھ گن توہ اکھ قسمہ توجہ یوان دنہ شفقت وراقتہ موجب توہ چھو ونہ یوان کہ توہ کیا زہ ہنز تر وودہ سو چیزئس مباح اوس توہ ہندہ خیطرہ یہ تکلیف کیا زہ ہو توہ تھہ سیت ہو وہ توہ اتھ پیٹھ قسم لہذا دیو کج کفارت تو پتہ کر یو بیہ مانچھ استعمال قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ اللہ تعالیٰ ان چھہ مقرر کر مرث توہ ہندہ قسم مشراوچ یعنی قسم پھڑوانہ پتہ کج کفارت دنچ طریق سو گود ہن مسکین طعام دیون یا غلام یا کینز آزاد کرن یا ترین دوہن روزہ داروزن وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ اللہ تعالیٰ چھو توہ ہند دوست وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سوی چھو سوروی زانہ ون سوی چھو شاہ حمتہ وول تمی علم و حمتہ سیت چھو توہ ہنزہ مصلحہ تہ ضرورتک چیز زانت توہ ہنزہ واریاہ دشواریہ آسان کرنچہ طریقہ بیان کران چنانچہ کج کفارت دنک حکم کرنہ سیت کر تم کچھ پابندی ہونہ تکلیف دور۔ وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اے ازواج طاہرا تو سو وقت چھو یاد کرنس قابلہ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو پنہ نس اکس باژس سیت سرہ کتھاہ اکھ فرماوے یہ سہ کتھ آس ییہہ بو کھیمہ نہ از کہ پیٹھ مانچھ مگر یو تھنہ ژہ کانہہ نشہ یہ کتھ باو کہ فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ تمہ پتہ یلہ تمہ دید صیبہ لاوسور بین ازواج طاہرا تن نشہ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ ان تر وودہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو فر مو تمس سز فاش کرہ ونہ دید صیبہ کہ ژہ چھت یہ میان سرہ کتھ بین نشہ وانہ ناومر مگر اڈ کتھہ بر کہ بیان آجہ کتھ نشہہ کر وہ اکھ عرض کر وہ کھنہ کنہہ بیان یہ گو غایت درجک کر م تھونہ کہ پنہ نس کھمس خلاف کرنس پیٹھ یلہ شکایت کر کہ پنہ نین باژن ہنز سوروی کر کھنہ بیان بلکہ کر کہ تمہ منزہ مو یہ ہنا

قَالَتْ مَنْ أَبْنَاكَ هَذَا قَالَ بَنَانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۳۱۰ إِنَّ تَتَوْبًا  
إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمْ ۱۰ وَإِنْ تَطَهَّرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ  
هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ

بیان یوتھنہ تمن زیادہ شرمندگی پیدہ سپدہ فَلَمَّا بَيَّنَّا لَهَا بِهَذَا قَالَتْ مَنْ أَبْنَاكَ هَذَا اودہ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تس سے تھہ فرماوسہ گیہ حیران تمہ کروکھ عرض توه کم ہزدپوہ مہ کیا بوو تو ہند سربہ کانہ نشہ تمن گیہ رای حضرت عائشہ نبی ماسہ یمن وومت قَالَ بَنَانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ تمو فرموس مہ کر خبر اللہ تعالیٰ ان نُس بوڈزان دول چھوئس سارچی پور خبر چھہ یہ آوونہ ازواج طاہراتن یوتھہ تمہ آیندہ امہ قسچہ ژویہ کرنہ نشہ پتھ روزن بیہ کرن توبہ تمیوک تمن یسہ پتہ آیات کر یمن اندر حکم چھو یوان کرنہ إِنَّ تَتَوْبًا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمْ اے نبی کریمہ سنزدو شوئی الہیو (مراد چھہ امہ اندرہ حضرت عائشہ بیہ حضرت حصہ اگر توه خدا یس برونھہ کنہ توبہ کر یوتہ چھو تو ہندہ خیطرہ بہتر کیا زہ تھہ لایق چھوہ توه کرمت تہ گواہی زہ کہ توه ہند دل چھہ ہتھہ تھہ گن مایل سپد مت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیوند توجہ پھرہ ہواس بین ازواج طاہراتو نشہ پانس گن تمی خیطرہ چھوہ توه پانہ وان ژویہ کران اگر چہ ہتھہ گن نظر کرت کہ اموک سبب چھوہ توه محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ اعتبارہ اوسنہ یہ ناکارہ چیز مگر چونکہ امہ سیت چھہ سپدان بین ہنز حق تلفی بیہ چھو تہندہ دل شکنی ہیوند باعث سپدان اتھہ کن نظر کرت چھو ناکارے یسہ موکھ توبہہ پزہ توبہ کرن۔ وَإِنْ تَطَهَّرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ و س ہر گاہ توه دوشوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ ہنن کارروائی جاری تہاویو یہ کرنس اندر توه آندہ نہ کنہ تہ کیا زہ تہوند دوست چھوپانہ اللہ تعالیٰ بیہ جبریل امین بیہ نیکو کار مسلمان وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ تمہ علاوہ چھہ ساری ملایک تہوند مددگار توه ہنز ژویو سیت واتنہ تمن کانہہ ضرر تہ نقصان بلکہ چھوہ توه پانس امیوک نقصان کیا زہ نُس صاحبس اتھہ مددگار آسن (گوڈہ چھو بس تمن اکوی بوڈ مددگار) تہندس مزاج مبارکس تہ طبعیت نازنیں خلاف کانہہ حرکت کرنن تھہ کوسہ کوندے کھسہ توه تمیوک انجام چھونن پاٹھہ سیٹھاہ بیچھہ توه ہندہ خیطرہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ اتھہ آہ

ظَهْرٍ ۴ عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ اِنْ طَلَّقَنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا  
 مِّنْكَ مُّسْلِمًا مَّوْمِنًا قَدْ تَبَدَّتْ عِبَادَتُ سَبِّحَتْ  
 تَبَدَّتْ وَاَبْكَارًا ۵ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ  
 نَارًا وَّقُوْذَهَا النَّاسُ وَاِلْحَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

کر تیس منزئس ونه آوسار نئی رفیق سو چھو پر تھہ اکس سیت الگ الگ معنیہ کن اللہ تعالیٰ سنزر فاقت گیہ حقیقی جبریل امینہ سنزر فاقت گیہ یمہ معنیہ کہ سواوس واسرطہ فیوض الہی واتہ نانس اندر ملائکن ہنز رفاقت گیہ انزال سکینہ با ایمان ہنز رفاقت گیہ تابعدری تہ فرماں برداری بعضی سلف مفسرینو فرمودو صالح المؤمنینہ اندرہ چھہ مراد شیخین جلیلین یعنی حضرت ابو بکر صدیق تہ حضرت فاروق اعظم واللہ اعلم چونکہ بعض روایتن اندر چھو امیوک سبب نزول تے واقعات تہ آمت تمن روایتن اندر چھو آمت کہ حضرت عائشہ تہ حضرت حفصہ وراہی تہ چھہ بیہ ازواج طاہرات اتھہ تحریکس سیت شامل آسمزہ حضرت سودہ حضرت صفیہ تمی موکھ کرکھ بیان بصینہ جمع کہ ای ساروی ازواج طاہراتو تہ روزنویہ خیال کہ مردس چھہ زنانن ہنز ضرورت لازمی آسان تہ اتھہ گن نظر کرت ین سان مطالبات تسلیم کرنہ عَسَىٰ رَبُّهُۥٓ اِنْ طَلَّقَنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ مُّسْلِمًا مَّوْمِنًا قَدْ تَبَدَّتْ عِبَادَتُ سَبِّحَتْ تَبَدَّتْ وَاَبْكَارًا ۵ لہذا اتہر او توہ ای پیغمبر برحق سنزو ازواج طاہراتو تہ تھہ یاد کہ ہر گاہ بیہ پیغمبر توہ سارنئی زنانن طلاق دیہ اللہ تعالیٰ کرہ توہ بدل تمن توہندہ خو تہ رزہ زنانہ عطا یمہ زنانہ مسلمان آسن با ایمان آسن فرماں بردار آسن توبہ کرہونہ آسن عبادت کرہونہ آسن روزہ دار آسن بعضی وورزہ آسن بعضی انہرشہ آسن بعض مصلطن گن نظر کرت چھو زنانہ وورز آسن تہ مرغوب کیا زہ سہ چھہ سلیقہ و امین تہ تجربہ کار آسان ای آوصفتن اندر بیان کرنہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا وَّقُوْذَهَا النَّاسُ وَاِلْحَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ای با ایمانویلہ حضرت رسول کریمہ سنزن ازواج طاہراتن تہ کانسہ چارہ چھہ عبادت تہ عمل کرنہ وراہی تمن تہ آو بذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنہ توہ تہ محو حکم

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۶﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا جُزُونَ مَا كُنْتُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا  
عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

یوان کرنے کہ توه نہ آسیو پند نس عیالس تبلیغ کران عیالس تبلیغ کرن چھو واجب پر تھہ مسلمانس چھو لازم  
پانہ تہ عمل کرن پنون عیال تہ عمل کرہ ناؤن دنپہ وتہ پیٹھ انن وارہ وارہ فکرہ تارنہ سیت ماردنہ سیت  
وعید شدید بوزہ ناوتھ کھوڑہ ناونہ سیت پیار کرنہ سیت غرض پر تھہ طریقہ گڑھن تم سمجھاؤن لہذا  
بچاویو کھہ بہن پان تہ پنون عیال تہ نار جہنمہ نشہ ہتھ نارس ہرہ ہنہ آیہ لوکن تہ کنیو سیت یمہ کنہ ژین ہند  
پاٹھ دزان چھہ پان بچاون گوپانہ فرماں برداری کرن عیال بچاون گوتم گڑھن خدا یہ سند احکام پھہ ناؤن  
بیہ تمن احکامن پیٹھ عمل کرہ ناؤن عَلِيهَا مَلِكَةٌ غَلَاظِيْشِدَا اِذْ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ اِلَّا مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ  
مَا يُؤْمَرُوْنَ ہتھ نارس پیٹھ مقرر تہ معین چھہ کرنہ آمت ژ کھیل مضبوط قدا قاتور ملایک تم نہ کنہ  
قسمہ رحم کرہ وئں چھہ یا مین سیت نہ کانہہ مقابلہ ہیچہ کرت یم نہ اکس ذرس برابر خدایہ سنزنا فرمانی  
کران چھہ کنہ کھمس اندرئس کھم تمن کرنہ یوان چھوئس حکم اللہ تعالیٰ کران چھگ تھہ چھہ تم فوراً بجا  
انان نہ چھہ تعمیل کھم کرنس اندرئستی تہ تار کران تے ملایک وائتہ ناؤن کافرن نار جہنمسن اندر تھی وقتہ  
آیہ تمن ونہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ اے کافر وازمہ کریو توه عنہ قسمک عذر پیش کیا زہ  
تھہ چھو نہ فاندہ کنہ تہ اِنَّمَا جُزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کیا زہ توه چھو تمکوئی سنرا یوان دنہ یہ توه کران  
آسودہ دنیاں اندر امہ پتہ چھو بیان یوان کرنہ امہ نار جہنمہ نشہ ہتھ کیو کیاہ صورت چھہ تھی وینو توه پنہ نس اہل  
وعیالس۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا اے باایمانو توه کریو خدا یس بروئھہ کنہ پوز  
توبہ یعنی دلس منزہ پوز تہ کامل ندامت تمن گنہن پیٹھ یم از تام کرمت چھوہ آئندہ کریو پختہ عزم  
گناہ تراؤنس پیٹھ امہ توبہ کہ برکتہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ امید چھہ یعنی وعدہ چھو توه ہند پروردگار کرہ توه ہندین گنہن عفو بیہ وائتہ ناوہ توه جنتہ کین



مَنْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا  
نُورَنَا وَاعْفُرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ  
الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ  
الْبَصِيرُ ۝ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمُرَاتِ نُورٌ وَ  
الْمُرَاتِ لُوطٌ ۝ كَانَتْ تَحْتَهُ عِبْدِينَ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ

تمن باغن اندر یمو بون کن کوله ته جو به پکان آسن یوم لا یخزی الله النبى والذین آمنوا معہ یہ گوئی  
دو به الله تعالی عزت دیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تمن لوکن یمو ایمان ان تمن سیت یه  
ساته میدان محشر پته پل صراط پیٹھ تم با ایمان ترن هین نوزهم یسعی بین ایدیهم وایمانهم با  
ایمان آسہ نور ہین دوران تمن بروٹھ کن ته به تمن دچھن کن ته یقولون دعاء آسن کران ربنا  
اتم لنا نورنا واعفر لنا انک علی کل شیء قدير ای سانہ پروردگارہ سانہ خیطرہ پوشہ نادون یہ نورسون  
یوتھہ یہ و ته منزلی ژھتیه گڑھ بہہ کر آسہ مغفرت پیشک ژھ ھٹھ پر تھ چیزس پیٹھ قدر ته وول یا ایھا  
النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیہم و ما ولہم جہنم و بس البصیر اے نبی کریم جہاد کریو  
کافرن سیت سلاح و سامانہ سیت بہہ کریو مناقش سیت جہاد زیوہ سیت دلیلو سیت بہہ کریو تمن پیٹھ سختی  
دنیاس اندر کیازہ تم چھ تھہ مستحق ته سزاوار آخرتس اندر چھ تہنز جای نار جنم سہ چھ سیٹھاہ سخت  
یچھ جای تہمہ روزنہ خیطرہ ضرب الله مثلا للذین کفروا والمرات نور و المرات لوط اللہ تعالی ان  
فرماواکھ مثال کافرن ہندہ عبر ته خیطرہ نوح علیہ السلام سنزہ گھر واجنہ ہنز بہہ لوط علیہ السلام سنزہ  
گرواجنہ ہنز۔ کانت تحت عبدين من عبادنا صالحين تمہ دوشوئے زنانہ آسہ سانیو بندواندرہ  
خاص دون نیوکا کار بدن ہندس نکاحس تل فحانتہما تمودوشوی زنا نوکر تمن دوشوئن صاحبین ہيوند

فَخَانَتْهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ  
 مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝۱۵ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ  
 فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِخْتِي مِنْ  
 فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَبِخْتِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۱۶ وَمَرْيَمَ  
 ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَدَتْ فَرجَهَا فَفَخَنَفْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا

حق ضایع کیا وہ تہیز کر کھنہ فرماں برداری سے تابعداری تمہ دو شوے زانہ آسہ منافق بظاہر آسہ  
 تمن سیت لیکن دلہ سیت آسہ کافرن سیت فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا پس آئے نہ تم دو شوے  
 نیک بندہ کئے بکار اللہ تعالیٰ اس بروئہ کئے تمن دون زنانن وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ چنانچہ تمن  
 دو شوے زنانن آو حکم کرنے کفرہ سببہ اثریو توہیہ دو شوے عام کافرن سیت نارہ تمنس اندردون بیخبرن  
 سیت رشتہ آسنن دو کھنہ کانہہ فایده وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ بیہ فرماو  
 اللہ تعالیٰ ان بیاکھ مثال با ایمان ہندہ تسلی خیطرہ فرعونہ سندن باژن ہنز حضرت آسیہ بنت مزاحم  
 سنز إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَبِخْتِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَبِخْتِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یلہ  
 تمود عاکر عام حالانن اندر یایلہ تمواکس خاص حالس اندر عاکر بیمہ ساتہ فرعونس معلوم سپد تہندہ با  
 ایمان آسنگ تم دیوت حکم یہ کڈیون ننس تا پس تو پتہ ہما سیوس اتھن کھورن چہار میخ سنس پیٹھ  
 تاویوس گرچہ بو نیم کن نتھہ حالس اندر مونگ تمویہ دعاء پروردگار میانہ خیطرہ کر بنا جنس اندر پنہ  
 نس قریس اندر اکھ گراہ بیہ دہ مہ نجات فرعونہ سندہ شرہ نشہ بیہ تہنزہ و کفرہ چوکا میونشہ بیہ دہ مہ  
 نجات سارئی ظالمین یعنی کافرن ہندہ شرہ نشہ یلہ تمویہ دعامونگ تمنس آو جنس اندر سوہنن گرہ ہاونہ  
 بیہ سیت نہ تمنس سو تکلیف بوزنے آو وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَدَتْ فَرجَهَا فَفَخَنَفْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا

## وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا مِنَ الْقَنَاتَيْنِ ۚ ﴿۱۷﴾

رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا مِنَ الْقَنَاتَيْنِ ۚ بے چہہ اللہ تعالیٰ ان مسلمان ہندہ تسلی  
 خیطرہ حضرت مریم یوصہ صا جز او چہہ حضرت عمرانہ سنز مثال بیان فرماو مشریمہ پن ناموس نہ  
 عصمت حلال و حرام دوشوئے چیز و نشیہ محفوظ تہو و پس واتہ نو واسہ تمن منز پن روح یعنی عیسیٰ علیہ  
 السلام بے کر تمو تصدیق پنہ نس پروردگارہ سنڈین پیغامن یم تمن نشیہ ملائکن ہندہ ذریعہ واتہ ناوہ  
 آئے بے کر تمو تصدیق پروردگارہ سنزن کتابن یعنی تورات و انجیلس بے آس سہ واقعی اطاعت و فرماں  
 برداری کرہ و نیواندرہ





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
 قَدِيرٌ ① الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ  
 عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ② الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا  
 مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ

تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ سوپروردگار چھو سیٹھاہ عالی شان تہ برکتہ وول تسمندس قبض منز چھہ  
 ساری پادشاہی تہ حکومت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیہ چھو سوپر تھ چیزس پیٹھ قدرتہ وول  
 الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ایم پروردگارن مرن تہ زندہ روزن پیدہ کز  
 یو تھ سو توہ آزمائش کرہ کہ توہ اندرہ کوہ چھوڑت عمل کرنس اندر تہس چھو دخل رثہ عملہ اندر تھہ  
 پاٹھ کہ موتک خیال تہاو تھ چھو انسان دنیاں فانی زانان مرنہ پتہ بیہ زندہ سپدنہ کہ اعتقادہ سیت چھو  
 آخرتس باقی زانان بیہ چھو آخرتک ثواب حاصل کرنہ خیطرہ بیہ تہ کہ عذابہ نشہ پچہ خیطرہ مستعد  
 روزان اتھ پاٹھ چھو حیاتس تہ عمل کرنس اندر دخل یمہ اعتبارہ کہ حیات نئے آسہ عمل تھہ اندر کرہ  
 شخص ہذا چھو حیات عملہ ہندہ خیطرہ نمبر لہ طرف چونکہ موت پچھنہ عدم محض چیزاہ بلکہ چھو وجودی  
 لہذا آواتھ پیٹھ مخلوق آسنگ حکم کرنہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ بیہ چھو سوپروردگار زبردست تہ غالب  
 پچھ عملن پیٹھ سزاء دیوہ وون تہ سوی چھو گنہن مغفرت کرہ وون تہ در گذر کرہ وون تہ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ  
 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ایم پروردگارن تھہ آسمان پیدہ کر اھ کس پیٹھ چنانچہ حدیث شریفس منز چھو آمت ا کہ  
 اھ آسمان چھو بیس آسمانس پیٹھ گن تمہ پچھن گن چھو تریم آسمان اتھہ پاٹھ چھہ ست ستوئے آسمان ا کہ  
 آسمانہ پیٹھ چھہ بیس آسمانس تان پانزن تہن ور ہنی ہنز مسافت مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ ای

تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ ۳ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ  
 الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۴ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا  
 بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ  
 عَذَابَ السَّعِيرِ ۵ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ  
 وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۶ إِذَا أَلْقَا فِيهَا سَمْعُوهَا شَهِيقًا وَهِيَ  
 تَفُورٌ ۷ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۸ كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ

آسمانس کن وچہ ونہ ژہ لہکنہ حضرت رحمانہ سزہ اتھہ کارگیری تہ صنعتس اندرئہ قسمک خلل نقصان  
 تہ فرقہ نئس چیز یوتھہ شوبہ ہاسو کرن تھوی پیدہ فارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ بلا تامل آتھہ  
 ژہ واریمہ پھرہ اتھہ کن نظر دژ مشورتن دتہ ژہ تأملہ سان بیہ اکھ نظرہ اتھہ کن ژہ چھویہ بوزنہ یوان  
 اتھہ منز کانہہ خلاہ یا پھر اٹاہہ پھرہ اہ یارماہہ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ توپتہ دتہ پھیر پھیر نظرہ کانہہ  
 رخنہ تہ عیبہہ تلاش کرنہ خیطرہ مگر کنہ تہ اندنہ یَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ آخر کار آئیہ  
 نظر ژہ کن پوت پھیرت وکہ زدگوہت تہ لوسیتھہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَا  
 رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ بیہ چھہ سانہ قدر تج بد دلیل کہ آسہ دیوت زینت تہ لہلاو کھ تلہ کس آسمانس  
 ژانگیویجنے ستاروسیت بیہ کراسہ تم ستارہ کنہ شیطان یم ملائکن ہنزن کھن کن ونہ کھسان آس، دفع تہ  
 دُور کرنہ خیطرہ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ بیہ چھہ امہ علاوہ آخرتس اندر تھندہ کُفرہ سببہ تھندہ  
 خیطرہ تیار تھوت جھنمک عذاب، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ بیہ یم  
 لوک پنہ نئس پروردگارہ سندس کن آسئس انکار کران چھہ تھندہ خیطرہ تہ چھو دوزخک عذاب سہ چھہ  
 سیٹھاہ بیچہ جای إِذَا أَلْقَا فِيهَا سَمْعُوهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورٌ یلہ تم لوک تھہ منز تراونہ ین تم بوزن  
 تج اکھ سخت خوفناک کریکھہہ درحالیتمہ سو آسہ گرزان تہ گرتہ گرتہ کران۔ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ سو  
 آسہ تھہ پاتھہ جوش ماران کہ معلوم آسہ سپدان کہ ون تہ ون ما پھہہ ژکھہ سیت یوسہ تس آسہ مٹھر کن تہ

خَزَنَتَهَا اَلَمْ يٰۤاَيُّكُمْ نَذِيْرٌ ﴿۸﴾ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاۤءَنَا نٰذِيْرٌۭ ؕ فَكَلِمٰتًا  
 وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ﴿۹﴾  
 وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيۤ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿۱۰﴾  
 فَاَعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ ۗ فَسُحْقًا لِاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴿۱۱﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ  
 يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿۱۲﴾ وَاَسْرُوْا  
 قَوْلَكُمْ اَوٰجِهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۭ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۳﴾ اَلَا يَعْلَمُ

کافر ہنر کُلَّمَا اَلْقٰی فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يٰۤاَيُّكُمْ نَذِيْرٌ ۙ یلہ یلہ تھہ جہنم منتر ترانہ آسہ  
 یوان کافر ہنر اکھ جماعتہا تم ن آسن پر ترهان تمک داروغہ کیا توہ نس واثر ونا کانہہ نیم کرہ ون پیغمبرہ  
 نیم توہ نیم آسہ ہیو کرمت یمہ نار جہنمک یہ سوال آسن تم تم ن کران بطور زجر و توبخ قَالُوْا بَلٰى  
 قَدْ جَاۤءَنَا نٰذِيْرٌ ۙ تم کافر دیکھہ واقعی آئیو آسہ نشہ پیغمبر قَلِمٰتًا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ  
 اِلَّا فِي ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ مگر شامتہ نہ کارہ زان آسہ تم اپزیر اسہ ڈپ تم ن پیغمبرن کہ اللہ تعالیٰ ان چھنہ  
 نازلی کرمت از قسم کتاب یا احکام کنہ توہ چھوہ وجہ غلطی اندر ہمت وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا  
 فِيۤ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۙ بیہ ون تم کافر جہنمہ کین داروغن ہر گاہ اسہ پیغمبرن ہیو ندون یوزمت آسہا فکرہ  
 تورمت آسہا س کتہ آسہ ہوتلہ شامل دوزخہ کین لوکن اندر فَاَعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ فَسُحْقًا لِاَصْحٰبِ  
 السَّعِيْرِ پس کرن تم پندہ جرمک اقرار پس یوین لعنت جہنمکین لوکن اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ  
 بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۙ پڑاٹھ نیم لوک پندہ نس پروردگار س وچھنہ وراى کھوژت ایمان  
 واطاعت اختیار کرن ہندہ خیرہ چھو بوڈ مغفرت تہ بد مزور مقرر کرنہ آمژ وَاَسْرُوْا قَوْلَكُمْ اَوٰجِهَرُوْا  
 بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۭ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ۙ ای لوکو توہ لو تہ پاٹھ تھہ کر تو یا بدہ بد کر تو تس چھ سارنئی چیزن ہنر خبر  
 کیاہہ سو چھو دلن ہنرہ تھہ تان پور زانان اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِيْفُ الْحَبِيْرُ ۙ کیا سو پروردگار نیم  
 یہ انسان پیدا کر گوز ہنر زانن تمسد سوروی حال سوئی چھو ساری پو شیدہ چیز زانہ ون سوئی چھو پور بانجر

مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۳﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ  
 الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ  
 النُّشُورُ ﴿۱۵﴾ ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ  
 الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿۱۶﴾ ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ  
 يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿۱۷﴾ وَلَقَدْ  
 كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۱۸﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ سو چھو  
 تتھوی منعم یم توہندہ خیطرہ گریہ زمین رام تہ مسخر سو چھو توہند ساری تصرفات قبول کران پس پھیر  
 یو توہ مچن وتن اندر توپتہ کھیو خدایہ سند سوزق نئس تم اتھ ز مینس اندر پیدہ کزلتہ طریقہ حاصل کورت  
 مگر یمہ کتھ ہیوند تہا یو وارہ خیال کہ تس ن چھوہ پتولا کہ واتن دوبارہ زندہ سیدت لہذا کرویو تھزن نئسن  
 ہنز شکر گذاری ایمان و اطاعتہ سیت۔ ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا  
 هِيَ تَمُورُ اے لو کو کیا توہ چھوہ تس ذات پاکس نشہ صوکھس اندر بے خوف سیدت یسند حکم تہ  
 تصرف چھو آسمان اندر سو کیا والہ توہ قارونہ سند پاٹھ ز مینس تل پس ایہ تھہ ز مینس ی نیول بیہ  
 دو تھیس نٹھ توپتہ سیدس تلگ پیٹھ یعنی ای لو کو توہ پھیر یو تہ پچھو اتھ ز مینس پیٹھ کھیو خدایہ سند رزق  
 مگر مغرور گتھ مہ سید یو غافل تہندہ یادہ نشہ ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا  
 کنہ توہ لوک چھوہ بے خوف تہ صوکھس اندر تس ذات پاکس نشہ یسند حکم تہ تصرف چھو آسمان اندر  
 یمہ کتھ نشہ کہ سو کیا سوزہ توہ ن سخت تیز وادیتھ منز کنہ پھل تہ آسن قوم عادک پاٹھ یمہ سیت توہ تہ  
 ہلاک گتھ ہیو۔ توہندہ کفرہ موجب گوٹھ توہ تی بن و سن ہر گاہ کنہ مصلحتہ سبہ تھہ منز تاخیر سیدان چھو  
 سردست توہ پیٹھ عذاب تھنہ نازل سیدان فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ مگر عنقریب تگہ توہہ زانن کہ  
 میون بیم کرن تہ کھوٹہ ناون عذابہ نشہ کیو تھ اوس۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ

إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَيَقْبِضُنَّ مَا يَسْكُهِنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ  
 إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۱۹ ۝ آمَنُ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُكُمْ  
 يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونَ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكُفْرَانَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۲۰ ۝  
 آمَنُ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا  
 فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۲۱ ۝ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ  
 أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۲۲ ۝

نیکو بے شک یمولو کو یمن بروئھ دین حقس اپر گزرت انکار کرو چھو میوں عذاب تھہ پاٹھ سپد تمن پیٹھ واقع آسماج تہ زنج ذکر کر نہ پتہ چھہ بیان کران زمین و آسمانس ورمیان ئیس فضا چھو تھہ منز تہ چھہ میانہ گن آسجہ دلیلہ اولہ یروا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَيَقْبِضُنَّ کیا تمولو کو دژنا نظر یانس پیٹھ گن وڈہ وین جانورن گن یم یمنن پر مرثراوتھ وڈان چھہ بیہ چھہ پروئھ تہ وڈان دوشونن حالتن اندر چھہ تم باوجود ثقل تہ گو بیر آسجہ پتھر بیوان مَا يَسْكُهِنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ کانہہ تہ چھہ تمن ہواءس اندر معلق تہوان رحمتہ والس خدائس وراى إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ بے شک پر تھہ چیزس کنن چھہ تس نظر ا تھہ پاٹھ خوش کر یس تھہ پاٹھ چھو تھہ منز تصرف کران وکن یلہ تہ بوزوہ کہ خدایہ سند تصرفات چھہ پر تھہ چیزس پیٹھ آمَنُ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونَ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكُفْرَانَ إِلَّا فِي غُرُورٍ وکن و نتوتوہ کہ حضرت رحمانس وراى کوہ چھو تہ ئیس تہ لشکر بنت بلا یوتہ آفتونشہ نجات دلس اندر مدد ہسہ کرت کافر یم پتہ نین معبودان باطن نسبت یہ خیال تہاوتھ چھہ تم چھہ بالکل دھوکس منز آمَنُ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ایتہ و نتوتوہ لوک کہ سو کوہ شخص چھو ئیس تہ رزق ہیسہ دت ہر گاہ اللہ تعالیٰ بند کرہ تہ نشہ پنون رزق مگر یمن لوکن چھہ یمو کتھوسیت تہ کانہہ اثر سپدان بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ بلکہ تم روڈاڈ کرت سرکش تہ ژنلس پیٹھ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہ تھہ بوزت سوچیوارہ کیا سو شخص لیس و تہ ہندہ



قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ  
 وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۳۳﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي  
 الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۳۴﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ  
 إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۵﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا  
 نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۳۶﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ

ناسہ تر اس آسنہ موکھ کونت لگان آسن تہ سو آسہ بو تھکن پیوان پیوان پکان سو چھا منزل مقصود سو  
 پیٹھ زیادہ واتون بہنہ سو شخص چھولیس سیزہ تہ ہمواروتہ پیٹھ پکان آسہ یسوی حال چھو با ایمانس تہ کافرہ  
 سہد با ایمان چھو پکان صراط مستقیمس پیٹھ افراط و تفریط و رای کافر چھو گمراہی ہند یو کھوڑو پیٹھ پکان تھ  
 اندر جایہ جایہ خطرے تھس سو کیاہ ہیکہ واتھہ منزل مقصود سو اتان آسہ توحیدہ چہ دلیلہ بیمہ نبر نبر  
 چھ امہ پتہ چھ تمہ دلیلہ بیان یوان کرنہ بیمہ انسانس پانس اندر چھہ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ  
 لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ توه فرما یو کہ یار سول اللہ سو پروردگار گو سوی  
 قدر تہ وول تہ نعمو عطا کرہ ون یم توه پیدہ کرہ بیمہ بوزنہ خطرہ کن و چھنہ خیطرہ اچھہ زاننہ خیطرہ دل  
 عطا کر توه یمن نعمن پیٹھ پزہ ہاتوہ سٹھاہ شکر دہن مگر توه چھوہ سٹھاہ کم شکر دین یمن نعمن ہیوند شکر گیو و  
 کہ یم طاقت تہ قوت گڑھہ استعمال کرنہ تعنی جاین اندر یمن منزل اللہ تعالیٰ سند رضا آسہ تہ کرہ نہ توه  
 قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ توه فرما یو کہ اتہ کہ سوی چھو سو پروردگار یم  
 توه پیدہ کرت روی زمینس اندر چھکر اوو تو پتہ آو توه بیمہ تس نشہ جمع کرنہ تہ سزا ونہ لیس نشہ آوہ تس  
 نشہ چھو توه بیمہ واتن توه اوس لازم تس نشہ گوڑھنہ اکس دمس تہ غافل روزن پر تھہ وقتہ گڑھہ توه فکر  
 آسن کہ اس کیاہ گڑھو پنہ نس مالکس نشہ اس کمہ لا تھہ واتو تس نشہ اتھہ چھنہ کافر ن پڑھی و يَقُولُونَ  
 مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تم چھہ دپان یہ قیامتک وعدہ کر ایہ لبند ہر گاہ پزیر چھوہ توه قُلْ  
 إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ توه فرما یو کہ جواب کہ امہ قیامتہ تعینک علم چھو خدا ایسی

كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴿۲۷﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ  
 إِنْ أَهْلَكَنِى اللَّهُ وَمَنْ مَعِىَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكٰفِرِينَ  
 مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿۲۸﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اُمْتَابِهٖ وَعَلَيْهِ  
 تَوَكَّلْنَا ۗ فَسْتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِى ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿۲۹﴾ قُلْ

یو تھ ہو چھس محض نن پاٹھ تو ہندہ خطرناک مستقبلک نیم کرہ دن فَلَئِمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ  
 الْكٰفِرِيْنَ كَفَرًا وَاوْقِيْلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ پس یلہ سو ہولناک مستقبل یعنی سو عذاب  
 سمیوک تمن وعدہ تمانہ چھو یوان و چھن تم کھتل واتان تھہ کن نظر پوہ ونوی بخرن تمن کافرن ہند  
 بو تھ شگلہ ذلحھ ونہ اکیہ یسوی کیا گو سو عذاب یس توہ جلد زہانڈان آسیو قُلْ اَرٰیْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِى اللّٰهُ  
 وَمَنْ مَعِىَ اَوْ رَحِمْنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ توہ فرما یو کہ یار رسول اللہ ای کافر توہ ونوہ  
 ہر گاہ اللہ تعالیٰ توہنزہ خواہشہ موجب مہ بیہ نیم با ایمان مہ سیت چھ تمن ہلاک کرہ یا ہر گاہ سوسانہ  
 و میز موجب تہ پنہ نہ وعدہ موجب اسہ پیٹھ رحم کرہ دوشوئن حالن ہونہ کیاہ اثر چھو توہ پیٹھ توہ ہو خبر  
 پنہ نی حاجت توہ کیاہ بنوہ یعنی کافرن چھو بہر حال عذابس گرفتار سپدن تمن کوہ بیہہ موکلات دودتہ دگ  
 تلہ ونہ عذابہ نشہ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اُمْتَابِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا توہ فرما یو کہ یار رسول اللہ ایہ کہ سو معبود  
 برحق چھو سیٹھاہ رحمتہ وول اسہ چھہ پڑھہ کر مرثتہ ایمان اتس ایمانہ کہ برکتہ دیہ سو اسہ نجات بیہ  
 چھہ اس تس پیٹھ اعتماد تہ توکل کران تمہ کہ برکتہ سپد وامن مقصدن اندر کامیاب اسہ رچھہ سو  
 آخر تک عذابہ نشہ تہ دنیا کیو حادثا تو نشہ تہ فَسْتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِى ضَلٰلٍ مُّبِينٍ یلہ توہ عذابس گرفتار  
 گوہیو تہ اس روز تمہ عذابہ نشہ محفوظ تہی ساتہ سپدہ توہ معلوم کوہ چھونہ گراہی اندر اس آسوہ نیس توہ  
 خیال چھو کہ نہ توہ آسیو بیہ سون عقیدہ چھو قُلْ اَرٰیْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يٰۤاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ  
 توہ فرما یو کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتہ کہ ای لو کو ہر گاہ توہند آب نیس چشمو تہ کیر یو منزہ  
 نیران چھو ہر گاہ بیہ شریعت گوہہ ز مینس منکر بیہ تہ ناگ توہند گوہن خشک ادہ کوہ بیہہ انقی توہ آب جاری

# أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصَبَكُمْ مَا وَكُمُ غَوْرًا فَمِنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿۳۰﴾

حدیث شریف من چھو آمت کہ نِسْ شخص سورہ ملک پرہ تہ پتہ پرہ یہ آیہ کریمہ (قُلْ أَرَأَيْتُمْ) الخ سوہر ان اللہ یاتیناہ و ہورب الغلین مگر یہ چھوہرہ ونسی پر ن بوزہ ونین نہ کنہ کیازہ لفظ حدیث و چھو من قرأ یہ لفظ چھنہ من سمع اتھن نظر کرت چھو اما سی پر ن مقتدین نہ کنہ۔



## سُورَةُ الْقَلَمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۱ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ  
 بِمَجْنُونٍ ۲ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَسْنُونٍ ۳ وَإِنَّكَ  
 لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ ۴ فَسَبِّحْهُ وَابْحِرْهُ ۵ بِأَيْتِكُمُ الْمَفْثُونِ ۶  
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

ن پروردگاری چھو معلوم امہ اندرہ کیاہ چھو مراد وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ قسم چھو تلمک یمہ  
 سیت مخلوقا تن ہند تقدیر لوح محفوظس پیٹھ لکھنہ آمت چھہ بیہ چھو قسم تمن ملاکن ہند لکھنک یم  
 لوکن ہنزہ عملہ لکھان چھہ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ توه نہز چھو نہ پنہ نس پروردگارہ سندہ  
 فضلہ سیت مت تہ دیوانہ پٹھ پاٹھ تہودہ نبوتک منکر و نان چھہ غرض چھو کہ تہوہ چھوہ نبی برحق شک و  
 شبہ و رای وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَسْنُونٍ بے شک تہو نہ خیطرہ چھو لوکن تبلیغ احکام کرنہ خیطرہ  
 لوکن ہنزہن پچھہ کتھن پٹھ صبر کرنہ خیطرہ سو بوڈ ثواب لسنہ زاہ و برہون چھو وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ  
 بیہ چھوہ تہوہ بے شک رتین خلقن ہندس اعلیٰ پیما نس پٹھ پیدہ کرنہ آمت تہو ہنز پرت کامہ چھہ اعتدال س  
 پٹھ مجنونس کتھہ چھو آسان کاین اندر توازن تہ اعتدال دشمن تہو نہ یم امہ قسم کچھ کتھہ و نان چھہ تمبوک مہ  
 برویو تہوہ کانہ غم فَسَبِّحْهُ وَابْحِرْهُ \* بِأَيْتِكُمُ الْمَفْثُونِ عنقریب و چھو تہوہ یار رسول اللہ بیہ و چھن تم تہ کہ  
 تہوہ اندر گس چھو مجنون تہ دیوانہ جنوچ حقیقت چھہ عقل زائل گوٹھن عقلہ ہونہ غایت چھو نفع و نقصان  
 فکرہ ترن نقصان گو سوی لیس ابدی آسہ لیس پنہ قیامتک دہہ تمن تہو نہن دشمن کہ عاقل تہ گائل  
 آس با ایمان یمو یہ نفع ابدی حاصل کر مجنون تہ دیوانہ آس کافر یعنی بیہ دشمن یم امہ نفع ابدی نشہ  
 محروم سہدت ضرر و نقصان ابدی لیس بتلا سپد۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ ۴ فَلَا تَطْعِ الْمُكْذِبِينَ ۵ وَذُو الْوَتْدِ هُنَّ  
 فَيْدُ هُنُونَ ۹ وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلَاكِ مَهِينٍ ۱۱ هَمَّازِ مَشَاءٍ ۱  
 بِنَمِيمٍ ۱۱ مَنَاءٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْشِيمٍ ۱۲ عَتَلٌ أَعْدَا ذَلِكَ زَنِيمٍ ۱۳  
 أَنْ كَانَ ذَامَالٍ وَبَيْنِينَ ۱۴ إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ الْيَتْنَا قَالَ  
 أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۱۵ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ۱۶ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا

بِالْمُهْتَدِينَ بے شک تموند پروردگار چھوٹے شخص وارہ زمانان یس ہنزہ وہ تہ نشہ ڈول سوی چھوہ وارہ  
 زمانان سیزہ وہ پٹھ پکھ وکن لہذا دیہ سوی پرت کانہ جزاتہ سزاوین یلہ تہ سپد معلوم کہ تہ چھوپرز  
 پٹھ تموند دشمن چھ اپرز پٹھ۔ فَلَا تَطْعِ الْمُكْذِبِينَ پس مہز مانیو تہ یمن مکر ہنزہ تھہ پٹھہ پٹھہ نہ  
 ازتان مونو کہ وَذُو الْوَتْدِ هُنَّ فَيْدُ هُنُونَ تم چھہ یڑھان تہ گزہ ہیو نعوذ باللہ پنے نس فرض مٹھیس  
 یعنی تبلیغس بت پرستی ہندس تردیدس منز ہندہ رعایہ خیطرہ ہناہ نرمی کرن تلہ کر ہن تم تہ تہ ہندس  
 مخالفس اندر نرمی وَلَا تَطْعُ كُلَّ حَلَاكِ مَهِينٍ تہ مہز مانیو ہنزہ تھہ خصوصاً تھس شخصہ سزہ تھہ نس  
 زیادہ قسم ہوان آسہ نس پنے نیو پچھہ حرکتو مو کہ خدا یس تہ لوکن نشہ بے وقعت تہ ذلیل آسہ۔  
 هَمَّازِ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ یس زر کہ تہ طعنہ دیوان آسہ یس وناون کران پھیران آسہ مَنَاءٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ  
 آیشیم یس رثو کامیونشہ لوکن پتھہ رنہ ون آسہ نس حدہ نشہ ڈلہ ون آسہ نس بدکار تہ گناہ گار آسہ  
 عَتَلٌ أَعْدَا ذَلِكَ زَنِيمٍ یس بد مزاج تہ ڈکھویل آسہ نس امہ ساری علاوہ ولد الزنا تہ حرامزادہ تہ آسہ  
 غرض کہ تہ مہز مانیو ہنزہ تھہ أَنْ كَانَ ذَامَالٍ وَبَيْنِينَ یہہ مو کہ کہ سو کیا آسہ مالہ دول تہ شر  
 گھبر دول یعنی دنیاں اندر آسہ صاحب وجاہت ایتھس شخصہ سزہ تھہ مانہ نہ نشہ چھہ اس تہ ممانعت  
 کران یہہ مو کہ کہ ایتھس شخصہ سند عادت چھو کہ۔ إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ الْيَتْنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ  
 یلہ تمس بروٹھہ کنہ سین آیات پر نہ یوان چھہ سو چھو وناں یہہ چھہ بے سند تھہ یہہ نقل چھہ آمرہ کرنہ  
 بروٹھہ نشہ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ اس کرد داغ عنقریب ہنزہ نشتہ پتھہ یعنی قیامتک دوہ کرو اس

بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿۱۶﴾ وَلَا  
يَسْتَنْتُونَ ﴿۱۸﴾ قَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ ﴿۱۹﴾  
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿۲۰﴾ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ﴿۲۱﴾ أَنْ ائْتُوا عَلَيَّ  
حَرِيكًا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۲﴾ فَأَنطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿۲۳﴾

تہمدہ کفرہ سببہ تہمدس بو تھس تہ نستہ پٹھ سو علامت یمہ سیت تمّن ساری لوک پرزہ ناوان آسن تمہ  
سیت سپن تم وارہ ذلیل تہ رسوا اِذَا لَبَّوْهُمْ كَمَا يَلْبُوْنَ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ بے شک اسہ چھہ یمن مکہ کین  
لوکن آزمائش کر مشاسمان عیش دنہ سیت یتھہ پٹھہ تم مغرور چھہ اس وچھو یم انہ نہ ایمان خدا یہ سندس کن  
آسس کنہ یم کرن ناشکری کفر و شر کہ سیت یتھہ پاٹھہ اسہ آزمائش کر تمّن بروٹھہ باغہ والین (یہ اوس  
اکھ باغہ حبش منزیاتمنس منزامہ باغج آس خبری مکہ کین لوکن تمّن باغہ والین ہوند قصہ چھو یتھہ پاٹھہ  
کرہ تمّن باغہ والین ہوند مول اوس پنہ نہ وقت امہ باغہ کہ میوک اکھ بوڈ حصہ غریبن تہ مسکین اندر  
تقسیم کران یلہ سویمہ عالمہ گوامند یونچو یودوپ یہ سون مول اوس احمق تہ بے عقل کہ یوٹ حصہ  
امہ باغہ کہ آمدنی ہوند اوس مسکین دووان۔ ہر گاہ یہ سوری میوہ اس گرے انوسٹھاہ فاندہ وانہ اسہ چنانچہ  
اتھہ پٹھہ سپدیم متفق۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ \* وَلَا يَسْتَنْتُونَ یلہ تموپانہ وان قسم ہوو کہ محس  
سلہ گوہواس ضرور امہ باغک میوہ ژمنہ خیلہ یہیہ اعتماد و وثوقہ سان ویچھہ یہ تھہ کہ انشاء اللہ پر ن تہ  
گوکھ مشت یلہ امہ کج بجدیتی سہز بہمدین دن اندر قَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ پس  
پھویر راتہ منزی اتھہ باغس تہوندس پروردگارہ سندہ طرفہ اکھ کنوی واوہ پھشاہ یتھہ نار اوس یمہ  
سیت یہ سوری باغ دزت گوونہ آس تم شو نگھتی۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ پس سپد سوباغ زن تھہ  
ساری دروت اوس واینہ اُمت فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ پس ہیوت تموصحس نذرہ تھتھہ اکھ اکس آلودیون  
اِنْ ائْتُوا عَلَيَّ حَرِيكًا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ و تھیو بایو واتو سلہ گرہ زمینس پٹھہ تھوے غرض میوہ  
ژنیک فَأَنطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ پس درائے تمپانہ وان آس لو تہ لو تہ تھہ کران یوتھنہ کانہ بوزہ اَنْ

أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿۲۳﴾ وَعَدَّوْا عَلَى حَرْدٍ  
 قَدِيرِينَ ﴿۲۵﴾ فَلَمَّارَ أَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿۲۶﴾ بَلْ نَحْنُ  
 مَحْرُومُونَ ﴿۲۷﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ﴿۲۸﴾  
 قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۲۹﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى  
 بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ﴿۳۰﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طُغْيَانَ ﴿۳۱﴾

لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ یو تھ نہ توہ نشہ ازاتھ باغس اندر کانہ مسکین تہ محتاج اثر تھ بہ  
 وَعَدَّوْا عَلَى حَرْدٍ قَدِيرِينَ پس درای تم پینہ نہ خیال کانہ نہ دلس پٹھ قدرتہ وال زانت خیال اوسکھ  
 ازد موندہ اس کانہہ سوروی انواس پینہ نوی گرہ فلما رآوہا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ پس یلہ توت واتھ تھ  
 پٹھ نظر پچھ باغہ کس اتھ حالس پٹھ دپنہ لگ اس چھ لگمت خبر کوت اسہ چھہ و تھہ راو مژکیا زیہ پچھ نہ  
 باغ واغ اسہ نظری یوان تو پتہ یلہ اورہ یور نظرہہ وژکھ معلوم سپدک یقینا چھہ یہ سوی جای۔ تمہ ساتہ  
 لگ وندہ نہ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ چھو اس تمہ نعمتہ نشہ محروم سپد مت قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ  
 لَكُمْ تمواندرہ ہس ہناہ جان پچن انسان اوس سولگوکھ دپنہ مہ ونبوہ ناتوہ کہ ایشہ نیت مہ کریو۔  
 مسکین فقیرن دنہ سیت چھہ برکت بنان امی موکھ فر مو اللہ تعالیٰ ان تس جان انسان لَوْلَا تُسَبِّحُونَ تو  
 پتہ دوپ نکھ وکن یہ اتھ سانہ بدیتی ہندہ شامتہ ہنون اوس تہ ہنیوس مگروین کونہ چھوہ کران توتہ  
 خدایس کن توبہ تسد یاد کرنہ سیت تسبیح پرنہ سیت دیوہ اتھ گناہس اسہ معاف کرہ امہ خوتہ زیادہ کانہ  
 تکلیفہ اسہ واتہہ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ چنانچہ ساروی ہیوت پرن توبہ کران کران سون  
 پروردگار چھو منزہ تہ پاک اس چھہ بے شک پان پانس ظلم کرہ ون اسہ کرہ قصور فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى  
 بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ پس پھیرا ڈاؤین کن اکھ اکھ الزام دیون (بہتھ پاٹھ عادت چھو لوکن  
 ہوند کہ کوم خراب گزہت چھہ اکھ اکھ ٹھولہ دووان پانس پٹھ چھو نہ کانہہ بورہوان قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا  
 كُنَّا طُغْيَانَ تو پتہ لگ ساری متفق سپد وندہ کہ افسوس واقعی آس اس ساری حدہ ڈلہ وین یہ چھو

عَسَى رَبَّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿۳۲﴾  
 كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا  
 يَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿۳۴﴾  
 أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿۳۵﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۳۶﴾  
 أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿۳۷﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿۳۸﴾

نہ اسے اندرہ آسمندوی یوت خطا بلکہ چھ اس ساری اتھ اندر خطا کار چھا و اسی سیت نیرہ نہ کنہ نہ اس ساری کروا کہ وہ توبہ عَسَى رَبَّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ شاید توبہ کہ برکتہ ما کرہ سون پروردگار اسہ امہ باغ بدل امہ خوتہ زت باغہ عطا دنیاء س اندر یا س آخرتس اندر امہ اندر چھو سپدان معلوم کہ یم لوک آس با ایمان بخلہ سببہ سپدک بدنیتی یموک سزایہ نقصان تلک مگر توبہ کہ برکتہ کر کہ اللہ تعالیٰ ان دنیا عی اندر امیوک عوض عطا چنانچہ تفسیر روح المعانی اندر چھو عبد اللہ ابن مسعود روایتہ سند قول نقل آمت کرنہ کہ تمن آوامہ و تہ روت باغ عطا کرنہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان كَذَلِكَ الْعَذَابُ تہ پٹھ پٹھ چھ آسان سون عذاب امی مکہ کیو کافر توہ نہ کیا چھو اتھس عذابک مستحق نہ سزاوار بلکہ امہ خوتہ سخت عذابک سزاوار کیا زہ یہ عذاب سمیوک ذکر کرنہ آویہ او تمن کرنہ محض اکس مہمتیس پٹھ توہ چھوہ کفر نہ شرک کران توہ شوبہ امہ خوتہ زیادے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ آخر تک عذاب چھو یمہ دنیا کہ عذابہ خوتہ سٹھاہ بوڈ کیاہ روت اوس ہر گاہ یم کافر اتھ تھ وارہ زانہن۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ بے شک پرہیز گارن ہندہ خیلرہ چھو تہندس پروردگار س نشہ آسانس ہند جنت یعنی جنس واتک سبب تہ ذریعہ چھو تقویٰ تہ پرہیز گاری کافر تہ مشرک چھو امہ نشہ عاری تہ خالی لہذا اتھ پٹھ ہک تم جنس واتھ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ کیا اس کرو کہ فرماں بردار تہ تا فرمان برابر مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ای کافر توہ کیا گوہ توہ کہہ بو تھ چھوہ یہ فیصلہ پانس پٹھ دووان۔ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ کیا توہ نشہ چھاکانہ آسمانی کتابہ



أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ ﴿۱۹﴾ سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمًا ﴿۲۰﴾ أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ فِي مَا تَدْعُونَ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿۲۱﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۲۲﴾

تھے منز توہ پران چھوہ اِن لَكُمْ فِيهِ لِمَا تَحْكُمُونَ بے شک تھے کتابہ منز چھ لکھت تھوندہ خیترہ سو چیزئس توہ پسند چھو یعنی تھے کتابہ منز کیا چھو لکھت کہ آخر تس اندر کیا آہ توہ عطا کرنہ رث مزور اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کنہ اسہ پٹھ چھ ذمہ کھمت کنہ قسم یم اسہ تھوندہ خیترہ ہاومت چھ یم قسم قیاس تان برابر باقی روزہ دن چھ سمنہ پھوئی زانہ یم قسم تھے تھ پٹھ ہاونہ آمت چھ کہ اِن لَكُمْ لِمَا تَحْكُمُونَ بے شک تھوندہ خیترہ چھ تم چیز یم چیز توہ ہ حقہ فیصلہ کری یعنی ثواب تہ جنت سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمًا توہ پر تھتویار سول اللہ تمن کہ توہ اندرہ کوہ چھو امیوک ذمہ دار اَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ کیا تھند ٹہراومت خدایہ سند شریک چھا تمن امہ تھ ہند ذمہ دار کہ تمن کیا بنہ آخر تس اندر ثواب تہ جنت فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ پس کرن تم پیش تمن شریکن ہر گہ تم پوزونان چھ غرض یلہ نہ یہ کونہ آسانی کتابہ اندر تہ چھونہ چھو سانہ طریقہ یمن اتھ پٹھ کانہ وعدہ یس سمنزلہ قسم آسہا نہ چھو امہ تھ ہونہ ذمہ دار یمو اندرہ کانہ بنان نہ تھند یو شریکیو اندرہ پس امہ بے بنیاد تھ ہونہ دعوی کرن یہ دنون کہ وَ لَئِنْ رُجِعْتُمْ إِلَى رَبِّي اِنَّ لِي عِنْدَهُ الْخُسْفٰی یعنی ہر گہ بو خدایس نشہ و اتاونہ یمہ تس نشہ بنہ مہ رث مزور کثیرہ اشرف مناک تھ چھ امہ پتہ چھ اللہ تعالیٰ بیان کران کہ تمن کافرن کثیرہ رسوائی آسہ قیامتک دوہ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سوودہ تہ چھو تئس پاونس قابل یمہ دوہ گریزہ ہیوند تجلی منزاونہ ایہ توپتہ آہ سارئی لوکن سجدس گن ناودنہ یم کافر دنیا س اندر خدایس گن نماں آس نہ یعنی نماز پران آس نہ تم ہکن نہ تمہ وقتہ سجدے دت حدیث شریفس اندر چھو کہ اللہ تعالیٰ نراوہ قیامت دوہ ہنن گرز گرز نراونہ اندر چھو مراد کانہ خاص صفتا تھ کونہ مناسبہ لوکھ گرز آوونہ نہ تھ حدیث شریفس منز چھو کہ یہ تجلی و چھت

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ  
إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿۳۲﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَلِّبُ بِهِذَا  
الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ وَأُمْلِي  
لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿۳۴﴾ أَمْ سَأَلْتَهُمُ اجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ  
مُثْقَلُونَ ﴿۳۵﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿۳۶﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ

دن ساری مسلمان مردی مسلمان زنانه سجدہ ہم شخص دنیا س اندر بین ہاونہ خطرہ سجدہ دوان اس تم ہکن نہ سجدے دتھ تمن گڑھ کمر شتر چ پٹ ہو تم ہیکن نہ بون کن تمھ یہ آسہ امہ تجلیک اثر کہ مخلص با ایمان سپدن مضطر سجدہ دنس پٹھ ریاکارہ منافق کرہ ہن سجدہ دنک ارادہ مگر قدرت لبن نہ تم سجدہ کرنس پٹھ کافرن ہنز چھنہ کتھی خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ تہنزہ اچھ پین شرمندگی سبہ بہ بون کن تمن پٹھ آسہ ذلت نہ رسوائی ولہ آمز امیوک وجہ آسہ ای کہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ یمن اوس دنیا س اندر سجدس کن ناد یوان دنہ یعنی ونہ نہ اوسکھ یوان کہ ایمان انتو معبود برحقہ سنز عبادت کر تو تم آرتہ ور آسٹھ آسٹھ خدا بسز عبادت نہ بندگی کر ان یمن آسن قیامتک دودہ مختلف حالات کونہ وقتہ آسٹھ غیرت غالب سپدت اچھ ہیور کن درہ لگان، نہ کونہ وقتہ آسٹھ غلبہ ندامت ونجالنہ وزہ بون کن پوان فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَلِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ تودہ تراو پومہ یار رسول اللہ سبہ تمن لوکن یم ہتھہ کلامس یعنی قرآن مجیدس اپر گزیران چھ موجودہ حاسی پٹھ تودہ ماہ بانبر یو یمن کونہ چھو جلد عذاب کرنہ یوان اس چھک تم واتانوان پاوہ پاوہ بتدریج جہنس کن تمہ طریقہ کہ ثینہ نے نہ تم کہ تھہ بلا یئ کن چھہ واتان وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ سردست چھوس بو تمن مہلت دوان بے شک میون تدبیر چھو سیٹھا مضبوط نہ محکم أَمْ سَأَلْتَهُمُ اجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ کوتاہہ تعجب چھو یمن ہندس انکار نبوتس پٹھ کیا تودہ چھوہ تمن نشہ تبلیغ ذ دعوت کرنس پٹھ کنہ مزدور نہ عوض منگان پس کیا چھہ تم تمکسی بارس تل لگمت تہود چھنہ ہکان وتھت

رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿۳۷﴾  
 لَوْلَا أَنْ تَدْرَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿۳۸﴾  
 فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۹﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ

أَمْعِنَدًا هُوَ الْغَيْبُ فَهَمْ يَكْتَبُونَ كنه تمن نشہ چھو غیب علم سو محفوظ تھا نہ خیرہ چھہ تم سو لکھان یعنی  
 یمن چھا خدایہ سند احکام بیہ کونہ ذریعہ واتان تا بیجہ یمن کیا چھنہ ضرورت تو ہندہ متابعت و پیروی  
 ہنزیہ کتھ چھہ ظاہر کہ یودوو یو کتھواندرہ چھنہ تمن نشہ کا نہ کتھ ونے یم تھوندس نبوتس انکار کران  
 چھہ کتھ بناعس پٹھ یلہ تو بہ معلوم سپدیارسول اللہ کہ یم چھنہ کفرہ سبہ بہ مستحق عذاب وین یسہ تمن  
 مہلتھ یوان چھہ دنہ سہ چھہ امی موکھ یوتھ ناوتھنز برنہ آیہ مقرر و قس سپدن تم ضرور گر فراعذاب قاصڈ  
 لِحُكُورَبِّكَ پس کریو تہ پنے نس پروردگارس سندس اتھ تجویزس پٹھ صبر وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ  
 الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ دل تنگ سپدنس اندر مہ سپدیو تہ گاڑہ ہنزیہ ہنڈ اندر اثرہ ونس پیغمبرس  
 یونس علیہ السلامس ہی تم سپد دشمن پٹھ عذاب نازل نہ سپدنہ موکھ دل تنگ سو وقت تہ پاپو اثرس یلہ  
 یونس علیہ السلامن پنے نس پروردگارس مونگ دعائتھ حالس منز کہ تم آس وار یمن غمن اندر بو مذمت  
 سو گولا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظلمین لَوْلَا أَنْ تَدْرَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ  
 وَهُوَ مَذْمُومٌ ہر گہ نے احسان خداوندی تمن دسٹگیری کرہ ہانتہ یمن تراونہ متھ حالس اندر متھ  
 حالس اندر گاڑہ ہندہ شحمہ اندرہ کڈت میدانس اندر تراونہ آئیے پیچھ طریقس اندر مگر اللہ تعالیٰ ان  
 کرکھ توبہ قبول سوی گیہ دسٹگیری کرن توبہ قبول کرت ان لکھ نہ روبہ اجتہادی غلطی ہیوندہ آس  
 نہایت بد حالی فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ بلکہ کرتھ یمن پروردگاران برگزیدہ تمن ٹرن  
 زیادہ مرتبہ عطا تم کرن صالحو اندرہ۔ امہ اندر چھہ غرض پنے نہ اجتہادہ موجب عمل کرن کوتاہ مضر  
 سپد ثابت تہندہ حقہ اتھ پٹھ مہز کریو تہ جلدی کافر ن عذاب نازل سپدنس اندر بلکہ کریو تہ صبر تہ  
 توکل تمیوک پھل تہ نتیجہ نیرہ سٹھاہ روت وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَمَّا سَأَلُوا الَّذِينَ كَفَرُوا  
 وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ یم کافر یلہ یہ قرآن مجید تھوندہ زبان مبارکہ بو زان چھہ سخت عداوتہ کہ سبہ

كَفَرُوا لِيَزْلِقُونَكَ يَا أَبْصَارَهُمْ لَمَّا سَبَعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ  
لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

بہ چھہ توه کُن تتهہ پاٹھہ وچھان زن اچھو سیت کھیت ژھہن تهنزہ اچھہ لکنہ سیت ماڈلن تہ نیرت گڑھن  
تسوند پائے مبارک توه ایو پتھر لاینہ چھہ شدت عداوتہ موکھے تم توه ونان نعوذ باللہ موت تہ دیوانہ  
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ حالانکہ یہ قرآن مجید ایس توه تمن پر ان چھوہ یہ چھو ساری جمانہ خیطرہ ہنڈ  
نصیحت تہ وعظ



## سُورَةُ الْحَاقَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 الْحَاقَّةُ ۱ مَا الْحَاقَّةُ ۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۳  
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۴ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا  
 بِالطَّاغِيَةِ ۵ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۶  
 سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمِينَةَ أَيَّامٍ لِحُسُومًا  
 فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى ۷ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۸

الحَاقَّةُ \* مَا الْحَاقَّةُ سو قیامتک وقت کیاہ چھو قیامتک وقت وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ توہ کیاہ چھہ  
 خبر سو قیامتک وقت کوتاہ مشکل تہ ہولناک چھو کَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ قوم ثمودن تہ قوم  
 عادلن زون اپز سوژ ٹیون دوہ ٹیس دوہ آسمانس تہ زمینس زونہ تہ آقباس کمن تہ بالن ٹیٹھ تراوہ بیہ کمن  
 کمن سخت چیزن ریزہ ریزہ تہ سور کرہ تھہ دوہس انکار کرنہ موکھ چھہیہ خبر کیاہ گذریو یمن دو شوئن  
 قومن فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ پس او قوم ثمود گالند جبریل آینہ سزہ کوئی کریکھ سیت  
 تہزہ! ہہ جایہ الراونہ آییہ دت دیس پیہ۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ قوم عادلین اوس سو  
 او گالند سخت تہ تیز واوہ سیت لیس بے قابو سپد مت اوس سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمِينَةَ أَيَّامٍ  
 حُسُومًا ٹیس واو مسلط کرنہ او تمن پیٹھ برابر ستن راتن تہ آٹھن دوہن پے در پے فَتَرَى الْقَوْمَ  
 فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ای مخاطب ہر گہ ژہ تمہ وقتہ تھہ جایہ موجود آسکھ ژہ وہ چھہن  
 سو قوم زمینس پیٹھ ویس پومت زن تم کھو کھرن خضر کولین ہند بو نیم حصہ آس قد بلند موکھ آکھ خضر

فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ۸ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ  
 وَالْمُوتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ۹ فَعَصَا رَسُولَ رَبِّهِمْ  
 فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ۱۰ إِنَّا لَنَاطِقُا الْمَاءَ حَمَلُنكُمْ  
 فِي الْجَارِيَةِ ۱۱ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكَرَةً وَتَعِيَهَا أذُنٌ وَأَعْيَاءٌ ۱۲  
 فَإِذَا نَفَخْنَا فِي الصُّورِ نَفْحَةً وَوَاحِدَةً ۱۳ وَحَمَلْنَا الْأَرْضَ

کولین سیت تشبیہ دنہ **فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ** پس چھویہ ژہ اے مخاطب تمواندرہ کانہ درینٹھ یوان۔ یعنی تمواندرہ رودنہ اکھ تہ باقی تم ای مولہ مونجہ صفحہ ہستی نشہ نیست ونا بود کرنہ تموند بیول تان آوگانہ **وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُوتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ** اتھہ پٹھہ آو فرعون بیہ یم لوک تس بروٹھہ آس قوم نوح بیہ قوم لوط یمن ہزنن جاین تہ بستین تلوک پٹھہ آو کرنہ بدبڈ قصور تہ مجرم ہست یعنی کفر تہ شرک تمہ خیطرہ سوز آسہ تمن کن ہینن پیغمبر۔ **فَعَصَا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً** مگر تموکرتس پنہ نس خدایہ سدس پیغمبرہ سزنا فرمائی کھر وشرک نشہ روزنہ پتھہ بیہ کرکھ قیامت تہ انکار پس رٹ تم اللہ تعالی ان سٹھہ سختی سان۔ تمواندرہ قوم عادو ثمود تھوند قصہ کو بیان کرنہ وین چھو یوان بیان کرنہ قوم نوح متعلق **إِنَّا لَنَاطِقُا الْمَاءَ حَمَلُنكُمْ فِي الْجَارِيَةِ** یلہ نوح علیہ السلامہ سندہ وقتہ آس یوپ کھوت عالم سہت غرق تھند یو کو ہو پٹھہ کن گو آب تہ تجربہ گزرتہ ساتھ کھاروہ اسہ توہ ناوہ اندر یعنی تمہ وٹک تھوند آباء واجداد یم با ایمان آس کیا زہ تمن نجات ہون سپد باعث توہندہ وجودک تمن نے نجات بنہ ہاتھوند وجودی آسسانہ کونہ باقی نافرمان تہ کافر پھالواسہ ساری **لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكَرَةً وَتَعِيَهَا أذُنٌ وَأَعْيَاءٌ** تاکہ اس بٹھہ کرون یہ معاملہ توہندہ خیطرہ اکھ یادگار راہ تہ عبرتک سبہ بہ بیہ یو تھہ ژتس تھاروہ ون یہ واقعہ پور ژتس تھاون یعنی یو تھہ لوک یہ کتھہ ژتس تھاروہ تھو نافرمانیو نشہ پتھہ روزن یوسیت یڑھن بلاین گرفتار چھ سپدان یہ گواوتان قیامت کین منکرن ہوند حال امہ پتہ چھو بیان یوان کرنہ قیامتک ہولناک حالات **فَإِذَا نَفَخْنَا فِي الصُّورِ نَفْحَةً وَوَاحِدَةً** تمہ پتہ یلہ پو غس منزایہ

وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ اَدَاكَةً ۙ وَاحِدَةً ۙ ﴿۱۳﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۙ ﴿۱۴﴾  
 وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاٰهِيَةٌ ۙ ﴿۱۵﴾ وَالْمَلٰٓئِكُ عَلٰٓى اَرْجَالِهَآ  
 وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَنِيْنَةٌ ۙ ﴿۱۶﴾ يَوْمَئِذٍ  
 تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۙ ﴿۱۷﴾ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ  
 كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَآؤُمَا اَقْرَءُ وَاِكْتٰبِيَهٗ ۙ ﴿۱۸﴾ اِنِّى  
 ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٓٓقٌ حِسَابِيَهٗ ۙ ﴿۱۹﴾ فَهَوِّنِىْ عِيْشَةً رَّٰضِيَةً ۙ ﴿۲۰﴾

کئی بھوک دنہ (یعنی گوڈنیوک بھوک) وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ اَدَاكَةً ۙ وَاحِدَةً ۙ بیہین  
 زمین تہ کوہ تمہ وقتہ تھوڈنملنہ پنہ نہ جاینشہ ڈالنے پس آیہ دو شون ریزہ ریزہ کرنہ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ  
 تہی دوه کیاسپدہ واقع سوچیز نلس سپدہ ون آسہ یعنی قیامت وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاٰهِيَةٌ ۙ بیہ  
 پھٹہ تمہ دوه آسمان سو آسہ تمہ دوه ہومنت لیوز تہ کمزور سپدمت تہی سپد نلس کھجہ تہ پھرانہ وَالْمَلٰٓئِكُ  
 عَلٰٓى اَرْجَالِهَآ تمہ وقتہ روزن ملائک آسمانہ کین کناران پھ آسمان پھٹہ منز باگ کنارہ روزنلس موجودیم  
 واقعات سپدن گوڈنک بھوکہ سیت امہ پتہ یمن واقعات ہنز ذکر چھہ تم سپدن دویمہ بھوکہ سیت  
 وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَنِيْنَةٌ ۙ بیہ نلن توہندس پروردگارہ سُد عرش پانس پھٹہ تمہ دوه  
 آٹھ ملک قیامتک دوه نلن تھہ عرش آٹھ ملک تھے واتانوں عرش مجیدس محشر کس میدانس اندر۔ تو  
 پتہ سپدہ حساب شروع۔ تمیوک بیان چھوامہ پتہ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ  
 تمہ دوه آیو توہہ ساری پیش کرنہ خدالیں بروٹھ کن توہنز کا نہ تھارہ روزنہ اللہ تعالیٰ اس نشہ کھٹت توپتہ  
 ین نامہ اعمال وژان وژان دنہ لوکن ہندن اتھن اندر فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَآؤُمَا  
 اَقْرَءُ وَاِكْتٰبِيَهٗ ہالو کو ویو پر یومیون نامہ اعمال اِنِّىْ ظَنَنْتُ اَنِّىْ مُلٓٓقٌ حِسَابِيَهٗ ۙ مہ اوس گوڈہ پٹھے  
 اعتقاد تہ پڑھہ کہ مہ چھو ضرور پیش آنہ دول پنون حساب۔ یعنی بو اوس اعتقاد تہ پڑھہ تھوان قیامتک تہ

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۲۲ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۲۳ كُلُوا وَاشْرَبُوا  
 هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۲۴ وَأَمَّا مَنْ  
 أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۲۵ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَهُ ۲۶  
 وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَهُ ۲۷ يَلَيْتَمَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۲۸ مَا  
 أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهُ ۲۹ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ ۳۰ خُدُوهُ  
 فَعَلُوهُ ۳۱ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلَّوهُ ۳۲ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا

حسابگ تمہ کی برکتہ کرمہ اللہ تعالیٰ ان بڑھربانی فہو فی عیشۃ راضیۃ پس واہ سورس عیش  
 اندر فی جنتہ عالیۃ یعنی تمہر جسند اندر قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ہمیک میوہ تیت نکھ آسن کہ پرت  
 حاس اندرین تم استعمال کرنہ۔ تہہ پانٹھ تمن خوش کرہ تہہ پانٹھ دنہ نہ آیتکھ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا  
 بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ کھیو تہہ چومزہ کرت یہ چھوہ تمن عملن ہوند بدلہ یمہ توہ بڈہ ثوابہ چہ  
 امیدسیت کران آسیو بروٹھمن دوہن اندر یعنی یمدوہ توہ دنیا س اندر گذاروہ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ  
 بِشِمَالِهِ وین بس نامہ اعمال پنون کھو ہرس اتھس منز دنہ آیہ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَهُ سو دنہ  
 نہایت حسرت و افسوسہ کن کہ کیاہ رت گڑھ ہا میانہ حقہ کہ ہر گاہہ نامہ اعمالی دنہ آیمانہ و کلمہ  
 آدْرِمَا حِسَابِيَهُ مہ سپدانہ معلومے میون حساب کیاہ آسہ یَلَيْتَمَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ کیا روت گڑھ  
 ہا اگر گوڈ نکوی مرن ختم کرہ ہا معاملس تمہ مر نہ پتہ آسانہ بیہ پیدہ سپدن نہ یہن نامہ اعمالے تقسیم کرنہ  
 نہ آیہ ہا حسابہ ہنہ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهُ افسوس کانہ نفع دیوت نہ مہ مان پننن هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ  
 میون حشمت تہ عزت تہ گوہر ہا ذاتھس شخصہ سندہ خپرہ سپدہ حکم ملایکن خُدُوهُ فَعَلُوهُ \* ثُمَّ  
 الْجَحِيمَ صَلَّوهُ ریٹون یہ شخص توپتہ تراویوس نال نعل توپتہ و اتاویون نار جہنمس اندر ثُمَّ فِي  
 سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ توپتہ و ریون تہہ ہانکھ تہہ پیا لیش چہ سنت گز۔ امہ



سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۞ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ  
 بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۞ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۞  
 فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَبِيمٌ ۞ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ  
 غَسِيلِينَ ۞ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخِطُؤُنَ ۞ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا  
 تَبْصُرُونَ ۞ وَمَا لَا تَبْصُرُونَ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ

عذابک و جب کیا چھو اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ شخص گونا گویا سمس نہ پڑھ آس عظمتہ  
 والس بذس خدایہ سنز وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ بیہ اوس نہ یہ غریب تہ مسکین لوکن  
 کھیادنک تر غیب دو ان نہ اوس پانہ فقیران مسکین کھیوا ان چاوان غرض اس شخص آس نہ دلس اندرنہ  
 خالقه سنز عظمت نہ آس مخلوقن ہنز شفقت نہ اوس یہ حقوق اللہ ادا کران۔ یہ حقوق العباد بجانبانان  
 یہ چھو تمن دوشون حقن ہوندا تارک تہ منکر تمی سبہ بہ چھو یہ مستحق عذاب فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا  
 حَبِيمٌ ۞ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلِينَ ۞ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخِطُؤُنَ لہذا چھو نہ از تہندہ خیطرہ نہ کانہ  
 دوستانہ نہ ہم خوارہ۔ نہ چھو تہندہ خیطرہ کھنوک کانہ چیزاہ نصیب غسلینہ و رای یعنی جہنمین ہندن ز نمن  
 ہوندا پیل تہ پاک۔ یس نہ بدین گنہ گارن و رای کانہ تہ کھیہ امہ پتہ چھو بیان یوان کرنہ تمہ قرآن مجید چ  
 حقانیت یتھ منز یمن مجر من ہندہ امہ سزاع چ ذکر چھہ۔ یس اتھ قرآن مجیدس انکار کرہ سوتہ سپدہ امی  
 قسمہ کس عذابس گرفتار۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تَبْصُرُونَ ۞ وَمَا لَا تَبْصُرُونَ ۞ کس چھس بوتسم ہاوان تمن  
 چیزن ہوندا یم تہ و چھان چھوک یا یتھ قسمس چھہ اکھ مناسبتھہ اصل مقصدس سیت کیا زہ قرآن  
 مجید یس اتان اوس سو اوس نہ کانہہ در بیٹھ یوان۔ یمن نشہ واتان اوس تمن آس ساری و چھان یعنی مہ  
 چھو سارنی مخلوقن ہوندا قسم کہ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شک یہ قرآن مجید چھو خدایہ سند  
 کلام یس مفرز ملکہ سندہ ذریعہ و اتناونہ چھو یوان لہذا یس صاحبس نشہ سو اتان چھو تم چھہ بے شک  
 پیغمبر برحق وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ یہ چھو نہ کانہہ شاعرہ سند کلام یتھ پاٹھی تہ اندرہ بعضے کافر چھہ

كَرِيمٍ ۳۱ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تَوْمِنُونَ ۳۱  
 وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ ۳۲ تَنْزِيلٌ مِّنْ  
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ۳۳ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۳۴  
 لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۳۵ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۳۶ فَمَا  
 مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۳۷ وَإِنَّهُ لَتَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۳۸

وہاں اس جلیل القدر پیغمبر سے نعوذ باللہ شاعر قَلِيلًا مَّا تَوْمِنُونَ مگر توہ منزجھ کے پڑھ کر ان  
 یعنی پڑھی چھو نہ کر ان کا نہہ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ یہ چھو نہ کا نہہ سند کلام ہتھ پاٹھ بعض کافر  
 آس تمہن کا ہن وہاں قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ مگر کم چھوہ توہ نصیحت رٹان حقیقت چھہ یہے کہ نہ چھو یہ  
 قرآن مجید شاعرہ سند شعر نہ چھہ کا ہن سز کمانت بلکہ چھو یہ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ کلامہ  
 نازل کرنہ آمت حضرت رب العالمین سندہ طرفہ۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ تو پتہ ہر گہ  
 بالفرض یہ پیغمبر اسہ گن لا گمانہ اُپڑہ تھہ یعنی کس کلام اسہ فر مومت آسمانہ تھہ دیہ ہاسون کلام یعنی اپڑ  
 دعوی نبوت کرہ ہا با خدا یہ سندس کلامس سیت ملنا و ہاپون کلام تلہ کتہ چھڑہ ہون سوا یس۔ لَأَخَذْنَا  
 مِنْهُ بِالْيَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ بلکہ کرہ ہواس تھہ س د چھس ا تھس تھپ تو پتہ ژ سواس  
 تھہہہ د لچ یعنی تم تہا وہ ہوک نہ اس زندے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پس آسمانہ توہ  
 اندرہ کانہ کھا تمہ امہ سزانشہ پتھ رٹون تہ بجاوہ ون۔ چونکہ یو تھہ معاملہ چھو نہ آمتوی در پیش لہذا  
 چھو امی سیت ثابت کہ یم چھو رسول بر حق یہ قرآن مجید چھو بے شک کلام حضرت حق جل جلالہ  
 وَإِنَّهُ لَتَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ بے شک یہ قرآن مجید چھو متقین تہ ہیز گارن ہندہ خیرہ ہڈ نصیحت بوڈ  
 وعظ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ یہ چھہ اسہ خبری کہ توہ اندرہ چھہ بعضے اتھہ قرآن مجیدس اپڑ  
 گزراں امہ کس کلام خدا آسئس انکار کر ان تمہن د مواس پانے سزا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اتھہ کن  
 نظر کرت چھو یہ قرآن مجید کافرن ہندہ حقہ موجب حسرت کیا زہ تمہن سپدہ انکار کرن عذابک سبب

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿۳۹﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۴۰﴾  
وَإِنَّهُ لِحَقِّ الْيَقِينِ ﴿۴۱﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿۴۲﴾

وَإِنَّهُ لِحَقِّ الْيَقِينِ بے چھو بے شک یہ قرآن مجید حق تہ پوز یقینی اکھ تھہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ  
پس بسند یہ کلام پاک چھو تس عظیم الشان پروردگارہ سندہ نام پاکہ سیت آسیو توہ پاک ی یاد کران۔ یلہ یہ  
آیہ کریمہ نازل سپد فرمود حضرت رسول کریمن اجعلو ہا فی رکو حکم یہ تسبیح آسیو پران پنہ  
نین رکو عن اندر۔



## سُورَةُ الْمَعَارِجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۱ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ  
 لَهُ دَافِعٌ ۲ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ۳ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَ  
 الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ أَلْفِ سَنَةٍ ۴

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ \* لِلْكَافِرِينَ اک سائلن پروژھ عناد انکاره کن تھ عذاب  
 مُتَعَلِّقٌ لِّس كَافِرٍن پٹھ ضرور واقع سپدہ ون چھو۔ سو شخص سوال کرون اوس کافر و اندرہ نضر بن الحارث  
 سوی لگ دپنہ گستاخانہ اللہ ان کان ہذا ہوا الحق من عندک الخ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ تھ عذاب نہ کانہ  
 اکھاہ پٹھ ہیہہ رتھ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ سوی عذاب چھو واقع سپدہ ون تس پروردگار سند طرفہ  
 ئس آسمان ہوندا مالک چھو یم آسمان اکھ اکس پٹھ چھہ درجہ بدرجہ ہیر پاون ہند پائٹھ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ  
 وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ یمو ہیر وکن ملائکہ تہ با ایمان ہند روح چھہ تس نشہ کھسان تس نشہ کھسہ نہ اندرہ چھو  
 مراد تم چھہ عالم بالاس اندر تھ مقاس واتان ئس تھندہ عرو جک نہایت مقرر کرنہ امت چونکہ امہ  
 تھند کھسہ نچ و تھ چھہ آسمان امی آو تمن وننہ معارج۔ معارج چھو جمع معراج معراج چھہ دنان ہیرہ۔  
 سوی عذاب تھیوک کافر پر ژھان چھہ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ أَلْفِ سَنَةٍ سو عذاب سپد واقع  
 تھہ دوہس اندر تھیوک مقدار تہ مدت آسہ دنیاک پنژہ ساس ورہ۔ سوودہ گو قیامتک دوہ میس آیہ  
 کر تمس اندر چھو اللہ تعالیٰ فرماوان كَانَ مِقْدَارُ أَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ یعنی قیامتہ کہ دوہوک  
 مقدار آسہ اکھ ساس وری تمور یواندرہ یم تہہ گز ران تہ شمار کران چھوہ۔ یہ تفاوت آسہ کافر ن ہند  
 یواحوالو موجب کانسہ سپدہ محسوس سوودہ زیوٹھ اکس ساسس ورہس برابر کانسہ آیہ بوزنہ سوودہ سختی تہ  
 بے چینی موکھ پنژہ ساس وری مگر با ایمان سپدہ سوودہ محسوس اکس فرض نمازہ برابر تہتی فر موو حدیث

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۵ إِنَّهُمْ يَدْرُونَهُ بَعِيدًا ۶ وَنَرَاهُ  
 قَرِيبًا ۷ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ۸ وَتَكُونُ الْجِبَالُ  
 كَالْعِهْنِ ۹ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۱۰ يُبْصِرُونَهُمْ يَوْمَ  
 الْمُجْرِمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ۱۱ وَ  
 صَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۱۲ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ ۱۳ وَمَنْ فِي  
 الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا تُمِئُّ بِحَيْثُ ۱۴ كَلَّا إِنَّهَا لَأَطْلَى ۱۵ نَزَاعًا

شریف نادر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وون یلہ کافرن عذاب ضرور واقع سپدہ فاصبر  
 صَبْرًا جَمِيلًا نہس کریو توہ یارسول اللہ کافرن ہندس مخالفس پٹھ پور صبر تھوی صبریتھ سیت نہ کونہ  
 کج شکایت آسہ یعنی تھندس کفرس نہ مخالفت کرنس پٹھ گزھنہ تھو ندول تنگ سدت شکایت کرن  
 بلکہ گزھنہ تھو ندیہ تھ زانت پور صبر و تحمل کرن کہ تمن آہ ضرور اتھ کفر و مخالفس پٹھ سزا دنہ قیامتک  
 دوہ ۱۱ إِنَّهُمْ يَدْرُونَهُ بَعِيدًا \* وَنَرَاهُ قَرِيبًا تم چھ تھ دوہس و چھان تمیوک اعتقاد نہ پڑھ نہ آسہ  
 موکھ دور تہ بعید اس چھن و چھان سہ قیامت نزدیک کیا زہ اسہ چھو معلوم سہ سپدہ ضرور واقع۔ یَوْمَ  
 تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ \* وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ سو عذاب سپدہ واقع تمن کافرن پٹھ تمہ دوہ  
 یمہ دوہ آسٹاک رنگ آسہ ہلم ہیو کر ہون بیہ آسن کوہ دونہ نہ آمت رگمت پھب ہی وَلَا يَسْأَلُ  
 حَمِيمٌ حَمِيمًا تمہ دوہہ آسہ نہ دوہست کانہہ دوہستس پر ژھان نہ یُبْصِرُونَهُمْ اکھ اکس آسن  
 بوزنہ یوان مگر کانہہ آسہ نہ ہنز ہمدردی پرت اکس آسہ پنہ نی پنہ نی پریشانی یَوْمَ الْمُجْرِمِ  
 لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ تمہ دوہہ کرہ مجرم یعنی کافر تمنا ہر گاہ تمہ دوہہ کہ عذابہ نشہ چھنہ  
 خیطرہ مہ پیہ ہاندیہ تہ بدلہ دیون بِبَنِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّدُ \* وَمَنْ  
 فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا تُمِئُّ بِحَيْثُ پٹھن ٹیو تہ گبر بیہ پن آسٹین بیہ پن بوی بیہ پنون سوروی قبیلہ  
 کرون نہس دنیا س اندر مصیبتہ کہ وقتہ تس پناہ دووان اوس بیہ تم ساری لوک یم دنیا س اندر چھ سو

لِلشَّوْمِيِّ ۱۸) تَدْعُوَامَنْ اَدْبَرَوَتَوَلَّى ۱۹) وَجَمَعَ فَاَوْغَى ۱۸) اِنَّ  
 الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوًا ۱۹) اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۲۰) وَاِذَا مَسَّهُ  
 الْخَيْرُ مَنُوعًا ۲۱) اِلَّا الْمُصَلِّينَ ۲۲) الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ  
 دَائِمُونَ ۲۳) وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۲۴) مِّنْ  
 لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۲۵) وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۲۶)

فدیہ بدلہ دیونے مہ نجات دیہ یعنی تمہ دوہ آسہ تمہ تقمچ نفسا نفسی کہ پرت اکھاہ آسہ پنہ نی فخر کران۔ دنیاءس اندر یہ بندہ خیطرہ زودوان اوس تمہ دوہ کرہ تمنا کہ ہر کہ کیے میانہ بدل لکھ ہین بوگڑہ ہس موکہ لون۔ اللہ تعالیٰ فرماوان کلا تا بندہ نہ ہرگز یعنی کانہہ ہنہ نہ لگت کانہہ بندہ بدلہ ائنا الظی \* نَزَاةَ لِلشَّوْمِيِّ بے شک سو جنم چھو شولہ ماران یہ تراوان لیس تمن بو تھیوک مُسلہ تان والہ تَدْعُوَامَنْ اَدْبَرَوَتَوَلَّى سوی جنم دیہ پانے نادس شخصس یم دنیاءس اندر پزس کن تر پھر مژ آسہ۔ خدایہ سزہ فرماں برداری نشہ بوتھ پھر مت آسہ وَجَمَعَ فَاَوْغَى بیہ آسین لوکن ہند حق کھے کھے مال جمع کر مت سوی آسین صندوقن نہ ششترہ وین المارین اندر راجھ کرتہ تہامت اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوًا بے شک انسان چھو پیدہ کرنہ آمت بے صبر نہ کم ہمت اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا یلہ تس سختیاء نہ مصیبتہ واتان چھو تمہ ساتہ چھو ژہٹہ نہ جزع و فزع کران وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا توپتہ یلہ تس کانہہ خیرہ واتان چھو تمہ ساتہ چھو خیر چوکا میون نشہ پتھ روزان اِلَّا الْمُصَلِّينَ \* الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ مگر چھہ یمو عذابو نشہ مستخے تم با ایمان لوکھ، یم پنہ نین نمازن پیٹھ برابر توجہ نہ ڈاڈ کرہ و سن چھہ بیہ چھنہ نمازہ اندر بیہ کونہ چیزس کن توجہ کران وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ \* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ بیہ تم با ایمان یہ ہندس مال و دولتس اندر مقرر حق چھو منگہ و نین ہندہ خیطرہ نہ نہ منگہ و نین ہندہ خیطرہ نہ یعنی زکوٰۃ علاوہ نہ چھہ تم پیون مال خرچ کران رژن رژن و تن اندر وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ بیہ یم لوک قیامتہ کس دوہس تصدیق نہ پڑھ چھہ کران

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۱۷﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿۱۸﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُوجُهِهِمْ حَافِظُونَ ﴿۱۹﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿۲۰﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿۲۱﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿۲۲﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿۲۳﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ یہ تم پنہ نس پروردگارہ سندس عذابس کھوژوہ ون چھہ  
 إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ بے شک تہندس پروردگارہ سندس عذاب چھو خطرہ ناک چیزہ ایہ نشہ  
 نہ بے خوف روزن شوہہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُوجُهِهِمْ حَافِظُونَ یہ یم لوک پنہ نین سترہ چن جاین  
 حرامہ نشہ راجھہ کران چھہ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ مگر  
 چھہ راجھہ کران سترہ چن جاین پنہ نین منکوہ زنانن نشہ بیہ تمن زنانن نشہ یمن تم ہملک بیمن  
 مالک آسن یعنی شرعی کیزن نشہ کیازہ تمن چھونہ تمہ خیطرہ کانہ بازخواست فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ وین بس شخصہ پنہ شہوت پورہ کرنہ خیطرہ ہیمودویو ہلال صور توورای بیہ کانہ  
 حرام صور تہا ژھانڈہ تہ اختیار کرہ پنہ تقسیم خواہش پورہ کرنہ خیطرہ پس کیا گئے تے لوک حد شرعی  
 نشہ ڈلہ ون وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ یہ یم لوک پنہ نین اما تن یم تمن سپرد  
 کرنہ آسن آمت بیہ پنہ نین عمدن راجھہ کرہ ون تہ خیال تہا و ون آسن وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ  
 قَائِمُونَ یہ یم پنہ نین گواہن پٹھ ثابت تہ مضبوط روزہ وین آسن تمن منز آسن نہ کی یا زیادہ تی  
 کران یا کانسہ ہوندر عایت کر تھ کانہ کتھاہ کٹھان وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ یہ  
 یم پنہ نین فرض نمازن پٹھ پابندی کران چھہ أُولَٰئِكَ فِي جَذْبٍ مُّكْرَمُونَ سمئے لوک ن کیا ایہ جتن  
 اندر تعظیم و تکریم کرنہ تم چیز یم سعادت و شکایت و شقاوتنگ موجب چھہ تم یلہ بوضاحت بیان

يُحَافِظُونَ ﴿۳۳﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّةٍ مُّكْرَمُونَ ﴿۳۵﴾ فَمَالِ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا بِكَ مُهْطِعِينَ ﴿۳۶﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ  
 عِزِينَ ﴿۳۷﴾ أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً  
 نَّعِيمٍ ﴿۳۸﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ فَلَا أُقْسِمُ  
 بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿۴۰﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ

کرنہ آئے فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَ مُهْطِعِينَ پس کیاہ سناگو کافرن کہ تم چھ توہ بروٹھ کن  
 استہزائے ٹھٹھ پاٹ دورہ دورہ اورہ یور کران عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ دُھنن تہ کھو فرچھ  
 انکار و تکذیب کرنہ خیطرہ ڈھپرہ کران أَيُطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةً نَّعِيمٍ کیا تھ  
 استہزوا انکار کرنس پٹھ چھا تمئن شا کھ کہ اسہ اندرہ پرت اکھاہ کیا آیہ واتاودہ نہ نعمن ہندس جنٹس اندر  
 کلا تہ نہ نہ ہرگز کونہ صورتس اندر کیا زہ تموچھ کرہ مرزہ کامہ یمہ سزاوار نارچھ۔ تہ آتھ کتھ  
 پاٹھ واتن تم جنٹس۔ جنٹس واتن تمے لوک یمو تمہ کامہ کر مرزہ آسن یمہ سزاوار جنت چھ وین گو تھوند  
 انکار معاد یعنی مرنہ پتہ بیہ دوبارہ پیدہ سپدس انکار کرن۔ تہ چھ تم کران بے وقوفی سببہ تم چھنہ زانان  
 تم تھ چیزس آی پیدہ کرنہ گوڈہ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ بے شک اسہ کر تم پیدہ تھ چیزس سچ  
 تمئن خبری چھ سوگو آب لفظہ مگر تامل تہ غور چھنہ کران کہ تھ آب لطفس انسان آو پیدہ کرنہ تھ  
 آسنہ حیات تہ زندگی کھ پھموتھ یلہ اللہ تعالیٰ ان انسان پیدہ کور وون یسوسہ ہیتزہ یادودر ستمترہ اڈجہ  
 یمن کینہ کالاہ حیاتک تہ زندگی ہیوند تعلق رودمت چوتھ کیا زہ بھنہ اللہ تعالیٰ بیہ دوبارہ زندہ کرت۔  
 یہ تھوندنا ممکن تہ مجال زانن گیہ تہمزے بے وقوفی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  
 إِنَّا لَقَادِرُونَ تو پتہ پھس بو قسم ہاوان مشرقن تہ مغربن ہندس پروردگارہ سُد یعنی بو پھس پینہ ذات  
 پاک قسم ہاوان کہ اسہ چھ ضرور قدرت عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ حَيَاتَهُمْ تھ کتھ پٹھ کہ تہزہ جاہیہ تہ  
 تمئن بدل انوکھ اس دنیا س اندر تم لوک یم تہندہ خو تہ بہتر آسن یعنی پیدہ کروکھ وَمَا نَحْنُ



خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا مَنَ حُنْ بِسُبُوقَيْنِ ﴿۴۱﴾ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا  
وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿۴۲﴾ يَوْمَ يُخْرِجُونَ  
مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿۴۳﴾ خَاشِعَةً  
أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلَّةٌ ۗ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۴۴﴾

بِسُبُوقَيْنِ اس بھنہ تمہ نشہ عاجز اسہ نشہ چھو نو مخلوق پیدہ کرنن آسان۔ توہ دوبارہ پیدہ کرن کیاہ  
مشکل چھو سانہ خیطرہ۔ وین ہر گاہ یم لوگ امہ انکار و عنادہ نشہ بازین نہ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا  
حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ تلہ تر وایو کہ توہ تم اتھ پنہ نس شغلس بے ہودہ تھ کرنس تہ  
گندنس سیت یونتاں سمکھن تم تھ دھوس سمیوک تمن وعدہ کرنہ یوان چھوینے قیامتس دوہس یوم  
يَخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ یمہ دوہ نیرن تم قبر واندرہ دوران  
دوران زن تم آن کونہ نشانس کن بروٹھ وانٹس اندرمان مان کران خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلَّةٌ  
لوکن گن آن اچھ تہزہ شرمندگی سببہ بون ولنہ آسکھہ آمر ذلت تہ خواری ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي  
كَانُوا يُوعَدُونَ یسوی کیا گو سودوہ سمیوک تمن وعدہ اوس یوان تھاوندہ۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ① قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ②  
 أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ③ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ  
 ذُنُوبِكُمْ وَيُخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ④ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ  
 إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑤ قَالَ رَبِّ إِنِّي

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ بے شک اسے سوزنوح علیہ السلام پیغمبر بناوت پنہ نس قومس ن آن  
 أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسے فرموتس کہ نیم کریو پنہ نس قومس کفر  
 کہ وبالہ نشہ تمن نشہ کڈر عذاب واتنہ برو نطھی، دنیاس اندر گو سو عذاب طوفان آخرتس اندر  
 عذاب نیر ان قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ چنانچہ تمودوپ پنہ نس قومس ای قوم بو تھس تہوندہ  
 خیطرہ ن پاتھ نیم کرہ ون ان اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا بو چھوس تہ ونان کہ عبادت کریو  
 تہوہ خدایہ سنزی یا تہیہ کھوڑیوتس شریک مہ ٹہراویوس کونہ قسمہ بیہ مہ کرو تہمز نا فرمانی بیہ مانیومیون  
 يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تمہ کہ برکتہ کرہ سو تہوہ گنہن مغفرت بیہ  
 دیہ سو تہوہ مہلت مقرر کرنہ آتس و تقس تان آرامہ سان زندگی بسر کر نچ وقت مقررہ اندرہ چھو مراد  
 موتک وقت یعنی اجل إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ بے شک اللہ  
 تعالیٰ سند موتہ خیطرہ مقرر کر مت وقت سو پتہ آیہ نہ کڈنہ کیاہ رت گڑہ باہر گہ تہوہ بیہ تھہ زانہ جگنہ  
 یلہ وار بیس مدتس تان یمن لوکن کانہہ اثرہ گونہ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا إِنَّكُمْ  
 يَزِيدُهُمْ دُعَاؤِي إِلَّا فِرَارًا نوح علیہ السلامن کردعالی میانہ پروردگارہ مہ دژوناد پنس قومس دین

دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۱۰ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا  
 فِرَارًا ۱۱ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ  
 فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا  
 اسْتِكْبَارًا ۱۲ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۱۳ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ  
 لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۱۴ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ  
 إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۱۵ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۱۶

حس کن راتس تہ دوہس مگر تمہن ہر یونہ میانہ دعوت کرنہ سیت کینہ تہ ژانہ ورا یوت بو تمہن برو نھہ آئنج  
 کوشش اوسس کران تیوت آس تم پتھہ ژلان وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي  
 آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا مہ یلہ یلہ تمہن دین حس کن  
 ناد یوت یوتھہ ژہ تمہن ایمانہ کہ برکتہ مغفرت کر کہ گنہن تموبہرہ پنہ او گجہ کن منز تمانہ یوتھہ نہ پڑہ  
 تھہ ہنز آواز تہ تہمدین کن واتہ بیہ دکھہ پھن پلوکلہ پیٹھہ یوتھہ پڑتھہ ونہ وین پیٹھہ تمہن نظر تہ پیہ۔ بیہ  
 کر تموکفر وانکار س پیٹھہ ڈاؤ، بیہ کر تمو میانہ فرمان برداری نشہ سیٹھہ تکبر۔ باوجود آن رودس بو تمہن  
 مختلف طریقو نصیحت کران ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا تو پتہ تہ دیوت مہ تمہن دین حس کن ناد باواز  
 بلند یعنی عام مجلس اندر پڑ کہہ وعظ نُس وعظ بڈہ بڈہ باواز بلند چھو یوان پر نہ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ  
 وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا تو پتہ بوز نامہ تم خصوصی مجلس اندر نٹن پاٹھہ بیہ تور مہ تمہن فکرہ پوشیدہ  
 پاٹھہ تہ انفرادی صورتس اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اتھہ فکرہ تارلس اندرون مہ  
 تمہن ونہ چھو موقع توه معنیو بخشایش پنے نس پروردگار س ایمانہ نہ سیت بے شک سو چھو سیٹھہ  
 مغفرت تہ بخشایش کردون يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ایمانہ کہ برکتہ کرہ سواخروی نعمن ہندہ  
 علاوہ تودہ نیلوی نعمہ تہ عطا سوگو آسانکہ طرفہ تراوہ سوبارش تہ رود۔ یمہ سیت تموند زراعت سر سبز و  
 شاداب سپدہ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ آمِثَالًا مِّمَّا تَرَآءُ فِي سَوَابِغِ السَّمَاءِ رِزْقًا مِّنْ سَمَوَاتٍ مَّوَدَّةَ بَيْنٍ  
 بِيَدِ اللَّهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝۱۹ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا  
فِجَا جَاءَ ۝۲۰ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ كُرِهَتْ  
يَزِيدُهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ۝۲۱ وَمَكْرُومًا كَبِيرًا ۝۲۲ وَ  
قَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا  
لَإِيعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝۲۳ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا

زمینہ منزہ قیامتک دوہ اکہ خاص طریقہ۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا \* لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا  
فِجَا جَاءَ بیہ کر اللہ تعالیٰ ان یہ زمین تہوندہ خیطرہ اکہ فرشتہ تہ تھریونایو تھ تہ پچیو تہ چوکشادہ و تو  
منزہ۔ یہ سوروی کلام چھوئس نوح علیہ السلامن اللہ تعالیٰ ہس بطور فریاد حکایتا پیش کر یعنی یہ یہ تھ  
ون ون تاریومہ فکر پنہ نس قومس مگر تمن تور نہ کنہ تہ فکرہ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا  
مَنْ كُرِهَتْ يَزِيدُهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ون نوح علیہ السلامن ای میانہ پروردگارہ یمولو کو مون نہ  
میون کینہ تہ تمو کر پیروی تمن شخص ہنز یمن مال و اولاد و کانہ چیز زیادہ کرنہ نقصانہ تہ تاوانہ و رای  
یعنی یمو کر ریش تہ زٹھن ہنز پیروی یمن مال تہ اولاد آسن سبب سپد زیادہ طغیان و سرکشی ہونہ۔  
وَمَكْرُومًا كَبِيرًا تمو تھند یوز ٹھیو کر کم کم بیڈ تہ بیہ یوز ختم کرنہ خیطرہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ  
وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَاعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا تمو دوپ پنہ نین تابعا یو تھ نہ تہ تہ ہنن  
معبود تراویو کہ خصوصاً ترواویون و دبہ سواع بیہ یغوث بیہ یعوق بیہ نسریم آس مشہور پتیل  
بعض روایاتن اندر چھو کہ گوڈنکس زمانس اندر آس کینہ بزرگ تم بلہ یہ عالمہ گے تھندہ انتقالہ پتہ آو  
شیطان تم کر پیش تمن لوکن نشہ تمن بزرگن ہند تصویر دوپ نکھ یم تھوایو تہ پانس نشہ بطوریادگار تہ  
پتہ کینہ کالا گھت ہیو لوکو تمن شکل تہ تصورین ہنز پرستش کرن تھتہ پٹھ سپز شروع بت پرستی العیاذ  
باللہ۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا یموریش تہ زٹھیو ڈال واریالوک چونکہ ژہ فرمو تھ کہ یمو چانہ قومہ  
اندر ایمان اون تمو علاوہ انہ نہ وین کانہ تہ ایمان۔ لہذا چھسی منگان کہ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا  
یمن ظالمن ہر راوژہ بیہ ہن گرا ہی چنانچہ مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُعْرِفُوا فَاذْخُلُوا نَارًا پنہ نیوی گناہن ہندہ

تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿۳۳﴾ مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُعْرِقُوا فَأَدْخَلُوا  
 نَارًا ۚ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿۳۴﴾ وَ  
 قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿۳۵﴾  
 إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا  
 كَفَّارًا ﴿۳۶﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي  
 مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ  
 إِلَّا تَبَارًا ۙ ﴿۳۷﴾

سبہ بہ آی تم پھاؤ ونہ تمہ پتہ آی داخل کرنہ نارس اندر **فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا**  
 پس لوب نہ تمو خدا پس ورا ای کانہ مدد کرہ ونہ **وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ**  
**دَيَّارًا** بیہ دوپ نوح علیہ السلام سیتہ کہ ای میانہ پروردگارہ یوکا فرواندرہ مہ تھاون اتھ زمینس  
 پٹھ کانہ نہ موجود۔ بلکہ کروکہ ساری ہلاک نہ بر باد **إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا**  
**فَاجِرًا كَفَّارًا** کیا زہ ہر گہ ژہ تم ہلاک گھوہنہ نشہ چھڑہ ہک یم لوک کرن چائین بدن گمراہ بیہ  
 زیوراون نہ یم پٹن اولادہ نہ ذریت مگر فاجرہ کافر **رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي**  
**مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** میانہ پروردگارہ مغفرت کرتہ مہ بیہ مینس ماس ماجہ بیہ سخن یم  
 ایمانہ کس حالس اندر مینس گھرس اندر ژامت چہ یعنی مینس اہل و عیالس کنعانس نہ تہزہ آشنہ ورا ای  
 بیہ سارنی بالیمان مردن نہ بالیمان زنانن یم قیامس تان پیدہ ہدن **وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا** بیہ  
 ہر راو ظالمین بیہ ہن تباہی نہ بر باد ی تموان نہ ایمان (اے میانہ پروردگارہ کر مہ بندہ گنہ گارس نہ خطا  
 کارس نہ پنہ نہ رحمت و فضلہ سیت سارنی بڈن گنہن نہ لوکن گنہن مغفرت دنیا و آخرتہ کہ عذابہ ورا ای  
 واتاومہ پنہ نس رحمتہ کس نہ رضاء کس گھرس اندر ژہ نش پھنہ کانہ بند کتھاہ مہ گنہ گارس ساری گنہ  
 گنہن انک غافر غفور غفار)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 قُلْ أُوْحَىٰ إِلَىٰ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۙ  
 يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَامْتَابِهِ ۗ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۙ  
 وَأَنَّهُ تَعَلَّىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۙ ۗ  
 أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۙ وَأَنَا كَلْنَا  
 أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۙ وَأَنَّهُ كَانَ

قُلْ أُوْحَىٰ إِلَىٰ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ توه فرمايو بيار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ کین لوکن کہ  
 مہ گن آووحی سوزنہ کہ جنواندر اک جماعتن بوزمیون قرآن مجید پر ن صبح نماز اندر فقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا  
 قُرْآنًا عَجَبًا توپتہ یلہ تم جن پنہ نس تو مس کن واپس گنیہ تم ن دوپک اسہ بوزاکھ عجائب قرآنہ یَهْدِي  
 إِلَى الرُّشْدِ فَامْتَابِهِ لیس قرآن سیز و تھ ہاوان چھو پس کراسہ تھہ پڑھ اسہ تور فجرہ کہ معبود  
 برحق چھوکنی شریک آسنہ نشہ منزہ تہ پاک وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وین ٹھہراون نہ آس پنہ نس  
 پروردگار س کا نہ اکھاہ شریک توپتہ کر تمو جنو پانہ وان تم ن ٹھہن ہیوند تذکرہ وَأَنَّهُ تَعَلَّىٰ جَدُّ رَبِّنَا  
 مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا بیہ ون تموسالس پروردگارہ سُندشان چھو سٹھاہ تھود تم بناونہ کانہ زنانہ  
 ہنن آشینہ نہ بناون کا نہہ کورہنن یا نچو پنون وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا بیہ آس  
 ونان تم جن اسہ منزیم احق تہ نادان چھہ تم چھہ ونان خدا بیہ سندس ذاتس نسبت تمہہ یہ تہندہ شانہ  
 نشہ دور چھہ مثلاً کلمات شرکیہ وغیرہ وَأَنَا كَلْنَا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اسہ اوس  
 گوڈہ خیال کہ انسان تہ جن ونن نہ زانہہ تہ خدا لیس نسبت ایزہ تھہ۔ یعنی چونکہ اکثر جن تہ انسان آس

رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ  
 رَهَقًا ۖ ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا  
 وَ أَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلَأَتْ حَرَسًا شَدِيدًا  
 وَ شُهَبًا ۗ ﴿٨﴾ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن  
 يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا ۗ ﴿٩﴾ وَأَنَا لَآ نَدْرِي

شرك بخدا انان آسه گو خیال اتیو شخصوتھ پاٹھ اسه ایزس پیٹھ اتفاق کرمت تھ گن نظر کرت کراسه ته  
 تهنزی طریق اختیار وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا  
 واریاه لوک آس انسانواندره یم پناه نوان آس جنواندره کنیوون لوکن بهندسیت تموی هرودو تمن جنن  
 نخوت ته تکبریمه سیت تموکفر وعناد زیاد هیوت کرن وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ  
 اللَّهُ أَحَدًا بیه اوس تموانانو خیال کرمت تھ پاٹھ توه ته خیال اوسوه کرمت که اللہ تعالی کره نه هرگز  
 کانسہ شخصس دوباره بیه زنده مگریه خیال ته سپد غلط ثابت بلکه سپد معلوم که مرنه پته زنده سپدن چھو حق  
 ته پوزیا گو معنی که تمو اوس خیال کرمت تھو ند پاٹھ که آسنده سوزنه اللہ تعالی کانسہ پیغمبرس یم پیغمبر  
 ازتان آی تم آی مگردین سپد قرآن مجیده سیت معلوم که پروردگارن چھو سوزمت اکھ عظیم الشان  
 پیغمبره بس لوکن چھو فرماوان که توه ساری آیو مرنه پته بیه زنده کرت قبرواندره تولنه تو پته آیوه ذره  
 ذرک حساب بهینه وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلَأَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَ شُهَبًا بیه کراسه  
 ژھانڈ سارسی آسمانس اسه لب سو پرت طرفه برت پهره دار یعنی محافظه ته راجھه کره ونیو ملکوسیت بیه  
 وچھه اسه هر طرفه نار نیران یعنی یم جن آسانی خبرن گن دنه کھسان آس تمن چھه تم پهره دار ملک نارہ  
 رهوسیت دور ته دفع کران وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ اس آس بروٹھ آسانچہ خبره  
 بوزنه خیطره بعضے جاين پٹھ روزان ته ٹھران۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا  
 مگروین بس تمہ خبره بوزنه کھسان چھو سوچھوتتہ پنه خیطره اکھ نارہ باتیار لبان۔ بیه خبره بوزنه بند سپده



أَشْرَأُ رَيْدِ بَيْنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَأْيَهُمْ  
 رَشْدًا ۗ وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ طُكْنَا  
 طَرَائِقَ قِدَادًا ۗ وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ  
 وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ۗ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ أَمْتَابِهِ ط  
 فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۗ وَأَنَا مِنَ  
 الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشْدًا ۗ ۱۴

نہ سپد باعث یمن جلن ہندہ اوت مکہ شریف منروا تنگ منگھ بوزن کہ کیاہ تان واقعہ چھو دنیاء س  
 اندر سپد مت یمہ سببہ اس چھہ یوان خبر بوزنہ نشہ دور کرنہ امہ کی تحقیقات خیطرہ آسہ جنو مختلف جماثہ  
 دنیاء س اندر پرت طرفہ سوزنہ خیطرہ مقرر کر مرث جماعت یوس مکہ شریف منروا اثر تمن سپد معلوم  
 کہ بعثت حضرت پیغمبر آخر الزمان ﷺ یہ نزول قرآنی چھو سبب تہندہ دور سپدنگ آسمان ہند یو کنار و نشہ  
 وَأَنَا لَنْدَرِي أَشْرَأُ رَيْدِ بَيْنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَأْيَهُمْ رَشْدًا ۗ بیہ آس ونان تم جن  
 آسہ چھہ خبر کہ تمس نوس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سندہ سوزنہ سیت چھازینہ کین لوکن کانہ تکلیفہ  
 و اتناونک ارادہ خدایس کنہ تہندہ پروردگارن چھو یرشمت تہندہ خیطرہ سیزہ و تہ پٹھ اٹن تہ رثو تھ ہاون  
 وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا ۗ بیہ آس ونان تم جن کہ اسہ منزہ آس  
 گوڈہ پیٹھ نیکو کار تہ بعضہ تمہ ورا ی بیہ طریق لوک اس آس مختلف وتن پٹھ پکان وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ  
 نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ۗ بیہ ون تمو جنو کہ اسہ اوس خیالس منز کہ اس ہون نہ  
 اللہ تعالیٰ زمینہ کس کونہ حصص منز روزت ہارہ ناوت تہ عاجز کرت تہ نہ ہون سوعا جز کرت کونہ صورتس  
 منز زمینہ ورا ی کونہ جایہ مثلاً آسمانس کن ثلثہ سیت وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ أَمْتَابِهِ ط فَمَنْ يُؤْمِنُ  
 بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۗ اسہ یلہ بوزہد اتج تھ اسہ کرتھہ پڑھہ بس دون سانی پاٹھہ پنہ نس خدا بس  
 پڑھہ کرہ سوکھو ثلثہ کونہ قسمیہ کمی نہ کونہ قسمیہ زیادتی یعنی تمس چھہنہ کانہ خطرہ تہنزور تہ عملو اندرہ یکاروزہ  
 ہا کانہ عملہ درج سپد نہ ورا ی یا کانہہ گناہ ہایا یلہ ہا زیادہ لیکن وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ۗ بیہ

وَأَمَّا الْقِسْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا<sup>(۱۵)</sup> وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا  
عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا<sup>(۱۶)</sup> لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ط  
وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا<sup>(۱۷)</sup>  
وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَاتْ دُعُوامِعَ لِلَّهِ أَحَدًا<sup>(۱۸)</sup> وَإِنَّهُ

وَن تَمُو جَنُوسَهُ مَنزَرَهُ چھو بعضے مسلمان سپد مت۔ بیہ چھ اسہ منزہ بعضے جن بدستور و تہ نشہ ڈملت  
نَا فَرَمَانِ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَىٰكَ تَعَزُّوْا رِشْدًا وون یمو اسلام اُن تَمُو زَهَانْدُ سِيزَه رَج وَتَه یَمہ پِیْٹھ پِچھ تَمَن  
ثَوَابِ حَاصِلِ سِپَدِهِ وَأَمَّا الْقِسْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وون یمو سِيزَه و تہ نشہ ثَلْت نَا فَرَمَانِ کَر تَم سِپَدِ  
جِہَنَمِکَ زِیُوْن تہ کَاٹھ۔ یُوْت تَان گُو خْتَمِ جَلَن ہُو نَد کَلَام۔ اَمہ پِٹھ چھو اللہ تَعَالٰی فَرَمَاوَان تُو بَہ فَرَمَاو یُو کھ  
حَض یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کہ بیہ آو مہ نُ وَحٰی سُو زَنہ کہ وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ  
لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ہر گہ یم شہر مِکْکَ لُو ک سِيزَه و تہ پِٹھ قَائِمُ رُو زَن تَلہ چَاو ہُو ک تہ سِیرَاب  
کَر ہُو کھ اَس تَم گُو تَلہ آ بَہ آب وَا فَرہ سِیْت لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ یُو تَه اَس تَمَن اَمْتِحَان تہ اَزْمَانَش کَر  
ہُو ک تَم چھَا شُکْرَ گُذَار تہ فَرِیَاں بَر دَار کَنہ نَا فَرَمَان تہ نَا شُکْرَ گُذَار مَکْر چُو کَنہ تَمُو کَر اِیْمَان اِنہ بَدَل اِعْرَاض  
تہ اِنکَار تَمہ سِیَبہ گئے تَم بَتَلَا حُطْس تہ دَر اِگَس۔ کُفْر وَا نِکَار کَر یہ سَز اِچھو نہ خَاص مَکہ کِیْن لُو کَن سِیْتِ بَلکہ  
وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا یِس اِکھَا پَنہ نَس پَر و ر د گَار ہ سَنَدہ یَا دہ نَشہ یعنی  
اِیْمَانِ اطَاعَتہ نَشہ بُو تَه پَہرہ تَس وَا تَاوہ اللّٰهُ تَعَالٰی سَخْت عَذَابِ سِ اِنْدَرِ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ بیہ آو مہ نُ  
وَ حٰی سُو زَنہ کہ یِمہ مَسْجِدَہ چھ تَمہ سَارہ چھ خَدَا یہ سَنزے مَعْبُو د بَر حَقہ سَنزِی عِبَادَتہ خَیْطَر ہ خَاص اَمْرَہ  
کَر نہ فَلَاتْ دُعُوامِعَ لِلَّهِ أَحَدًا یِس مہ کَر یُو تَس سِیْت بیہ کَانہ ہَنز عِبَادَتِ یَمَن مَسْجِدِ اِنْدَر۔ نہ  
گُذَر ہ مَسْجِدِ اِنْدَر تَس وَا رَا ی بیہ کَانہ مَخْلُو قِ سِ اَلُو د یُو ن حَاجتُو خَیْطَر ہ بعضے مَفْسُر و فَر مَو و مَسَاجِدَہ اِنْدَر ہ  
چھو مَر اَد اِعْضَا ی سِجْدہ یعنی سِجْد ک تَان۔ یعنی کَلْمہ ہِیْٹھ مَنز ڈ ک تہ نَسْت چھ۔ بیہ اَتھ زہ۔ کُو ٹھ زہ بیہ  
کھُو ر زہ۔ یسے گے تھ تَان یَمُو سِیْت سِجْدہ یُو اِن چھو دَنہ۔ یم تھ تَان چھ خَدَا یہ سَنْدِی یَمُو سَتُو تَا نُو سِیْت

لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۱۵  
 قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۱۶ قُلْ إِنِّي لَا  
 أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۱۷ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ  
 اللَّهِ أَحَدٌ وَلَا لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۱۸ إِلَّا بَلَاغًا

گڑھنہ عبادت کرن خدا ایس وراى بیه کانسہ ہنز **وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا** بیه او مہ گن وحی سوزنہ کہ یلہ خدایہ سند بندہ خاص یعنی محمد مصططی صلی اللہ علیہ وسلم خدایہ سزہ بندگی کرنہ خیطرہ یا قرآن مجید پر نہ خیطرہ تھو دو تھان چھو تمہ ساتہ ہژو و جنو تمن انداند ہجوم کرت جمع سپدن۔ یا آس لوک تمہ ساتہ جماژو سمکن ہیوان با ایمان آس سماں شوق و ذوقہ سماں قرآن مجید بوزنہ خیطرہ۔ کافر آس عناد و عداوتہ سبہ بہ ہجوم کرت یوان مجلسہ منز خلل تراونہ خیطرہ **قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا** توہہ فرماو یو یار رسول اللہ یہ تھہ کہ بو چھس صرف پنہ نس پروردگارہ سزہ عبادت کران بو چھس نہ تس کانہ اکھاہ شریک ٹھہراوان یہ تھہ گیہ تو حیدس متعلق **قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا** ایہہ فرماو یو کہ رسالتس متعلق کہ بو چھس فقط خدایہ سید احکام تہ پیغامات و اتناوہ ون بو چھس نہ مالک تہ اختیارہ و ول نہ تہوندہ ضرر کہ نہ تہوندہ نفع خیر کہ نہ تہوندہ ہدایتک تم چھہ توہ و نان ہر گہ توہ واقعی پیغمبر چھوہ تلہ ہا یواسہ فلاں فلاں مجڑہ، توہہ فرماو یو کہ کہ مہ تمن چیزن ہوند اختیار پانس اتھہ چھوہ نہ یہ سوروی چھو خدایہ سند سی اختیارس اندر۔ بیه آس کافر و نان کہ آس مانو تو ہنز رسالت ہر گہ توہ مضمون تو حیدس بیه قرآن مجیدس منز کونہ قسمہ کنہ تغیر و تبدیل کریو **قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَا لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا** تمیوک جواب فرماو یو کہ توہ ہر گہ خدا نخواستہ بو یژہ کوم کرہ تلہ بیکہ نہ مہ کانہ اکھاہ خدایہ سندہ غضبہ تہ عذابہ نش نجات تہ پناہ د تھہ نہ بیکہ بوتس وراى بیه کانسہ نشہ لبث کانہ چھین جایہ۔ مین کوم چھنہ کنہ تہ **إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتٍ** مگر و اتناون خدایہ سندہ طرفہ تہند احکام بیه تہند پیغامات لوکن یعنی پیغمبرہ سزہ

مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ ۖ وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَانَ  
 لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۖ ۲۳ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا  
 يُوعَدُونَ فَيَسْئَلُونَ مَنْ أضعفُ ناصراً وَأَقَلَّ عَدَدًا ۖ ۲۴  
 قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ  
 لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۖ ۲۵ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ  
 أَحَدًا ۖ ۲۶ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ

کوم چھ احکام الہی لوکن نشہ و اتاوان تغیر و تبدیلیہ و رای وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَانَ لَهُ نَارُ  
 جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ایم لوک نافرمانی کرن خدایہ سزبیہ تہندس پیغمبرہ سز بیجئے تہند احکام  
 مانن نہ پس چھو یقیناً تہندہ سز اخیطرہ ہار جنم ہتھ منز تم ہمیشہ ہمیشہ روزن یمن کافر ن چھو نہ از یقین  
 یوان امیوک مگر یمن ایہ نہ یقین حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْئَلُونَ مَنْ أضعفُ ناصراً  
 وَأَقَلَّ عَدَدًا یوتان سو عذاب و چھن چنانچہ یلہ تم سو عذاب و چھن تمیوک تمن وعدہ تہاوندہ یوان  
 چھو۔ تمہ سائے زانن تم کمند مددگار چھ کمزوریہ کمسز جماعت چھ کم تعدادہ کن۔ وین یم تہہ قیامتک  
 وقت پر ترهان بطور انکار۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا  
 تہہ فرماو یو تمن مہ جھنہ خبر یمہ عذابک تہہ وعدہ تہاوندہ یوان چھو سو چھانزدیک ینہ وول کنہ یمن  
 پروردگار ن چھو تمہ خیطرہ کانہہ زیوٹھ مدتہا مقرر کرمت تمیوک خاص تہہ معین وقت یہ گو علم غیب  
 یہ زانہ سوی یوت کیا زہ سوی چھو عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا سوروی سرتہ پوشید  
 چیز زانہ ون۔ سو چھو نہ پنہ امہ تسچہ پوشیدہ کتھ کانہہ نشہ ہاوان إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ  
 مگر چھو ہاوان تہہ مطلع کران پنہ نس کانہہ برگزیدہ پیغمبرس۔ سو تہہ چھو ہتھ پاٹھ خاص اکس طریقس  
 اندر تس مطلع کران کہ فَإِنَّهُ يَسْئَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ رَصْدًا تس پیغمبرس  
 پتہ بروٹھ بلکہ پرت طرفہ سووچی نازل کرنہ کہ وقتہ محافظ ملائکن ہوند بروقت پھرہ سوزان یمن نہ

# يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿۲۷﴾ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ع ﴿۲۸﴾

شیطانس تہہ نگھ چھ دو ان پخہ چنانچہ تمن شیطان چھونہ ممکنی سپدان تہہ وحی لیس کن انوک یا کونہ قسمہ وسوسہ تراونگ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس چھ روایت کران کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ژور ملک مستقل امہ حفاظتہ خیطرہ یہ انتظام چھوامہ موکھ کرنہ یوان لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ یوتھہ اللہ تعالیٰ اس ظاہری طور معلوم سپدہ کہ یم ملائک وحی بیت سوزنہ امت آس تمواتناو پنہ نس پروردگارہ سند پیغامات پیغمبر بر حقش نشہ وتہ منز سہزنہ کہانہ ہنزد اخلت وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اللہ تعالیٰ چھو یمن پیرہ دار ملائکن ہند احوالن احاطہ کرت امہ خیطرہ چھہ اللہ تعالیٰ ان تہہ پیردار مقرر کر مت یہ امہ کام خیطرہ موزون و مناسب چھہ بیہ یم امہ کامہ ہند پورا بل چھہ۔ بیہ چھہ اللہ تعالیٰ اس پرت چیزچی گرند معلوم لہذا چھہ وحیک ساری اجزا کہ اکہ تس معلوم۔ سو چھو تمن سارنی اجزاء ان پور حفاظت تہہ رچھہ کران۔ ملائکن تہہ پیغمبرن ہنزن ذہنس اندر لفظ یسئلگ ونہ نہ سیت چھہ شیطان ہنزدہ استراق سمع تہہ التباسہ نشہ حفاظت لفظ واحاطہ بیان کرنہ سیت چھہ حفاظت یہہ اعتبارہ کہ ذرائع ووسائل یم چھہ تمن چھہ خدا سنز حفاظت واحصیٰ بیان کرنہ سیت چھہ حفاظت از نسیان و ذہول الیہ سند حقہ لہذا چھہ گوڈہ پیٹھہ اندتان سارنی حفاظن ہوندر رعایت تہوانہ آمت۔ حاصل چھہ تینس کہ قیامتہ تعینک علم آسن یہ چھہ نبوتہ کیو علو مواندر۔ لہذا امیوک علم نہ آسن چھونہ نبوتس پٹھہ کانہ ناکارہ اثر تراوان۔ یا تمیوک علم نہ سبب آسنس چھونہ لازم کہ سہ پندہ واقع پنہ نس و قنس تہہ موقعس پٹھہ البتہ علوم نبوت یم چھہ تم چھہ مستقل تہہ مقصود بالذات علوم۔ تہہ علوم لوکن نشہ واتانہ خیطرہ آو پیغمبر بر حق صلی اللہ علیہ وسلم سوزنہ تہہ علوم کر یوتوہ حاصل تموے سیت سپد یوتوہہ مستفید تمو علو مو ورا ی باقی علوم حاصل کرنک خیال تراو یوتوہہ منز چھونہ توہ کانہ فائدہ۔

## سُورَةُ الْمُزْمَلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ ① قُمْ الْيَلَّ إِلَّا قَلِيلًا ② نِصْفَةَ أَوْانْقُصْ  
مِنْهُ قَلِيلًا ③ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ④ إِنَّا

يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ ای پلون منز و لتھ روزہ ونہ صاحبہ امہ عنوانہ خطاب کرنگ وجہ چھوای زہ ابتداء نبوتس اندر آس قریش دارالندوس اندر سمت مشورہ کران کہ تمس پیغمبرہ سندس حالس مطابق گوہہ کانہ ڈیچھ لقبہہ تجویز کرن تھی سیت آسوا لیس تھونذ ذکر کران۔ اک زین دوپ کاہن بے زین دوپ مجنون بے زن دوپ ساحر مگر اتفاق سپد کہ نہ کونہ پٹھ پیہے شھہ واژدر خدمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل مبارک سپد کہ آزرده کپر ژادراہ ہنڈ ہژ کہ سر مبارک پیٹھ۔ ہتھ پاٹھ اکثر غم گین شخص چھوکلہ پیٹھ پلوہنت روزان۔ اللہ تعالیٰ ان کرامی عنوانہ سیت بکمال انس ملاطفت تمن خطاب فرمونکھ

يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ ہتھ پٹھ حدیث شریفس منز چھو آمت کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ درای اکہ پھرہ گھرہ اندرہ آزرده سپدت مسجد نبویکس صحنس اندر رود شھت نندراہ پیہہ تمن مژتہ روی مبارک گو سٹ نسی بدن مبارکس آیہ گرد ہتھنہ۔ توپتہ وات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمن ژھانڈان ژھانڈان اتوی مسجد شریفکس صحنس اندر۔ توپتہ وچھک تمن بدن مبارکس مژتہ گرد لار ہمزہ توپتہ ہژیک سہ گرد و تھراون دست مبارک سیت آسچھ پھش پھش دوآن تہ فرماوان آسکھ قم آباتراب قم آباتراب بکمال انس و محبت۔ عرض اللہ تعالیٰ ان فرموو تمن تھومہ بریودشمن ہزنن کنھن ہوندکانہ غم تھہ روزیو ہمیشہ زیادہ متوجہ پنہ نس پروردگارہ سندس عبادتس کن ایہتھ پٹھ کہ قُمْ الْيَلَّ إِلَّا قَلِيلًا تھہ آسوروزان رات کہ وقت ایستادہ کھسے کالس نِصْفَةَ مثلاً راژ ہندس نصفس۔ باقی نصفس آسیو آرام کران اَوَانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا یا کر یو نصفہ خوتہ تہ کم کالس عبادت نصفہ خوتہ زیادہ حصص کر یو آرام۔ یعنی راژ ہندس ترتمس حصص آسیو عبادت کران۔ دون حصص آسیو آرام کران۔ اَوْزِدْ عَلَيْهِ یا کر یو نصفہ خوتہ زیادہ و قس عبادت یعنی تریو حصوا اندرہ دون حصص اکس حصص آسیو

سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ  
 أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا  
 طَوِيلًا ۝ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

آرام کران۔ یہ قیام لیل چھو توہ پٹھ فرض مگر وقت قیامس چھ ترہ صورت۔ یا نصفانصف۔ یا ترسمس  
 حصص قیام دون حصص آرام یادون حصص قیام اکس حصص آرام۔ وَدَوَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اتھ  
 قیام لیلس منز آسیو قرآن مجید پران وارہ وارہ صاف صاف یوتھ اکھ اکھ حرف بیون بیون ترہ فجرہ  
 بوزن والین۔ امہ طریقہ پر نہ سیت چھو فہم و تدبرس اندر مدد حاصل سپدان۔ بیہ چھو امیوک اثر لکس  
 پٹھ زیادہ بیوان۔ بیہ چھو ذوق و شوق ہران یہوی حکم چھو نمازہ و رای قرآن مجید ک بار تراونک  
 استعداد توہہ قوی تہ مضبوط سپدہ کیاہہ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اسہ چھو تراون  
 توہ پٹھ یعنی نازل گرن اکھ گوب تہ وزن دار کلامہ یعنی قرآن مجید، یمہ کہ ثقلک تہ گو برک  
 یہ حال اوس کہ امہ کہ نازل سپد نہ کہ وقتہ آس نبی کرسمس صلی اللہ علیہ وسلم عجیب  
 کیفیتاہ سپدہ سپدان۔ بدن مبارک اوس گوبان۔ شہ تہ شانلش آس تیز سپدان سردی ہندس موسمس اندر  
 اوس بدن مبارکس عرق یوان۔ عرق قطرات آس جبینہ مبارک پٹھ ختہ پھلین ہندپاٹھ پتھر پوان۔  
 اکھ پھرہ اوس تہوند زانوی مبارک حضرت زید بن ثابتہ سزہ رانہ پٹھ تھہ حالس اندر ہتون وحی نازل  
 سپدن زید بن ثاقس سپد محسوس کہ رانہ ماسپدس ٹس مگر شہ تہ بیگو کہ نہ کڈت۔ ہر گہ تمہ وقتہ ٹخنہ  
 سوارہ پٹھہ سوار آسمن تس سواری آسہ زنگہ پھشان۔ فقط آس ناقہ عضباء مخصوص تہمز سوار تس اوس  
 بروٹھی الہام سپدان سو آس امہ وقتہ پتھر بہان۔ بیاکھ وجہ چھو اس چھو توہ قیام لیلک یعنی رات کہ وقتہ  
 نمازہ پرنگ حکم کران کیاہہ اِنَّا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا بیشک رات کہ  
 وقت نندرہ پتہ و تھون عبادت کرنہ خیطرہ یہ چھو زیادہ موثر نفس پامال کرنہ خیطرہ بیہ چھو یہ زیادہ سیو  
 دتہ راست کہہ ون کلامس تہ تھہ۔ امہ ساتہ یہ کنیز ہا پر نہ یوان چھو قرآن مجید یادعا یا اذکار، تم چھہ پر نہ  
 یوان پریشانی و رای کبمال توجہ اِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا بیشک توہ چھہ دوہس اندر  
 واریاہ کامہ، دینچہ تہ دنیاہ چہ تہ، لہذا کر یو خدا یہ سز کوم رات کہ وقتہ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ④  
 وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ⑩ وَ  
 ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا ⑪ إِنَّ  
 لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ⑫ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ⑬ يَوْمَ  
 تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ⑭ إِنَّا أَرْسَلْنَا  
 إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ⑮

تَبْتِيلًا تمہ علاوہ تہ کریو تہ یاد نام پاک پنہ نس پروردگارہ سندر پرت وقتہ بیہ ژئیوڈلک تعلق سارنی  
 نشہ مشغول تہ متوجہ روزیو تہش سیت یعنی ذکرو تہتل چھو پرت وقتک فرض قطع تعلق تہ اندرہ چھو مراد  
 علاقہ خداوندی گوشہ غالب روزن باقی سارنی تعلق تہ پٹھ کیا زہ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
 فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا سوچھو مالک مشرق تہ مغرب تک تہس ورا ی چھو نہ کانہ تہ عبادتس لائق۔ پس پشرا  
 ویو پشرا کوم تہس یوت وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا بیہ کریو صبر بین لوکن  
 ہزن کھن پٹھ بیہ روزیو تمن نشہ الگ تہ دورر تہ طریقہ تمن سیت مہ تہاویو کانہ تعلق۔ رُت  
 طریقہ اختیار کرن گو تہنز شکایت مہ کریو، تمن انتقام ہیج فکر مہ بریو وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي  
 النَّعْمَةِ وَمَهَلْهُمْ قَلِيلًا بیہ تراویو مہ تہ بیہ تمن انکار کرہ وینن نازو تمن اندر روزن والین موجود  
 حالتس منز۔ تمن دیو بیہ کینہہ دوہ مہلت تہہ کریو بیہ کنہ کالاہ صبر۔ تہندہ سزاعک تہ عذابک وقت چھو  
 وینن قریب إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا \* وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا کیا زہ بے شک اسہ نشہ چھ تم  
 گرفتار کرنہ خیطرہ ہانکھ۔ بیہ تم زالہ خیطرہ نار جنم بیہ تہندہ کھنہ خیطرہ ہنہ نہ وسہ ون خوراک، پس  
 کھوان کھوان ہنس بند آسکھ گوشہان۔ بیہ تہ ورا ی دگ تہ دو دتھ ون عذاب یوی چیز وسیت آیہ تمن  
 سزاد نہ یوی سز ایک تمہ دوہ دنہ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا بیہ دوہ الہ  
 الہ و تہ ز مینس تہ کوئن بیہ سپدن کوہ ریزہ ریزہ گوشہت پکھ ون سیکھ ہش ای انکار و تھذیب کرہ وینو۔



فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِئْسَ لِلَّهِ  
 فَكِيفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ  
 شِيبًا ۗ ۱٤ السَّمَاءُ مُنْقَطِرَةٌ بِهِ ۗ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۗ ۱٨ إِنَّ  
 هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۗ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۗ ۱٩  
 إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَ  
 نِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا  
 پیغمبر اہلس توہ پیٹھ قیامتک دوہ گواہی دیہ کہ یمولو کو کیاہ برتاو کور میانہ تہلینہ پتہ انتھ پاٹ اسہ  
 فرعونس کن اکھ پیغمبرہ سوزمت اوس فعصی فرعون الرسول فأخذناه أخذًا وبئس  
 کرنا فرمانی فرعونس تس پیغمبرہ سنز پس روٹ تہ گرفتار کور اسہ سو فرعون سیٹھاہ سختی سان ہرگہ توہ تہ یہ  
 پیغمبر برحق سوزنہ پتہ نافرمانی کر یوتلہ پیہ توہ تہ کہ دوہ سو مصیبت تلن، چنانچہ سو مصیبت چھو  
 عنقریب ینہ ؤول فكيف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الودان شیبًا ہرگہ توہ ٹھہ  
 کر یو پس کتھہ پاٹھہ بچو تہ موکلیو توہ تمہ دوہہ کہ مصیبتہ نشہ تج سختی تہ شدت تہ زیادہ آسہ کہ لو کٹین  
 معصوم بچن تان بوڈراوہ سو۔ السَّمَاءُ مُنْقَطِرَةٌ بِهِ ۗ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا  
 مفعولاً تمسد وعدہ سپدہ ضرور پورہ، ان ہذہ تذکرۃ بے شک یہ سوروی مضمون  
 چھو اکھ بوڈوعظ تہ بد نصیحت فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلًا لہذا تمس خوش کرہ سوہیہ پنہ نس  
 پروردگارس کن وتھہ یعنی سو کرہ خدایس نشہ واتنہ خیطرہ دنچ وتھہ اختیار ان ربک یعلم انک تقوم  
 ادنی من ثلثی اللیل و نصفہ و ثلثہ و طایفۃ من الذین معک بے شک تھوندس  
 پروردگارس چھو معلوم کہ توہہ بیہ توہ سیت اکھ جماعتھاہ تمولو کو اندرہ یم توہ سیت چھہ رات کہ وقت  
 نماز پر نہ خیطرہ و تھمان قریب راژ ہندن دون حصن کونہ شبہ بیہ نصف راتس کونہ شبہ راژ ہندس تر تمس

يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ  
عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ  
سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ  
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تَقَدَّمُوا

حصص کو نہ شبہ واللہ یُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللہ تعالیٰ ہی چھو پورہ اندازہ بکان کرت دُہکت تہ  
راتک عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ تس چھو معلوم کہ توه بیچونہ امہ وکتک اندازہ ضبط  
کرت لہذا کور تم تہو ندس حالس پٹھ عنایت سو سخت مشقت گوڈنک حکم قیام لیک  
کرن تہوندہ خیطرہ منسوخ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وون یوت توه آسانی سان قرآن  
مجید بچو ہرت توت آسیو پران۔ امہ قرآن مجید پر نہ اندرہ چھو مراد تجد پر نہ تھہ منز قرآن مجید  
پر نہ یوان چھو۔ یہ چھو استجابی امر مطلب چھو کہ تجد ج فرضیت گیہ منسوخ وون ہر گہ توه یشو تجد  
پر نہ تلہ آسیو پران بیہ چھو تجدہ کہ منسوخ سپد نگ بیاکھ وجہ کہ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ  
وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بیہ چھو اللہ تعالیٰ اس معلوم کہ توه  
اندر آسن بعضے لوک بیمار تم ہیکن نہ تھہ حالس اندر رات کہ وقتہ و تھہ تہ تجد پرت۔ بیہ آسن بعضے  
لوک خدایہ سند فیض یعنی معاش تہ رزق تھہ اند نہ خیطرہ ملکن اندر سفر کران تھہندہ خیطرہ تہ چھو بیہ  
مشکل۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیہ چھو بعضے لوک خدایہ سزہ و نہ اندر جماد کران،  
تھہندہ حقہ تہ چھو تجد ج پابندی کرن مشکل فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ پس پر یو قرآن مجید یوت توه  
آسان سپدہ، اگر چہ تجدک حکم وجوب سپد منسوخ مگر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فرض  
نمازہ کریو پابندی سان ادا، بیہ آسیو زکوٰۃ دوان۔ وَأَقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا بیہ آسیو اللہ

لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ  
وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿۲۰﴾

تعالیٰ اس خوش کرنے خیطرہ قرض دوان رت پاک یعنی بکمال اخلاص **وَمَا تَقْتَدِرُوا إِلَّا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ** بیہ یوسہ نیک تہ رت عملہ پنہ نہ خیطرہ توه بروئٹھ کن سوز یوسولیبون توه موجود خدا ایس نشہ **هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا** سوز عمل آسہ سٹھاہ بہتر بیہ سٹھاہنڈ ثوابہ کن۔ دنیوی معاملن اندر مال خرچ کرنے سیت ہس عوض تہ نفع توه حاصل سپدان چھوتمہ خوتہ بہتر تہ بود نفع تہ فائدہ سپدہ توبہ حاصل خیرہ چین کامین اندر خدایہ سندر ضاحاصل کرنے خاطرہ مال خرچ کرنس۔ **وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** اللہ تعالیٰ اس آسیو منگان گنہن مغفرت۔ کیا زہ سوچھو بے شک گنہن مغفرت کرہ ون رحم کرہ ون۔



## سُورَةُ الْمُنْفَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۱ قُمْ فَأَنْذِرْ ۲ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۳ وَثِيَابَكَ  
طَهِّرْ ۴ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۵ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ ۶ وَ  
لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۷ فَإِذَا أَنْقَرْنَا فِي النَّاقُورِ ۸ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ

حدیث شریفین منز چھو آمت کہ ساری بروئٹھ سُپڈ نازل قرآن مجیدہ اندرہ سورہ اقرآک ابتدائی آیات۔ تو پتہ سپڈ بعض حتمن کن نظر کرت کینہہ کالاو جیکس نازل سپڈ نس اندر تاخیرتہ ماٹھہ تمہ پتہ آس کہ دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہرہ نبر پکان اتی ٹیک آسانکہ طرفہ آواز تو پتہ وژکھہ ہیور کن نظر وچھک جبریل امین اکس تخس پٹھ بہت۔ سوخت اوس آسمان وز مینس منز معلق تمن سپڈ دل مبارکس ہیبت پیدہ تم آی واپس گھرہ تو پتہ ہتک ہیرہ بونہ وزن تمہ ساتہ آوبیہ جبریل امین یم آیات کریمہ بہت **يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ** ای کلہ پٹھ وزن ہیوہ ونہ صاحبہ **قُمْ فَأَنْذِرْ** پنہ نہ جایہ نشہ و تھیو تھودتہ سپڈ یو مستعد پس کھوژہ ناویو کہ ساری لوک تی چھو تھوندس منصب بوتس لازم۔ امہ وقتہ آس اکھ زی صاحب مسلمان سپڈ مت تمہ موکھ آیہ نہ بشارتچ ذکر کرنہ **وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ** بیہ زانیون پنون پروردگار بوڈ تہنزی عظمت کریو بیان تہلیغس اندر چھو گوڈ کوی چیز اشاعت تو حید بیہ گوہہ مبلغہ سُند پانہ عامل آسن، تس پزون پانس اندر رت صفت پیدہ کرن رژہ عملہ رت اعتقادتہ رت اخلاق۔ اکھ چیز گو تھو اندرہ **وَرَبَّكَ فَطَهِّرْ** پنن پلو تھوادیو پاک۔ امہ وقتہ آس نہ ونہ نماز فرضی سپز مہ لہذا رکھنہ سچ ذکر کینہہ تہ۔ امہ اندر سپڈ معلوم جامہ پاک آسن چھو لازم نمازہ ورایتہ **وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ** پرت قسچی پلیدی تہ ناپاکی نشہ روز یو دور **وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ** کانسہ مہ دیوکانہہ چیز تمیوک عوض زیادہ حاصل کرنہ خیطرہ نہ علم تہ نہ مال۔ **وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ** بیہ کریو صبر پنہ نس پروردگارہ سندہ رضا خیطرہ ہرگہ تبلیغ ادا کرنس منز کانہہ تکلیف تہ واتوہ۔ یم نہ تھوندہ بیم کرنہ پتہ تہ ایمان انن تھندہ خیطرہ چھویہ

يَوْمَ عَسِيرٍ ۹ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرِ يَسِيْرٍ ۱۰ ذَرْنِيْ وَمَنْ  
 خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۱۱ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۱۲ وَبَنِيْنَ  
 شُهُوْدًا ۱۳ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيْدًا ۱۴ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ  
 اَزِيْدَ ۱۵ كَلَّا اِنَّهٗ كَانَ لِاِيْتِنَا عِيْدًا ۱۶ سَاْرُهٗقُهٗ

وعید کہ فَادَانُفَرَانِي النَّافُوْرُ پس یلہ پھوکھ آہ دنہ پوغس منز فَاذٰلِكَ يَوْمَ يَمِيْدُ يَوْمَ عَسِيْرٍ \* عَلَى الْكٰفِرِيْنَ سُدُوْدُهٗ آسہ سٹھاہ مشکل دوہاہ کافرن پٹھ غَيْرِ يَسِيْرٍ تھہ دوہس منز آسنہ کونہ کج آسانیاہ تھندہ حقہ۔ امہ پتہ چھہ ذکر بعضہ خاص کافرن ہنز ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا یارسول اللہ توہہ مہ بریوکانہہ فکرہ تراویومہ تہ تس شخص لیس مہ پیدہ کرکھوی، بوہوزہ تس سیت پانے سو شخص گوولید بن مغیرہ، یہ اوس مالس کھوی نیجہ۔ زینہ وزہ یعنی پیدہ سپدنہ وزہ اوس ننوی تہ چھنوی کانہ چیزاہ اوسنہ سیت نہ مال تہ نہ اولاد وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا توپتہ کرس مئے بکشرت مال عطا وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا بیہ کرس مئے گبر تہ اولاد عطا یم تس پرت وقتہ حاضر بُروٹھ کنہ آس آسان، تعیل حکم کرنہ خیطرہ تیار وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيْدًا بیہ وتھرووی تھندہ خیطرہ عزت و جاہک فرش تہ وتھرن تااینکہ ساری لوکہ آس تس رئیس تہ زبٹھ مانان مگر باوجود آن کرنہ تم یمن نعمن ہوند شکر ادا ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ توپتہ چھو تس پنہ نہ جایہ خیال کہ بُوکیا کرہ تس اتھ اندر تہ بیہ نعمہ عطا كَلَّا تہ بنہ نہ ہرگز اِنَّهٗ كَانَ لِاِيْتِنَا عِيْدًا کیا زہ یہ اوس سائین آیاتن ہوند مخالف تہ دُشْمَن اَمْسَدَہ خاطرہ چھہ زیادتی دنیا و آخرتس منز بند چنانچہ تم آیات کریمہ نازل سپدنہ پتہ رودنہ امس مال و دولت کونہ نہ جاہ و عزت نہ اولاد خوار و ذلیل سپد سَاْرُهٗقُهٗ صَعُوْدًا آئندہ آخرتس اندر کھارن بو سُو جھنمس منز تھہ کوہس ہتھ ناوٹھو صعور۔ حدیث شریف چھو صحیح ترمذ لیس اندر کہ فرمود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صعور چھو جھنمس اندر اکھہ کوہاہ ستن ورین وانہ جھنمی تجھہ تالہ پٹھ توپتہ آہ تمہ پٹھ بیہ یون دارت دنہ۔ اُتھہ پاٹھ روزہ سو ہمیشہ اتھہ کوہس کھسان توپتہ تمہہ کوہہ پٹھ و س

صَعُودًا ۱۷ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۱۸ فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۱۹ ثُمَّ  
 قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۲۰ ثُمَّ نَظَرَ ۲۱ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۲۲  
 ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۲۳ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْأَسْحَرُ  
 يُؤْشِرُ ۲۴ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۲۵ سَأُصَلِّيهِ

پوان۔ یہ سزا یہ تیس دنہ امی اعتقادہ موکھ تمیوک ذکر کرنہ آوِ اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ پڑھا تم شخصن  
 کر فکر بیہ کرن اندازہ کہ قرآن مجید س نسبت کوہ بیچہ لفظ کرہ تجویز تو پتہ کرن واریاہ فکر تہ تامل کرت  
 اکھ لغوتہ بے ہودہ کتھاہ پیش فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ پس گڑھن سواڈہ ژوٹ تہ کھوڈہ بوز، کتھ پاٹ  
 کرن یہ اندازہ ثُمَّ قَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ تو پتہ گڑھن سو بیہ اڈہ ژوٹ دوبارہ یہ کڑھ کتھاہ کرتم یہ  
 تعجب مکرر کرن ہٹھو اسنز سخت مذمت کرنہ خیطرہ۔ یعنی یہ کڑھ بے ربط کتھاہ کرتم تمیوک نہ کونہ  
 صورتس منز احتمالے ہیچہ سپت کیا زہ سحرج چھہ پرت اکس خبر کہ تمیوک اثر چھونہ زیادہ کالس  
 پوشان سحر ک طاقت چھونہ سو کیا ہیچہ غائن پیٹھہ اثر کرت۔ گاتس زمانس تہ آئندہ آوہ وئس زمانس  
 پٹھ اثر کرت۔ یعنی لغو ذباللہ ہر گہ یہ قرآن مجید جود آسہ ہا۔ سو کتھ پاٹ ہیچہ پرت زمانہ کین لوکن  
 جود کرت کہ تم ہیچہ ہن تمہ جاوہ کہ اثر سیت تمیوک مقابلہ کرت جاوہ گر یعنی اپہ زیور کتھ پاٹ بلکہ علی  
 الاعلان دعویٰ کرنک جرات کرت کہ مثل تہ کتھ کلامس ہیو ہیچونہ توہ جن تہ انسان ہر گز کانہ کلامس  
 پیش کرت ثُمَّ نَظَرَ تو پتہ لگ مجلسہ ہندین لوکن اُن بو تھ بو تھ وہجندہ کتھ یوسہ مہ تجویز کر صہ  
 وناکندہ نہ نہ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ تو پتہ لدن بو تھس بوم وَبَسَرَ تو پتہ لگ بو تھ ژکرانہ ڈکس درہ کھارنہ  
 بو تھ لوکھ دپن سمس چھہ سخت نکمت قرائج ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ تو پتہ پھیور پتھ کُن بیہ نہ  
 راون غرور تہ تکبر۔ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْأَسْحَرُ يُؤْشِرُ تو پتہ ونن یہ قرآن مجید چھونہ مگر بین نشہ  
 نقل کرت جودا ہ اِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ یہ چھونہ کتہ تہ بشرہ سندہ کلامہ ورا ی۔ یعنی اللہ  
 تعالیٰ سُنَد کلام چھونہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان اَمْس دیو توہ ڈورنہ۔ سَأُصَلِّيهِ سَقَر جلدی و اتاون

سَقَرٌ ۲۷ وَمَا آذُرُكَ مَا سَقَرُ ۲۸ لَا تَبْقَىٰ وَ  
 لَا تَذُرُ ۲۹ لَوْ أَحَۡهُ لِلْبَشْرِ ۳۰ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ ۳۱  
 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۳۲ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ  
 إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۳۳ وَالَّذِينَ يَلْمِزُونَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا أُولَئِكَ يَلْمِزُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأُولَئِكَ  
 هُمُ الظَّالِمُونَ ۳۴

بوسو جہنمہ کس نارس اندر وَمَا آذُرُكَ مَا سَقَرُ ژہ کوہ چیز زازوی کہ سقر نار جہنم کیا  
 حقیقت چہ لَا تَبْقَىٰ وَلَا تَذُرُ سونار تراوہ نہ باقی بد نگ کانہ حصاہ زانہ وراہ۔ نہ چھڈہ کانہ  
 نافرمانس عذاب کرنہ وراہ لَوْ أَحَۡهُ لِلْبَشْرِ پُھسرہ والہ ون چھو بٹھ کس دالس یمہ سیت شکل  
 و صورتھ تہ تہ بر باد گزھہ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ تھہ جہنمَس پٹھ چھ مقرر کرنہ آمت نُوہ ملک بند  
 بند سردار یم کافرن رنگارنگ عذاب کرن۔ ملاکن ہبوند قوت تہ طاقت چھو سیٹھہ زیادہ جنن تہ انسان  
 ہندہ نو تہ چنانچہ سارنی جہنمن عذاب کرنہ خیطرہ اوس اکوی ملک کافی۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کر مقرر گونہ و وہ  
 ملک اندرہ چھو معلوم سپدان کہ کافرن تہ مُشر کن عذاب کرنگ اہتمام چھو سٹھہہ زیادہ۔ کونہ وہن  
 ہوند عدد خاص کرنگ ہر چھو معلوم اللہ تعالیٰ آسی۔ یمن کونہن ملکن ہندس سردارس چھو ناوماک  
 یمہ یمہ آہہ کر یمک مضمون یوزکا فروتم لگ ٹھٹھہ تہ استہزاء کرنہ۔ چنانچہ آکھ کافراہ آکھ اوس  
 ابوالآشیدن سواوس سٹھہہ طاقت ور شخصہہ سو لگ ونہ نہ کہ ای قریشو تہ وہ مہ کھوڑیو۔ یمو اندرہ زہ ملک  
 ہٹاؤکھ توہہ باقی سداہن سیت کر بہ گنی مقابلہ اللہ تعالیٰ ان کراتھہ تردید وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ  
 إِلَّا مَلَائِكَةً اسہ کرنہ جہنمک داروغہ انسان یمن کانہ قوی انسانہ ہٹاؤکھ یمکجا بلکہ کراسہ جہنمک  
 داروغہ صرف ملائک یمو اندرہ آکھ ملک تیوت قوت چھو تھوان یوت سارنی جنن تہ انسان اولین تہ  
 آخرین قوت چھو چنانچہ حدیث شریفس منز چھو لہم مثل قوۃ الثقلین وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً  
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا بیہ کرنہ اسہ تہوند تعداد یوت اس بیان آو کرنہ مگر کافرن آزمائش کرنہ خیطرہ  
 یوتھہ تہزہ گراہین ہبوند سبب بنہ بیہ یوتھہ آکھ پیٹھہ امیک نتائج مرتب سپدان لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا

وَيَزِدُّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا  
 الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  
 وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا امْتَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ  
 اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ  
 رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۚ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۗ  
 وَاللَّيْلِ إِذَا دُبِرَ ۗ وَالصُّبْحِ إِذَا أَصْفَرَ ۗ إِنَّهَا لِحُدَىٰ

الْكِتَابِ يُوتِيهِمْ اهل کتاب یہ بوزت یقین کرن کیا زہ تمن آسہ پنہ نیو کتابو موجب اتھ تعداد س متعلق اطلاع خبر بروٹھی وَيَزِدُّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا يہ سیت با ایمان ہوند ایمان زیادہ سپدہ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ بیہ روزہ نہ کانہ شک نہ تردد اہل کتابن نہ با ایمان۔ تمن لکھ نہ مٹر کن ہندہ استہزاء تمسخرہ سیت کونہ قسمہ دھو کھ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا امْتَلًا بیہ یمن ہندن دلن اندر شکم مرض چھو یجنی منافق نہ ضیعت الایمان لوکھ بیہ کافر ن پاٹھ انکار کرہ ون تم ون کہ بیہ عجیب مضمون یعنی جہنمہ کین داروغن ہنز گردونہ اندرہ کیاہ سنا چھو مقصود اللہ تعالیٰ اس یتھ پاٹھ اللہ تعالیٰ ان یتھ معاملس اندر با ایمان خاص ہدایت کر بیہ کرن اتھ معاملس اندر کافر خاص طور گمراہ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ یتھ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ گمراہ کران یس یشہان چھو تس بیہ چھو ہدایت کران یس یشہان چھو تس۔ جہنمہ کین داروغن ہنز گردن کونہ ونس اندر چھو کمہ کمہ حکمہ، یتھ چھا کل بل توی فوج نہ ہر گز نہ بلکہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ای پیغیر چالس پروردگارہ سند فوج چھو تیوت یمن ہیوند شمار نہ کانہ نہ زانہ تس معبود برحقس وراى وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ یہ جہنمک حال بیان کرن چھو ہڈ نصیحت صرف انسان ہندہ خیطرہ كَلَّا وَالْقَمَرِ یتھ تم چھو زونہ ہیوند وَاللَّيْلِ إِذَا دُبِرَ بیہ چھو قسم راز ہوندیلہ سہ گوہن چھو هیوان وَالصُّبْحِ إِذَا أَصْفَرَ بیہ چھو قسم صبحک یلہ





نَكَ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ ﴿۳۵﴾ وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿۳۶﴾  
 كُنَّا كَذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿۳۷﴾ حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْيَقِينَ ﴿۳۸﴾ فَمَا نَنْفَعُهُمْ  
 شَفَاعَةُ الشُّفَعِينَ ﴿۳۹﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿۴۰﴾  
 كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿۴۱﴾ فَوَّتَّ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿۴۲﴾ بَلْ يُرِيدُ  
 كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمُ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مِّنْشَرَّةٍ ﴿۴۳﴾ كَلَّا بَلْ لَا

نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ بیه آسنه آس غرمین تہ مسکین ہوندی ہوند حق آسہ پٹھ واجب اوس طعام کھیواون  
 وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ بیه آس تمن لوکن سیت شامل سپدان یم دین حق یعنی اسلام باطل  
 کرئج کوشش کران آس وَكُنَّا كَذِبُ بِیَوْمِ الدِّینِ بیه آس اہز زانت انکار کران قیامتہ کس  
 دوہس حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْيَقِينَ یوتان اتھہ حالس اندراسہ مرکب وقت ووت یعنی یمو حالتوشہ آے نہ  
 آس باز تا اینکه اتھہ نافرمانی ہندس حالس پٹھ مودا آس فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفَعِينَ پس دیہ نہ کانہ  
 نفع تہ فاندہ تمن شفاعت کرہ وین ہنز شفاعت یعنی تمن کرہ نہ شفاعت تہ سفارشی کانہہ تمن یلہ  
 امہ کفر و اعراضہ موکھ یہ حالت ہنہ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ پس کیاہ گو تمن کہ تم چھہ امہ  
 قرآنہ کہ نصیحت نشہ بو تھہ پھران تہ روگردانی کران تہ ثلاثان کَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿۴۱﴾ فَوَّتَّ مِنْ  
 قَسْوَرَةٍ زن تم چھہ جنگلی تہ وحشی کھر یمسہ وچھت چھہ کھر کھکھوان تہ ثلاثان۔ امہ تہندہ ثلاثک وجہ  
 چھو کہ تم چھنہ پنہ خیالہ قرآن مجیدس کافی دلیل زانان بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمُ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا  
 مُنْشَرَّةً بلکہ چھو تھواندرہ پرت اکھاہ یرھان کہ تس نشہ گڑھہ واتن آسانی خطاہ وارہ مزہ راوت۔ ہتھہ  
 خطس اندر بوضاحت لکھت آساخدا یہ سندہ طرفہ خصوصی طور تہندہ ناوہ کہ توہ کر یحضرت محمد ﷺ سنز  
 متابعت اللہ تعالیٰ چھو فرماوان کَلَّا تہ ہنہ نہ ہرگز کیاہہ اچ چھنہ ضرور تھہ نہ چھہ یمن تج لیاقت تہ  
 قابلیت یہ در خواست کر نگ وجہ چھونہ یمن کیا چھو دلن اندر پڑھ کر نگ پنٹہ ارادہ بَلْ لَا  
 يَخَافُونَ الْآخِرَةَ بلکہ چھو یہ در خواست کر نگ وجہ کہ یمن چھنہ آخر چ پڑھی یمن چھونہ

# يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۵۳ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ۵۴ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۵۵ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۵۶

آخر تک عذابِ خوفِ بے تھی چھو نہ یمن پوزھا ننگ خیالے کا نہ کَلَّا یلہ وین تہندہ درخواست کرنک باطل آسن ثابت سپد۔ لہذا بے نہ تہ ہرگز بت تہج تم خواہش کران چھہ اِنَّهُ تَذَكُّرٌ بلکہ چھویسوی قرآن مجید وعظ نصیحتہ خیرہ کافی بیہ گو نہ خصوصی وعظ چھہ نہ کانہ ضرورت فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ اتھ سُن نظر کرت لیس امہ قرآن مجیدہ سیت نصیحت رثن یشہ۔ سورثن نصیحت لیس نہ یشہ سومہ رثن گڑھن گرفتار جہنمہ کس عذابس۔ اسہ چھہ تہمز کانہ ضرورت کہ تس نشہ کیاسو زو اس خصوصی صحیفہ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ بیہ کتہ کرن تم نصیحت قبول یوتان نہ اللہ تعالیٰ تہوند نصیحت قبول کرن یشہ تمسند نہ یشہن اندر چھہ جہجہ حمرہ باوجود آن چھو ضرور قرآن مجید بوڈو وعظ تہ ہڈ نصیحت لہذا گڑھہ امہ سیت نصیحت رثن تہ خدایہ سنز اطاعت وفرماں برداری کرن کیازہ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ سوی چھو سو ذات پاک بے سندس عذابس کھوژن شو بہ بیہ چھو سوی لایق بدن ہندن گنہن بخشایش کرنس یعنی انسانے ڈٹھ کیتھ گناہ کرہ تو پتہ یلہ سو تقویٰ چہ و تہ پتھ تس کھوژہ تو پتہ کرہ توبہ گنہن مگس بخشایش سو پروردگار کرنس سارنی گنہن مغفرت توبہ کرس قبول۔ چنانچہ اکس حدیث شریفس منز چھو آمت لیس بروایت انس بن مالک چھو کہ حضرت آنحضرت تو پرا کہ دودھ یہ آہ کریمہ تو پتہ فرموو کہ قال ربکم عزوجل انا اهل ان اتقى فلا يشرك بی شیء . فإذا اتقانی العبد فانا اهل ان اغفر له یعنی بوچھس بیتھ لایق کہ بندہ کھوژن مہ تو پتہ پھرا و غم نہ کانہ اکھاہ کونہ چیزس تہ کونہ کامہ منز شریک تو پتہ یلہ بندہ مہ کھوژ شریک نشہ سپد پاک تمہ ساتہ چھو میون شان ای زہ بو کرہ تہدین گنہن مغفرت۔ (اللہ تعالیٰ تھاون اسہ پنہ نہ فضلہ ورحمتہ سیت ہمیشہ ایمان و توحیدس پٹھ قائم بیہ کرن سائین سارنی گنہن بخشایش۔ آمین یا رب العالمین)



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ① وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ②

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بوجھس قسم ہاوان قیامتہ دوھک وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ بیہ جھس  
بوجھس قسم ہاوان تمہ فسک لیس پان پانس ملامت کرہ محققو چھو لکھمت کہ انسانس چھو نفس اکوی مگر تمہ کیو  
تریو حالو منز چھہ تھہ ترہ ناو۔ اگر انسانہ سُنْدُ نفس آسہ مائل عالم علویس کن تو پیتہ آسہ اللہ تعالیٰ سنز عبادت  
تہ فرماں برداری کران۔ بیہ آسہ تس شریعت پیروی کرنس سکون و قرار محسوس سپدان ہتھہ نفس چھہ  
ونان نفس مطمئنہ اگر تہوند نفس عالم سفلیس کن مائل آسہ دنیا کین لذتن تہ نفسیہ خواہش اندر آسہ  
بوڑمت تو پیتہ آسہ بیچھہ کائین تہ بدین کن رغبت کران شریعتہ چہ پیروی نشہ آسہ ژلان تہ گریز کران  
تھہ چھہ و نان نفس امارہ ہر گہ کونہ وقتہ عالمہ سفلیس کن آسہ نماں شہوتن تہ خواہش منز آسہ بتلا سپدان  
تہ کونہ وقتہ آسہ عالم علویس کن مائل سپدت یمن چیزن بیچھہ تہ خراب زانت دور ژلان، بیہ آسہ یمو  
کامیو سبہ شرمندہ تہ نخل گڑھت نادم تہ پشیمان سپدت پنہ نس پانس ملامت تہ کرڈہ پریٹ کران تھہ  
چھہ دپان نفس لوامہ یہوی مضمون ایہ بیہ طریقہ تہ بیان کرنہ کہ انسانہ سوند دل چھو گوڈ گوڈہ نفسہ چن  
خواہش گندہ نس تہ بے ہودہ کائین منز بوڈ تھہ غرق گڑھان نیکن کن جھس نہ رغبتی آسان سو گو نفس  
امارہ تو پیتہ چھوس ہوش یون روت تہ بیچھہ چھوس فخرہ تران پالیس چھو ہیوان پیون بیچھہ کامیو نشہ چھو باز  
ہیوان یون محسوس چھو ہیوان کرن کہ مہ کوریہ نہ کرن گڑھہ پنہ نس پانس چھو ملامت ہیوان کرن۔ سو  
گو نفس لوامہ تو پیتہ یلہ پنہ نس پانس درست کران تہ سنبھالان چھو۔ دلہ سیت چھو نیکن کن رغبت  
کران۔ بے ہودہ تہ ناجاز کامیو نشہ چھو خود بخود دور روزن ہوان بیچھہ کائین کہہ نچ چھہ کتھے تمہ ہند  
تصور کرنہ سیت تہ چھو تکلیف تہ انقباض محسوس کران۔ تھہ چھہ و نان نفس مطمئنہ، تہتس چھو اللہ تعالیٰ  
نفس لوامک قسم ہاوان کیا زہ اگر کانہہ فطرت سلیمہ آسان چھو سو چھو خود بخود دنیا س اندری بیچھہ  
کائین پیٹھہ نادم تہ پشیمان سپدت پنہ نس پانس اصلاح کران تہتس چھو جواب قسم محذوف کیا زہ امہ پتہ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ۳ بَلَىٰ قَدَرِيْنَ  
 عَلٰى اَنْ تُسَوِّىَ بَنَانَهُ ۴ بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ  
 اَمَامَهُ ۵ يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۶ فَاِذَا اَبْرَقَ  
 الْبَصَرُ ۷ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۸ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۹  
 يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفْرُجُ ۱۰ كَلَّا لَا وَاُذَرَ ۱۱ اِلَىٰ

ہم آیات چھ تھ پیٹھ دلالت کران سو جواب قسم چھو کہ توه ساری اُبو بیہ دوبارہ مرنہ پتہ زندہ کرنہ قبر و  
 اندرہ کڈت محشرہ کس میدانس اندر سو نبر اونہ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ کیا انسان  
 چھا خیال کران کہ اَس کیا ہونہ ہر گز تہنہ ہ اُچہ سو نبر اوت تہ جمع کرت انسانہ اندرہ چھو مراد کافر بَلَىٰ  
 قَدَرِيْنَ عَلٰى اَنْ تُسَوِّىَ بَنَانَهُ اَس کرو کہ ضرور اُچہ جمع، تہ چھونہ اسہ نشہ کینہہ دشوار تہ مشکل  
 کیا زہ جہ اُچہ جمع کرنہ کیا چھہ کٹھہ اسہ چھہ قدرت تمسزہ لو کچہ اُچہ یعنی اونگچہ نینڈ تان سو نبر نس جمع  
 کرس تہ پندہ پندہ جایہ برابر کرس پٹھ قدرت پس حصہ بدنک سانہ نظرہ اندرہ مشکل چھو واٹن تہ برابر کرن  
 تھ پیٹھ یلہ تس قدرت چھہ تمہ گیہ نیچہ نیچہ اُچہ بد نیچہ و سَن کیاہ عجائب چھو تس نشہ بڈ، بڈ تان جمع کرن  
 لیکن بعض لو کہ چھنہ خدایہ سندس قدرتس منز غور کران تہی چھہ قیاس انکار کران بَلْ يُرِيْدُ  
 الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهُ بلکہ چھو انسان قیاس انکار کرت یژھان کہ آئندہ پندہ نہ زندگی اندر  
 خوف تہ خطرہ و رای فسق و فجورس اندر درود دیون یَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تہی چھو بطریق انکار  
 پر ژھان کر تمہ دوہ تہ کٹھ سنس منز آسہ سو قیامت یئہ چھو سو ٹھٹھ پاٹ تہ تسنہ پاٹ سوال کرن پس  
 بوزنا ویون فَاِذَا اَبْرَقَ الْبَصَرُ \* وَخَسَفَ الْقَمَرُ \* وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ پس یلہ اچھہ خیرہ  
 گدھن بیہ یلہ زونہ گرھون لگھ زونہ کیاہ کتھہ چہ بلکہ یلہ آفتابہ زون یں جمع کرنہ تہ کئی حالت سپدہ  
 آفتابس تہ زونہ یعنی دو شون لگھ گرھون دو شوے سپدن گٹ تہ بے نور۔ ہم ہم حالات یلہ تمہ دوہ رونما  
 سپدن يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفْرُجُ یہ معر قیامت انسان گدھہ حیران بد حواس گدھت لگھ

رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝۱۲ يُنْبِئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ  
بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ ۝۱۳ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝۱۴  
وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۝۱۵ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ

وَن كوت گزده ژلن جايه ته چھين جايه چھناكونه الله تعالى چھو فرماوان۔ كلا ہرگز نہ لاوڈرژ  
ژلن جانی چھنہ کونہ ممکنہ چھونہ کانہ کیا پیکہ ژلت اِلٰی رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ تمہ دوهہ آسہ  
سارنی پنہ نس پروردگارہ سزوردگارہ اندرہ عدالتس اندر حاضر سپدن تهنزہ پیشی اندر ایستادہ روزن  
تھندسی فیصلس بیازن توپتہ چھوس تھہ جايہ واتن یسہ جايہ ہوند سو فیصلہ کر لیس جنس یانارس منز  
يُنْبِئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ تمہ دوهہ ایہ اس انس کرمت تہ کر اومت پتوم تہ  
بروٹھیم سو زوی یادیاونہ بلکہ چھنہ تس باونچ ضرورتھہ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بلکہ چھو  
یہ انسان پنہ نس پانس پیٹھ پانہ دلیل تس چھہ پنہ نین کر توتن ہنژپانس خبری وَ لَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ  
اگرچہ بروٹھ کن تراوتن سو ڈٹھ کتھہ عذرہ تہ بہانہ تم چلنن نہ تمہ دوهہ کینہہ ونہ ناووکھ تمسد تان تہ  
سوروی یہ تم کرمت آسہ، لہذا اندر تہ بہانہ یا انکار کرہ نچ روزنہ گنجایشی۔ یسہ آسہ کریمہ يُنْبِئُ الْإِنْسَانَ  
منزہ درای زہ مضمون۔ اکھ مضمون گوکہ اللہ تعالیٰ چھو سوروی زانہ ون۔ سارنی چیزن احاطہ کرہ ون  
تس نشہ چھونہ کھٹمت کینہہ تہ دوئم مضمون گوکہ اللہ تعالیٰ سند طریقہ چھو کہ یلہ سویرھان چھہ باقتضاء  
حکمت چھو سو تم علم تہ تم تم واقعات مخلوقن ہنزہ ذہنہ اندر حاضر کران، ہم تھندس ذہن نشہ غائب  
تہ پوشیدہ آسن چھناچنہ تی سپدہ لوکن ہوند حال قیامتک دوهہ، ستیوم تہ پتوم پیہ تمسن پانے خود بخو دیاد۔  
یلہ یہ سانہ قدرتھہ حقیقت تہ کیفیت چھہ توهہ کیا حض چھو یارسول اللہ پنہ نس پانس تکلیف دوان وحی  
نازل سپدنہ کہ وقتہ چھو جبریل امینس سیت سیت پران۔ بوزان تہ چھوہ پران تہ چھوہ محض یسہ اندیشہ  
مؤکھ کہ وحیک کانہ حصہ ماروزہ غیر محفوظ تہ ذہن مبارکہ منزہ نیرہ نبر۔ توهہ کیا زہ چھوہ یسہ اندیشہ کران۔  
یلہ اسہ توهہ پیئمبر بناوہہ توهہ نشہ چھوہ اسہ تبلیغ کام ہن۔ سانی کام چھہ تم ساری مضامین توهہ ہنزہ ذہنہ  
مبارکس اندر جمع کرن تہ محفوظ تھاون۔ توهہ کیا زہ چھوہ تمبوک غم بران تہ محنت و مشقت برداش کران  
لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ یہ مہ آسیو توهہ زبان مبارکس حرکت کران وحی موکلنہ بروٹھ

بِهِ ۱۶ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۱۷ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ  
 قُرْآنَهُ ۱۸ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۱۹ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ  
 الْعَاجِلَةَ ۲۰ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۲۱ وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۲۲  
 إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۲۳ وَوَجُودٌ يَوْمَئِذٍ أَبْسُرَةٌ ۲۴ تُظُنُّ

یہ خیالہ کہ جلدی سان کرہ ہا بو حیک الفاظ یاد کیا زہ **إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ** بے شک اسی چھو  
 مطہ یہ قرآن مجید تہوندس دل مبارکس منز جمع کرن بیہ چھو اسی مطہ تہوندہ زبان مبارکہ یہ پرہ ناوان  
**فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ** پس یلہ آس یہ قرآن مجید پران آسولیعنی سون فرستادہ ملک جبریل امین  
 یلہ یہ پران آسہ تہوند ذہن تہ فکر گروہ تہ ساتہ امہ کس بوزنس کن متوجہ تہ تابع روزن، سیت سیت  
 پرس سیت گروہنہ مشغول روزن **ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ** تمہ پتہ یلہ توہ لوکن برونظہ کنہ بیان آسہ  
 کرن، تمہ ساتہ تہوندہ زبان مبارکہ یہ بیان کرہ ناوان چھو سانی مطہ یہ مضمون ضمنی طور بیان کرت چھو  
 بیہ قیامتہ کین منکر کن خطاب یوان کرنہ۔ ای منکر انسانہ پتہن تہ برونظہن عملن پٹھ مطلع کرنہ یون  
 سپدہ ضرور قیامتک دوہ۔ توہ لوکن چھو خیال کہ قیامت سپدی نہ قائم کلا یہ تہوند خیال چھو نہ  
 ہرگز صحیح توہ چھنہ تہ پٹھ کنہہ دلیل حقیقتس اندر چھ تہہ بیہ کہ **بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ** بلکہ چھو توہ  
 دنیاک محبت تہاوان تمکسی مجتہس منز چھوہ توہہ بڈت گیمت **وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ** آخرتہ نشہ  
 غافل سپدت چھون سوہل پٹشت تراوان توہندہ قیاتس انکار کرنک بنا چھو دنیاک محبت۔ لہذا زانیو توہہ  
 وارہ کہ قیامت سپدہ قائم ضرور۔ پرت اکھاہ ایہ پنہ نین عملن پٹھ مطلع کرنہ تو پتہ ایہ پرت اکس تمن  
 عملن ہنز مزورد نہ رٹن عملن رٹ مزور بیچھ عملن بیچھ مزور سمیک تفصیل پتہ پٹ چھو **وَجُودٌ**  
**يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ** واریاہ بوتہہ آسن تمہ دوہہ بارونق ترو تازہ **إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ** تم آسن پنہ نس  
 پروردگارس کن وچھان لذت دیدارہ سیت آسن سرشار، ہشاش تہ بشاش یعنی اسہ وین تہ پھلہ وین  
**وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ أَبْسُرَةٌ** واریاہ بوتہہ آسن تمہ دوہہ بے رونق تہ تکرکوت تہ بوم لد تہہ **تُظُنُّ**

أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقْرَأْهُ ۖ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۖ<sup>۳۱</sup>  
 وَقِيلَ مَنْ سَرَقًا ۖ ۚ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۖ وَالْتَمَّتِ  
 السَّاقُ بِالسَّاقِ ۖ إِلَىٰ رَيْكِ يَوْمِئِذٍ السَّاقُ ۖ<sup>۳۲</sup>  
 فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ ۖ وَلَا كُنْ كَذَّابٌ وَتَوَلَّىٰ ۖ<sup>۳۳</sup>  
 ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ۖ<sup>۳۴</sup> أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۖ<sup>۳۵</sup>

يُفْعَلَ بِهَا فَاقْرَأْهُ تمَن لوکن آسن زانتھی کہ تمَن سیت سپدہ سوی معاملہ نُس تہند کمر پھڑاوہ  
 ون آسہ یعنی تمَن آیہ کرنہ عذاب شدید۔ امہ پتہ چھو دنیاء کس مجتہس پٹھ زجر یوان کرنہ کہ ای انسانہ  
 ژہ اوسٹھ دنیاء س محبوب زانان تہ آخرتس ناپسند تہ نامرغوب زانان کَلَّا سوٹھ چھنہ کیازہ امہ  
 دنیاء نشہ چھہ ژیہ کہ نتہ کہ دؤھ مفارقت تہ جدائی کرن توپتہ چھوی ژہ بہر حال آخرتس کُن وائُن  
 إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ یلہ زوواتان چھو ہر س پٹھ یعنی انسان چھو مر نہ لگان وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ  
 تمہ ساتہ چھو نہایت حسرتہ کن ونہ نہ یوان یعنی بیمار دار چھہ تمہ ساتہ ونان کانہہ پرن وولاہ چھو ناہس  
 تمس پھو کھاہ دیہ ہایا کانہہ علاج کرہ وناہ حکیماہ چھو نا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ سومرہ ون چھو پانہ یقین  
 کران کہ یہ چھو دنیاء نشہ عزیزن تہ رشتہ دارن نشہ جداسد نگ وقت وَالْتَمَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ  
 موٹجہ سختی سیت پھس اکھ گرزبیس گرزہ ولنہ یوان۔ یہ چھو علامت سكرات الموتک إِلَىٰ رَيْكِ  
 يَوْمِئِذٍ السَّاقُ یلہ یژہ حالت پیش یوان چھہ، دپنہ چھو یوان امس مرہ ونس، کہ ژہ چھہ ازپنہ  
 نس پروردگار سُن چکن توپتہ خداہس نشہ واتنہ پتہ اگر سو شخص کافر آسہ تمسند حال آسہ سیٹھاہ خراب  
 کیازہ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ کیازہ تم آسہ کرمت تصدیق تہ پڑھ کنس خداہس تہ پیغمبر برحقس بیہ  
 آسین نہ پر مشر نماز وَلَا كُنْ كَذَّابٌ وَتَوَلَّىٰ لیکن تم کہ بجای تصدیق انکار و تکذیب بیہ بجای نماز  
 و نیاز کرن سخت اعراض ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ اعراض کرت تہ بو تھ پھرت تن گرہ کُن  
 چکن یٹھ ماران زن تم لاس لمبت اوس بند کومہ کمرثر آس اَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ \* ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ



ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۖ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ  
يُتْرَكَ سُدًى ۖ ۳۶ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمْنَىٰ ۖ ۳۷  
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۖ ۳۸ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ  
الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۖ ۳۹ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَنْ  
يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ ۴۰

ای بد بخت چانه بد بختی تباہی تہ خرابی ہونو وقت ووت، اکئی خرابی نہ بلکہ اکہ خرابی پتہ بیاکھ خرابی اکہ تباہی پتہ بیاکھ تباہی **أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى** کیا یہ انسان چھاگمان کران کہ سوکیا ایہ تراونہ یلے تس کیا ایہ نہ آزمائش کرنہ امر ونہی کیوا حکا موسیت۔ تو پتہ کیا ایس نہ پرژہ نہ حساب ہینہ۔ بلکہ چھو سو یقیناً مکلف۔ یہ ایہ تس یقیناً حساب و کتاب کرنہ جزاء و سزا نہ یہ انسان اوس مر نہ پتہ زندہ سپد نس محال زمانا پتہ آیتہ آس اسمنز کمال حماقت **أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمْنَىٰ** کیا امس چھنا پتون ابتداء معلوم کیا یہ اوسنا گوڈہ محض اکھ منی قطراہ یس پشپاونہ آوزانہ ہندس ششمس تہ بچہ دانہ اندر **ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً** تو پتہ بیوتتہ منی قطرس خونہ و تھاہ اکھ **فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ** تو پتہ کرتتہ اللہ تعالیٰ ان پیدہ اکھ انسان تس کرن اعضاء بدن برابر **فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ** امسی انسانس کر اللہ تعالیٰ ان زہ قسم نر تہ مادہ۔ مرد تہ زنانہ **أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ** کیا یہ قادر مطلق یم پتہ نہ قدر تہ سیت ابتداء یہ سوروی کینہہ کور اکس بیجان قطرس کرن عاقل تہ دانا انسان پیدہ سو بچہ نامر نہ پتہ بیہ دوبارہ تس پیدہ کرت۔ حدیث شریفس منز چھو آمت من قرأ سورة القيمة وقرأ فيها **أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ** فليقل بلى إنه على كل شئ قدير یعنی یس سورہ قیامت پرہ تو پتہ پرہ تمیوک پتیوم آ یہ کریمہ الیس ذلک الیخ سو پر ن بلی الیخ ادہ سو پر تن نمازہ منز یا نمازہ ورا ی یس یہ سورہ شریفہ پرہ ون اسہ تس چھو حکم امہ پتہ بلی پر ن۔ بوزہ ونس چھونہ پر نگ حکم۔ اتھے پاٹھ چھہ اما مسی یوت پر ن مقتدین چھنہ پر ن کیا زہ لفظ حدیث چھو من قرأ اتھ منز چھونہ من سمع یعنی یس بوزہ یہ آ یہ کریمہ تموندگڑھ نہ پر ن واره گڑھہ تامل کرن۔

## سُورَةُ الذَّهَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝<sup>۱</sup>  
 إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ ۖ فَجَعَلْنَاهُ  
 سَمِيعًا بَصِيرًا ۝<sup>۲</sup> إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ۖ إِمَّا شَاكِرًا ۖ وَإِمَّا  
 كَفُورًا ۝<sup>۳</sup> إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ۝<sup>۴</sup>

ہَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝۱ بے شک اس انسانس پٹھ گذر یوزمانہ منز اکھ وقاہہ تھہ و قس منز اوس نہ سوکانہ چیزہ زیوہ پیٹھ ہون لایق یعنی قابل ذکر۔ انسان اوس نہ بلکہ اوس نطفہ تمہ بروٹھ اوس غذا تمہ بروٹھ اوس چیز جماد اتواندر **إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ** اسی کمر پیدہ یہ انسان ملناونہ آتس آب نطفس یعنی مردہ سندس آہس تہ زنانہ ہندس آہس سیت ملناوت کیا زہ زنانہ ہنز منی چھ اندر اندری تھندس شکمس یعنی بچہ دانہ اندر جمع سپدان تو پتہ چھ تم دوشوے آب پانہ وان رلان تہ ملناونہ یوان تھہ چھ انسان بنان یتہ ہمہ معنی آتھہ کہ سوماہہ چھو مختلف چیز و سیت مَرکب آسان سپد مُت غرض اٹھسے نطفس کر پیدہ اسہ یہ انسان **نَّبْتَلِيهِ ۖ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا** یمہ طریقہ کہ اس کر سومکلف یعنی پنہ نین حکمن امر تہ نمی و اتناو و تس نشہ دپوس یہ کرتہ یہ نہ۔ امی سیت کرو اس تس آزمایش تہ امتحان تمی موکھ کر اسہ سو بوزہ ون تہ و چھ ون بیہ کور اسہ تس عقل و فکر عطا غرض کہ سوہیت تہ تم صفت کر اسہ تس عطا یو سیت تمس اندر مکلف بنہ سچ قابلیت سپز پیدہ۔ تمہ پتہ یلہ تس مکلف بنہ ٹک وقت ووت **إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ۖ إِمَّا شَاكِرًا ۖ وَإِمَّا كَفُورًا** اسہ کر یو مطلع رٹون کامن پٹھ تہ پیچہ کامین پیٹھ تو پتہ ہاوس اسہ سیز و تھہ یعنی پنہ نیوا حکامو سیت کور اسہ تس کُن خطاب۔ تمہ سیت سپد سویا شکر گذار با ایمان۔ یاسپد

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۖ  
 عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۖ يُوفُونَ  
 بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۖ وَيُطْعَمُونَ  
 الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۗ

تاشکر گزار کافر یعنی یرہ و تہ دوپ پکن ہر گہ تمی و تہ پوک تلہ گو با ایمان۔ ہر گہ تمہ و تہ پوک نہ تلہ گو کافر۔ وین چھو بیان یوان کرنہ یمن دو شوئن ہیوند جزاوسزا اِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَأَغْلًا وَسَعِيرًا اسہ چھو تیار تھومت کافرن ہندہ خیطرہ ہانکلہ تہ طوق بیہ ذرہ ون نار اِنَّا الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا بے شک یم نیکو کار آسن تم چن جنگ شراب طبور پیاو سیت تھ شراب طبورس ملناونہ آسہ آمت جنتہ کہ کافورہ منزہ مویہ ہنہ جئس منز چھواکھ چشمہ یعنی اکھ ناگہ ئس اللہ تعالیٰ ان چھو مخصوص کرمٹ مقرب بدن ہندہ خیطرہ سو آسہ خوشبو تہ فرحت افزا تہ سفید تمی مناسبتہ آس و نہ کافور عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا اکھ چشمہ بیہ منزہ چن اللہ تعالیٰ سند خاص بندہ۔ تھ آسن تم خاص بندہ پھران یوگن تمن خوش آسہ کران سو آسہ بون گن پکان ہیورگن پکان چٹچہ جو بیہ آسن جئین تابع تھندہ اشارہ سیت توکن پکان یوکن تھنز خواہش آسہ۔ در متورس اندر چھ اکھ روایت کہ جئین آسن اتھن منز سونہ سزہ لورہ تموی سیت آسن جوین گن اشارہ کران تمہ جو بیہ آسن تھندہ اشارہ سیت تھ طرفس پکان تھ طرفس گن تھنز خواہش آسہ گزھان یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا تم عباد اللہ خدایہ سند بندہ گے تمہ یم پورہ چھ کران تم واجبات یعنی نذرو نیاز یم تموپانس پٹھ مہ ہمت آسان یلہ تم پانے مہ ہمت چیز پورہ کران چھ وین یم چیز اللہ تعالیٰ پانے چھ تمن پیٹھ واجب تہ مہ کران تمن چیزن ہنز جھہ کتھہ کہ تم تھہ پاٹھ آسن پورہ کران۔ واجبات ربانی چھ بکمال اخلاص پورہ کران کیاہہ تم چھ کھوژان تھ دوہس یمہ دوچ سختی عام آسہ پرت اکس واتہ وین الاماشاء اللہ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا تم

لَوْجِهِ اللَّهُ لَا تَرْيَدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۹ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطِيرًا ۱۰ فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۱۱ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۱۲ لَمُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شُمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ۱۳ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَدْلِيلًا ۱۴

پروردگارہ سند بندہ گے تمہے ہم تہندہ محبتہ پنون تیار کرمت غذاچہ کھیوان مسکین تینم تہ قیدین۔ قید اگر مظلوم آسہ تمند مستحق آسن چھو ظاہرے۔ ہر گہ ظالم تہ آسہ سو کھیوان تہ چھو سخت حاجتہ وزہ جانے۔ طعام کھیوان کھیوان چھ تم زیوہ سیت ونان تمن **إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوْجِهِ اللَّهُ لَا تَرْيَدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا** آس چھ توه کھیوان یہ طعام محض خدایہ سندہ رضامندی خیرہ آس چھنہ توه نشہ امیوک عوض تہ بدلہ یرھان نہ چھہ زیوہ سیت امیوک شکر و سپاس تہ تعریف و ثنا خوانی یرھان ایس چھو توه محض خدایہ سندہ رضامندی خاطرہ بیمہ مؤکھ کھیوان **إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَتَطِيرًا** آس چھہ پنہ نس پروردگارہ سندس تھہ دوہس کھوژان بس بو تھہ ژکر تہ سیٹھاہ سخت آسہ امید چھہ تہاوان کہہ مخلصانہ عملن ہندہ برکتہ تہاوہ سواسہ تمہ دوہہ چہ سختی تہ تلخی نشہ محفوظ۔ امہ اندر سپد معلوم کہہ آخر تکہ خوفہ سببہ کانہہ کامہ کرن چھونہ خلاف اخلاص **فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا** پس رچھہ تمن اللہ تعالیٰ اطاعت و اخلاصہ کہہ برکتہ تمہ دوہہ پرت سختی نشہ بیہ کر کہہ بو تھین ہنز تازہ گی تہ دلن ہنز خوشی عطا۔ یعنی بو تھیوک نور تہ دلک سرور **وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا** بیہ دیہ تمن تہندہ اللہ تعالیٰ صبر و استقامتہ بدل جنت تہ جنتک پاٹیو جامہ **مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ** تھہہ حالس منز کہہ تم آسن تمن جننن منز پادشہن ہند پاٹھ لعل و جواہر و سیت جر متن تنن پٹھ عزت و آرامہ سان بہت **لَا يَرُونَ فِيهَا شُمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا** نہ لبنتہ آفتابچ تپش تہ گرمی۔ نہ لبنتہ تیر تہ سردی بلکہ آسہ تہہ خوشگوار موسم۔ گاش آسہ تہہ عرش مجیدک نور۔ **وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا**

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنْبِيَةٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝۱۵  
 قَوَارِيرًا مِّنْ فَضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝۱۶ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا  
 كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝۱۷ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۝۱۸ وَيُطَوَّفُ  
 عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا  
 مَّنثُورًا ۝۱۹ وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كَبِيرًا ۝۲۰

جنتہ کین کلین کلین ہوند خوشگوار سایہ آسہ تمن کھ تل وذلک تَطَوَّفُوهُمْ لَيْلًا نمر اوند آسہ آمت تمن کلین ہوند میوہ تیوت کہ تکلیف و مشقت و رای آسن تم سومیوہ استعمال کرت پرت حاس اندر ووند نہ بہت نہ شوجھت نہ۔ سو آسہ تمن تابع تہاوند آمت تہہ پانٹھ خوش آسکھ کران تہہ پانٹھ آسن کھوان ويطاف عليهم بأنبياء من فضة واكواب كانت قواريرًا \* قواريرًا من فضة۔ بیہ یں تمن نشہ کھنہ چنک چیز پیش کرنہ روپہ سندین بانن نہ روپہ سندین ژ کدار ارجورن منزیم روپھ ہی آسن سفید شیشہ ہی آسن شفاف نہ صاف۔ روپھ سند آستھ آسن شیشہ ہی شیشو آستھ آسن روپھ ہی قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ یمن آرجورن منز پھرن وال اکہ خاص انداز موجب پھران آسن نہ تہہ کن جنتین خواہش گوہان آسہ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا۔ بیہ یں جنتی تمن جنتن اندر تہہ شرابہ علاو تہہ کافور ملانندہ آسہ آمت بیہ نہ بیاکھ قسم شرابک چاوند، تہہ منز شونٹھ ہوند ذائقہ نہ مزہ لبندہ یوان آسہ۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا۔ امہ قسمہ شرابک نہ آسہ اکہ چشمہ تہہ تہہ وند نہ آسہ یوان سلسبیل وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ۔ بیہ آسن تمن بروٹھکن چیز بہت یوان گوہان تم خوب صورت لوکت پچہ تمہ قسمہ حسین و جمیل آسن کہ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا۔ یلہ ژہ ای مخاطب تم وچھہک اورہ یور کران ژہ کرکھ گمانہ ہم ماچھ چھمکن نہ آمت محتہ پھل تہہ آسن تم زندہ بان وَاِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كَبِيرًا۔ ای مخاطب جنگل حال کیاہ آیہ وندہ، سوسدی ژہ تیلہ معلوم یلہ ژہ پانہ وچھک۔ وچھک ژہ کہہ کہہ عظیم الشان نعمو بیہ سٹہاہ بند سلطنت یوسہ ادنی جنتیس عطا آیہ

عَلَيْهِمْ شِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ وَحُلُوٌّ أَسَاوِرٌ  
 مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمُهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿۳۱﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ  
 لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ﴿۳۲﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ  
 الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿۳۳﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آيَةً  
 أَوْ كُفُورًا ﴿۳۴﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿۳۵﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ

کرنہ سوگیہ کمن دنیاءن برابر عَلَيْهِمْ شِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ پٹھیوم پوشاکھ تہوند آسہ  
 زایول سبزپوٹ تہ سوت و نموت وَحُلُوٌّ أَسَاوِرٌ مِنْ فِضَّةٍ بیہین لاگنہ جنتین روپہ سند کریمین  
 کرن ہیوند حُسن و خوبی بیانے ہنہ نہ کانہ کرت وَسَقَمُهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا بیہ چاہہ تمین پنون  
 پروردگارہ پاک و پاکیزہ شراب نِس نہ دنیاءک شراب پاٹھ عقل زائل کرہون آسہ یابد بودار آسہ بلکہ  
 آسہ سومعطر تہ مُشک دار، حدیث شریف من چھو آمت لیس دنیاءک شرابک اکھ قطرہ چہ سوسپدہ  
 محروم آخرتس اندر جنتہ کہ شراب طہورہ نشہ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ونبہ  
 ایک بے شک ای جنتیویہ چھ تو ہندہ خیطہ تو ہنزن عملن ہنزمزور، تو ہنز کوشش تہ جدوجہد چھو  
 قابل قبول تہ قابل تعریف یہ بوزت گوہن جنتی زیادہ خوش۔ ای پیغمبر توه بوزوہ کہ تو ہندین موافقن  
 کوسہ رثمزور آہ عطا کرنہ تہوند مخالفن کوسہ سزایا ہنہ لہذا مہ کریو توه تہنہ مخالفک کانہ پرول۔ توه روز  
 یو مشغول پنہ نین کامین سیت إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا بے شک اسہ کرنازل توه یہ  
 قرآن مجید وارہ وارہ ہنہ ہنہ یوتھ توه تہ و اتناویو لوکن وارہ وارہ تہ ہنہ ہنہ یہ سیت تمین آسانی سپدہ  
 وارہ وارہ زانن تم پنون نیک و بد۔ بیہ چیکھ زانن کمور ژو عملو سیت چھو حاصل یوان کرنہ رضای خدا ہر  
 گہ ہتھ پاٹھ فکرہ تارنہ سیت تہ تم مانن نہ پنہ نسی انکارس پٹھ روزن قائم فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا  
 تَطِعْ مِنْهُمْ آيَةً أَوْ كُفُورًا توه روزیو پنہ نسی پروردگارہ سندس خمس پٹھ مضبوط تہ محکم بیہ پیاریو  
 تہندس آخری فیصلس۔ توه روزیو بدستور تبلیغ و دعوت کران احکام الہی لوکن و اتناوان اتھ اندر مہ مانہو

فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿۲۷﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ  
 الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿۲۸﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ  
 وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا اشْتَدَّ بُدُنُنَا أَمْثَلَهُمْ بِدِيلًا ﴿۲۹﴾  
 إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿۳۰﴾ وَمَا  
 تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۳۱﴾

توہ کا نسہ فاسقہ سزیا کافرہ سزکا نہ کتھاہ۔ کافر واندرہ عتبہ نہ ولید وغیرہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلم دنیوی لالچ دتھہ تبلیغ و دعوت نہ نشہ پتھہ رتان اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ کہ یوم منزہ یوتھہ نہ توہ کا نسہ  
 ہنز کتھہ مانیو۔ یہ تبلیغ و دعوت گیہ سو عبادت سمیوک فیض بین واتان چھوامہ پتھہ چھو اللہ تعالیٰ تمہ  
 عبادتک حکم فرماوان سمیوک فائدہ خاص پنہ نس ذاتس چھو وَاذْکُرْ اسْمَ رَبِّکَ بُکْرَةً وَّاَصْبِلًا بیہ  
 آسیو پنہ نس پروردگارہ سُنْد نام پاک یاد کران کھس نہ شامس وَّمِنَ الْاٰیْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا  
 طَوِيلًا بیہ آسیو راز ہندس کتھہ حصص منزتس سجدہ دووان امہ اندرہ چھو مراد شام نماز تہ کھن  
 نماز۔ بیہ آسیو تہنزی پاکیا بیان کران شبہ کس زتھس حصص منز۔ تمہ اندر چھو مراد نماز تہجد و اللہ اعلم  
 اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا بے شک یم تہمہ دشمن یم نہ تہنز  
 نصیحت تہ ہدایت قبول چھہ کران یم چھہ دنیاک محبت تہاوان تھی چھک نہ اتھہ و تھہ یوان تہوند حکم مانہ  
 نس گن دنیاک کھتجن چھہ تم ان تہ زر کرمت۔ بیہ چھہ تم تھنکن تراوان سووہ ہس گوب یعنی سٹھا مشکل  
 تہ خطرناک چھہ۔ بلکہ چھو یم تھہ دوہس انکاری کران۔ یم چھہ زانان کہ قبرہ ہنزہ مرثہ منز روزت کوہ  
 کرہ اسہ بیہ پیدہ اللہ تعالیٰ چھک تھہ جواب فرماوان کہ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ اسی کر تم گووہ  
 پیدہ اسی کر تہمہ بند تہ استخوان مضبوط۔ از تہ چھہ اسہ سو قدرت بدستور موجود۔ وَاِذَا اشْتَدَّ بُدُنُنَا  
 اَمْثَلَهُمْ بِدِيلًا اَس ہر گاہ یڑھو اَس کھو بہنز موجودہ ہستی ختم کرت تو پتہ کھوک اس سٹھہ ہی سمو  
 بدل پیدہ کرت اِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ بے شک یہ سوری یہ بیان آو کر نہ یہ چھہ اکھ نصیحتاہ زور جبر

# يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۳۱

کرنچ چھنہ ضرورت فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا پس یس خوش کرہ یہ نصیحت بوزت سو کرن اختیار پنہ نس پروردگار س نشہ واتق و تھ یہ قرآن مجید چھو یقیناً در ذات خود اکھ ہڈ نصیحتاہ لیکن وَمَا كَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ توه، بھینہ نہ کانہ چیز یشھت مگر تی یہ اللہ تعالیٰ یشھ بعضے لوکن ہندہ حقہ چھ آسان خدا یہ سندس نہ یشھنس اندر جہ جہ حکمہ کیا زہ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ چھ پانہ سیٹھہ زانن وول سٹھہ حمہ وول يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ سولیس یشھان چھو تس چھو بیشک سٹھہ رحمتس منزواتا وان۔ یس یشھان چھو تس چھو شرک و کفر س بُتلا کران شرک انہ موکھ چھ تم ظالم بنان وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ظالمن ہندہ خیطرہ چھو تم تیار تھامت دگ تہ دود تله ون عذاب۔





## سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝۱ فَالْعَصْفِ عَصْفًا ۝۲ وَالنَّشْرِ نَشْرًا ۝۳ فَالْفُرْقَةِ فَرَقًا ۝۴ فَالْمَلَقِيَةِ ذِكْرًا ۝۵ عُدْرًا أَوْ  
 نُذْرًا ۝۶ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۝۷ فَإِذَا التَّجُومُ طُمِسَتْ ۝۸ وَ  
 إِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝۹ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ۝۱۰ وَإِذَا الرَّسُلُ  
 أُقْتَتَ ۝۱۱ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ۝۱۲ لِيَوْمِ الْفُصْلِ ۝۱۳ وَمَا أَدْرَاكَ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا قسم چھو تمں ہوا عن ہونندیم نفع تہ فائدہ و اتانودہ خیطرہ تراونہ چھو یوان  
 فَالْعَصْفِ عَصْفًا توپتہ چھو قسم تمں ہوا عن ہونندیم تیزی سان پکان چھو یمن اندر خطرک  
 احتمال چھو آسان وَ النَّشْرِ نَشْرًا توپتہ چھو قسم تمں ہوا عن ہونندیم ابرن تلت چھو تمں  
 مژراوان، یمہ پتہ ادہ رود چھو ہوا یوان فَالْفُرْقَةِ فَرَقًا توپتہ چھو قسم تمں ابرن ہونندیم ابرس  
 چھ جھلہ کران، یوسہ صورت ابرس رود پتہ پتہ چھ سپان فَالْمَلَقِيَةِ ذِكْرًا توپتہ چھو قسم تمں  
 ابرن ہونندیم خدایہ سند یاد دلن منز تراوان چھ۔ یا خدایہ سند خوف پیدہ کران چھ عُدْرًا أَوْ نُذْرًا  
 تو بگ خیال یاد خدایہ سند خوف دلس منز پیدہ کران چھ۔ امہ پتہ چھو جواب قسم سو گو إِنَّمَا  
 تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ یمہ چیزک تودہ وعدہ کرنہ یوان چھو سو چیز چھو ضرور واقع سپدہ ون یعنی قیامتک دودہ  
 فَإِذَا التَّجُومُ طُمِسَتْ پس یلہ ستارہ گٹ تہ بے نور سپان وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ بیہ یلہ آسانس  
 و دل گدھن وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ بیہ یلہ کوہین وڑہ نانودہ وَإِذَا الرَّسُلُ أُقْتَتَ بیہ ساری پیغبر مقرر  
 کر قسم و قس پٹھ ہنن ہنن امتی بیت پیش ین کرنہ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ تودہ چھایکینہ معلوم کہ کمہ

مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۱۳ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۱۵ أَلَمْ  
 نُهَلِكِ الْأَوَّلِينَ ۱۶ ثُمَّ نُنَبِّئُهُمُ الْآخِرِينَ ۱۷ كَذَلِكَ  
 نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۱۸ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۱۹ أَلَمْ  
 نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۲۰ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۲۱  
 إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۲۲ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدَرُونَ ۲۳ وَيْلٌ

دوہ خیطرہ اوس پیغمبرن ہیوند معاملہ ملتوی آمت تہانہ لیلوْمُ الْفَصْلِ سو معاملہ اوس ملتوی  
 تہانہ آمت فیصلہ کہ دوہ خیطرہ وَمَا أَذْرٰكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ توہ چھا معلوم کہ فیصلک دوہ کیوتھ  
 چھو۔ سو چھو سیٹھاہ سخت مشکل تہ خطرناک وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ سخت تباہی تہ مصیبتک  
 دوہ چھو قیامتس اپز زانہ ونین ہندہ خیطرہ مکرین قیامت چھ خیال کران کہ یہ تھہ پاٹھہ بنہ کہ ساری لوکھ  
 کیامر ن کہنے انسان روزنہ دنیاہ اس اندر موجود تمیوک جواب چھو اللہ تعالیٰ فرماوان کہ أَلَمْ نُهَلِكِ  
 الْأَوَّلِينَ \* ثُمَّ نُنَبِّئُهُمُ الْآخِرِينَ کیا اسہ گال ناعذابہ سیت برو تھم لوکھ یم کفر و انکار کران  
 آس۔ تو پتہ تہا لوکھ اس تمن تالچ پتہ اوہ ون تہ یم تہندی پاٹھہ کفر و انکار کرن یوسہ ہستی الگ الگ  
 وقس اندر بڈین بڈین مضبوط تہ طاقتور انسان ختم ہیچہ کرت سو ہستی ہیچہ سارنی نافرمان کی وقتہ رٹھہ  
 تہ گرفتار کرتھ تمن عذابک مزہ ژہناوتھ کَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ بیٹھہ پاٹھہ چھہ اس  
 نافرمان تہ جُرْمین سزا دوان وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ افسوس تہ تباہی چھہ تمہ دوہہ قیامتس اپز  
 زانہ ونین ہندہ خیطرہ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ کیا اسہ کردہ ناتوہ پیدہ اکہ بے قدر آبہ قطرہ  
 نشہ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ \* إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ تو پتہ تہا سو آبہ قطرہ اکس محفوظ جایہ اندر، یعنی  
 ماجہ ہندس رَحْمَس اندر اکس مقرر و نقس تان یعنی نون رتین تان فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدَرُونَ اسہ  
 کر یمن سارنی تصرفاتن ہیوند اکھ خاص اندازہ کس کیوتھ رت اندازہ کردہ ون چھہ اس تریہ فکرہ ژیہ  
 سین قدرت وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وون یم لوکھ پزن کھن اپزہ زانتھہ انکار کرن تہندہ خیطرہ

يَوْمِ مِئَةِ الْمَكْدِبِينَ ﴿٢٣﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾  
 أَحْيَاءَ وَآمَوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ شِجَابٍ وَ  
 أَسْقَيْنُكُمْ مَاءً فُرَاتًا ﴿٢٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾  
 انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾ انْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ  
 ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ﴿٣١﴾  
 إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ رِجَالِ قَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صَفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ  
 يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا

چھو افسوس تہ تباہی قیامتک دہہ اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا \* أَحْيَاءَ وَآمَوَاتًا کیا اسہ کرنا یہ زمین  
 پائس منز زندن تہ مُردن جمع کرہ ون کہ زندگی تہ چھ ساری اتھ ز مینس پٹھ بسر کران تہ مر نہ پتہ تہ  
 چھ آسی مژہ منزواتان امہ منزہ دوبارہ بیدہ کرن کیاہ مشکل چھواسہ نشہ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ  
 شِجَابٍ وَ أَسْقَيْنُكُمْ مَاءً فُرَاتًا بیہ کرناواسہ اتھ ز مینس پٹھ تھمد بال گبراونہ خیطرہ بیہ چاودناسہ  
 توه میوٹھ آب وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ویل تہ افسوس بوین تمہ دوہہ منکران انْطَلِقُوا إِلَى  
 مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ونہ ایہ تمن منکران قیامت دوہہ توه پچھو تھہ عذابس کن سبتھ توهہ انکار کران  
 آسوه انْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ توه پچھو ترہ شاخل سائلس کن لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ  
 اللَّهَبِ لیس نہ ٹھور کرہ ون آسہ آفتابچہ گرمی نشہ نہ جھنمچہ طپشہ نشہ بیہ آسہہ فاندہ دوآن بچاواک  
 جھنمہ چوناہرہ رہونشہ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ رِجَالِ قَصْرِ بے شک جھنم آسہ تراوان تمبرہ تھرن لرن سومبہ  
 كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صَفْرٌ زن تمہ تمبرہ ہون پنہ کہ وقت زردوٹن سومبہ آسن کھسہ وزہ آسن تمہ تمبرہ  
 لرن سومبہ وسنہ وزہ آسن دوٹن سومبہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ویل تہ افسوس بوین تمہ دوہہ  
 انکار کرہ ونین هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ بیہ گو سو دہہ بیمہ دوہہ نہ تم تھہ بیکن کرت وَلَا يُؤْتُونَ لَهُمْ

بُودُنْ لَهُمْ فَيَعْتَدِرُونَ ﴿۳۶﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۷﴾  
 هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولَئِينَ ﴿۳۸﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ  
 كَيْدٌ فَاكِيدُوا ﴿۳۹﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۴۰﴾ إِنَّ  
 الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ﴿۴۱﴾ وَفَوَاكِهِ مَبَاشِشَتُهُمْ ﴿۴۲﴾  
 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۴۳﴾ إِنْ كُنْتُمْ  
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۴﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۴۵﴾ كُلُوا

فَيَعْتَدِرُونَ بیہ نہ راہی تمن تھے کہہ تک اجازت دہہ یوتھ عذر خواہی کرہن۔ کیاہہ زارہ پارہ تہ توبہ  
 قبول سپد تک وقت آسہ گذریمت وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ افسوس تہ ویل بوین تمہ دوہ انکار کرہ  
 ونین هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولَئِينَ \* فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَاكِيدُوا یہ از یوک دوہ  
 چھو فیصلک دوہ یوتھ توہ انکار کران آسوہ دنیا س اندراسہ کرہ توہ ساری اولین آخرین جمع پس ہرگہ  
 توہ کانہہ تدبیرہ چھواسہ نشہ موکلک سو تدبیر کریو استعمال توہ ساری اولین تہ آخرین رلت ملت  
 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ افسوس تہ ویل بوین تمہ دوہ انکار کرہ ونین إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ  
 وَعُيُونٍ پز پاتھ پر ہیزگار آس تمہ دوہ سایہ بان تل ناگہ رادن پیٹھ وَفَوَاكِهِ مَبَاشِشَتُهُمْ بیہ  
 تمن قسما تم میون منز میں ن تمن میل خواہش آسہ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  
 ونہ ایک کھیوتہ چپوئڈ بر تھہ کیاہہ توہ آسوہ نارثہ کامہ کران إِنْ كُنْتُمْ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بے  
 شک اس چھ اڑھی مزدوریوان نیوکارن وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ افسوس تہ ویل بوین تمہ دوہ  
 انکار کرہ ونین كُلُوا وَتَمَتُّوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ اے نافرمانو تہ کافر توہ کھیوتہ تمتع  
 تلودنیاس اندر کم کینہ کالاہ توہ چھو مجرم سزوار عذاب وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ افسوس تہ  
 ویل بوین تمہ دوہہ انکار کرہ ونین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ادْعُوا آلَكُمْ ادْعُوا آلَكُمْ یلہ ونہ نہ یوان چھو تمن

وَتَمَتُّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴿۳۶﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ  
 لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۷﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿۳۸﴾ وَيْلٌ  
 يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۹﴾ فِي آيِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۰﴾

خدا ایس کن نمو یعنی نماز پر یو تم چھنہ نمان و یل یومئذ لیلکذبین افسوس تہ ویل یومئذ تمہ دوھ  
 انکار کرہ و نین فی آی حدیث بعدہ یومئذ پس تھ سنا تھ پیٹھ کرن تم پڑھ تہ یقین قرآن مجید  
 پتہ۔ (آمننا باللہ و حدہ)



## سُورَةُ النَّبَاِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ ۙ ۱ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ ۙ الَّذِیْ هُمْ  
 فِیْهِ مُخْتَلِفُونَ ۙ ۲ کَلَّا سَیَعْلَمُونَ ۙ ۳ ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُونَ ۙ ۴ اَلَمْ  
 نَجْعَلِ الْاَرْضَ مَهْدًا ۙ ۵ وَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ ۶ وَ خَلَقْنَاكُمْ  
 اَزْوَاجًا ۙ ۷ وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ ۸ وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًا ۙ ۹

نقل چھو آمت کرنے زہ یلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نین پاٹھ لوکن دعوت حق کرن  
 ہوت قرآن مجید کلام خدا بوزناوک لوکھ۔ بیہ کروکھ قیامتہ دوہک نیم۔ کافر لگ تہندس نبوتس  
 منز قرآن مجیدہ کس نازل سپدنس منز۔ قیامتہ کس واقع سپدنس منز ترددتہ اختلاف کرنہ اکھ اکس نشہ  
 یانہی کر تسم صلی اللہ علیہ وسلم نشہ یابا ایمان نشہ لگ پرڑہ پرڑہ کرنہ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو مچی ذکر  
 فرماوان **عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ** کہہ چیزک چھ یم کافر پرڑھان **عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ** کیا بچہ خبرہ ہوند  
 چھاتم پرڑھان **الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ مُخْتَلِفُونَ** ہتھ خبرہ منز تمس پانس تہ اختلاف چھو کا نہہ چھو نہ کونہ  
 تھہ پیٹھ ثابت اڈچھ ونان نبی کر تسم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ساحر تہ مجنون قرآن مجیدس چھو ونان اڈ  
 سحر اڈ شعر اڈ کہانت۔ قیاس تہ چھہ اڈ پان آسہ مگر معبودان باطل کرن شفاعت تمی سیت موکلو اڈہ  
 چھہ بالکل تھہ منکری اڈین چھو شک تہ تردد تہ کس آس تہ نہ آس منز **کَلَّا سَیَعْلَمُونَ** ہر گز یمین  
 کھن منز اختلاف فہمخائش ہتھہ عنقریب زان کہ یمہ تھہ چھہ پڑہ **ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُونَ** بیہ چھسک بو فرماوان  
 یہ اختلاف تہ شک لہ نہ کرن برو تھہ پن زان تم اچ پورہ حقیقت **اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مَهْدًا** کیا اسہ  
 گرنازمین و تھرنہ **وَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا** بیہ کرنا آسہ کونہ تہ بال میٹھ **وَ خَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا** بیہ کردہ آسہ  
 تونہ پیدہ جورہ جورہ یعنی مرد تہ زنانہ **وَ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا** بیہ کراسہ نندر تو ہنز تونہ آرا مگ سبب

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۗ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۚ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَبَّاجًا ۚ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۚ وَجَعَلْنَا أَلْفَاظًا ۚ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۚ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۚ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۚ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۚ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۚ لِلطَّغْيِينِ مَابًا ۚ لَّيْسِيْنِ فِيهَا أَحْقَابًا ۚ

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۗ بِیہ کر اسہ رات پوشاکھ ۚ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ بیہ کر اسہ دوہ ضروریات زندگی حاصل کر تک وقت ۚ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۚ بیہ کھار اسہ توہ پیٹھ کن ست آسمان در تھ محکم ۚ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۚ بیہ کر اسہ آسمان اندر ژونگہ پرزلہ ون زینجہ گاشہ خیطرہ سوگو آفتاب ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَبَّاجًا ۚ بیہ ترو اسہ چیرنہ آیتوا برو منزہ آبہ سیٹھاہ پشپہ ون لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۚ یو تھ کڈو اس تمہ سیت غلہ بیہ گاسہ ۚ وَجَعَلْنَا أَلْفَاظًا ۚ بیہ گھن باغ یم گلیہ سیت برت آسن یمن چیزن اندر چھہ دنیاہ س منز توہ ساری انسانن شرکت مگر آخرتس یہ حال روزانہ بتہ آسن ساری الگ الگ ۚ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۚ بے شک فیصلگ دوہ چھو مقرر کرنہ آمت ۚ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۚ بیہ دوہ پھوکھ ایہ دنہ پوغس منز تو پیتہ ہیو توہ یون فوجو فوجو ۚ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۚ بیہ ین مژا ونہ آسمان پس بن تھہ دروازہ ۚ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۚ بیہ ین پکانو نہ کوہ پس سپدن تم سیکھ ہی ۚ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۚ بے شک جنم چھہ زاگہ روزت تہ اشکار کران ساری چھو یکن تمہ پیٹھ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان ۚ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَأُولَادًا

لَا يَدُ وُقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ﴿٢٥﴾  
 جَزَاءً وَفَاقًا ﴿٢٧﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٤﴾  
 وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾  
 فَذُوقُوا فَلَنتُ زَيْدًا كُمُ الْأَعْدَاءِ ﴿٣٠﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾  
 حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسَادٍ هَاقًا ﴿٣٤﴾  
 لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴿٣٥﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ  
 حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ

توہ اندرہ پھنہ کانہہ اکھاہ نہنہ تھہ پھہ واتہ لِلطَّغِينِ مَا بَا سَوٰی جنم چھو سر کشن ہندہ واتہ نَج جَای  
 لِیٰثِیْنِ فِیْہَا اَحْقَابًا روزہ ون آس تھہ منزورہہ وادن یعنی بے شمار ورین۔ لَا یَدُ وُقُونَ فِیْہَا  
 بَرْدًا وَلَا شَرَابًا \* اِلٰحْمِیْمًا وَغَسَاقًا تہن نہ تم تھہ تمس منز کونہ قسمک شجرانہ کونہ قسمک چنہ چیزہ  
 مگر چین ربرہ وون بیہ دو متین تانن ہیوند رس۔ جَزَاءً وَفَاقًا مزورہہ ایک دنہ عملہ موافق اِنھُم  
 کَانُوْا لَا یَرْجُوْنَ حِسَابًا پزپاٹھ آسنہ تم امید تھوان حسانج۔ وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا كِذَابًا بیہ آس  
 انکار کران تہ پزگزران سائین آیاتن سخت سٹھاہ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا بیہ چھو پرت چیزہ  
 تہنرہہ و عملہ اندرہ لکھت تھاموت گزراوت فَذُوقُوا فَلَنتُ زَيْدًا كُمُ الْأَعْدَاءِ وین تہو مزہ پنہ نین  
 کائین ہیوند پس ہر راوونہ اس مگر عذاب اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا پزپاٹھ پر ہیز گارن کھدہ چھ ہنڈ رستہ  
 گاری تہ کامیابی حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا باغ میو وسیت برت بیہ دچھ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا بیہ پھنہ پھٹ کرہ ونہ  
 نوجوان زنانہ یہہ اکی ونیسہ آس وَكَأْسَادٍ هَاقًا بیہ پیالہ شراب طہورہ سیت بربر۔ لَا یَسْمَعُونَ فِیْہَا  
 لَغْوًا وَلَا كِذَابًا بوزن نہ تمن جستن منز بے ہودہ تھہ بیہ نہ اپز جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا بیہ آیہ



لَا يَسْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۖ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ  
صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۖ  
ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءً ۖ إِنَّا  
أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۗ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَا  
وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۗ

تمن مزدور نہ ہونے پروردگارہ سندہ طرفہ یار رسول اللہ ﷺ پور حسابہ موجب رَبِّ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا آسمان تہ زمین بیہ یہ تمن منز چھو تمہ سار کسی پروردگارہ سندہ طرفہ۔  
الرَّحْمَنِ لیس رحمتہ ول چھو۔ لَا يَسْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا اختیار آسکھنہ تس نشہ تھہ کرہ تک یَوْمَ  
يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا بیمہ دوہ ساری جان دار روحہ وال بیمہ ساری ملائکہ ووندہ رُوزن صف  
دت لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ بیم ساری بیمکن تھہ کرت مگر کرہ تھہ سوی لیس حضرت رحمان  
اجازت دیہ وَقَالَ صَوَابًا بیمہ ونہ کلامہ درست ذلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ بیمہ قیامتک دوہ چھو پوز فَمَنْ شَاءَ  
اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءً لیس لیس اکھاہ بڑھ سو کرہ پنہ نس پروردگار س نشہ واتج جای ایمانہ سیت رثہ  
عملہ سیت۔ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا پڑپاٹ اسہ کر بیم توہ اکہ نزدیک اوونہ عذابک یَوْمَ يَنْظُرُ  
الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَا بیمہ دوہہ وچھہ پرتھہ اکھاہ تہ سوروی بیمہ برو تھگن سوزمت آسہ تہندیوا تھو یعنی  
بیمہ عملہ تم کرہ مژ آسَن وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بیمہ دیہ تمہ دوہہ کافر کونہ اوس  
بومڑی۔



## سُورَةُ النَّازِعَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالزُّرْعَةِ غَرَقًا ① وَالنُّشْطِ نَشْطًا ② وَالسَّبْحِ سَبْحًا ③  
 فَالسَّبْحِ سَبْقًا ④ فَالْمَدْبِرَاتِ أَمْرًا ⑤ يَوْمَ تَرْجُفُ  
 الرَّاجِفَةُ ⑥ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ⑦ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ⑧  
 أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ⑨ يَقُولُونَ ءَأِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ⑩  
 ءَأِذَا كُنَّا عِظَامًا تَّخْرَةً ⑪ قَالُوا تِلْكَ إِذْ أَكَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ⑫

وَالزُّرْعَةُ غَرَقًا قسم چھو تمس ملائک ہوندیم کافرن ہوند زوکڈان چھ سختی سان وَالنُّشْطِ نَشْطًا بیہ چھو قسم تمس ملائک ہوندیم باایمان ہند روح کڈان چھ نرمی سان گنڈیلہ تراوان چھ وَالسَّبْحِ سَبْحًا بیہ تمس ملائک ہوندیم آسمان وزمینس منز پھیران چھ ژھانٹہ وایان فَالسَّبْحِ سَبْقًا بیہ تمس ملائک ہوندیم حکم مان نس منز بروئھ گڑھان چھ فَالْمَدْبِرَاتِ أَمْرًا بیہ تمس ملائک ہوندیم دنیاک انتظام کران چھ سانہ حکم۔ جواب قسم چھو حذف کرنہ آمت سوگو لتبشٹن توه ساری ایومرنہ پتہ ضرور بیہ زندہ کرنہ یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تھی دوہہ یمہ دوہہ الراوہ تہ ڈھنہ وہ ساری چیزن الراوہن سوگو پوٹک گوڈنیوک پھوک تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ پتہ آیہ تھہ پتہ آوہن ہیاک پھوک دون پھوک منز آسہ مدت ژتجہ وری قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ وارہین ہند دل آسن تمہ دوہہ ٹان أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ اچھ تہزہ آسن بون گن نمٹ يَقُولُونَ ءَأِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ یم لوک قیاس منکر چھ تم چھ ونان کیا اس یموہ پوت پھیرت نہ بروئھس حالس گن یعنی مرت گڑھو بیہ زندہ ءَأِذَا كُنَّا عِظَامًا تَّخْرَةً کیا اس سپدوہ بیہ زندہ یلہ سانہ اڈہ آسن دودر سموہ ژھوژھہ سموہ قَالُوا تِلْكَ إِذْ أَكَرَّةٌ

فَانْتَاهَى زَجْرُهُ وَاحِدَةٌ ۱۳ فَاذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۱۴ هَلْ اُنْتُكَ  
 حَدِيثُ مُوسَى ۱۵ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۱۶  
 اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى ۱۷ فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ  
 تَزَلَّيْ ۱۸ وَاَهْدِيكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ۱۹ فَاَرَاهُ الْاَيَةَ  
 الْكُبْرَى ۲۰ فَكَذَّبَ وَعَصَى ۲۱ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعَى ۲۲ فَحَشَرَ  
 فَنَادَى ۲۳ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلَى ۲۴ فَاَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ

خَاسِرَةً دینہ لگ سوزندگی چھ ادھ پھیرت سن تاوان تہ نقصان فَاَنْتَاهَى زَجْرُهُ وَاحِدَةٌ پس قیامت  
 چھنہ مگر کئی اکھ سخت کر کیکھ یوسہ پونہ منزیرہ یان سو کر یک گزہ فَاذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ تان بین تم  
 واتھ محشر کس میدانس منز ہل اُنْتُكَ حَدِيثُ مُوسَى کیا توہ چھو بوزمت حضرت موسیٰ سند قصہ یا  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى یلہ آلودیوت تس ہن پروردگار  
 پاک میدانس منز تھ ناو چھو طوی نس کوہ طورس بھتہ چھو اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى گزہ یو  
 فرعونس نشہ پیغام ہتھ کیا زہ پز پائھ سوچھ حدہ ڈولمت فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَزَلَّيْ پس دیو تس  
 کیا تھ چھو یہ کانہ خیالہ پاک گزہ ہنک کفر و شرکہ نشہ۔ وَاَهْدِيكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى بوہاوے تہ  
 وتھ پنہ نس پروردگارس نس پس کھو ٹک تہ تس حضرت موسیٰ گو تس نشہ حکم خداواتا وہس تم مونگ  
 معجزہ تہ دلیل فَاَرَاهُ الْاَيَةَ الْكُبْرَى پس ہوو حضرت موسیٰ ان تس بوڈ معجزہ سوگو عصاءس اژدھا  
 سُن فَاَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ پس اپر گزر فرعونس تہنز رسالت بیہ کرن نافرمانی تھندس خمس ثُمَّ  
 اَدْبَرَ يَسْعَى توپتہ پھیور پوت کوشش ہیون کرن حضرت موسیٰ سندس مخالفتس اندر فَحَشَرَ فَنَادَى  
 توپتہ سمبراون قوم پنون پس دژن کر یک تمن منز فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلَى پس دپون بوی پھس تھو  
 ند بوڈ پروردگار فَاَخَذَهُ اللهُ نَكَالَ الْاَيَةِ الْاُولَى پس کرسوگر فتر اللہ تعالیٰ ان آخرتہ کہ  
 عذابہ سیت بیہ دنیا کہ عذابہ سیت اِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَى پز پائھ اتھ منز چھہ ہڈ نصیحت تسدہ

الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنِ يَخْشَىٰ ۖ ﴿٢٧﴾ ۚ وَأَنْتُمْ  
 أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بِنهَا ۖ ﴿٢٨﴾ رَفَعَ سَنُكَهَا فَسَوَّيَهَا ۖ ﴿٢٩﴾ وَ  
 أَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۖ ﴿٣٠﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ  
 دَحَاهَا ۖ ﴿٣١﴾ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۖ ﴿٣٢﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۖ ﴿٣٣﴾  
 مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۖ ﴿٣٤﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ۖ ﴿٣٥﴾  
 يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۖ ﴿٣٦﴾ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ  
 لِمَنْ يَرَىٰ ۖ ﴿٣٧﴾ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ ﴿٣٨﴾ وَالشَّرَّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ ﴿٣٩﴾

خیطرہ نُس کھوڑہ خدا بس۔ ۛ اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءِ ای قیامتہ کیونکر و تموند قیامتک دودہ دوبارہ  
 بیہ زندہ کرن چھا مشکل بنہ آسمانک پیہہ کرن بلہا بیہ یوت بوڈ آسمان کور اللہ تعالیٰ ان پیہہ دَفَع  
 سَنُکَهَا فَسَوَّيَهَا بلند کرن تھڑ تمیوک توپتہ ٹرن سو برابر و اَعْطَشَ لَيْلَهَا بیہ کرن گٹ رات ٹج  
 وَاَخْرَجَ ضُحَاهَا نراون گاش تمیوک دُوبلہ۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا بیہ تراون زمین تمہ پتہ  
 أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا کڈن تمہ زینہ منز آب تمیوک بیہ نیور تمیوک وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا بیہ  
 کرن کوہ محکم لنگر ہی۔ یہ سوروی کرن پیہہ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٹھونڈہ نفعہ خطرہ بیہ تھندین  
 چارواں ہندہ فاندہ خیطرہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ پس یلہ بیہ قیامت عہری یَوْمَ يَتَذَكَّرُ  
 الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ یمہ دودہ انسانس ژیتس پیہہ تہ سوروی یہ تم کرمت آسہ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ  
 یَرَىٰ بیہ بیہ نہر کڈنہ دوزخ پرت و پٹھون سدہ خیطرہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ \* وَالشَّرَّ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا پس یم  
 اک پڑہ نشہ سر کشی کر بیہ قیامتس انکار کرت دنیاہ چ زندگی اختیار کر مژر آسہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ  
 الْمَأْوَىٰ بے شک یہ جنم چھو تھنزی جای وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ لیکن نُس اکھاہ کھوڑہ دنیاہ س

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ  
 نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ  
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِهَا ۗ قِيلَ إِنَّتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۗ  
 إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَىٰ ۗ إِنَّتَ مُنذِرٌ مِّنْ يَّحْشَهَا ۗ كَانَهُمْ  
 يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ۗ

اندر که قیامتک دوه جهم پنہ نس خدا لیس برو نھ کنہ استادہ سڀدن وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ بیه رثن  
 نفس پنون پتھ پیچھ میلونشہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ پس جنت چھو تهنزی جای یَسْأَلُونَكَ عَنِ  
 السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِهَا پرژھان چھه منکب کافر توه قیامتک کہ کر آسہ تمیوک برپاسدن قِيلَ إِنَّتَ مِنْ  
 ذِكْرِهَا توه کیاہ چھو تمیوک تذکرہ کرن یہ جھہ توهنز کوم إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَىٰ تھوندس  
 پروردگاری تام چھو تمہہ علق نہایت یعنی سوئی زانہ قیامت کر آسہ إِنَّتَ مُنذِرٌ مِّنْ يَّحْشَهَا توه  
 چھونہ مگر نیم کرہون تس لیس تھہ کھوژہ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا تمس لوکن  
 بیه بوزنہ تمہہ دوہہ یلہ تھہ قیامتس وچھن تم۔ زن تم رودمت آس دنیا س منز پشہ پیٹھ شامس تام یا  
 صبح پیٹھ دوپہرس تام سوہولناک دوهہ وچھہ سیت مشکھ سوروی۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۲ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ  
 يَزْكَى ۳ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۴ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ۵  
 فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۶ وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَرْكَبُ ۷ وَآمَّا مَنْ  
 جَاءَكَ يَسْعَى ۸ وَهُوَ يَخْشَى ۹ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى ۱۰ كَلَّا ۱۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آس کہ دودھ مسجد حرامس منز کافرن ہندن ز طہین خصوصی تبلیغ کران اتی آواکھ نابینا اکھ یس ناواوس عبد اللہ ابن ام مکتوم تمی ہیوت اکس آس آس متعلق نبی کریمس پر ٹھن عرض کرن یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ باوحض تمہ علمہ منز کینہہ یہ توه خدا این چھنا دودھ یہ آس نہ امس خبر کہ یم چھہ و بخش مشغول بین سیت تبلیغ کرنس اندر یہ گونا پسند حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ آثار کدورت سپد روی مبارکس پٹھ ظاہر اتی سپد یم آیات کریمہ نازل عَبَسَ وَتَوَلَّى روى مبارک ژو کران بیه پھرون بیس طرفس کن أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى اژی تھہ خیطرہ کہ آو تمن نشہ اکھ یہ معذور اعلمی وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَى توه کوه چیز زانر اوہ کہ توه ہنزہہ تعلیمہ سیت دیوہ سو درست تہ پایزہ سپدہ ہا أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى نتہ رتہ ہا نصیحت تونہ کلام شریف بوزت پس دیہاتس نفع تونہہ زبان مبارکہ نصیحت بوزن أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى لیکن یس شخص دین حقہ نشہ بے پروا چھو لاگان فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى توه چھوتس کن متوجہ سپدان تسنز فکر تھوان وَمَا عَلَيْكَ أَلَا يَرْكَبُ توبہ پیٹھ چھونہ کانہہ باز خواست ہر گہ تم پاک سپدان نہ وَآمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى \* وَهُوَ يَخْشَى لیکن یس توه کن دوران دوران چھو کمال شوق و محبت یوان کھو ژان کھو ژان عبد اللہ ابن ام مکتومہ سند پاٹھ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى پس چھوہ توه تس کن بے اعتنائی کران کَلَّا إِنَّهَا

إِنهَاتِذْكَرَةٌ ۞ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۞ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۞  
 مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۞ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۞ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۞  
 قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۞ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۞  
 مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۞ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۞  
 ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۞ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۞ كَلَّا لَمَّا يُقْضَىٰ مَا  
 أَمَرَهُ ۞ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۞ أَتَا صَبَبَنَا الْمَاءَ

تَذْكَرَةٌ \* فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ \* بہ تحقیق بے شک ہم قرآن مجیدک آیات کریمہ چھہ وعظتہ نصیحتتس  
 بس خوش کرہ سورٹہ نصیحتت تمبیک فاندہ والس پانس مغرور و متکبرن ہندہ نمائندہ سبت امہ کس عزتس  
 منزلم کہینہ گڑھ نہ کیاہہ یہ قرآن مجید چھو فی صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ \* مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ \* بِأَيْدِي سَفَرَةٍ \*  
 کِرَامٍ بَرَرَةٍ \* تمنے ورفن اندر لکھت یمن سٹھاعزت کرنہ آمت چھو۔ یم بلند مرتبہ چھہ یم پاک و  
 پاکیزہ چھہ یس لکھنہ آمت چھو عزتہ والین ملائکن ہند یوا تھو یم نیکو کار چھہ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ  
 تباہ گڑھن یہ انسان کوتاہا کھران نعمت کرہ ون چھو سو کمیوک سناغر ور چھو تس سو چھو نہ و چھان مِنْ أَيِّ  
 شَيْءٍ خَلَقَهُ \* کہہ حقیر چیزہ نشہ کور اللہ تعالیٰ ان پیدہ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ \* لفظہ سبتہ پیدہ  
 کرن سو تو پتہ کرنس تانن ہیوند اندازہ \* ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ \* تو پتہ کور نس ماجہ ہندہ شکمہ منزہ  
 نیرنج و تھہ آسان \* ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ \* تو پتہ کہینہ کالہ زندہ تھو تھہ مورن سو تو پتہ و اتان و ن قبرہ منزہ  
 \* ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ \* تو پتہ یلہ یٹھہ سو تیلہ کرس دوبارہ زندہ \* کَلَّا \* بہ تحقیق لَمَّا يُقْضَىٰ مَا أَمَرَهُ \* ایم  
 انسانن کرنہ پور سو کوم یموک حکم کر یوس خالق برحقن \* فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ \* پس و چھن  
 انسان عبرتہ چہ نظرہ پنہ نس غذاہس تہ ٹھیس کن اس تھہ پاٹھہ چھہ امسند خوردنی ہند چیز مہیا کران  
 أَتَا صَبَبَنَا الْمَاءَ صَبَبًا \* اسی ترا و پیٹھہ مہ طرفہ عجیب طریقہ رود \* ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا \* تو پتہ پھاٹو  
 اسی زمین عجیب طریقہ بیول کڈہ ناوتمہ منز کلہ \* فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا \* پس کھور اسہ تمہ زمینہ منز غلہ

صَبًا ۲۵ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۲۶ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۲۷ وَ  
 عِنْبًا وَقُضْبًا ۲۸ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۲۹ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۳۰ وَفَاكِهَةً  
 وَأَبًّا ۳۱ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۳۲ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ ۳۳  
 يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۳۴ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۳۵ وَصَاحِبَتِهِ  
 وَبَنِيهِ ۳۶ لِ كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۳۷  
 وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ۳۸ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۳۹ وَوَجُوهٌ  
 يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۴۰ تَرَهَقَهَا قَرَّةٌ ۴۱ أُولَئِكَ هُمُ  
 الْكُفْرَةُ الْفَجْرَةُ ۴۲

وَ عِنْبًا بے دھبہ وَقُضْبًا بے ترکارہ وَ زَيْتُونًا وَ نَخْلًا بے زیتون بے خضر وَ حَدَائِقَ غُلْبًا بے کلیو برت  
 باغ وَ فَاكِهَةً وَ أَبًّا بے میوہ بے گھاسہ مَتَاعًا لَكُمْ وَ لِأَنْعَامِكُمْ توندہ نفعہ خیطرہ بے توندن چارواہن  
 ہندہ نفعہ خیطرہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ اودہ یلہ گڑھ سو کریک یسہ کنن زرباودہ ون آسہ یعنی پوٹک دویم  
 پھوک تمہ دوہہ سپدن عجیب عجیب حالات ظاہر۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ بے دوہہ  
 شخص ٹلہ پنہ نس بایس نشہ پنہ نہ ماجہ تہ ماس نشہ وَ صَاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ پنہ نہ زمانہ نشہ تہ نجوین نشہ  
 لِ كُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ بیواندرہ آسہ تمہ دوہہ پر تھ اکس پنہ نی فکرہ بیسہ نس  
 بے نیاز کرہ بے سز فکرہ نشہ وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ کینہہ بو تھ آسن تمہ دوہہ پھولہ ون۔ ضَاحِكَةٌ  
 مُسْتَبْشِرَةٌ آسہ ون تہ خوش خصال یعنی با ایمان ہند بو تھ وَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ بے آسن کینہہ  
 بو تھ تمہ دوہہ گرد آلودہ تَرَهَقَهَا قَرَّةٌ تمنے آسہ ولنہ آسریاہی اُولَئِكَ هُمُ الْكُفْرَةُ الْفَجْرَةُ  
 تے گئے کافر تہ بدکار نا فرمان



## سُورَةُ التَّيْمُورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ① وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ② وَإِذَا الْجِبَالُ  
 سُيِّرَتْ ③ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ④ وَإِذَا الْوُحُوشُ  
 حُشِرَتْ ⑤ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ⑥ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ⑦  
 وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ ⑧ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ⑨ وَإِذَا الصُّحُفُ  
 نُشِرَتْ ⑩ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑪ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ ⑫  
 وَإِذَا الْجَنَّةُ أُنزِلَتْ ⑬ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ⑭ فَلَا

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ بیلہ آفتاب و فتنہ بیلہ گاش روز سنہ کینہ تہ وَاذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ بیلہ تارک  
 گٹ گڑھن وَاذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ بیلہ کوه پلناونہ بن وَاذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ بیلہ باردار اونٹنہ  
 بیلہ ذہرت حملس گممت آس پر سس تیار آسن تروانہ بن۔ وَاذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ بیلہ جنگلی  
 جانور سوئمر نہ بن جنگلو منزہ بن ساری وست وَاذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ بیلہ دریا تاونہ بن وَاذَا النُّفُوسُ  
 زُوِّجَتْ بیلہ روح بن ملناونہ بدن سیت وَاذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِّلَتْ \* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ بیلہ زندے قبرہ  
 منز تراونہ آثرہ کور پر ژھنہ بیلہ کمہ غنہ آہ سو مارنہ وَاذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ بیلہ نامہ اعمال بن  
 مژراونہ یا ہجر اونہ بن وَاذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ بیلہ آسماؤں بستہ والہ بیلہ وَاذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ  
 بیلہ جہنم بیلہ تیز کرنہ وَاذَا الْجَنَّةُ أُنزِلَتْ بیلہ جنت بیلہ نگہ اونہ۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ  
 زانہ تمہ ساتہ پرت اکھاہ کیاہ آسہ تم حاضر کرمت عملواندرہ فَلَا أَقْسِمُ بِالْخَيْسِ بیلہ پھس بونتم  
 ہاوان پوت پھیرت گڑھ و نین تارکن ہیوند الْجَوَارِ الْكُنَّسِ بیلہ کونہ نین مطالعن منز غیب گڑھ

أَقْسَمُ بِالْخُنُوسِ ۝۱۵ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ۝۱۶ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ ۝۱۷  
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝۱۸ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝۱۹ ذِي  
قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝۲۰ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝۲۱ وَ  
مَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۝۲۲ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ۝۲۳  
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝۲۴ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ  
رَّجِيمٍ ۝۲۵ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۝۲۶ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝۲۷  
لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۝۲۸ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن  
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۲۹

وَن جھہ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ بیہ چھس قسم ہاوان راژ ہوندیلہ سہ پھیرت گزھن ہوان چھہ وَالصُّبْحِ  
إِذَا تَنَفَّسَ بیہ چھس قسم ہاوان صبحک یلہ سو پھلان چھویم قسم چھس تتھہ بیٹھہ ہاوان کہہ إِنَّهُ لَقَوْلُ  
رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شک یہ قرآن مجید چھو پروان اکس سوزنہ آتس ملکہ سندس مرتبہ کن بوڈ چھو  
خدائس نشہ ذی قُوَّةٍ قوتہ دول چھہ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ عرشہ والس خدائس نشہ چھو تھدس  
عہدس پٹھہ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ماننہ آمت ہٹھو۔ بیہ چھوتتہ معتبرامانت دار وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ بیہ  
چھونہ توہہ سیت ہمیشہ روزن وول حضرت محمد ﷺ موت تہ دیوانہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ بیہ وچھہ  
حضرت محمد ﷺ جبریل امین پنہ نہ اصلی ٹکلہ منز آسمانکس اندس بیٹھہ بسُنُ چھو وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ  
بِضَنِينٍ بیہ چھونہ یہ پیغمبر برحق نبی کھن پٹھہ بخل کرہ ون وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ بیہ  
چھونہ یہ قرآن مجید مردود شیطانہ سنزکت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پس کوگن چھوہ توہہ گزھانہ ان ہوا  
ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ بیہ قرآن مجید چھونہ مگر نصیحت سارنی عالمین کرڈھہ لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ  
توہہ اندرہ تمن ہندہ خیطرہ ہم سیزہ وونہ بکن یزھن وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ توہہ  
بھونہ یزھہ مگرے یزھہ اللہ تعالیٰ بس عالمین ہوندرُ ب چھو۔


## سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 اِذَا السَّمَاءُ اَنْفَطَرَتْ ۙ ۱ ۝ وَاِذَا الْكُوْكِبُ اَنْتَثَرَتْ ۙ ۲ ۝ وَاِذَا الْبِحَارُ  
 فُجِّرَتْ ۙ ۳ ۝ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۙ ۴ ۝ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ۙ ۵ ۝  
 يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیْمِ ۙ ۶ ۝ الَّذِیْ خَلَقَكَ  
 فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ ۙ ۷ ۝ فِیْ اٰیِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رُبَّكَ ۙ ۸ ۝ كَلَّا بَلْ  
 تُكذِّبُوْنَ بِالْدِّیْنِ ۙ ۹ ۝ وَاِنَّ عَلَیْكُمْ لَحٰفِظِیْنَ ۙ ۱۰ ۝ كِرٰمًا كَاتِبِیْنَ ۙ ۱۱ ۝  
 یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۙ ۱۲ ۝ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ ۙ ۱۳ ۝ وَاِنَّ

اِذَا السَّمَاءُ اَنْفَطَرَتْ یلہ آسمان پھٹے وَاِذَا الْكُوْكِبُ اَنْتَثَرَتْ بیہ یلہ تارک پھسکنہ یں وَاِذَا الْبِحَارُ  
 فُجِّرَتْ بیہ یلہ دریائیں زورہ پکناونہ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ بیہ یلہ قبرہ پرائنہ یں عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ  
 وَاَخَّرَتْ تمہی ساتھ زانہ پرت اکھاہ بروٹھ کیاہ سوزن پتھ کیاہ تراون يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ  
 الْكَرِیْمِ اے انسانہ کم چیزن ہمر اوک تھہ پنہ نس کریم پروردگارہ سنزنا فرمان کرنس پیٹھ الَّذِیْ  
 خَلَقَكَ فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ یم پروردگارن تھہ پیدہ کرنک بیہ سیود کرنک توپتہ برابرتہ معتدل کرنک  
 فِیْ اٰیِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رُبَّكَ یتھ شکلہ منزریضون یتھ شکلہ منذرثنہ تھہہ ترکیب کلابل تُكذِّبُوْنَ  
 بِالْدِّیْنِ کونہ چیزن ہمر اوکھنہ بلکہ چھہ حقیقت کہ توہہ چھوہ اپزگنزران عملن ہندس جزاُس قیامتک  
 دوہ روز تو توهہ اتھہ خیالس سیت وَاِنَّ عَلَیْكُمْ لَحٰفِظِیْنَ \* کِرٰمًا كَاتِبِیْنَ مگر اسہ چھہ توہہ پیٹھ مقرر کرنس  
 راجھہ تے چھہ خداُس نشہ معتبر لکھن وال یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ تمن چھو معلوم سپدان تہہ سوروی بیہ

الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۱۳ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۱۵ وَمَا هُمْ  
 عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۱۶ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۱۷ ثُمَّ مَا  
 أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۱۸ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ  
 شَيْئًا ۱۹ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۱۹

توہہ کران چھونیک و بد لاق الابرار لفی جحیم پڑاٹھ نیکو کار آسن جتنس منز نعمون اندر و لان الفجار  
 لفی جحیم پڑاٹ بدکار تہ نافرمان آسن جہنمس منز عذابس اندر یصلونہا یوم الدین اژن تھ  
 جہنمس منز قیامتہ دوہہ و ماہم عنہا بغائبین بیہ ہجھنہ تم تمہ جہنمہ نشہ الگ تہ کھٹت روزہ دن  
 و ما ادراک ما یوم الدین کوہ چیز تاری ژہ فکرہ ای انسانہ سو جزاء ک دوہ کوتاہ مشکل چھو  
 ادراک ما یوم الدین بیہ چھو سے ونان کوہ چیز زانوے ژہ جزا ک دوہ کوتاہ مشکل تہ سخت چھو۔  
 مختصر بوز یوم لا تملک نفس لنفیس شیئا سو گو سوئی دوہ یمہ دوہنہ کانہہ اکھاہ کانہہ اکس نفع بیہ  
 و اتناوت پنہ نہ اختیارہ و الامر یومئذ للہ حکم تہ اختیار آسہ تمہ دوہ کئس خدا یس بیہ نہ کانہہ۔



## سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ① الَّذِينَ إِذْ أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ②  
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ③ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ  
 مَبْعُوثُونَ ④ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ⑤ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ  
 الْعَالَمِينَ ⑥ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِّينٍ ⑦ وَمَا أَدْرَاكَ  
 مَا سَجِّينٌ ⑧ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ⑨ وَيْلٌ لِّيَوْمٍ مِّدٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ⑩  
 الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ⑪ وَمَا يَكْدِبُ بِهِ إِلَّا كَلٌّ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ پر زناوک ہلاکت چھ مینہ نس تہ تولہ نس منز کمی کرہ و نین ہندہ خیرہ الدین اذ اکتالوا علی الناس یستوفون ہم یلہ لوکن نشہ پنون حق تولن سورثن پور واذ اکالوہم اووزنوہم یخسرؤن توپتہ یلہ لوکن دین پنون کانہ چیزینت یا تولت سودن ہنھون الایظن اُولئک انہم مبعوثون \* لیوم عظیم کیا گمان ہنھنا تمن لوکن زہ تم ن تلمنہ اکہ بڈہ دوہہ خیرہ ہتھہ منز تمن سارکوی حساب یہ ہنہ یوم یقوم الناس لرب العالمین یہ دہ ساری لوک روزن وڈنہ حساب دنہ خیرہ کانتاکس ربس بروٹھ کنہ کلا ان کتب الفجار لفی سجین بہ تحقیق بے شک کافرن تہ نافرمان ہوندا نامہ اعمال روزہ سجین منز وما ادرک ما سجین کوی چیز زانراوی ژیہ سخن کیاہ گو کتب مرقوم سوچھو دفترہ اکہ لکھنہ آمت تھہ منز چھہ دوزخین ناولکھنہ آمت تمن پیٹھ چھہ نشان تھاونہ آمت نبردنہ آمت ویل یوم مید لکمذبین افسوس چھوتمہ دوہہ پزس اپزگزرو نین الدین یکذبون بیوم الدین ہم اپزگزرن

مُعْتَدِ اٰثِمٍ ۱۲ اِذَا تَلَى عَلَيْهِ اٰتِنَا قَالَ اَسَاطِيرُ  
 الْاَوَّلِيْنَ ۱۳ كَلَّابِلٌ مَسْتَرَانٌ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۱۴  
 كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِيْذٍ لَّمَّحْجُوْبُوْنَ ۱۵ ثُمَّ اِنَّهُمْ  
 لَصَالُو الْجَحِيْمِ ۱۶ ثُمَّ يُقَالُ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تُكذِّبُوْنَ ۱۷  
 كَلَّا اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيْنَ ۱۸ وَمَا اَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۱۹  
 كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۲۰ يَشْهَدُهٗ الْمُقَرَّبُوْنَ ۲۱ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ  
 نَعِيْمٍ ۲۲ عَلٰى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۲۳ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ

جزء کس دوس و ما یکنذب به الا کل معتد اثم از گزرنه تته مگر پرت حده دلون بدکار اذا اتلى  
 علیه ایتنا قال اساطیر الاولین یله پرنه سن پنه آیات سین دپنه لجه سویم چه برو تنهین هند  
 افسانه کلا نه چه نه هرگز بل ران علی قلوبهم ما كانوا یكسبون بلکه چهوز نگارته که لجه همتند  
 دلن پنه تمن یچه کاین هنزیمه تم کران اس کلا تنهین انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون به  
 شک تم لوک بن تمه دو به پنه نس پروردگار سند دیداره نشه پنه رنه ثم انهم لصالو الجحیم توپته  
 چه تم یقینا نار جهنم منراژه وین ثم یقال توپته بیه وند تمن هذا الذی کنتم به تکذبون یسوی  
 کیا گو سو جنم تته توه ابرزانان آسوه کلا پزپاٹھ ان کتب الابرار لفی علیین به شک نیو کارن  
 بیوند نامه اعمال چهو علینس اندر وما ادرک ما علیون شه کوه چیز از اولی علیون کیا چهو کتب  
 مرقوم سو چهو دفتره لکهنه آمت تته منز چهو با ایمان هند ناو آمت لکهنه تمنی چهو نشانه آمت تهاونه  
 نمبر آمت دنه یشهده المقربون وچهو یوان چه تته ملائکه مقربین ان الابرار لفی نعیم پز  
 پاٹ نیو کار چهو چنن نعمون اندر علی الارایک ینظرون تخن پیٹھ آسن وچهان عاباتب تعرف

نَصْرَةَ النَّعِيمِ ۚ يُسْقُونَ مِنْ رَحِيقٍ خَمْتُمْ ۚ خِمْتُمْ  
 مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَّافِسِ الْمُتَنَفِسُونَ ۗ وَ  
 مِرَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۚ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۗ  
 إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۗ  
 وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۗ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى  
 أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۗ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ  
 هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۗ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۗ

فِي دُجُومِهِمْ نَصْرَةَ النَّعِيمِ بِرِزَاوَكِ ثَرِه تَهْمَدِ يُوْتَهِيوْهُ نَعْمُوْنَ هَنْزِ تَرُو تَا زَا كِي يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقِ  
 خَمْتُمْ \* خِمْتُمْ مِسْكٌ چاونه ين تم سو شراب طهور يتھ نچ بوتله مهر آسه كرنه آمز۔ سو مرنج آسه  
 خالص نانه كستوری موممه نه لاجه بدل سوی مهر تلم پانه تم جلتی آهس كت رلونی گوهن خوش تهمد  
 دماغ نانه كه خوش بو سیت معطر وَفِي ذَلِكَ يتھ سی شرابس کن فَلَيْتَنَّافِسِ الْمُتَنَفِسُونَ  
 كمرن رغبت رغبت كرن وال وَمِرَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ بيه آسه ملناونه آمت تھ سیت تيسمك آب  
 عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ تسنيم چهوناگه بيه منز آب چوان آسن پروردگار ه سند مقرب بنده إِنَّ  
 الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ پزپاٹ نافرمان لوک آس بايمان پیٹھ آسان وَإِذَا  
 مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ بيه تم بايمان تمن کافرن بروئھ کن پکان آس تم آس آھ اکس کن اچھناٹ  
 کران حقارت کن۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ تو پتہ بيه واپس آس تم کافر  
 گوهان پنه نس اهل و عیالس کن واپس آس گوهان ژينگان یو کامیو سیت وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ  
 هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ بيه بيه وچھان آس تم کافر تمن مسلمان دپان آس یم لوک چه ڈلت گرا هگمت

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿۳۷﴾ عَلَى  
 الْأَرْبَابِكِ لَا يَنْظُرُونَ ﴿۳۸﴾ هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۳۹﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ حَالَانَكه یم آسنه سوزنه آمت تمن همد خیره راجه تمن کیا حق اوس  
 یہ دنه نك فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ از قیامتہ کہ دوہہ کیا آسن با ایمان تمن  
 کافرن پٹھه عَلَى الْأَرْبَابِكِ يَنْظُرُونَ تمن پٹھه بہت آسن جنقی کافرن تہ مُشْرِكُنْ ہندہ عذابگ حال  
 وچھان دپان آسنک۔ هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کیا جزا آوہ دنہ کافرن تمن کا مین ہوندیہ  
 تم کران آس دنیا س اندر





## سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ ۱؎ وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۲؎ وَاِذَا  
 الْاَرْضُ مُدَّتْ ۳؎ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۴؎ وَاذْنَتْ  
 لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۵؎ يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَىٰ رَبِّكَ  
 كَدًا حَافِلِقِيهِ ۶؎ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ ۷؎  
 فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۸؎ وَيُنْقَلِبُ اِلَىٰ اَهْلِهِ

اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ يله آسمانس چھلہ گڑھن خدایہ سندہ حممہ وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ بیہ مانہ آسمان  
 پنہ نس پروردگارہ سند حکم تس پڑہ حکم مانن وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ بیہ یلہ زمین زیتھر اونہ بیہ خدایہ  
 سندہ حممہ سیت وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ بیہ تراوہ زمین نیر تم ساری چیزیم تھہ منزجھہ سوسپدہ خالی  
 وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ سوتہ مانہ پنہ نس پروردگارہ سند حکم تس پڑہ حکم مانن يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ  
 كَادِحٌ اِلَىٰ رَبِّكَ كَدًا حَافِلِقِيهِ ای انسانہ بے شک ژہ چھک تکلیف تہ محنت تلہ ون پنہ نس  
 پروردگار س نشہ واتہہ خیطرہ پس چھک ژہ تس سیت ملاقات کرہ ون نیکین اندر محنت کرت تہ تس نشہ  
 واتہ ون بدی اندر مشقت تلت تہ تس نشہ واتہ ون تس نشہ پنہ نین عملن ہنز مزور حاصل کرہ ون  
 رژن عملن رژ مزور پیچھ عملن پیچھ مزور فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ اودہ پس اکس نامہ اعمال  
 دنہ بیہ ڈچھنس اتھس کیتھہ فَسَوْفَ يَحَاسِبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا پس نزدیک چھو کہ حساب بیہ ہنہ تس  
 حسابہ سہل تہ آسان وَيُنْقَلِبُ اِلَىٰ اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا واپس پھیرہ سو پنہ نین باژن ن خوش سہت  
 وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ وَّرَآءَ ظَهْرِهِ بیہ پس اکس دنہ بیہ نامہ اعمال پنون تھر پچن کھاور س اتھس کیتھہ

مَسْرُورًا ④ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَى ظَهْرَهُ ⑤ فَسَوْفَ  
 يَدْعُو شُبُورًا ⑥ وَيَصِلِي سَعِيرًا ⑦ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ  
 مَسْرُورًا ⑧ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ⑨ بَلَىٰ ⑩ إِنَّ رَبَّهُ  
 كَانَ بِهِ بَصِيرًا ⑪ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ⑫ وَاللَّيْلِ وَمَا  
 وَسَقَ ⑬ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ⑭ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ⑮ فَمَا  
 لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑯ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ⑰  
 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْذِبُونَ ⑱ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ⑲

فَسَوْفَ يَدْعُو شُبُورًا سودیہ کریمہ تہ اولو گلہ نس پنے نس پیٹھ یعنی پنے موتہ خیطرہ ⑤ وَيَصِلِي سَعِيرًا  
 بیہ اثرہ سود زولس نارس ⑧ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا پڑپاٹ اوس سود نیاعس اندر پنے نین باثران منر  
 خوش بے غم ⑩ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ پڑپاٹ تس اوس گمان زہ خدا یس گن چھونہ رجوع کرن بلی  
 البتہ تس چھو ضرور خدا یس گن رجوع کرن ⑪ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا پڑپاٹ تم سُنڈ پوردگار اوس  
 تمسنزہ ساری کامہ وارہ وچھان ⑫ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ پس چھوس بوقسم ہاوان تمہ سرخی ہیونڈیہ  
 آفتاب لوست آسمان جس اندس پیٹھ چھ آسان ⑬ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ بیہ چھوس قسم ہاوان راثر ہیوند  
 بیہ تمہ سار کوی ہتھ رات چھ سبران ⑭ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ بیہ چھوس قسم ہاوان زونہ ہیوندیلہ سومر  
 رنہ یوان چھ پور سپدان چھ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ توبہ کھسیو ضروراکہ حالہ پتہ بیس حالس فَمَا لَهُمْ  
 لَا يُؤْمِنُونَ پس کیاہ گو کافرن تم چھنہ یوت ونت تہ پڑھ کران ⑰ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ  
 بیہ یلہ تمن پیٹھ قرآن مجید چھوپرنہ یوان تیج فصاحت و بلاغت بوزت چھنہ تم سجدہ دووان سر تسلیم خم  
 کران ⑱ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْذِبُونَ بلکہ یمولو کو پڑھ کرنہ تم چھ اتھ قرآن مجیدس اپر گز ران وَاللَّهُ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْيَوْمِ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الطَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

اَعْلَمُوْ بِمَا يُدْعُوْنَ اللّٰهُ تَعَالٰی چھو زانان تہ سوری یہ تم دن منز تاوان چھ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْيَوْمِ  
پس خوشخبر و نیو تمن دودودہ ونہ عذاب سارنی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الطَّالِحَاتِ مگر یو پڑھ  
کر تہ رتہ علمہ کر کہ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ تہندہ خیطرہ چھ مزدور حدہ رستوی منہ و رای۔



## سُورَةُ الْبُرُوجِ


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝۱ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝۲ وَشَاهِدِ  
 وَمَشْهُودِ ۝۳ قَتَلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۝۴ النَّارِ ذَاتِ  
 الْوُقُودِ ۝۵ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝۶ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ  
 بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝۷ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ  
 الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝۸ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝۹  
 وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۰ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم آسمانک نئس بر جدول چھو وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ بئہ تمہ دوہوک سمیک  
 وعدہ تھاونہ آمت چھو یعنی قیامتہ دوہک وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ بئہ چھو قسم گواہ سند بئہ نئس پیٹھ گواہ  
 روزہ قَتَلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ مارنہ آے کھ کھن وال النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ سمو تھن کھن منز  
 نار زول سٹھارہ زیون تراوت مسلمان تھہ نارس منز تراوت عذاب کرنہ خیطرہ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ یلہ  
 آس تم تھن نارہ کھڈن ہندس ٹھس پٹھ ہمت وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ تم نئس  
 تکلیف مسلمان دوان آس تہ آس پاندہ وچھان وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ  
 تھن مسلمان آسنہ تم انتقام تہ بدل ہوان مگریمہ گوی کہ تم آس پڑھ کران معبود بر حقس نئس سٹھارہ  
 عزتہ وول تہ سٹھارہ تعریف کرنہ آمت چھو الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نئس پادشاہت چھہ  
 آسمان تہ زمین ہنز وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ تمہ علاوہ چھو اللہ تعالیٰ پرت چیز پاندہ وچھان إِنَّ الَّذِينَ



بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝۱۹ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۝۲۰  
 بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۝۲۱ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۝۲۲

وَرَأَيْتُمْ مُحِيطٌ اللہ تعالیٰ چھہ پرت طرفہ تمن گھیر کرت قرآن مجید چھونہ تیو تھ چیزہ تھ تھندہ اپز  
 گزرنہ سیت کینہہ کم گڑھہ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ \* فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ بلکہ چھو قرآن سٹھاہ تھود مرتبہ کن  
 اکس رآچھ کرنہ آمز اکس سفید مختہ ہچ پیٹھ لیکنہ آمت تو پیتہ عرش مجیدس الوند تراوت ملکس آکسنزہ  
 کوچھ کت تھانہ آمت



## سُورَةُ الطَّارِقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝  
 النُّجُومُ الثَّاقِبُ ۝ إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝  
 فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝  
 یَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ  
 لَقَادِرٌ ۝ یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ کہ شبہ اوس ابو طالب آمت در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تو اوس تس کیوت طعام کرمت تیار۔ یہ ساتہ دونوے آس سُو طعام کھوان اتی پو آسمانہ اکھ تار کہ سُوی سپد تیوت نزدیک زمینس کہ سومکان بیتھ منز آنحضرت ﷺ تشریف تھوت آس سو سپد منور ابو طالبس گیہ اچھ خیرہ دپنہ لگ یہ کیاہ سنا سپد آنحضرت تو فرماوس یہ چھو تارک ملایک چھہ اتھہ لایان تمس شیطانن پٹھہ یم کن دنہ چھو کھسان آسمانس نکھ۔ بیہ چھو یہ خدا یہ سندہ قدرنگ اکھ نشانہ ابو طالبن لان ژھپہ۔ اتی سپد جبریل امین نازل یہ سورہ شریفہ ہیبت وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ آسما نگ قسم بیہ تمہ چیزک قسم ئس رات کہ وقت ننان ہٹھو وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ تودہ کوہ چیز زانزواہ یار رسول اللہ کہ سورات کیوت ادھون کوہ چیز ہٹھو النُّجُومُ الثَّاقِبُ سُو گو تار کہ پرزلہ ون جواب قسم چھو ان کُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ہٹھنہ کانہ شخصہ مگر تس پٹھہ چھو اکھ اچھہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ پس وچھن انسان کہہ نشہ آو سو پیدہ کرنہ تمس نے یاد چھو بوزن خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ سو آو پیدہ کرنہ انزالہ کہ وقتہہ ووٹھہ دوہ ونہ آہ نشہ یعنی منی یَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ لیس نیر ان مردن

نَاصِرًا ۱۱ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۱۱ وَالْأَرْضِ ذَاتِ  
 الصَّدْعِ ۱۲ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۱۳ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۱۴ إِنَّهُمْ  
 يَكِيدُونَ كَيْدًا ۱۵ وَآكِيدُ كَيْدًا ۱۶ فَبَهْلُ الْكٰفِرِينَ  
 أَهْلُهُمْ رُويًا ۱۷

ہند یو پشتو منزہ زنانن ہنزوسینہ تریو منزہ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ پڑپاٹ اللہ تعالیٰ چھو تس اناس  
 مرنہ پتہ بیہ زندہ کرنس پٹھ قدرتہ وول یَوْمَ تُبْلَى السَّرَابُ بیمہ دوہہ نتروانہ تہ پرکھاونہ ین دلن  
 ہند پو شیدہ خیال فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرًا پس آسنہ تمہ دوہہ امس اناس کانہہ طاقتہ نہ کانہہ  
 مددگارہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ بیہ چھو قسم رود تراوہ ونہ آسماگک وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ بیہ  
 چھو قسم پھلہ ونہ زینگ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ پڑپاٹ یہ قرآن مجید چھو کلامہ فیصلہ کرہ ونہ وَمَا  
 هُوَ بِالْهَزْلِ چھونہ سو ٹھٹھہ کتھاہ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا \* وَآكِيدُ كَيْدًا پڑپاٹھ کافر چھہ پڑس انکار  
 کرنس اندر رنکارنگ مکر تہ حیلہ کران بو تہ چھوس پوزنر انون خیطرہ تدبیر کران۔ فَبَهْلُ الْكٰفِرِينَ  
 پس مہلت دیوتوہ کافرن أَهْلُهُمْ رُويًا سوی مہلت دیوکھ کم کینہہ کالہ وچھو تمس کیاہ بنہ۔







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ① الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ② وَالَّذِي قَدَّرَ  
 فَهَدَى ③ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ④ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ⑤  
 سَنُقِرُّكَ فَلَاتُتْسَى ⑥ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا  
 يَخْفَى ⑦ وَنُبَيِّرُكَ لِيُسْرَى ⑧ فَذَكِّرْ ⑨ إِنَّ نَفْعَ الذِّكْرِ ⑩ سَيَذَكِّرُ  
 مَنْ يَخْشَى ⑪ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ⑫ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ⑬

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى پاک گزر ریونا و پنه نس پروردگارہ سُندئس سٹھاہ تھد چھویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى یم سوروی پیدہ کر پس گرن برابر موزون وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى بیہ یم پر تھہ آسندہ خیطرہ ہوم مقرر کر تو پتہ ہا نس تھہ ن و تھہ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى بیہ یم کھور زینہ منز گاسہ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى تو پتہ گرن سو گاسہ خشک زھوٹھہ تہ سیاہ سَنُقِرُّكَ فَلَاتُتْسَى اس پرہ ناووہہ توہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجیدئس مشراوونہ توہ کینہہ تہ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ گمرنی یہ اللہ تعالیٰ یرھہ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى بے شک اللہ تعالیٰ چھوزانان تہ بڈہرن تہ لو تہ پرن تہ وَنُبَيِّرُكَ لِيُسْرَى بیہ کور اس سسل تہ آسان تونودہ خیطرہ آسان شریعت فَذَكِّرْ ⑨ إِنَّ نَفْعَ الذِّكْرِ ⑩ سَيَذَكِّرُ پر یو توہ لوکن وعظ ہر گاہ وعظ پرن لوکن فاندہ تہ نفع دیہ سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَى نصیحت رٹہ سویئس عذابس کھوٹھہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى لوب روز نصیحت بوزنہ نشہ بوڈہد قسمت الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ئس وانہ بڈس نارس سو گونار جنم ثُمَّ لَا يَبُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْيَى توپت نہ مرہ تھہ اندرزانہ نہ روزہ زندہ

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۗ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۗ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ۗ أَبْقَىٰ ۗ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۗ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۗ

آرامہ سان قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ تھمیں نجات لب تم بس پاک سپد و ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ یہ ہم چہ نس پروردگارہ مند نام پاک ہمت نماز پر بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ای منکر و توجہ چھوہ نہ آخر تک سامانہ کران بلکہ چھوہ توجہ ہند کران دنیا ج ناپا ندر زندگی وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ أَبْقَىٰ حالانکہ آخرت چھو بہتر تہ پوشہ ون دنیا خونہ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ پڑاٹ یسوی مضمون چھو برو تھمیں کتابن اندر بیان کرنہ آمت حضرت ابراہیمہ سنزن کتابن اندر تہ حضرت موسیٰ سنزن کتابن اندر تہ۔ حضرت ابراہیمس پیٹھ آس دہ صحیفہ نازل سپد مت حضرت موسیٰ اس پیٹھ تہ آس توراتہ برو تھدہ صحیفہ نازل سپد مت رواہ عبد ابن حمید کمانی روح المعانی۔



## سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ① وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ② عَامِلَةٌ ③ تَأْتِي النَّارَ حَامِيَةً ④ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ⑤ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ ⑥ لَا يُسْمِنُ ⑦ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ⑧ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ تَائِبَةٌ ⑨ لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ ⑩ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ⑪ لَا تَسْعُرُ فِيهَا الرِّيحُ ⑫ فِيهَا جَارِيَةٌ ⑬ فِيهَا سُرٌّ مَرْفُوعَةٌ ⑭ وَأَنْوَابٌ مُؤْتُونَ ⑮ وَنَسَائِرُ ⑯

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ کیا توہم نشہ واثرہ خبر یا رسول اللہ قیامت کے لوکن پہنچے نیو تختیو سیت احاطہ کرہ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ کینہہ بو تھ آسن تمہ دوہ تھار میت عَامِلَةٌ تَأْتِي النَّارَ حَامِيَةً کوم کرہ ون تھسہ ون تَصَلِي النَّارَ حَامِيَةً تمے اثن نارس نُس سخت گرم چھو تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ چاونہ یں تہ تہ تی ناگہ منز نُس گرکان آسہ۔ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ چھونہ تمں دوزخین کھن مگر زہر دار کند لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ نہ دھراوہ سونہ زلراوہ بوچھ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ تَائِبَةٌ کینہہ بو تھ آسن تمہ دوہہ تروتازہ نہ خوش لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ پنہ نین رذن عملن ہونڈو اب وچھت آسن راضی فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ تھدین جتنن اندر لَا تَسْعُرُ فِيهَا الرِّيحُ بوزن نہ تم تھہ جنس اندر بیہودہ تھہ فِيهَا جَارِيَةٌ تھہ جنس منز آسہ ناگہ یکہ ون فِيهَا سُرٌّ مَرْفُوعَةٌ تھہ جنس منز آسن تھہ پلنگ وَأَنْوَابٌ مُؤْتُونَ بئہ آسن آنخو رتکہ تھہ تھاونہ آمت برو تھہ کنہہ وَنَسَائِرُ فِي مَصْفُوفَةٍ بئہ آسن شانہ

مَصْفُوفَةً ۱۵ ۱۱ وَزَرَابِي مَبْتُوثَةً ۱۶ ۱۲ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ  
 كَيْفَ خُلِقَتْ ۱۷ ۱۳ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۱۸ ۱۴ وَإِلَى الْجِبَالِ  
 كَيْفَ نُصِبَتْ ۱۹ ۱۵ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۲۰ ۱۶ فَذَكِّرْ ۲۱ ۱۷  
 إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۲۲ ۱۸ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۲۳ ۱۹ إِلَّا مَنْ  
 تَوَلَّى وَكَفَرَ ۲۴ ۲۰ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۲۵ ۲۱ إِنَّ إِلَيْنَا  
 إِيَابَهُمْ ۲۶ ۲۲ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۲۷ ۲۳

گند تکمہ لاکنہ آمت وَزَرَابِي مَبْتُوثَةً بیہ آسن ریشمی قالین پرت طرفد و تھرنہ آمت تیتس خوش  
 کر کہ تیتس بہن أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ کیسا و چھان و چھانیم مکک کافرو و نٹن گن تھ پات  
 چھو تم پیدہ کرنہ آمت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ بیہ آسماںس گن تھ پات چھو سو بلند کرنہ آمت  
 وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ بیہ کوہن گن تھ چھ تم تھانہ آمت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ بیہ  
 زمینس گن تھ پات چھو سو و ہراونہ آمت فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ پس کریو توه نصیحت و عظ توه چھو  
 نہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر نصیحت فرماوہون لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ توه چھونہ تمن پیٹھ  
 مُسَلِّطٌ کرنہ آمت یوتھ زورہ مازو یو کہہ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ لیکن نئس اکھاہ بوتھ پھرہ تہ کافر سپدہ  
 فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ پس عذاب کرہ اللہ تعالیٰ تس بوڈ عذاب آخر تس اندر إِنَّ إِلَيْنَا  
 إِيَابَهُمْ پزپاٹ اس گن چھو واپس سن تمن ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ تمہ پتہ چھو پزپاٹ اسی ملہ تمن  
 حساب ہیون

## سُورَةُ الْفَجْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 وَالْفَجْرِ ۝۱ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝۲ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝۳ وَالْأَيْلِ إِذَا  
 يَسُرُّ ۝۴ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حَجْرِ ۝۵ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ  
 رَبُّكَ بِعَادٍ ۝۶ إِرْمَادًا لِلْعِمَادِ ۝۷ آلِي لَيْمٍ لَم يُخْلَقْ مِثْلَهَا  
 فِي الْبِلَادِ ۝۸ وَشَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝۹  
 وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝۱۰ الَّذِينَ طَعَفُوا فِي الْبِلَادِ ۝۱۱

وَالْفَجْرِ صبحک قسم وَلَيَالٍ عَشْرٍ بیه دهن راتن هیوند قسم وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ جھنک ۛ طاقب قسم  
 وَالْأَيْلِ إِذَا يَسُرُّ بیه راژ هیوند قسم یله سوگذران چھ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حَجْرِ چھوا ۛ قسم  
 اندر قسمه کافی ۛ معتبر عقله والس کیتھ۔ جواب قسم یعنی یمه خیطره یم قسم ہاونہ آے سوچھو حذف کرنہ  
 آمت سُوگو لتعذ بن یعنی ای منکر وتوہ ایوہ ضرور عذاب کرنہ بروظھین منکرن ہندپاٹ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ  
 فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ توہ وچھوہ ناکیاہ کور پروردگارن تموند قوم عاوس إِرْمَادًا یم عاوارم آس ذات  
 الْعِمَادِ یم تھند قدہ وال آس تمواندرز شھس شخصہ سُنْد قداوس ژورہت گز شرعی آلِي لَيْمٍ لَم يُخْلَقْ  
 مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ یہ گو سوقبیلہ یمن ہیو پیدہ آونہ کرنہ قدو قاتس ۛ توئس طاقس منزین شھرن  
 اندر کانسہ قبیلہ وَشَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ بیه وچھونا توہ تموند پروردگارن کیاہ کور قوم  
 شمودس یوکوہ ۛ پل ژٹھہ وادی القراءس منز مضبوط گرہ بناو وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ بیه کیاہ گرن  
 تس فرعونس یس میٹھ وول اوس سونہ سنزو میٹھوسیت اوس گرن نال لاگان الَّذِينَ طَعَفُوا فِي الْبِلَادِ

فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝۱۷ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ  
عَذَابٍ ۝۱۸ اِنَّ رَبَّكَ لِبَالِ الْبِرِّصَادِ ۝۱۹ فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا  
ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَآكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۙ فَيَقُولُ رَبِّيْ اَكْرَمَنِ ۝۲۰  
وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۙ فَيَقُولُ رَبِّيْ  
اِهَانَنِ ۝۲۱ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۝۲۲ وَلَا تَحْضُوْنَ  
عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنَ ۝۲۳ وَتَاْكُلُوْنَ الْاَثْرَآءَ الْاَكْلَآئِثَ ۝۲۴  
وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝۲۵ كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا

یومو ساروی کر سر کشی شهرن اندر فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ پس کرک سٹھاہ تمن شهرن اندر تہای  
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ پس لوی تمن تہوند پروردگارن عذابک قمچہ تمی سیت گالین  
اِنَّ رَبَّكَ لِبَالِ الْبِرِّصَادِ پڑپاٹ تہوند پروردگار چھوزاگنہ چہ جایہ ژرژان سارنی نافرمانن ہیوند حال  
فَاَمَّا الْاِنْسَانُ پس نافرمان انسان نُس چھو اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ یلہ تس تہند پروردگار تہندہ ایمانچ آزمائش  
چھو کران فَآكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ پس چھس عزت دوان بیہ نعمت عطا کران فَيَقُولُ رَبِّيْ اَكْرَمَنِ نَس  
چھو دپان پروردگارن کر م بند مہربانی وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلَاهُ لیکن یلہ سوتس ایمانی آزمائش چھو کران  
فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ تو پتہ چھس رزق س اندر تنگی کران فَيَقُولُ رَبِّيْ اِهَانَنِ تمہ ساتہ چھو دپان  
پروردگارن کر نس ذلیل کَلَّا حالانکہ یہ چھنہ حقیقت بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ بلکہ خواری تہنز چھہ  
امی سببہ کہ عزت چھونہ تہہ کران تہمس وَلَا تَحْضُوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنَ بیہ چھوہ نہ رغبت دوان  
مسکین کھیادک وَتَاْكُلُوْنَ الْاَثْرَآءَ الْاَكْلَآئِثَ بیہ چھہ میرا نیک مال کھوان اورہ یورہ سہر او تھہ بین ہند حق  
وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا بیہ چھوہ مال دنیا ٹوٹھ تہوان سٹھاہ زیادہ کَلَّا یہ لجنہ کرن امیوک نتیجہ  
چھو سٹھاہ کریوٹھ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا سودہ پاپو ژتہس یہ دہہ سم ستر بیہ کرنہ زمینس پے

دَكَا۟ۤءًا ۙ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ وَجِئْتُ  
 يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ  
 الذِّكْرَىٰ ۚ يَقُولُ يَلِيَّتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۚ فَيَوْمَئِذٍ  
 لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۙ وَلَا يُؤْتِيهِ شَاقًا ۚ  
 أَحَدٌ ۙ يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۚ أَسْرَجِي إِلَىٰ  
 رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ۚ فَأَدْخِلْنِي فِي عَبْدِي ۙ  
 وَأَدْخِلِي جَنَّتِي ۚ

در پے ہنلیوسیت وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا بیہ تہند پروردگار بیہ ین ساری ملک صف بھفت  
 روزن محشرہ کس میدانس اندر وَجِئْتُ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ بیہ ینہ نہ تمہ دوہ جنم یومئذین یتذکر  
 الإنسان تمی دوہ کیار نہ نہیب انسان وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ مگر سوکتہ آسہ تمہ دوہہ تمس نصیحت  
 ربک موقعہ یقول یلیتینی قدامت لِحیاتی دینہ لہ تمہ دوہ کاشکے بروٹھے آسم سوز مرث، کانہہ رز عملہ  
 یہ عالمچہ زندگی خیطرہ فِیَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ نھس کرنہ تمہ دوہہ خدایہ سند ہیو عذاب  
 کانہہ اکھاہ وَلَا يُؤْتِيهِ شَاقًا ۚ بیہ کرنہ بند کانہہ اکھاہ خدایہ سند ہیو بند کرن یَأْتِيهَا  
 النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ای آرام رٹونہ تفسرہ اسرجی علی ربک گوہہ پنس پروردگار س گن  
 راضیہ مُرْضِيَةً بیہہ حالس اندر کہ ژہ تس نش راضی سوژہ نشہ راضی فَأَدْخِلْنِي فِي عَبْدِي  
 \*وَأَدْخِلِي جَنَّتِي پس شامل سپد میان خاص بندن ہنزہ جماژ اندر بیہ اژہ مینس جنس اندر

## سُورَةُ الْبَلَدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝۱ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝۲ وَوَالِدِي وَمَا  
 وَكَدَ ۝۳ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝۴ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ  
 عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝۵ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا بَدَأَ ۝۶ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ  
 أَحَدٌ ۝۷ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝۸ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝۹ وَهَدَيْنَاهُ  
 السَّبِيلَ ۝۱۰ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝۱۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝۱۲ فَكُّ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ قسم جھس بوہاوان یمہ شرک یعنی مکہ معظمہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ یتھ  
 حالس اندر کہ توه آسواتھ شہرس اندر تشریف تھاوت یا توه آسواتھ شہرس اندر فاتحانہ صور تس منز  
 ساری پابند یورائے خدایہ سندون دشمن تے تیغ آناں وَوَالِدِي وَمَا وَكَدَ بیہ جھس قسم ہاوان مال سند  
 بیہ اولادن ہوند یعنی تمام مخلوقاتن ہوند لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ پز پانٹھ پیدہ کراسہ انسان سخت  
 تے مشقتس اندر أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ کیا گمان چھاتس کہ تمس کیا پوشنہ کہے يَقُولُ أَهْلَكْتُ  
 مَا لَا بَدَأَ وناں چھہ مہ مگر خرچ سونبرمت واریاہ مال پز کس مخالفتس اندر ژورہ ژورہ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ  
 أَحَدٌ امس چھہ گمان کہ وچسم نہ کانسہ۔ خدائے جھو سوری وچھان أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ کیا اسہ کرہ  
 ناپدہ امس اچھہ زہ یہ یلہ تموا اچھو سیت وچھت ہیچہ اچھہ پیدہ کروں مخلوقن بینائی عطا کرہ ون ہکنا بدن  
 ہوند حال وچھت وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ بیہ زیوتہ وٹھ زہ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ بیہ ہواسہ تس و تھ خیرس  
 تے شرس گن یادون تھرز گن یعنی دودچن دون جائن گن فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ کس ژھنڈہ نہ تم بٹھ تے بال  
 یعنی ماجہ ہند دینہ چہ کامہ کرنس اندر تجن نہ محنت تے مشقت وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ژیہ کوہ چیز زانراوی



رَقَبَةً ۱۳) أَوْ اطْعَمْنِي يَوْمِي مَسْغَبَةٍ ۱۴) يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ ۱۵)  
 أَوْ مَسْكِيناً ذَا مَقْرَبَةٍ ۱۶) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا  
 بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرِّحْمَةِ ۱۷) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۱۸)  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۱۹) عَلَيْهِمُ نَارُ مُؤَصَّدَةٌ ۲۰)

سوغتہ کیا ہو سو گو فک رقبۃ گردنہ آزاد کرن سے موکہ لاون یعنی غلام یا کنیز آزاد کرن یا قرضدارہ  
 سز گردن قرضہ نشہ موکہ لاون أَوْ اطْعَمْنِي يَوْمِي مَسْغَبَةٍ سے کھیاون کا نہ شخصہاہ بوچھ ہندہ دوہہ  
 یعنی تھلس منز يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ کینہ رشتہ دار تھمس أَوْ مَسْكِيناً ذَا مَقْرَبَةٍ سے کانسہ مرثہ سیت مٹلس  
 مسکینس یعنی پھرے قس مساجس ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا تمہ پتہ آسہ سو گردن آزاد کرہ ون کھین  
 دوہ ون تھمس سے مسکین تمواندر یمو ایمان اون کیا زہ نیکن ہندہ قبولیتک شرط چھو با ایمان اُن  
 وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بیہ کرک وصیت اکھ اس صبر کرنج عبادت کرنس سے گنہو نشہ پیچہ روزہ نس پٹھ  
 وَتَوَاصَوْا بِالرِّحْمَةِ بیہ کرک وصیت مخلوقن پیچہ رحم کرنج أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تمہ چھ  
 نصیبہ وال شتہ بند یمن دچھس اتھس کیت نامہ اعمال دنہ بیہ بیہ یمن عرشہ مجیدہ کہ دچھنہ طرفہ  
 روزنچ جای دنہ بیہ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالَّذِينَ آمَنُوا وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ یمولو کو انکار کر سانین آیاتن تم گئے  
 پھشل نحو ستہ وال عَلَيْهِمُ نَارُ مُؤَصَّدَةٌ تمن پٹھ سپدہ نار مسط ٹھانڈونہ آمت تھتہ منز نہ دہ سے نیرک



سُورَةُ الشَّمْسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ① وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ② وَالنَّهَارُ إِذَا  
 جَدَّهَا ③ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ④ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَدَنَهَا ⑤  
 وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّهَا ⑥ وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا ⑦ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا  
 وَتَقْوَاهَا ⑧ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ④ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ⑩  
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ⑪ إِذِ ابْتِغَتْ أَشْقَاهَا ⑫ فَقَالَ لَهُمْ

وَالشَّمْسُ آفتابك قسم وَضُحَاهَا بیه تمحه تا یک قسم وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا بیه زونه هیوند قسم یله سو پته چهره پکان اته آفتاب وَالنَّهَارُ إِذَا جَدَّهَا بیه دو هوک قسم یله سواته آفتاب روشن چهو کران وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا بیه راث هیوند قسم یله سوه ولان چهو اته آفتاب وَالسَّمَاءُ وَمَا بَدَنَهَا بیه آسمانگ قسم بیه یم سو بنا کور وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّهَا بیه زمینک قسم بیه یم سو هموار گرت و بهراو وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا بیه انسانه سنده نفسک قسم بیه یم سو برابر کر یعنی یم سو سیود گمر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پس دلس منز تراونس بدی ته گناه تهند بیه نیکی ته پر بهیز گاری تهیز یم ساری قسم آئی باونه بیه تهه خیره که قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا به تحقیق کامیاب رسته گارسپد ته مطلبس ووت سو شخص یم پاک گمر پنون نفس یعنی سم پنون نفس نافرمانیو نشه پاک کرت تقوی و فرمان برداری پنه آماده گمر وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ناکام ته نامر ادسپد یم سو نفس چها لوبدین اندر جواب قسم چهو سارنی قسمن هوند ای که مکه بک کافر و فاجر ته بدکار چهو توه لوک توه چهو ضرور غضبس ته هلاکتس گمر فارسپدن دنیا و آخرتس منز آیهه پاٹھ قوم ثمود گمر فارسپد یمن هوند قصه امه پته بیان چهو یوان کر نه كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا قوم ثمودن گمر تکذیب

رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَهَا ۖ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَلَمَّا قَدِمُوا  
عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَدْنَابِهِمْ فَسَوَّاهَا ۗ وَلَا يَخَافُ عُقْبَهَا ۝

پنہ شرارت و سرکشی سببہ پنہ نس پیغمبر صالح علیہ السلام یہ چھو تمہ و تنگ قصہ اِذْ اَنْعَثَ اَشْقَمَهَا  
یلہ تمہ قوم ثمودہ منزہ ووتھ سخت شقیہا اکھ سوی سپد آمادہ تس ووننہ تکلیف و اتناوتس پیٹھ، سیت رودس  
بے لوک تہ، امیوک اطلاع یلہ ووت صالح علیہ السلام فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَهَا  
پس فرموو تهن اللہ تعالیٰ سند پیغمبر یعنی صالح علیہ السلام خبر دار روز یواس خدایہ سزہ ووننہ  
ہندہ حقہ، بیہ تمسندہ تریشہ ہندہ حقہ یوتھنہ سو وونن ماریون یا کیوتس تریش چنس اندر کونہ قسمہ  
مزاحمت۔ اس ووننہ فرمو اللہ تعالیٰ ان ناقۃ اللہ یعنی خدایہ سز وونن۔ کیا زہ یہ آس اکھ ہنڈ دلیلاہ تہ  
معجزہ صالح علیہ السلام سندہ نبوت و پیغمبری ہنز تس تعظیم کرن اوس لازم تہ واجب۔ یمو کرتھ  
ساری ادلہ بدل فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا پس کرتمو تس پیغمبر انکار سوزو نکھ اپز زیور۔ بیہ ڈیکھ اس  
ووننہ مکہ نیر اتھ پاٹھ مآرکھ سہ فَدَنَّمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَدْنَابِهِمْ فَسَوَّاهَا پس تراوتن ہنڈ بلای تہند  
پروردگار تہندہ نافرمانی تہ گناہ سببہ سوی بلای و اتناوتک سارنی برابر یعنی ساری گلن اند ہیتھ وَلَا  
يَخَافُ عُقْبَهَا اللہ تعالیٰ چھونہ کھوژان امہ کس تنجس۔ ہتھ پاٹھ دنیاہک پادشاہ اندیشہ چھ کران  
کونہ وقتہ جُر من سز ادنس اندر کہ خبر چھا امیوک نتیجہ مانیرہ خراب۔ ملکس اندر ماسپدہ کانہ شورش یا  
ملکی معاملاتن اندر مایہ کاٹھ خلل۔ اللہ تعالیٰ اس چھنہ اثرھن کھن ہیوندکانہ پروا۔



## سُورَةُ الْيَلِيقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 وَالْيَلِيقِ إِذَا يَغْشَى ① وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ② وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ  
 وَالْأُنثَى ③ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ④ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ⑤  
 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ⑥ فَسَنِيسِرُهَا لِلْيُسْرَى ⑦ وَأَمَّا مَنْ  
 بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ⑧ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ⑨ فَسَنِيسِرُهَا  
 لِلْعُسْرَى ⑩ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ⑪ إِنَّ عَلَيْنَا

وَالْيَلِيقِ إِذَا يَغْشَى قسم چھو رائےک یلہ سو لوان چھہ عالمس کجہ سیت وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى بیہ چھو قسم  
 دو ہک یلہ سو روشن چھو سپدان وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى بیہ چھو قسم تس ذاتہ سند یم نرتہ مادہ پیدہ  
 کر یمن قسمن ہیوند جواب چھو امہ پتہ یعنی یم قسم کجہ پیٹھ آئے ہاونہ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى تھہ پیٹھ کہ بے  
 شک تو ہنزہ کوششہ یعنی عملہ چھ مختلف کانہ ہنز عمل چھہ رثہ تہ جان کانہ ہنز عمل چھہ پیٹھ تہ خراب  
 آنتھہ پاٹھ چھہ امیک ثمرات و نتائج تہ مختلف رثہ عملہ چھو رت جزا پیٹھ عملہ چھو پیٹھ سزا کج مثال گیہ  
 کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى پس یم خدایہ سنزہ و تہ اندر دیوت مال پنوں۔ تو پتہ کھو ژ خبر چھا قبول  
 کر مہ کنہ رد کر یم وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى بیہ زوئن پوزروت کلمہ یعنی کلمہ توحید، اختیار کرن دین اسلام  
 فَسَنِيسِرُهَا لِلْيُسْرَى پس کرو اس تہمدہ راحتہ چیزہ خیطرہ سامان میا۔ راحت کہ چیزہ اندرہ چھہ مراد  
 رثہ عمل رثہ عملہ ہندہ واسطہ کرو س عطا جنت وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وین یم واجب حقوق ادا  
 کرنہ نشہ بخل کر بیہ خدایس کھو ژ نہ بدل لوگن بے پروا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى بیہ گزرن اپزرت کلمہ یعنی  
 اسلام کرن نہ قبول فَسَنِيسِرُهَا لِلْعُسْرَى تلہ کرو اس تہمدہ سختی تہ تھلیفہ خیطرہ سامان میا تھلیفہ کہ چیزہ  
 سیت چھہ مراد پیٹھ عمل پیٹھ عملہ ہندہ واسطہ کرو س داخل نار جنم وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى کانہ

لِلْهُدَىٰ ۙ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۗ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا  
تَلَظَّىٰ ۚ لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۙ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ  
وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقَى ۙ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۚ  
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا إِلَّاتِبْغَاءَ وَجْهِ

فائدہ دینے تس مال و دولت پہنچانے کیلئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہ ڈولہ گزشتہ سوئار جہنم اندر اِن عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ واقعی سانہ منہ اوس تفضل و احسانہ موجب و تھ ہاؤن سے و تھ ہاؤسہ وارہ پاٹھ پس کر کانسہ اختیار ایمان و طاعت و تھ کانسہ کر اختیار کفر و نافرمانی ہنز و تھ یمہ کج گمانہ شخص و تھ اختیار کرہ تمی قسمک پھل تولہ سو۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ کیاہہ سانس ایتھس نہ اختیار س منز چھو آخرت نہ دنیا نہ دنیا س منز کراسہ احکام مقرر یمو لو کو تموا احکامو موجب عمل کر تمن یمہ رتہ مزدور نہ آخرت س اندر یمو تمن احکام س ہنز مخالفت کر تمن یمہ آخرت س اندر پور سزاونہ یمو ک بیان کرنہ آو فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى پس کر موہمہ یم تمہ نازک بس شعلہ ماران نہ رہ تراوان چھو لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى تھہ نارس منز واتنہ ہمیشگی بند روزنہ خاطر مگر سوی شخص بس یشقی نہ بد بخت آسہ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى یم اپر ہنز دین حق نہ پیغمبر بر حق یمہ کرن۔ روگردانی۔ وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقَى قریب چھو کہ یمہ یمہ تمہ نارہ نشہ لوب تھاونہ نہ پتھ رتہ سو شخص بس سٹھاہ متقی نہ پر ہیز گار آسہ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى بس مال پنون خرچ کران چھہ محض یمہ غرضہ خیرہ کہ سو گوژہ گنہوہ نشہ پاک سپن یعنی محض خدایہ سز رضا مندی حاصل کرنہ خیرہ اگرچہ یمین آیات کر یمین ہند الفاظ چھہ عام مگر سبب نزول چھو یمین آیات کر یمین ہیوند قصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یمہ تموبلال حبشی وغیرہ صحابہ صیب کافرن نشہ مول ہمت محض خدایہ سندہ رضا خیرہ آزاد کور۔ چنانچہ تفسیر ذر منشور س اندر چھو یو ہے شان نزول ذکر کرنہ آمت وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى چھونہ کانسہ آسند تس نشہ کانہ حقانہ نہ احسانہ تمہ کوی بدلہ نہ

## رَبِّهِ الْأَعْلَى ۲۰ وَكَسَوْفَ يَرْضَى ۲۱

عوض کیا آسمانوں دنہ یوان اِلَّا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى مگر چھو سو مال بیون خرچ کران محض پنہ  
نس بدس تہ تھدس پروردگارہ سندر ضاژھانڈہ نہ خیرہ وَكَسَوْفَ يَرْضَى سو شخص سپدہ بروئٹھ ضرور  
مقصدس تہ مطلبس واتنہ سیت خوش تہ راضی۔





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 وَالصُّحُی ۱ وَالْاَیْلِ اِذَا سَجِی ۲ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلِی ۳  
 وَالْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الْاَوَّلِی ۴ وَكَسُوْفَ یُعْطِیْكَ رَبُّكَ

وَالصُّحُی \* وَالْاَیْلِ اِذَا سَجِی یمسوره شریفیک سبب نزول چھوہ اکہ پھرہ کونہ بیماری یا تکلیفہ سبہ بہ ہیگ۔  
 نہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کہ وقت نماز تجد خیطرہ و تھت بہ سپہ اتفاق کہ جبریل  
 امینہ سندس وحی ہست نیس اندر تہ سپہ کنون دوہن درگی مُشْرک لگ و نہ نہ کہ حضرت محمد ﷺ ترو و پھنن  
 پروردگارن۔ تمن سیت لوک لگ دشمنی کرنہ بعضہ لگ و نہ نہ کہ یہ صاحب ترو و پھنن شیطانن (نعوذ  
 باللہ) تمنے کھن ہندہ تردیدہ خیطرہ سپہ نازل یم آیات کریمہ اللہ تعالیٰ چھونا فرماون کہ وَالصُّحُی وَالْاَیْلِ  
 اِذَا سَجِی کہ قسم چھومہ چاشمہ و ٹنگ اُس روشن چھو آسان آفتاب کہ کھنہ سیت بہ چھو قسم راث  
 ہوند یہ ساتہ تچ نہ گنہ چھو پور سپہ ان مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلِی تونہ حض تراویونہ پھنن پروردگارن،  
 بہ کرن نہ تونہ سیت کونہ قسمہ دشمنی یار رسول اللہ۔ کیازہ گوڑہ آہ نہ تونہ نشہ کانہ کتھ تیرہ۔ توپتہ چھو  
 عادۃ اللہ اندرہ حضرت انبیاءن نسبت یوتھ معاملہ سپدن محال۔ لہذا مہ گڑھو تونہ کافر ن تہ مُشْرک ن  
 ہندہ وورنہ سیت آزرده۔ تونہ پیٹھ روزہ و حج نعت ہمیشہ جاری۔ یہ نزول وحی چھو شرف و کرامت تھوند  
 خیطرہ دنیاءن اندر وَالْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لَّكَ مِنَ الْاَوَّلِی البتہ آخرت چھو بہتر تونہ ہندہ خیطرہ دنیاءن خوتہ  
 کیازہ آخرتس اندر کرہ اللہ تعالیٰ تونہ عطا زیادہ نعموہ وَكَسُوْفَ یُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرَضٰی بہ کرہ عطا تونہ  
 پنون پروردگارتی یمہ سیت تونہ راضی گڑھو حدیث شریفن منز چھہ فرمومت نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلم کہ محمد ﷺ سپدنہ توتان راضی یوتان تھند یو ایو اندرہ اکھ شخص تہ روزہ جھنمنس اندر صلی اللہ علیہ وسلم  
 اَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیْمًا قَالِی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ ان لبوہ نا تونہ یتیم۔ توپتہ دژ تونہ  
 جاتی بہ کر تونہ پرورش گوڈ بڈ بابہ نہ ذریعہ یعنی عبدالمطلبہ توپتہ پترہ سندہ ذریعہ یعنی ابوطالب سندہ  
 تولد سپدنہ بروٹھے اوس گومت یمہ عالمہ تھوند بابہ سیب و نہ آس تم والدہ صاحبنس شکم مبار کہ سی

فَتَرَضَىٰ ۙ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا  
فَهَدَىٰ ۚ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۗ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۙ  
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۙ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

اندر۔ تو پتہ آس تم شوروی یلہ والدہ ماجدہ یمہ عالمہ گیکھ تو پتہ رود عبدالمطلب نشہ یونتان تم آٹھ  
وہرات۔ تمہ پتہ رود تم ابوطالب نشہ سواتیں کالس زندہ اوس تہ تیتس کالس تم مگر تہنز پرورش تہ  
بگہبانی نہایت جانفشانی سیت تو پتہ کر تہندہ مر نہ پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف س کن  
ہجرت تہ بخوش اللہ تعالیٰ ان تہندہ خدمت و حفاظتک شرف قبیلہ اوس و خزرجس یعنی مدینہ شریفہ  
کین انصارن تمو مگر تہ پاتھ تہنز خدمت و جانفشانی تیج نظیر دنیاء س اندر مفقود چہ۔ یمہ ساری  
صورثہ چہ لفظ قلاوی اس تل داخل سپدان وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ بیہ لبوہ توہ اللہ تعالیٰ ان  
شریعتہ کہ علمہ نشہ بے خبر تو پتہ ہاونوہ تہ گن و تہ۔ بیہ بوونوہ سوروی علم شریعت وَوَجَدَكَ عَائِلًا  
فَأَغْنَىٰ بیہ لبوہ توہ اللہ تعالیٰ ان فقیر، پس کرنوہ توہیہ بے نیاز یمہ طریقہ کہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ  
سندہ طرفہ گوہہ توہ مال تجارت ہیبت تہ اندر سپد توہیہ نفع حاصل بیہ گور خدیجہ کبریٰ ان توہ سیت  
نکاح۔ تمو گور پنون سوروی مال توہندس خدمتس اندر پیش یہ گو غنای ظاہری غنای قلبی تہ غنای باطنی  
گور توہ تیوت عطا سمیو کہ نہ اندازے بگہ کانہ شخص کرت۔ غرض یم پروردگارن توہیہ سیت ابتداء  
پیٹھ امہ قسمک معاملہ گور سو بھیا توہ پیٹھ ناراض گڑھت تہ توہیہ تراوت۔ مگر پروردگارہ سندین یم  
الطائفن تہ مہربانین ہیوند شکرانہ گو کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وین یس یتیم آسہ تس مہز آسیو حشم نہ  
گرنز کران۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وین یوس فقیر محتاج تہ منگون آسہ سومہ آسیون زورہ زبردستی  
سیت نبر کڈت خالی تراوان وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وین یمہ نعمہ توند پروردگارن توہیہ عطا کرہ  
تمن ہیوند کریو توہ بیان تہندن ارشاداتن تہ کلام شریفس یت حدیث ناو آمت چھو تھاونہ سو چھو غالباً  
امی لفظ حدیث اندرہ کڈنہ آمت واللہ اعلم۔



## سُورَةُ الشَّرْحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ① وَوَضَعْنَا عَنَّاكَ وَشَرَّكَ ②  
 الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ③ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ④ فَإِنَّ مَعَ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کیا اسے کرنا تھو نہ خیرہ تھو نہ سینہ مبارک کھول نہ بخادہ علم سیت یعنی علم نہ کراسہ توہیہ سٹھاہ زیادہ عطا۔ بیہ نیس تکلیفہاہ توہیہ تبلیغ حق کرنس پیٹھ دشمن ہندہ طرفہ دوت سو برداشت کرنہ خیرہ کراسہ توہیہ علم نہ تحمل عطا۔ یاہ جو اشارہ امہ اندرہ تھہ شق صدر شریض کن لیس متعدد بار طور کرنہ آو۔ اکھ یلہ تم دودہ ماجہ نش یعنی حضرت علیہ سعہ لیس نش آس۔ بیہ یلہ بالغ سپد۔ بیہ یلہ خلعت نبوت ولنہ آکھ یعنی یلہ تجرہ ہر آس بیہ یلہ بعالم بالا کھارنہ آے در شب معراج وَوَضَعْنَا عَنَّاكَ وَشَرَّكَ بیہ نکل اسہ توہیہ نشہ تھو نہ سو بور الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ یم بار گبر و وومت اوس پٹت مبارکس تھو نہ تھو نہ دُور اوس معنوی اکھ دُورہ یا اوس سوزول وحیگ بُر نیس ابتداء س اندر سٹھاہ مُشکل اوس پتہ سپد سہل نہ آسان یا اوس منصب رسالت چن ذمہ دارین ہوند بُوریمہ کہ محسوس سپدنہ سیت خاطر عاطر تھو نہ مکہ رسپدن اوس سوی گُور اللہ تعالیٰ ان دور۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی چھ فرماوان کہ امہ اندرہ چھو مراد کہ تھو نہ ہمت عالی نہ پیدائشی استعداد یمن کمالاتن نہ مقاماتن واثن منگان اوس دلہارگس اوس جسمانی تزکیہ نہ نفسانی تشویشاتن کن نظر کرت تمن کمالاتن پٹھ فائز سپدن دشوار بوزنہ یوان۔ مگر اللہ تعالیٰ ان یلہ شرح صدرہ سیت مزید استعداد عطا کر کہ اتی سپدک تم ساری کمالات حاصل تمیوک نیس بارہ دل مبارکس پٹھ اوس سو تھہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بیہ کورنا اسہ بلندتہ تھو نہ تھو نہ خیرہ تھو نہ ذکر۔ حدیث قدسیس اندر چھو اچ وضاحت کہ اللہ تعالیٰ ان فرموک کہ اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتُ مَعِيَ (تفسیر ابن جریر و ابن کثیر و ابن ابی حاتم) یلہ میون ذکر کرنہ آسہ یوان تلہ بیہ کرنہ تھو نہ تذکرہ نہ۔ چنانچہ بانگہ منز تکبیرس منز نمازہ منز تھہ دُورس منز

# العُسْرِيُّرَا ۱۵ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِيِّرَا ۱۶ فَاِذَا فَرَعْتَ فَاَنْصَبْ ۱۷ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۱۸

خطبس منز۔ چھویوان کرنہ تھوند ذکرون یلہ اسہ توبیہ روحانی تکلیف دُورگر تھوند گروہ روزن امیدوار دنیوی تکلیف تہ کروائس توبیہ نشہ تہ تھوندین پیرون بایمان نشہ دُور۔ تمیوک چھہ اس توبیہ سیت وعدہ کران فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِيِّرَا ۱۶ پس تھمت موجودہ سختی سیت چھہ آسانی اودین توبیہ پیٹھ سختی تہ مُشکلات بکثرت آسئس کن نظر کرت چھس یواتھ وعدس تکرار کران بیہ فرماوان اِنَّ مَعَ الْعُسْرِيِّرَا کہ بے شک موجودہ سارنی مُشکلاتن سختین سیت چھہ آسانی یئہ واجن۔ چنانچہ تمہ سارے سختی سپزہ اکہ اکہ دور حدیث شریفین تہ تارمہ چن کتابن اندر چھہ تھہ متعلق روایات موجودین یلہ اسہ توبیہ امہ امہ قسمیچہ نعمہ عطا کرہ تھوند گروہ تمن نقمن پیٹھ شکر دہن تھہ پاٹھ کہ فَاِذَا فَرَعْتَ فَاَنْصَبْ توبہ یلہ احکام خداوندی واتہ ونہ نش (یلہ کوم عبادت چھہ سمیوک نفع متعدی چھہ) فارغ سپدان آسب۔ تمہ پتہ گروہ تھوند تھہ عبادتس سیت مشغول سپدن سمیوک نفع تہ فائدہ خاص تھندس ذات مبارکس چھویلیعی عبادت تہ یاد خدا کران کران محنت و مشقت برداشت کرن وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ بیہ یہ کیوہاہ توبہ مکن تہ ژھانڈن آسہ تہ حاصل کرنہ خیطرہ گروہ تھوند پنہ نس پروردگارس کن توجہ تہ رغبت کرن تس گروہن پنہن ساری حاجت مکن



## سُورَةُ التِّينِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝<sup>۱</sup> وَطُورِ سِينِينَ ۝<sup>۲</sup> وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝<sup>۳</sup>  
 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝<sup>۴</sup> ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ  
 سَفِيلِينَ ۝<sup>۵</sup> إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝<sup>۶</sup>  
 فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِالذِّبْنِ ۝<sup>۷</sup> أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ۝<sup>۸</sup>

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ قسم چھو انجیر ک یا انجیر کلک بیہ چھو قسم زیتون نک یا زیتون کلک ایم دو شوے چھو  
 با برکت میوہ تہ کل تہ یا چھو مراد تمہہ جایہ ہیوند تہ تمہہ شرک قسم بیہ انجیر کل تہ زیتون کل بکثرت  
 پیدہ سپدان چھو اکھ جای گئیہ تھہ کن ابرہیم علیہ السلام بنجرت کر مژ چھہ۔ بیاکھ جای گئیہ بیہ عیسیٰ  
 روح اللہ تولد سپد مت چھہ وَطُورِ سِينِينَ بیہ چھو کوہ طور ک قسم تھہ پیٹھ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ  
 سیت ہم کلام سپد وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ بیہ چھو قسم یہ امنہ شرک تھہ شہرس منز کعبتہ اللہ واقع چھو  
 بیہ لیس شہر حضرت سید المرسلین سندہ ولادت با سعادت تک شہر چھو ییے زور قسم ہاوتھ چھو فرماوان اللہ  
 تعالیٰ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بے شک پیدہ کر اسہ انسان رتس اندازس اندر بہترین  
 شکل و صورت کرس عطا تھہ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفِيلِينَ تو پتہ وول اسہ سہ یونہ درجہ کیولو کو اندرہ تہ زیاد  
 ہون۔ نافرمانی تہ کفر و شرک سہہ بہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر یمولو کو ایمان اون بیہ کر لیکھ رتہ  
 عملہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ تہمدہ خاطرہ چھو سو ثواب لیس نہ زانہ تہ خصم گزہہ یا وبرہ یلہ اللہ تعالیٰ پیدہ کرس  
 پیٹھ بیہ احوال بدلانس پیٹھ پور قدر تہ وول چھو۔ اے انسانہ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدَ بِالذِّبْنِ ادہ کوہ چیز  
 چھوی تہ تکذیب تہ انکار کرناوان جزا کس دوہس أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ کیا اللہ تعالیٰ چھنا حاکم  
 ہوند بوڈ حاکم لیس تصرف چھو دنیا کین سارنی امورن پیٹھ تہ آخر تہ کین سارنی امورن پیٹھ تہ۔

## سُورَةُ الْعَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ① خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ②  
 اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ③ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ④ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ یہ سورہ شریفک یم ابتدائی پانژھ آیہ کریمہ چھ ساری قرآن مجیدہ بروئٹھ نازل سپد مت سمیوک قصہ چھو صحیفن منز ذکر کرنہ آنت کہ نبوت عطا سپد نہ بروئٹھ آس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود خلوت نشینی پسند کران۔ چنانچہ مکہ شریفن منز اوس غار حراء تھ منز آس تشریف تھاوان۔ تہ معبود برحقہ سز عبادت کران۔ رات کہ وقت تہ آس اتھ غارس اندر روزان اکہ شبہ آس غارہ شریفہ منزہ نبرگن درامت آتی وچھک آسمان وز میسن منز معلق اکہ تختاھ تھ پیٹھ وچھک اکہ شخصہا سٹھاہ بوڈیہوی و تھ امہ تختہ پیٹھ توپتہ آو یمن بروئٹھ گن امی دلپوک اِقْرَأْ پر یو فر موس مانا بقاری بوچھسنہ پرہون توپتہ رٹن پانس سیت چیر و تھ تراون یلہ۔ بیہ دُپنک اِقْرَأْ پر یو فر موس بیہ یسوی جواب کہ بوچھسنہ پرہون توپتہ رٹن بیہ پانس سیت بیہ دیوتنک چیر دویمہ لہ خوتہ زیادہ تیوت چیر کہ قریب اوس تم سپد ہنس بے ہوش توپتہ تراون یلہ۔ دُپنک اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ پر یو پنے نس پروردگارہ سندا نہوت تم پروردگارن ساری مخلوق پیدہ کر خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ یم انسان پید کورموش خونس یعنی خونہ دتھ امہ آمدہ چھ مراد انسانس تنبیہ کرن کہ ای انسانہ زہ پٹھ چھ خدایہ سز نعمت سٹھاہ ہنڈ کہ بے جان چیزہ نشہ پیدہ کرت تھ در جس و اتنا وکھ شکل و صورت تہ عقل و علم کرنے عطا۔ ژہ بزن زیادہ شکرو ثنا دپن ذکر و فکرہ اندر مشغول روزن اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ توہیہ آسیویار سول اللہ قرآن مجید پران تھوند پروردگارہ چھو سیٹھاہ کریم۔ سوہیہ یژھان چھو تہ چھو عطا کران۔ سوچھو پر نہ ورا ی پرہ ناوان۔ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ یم پروردگارن لکھمت پرمت لوک پھناو بذریعہ قلم عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ تہ انسان پھوون تے چیزہ سمنہ تس معلومے آس مطلب چھو ای زہ تعلیم تہ پھناون چھ نہ موقوف لکھتھ تہ پر نی پیٹھ بی بی اسباب و ذرائع تہ چھ یموسیت علوم

لَمْ يَعْلَمْ ۞ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفِيٍّ ۖ أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْنَى ۚ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعِي ۚ ۞ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۙ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۚ ۞

حاصل سہدت ہکن۔ دویم تھہ چھہ بیہ کہ اسباب و ذرائع چھہ بذات خود کنہ اثر کرت ہکان بلکہ چھو موثر حقیقی اللہ تعالیٰ۔ لہذا ہر گہ توہیہ یار رسول اللہ پر ہون چھوہ نہ۔ تمبوک مہ بر یو کانہ پروا۔ ایس یلہ توہیہ حکم کرووہ پر نک توہیہ؛ بھو اسباب و ذرائع و اور ای سانہ حکمہ ہرت یہ ایس پر ہ ناؤن یشوہوہ۔ اس ہوہوہ توہیہ پر ہ ناوت۔ یتھہ پاٹ آسہ خوش کرہ۔ اس ہوہوہ توہیہ سو طاق تہ سہ قدر ت عطا کرت یہہ سیت توہیہ ہرت؛ بھو۔ علوم وحی یاد؛ بھو تماوت چنانچہ تی سہ۔ تفسیر عزیز یس اندر چھو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تموا گرچہ اوس نہ لکھن پرن بھتھت مگر اللہ تعالیٰ ان فر موو کہ قلمہ کہ ذریعہ تہ چھس بوی بھتاوان قلمہ و رای تہ بھہ بوی بھتاوات ممکن چھو یتھہ تھہ کن تہ آسہ اشارہ کہ یتھہ پاٹھہ فیض دوہ نس تہ فیض رٹہ و نس منز قلم چھو واسطہ تہ ذریعہ سپدان۔ یتھہ پاٹھہ آسہ باری تعالیٰ اس منز تہ پیغمبرن بر حقس منز جبریل امین محض اکھ واسطہ تہ ذریعہ۔ بیہ اتھہ پاٹھہ قلمگ ذریعہ فیض سپدان چھونہ یتھہ تھہ لازم کہ قلم کیا چھو تس فیض رٹہ و ن سندہ خوتہ افضل تہ بہتر۔ یتھہ پاٹھہ چھہ نہ تھہ تہ لازم کہ حقیقت جبریلہ کیا آسہ ہا فضل حقیقت محمدیہ خوتہ۔ لہذا چھو جبریل امین تھہ ہ حقہ بمنزلہ قلم کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفِيٍّ ۖ \* أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْنَى ۚ بہ تحقیق یہ انسان بس اسی خونہ دتہ پیدہ کور بس حقیر و ذلیل چیزاہ اوس۔ بس جاہل مطلق اوس اسی بھتاؤ۔ اس روزنہ پنن اصلی حقیقت یادئ یہ لگ دنیاہ کہ مال دولتہ سیت مغر و سہدت سر کشی کرنہ۔ خیال چھس مہ چھونہ کانہ ہوند پروا اِنَّ اِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعِي ۚ بے شک چینسی پروردگار س کن چھو سارنی واپس واٹن۔ یتھہ تہ آسہ یہ انسان تھزی قدر تہ کس احاطس منز ولنہ تہ بند کرنہ آمت یہہ منزہ ژلت ہکنہ کن تہ۔ یو تھہ عاجزتہ بے بس انسان تھہ پاٹھہ بھہ اتھس قادر و قاہر خدا بس نشہ مستغنی تہ بے پروا آستھہ۔ وین تمسد پنون پان مستغنی زانن یہ گیہ محض سفاہیت تہ حماقت یعنی بالکل ژور تہ احق لاؤن۔ امہ پتہ چھو امس انسانہ سنزن بعضے بیچہ کامین ہوند بطریقہ استفہام ذکر یوان کرنہ اکہ دوہہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرامس منز نماز پر ان ابو جہل آوتم دوپ تمن آسے توہیہ واریاہ پھرہ یہہ کرنہ نشہ منع کور تھہند کیا یا بھونہ پتھہ روزان۔ تمو کرس اتھ

أَرَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۙ أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ ۙ أَرَيْتَ إِنْ  
 كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۙ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۙ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ  
 لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۙ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۙ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۙ

پیٹھ سخت خشم سے گرز سولگ دپنہ شہر مکس منز چھہ ساروی اندرہ بین جماعت واریاہ ہنڈ۔ ہر گہ آئندہ  
 بو چھاوہ توہ بیہ نماز ہران بو تھاوہ توہنزہ گردن پیٹھ کھور توپتہ واناوودہ سٹھاہ تکلیف۔ چنانچہ اکہ پھرہ  
 آس تم نماز ہران توپتہ آوسو تکلیف واناوونہ کہ قصدہ مگر نزدیک وانا تھ پھیرواپس لو کو پڑھہ ہس ژہ کیا  
 گوی دوپن یتھوی بو تمن نزدیک وائس تھوی وچھہ مہ اکھ خندقہ تھہ منز وچھہ مہ پکھ کرت جانوریم  
 وچھت بو کھوژس فر مونی کریمن صلی اللہ علیہ وسلم تم آس ملائک ہر گہ سو برو تھہ پکھ ہاتمس ژنہن  
 تم باز آریتَ الَّذِي يَنْهَىٰ \* عَبْدَهُ إِذَا صَلَّىٰ ای مخاطب ژی کرتہ بیان تس شخصہ سند حال ئس سانس آس  
 خاص بندس منع چھو کران تہ پتھ چھورٹان یلہ سو نماز چھوپران۔ یعنی معبود برحقہ سنز عبادت کرہ وئس  
 عبادتہ نشہ نماز پر نہ نشہ پتھ رٹن۔ یا تس گانگل کرن کوتاہ گناہ تہ کثیراہ پچھہ کوم چھہ آریتَ إِنْ كَانَ عَلَى  
 الْهُدَىٰ ژہ وئنتہ مہ یہ کوتاہ گناہ چھو خصوصاً یلہ سو بندہ خاص عین ہدایتس تہ راہ راستس پیٹھ آسہ

أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ يَا آسہ سو بین لوکن تہ خدائس کھوژنچ تعلیم دوان تمن تہ معبود برحقہ سندہ عبادتک  
 امر کران آریتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ژہ وئنتہ مہ ہر گہ سو پھر رٹہ ون شخص پانہ دین حقس آسہ اپز  
 گنزران۔ بیہ آسہ دین حقہ نشہ بو تھ پھران أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ کیا تس پتھ رٹہ وئس تہ نمازہ نشہ  
 منع کرہ وئس چھنا خبر کہ اللہ تعالیٰ چھو بے شک تسزہ بیمہ پچھہ کامہ وچھان سو دیہ ضرور اس بین پچھہ  
 کائین ہوند سزا کلاگامس پڑہانہ ہرگز بیمہ پچھہ کامہ کرنہ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ہر گہ نے سو  
 آئندہ یو پچھہ کامیو نشہ پتھ روزہ۔ ایس پکانا وون ژھاگہ رٹھہ یعنی کلہ کہ مسرہ رٹھہ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ  
 ایس مست اپز تہ خطا کار چھو۔ کیا زہ تمسدہ بدکین موین موین چھوگنہن ہیوند اثر وئمت فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ \*  
 سَنَدُّ الزَّبَانِيَةِ ہر گہ تمس پتہ نین لوکن تہ پنچہ ژائش ہندہ مددک خیال چھو دین سو تمن آلو  
 آسندہ مو آلو جھنمہ کین عذابہ کین ملائک۔ امام طبرائین کر روایت از قوادہ تمو فر مودی کریمن صلی

## سَدُّعُ الزَّيْبَانِيَةِ ۱۸ كَلَّا لَا تَطِعُهُ ۱۹ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۱۹ السَّجْدَةُ

اللہ علیہ وسلم ہر گہ امہ وقتہ ابو جہل کہہ کرہ ہاضرور رٹھن تس جہنمک ملک نین پاٹھ کلا تس پزہ نہ ہرگز یہ کرن لَا تُطِعُهُ مگر توہیہ مہ حض بوز یوامس خبیثہ سُد یعنی توہیہ مہ تراویو نماز پر ن امندہ ونہ نہ موجب وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ بلکہ روز یو توہ بدستور نماز پر ان بیہ خدایہ سند قرب تہ نزدیکی حاصل کران۔ اللہ تعالیٰ رچھہ توہہ تہندہ شرہ نشہ کیازہ نمازہ سیت سپدہ توہیہ قرب خدا حاصل۔ قرب خدا چھو حفاظتک بوڈر یعیہ لہذا مہ کریو توہیہ یکن دشمن ہنزن کھن کُن کا نہ التفات۔



## سُورَةُ الْقَدْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ○ لَيْلَةُ  
 الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ○ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا  
 بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ○ سَلَّمَ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ○

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک اسے کرنازل یہ قرآن مجید تمہیں ذکر سورہ علقس اندر چھ شب قدر  
 اندر ○ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ توہم یہ کونہ چیز زانراوہ کہ شب قدر کیاہ شب چھو۔ بوی فرماوودہ تمیوک  
 حال تہ شان لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ شب قدر چھو بہتر ساسہ ریہ تہ خوتہ، یعنی ساس  
 ریتس عبادت کرنس یوت ثواب چھو، تمو خوتہ زیادہ ثواب چھ اتھ شمس اندر عبادت کرنس،  
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کر اکہ دوہ بیان کہ بنی اسرائیل آس ساس ریتس عبادت کران۔  
 کیاہہ تمن آسہ زبچہ عمرہ۔ یہ بوزت سپد صحابہ صمیم سخت افسوس تہ ذپنہ لگ آسہ تہ آسہ عمر آسہا  
 آسہ آسہو ایز عبادت کران۔ اتی سُد یہ سورہ شریفہ نازل ہتھ اندر اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ آی مینس  
 حبیبہ سند یو اتیو توہمہ کر مہ عطاشب قدر لیس ساسہ رتہ خوتہ بہتر چھ تہ شمس منز لیس عبادت کرہ زن  
 تم ساس ریتہ خوتہ زیادہ کالس عبادت کر تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا سُو چھو تھوی شب کہ  
 نازل چھ سپدان تہ شمس منز ملائک بے روح القدس یعنی جبریل امین زمینس بیٹھ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ  
 كُلِّ أَمْرٍ \* سَلَّمَ ہنس پروردگارہ سندہ حکمہ پرت سچ خیر و برکت تہ سلامتی ہمت سوی خیر تہ برکت  
 ہچنہ آسان تہ شبہ کونہ معین حصص اندر ○ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ بلکہ چھو آسان سو خیر و برکت  
 سار سئی شمس طلوع فجرس تان۔ چنانچہ حدیث شریفس اندر چھو آمت کہ جبریل امین چھ ملائک ہنز  
 اکہ ہڈ جماعت سیت تہلت، دنیاوس اندر ژو پیر پھیر ان لیس شخصس و چھان چھو مشغول نمازہ سیت تہ  
 یاد خداوس سیت تس چھو دعاء رحمت سوزان، بیس روایتس اندر چھو تس چھ جبریل امین سلام کران  
 امیوک معنی تہ گودعاء رحمت تی چھو مراد سلام اندرہ، امر خیرہ اندرہ تہ چھو امی مراد۔



## سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 لَمْ یَكُنِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِیْنَ مُنْفِلِیْنَ  
 حَتّٰی تَاْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ ۝ رَسُوْلٌ مِّنْ اللّٰهِ یَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝  
 فِیْهَا كُتِبَ قِیْمَةٌ ۝ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ الْاٰمِنُ

لَمْ یَكُنِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِیْنَ مُنْفِلِیْنَ حَتّٰی تَاْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ ۝ ایم لوک اہل کتابو تہ مشرکواندره نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندنہ سوزنہ ینہ بروئھہ کافر آس۔ تم آسنہ پنے نہ کفرہ نشہ پتھ روزہ وئں یوتان تنمن نشہ وئہ تنی تہ واضح دلیل رَسُوْلٌ مِّنْ اللّٰهِ یَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً \* فِیْهَا كُتِبَ قِیْمَةٌ سہ واضح دلیل گیہ پیغمبرہ خدا یہ سندنہ طرفہ سوی آسہا پران تمن پیٹھ پاک و پاکیزہ سورہ تہ مضامین یمن منز بروئھم نازل کرنہ آئرن آسانی کتابن ہند درست مضامین لکھت تہ درج آسن کرنہ آمت یعنی تمن کافرن ہیوند کھر اوس توتھ سخت تہ شدید کہ توند سوجمل تہ کھر بیجہ ہینہ دور سپدت بدس عظیم الشان پیغمبرہ سندنہ سوزنہ ورائ۔ تمی موکھ سوز اللہ تعالی ان تمن پیٹھ اتمام حجت کرنہ خیطرہ سو عظیم الشان پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہیئت جلیل القدر اکھ کتاباہ ہت وئں اوس لازم کہ تم زانمن اتھ غیبت تمن کرہ ہن تلتقی بالقبول تہ تمن انمن ایمان مگر یمواندرہ یم اہل کتاب یعنی یهود و نصاری آس تمن گہیہ گتہ دن چھہ بین کافرن ہنز کھتے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ الْاٰمِنُ ۝ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَیِّنَةُ ۝ مختلف تہ الگ الگ سپدنہ اہل کتاب مگر تمن نشہ واضح دلیل واتنہ پتہ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ بروئھہ آس تم متحد تہ متفق تہندس حقس اندر بغض و عنادہ سبہ بہ کر کہ تمن انکار تہندہ تشریف اندہ پتہ اڈیو اون ایمان اڈیو گرانکار۔ پوتھ جلیل القدر پیغمبر تہ ایشہ عظیم الشان کتاب واتھہ گوژہ تہوند دین حقس یعنی اسلامس پیٹھ مجمع تہ متفق سپدن پئیں بروئھم اختلاف تراوت گوژہ ساری اختلافات تراون تمہ چہ جایہ سپدن تمن تہندہ تشریف آوری پتہ پانہ وان

بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۖ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ  
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ  
فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۖ  
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ

سخت اختلاف وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ حالانکہ تمہیں لوکن اوس  
برو نظمیں کتابیں اندر یہی حکم کرنے آمت کہ عبادت کریو اللہ تعالیٰ اس بیٹھ پاٹھ کہ عبادت زانیو  
خاص سے سزاوار تنس یا اثر باقی باطل دنیوی شرکہ کیودنیو نشہ یکسو تہ الگ سہدت وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
الزَّكَاةَ بیہ لوس تمہیں حکم کرنے آمت نماز برپا تھاونک بیہ مانج زکوٰۃ ادا کرنک وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ  
یہی چھو مضبوط تہ محکم ملت بیٹھ پیٹھ ساری حضرات انبیاء پکان آئے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ  
الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ بے شک یمولو کواہل کتابو اندرہ انکار کر پیغمبر برحقس بیہ مشرک  
تمواتن ساری ہنہنس اندر خَلِيدِينَ فِيهَا یہ تمہیں ہمیشہ روزن چھو اُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ یسے لوک  
کیاگئے ساری مخلوقواندرہ بدتر إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بے شک یمو  
لوکو ایمان اون خدا یس سے تہندس پیغمبرس بیہ یکن چیزن ایمان انن لازم چھو۔ بیہ کرکھ رزہ عملہ تہ  
لوک کیاگئے ساروی مخلوقواندر بہتر جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مَزْرُوتہ جزاتہو  
ند چھو تہندس پرددگارس نشہ تمہ جنت یمولو کن کولہ پکان آسن۔ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا تہے جنتن  
مزرورون تمہ ہمیشہ ابد الآباد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللہ تعالیٰ روزہ تمہ نشہ راضی۔ تم روزن

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ  
فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝٤

اللہ تعالیٰ اس نشہ خوش تہ راضی ذلک لمن خشی ربہ یہ جنت تہ یہ رضامندی ہیوند خلعت یہ تہ  
عطا کرنے یس پنے نس خدا یس کھوژان آسہ یعنی یہ تھود مقام یہ نہ عطا کرنے مگر تہ یس پنے نس  
پروردگارہ سنزہ بیزاری کھوژان آسہ۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ① وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ②  
 وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ③ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ④ بِأَنَّ  
 رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ⑤ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا بِلہ زمین پنے نہ ذاتی سخت حرکتہ سیت الراونہ بیہ۔ بیہ کہ صدمہ سیت  
 کانہ عمارتاتہ کانہ کوہاہ کانہ کلہ زمینس پیٹھ باقی روزہ نہ ساری بیہ نہ تھنر رسدن برابر نہ ہمواریو تھ  
 محشرک میدان لوکن ہندہ سمنہ خیطرہ صاف سپدہ۔ بیہ سپدہ بیلہ پوٹس منز دوئم پھو کہ دنہ بیہ  
 وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا بیلہ زمین ہن ساری گوب گوب چیز نمبر دیہ دارت۔ مثلاً انسان یاسون نہ  
 روپھ۔ وغیرہ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا بیہ حالت وچھت گوتھن کافر انسان حیران دینہ لکن بیٹھ  
 زمینس کیاہ سناگدریویہ یوت بونیول کیاہہ آو اتم اندریم چیز کیاہ سناہہ وتن نبرد ارت یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ  
 أَخْبَارَهَا تمہ دوہ ونہ زمین پنے نہ سارے رتھہ نہ بیٹھ خبرہ۔ تم سارے واقعات یم ہننی آدمس یعنی  
 انسان ہندہ اتھ زمینس پٹھ واقع سپد مت آسن مثلاً زمین دیہ بیان کہ فلاں شخصن پیرمہ پیٹھ نماز  
 فلاں شخصن کرمہ پیٹھ ثور۔ فلاں شخصن کرمہ پٹھ زنا۔ فلاں شخصن کرمہ پیٹھ خون ناحق وغیرہ وغیرہ  
 بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا کیاہہ تس زمینس آسہ تموند پروردگارن بھوی حکم کرمٹ۔ یعنی ازکہ زمانہ کہ  
 اصطلاحہ موجب بوزتہ تھہ بیٹھ پاٹھ کہ بیہ بیہ کامہ لوک اتھ زمینس پیٹھ کران چھ رتھہ یا بیٹھ تمن

سارنی کامین ہیوند رکارڈ چھونا بر نہ یوان زمینس اندرتے، رکارڈ چھ موجود نہ محفوظ تھاونہ یوان۔  
 قیامتک دوہ ین تے رکارڈ مٹراونہ۔ زمینس منز چھو اللہ تعالیٰ ان اکھ مادہ نہ اکھ مسالہ پیدہ کرمٹ نُس  
 مسالہ مصورین (فوٹوگرافر) شیش مٹھتھہ تصویر تھان چھو سو مسالہ چھو پورہ پورا اتھ زمینس منز

# اعمالهم ﴿۶﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿۷﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿۸﴾

موجود۔ لہذا تمہ زینس پیٹھ اُس شخصہاہ کانہ کاماہ چھو کران خدایہ سندرہ حممہ سیت چھ تھ صورت شکل  
تہ (فولو) زینس اندر خود بخود تھان۔ تہے رکارڈ تہے تصویرین بطور شہادت قیامتک دودہ پیش کرنہ۔  
چنانچہ حدیث شریف چھو صحیح ترمذی وغیرہ کتب حدیثن اندر کہ یم شخصن زینس پیٹھ کانہ رثیا پیٹھ  
عملہ کر مثر آسہ زمین دیہ تھ گواہی خدایس بروٹھ کنہ۔ **يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ**  
تمہ دودہ نیرن واپس مختلف جماژ حساب دتھ مختلف جائین گن نیکو کار با ایمان گزھن جنس گن کافر تہ  
مشرکین و اتاودہ نہ جھنم گن یوتھ ساری پنہ نین عملن ہیوند پھل تلن **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا**  
**يَرَهُ** \* **وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ** پس اُس شخصہاہ اکس ذرس برابر دنیا س اندر رز کو مہ کرہ  
تھ تہ لبہ سو آخرتس اندر۔ بیہ اُس شخصہاہ اکس ذرس برابر بدی کرہ دنیا س اندر تھ تہ لبہ سو آخرتس  
اندر۔ بشرطیکہ سو نیکی یا بدی آسہ تھ و قس تان باقی ورنہ ہر گہ نیکی تھندہ گھرہ سیت ختم آسہ گمبہ۔ یا  
آسہ ایمان و توبہ سیت سہ بدی یا شر زائل سپد مت تلہ چھ بدل تھ، تلہ آسنہ سو خیر خیر رود مت۔ سو شر  
شر رود مت۔



## سُورَةُ الْعَدَايَاتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 وَالْعَدِیٰتِ ضَبْحًا ۱۱ فَاَلْمُورِیَّتِیْ قَدْحًا ۲۱ فَاَلْمُبْغِیْرَتِیْ صُبْحًا ۳۱  
 فَاَثْرٰنَ بِهٖ نَفْعًا ۴۱ فَوْسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۵۱ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ  
 لَكَنُوْدٌ ۶۱ وَاِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِیْدٌ ۷۱ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیْدٌ ۸۱  
 اَفَلَا یَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُوْرِ ۹۱ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُوْرِ ۱۰۱  
 اِنَّ رَبَّهُمْ بِهَمِّ یَوْمِہٖمْ لَخَبِیْرٌ ۱۱

وَالْعَدِیٰتِ ضَبْحًا قسم چھو تمں گرن ہیوند یمن دور تلمنہ وزہ پھرک کھسان چھو فَاَلْمُورِیَّتِیْ قَدْحًا تو پتہ چھو قسم تمں گرن ہیوند یم کنین پیٹھ نعل دار پڈر تراونہ سیت رہہ تراوان چھہ فَاَلْمُبْغِیْرَتِیْ صُبْحًا تو پتہ چھو قسم تمں گرن ہیوند یم صکھ پگاہ چھہ دشمن پیٹھ واتھہ پڑوان، توپہ چھہ تمں لوٹ تہ غارت کران فَاَثْرٰنَ بِهٖ نَفْعًا بیہ یم گرمہ ساتہ گردو غبار چھہ تکلان فَوْسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا توپتہ چھہ تہی وقتہ دشمن ہندس جماعتس تہ لشکرہ منز اٹان۔ یمن قسمن ہیوند جواب چھو یعنی یم قسم آئی ہاونہ ہتھہ تھہ پیٹھ کہ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ پزپاٹھ یہ کافر انسان چھو پنہ نس خدایہ سزنا شکری کران وَاِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ لَشَهِیْدٌ بیہ چھو بے شک یہ انسان پانہ تھہ پیٹھ مطلع تہ گواہ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیْدٌ بیہ چھو بیشک یہ انسان مالہ کس مجتہس اندر سیٹھاہ مضبوط تہی چھہ ٹنہ تہ در پیٹھ یوان مالکس مجتہس اندر چھو تو تھہ بڈمت غرق گو مت کہ منعم حقیقی سزہ نعرہ جھنہ بوزنہ یوان اَفَلَا یَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِی الْقُبُوْرِ کیا سنا امس اناس چھنا سو وقت ژتسی یمہ وقتہ قبر و منزہ پر پیٹھ کڈنہ بیہ تہ سو روی یہ تھہ منز آسہ مردہ وغیرہ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُوْرِ بیہ آیہ نسر اونہ تہ سو روی بہ سین تہ دلن منز آسہ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهَمِّ یَوْمِہٖمْ لَخَبِیْرٌ پزپاٹ تھونہ پروردگار آسہ تمہ دودھ تھندن ساری حالاتن پیٹھہ باخبر تہ پور واقف سو دیہ تمں سو بدلہ کس تمں شو بہ۔

## سُورَةُ الْقَارِعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 الْقَارِعَةُ ۱ مَا الْقَارِعَةُ ۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۳  
 يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۴ وَتَكُونُ الْجِبَالُ  
 كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۵ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۶ فَهُوَ  
 فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۷ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۸ فَأُمُّهُ  
 هَاوِيَةٌ ۹ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۱۰ نَارُ حَامِيَةٍ ۱۱ ع

القارعة \* ما القارعة قیامت یومہ ڈیٹ دین چھ دلن ہیبت سیت یوسہ زربا وہ دین چھ کن خطرناک کرکیو سیت۔ ژہ کیا ونے بوسو دوه کوتاہ مشکل چھو و ما ادراک ما القارعة کوه چیز زانواوی ژہ کہ کوتاہ خطرناک چھو سو قیامتک دوه یوم یکون الناس کالفرایش المبثوث یمہ دوه لوک آسن جھہر نہ آمت پونہر ہی۔ ہتھ پاٹھ پونہر چھ انہ گھہ منزناہ کس گاشش کن سمت یوان توپتہ تہہ نارس منزیان زالان ہتھ پاٹھ آسن کافر تہ نافرمان لوک جھنمس منزدنہ خیترہ ولس پوان و تکون الجبال کالعین المنفوش بیہ آسن کوه دونہ نہ آمت بھبپ ہی۔ یوتان نہ تم تہہ زمینس سیت دبہ بنن فامامن ثقلت موازینہ پس تسمندین نیکن ہوند پوترگوب لہج یعنی سو آسہ باایمان فہو فی عیشة راضیة سواتہ تسلی بخش آراس اندر و امامن خفت موازینہ دین تسمندین نیکن ہوند پوترگوب لہج یعنی سو آسہ کافر فامامہ ہاویہ تسمندہ روزہ نچ جای آسہ ہاویہ یعنی جھنمک بینوم طبقہ و ما ادراک ماہیہ ژہ کوه چیز زانواوی سو ہاویہ کیا چھو نارحامیہ سو چھو گرم کرنہ آمت نار۔ نار چھو گرمے مگر آسہ بیہ گرم کرنہ آمت۔ بیہ نار، زن نہ آسن تہہ نسبت گرمی۔

## سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝۱ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝۲ كَلَّا سَوْفَ  
 تَعْلَمُوْنَ ۝۳ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝۴ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ  
 الْیَقِیْنِ ۝۵ لَتُرَوْنَ الْجَحِیْمَ ۝۶ ثُمَّ لَتُرَوَّهَا عِیْنَ الْیَقِیْنِ ۝۷


اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ دنیوی سامانں پیٹھ فخر کرن گروہ توہیہ غافل آخرتہ نشہ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ یوتان توہیہ واتیو قبرن منز کلا ایم دنیوی چیز جھنہ ہرگز قابل فخر، یومی چیز وسیت گھنہ تھن ہرگز بیہ چھونہ آخرت ہرگز مشراونس تہ انکار س قابل سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ توه سپدہ جلدی قبرن منز واتہ ونوی سوروی معلوم تھم کلا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ بیہ چھسونان کہ یم چیز ہرگز تھکنس قابل چھنہ آخرت غفلتس تہ انکار کر نس قابل چھونہ توہیہ سپدہ بروٹھ پن جلدی معلوم۔ یلہ قبر و منزہ نیرت میدان محشرس منز واتیو کلا تریہ پھرہ چھسونہ توه متوجہ کران کہ یم دنیوی چیز تھکنس تہ فخر کر نس قابل چھنہ آخرت قابل غفلت وانکار چھونہ لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ ہر گاہ توہیہ لوک یمہ تھ پور زامہیو علم الیقین پاتھ صحیح دلیلو سیت یمن و لیکن ہنز متابعت کرن لازمی آس تلہ سپدہ ہونہ فخر و مباہاتس اندر مشغول سبت آخرتہ نشہ غافل تہ بے پروا لَتُرَوْنَ الْجَحِیْمَ قسم خدا توہیہ و چھون ضرور آخرتس اندر نار جنم تھم لَتُرَوَّهَا عِیْنَ الْیَقِیْنِ توپتہ چھسونہ تاکیدہ خیطرہ فرماوان قسم ہاوت کہ توہیہ و چھو ضرور نار جنم یقینہ چہ نظرہ بلاشک و تردد تھم لَتَسْتَلْقٰی یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیْمِ توپتہ بیہ تمہ دودھ توہیہ سارنی پر تھنہ نعم ہونہ۔ حدیث شریف چھو بروایت طہرانی بیہ ابن حبان رحمہما اللہ۔ از حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماوک امہ دودھ آئے دوپہرہ کہ وقت سخت گرمی اندر حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبویس اندر۔ توپتہ یوز حضرت عمرن تم تہ آئے ابو بکر صدیقن پرو تھ



## تَوَسَّلْنَا يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝۴

عمر فاروقس۔ ہتھ گرمی اندر کم حض چیزن کڈوہ تہہ گرہ منزہ۔ تمو فر موس بو کڈ سنہ کونہ چیزن بوچھ ہند سختی وراى۔ تمو فر موس قسم خدا بو تہ در اس گرہ منز بوچھ ہندہ سختی سبہ بے یم آس پانوان کتھے کران اتی اون تشریف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تموتہ پروژہ یمن دون صاحبن توہیہ تھہ پاٹھ دراوہ گرو منزہ ہتھ تاپہ کرایہ اندر، تمو کر ہک عرض ایس حض محض بوچھ ہنز سختی تمو فر مووک قسم چھومہ تس پروردگارہ سُنڈ تمس اتھ میون روح چھو بو تہ کڈس نہ کونہ چیزن بوچھ وراى۔ توپتہ آئے تر شوے صاحب حضرت ابو ایوب انصاری سُنڈ گرہ تمو کر کھ پیش خضر کلک اکھ شاخہ، ہتھ منز پرت قسمک خضر آس۔ بیہ اونن آب سرد۔ بیہ اونن بوز تھ ماز۔ امی سائے فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ النعمیم الذی تستلون عنہ یعنی یہے کیاہ گیہ سہ نعمت یموک توہہ پر ژھنہ لیہ یہ تھہ گذریہ یمن صحابہ صمیمن سخت دشوار توپتہ فرماوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم إذا أصبتم مثل هذا و ضربتم بایدیکم یلہ توہہ یشہ نعمتہاہ واتان آسہ توپتہ آسیو سر کھیوان تمہ ساتہ گرہہ پر دن تموند بسم اللہ یلہ توہہ کھت سیر سپدان آسیو توپتہ گرہہ تموند پر ن الحمد لله الذی اشبعنا وانعم علینا وافضل حمد یونین تس پروردگار س یمہ اسہ نعمت عطا کر سوی کرن ر ژ نعمت عطا فان هذا کفاف هذا ائی پر ن چھومہ نعمتک بدلہ۔





## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

سورہ والضحیٰ کس تمہیں اندر یمن ضروری تھیں ہونڈ ذکر کرنہ آو۔ تمواندرہ چھہ اکھہ تھہ کہ ہینن عمر گڑھنہ ضالیج کرن بے ہودہ کامن اندر۔ بلکہ گڑھہ عمر صرف کرن طاعات و نیکیاں اندر۔ وَالْعَصْرِ عصر چھہ ونان زمانس یعنی قسم چھہ زمانک تھہ منز انسانہ سز عمر تہ داخل چھہ تھہ عمرہ اندر سو تحصیل کمالات و سعادات کرت ہکان چھہ گویا یہ عمر چھہ تہندہ خیطرہ بے ہامتاہا۔ یا چھہ قسم عصر کہ وقتہ نمازہ ہونڈہ کیاہہ تھہ فر مو اللہ تعالیٰ ان صلوة الوسطیٰ چنانچہ حدیث شریفس منز چھہ صلوة وسطیٰ گیہ دگر نماز بیس حدیث شریفس منز چھہ آمت یس اس نماز دیگر فوت سپدہ تہ پر نک موقعہ آینہ تمس چھہ تیوت نقصان و اتان زن تمس اہل و عیال تہ مال و دولتس لوٹ کرنہ آو۔ یہ قسم چھہ تھہ تھہ تھہ کہ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ پز پانٹھہ یہ انسان چھہ عمر ہینن ضالیج کرنہ کہ وجہ ہڈس نقصانس اندر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر یو لو کو ایمان اون تہ یقین کور بیہ کر کیہ رٹھہ عملہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بیہ کر کہ اکھ اس وصیت پزس اعتقادس تہ پزس دینس پٹھہ قائم روزنج بیہ کر کہ اکھ اس وصیت صبرج یعنی رٹھن اعمالن پیٹھہ پابندی کرنج دین اسلام لوکن و اتانولس اندر محنتن تہ مشتقن پٹھہ صبر کرنج۔ یعنی انسانس چھہ نقصانہ نشہ ہجنہ خیطرہ ژوان تھن ہنز ضرورت اکھ گڑھہ خد اورر رسول خد اس پیٹھہ ایمان ان۔ بیہ گڑھہ تہندین ارشاداتن تہ ہدایاتن پیٹھہ بیہ تہندین وعدن پیٹھہ اودہ تم دنیاوس متعلق آستن یا آخرتس متعلق آستن یقین کرن۔ دو نم گڑھنہ امہ یقینک ارٹدل و دماغسی تان تھاون بلکہ گڑھہ امہ یقینک اثر اعضا و تہ تانوسیت تہ ظاہر کرن بلکہ گڑھہ اسمنز عملی زندگی آسن اسندہ دلکہ ایمانک آینہ۔ تر یوم اسند گڑھنہ خاص پنہ نہ ذاتہ کسی اصلاح و فلاس پیٹھہ قاعت کرن، بلکہ گڑھہ قوم و ملتک اجتماعی مفاد پیش نظر تھاون۔ یلڈزہ مسلمان پانہ وان ملاقات کرن تھونڈ گڑھہ پنہ

## وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۗ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝۷

نہ قول و فعل سیت پزس دینس تہ پرتھہ معاملس متعلق پزرتہ صداقت اختیار کرنک تاکید کرن ژورم گوپرت اکسنز گڑھہ بیس شخصس بیہ نصیحت تہ وصیت کرن کہ پزہ کس معاملس تہ شخصس یا قومی اصلاح چہ و تہ اندر یم تکلیف تہ یمہ سختی تہ دشواری پیش ین۔ یا خلاف طبیعت پیہ بعضے چیزن پیٹھہ تحمل کرن تمن پیٹھہ گڑھہ صبر واستقامہ سیت کوم ہین۔ کونہ صورتس اندر گڑھہہ نیکن گن پاد پوت پھیرن تہ سست سپدن۔ یم خوش قسمت لوک ژون صفن ہند جامع آسن۔ پانہ کامل آستہہ بین لوکن کامل بناونچ کوشش کرن تہوندناوروزہ ہمیشہ وجودہ کس دفترس اندر موجود تہند آثار روزن بطور باقیات الصالحات تہندس اجر و ثوابس ہمیشہ ترقی دیوان۔ حقیقتس اندر چھویہ مختصر تہ لوکت سورہ شریفہ مگر ساری دین و حکمتک خلاصہ تہ جوہر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آس فرماوان کہ ہر گہ ساری قرآن مجیدہ اندرہ یہوی اکھ سورہ شریفہ پرنہ بیہ ہا۔ تہ عاقل دانائہ سمجھ دار بندن ہندہ ہدایہ خیطرہ اوس یہوی اکھ سورہ شریفہ کافی۔ بزرگان دین سلف صالحین آس پانہ وان ملاقاتہ وزہ اکھ اکس یہ سورہ شریفہ

بوزناوان



سُورَةُ الْهُمَزَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝<sup>۱</sup> الَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَّعَدَّ دَهْ ۝<sup>۲</sup>  
 يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝<sup>۳</sup> كَلَّا لَيُبَدِّلَن فِي الْحُطْمَةِ ۝<sup>۴</sup> وَمَا  
 أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ ۝<sup>۵</sup> نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ۝<sup>۶</sup> الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى  
 الْأَفْدَةِ ۝<sup>۷</sup> إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝<sup>۸</sup> فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝<sup>۹</sup>

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ویل به افسوس تس شخصه سده خیطره هیس عیب پهران آسه هیس غیبت کران ته  
 طعنه دوان آسه الَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَّعَدَّ دَهْ هیس غایت درجه طامع ته حرص آسه ته اسم مال جمع  
 کران سوی آسه گره گره گمز رگمز رتھاوان۔ تمسندیه کر نه اندر چھو معلوم سپدان کہ یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ  
 أَخْلَدَهُ سوچھو گمانه کران ته خیال تھاوان کہ یہ امند مال پوشاوه اس یعنی زنده تھاویس همیشه کَلَّا ته  
 بنہ نہ ہر گز نہ روزہ یہ شخص نہ روزہ امندیہ مال دولت لَيُبَدِّلَن فِي الْحُطْمَةِ قسم خدا سوایہ دارت دنہ  
 ژھٹہ تراوه ونس ته کوچہ کوچہ کره ونس نارس اندر وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْمَةُ توبہ کہ چیز زانراوه سو کوچہ  
 کوچہ کره ون نار کیاہ گو۔ بوز یواس کره بیان نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ \* الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْدَةِ سوچھو خدایہ  
 سُد سوی نار هیس تہندہ حمہ زانہ آمت چھو هیس نار بدن سیت لحم ونوی دلن پیٹھ اثر کره إِنَّهَا عَلَيْهِمْ  
 مُّوَصَّدَةٌ \* فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ پز پٹھ سونار آسه تمن پیٹھ ٹھانڈ دنہ آمت۔ تمیک دروازه آسن بند کر  
 نہ آمت یہ اندر نہ نیر تھے بکنہ نہ زانہ تھے آسن گنڈ پھرت تھاونہ آمت نارہ کین ز پٹھن تھمن سیت



## بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْمُتْرَكِیْفُ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِیْلِ ۝ اَلَمْ یَجْعَلْ

عشکس پادشاہ سندھ طرفہ اوس سمنس اندراکھ حاکم تس اوس ابرہہ ناو سواوس عیسائی، تمی اوس سمنس منز بمقام صنعاء اکھ کنینہ یعنی عیسائین ہوند اکھ گرجا اکھ بناومت۔ تھے بے شمار بارہ گاجمڑہ آسن تھے متصل راحتک اراکھ تہ دکشی ہند سامانہ آسن مہیا کرمت یوتھ تمی سیت لوکن ہندول تھے کن راغب سپدن تہ مکہ کس کعمس پر ژھنہ کانہ تہ تمس اوس خیال کہ تھے پاٹھ لوک چھ خانہ کعبہ کہ زیارتہ خیطرہ گزھان تھے پاٹھ گوڑہ لوکن ہوندیمہ گرجہ خیطرہ تہ یون۔ چنانچہ برت طرفہ کرہ ناون امیوک اعلان عربہ کن لوکن خصوصاً قریش گویہ سیٹھاہ ناگوار۔ توپتہ آوکوہ تان شخص تم کور راتھ کیوت اتھ گرجس منز ناپاکی۔ بیئس روایتس منز چھو کہ اتھ متصل آونار زالنہ نارووت ہوا کہ ذریعہ اتھ گرجس تان تہ یہ گرجہ دود سوروی اتھ پیٹھ دود ابرہہ۔ تمس گنڈن نار۔ تمس کھوت سخت غصہ، سو آوبنڈ لشکر بہت تھے لشکرہ سیت ہست تہ آس شامل خانہ کعبہ مہدم کرنہ خیطرہ یلہ سو بمقام خمس دوت تہ پٹھ سوزن عبدالمطلبس بس تمہ وقتہ ریئس مکہ اوس پیغام کہ بوچھس نہ جنگ کرنہ آمت بلکہ چھس بو صرف کعبہ مہدم کرنہ خیطرہ پکان۔ ہر گہ کانہہ شخصہ تھ اندر مہ مزاحمت کرہ البتہ تس سیت کرہ بو ضرور جنگ۔ عبدالمطلبس سوزس جواب اتھ گرس تہ چھ کانہہ مالکاہ سو کرہ پانے امہ گرج حفاظت توپتہ سوزن بیہ عبدالمطلبس ملاقات کر تک پیغام زبان تہ سپدای قسک گفتگو۔ تمس نشہ واپس یت نی عبدالمطلبس ساری قریش توپتہ کھت تم کو ہن پٹھ پان پینن بچاونہ خیطرہ امہ لشکرہ ہندہ شرہ نشہ، توپتہ آوا برہہ فوج بیھ مکس کن یلہ تم وات وادی محرس منز بس میدان مزدلفس نزدیک چھو۔ سمندرہ کہ طرفہ آئے سبز تہ زرد جانور کینہہ، کوترن ہندہ خوتہ لوکٹ، تمے آس پینن تہ تو تنن منز مسور پھلن تہ چنہ پھلن برابر کنہ پھل تے تھ ترون اتھ لشکرہ پیٹھ۔ خدایہ سزہ قدر تہ سیت اوس بیوی کنہ پھول لگانی یمن گولین ہند پاٹھ۔ بس لگان اوس سوی اوس تھے لگان تہ

كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۞<sup>۳</sup> وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞<sup>۴</sup>  
تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۞<sup>۵</sup> فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۞<sup>۶</sup>

ہلاک سپدان۔ بعضے لوگ ٹل تم تے گئے عیج عیجہ بیمار یوسیت ہلاک تہ تباہ۔ یہ واقعہ چھو سپد مت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندہ تولد سپد نہ بروٹھ پنڑہ دوہ یہ واقعہ سپد مت ماہ محرمہ کس اخیر س اندرامہ پتہ چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کس ابتدا س اندر تولد سپد مت بعضے راوی چھو فرماوان تمی شبہ سپد تولد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفَيْلِ كَيَا تَوَهَّ جَعَلْنَا مَعْلُومًا كَمَا تَوَدُّ بَرُورِ دُكَّارِن كَيَا ه مَاعَلَمَه كَرِهْتِ وَالْيَن سِيَت تَوَهِيَه زَانُوَه كَيُو تَه قَدْرَتَه وول چھو تہوند پروردگار اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ كَيَا تہوند تدبیر نيس كعبہ شريفك لورہ نس تہ منہدم کرہ نس متعلق اوس سوگرنا اللہ تعالیٰ ان بیکار تہ غلط وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ سوزن تمن پیٹھ جانور فوجو فوجو تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تھے جانور آس تراوان تمن هست والین پیٹھ کنہ پھل یم دراصل مڑہ پھل آس کنہ پھل ہی فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ پس کتر تم اللہ تعالیٰ ان تراپنہ آمت گاسہ ہی یعنی تباہ و برباد۔



## سُورَةُ قُرَيْشٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۝<sup>۱</sup> الْفِهِمِ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝<sup>۲</sup> فَلْيَعْبُدُوا  
 رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝<sup>۳</sup> الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝<sup>۴</sup>

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ای مخاطب تعجب کر قریش ہندہ ملہ تارک تہ باہمی اَلْفَتَّک الْفِهِمِ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ خصوصاً چھو تہوند باہمی الفت وند کس تہ رتہ کالہ کس سفرس اندر۔ وندس اندر چھہ تم سفر کران تہس گن، رتہ کالس چھہ سفر کران شامس گن۔ یمن دون جاین چھہ یم قریش تجارت کران یمن دوشوین ملکن ہند لوک آس یمن سیٹھاہ تعظیم و تکریم کران کعبہ شریفک ہمسایہ تہ خادم آسنہ موکھ تمسن یلہ یہ سوروی تعظیم و تکریم چھو امی کعبہ شریفہ کہ برکتہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس کرن تم امہ عظیم الشان گرہ کس مالکہ سنز عبادت ہستی نشہ روزن دور الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ یم مالکن یمن طعام عطا کور بوچھ وزہ، بیہ یم امن وامن دیوتک خوفہ نشہ کس اندر اوس نہ غلہ پیدہ سپدان کینہہ تہ، تمہ موکھ آس اتک لوک قریش ورہس اندر تجارتہ خیطرہ دوویہ پھرہ سفر کران۔ گرمی اندر شامس گن۔ سردی اندر تہس گن۔ تمسن ملکن ہند لوک آس یمن اہل حرم بیہ خادم بیت اللہ آسنہ موکھ سیٹھاہ تعظیم کران۔ یہ ہندہ جان و مالج حفاظت کران و تہ تہ اوسنہ کونہ جایہ یہ ہندس مالس کانہ اکھ تعرض کران۔ نفع تہ اوس یمن کافی حاصل سپدان۔ باقی وقتس آس یم قریش آرام و عیشہ سان زندگی بسر کران۔ تہ سورس منز چھو امی واقعک ذکر۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 اَرَّيْتِ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝  
 وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ

اَرَّيْتِ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ کیا تو بہ و چھو نہ سو شخص بس جزاء کس دو ہس اپن زمانان چھو۔ ہر گہ توہ تمسہ حال بوزن یژھان چھوہ تلمہ بوزیو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ سو گوی سوی شخص بس تیس دکہ دیوان چھو وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ بیہ چھو نہ مسکینس طعام د نوک تر غیب بیس نہ کران یعنی نہ پانہ مسکینس کھیوان نہ چھو بیس کھیوانک تر غیب دو ان یلہ بندہ سند حق ضائع کرن یوت بچھو نہ خدایہ سند حق ضائع کرن کوتاہ زیادہ بچھو گڑھ آسن ادانہ کرنہ خیطرہ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ پس امہ اندر سپد ثابت کہ اتھن نماز پرہ و نین ہندہ خیطرہ چھو بوڈا فسوس نہ خرابی یم پنہ نہ نمازہ نشہ غافل سپد ان چھہ، دنیوی کامین اندر مشغول سپد تھک نہ نماز پر نادی روزان تم چھہ زمانان یہ پر ن کیاہ قصہ چھو۔ امہ نمازہ اندرہ کیاہ مقصود چھو۔ یہ نماز چھہ پنہ نس مالکس نہ آغس بروٹھ کنہ پن مطالبات پیش کرن۔ یہ نماز گڑھ نہایت اہتمامہ سان نہ وقتہ چہ پابندی سان پر ن۔ یم یم وقت مولان مقرر کر مت چھہ تمس و قن پٹھ حاضر سپد بکمال خشوع و خضوع یہ نماز ادا کرن چھو لازم مگر یم لوک بیٹھے نماز دنیاء کین کامین سیت مشغول سپد زانت کرت وقت ضائع کرن آخر و قس پٹھ دگہ دارہ و تھا بیٹھی ہند پٹھ ادا چھہ کران تہندی خیطرہ چھو بوڈویل نہ افسوس الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ یم لوک نمازہ ہنز کیاہ چھہ تھے سارے عملہ لوکن ہاونہ خیطرہ کمران چھہ۔ وَيَسْتَعِينُ الْمَاعُونَ بیہ تم ماس اندر خدایہ سند حق ادا چھہ کران یعنی زکوٰۃ چھہ دیوان چونکہ اتھ اندر چھو نہ کونہ قسم اظہار تمہ موکھ چھہ یہ لو تہ پٹھی کھیوان۔ بخلاف نماز چونکہ اتھ اندر چھو نمود و نمائش، تمہ موکھ چھہ کونہ وقتہ



# صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿۵﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿۶﴾ وَيَسْتَعِينُونَ ﴿۷﴾

پران کونہ وقتہ ترک کران بعضے مفسر و فرمود کہ ماعون گئے معمولی استعمالی چیز، تم تہ چھنہ اکھ اکس عارضی پاٹھ تہ پڑھ پاٹھ دیوان۔ سوگوئیو کہ ہیور زہش۔ دیگیہ ہیو۔ پتلہ ہیو مکو ہش۔ یاسون تہ پنہ داو ہش یمن ہندہ اورہ یوردنک دنیاءس اندر پڑھ پاٹھ دنک عام رواج چھو۔ وین یمن لوک ہندہ ٹٹلگ تہ خستک حال امہ قسمگ آسہ تہندہ حقہ کیا فائدہ چھو ریاکاری ہنزہ نمازہ ہوند۔





## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوشْرَ ① فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ② إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ③

یہ سورہ شریفک شان نزول چھو کہ حضرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیوند زیوٹھ ہو فرزند حضرت قاسم رضی اللہ عنہ مل یہ عالم گئے مکہ کیوکافرو خصوصاً عاص بن وائلن دوپ حضرت محمدہ سُنْد نسل سِد ووان منقطع۔ تم سپد (نعوذ باللہ) ابتر۔ یعنی بے نام و نشان مطلب اوس تمہ اندرہ کہ ووان چھوامہ یہ ہندہ دینک چرچہ کسی کالس تان۔ اتی سپد نازل یہ سورہ شریفہ تسمیٰ کافرن ہندہ تردیدہ خیطرہ **إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوشْرَ** تحقیق اسہ کرتوہ عطا یارسول اللہ خیر کثیر۔ یعنی سیٹھاہ خیر۔ دنیاہ ک خیر تہ یعنی دینک باقی روزن اسلامک سیٹھاہ ترقی لبین بیہ آخر تک خیر یعنی قُرْبُگ تھد مرتبہ تہ تھد درجہ ہر گہ اکھ فرزند تہوند یہ عالمہ گویتھہ پیٹھہ تہوند دشمن خوش چھ سپد مت مگر توہ مہ سپد یو تمہ سیت غم گین تہ ناخوش، کیاہہ اسہ کرتوہ تمہ خوتہ بہتر فضل تہ نعمت عطایتھ نہ نہایتھہ چھ کونہ بیہ کراسہ عطا توہ حوضِ کوشر آخرتس اندر اکھ تلاواہ یتھ متعلق حدیث شریف چھو متفق علیہ فرمود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حَوْضِی مَسْبِیْرَةٌ شَہْرٌ مِیوْن حَوْضِ چھو اکھ رتہ کس مسافس برابر ذواہہ سواہ تمکی اندتہ کنارہ چھہ برابر پرت طرفہ ماوہ اَبِیْضُ مِنَ اللَّبَنِ وَرِیْحُهُ أَطِیْبُ مِنَ الْمِسْکِ وَکِیْرَانُهُ کُنْجُومُ السَّمَاءِ آبِ تَمِیْکِ چھو دودھ خوتہ زیادہ سفید۔ نافہ خوتہ یث خوشبو۔ تمیک لوٹھ چھہ تیت ایت آسمانک ستارہ مَن یَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا یَظْمَأُ أَبْدًا لیس اکھاہ تمیوک آب چہہ تس لکھ نہ زانہ تہ تریش **فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ** پس یمن نعمن ہندس شکرس اندر پر یو توہہ نماز محض پنہ نس پروردگارہ سندہ خیطرہ۔ کیاہہ بحن نعمن ہندس شکرس اندر گدھہ ہنڈ عبادت ادا کرن سوہنڈ عبادت گیہ نماز۔ تکمیل شکرہ خیطرہ گدھہ اتھہ بدنی عبادتس یعنی نمازہ سیت مالی عبادت تہ کرن سوگو قربان کرن **إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْاَبْتَرُ** پزناٹھہ تہوند دشمن چھو ابتر، لٹ ثروٹ یعنی بے نام و نشان کیاہہ تم چھو معبود برحقس ورا ی بین چیزن ہنز عبادت تہ پرستش کران۔ بیہ چھہ تس ورا ی بین مخلوقن ہنڈن ناون پٹھہ تہند قرب تہ نزدیکی حاصل کرنہ خیطرہ ذن تہ قربان وغیرہ کران۔

## سُورَةُ الْكَافِرُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ① لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ②  
 وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ③ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ④ وَلَا  
 لَأَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ⑤ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ⑥

سبب نزول چھویم سورہ شریفک کہ اکہ دوہ آی کہنہ اشخاص کافرن ہند زٹھ زٹھ نبی کریمس نشہ تموے کوز عرض چٹھنا صلاح توبہ کریو سائین معبودن ہنز عبادت آس تہ کرو تہندس معبودہ سنز عبادت آس تہ توبہ کرو مشترکہ دین قائم۔ اتھ منزئس روت تہ جان طریقہ آسہ تمیوک فاندہ وابتہ توبہ تہ آسہ تہ۔ اتھ موقعس پٹھ سپد یہ سورہ شریفہ نازل قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ \* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ فرمایو کہ توه یار رسول اللہ ای کافرو میون تہ تہوند طریقہ بیکنہ کنوی سپدت بو چٹھسنہ عبادت کران تہوندن معبودن ہنز۔ ون کنس تہ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ نہ چھوہ توه عبادت کران مینس معبودہ سنز وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ \* وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ نہ بیکنہ یہ آئندہ زانہ بنت کہ بو کیا کرہ عبادت تہندین معبودن ہنز نہ ہنہ تہ کہ توه کیا کریو عبادت مینس معبودہ سنز۔ یعنی بو بیکنہ نہ موحد آستھ خدائیس شرک انتھ زانہ نہ۔ نہ ہیکی توه مشرک آستھ موحد بنت زانہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ توه تہ پتون دین متہ پتون بدلہ تہ عوض متہ پتون بدلہ تہ عوض۔



## سُورَةُ النَّصْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝<sup>۱</sup> وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ  
 اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝<sup>۲</sup> فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝<sup>۳</sup> ع

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ یلہ خدایہ سند مدد تہ فتح مکہ پنہ نیو آثار و تہ نتا جو سان توه ووت تہ حاصل سپد۔  
 تمیک آثار یم تہ پیٹھ مرتب سپدہ ون چھ تم گے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ بیہ  
 یلہ و چھو ک توه خدایہ سندس دینس یعنی اسلامس اندر لوک داخل سپدان فوجو تہ ساتھ زانیو توه  
 کہ دنیا س منز روز نک مقصود سپد حاصل۔ بیہ ئس تہندہ پیغمبر بناونہ اندرہ تکمیل دین مقصود اوس تہ  
 سپد مکمل وون چھو سفر آخرت قریب لہذا کریو توه تہ تیاری فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ پس آسیون  
 توه پنون پروردگار منزہ تہ پاک زانان بیہ آسیوتس حمد دپان۔ بیہ آسیوتس مغفرت منگان پنہ نہ خیطرہ  
 بیہ پنہن امنین ہندہ خیطرہ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا بے شک سو چھو سیٹھاہ توبہ قبول کرہ ون۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ① مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا  
 كَسَبَ ② سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذْ أَتَا لَهَبًا ③ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ

یہ سورہ شریفک شان نزول چھو کہ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پٹھ یہ آیہ کریمہ نازل سپد وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ تم کھت کوه صفاس پٹھ توه پتہ ونگ سارنی قبیلن آلو ساری یلہ جمع سپد تمن دنگ اسلامس گن دعوت ابو لهب لیس تموند پتر اوس مگر بدترین دشمن تہ اوس سو لگ وند نہ تبالک لسائر الیوم اهلذا جمعنا یعنی بر باد گره ژہ کیا امی خیطره سو نبر او تهاہ ژہ آیہ اس اتی سپد یہ سورہ شریفہ نازل امہ ووهوک جواب دس پانہ اللہ تعالیٰ ان۔ امس ابو لهبیس آس زانہ ام جمیل تس تہ اوس سخت حسد تہ عداوت حضرت رسول کریمہ سند چنانچہ سہ آس کنڈ کل جنگلہ منز ژٹت اتان تہ آس تمن وتن وهر او ان یمو و تونی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکن اوس آسان تمنی کنڈ مورن ہوند بور آس سو کبرس پٹھ تلٹ اتان تہ آو تس وند حمالہ الحطب دوشوین متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ابو لهبیس پین پانس دوشوے اتھ و تھ پانہ گره صن سو بباد تہ تباہ۔ چنانچہ یہ بد دعا چہو تس پانس، جنگ بدرہ پتہ ستہ دوہ در اوس طاعونی پھپھڑہ تو پتہ دراوگرہ منز نبر۔ یوتھنہ بیہ کانہہ گرس منز امیوک اثر تہ تھ حالس منز مود۔ ترن دوھن تان آسنہ کھتل کانہہ، تر یہ دوہ ایچھ جیشی مزور تموی دتس ہمہ تلیو سیت دکہ دکہ، تو پتہ تراو کھ اکس کھو ڈس اندر، پٹھ تراو ہس کنہ سیکھ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ کانہہ فاندہ دیوت نہ تس مالن تہند تہ تم مالن لیس سبز مت اوسن تہ تم مالن لیس کمومت اوسن کونہ قسمک مالن ہیوک نہ سو پچاوت ہلاکتہ نشہ یہ گوا مسند حال دنیا س اندر آخر تس اندر آسہ امسند حال کہ سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذْ أَتَا لَهَبًا \* وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ سوا تہ عنقریب اکس ریمہ تراو و نس

## الْحَطَبِ ۱۴۰۱ فِي جَيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۱۴۰۲

نارس اندر اکھ پانہ بیہ تہنز آشن، یوسہ کنڈدار زیون تہ مورہ کبرس پیٹھ تلت اتان آس **فِي جَيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ** تمسندہ گردن منز چھ خضر دلن ہنز وٹھمہ رز۔ امس امسند زانہ آس قیمتی اکھ ختہ مالہ اکھ ہٹس تل، دپان آس سوییہ ختہ مال کرن بو خرچ محمدہ سندس مخالفتس اندر جہنمسن اندر تہ آسہ تس نارور زہٹس گنڈت۔





## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ① اللَّهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ لَهُ وَلَمْ

اکہ پھرہ پر ژہ مُثر کونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدایہ سند نسب کیاہ چھو۔ تسند صفت کم چھہ تتھہ  
پٹھہ سُد یہ سورہ شریفہ نازل قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ توه فرماو یو یار رسول اللہ یمن لوکن کہ اللہ تعالیٰ چھو  
کئوی ذاتہ کن تہ صفتو کن۔ نہ چھس ذاتس منز کانہہ شریک نہ صفتن منز تہندہ ذاتگ کمال چھو کہ سو چھو  
واجب الوجود۔ تہند صفت چھو کہ سو چھو علیم تہ قدر تہ محیط تہ اللَّهُ الصَّمَدُ اللہ تعالیٰ چھو توتھہ بے  
نیاز کہ سو چھو نہ کانہہ گن محتاج یم تس و رای چھہ تم چھہ تش گن محتاج پرت چیزس اندر لَمْ يَلِدْ وَلَمْ  
يُولَدْ نہ زاس کانہہ نہ زاد کانہہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بیہ چھہ تش ہو کانہہ اکھاہ توحیدہ کین  
مُعْتَرَن چھہ و رایہ قسم۔ بعضے گے تم یم خدایہ سندس وجودس مُعْتَرَج چھہ۔ بعضے گے یم تسندس واجب الوجود  
آسہ نس منکر چھہ۔ بعضے گے تم یم تہندن کمالہ کین صفتن مُعْتَرَج چھہ۔ بعضے گے یم تس عبادتس اندر  
شریک شہراوان چھہ اتھہ فرموا اللہ تعالیٰ ان اللہ أَحَدٌ سیت رد بعضے گے تم یم مشرک فی استعانہ چھو  
یعنی یم تس و رای چھہ بین نشہ یاری تہ مدد ژھانڈان بیہ تمنی پنن حاجت منگان۔ تمن پٹھو رد اللہ  
الصَّمَدُ سیت یعنی حاجت گروہ تش نشہ ژھانڈان نس نہ پان کانہہ گن محتاج آسہ سو چھو نہ کانہہ تہ تس  
ذات پاکس و رای تس و رای یم چھہ تم ساری چھہ تس گن محتاج ساری چھہ تس بروٹھہ کنہ پننن پختی تہ  
عاجزی نر او ان۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تہ چھو فرماوان يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ الْغَيْبِيُّ  
الْحَئِیْدُ یعنی ای لوکو توه ساری چھو محتاج اللہ تعالیٰ اس گن پرت وقتہ تہ پرت حالس اندر۔ اللہ تعالیٰ  
ای چھو بے نیاز حاجت آسہ نشہ منزہ تہ پاک۔ حمد پنے آمت تعریف کرنہ آمت۔ حضرت سید  
المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آس دعاء کر ان اللهم إني ضعيف فقوني وإني مريض فاشفني وإني  
ذليل فأعزني وإني فقير فارزقني یعنی یا اللہ بو چھس کمزور تہ ناتوان ژہ کرم قوت تہ طاقت عطا  
بو چھس بیمار ژہ کرم شفا عطا۔ بو چھس ذلیل ژہ کرم عزت عطا۔ بو چھس محتاج ژہ کرم حاجت روا۔

## يُولَدُ ۳ وَلَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۴

بوچھس نادار تہ فقیر ژہ کرم رزق عطا بیا کہ جماعت یم تس کورہ تہ نچولاگان چھہ تمن چھور دلہ ییلد  
 کانہہ نہ زاس سیت یم لوک بعضے بشرن تہ جلن پنن معبود چھہ زانان تمن آورد کرنہ ولہ یولد تہ نہ زاؤ  
 کانہہ سیت کیا زہ تم ساری چھہ مولود یعنی زامت۔ بیا کہ گو معبود برحق سو چھونہ کانہہ تہ زامت بعضے  
 لوکن ہند اعتقاد چھو کہ تس برابر چھو بیہ تہ کانہہ چنانچہ جوس ہیوند اعتقاد چھو خدا چھہ زہ اکہ گو یزدان  
 بیا کہ گواہر من اکس اتھ چھو خیر تہ بیس اتھ چھو شریم دو شوے چھہ اکہ اکسندی تہ ہمسر۔ اتھ کور  
 اللہ تعالیٰ ان رد ولہ یکن لہ کفوًا احد سیت یعنی تس ہیو چھنہ کانہہ تہ نہ چھو سو کانہہ ہیو۔ غرض چھو  
 کہ نہ زاؤ تس کانہہ نہ زاؤ سو کانہہ۔ نہ چھو کانہہ تس ہیوند چھو سو کانہہ ہیو۔







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا  
 وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

یہ سورہ بیہ سورہ الناس یمن دو شون سوہ شریفین ہیوند شان نزول چھو کہ لبید بن اعصم اوس اکھ ساحراہ مدینہ شریف منزلت آسہ کورہ تہ سحر کرہونہ تی لبید بن اعصم تہ تہنز و کور پوگر سحر تہ جو دنی کر تمس صلی اللہ علیہ وسلم بیہ کہ اثرہ سیت تمس سخت تکلیف اوس۔ امہ اندرہ اوس اللہ تعالیٰ اس نراون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ساحر چھنہ ہرگہ تم ساحر آسن۔ تہ پٹھ پاٹھ دشمن تمن وان اس۔ تلہ کرہ ہنہ کانسہ ہوند سحر تمن پٹھ اثر۔ کیا زہ یہ سٹھ آس تمن سارنی نش مسلم کہ ساحر س پٹھ چھنہ بیس ساحرہ مند سحر اثر کران۔ توتہ گردعانی کر یمن صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سحرک اثر دورگوشنہ خیطرہ منگوکہ دعاء اللہ تعالیٰ ان گرنال یم زہ سورہ شریفہ۔ بیہ کرنک اطلاع کہ فلین شخصن چھو فلین جایہ فلین چیزس اندر توتہ پٹھ سحر کرمت۔ چنانچہ تموسوز حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہتہ جایہ تہتہ آنکھ کہ کیرہ منزہ کڈت اکھ کنگواہ تہتہ آس مؤوی امت بند کر نہ سوی یلہ ووت در خدمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تموبہیت یمن دون سورہ شریفین ہند آیات کریمہ پرن اکھ اکھ گڈاوس مژرنہ یوان۔ چنانچہ امہ پتہ سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ تکلیفہ نشہ بالکل آزاد۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ \* مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ توتہ آسیویا رسول اللہ پانہ تہ پنے نہ خیطرہ پرن بے تہ آسیو کہ بیچہاوان بیہ پرن پناہ چھوس بومنگان صبح کس لبس یعنی بس راتر ہنزہ بگہ پراٹھہ گاش چھو پھولہ راوان سارنے مخلوقاتن ہندہ شرہ نشہ۔ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ بیہ چھوس خصوصاً پناہ منگان راتر ہنزہ تاریکی نشہ یلہ سہ و ہراونہ بیہ راتر اندر چھو شرن ہوند احتمال ظاہرے وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ بیہ چھوس خصوصاً پناہ منگان تمن زنانن نشہ بیہ پنے گڈن پٹھ پھو کہ دوان چھ بیٹے سحر کرہونین زنانن نشہ۔ مراد چھ تمواندرہ لبید بن اعصمہ سزہ کورہ۔ یا عام ساحر زنانہ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بیہ پرت حسد کرہ ونس نشہ یلہ سوحد کرہ۔

## سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۱ مَلِكِ النَّاسِ ۲ إِلَهِ النَّاسِ ۳  
 مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۴ الْخَنَّاسِ ۵ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي  
 صُدُورِ النَّاسِ ۶ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۷

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ تو آسویا رسول اللہ پانہ تہ پران بیہ آسیو کہ لو کہ تہ بیچھناوان پر ن بو گھس پناہ منگان لو کن ہندس خدا یس مَلِكِ النَّاسِ لو کن ہندس پاد شمس إِلَهِ النَّاسِ لو کن ہندس معبود برحقس مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ وسوسہ تراوہ نسی شیطانہ سندہ شرہ نغہ الْخَنَّاسِ نسی یاد خدا کرن وزہ پتھ چھو ژلان الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ نسی شیطان اکثر لو کن ہندن دلن اندر چھو وسوسہ تراوان مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ادہ سو وسوسہ تراون وول جن آستن یا انسان قرآن مجیدک ابتداء چھو حرف باء سیت انتہاء چھو حرف سینہ سیت یعنی بِسْمِ اللَّهِ هُک بے والناسک سین اتھ چھو بنان لفظ بس۔ بس چھو عربی لفظ لغتہ جن کتابن اندر امیوک معنی فحش یعنی یئوی۔ امہ اندرہ چھو اشارہ کہ یہ کیرہا یکن دون حرفن منز گھو تہ چھو کافی لو کن ہندہ خیلرہ ہیا کہ اکھ لطیفہ چھو بیتھ سُورس منز تمہ اندرہ ظاہر چھو سپدان قرآن مجیدک حسن آغاز و انجام سو گواہی زہ امہ سورہ شریفک مضامین تہ سورہ فائکک مضامین چھہ پنہ وان متقارب یعنی اکھ اکس سیت رلان چنانچہ رب الناس مناسب چھو رب العالمین ملک الناس مناسب چھو ملک یوم الدین الہ الناس سیت چھو مناسب ایاک نعبد اعوذس چھو مناسب ایاک نستعینس سیت الوسواس الخناس چھہ مناسب اهدنا اس سیت صدق اللہ مولنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين

## رموز اوقاف قرآن مجید

ہر زبان کے اہل زباں جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے۔ کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے۔ اسی لئے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں اور وہ یہ ہیں :

○ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے، وہاں چھوٹا سا دائرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول (ت) جو بصورت (ة) لکھی جاتی ہے۔ اور یہ وقف تام کی علامت ہے یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے، اب (ة) تو نہیں لکھی جاتی۔ چھوٹا سا دائرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو آیت کہتے ہیں۔ دائرہ پر اگر کوئی اور علامت نہ ہو تو رک جائیں ورنہ علامت کے مطابق عمل کریں۔

۵ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس موقع پر غیر کو فیہن کے نزدیک آیت ہے۔ وقف کریں تو اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو دائرہ کا ہے۔

مر یہ علامت وقف لازم کی ہے۔ اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہیے کہ مثلاً کسی کو یہ کہنا ہو کہ ”اٹھو۔ مت بیٹھو“ جس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہی ہے۔ تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے، اگر ٹھہرنا نہ جائے تو ”اٹھو۔ مت۔ بیٹھو“ ہو جائے گا۔ جس میں اٹھنے کی نہی اور بیٹھنے کے امر کا احتمال ہے۔ اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔

ط وقف مطلق کی علامت ہے۔ اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔

ج وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔

ز علامت وقف مجوز کی ہے۔ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔

ص علامت وقف مرض کی ہے۔ یہاں ملا کر پڑنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہرائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ (ص) پر ملا کر پڑھنا (ز) کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔

صلے الوصل اولیٰ کا اختصار ہے۔ یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔

ق قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے۔ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔

صل قد یوصل کا مخفف ہے۔ یہاں ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں۔ بوقت ضرورت وقف کر سکتے ہیں۔

قف یہ لفظ قف ہے۔ جس کے معنی ہیں ٹھہر جاؤ۔ اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے، جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔

سکتہ سکتہ کی علامت ہے۔ یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔

وقفہ لے سکتے کی علامت ہے۔ یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑیں۔ سکتہ اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے، وقفہ میں زیادہ۔

لا لا کے معنی نہیں کے ہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔

ك كذلك کا مخفف ہے، اس سے مراد ہے کہ جو رمزاں سے پہلی آیت میں آچکی ہے، اس کا حکم اس پر بھی ہے۔

ث یہ تین نقاط والے دو وقف قریب قریب آتے ہیں۔ ان کو معافہ کہتے ہیں۔ کبھی اس کو مختصر کر کے (مع) لکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں وقف گویا معافہ کر رہے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہیے دوسرے پر نہیں۔ ہاں وقف کرنے میں رموز کی قوت اور ضعف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

# قرآن مجید کن سورن ہند فہرست

شمار پاره	صفحہ نمبر	سورک ناو	شمار سورۃ
۱	۱	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ	۱
۳ - ۲ - ۱	۲	سُورَةُ الْبَقَرَةِ	۲
۴ - ۳	۱۳۱	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ	۳
۶ - ۵ - ۴	۲۱۳	سُورَةُ النَّسَاءِ	۴
۷ - ۶	۲۸۸	سُورَةُ الْمَائِدَةِ	۵
۸ - ۷	۳۴۵	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۶
۹ - ۸	۴۰۸	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	۷
۱۰ - ۹	۴۸۰	سُورَةُ الْأَنْفَالِ	۸
۱۱ - ۱۰	۵۰۵	سُورَةُ التَّوْبَةِ	۹
۱۱	۵۵۶	سُورَةُ يُوسُفَ	۱۰
۱۲ - ۱۱	۵۸۹	سُورَةُ هُودَ	۱۱
۱۳ - ۱۲	۶۲۴	سُورَةُ يُوسُفَ	۱۲
۱۳	۶۶۰	سُورَةُ الرَّعْدِ	۱۳
۱۳	۶۷۷	سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ	۱۴
۱۴ - ۱۳	۶۹۲	سُورَةُ الْحِجْرِ	۱۵
۱۴	۷۰۶	سُورَةُ النَّحْلِ	۱۶
۱۵	۷۴۱	سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ	۱۷
۱۶ - ۱۵	۷۷۴	سُورَةُ الْكَافِرِ	۱۸
۱۶	۸۰۹	سُورَةُ مَرْيَمَ	۱۹
۱۶	۸۲۸	سُورَةُ طهَ	۲۰
۱۷	۸۵۴	سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ	۲۱
۱۷	۸۷۹	سُورَةُ الْحَاجِّ	۲۲
۱۸	۹۰۴	سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ	۲۳

شماره پاره	صفحہ نمبر	سورک نامہ	شمارہ سورۃ
۱۸	۹۲۵	سُورَةُ التَّوْر	۲۴
۱۹ - ۱۸	۹۵۱	سُورَةُ الْفُرْقَان	۲۵
۱۹	۹۷۰	سُورَةُ الشُّعَرَاء	۲۶
۲۰ - ۱۹	۹۹۵	سُورَةُ النَّمل	۲۷
۲۰	۱۰۲۰	سُورَةُ الْقَصص	۲۸
۲۱ - ۲۰	۱۰۴۹	سُورَةُ الْعنكبوت	۲۹
۲۱	۱۰۷۰	سُورَةُ الرُّوم	۳۰
۲۱	۱۰۸۷	سُورَةُ لُقمان	۳۱
۲۱	۱۰۹۸	سُورَةُ السَّجدة	۳۲
۲۲ - ۲۱	۱۱۰۶	سُورَةُ الْأَحزاب	۳۳
۲۲	۱۱۳۴	سُورَةُ سَبأ	۳۴
۲۲	۱۱۵۱	سُورَةُ فَاطِر	۳۵
۲۳ - ۲۲	۱۱۶۸	سُورَةُ يَس	۳۶
۲۳	۱۱۸۳	سُورَةُ الصَّافات	۳۷
۲۳	۱۲۰۱	سُورَةُ ص	۳۸
۲۴ - ۲۳	۱۲۱۷	سُورَةُ الزُّمَر	۳۹
۲۴	۱۲۴۱	سُورَةُ الْمُؤمِن	۴۰
۲۵ - ۲۴	۱۲۶۴	سُورَةُ حَمْر السَّجدة	۴۱
۲۵	۱۲۸۰	سُورَةُ الشُّورى	۴۲
۲۵	۱۲۹۸	سُورَةُ الزُّخرف	۴۳
۲۵	۱۳۱۶	سُورَةُ الدَّخان	۴۴
۲۵	۱۳۲۴	سُورَةُ الْجاثية	۴۵
۲۶	۱۳۴۴	سُورَةُ الْأحقاف	۴۶
۲۶	۱۳۴۸	سُورَةُ مُحَمَّد	۴۷

شماره	صفحه	سورک نام	شماره
۲۶	۱۳۶۰	سُورَةُ الْفَتْحِ	۴۸
۲۶	۱۳۷۲	سُورَةُ الْحُجُرَاتِ	۴۹
۲۶	۱۳۸۰	سُورَةُ قَاتِ	۵۰
۲۶ - ۲۷	۱۳۸۹	سُورَةُ الذَّارِيَاتِ	۵۱
۲۷	۱۳۹۷	سُورَةُ الطُّورِ	۵۲
۲۷	۱۴۰۴	سُورَةُ النَّجْمِ	۵۳
۲۷	۱۴۱۶	سُورَةُ الْقَمَرِ	۵۴
۲۷	۱۴۲۵	سُورَةُ الرَّحْمَنِ	۵۵
۲۷	۱۴۳۴	سُورَةُ الْوَاقِعَةِ	۵۶
۲۷	۱۴۴۴	سُورَةُ الْحَدِيدِ	۵۷
۲۸	۱۴۵۸	سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ	۵۸
۲۸	۱۴۶۸	سُورَةُ الْحَشْرِ	۵۹
۲۸	۱۴۸۰	سُورَةُ الْمُتَمَّتَّةِ	۶۰
۲۸	۱۴۸۹	سُورَةُ الْقَصَفِ	۶۱
۲۸	۱۴۹۴	سُورَةُ الْجُمُعَةِ	۶۲
۲۸	۱۴۹۸	سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ	۶۳
۲۸	۱۵۰۳	سُورَةُ النَّعَّابِ	۶۴
۲۸	۱۵۰۹	سُورَةُ الطَّلَاقِ	۶۵
۲۸	۱۵۱۵	سُورَةُ التَّحْوِيمِ	۶۶
۲۹	۱۵۲۳	سُورَةُ الْمَلِكِ	۶۷
۲۹	۱۵۳۱	سُورَةُ الْقَلَمِ	۶۸
۲۹	۱۵۴۰	سُورَةُ الْحَاقَّةِ	۶۹
۲۹	۱۵۴۷	سُورَةُ الْمَعَارِجِ	۷۰
۲۹	۱۵۵۳	سُورَةُ نُوحٍ	۷۱

شماره	صفحه	سورک نام	شماره
۲۹	۱۵۵۸	سُورَةُ الْحَجِّ	۷۲
۲۹	۱۵۶۵	سُورَةُ الْمَزَّمِلِ	۷۳
۲۹	۱۵۷۱	سُورَةُ الْمَدَّيْنِ	۷۴
۲۹	۱۵۷۹	سُورَةُ الْقِيَامَةِ	۷۵
۲۹	۱۵۸۵	سُورَةُ الدَّاهِرِ	۷۶
۲۹	۱۵۹۲	سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ	۷۷
۳۰	۱۵۹۷	سُورَةُ النَّبَاِ	۷۸
۳۰	۱۶۰۱	سُورَةُ النَّازِعَاتِ	۷۹
۳۰	۱۶۰۵	سُورَةُ عَبَسَ	۸۰
۳۰	۱۶۰۸	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ	۸۱
۳۰	۱۶۱۰	سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ	۸۲
۳۰	۱۶۱۲	سُورَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ	۸۳
۳۰	۱۶۱۶	سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ	۸۴
۳۰	۱۶۱۹	سُورَةُ الْبُرُوْجِ	۸۵
۳۰	۱۶۲۲	سُورَةُ الطَّارِقِ	۸۶
۳۰	۱۶۲۴	سُورَةُ الْاَعْلٰی	۸۷
۳۰	۱۶۲۶	سُورَةُ الْغَاشِيَةِ	۸۸
۳۰	۱۶۲۸	سُورَةُ الْفَجْرِ	۸۹
۳۰	۱۶۳۱	سُورَةُ الْبَلَدِ	۹۰
۳۰	۱۶۳۳	سُورَةُ الشَّمْسِ	۹۱
۳۰	۱۶۳۵	سُورَةُ اللَّيْلِ	۹۲
۳۰	۱۶۳۸	سُورَةُ الضُّحٰی	۹۳
۳۰	۱۶۴۰	سُورَةُ الشَّرْحِ	۹۴
۳۰	۱۶۴۲	سُورَةُ التِّيْنِ	۹۵
۳۰	۱۶۴۴	سُورَةُ الْعَلَقِ	۹۶



شماره	صفونمبر	سورکناو	شمارتورق
۳۰	۱۶۴۷	سُورَةُ الْقَدَرِ	۹۷
۳۰	۱۶۴۸	سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ	۹۸
۳۰	۱۶۵۱	سُورَةُ الزَّلْزَالِ	۹۹
۳۰	۱۶۵۳	سُورَةُ الْعَادِيَاتِ	۱۰۰
۳۰	۱۶۵۴	سُورَةُ الْقَارِعَةِ	۱۰۱
۳۰	۱۶۵۵	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ	۱۰۲
۳۰	۱۶۵۷	سُورَةُ الْعَصْرِ	۱۰۳
۳۰	۱۶۵۹	سُورَةُ الْهُمَزَةِ	۱۰۴
۳۰	۱۶۶۰	سُورَةُ الْفِيلِ	۱۰۵
۳۰	۱۶۶۲	سُورَةُ قُرَيْشٍ	۱۰۶
۳۰	۱۶۶۳	سُورَةُ الْمَاعُونِ	۱۰۷
۳۰	۱۶۶۵	سُورَةُ الْكَوْثَرِ	۱۰۸
۳۰	۱۶۶۶	سُورَةُ الْكَافِرُونَ	۱۰۹
۳۰	۱۶۶۷	سُورَةُ النَّصْرِ	۱۱۰
۳۰	۱۶۶۸	سُورَةُ تَبَّتْ	۱۱۱
۳۰	۱۶۷۰	سُورَةُ الْإِخْلَاصِ	۱۱۲
۳۰	۱۶۷۲	سُورَةُ الْفَالِقِ	۱۱۳
۳۰	۱۶۷۳	سُورَةُ النَّاسِ	۱۱۴

إِنَّ وَدَارَةَ الشُّعُونَ الْإِسْلَامِيَّةَ وَالْأَوْاقِفَ وَاللَّعْوَةَ وَالْإِسْتِثْلَ

فِي الْمَلِكَةِ الْعَرَبِيَّةِ الشُّعُودِيَّةِ

الْمَشْرِفَةَ عَلَى مَجْمَعِ الْمَلِكِ فَهَمْدِ

لِطِبَاعَةِ الْمُصْحَفِ الشَّرِيفِ فِي الْمَدِينَةِ الْمَسُورَةِ

إِذ يَسْرُهَا أَنْ يُصَدِّرَ الْمَجْمَعُ هَذِهِ الطَّبْعَةَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

وَتَرْجَمَةَ مَعَانِيَهُ إِلَى اللُّغَةِ الْكَنْعَانِيَّةِ

سَعَّالُ اللَّهِ أَنْ يَنْفَعَ بِهَا النَّاسَ

وَأَنْ يَحْضِيَ

خَلِيفَةَ الْحِزْمَانِيَّةِ الشَّرِيفِيَّةِ الْمَلِكِ فَهْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ بْنِ

أَحْسَنَ الْجَزَاءِ عَلَى جُهْدِهِ الْعَظِيمَةِ فِي تَشْرِيكِ كِتَابِ اللَّهِ الْكَرِيمِ

وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ

مملکت سعودی عرب وزارت برائے مذہبی امور، اوقاف، دعوت  
تہ ارشاد، بس مدینہ منورس منز قرآن کریم چھاپن والس شاہ مند  
سندس جمعس نگرانی چھ کران، تھ چھ قرآن کریمس یتھ ایڈیشنس  
تہ امکس کاشرہ تفسیر کس اجراءس پیٹھ خوشی سپدان۔

بہ چھ سہ اللہ تعالیٰ اس دعاء کران کہ امہ سیت واتن لوکن  
فائدہ تہ نفع۔ بہ دین خادم الحرمین الشریفین شاہ مند بن عبد العزیز  
آل سعودن قرآن کریمس نشر و اشاعتس پیٹھ تہزنن عظیم کوشش  
ہندرت جزاء اللہ تعالیٰ چھرت توفیق دہ وول۔




مع الملك ليد. لدراسة المصنف الشريف  
المراقبة الشهرية  
١٤٩

مؤازرة الله لا يفتنكم

بمؤازرة الله لا يفتنكم

ص ب ٦٢٦٢ - المدينة المنورة



اللہ تعالیٰ سندھ د =  
توینین سیت سید عمل یرہ قرآن کریمک  
= لکہ تفسیرک پچاپ شاہ فہد سندس جمع  
برائے طبعات قرآن کریم مدینہ منورس منز زبر  
مگرانی وزارت برائے مذہبی امور، اوقاف،  
دعوت = ارشاد مملکت سعودی عرب  
سنہ ۱۴۲۱ھ منز

حقوق طبع چھ محفوظ بنام  
جمع شاہ فہد برائے طبعات مصحف شریف  
ص ب ۶۲۶۲ - مدینہ منورہ

ح) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ١٤١٨ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القرآن الكريم وترجمة معانيه باللغة الكشميرية/ ترجمة مجمع الملك فهد لطباعة  
المصحف الشريف- المدينة المنورة.

١٦٩٦ ص؛ ٢١×١٤ سم

ردمك : ٩-٨٦-٧٧٠-٧٧٠-٩٩٦٠

١-القرآن- ترجمة -اللغة الكشميرية أ- مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  
الشريف (مترجم)

١٨/٠٤٣٧

ديوي ٢٢١،٤٩

رقم الإيداع : ١٨/٠٤٣٧

ردمك : ٩-٨٦-٧٧٠-٧٧٠-٩٩٦٠

قرآن مجید  
تمک کا اثر تفسیر